



انڈکس

مضامین قرآن کریم

اردو • عربی • انگریزی

فہرس موضوعی للقرآن الکریم الثلاثی اللغات

مطالعہ قرآن پر ایک جہاں نما کتاب
قرآنی تعلیمات کا انسائیکلو پیڈیا

مؤلف

انجینئر عبدالحکیم ملک


ترمیم و اضافہ شدہ

5th

انٹرنیشنل ایڈیشن

اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پاکستان

پاکستان - برطانیہ - کینیڈا - امریکہ



منشور قرآن اصحاب علم و دانش کی نظر میں

انجینئر عبدالکیم ملک کی تصنیف منشور قرآن قابل ستائش کاوش ہونے کے ساتھ ساتھ منفرد بھی ہے۔ مغربی ثقافتی یلغار اور بے راہ روی کے مقابلہ کیلئے مؤلف کی 17 سال کی محنت شاقہ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔
ڈاکٹر انیس احمد ڈائریکٹر جنرل دعوت اکیڈمی۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی

قرآن کریم کے مضامین اور اشاریوں پر مبنی کتابوں کا ذکر "منشور قرآن" کے حوالہ کے بغیر نامکمل رہے گا یہ سہ لسانی اضافہ معنوی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ظاہر اور طباعتی محاسن سے بھی آراستہ ہے۔
ڈاکٹر امین اللہ وٹیر سابق ڈائریکٹر جنرل شعبہ تحقیق و مراجع۔ وزارت مذہبی امور پاکستان

"منشور قرآن" ہم سب بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کے لئے بھی سودمند ہوگی
برادر اشرف الزمان خاں صدر اسلامک سنٹر آف نارتھ امریکہ (ICNA) نیویارک

مضامین قرآن کریم کے اس تفصیلی اشاریہ نے بحث و تحقیق میں مصروف قرآنی علوم کے طلبہ کے لئے مزید سہولت پیدا کر دی ہے۔ یہ اشاریہ مکمل قرآن کریم پر مشتمل ہے جس میں قرآن کریم کے متن کی صحت کا پورا پورا اہتمام کیا گیا ہے۔
ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی ڈائریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

الحمد للہ مطالعہ اور استفادہ کے سلسلہ میں مؤلف نے کسی تنگ نظری گروہی عصیبت اور فقہی تعصب کو قرآن کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا۔ قرآنی متن کے انگریزی اور اردو تراجم کے سلسلہ میں بھی حسن ذوق و احتیاط اور اعتدال سے کام لیا گیا ہے۔
ڈاکٹر سید محمد ابو الخیر کشفی پروفیسر کراچی یونیورسٹی

"منشور قرآن" دینی ادب میں ایک ایسا گراں قدر اضافہ ہے۔ اسے بجا طور پر عالمی درجہ کی کتاب قرار دیا جاسکتا ہے۔
ڈاکٹر محمد طفیل صدر شعبہ سیرۃ طیبہ اسلامی تاریخ و تہذیب، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

منشور قرآن علماء کرام کی نظر میں

جناب عبدالکیم ملک کی تالیف "منشور قرآن" تجویب قرآن پاک کے سلسلے کی ایک عمدہ کاوش ہے۔ جس سے انشاء اللہ قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا۔
ڈاکٹر اسرار احمد سربراہ تنظیم اسلامی و امین خدام القرآن

"منشور قرآن" آخری البہامی کتاب سے محبت کا شاہکار ہے خون جگر سے سنبھلی ہوئی یہ کاوش قلبی اخلاص کی آئینہ دار ہے۔ جو قرآن مجید کی بہتر تفہیم میں مددگار ثابت ہوگی۔
ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری بانی ادارہ منہاج القرآن لاہور

طالبان حق، محققین، مصنفین، اساتذہ، طلباء، مضمون اور کالم نگاروں اور خواص و عوام کیلئے موضوعات کے اعتبار سے ایک جامع اشاریہ وقت کی اہم ضرورت تھا۔ عبدالکیم ملک صاحب نے "منشور قرآن" کو مرتب کر کے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔
پروفیسر غفور احمد نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان

"منشور قرآن" ایک دقیق علمی کام ہے جو بڑے وقت اور حوصلے کا حاصل ہے۔ خداوند متعال کے ارشادات اور کالم اللہ مجید کے موضوعات کی دستہ بندی (اشاریہ) انسانوں کی ہدایت اور ان کی زندگی کے راستے کو روشن کرنے کا باعث ہوگی۔
محمود حاجی حیدری ڈائریکٹر خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران

جناب محترم عبدالکیم ملک صاحب نے یہ کاوش ایک نئے انداز سے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں "منشور قرآن" قرآن فہمی کے لئے ایک مفید دستاویز ثابت ہوگا۔
مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی سربراہ جمعیت علمائے پاکستان و صدر ورلڈ اسلامک مشن پاکستان

گراں قدر ارمان علمی "منشور قرآن" ایک عظیم عمدہ ہے ان لوگوں کے لئے جو قرآن کریم کے مطالعہ کا شغف رکھتے ہیں۔ اور بہترین رہنما ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب اللہ پر کوئی تحقیقی کام کرنے کا تہیہ کرتے ہیں۔
حافظ نذر احمد بانی ادارہ تعلیم القرآن۔ سابق پرنسپل شیلی کالج لاہور

- جامعہ الازہر الشریف قاہرہ (مصر) دیکھئے صفحہ 77
- وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان دیکھئے صفحہ 78
- ڈاکٹر میاں محمد صدیقی چیئر مین دارالقرآن المدینہ (IIU) دیکھئے صفحہ 18
- حکیم محمد سعید (ہمدرد فاؤنڈیشن کراچی) دیکھئے صفحہ 19
- ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ کبوتر لیا رٹریز۔ اسلام آباد دیکھئے صفحہ 20
- کلیساؤں کی عالمی مجلس (ورلڈ کونسل آف چرچ) بیلا سوئٹزر لینڈ دیکھئے صفحہ 77

منشور قرآن اور عالمی الیکٹرانک میڈیا

بین الاقوامی معیار کی شہرت کی حامل کتاب "منشور قرآن" جو دنیا بھر میں تقسیم کی جا رہی ہے امریکہ بھر میں تارکین وطن مسلمانوں میں اسکی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے
وائس آف امریکہ اکل علی

"منشور قرآن" میں ابواب اور عنوانات کا چناؤ۔ حوالہ جات کا انتخاب۔ غرض ہر پہلو پر مؤلف کو ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس میں ادبی حسن بھی عیاں ہے۔ یہ گراں قدر تالیف ان شاء اللہ ایک اہم دستاویز ثابت ہوگی۔
بی بی سی ریڈیو (ورلڈ سروس) لندن شفیع نقی جاسمی

"منشور قرآن" جیسی باہرکت کتاب کی تالیف پر عبدالکیم ملک مبارک باد کے مستحق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مؤلف نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سرشار و سر فراز ہو کر یہ کام کیا ہے۔
تھرد وورلڈ براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک۔ ٹورانٹو (کینیڈا)

مسلمان عالم کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ دیگر مذاہب کے سکارلز بھی "منشور قرآن" کے معترف ہوئے ہیں۔
ٹائم وارنر۔ شکاگو۔ امریکہ

"منشور قرآن" کی سہ لسانی حیثیت نے اس کی افادیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ "منشور قرآن" تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ہر اہل علم تک پہنچے۔
ریڈیو ڈونچے ویلی۔ جرمنی شہناز شیعہ

منشور قرآن اور مختلف کتاب فکر کے جرائد و رسائل

مؤلف نے غایت درجے کی قلبی لگن کے ساتھ سالہا سال کی محنت و کاوش کے بعد یہ اشاریہ تیار کیا ہے جس کا مقصد محض ایک علمی Academic کتاب تیار کرنے تک محدود نہیں بلکہ اس کے ذریعہ لوگوں کی زندگیوں کو تاریکیوں میں قرآن کریم کی روشنی کی سہولت مہیا کرنا ہے۔
ماہنامہ ترجمان القرآن منصورہ لاہور

"منشور قرآن" ایک ایسی کوشش ہے جس سے ایمان کو طراوت، ایقان کو جلاہ اور روح کو بالیدگی ملتی ہے یہ وہ کام ہے جس کے لئے کئی ادارے مشغول آئیڈیالیاں اور جماعتیں درکار تھیں مگر ملک صاحب نے تنہا انجام دے کر ایک عالم کو درطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔
ماہنامہ الحق دارالعلوم اکوڑہ خٹک (مولانا مسیح الحق) سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام

"منشور قرآن" مضامین قرآن کی ریفرنس بک ہے۔ مؤلف کی یہ کاوش قرآن حکیم کے طلباء پر ایک بہت بڑا احسان ہے بہر صورت یہ حقیقت ہے جو کام اصحاب علم و فضل اور ارباب فہم و دانش کی ایک جماعت کا تھا وہ مؤلف نے تنہا انجام دیا ہے۔
ماہنامہ الخیر خیر المدارس ملتان (قاری محمد حنیف جالندھری) صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان

منشور قرآن اور قومی پرنٹ میڈیا

"منشور قرآن" نے ام الکتاب کی تفہیم و تعلیم آسان بنا دی ہے۔ عبدالکیم ملک کی یہ تحقیقی کاوش بہت سے اداروں کی کارکردگی پر بھاری ہے۔ تجویب قرآن کی یہ کوشش بلاشبہ تجسس و آفرین کی تقاضی ہے۔
روزنامہ نوائے وقت

عبدالکیم ملک کی "منشور قرآن" نامی کتاب میں کلام پاک کی آفاقیت اور جامعیت کو بڑے آسان پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی دنیا بھر میں ترویج بھی اعجاز قرآن ہی ہے۔
روزنامہ خبریں

عبدالکیم ملک صاحب کی کتاب "منشور قرآن" تحقیق، عقیدت اور حسین تدوین تینوں عناصر کا حسن امتزاج ہے۔ ہر علمی سطح کا قاری اس کے مطالعہ سے بہت کچھ حاصل کر سکے گا۔
ماہنامہ اردو ڈائجسٹ

منشور قرآن اور غیر لکی پرنٹ میڈیا

"منشور قرآن" تحقیق و تجویب قرآن کے باب میں قابل قدر اضافہ ہے۔ عبدالکیم ملک کی یہ تالیف امت مسلمہ پر بڑا احسان ہے۔
اردو بک ریویو۔ نئی دہلی انڈیا

اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے تحت ہونے والے تحقیقی کام "منشور قرآن" سے پوری دنیا کے مسلمان استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ IRF جو اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لئے معروف ہے اور اس کا مقصد لوگوں میں میانہ روی اور صبر و برداشت کا جذبہ بھی پیدا کرنا شامل ہے۔
روزنامہ جنگ۔ لندن

مؤلف کے بارے میں دیکھئے صفحہ نمبر 1203

الإهداء إلى
قوم يتفكرون ☆
و
والدقّ المبجلين

(غفر لهما الله تعالى)

اللذين كانا نأيد عوان لي في كل حين، وكل نجاح في حياتي يرجع إلى دعا لهما
ولولا دعا لهما لما استكمل هذا "الفهرس الموضوعي للقرآن الكريم"
ولو لم ياتهما أجلهما ليسرهما هذا المجهود البيل
"رب ارحمهما كما ربياني صغيراً" ☆☆

انتساب
ہر غور و فکر کرنے والے انسان کے نام

معنون

اپنے واجب التعظیم (مردم و مغرور) والدین کے نام
میری زندگی کی ہر کامیابی جن کی دعاؤں کی مرہون مت ہے۔ اور جن کے طفیل "منشور قرآن" کی تکمیل ممکن ہوئی
اگر انکی زندگی نے ساتھ دیا ہوتا تو آج وہ اس کاوش کو دیکھ کر یقیناً سرور ہوتے
"اے میرے پروردگار ان کے حال پر ایسی رحمت فرما جیسے انہوں نے بچپن میں شفقت سے میری پرورش کی" ☆☆

☆☆ 17 الإسراء (سب اسراہیل): 24 45 الجاثية: 13 39 الزمر: 42 16 النحل: 69, 11 13 الرعد: 3 10 يونس: 24

اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پاکستان

تاسیس شدہ 1976ء اور رجسٹرڈ نمبر (XVI) 1908

تفصیلی ادارہ اسلامی سرگرمیوں کے لئے وقت ایک غیر سرکاری ادارہ

اغراض و مقاصد

- * قرآن فہمی کو آسان تر بنانے کی کاوشیں
- * ہم خیال نظریاتی اداروں سے تعاون
- * اسلامی فکر کی اشاعت اور متوازن نقطہ نظر کی ترویج
- * بین المذہبی مکالمہ کا فروغ اور دیگر ادیان کے
- * انسانوں میں برداشت باہمی رواداری کا فروغ
- * انسانی بنیادی حقوق کی سر بلندی
- * تقابلی جائزہ کار حجان بڑھانا
- * تحقیق کے شعبہ سے منسلک افراد کیلئے خصوصی
- * جہالت اور نسلی امتیاز کے خاتمہ کے لئے اقدام
- * دارالمطالعہ (لابریری) کا قیام۔

اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچانے میں سبقت لیجئے یہ آپ کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار ہوگا اور آپ کے خلوص کا مظہر بھی

آپ اپنے کسی بھی عزیز، دوست، رشتہ دار یا مہربان کو ”منشور قرآن“ دنیا کے کسی بھی حصہ میں تحفہ بھیج سکتے ہیں۔

* آپ ”منشور قرآن“ کو بطور ہدیہ بھیجنے کا خوشگوار فریضہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو سونپ دیں جو اسے آپ کی جانب سے متعلقہ شخص یا ادارہ کو تحفہ ارسال کرنے کے بعد آپ کو مطلع کر دے گا۔

* آپ اس کار خیر میں ”اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن“ کے نام عطیات کی ترسیل کے ذریعہ بھی شریک ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کی جانب سے ”منشور قرآن“ اندرون ملک تعلیمی اداروں، جیلوں، لائبریریوں، مستحق افراد اور غیر ملکی اداروں کو بھیجا جاسکے۔

* قرآن فہمی میں دوسروں کی مدد فرما کر دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کریں۔

* اپنے افراد خانہ کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کریں یہ ان کا حق ہے اور آپ کا فرض بھی۔

بیرون ملک میں خواہش مند حضرات اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے علاقائی دفاتر سے رابطہ قائم کریں۔

بکے اور مطبوعات اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن - پاکستان از انجمن عبدالحکیم ملک

○ اٹلس حیات طیبہ رسول اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (SAAS) ATLAS - Noble Life of The Great Prophet Muhammad (SAAS) (جدید نقوشوں - نایاب تصاویر اور خاکہ جات سے مزین) اردو و انگریزی زبان میں ایک جلد

○ اٹلس قرآن کریم - حکایات انبیائے کرام علیہم السلام و اقوام ماضیہ (ATLAS- Qur'anic Narratives of the Holy Prophets (PBUT) and their Folks) (جدید نقوشوں - نایاب تصاویر اور خاکہ جات سے مزین) اردو و انگریزی زبان میں ایک جلد

○ کلام اقبال میں عکس قرآن کریم (علامہ سر محمد اقبال کے کلام کے ساتھ قرآن کریم کی آیات مقدسہ) اردو و انگریزی زبان میں ایک جلد

اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پاکستان کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لئے معاونت فرمائیے۔

9 رحیم آباد - پشاور روڈ - مظفر گڑھ - پوسٹ کوڈ 34200 پاکستان

موبائل (الحوال): 0992-321-686-2303 0092-300-9630-882 ای میل (ای میل): info@irfpak.org Irfpak@hotmail.com

ویب سائٹ (انٹرنیٹ): http://www.irfpak.org

المحتويات

مندرجات

رقم الصفحة	المحتويات	صفحة	مندرجات
VI	كيفية مراجعة هذا الكتاب	VI	كتاب سے استفادہ کا طریقہ
۱	فهرس الابواب	1	فہرس ابواب
۲۱	تقديم الطبعة الرابعة	13	پیش نامہ طبع چہارم
۲۲	تصدير الطبعة الثالثة	14	پیش لفظ طبع سوم
۲۳	استهلال الطبعة الثانية	15	دیباچہ طبع دوم
۲۴	تمهيد الطبعة الأولى	16	حرف آغاز طبع اول
۲۶	مقدمه (الدكتور ميان محمد الصديقي)	18	مقدمہ (ڈاکٹر ميان محمد صدیقی)
		19	تعارف (خط - حکيم محمد سعيد مرحوم)
		20	تمهيد (خط - ڈاکٹر عبدالقدیر خان)
۱۱۷۵	المسرد الابجدي (باللغة العربية)	27	انڈس اردو بترتيب حروف تہجی
۸۹	فهرس موضوعی للقرآن الکریم	89	منشور قرآن (اشاریہ مضامین)
۱۲۳۱	المسرد الابجدي (باللغة الانجليزية)	1231	انڈس انگریزی بترتيب حروف تہجی
۲۷	المسرد الفبائی (باللغة الاردية)	1175	انڈس عربی بترتيب حروف تہجی
۱۲۸۳	فهرس لاكتشاف أى آية قرآنية	1283	قرآنی آیات کی تلاش کیلئے انڈس
۱۱۷۴ إلى ۱۱۲۹	الملحقات و الجداول	1174 تا 1129	ضمیمہ جات جدول
۱۲۰۲	المصادر والمراجع	1201	کتابیات
۱۲۰۴	كلمة الشکر	1204	اظہار تشکر
۱۲۰۳	كلمات بشأن مؤلف	1203	مؤلف کے بارے میں
VIII	التصديق والتوصية (باللغة الاردية)	VIII	تصدیق و سفارش

For English Readers Table of Contents at Page 1215

۲۹۷۱۳

۳۹۵

۷۷۵۲

”منشور قرآن“ سے استفادہ کا طریقہ

کسی بھی مضمون قرآن تک رسائی کے پانچ طریقے

1. فہرست ابواب (اردو-عربی) کے ذریعہ صفحات 1 تا 12
2. فہرست ابواب انگریزی کے ذریعہ صفحات 1217 تا 1220
3. اردو ابجدی انڈکس کے ذریعہ صفحات 27 تا 86
4. انگریزی ابجدی انڈکس کے ذریعہ صفحات 1231 تا 1282
5. عربی ابجدی انڈکس کے ذریعہ صفحات 1175 تا 1200

عنوانات کے آخر میں دیئے گئے حوالہ جات (برائے تفصیل) کا اسلوب

■ اردو اور عربی حوالہ جات کو دائیں سے بائیں پڑھا جائے۔

مثلاً 92:16 یعنی سورۃ نمبر 92 کی آیت نمبر 16

■ انگریزی حوالہ جات کو بائیں سے دائیں پڑھا جائے۔

مثلاً 92:16 یعنی سورۃ نمبر 92 کی آیت نمبر 16

■ تاہم سورۃ نمبر کو آیت نمبر کی نسبت (واضح) جلی لکھا گیا ہے 92:16

■ مزید برآں عربی کالم میں ہر ”قرآنی متن“ کے آخر میں ”سورۃ کا نمبر شمار اور سورۃ

کا پورا نام“ اور آیت کا نمبر شمار درج کیا گیا ہے۔ مثلاً ﴿۹۲ اللیل﴾

قرآن کریم کی کسی بھی آیت تک رسائی کا طریقہ

■ قرآنی آیات کی تلاش کے لیے صفحہ وار انڈکس کے ذریعہ

صفحات 1283 تا 1301

کیفیتہ مراجعہ ہذا الكتاب

خمس طرائق للوصول إلى أي موضوع قرآني

1. بحسب الفهرس الأبواب (باللغتين الأردنية والعربية) من صفحة رقم 1 إلى 12
2. بحسب الفهرس الأبواب (باللغة الإنكليزية) من صفحة رقم 1217 إلى 1220
3. بحسب الفهرس الأبجدي (باللغة الإنكليزية) من صفحة رقم 27 إلى 86
4. بحسب الفهرس الأبجدي (باللغة العربية) من صفحة رقم 1175 إلى 1200
5. بحسب الفهرس الأبجدي (باللغة الأردنية) من صفحة رقم 27 إلى 86

توضیح الرموز الإشارية المذكورة بأحر كل موضوع

■ وأما باللغتين: العربية والأردنية فيرجى قراءة الإشارة

من اليمين إلى اليسار (أي على العكس من اللغة الإنكليزية)

مثلاً 92:16 معناه السورة رقم 92 والآية رقم 16

■ اقرأ الإشارات باللغة الإنكليزية من اليسار إلى اليمين

مثلاً 92:16 معناه السورة رقم 92 والآية رقم 16

■ على كل حال قد كتبت أرقام السور بحروف أغلظ بالنسبة

من أرقام الآيات، وبالإضافة إلى ذلك كتبت أسماء السور في

العمود الوسطي تحت النصوص القرآنية وكتبت بعدها أرقام الآيات

مثلاً (92 اللیل)

طريقة اكتشاف أي آية قرآنية

■ أنظر الجدول لكشف الآيات القرآنية على ترتيب الصفحات

من الصفحة 1283 إلى 1301

الازہر الشریف قاہرہ مصر

مجمع البحوث الاسلامیہ
الإسلامیة المصریة والنسائیة والتربویة

التاریخ ۲۰۰۱/۰۱/۲۰

(ترجمہ مکتوب انگریزی)

عبدالحکیم ملک

مینجنگ ڈائریکٹر، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن
۹- رحیم آباد- پنجندروڈ- مظفر گڑھ۔

اسلام و علیکم

امید ہے کہ "الازہر" کا یہ مکتوب آپ کو بخیریت و عافیت پائے گا، ہمیں آپ کے تحقیقی کام پر مشتمل نسخہ "منشور قرآن" موصول ہوا۔ ہمیں یہ مطلع کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ منشور قرآن کا تحقیقی کام تمام بنی نوع انسان کے لیے بالعموم اور امت مسلمہ (انگریزی اور اردو خواندہ) کے لیے بالخصوص نہایت کارآمد ہے۔ جس کی اشاعت اور ترویج کی اجازت دی جاتی ہے۔

شکریہ کے ساتھ

Elsayed Elmagi Shams Eldina

السید العرانی شمس الدین

ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ اکیڈمی الازہر شریف (مصر) قاہرہ

ادارة البحوث والنشر
مظفر گڑھ
۲۰۰۱/۰۱/۲۰

Dina El din

تہذیب محمدیہ
۲۰۰۱/۰۱/۲۰

(شعبہ تحقیق - تحریر و تراجم)

World Council of Churches

ورلڈ کونسل آف چرچز (عالمی مجلس کلیساء)
جنیوا سوئٹزر لینڈ

پوسٹ بکس 2100

جنیوا سوئٹزر لینڈ

فون +41 22 791.61.11

ٹیلی فیکس +41 22 791.03.61

انٹرنیٹ <http://www.wcc.coe.org>

(ترجمہ مکتوب انگریزی)

پروفیسر عبدالحکیم ملک

مینجنگ ڈائریکٹر، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن

۹ رحیم آباد پنجندروڈ

مظفر گڑھ پوسٹ کوڈ 34200 پنجاب - پاکستان

محترم پروفیسر ملک

بلاشبہ آپ کی تصنیف "منشور قرآن" ہم سب (اہل کتاب) جو "مذہب اسلام" کو سمجھنے میں یا تو دلچسپی رکھتے ہیں یا پھر "تعلیمات قرآن" کو سمجھنا اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔

براہ کرم میری طرف سے اس انتہائی اہم کام کے تسلسل کے لیے دلی خواہشات قبول فرمائیں۔

یہ خط آپ کو پرجوش تہنیت کے ساتھ جاری کیا جا رہا ہے۔

آپ کا ٹالس

(طارق ملری)

(شعبہ تعلقات بین المذاہب و مکالمہ جات)

وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان



الحمد للہ میں نے کتاب ”منشور قرآن“ (مؤلفہ از جناب عبدالحکیم ملک) میں درج تمام قرآنی آیات کا مطالعہ کیا ہے۔
آیات میں کسی قسم کی اعرابی یا تحریفی اغلاط نہیں ہیں۔

محمد عبد الرحمن قریشی

عبد الرحمن قریشی ڈائریکٹر (شعبہ القرآن)
وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان اسلام آباد

العقائد الإسلامية

عقائد اسلام

۸۹.....	الدين الاسلامي	89.....	دين اسلام
۳۱۵،۲۵۰.....	العبادات الإسلامية	315,250.....	عبادات اسلام
۹۷.....	العقائد الإسلامية	97.....	عقائد اسلام
۵۵۳،۵۴۹.....	نظام الدولة الإسلامية الرفاهية	553,549.....	اسلامی فلاحی مملکت کا نظام
۵۸۵،۵۸۰.....	صفات الدين الإسلامي المميزة	585,580.....	اوصاف دين اسلام
۹۹.....	أركان الإسلام	99.....	اركان اسلام

التوحيد

توحيد

۱۰۱.....	صفات الله سبحانه وتعالى	101.....	صفات الله سبحانه وتعالى
۱۳۳.....	التوحيد	133.....	توحيد
۱۳۹.....	الشرك	139.....	شرك
۱۶۱.....	الارتداد	161.....	ارتداد

النبوة المحمدية ﷺ

رسالت محمد ﷺ

۱۶۳.....	محمد رسول الله ﷺ	163.....	حضرت محمد ﷺ رسول الله
۱۶۶.....	خاتم النبيين - لاني بعدہ	166.....	ختم نبوت ﷺ
۱۶۸.....	مقتضيات حب الرسول ﷺ	168.....	رسول كريم ﷺ سے محبت کے تقاضے
۱۷۱.....	اطاعة الرسول ﷺ	171.....	اطاعت رسول كريم ﷺ
۱۷۲.....	سنة الرسول ﷺ	172.....	سنت رسول كريم ﷺ
۱۷۳.....	الحديث النبوي الشريف	173.....	حديث نبوي ﷺ
۱۸۲.....	إجلال النبي الكريم ﷺ وتكريمه	182.....	تكريم نبوي ﷺ
۱۷۵.....	احترام ذات الرسول ﷺ	185.....	ناموس رسالت ﷺ
۱۸۸.....	اهل بيت الرسول ﷺ وأقاربه	188.....	حضرت محمد ﷺ کے اہل بیت اور قرابت دار
۱۹۰.....	رفع الشبهات حول ذات الرسول ﷺ	190.....	رسول كريم ﷺ پر منکرین کے اعتراضات اور قرآنی استدلال

الصحف السماوية

صحائف آسمانی

۲۰۷.....	القرآن الكريم	207.....	قرآن كريم
۲۲۸.....	أبطال مزعومات المنكرين بشأن القرآن الكريم	228.....	منکرین قرآن پاک کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی سازشوں کا ابطال
۲۴۵.....	القرآن مصدق لما بين يديه	245.....	قرآن پاک میں تمام الہامی کتابوں کی تصدیق
۲۴۷.....	التوراة	247.....	تورات مقدس
۲۴۸.....	الزبور	248.....	زبور مقدس
۲۴۹.....	الانجيل	249.....	انجيل مقدس

عبادات اسلام

عبادة الله في الاسلام

۲۵۰	الصلوة	250	نماز
۲۶۲	الصوم	262	روزہ
۲۶۵	الزکوٰۃ	265	زکوٰۃ
۲۷۴	العشر - انفاق من الزرع عند الحصاد	274	عشر
۲۷۵	الانفاق في سبيل الله	275	خيرات
۲۸۴	الصدقة	284	صدقہ
۲۸۷	الحج - العمرة	287	حج بیت اللہ - عمرہ
۲۹۴	ذكر الله - تسبيح	294	ذکر اللہ تعالیٰ (یادرب تعالیٰ)
۲۹۸	الصبر	298	صبر (تحمل، برداشت)
۳۰۰	الشكر لله	300	شکر رب تعالیٰ
۳۰۳	التوكل على الله	303	"توکل" اللہ تعالیٰ پر بھروسہ (اعتماد)
۳۰۶	تقوى - خشية الله	306	تقوی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر (حکم عدولی کا خوف)
۳۱۲	الاستغفار	312	استغفار اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت (معافی) طلب کرنا
۳۱۵	التوبة إلى الله	315	توبہ
۱۱۱۶	الادعية القرآنية	1116	قرآنی دعائیں

تخلیق کائنات

بدء الخلق

۳۲۰	البصائر الالهية	320	مظاہر قدرت - بصائر قرآنی
۳۲۱	خلق الكون	321	تخلیق کائنات
۳۷۶	الملائكة	376	فرشتے
۳۸۱	الجن	381	جنات
۹۰۶	خلق آدم	906	تخلیق آدمؑ
۹۰۹	خلق حوا	909	پیدائش حواؑ
۳۸۲	ابليس - الشيطان	382	ابلیس - شیطان
۳۲۹	اسرار الكون	329	رموز کائنات
۳۶۶	القوانين الطبيعية - نظام القدرة الالهية	366	قوانین فطرت - نظام قدرت الہیہ
۳۸۷	الرزق	387	رزق
۳۹۴	خلق الانسان	394	تخلیق انسان
۴۰۶	الفطرة الانسانية	406	فطرت انسانی
۴۱۳	كيفية القلب الانساني	413	کيفية قلب (دل)
۴۱۷	كيفية النفس	417	کيفية نفس

حیات دنیا

الحياة الدنيا

۴۱۸	متاع الحياة الدنيا	418	دنیا کی زندگی کے سامان
۴۳۲	التحرك للحصول على الترقية والفوز في الحياة	432	جائزہ کامیابی اور ترقی کیلئے جدوجہد
۴۳۵	نعيم الدنيا هبة من الله	435	دنیا کی زندگی میں جائزہ اسباب سہولت (انعام رب تعالیٰ)

۴۳۷.....	السير والسياسة	437.....	سیر و سیاحت
۴۳۹.....	فضيلة العلم	439.....	فضیلت علم
۶۷۳.....	عروج الأفراد والأمم وانحطاطهم	673.....	اقوام اور افراد کا عروج و زوال

العلاقات الاجتماعية

معاشرت

۴۴۳.....	آداب الحياة الاجتماعية	443.....	سماجی زندگی کے آداب
۴۴۴.....	آداب الدخول في البيوت	444.....	گھروں میں داخلہ کے آداب
۴۴۵.....	آداب التخلية	445.....	آداب تخلیہ
۴۴۵.....	آداب التكلم	445.....	آداب گفتگو
۴۴۷.....	آداب المجلس	447.....	آداب مجلس
۴۴۹.....	آداب طعام	449.....	آداب طعام
۴۵۱.....	حقوق العباد	451.....	حقوق العباد
۴۵۱.....	حقوق الوالدين	451.....	والدین کے حقوق
۴۵۵.....	حقوق الذرية	455.....	اولاد کے حقوق
۴۵۸.....	حقوق الاقارب	458.....	رشتہ داروں کے حقوق
۴۶۰.....	حقوق اليتامى	460.....	یتیموں کے حقوق
۴۶۱.....	حقوق السفهاء	461.....	نا سمجھ (دماغی طور پر کمزور) لوگوں کے حقوق
۴۶۲.....	حقوق الجيران	462.....	ہمسایہ کے حقوق
۴۶۳.....	حقوق بالاسارى والمسجونين	463.....	قیدیوں کے حقوق
۶۱۲.....	العلاقات بالكفار	612.....	کفار سے تعلقات
۴۶۵.....	علم الاخلاق	465.....	اخلاقیات (خصائل حمیدہ)
۴۷۳.....	السيات الاجتماعية	473.....	معاشرتی برائیاں (خصائل مذمومہ)

الاقتصاد

اقتصادیات

۴۸۵.....	أصول التجارة والصناعة	485.....	اصول تجارت و صنعت
۴۸۸.....	الربو	488.....	سود
۴۹۰.....	الضرائب في الاقتصاد الاسلامي	490.....	اسلامی معاشیات کے ٹیکس
۴۹۱.....	القرض	491.....	قرض
۴۹۲.....	الأمانة	492.....	امانت
۴۹۴.....	إعداد وثيقة للتعامل المالي	494.....	باہمی معاہدات (لین دین دستاویزات)
۴۹۶.....	الأسراف والتبذير	496.....	فضول خرچی
۴۹۷.....	البخل	497.....	کنجوسی

الاحكام الهية

احکام الہیہ

۴۹۹.....	كسب الحلال و الحرام	499.....	حلال و حرام روزی
۵۰۲.....	الأغذية الحلال و الحرام	502.....	حلال و حرام غذائیں

۵۰۶	الخمر	506	شراب
۵۰۸	أحكام الوصية	508	وصیت کے احکامات
۵۱۰	قوانين التراث	510	وراثت کے قوانین
۵۱۴	القوانين الزوجية	514	عائلی قوانین
۵۱۴	النكاح	514	نکاح
۵۲۱	المهر	521	حق مہر
۵۲۲	العلاقات الزوجية	522	حقوق و فرائض رفیق حیات
۵۲۳	العلاقات الزوجية	523	ازدواجی زندگی کے تعلقات
۵۲۳	الخلافات الزوجية	523	ازدواجی تنازعات
۵۲۶	الطلاق	526	طلاق
۵۲۹	الخلع	529	خلع
۵۲۹	حقوق المرأة المطلقة	529	مطلقہ عورتوں کے حقوق
۵۳۱	حقوق النساء الأراامل	531	بیوہ عورتوں کے حقوق
۵۳۱	قوانين العدة	531	قوانین عدت
۵۳۱	حقوق النساء الحوامل	531	حاملہ عورتوں کے حقوق
۵۳۳	حقوق من الرضاعة	533	رضاعی (دودھ پلانے کے) حقوق
۵۳۵	ضوابط العلاقات الجنسية	535	جنسی تعلقات کے ضوابط
۵۳۶	الزنى	536	زنا کاری
۵۳۸	الاحتفاظ بانسب و تحقيق النطفة	538	تحقیق نطفہ (حفاظت نسب)
۵۳۹	جماع الجنس بنفسه	539	ہم جنسی
۵۴۱	احكام الحجاب	541	پردہ اور حجاب
۵۴۳	التوصية الخاصة للنساء بشأن الحجاب	543	شرم و حیا
۵۵۵	جرائم فئة الموظفين	555	سفید پوش لوگوں کے جرائم
۵۵۵	جرائم الخلاعة الذهنية	555	ذہنی آوارگی کے جرائم
۵۶۳	النهي عن الاغراء على الجريمة	563	اعانت جرم
۵۶۴	تصور العقوبة في الاسلام	564	اسلام میں سزا کا تصور
۵۶۵	النظام الجزائي	565	تعزیری سزائوں کا نظام
۵۶۶	حدود الله	566	حدود اللہ
۵۶۷	ضوابط الشهادة	567	گواہی (شہادت) کے اصول
۵۷۱	الأيمان والعهود	571	قسمیں اور حلف
۵۷۳	ازالة الإثم	573	ازالہ گناہ (کفارہ و فدیہ)
۵۷۴	قواعد الوكالة و الشفاعة و المعاونة	574	وکالت سفارش، معاونت کے اصول
۵۷۶	مبادئ قرار تحكيم	576	ثالثی کے اصول
۵۷۸	الارشاد الالهي للقضاة	578	ارباب عدلیہ کیلئے احکامات

نظام الدولة الإسلامية

نظام اسلامی مملکت

۵۴۹	نظام الدولة الإسلامية الرفاهية	549	اسلامی فلاحی مملکت کا نظام
۵۵۲	فرائض اولی الامر المسلمین	552	مسلمان حکمران طبقہ کے فرائض

۵۵۳	واجب الحكومة الإسلامية	553	اسلامی مملکت کی ذمہ داریاں
۵۷۷	الارشاد الكتاب والسنة	577	کتاب و سنت کے احکامات کی عمل داری
۵۵۳	تطبيق التشريع الإسلامی	553	نظام شریعت کا نفاذ
۵۵۴	إصلاح المجتمع	554	اصلاح معاشرہ
۵۵۹	ضمانة وقاية النفس من الضرر في الاسلام	559	اسلام اور انسانی زندگی کا تحفظ
۵۶۲	احتفاظ الأموال في الاسلام	562	اسلام میں انسانی مال کی حفاظت
۵۵۶	المجتمع النقي من الظلم والجور	556	ظلم اور زیادتی سے پاک (پرامن) اسلامی معاشرہ
۵۶۳	تنفيذ القانون و تنسيق المجتمع	563	امن عامہ (لاء اینڈ آرڈر) کی عمل داری
۵۵۵	الوقاية من جرائم	555	جرائم اور روک تھام
۵۷۷	انشاء نظام العدل الإسلامی	577	اسلامی نظام عدل کا قیام
۵۵۳	واجب الدولة نحو الدفاع عن الوطن	553	دفاع کی ذمہ داریاں
۵۵۳	السياسة الخارجية للدولية	553	سفارتی ذمہ داریاں (خارجہ پالیسی) بین الاقوامی تعلقات

صفات الدين الإسلامی المتميزة

۵۸۵	داع للسلم العالمی
۳۱۲، ۳۱۵، ۵۸۶	دين العفو والتسامح والتاني
۵۸۳	يعطى الانسان حقوقه
۵۸۳	دين حرية الانسان
۵۱۴	الحرية الفكرية والبيان والتعبير في الاسلام
۵۸۰	يراعى قداسة الصوامع والبيع
۵۸۲	يعطى الحقوق الذكور والأثني المساوية للجنسين - احتفاظات المرأة
۵۲۱، ۵۲۹، ۵۳۷، ۵۴۶	
۵۸۴	مدمة الفوارق العنصرية في الاسلام
۵۵۱	الإسلام وأنظمة الحكومة الاخرى

الدعوة والارشاد

۶۳۱	الدعوة والارشاد
۶۲۰	الاتحاد بين المسلمين
۶۱۶	تفرقة في الدين
۶۲۲	بيوت الله الأقداس - المساجد
۶۴۲	الجهاد في سبيل الله
۶۶۳	الامن والصلح
۶۶۵	المعاهدات بين الفريقين
۶۷۰	الهجرة
۶۳۷	شعاع الرجاء في تأثير الدعوة الإسلامية على اهل الكتاب

اوصاف دين اسلام

585	امن عالم کا علمبردار مذہب
586, 315, 312	درگذر اور معانی کا مذہب
580	انسانی حقوق کا علم بردار مذہب
584	قوانین آزادی انسان کا موجد مذہب
583	آزادی اظہار خیال و رائے اور مسلک
583	دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام و حفاظت
514, 521	عورتوں کے حقوق کا تحفظ و عدم تفاوت جنس
529, 537, 545	
582	رنگ و نسل کے امتیاز اور طبقاتی اونچ نیچ کی مذمت
551	دیگر نظام معاشرت اور اسلام

دعوت دين

631	دعوت دين، تبلیغ دين
620	اتحاد بين المسلمين
616	مذہبی فرقہ واریت
622	اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر - مساجد
642	جہاد
663	امن و مصالحت
665	باہمی معاہدے
670	ہجرت
637	امت اجابت (تبلیغ دين میں کامیابی کی کرن)

۵۸۷	العلاقات بأهل الكتاب في الإسلام	587	اہل کتاب سے تعلقات
۵۸۸	السلوك بغیر المسلمین فی الإسلام	588	غیر مسلموں سے سلوک
۶۳۷	لیس جميع اهل كتاب سوء	637	اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں
۶۰۷	تفرقة اهل الانجيل	607	نصاری (اہل انجیل) کی باہمی فرقہ بندی
۶۰۷	الرجعية النصاری وإرهابية هم	607	نصاری کی بنیاد پرستی (قدامت پسندی)
۶۰۱	عمل النصاری بتحریر الإنجيل	601	نصاری کی انجیل مقدس میں دانستہ تحریف
۶۰۰	خلافات اليهود النصاری وتفرقتهم الفكرية	600	یہود و نصاریٰ کے باہمی اختلافات اور نظریاتی فرقہ بندی
۱۱۱۳	إرهابية اليهود والاساسية هم	1113	یہود کی بنیاد پرستی (قدامت پسندی)
۵۹۱	تحریر اليهود فی التوراة	591	یہود کی تورات مقدس میں دانستہ تحریف
۱۰۴۴	نعمة الله على بنی اسرائیل	1044	بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات
۵۹۶، ۱۰۴۳	عصیان بنی اسرائیل بميثاق	596,1043	بنی اسرائیل کی نافرمانیاں
۶۲۹	دعوات اليهود و النصاری المضلة و حركاتهم ضد الإسلام	629	یہود و نصاریٰ کی گمراہ کن دعوتیں اور دین اسلام کے خلاف تحریکیں
۷۲۸	الاعراب (البدویون)	728	عرب بدو
۷۴۲	شورر قريش مكة و المنافقين و اليهود المدينة و مكايدهم	742	قریش مکہ - منافقین اور یہود مدینہ کی شرارتیں اور منصوبے
۵۸۹	الاديان و العقائد الاخرى	589	دیگر مذاہب اور عقائد
۵۸۹	المجوس	589	مجوس (زرتشت)
۵۸۹	الصابئون	589	صابی (ستارہ پرست)
۵۸۹	البوذيين	589	بدھ ازم
۵۸۹	الهندوس	589	ہندو ازم
۶۱۲	العلاقات بالكفار	612	کفار سے تعلقات
۷۴۸	المنافقون	748	منافقین
۶۲۷	الصدعن سبيل الله	627	اللہ کی راہ سے روکنے والے

إبطال العقائد الباطلة

إبطال عقائد باطلة

۱۹۰	دفع الشبهات حول ذات الرسول (ﷺ)	190	رسول کریم ﷺ پر منکرین کے اعتراضات اور قرآنی استدلال
۲۲۸	إبطال مزعومات الكفار بشأن القرآن الكريم	228	منکرین کے قرآن پاک کے بارے میں ایہا کی سازشوں کا ابطال
۱۱۰۳	إبطال معتقدات النصاری الباطلة	1103	عیسائیت کے عقائد باطلہ کا ابطال
۶۰۲	إبطال عقيدة ألوهية المسيح أنه ثالث ثلاثة	602	”مسیح ابن اللہ“ کے عقیدہ (ثالث ثلاثہ) کا ابطال
۶۰۶	إبطال ألوهية مريم	606	عقیدہ ”مریم پرستی“ کا ابطال
۵۹۳	إبطال، العقائد الباطلة لليهود	593	عقائد باطلہ یہود کا ابطال
۳۹۵، ۱۰۸۱	إبطال معتقد اليهود الكاذب ان عزيز ابن الله	593,1081	یہود کے ”عزیر ابن اللہ“ کے عقیدہ کا ابطال

۱۰۵۴	معامله بنی اسرائیل لموسىٰ با لايداء	1054	بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ پر الزام تراشی ایذا رسانی
۱۰۷۷	ابطال اتھام بنی اسرائیل علیٰ سلیمان با لسحر و تعلیمہ	1077	حضرت سلیمان پر بنی اسرائیل کے الزام جادوگری (تعلیم سحر) کا ابطال
۵۸۹	ابطال العقائد الادیان الاخریٰ	589	دیگر مذاہب کے عقائد کا باطلہ کا ابطال
۶۰۸	دراسة مقارنة للادیان	608	تقابل ادیان - مذاہب کا تقابلی جائزہ
۱۵۷	السحر و التفاول و التکهن	157	جادو - منتر - فال
۱۵۹	التوهمات	159	توہم پرستی

المعاد

حیات بعد از موت

۷۷۱	الموت	771	موت
۷۷۶	عذاب القبر	776	عذاب قبر
۷۷۶	عالم البرزخ	776	عالم برزخ
۷۷۷	النشور	777	حیات بعد الموت
۷۸۲	يوم القيامة	782	قیامت
۷۸۸	أمارات الساعة	788	قیامت کی نشانیاں
۷۹۱	طلوع يوم الحشر	791	ظہور قیامت
۷۹۶	مناظر يوم النشور	796	قیامت کی وحشت
۷۹۸	يوم الدين	798	یوم حساب
۸۱۵	يوم القيامة	815	روز حشر
۸۳۳	المکالمة و اللقاءات يوم القيامة	833	قیامت کے روز سوال جواب اور ملاقاتیں
۸۶۰	الجنة الفردوس	860	بہشت (جنت)
۸۸۵	جهنم	885	دوزخ - جہنم
۸۵۶	مصير الكفار	856	کفار کا انجام
۸۴۶	مصير المشركين	846	مشرکین کا انجام
۸۵۰	مصير الکافرین بالکتاب المنزلة	850	منکرین کتب سماویہ کا انجام
۹۶۸, ۹۴۱, ۹۳۳	مصير المنكرين بالانبياء	697, 933, 941, 968	منکرین انبیاء اکرام کا انجام
۱۰۰۱, ۱۰۳۴, ۱۱۱۱		1001, 1034, 1111	
۷۵۱	مصير المنافقين	751	منافقین کا انجام
۶۷۹	عاقبة الاقوام المکذبین الماضين	679	منکر اقوام کا انجام

الحوادث في حياة النبي كريم

واقعات حیات طیبہ رسول کریم ﷺ

۶۸۶	أصحاب الفيل	686	ہاتھی والے 570 - 571 عیسوی
۶۸۶	الاخبار بغلبة البزنطيين الرومانيين مقدا	686	اہل روم کی فتح کی پیش گوئی
۶۸۷	الوحي الاول	687	پہلی وحی کا نزول اگست 610 عیسوی
۶۸۸	الهجرة إلى الحبشة	688	ہجرت حبشہ 615 عیسوی
۶۸۸	معجزة شق القمر	688	معجزہ شق القمر 617 عیسوی
۶۹۰	استماع الجن الى تلاوة القرآن	690	نصیبین (الجزیرہ) سے آکر جنات کا تلاوت کلام پاک سنا
۶۸۸	معراج النبي ﷺ	688	معراج النبی ﷺ (اسراء) 620 عیسوی

٦٩٣	حادث غار ثور	693	واقعة غار ثور 622 عیسوی
٦٩٣	الهجرة إلى المدينة	693	ہجرت مدینہ 622 عیسوی
٦٩٣	المسجد أسس على التقوى	693	مسجد قبا کی تعمیر 622 عیسوی
٦٩٤	تحويل القبلة	694	تبدیلی رخ قبلہ (بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی جانب) 624 عیسوی
٦٩٤	حادثة النخلة	694	سریہ عبداللہ بن جحش (واقعة نخلة) 2 ہجری رجب
٦٩٦	غزوة بدر	696	غزوة بدر الکبریٰ رمضان 2 ہجری
٧٠٢	غزوة نبي قينقاع	702	غزوة بنو قینقاع شوال 2 ہجری
٧٠٢	غزوة احد	702	غزوة احد شوال 3 ہجری
٧٠٦	غزوة حمراء الاسد	706	غزوة حمراء الاسد شوال 3 ہجری
٧٠٦	ميثاق المدينة	706	ميثاق مدینہ
٧٠٧	غزوة بنى نضير	707	غزوة بنی نضیر ربیع الاول 4 ہجری
٧٠٦	بدر الصغرى	706	غزوة بدر اصغرہ (صغریٰ) ذوالقعدہ 4 ہجری
٧٠٨	غزوة بنى المصطلق	708	غزوة بنی المصطلق (غزوة مریح) شوال 5 ہجری
٧٠٨	حادثة الافك (الخنديق)	708	واقعة افک شوال 5 ہجری
٧٠٩	غزوة احزاب	709	غزوة خندق (غزوة احزاب) ذوالقعدہ 5 ہجری
٧١٢	غزوة بنى قريظة	712	غزوة بنو قریظہ 5 ہجری
٧١٣	غزوة الحديبيه	713	غزوة حدیبیہ 6 ہجری
٧١٣	بيعة الرضوان	713	بیعت الرضوان 6 ہجری
٧١٣	معاهدة الحديبيه	713	صلح حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری
٧١٦,٧١٥	غزوة خيبر (فتح خيبر)	716,715	غزوة خیبر (فتح خیبر) 7 ہجری
٧٢٧	حادث التحريم	727	واقعة تحریم 7 ہجری
٧١٧	العمرة القضاء	717	عمرة القضاء 7 ہجری
٧١٨	غزوة الجيش الامراء (غزوة موتة)	718	غزوة جیش امراء (غزوة موتہ) 8 ہجری
٧١٦	غزوة فتح مكة (فتح عظيم)	716	فتح مکہ (فتح عظیم) رمضان 8 ہجری
٧١٨	غزوة حنين (اوطاس)	718	غزوة حنین (اوطاس) غزوة ہوزان 8 ہجری
٧١٩	الغاء معاهدة الحديبيه	719	صلح حدیبیہ کی منسوخی 9 ہجری
٧٢٠	غزوة تبوك	720	غزوة تبوک (غزوة عسره) 9 ہجری
٧٢٦	حادث المسجد الضرار	726	واقعة مسجد ضرار 9 ہجری
٧٢٩	قلق رسول ﷺ على عدم ايمان الكفار	729	کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی کریم ﷺ کا افسوس
٧٤٢	شروع القریش المکة	742	قریش مکہ کی شرارتیں
٧٤٢	شروع يهود المدينة	742	یہود مدینہ کی شرارتیں

قصص الانبياء

قصص انبياء كرام

٩٠٤	الحكمة في قصص الانبياء	904	قصص الانبياء کے بیان کا مقصد
٩٠٦	آدم عليه السلام	906	تخلیق حضرت آدم علیہ السلام
٩٠٩	خلق حوا عليها السلام	909	پیدائش حضرت حوا علیہا السلام
٩٠٩	سكن آدم و حوا (عليهما السلام) الجنة	909	قصہ بہشت (حضرت آدم و حوا علیہما السلام)
٩١٦	ادريس عليه السلام	916	حضرت ادريس علیہ السلام
٩١٧	نوح عليه السلام	917	حضرت نوح علیہ السلام

۹۲۹	هو د عليه السلام	۹۲۹	حضرت ہود علیہ السلام
۹۳۶	صالح علیہ السلام	۹۳۶	حضرت صالح علیہ السلام
۹۴۴	ابراہیم علیہ السلام	۹۴۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام
۹۷۱	اسماعیل علیہ السلام	۹۷۱	حضرت اسماعیل علیہ السلام
۹۷۳	اسحاق علیہ السلام	۹۷۳	حضرت اسحاق علیہ السلام
۹۶۲	لوط علیہ السلام	۹۶۲	حضرت لوط علیہ السلام
۹۷۵	یعقوب علیہ السلام	۹۷۵	حضرت یعقوب علیہ السلام
۹۷۷	یوسف علیہ السلام	۹۷۷	حضرت یوسف علیہ السلام
۹۹۶	ایوب علیہ السلام	۹۹۶	حضرت ایوب علیہ السلام
۹۹۷	شعیب علیہ السلام	۹۹۷	حضرت شعیب علیہ السلام
۱۰۰۴	موسیٰ علیہ السلام	1004	حضرت موسیٰ علیہ السلام
۱۰۵۶	ہارون علیہ السلام	1056	حضرت ہارون علیہ السلام
۱۰۶۱	یوشع علیہ السلام	1061	حضرت یوشع علیہ السلام
۱۰۶۳	شموئیل علیہ السلام	1063	حضرت شموئیل علیہ السلام
۱۰۶۵	ذوالکفل علیہ السلام	1065	حضرت ذوالکفل علیہ السلام
۱۰۶۵	حزقیل علیہ السلام	1065	حضرت حزقیل علیہ السلام
۱۰۶۵	الیاس علیہ السلام	1065	حضرت الیاس علیہ السلام
۱۰۶۶	الیسع علیہ السلام	1066	حضرت الیسع علیہ السلام
۱۰۶۷	داؤد علیہ السلام	1067	حضرت داؤد علیہ السلام
۱۰۷۲	سلیمان علیہ السلام	1072	حضرت سلیمان علیہ السلام
۱۰۸۱	عزیر علیہ السلام	1081	حضرت عزیر علیہ السلام
۱۰۸۴	یونس علیہ السلام	1084	حضرت یونس علیہ السلام
۱۰۸۷	زکریا علیہ السلام	1087	حضرت زکریا علیہ السلام
۱۰۸۹	یحییٰ علیہ السلام	1089	حضرت یحییٰ علیہ السلام
۱۰۹۵	عیسیٰ علیہ السلام	1095	حضرت عیسیٰ علیہ السلام
۱۶۳	محمد ﷺ	163	حضرت محمد ﷺ
۶۸۶	الحوادث فی حیاة النبی ﷺ	686	واقعات حیات طیبہ رسول کریم
	☆ مشاراً الیہ غیر مباشرہ		☆ اشارۃ ذکر ملتا ہے۔

المؤمنین الصالحین

۹۰۹	حواء علیہا السلام	909	حضرت حوا علیہا السلام
۹۱۵	ہابیل ابن آدم علیہ السلام	915	ہابیل ابن آدم علیہ السلام
۱۰۵۸	خضر علیہ السلام	1058	حضرت خضر علیہ السلام
۱۰۶۳	طالوت علیہ السلام	1063	حضرت طالوت علیہ السلام
۱۰۷۱	لقمان علیہ السلام	1071	حضرت لقمان علیہ السلام
۱۰۸۲	ذوالقرنین علیہ السلام	1082	ذوالقرنین علیہ السلام
۱۰۹۱	مریم علیہا السلام	1091	حضرت مریم علیہا السلام
۱۱۰۵	اصحاب کھف - اصحاب رقیم	1105	اصحاب کھف - اصحاب رقیم
۷۵۸	اصحاب الرسول (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)	758	اصحاب رسول (صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

۵۱۸	زید بن حارث	518	زید بن حارث
۵۴۵	امراء فرعون	545	زوجہ فرعون
۷۶۲-۱۱۱۰	المقربون من افراد الامم الماضية	762-1110	سابقین - مقربین
۷۶۲	التابعون والذین اتبعوهم	762	تابعین - تبع تابعین
۷۶۲	اولیاء اللہ	762	اولیاء اللہ
۷۶۳	حزب اللہ	763	حزب اللہ
۷۶۳	عباد الرحمن	763	عباد الرحمن
۷۶۳	عباد اللہ	763	عباد اللہ
۷۶۴	المؤمنون	764	مؤمنین
۸۶۰	أهل جنة	860	اہل بہشت

قصص الافراد والامم الماضية

قصص افراد و اقوام ماضی (اسمائے اشرا)

۹۱۵	قائیل (ابن آدم)	915	قائیل (ابن آدم)
۹۲۵	قوم عاد	929	قوم عاد (قوم حضرت ہود علیہ السلام)
۹۱۷	قوم نوح	917	قوم نوح
۹۲۶	الابن نوح	926	پسر نوح
۹۳۶	قوم ثمود	936	قوم ثمود (حضرت صالح علیہ السلام)
۹۶۲	قوم لوط	962	قوم لوط (اہل عامورہ و سدوم)
۹۶۹	امراة لوط	969	زوجہ لوط
۹۹۷	اصحاب الأيكة	997	اصحاب ایکہ
۹۹۷	قوم بنی مدیان	997	قوم بنی مدیان (حضرت شعیب)
۱۰۰۴	قوم بنی اسرائیل	1004	قوم بنی اسرائیل
۱۰۰۵	فرعون	1005	فرعون
۱۰۳۰	هامان	1030	ہامان
۱۰۳۰	قارون	1030	قارون
۱۰۴۸	السامری	1048	سامری
۱۰۶۴	جالوت	1064	جالوت
۱۰۶۷	أهل زبور	1067	اہل زبور (قوم حضرت داؤد علیہ السلام)
۱۰۷۰	أصحاب السبت	1070	اصحاب سبت (ہفتہ کے روز والے)
۱۰۸۳	ياجوج ماجوج	1083	ياجوج ماجوج
۱۱۰۸	أصحاب الجنة (الصنعاء)	1108	اصحاب باغ صنعاء
۱۱۰۹	أصحاب القرية	1109	اصحاب القرية
۱۱۱۱	مثل رجلین	1111	دو اشخاص (موحد اور ملحد)
۱۱۱۳	أصحاب الأخدود	1113	اصحاب خندق
۱۱۱۴	اصحاب الرس	1114	اصحاب الرس (کنوین والے)
۱۰۷۹	قوم سبا	1079	قوم سبا

۹۲۹	قوم ارم	929	قوم ارم
۱۱۱۵	قوم تبع	1115	قوم تبع
۱۸۷	ابولہب	187	ابولہب
۸۵۰	الکافرون بالکتب المنزله	850	منکرین کتب سماویہ
۱۹۱	المنکر والرسول	191	منکرین انبیاء کرام
۶۷۹	عاقبة الاقوام المنکرین	679	منکر اقوام کا انجام
۷۵۴	استعجال الکفار بعذاب اللہ	754	منکرین کی عذاب الہی کی طلب میں جلدی
۷۵۶	تا جیل الکافرین من اللہ استدراجہم	756	منکرین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت
۶۷۳	عروج الأفراد والامم انحطاطہم	673	اقوام اور افراد کا عروج و زوال
۶۸۵ الی ۶۷۹	عاقبة الاقوام المکذبین الماضین فی ضوء التاريخ	685 تا 679	منکر اقوام کا انجام تاریخ کے آئینے میں
۸۸۵	اهل جہنم	885	اہل دوزخ

عسلسوہم الجاید المشار إليها غیر مباشرة فی القرآن

۳۲۱	علم نظام الكون	321,366	علم کائنات (کوسمولوجی)
۳۲۹	علم الهيئة (علم الفلك)	329	علم الفلكیات (آسٹرانومی)
۳۲۰	علم الطبيعة	320	علم طبیعیات (نچرل سائنس) فزکس
۵۶۹	علم النسيج	569	علم پارچہ سازی (ٹیکسٹائل)
۳۹۴	علم الاحياء	394	علم الحیاتیات (بیالوجی)
۳۹۴	علم التناسل والوراثی	394	علم التوالد - تخلیق انسان (جینائیکس) ایمبرالوجی
۴۵۱،۳۹۴	علم وصف الإنسان (التاريخ الطبيعي البشري)	394,451	علم البشریات (انٹروپالوجی)
۵۸۸،۵۵۸،۵۱۴،۴۷۳،۴۶۵		465,473,514,558,588	
۵۷۳،۴۱۷،۴۱۳،۳۱۵	علم النفس	315,413,417,573	علم نفسیات (سائیکالوجی)
۹۸۴،۹۸۶،۹۷۷	علم تعبير الرؤيا	977,984,986	علم تعبیر خواب (انٹریٹیشن آف ڈریمز)
۹۰۴	علم التاريخ	904	علم تاریخ (ہسٹری)
۳۳۸	علم طبقات الارض	338	علم جغرافیہ - جیوفزکس - جیوگرافی (جیالوجی)
۵۵۸،۵۱۴،۴۷۳،۴۷۰،۴۵۱،۲۸۳	علم العمران	283,451,470,473	علم معاشرت - معاشرتی علوم (سوشیالوجی)
۵۸۸،۵۸۷،۵۸۰		514,558,580,587,588	
۱۰۰۲،۹۶۹،۹۳۵،۹۴۳،۴۳۷	علم الآثار القديمة	437,943,935,969,1002	علم آثار قدیمہ (آرکیالوجی)
۴۷۳،۴۷۰،۴۶۵،۴۴۵	علم التمدن	473,580,582,587	علم شہریت - سکس (سوشل سٹیڈیز)
۵۸۷،۵۸۰،۵۸۰		445,465,470,	
۱۰۷۴،۵۵۸،۵۸۴،۵۵۱	علم السياسة	551,558,584,1074	علم سیاسیات (پولٹیکل سائنس)
۳۵۱	علم النبات	351	علم نباتات (باٹنی)
۸۷۴،۳۵۵	علم الفیات	355,874	علم جنگلات (فارسٹری)
۳۶۱،۳۵۹	علم الحيوان	359,361	علم الحیوانات (زویالوجی)
۳۶۴	علم الطيور	364	علم طیور - پرندوں کا علم (آرنیتھالوجی)
۹۲۴،۳۶۰،۳۵۹	علم فلاحه الحيوانات الرعی	359,360,924	علم افزائش نسل حیوانات (انیمل ہسٹنڈری)
۳۶۵	علم الحوام والحشرات	365	علم حشرات - کیڑے مکوڑوں کا علم (انامولوجی)

علم دهات (میٹالرجی).....	1068,1073,1083	علم المعادن ۱۰۸۳،۱۰۷۳،۱۰۶۸
علم کان کنی (میزالوجی).....	1073,1083	علم استخراج المعادن ۱۰۸۳،۱۰۷۳
علم اسلحہ سازی - جنگی ودفاعی ہتھیار (آرمی).....	1068	علم صنع الاسلحة ۱۰۶۸
علم بحریات - سمندروں کا علم (اوشینالوجی).....	340,341,342	علم البحور والمحيطات ۳۴۰،۳۴۱،۳۴۲
علم جہاز رانی (نیویگیشن).....	340	علم الملاحة ۳۴۰
علم جہاز سازی (کشتی سازی) شپ یارڈر.....	924,926	علم صناعة السفينه (السفانة) ۹۲۴،۹۲۶
علم آبپاشی (ایریگیشن).....	345	علم نظام الري ۳۴۵
علم آب - متحرک پانی کا علم (ہائیڈراکس).....	345	علم بحركة الماء ۳۴۵
علم غوطہ خوری و تیراکی (ڈائیونگ اینڈ سوئمنگ).....	342,343,1072	علم الغطس ۱۰۷۲،۳۴۲،۳۳۴
علم تعمیرات (سول انجینئرنگ).....	624,929,1114	علم الهندسة المدنية ۱۱۱۴،۹۲۹،۶۲۴
علم ہوابازی (ایروناٹکس).....	364,277,288	علم الطيران ۳۶۴
علم اصول تجارت (کامرس اینڈ ٹریڈ).....	259,268,288,341	علم اصول التجارة ۲۵۹،۲۶۸،۲۷۷،۲۸۸،۳۴۱
علم شماریات (سٹیٹسٹکس).....	485,487,644	علم وضع التقاويم والإحصائيات ۱۰۴۴
علم زراعت (ایگریکلچر).....	1044	علم الفلاحة والزراعة ۳۵۱
علم ثقافت و فن (کلچر اینڈ سوبلائزیشن).....	351	علم العمارة والثقافة ۹۳۶،۹۲۹،۴۷۳،۴۶۵،۴۴۳
443,465,473,929,936		

المتفرقات - الملحقات والحدول

متفرقات - ضمیمہ جات وجدول

۱۱۱۶	ادعية القرآن	1116	قرآنی دعائیں
۱۱۲۹	الاسماء حسنی	1129	اسماء حسنی
۱۱۴۱	الأمثال القرآنية. المذكورة. في القرآن صراحة	1141	تمثیلات (مثالیں) (جو قرآن کریم میں مذکور ہیں)
۱۱۴۴	أقسام القرآن. المذكورة. في القرآن صراحة	1144	قسمیں (جو قرآن کریم میں مذکور ہیں)
۱۱۴۷	اشخاص المذكورة في القرآن صراحة	1147	شخصیات (جو قرآن کریم میں مذکور ہیں)
۱۱۴۹	اشخاص القرآن غير مباشرة	1149	شخصیات (جن کا قرآن کریم میں اشارتاً ذکر کیا گیا ہے)
۱۱۵۱	الالوان المذكورة في القرآن	1151	رنگ ہائے (جو قرآن کریم میں مذکور ہیں)
۱۱۵۳	اماكن المذكورة في القرآن صراحة	1153	مقامات (جو قرآن کریم میں مذکور ہیں)
۱۱۵۵	أرض القرآن غير مباشرة	1155	مقامات (جن کا قرآن کریم میں اشارتاً ذکر کیا گیا ہے)
۱۱۵۹	الادوات المتفرقة المذكورة في القرآن	1159	اشیاء متفرقہ (جو قرآن کریم میں مذکور ہیں)
۱۱۶۱	الاعضاء المذكورة في القرآن	1161	اعضاء انسانی (جو قرآن کریم میں مذکور ہیں)
۱۱۶۵	الاعداد المذكورة في القرآن	1165	الاعداد - کسرات (جو قرآن کریم میں مذکور ہیں)
۱۱۶۹	المقطعات المذكورة في القرآن	1169	حروف مقطعات قرآن کریم
۱۱۷۰	آيات السجدة في القرآن	1170	آیات سجده تلاوت قرآن کریم
۱۱۷۱	فهرس اسماء السور القرآنية	1171	سورة ہائے قرآنی (فہرست)
۱۲۸۳	فهرس لاكتشاف أى آية قرآنية	1283	قرآنی آیات کی تلاش کے لیے انڈکس
۱۱۷۵	المسرد الابجدي باللغة العربية	27	اردو انڈکس مضامین قرآن بلحاظ حروف ابجدی
۱۲۳۱	المسرد الابجدي باللغة الانجليزية	1231	انگریزی انڈکس مضامین قرآن بلحاظ حروف ابجدی
۲۷	المسرد ألقبائي باللغة الاردية	1175	عربی انڈکس مضامین قرآن بلحاظ حروف ابجدی
۸۸	رموز اوقاف، علامات وقف (باللغة الاردية) القرآن الكريم	88	رموز اوقاف - علامات وقف قرآن کریم

پیش نامہ طبع چہارم

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ”منشور قرآن“ کے سابقہ ایڈیشن کی دنیا بھر کے قارئین میں پذیرائی میری توقعات سے بھی بڑھ کر ہوئی۔ میرے خیال میں اس کتاب کی پہلی اشاعتوں کے ”دیباچہ اور تعارف“ میں درج تفصیلات کے بعد کچھ مزید لکھنا تو محض ایک رسمی تکلف ہی ہے۔ البتہ اس ایڈیشن میں حوالہ جات کی تلاش کو مزید سہل بنانے کے لئے ہر جگہ متعلقہ صفحات نمبر کا اندراج کر دیا گیا ہے۔ انشاء اللہ قارئین اس سہولت کو نمایاں طور پر محسوس کریں گے۔

منشور قرآن کی اہمیت اور مقبولیت کے پیش نظر جی نے ہمیشہ چاہا کہ اس کی طباعت کا معیار اس کے شایان شاہ ہو۔ الحمد للہ محدود وسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ خیال قابل عمل ہوا اور ہم موجودہ ایڈیشن کی کتابت اور طباعت کے معیار میں کسی حد تک بہتری لانے میں کامیاب ہوئے امید واثق ہے کہ ارباب ذوق کی نگاہ بصیرت اسے پسند کرے گی۔

اسلام پر کینہ پرور تنقید، فساد انگیز، افسانہ پرداز یوں کے اس نازک دور میں اس تالیف کی اشاعت ان شاء اللہ عالم اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے، مغرب اور اسلامی دنیا کے مابین بد اعتمادی کی فضا کو سازگار بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ تاکہ تمام نبی نوع انسان تعصب سے پاک ہو کر فراخ دلی، وسیع قلبی اور کشادہ ذہنی کے ساتھ اکیسویں صدی میں سرخرو ہو سکیں اور پورا کرہ ارض امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے اور ہم نفرتوں کی آگ اور مذہبی پیشوائیت کے جنون سے بچ سکیں اور تمام دنیا کے مسلمان قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اخروی زندگی میں کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیوی زندگی میں جدید علوم اور تحقیق میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے مستقبل کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔

منشور قرآن کا سہ لسانی اسلوب، جہاں عربی سے نا آشنا، ایسی نوجوان نسل کے لیے کارآمد ہوگا جو مادہ پرست مغربیت کے طلسم سے مہبوت ہو کر رہ گئی ہے، وہاں مسلم قارئین کو بین المذہبی مکالمہ جات کی تیاری اور دیگر مذاہب کے قارئین کو دین اسلام کے اوصاف سے روشناس کرانے میں نہایت مددگار ثابت ہوگا۔

میں نہایت انکساری اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ذات کریم میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور منشور قرآن کو پورے کرہ ارض پر اپنے کلام کی محبت اور اسکی روح تک رسائی اور تفہیم کا ایک بہتر ذریعہ ثابت کر دے۔ آمین

مؤلف

”السروز“

مظفر گڑھ (پاکستان)

11 جمادی الثانی 1426ھ بمطابق 18 جولائی بروز سوموار 2005ء

پیش لفظ - طبع سوم

پچھلی اشاعت پر جامع نظر ثانی اور ضروری ترامیم کے بعد موجودہ ایڈیشن پیش خدمت ہے، جس میں مضامین قرآن تک رسائی کو مزید آسان بنانے کے لیے ابواب، عنوانات، حوالہ جات، ضمیمہ جات اور ابجدی انڈکس (اردو، انگریزی) میں پیش بہا اضافہ کیا گیا ہے۔ جن کا واضح ثبوت اس کی ضخامت میں اضافہ ہے۔

تقابل ادیان پر مطالعہ کا بڑھتا ہوا رجحان ہمیں غیر مسلم دنیا کے سامنے مذہب اسلام کی خوبیوں کو ایسے جدید زاویوں سے اجاگر کرنے کی دعوت دیتا ہے جو مذہب اسلام کے فضائل کو باسانی سمجھنے میں مدد و معاون ہوں۔ موجودہ تالیف اسی سلسلے کی جانب ایک اہم کاوش ہے، جس میں دین اسلام کے اوصاف کو ایک جدید انداز سے نقطہ مانسکہ پر لایا گیا ہے تاکہ قارئین کی کسی بھی مسئلہ پر اسلامی احکامات تک فوری رسائی ہو سکے اور انہیں دوسرے عقائد و مذاہب سے تقابلی جائزہ کی سہولت میسر ہو سکے۔

اس ایڈیشن میں منکرین، مشرکین، مستشرقین کے دین اسلام پر بالعموم اور قرآن پاک اور رسول کریم ﷺ پر بالخصوص استہزاء اور الزامات کا ابطال بھی قرآن پاک کے مستند حوالوں سے پیش کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اور منکرین افراد اور اقوام کے انجام کو تاریخ کے تناظر میں زیادہ واضح طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔

میں اصحاب علم فضل، قارئین اور مبصرین سے اس تالیف کی مزید بہتری کے لیے تجاویز کا خیر مقدم کروں گا۔ جو مجھے بذریعہ خطوط، فون، فیکس، ای میل موصول ہو سکیں گے۔

مؤلف

ملتان
14 شعبان المعظم 1423ھ
سوموار بمطابق، 21 اکتوبر 2002

دیباچہ طبع دوم

الحمد للہ۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں ترویج دین میں مصروف عمل اداروں کے مشاہدات اور بیرون ممالک مقیم اصحاب علم و دانش سے شرف ملاقات، تبادلہ خیال کے بعد اس کام کو عہدہ حاضری ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنے کے جذبہ کو مزید تقویت نصیب ہوئی۔ اور اب تین سال کی شبانہ روز کاوش کے نتیجے میں اضافہ اور ترمیم شدہ ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

گزشتہ نصف صدی میں دوسری زبانوں کی طرح اردو اور انگریزی ادب نے قابل قدر ترقی کی مگر قرآن کریم کے تراجم کے سلسلہ میں اس سے بہت کم استفادہ کیا گیا۔ لہذا موجودہ دور کے قارئین کی سہولت کیلئے اردو اور انگریزی تراجم کے قدیم متروک اور مشکل الفاظ کو نسبتاً عام فہم اور جدید الفاظ سے بدل دینا وقت کی ضرورت تھی۔ اس کام کیلئے اکابرین دین کے مستند تراجم (جن کی تفصیل استفادہ کتب Bibliography کے صفحہ پر درج ہے) کے گل دستوں سے سلیس اور باجمارہ الفاظ کو پھولوں کی طرح چن چن کر بعینہ ترجمے کی لڑی میں پڑوایا گیا ہے۔ اور اکرام و احترام کے پیش نظر اپنی طرف سے ترجمہ میں کمی لفظ کے اضافہ میں ہر ممکن احتیاط برتی گئی ہے۔

بیان مقصد کا اختصار ہر زبان کے ادب میں خوبی سمجھا جاتا ہے اس لئے شاید فاضل قارئین کو منشور قرآن کے عنوانات کی لطوالت غیر ضروری محسوس ہو مگر قصص قرآنی میں بالخصوص اور دوسرے ابواب میں بالعموم مختلف اکابرین کی تفاسیر اور حواشی کی مدد سے قدرے تفصیلی عنوانات عمداً مرتب کئے گئے ہیں۔ تاکہ مطالعاتی دلچسپی کے ساتھ ساتھ قارئین کی قرآنی آیات کے شان نزول اور سیاق و سباق کی جانب توجہ مبذول ہو اور اس طرح ان میں قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کا شوق اور تفاسیر قرآن کے مطالعہ کا رجحان فروغ پائے۔

ناموس رسالت ختم نبوت اہل بیت اور صحابہ کرام علوم القرآن۔ اشخاص قرآن مقامات قرآن اشیاء قرآن جیسے اہم ابواب کو شامل کیا گیا ہے۔ تمام نسخہ کے اردو۔ انگریزی تراجم کو از سر نو کمپیوٹر اور قرآنی متن کی Scanning کرائی گئی۔ تاکہ کتابت کی امکانی غلطیوں سے بچا جاسکے۔ سلسلانی ابجدی انڈکس ہائے جدول کی تیاری اور حوالہ جات کیلئے جدید کمپیوٹر ٹیکنیکس سے استفادہ کیا گیا۔ منشور قرآن کے صفحات اور عنوانات کا Format یکسر تبدیل کر دیا گیا ہے جس سے کتاب کی خوبصورتی میں یقیناً اضافہ ہوا ہے۔

معلومات قرآن میں اضافہ کیلئے (مشہور واقعات اور احکامات کے) عنوانات کے ساتھ سال (نبوی، ہجری اور عیسوی) کا حوالہ دیا گیا ہے (گو ان کو صحیح تاریخ دن اور ماہ کے تعین پر قدرے اختلاف ملتا ہے) مگر پھر بھی یہ اضافہ یقیناً تحقیقی اور علمی کاوشوں میں مددگار اور مطالعاتی دلچسپی کا باعث ثابت ہوگا۔

یہ میرا کامل ایمان ہے کہ قرآن پاک کے رموز کا اہل دانش پر جدید علوم و سائنسی تحقیق کی روشنی میں مناسب وقت پر بہتر توجہ انکشاف ہوتا جائے گا کیونکہ قرآن پاک اس بات کی پیش گوئی کرتا ہے کہ آفاق عالم کو بالا خراس کتاب کی صداقت پر ایمان لانا ہے۔ اور یہی دعویٰ قرآن کریم کے کلام الہیہ ہونے کی شہادت ہے۔ اس لئے سائنسی اور جدید علوم کے انکشافات پڑنی کی ابواب اور پیش بہا ذیلی عنوانات کو اس اشاریہ میں شامل کیا گیا ہے جس کی پیش گوئی آج سے 1400 سال پہلے نازل شدہ قرآنی آیات میں مل چکی ہے۔ تاکہ جدید سائنسی علوم اور تحقیق سے منسلک اصحاب کا قرآن پاک سے تعلق مزید استوار ہو اور غیر مسلم سائنس دان قبیلہ کو دعوت قبول اسلام کا باعث بنے۔

قرآن کریم کی بیشتر آیات ایک سے زائد مضامین کا احاطہ کرتی ہیں مگر منشور قرآن کو غیر ضروری ضخامت سے بچانے کیلئے آیات کو مختلف موضوعات میں بار بار استعمال کی بجائے بیشتر جگہوں پر عنوانات کے آخر میں مزید تفصیل کیلئے آیات کے حوالہ کے اندراج پر اکتفا کیا گیا ہے۔ لہذا اگر قاری کو مطلوب آیت کسی عنوان کے تحت نہ ملے تو حوالہ جات کو ”منشور قرآن“ میں شامل آیات قرآنی کی تلاش کے لیے تیار کردہ انڈکس کی مدد سے ڈھونڈ لیا جائے۔ بہر حال کسی عنوان کے تحت آیات قرآنی متن کی موجودگی یا محض حوالہ اندراج اس کی موزونیت اور اہمیت کے اعتبار سے برابر سمجھا جائے۔

قرآن کریم میں کئی اشخاص اور مقامات اور اشیاء کا ذکر اشارتاً ہے ان کو اس اشارے میں بیشتر مفسرین اور اکابرین کی رائے کے اعتبار سے قارئین کی قرآن فہمی میں دلچسپی بڑھانے کیلئے شامل کر دیا گیا ہے جبکہ ایسے تذکروں کی وضاحت پر کئی مکاتب فکر کی تفاسیر میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ کلام الہیہ کے کسی اشارہ کی توضیح اور توجیہ مستند احادیث نبوی ﷺ کی روشنی میں ہی صدق بھی جاسکتی ہے۔

انگریزی ترجمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے (SWT) محمد ﷺ کیلئے (SAAS) پیغمبر علیہ السلام کے لئے (PBUH) اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے (RAA) کے مختلف الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اردو ترجمہ میں مستعمل عام لفظ ”خدا“ کو ”اللہ“ سے بدل دیا گیا ہے۔ ناموس رسالت ختم نبوت اہل بیت اور صحابہ کرام علوم القرآن۔ اشخاص قرآن مقامات قرآن اشیاء قرآن جیسے اہم ابواب کو اس ایڈیشن میں شامل کیا گیا ہے۔

میں نے دیکھا ہے کہ جو شخص بھی آج کوئی کتاب لکھتا ہے تو کل کو ضرور یوں کہتا ہے کہ اگر فلاں بات کو بدل دیا گیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ اگر فلاں بات کا اضافہ کر دیا گیا ہوتا کیا ہی اچھا ہوتا۔ فلاں بات ترتیب کے اعتبار سے پہلے لائی گئی ہوتی تو افضل ہوتی اور اگر فلاں بات کو ترک کر دیا گیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا یہ صورت حال لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہی کیفیت اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انسان نفس سے مغلوب ہیں۔ لہذا مجھے یہ کہنے میں تامل نہیں کہ میری یہ کاوش ایسے حرف آخر کا درجہ نہیں رکھتی جس میں بہتری کی گنجائش موجود نہ ہو۔

بہتر مطالعہ افراد اور اقوام کی زندگیوں میں یقیناً انقلاب لاتا ہے میری دعا ہے کہ ”منشور قرآن“ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے اور قارئین اسلام کے ذریعے اصولوں کے مطابق رضائے الہی پر کار بند ہو کر ایسی پر امن زندگی کا تصور پائیں جس کے لیے بنی نوع انسان کو تخلیق کیا گیا۔

بندہ عاجز

مؤلف

منظر گڑھ

16 اپریل 2000- اتوار۔ برطانیہ 10 محرم الحرام 1421ھ

حرفِ آغاز طبعِ اول

یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دین اسلام ہی ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے اور اس کا بنیادی دستور قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم انسانیت کے نام رب کائنات کا آخری پیغام ہے جو ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا۔ قرآن حکیم کے مندرجات دین اور دنیا کے تمام تر معاملات کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ہدایت و رہنمائی کے تمام اصول اور ضوابط موجود ہیں۔ اس کی کوئی بات عقل کے خلاف اور کوئی حکم ناقابل عمل نہیں۔

اس کتاب میں حکمت کی باتیں بھری ہیں جو سچی اور اٹل ہیں اور ان میں کچھ شبہ نہیں۔ اس میں جو وعدے کئے گئے ہیں وہ یقینی ہیں۔ جو تعلیم دی گئی ہے وہ بلاشبہ درست ہے۔ اس میں انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس کی سچائی کو آزمائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے قوموں نے اخلاق، معاملات، رہن، بہن، تعلیم و حکمت، سیاست و معیشت، غرض زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی حاصل کی۔

قرآن مجید کی ایک نمایاں خصوصیت اس کی جامعیت اور کاملیت ہے یہ شرف آج تک دنیا کی کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہوا۔ کسی آسانی کتاب میں زندگی آخرت پر زور اور قیامت تک کے حالات کی اتنی تفصیل نہیں ملتی۔

1400 سال گزر جانے کے باوجود قرآن کریم کے تصورات میں آج بھی جدت پائی جاتی ہے مثلاً انسانوں اور اقوام کی برابری، حرمت و آزادی انسان، حقوق انسانی، عورتوں کی وراثت کا قانون، غلاموں کی آزادی کا تصور اس میں ملتا ہے۔ قرآن کریم آج بھی کسی پسماندہ ملک کے ان پڑھ فرد اور کسی ترقی یافتہ ملک کے مہذب ترین فرد کی یکساں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن پاک تمام پہلی کتب ساویہ اور اقوام کے واقعات کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں ماضی اور حال کے علاوہ مستقبل کی خبریں ملتی ہیں۔ جیسے فتح روم کے بارے میں قرآن کریم کی پیش گوئی صرف نو سال میں درست ثابت ہوئی۔ قرآن کریم عقل پسندی کی بجائے غور و فکر اور عمل کی ترغیب دیتا ہے۔

ڈیڑھ صدی گزر جانے کے باوجود قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے جو ہر تہذیب سے پاک ہے۔ قرآن پاک کے لاکھوں نسخے دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں مگر کسی میں لفظ تو کیا اعراب تک کا فرق نہیں۔ قرآن پاک کی محفوظیت کا ثبوت کسی انسان کو (جنوبی قطب کے نزدیک) جنوبی امریکہ سے حاصل کئے گئے نسخے کی تلاوت اور (شمالی قطب کے نزدیک) روس کی کسی ریاست کے حافظ قرآن سے زبانی قرآن پاک سننے سے مل سکتا ہے۔

قرآن حکیم کے بغور مطالعہ کے بغیر کسی بھی دینی لٹریچر سے مکاحضہ استفادہ ممکن نہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ میں برکت، اس کی تلاوت میں سکون قلب اس کے معانی میں ہدایت اور اس پر عمل انسان کی سعادت ہے۔ قرآن کریم تمام بنی نوع انسان کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں کئی بار ارشاد فرمایا ہے ”ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر“ ”اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟“

اس صورتحال میں ہماری فکر و نظر کا محور قرآن حکیم ہی کیوں نہ ہو تاکہ ہمارا فلسفہ حیات خالص قرآنی ہو جائے کیونکہ یہی ہمارے معاشرتی سرطانوں کا کارگر علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان سچے اصولوں کا متلاشی ہے تاکہ وہ ان پر عمل کر کے اپنے دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکے۔

قرآن کریم کا نزول تقریباً 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ جس میں حسب موقع محل احکامات نازل ہوتے رہے۔ اسی وجہ سے اگر ایک موضوع کا ذکر پہلی سورتوں میں آتا ہے تو اسی موضوع کا تذکرہ دوبارہ قرآن کریم کی آخری یا درمیانی سورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے اگر کوئی انسان کسی معاملہ پر احکامات الہی کو جاننا چاہے تو اس کے لئے قرآن حکیم میں سے فوری طور پر حوالہ کی تلاش اتنا آسان کام نہیں ہو سکتا بلکہ عام حالات میں کسی انسان کے لئے کسی عالم دین یا حافظ قرآن کے تعاون کے بغیر ایسا ممکن نہیں۔

1975ء میں مجھے دوران تعلیم قانون یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ قرآنی مضامین کی ایک حوالہ کی کتاب (ریفرنس بک) تیار کی جائے جس میں مضامین قرآن کو سورۃ اور آیت نمبر کے حوالہ سے علیحدہ علیحدہ عنوانات کے تحت ایک نظر میں دیکھا جاسکے اور روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے دینی اور دنیاوی مسائل پر فوری رہنمائی حاصل کی جاسکے۔ کیونکہ موجودہ دور میں انسانی ذہن کی تحقیق نے زندگی کے بیشتر امور کے حل کو آسان تر بنا دیا ہے جیسے ”ضابطہ فوجداری و دیوانی“ کے (Bare Acts) عدالتی فیصلوں پر مشتمل (Law Journals) فنی شعبوں میں (Ready Reckoners) اور طبی علوم کے (Encyclopaedias) ہر موقع کی مناسبت سے حوالہ کو ایک نظر میں پیش کرنے کے لئے آج کل دستیاب ہیں۔

ذات کریم نے قیام حرمین شریفین کے دوران مجھ کو گہرا پرانے لطف و کرم کا یہ برسایا اور مجھے اس کا خیر کے آغاز کا شرف 1978ء میں سرزمین سعودی عرب کی ایمان افروز فضاؤں میں حاصل ہوا جہاں میں نے اپنی دانست کے مطابق قرآنی آیات کے مستند ترجمہ کو الگ الگ عنوانات کے تحت نوٹ کرنا شروع کیا اور اس طرح ایک عرصہ کے بعد قرآنی ضابطہ حیات کی پانچ جلدوں پر مشتمل قلمی دستاویز تیار ہو گئی۔

یہ حقیقت ہے کہ کوئی تحقیقی کام اتنا آسان نہیں ہوا کرتا جتنا شروع کرنے سے پہلے سمجھا جاتا ہے۔ بعینہ یہی صورت حال مجھے پیش آئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تبویب قرآن کے اس کام کے لئے زندگی کا عرصہ درکار ہوگا۔

قرآن کریم کو پہلے خود سمجھنا اور پھر دوسروں کو قرآن فہمی میں مدد دینا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس لئے کسی طور پر میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کتاب اللہ کی دستوں اور گہرائیوں کو جان لیا ہے۔ یہ سعادت تو علماء دین اور اہل علم و دانش کا نصیب ہے۔ میں اپنی علمی اور عملی کمزوریوں کا معترف ہوں، لیکن رب تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں اور پھر اس کے لئے ضروری وسائل و ہمت بھی خود پیدا فرمادیتے ہیں۔ پس کچھ اسی طرح کا کرم رب ذوالجلال والا کرام نے میرے ساتھ فرمایا اور میرے خیال میں ایسا شخص میری والدہ محترمہ کی خصوصی دعاؤں کے سبب ممکن ہوا۔

تجویب قرآن کی اس کاوش کو طباعت کی منزل تک پہنچانے میں میرے پیش نظر یہ مقصد رہا کہ ایک عام قاری قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت کو محض خیر و برکت کا ذریعہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل پر حسب ضرورت خود حکم رب تعالیٰ کو ایک نظر دیکھ سکے کہ کسی عمل کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے یا منع فرمایا ہے؟ اگر کسی عمل کا حکم دیا ہے تو اس کی جزا کیا ہے؟ اگر کسی عمل سے روکا ہے تو اس انداز سے ایہ بھی معلوم کر سکے کہ ایک ہی عمل کے بارے میں قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ ارشاد ربانی نازل ہوا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو سکے۔ قرآن کریم میں یوں تو احکامات باری تعالیٰ اکثر واضح صورت میں ملتے ہیں پھر بھی اگر کسی قاری کو تفصیل میں جانے کی تفسلی محسوس ہو تو اب وہ اپنے فقہی مسلک کی تفاسیر اور کتب سے مزید روشنی حاصل کر سکتا ہے۔

قرآن کریم کا یہ اعتبار معانی و معارف کوئی جامع اور کامل اشاریہ (Index) بنانا ممکن نہیں کیونکہ یہ کلام الہی ہے اس کی گہرائیوں میں ایک ایک آیت میں اتنے مختلف پہلو سے ہدایت و معرفت کے خزانے نکلے ہیں کہ ان سب کا احاطہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ قرآن حکیم ایک اتھاہ سمندر ہے۔ اور ہر باری باتیں اس کی آیات پر غور و فکر سے سامنے آتی جاتی ہیں۔

”منشور قرآن“ میں اپنی طرف سے میں نے نہ کوئی بات شامل کی ہے اور نہ ہی کسی موضوع پر بحث بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس طرح میں اپنی دانست میں اسے سمجھ سکا ہوں اسی طرح میں نے آیات قرآنی کو مختلف عنوانات کے تحت اکٹھا کر کے محض ترتیب دے دی ہے۔

میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اشاریہ قرآن کے سلسلہ میں یہ پہلی کوشش سامنے آئے گی کیونکہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس کی چودہ سو سال سے وسیع تر اشاعت اور اس کے ہر پہلو پر جس قدر کام ہو چکا ہے بلا سبب آج تک دنیا کی کسی دوسری کتاب پر نہیں ہوا۔ اور اس سلسلہ کو اصحاب علم و عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور تاقیامت جاری رہے گا۔ اس سے قبل کچھ منتخب آیات پر مشتمل مضامین وار انڈیکس سامنے آچکے ہیں لیکن نہایت مجزوا و انحصار سے عرض ہے کہ تجویب قرآن کی یہ کتاب اس لحاظ سے ان شاء اللہ اپنی نوعیت کی منفرد کوشش ثابت ہوگی کہ پہلی مرتبہ مکمل قرآن حکیم کے 30 پاروں پر مشتمل 114 سورتوں کی 6236 آیات کریمہ کے مصدقہ عربی متن کو انگریزی اور اردو کے ترجمہ کے ساتھ پیش بہا جامع ابواب کے تحت ہزاروں ذیلی عنوانات میں تقسیم کر کے یکجا پیش کیا جا رہا ہے۔ جس میں ہزاروں (Cross References) حوالہ جات بھی دیئے گئے ہیں۔

جہاں تک اس کتاب کے نام ”منشور قرآن“ کا تعلق ہے۔ لفظ ”منشور“ کو اس کے لغوی، سائنسی اور ظاہری تعلق سے اپنایا گیا ہے۔ لغوی اعتبار سے قرآن حکیم کے مضامین بطور آئین (Manifesto) لئے گئے ہیں۔ سائنسی لحاظ سے منشور کی اس خصوصیت کو مد نظر رکھا گیا ہے اس کی بظاہر شفاف شکل میں غور و فکر کی نگاہ سے مضامین قرآن آپ کو اس طرح کے تمام رنگوں کی مانند واضح اور علیحدہ علیحدہ مل سکتے ہیں اور اس کی ظاہری تکنیکی شکل اس کتاب کی سربانی (عربی انگریزی اور اردو) کی حیثیت سے مطابقت رکھتی ہے۔

میں خیال کرتا ہوں کہ ایسا جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو عربی زبان سے زیادہ اچھی طرح واقفیت نہ رکھنے کے باعث علوم قرآن کے وسیع ذخیروں سے مستفید نہیں ہو سکتا وہ ان شاء اللہ اس ”منشور قرآن“ کے ذریعہ قرآن مجید کی عالمانہ واقفیت نہ سہی عامیانہ واقفیت بخوبی حاصل کر سکے گا کیونکہ عربی زبان اور دینی علوم پر دسترس رکھنے والے طبقہ کے لئے تو پہلے ہی علماء کرام اور محققین کے تراجم اور تفاسیر کے پیش بہا خزانے موجود ہیں۔

اگر یہ حقیر کوشش انسانوں کو قرآن نبی میں مددگار ثابت ہوئی تو میری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ اگر اس کتاب کے ذریعے ایک انسان بھی بوقت ضرورت قرآن حکیم کے احکامات کی روشنی میں ایک مسئلہ پر بھی رہنمائی حاصل کر سکا اور روح قرآن کے قریب ہو گیا تو مجھے اطمینان قلب ہوگا کہ میری محنت رائیگاں نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے میری بخشش کا سبب بنائے۔

ان شاء اللہ ”منشور قرآن“ تعلیم تدریس، تحقیق سے وابستہ اساتذہ کے علاوہ۔ ماہرین قانون و عدل، جدید تعلیم یافتہ طبقہ، کاروباری و ملازمت پیشہ افراد، ارباب اختیار، فنی اور طبی شعبہ سے وابستہ جملہ اصحاب دینی تعلیمی اداروں، جامع مساجد کے خطیبوں، غرض زندگی کے کسی بھی شعبہ سے منسلک قارئین۔ سکول کالج اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء۔ مقابلہ کے امتحانات کی تیاری کرنے والوں کے لئے یکساں مفید ثابت ہوگا۔

میری استدعا ہے کہ اپنے افراد خانہ کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کریں یہ ان کا حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی اور اس کی باز پرس یوم حساب آپ سے ہوگی! قرآن مجید میں غور نہ کرنا اسے سوچ سمجھ کر نہ پڑھنا اس کے ادا کرنا بجا نہ لانا اور منہات سے اجتناب نہ کرنا بھی اسے چھوڑ دینے کے مترادف ہے۔ اپنے حلقہ احباب میں اس کی اہمیت کا احساس دلانے تاکہ وہ دیگر دنیاوی مصروفیات کتب اخبارات رسائل اور دوسرے لڑچکر کے مطالعے سے کچھ نہ کچھ وقت قرآن نبی کے لئے نکالیں تاکہ ان کا یہ عمل فلاح دنیوی اور نجات اخروی کا وسیلہ بن جائے۔ اور ہم یوم حساب ”ترک قرآن“ کی باز پرس سے بچ سکیں۔ (آمین)

”منشور قرآن“ کو حتی المقدور ہر قسم کے فرقہ وارانہ اختلافات سے پاک رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے باوجود کسی قاری کو اپنے نقطہ نگاہ سے کوئی قابل اعتراض بات نظر آئے تو یہ سمجھ کر درگزر فرما دے کہ مولف نے جان بوجھ کر کوئی اختلافی مسئلہ اٹھانے کی ہرگز کوشش نہیں کی۔

تمام تراجم کے باوجود اس بڑے کام میں لغزشوں کے امکانات کو رد نہیں کیا جاسکتا کوئی مسلمان جان بوجھ کر تو کوئی غفلت نہیں کر سکتا مگر پھر بھی دوران طباعت ہر امکانی کوشش کے باوجود کوئی (اعراب) شدت زبر پریش یا نقطہ ٹوٹ جائے تو ایسی نادانستہ غلطی قابل معافی ہونی چاہئے۔ دعا کرتا ہوں کہ حق سبحانہ تعالیٰ ہماری سیات سے درگزر فرمائے۔ تاہم اصحاب علم کو اگر کسی غلطی کا شبہ ہو تو مولف کو مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی صحت کا اہتمام ممکن ہو سکے۔

دعا ہے کہ رب طیب اس عاجزانہ کوشش کو شرف قبولیت بخشے (آمین) ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم

بدنہ ضعیف و محتاج لطف خداوندی

مولف

عبدالحکیم مدنی

منظر گڑھ (پاکستان)

27 رمضان المبارک 1416ھ، بروز ہفتہ، مطابق 17 فروری 1996ء

مقدمہ

ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام نسل انسانی کے لئے ایک جامع اور مکمل نظام زندگی ہے۔ لیکن اس پختہ عقیدے کے باوجود ہم میں سے اکثر کی اس کے اصل اور بنیادی سرچشمے ”قرآن حکیم“ تک رسائی نہیں ہوتی۔ پڑھ لینے اور تلاوت کر لینے۔ بلکہ حفظ کر لینے کا نام بھی رسائی نہیں۔ رسائی سے میری مراد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے؟ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے یہ کہنے کے حق دار نہیں ہیں کہ ہم نے قرآن تک رسائی حاصل کر لی ہے یا ہم روح قرآن تک پہنچ سکے ہیں۔ رسائی کے علاوہ عمل بھی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک قرآن کے مدعا، مقصد اور منشاء کو سمجھنا نہ جائے۔ قرآن کریم انسانوں کی لکھی ہوئی عام کتابوں کی طرح نہیں بلکہ ان کے لئے بہت مختلف ہے۔ عام کتابیں قارئین کی سہولت کے لئے چند ابواب میں تقسیم کر دی جاتی ہیں پھر ان ابواب کے تحت ذیلی عنوانات ہوتے ہیں۔ ایک باب خواہ مختصر ہو یا طویل وہ ایک ہی موضوع پر مشتمل ہوتا ہے۔ بحث کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہوتا ہے اور پوری بات اسی کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں اس کی نوعیت بالکل منفرد ہے۔ موضوع اور مضامین کے اعتبار سے بھی اور ترتیب کے لحاظ سے بھی۔ بلکہ میں یہ کہنے کی اجازت چاہوں گا کہ عربی زبان میں ہونے کے باوجود دوسری عربی تحریروں سے اس کا انداز اور اسلوب جدا گانہ ہے۔ جس دور میں قرآن حکیم نازل ہوا اس دور کے عربی لٹریچر سے اس کا موازنہ کیا جائے تو زبان اور بیان کے اعتبار سے دونوں کے درمیان بہت کم مماثلت پائی جائے گی۔

اس کے نزول کی مدت کم و بیش تیس برس ہے۔ کبھی ایک سورت، کبھی چند آیتیں اور کبھی صرف ایک آیت نازل ہوئی۔ جس حکم کی ضرورت پیش آئی وہ نازل ہو گیا۔ نزول قرآن کی کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے ایک باپ اپنے بچوں کی یا استاد اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا ہے۔ جس وقت جیسا موقع ہوا ویسا ہی حکم دے دیا یا کسی کام سے روک دیا۔ ان باتوں میں اس طرح کی منطقی ترتیب نہیں ہوتی جیسی عام کتابوں میں ہوتی ہے۔

خاتم الانبیاء حضرت محمد ﷺ تمام عالم کے لئے اور قیامت تک رسول و ہادی اور مرشد بنا کر بھیجے گئے اسی طرح آپ پر نازل کی جانے والی کتاب بھی ہمیشہ کے لئے اور پوری نسل انسانی کے لئے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم ﷺ کو تمام انبیاء کے علمی و عملی کمالات و فضائل اور خاص کا مجموعہ بنایا اسی طرح آپ کو عطا کی جانے والی کتاب کی بھی یہی شان رکھی گئی کہ اس کو تمام علوم الہیہ کا خلاصہ اور لب لباب بنایا اور دنیا کے لئے ایسا کامل دستور بنایا کہ ہر دور اور ہر علاقے میں لوگ اس سے دین اور دنیا کے معاملات میں رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔

دنیا میں خواہ کتنے ہی تغیرات اور انقلابات آئیں، قومیں تبدیل ہوں، لوگوں کے رسم و رواج بدلیں، نئے نئے تقاضے اور ضرورتیں پیدا ہوں لیکن کوئی ایسا مرحلہ نہیں آئے گا کہ انسان اس کتاب میں سے رہنمائی حاصل نہ کر سکے۔ خود اس کتاب میں کا دعویٰ ہے۔ ”ما فرطنا فی الكتاب من شیء“ (ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہنے دی) حال قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا۔ ”یہ اللہ کی کتاب ہے اور عوام مذاق نہیں ہے یہ تمہارے درمیان ہر طرح کے تنازعات کا فیصلہ کرنے والی ہے اور اس کی حیثیت قانون حکم کی ہے۔ اور اس کے عجائب اور حقائق و معارف کبھی ختم نہ ہوں گے۔ جو شخص اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے گا وہ بھٹک جائے گا“

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا ”اس کتاب ہدایت کی بدولت بہت سی قومیں دنیا میں سر بلند ہوں گی اور دوسری بہت سی قومیں اس پر عمل نہ کرنے کے سبب ذلت و رسوائی کے گڑھے میں جا گریں گی“۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں اور لوگوں نے اس پر عمل کیا انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوئی اور اللہ کے وعدے کے مطابق وہ آخرت کی نعمتوں کے بھی مستحق قرار پائے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب و ہدایت اور سرچشمہ رشد و ہدایت تک ایک عام آدمی کی رسائی کیسے ہو۔ جو شخص اس کی زبان سے پوری طرح واقف نہ ہو وہ اس کے معانی و مطالب کو کیسے سمجھے؟ اس مشکل کو آسان بنانے کے لئے مسلم علماء نے کبھی کوئی کتاب نہیں کی۔ اس کی توضیح و تشریح کا سلسلہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا اور پھر اللہ آج تک جاری ہے۔ حالات کے تغیر اور نوبہ و واقعات و حوادث پیش آنے کے سبب تعبیر و تشریح کے طریقے اور بیان بدلتے رہے ہیں۔ اور بدلتے رہیں گے۔ مگر اہل علم و فضل کسی لحظہ بھی ان سے غافل نہیں رہتے۔ انہوں نے مجمل اور غیر واضح آیات کو واضح کرنے کے لئے مشکلات القرآن کے عنوان سے کتابیں لکھیں۔ قرآنی فصاحت و بلاغت پر کلام کیا، بعض مفسرین نے آیتوں اور سورتوں کے باہمی ربط اور عبارت کے لظہم پر کتابیں تالیف کیں۔ لغات قرآن پر مستقل ڈکشنریاں تیار کی گئیں۔ احکام سے متعلق آیات کی تفسیر پر حکیم کتابیں وجود میں آئیں۔ قصص، امثال اور اعجاز قرآن کو علماء نے اپنا موضوع بحث بنایا۔ جب سائنسی دور کا آغاز ہوا تو سائنسی ایجادات و تخلیقات کا ثبوت قرآن حکیم سے پیش کیا۔ اور بتایا کہ سائنسی ایجادات قرآن کے بہت سے ایسے دعوؤں کے لئے دلیل بن رہی ہیں جن کو عقل پرست اذہان ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔

ان سب کاوشوں کے ساتھ بلکہ ان سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اہل علم نے قرآن کے الفاظ و معانی و مطالب کے معاصر فقہاء اور اشاریوں کی تیاری کا آغاز کیا۔ یہ کام بھی اپنی جگہ کچھ کم اہمیت کا حامل نہیں۔ اس عمل کے ذریعے ان حضرات کی قرآن تک رسائی آسان ہو گئی اور جو اس کی زبان پر عبور نہیں رکھتے اور ان لوگوں کے لئے بھی سہولت کا سامان فراہم ہو گیا۔ جو اس کے علوم میں سے کسی ایک علم اور گونا گوں موضوعات میں سے کسی ایک موضوع کو اپنی تحقیق اور علمی کاوش کا محور بنا چاہتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ایسی ہی ایک کوشش اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے محترم عبدالکیم ملک صاحب نے کی ہے اور انہوں نے ”منشور قرآن“ کے نام سے قرآن حکیم کے مضامین کا اشاریہ تیار کیا ہے۔ ہر موضوع کے متعلق مختلف آیات قرآنی کو ایک مرکزی عنوان کے تحت جمع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ کے بارے میں آٹھ آیات قرآن حکیم کی چار مختلف سورتوں میں مذکور ہیں۔ جو اس اشاریہ میں ایک جگہ اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ اس ترتیب اور لظہم سے قاری کو یہ یقین مانا ہو جاتا ہے کہ ہر موضوع کے متعلق جو آیات قرآن حکیم میں ہیں وہ ایک عنوان کے تحت اس اشاریہ میں یکجا موجود ہیں اور وہ اس نگارش میں ہٹائیں ہوتا کہ شاید اس کے سوا بھی کوئی آیت ہو۔

اس کے علاوہ ”منشور قرآن“ کی بعض ایسی خصوصیات کی طرف اشارہ ضروری خیال کرتا ہوں جس سے عوام دوسرے تنویب کے کام محروم نظر آتے ہیں اور اکثر مفسرین نے ایسے اہم امور کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ مثلاً مستشرقین اور مفسرین ہر وقت اسلام قرآن اور رسالت محمد ﷺ کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی جن مذموم سازشوں میں مصروف عمل ہیں۔ ان کے الزامات کا ابطال پیش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ زیر نظر اشاریہ میں مرتب نے اس اہم مقصد سے صرف نظر نہیں کیا اور نہایت احسن طریقہ سے ایسے تمام سوالات کے جوابات اور ابہام کے ابطال کے لئے قرآن کریم کے ٹھوس دلائل فراہم کرنے کی پوری سعی کی ہے۔

اس لحاظ سے ”منشور قرآن“ قرآنی آیات کی موضوعی ترتیب کے ساتھ ساتھ معانی اور مطالب کو اجاگر کرنے کی بہت مفید کوشش ہے۔ اور بلا کسی تردد کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس موضوع پر اب تک جتنا کام ہوا ہے اس میں ”منشور قرآن“ ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک عبدالکیم صاحب کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے (آمین)

ڈاکٹر محمد میاں صدیقی

سابق صدر شعبہ علوم القرآن الحدیث ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی یونیورسٹی (فیصل مسجد) اسلام آباد پاکستان
ریسرچ ایڈوائزر (مشیر تحقیق) شعبہ عربی و علوم اسلامیہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان

حکیم محمد سعید

HAKIM MOHAMMED SAID
HAMDARD HOUSE
KARACHI - 74800
(PAKISTAN)



Karachi clinic: Office: 6616001-4, Residence: 4914851
Telex: 29370 HAMD PK, Telefax: (9221) 6611755
Madinat al-Hikmah: 6996001-2, 6900000
Lahore: Clinic 7237729
Rawalpindi: Clinic 566716
Peshawar: Clinic 274186
E-Mail: hlpak@paknet3.ptc.pk.

مطالعہ قرآن پر ایک جہاں نما کتاب

میرے سامنے جناب محترم عبدالحکیم ملک کی ایک کتاب منشور قرآن ہے۔ جو مضامین قرآن کا سہ لسانی اشاریہ ہے۔ منظر عام پر آنے والی یہ کتاب ان تالیفات میں سے ایک ہے جس کے مطالعے سے مجھے روحانی مسرت بھی ہوئی اور حیرت بھی! مسرت کی وجہ تو یہ ہے کہ مولف کی سعی و محنت، تلاش و جستجو اور عزم و استقامت کی برکتوں سے ایک ایسی کتاب وجود میں آگئی جس نے مطالعہ قرآن کی راہوں کی بہت سی مشکلات دور کر دی ہیں اور بامقصد تلاوت قرآن کا ذوق آفریں نمونہ سامنے آیا ہے۔

حیرت اس لئے ہوئی کہ علم اور اشاعت علم سے بے رغبتی اور بے اعتنائی کے اس زوال آمادہ عہد میں اگر استقامت اور متانت کے ساتھ طلب ہدایت کی نیت سے مطالعہ و تلاوت کا تعلق کوئی قائم رکھتا ہے اور اخذ نتائج کے بعد ہدایات کو تالیف و تصنیف کی صورت میں پیش کرتا ہے تو وہ یقیناً اشاعت علم کا ایک قابل تحسین کارنامہ انجام دیتا ہے، منشور قرآن دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن سے مسلمانوں کا ترک تعلق اس درجے کا نہیں ہے جس سے تو میں فنا ہو جاتی ہیں۔

ہمیں منشور قرآن کے مطالعہ سے یقین آیا کہ الحمد للہ ابھی طلب و جستجو کا ذوق باقی ہے، فکر و تدبر کے دکش نمونے سامنے آ رہے ہیں اور انشاء اللہ آتے رہیں گے۔ منشور قرآن کا اجمالی تعارف یہ ہے کہ اس میں بنیادی عقائد اللہ تعالیٰ کی صفات وحدت رسالت آخرت جزا و سزا براہین عبرت و موعظت حقوق العباد احکام عبادات اور انوایہ معاشرتی ہدایات اخلاقی ضوابط اصول زندگی فلسفہ حیات تاریخ اہم قصص انبیاء سیرت نبوی ﷺ غزوات اور قرآنی دعاؤں کے بارے میں تمام آیات کو یکجا کر کے مختلف ابواب کے تحت عنوانات قائم کر دیئے گئے ہیں جس سے اس اشاریہ کا یہ وصف بھی نمایاں ہوا ہے کہ یہ کوئی ایک کتاب نہیں بلکہ کئی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں موضوعی انفرادیت نہ سہی لیکن وسعت و جامعیت اور ہمہ گیری اس قدر ہے کہ یہ کتاب اشاریہ قرآن پر قاموسی بلند یوں کو پہنچ گئی ہے۔ منہاج ترتیب یہ ہے کہ ہر صفحہ کے تین کالم رکھے گئے ہیں درمیانی کالم میں متن قرآن ہے ایک طرف مستند انگریزی ترجمہ اور دوسری طرف مستند اردو ترجمہ ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تجویز اور عنوانات کے تعین میں انہوں نے فقہی اور مسلکی اختلافات سے دامن بچا کر اساسی ہدایات کو نمایاں کرنے کی سعی بلیغ کی ہے۔

یہ کام صرف بصیرت و تحقیق کا نمونہ نہیں بلکہ حسن توفیق اخلاص عمل اور رفعت فکر کا نمونہ ہے اور اس معصوم خواہش کا بھی مظہر ہے کہ ہم قرآن اور اس کی ہدایت ہی کو اپنی پوری زندگی کا مرکز اور محور بنائیں۔

قرآن "العلم" ہے اس سے فکری اور عملی تعلق میں ہی ہماری بقا و ترقی کا راز مضمر ہے، لیکن اس سے ہمارا تعلق صرف الفاظ مبارکہ کی تلاوت تک محدود ہو گیا ہے، ہم اس کی آیات کی تلاوت اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی پریچ راہوں میں رہنمائی کے لئے نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب عظیم اپنی ہمہ گیر صدائوں کی بنا پر صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ سارے عالم انسانی کے لئے آج بھی مشعل راہ ہے۔

حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قرآن میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کثرت مزاولت سے پرانا نہیں ہوتا، یعنی اس کی تلاوت اور اس پر تدبر و فکر سے نئی نئی چیزیں فکر و نظر کے سامنے نمودار ہوتی رہتی ہیں اور اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ ترمذی۔

قرآنی متن کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی کے سلیبس تراجم کے اضافے نے اس اشاریہ قرآن کی افادیت اور بھی وسیع کر دی ہے اور اس میں یہ انفرادیت پیدا ہو گئی ہے کہ اسے بین الاقوامی اشاریہ قرآن کہا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

حکیم محمد سعید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکومت پاکستان
ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز کہوٹہ
پوسٹ بکس نمبر ۵۰۲ - راولپنڈی پاکستان



مراسلہ نمبر KRL-STCD-SSH/PD

Grams : KRLABS

مکرمی جناب عبدالکلیم ملک صاحب! السلام علیکم

آپ کے منفرد شاہکار ”منشور قرآن“ کا نسخہ دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہوئی اس کتاب کا جائزہ لیتے ہوئے میں آپ کی دقیق کاوش کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوا جو آپ نے قرآنی آیات کو ان کے مضامین کے مطابق ترتیب و تالیف میں انجام دی ہے۔

اللہ کا کلام ”قرآن حکیم“ اپنی ابتدا سے ہی انسانی معاشرے کے تغیر پذیر میلانات کے ساتھ ساتھ پوری قوت سے سرگرم عمل رہا ہے اور اس کی تشریحات ہر آنے والے دور میں نہ صرف متعلقہ زمانے کے تقاضوں پر پوری طرح منطبق ہوتی رہی ہیں بلکہ ان کے مصائب و آلام کا حل بھی پیش کرتی رہی ہیں۔ یہ حقیقت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کا یہ ابدی پیغام عام آدمی کے لئے اس طرح آسان بنایا جائے کہ وہ حسب موقع آزادی اور آسانی کے ساتھ اس تک رسائی حاصل کر سکے۔ ”منشور قرآن“ اس سمت میں ایک انتہائی قابل تحسین کاوش ہے قرآن حکیم کو اس کی اصل جامعیت اور کاملیت کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے اس کے اشاریے کو سائنسی انداز میں پیش کر کے جو کام آپ نے انجام دیا ہے انسان اس کے معیار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نے کتاب ربانی کے مضامین کو اس کمال سے ترتیب دے کر عام قاری کے لئے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق احکام الہیہ فوری طور پر معلوم کر سکے۔ یہ یقیناً ایک انتہائی وقت طلب کام تھا جو آپ نے حد درجہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔

بہر حال آپ دانشمندی کی اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں قرآن نے اہل دانش قرار دیا ہے جو تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ تحصیل علم کا یہی تجسس اکتشاف جہاں کی یہی جستجو اور فہم حقیقت کا یہی وہ داعیہ ہے جس نے نبی نوع انسان کو زمانہ کے اسرار و رموز کی پردہ کشائی کی توفیق دی ہے اور انسانی ارتقاء دن کی روشنی سے ہمکنار ہوا ہے۔ آپ نہ صرف اس عظیم الشان کام پر تحسین کے مستحق ہیں بلکہ آپ کی اس تالیف کو تفہیم قرآن کے تابناک ورثہ میں ایک منفرد اضافہ شمار کیا جاسکتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور آپ کو اسلام کے ابدی پیغام کی اشاعت کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آپ کا مخلص

عبد القدیر خان

عبد القدیر خان

تقديم الطبعة الرابعة

إننى أحمد الله سبحانه وتعالى حمداً كثيراً على ما نالت الطبعة السابقة من الفهرس الموضوعي للقرآن الكريم، من الإعجاب والتقدير من عند جميع الأوساط العلمية في العالم، ويسعدنى أيضاً ذلك الابتهاج غير المتقدم الذى منحنى القراء الأكرام بهذا الصدد، وما ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل، فنظراً إلى ذلك أنالا أستطيع أن أزيد كلمة واحدة فى هذا التأليف إلا أن ألفت أنظار القراء الكرام إلى المقدمات التى زوّدت من قبل بالطبعة السابقة.

إن هذا التأليف سلاح "بيد القارئ فى أخرج الآونة الحاضرة للإسلام، وسيكون إن شاء الله - مساعداً لمن أراد أن يدا فع عن الإسلام من لهقوات المودية وكذلك من سوء التفاهم الساذج - والغرض من تأليف هذا الكتاب هو نفع المسلمين الذين يسكنون فى بيئة يغلب فيها النفوذ الغربى والجيل الجديد يتأثر منه و يغترّ بسحر اللادينية والتغريب. لكى يتمتع الإنسان من القرن الواحد والعشرين غير متجانف متفتح الذهن واسع القلب، سلمياً متطلباً للأفكار المتوازنة والتسامح بين الأوساط الدينية، فينفع بأعماله جميع الناس فى العالم.

أدعو الله سبحانه وتعالى بغاية الإخلاص أن يتقبل عملى هذا ويجعل "منشور القرآن" ذريعة التعلّم القوية لبني آدم أن يقتنعوا بالتعاليم الإسلامية،

مؤلف

"السرور"

مظفركار (الباكستان)

١١ جمادى الثالى ١٤٢٦ هـ

تصدير الطبعة الثالثة

أما هذه الطبعة فإنها نتيجة للتنقيح الشامل وإدخال تحسينات على الطبعة السابقة، وهي معززة بزيادة من الأبواب والعناوين الرئيسية والفرعية وكذلك بالإسناد التيرافقي والملحقات والفهارس الألفبائية التي زادتها قيمة أضعافاً مضاعفة، وحيث حاولنا أن نقوم بالفحص والتدقيق ونستعمل الأساليب التحليلية، فزادت هذه الطبعة المنقحة ضخامة نتيجة لذلك.

أنّ عناية الناس المتزايدة بالدراسة المقارنة للأديان المختلفة تقتضي منا أن نقدم أمام شعوب العالم تعاليم الدين الإسلامي مصوغة في صورة منظمة حتى يفهموا الدين الإسلامي فهماً جيداً، فهذا العمل المتواضع بأيديكم بصورة فهرس موضوعي للقرآن الكريم إنما هو بيان "وجيز" لمعتقداتنا وقد ضبطت فيه ميزات الإسلام البارزة باهتمام خاص باستعراض ذهني حديث لنزود القارئ بوسيلة سريعة للوصول إلى الموطن المطلوب ولكي يتمكن من التحليل المقارن للأديان والعقائد الأخرى.

إننا أكدنا توكيداً خاصاً على إبطال المنسوبات الزائفة إلى الإسلام على العموم من عند الملاحدة والكفرة والمستشرقين الأفاكين وكذلك قمنا على الخصوص برّد اتهاماتهم على القرآن الكريم وعلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى الآيات القرآنية المحكمة الماثلة تحت موضوعات مختلفة في كتاب الله عز وجل.

إننى سأرحب الآراء النقدية بشأن هذا العمل المتواضع من عند جميع القراء الكرام، يبلغونها بالبريد أو بالهاتف أو بالبريد إي أو بويب سائت.

احقر العباد

مؤلف

ملتان (الباكستان)

١٤ شعبان ١٤٢٣ هـ

بموافق ٢١ من اكتوبر ٢٠٠٢ م

استهلال الطبعة الثانية

الحمد لله - إنني كنت سعيداً بأنني انتهزت فرصة طيبة بلقاء ذوي العلم وجهابذة أهل النظر، خارج البلاد، حيث قابلتهم وتبادلنا الآراء في تطوير هذا العمل طبقاً لمقتضيات العصر الحاضر، فضلاً عن ذلك لا حظت التقدم في إشاعة الدين من عند الحركات الإسلامية التي تقوم بتبليغ الدين الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البريطانية وكندا، إنني استفدت من تجاربهم، فنظراً إلى ذلك قُمت بالجهد المتواصل في ثلاث سنوات ماضية لتحسين عملي حتى نجحت في إبراز الطبعة الثانية المنقحة المتزايدة، والتي هي في أيديكم الآن، والحمد لله على ذلك -

أما تنضيد الترجمتين: الأديبة والإنكليزية بالكمبيوتر فقد اتخذت ترتيباته من جديد، وكذلك اتخذت ترتيبات خاصة بشأن تقطيع وتنظيم النصوص العربية على الكمبيوتر - وأما شكل الكتاب من ناحية الصفحات والعناوين فقد غيرت تماماً والذي زاد الكتاب حسناً - فضمنت في هذا الفهرس أبواباً مثل عزة ذات الرسول ﷺ وختم النبوة وأهل البيت والصحابة رضي الله عنهم، وعلوم القرآن وأماكن القرآن والأشياء المذكورة في القرآن، وما إلى ذلك - قد زيد إلى الصفحة في الطبعة الثانية، فهي ١٢٨٠ بدلاً من ٧٧٦ في الطبعة الأولى،

لقد سارت اللغتان الأردية والإنكليزية إلى الأمام على نحو رائع، خلال القرن الماضي، ولكن الاستفادة منهما في مجال ترجمة القرآن الكريم لم تكن جذيرة بالذكر، لذلك كان من اقتضاء الوقت استبدال الألفاظ الأردية والإنكليزية المتروكة القديمة الصعبة من الألفاظ الحديثة العصرية السهلة، فإني، لنيل هذا المرام قمت بالمراجعة إلى التراجم الموثوقة بها (والتي هي مذكورة في صفحة المصادر والمراجع) فاقبست ألفاظ الترجمة لهؤلاء العلماء المسلمين الجهابذة ونظمتها في نمط بدون إضافة أي لفظ من تلقاء نفسي، احتراماً لهم وكذلك على سبيل الاحتياط -

إن الإيجاز في بيان العناوين من جمال اللغة والأدب، فإذا رأى القراء الكرام إطناب العناوين لهذا الفهرس، فربما يسوءهم ذلك، ولكنني أظن متعمداً في اختيار العناوين، بشأن القصص القرآنية خاصة، وفي الأبواب الأخرى على العموم بالاستفادة من تفاسير الأعلام وهوامشهم، وكان الغرض منه تشويق القراء الكرام للمطالعة مع إخبارهم بشأن النزول ونظم القرآن لعلهم يرغبون إلى مطالعة تفسير القرآن الحكيم -

إنني قد أشرت إلى العام الهجري والميلادي تحت عناوين الحوادث المشهورة والأحكام المعروفة لإثارة رغبة القراء إلى المعلومات القرآنية (بالرغم من وجود الاختلاف في تعيين التاريخ واليوم والشهر لبعض الوقائع) أرجو أن هذه الزيادة عليها سيكون نافعاً للمجهودات في مجال البحث والتحقيق، إن شاء الله -

إنني في ثقة وإيمان بأن إخبار القرآن الكريم بالمغيبات سوف يكون جلياً واضحاً، واحداً واحداً، على أهل النهي، في وقت مناسب، كلما ازداد العلم والترقية في العلوم الطبيعية والبحث العلمي في المستقبل، لأن القرآن الكريم يدعي ويخبر مقدماً بأن بني آدم في جميع الكون سوف يؤمنون بهذا الكتاب قاطبة، وهذا الادعاء هو الشهادة لكون القرآن الكريم كلام الله فنظراً إلى ذلك قد ضمنت إلى هذا الفهرس جميع الموضوعات العلمية والاكتشافات العصرية التي أشار إليها القرآن منذ ١٤٠٠ عام من قبل، وأرجو أن هذا المجهود المتواضع سيكون موجباً للتقوية العلاقة بين القرآن الكريم والأدبيات النابغة من العلماء المسلمين الذين هم يقومون بالبحث العلمي العصري، وأما العلماء من غير المسلمين فأرجو أن هذا الفهرس سيكون دعوة لهم إلى الإسلام -

حيث أن الآيات القرآنية مماثلة ومتشابهة، وربما تحتوي آية واحدة مواضيع كثيرة، فنظراً إلى الوفاية من الضخامة لم تكتب الآيات المتكررة مراراً بل أشير إليها في آخر العنوان ليفتح عنها القارئ في مكانها، باستخدام الفهرس على ترتيب الصفحات، أرجو أن يعدرني القراء الكرام على اكتفاء الإشارة في بعض الأماكن بدلاً من نقل الآيات مرة بعد مرة، وذلك لا ينقص من أهمية الآيات القرآنية شيئاً -

ولا يفوتني ذكراً أن القرآن الكريم ذكر بعض الوقائع بدون ذكر أسماء الأفراد أو الأماكن، فاختلف أهل التأويل فيها اختلافاً كثيراً، ربما أنا أشرت إلى بعض التأويلات من هذا الباب على سبيل المثال فقط، ولكنني ابتعدت عن ذلك على العموم، لأن بيان تأويل القرآن شأن الحديث النبوي الشريف، أن يأتي بتوضيح وتفصيل لما أغلق أو أجمل في القرآن الكريم، فإن النبي الكريم ﷺ هو المعلم والمبين والمفسر للقرآن وهو المزكي للنفوس الإنسانية إلى يوم القيامة -

حيث بعض المصطلحات القرآنية لا يمكن أن تترجم بالإنكليزية على نحو دقيق كالصلوة والزكاة والصوم والحج، ففسيرها ذكر في أول مكان من الباب وقع فيه لفظ من تلك الألفاظ حتى يتمكن قارئ اللغة الإنكليزية من إدراك فحواها -

أما الترجمة الإنكليزية لرمز (SWT) يعني سبحانه وتعالى، والرمز (SAAS) يدل على ﷺ، والرمز (PBUH) معناه عليه السلام، والرمز (RAA) يشير إلى "رضي الله عنه" عنهم وأما الترجمة الأردية فقد حذفنا الكلمة الشائعة (خدا) واختير لفظ "الله" مكانها، لأن اسم الجلالة لا يترجم في أي لسان -

"إنني رأيت أنه لا يكتب أحد" كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل وترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر" (العماد الأصفهاني)

لذلك لا أستحي أن أعترف بأن مجهودي هذا ليس محتوماً نهائياً، إنما هو مجهود متواضع يحتاج إلى التحسين والإصلاح كل حين، وإنما أدعو الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وجعل لفعه عاماً ويسر كلامه للجميع - آمين

مؤلف

بمظفر كار (الباكستان)

١٠ محرم الحرام ١٤٢١ هـ

تمهيد اطبعة الاولى

هذه حقيقة مسلمة أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقدم للإنسان لوائح كاملة للحياة و دستوره الأساسي هو القرآن الحكيم، وأما القرآن الحكيم فهو رسالة نهائية للإنسانية من رب الكائنات، أنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ بواسطة جبريل (عليه السلام) فإن محتويات القرآن الحكيم تحيط بشؤون الدين والدنيا كلها، ولا مبدأ ولا لائحة للهدى إلا فيه، وليس فيه شيء يخالف العقل، ولا أمر من أوامره غير ممكن للعمل، فهو كتاب مملوء بالحكمة وآياته صادقة ابدا لا ريب فيها وكل وعد فيه حق و محتوم، وتعاليمه صائبة صحيحة بدون شك، ودعى الناس أن يمتحنوا صدقة وصحته، ويشهد التاريخ أنه، أى الأقسام عملوا بموجب تعاليمه أفلحوا فى كل مرحلة من مراحل الحياة من الأخلاق والمعاملات والتمدن والمعارف والحكمة والسياسة والاقتصاد وغير ذلك -

ومن ميزات القرآن جامعته، وكماله، وذلك شرف لم يشرف به كتاب آخر فى الكون، فإنه لا يتعرض أى كتاب سماوى آخر عن تفصيل الأحوال من الحياة الدنيا والآخرة والبرزخ والقيامة -

وأما الأفكار القرآنية مثل مساواة الناس والشعوب وتخويل الحقوق الإنسانية من حرمة الأعراض والدماء والأموال وقانون توريث النساء وتحرير رقبة وغير ذلك فإنها لم تخلق بالرغم من مضى عليها ألف وأربعمائة سنة لكنها جديدة حتى الآن، فهو كتاب يهدى الجميع إلى الرشاد، كيفما كان الفرد، سواء كان أميا من بلاد متخلفة أم كان مثقفا متحضرا من بلاد راقية، وأنه، يصدق ما بين يديه من الكتب المنزلة وأحوال الأمم السابقة، وفيه خبر للأزمنة الماضية والعصر الحاضر، وكذلك للزمن المستقبل كخبر غلبة الروم، الذى تحقق خلال تسع سنوات آتية، ويدعو القرآن الكريم إلى التفكير والعمل مكان التوهم والتخيل -

والقرآن الكريم كتاب وحيد يخلو من أى تحريف على مضى ألف وأربعمائة سنة، وتوجد ملايين نسخة من القرآن الكريم فى كل مكان فى العالم، ولكن ليس هناك اختلاف لفظ واحد بل لا يمكن اختلاف شكل أو ضبط، ويمكن إثبات ذلك بسماع تلاوة القرآن غير منظورة من شخصين: واحد من أمريكا الجنوبية (بقرب القطب الجنوبي) ومن آخر يسكن بقرب القطب الشمالي بروسيا -

إنه لا يمكن لأحد أن يستفيد من كتب دينية استفادة صحيحة بدون الإمعان فى القرآن الحكيم، فإن فى الفاظ القرآن الكريم بركة، وفى تلاوته طمانينة القلب وفى معانيه الهداية وفى العمل عليه سعادة الإنسان لأن القرآن ينبوع الهدى لجميع بنى آدم -

وحيث قال الله عز وجل مكرراً فى سورة القمر: "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" - فلم لانجعل القرآن الكريم مركز فكرنا ونظرنا حتى تكون فلسفة حياتنا فلسفة قرآنية محضة، لأن الفلسفة القرآنية هى التى تصلح أن تكون دواء - لسرطاننا الاجتماعى، وكل إنسان فى هذا الكون يفتقد المبادئ الصادقة للعمل بها حتى ينجح فى أهدافه المادية والروحانية

إنه استكمل نزول القرآن الكريم خلال ثلاثة وعشرين عاما تقريبا، حيث نزلت الأحكام بمقتضيات الظروف نجما نجما، وهذا هو السبب لتكرار المواضيع فى سور متفرقة، فلذلك يصعب على القارى الإشارة إلى الآيات على الفور، بل لا يمكن لأحد التماس محل الآيات بدون مساعدة عالم بالقرآن أو حافظ له -

تاقت نفسى إلى إعداد كتاب اشارى لمواضيع القرآن فى العام ١٩٧٥م لما كنت طالبا للقانون، لأن الذهن الإنسانى قد سهل كثيرا من الأمور المعضلات، كما توجد كتب النظائر القضائية فى القانون الجزاء والجنائى، وكذلك توجد المجلات القانونية التى تشتمل على القرارات القضائية، وهكذا دفاتر المصطلحات الطبية والفنية فى متناول اليد للدارسين فى هذا المجال، فعزمت عزمًا أكيدا أنى سوف أعد فهرسا للقرآن الكريم يشتمل على المواضيع بالإشارة إلى أرقام والسور والآيات تحت عناوين منفصلة، حتى تمكن الاستفادة منه بنظرة واحدة ويمكن منه الاهتداء فى ميادين الحياة اليومية -

فلما كنت حاضرا فى الأرض المقدسة بالحرمين الشريفين فى العام ١٩٧٨م شرفنى ربي الكريم بكرمه ولطفه لبداية هذا العمل النبيل فى ذلك الجو الروحى، بالرغم من ذنوبى وخطاياى، فجعلت أكتب ترجمة أردية موثوقة بها للآيات القرآنية تحت العناوين المنفردة بموجب فهمى، حتى دونت مخطوطة من اللوائح القرآنية للحياة الإنسانية فى خمس مجلات خلال مدة طويلة -

إنى لم أكن أتخيل ان ذلك العمل من تبويب القرآن سيقتضى بذل مدة ١٧ سنة من الحياة، ولكن فى الحقيقة كل بحث أو تحقيق لا يكون سهلا كما يظن فى البداية، هكذا وقع بى، إن فهم القرآن الكريم ثم إفهامه للغير عمل عظيم، لذلك لم أكن أن أدعى أبدا أنى قد عرفت اتساعات كتاب الله وغوامضه وأعماقه من أى اعتبار، لأن ذلك من حظ أهل العلم والحكمة، أما أنا فاعترف بقله علمى، وكذلك تقصيرى فى العمل، ولكن ليس من وراء قدرة الله رب العالمين أن يستعمل أى شخص لأية خدمة ثم يهبأ له من الوسائل والعزم، وهذا ما أسبغ على ذوالجلال والإكرام من كرمه وفضله، وأظن أن دعوات أبى المكرمة كانت خلف ذلك -

أظن أن طبقة المتعلمين المتوسطة الذين لا يعرفون اللغة العربية وليس في متناولهم الاستفادة من ذخائر علوم القرآن الواسعة سوف يستفيدون من "منشور القرآن" هذا ولو كانت استفادتهم غير عميقة' وأما أهل العلم والحكمة المتمهرون في العلوم العربية والدينية' فعندهم تراجم القرآن وتفسيره الموثوقة بها' من قبل -

أما الهدف المروم بشأن تبويب القرآن هذا فهو أن يعرف القارى المسائل المعترضة في الحياة اليومية مع الحصول على البركة' فينظر بنفسه أوامر الله ونواهيه ويعلم جزاء الأوامر' وإذا كان هنالك شيء منهى فيعرف أسلوب النهي عنه' ثم يعرف عدد الأمر أو النهي لعمل ما' كى يدرك أهميته' فإن آيات الأوامر والنواهي واضحة جلية' ولكن مع ذلك إن أراد أحد يعرف تفسيرها فيمكن له أن يراجع إلى الكتب الفقهية المتعلقة بمذهبه ومدرسة فكره -

إنه من المحال إعداد فهرس جامع للقرآن الكريم باعتبار المعانى والمعارف لأنه كلام الله ولا يطبق أى إنسان أن يحيط بجميع المعانى و خزائن المعارف التى تحتوى آية واحدة' وكلما فكر أحد فى آية واحدة لهذا البحر الخضم تكشف له جهات كثيرة لنفس الآية مالم يلم من قبل'

أما "منشور القرآن" فأنالم أدخل فيه من تلقاء نفسى قولاً واحداً ولم أناقش فى أى موضوع' إنمارتبت نصوصاً قرآنية تحت عناوين مختلفة بموجب فهمى' بدون أى تفسير -

إنى لأدعى أن هذا الفهرس القرآنى هو أول مجهود فى هذا المجال' لأن القرآن الكريم كتاب وحيد عمل على كل ناحية من نواحيه منذ ألف وأربعمائة عام' مالم يعمل على أى كتاب آخر فى العالم بدون مبالغة' وكذلك توزيعه أوسع بالنسبة من أى كتاب آخر' وقد قام أهل العلم والعمل باستمرار هذه السلسلة المباركة' ولايزالون يستمرون بها إلى يوم القيامة' بإذن الله -

إنه قد جاء إلى الوجود فهارس الأحكام القرآنية من قبل التى تشتمل على الآيات المختارة' ولكن أقول بالتواضع وغاية العجز بأن هذه المحاولة لتبويب القرآن مجهود منفرد لنوعه حيث جمعت فيه أول ست آلاف و مائتين وستة وثلاثين آية "منتشرة فى مائة وأربعة عشر سورة تمتد فى ثلاثين جزءاً للقرآن الكريم بوضع ألف و مائتين عنوان ضمنى بين دفتين مع الترجمة الموثوقة بها باللغتين الأردية والإنكليزية' وبالإضافة إلى ذلك نقلت النصوص القرآنية العربية مع الإشارة الكاملة بالسورة والآية التى يبلغ عددها إلى ألف إشارة على نحو التقريب -

أما تسمية هذا الكتاب "بمنشور القرآن" فإن هذا الاسم رمز للمظهر الخارجى بموجب المعنى الحرفى والفحوى العلمى' فالمنشور نير' ووضاء ومشرق' فنظراً إلى تلك الصفة للمنشور سميت هذا التأليف الثلاثى اللغات على اسمه' فهذا الكتاب مثل قوس قزح' إذا أمعن فيه أحديجد فيه مواضع القرآن واضحا -

فإن كان مجهودى المتواضع نافعا للناس فى فهم القرآن' وإن استطاع إنسان واحد إن يسترشد من الأحكام القرآنية فى مسألة واحدة عن طريق هذا التأليف' فكنت سعيداً ومطمئن البال وظننت أنه يكون وسيلة لمفترتى -

أتوقع أن منشور القرآن سيكون مفيداً للمتعلمين والتجار والموظفين ولأرباب السلطة والمدرسين والباحثين و كذلك للأخصائيين فى القانون ولخطباء المساجد والقارئى العاديين على سواء - إن شاء الله -

إنى لأتبرأ من العثرات بالرغم من أخذ كل الحيطة فى هذا العمل العظيم' مع أن اى مسلم لا يهمل عمداً' فعلى كل حال يمكن أى خطأ مطبعى من شكل أو ضبط أو نقطة أو كشط أو شطب' فأرجو من الله تعالى أن يتجاوز عنه' والتمس من أهل العلم إعلامى عن الأخطاء لاتمكن من تصويبه فى الطبعة الآتية -

إنى حاولت مهما كان بوسعى أن لا يشوب هذا العمل بالاختلافات الطائفية' ولكن مع هذا إن وجد أحدشياً قابلاً للاعتراض' فأرجو أن يعذرني حيث لم أحاول لإثارة أى اختلاف متعمداً -

أدعو الله تعالى أن يتقبل هذا المجهود المتواضع (آمين)

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم -

طالب الدعاء العبد الضعيف البائس - المحتاج إلى لطف الله

عبد الحكيم مدني
المؤلف

مظفر كار (باكستان)

فى ٢٧ رمضان المبارك ١٤١٦ هـ - بموافق: ١٧ فبراير ١٩٩٦ م

مقارنه

يعتقد كل مسلم أن الإسلام نظام الحياة الإنسانية الجامع الكامل ولكن بالرغم من هذا الاعتقاد الراسخ لا يصل الكثيرون منا إلى مصدره الأصلي الأساسي القرآن الحكيم، وأما قراءة القرآن أو تلاوته أو حفظه فليس ذلك بشيء من الوصل إلى المصدر الأساسي فالمراد بالوصول هو فهم رسالة القرآن الكريم وأن نفهم ماذا يقول القرآن؟ وإلى أي شيء يدعو؟ وماذا يقتضي منا؟ فإننا في حاجة إلى فهم هذه الأشياء، وإن لم نفهمها فلا نستحق أن ندعى بأننا قد وصلنا إلى القرآن أو ندعى أننا بلغنا روح القرآن الكريم، وكذلك لا يمكن العمل بالقرآن بدون فهم بغيته ومقصوده واقتضائه فإن القرآن ليس كتاباً مثل التصانيف الإنسانية العامة بل هو يختلف منها اختلافاً واضحاً فإن الكتب العادية مقسومة في أبواب وفصول وفتاوى ضمنية نظراً إلى سهولة القراءة، أما الباب، طويلاً كان أم قصيراً فهو يشتمل على موضوع واحد، وأما نقطة البحث فتكون كذلك واحدة، وكل الكلام يدور حولها، ولكن القرآن الكريم ليس كتاباً مثله بل هو نسيج وحده، فإذا قمنا بدراسة مقارنة بالأدب العربي المعاصر حين نزل القرآن، فلا نجد مماثلة لغوية به.

إن مدة نزول القرآن الكريم تمتد إلى ثلاثة وعشرين عاماً تقريباً، ربما كانت تنزل سورة واحدة وأحياناً آيات معدودات وأحياناً آية واحدة، مهما كانت الحاجة نزل الحكم بموجبها، كما يربي والد أو أستاذ صغاره أو تلاميذه هكذا كانت كيفية نزول القرآن، فكان ينزل بمقتضى الأحوال والظروف، يأمر بشيء وينهى بشيء آخر، فمن الطبيعي أن لا يكون فيه ترتيب منطقي بالعكس من الكتب العادية.

بعث محمد خاتم الأنبياء ﷺ لجميع العالم إلى يوم القيامة رسولا وهدايا ومرشداً، وكذلك الكتاب الذي نزل عليه ينبوع منبجس للنسل الإنساني كله إلى الأبد، ثم كما جعل الله النبي الكريم محمداً ﷺ جامعاً لكمالات الأنبياء كلهم علماً وعملاً وجعله جامعاً لفضائلهم ومحاسنهم كذلك جعل فضل الكتاب المنزل عليه أنه جوهر ومغزى لجميع العلوم الإلهية وأنه دستور أكمل يصلح لإرشاد الناس في شئون الدنيا والآخرة في كل زمان ومكان.

فانه مهما حدث من التغيير والتبديل والانقلاب في الدنيا ومهما بدل أقوام وتقاليد الناس وحدثت مقتضيات جديدة ونشأت حوائج فمن المحال أن تأتي مرحلة لا يستهديه الإنسان فيها، هذا ما ادعى الكتاب المبين قائلاً: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" وأما صاحب الكتاب فيقول: "(هو) كتاب الله فيه نيا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيج به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضى عجائبه" وقال فيه الفاروق الأعظم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين" ويشهد التاريخ بأن الأقوام التي عملوا به نجحوا في كل ميادين الحياة واستحقوا نعيم الدنيا والآخرة كما وعدهم الله عز وجل.

أما الأمر المهم فهو أن نتفكر كيف يصل إلى ينبوع الهدى هذا عامة الناس الذين لا يعرفون لغته جيداً، وكيف يفهمون معانيه؟ فإن العلماء المسلمين لم يهتموا لتسهيل هذه المشكلة، فقاموا بتفسيره منذ عهد الرسول الكريم ﷺ والذي يستمر إلى يومنا هذا.

وما زالت طرق التعبير والتوضيح تغيرت ولا تزال تتغير بسبب الحوادث والظروف المتبدلة ولكن أهل العلم والفضل لم يكونوا غافلين عنها طرفة عين، فانهم صنعوا كتباً بموضوع "مشكلات القرآن" وتكلموا في فصاحة القرآن وبلاغته حتى أصبح بعض المفسرين متخصصين في هذا المجال وقام بعض العلماء بتفهم نظم القرآن وربط الآيات والسور وربطت معاجم مستقلة في لغات القرآن وألفت كتب ضخمة تتعلق بالأحكام وكذلك بحثوا في قصص القرآن وأمثاله واعجازها ولما بدأ العهد العلمي فتفحصوا براهين للمخترعات العلمية من القرآن الكريم، وبينوا أن المخترعات العلمية تدل على كثير من دعاوى القرآن التي لا يكاد عيب العقل يصدقونها.

ثم أخذ أهل العلم يتقدمون إلى الأمام مع كل هذه المساعي، فجعلوا يرتبون معاجم وفهارس ودلائل على ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه، فصار الوصول إلى القرآن سهلاً للذين لا يتفهمون في لغته بهذا العمل المهم وكذلك للذين كانوا يرغبون في البحث في موضوع معين في العلوم القرآنية.

وأما فهرس موضوعي للقرآن الكريم رتبته الأخ المحترم عبدالحكيم ملك، والذي سماه "منشور القرآن" فهو من المساعي المشكورة تلك بفضل الله وتوفيقه لأنه يوجد موضوع واحد متناثراً بأماكن شتى في القرآن الحكيم ويصعب لكل شخص أن يعرف جميع هذه الأماكن كما أن آيات تحريم الخمر، على سبيل المثال منتشرة في القرآن فالأخ عبدالحكيم ملك قد سهل هذه المشكلة وجمع الآيات القرآنية المتعددة لموضوع واحد تحت عنوان رئيسي كما أن هنالك ثمان آيات في الربو مذكورة في أربع سور، فجمعها بمكان واحد في هذا الفهرس، وذلك يجلب للقاري الاطمئنان أنه قد اجتاز كل الآيات القرآنية في موضوع واحد خلال نظرة واحدة، والميزة الجديرة بالذكر لهذا الفهرس أن المؤلف قام بنقل النص القرآني العربي مع الإشارة الكاملة للسورة ورقم الآية وبالإضافة إلى ذلك ضم الترجمة للآيات: الأردية والانكليزية فزادت الفائدة للتأليف للباحثين وسهل فهم القرآن لعامة الناس.

ولا يفوتني ذكراً بأن هناك ميزات لهذا الفهرس، لا توجد في فهارس أخرى، فإن أكثر المؤلفين، على سبيل المثال قد قطعوا النظر عن مؤامرات المستشرقين من تشكيكهم في الدين الإسلامي والقرآن الكريم والرسالة المحمدية على صاحبها الصلوة والسلام، وكان من اقتضاء الوقت أن يرد على هفواتهم بالبراهين القاطعة من القرآن الكريم، أما هذا الفهرس فإن مؤلفه لم يهمل في هذا الباب، وحاول بأحسن الطرق أن يوفر الردود عن تشكيك المستشرقين مهما أمكنه، فلا شك أن هذا الفهرس ممتاز من تلك الناحية حيث أن المؤلف جلى المعاني والمفاهيم خلال تنظيم الآيات القرآنية في سلك المواضيع المختلفة أعلى كل حال تأليف الأخ عبدالحكيم ملك محاولة مفيدة في هذا المجال ولاشك أنه إضافة قيمة إلى الموضوع.

أدعو الله تعالى أن يتقبل هذا المجهود النبيل - (أمين)

الدكتور

محمد ميان الصديقي

عميد (سابقاً) كلية العلوم القرآن والحديث

مركز البحوث الإسلامية - الجامعة الإسلامية العالمية فيصل مسجد باسلام آباد، باكستان

المشير للبحوث (حالياً)

في كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية - جامعة العلامة إقبال المفتوحة - اسلام آباد

انڈکس اردو بالترتیب حروف تہجی (اشاریہ ابجدی)

اپنی غلطیوں کا اللہ کے نظام یا کسی دوسرے کو
 1055,677,674 -- حقدار ٹھہرانا خصلت کفار
 آزمائش اعمال مقصد حیات 403
 بذریعہ مال و اولاد 435,432,422
 بذریعہ فراخی رزق 435,432,422
 بذریعہ عسرت و تنگدستی 432,393
 بذریعہ سختی و تکلیف 432
 بذریعہ صبر و استقلال 298
 بذریعہ خوش حالی 435,432,422
 بذریعہ سلسلہ زندگی و موت 403
 بذریعہ مہلت 941
 آزمائش اقوام سابقہ 404
 آزمائش قوم بنی اسرائیل 1053,1052
 آزمائش قوم ثمود 939
 آزمائش قوم عاد 933
 آزمائش قوم نوح 924
 آزمائش باغ والوں کی 1108
 آزمائش لشکر طالت 1064
 آزمائش پیغمبران 403
 آزمائش حضرت آدم 909,907
 آزمائش حضرت ابراہیم 956
 آزمائش حضرت اسماعیل 971
 آزمائش حضرت یوسف 981
 آزمائش حضرت سلیمان 1075
 آزمائش حضرت ایوب 996
 آزمائش حضرت داؤد 1069
 آزمائش حضرت عزیز 1081
 آزمائش حضرت یونس 1085
 آسانی بعد از مشکل 371
 آسمان
 آسمان کی تخلیق 322
 آسمان کی حفاظت 377
 آسمان کی کنجیاں 327
 آسمان کی بادشاہی 366
 آسمان دنیا 329
 آسمان سے پانی (دیکھتے ہاں بارش) 347,346,345

آدم علیہ السلام 906
 تخلیق آدم 906
 علم کا عطا کیا جانا 907
 فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم 907
 انکار شیطان سجدہ آدم 908
 پیدائش حوا 909
 شرط قیام بہشت 909
 روٹی کپڑا مکان کا وعدہ 910,391
 شجر ممنوعہ کے نزدیک جانے کی بھول 910
 بہشت سے نکالا جانا 911
 اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا 911
 پوشاک عطا کیا جانا 911
 زمین پر بھیجا جانا 911
 اولاد آدم 914
 آرائش و زینت کا اظہار (دیکھتے پردہ کے احکامات) 541
 آرتھوڈاکس (بنیاد پرست) 607
 آرزوئیں - خواہشات جذبات
 اللہ کے قوانین سے ہم آہنگ کر لو 416,370
 جنت میں تکمیل کا انداز 872,867,862,857,884
 آرزوں کی محرومی 828
 آرکیالوجی (دیکھتے بیروسیاحت - آثار قدیمہ) 437
 آزادی
 اظہار خیال درائے کی آزادی 891,635,583,580,470
 مسلک کی آزادی 587,583,580,470
 قیدی آزاد کرنا 588,584
 غلام آزاد کرنا 584
 مقروض کو آزادی دلانا 491
 مجبور لوگوں کو ظالموں سے آزادی دلانا 642
 آزادی مذہب سلب کرنا 1033
 آزر (دیکھتے حضرت ابراہیم) 946
 آزمائش (مصیبت - بد قسمتی)
 آزمائش اللہ کی طرف سے تشبیہ 676,675
 آزمائش میں عجز و انکساری 393
 آزمائش کے وقت صبر و عجز 996
 آزمائش میں شکایت - غلطی 996

آب پاشی 345
 آبرو کی حفاظت 555,523
 آبروریزی کی سزا 555,537
 آتش پرست (دیکھتے مجوس) 589
 آتش جہنم 895
 آتش نشاں 1111,1001,968,339
 آثار قدیمہ (دیکھتے بیروسیاحت) 437
 آثار قیامت 788
 آخرت 98
 آخرت کی زندگی بمقابلہ دنیا 526
 آخری دین 94
 آخری رسول 166
 آخری کتاب 99
 آخری چارہ کار تنازعات (دیکھتے صلح - طلاق)
 آداب
 آداب مخاطب 447
 آداب تخلیہ 445
 آداب طعام 44
 آداب قرآن 215
 آداب محفل و مجلس 447
 آداب مسجد 622
 آداب معاشرت 443
 آداب ملاقات 444
 آداب انفاق فی سبیل اللہ (دیکھتے خیرات کے احوال)
 آداب گفتگو 445
 معقول انداز گفتگو 461
 حسن انداز گفتگو 597,268,251
 بات کا حسن اور متوازن انداز 383
 ہر بات صاف سیدھی اور محکم انداز میں 469
 دھیمی آواز میں گفتگو 1071,466
 گفتگو میں بے رخی کا انداز 1071,479
 گفتگو میں بناوٹ اور طبع 474
 سچ اور جھوٹ کو آپس میں گڈمڈ نہ کرو 567
 ہر بات عدل و انصاف کے مطابق 578,576,574
 دوسروں کو سمجھانے میں نرم رویہ 1017,633

آسمان سے رزق 388
 آسمان کی کیفیت روز قیامت 793,792
 آسمانی بجلی (رعد) 348
 آسمانی برج 329
 آسمانی رزق (دیکھئے خون ساری) (من و سلوی) 1101,1044
 آسمانی صحیفے (دیکھئے الہامی کتابیں) 97
 آسمانی کتابیں (دیکھئے کتب سماویہ) 245,97

آسودگی

ایک آزمائش 419
 میں یاد اللہ 423
 ایک نعمت خداوندی 435
 آسودگی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا 297
 پرفخر کا انجام 427
 آسیریا (عراق) (اشارتاً ذکر) 1085
 آسیہ (زوجہ فرعون) 1006,545
 آفات سماویہ (دیکھئے زیر عنوان عذاب)

آگ

آگ دوزخ 900
 آگ درختوں سے 355
 آگ نمود 954
 آگ سے جنات و شیطان کی تخلیق 381
 آل ابراہیم 960
 آل داؤد 1067
 آل عمران (حضرت مریم) 1091
 آل فرعون 1019
 آمریت (ڈکٹیٹر شپ) 551
 آندھی بطور عذاب 857,350

آنکھیں

آنکھوں کی عطا ایک نعمت 396
 آنکھوں کی خیانت 111
 آنکھوں کا دھوکہ (فریب) 857
 آنکھوں کی گواہی روز قیامت 809
 آنکھوں کا جھپکنا 105
 آنکھوں کی باریک بینی 110
 آنکھوں (نگاہوں) کی وسعت نظر 112
 یقین کی آنکھ 425
 آنکھوں کی ٹھنڈک 1123,1007
 آنکھوں پر پردہ 858
 موٹی (خوبصورت) آنکھیں 876

باجیا آنکھیں 876

آنکھوں کی بنیائی لوٹانا 1099
 آنکھوں کی بنیائی کھوجانا 753
 آنکھوں کا چندھیا جانا 753
 آنکھوں (نگاہ) کا نیچا رکھنا 541
 آنکھوں کا جذبات سے بھر آنا 218
 آنکھوں کا غم سے بھر آنا 724
 آوارگی کے جرائم کی زورک تھام 555
 آواگون (نظریہ باطل) 589
 آئینہ اعمال 802

آیات

آیات اللہ (دیکھئے قرآن) 207
 آیات اللہ (مظاہر قدرت) 320
 آیات اللہ کے ساتھ ہنسی مذاق 237
 آیات اللہ کو مالی منفعت کیلئے بیچنا 238
 آیات اللہ کے غلط معانی دینا (دیکھئے زیر عنوان
 - تحریف کتب سماویہ)۔ (دیکھئے مذہبی پیشوائیت کے جنون) 616

آیات

آیات سجدہ (تلاوت قرآن) 1170,216
 آیت الکرسی 1127,127,104,103
 آیات متشابہ 227,226
 آیات محکم 226
 آیات کی تفسیح 227

ابابیل 686,364

ابتدائے آفرینش 321

ابتلا (دیکھئے زیر عنوان آزمائش)

ابدی زندگی (دیکھئے زیر عنوان جنت جہنم)

ابراہیم علیہ السلام 944

سامی سلسلہ پیغمبران کے جد امجد 944
 نہ یہودی نہ عیسائی نہ مشرک 945
 مطالعہ کائنات - ابتدائی تفکر 945
 حیات بعد الموت کا عینی مشاہدہ 953
 دعوت توحید باپ آزر 946
 باپ اور قوم سے کنارہ کشی 950
 اسوہ حسنہ ابراہیم (ترک صحبت کفار) 950
 تکریم والدین 947
 عدم شرکت تہوار مشرکین (جشن یوم زینت) 951
 جرأت ابراہیم 951

واقعہ بت شکنی 951

نمود سے مباحثہ 953

جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق 953

نار نمود میں ڈالا جانا اور محفوظ رہنا 954

ہجرت 954

نیک اولاد کیلئے دعا 955

مہمان داری 957

فرشتوں سے حضرت لوط کی سفارش 959

پیدائش اسماعیل 955

وادی مکہ کو آباد کرنا 959

آزمائش 956

تعمیر کعبہ 961

اقصائے عالم کو منادی حج 961,287

مقام ابراہیم 961,290

پیدائش اسحاق 958

حضرت محمد کیلئے دعا 961

خلیل اللہ (لقب) 960

صحف ابراہیم 946

وصیت ابراہیم 961

دین ابراہیمی 960

ابراہیم (دیکھئے ابراہیم)

ابرام (دیکھئے ابراہیم)

ابرار - اصحاب 1124

ابراہیم الاشرام (اشارتاً ذکر) 686

ابطال عقائد باطلہ (دیکھئے زیر عنوان عقائد باطلہ)

ابلیس 908,382

ابن اللہ (عقیدہ باطل)

عزیر (باطل عقیدہ یہود) 1081,593

عیسیٰ (باطل عقیدہ نصاریٰ) 1103,602

ابن زکریا (دیکھئے یحییٰ) 1089

ابن مریم 1097,604

ابن نوح 926

ابن یعقوب (یوسف) 980

ابنائے آدم 915

ابنائے ابراہیم 973,971

ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 759,693

ابو تراب (دیکھئے تخلیق آدم) 394

ابولہب 187

اتباع

اتباع رسول کریم 171

اختلاف زوجین 524
 اختلافات مذہبی (فرقہ بندی) 616,607,583
 اختلافات یہود و نصاریٰ 600
 اخت ہارون 1097
 اخروی زندگی (دیکھئے زیر عنوانات قیامت۔ بہشت۔ دوزخ)
 -- 885,866,798,782
 اخلاص (دیکھئے خلوص)
اخلاق
 اخلاق سوز پروپیگنڈہ سے گریز 482
 اخلاق سوز شاعری سے گریز 483
 اخلاق سوز لٹریچر سے گریز 482
 اخلاق نبویؐ 172
اخلاقیات 465
 اچھی بات کی پیروی 467
 اچھی مشاورت دینا 466
 احسان کرنا 467
 اقرار کی پابندی 468
 الحمد للہ کہنا 469
 ان شاء اللہ کہنا 469
 باہم مشورہ کام کاج 465
 برائی سے اجتناب 470,465
 برائی سے منع کرنا 472
 برائی کو نیکی سے دور کرنا 466
 بری بات کا اچھا جواب دینا 446
 بری صحبت سے اجتناب 470
 بے ہودہ گفتگو سے اجتناب 465
 جاہل لوگوں سے اجتناب 465
 حسن ظن 467
 خوش گمانی 467
 خوش گفتاری۔ نرم خوئی 467
 دوستی اور تعلقات میں احتیاط 465,187
 دوسروں سے پہلے اپنی اصلاح کرنا 473,468
 سبحان اللہ کہنا 469
 سچ بولنا 469
 سیدھی (بے لاگ دلپٹ) بات کہنا 469
 عجز و انکساری 467
 غفور و درگزر۔ معاف کرنا 466
 عہد و میثاق کو پورا کرنا 468
 غصہ پر قابو پانا 466
 فراخ دلی 467
 فریقین کے مابین صلح کرانا 558
 کسی کے خیر مقدمی کلمات کا مذاق نہ اڑانا 470
 ماشاء اللہ کہنا 469

اجر محسنین 994,988,298
 اجر محنت (جدوجہد) 440
 اجر مصلحین 254
 اجر مومنین 659
 اجر مومنین سے دوستی 770
 اجر نماز 258
 اجر نیک اعمال 860
 اجر ہجرت 670
 اجرام فلکی 329
 اجل (دیکھئے موت)
 اجماع 549
 احبار و رہبان 595
احترام
 احترام آدمیت 775
 احترام اہل بیت 188
 احترام رسول کریمؐ 168
 احتیاج (دیکھئے سائل اور مساکین کے حقوق)
 احرام 288
 احزاب (غزوہ خندق) 709
احسان
 احساس کمتری 480
 احساس گناہ (دیکھئے کفارہ۔ توبہ۔ استغفار۔ ندامت)
 -- 573,315,312
احسان
 احسان جنانا 281,280
 احسان کرنا 467
احسن
 احسن تادیل 552
 احسن تفسیر 240
 احسن الخالقین 1079,396
 احسن قصص 977
 احتفان 930
 احکام (دیکھئے قوانین)
 حکم الحاکمین 927,825
 احمد (نبی کریمؐ) 164
احوال
 احوال دوزخ 885
 احوال جنت 866
 احوال قیامت 782
 احوال پوم حساب 798
 احوالے مولیٰ 953
اختلاف (دیکھئے زیر عنوانات تنازعات)
 اختلاف رائے 580,557,550,470

اتباع شیطان 910,384
 اتباع نفس 415
 اتحاد بین المسلمین 620
 اترانا (تکبر) 1031,479,477
 اتر کر اور اتر کر مت چلو 1071,479
 اترانے والی اقوام کا انجام (دیکھئے گھمنڈ کا انجام)
 اٹکل پچو 151
اجازت طلبی 445,444
 اپنے گھر میں داخلہ کیلئے 444
 دوسرے لوگوں کے گھروں میں داخلہ 444
 اوقات تخلیہ کے دوران 445
 اسمبلی (مجلس) چھوڑنے سے
 اجتماعی توبہ (دیکھئے قوم یونس) 1086
 اجتماعی رائے 549
 اجتماعی زندگی (دیکھئے تعلقات سماجی) 443
اجتماعی عبادت
 نماز جمعہ 256
 حج 293
 نماز عیدین 260
 عمرہ 228
 اجتہاد 549
اجر
 اجراستغفار 312
 اجر بد اعمال 886
 اجر تقویٰ 306
 اجر نکریم نبویؐ 182
 اجر توبہ 315
 اجر توکل 304
 اجر جہاد 657
 اجر خیرات 277
 اجر زکوٰۃ 268
 اجر صالحین 860
 اجر صبر 299
 اجر صدقہ 284
 اجر عالیین 862
 اجر عظیم 750,706,657,470
 اجر عشر 274
 کبیر 307,298
 کبیرہ گناہوں سے گریز کا اجر 120
 اجر کریم 865,737
 اجر مدد بہا جرین (انصار) 675

- 400 اسقاط حمل (قدرتی) فطری
444 السلام علیکم کہنا
89 اسلام (دیکھئے دین اسلام)
- 235 اسلامی معاشرے میں جذبات کا احترام
اسلام کے ارکان 99
اسلام کے عقائد 97
اسلام اور انسانی بنیادی حقوق 583,580
اسلام میں انسانی آبرو 775,581
اسلام اور انسانی زندگی 581
اسلام اور انسانی مال و جائداد 581,562
اسلام اور امن عالم 580,470
اسلام اور امن و آشتی 580
اسلام اور انسانی عصمت 581,555,541
اسلام اور دیگر نظام حکومت و معاشیات 551
اسلام اور دیگر مذاہب و عقائد 589,580
اسلام اور حقوق نسواں 546
اسلام اور آزادی اظہار خیال 891,580,470
اسلام اور آزادی مسلک 587,583,580,470
اسلام اور عفو اور درگزر اور معافی 586
اسلام اور عدم تفاوت جنس 546
اسلام اور جنسی ضوابط 535
اسلام اور اہل کتاب 587
اسلام اور غیر مسلمین 588
اسلام اور آزادی انسان 584
اسلام اور رنگ و نسل (طبقاتی ناانصافی) 582
اسلام اور اخلاقی اقدار 555
اسلام میں سزا کا تصور 565,564
اسلام کا نظام عدل 579,577,576
اسلام اور امن عامہ (لایبڈ آرڈر) 563
اسلام کا ظلم اور زیادتی سے پاک پرامن معاشرہ 556
اسلام کے خلاف عزائم (دیکھئے منکرین مشرکین یہود و نصاریٰ)
- اسلامی مملکت کی ذمہ داری 553
اسلامی فلاحی مملکت کا نظام 549
اسلامی یونیورسٹی 761,626
اسم احمد ﷺ 164
اسماعیل 971,955
اسماء ابرار (دیکھئے کتاب مومنین) فہرست مندرجات 13
اسماء اشرار (دیکھئے کتاب افراد اقوام ماضی) فہرست مندرجات 14
اسماء حسنی (دیکھئے زیر عنوان اللہ تعالیٰ) 112,103,102,101
اسماء رسل (پیغمبران) (دیکھئے قصص قرآن) 12
آسبلی میں حاضری (دیکھئے آداب مجلس) 448
اسوہ ابراہیم 950
- 970,954,943,935,928 استعانت
1037,1003 --
استغفار 586,377,312
کے موزوں اوقات 312
کی فضیلت 312
فوراً طلب کرو 313
باعث وسعت رزق 313
کی دعائیں 314
موجب مغفرت 586,314
استغفار پیغمبران
- حضرت آدمؑ کا استغفار 911
حضرت ایوبؑ کا استغفار 996
حضرت موسیٰؑ کا استغفار 1052
حضرت نوحؑ کا استغفار 927
استغفار کی تلقین
- سب پیغمبروں نے کی 314
حضرت شعیبؑ تلقین استغفار 1001
حضرت صالحؑ کی تلقین استغفار 937
حضرت موسیٰؑ کی تلقین استغفار 1050
حضرت نوحؑ کی تلقین استغفار 919
حضرت ہودؑ کی تلقین استغفار 930
استقامت 653,645
استقرار حمل 394
استکبار (دیکھئے زیر عنوان غرور)
استہزا منکرین 896
- حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ استہزاء 949
حضرت شعیبؑ کے ساتھ استہزاء 999
حضرت صالحؑ کے ساتھ استہزاء 938
حضرت مریمؑ کے ساتھ استہزاء 1096
حضرت موسیٰؑ کے ساتھ استہزاء 1019
حضرت نوحؑ کے ساتھ استہزاء 920
حضرت ہودؑ کے ساتھ استہزاء 931
یہود کا انفاق فی سبیل اللہ پر استہزا 745
یہود کا تحویل قبلہ پر استہزا 695
اسحاقؑ 973
اولاد اسحاقؑ (دیکھئے زیر عنوان یہود)
پیدائش اسحاقؑ (پرسارہ) 973
اسراف (دیکھئے فضول خرچی) 496
اسرائیلؑ 788,379
اسراء 688
اسرائیل (حضرت یعقوبؑ) 975
اسقاط حمل (جبری-خودکار) 561,538
- 470 مشرکوں کے معبودوں کو بھی گالی نہ دینا
نیکی کی ترغیب دینا 472
نیکی کے کام علائقہ اور پوشیدہ کرنا 471
نیک کاموں میں تعاون 466
نیک کام میں جلدی-سبقت 468
وعدہ ایفائی 468
اخوان شیطان 496
اخوان لوط 1114
اخوان یوسفؑ (دیکھئے قصہ یوسف) 979
اخوت 620
اور لیس علیہ السلام 916
ادوار (دن - مدت - مدارج)
- ادوار تخلیق ارض 322
ادوار تخلیق انسان 394
ادوار تخلیق سماوات 321
ادوار تخلیق کائنات 321
ادھار (دیکھئے زیر عنوان قرض)
- اذان 256
ارباب اختیار 552
ارباب عدلیہ 578
ارتداد 161
ارتکاز دولت 669,426
اردن (اشارتا ذکر دیکھئے السیح - الیاس) 1065
ارض (دیکھئے زیر عنوان زمین)
ارض مقدس
- اردن (اشارتا ذکر) 1079
شام (اشارتا ذکر) 1079,1042,954
فلسطین (اشارتا ذکر) 1079
ارض و سماوات (دیکھئے تخلیق کائنات) 321
ارکان اسلام 99
ارم (عادارم) 1114,929
ازالہ گناہ - کفارہ 573
ازدواجی
- ازدواجی تعلقات پر پابندی 535,521
ازدواجی تعلقات کا مقصد 547,514
ازدواجی تنازعات 523
ازدواجی حقوق 524,523,522
ازدواجی زندگی 514
ازواج مطہرات 189,188,184
ازلام (دیکھئے جوا)
استثناء (دیکھئے زیر عنوان رعایت)
استبداد (دیکھئے ظلم)
استدلال (زیر عنوان استہزاء منکرین)

اعمال کا اجر 471,470
 اعمال کا بدلہ 819
 اعمال کا ریکارڈ 806,798,378
 اعمال کا وبال 818,817
 اعمال کا وزن 807
 اعمال رائیگاں 859,617,599,569
 اعمال صالح 896,834,809,808,465
 اعمال مومن 770
 اعمال قبیحہ 887,886,585,473
 اعمال کی کتاب 806,798,378
 اعمال کی گواہی 808
 افتراء (دیکھئے جہوت بہتان) 708,525,475
 افزائش حیوانات 360,359
 افزائش رزق 313,277,274,267
 افزائش نباتات 351
 افسوس (کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا) 304
 افسوس پیدائش و ختم (خصلت کفار) 456
 افضل الانبیاء 180
 افک (واقعہ) 708
 انواہ پھیلا نا 660,481
 اقامت صلوٰۃ 258,255,251,250
 اقامت تلاشہ 1103,606,602
 اقتدار اعلیٰ 549,366
 اقتصادیات (دیکھئے تجارت کے اسباب)
 اقرار جرم 896,834,809
 اقرار کی پابندی 468
 اقصیٰ (مسجد) 1043,626
 اقوام اور افراد کا عروج و زوال 432,312,302
 اقوام -- 673,437
 اقوام (دیکھئے اصحاب)
 اقوام وحشی (دیکھئے یا جوج ماجوج)
 اقوام سابقہ (دیکھئے تسمی قرآنی) 904
 اکرام (دیکھئے زیر عنوان کریم)
 اکڑ 1031,479,477
 الزام
 الزام تراشی (دیکھئے امان تہمت) 708,525,475
 الزام سے برأت کا طریقہ 525
 الزام کا بار ثبوت مدعی پر 568
 اللہ
 اللہ کا ذکر 652,294
 اللہ کی سنت 678,370,242
 اللہ پر بھروسہ (توکل) 303
 اللہ کا ڈر (تقویٰ) 306
 اللہ کا شکر 300
 اللہ سے معافی (توبہ - استغفار) 315,312

اضحاق (دیکھئے اسحاق)
 اضطراب کی حالت (دیکھئے حرام غذائیں) 504
 اطاعت
 پیغمبران 1110,763
 حاکم وقت 552
 رسول کریم ﷺ 171
 سپہ سالار جنگ 648
 والدین 451
 اطلس کے چھوٹے 880
 اطمینان پانے والی روح 417
 اطمینان قلب 305,298,295,258
 اظہار خیال (آزادی) 583
 اظہار زیب و زیبائش (دیکھئے احکام پردہ) 541
 اعانت جرم 575,574,563
 اعانت رب تعالیٰ 954,943,935,928
 -- 1037,1003,970
 اعتدال
 اخراجات میں 496
 کھانے اور پینے میں 450
 پانی کے استعمال میں 450
 چال میں 1069,446
 اعتراضات منکرین و مشرکین و مستشرقین
 پیغمبران اللہ پر 192,191
 قرآن پاک پر 228
 رسول کریم پر 199,190
 اعتراف جرم
 اعتراف ابلیس 914
 اعتراف حضرت آدم و ہوا علیہ السلام 911
 اعتراف انسانوں اور جنات کا 834
 اعتراف برادران یوسف 993
 اعتراف جادوگراں فرعون 1028
 اعتراف جنات 1079
 اعتراف دوسروں کی خوبیوں کا 492
 اعتراف روز قیامت 809
 اعتراف زلیخا (زوجہ عزیز مصر) 987
 اعتراف سلیمان 1075
 اعتراف فرعون 1040
 اعتراف ملکہ سباء (بلیس) 1078
 اعتراف منکرین قرآن 229
 اعتراف موسیٰ 1008
 اعتکاف 264
 اعراف (ملاقاتیں روز قیامت) 833
 اعمال
 اعمال کا دار و مدار نیت پر 96

اسوہ حسنہ (رسول کریم) 172
 اسوہ حسنہ (نیک روش) 129
 اسیران جنگ (دیکھئے جنگی قیدی) 668,667,463
 اشخاص قرآن جن کا ذکر واضح ملتا ہے 1145
 اشخاص قرآن بغیر نام - اشارتاً ذکر 1147
 اشرف المخلوقات 770,404
 اصحاب
 اصحاب ابرار 1124
 اصحاب اعراف 838
 اصحاب اشرار 903
 اصحاب الایکہ 1003,1002,997
 اصحاب الجنہ (دیکھئے جنت) 860
 اصحاب الحجر 936
 اصحاب الجحیم 852,850
 اصحاب خندق 1113
 اصحاب الرس (کنوئیں والے) 1114,1003
 اصحاب رسول (دیکھئے صحابہ کرام) 758
 اصحاب رقیم 1115
 اصحاب سبت (ہفتہ کے دن والے) 1070
 اصحاب السعیر 889
 اصحاب سفینہ 928
 اصحاب الشمال 801,800
 اصحاب صفہ 761
 اصحاب علم 439
 اصحاب فیل (ہاتھی والے) 686
 اصحاب القبور 796,776,206
 اصحاب قرآن (دیکھئے اشخاص قرآن) 1155,1153
 اصحاب القریہ 1109
 اصحاب مدین 997
 اصحاب المشتمہ 800,237
 اصحاب المیمنہ 799,283
 اصحاب النار (دیکھئے جہنم) 886
 اصحاب الیمین 800,799
 اصحاب ایلاف 438
 اصحاب کہف 1105
 تعداد 1105
 تبلیغ توحید 1105
 غار میں پناہ لینا 1105
 309 سال طویل نیند 1105
 اصحاب کہف کا کتا (قطمیر) 1105
 اصطباغ (بسمہ) 589
 اصلاح اسیران 564
 اصلاح معاشرہ 565,556,554
 اصلاح معاشرہ ذوالقرنین 1083
 اصلاح معاشرہ حضرت شعیب 998
 اصلاح معاشرہ حضرت موسیٰ 1043,1036

سب کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں 370
 سب سے بہتر رزق دینے والا (دیکھئے خیر الارزاقین)
 1102,658,388,277,257 --
 سب سے بہتر وارث (دیکھئے خیر الوارثین) 1122
 1089,1087 --
 استطاعت کے مطابق ذمہ داری سونپنا ہے 674
 قوانین فطرت کا خالق 338,331,329,327,321
 پوری کائنات پر حکومت 331,329,327,321
 اس کو فنا نہیں 104
 مکمل ترین ذات 102
 کائنات کا حسن انتظام 109
 اس کے علم سے کچھ پوشیدہ نہیں
 111,110,109,108,107,106 --
 ہر شے اس کے احاطہ علم میں قدرت و حکمت کی وسعت 101
 ہر کسی کے ساتھ 106,111
 بے مثل ذات 359
 الحمد للہ کہنا 469
 الفت باہم (بین القلوب) 118
 القابات پیغمبران
 موسیٰ (کلم اللہ) 1012
 عیسیٰ (روح اللہ) 1095
 نوح (نجی اللہ) 928
 ابراہیم (خلیل اللہ) 960
 اسماعیل (ذبیح اللہ) 972,956
 آدم (صغی اللہ) 906
 الوہیت کے عقیدہ کا ابطال 1103,606,602
 الہام 775
 الہام مریم 1092
 الہام والدہ موسیٰ 1006
 الہام یوسف 979
 الہامی کتابیں (صحیفے) 245,97
 تورات مقدس 1047,1014,247,163
 انجیل مقدس 1098,249,163
 زبور مقدس 1065,248
 صحف ابراہیم 946
 صحف موسیٰ 1047,1014,247
 قرآن کریم 207,99
 الیاس علیہ السلام 1065
 الیاسین (دیکھئے الیاس) 1065
 ایسیح علیہ السلام 1079
 ایسیح (دیکھئے ایسیح)
 ایلیاہ (دیکھئے الیاس)
 الیکٹرون۔ پروٹون وغیرہ 328
 امانت 492
 کی واپسی 492
 کی دستاویز 494,492
 امت مسلمہ 90
 امت وسطہ (معتدل) 90

اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا 111
 رگ جان سے زیادہ قریب 111
 ہر خفیہ مشورے میں موجود 111
 اللہ کو انسانی نگاہ نہیں دیکھ سکتی 112
 تمام کائنات تسبیح کرتی ہے 376,112
 قدرتوں سے سب پر ظاہر۔ پھر بھی پوشیدہ 113
 تمام مخلوقات اسے سجدہ کرتی ہے 115,113
 زندگی اور موت دینے والا 117,115
 دلوں میں باہم الفت پیدا کرنے والا 118
 قناعت بخشے والا 119
 اہل عالم پر بڑا فضل کرنے والا 123,121,119
 اپنے اطاعت گزار بندوں پر بہت مہربان 121,119
 جسے چاہے بخش دے 122
 بڑی مغفرت والا 123,121,120,119
 نجات دینے والا 142,141,123
 حاجت روا۔ مشکل کشا 141,140,123
 نہ بھولتا ہے نہ چھوکتا ہے 125
 زبردست اور طاقتور 131,129,126
 منصوبہ بندی میں سب سے بہتر 126
 اللہ کو کائنات کی کوئی چیز ہر نہیں سکتی 125,124
 131,127 --
 بے نیاز اور بے پرواہ (غنی) 162,128
 327,301 --
 غالب اور حکمت والا 129
 اپنے وعدے کا بے حد سچا 132
 اللہ کی راہ سے روکنا 628,627
 کسی کی مجال نہیں کہ اللہ سے وجہ پوچھے 105
 کسی کو اللہ سے بحث و تمحیص کی اجازت نہیں 815,113
 اللہ کا قرب (اہل ایمان کو) 866,146
 کن فیکون کی قدرت 105
 حکمت اور دانش عطا کرنے والا 117
 اسکی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا 127
 مشرقین و مغربین کا رب 324
 رفیق و مددگار 629
 اپنے بندے کیلئے کافی 303
 کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں 831,367
 جسے چاہے بادشاہی بخشے 367
 جس سے چاہے بادشاہی چھین لے 367
 عزت اور ذلت اس لے ہاتھ میں 367
 کے پاس اصل کتاب (لوح محفوظ) 367
 آسمان اور زمین کے سب لشکر اسی کے 368
 آسمانوں اور زمین کا نور 368
 تقدیر (جبر و قدر) کا مالک 368
 وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہے 369

اللہ کی راہ میں جدوجہد (دیکھئے جہاد) 642
 اللہ کی راہ میں خرچ (دیکھئے زیر عنوان زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، عشر)
 اللہ کی خوشنودی و رضا کے حصول کے ذریعے
 644,466,294,284,266,253 --
 اللہ سے ہم کلامی (دیکھئے کلیم اللہ) 1021
 اللہ سے ملاقات (دیکھئے لقا اللہ) 833
 اللہ کا لشکر (حزب اللہ) 655,368
 اللہ کا نظام 678,370,242
 اللہ کی بادشاہی 367
 اللہ سے محبت 142
 اللہ کا وعدہ 132
 اللہ کے مقدس گھر 622
 اللہ کی رسی 621
 اللہ کا غضب (دیکھئے زیر عنوان عذاب الہی)
 اللہ کی پکڑ 832,125,123
 اللہ تعالیٰ کی رہنمائی 118
 اللہ کی حدود 513,565,566
 اللہ کی تدبیر 126
 اللہ کے نام (اسمائے حسنیٰ) دیکھئے فیہ صحت 1129
 اللہ تعالیٰ کی صفات 101
 اکیلا (یکتا) 133,113,112
 نہ اولاد، نہ بیوی 606,134
 نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا باپ 606,134
 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں 99
 کی رحمت 125,123,121,119
 صحت دینے والا 119
 ہنسانے اور رلانے والا 119
 غنی اور بنانے والا 119
 روزانہ رات کو موت دینے والا 117
 روزانہ دن کو زندگی بخشنے والا 117
 رگ جان سے زیادہ قریب 111
 کی صفات کا شمار ممکن نہیں 101
 نعمتوں کا شمار ممکن نہیں 102
 سب تعریفیں اس کیلئے 101
 ہمیشہ زندہ اور قائم 148,104
 کائنات کی ہر چیز کا مالک 366,103
 کا سب سے بہتر رنگ (صبغة اللہ) 105
 ظاہر اور پوشیدہ جاننے والا 111,109,106
 دلوں کے بھید جاننے والا 111,107
 عالم الغیب 108
 بندوں کے اعمال سے باخبر 111,109,107,106
 باریک بین خبردار 110
 کی اجازت کے بغیر پتہ چھڑنا 110
 آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا 111

انجام کرام نے شرک سے روکا	انہما کرام (دیکھئے زیر عنوان آزمائش)
1079,1041,947,917 --	امثال قرآن 1129
انہما کرام کی سنت (تکریم والدین)	امراء کے فسق و فجور کا انجام 685,684,675
1090,995,972,947,452	امر بالمعروف 472,466
انہما کرام نے توبہ کی تلقین کی 933,919,319	امر ربی 775,771,368,105
1050,1001,937 --	ام القرئی 625,624,287,245,231
انہما کرام کو اللہ طرف سے بشارت 955,164	ام موسیٰ (دیکھئے والدہ موسیٰ) 1006
1092,1087,975,974,957 --	ام الكتاب 367,211
انہما کرام سے منکرین کا استہزاء (ذائق) 920	ام سابقہ (دیکھئے قصص قرآنی) 904
1096,1019,999,949,938,931--	ام سابقہ کا انجام تاریخ کے آئینہ میں 679,677
انہما کرام نے شکر رب تعالیٰ کی تلقین کی 931	امہات المؤمنین (دیکھئے اہل بیت) 188
995,948,937 --	امی رسول 235,165
انہما کرام بشر (انسان) بھیجے گئے 921,191	امن عامہ 563
1019,1001,938 --	امن ومصالحت 663
انہما کرام نے اللہ کی کتاب پر عمل کا حکم دیا 97	امن عالم کا علمبردار (مذہب اسلام) 585
946,249,248,247,245,207,163 --	امن وسلامتی کا شہر 625,624
انہما کرام کا ادب (دیکھئے زیر عنوان تکریم)	امن وسلامتی کا ماحول 884
انہما کرام کی مخالفت (دیکھئے زیر عنوان منکرین)	امن وسلامتی کا مذہب اسلام 580,470
انہما کرام کے حالات (دیکھئے زیر عنوان قصص الانبیاء)	امین سنت پیغمبران
انہما کرام کے معجزے (دیکھئے زیر عنوان معجزات)	سنت حضرت محمدؐ 172
انہما کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی 1116	سنت حضرت نوحؑ 919
(دیکھئے زیر عنوان قرآنی دعائیں)	سنت حضرت یوسفؑ 988
انتہاء (دیکھئے زیر عنوان تنبیہ) 956,909,907	سنت حضرت ہودؑ 931
انتقام ظلم 557	سنت حضرت لوطؑ 963
انجام	سنت حضرت شعیبؑ 999
سب کاموں کا اللہ کے ہاتھ 370	سنت حضرت صالحؑ 937
انجام کفار 856	اناج - غلہ 988,353
انجام مشرکین 846	انار 873,358
انجام منکر اقوام 679,677	انہما کرام (دیکھئے قصص قرآنی) (دیکھئے زیر عنوان دین اللہ) 904
انجام منکرین پیغمبران (دیکھئے زیر عنوان منکرین)	انہما کرام صراط مستقیم پر تھے 1084,1080,264
1111,679,204 --	انہما کرام امین تھے 937,931,919,172
انجام شاتم رسول (دیکھئے زیر عنوان شاتم) 187	996,988,963 --
انجام منافقین 751	انہما کرام نے توحید کی تلقین کی 930,917,154
انجام گمراہ عقائد کے گروہ 679,619	1017,1014,998,984,947,936--
انجام فخر فریخی معیشت و اسباب دنیا	1098,1079,1074,1057
1031,685,427	انہما کرام نے تقویٰ کی تلقین کی 999,963,937
انجام خلاف ورزی حدود اللہ 566	931,919 --
انجام فخر قوت و طاقت 1031,498	انہما کرام نے توکل کا درس دیا 992,980,305
انجام شیطان دوستی کا 385	976 --
انجام جادوگران 1026	انہما کرام کی آزمائش 981, 971,909,907
انجام تارک نماز 259	1085,1073,1067,1051,996 --
انجام منکرین زکوٰۃ، خیرات 278,270	انہما کرام نے استغفار کی تلقین کی
انجام منکرین عشر 1109,274	1050,1001,937,930,919,314 --

قوم موسیٰ میں سے کچھ صالحین 638
 اولاد ابراہیم اور اسحاق میں سے کچھ نیک بخت
 اور کچھ صریح گناہ گار 638
 بعض نے راہ ہدایت اختیار کی مگر اکثر خارج از
 اطاعت رہے 637
 سب تھوڑے ایمان والے مگر اکثر نافرمان 637
 سب ایک جیسے نہیں 638
 کچھ لوگ میانہ رو مگر زیادہ تر بد اعمال 637
 مسلمانوں سے دوستی سے قریب تر لوگ نصاریٰ 638
 اہل کتاب سے تعلقات 587,518
 اہل کتاب کی پاکیزہ عورتوں سے نکاح کی اجازت
 -- 587,518
 اہل کتاب کی حلال غذا کھانے کی اجازت 587
 اہل کتاب (بعض) کی خوبیوں کا اعتراف 492

ایام

ایام الترویہ 290
 ایام تشریق 293
 ایام حج 290,288
 ایام حیض 535,532
 ایام عدت 531,517
 ایام خوش حالی (ایک امتحان) 427,419
 ایام غسرت (دیکھئے آزمائش)
 ایثار 671,650
 ایٹھی تباہ کاریوں کی مخالفت 586
 ایچ آئی وی وائرس سے حفاظتی تدابیر 539
 ایڈز (حفاظتی تدابیر) 539
 ایصال ثواب 776,286
 ایفائے عہد 468,289
 حضرت ابراہیمؑ 949
 حضرت اسماعیلؑ 956
 حضرت ایوبؑ 996
 ایفائے عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی 572
 -- 468,461
 ایلاء (بیوی سے ترک تعلق کی قسم) 524
 ایمان 99,97,96
 ایمان اور دین اسلام 96
 ایمان و کفر میں سمجھوتہ نہیں 611
 کی کسوٹی 554,472
 ثبوت عمل (شر سے بچنا) 139
 ایمان لانے کے بعد کافر ہونا (ارتداد) 161
 ایوب علیہ السلام 996

اولی الامر (دیکھئے حاکم وقت) 552
 ابوالباب 855
 اولیاء اللہ 762
 اولے (ژالہ باری) 348
 اونٹ 939,362
 وقف غیر اللہ (رم کفار عرب)
 بجرہ 150
 سائبہ 150
 وصیلہ 150
 حام 150

اوہام جاہلیت (دیکھئے اندھی تقلید) 159,155
 اہل بیت

تکریم اہل بیت نبی کریم ﷺ 188
 اہل بیت سے گفتگو کے آداب 188
 ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں 188
 اہل بیت کی تکریم میں کمی بڑا گناہ 189
 اہل بیت کیلئے خصوصی احکامات 189

اہل

اہل بیت ابراہیمؑ 958
 اہل احقاف (قوم عاد) 930
 اہل بہشت 865
 اہل انجیل 1099,637,607
 اہل تورات (قوم اسرائیل) 1014,637
 اہل دوزخ 885
 اہل روم 686
 اہل زبور 1067
 اہل سبأ (ملکہ بلقیس) 1075
 اہل عامورہ و سدوم (قوم لوط) 962
 اہل القریٰ 959
 اہل مدین (قوم شعیب) 997
 اہل مکہ 959
 اہل یمن قبیلہ حمیر 1115

اہل کتاب

تمام اہل کتاب کا بعثت نبی کریم کے بعد
 ان پر ایمان لانا فرض 640,243,181
 اہل کتاب کے بعض عالم محمد رسول کریم کی حقیقت
 -- سے آشنا 180,163
 اہل کتاب قرآن کریم کی سچائی کے گواہ 243,241
 اہل ایمان اقوام سابق (رسول کریم کی بعثت سے قبل)
 دیکھئے سابقین (المقربون) 639
 گذشتہ امتوں کے صالحین جنہوں نے اپنے وقت
 کی کتب سادہ (بلا تحریف) پر ایمان رکھا
 43,935,927,924,762,639
 1037,1023,1022,970

اختیار دار ارادہ کی عطا 301
 عمل کی آزادی کی دعا 819
 انسانی نفسیات (دیکھئے فطرت انسان)
 انسان کی فطری کمزوریاں (دیکھئے فطرت انسان)
 انسانوں کا زمین پر جا بجا پھیل جانا 443
 انسانوں کے حقوق (حقوق العباد) 451
 انسانی عقل اور اللہ کی مصلحتیں 373
 انسانی زندگی کا احترام اور تحفظ 561,559
 انسانی عصمت اور آبرو کا احترام 581,555,541
 ان شاء اللہ کہنا 1108,469
 انصار مدینہ 273
 انصاف و عدل 579,577,576
 انطاکیہ (ارشار تاذکر) 1109
 انعامات رب تعالیٰ 866,435,390,300,102,90
 انفاق فی سبیل اللہ 490,286,275,274,265
 انفال (مال غنیمت) 669,668,490
 اوقات

اوقات صلوٰۃ (نماز) 254,253
 اوقات تجلیہ 445
 اوقات کار 336
 اوقات آرام 336
 اوقات سحر و افطار (روزہ) 262
 انکساری و عاجزی 467
 انگور 873,357,386,356
 انگور کے باغ 873,358,357,281
 اوزان و پیمانہ جات (دیکھئے ناپ تول)
 اولاد

اولاد صالح 454
 اولاد نافرمان (پس روخ) 926
 اولاد آدمؑ 915
 اولاد اسحاق (دیکھئے زیر عنوان قوم یہود) 90
 اولاد اسماعیل (دیکھئے امت مسلمہ) 90
 اولاد یعقوبؑ (بنی اسرائیل) 976
 اولاد کے حقوق 455
 اولاد کے فرائض 451
 اولاد کی محبت 423
 اولاد کا فخر 425
 اولاد نیک 878
 اولاد کی تعلیم 1071,455
 اولاد کا قتل 538
 اولاد کی غلط تربیت 538
 اولاد روز قیامت 878,815
 اولاد ایک آزمائش 422
 اولاد کیلئے دعا (دیکھئے قرآنی دعائیں) 1118

بد کرداری (دیکھئے جنسی ضوابط) 536
 بدکاری (زنا) 536
 بدگمانی 304
 بدگلامی (دیکھئے آداب گفتگو) 446
 بد مزاجی 477
 بد عہد اقوام سے سلوک (دیکھئے تہی سہابت) 666
 بد عہدی (وعدا خلاتی) 474
 بدلہ (دیکھئے اجر)
 بدلہ ظلم 557
 بدو عرب 728
 بدھ مت کے عقائد باطلہ 589
 براءت لعان (تہمت سے بچنے کا طریقہ) 525
 براءت حضرت عائشہ (دیکھئے اتمام کلمہ) 708
 براقب دینا 479
 برائی کا چرچا 482
 برائی پھیلانا 483, 482
 برائی پر افسانے والانس 417
 برائی کو سختی سے روکنا (دیکھئے جہاد) 642
 برائی ظاہری و باطنی سے بچو 106
برادر
 برادر قوم شمود (صالح) 937
 برادر قوم عاد (ہود) 931
 برادر موسیٰ (دیکھئے حضرت ہارون) 1056
 برادران یوسف 988, 978
 برادر ہابیل 915
 برادر قابیل 915
 برتری (دیکھئے فضیلت)
 برداشت (صبر و تحمل) 298
 برزخ 776
 برتھ کنٹرول (بذریعہ ریٹ فیڈنگ) 533
 برہنگی کی ممانعت (دیکھئے شرم بیا) 543, 541
 برق و رعد 349, 348
 بری بات کا اچھا جواب 446
 بری صحبت سے پرہیز 484, 465
 بری قیادت کا انجام 1041
 بری عادات (معاشرتی برائیاں) 473
 بڑھاپے کی عمر 401
 بزودی 664, 645
 بسم اللہ الرحمن الرحیم 87
 -- (بطور آیت دیکھئے: سلیمان بنام ملکہ بلقیس) 1074
 بسیار خوری (زیادہ کھانا) 449
بشارت
 بشارت حضرت ابراہیم 975, 957
 بشارت آمد نبی کریم بذریعہ عیسیٰ 164
 بشارت پیدائش حضرت اسماعیل 955

قوم بنی اسرائیل 1041
 قوم الیاس 1066
 بتوں کی بے بسی 952, 146, 144
 بت پرستوں کو چیلنج 149
 بت پرستی سے سب پیغمبروں نے منع کیا 917
 تلقین نوح 917
 تلقین موسیٰ 1041
 تلقین الیاس 1079
 تلقین ابراہیم 947
 ہتسمہ (اصطباغ) 1089, 598
 بت شکنی ابراہیم 951
 بجلی آسمانی (رعد) 349, 348
بچپن
 بچپن کی عمر 401
 بچپن میں پرورش احسان والدین 1123, 452
 بچپن میں بولنا (معجزہ عیسیٰ) 1099
بحث و تحقیق
 بغیر علم کے بحث میں نہ پڑو 441
 دین میں بغیر ٹھوس دلائل بحث نہ کرو 634
 مجرم کے حق میں نہ کرو 575, 574, 563
بحریات
 بحری تجارت 341
 بحری ذرائع نقل و حمل 340
 بحری راستے 340
 بحری جہاز کا تصور (دیکھئے کشتی اوج) 924
 بحری سفر 340
 بحر قلزم (دیکھئے قرآب فرعون) 1040
 بحیرہ (بت) 150
 بخشش (مغفرت) 586
 بخل (کنجوسی) 497
 بخل ہر نفس میں شامل کر دیا گیا 528
 بد اخلاقی (دیکھئے بدگامی) 446
 بد اعمالیوں کی سزا (جہنم) 885
 بد اعمال (معاشرتی برائیاں) 473
 بد بخت لوگ 804
 بد دعا موسیٰ 1033
 بد دعا نوح 923
 بددیانتی (کاروباری) 997
 بدر صغریٰ 706
 بدر غزوہ 696
 بد قسمتی (دیکھئے آزمائش مشکل) 674

بابل شہر 954
 بادبانی کشتیاں 350, 340
 باطنی (علم نباتات) 351
 بادشاہی صرف اللہ کی 831, 367
 باد و باران (بادل-بارش) 933, 349, 348, 345
 باد صصر 933, 857, 350
 بادِ سموم 884
 بادل 349, 345
 بادِ نشین عرب 728
 بار برداری بذریعہ حیوانات 362
 بارش 347, 346, 345
 بارش بطور آزمائش 1115, 968, 933, 925
 بارگاہ نبوی میں حاضری کے آداب 182
 بارگاہ ایزدی میں حاضری (دیکھئے لقاء اللہ) 883
 باطل مٹ کر رہے گا 655, 654, 95
 باغ اور پھل 874, 873, 356
 باغ والوں کی آزمائش 1108
 باغات بہشت 873
 باغات دوام 868
 باغات صنعا یمن 1108
 بانجھ پن 399
 زوجہ زکریا 1088
 زوجہ ابراہیم 974, 958, 957
 بانیں بازو والے (اصحاب الشمال) 800
 بائبل (دیکھئے انجیل) 249
 بے ثباتی دنیا (دیکھئے دنیا کی زندگی)
بت
 بعل 1066
 نسر 917, 590
 ود 917, 590
 یعوق 917, 590
 یغوث 917, 590
 سواع 917
 عزیٰ 590
 لات 590
 منات 590
 بحیرہ 150
 حام 150
 سانیہ 150
 وصیلہ 150
 بت پرستی 149
 قوم نوح 917
 قوم ابراہیم 951, 947

بیت اللحم (دیکھئے مریم کا حاملہ ہونا) 1096,1094
 بیت المقدس 1043,626
 بیت المعمور 795
 بیٹے 443
 بیٹی 516
 بیٹیاں قوم لوطؑ 966
 بیٹیاں (حضرت شعیب) 1010
 بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس خصلت کفار 456
 بیٹیوں کو حق وراثت جائیداد (دیکھئے حقوق وراثت) 510
 بیج (ختم) نباتات 315
 بیڑی کا درخت 873
 بیڑیاں پیروں میں 894
 بیعت الرضوان 713
 بیعت رسولؐ 170
 بیج (رہن) 495
 بیل چھڑا- گائے (دیکھئے گاؤں شالہ پرستی)
 بین الاقوامی تعلقات اور اسلام 553
 بیوہ عورتوں کے حقوق 531,520,517
 بیوی (دیکھئے زیر عنوان زوجہ)
 بیوی کے فرائض (دیکھئے خاندان کے حقوق) 523
 بیوی کے حقوق (دیکھئے خاندان کے فرائض) 522
 بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا (ظہار) 524
 بیوی سے (بلاوجہ) ازدواجی تعلق توڑنا (ایلاء) 524
 بیویاں (نیک سیرت) روز قیامت 877
 بے بس اور مجبور لوگوں کی مدد 642
بے حیائی
 بے حیائی کے اعمال 962,541
 بے حیائی کے خلاف تبلیغ 962
 بے حیائی کے پوشیدہ اور ظاہر منجملہ اعمال 962,483
 بے حیائی کی ترغیب (دیکھئے شیطان) 383
 بے دین کی مالی اور عدوی قوت 429
 بے دین سے دوستی اور تعلق 430
 بے سمجھ لوگوں کے حقوق 461
 بے علم انسان 442
 بے عمل عالم یہود 595,442
 بے غیرتی کے کام (دیکھئے زیر عنوان مجہ گیری عصمت فروشی-زنا)
 بے فائدہ محنت (دیکھئے اعمال رائیگاں)
 بیعتی (دیکھئے زیر عنوان آنکھیں)
 بے ہودہ
 بے ہودہ باتیں 482
 بے ہودہ خبریں 482

نجات فرعون کے بعد جزیرہ سنیا کی پہنچنا 1041
 خواہش بت پرستی 1041
 جہاد کا حکم اور ان کا انکار 1043,1042
 قبیلہ بندی 1043
 انعامات رب تعالیٰ 1044
 بیابان میں پانی کی فراہمی 1044
 احسانات رب تعالیٰ 596
 کفران نعمت پر ذلت و رسوائی 1045
 قیام طور حضرت موسیٰؑ کے دوران گوشالہ پرستی 1048
 احکامات تورات کی تعمیل کو دیدار اللہ سے
 -- مشروط کرنا 1051
 میثاق کوہ طور 1052
 آزمائش کیلئے قربانی کا حکم اور انکی بہانہ سازی
 -- 1054,1053
 حضرت موسیٰؑ پر الزام تراشی 1054
 حضرت یوشعؑ کی ترغیب جہاد 1061
 ارض مقدس میں داخلہ کی ہدایات کی نافرمانی 1062
 شموئیل سے بادشاہ کے تقرر کی درخواست 1063
 اصحاب سبت کی بدعہدی میثاق 1068
 عذاب الہیہ 1068
 حضرت سلیمانؑ پر الزام تراشی 1077
 ارض مقدس میں آباد ہونا (شام و فلسطین) 1077
 قوم حزقیل کا موت کے ڈر سے بھاگ نکلنا 1080
 عزیزؑ کو اللہ کا بیٹا بنانے کا باطل عقیدہ 1081
 سازش قتل حضرت عیسیٰؑ 1102
 بنی اسرائیل پر لعنت عیسیٰؑ 1103,605
 بنی اسرائیل پر لعنت داؤدؑ 1067,605
 بادشاہ یہود کا اصحاب خندق کو زندہ جلادینا 1113
 نبی نوع انسان (دیکھئے تخلیق انسان) 394
 بوڑھے والدین کا خصوصی احترام 451
 بہتان 708,525,475
 بہتان عظیم (دیکھئے زیر عنوان شرک)
 بہن بھائیوں کے حقوق 458
 بہن 516
 بہن موسیٰؑ 1006
 بہو (اہلیہ پسر) 516
 بہشت (دیکھئے زیر عنوان جنت) 866
بیت
 بیت اللہ (دیکھئے خانہ کعبہ) 624,287
 بیت الحرام 287
 بیت العتیق (مسجد الحرام) 624
 بیت عنکبوت 365,143

بشارت پیدائش حضرت اسحاقؑ 974,958
 بشارت پیدائش حضرت یعقوبؑ 975
 بشارت حضرت زکریاؑ 1087
 بشارت پیدائش حضرت یحییٰؑ 1087
 بشارت حضرت مریمؑ 1092
 بشارت پیدائش حضرت عیسیٰؑ 1092
 بصائر قدرت 320
 بطن ماہی 1085
 بعثت رسول کریمؐ (اعلان نبوت) 179,164
 بعل (بت) 1066
 بغاوت و سرکشی 563
 بغض (کینہ) 548,477
 بکریاں (کے ریوڑ) چرانا (دیکھئے مذہبانی) 1011
 بلد الامین (مکہ معظمہ) 625,624
 بلقیس ملکہ سبا 1076
 کوسلیمانؑ کا خط 1076
 مشاورت مشیران 1076
 سفارتی کوششوں میں ناکامی 1077
 سلیمانؑ کا دعوت قبول اسلام پر اصرار 1077,1076
 داخلہ گل سلیمانؑ 1078
 قبول اسلام 1078
 بلیک میل کی ممانعت 534
 بنت عمران 545
 بندر جیسے بنا دیا جانا (دیکھئے اصحاب سبت) 1068
 بن بلائے مہمان 449
 بنو اسد 728
 بنو نعیم 1115
 بنو فریظہ 712
 بنو قبیقاع 702
 بنو نضیر 707
 بنو مصطلق 747,708
 بنیاد پرست نصاریٰ کی دہشت گردی
 -- (دیکھئے اصحاب کہف) 1105,601
 بنیاد پرست یہودی دہشت گردی (دیکھئے اصحاب خندق) 1113
 بنیاد پرست (نصاری) 607
 بنیادی حقوق اور اسلام 580
 بنیادی ضروریات زندگی (روٹی کپڑا مکان) 910
 بنیامین (برادر یوسفؑ) 988
 بنی آدم 914
 بنی اسرائیل (دیکھئے زیر عنوان حضرت موسیٰؑ اور قوم یہود)
 پر ظلم و تشدد فرعون 1032,1005
 کے بیٹوں کے قتل کا حکم 1005
 فرعون کا مذہبی آزادی صلب کرنا 1033
 تحریک نجات برائے آزادی بنی اسرائیل 1034

بے ہودہ شاعری 483

بے ہودہ گفتگو نہیں سنیں گے 833

بے ہودہ لٹریچر 482

بھ

بھائی چارہ (اتحاد بین المسلمین) 620

بھانجی 516

بھتیجی 516

بھروسہ (توکل علی اللہ) 303

بھلائی کے کاموں میں تعاون 575,466,289

بھول چوک میں سرزغلاط اعمال (دیکھئے زیر عنوان رعایت)

بھید دل کے 807

بھیڑ چال (اندھی تقلید) 159,155

بھیڑ بکریاں 363

بھیڑوں کے مقدمہ کا فیصلہ (داؤد) 1067

بھیڑیا 979

پ

پاک دامنی (دیکھئے شرم و حیا جیسا تہی ضوابط)

پاکیزگی قلب و نظر (دماغی ودلی طہارت) 252,251

پاکیزگی لباس 252

پاکیزہ رزق (دیکھئے رزق حلال) 499

پاکیزہ روح 775

پاکیزہ روزی (دیکھئے جنت کی نذائیں) 869

پاکیزہ کلام 446

پانسہ بازی 562,555,501

پانی 345

پانی پر عرش رب تعالیٰ 327

پانی مصدر حیات 347,345

پانی تمام جانداروں کی پیاس بجھانے کیلئے 347

پانی مردہ زمین کیلئے زندگی 346

پانی آسمان سے برکت والا 347,346,345

پانی کے استعمال میں احتیاط 450,348

پانی کے ذخائر 348,347,343

پانی کے چشمے 348,347

پانی کا جھاگ 342

کھارا اور شیریں پانی 343

کھولتا ہوا پانی (عذاب) 891

پچھتاوے روز قیامت

ظالموں کے 825

گناہ گار لوگوں کے 840

مومنوں کی ہنسی مذاق اڑانے والوں کے 841

منکرین کے 903

پر امن معاشرہ 556

پر چھائیں (بڑھتے گھٹتے سائے) 333

پردہ کے احکام 541

پرستش چاند سورج ستارے 945

پر شکمی (بسیار خوری) 449

پرندے 364

ہد ہد 1075,364

کوا 915,364

ابابیل 686,364

تیتربیر 1044,364

پرندوں کا ہوا میں اڑنا 364

پرندوں کا گوشت 869

پرہیزگاری (دیکھئے تقویٰ) 306

پرورش

پرورش یوسفؑ (عزیز مصر کے محل میں) 981

پرورش موسیٰؑ (قصر فرعون میں) 1007

پرورش مریمؑ (حضرت زکریا کے پاس) 1092

پریشانی کا علاج 472,305,298,295,258

پڑوسی (دیکھئے ہمسایہ کے حقوق) 462

پڑھنا۔ پڑھائی (دیکھئے زیر عنوان علم) 439

پسندیدہ عادات (اخلاقیات) 465

پل صراط 831

پناہ

پناہ (دینا مشرک کو) 667,588

پناہ دینا مہاجرین عورتوں کو 669

پناہ (روز قیامت) 797

پناہ صرف اللہ سے طلب کرو 142

پناہ (تعوز) تخریبی عمل سے 1127

پناہ حاسد کے حسد سے 1127

پناہ (دوسرہ شیطانی سے) 1128,386

پناہ مفاد پرستوں کے شر سے 386,215

پنجگانہ نماز 254,253

پوتے پڑپوتیاں پڑپوتے 443

پوشاک آدم (لباس) 911

پوشیدہ اور ظاہر برائی کے سب کام 483

پوشیدہ اور ظاہر خیرات۔ زکوٰۃ 279

پوشیدہ اور ظاہر نیکی کے سب کام 471

پہاڑ 338

صفاد مردہ 290

جودی 926

سیناء 1012

طور 1048,1031,1011

زمین کے توازن کے لئے 338

پہاڑی راستے 339

پہاڑوں میں رہائش گاہیں 936

پہاڑوں کی کیفیت روز قیامت 793

پہلی اقوام (اقوام سابق) ماضیہ

پر بھی شریعت کی پابندی فرض 374

کو بھی نماز کا حکم 251,250

پر بھی روزہ فرض 263

کو بھی زکوٰۃ کا حکم 268

پر بھی عشر فرض تھا 1111,1109,274

پہلی اقوام پر بھی جہاد فرض کیا گیا تھا 1043,1042

پر بھی حق مہر کی ادائیگی فرض تھی 522

پر بھی قتل ناحق جرم تھا 592

پہلی اقوام منکرین کا انجام (دیکھئے زیر عنوان انجام)

پہلی وحی قرآن 687

پیٹ کے بل ریٹنے والے کیڑے 359

پیدائش کے راز جو اللہ جانتا ہے 399,398

بچے کے دل و دماغ کے انداز 398

نیک و بد صورت و سیرت 398

پیوند کاری دین اسلام کی ممانعت 608

تبلیغ تابعین 1124,861,762

تبلیغ دین 631

پہل

چھپی (والد کی بہن) 516

پھل 873,356

انار 873,358,357

انجیر 357

انگور 873,357,356

بیریاں 873,358

زیتون 358,357,356

سبزیاں 353

کھجور 873,358,357,356

کیلے 873,358

کے باغ 873,358

محنت کا 674,440

ت

تابعین 1124,861,762

تابوت سکینہ 1063

تابوت موسیٰ 1006

تاتاری قبائل (منگول، یاجوج و ماجوج) 1083

تاریخ امم سابقہ (دیکھئے تفصیل قرآنی) 904

تالیف قلب

بذریعہ خیرات 276

بذریعہ ذکر رب تعالیٰ 295

بذریعہ زکوٰۃ 266

بذریعہ صدقہ 284

بذریعہ کفارہ 573

تباہ شدہ بستیاں (دیکھئے زیر عنوان نشانات عبرت)

-- 1002,969,943,935

تبدیلی رخ قبلہ 694

تہرج (دیکھئے پردہ کے احکام) 541

تہذیر (دیکھئے اسراف) 496

تہرکات انبیاء (صندوق سکینہ) 1063

تبلیغ کے لوگ 1115,1003

عمر کاراز (طویل یا قلیل) 399

پیدائشی فطرت و خصلت 399

پیدائش

پیدائش اسحاق 974,958

پیدائش اسماعیل 971,955

پیدائش آدم 906

پیدائش حوا 909

پیدائش عیسیٰ 1094,605

پیدائش مریم 1091

پیدائش یحییٰ 1089

پیدائش یعقوب 975

پیروں پر قیدیوں کی رہائی کا تصور 584

پیروی

پیروی اچھی بات 467

پیروی جاہلانہ رسم و رواج 483

پیروی شیطان 910,384

پیروی نفسانی خواہشات 416,415

پیش گوئی

قیامت 788,782

فتح اہل روم 686

آمد رسول کریم (از ابراہیم) 163

آمد رسول کریم (از عیسیٰ) 164

پیغمبر برحق 167

پیشہ جات (دیکھئے علوم قرآن)

پیغمبران اللہ تعالیٰ (دیکھئے تفصیل قرآنی) 904,374

پیغمبران اللہ تعالیٰ (تمام کا ذکر قرآن میں نہیں) 905

پیغمبران کا ادب (دیکھئے زیر عنوان تکرمیم)

پیغمبران سے استہزاء (دیکھئے زیر عنوان منکرین)

پیغمبران کی مخالفت (دیکھئے زیر عنوان منکرین)

پیغمبران کے قصے (دیکھئے زیر عنوان قصص الانبیاء)

پیغمبران کے معجزے (دیکھئے زیر عنوان معجزات)

پیغمبران (نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ صرف مسلمان)

-- 975,973,971,945

سب پیغمبران نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی 636

تجارت کے لئے سفر 437

تجارت جس میں گھانا نہیں

انفاق فی سبیل اللہ (خیرات) 277

جہاد 644

زکوٰۃ 268

نماز 259

تجاوز (دیکھئے زیر عنوان حدود اللہ کی پابندی)

ظالمانہ نظام کے قیام کا نتیجہ

ظالمانہ نظام کے قیام کا نتیجہ 556,561,500,485

کا نتیجہ پریشانی و ذلت 564,531

تجاوز کرنے والا ظالم 530

تجسس 1081,153

تجلی اللہ تعالیٰ 1051,1046

تجلی طور 1051,1012,1011

تجہیز و تکفین 915,776

تحت الشریٰ 325

تحدیث نعمت (شکر اللہ تعالیٰ)

1114,685,679,673,301 --

تحریف دانستہ (کتب ساریہ) (دیکھئے مذہبی پیشوائیت کا جنون)

تورات کی تحریف 592,591

زبور کی تحریف (دیکھئے زیر عنوان اصحاب سبت) 1068

انجیل کی تحریف 601

تحریف دین پر سمجھوتہ کی ممانعت 611,608

تحريم (واقعہ) 727

تحفظ (دیکھئے زیر عنوان حفاظت)

تحقیق نطفہ 538,513

تحلیل و تحریم (یہود و نصاریٰ) 595

تحل (صبر برداشت) 298

تحویل قبلہ 694

تحت سلیمان 1070

تحت ملکہ سباء 1076

تخاطب کے آداب 447,445

تخلیہ کے اوقات 445

تخلیہ کے آداب 445

تخلیق

تخلیق آدمؑ 906

تخلیق جنات 381

تخلیق حوا 909

تخلیق کائنات 321

تخلیق ارض و سماوات 321

تخلیق انسان 394

رموز تخلیق انسان 394

رموز قبل از پیدائش 398

مدارج تخلیق 397

حیاتیاتی اجزائے ترکیبی 394

بارور رقیق مادہ 395

مرد اور عورت کا مخلوط نطفہ 395

رحم مادر میں جنین کی پرورش 395

لہو کے لوٹھڑے سے بوٹی کا بننا 396

نر اور مادہ جنس کی بناوٹ 396

لوٹھڑے سے ہڈیوں کا بننا 396

ہڈیوں پر پوست چڑھنا 396

دل کی دھڑکن کا شروع ہونا 396

سننے دیکھنے اور محسوس کرنے کی قوت 396

ماں کے پیٹ کے تین اندھیرے 397

تخم

تخم ریزی (تخلیق انسان) 394

تخم ریزی نباتات 350

تخم نباتات (بج) 351

تدفین میت 915,776

تدبر (دیکھئے زیر عنوان غور و فکر کی دعوت مظاہر قدرت)

تدبیر یوسفؑ 989,988

ترازو 941,990,485

تربیت و تعلیم اولاد (دیکھئے زیر عنوان حقوق اولاد و فضیلت علم)

تردید عقائد باطلہ (دیکھئے زیر عنوان عقائد باطلہ)

ترغیب و تائید کے نتائج میں حصہ 574

ترک تعلق زوجین (دیکھئے زیر عنوان ایثار و ظہار - طلاق - خلع)

529,526,524 --

ترک دنیا (رہبانیت) 601,434

ترک قرآن 811

ترک نماز 259

ترکی (دیکھئے اہل روم - انطاکیہ - اصحاب کہف) اشارتاً ذکر

ترکہ کی تقسیم (دیکھئے احکام وراثت)

تزکیہ نفس 417

بذریعہ زکوٰۃ 266

بذریعہ اطاعت رسول کریمؐ 169

تزکیہ نفس کی ڈھنگ مارنا 120

تسبیح و تحمید 1085,376,294,112,103

تسخیر وقت 336,328

تسکین کا (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) نزول

غزوہ احد 706

غزوہ بدر 697

معادہ بحدیبیہ 715

لشکر طالوت 1064,1063

حضرت عزیزؑ 1081

اصحاب کہف 1106

برموقع واقعہ غار ثور 693

غزوہ حنین 718

تسلیمات بجالانا (سلامتی کی دعا) 447,444

تشبیہات قرآن (دیکھئے امثال قرآن) 1139

تشہیر سزا کا فلسفہ اسلام 565

تعاون

تعاون نیک کاموں میں 466

تعاون ظلم و جرائم میں 575,574

تعاون کا معیار 575,466,289

تعبیر رویاء (خواب) 986,984,977

تعجب

تعجب زوجہ ابراہیمؑ 958

تعجب زوجہ زکریاؑ 1088

تعجب کفار 151

تعداد ازواج (کی حد) 520

تعدی (ظلم و زیادتی) 556

تعریف صرف اللہ کیلئے 213,112,103,101

1085,882,652,469,376,294 --

تعزیری احکام اسلام (دیکھئے سزا) 566,564

تعزیری قوانین اسلام 565

تعلقات

کفار کے ساتھ 612

منافقین کے ساتھ 748

اہل کتاب کے ساتھ 587

تعلقات روز قیامت 837,835

تعلق زوجین برائے سلسلہ بقاء و افزائش نسل 535,547

تعلق زوجین میں مخصوص حالات میں پابندی 535

تعلقات سماجی 443

تعلیم و تربیت (دیکھئے زیر عنوان فضیلت علم اور حقوق اولاد)

تعمیر کعبہ 972,961,624

تعمیرات کافن

قوم عاد 929

قوم ثمود 936

قوم ارم 1114

تعوذ (دیکھئے زیر عنوان پناہ)

تفرقہ بازی (دیکھئے زیر عنوان فرقہ بندی) 616

تفہیم فی الدین (دیکھئے تلخیص اسلام) 632

تفکر کی دعوت (دیکھئے زیر عنوان غور و فکر)

تقلید (بلا سوچے سمجھے) 159,155

تقابل ادیان میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت

584,583,582,580,551,546,470 --

589,588,587,585

اسلام اور دیگر عقائد 589

اسلام اور دیگر مذاہب 580,470

اہل کتاب کو دعوت مباہلہ 607

تقدیس نسواں 546,541,555,581,775

تقدیر 368,98

تقسیم اراضی کا نظام 1043

تقویم 334

تقویٰ (اللہ سے ڈرنا) 306

تقویٰ کا اجر 306

تقویٰ آخرت کا سامان 307

تقویٰ اصحاب علم کی نشانی 308

تقویٰ سے اللہ اور زیادہ دیتا ہے 308

اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو 309

تمام عبادات کا مقصد تقویٰ 311

پھر تم ڈرتے کیوں نہیں 311

تقویٰ کی تعلیم سب پیغمبروں نے دی 310

تلقین حضرت نوحؑ 919

تلقین حضرت ہودؑ 931

تلقین حضرت صالحؑ 937

تلقین حضرت لوطؑ 963

تلقین حضرت شعیبؑ 999

تلقین حضرت موسیٰؑ 1052,1015

تلقین حضرت الیاسؑ 1065

تلقین حضرت عیسیٰؑ 1100,1101

تلقین حضرت داؤدؑ 1068

تکبر 1031,479,477

تکذیب (جھٹلانا)

تکذیب قوانین الہہ 850

تکذیب پیغمبران (دیکھئے زیر عنوان منکرین)

تکذیب کتب سماویہ (دیکھئے زیر عنوان منکرین)

تکریم

تکریم اہل بیت نبی کریمؐ 188

تکریم نبویؐ کے خصوصی احکام 182

تکریم تمام انبیاء کرامؑ 93

تکریم تمام صحف سماویہ 94

تکریم صحابہ کرامؓ 759

تکریم والدین اسوہ پیغمبران

سنت حضرت ابراہیمؑ 947

سنت حضرت اسماعیلؑ 972

سنت حضرت ایلحٰقؑ 452

سنت حضرت یحییٰؑ 1090

سنت حضرت یوسفؑ 995

تکریم والدہ سنت حضرت عیسیٰؑ 452

تلاش

تلاش خضرؑ (سفر موسیٰؑ) 1058

تلاش معاش کے لئے دن 336

تلاش معاش کیلئے سفر 437

تلافی گناہ (کفارہ) 573

تلاوت قرآن کے تقاضے (آداب) 215

تلاوت قرآن کے موزوں اوقات 217

تمثیلات قرآن (دیکھئے قرآنی مثالیں) 1139

تمسکات 494,491

تنازعات (دیکھئے اختلافات)

تنازعات ازدواجی زندگی 523

تنازعات اقوام عالم کی وجہ 676

تنازعات مشترکہ کاروبار (قصہ داؤدؑ) 1067

تناخ ارواح کا نظریہ باطل 589

تنبیہ (سرزنش) 564

تنبیہ جہنم 886

تنگ دستی 520,393

تنگ نظری 477

تند خوئی 477,446

توازن کائنات 332,331

توازن زمین 338

توازن و اعتدال طعام 450

توبہ

توبہ کا مفہوم 315,215

زبانی توبہ 317,162,161

فوراً رجوع کرو 316

پکڑے جانے سے پہلے کر لو 685,319,316

اجتماعی توبہ افراد و اقوام 316

نہ کرنے والا ظالم 317

پھر تم توبہ کیوں نہیں کرتے 319

اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کو توبہ کا موقع ضرور دیتا ہے 678

عذاب آنے پر فریاد بے کار جاتی ہے 685

توبہ وقت نزع 1040,316

توبہ قریب مرگ 1040,317,316

توبہ روز قیامت 828

توبہ کا حقیقی انداز 317,313

توبہ سچے دل سے (توبہ الصوح) 318,317

توبہ کی گنجائش 678,318

مرتد کیلئے 319,162

توقیر و تعظیم (دیکھیے زیر عنوان تکریم)
توکل علی اللہ 303

گھبراہٹ خوف پریشانی کا علاج 305
تمام پیغمبران نے توکل کی تعلیم دی 305
کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں 303
توکل کے داعی حضرت یعقوبؑ 992,980,976
توہمات عرب قدیم (دیکھیے اندھی تقلید) 155
توہم پرستی 159,155
توہین رسالت اور اس کی سزا 185
تہجد 260
تہذیب و تمدن (دیکھیے آداب معاشرت) 443
تہمت لگانا (دیکھیے الزام تراشی) 537
تہمت لگانا بیوی پر (لعان) 537,525
تیل زیتون 357
تیمم 252

منافق کے لئے 746,712,319
باغی اور مفسد کے لئے 319
بے حیائی کے مجرموں کے لئے 540,319
نصاری کیلئے 602,319
سارق (چور) کے لئے 319,316
مکرمین کیلئے 318
قاتل بالخطا کیلئے 360,319
الزام تراشی سے 476
توبہ کی تلقین سب پیغمبروں نے کی 319
تلقین حضرت شعیبؑ 1001
تلقین حضرت صالحؑ 937
تلقین حضرت موسیٰؑ 1050
تلقین حضرت نوحؑ 919
تلقین حضرت ہودؑ 933
توحید 133,99

اللہ نہ کسی کا باپ نہ بیٹا 134
اسکی نہ کوئی بیوی نہ اولاد 134
توحید کی تعلیم سب پیغمبروں نے دی 154
تعلیم حضرت نوحؑ 917
تعلیم حضرت ہودؑ 930
تعلیم حضرت صالحؑ 936
تعلیم حضرت ابراہیمؑ 947
تعلیم حضرت یوسفؑ 984
تعلیم حضرت شعیبؑ 998
تعلیم حضرت موسیٰؑ 1017,1014
تعلیم حضرت ہارونؑ 1057
تعلیم حضرت سلیمانؑ 1074
تعلیم حضرت الیاسؑ 1066
تعلیم حضرت عیسیٰؑ 1098

توہین رسالت (دیکھیے شاتم رسول)
تورات (حضرت موسیٰؑ) 1047,247
تورات کی تصدیق (حضرت عیسیٰؑ) 1098
تورات میں ذکر محمدؐ 163
تورات میں تحریف 592,591

ٹھٹھہ مذاق (استہزاء مکرمین) 931,920
1019,949,938 --
ٹھٹھہ ٹک میسر نہ (جہنم میں) ہوگی 897

ثابت قدمی (استقامت) 653,645
ثاقب (ستارہ) 329
ثالث ثلاثہ 606
ثالثی کے اصول 576
ثالثی مابین زوجین 524
ثانی انہین (حضرت ابو بکر صدیقؓ) 759,693
ثبوت الزام کی ذمہ داری مدعی 568,537,525
ثقافت و فنون کی ماہر اقوام
قوم ارم 1114
قوم فرعون (ہامان) 1030
قوم عاد 929
قوم ثمود 936

ثمر (دیکھیے باغ و پھل)
شمود 936
شنا (تسیح و دھم) 1085,376,294,112,103
ثواب (دیکھیے زیر عنوان اجر)
ثور (غار) 693

جابر حکمرانوں کے سامنے حکم حق 953
جادو ٹونہ (قال-منتر) 1078,157
جادوگران دربار فرعون 1029 تا 1025
جادوگری کا انجام 1029 تا 1025
جادوگر کہنا۔ پیغمبروں کو۔ خصلت کفار 158
جادوگری کا الزام حضرت سلیمانؑ پر 1080-157
جادوگری کا الزام حضرت شعیبؑ پر 1000
جادوگری کا الزام حضرت صالحؑ پر 939
جادوگری کا الزام حضرت موسیٰؑ پر 1027

تھکاوٹ کا احساس دوران تخلیق کائنات 327,326
تھکاوٹ ورنج کا احساس جنت میں 883
تھوہر کا درخت (شجر قوم) 889,355

ٹڈیاں، جوئیں کا عذاب، 1034
ٹونہ۔ منتر۔ جادو 1078,1028,1026,158,157
ٹیکس (اسلامی معاشیات) 490,668
جنگی قیدی چھوڑنے پر 668,667,490
غیر مسلموں پر 668,490
فلاحی ٹیکس (خیرات صدقہ) 284,275
معاشرتی بہبود ٹیکس (زکوٰۃ) 265
زرعی پیداوار پر ٹیکس (عشر)
مال غنیمت 668,490
مال فئے 669,490

1080 --	جزیات ایمان (دیکھئے عقائد اسلام) 99,97	جارحیت 663,556
692,1079 کی بے بسی کا ثبوت	جزیرہ سینائی 1041	جاسوسی 1035,476
1077,381 کی علم غیب سے لاعلمی	جزیرہ (جنگی قیدیوں پر جس) 668,667,490	جاگیرداری (ڈیزیم) 551
381 کے کئی مذہب	جذام اور کوڑھ 1099,1050	جالوت 1067
690 کا قرآن سننا	جذبات سے آنکھیں بھر آنا 218	جان کی حفاظت فرض 561
381 کانیک اور بد ہونا	جسمانی سزائیں 565,564	جانور (دیکھئے زیر عنوان چوپائے مویشی) 361,360,359
691,381 کا ایمان لانا (اقرار توحید)	جسمانی اعضاء کی بناوٹ 396	ذریعہ بار برداری نقل و حمل 362
138 مشرکین کا جنات کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرنا	جسمانی اعضاء کی گواہی 808	سہولت سفر و سواری 361
	جشن نزول قرآن 210	باعث شان و شوکت 361
	جشن نوروز (قوم نبی اسرائیل) 1025	کھال اون پشم کا حصول 362
	جشن یوم زینت (قوم ابراہیم) 951	جانوروں (چوپاؤں) کے فوائد
	جلاوطنی کی دھمکی (منکرین کی پیغمبروں کو)	جانوروں کے ریوڑ 857
	قوم لوط کی (حضرت لوطؑ کو) 964	جانوروں سے بھی بدتر 295
	قوم نبی مدین (حضرت شعیبؑ کو) 1000	جانداروں میں بدترین 857
	جلاوطنی (دیکھئے ہجرت)	جاہلانہ رسم و رواج 159,155
	جلدی امراض کی حفاظتی تدابیر 541	جاہل لوگوں سے اجتناب 465
	جلدی کرو (سبق حاصل کرو) 685	جنت (کاہن اور ساحر) 158
	اللہ کی راہ میں خرچ کیلئے (خیرات صدقہ) 275	جبر و قدر (تقدیر) 368,98
	بخشش کی طلب میں 313	جبر و تشدد (ظلم) 556
	توبہ کرنے میں 319,316	جبریلؑ 775,687,380,208
	جنت کے حصول میں 864	جبل (دیکھئے زیر عنوان کوہ)
	زکوٰۃ کی ادائیگی میں 269	جبل سیناء 1012
	قرآن پاک پر عمل کرنے میں 220	جبل طور 1052,1051,1048,1046
	نیک کاموں میں 468	جبل موسیٰؑ 1052,1012
		جبل صفا 290
		جبل مروہ 290
		جبل جودی (اراراط) 926
	جلوہ نمائی اللہ تعالیٰ روز قیامت 833	جد و جہد کی ترغیبات 432
	جلوہ طور 1014,1013,1012,1011	جرم و سزا (دیکھئے تعزیری سزائیں) 565,564
	جلوہ حسن یوسفؑ 983	جزا اعمال (دیکھئے زیر عنوان اجر)
	جمہوریت کا اسلام میں تصور 551	جرام
	جمعہ کا دن۔ جمعہ کی نماز 256	اخلاقی 562-473
	جنابت (دیکھئے وضو)	معاشرتی 997-473
	جن و جنات 381	جنسی 555-535
	جنات کی تخلیق 381	ذہنی آوارگی 555
	انسان سے قبل کی مخلوق 906,394,381	سفید پوش لوگوں کے 555
	حضرت سلیمان کے دور کے جنات 1078,1072	حدود 562-560
		جزا اعمال صالح 860,546,471,470
جنسی تعلقات کے ضوابط 535		
جنسی تشدد کی ممانعت 537		

- 656,655 اللہ کا شکر غالب رہے گا
- 656,655 کفار بزدل رہتے ہیں
- 654 شکست فتح۔ آزمائش ایمان
- 653,645 کامیابی کیلئے ثابت قدمی شرط
- 646 اللہ کیلئے مرنا اور جینا
- 658 شہید زندہ ہوتا ہے
- 659 شہید کا اجر
- 657 اللہ کے انعامات
- 663 امن و مصالحت کی شرائط
- 665 باہمی معاہدے
- 667 جنگی قیدیوں سے سلوک
- 668,667 محکوم غیر مسلموں سے سلوک
- 669 خاتمہ جہاد پر مومن اور نو مسلم خواتین کے احکامات
- 350,341,340 جہاز رانی
- 1591,55 جہالت کی رسیں (دیکھئے آخری تکریر) تو ہم پرستی
- 885 جہنم (دوزخ)
- 886 جہنم کا انتباہ
- 887 جہنم کی وسعت
- 888 جہنم کے حصے
- 888 -- حاویہ
- 888 -- ستر
- 888 -- ہلمہ
- 888 -- لظنی
- 889 -- سعیر
- 803 -- حامیہ
- 900,891 جہنم کے عذاب
- 889 جہنم کی غذایں
- 890 جہنم کے مشروب
- 896 جہنم کے فرشتے
- 897 جہنم کا ماحول
- 896 جہنم کے داروغے
- 884 جہنم کی گرمی
- 887 جہنم کے دروازے
- 893 جہنم کے لباس
- 344 جہنم کی زندگی بسر کرنے والے
- 644 جہاد خوشنودی اللہ کے حصول کا ذریعہ
- 652,644 مومنوں کی جانوں کو بہشت کے بدلے
- 644 عذاب الیم سے نجات دلانے والی تجارت
- 644 گناہوں سے بخشش کا ذریعہ
- 659 جہاد۔ ایمان کی کسوٹی
- جہاد رشتہ داروں اور جاندار کی محبت شرکت میں
- روکاؤٹ نہ بنے 650
- 652 موت کا خوف شرکت میں روکاؤٹ نہ بنے
- شمولیت سے گریز کے لئے حیلے بہانے
- خصلت منافقین 1065,722,662
- 645 شرکت کیلئے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے
- جہاد 642,100
- 651,649 جان و مال دونوں سے جہاد
- 646 میں شرکت کا اسلوب
- 645 شرکت میں رعایت (شرعی عذر)
- 648,647 سامان حرب کی حفاظت
- 646 جہاد کی ترغیب دینا
- 648 دشمن سے کسی وقت غافل نہ رہو
- 648 جنگی وسائل نقل و حمل
- 648 دفاعی تنصیبات کی ہمہ وقت نگرانی
- جنگی ضرر سے حفاظت کے لئے لباس 1066
- 652,648 میدان جنگ میں نماز اور یاد اللہ
- 646 سرحدوں کی حفاظت کیلئے مورچہ بندی
- کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی باعث شکست
- 702,648
- 649 دشمن سے برابر کی ٹکر لینے کا حکم
- 643 کافروں اور منافقین کے خلاف سختی کا حکم
- 662 موقع پرستوں کا رد عمل
- 721,660,659 ایام جہاد میں حفاظتی تدابیر
- 651 دشمن کا تعاقب
- 653 فتح کا انحصار قوت ایمان پر
- 654 ظاہری اسباب کامیابی نہیں
- 655,654 مومنوں کو جہاد میں مدد کا وعدہ
- 650 مجاہدین کی مدد کا اجر
- 655 مومنوں کو فتح کی خوشخبری
- 656 اللہ کی غائبانہ مدد
- 539 جنسی ضوابط کی خلاف ورزی کا انجام
- 543 جنسی مقاصد کیلئے چھیڑ چھاڑ
- 540 جنسی آسودگی کے حصول کیلئے نکاح شرط
- 546 جنسی عدم تفاوت حقوق
- 540 جنسی تعلق صرف منکوحہ زوجین کو اجازت
- 535,395 جنسی جوڑے
- 555 جنسی بے راہ روی کے محرکات
- جنسی بے راہ روی سے حفاظتی تدابیر (اکام پر وہ۔ لباس شرم دیا)
- 555,543,541,535
- 515 جنسیاتی پاکیزگی
- 541 جنسیاتی امراض سے حفاظتی تدابیر
- 663 جنگ و امن صلح (دیکھئے غزوات و جہاد)
- 665 جنگی معاہدے (صلح کے معاہدے)
- 668,667,463 جنگی قیدی
- جنگی لباس 1068
- جنگلات 355
- جوار بھانا (مدو جزر) 344
- جوانی 397
- جودی پہاڑ (طوفان نوح) 926
- جبر و استبداد کا نظام قائم کرنے والوں کا انجام 475
- جواء (لاٹری قمار بازی) 562,555,501
- جوئیں، ٹڈیاں 1034
- جوڑے
- جوڑے نباتات 328
- جوڑے نہ نظر آنے والی چیزوں کے 328
- جوڑے حیوانات 924,359
- جہاد 642,100
- تمام اہل ایمان پر فرض 642
- بہت سے پیغمبران نے جہاد کیا 1063,644
- کا حکم تورات اور انجیل میں بھی دیا گیا
- 1063,1061,1043,644
- جہاد کیوں؟ 642
- کس کے حق میں۔ کس لئے 642
- جہاد کس کے خلاف 643,642
- جہاد کب تک جاری رہے 643
- جہاد اللہ کے ساتھ ایک اچھا سودا 652,643

سیاہ (پریشان) 802

چیلنج اللہ تعالیٰ کا

آسمان وزمین کی ہر چیز کو 127,131,124,125,162

انسانوں اور جنات کو 231,327

بت پرستوں کو 149

سود خوروں کو 488

شیطان کو 384

منکرین قرآن کو 229

چیلنج منکرین۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب

-- 1000,964,940,932

قوم عاد (عادثانی) 932

قوم عاد اولی (قوم ثمود) 940

قوم ثمود 940

قوم لوط 964

قوم نبی ادیان (اصحاب الایکہ) 1000

چیلنج شیطان 913

چیلنج ابوسفیان 706

چیونٹی (دیکھئے قصہ حضرت سلیمان) 1074,365

چھوٹی لعزثوں پر درگزر 726

ح

حاجت مند کے حقوق (دیکھئے مساکین و فقراء)

-- 283,271,263

حاجرہ (زوجہ ابراہیم) 955

حاسد کے حسد سے پناہ مانگنا 1128

حاضری اللہ تعالیٰ کے سامنے 834

حاکم وقت کے فرائض 552

حاکم وقت کی اطاعت اور اس کی حد 552

حاکم وقت کی ذمہ داریاں (دیکھئے اسلامی ملکیت کی ذمہ داریاں) 553

حاکم وقت (جابر) کے سامنے کلمہ حق (اسوۃ ابراہیم) 953

حاملہ عورت کے حقوق 531,532,533

حاملہ عورت کی عدت 532

حاملین عرش (دیکھئے زیر عنوان فرشتے)

حامیہ (جنم) 803

حب اللہ تعالیٰ 142

چال بازی (مکرو فریب حیلہ) 157

چال ڈھال میں اعتدال 416,1069

چاہ مدین 1010

چاہ یوسف 978

چپ کاروزہ

روزہ حضرت زکریا 1088

روزہ حضرت مریم 1096

چراگاہیں 354

چرج (عیسائیوں کی عبادت گاہ) 583,580

چشمے 348,347

چشموں کا پھوٹنا (معجزہ موسیٰ) 1043

چشمہ کا پھوٹنا (پیدائش عیسیٰ) 1096

چشمہ جنت 870

چشمہ زمزم 955

چشمہ ایوب 996

چغل خوری (غیبت)

چوپائے (دیکھئے زیر عنوان جانور)

-- 416,361,360,359

اونٹ 939,362

بیل گائے بچڑا 1053,1048,590,363,150

بھیڑ بکری 1074,1069,1011,363

بچر 362

شیر 824,363

کتا 1106,416,363

گدھا 1071,595,363,362

گھوڑے 1075,648,362

ہاتھی 686,363

چوپائے (فوائد) دیکھئے زیر عنوان جانور

چوری (سرقہ) 997,562

چرند پرند (دیکھئے زیر عنوان جانور، پرندے، مویشی، حیوانات)

چاندی سونا 426

چہرے

اعمال کا آئینہ ہونگے 802

روشن (پررونی) 802

جبالو جی 338

جیش العسرا (عزودہ تبوک) 984,720

جیل کا تصور 985,983,564

جیل 985

جیل سے پیرول پر رہائی 564,484,463

جیل میں قیدیوں کو تبلیغ 984,564,463

جھ

جھاگ (بہتے پانی کا) 342

جھاڑ پھونک (دیکھئے جادوؤں) 1078,157

جھرنے (پانی کے چشمے) 881

جھڑکنا (کمزور اور سائل کو) 482,460

جھگڑا (باہم دشمنی) روز قیامت

شیطان اور اسکے پیروکار 837

اہل جہنم اور گمراہ کرنے والے 845,835

ملائکہ (دیکھئے فرشتے)

جھگڑا لوپن (بد مزاجی) 477

جھگڑے سے عزت جاتی رہتی ہے 621

جھگڑا آندھی 350

جھوٹ 474

جھوٹی قسم اٹھانا 571

جھوٹی خبر پھیلانا 703,481

جھوٹا وعدہ 474

جھوٹے معبود 147

جھوٹے معبود روز قیامت 842

جھوٹے معبود جہنم میں جائیں گے 139

جھوٹے معبود اپنی مدد سے قاصر 842,146

جھوٹے معبودوں کی بے بسی 842,146,144

جھوٹے معبودوں کو سامنے لانے کا حکم 845

جھوٹے فتویٰ باز (وطیرہ منکرین) 507

چ

چابی (دیکھئے کنجیاں)

چاند سورج 334,332,331

چاند گرہن (روز قیامت) 794

سورکا گوشت 505	حدود اللہ 566,565,513	حب رسول (دیکھئے اطاعت رسول) 171
شراب 506	قصاص 566	حبشہ کو ہجرت 688
منشیات 506	خون بہا (دیت) 566	حب اعمال (دیکھئے زیر عنوان جہنم-عذاب-افراد اقوام)
حرام رزق 501,499	سزائے موت 566	حب اللہ 621
حرام کمائی سے زکوٰۃ خیرات صدقہ ناجائز 271	رحم (سگسار کرنا) 566	حب الوریہ 111
<u>حوص</u>	چوری کی سزا 997,562	حجاب کے احکام 541,543
حوص 480	احکام وصیت 508	حجاب عورتوں کی عظمت کی دلیل 544
حوص مال و اولاد 425	احکام وراثت 510	حجاب عورتوں کی پاک دامنی کی علامت 544
حوص ارتکاز دولت 426	احکام جنسی ضوابط 535	<u>حج بیت اللہ 287</u>
حریص انسان کی مثال 416	سے انکار کفر 566	ہر صاحب استطاعت پر فرض 287
حرم کعبہ 625,624	کی خلاف ورزی اور اس کی سزا 566	حج کے مہینے 287
حرم نبوی (مسجد نبوی) 625	کی خلاف ورزی کرنیوالی اقوام اور انجام 566	حج تمتع 288
حرمت کے مہینے 664	<u>حدود</u>	حج اکبر 727, 291
حروف مقطعات قرآن (دیکھئے ضمیمہ جات بعد از 1167)	اطاعت حاکم وقت 552	احرام کی پابندیاں 288
<u>حسد</u>	اطاعت والدین 451	عمرہ 288
حسد-باہم زوجین 548	تکریم انسان (دیکھئے اولی اللہ) 762	عمرۃ القضاء 716
حسد-ہائیل قابیل 915	حرم میقات 663	تجارت دوران ایام حج 288
حسد-سوتیلے بھائی (حضرت یوسف) 978	حدیبیہ (معاہدہ صلح) 719,713	شکار دوران ایام حج 288
حسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا 1127	حدید (دیکھئے لوہا) 1066,339	سفر کیلئے زادراہ (اخراجات) 288
<u>حسن</u>	حدیث قدسی (دیکھئے قرآن کریم) 207,99	حج کے مناسک 293
حسن سلوک (دیکھئے زیر عنوان حقوق اولیاء) 529,523	حدیث نبوی 173	طواف کعبہ 290
حسن سلوک بیوی سے 523	حرم مکہ 663,625,624	مقام ابراہیم پر نفل 290
حسن سلوک مطلقہ عورت سے بھی 529	حزب اللہ 763,655	سعی صفا و مروہ 290
حسن اخلاق (دیکھئے اخلاقیات) 465	حزب شیطان 382,296	قیام وادی منیٰ 290
حسن اخلاق (خلق عظیم) 173	حز قیل (حزقی ایل) 1065	یوم الترویہ 290
حسن ظن 467	<u>حرام خوری 595,500</u>	یوم عرفہ 290
پیغمبران کا حسن جمال 1071	لوگوں کا مال ناحق کھانا 555	وقوف عرفات 290
حسن توازن کیلئے دعا کیلئے دعا	رشوت 555	وقوف مزدلفہ 290
- 1117,1078, 433	سرکاری امانتوں کا خورد برد 555	وقوف مشعر الحرام 290
حسن یوسف 983	دھوکہ دہی 555	یوم حج 291
حسن معاشرت (دیکھئے زیر عنوان حقوق)	کاروبار شراکت میں ناجائز مراعات کا حصول 1069	یوم عید 291
<u>حسن کائنات</u>	<u>حرام غذائیں 505,502</u>	یوم قربانی 291
تخلیق میں حسن 906,394	لہو (بہتا ہوا خون) 505	سرمنڈانا (حلق یا قصر کرنا) 292
انسان کے تخلیقی عناصر میں حسن 400	مردار (حرام موت مرا ہوا جانور) 505	طواف اضاہ 293
انسانی صورتوں میں 325	غیر ذبیحہ (غیر اللہ کے نام ذبیحہ) 505	ایام تشریق 293
		وادی منیٰ سے واپسی مکہ 293
		اجتماع حج کا مقصد 293

338 پہاڑوں اور نباتات میں
361 موسیٰ شیوں کے ریوڑ میں
330 ستاروں کا حسن
329 فضاؤں کا حسن
365 حشرات (کیڑے مکوڑے)

365,359 پیٹ کے بل ریگنے والے کیڑے
1074,365 چیونٹی
1079,365 دیک
1026,1018,1013,365 سانپ
365 شہد کی مکھی
1141,365 چھپر
1141,365,143 مکڑی
365,144 مکھی

حشر (قیامت) 791
حصول علم (دیکھئے فضیلت علم)
حطہ (جہنم) 888

حفاظت

حفاظت آسمان 330
حفاظت رسول کریم 178

حفاظت ایمان (دیکھئے زیر عنوان جہاد تبلیغ دین احکام
نکاح تعلقات کفار) 608

حفاظت جان 588,585,581,561
حفاظت زبان 251,268,445,461,597

حفاظت مال 586,581

حفاظت عصمت 581,555,541,538

حفاظت بنیادی حقوق 580

حفاظت عبادت گاہوں کی 627,583,580

حفاظت شجرہ نسب 538,513

حفاظت دفاعی تنصیبات 648

حفاظت قسم و عہد 571

حفاظتی تدابیر

ایڈز HIV وائرس 539

تہمت 537,525

زنا و بدکاری 541,536

امراض جلدی اور جنسی 541

حفاظت قرآن 211

حق

اللہ تعالیٰ برحق 388

اللہ کی حکومت برحق 133

تمام رسول برحق 882

حق کو ثبات 738

حق باطل پر ضرب کاری 469,95

حق کے مقابلے میں باطل کی شکست 1122
736,220 --

حق غالب رہے گا 655,654,95

حق مہر 521

ادائیگی فرض 521

پچھلی اقوام کو بھی حکم دیا گیا 1010,522

عورت اپنی مرضی سے کی کر سکتی ہے 521

ادائیگی اگر بوقت نکاح مقرر نہ ہو 522

ادائیگی اگر بوقت نکاح مقرر ہو 522

دوسری شادی کی صورت میں پہلی بیوی سے حق مہر واپس

-- نہ لینے کی ہدایت 530

حقوق

حقوق اطفال (دیکھئے اولاد کے حقوق، رضاعت کے حقوق)

حقوق اللہ (عبادات اور ارکان اسلام) 250,99

حقوق العباد 451

حقوق انسانیت (دیکھئے بنیادی حقوق) 580

حقوق والدین 451

حقوق زوجین 523,522

حقوق والد 451

حقوق والدہ 452

حقوق شوہر 523

حقوق بیوی 522

حقوق نسواں 546

حقوق مطلقہ عورت 533,529,520

حقوق بیوہ عورت 531,520

حقوق حاملہ عورت 533,532,531

حقوق رضاعت (دودھ پلانے والی عورت)

458,5345,33 --

حقوق اولاد 455

حقوق دادا 452

حقوق بہن بھائی 458

حقوق پوتے پڑپوتے 443

حقوق رشتہ دار 458,282,271

حقوق یتیم 520,460,282,271

حقوق فاتر العقل لوگ (کم اور نا سمجھ) 461

حقوق مساکین و فقراء 271,283,263

حقوق سائل 463,271,281

حقوق کمزور بے بس و معصوم 586,464,462,642

حقوق غلام و کنیر (لونڈی) 520,271,462

حقوق اسیران (قیدی) 463,282,271

حقوق ہمسایہ 462

حقوق مہاجرین 273,463

حقوق قحط زدہ افراد و اقوام 988,573

حقوق قناعت پسند ضرورت مند 272

حقوق نو مسلم 272

حقوق مزارع (ہاری) 353,274

حقوق ماتحت (زیر اختیار افراد) 462

حقوق مسافر 463,271,282

حقوق مہمان 966,957

حقوق وراثت 510

حقوق رفیق کار (دوست ساتھی) 462

حقوق قرض دار 464,272

حقیقت

حقیقت انسان 394

حقیقت جنات 381

حقیقت دنیا 427,418

حکمت (احکام الہیہ) 110,981

کائنات کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں 371

انسانی عقل اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے سے قاصر 373

مشرکوں کے جھوٹے حذائف کو برانہ کہنے میں 581

قانون قصاص میں حکمت 560

اسلام کی تعزیری سزاؤں کی تشہیر میں حکمت 565

قرآن کریم عربی زبان میں نزول کی حکمت 230

قرآن کے بتدریج نزول میں حکمت 240,239,210

مال غنیمت اور فنی کی تقسیم کے حکم میں حکمت 669

ہر قوم پر پیغمبر مبعوث کرنے میں حکمت 373
بعثت رسول کریمؐ میں حکمت 179
رزق میں درجہ بندی کی حکمت 391
قوانین پردہ میں حکمت 541
قرآنی امثال کے بیان میں حکمت 1129
ایک مرد کے بدلے میں دو عورتوں کی گواہی
میں حکمت 568
عورت پر مرد کو ایک درجہ دینے میں حکمت 523
بیان قصص قرآن میں حکمت 904
قدرتی اسقاط حمل میں حکمت 400
زندگی اور موت کے سلسلہ میں حکمت 403
آزمائش انسان میں حکمت 403
حکمران طبقہ

حکمران طبقہ کا انتخاب 549
حکمران طبقہ کے فرائض 685,684,675,553
حکمران طبقہ کی اطاعت 552
حکمران طبقہ کا فتنہ و فوج میں مبتلا ہوجانا 675
بری قیادت کا انجام 936,684
حکمت البالغہ (کامل حکمت) (دیکھئے زیر عنوان الہامی کتابیں)
740 --
حلالہ 528
حلال رزق (روزی) 499
حلال غذائیں 502
حلال و حرام کا خود مختار بن جانا 594,550,507
حلال و حرام شریعت یہود 594
حلف (قسم اٹھانا) 571
حلف (غلط اٹھانے والے) 569
حلفاً گواہی 571,568
حمد و ثناء 1085,882,652,376,294,112,103
حمل

حمل آور ہوائیں 350,349
حمل کا قرار پانا 395,394
حمل کے رموز 395
حمل کی قلیل ترین مدت 400
حمل کو چھپانے کی ممانعت 538

حمل کے تحفظات 538
حمل مریمؑ 1094
حمل و نقل 340,362
حمر الاسد غزوہ 706
حنین غزوہ 718
حنیف (دیکھئے دین ابراہیمؑ) 91
حواء 909
حواری عیسیٰؑ (مسیحی راہب) 1100
حواس خمسہ 404,396
حور 876
حوض کوثر 870
حیاء و شرم 543,876,541
حیات

حیات دنیا 418
حیات بعد الموت 1081,953,777,98
حیات طیبہ رسولؐ کے واقعات 686
حیات موتی (حضرت ابراہیمؑ کا سوال) 953
حیات موتی (حیاتیاتی ترکیب انسان) 394
حیض 535,332,521
حیلہ (بہانہ سازی) 157
حیوانات (دیکھئے زیر عنوان جانور، چوپائے) 359
حیوانات کی جماعتیں 359
حیوانات کی افزائش نسل 359
حیوانات کے جوڑے 924,359

خ

خاتم الانبیاء (ختم المرسلین) خاتم النبیین 166,99
خارجہ تعلقات 665,663,585,553
خارجہ پالیسی 553
خالہ 516
خانہ کعبہ 625,624
سب سے پہلی عبادت گاہ 624
کی تعمیر 624
مشرکوں کے داخلہ پر پابندی 625
مقام ادب 625

مقام امن 624
پر حملہ (اصحاب الفیل) 686
خاوند کے حقوق (دیکھئے بیوی کے فرائض) 523
خاوند کے فرائض 522
خانگی زندگی (دیکھئے عائلی قوانین) 514
خاندان
خاندان اور قبیلے 523,443
خاندان کے سربراہ کے فرائض 444
خاندان رسول (دیکھئے زیر عنوان اہل بیت)
خاندان عمران (دیکھئے قصہ مریمؑ) 1091
خاندان فرانسہ (دیکھئے قصہ موسیٰؑ) 1004

ختم نبوت (ختم الرسل) 166,99
خاندانی منصوبہ بندی کا تصور 533
خانہ بدوش 728
خبر کی تحقیق کرنا 470
خبر غلط پھیلانا 660
خدمت خلق (دیکھئے حقوق العباد)
خرافات اور لغو گفتگو 883
خرچ کے اصول 496
خرچ دنیا کی زندگی کے لئے 498,427
خرد برد سرکاری فنڈ 555
خدام جنت 878
خزانے رزق (دیکھئے زیر عنوان رزق) 388,338
خزانے قارون کے 1030
خشوع و خضوع نماز 255
خصائل

خصائل مومن 764
خصائل مذمومہ 473
خصائل حمیدہ 465
خصوصی احکامات
تکریم نبویؐ 182
برائے ازواج رسول کریمؐ 189,184
برائے نو مسلم اور مومن خواتین خاتمہ
-- جنگ و جہاد پر 669
برائے (مہاجر خواتین) 671

خیانت زوجہ لوط 969
 خیانت زوجہ نوح 927
 خیانت زوجہ عزیز مصر (زیلجا) 983,98
 نظام خداوندی سے 493,423
 امانت کی حفاظت میں 767,765,492
 معاہدوں کی پابندی میں 666
 غیروں کے ساتھ 492
 خیبر (غزوہ - فتح - قلعہ) 716,715
 خیرات 490,275
 گناہوں کی بخشش کا ذریعہ 276
 ذریعہ خوشنودی اللہ 276
 گناہوں کا کفارہ 279
 ذریعہ افزائش و برکت رزق 277
 سے گریز ہلاکت 278
 کے مستحقین 282
 کے مصارف 282
 کا دو چنداگر 277
 کامیاب دائمی تجارت 277
 اللہ کو قرض حسنہ 277
 کے بربادی کے عوامل 281
 کے اصول 280
 برائے ایصال ثواب 286

خیر مقدم کرنا 447

خیر

خیر الازقین (سب سے بہتر رازق)
 1122,1102,658,388,277,257 -
 خیر الحاکمین (سب سے بہتر حاکم، فیصلہ کرنے والا)
 1021,1102,658,388,277,257 -
 خیر الفاتحین (سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا)
 1001,1000
 خیر الغافرین 1052,1020
 خیر الناصرین (سب سے بہتر مددگار) 629
 خیر الغافرین (سب سے بہتر بخشنے والا) 557
 خیر الوارثین (سب سے بہتر وارث)
 1122,1089,1087 -
 خیر المنزلین (سب سے بہتر اتارنے والا)
 1118,988,925 -

خوان نعمت (دیکھئے خوان سماوی) 1146,1101,1092

خودکشی 561

خمر (دیکھئے شراب)

خود فریبی (دیکھئے زعم باطل) 832,127

خود نمائی (دیکھئے مغرور، تکبر، شہی، بریا کاری)

خون بہا (دیت) 560,559

خود ساختہ شریعت (بطیرہ منکرین) 507

خود ساختہ علماء (جبار) 418

خود ساختہ جلاوطنی

جلاوطنی (موسیٰ) 1035,1009

جلاوطنی (ابراہیم) 950

جلاوطنی (یونس) 1085

خورد و نوش (دیکھئے آداب طعام) 449

خوشامد پسندی 480

خوش گمانی (حسن ظن) 467

خوش حال طبقہ کافس و فجور 684,675

خوش حالی پر گھمنڈ 685,297

خوش حالی میں اللہ کی یاد سے غفلت 685,297

خوش گفتاری 467

خوش آمدید کہنا 864

خوش بودار پھول 873

خوش خبری (دیکھئے زیر عنوان بشارت)

خوش خبری فتح مومن 656,655,654

خوش فہمی قوم عاد 933

خوش فہمی اہل کتاب 617,599

خوش فہمی قریش مکہ 859

خوف

خوف اللہ تعالیٰ کا (دیکھئے تقویٰ) 306

خوف کا علاج 472,305,295,258

خوف صرف اللہ سے کرو 306

خوف اللہ کیفیت 308

خون بہا 559

خیانت 492

خیانت آنکھوں کی 111

خیانت خصلت کافرین 493

حضرت علیہ السلام 1058

ملاقات موسیٰ 1058

باہم تین سفر 1059

پہلی منزل - کشتی میں سوراخ کر دینا 1059

دوسری منزل - لڑکے کا قتل 1060

تیسری منزل - دیوار کو سیدھا کر دینا 1060

دوران اعمال کے رموز کا انکشاف 1060

خط سلیمان بن الملک سباء 1076

خط و کتابت سے تبلیغ کا تصور 1076

خفیہ مشورے (تدبیریں) 111,106

خلا کی تسخیر 327

خلا کی حد 327,231

خلد برین (جنت) 911,860

خلع (عورت کا حق حصول طلاق) 529

خلق جدید 780,779,778

خلافت آدم (دیکھئے تخلیق آدم) 906

خلیفہ الارض 906

خلیفہ اللہ 906

خلیل اللہ 906

خمر (دیکھئے زیر عنوان شراب)

خندق (دیکھئے اصحاب الاغود - غزوہ احزاب) 709,1113

خنزیر (دیکھئے حرام غذا کیں) 1070,505

خواب

خواب ابراہیم 956

خواب حضرت محمد ﷺ 729,717

خواب یوسف 995,978

خواب شاہی قیدی 984

خواب بادشاہ مصر 985

خواب کی تعبیر کا علم 986,984,977

خوان سماوی (حواری عیسے) 1101

خوان سماوی (من سلوی) 1044

خوان سماوی (مریم) 1092,1091,1090

خواہشات نفسانی 415

خواہشات دنیا 415

خواہش نفس کا غلام انسان 416

خیر الما کرین (سب سے بہتر تدبیر کرنے والا)
761,126 --
خیر الرحمن (سب سے زیادہ رحم کرنے والا)
1120,840,314 --
خیر امۃ 631
خیر کثیر 523,441,373,117



دابتہ الارض 788

داخلہ

حدود مقیات پر پابندی برائے مشرکین 663
داخلہ اپنے گھروں میں 444
داخلہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں 444
دادا کے حقوق 452
داروغہ جہنم 896
داروغہ جنت 864
داؤد علیہ السلام 1067

زبور کا عطا کیا جانا 1067

معجزات داؤد 1068

قوت فیصلہ معاملہ فہمی 1069

دائیں ہاتھ والے (اصحاب الیمین) 799

دب اصغر (ستارہ) 329

دب اکبر (ستارہ) 329

درجہ بندی بلحاظ اعمال 372

درجات اولیٰ 861

درخت (شجر کاری) 874,355

دختران شعیب 1010

درس و تدریس 439

درگذر کرنا (عفو) 557,466

درگزر چھوٹی لغزشوں پر 726

درود و سلام (دیکھئے سلام) 377

دریا

کھارا اور شیریں پانی 343

ذریعہ سفر 341,340

ذریعہ تجارت 341,340

ذریعہ کشتی رانی 341,340

ذریعوں کی کیفیت روز قیامت 795

ذریعے نیل 1006

ذریعے قلمزم 1037

درے مارنا (کوڑوں کی سزا) 565

دستور سازی 549

دستور عمل ہر قوم کیلئے (دیکھئے شریعت) 374

دستور العمل اسلام (دیکھئے عقائد، عبادات، احکام)

دستاویزات لین دین 494,492,491

دشت تیبہ 1043

دشمن

دشمنی ختم کرنے کا طریقہ 446

دشمنی باہم مجرمین روز قیامت 845

دشمنی جبریل و میکائیل 380

دشمن کو بھی جان کی پناہ دینا (دیکھئے جہاد)

667,665,664,585 --

دشمن سے صلح کے معاہدے 665

دعا 1116

دعا مانگنے کا حکم 1116

اللہ دعا میں سنتا ہے 1116

اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگی جائے 1116

دعا مانگنے کا طریقہ آداب 1116

دعا گھبراہٹ خوف پریشانی کا علاج 1116

قبولیت کی امید رکھ کر مانگیں 1117

دنیا اور آخرت دونوں کیلئے مانگنے کا حکم 1117

صرف دنیاوی فوائد مانگنے کی ممانعت 1117

قبولیت کے اسرار و رموز 767,766

جن کی دعا قبول ہوتی ہے 141

قبولیت میں جلد بازی (انسان فطرت) 411

دعا میں خلوص (خشوع و خضوع) 438,437,406

دعا میں 1116

دعا آدم و حوا 1117

دعا نوح 1118,1117

دعا ابراہیم و اسمعیل 1119,1118

دعا یوسف 1120

دعا موسیٰ 1121,1120

دعا ایوب 1120

دعا سلیمان 1121

دعا یونس 1121

دعا زکریا 1122

دعا عیسیٰ 1122

دعا نبی کریم 1122

دعا ساحران دربار فرعون 1121

دعا زوجہ فرعون آسیہ 545

دعا مغفرت 1120,1119,1118,1117

1124,1121 --

دعا سواری و سفر 1126,1118,1117

دعا برائے والدین 1123,1121,1119,1118

دعا برائے اولاد 1119,1118,548

1123,1122 --

دعا برائے صحت و تندرستی 1119

دعا برائے حفاظت (حفظ وامان) 1127,1119

دعا برائے عطاء علم 1122,1119

دعا برائے نجات آلام و مصیبت 1121,1120

دعا برائے شرح صدر و عقدہ کشائی 1120

دعا برائے صبر و استقامت و کامیابی

1126,1125,1124,1122,1121 --

دعا برائے تشکر خداوندی 1123,1121

دعا برائے رزق 1126,1122

دعا برائے جیون ساتھی (رفیق حیات و اہل خانہ) 1123

برائے نجات حسد و شر و وسوسہ شیطانی

1128,1127,1124--

دعا برائے طلب چیز بوقت بے چارگی 1121

دعا برائے سلامتی ایمان 1125

دعا برائے عزت و مرتبہ 1125

دعا برائے صراط مستقیم 1126

دعا برائے ایصال ثواب 1127

دعا اپنی کوتاہیوں کے مضمرات سے بچنے کے لیے

1124,653 --

دعا باہمی کدورتوں سے بچنے کے لیے 1124

دعا پرسکون گھریلو زندگی کے لیے 1123,456

305,298,295,258 ---

دلوں کی بیماری کا علاج 365

دلوں کے بھید (روز قیامت) 807

دنیا کی زندگی

محض کھیل و تماشہ 418

کے عارضی اسباب 426,418

کیلئے خرچ کی کیفیت 498,427

دنیا کے اسباب پر اطمینان اور خوش ہونا 419

دنیا کی زندگی کی آسائش ایک آزمائش 419

میں زیادہ سے زیادہ دن گزارنے کی خواہش 422

دنیا کی زندگی کے اسباب پر اترانے کا انجام 427

دنیاوی ٹھاٹھ میں لگن لوگوں سے دوستی کی ممانعت 430

دنیا کی زندگی میں جدوجہد کی ترغیبات 433

دنیا کی زندگی بمقابلہ آخرت 431,418

معاملات زندگی میں بھرپور حصہ لینے کی ترغیب 433

ترک دنیا (راہبانہ زندگی) کی ممانعت 433

دنیا کی زندگی میں نعمتیں اور جائز اسباب سہولت 435

دنیاوی زینت حلال ہے 435

دنیاوی الغامات پر شکر واجب 436

دنیا میں قیام کی مدت 812

دن اور رات 332

دن کام اور تلاش معاش کیلئے 336

دودھ

جانوروں کے پیٹ سے خالص دودھ 361,360

ماں کا دودھ 533,534

دودھ پلانے (رضاعت) کے حقوق 533

دودھ پلانے کی معیاد عرصہ 534

دودھ پلانے کا معاوضہ 534

دودھ کی نہریں (بہشت میں) 870

دوزخ (دیکھئے جہنم) 885

دوستی اور تعلقات 484,465,385,187

دوستی مومن سے 770

دوستی منافق سے 751

دوستی جاہل لوگوں سے 465

دوستی میں احتیاط 484,465,385,187

دعا دنیا اور آخرت کی خوش گواہیوں کیلئے 1117,

1078,456 --

دعا متوازن روش زندگی کیلئے 1126

دعوت

دعوت الی اللہ (دیکھئے تبلیغ)

دعوت الی اللہ (دیکھئے زیر عنوان) 631

دعوت غور فکر (دیکھئے زیر عنوان غور فکر)

دعوت غور فکر پیغمبران (دیکھئے زیر عنوان غور فکر)

دعوت غور فکر مظاہر قدرت 350,344,320

1017,931,920 --

دعوت فکر (دیکھئے حقیقت انسان) 402

دعوت فکر مشرکین کو 153

دعوت طعام 449

دعوت ملاقات 189,188,184

دعوت ملاقات شعیب 1010

دعوت مباہلہ 607

دعا بازی 555

دفاع

دفاع ملکی 553

دفاعی ساز سامان 1068

دفاع اپنی جان 581,561

دفن کرنا (میت) 915,776

دکھلاوا 297,282,256

دکھلاوے کی نماز 256

دکھلاوے کی عبادت 297

دکھلاوے کی خیرات 282

دل (دیکھئے قلب)

دل کی اقسام 413

دل کی کیفیات 413

دل کی دھڑکن (شروع ہونا) 396

دل کے بھید سے واقف 111,107

دلوں میں باہم الفت 118

دلوں کی کدورت 882

دلوں پر تسکین کا نزول 414

دلوں کا اطمینان (یا اللہ سے)

دوستی باہم متقین روز قیامت 845

دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح 473,468

دولت

دولت مند طبقہ کا فسق و فجور 684,675

دولت کا حرص 426,425,411

دولت کا ضیاع 496

دولت کی محبت 423

دولت کا غرور 425

دولت سمیٹنا 499,384,383,284

دہشت گردی

دہشت گردی فرعون 1005

دہشت گردی یہود (دیکھئے قصہ صاحب خندق) 1113

دہشت گردی عیسا (دیکھئے قصہ صاحب کہف) 1105

دیدار اللہ تعالیٰ 833

دیات و کفارات 525

دیانتداری (امانت) 492,485,461,460

523,509,508,494 --

دیت (خون بہاقتل خطاء) 566,560

دیدار اللہ (لقا اللہ) 833

دیمک 1079,365

دین اسلام (دیکھئے زیر عنوان اسلام) 89

عقائد کی عملی اطاعت کا نام 96

اللہ کی رضا کے سپرد ہونا 89

کے سوا کوئی دین قبول نہیں ہوگا 89

ایک کامل دین 89

اسلام ہی ہدایت 89

قبول اسلام کی توفیق 89

کو مکمل اپنانے کا حکم 90

دین اسلام کی تکمیل 166

خاتمہ اسلام پر ہی ہونا چاہئے 90

تمام انبیاء کرام کا دین اسلام 92

تمام پیغمبران پر ایمان اور تکریم کا حکم دیتا ہے 93

تمام الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم 94

آخری دین 94

دین اسلام اور ایمان 96

محض زبانی دعویٰ کافی ہیں 96
نیت کے ساتھ ساتھ کوشش لازم ہے 96

دین

دین اسلام کے خلاف تحریکیں 629
دین کی تبلیغ (دیکھئے دعوت تبلیغ) 631
دین میں غلو (مبالغہ آمیزی) 1104,604,96,95
دین میں پیوند کاری کی ممانعت 608
دین سے مذاق کفر 94
دین فطرت (دیکھئے زیر عنوان دین اللہ) 402
دین میں فرقہ بندی 617
دین میں جبر (غیر مسلم کے لئے) 634
دین ابراہیمی 91
دین میں فرقہ بندی 617
دین اللہ (نظام قدرت) میں تغیر نہیں
(دیکھئے زیر عنوان انبیاء کرام) 378,370

سب پیغمبرانسان (بشر) بھیجے گئے 921,191
-- 1019,1001,938 --
سب پیغمبروں کی اللہ نے مدد کی 935,928
-- 1037,1003,970,954,943 --
سب پیغمبروں نے اللہ کی کتاب پر عمل کا حکم دیا 97
-- 249,248,247,946,245,207,163 --
سب پیغمبروں نے توحید کی تعلیم دی (شرک سے روکا)
-- 947,936,930,920,917,154 --
-- 1017,1014,998,984 --
-- 1079,1074,1057,1048 --
سب پیغمبروں نے ڈرایا اور خوشخبری سنائی 922,917
-- 1017,1014,984,947,936,930 --
-- 1079,1073,1057,1050 --
سب پیغمبران نے توبہ کی تلقین کی 937,933,919
-- 1050,1001,999 --
سب پیغمبران نے استغفار کی تلقین کی 930,919
-- 1050,999,937 --
بہت سے پیغمبروں نے توکل کی تعلیم دی 305
سب پیغمبران نے شکر کی تلقین کی 937,931
-- 995,948 --
سب پیغمبروں نے تقویٰ کی تعلیم دی 310
سب پیغمبروں نے تبلیغ دین کی 636
سب پیغمبروں نے جہاد کیا 645
سب پیغمبران میں تھے 999,963,937,919

سب مذاہب کی شریعت میں (اقوام کو اللہ نے)

-- نماز کا حکم دیا 973,251,250

روزہ کا حکم دیا 263

زکوٰۃ کا حکم دیا 973,268

عشر کا حکم دیا 1111,1109

والدین کی تکریم کا حکم دیا 1098,1090

-- 995,974,947 --

دیوار اعراف 839

دیوار سکندری (ذوالقرنین) 1083

دیویاں (بت)

لات 590

منات 590

عزی 590

دھ

دھاتیں (دیکھئے زیر عنوان معدنیات)

دھوپ 883

دھوپ کی حدت 910,883

دھوکہ دہی (فراڈ) 555

دھوکہ (سراب) 1078,857

دھوکا (اللہ تعالیٰ کے ساتھ) 578,412,297,280

دھمکیاں پیغمبران کو خصلت کافرین

دھمکی قتل 1021,941,203

دھمکی سنگسار 1110,1021,1000,947,922

دھمکی قید 1021,981,205

دھمکی جلاوطنی 1000,964

دھواں دار بادل (دیکھئے زیر عنوان عذاب)

دھواں (دیکھئے زیر عنوان جہنم کے عذاب)

ڈ

ڈاکہ 997,962,562

ڈکیتی 997,962,562

ڈکٹیٹر شپ (آمریت) 551

ذات پات کے نظام ہندو ازم کی نفی 590,589

ذبح اللہ (حضرت اسماعیل) 972,956

ذبح عظیم 972

ذبیحہ حلال (اللہ سے منسوب) 502

ذبیحہ حرام (غیر اللہ سے منسوب) 505

ذخیرہ اندوزی 486

ذرائع علم 145

ذرائع آمدورفت نقل و حمل

چوپائے 362,361

جہاز کشتیاں 350,341,340

ذکر رب تعالیٰ 294,112,103

کے مناسب اوقات 295

باعث تقویت ایمان 295

علاج پریشانی گھبراہٹ 295

سے غفلت کا انجام 297,296

ذریعہ اطمینان قلب 295

ذریعہ قرب اللہ 294

ذکر بلند

حضرت ابراہیمؑ 944

حضرت محمدؐ 166

ذکر جمیل

حضرت ابراہیمؑ 944

حضرت نوحؑ 928

ذکر خیر

حضرت الیاسؑ 1065

حضرت ابراہیمؑ 956

ذکر کثیر 632,294

ذلت و خواری کے اسباب 413,411,511,463,460

ذوالنون 1084

ذوالقرنین 1082

انتہائے مشرق و مغرب کے سفر 1082

سیسہ پلائی دیوار بنانا (سد سکندری) 1083

بذریعہ ادائیگی شکر 436,300

رزق کی فراخی

احسان رب تعالیٰ 435

برائے آزمائش 435,432,422

رزق میں کمی (نگی)

ناشکری کی وجہ سے 302,301

اعمال بد کی وجہ سے 393

اللہ تعالیٰ کی ناراضگی 432,301

برائے آزمائش 432,393

رد شرک (دیکھئے توحید و ابطال)

رد عقائد باطلہ (دیکھئے عقائد باطلہ)

رسالت نبی کریم ﷺ 99

رسول (دیکھئے پیغمبران) 98

رسول ہر امت کیلئے 373

رسول کریم (دیکھئے محمد ﷺ) 167,163

رسول کریم (حضرت موسیٰ علیہ السلام) 1037

رسول امین (دیکھئے امین سنت پیغمبران)

رسوم و رواج زمانہ جاہلیت 483,159

رسم پتسمہ (اصطباغ) 589

رشتے ناطے 458

رشتے ناطے (روز قیامت) 818,815

سرا ل رشتے 458,443

حسب و نسب کے رشتے 458,443

رضاعی رشتے 458,534

رشتہ داروں کے حقوق 458,282,271

رضائے حق کی تلاش (دیکھئے اللہ کی خوشنودی کے حصول)

253,266,284,294,466,644

رعایت (استثناء شرعی عذر)

روزہ رکھنے میں 262

شرکت جہاد میں 645

پردہ کی پابندی میں 542

ہجرت سے 670

پاکیزہ اور حلال غذا میں 504,502

قل خطا پر 560,559

ربا (دیکھئے سود)

ربوہ (مقام پیدائش حضرت عیسیٰ) 1096

رجم (سنگسار کرنا) 566

رجوع اللہ (دیکھئے توبہ استغفار)

رحم کھانا (دیکھئے عفو۔ معافی)

رحم کے راز 538,398

رحمت خداوندی 123,121,119

رحمت خداوندی سے مایوسی گمراہوں کا کام 957

رحمتہ العالمین (نبی کریم) 174

رزق 387

تمام مخلوقات کا رازق اللہ 391,387

جس نے پیدا کیا وہی رزق دیتا ہے 387

جانور اور پرندے رزق کی تلاش 387

اللہ کا رزق کبھی ختم نہیں ہو سکتا 869,387

سب سے بہتر رزق دینے والا 388

رزق جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو 388

رزق میں ہر کی بیشی کا اختیار اللہ کے پاس 389

رزق کی درجہ بندی اور اس کی اہمیت 391

اگر اللہ رزق بند کر دے؟ 392

رزق حلال 393,450

رزق حرام 502,499,393

رزق کریم 502,499

رزق کے خزانے 391,389

زمینوں میں 360,352,325

آسمانوں میں 388

ہواؤں اور فضاؤں میں 349

دریاؤں اور سمندروں میں 389

رزق کی تلاش

کیلئے دن 336

تلاش کیلئے سفر 437

رزق کی تطہیر

بذریعہ ادائیگی زکوٰۃ و خیرات 266

رزق کی افزائش (کشادگی)

بذریعہ ادائیگی زکوٰۃ و خیرات 277,267

بذریعہ ادائیگی عشر 274

بذریعہ اعمال صالح 436,259

یا جوج ماجوج کے فساد کا سدباب 1083

ذوالکفل علیہ السلام 1065,916

ذوق جمال (دیکھئے زیر عنوان حسن)

ذہنی آوارگی کے جرائم کی روک تھام 555

ذی القرباء (دیکھئے رشتہ دار) 458,443,282,271

ذہنی خلفشار کا علاج 305,298,295,258

رات

آرام کیلئے 336

رات کی تاریکی 335,332

رات کا بدلنا 335

رات کو روزانہ موت 117

راز

رازدل (دلوں کے بھید) 111,109,107

راز زمین روز قیامت 792

راز رحم (ماں کے پیٹ کے راز) 538,398

رازدار غیر مسلم کو بنانے کی ممانعت 430

غیب کی باتوں کے 108

راہب (دیکھئے نصاریٰ)

راہبانہ زندگی 601,434

راست گوئی (دیکھئے سچ بولنا۔ شہادت و گواہی کے اصول)

راستے

راستے پہاڑی 339

راستے سمندری 341,340

راستے اندھیروں میں 332

راشدون (دیکھئے صحابہ کرام) 758

راہب (خود ساختہ علماء) 595,426,270

رایگاں محنت (دیکھئے اعمال رایگاں) 569

رب

رب تعالیٰ (دیکھئے اللہ تعالیٰ)

رب العالمین 367,366,103

رب کریم 400

رب السموات الارض 322,321

رب المشرقین و المغربین 324

رب المشرقین 324

رب المغربین 324

رب الافواج 365,655

زبور 1067,248
 زبور کی تصدیق 248,245
 زبور میں تحریف دانستہ (دیکھئے اصحابِ سبت)
 -- 1068
 زبردستی (دیکھئے ظلم) 556
 زخمِ رسائی کا قصاص 593
 زراعت 351
 زرد صحافت 482
 زرد شاعری 483
 زرپرستی (دیکھئے سونا چاندی) 426
 زرتشت (دیکھئے بھوس) 589
 زرعی ٹیکس (عشر) 274
 زرہ بکتر 1066
 زعم باطل
 زعم باطل اہل کتاب (دیکھئے زیر عنوان زکوٰۃ)
 یہود و نصاریٰ 859, 821, 617, 599
 روحانیت اور تزکیہ نفوس کے غلط دعوے 821
 اپنے آپ کو پاکیزہ کہنا 821
 زقوم (درخت) 355
 زکریا علیہ السلام 1087
 بشارت پیدائش یحییٰ 1087
 کفالت مریم 1089
 چپ کا روزہ 1088
 بڑھاپے میں اولاد 1088
 زکوٰۃ
 پہلی اقوام پر بھی فرض کی گئی 973,268
 شمولیت اسلام کی بنیادی شرط 266
 گناہوں کا کفارہ 266
 موجب تزکیہ نفس 266
 باعث تطہیر مال و رزق 266
 ذریعہ حصول رضا الہی 266
 ذریعہ قربت الہیہ 267
 کبھی تباہ نہ ہونے والی تجارت 268
 کے مستحقین - مصارف 271
 کی تقسیم 273

روز قیامت 788,782,98
 روحانی پاکیزگی 775
 روزہ 262
 ہر مسلمان پر فرض 262
 پچھلی اقوام پر بھی فرض کئے گئے 263
 ضبط نفس کا کورس 262
 اوقات سحر و افطار 262
 کی رعایت 262
 کی قضا 262
 بطور کفارہ 573,292,289,264
 کافدیہ 263
 چپ کا روزہ حضرت زکریاؑ 1088
 چپ کا روزہ حضرت مریمؑ 1096
 روشن چراغ (محمد ﷺ) 165
 روشنی اور نور (قرآن کریم) 223
 روشنی اور تاریکی 332
 رومن کیتھولک 607
 رومن - بنیاد پرست عیسائی 1105,607,601
 رومن کی فتح کی پیش گوئی 686
 رہنمائی سفر 332
 رہبانیت (ترک دنیا) 434,601
 رہن - گروی 495
 رہزنی (دیکھئے ڈاک - ذکیتی)
 رہنما (لیڈر) اقوام منکرین
 -- 939,835,684,675
 رئیس لوگ (دیکھئے زیر عنوان سرداران اقوام سابق)
 939,684,675
 ریا کاری دکھلاوا (نمائش) 297,282,256
 ریور چرانا (سنت پیغمبران) 1011
 زائر آفاقی 288
 زبان اور رنگ کا جدا جدا ہونا 443
 زبانی دعویٰ اسلام کافی نہیں 96
 زبانی اقرار اور عمل 473
 زبانیہ (جہنم کے سپاہی) 628

رشتہ داروں کے حقوق 458,282,271
 رشد و ہدایت (وحی رب تعالیٰ) 635
 رشتوں کا انقطاع 1129,458
 رشک باہم (ازواجِ مطہرات) 727
 رشک اعمال صالح 319,313,275,269
 -- 864,468
 رشوت خوری 555
 رضاعت کے حقوق 534,533,516,458
 رضاعی ماں 516
 رضاعی بہن 516
 رضاعی الہی 644,276
 رعد (آسمانی بجلی) 348
 رغبت حرام رزق 595,555,500
 رغبت عقائد باطلہ 608,159,155
 رفاقت صالحین 878,877,876
 رفتار اور فاصلوں کے راز 328
 رفع جبل طور پر (بیثاق نبی اسرائیل) 1052
 رفیق کار (ساتھی دوست) کے حقوق 462
 رفیق غار ثور (ابوبکر صدیقؓ) 759,693
 رکوع و سجود (دیکھئے نماز) 255
 رمضان المبارک کا مہینہ 262
 رموز (دیکھئے حکمت)
 رموز کائنات 329
 رموز تخلیق نبی آدم 394
 رنگ و نسل کے امتیاز کی نفی 582
 روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ 910,391
 روح کی حقیقت 775
 روح اللہ 775
 حضرت عیسیٰؑ 1095
 حضرت جبرئیلؑ 775
 روح الامین (حضرت جبرئیل) 775,264
 روح القدس (حضرت جبرئیل) 905,775
 رحمت رب تعالیٰ (دیکھئے عنایات اللہ) 123,119
 روز جزا 798,785
 روزِ حشر 815

زیتون کا تیل 357

زیورلت کی جھنکار (دیکھئے شرم و حیا۔ حجاب اور پروئے کے احکام)
543,542,426 --

ز

ژالہ باری 348

س

سادگی 544

سابقون اولون 761,688,639

سابقین مقربین 943,935,927,924,763,762
1037,1022,1003,990,970 --

مؤمنین ابراہیمؑ 954

مؤمنین شعیبؑ 1003

مؤمنین صالحؑ 943

مؤمنین موسیٰ علیہ السلام 1037,1029,1023

اصحاب کہف 1105

مؤمنین لوطؑ 970

مؤمنین نوحؑ 928

مؤمنین ہودؑ 935

اصحاب القریہ 1110

سات آسمان 322

ساتھی (دیکھئے رفیق کار کے حقوق) 462

سادھو (خود ساختہ رہبان) 595,426,270

سارق۔ سرقہ (دیکھئے چوری)

سارہ (زوجہ ابراہیمؑ) 958

سائنس و ٹیکنالوجی (دیکھئے فضیلت علم، جہاد، علوم القرآن)

سایکالوجی (دیکھئے زیر عنوان علم النفس) 440

سازش

سازش زلیخا 983,981

سازش برادران یوسفؑ 979

سازش قتل عیسیٰؑ 1102

سازش قتل صالحؑ 941

سازش کفار مکہ (دیکھئے ہجرت مدینہ) 742,693

سازش منافقین مدینہ 718,716,704,703

726,723,711,742,728 --

زندگی اخروی (جنت و جہنم) 885,880

زندگی سماجی 443

زندگی آمد برائے بندگی 405

جہنم کی زندگی بسر کرنے والے 344

زوال عروج اقوام 673

زوجہ

زوجہ آدم 909

زوجہ ابولہب 187

زوجہ زکریا 1088

زوجہ عزیز مضر 987,983,981

زوجہ عمران 1091

زوجہ فرعون 1006,545

زوجہ لوطؑ 969,545

زوجہ ابراہیمؑ (حاجرہ) 955

زوجہ ابراہیمؑ (سارہ) 957

زوجہ نوحؑ 927,545

زوجہ ایوب

زوجین (دیکھئے مائلی توانین و جسیاتی فتاویٰ) 514

زویا لوجی (علم الحیوانات) 359

زندہ در گو کرنا کیوں کو 561

زندہ اور قائم ذات 104

زیادتی (ظلم) 585,557,556

زیادہ کھانا 449

زیب و نمائش

قدرت کے عطیے 331,329

فضائیں چراغ 331

انسانی زندگی کے لئے عطیات 418

جنت کی نشست گاہوں کا آراستہ ہونا 880,874

عارضی آسائش کی بجائے مستقل آسائش کی طلب 427

زیب و زینت کا اظہار 543,542

اظہار بذر یہ ملکیت مال مویشی 363,361

اظہار بذر یہ مال و دولت 430,427

اظہار بذر یہ اولاد 425

اظہار بذر یہ زیورات کی نمائش 545

زیب و زینت کی اجازت 435

زید بن حارث 357,35

زیتون 357

کا اجر 267

کی ادائیگی اللہ کو قرض 268

ترک ادائیگی علامت شکر 270

زلزلہ

زلزلہ قیامت 791,339

زلزلہ (بصورت عذاب) 1001,941

زلزلہ سے حفاظت کا قدرتی نظام 338

زلیخا 987,983,981

کانکر 981

کی دعوت 982

کا اقرار جرم 987

زمانہ جاہلیت (دیکھئے قہم پرستی)

زمانہ شیر خواری

عرصہ (دیکھئے دو درجہ پلاسٹک کی معیار)

زمانہ شیر خواری میں کلام

حضرت یوسف کی صفائی میں بچے کا بولنا 982

حضرت عیسیٰ کا والدہ کی گود میں بولنا 1097

زمین

زمین کی تخلیق 321

زمین کا پھیلاؤ 325

زمین پر معیشت کے خزانے 352

زمین کا سرسبز و شاداب ہونا 351

زمین کا بنجر و خشک (مردہ) ہونا 351,346

زمین پر رہائش آدم و حوا 911

زمین کا بتدریج گھٹنا 326

زمین زلزلوں سے حفاظت 338

زمین کے راز (روز قیامت) 792

زنا اور بدکاری 536

زنا اور بدکاری کی سزائیں 536

زینا بالجبر 555,537

زخمیل (سونڈھ) 871

زندگی

زندگی کا احترام 559

زندگی کا تحفظ 559

زندگی کی حفاظت 561,559

زندگی کے مدارج 397

زندگی اور موت 646,403,117,115

زندگی دنیاوی 426,418

سخت کلامی کا اچھا جواب 446	ستارہ ثاقب 329	سازش یہود 745,742,711,707,695
سدرۃ المنتہی 689	ستارہ شعری 329	ساحر (دیکھئے جادوگر)
سد سکندری (ذوالقرنین) 1083,788	ستارہ طارق 329	ساس (خوش دامن) خاندنیا بیوی کی والدہ 516
سدوم اور عموره 962	ستاروں کی کیفیت روز قیامت 795	سامان معیشت 352,325
سراب 1131,1078,857	ستاروں کا جھرمٹ 329	سامان آخرت (جزائے اعمال) 307
سرحدوں کی حفاظت 646,553	رات کو آنے والا ستارہ 329	سامان دنیا 426,418
سرداری نظام کی نفی 582,551	صبح کا تارا 329	سامری جادوگر 1048
سرداران اقوام منکرین روز قیامت 835	ستارہ پرست 945,589	سامی سلسلہ پیغمبران کے جد امجد (ابراہیمؑ) 944
سرداران (منکر اقوام)	ستر پوشی 544	سانپ 365
سرداران قوم شعیب 999	ستر پوشی آدم و حوا 911	سائل کے حقوق 463,281,271
سرداران قوم صالح 938	سرپرست	سائل سے رویہ 280
سرداران قریش مکہ 190	سرپرست (ولی) کا تصور 514	سائل کو جہیز کی نداد 282
سرداران قوم عاد 931	سرپرست خاندان 444	ساتبان 897
سرداران قوم نوح 920	سرپرست جائیداد 462,460	سائرس یونانی 1082
سرداران قوم ابراہیمؑ قوم شمرد 953,949,938	سرمایہ دارانہ نظام 489,171	سایہ بادل 1044
سرداران قوم نبی مدین 999	سٹہ بازی 562,555,501	سائے (بڑھتے گھٹتے) 333
سردی کی شدت سے حفاظت 883	سجدہ	سایہ دار درخت 874
سردی کی شدت کا عذاب 1141,898,891	تمام کائنات صرف اللہ کو 115,113,112	سایہ کا میسر نہ ہونا (جہنم) 897
857,438,427--	تمام جاندار مخلوق کا سجدہ 1068,114	سبائ (ملکہ یمن) 1077,1076,1075
سرزنش 564	ملائیکہ (فرشتوں) کا سجدہ 114	سبت (اصحاب سبت) 1070
سرقہ 997,562	چاند سورج کا سجدہ 114	سبق قصص قرآنی سے 904
سرکاری فنڈز کا خورد برد 555	پہاڑوں کا سجدہ 1068,114	سبح مثانی 221
سرکشی و بغاوت 563	اشجار (درختوں) کا سجدہ 1068,114	سبحان اللہ کہنا 469
سرگوشی 448	ستاروں کا سجدہ 114	سبزی ترکاریاں 1045,353
سرمایہ دارانہ نظام 551	اہل ایمان کا سجدہ 765	پیاز 1045,353
سریہ عبداللہ بن جحش 696	سجدہ ریزی جادوگران فرعون 1028	تھوم 1045,353
سربلح الحساب 857,819,640,50	سجدہ تعظیسی (تحیہ) 995,908,907	کدو 1086,353
433,326,89 --	سجدہ تلاوت قرآن 1151,1140,216,114	گکڑی 1045,353
سزائیں 564	سجین 801	گیہوں 1045,353
سزا اعمال بد (جہنم) 885	سج بولنا 567,469	مسور کی دال 1045,353
سزا کا تصور اور اسلام 564	سجی توبہ 318	سپاس گزاری (دیکھئے شکر رب تعالیٰ) 300
سزاؤں کی تشبیہ 536	سچا وعدہ (دیکھئے اللہ کا وعدہ) 132	ستارے
سزا اسقاط حمل 561,539	سحاب (دیکھئے زیر عنوان بادل)	ستارے برائے رہنمائی بری و بحری سفر 332
سزا بغاوت 563	سحر (جادو ٹونہ) 1078,157	
سزا چوری ڈاکہ 562	سخت و فیاضی (دیکھئے خیرات و صدقہ) 275	
سزا زنا و بدکاری 536		

سماجی برائیاں 473
 سماجی برائیوں کی مرتکب اقوام کا انجام
 1001,968,941,933,350 --
 سماوات (دیکھئے آسمان کی تخلیق) 321
سمندر
 سمندری تجارت 341
 سمندری خزانے 342
 سمندری راستے 340
 سمندری سفر 340
 سمندری غذائیں 503,343
 سمندر کیفیت روز قیامت 795
 سمن عدالت پر حاضر ہونا 568
 سموم, 884,800,382,381
سنت
 سنت اللہ تعالیٰ 370,242,204
 437,673,678,475,--
 سنت ابراہیمی 950,285
 سنت رسول کریم 172
 سنگسار کرنا 566
 سنگسار کی دھمکی کفار پیغمبران کو 205
 دھمکی حضرت ابراہیم کو 947
 دھمکی اصحاب القریہ کو 1110
 دھمکی حضرت شعیب کو 1000
 دھمکی حضرت موسیٰ کو 1021
 دھمکی حضرت نوح کو 922
 سوت کا تنا 569
 سوتیلے بھائی 978
 سوتیلی ماں 516
 سوتیلی لڑکی (بیٹی) 516
سود 488
 سود چھوڑ دینے کا قطعی حکم 488
 سود خوری اللہ اور رسول کے خلاف جنگ 488
 سود کاروبار میں ظاہری اضافہ 488
 سود حرام 489
 سود بے برکت 489

سکندر رومی 1082
 سکون قلب 305,298,295,258
 سکون کا نزول (دیکھئے تسکین)
 سقر (جہنم) 888
 سلام اہل جنت پر 865
 سلامتی کی دعا کرنا 447,444
 سلام علیکم کہنا 444
سلام
 سلام و طیرہ اہل جنت 881
 سلام کا بہتر جواب دینا 447
 سلام کا مذاق اڑانا 470
 سلام فرشتوں کے ذریعے سے 864,834
 سلام و درود بر نبی کریم ﷺ 377
 سلام حضرت ابراہیم 957
 سلام حضرت الیاس پر 1065
 سلام حضرت نوح پر 917
 سلام حضرت یحییٰ پر 1090,1089
 سلام حضرت عیسیٰ پر 1097,1098
 سلام حضرت موسیٰ پر 1056
 سلام حضرت ہارون پر 1056
 سلام حضرت الیاس پر 1065
 سلام تمام پیغمبران پر 580,94
 سلام اہل جنت پر 865
سلسبیل 870
 سلسلہ بقائے نسل انسانی 395
 سلوک (دیکھئے حقوق العباد) 451
 سلیمان علیہ السلام 1072
 معجزات 1072
 ملکہ سباء کو دعوت توحید 1072
 تحائف ملکہ سباء کو ٹھکرادینا 1077
 تخت ملکہ سباء منگوانا 1078
 قبول اسلام ملکہ سباء 1078
 وفات سلیمان 1079
 نبی اسرائیل کے الزامات 1080
 سماجی زندگی 443

سزاعان 537,525
 سزاہم جنسی 962,540
 سزارجم 566
 سزا کوڑے اور درے مارنا 565
 سزا عمر قید 537
 سزایموت 566
 سزایا تھ کا ثنا 563,562
 سسرالی رشتے 443
 سسر موسیٰ (حضرت شعیب) 997
 سسرال کے گھر سے شادی کے بعد نقل مکانی حضرت موسیٰ 1011
 سعی کوشش 674,540
 سعیر (جہنم) 889
 سفارتی تعلقات کا تصور (ملکہ سباء) 1075
سفارش 574
 سفارش اللہ کو 127
 سفارش اچھی اور بری کا ثواب و عذاب میں حصہ 574
 سفارش روز قیامت 815,814,176
 سفارش کا اختیار 815,175,127
 سفارش نبی کریم 176,175
سفر
 سفر پر تلاش معاش 437
 سفر برائے حصول علم 1058,440,437
 سفر برائے تحقیق 437
 سفر برائے مشاہدہ کائنات 437
 سفر برائے ترویج دین (بذریعہ ہجرت و تبلیغ) 670,631
 بلا ضرورت گھومنے پھرنے کی ممانعت 438
 باعافیت سفر پر شکر رب تعالیٰ 438
 دوران سفر عافیت کی دعائیں 438
 سفر موسیٰ بسلسلہ تلاش خضر 1058
 سفر معراج النبی 688
 سفر ذوالقرنین 1082
 اندھیروں میں رہنمائی سفر کے لئے ستارہ 332
 سعی صفا و مروہ 290
 سفینہ نوح 924
 سفید پوش لوگوں کے جرائم 555
 سکران موت 774

سودی کاروبار 488,485

سودر سود 489

سود خور کو اللہ کا چیلنج 488

سود خور کا انجام 488

سود کو جائز قرار دینے کی تائیدیں 489

سورہ تہائے قرآن کا جدول 1171,1283

سورج 334,331

سورج روز قیامت 795,794

سور کا گوشت 505

سوشلزم اور اسلام 551

سوشل بائیکاٹ 564

سوشل سیکورٹی ٹیکس 668

سونا چاندی

سونا چاندی جمع کرنا 426

سونے چاندی کے برتن 872

سونڈھ (زنجبیل) 871

سوئی کے ناکہ سے اونٹ کا گزرنا 227

سہوا حرام کھانا 504

سہوا قتل 560

سیارگان 795,330

سیاست (اسلامی نظام مملکت) 549

سیاسی پناہ کا تصور 671,667,588

سیدھا راستہ (دیکھئے صراطِ مستقیم) 1127,383,148

سیدھی بات 469

سیرت النبی 172,173

سینڈھ کا درخت 355

سبل العرم 1115

سیلابوں کی روک تھام 1114

سیلاب کا عذاب 1115,925

سیرت نبوی 174

سیر و سیاحت (دیکھئے سفر) 437

برائے مشاہدات آثار قدیمہ 437

برائے حصول علم تحقیق 437

سیسہ پلائی ہوئی دیواریں 1083

سیناء (پہاڑ) 1012

سینوں (دلوں) کے راز 111,107

سینوں پر اوڑھنیاں ڈال کر رکھنا 545

ش

شامت اعمال 674

شاعری (گمراہ کن کی ممانعت) 483

شاتم پیغمبران کا انجام 187

ابولہب 187

زوجہ ابولہب 187

پسرنوح 926

زوجہ نوح 927

زوجہ لوط 969

سامری 1048

فرعون 1037

قارون 1030

شادی کے احکام (دیکھئے نکاح) 514

شادی سے پہلے طلاق (دیکھئے تو اتین حق مہر و عدت) 526

نکاح میں زبردستی کی ممانعت 531

دوسری شادی کرتے وقت پہلے بیوی کو دیئے گئے

- تحائف کی واپسی گناہ 530

طلاق کے بعد عورت کی دوسری شادی

- میں رکاوٹ نہ ہو 530

شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی سزا سنگسار (رحم) 566

شارک مچھلی (دیکھئے حضرت یونس) 1085

شام (ملک) 1042,954

شب

شب بیداری 260

شب معراج 688

شب قدر 264

شب خون مفسدین قوم ثمود 941

شجر

شجر کاری 355

شجر ملعونہ 890

شجر خبیثہ 641

شجر ممنوعہ - کے نزدیک جانے کی بھول 910

شجر زقوم 355

شجر طیبہ (پاکیزہ درخت) 770

شجرہ نسب کا تحفظ 538,513

شخصی ملکیت کا تصور اور اسلام 551

شراب - مشروب 506

شراب جنت 871

شراب طہور (لطیف) 872

شراب کی نہریں 870

شرانگیزی (دیکھئے نساد فی الارض) 563

شرائط ایمان (دیکھئے عقائد و ارکان اسلام) 99,97

شرائط نکاح میں طرفین کی رضامندی (دیکھئے نکاح) 1010

شرح صدر 1016,165,89

شرعی عذر (دیکھئے رعایت - استثناء)

شُرک 139

ناقابل معافی گناہ 139

ظلم عظیم 139

سے اجتناب 150,149,142

سے ہر پیغمبر نے روکا 154

کا ارتکاب 151,149,142

شرم و حیا 543,541

شرم گاہوں کی حفاظت 538

شرمندگی (دیکھئے احسان کا نام نہادت) 573,543,541,315

شعلے اور چنگاریاں 897

شریعت

شریعت کے احکام کی پابندی 374

شریعت کا نفاذ (مملکت کی ذمہ داری) 553

شریعت (ہر مذہب کیلئے) 374

شریعت موسیٰ (دیکھئے تورات) 247,163

-- 1047,1014

شریعت داؤد (دیکھئے زبور) 1067,248

شریعت عیسیٰ (دیکھئے انجیل) 1099,637,607

-- 249,163

شریعت محمد (دیکھئے قرآن، حدیث و سنت) 207,99

شریعت کی پابندی فرض 374

شریعت نبی اسرائیل

میں توحید 251

شہاب ثاقب 330
شہادت (تحریری۔ دستاویزی) 495
شہادت کے اصول 567
شہد 365
شہد کی نہریں 870

شہید

شہید کو موت نہیں 658
شہید زندہ ہوتا ہے 658
شہید کا اجر 659
شہید کا درجہ (اصحاب کرام) 758
شہرا من و سلامتی 625,624
شہوت پرستی 962,540
شہ رگ سے زیادہ قریب ذات 111
شہریں پانی کے ذخائر 347,343
شیخی بگھارنا 479,477,475
شیخ کبیر (حضرت شعیب علیہ السلام) 1010
شیر 363

شیطان

شیطان جنات میں سے 382
شیطان کا غرور 907
شیطان کا سجدہ تعظیمی سے انکار 907
شیطان کا ملعون (مردود) قرار دیا جانا 912
شیطان کا بہشت سے نکالا جانا 912
شیطان کا بنی نوع انسان کو گمراہ کرنا 913
شیطان کا اللہ سے (نبی آدم کو گمراہ کرنے کیلئے) -- مہلت مانگنا 912
شیطان نبی نوح انسان کا ازلی دشمن 913,382
اللہ تعالیٰ کا شیطان کی بدنیتی انسان کو پیش از وقت -- آگاہ کرنا 910,386
شیطان کا حضرت آدم اور حوا کو اکسانا 910
شیطان ایک کھلا دشمن 910,383
شیطان کا مشن 383,382
شیطان کا لشکر 382,296
شیطان کے دوسے 383
شیطان کے بھٹکاوے 385,383

شفاعت 815,814,176,127
شفاعت نبی کریم ﷺ 176,175
شفقت پدری 993,976
شق القمر 688

شکار

شکار سدھائے جانوروں کے ذریعہ 502
شکار سمندر 289
شکار دوران پابندی احرام 288
شکار دوران سفر حج 288
شکار حد و حریم 288

شکر رب تعالیٰ

شکر نعمت پر الحمد للہ کہنا 469
اللہ اور زیادہ دے گا 300
اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کا 300
شکر اپنے فائدہ کے لئے 301
اگر سب لوگ ناشکری کریں تو 301
تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ 302
ناشکری کے دنیاوی اور اخروی عذاب 302,301

شکر کی تلقین سب پیغمبروں نے کی

تلقین حضرت ابراہیمؑ 948
تلقین حضرت صالحؑ 936
تلقین حضرت ہودؑ 930
تلقین حضرت یوسفؑ 995
تلقین داؤدؑ 1067

شکست و فتح 705,654
شک میں مبتلا کرنا 481
شک و شبہات پیدا کرنا 481,480
شموسیل علیہ السلام 1063
شوری 549
شور کی آلودگی 884
شور جہنم 898
شوہر 443
شوہر کے فرائض 522,520
شوہر کے حقوق 523
شوہر بے پرواہ اور ظالم سے رہائی 529

میں نماز 1033,1012,251
میں زکوٰۃ 251
میں جہاد 1063,1061,1043,644
میں حقوق العباد 251
میں تکریم والدین 251
میں قتل انسانی ایک جرم 1008,593
میں قصاص 593
میں حق مہر 1010,522
میں مزائے رجم 593,566
میں حلت و حرمت 594
میں رزق حلال کا حکم 594,270

شریعت حضرت عیسیٰؑ

میں توحید 1104,1103
میں نماز 1098,1092,1092,255
میں زکوٰۃ 601,270
میں روزہ 1096,263
میں جہاد 644,139
میں رزق حلال کا حکم 270

شریف عورتوں کو تنگ کرنا 555,543
شریک حیات (دیکھئے بیوی) 514
شریک حیات کا انتخاب (دیکھئے نکاح) 548, 514

شعائر اللہ

صفاد مردہ 290
عرفات 290
مشعر الحرام 290
شعری (ستارہ) 329
شعر و شاعری میں غلیظ خیالات کے اظہار کی ممانعت 438
شعوب و قبائل 523,443
شعیب علیہ السلام 997

شفا

شفا دینے والا (من جانب اللہ) 119
شفا بیماریوں کیلئے 365
شفا قلوب (قرآن کریم) 220
شفا شہد 365

صرف کہہ دینا ایمان لے آئے کافی نہیں 96

صحابہ کرامؓ 758

کیلئے راشدوں کا لقب 758

ان سے اللہ کے راضی ہونے کی بشارت 758

کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن میں 758

درجہ صدیقین، صالحین اور شہداء 758

قیامت کے روز اللہ رسوا نہ کرے گا 759

اصحاب رسولؐ کے اکرام کا حکم 759

فضیلت صحابہ کرامؓ 759

حضرت ابو بکر صدیقؓ 759

حضرت عمر فاروقؓ 760

حضرت عثمان ابن عفانؓ 760

حضرت علی ابن ابی طالبؓ 761

اصحاب صفہ 761

السابقون اولون 761

تابعین 762

صحائف (دیکھئے الہامی کتابیں) 245,97

صحبت بد 484,465

صحبت ہم جنس 540

صحت اور تندرستی 119

صحراء تینہ 1043

صحیفے آسمانی (دیکھئے الہامی کتابیں) 245,97

صحف

صحف ابراہیمؑ 946

صحف اولیٰ 431,246,115

صحف مکرمہ 212

صحف موسیٰؑ 1047,1014,247

صدقہ (صدقات) 284

مال کو پاک اور نفس کو پاکیزہ کرتا ہے 284

باعث خوشنودی اللہ 284

کا مقصد صرف رضائے الہی 286

صدقہ پر صرف اللہ کا نام لیا جائے 285

برائے ایصال ثواب 286

برائے غیر اللہ 505,150

صدقہ جاریہ 286

صدیقین 758

گھبراہٹ خوف و پریشانی کا علاج 298

کا اجر 299

شیوہ پیغمبران 299

صبر ایوب 996

صبر ذوالکفلؑ 1065

صبر ادریسؑ 1065,916

صبر اسماعیلؑ 1065,971,956

صبر کی تلقین تمام پیغمبران نے کی

تلقین حضرت اسماعیلؑ 972,956

تلقین صبر حضرت ایوبؑ 996

تلقین صبر حضرت یعقوبؑ 980

تلقین صبر حضرت ذوالکفلؑ 916

تلقین صبر حضرت ادریسؑ 916

تلقین صبر حضرت موسیٰؑ 1032

تلقین صبر حضرت خضرؑ 1059

صبغۃ اللہ (اللہ تعالیٰ کا رنگ) 105

صدوم (دیکھئے سدوم و عمورہ۔ قوم لوط)

صراط مستقیم 1127,148

تمام انبیاء صراط مستقیم پر تھے 1084,1066,246

قرآن کریم، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دیتا ہے

-- 659,598

صرف اللہ کی

عبادت کرو 294,133,99

کو سجدہ جائز ہے 355,115

کی بادشاہی 831

کیلئے سب تعریفیں 101

سے دعا مانگو 141,140

سے مدد طلب کرو 142,140

پر بھروسہ رکھو (پر توکل رکھو) 303

سے ڈرو (خوف کھاؤ) (تقویٰ کرو) 306

کو پکارو 141,140

کو ہی کارساز بناؤ 306

شیطان کے دھوکے 385

اہل علم کو بھی شیطان کی ترغیبات سے بچنے کی ضرورت 383

شیطان کا مفلسی سے ڈرانا 383

شیطان کا بے حیائی کی ترغیبات دینا 383

شیطان کی پیروی کی ممانعت 910,384

شیطان کا اللہ کے بندوں پر بس نہیں چلتا 914,384

شیطان کے وعدے محض فریب 385

شیطان کی دوستی 385,384,296

شیطان اور اس کے ساتھی 837,643,384

شیطان کی رسائی سے محفوظ 330

شیطان بے دھوکے کی آگ سے تخلیق کردہ 382

شیطان کے روپ

اسراف (خرچ بے جا) 496

اندھی تقلید 155

بے حیائی 383

تخریبی قوت 586,383

جنسی بے راہ روی 555,543

حسد 978,915

خود پرستی (دکھاوا) 297,282,256

منافقت 750,748

ہوس زر (سود خوری) 488,426,411

شیعیہ ابراہیمؑ 917

ص

صابی 1075, 589

صاحب الحوت 1084

صالح علیہ السلام 936

صالح اعمال 896,834,809,808

صالح اولاد (دیکھئے زیر عنوان اولاد) 878,454

صالح افراد (دیکھئے اصحاب ابراہیمؑ موئین) 764

صالحین 758

صبح و شام (دیکھئے دن رات) 332

صبح کا تارا (طارق) 329

صبر

آزمائش ایمان 298

صومعے (یہودیوں کی عبادت گاہ) 583

صعود (جہنم) 889

طلوع شمس کا مقام (انتہائے مشرق) 1082

طواف کعبہ 93

طور سیناء 1012,357

طوفان باد و باران 348

طوفان نوحؑ 925

طوق (گردنوں میں) 894

طویل عمری 401

طہ (نبی کریمؐ) 733

طیب روزی (دیکھئے رزق حلال) 499,393

ٹیور (دیکھئے پرندے) 364

ض

ضبط ولادت کا قدرتی نظام 533

ضبط نفس 417

ضبط نفس کا کورس 363,263

ضرر مسجد 726

ضرر (نفع و نقصان) 487,367,145

ضرورت مند کے حقوق 283,271,263

ضیافت (دیکھئے طعام۔ کھانا۔ خوان نہمت۔ دعوت)

ضعیف الاعتقادی (دیکھئے شرک، توہم پرستی، جادو ٹونڈ)

159,155,139 --

ضعیف الاعتقادی کا انجام (دیکھئے کہ انجام مشرکین)

849,679,619,385 --

ضمیر 417

ط

طارق (ستارہ) 329

طاغوت کی عبادت 154

طاقت کا سرچشمہ (اللہ تعالیٰ) 142

طاغوت کی طرف رجوع (حصول مقصد کیلئے) 576

طالوت 1067

طبقات الارض 325

طبقاتی امتیاز 582

طہارت جسمانی 623,251

طہارت قلبی و ذہنی 623,262,251

طعام کے آداب 449

طعن و تشنیع (طعنہ) 476,475

طلاق 526

شادی (رخصتی سے پہلے) طلاق 529

تنازعات کے حل کا آخری چارہ کار 526

کے لئے وقت اور عرصہ 527

دوسری طلاق رجعی 527

تیسری طلاق قطعی 526

قطع کے بعد دوبارہ نکاح کیلئے شرط (حلالہ) 528

طح 480

صفائی و پاکیزگی (دیکھئے طہارت) 252,251

726,626,623 --

صفا و مرودہ 290

صفات

صفات اللہ تعالیٰ 101

صفات مومن 764

صفات صحابہ کرامؓ 761,760,759,758

صفات حاکم وقت 553,552

صفی اللہ 906

صفائی پیش کرنا (دیکھئے لعان، برات)

صلح

مابین زوجین 524

مابین فریقین 621,558

قرارداد صلح 528

صلح اور جنگ کے اصول 585,665,663

صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی 666

صلح حدیبیہ 713

صلح حدیبیہ کی منسوخی 719

صلوٰۃ (دیکھئے نماز) 250

صلہ رحمی 458

صلیب 1102

صندوق موسیٰؑ 1006

صندوق سکینہ 1063

صنعت و تجارت کے اصول 485

صنم پرستی (دیکھئے بت پرستی) 952,947,917

صوت الرحمن 883

صوت الرسول 183

صوت النبی 183

صوت حمیر 1069,446

صور (اسرائیل) کا پھونکا جانا 788,379

پہلا صور (بگل) 789

دوسرا صور (بگل) 790

صورت اچھی (متوازن اعضاء) 400

صورتوں کا مسخ ہو جانا 1068

صوم (دیکھئے روزہ) 262

ظ

ظاہر اور پوشیدہ نیکی 280,279

ظاہر اور پوشیدہ برائی 962,483

ظالم 556

ظلم کیلئے دنیا اور آخرت کا عذاب 556

کسی کی ہمدردی کا مستحق نہیں 556

ظروف جنت 872

ظلم 556

ظلم اور بدلہ 557

ظلم اور زیادتی سے پاک معاشرہ 581,556

ظلم اور گناہ میں تعاون 575

اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا 674

ظالموں کے پچھتاوے روز قیامت 827,825

ظلم پر قائم معاشرہ 556

ظن (حسن ظن) 467

ظہار 524

ظہور قیامت 791

ع

عاد

عادرم 1114

عاد اولیٰ 929

عاد ثانی 936

طاقت و رقوم 929

عرفات 290,291
عروج وزوال اقوام و افراد 673
عرب بدو 728
عرصہ (دیکھئے زیر عنوان مدت)
عزرائیل 379
عزیز مصر 982,980
عزیز علیہ السلام 1081

عزت

عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں 367
عزت و عروج کے حصول کا قانون 475
عزت کی زندگی کا حصول 120
عزت نفس 584
عزائی (بت) 590

عذاب

عذاب الہی کا پیش خیمہ 685,684
عذاب الہیہ کو چیلنج اقوام منکرین 940,932
1000,964 --
عذاب الہی کی طلب میں جلدی 754
عذاب بوجہ ناشکری 1114,685,679,673
عذاب جہنم 900,898,891
عذاب قبر 776
عذاب کا ایک دن 887
عذاب دائمی 900
عذاب عظیم (دیکھئے زیر عنوان) 858,849
عذاب الیم (دیکھئے زیر عنوان جہنم) 837,813,793
849, --, 939,926,853
عذاب النار (دیکھئے زیر عنوان دوزخ)
عذاب المحرق (دیکھئے زیر عنوان جہنم) 478,273
482,773,895 --
عذاب مہین 852,513,482
عذاب مقیم 924,926,900,738
عذاب قریب 939
عذاب غلیظ 899,736,412
عذاب حمیم 892
عذاب اکبر (کبیر) 847,821

بیوہ عورتوں کی 531
رخصتی سے پہلے مطلقہ عورت کی 532
بوڑھی (عمر رسیدہ) عورتوں کی 532
حاملہ عورتوں کی 532
مطلقہ عورتوں کی 533
ایام حیض جاری نہ ہونے والی (کم سن) عورتوں کی
532 --

عداوت

عداوت نبی کریم (دیکھئے زیر عنوان شاتم رسول) 187
عداوت جبرئیل 380
عداوت میکائیل 380
عداوت انفاق فی سبیل اللہ میں روکاؤں نہ بننے 284
عداوت، سچی گواہی میں روکاؤں نہ بننے 567
مابین نبی نوع انسان اور شیطان 910,383
مابین منکرین و منکرین روز قیامت 845,842,837

عدلیہ کا نظام

عدل روز قیامت 821
عدل و انصاف 579,577,576
عدلیہ کی ذمہ داریاں

اپنی پسند کے ثلث اور حج سے بجز غصلت میں منافقین 576
ارباب عدلیہ کیلئے احکامات 578
اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف فیصلہ کفر 579
انصاف کی فراہمی کیلئے رشوت 579
فیصلہ میں کسی کی رعایت نہ کریں 578
کتاب و سنت کے مطابق نظام عدل 577

کتاب و سنت کے مطابق معاملات کا فیصلہ نہ کرنے والے

کافر 579
ظالم 593
فاسق 1100
عدم تفاوت مابین مرد و عورت 546
عذر شرعی (دیکھئے زیر عنوان رعایت، استثناء)
عذر روز قیامت 832,830
عراق (اشارتا ذکر) 1085,954
عرش رب تعالیٰ 376,368,327

مادہ پرست قوم 929
عملی فنون کے ماہر 929
سائنس و ثقافت کے ماہر 929
فن تعمیر کے ماہر 929
عادات قبیحہ (معاشرتی برائیاں) 473
عادات خبیثہ (جنسی بے ضابطگی) 535
عادات پسندیدہ (اخلاقیات) 465

عالم

عالم برزخ 776
عالم الغیب 108
عالم یہود 240,243,180,163
عالم بے عمل 595,442
عائلی قوانین 514

عبادت

عبادات اسلام 250
عبادت اللہ 294
عبادت کیلئے پہلا گھر 624
عبادت خانے اور مذہب اسلام 583
عبادت خانوں کا احترام 580
عبادت خانے مذہب یہود و صومعے 583
عبادت خانے مذہب عیسائیت گرجا گھر 583
عباد الرحمن 834,763
عباد اللہ 928,763

عبد

عبد اللہ (محمد ﷺ) 688,628,164
عبد اللہ (عیسیٰ) 605
عبد اللہ بن ام مکتوم 690
عبد اللہ بن ابی 747
عبد اللہ بن سلام 637
عبد شکور 924
عبرت کے مقامات (دیکھئے نشانات عبرت)
عثمان ابن عفان 760
شہادت کے وقت جن الفاظ قرآن پر لہو چکا 729
عجروا نکساری 467
عدت 531
کا عرصہ اور شمار 532

عذاب سردی کی شدت

1141,898,891,438,427 --

عذاب الہیہ 679,678,677,297

عذاب قوم عاد (نوح) 925

عذاب قوم عاد (منکرین ہود) پر

باد صحر 933,857,350

مسلسل آندھی (سات رات آٹھ دن) 933,350

بادل کی شکل میں 933

عذاب قوم ثمود (منکرین صالح)

زلزلہ بھونچال 941

آسمانی کڑک بجلی 941,349

خونفک چیخ 941

عذاب قوم لوط (منکرین لوط)

زوردار چیخ 968

آگ برساتے ہوئے پتھروں کی بارش 968

طوفان اور مادش 968

عذاب قوم اہل مدین (منکرین شعیب)

بادلوں کی شکل کا سایہ 1001

آتش فشانی (آگ اور چنگاریاں) 1001

زلزلہ بھونچال 1001

عذاب اصحاب القریہ 1111

زوردار چیخ 1111

آتشیں دھماکہ 1111

عذاب قوم فرعون (منکرین حضرت موسیٰ)

قحط کا عذاب 1034

طوفان (نڈیاں بیچڑی، جووں اور مینڈک) 1034

خون کا عذاب 1034

عذاب اصحاب سبت (زمانہ حضرت داؤد)

(صورتوں کا مسخ ہونا بند اور سورین جانا) 1070

عذاب قوم سباء کی 1115

عسرت 520,393,302,301

عشر کی ادائیگی 274

پہلی اقوام پر بھی فرض کی گئی 1109,274,111

عشر ذریعہ افزائش رزق - 274

عشر کی ادائیگی میں غفلت باعث تباہی 274

1111,1109 --

عصاء موسیٰ 1037,1043,1026,1013

عصا سلیمان 1078

عصمت

عصمت کی حفاظت 584,581,555

عصمت کی حفاظت مریم 1093

عصمت دری 537,555

عصمت فروشی 584,581,540

عفت 584,581

عفو و درگزر 558,557,466

عقائد اسلام 97

اللہ تعالیٰ پر ایمان 99,97

سب فرشتوں پر ایمان 97

سب الہامی کتابوں پر ایمان 580,97,94

سب رسولوں پر ایمان 580,98,93

تمام پیغمبروں کی تکریم 580,93

رسالت محمد پر ایمان 181,99

ختم نبوت پر ایمان 166,99

روز آخرت پر ایمان 98

مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان 98

قضا و قدر - تقدیر - مشیت ایزدی پر ایمان 98

تمام عقائد کی عملی اطاعت کا نام اسلام 96

عقائد باطلہ

عقائد باطلہ مسیحیت (نصاری) 602

الوہیت 1103,606,602

اقانیم ثلاثہ 1103,606,602

ثالث ثلاثہ (تثلیث) 1103,602

مریم پرستی 1103,606

اصطباغ (رسم ہسمہ) 589

رہبانیت (ترک دنیا) 601,434

عقائد باطلہ (عقیدہ قدیم اہل یونان)

نظریہ تناخ 1081,589

ہندوازم عقائد باطلہ 1081,589

عقائد باطلہ (عقیدہ قدیم اہل یونان)

گاؤ ماتہ پرستی 1048,590,150

آواگون 589

عقائد باطلہ یہود 1081,593

عقائد باطلہ مشرکین 138,136

عقائد باطلہ منکرین 424

کھوکھلی رسومات کی پیروی 158,157

بے حقیقت اعتقادات 158,157

عقائد باطلہ سے رغبت کی ممانعت 483,155

عقائد کی ہم آہنگی زوجین 514

عقل سے کام لو (دیکھئے زیر عنوان غور و فکر کی دعوت) 431

عقل کے اندھے 438,414

عکس کا تصور (دیکھئے بڑھتے گھٹتے سائے) 333

علامات راہ (لینڈ مارکس) 936

علم

علم کی فضیلت 439

پہلی وحی میں حصول علم کا حکم 439

حضرت آدم کی فطرت میں حصول علم کا جذبہ 907,439

اصحاب علم و دانش 439

علم - نعمت خداوندی 117

ترویج علم - مرتبہ جہاد 440

جدید علوم اور ٹیکنالوجی کے حصول کا علم 440

کامیابی کا انحصار محنت پر 440

علم کا حصول خود غرضی اور سرمایہ پرستی نہ ہو 441

علم کے حصول کے لیے دعائیں 441

علم کے حصول کی نعمتیں 441

علم کے بغیر بحث میں نہ پڑو 441

علم کے اضافہ کے لیے دعا 1122,216

علم پر نہ اتراؤ (علم کا گھمنڈ) 441

علم کے بغیر انسان 442

علم کی وجہ سے برتری 907,442

علم خداوندی کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا 111

علم اور قلم 439

علم کے حصول کے لئے سفر 440
 علوم القرآن (جدید و سائنسی) 1135
 علم الاخلاق 473,465,445
 علم الکائنات (کوسمولوجی) 321
 علم نباتات (باہنی) 351
 علم آب (ہائیڈرولوجی) 345
 علم الحیوانات (زویولوجی) 359
 علم افزائش نسل حیوانات 924,360,359
 علم الارضیات (جیولوجی) 338
 علم الحشرات (انٹامولوجی) 365
 علم الحیات (بائیولوجی) 394
 علم البحریات 1040,926,344,340
 علم التوالد (تخلیق انسان) 535,514,394
 علم الافلاک و فلکیات (آسٹرونومی) 329
 علم البشریات (پتھولوجی) 514,473,451,394
 علم ہوابازی (ایرونائکس) 364
 علم طیور 364
 علم عکس (پرچھائیاں) 333
 علم جہاز سازی (کشتی نوح) 924
 علم موسیات (میٹورولوجی) 334
 علم نفسیات (سائیکالوجی) 472,305,298
 -- 295,258
 علم اوزان (میٹرولوجی) 977,485
 علم غیب 977,108
 علم تاریخ (تخص قرآنی) 904
 علم تقویم (نظام شمسی و قمری) 334
 علم شماریات (مردم شماری) 1043
 علم تقسیم اراضی 1043
 معاشرتی علوم 514,473,451
 علم سوکس (شہریت) 473,449,447,445
 علم ثقافت (کلچر اینڈ سویلائزیشن) 936,929
 علم آثار قدیمہ 437
 علم رویاء (تعبیر خواب) 986,984,977
 علم تعمیرات (سول انجینئرنگ) 1114,929
 علم آبپاشی (تحفظ سیلاب) 1114

علم جغرافیہ (جیالوجی اجیوگرافی) 904
 علم نفس (سائیکالوجی) 472,305,298,295
 علم سیاسیات (پولٹیکل سائنس) 551,549
 علم وھات (میٹیرولوجی) 1083,1073,1068
 علم جنگی دفاعی ہتھیار (اسلحہ سازی) 1068
 علم جہاز رانی (کشتی رانی) 342,341,340
 علم غوطہ خوری 1072,389,342
 علم اصول تجارت 489,485,341
 علم کان کنی (مائنگ) 1083,1071
 علم جنگلات (فارسٹری) 355
 علم زراعت (ایگریکلچر) 351,328
 علماء و مشائخ یہود (دیکھئے احبار و رحبان)
 علماء سو (دیکھئے کتھان حق) 238
 علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 761,760,661
 عمداً قتل 559
 علمین (نیک لوگوں کا اعمال نامہ) 800
 عمر
 عمر کے راز 399
 عمر کا گھٹنا بڑھنا 400
 عمر قید کی سزا 537
 عمرہ 1100,716,292,228
 عمرۃ القضاء 717
 عمر فاروق ابن خطابؓ 759
 عمران
 عمران کا خاندان 1091
 عمران کی بیوی 1091
 عمران کی دختر 1091,545
 عمل صالح (دیکھئے صفات مومن) 764
 عمل شرط دین 96
 عمورہ اور سدوم 962
 عنکبوت 365
 عورت کے حقوق 546
 حقوق نسواں کے تحفظ کا علمبردار مذہب اسلام 546
 عورت مال میراث نہیں 514
 عورت ذریعہ سلسلہ خاندان 523

عورتوں کیلئے شرم و حیا (حجاب) 543
 اسلام میں عورت کو تنہا کر دینے کا مغربی تاثر 541
 حجاب عورتوں کی پاکدامنی اور عظمت کی دلیل 544
 عورتوں کی عصمت کی حفاظت 541,538,537
 بے بس عورتوں کو عصمت فروشی پر مجبور کرنے
 -- کی ممانعت 540
 پاک دامن عورت پر تہمت کی سزا 537
 عورت کا الزام سے برأت کا طریقہ کار 537
 بد مزاج اور بے رحم شوہر سے رہائی کا حق خلع 529
 غیر محرم کے سامنے اظہار زینت و زینت کی ممانعت 543
 غیر محرم سے گفتگو میں احتیاط 543
 محرم اور غیر محرم رشتے 516
 عورت بطور کھیتی 535
 عورتوں کا مساجد میں نماز ادا کرنا 623
 عورتوں کے لئے لوجہ فکریہ 545
 عورت کے فرائض 523
 شوہر کی اطاعت 523
 آبرو کی حفاظت 523
 عہد کی پابندی 474,468
 عہد عتیق (زبور) 1065,248
 عہد نامہ (انجیل) 1098,249,163
 عہد الست 405
 عہد کا توڑنا (دیکھئے کنارہ و سدہ و خلیانی) 573,474
 عیسائیت (دیکھئے انصاری) 637,601
 عیسیٰ علیہ السلام (ابن مریم) 1095
 فطری عمل زچگی کے ذریعے پیدائش 1096
 ماں کی گود میں باتیں کرنا 1096
 معجزات عیسیٰؑ 1099
 انجیل مقدس کا عطا کیا جانا 1098
 قوم نبی اسرائیل کیلئے مبعوث کیے گئے 1098
 تعلیمات تورات کی تصدیق کرنا 1098
 احمد مجتبیٰ (محمد مصطفیٰ) کی بشارت دینا 1099
 اہل انجیل کو تبلیغ 1099
 حواریوں کا ایمان کے آنا 1100

آسمان سے خوان کے نزول کی دعا کی قبولیت 1102
 مصلوب کئے جانے کی سازش یہود 1102
 اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر باحفاظت اٹھالینا 1102
 اللہ تعالیٰ کا وعدہ 1103
 عقیدہ تثلیث کی روز قیامت خود نفی کریں گے 1104
 نہ قتل کیے گئے نہ مصلوب ہوئے 1102
 اقامتِ ثلاثہ کا نظریہ باطل 1103
 صرف اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے 1103

عیش و آسائش میں اللہ کو بھولنا 297
 عیب جوئی 476
 عیدین 260
 عید الفطر 260
 عید الاضحیٰ 291,260

غ

غاریں 1105,693,687,339

غار ثور 693

غار حرا 687

غار میں پناہ لینے والے 1105

غازی 658,657

غالب (ہر کام پر صرف اللہ) 981

غائبانہ امداد حق تعالیٰ 698,656

غربت و امارت 259,267,274,27

-- 300,301,302,393,435,436

غروب شمس کا مقام (انتہائے غروب) 1082

غزوه

غزوه بدر 696

غزوه بدر صغریٰ 707

غزوه نبی قتیقاع 702

غزوه احد 702

غزوه حمر الاسد 706

غزوه نبی نصیر 707

غزوه نبی مصطلق 747,708

غزوه نبی مرسیح 747,708

غزوه بنو قریظہ 712

غزوه خندق 709

غزوه لا آحزاب 709

غزوه حدیبیہ 713

غزوه خیبر 715

غزوه مکہ 716

غزوه اوطاس 718

غزوه موتہ 718

غزوه حنین 718

غزوه تبوک 720

غربت و افلاس 520,393,302

غرض و غایت تخلیق انسان 405,403

غرقاب

غرقاب فرعون 1040

غرقاب پسر نوح 926

غرور 1031,479,477,425

غرور بوجہ مال و اولاد 425

غرور قوم عاد 933,929

غرور قوم ثمود 938,936

غرور قوم عادارم 1115,1114

غرور قوم سبا 1115,1114

غرور سے باز رہنے کی تلقین لقمان 1071

غذائیں

غذا حلال 502

غذا حرام 505

غذائی فوائد حیوانات 360

غذائیں احتیاط-اعتدال 449

غسل 251

غصہ پر قابو پانا 558,466

غضب بصر (دیکھنے پر وہ کے احکام اور آنکھوں کی خیانت) 541,111

غفلت یاد اللہ سے 805

غفلت بوجہ مال و اولاد 423

غفلت بوجہ تلاش معاش 256

غلام

غلام عورتیں (لوٹیاں) 584,581,520,519

غلاموں کے حقوق 584

غلاموں کا نکاح 520,519

غلام آزاد کرانا 1041,584,573,271

غلاموں کی تجارت 980

غلط فہمی (زعم باطل) 859,617,599

غلط فہمی میں مبتلا لوگ 423

زعم نصاریٰ 617,599

زعم یہود 617,599

زعم کفار 859,617,599

غلط افواہیں اڑانا 659

غلط عقائد کی پیروی 159,155

غلط (جوٹھا) حلف اٹھانے والے 569

غلطی سرزد ہوجانے پر (دیکھئے زیر عنوان استغفار توبہ، کفار)

غلمان (خدمت گزاران بہشت) 878

غلو-دین میں 1104,604,96,95

غلبہ بانی 360

غلبہ بانی (سنت پیغمبران) 1011

غلبہ کی ذخیرہ اندوزی 486

غم خوف اور پریشانی کا علاج 295,258

-- 472,305,298

غم اور خوف ایمان والوں کو نہ ہوگا 803

غم اور خوف بد اعمال لوگوں کو (دیکھئے زیر عنوان احوال

-- قیامت اور جہنم)

غم (کسی چیز کے ہاتھ سے چلے جانے کا) 304

غنی و محتاج بنانے والا 119

غنی (بے پرواہ و بے نیاز ذات) 128

غنیمت کا مال 715,668

غور و فکر کی دعوت

مظاہر قدرت پر 350,344,337,320

قرآن کریم پر 662,219,216,214,206

-- 854,676

دنیا کے معاملات میں 260

آخرت کے معاملات میں 460,279

-- 506,501

قرآنی مثالوں پر 1129,210,143

قوانین فطرت پر 351

بارش برسنے اور فصلوں کے اگنے پر 356,354

تقسیم رزق پر 365

فرار دوزخ سے 895
فرار موت سے 771
فرار جہاد سے 1065,1043
فرائض

فرائض مسلمان (عقائد و ارکان اسلام) 99,97
فرائض حکمران طبقہ 553,552
فرائض سربراہ خاندان 460,444
فرائض مملکت اسلامیہ 553,552
فرائض نگران و سرپرست 460
فرائض شوہر 522,520
فرائض بیوی 523
فرائض وثیقہ نویس (کاتب تمسک) 494
فرائض گواہ 568,567
فردوس 866,862
فرشتے 376,97

وحی لانے والا فرشتہ (جبرائیل) 775,380
موت کا فرشتہ (عزرائیل) 775,379
فرشتہ مامور تقسیم رزق (میکائیل) 380
روز قیامت صور پھونکنے والا فرشتہ (اسرافیل) 379
کرانا کاتبین (نامہ اعمال لکھنے والے) 379,378
فرشتے دوزخ 896,380
فرشتے جنت 864,380
فرشتے پیغام بر 378
فرشتے نگران 378
ہاروت و ماروت (فرشتے) 1075,380
ہمد وقت مصروف تسبیح و تحمید 376
آسمان کی حفاظت پر مامور 377
اہل ایمان کے لئے دعا گو فرشتے 377
کئی پروں والے فرشتے 378
شہر بابل پر اترنے والے فرشتے 1078,380
خوش خبری سنانے والے فرشتے 1087,974
اہل ایمان کی مدد کیلئے نازل کئے گئے 698,379
فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور 795
اور مشرکین کا اللہ فرشتوں کا رشتہ جوڑنا 380

فرعون

فرعون (رعیس) کا عہد و ہشت گردی 1034,1005

غیر اللہ کو کبھی برامت کہو 470
غیر فطری فعل (ہم جنسی) 962
غیر محاربین سے سلوک 588
غیر محرم

کے سامنے اظہار زیب و زینت 543
غیر محرم رشتے 516
سے گفتگو کے آداب 543
غریبوں کے حقوق (دیکھئے مساکین فقر و محتاج کے حقوق)
غریبوں کو دیئے جانے والے کھانے کا معیار 573
غریبوں کو لباس فراہم کرنا 573

ف

فاتر العقل لوگوں کے حقوق 461
فتح 654,653,645
فتح اہل روم 686
فتح مکہ 716
فتح قلعہ خیبر 716
فتح مبین 713,718,178
فتح و نصرت 718,654,653,645
فتنہ و فساد پھیلانا (فتنہ انگیزی) 563
فتنہ مال و دولت 423
فحش (فواحش) 541
فحش پر وپیگنڈہ 482
فحش لٹریچر 482
فحش شاعری 483

فخر بے جا (غرور و تکبر) 477,427,425
-- 1031,684,582,479
فدیہ 701,264,263
فدیہ روز قیامت 813

فراخی

فراخ دلی 467
فراخی معیشت پر فخر کا انجام 929,685
-- 936,938
فراخی و فحش رزق (دیکھئے رزق) 1115,1114

قوانین الہیہ پر 335,320
تسخیر کائنات پر 367,330
حیات انسانی پر 115
ازدواجی زندگی پر 548
فلسفہ موت و حیات پر 146
بے ثباتی جہاں پر 426
اقوام کے عروج و زوال پر 416,383
فتح و شکست پر 653
تاریخی شواہد پر 438
انسان کو اپنی حقیقت پر 402

غور کی دعوت مظاہرہ قدرت پر سب پیغمبروں نے دی

دعوت حضرت نوحؑ 920
دعوت حضرت ہودؑ 931
دعوت حضرت صالحؑ 937
دعوت حضرت موسیٰؑ 1031

غوطہ خوری 342

غیب کا علم 108

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں 108
اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے سوا کسی کو غیب سے
-- مطلع نہیں کرتا 109
بعض حقائق جن کا علم پیغمبران کو بھی نہیں
-- دیا گیا 783
پیغمبران بھی اپنے طور غیب کا علم حاصل
-- نہیں کر سکتے 344,855

غیب کے علم سے جنات کی لاعلمی 1077

غیب کی خبریں 977

غیبت 476

غیر مسلم

سے سلوک 588

سے معاہدے (دیکھئے صلح کے معاہدے) 663

سے دوستی 430

غیر اللہ

غیر اللہ سے محبت 142

غیر اللہ کے سہارے 143,142,141,140

بسا اوقات نقصان کا طالب 411
 ظالم 411
 جاہل 411
 مطلب براری کیلئے لمبی دعائیں کرنے والا 412
 رحمت رب تعالیٰ کو اپنا حق سمجھنے والا 412
 اللہ کی یاد سے غافل 413
 فکر اعمال (دیکھئے زیر عنوان جنت، جہنم، انجام)
 فکر اپنے اعمال کی 468
 فکر معاش 432,387
 فلاحی مملکت اسلامی 549
 فلاحی معاشرے 665, 554, 465
 فلسطین 1077
 فلسفہ (دیکھئے حکمت)
 فلڈ پروٹیکشن 1114
 فلک (دیکھئے زیر عنوان آسمان) 322
 فلکیات 329
 فنا (موت) سب کو ہے 784,148
 فن تعمیر کی ماہر اقوام و افراد
 قوم عاد 929
 قوم عادرم 929
 قوم سب (سیلابوں کی روک تھام) 1114
 قوم ثمود 936
 ہامان 1030
 فن
 فن دھات سازی (ذوالقرنین) 1083
 فن صناعی (سیلمان) 1073
 فن صناعی دفاعی ساز و سامان داؤد 1068,1066
 فن کشتی (جہاز) سازی نوح 924
 فن و ثقافت کی مہارت پر گھمنڈ کر نیوالی اقوام
 -- (دیکھئے قوم ثمود) 941,936
 فنون لطیفہ (دیکھئے فن و ثقافت کی مہارت پر گھمنڈ)
 فقراء (دیکھئے حقوق) 283,271,263
 فوجداری قوانین (دیکھئے حدود و تعزیر) 565,564
 فواحش 541
 فوائد چوپائے 362,360,361
 غذائی (خوراک) 360

فضول
 فضول کوشش 596
 فضول گفتگو (لغویات) 483
 فضول خرچی (اسراف) 496
 فضیلت
 فضیلت علم 439
 فضیلت پیغمبران (بعض کو بعض پر) 1067,905
 فضیلت زوجین (مرد کو عورت پر) 523
 فضیلت رزق (مقدار پر) 391
 فضیلت ذائقہ و غذائیت (بعض پھلوں کو بعض پر)
 -- 357,356
 فضیلت صحابہ کرام 760,759
 فطرت اللہ تعالیٰ (دیکھئے دین اللہ - نظام قدرت)
 -- 675,370,242,204
 فطرت انسان، 406,402
 بے لحاظ 406
 مطلب پرست 406
 تکلیف میں اللہ کو یاد کرنے والا 406
 خوشی میں اللہ کو بھول جانے والا 406
 ناشکرا 408
 احسان فراموش 408
 ناقدر شناس 408
 فخر کرنے والا 409
 آسائشوں کے حصول کا مزید خواہش مند 409
 جلد مایوس ہونے والا 409
 طبعاً کمزور 409
 جھگڑالو 409
 جلد باز 410
 تنگ دل 410
 بخیل 410
 کم احسان ماننے والا 410
 کم حوصلہ 410
 تکلیف میں رہنے والا 411
 خود کفیل ہو کر سرکش ہونے والا 411
 دولت سے سخت محبت کرنے والا 411
 اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھولا ہوا 411

حکم قتل اولاد نبی اسرائیل 1005
 رب موسیٰ کو دیکھنے کے لئے تعمیر محل کا حکم 1030
 تعاقب موسیٰ 1037
 غرقاب فرعون (مرفتاح) بحر قلزم 1037
 نقش فرعون (مرفتاح) نشان عبرت 1040
 فرعون (رسمیں) 1005
 فرعون (مرفتاح) 1037
 فرقان 221
 فرقہ بندی (فرقہ واریت) 616,607,583
 مذہبی پیشوائیت کے جنون کا پس منظر 616
 مذہبی اختلافات کی ابتدا کی وجہ 616
 دین کو مختلف مذاہب میں بانٹ دیا جانا 617
 ہر فرقہ اپنے اعتقاد پر خوش فہمی میں مبتلا 617
 اختلافات کا فیصلہ روز قیامت 618
 روز قیامت حقیقت واضح ہو جائے گی 619
 گمراہ عقائد کی جماعتوں کا حشر روز قیامت 619
 فرقہ بندی اللہ کا عذاب 620
 مساجد کا فرقہ واریت کیلئے استعمال 620
 فرقہ بندی نصاریٰ 607
 فریب
 فریب و مکر (دھوکہ) 555
 فریب نظر (سراب) 1078,857
 فریب شیطان 386
 فریب زلیخا 983,981
 فریب دنیا 418
 فساد فی الارض 563
 فسق و فجور (امراء صاحب اقتدار لوگوں کا)
 -- 685,684,675
 فصاحت و بلاغت ہارون 1056,1016
 فضائل مومن 764
 فضائل اصحابہ کرام 759,758
 فضائی آلودگی کی صفائی کا قدرتی نظام 354
 فضائی آلودگی بذریعہ شور 898,884
 فضائی حدود 327
 فضل کبیر 820

قحط سالی کے عذاب 393,301,261

قحط سالی سے نجات کی دعا 261

قدامت پسند (نصاری) 607

قدرت کی نشانیاں (دیکھنے سے مظاہر قدرت) 320

قرأ (وادی) 936

قرآنی شہادتیں 981,679,437,427

1031,982 --

قرآن کلام اللہ ہونے کی دلیل

پچھلی اقوام کے تفصیلی حالات 905

منکرین کو اس جیسی سورتیں بنانے کا چیلنج 231

قصہ حضرت موسیٰ کے تفصیلی حالات 1004

واقعہ یوسف کی تفصیل 977

کفالت حضرت مریم کا تفصیلی بیان

1098,1091 --

پیش گوئی فتح اہل روم 686

قرآن مجید 207,99

قرآن کی تمثیلی وضاحتیں (دیکھئے شاخ)

قرآن کریم 215

کتاب الحکیم 222,221

قرآن بین 223

قرآن عظیم 221

قرآن مجید 1132,212,207,99

قرآن الحکیم 221

الکتاب 207

کتاب بین 222,214

احسن تفسیر 240

فرقان 221,210

برہان 222

نور بین 222,181

الذکر 225,224,214

قول فصل (دو ٹوک کلام) 223

حکمت البالغہ (کامل حکمت) 740

شفاء 220

موعظة للمتقين 222,220

تذکرۃ للمتقين 226,223

قبلہ مسلمین مسجد الحرام مکہ 694

قبلہ فرشتوں کا (بیت المعمور) 795

قبلہ رخ ہونا (نماز) 253

قبلہ کے رخ پر اختلاف یہود و نصاریٰ 696,600

قبلہ یہود (صحزہ بیت المقدس) 696,690

قبلہ نصاریٰ (مشرق بیت المقدس) 696,600

قبیلہ

قبیلے برائے شناخت فقط 443

قبیلہ بنی قبیقاع 702

قبیلہ بنی قریظہ 712

قبیلہ بنو نضیر 707

قبیلہ حمیر 1115

قبیلہ مصطلق 747,708

قبیلہ بنو اسد 728

قبیلہ بندی 1043

قبیلہ گیری 584

قتل ناحق (دیکھئے قتل عمدا) 559

قتال (دیکھئے جہاد) 642

قتل

قتل خطاء (سہوا) 560,559

قتل عمدا (قصدا) 559

قتل اولاد 561,538

قتل انسانیت 561,501

قتل نفس (خودکشی) 561

قتل اولاد نبی اسرائیل کا حکم فرعون 1005

قتل اتفاقیہ (قبطنی) 1008

قتل انبیاء 203

قتل ہائیل 915

قتل جالوت 1065,1064

قتل کی دھمکیاں (منکر اقوام کی پیغمبران کو) 205

حضرت صالح 941

حضرت موسیٰ 1021

قحط سالی

قحط سالی کنعان (مصر) 988

دودھ 361,360

بار برداری 362

سہولت سفر 361

رواق وزینت 361

کھال و چشم 362

فوائد شہد 365

فوائد فولاد (لوہا) 339

فوز عظیم (بڑی کامیابی) 863,861,769,645,644

1085,882,652,1123,880,869,868 --

فوز کبیر (بڑی کامیابی) 861

فئے 669,668,490

ق

قابل حمد و ثناء (صرف اللہ تعالیٰ) 112,103,101

469,376,294,213, --

قائیل 915

قاتل کی شناخت کا معجزہ 1053

قادر مطلق 143

قارون 1030

کے خزانے اور دولت کا گھمنڈ 1031,1030

کے خزانوں کی چابیاں 1030

قارون کا انجام 1031

قانون (دیکھئے زیر عنوان قوانین)

قانون سازی 549

قبا (مسجد) 626

قبائل کا تصور 443

قبیلہ گیری (عصمت فردی) 584,581,540

قبیح عادات 563,473

قبر 775

قبر کی زندگی 776

قبروں سے نکلنا (روز قیامت) 796

قبرستان 1081

قبرص (اشارتا ذکر) 1149,1109

قبطنی کا قتل 1008

قبلہ

قبلہ اول (بیت المقدس) 626

قبلہ کی تبدیلی 694

- ذکر للعالمین 225,224
رحمت للمؤمنین 221,220
رحمت للمحسنین 221
ام الکتاب 367,247,211
اللہ تعالیٰ کا کلام 207
الہامی پیغام 235
بصورت وحی نزول 208
نزول بذریعہ جبریلؑ 208
نزول تقدیری 209
نزول حقیقی 209
روشن چراغ (نور) 222
پہلی وحی قرآن 210
جشن عظمت قرآن 210
لوح محفوظ پر لکھا ہوا 211
آخری کتاب 99,223
تورات زبور اور انجیل کی تصدیق 249,248
تمام پیغمبران کی تصدیق 246
تورات اور انجیل میں پیش گوئی قرآن 247
قرآن حق و باطل کی کسوٹی 221
قرآن اور ماہ رمضان 209
کی حفاظت اللہ کے ذمہ 211
ہر تحریف سے محفوظ 211
اللہ اور فرشتے گواہ 210
ہر شک و شبہ سے پاک 213
ہر عیب اور کمی سے پاک (کچی، پیچ، خم) 213
دلوں کی بیماری کی شفا 220
اہل عالم کیلئے نصیحت 224,222
حق و صداقت کی کتاب 245
روشن ضابطہ کتاب 181
قرآن کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں جاسکتا 194
قلب رسول پر القا ہوا 207
ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج 220
صاف اور سیدھی عربی زبان 213
سمجھنے میں آسان 214
مضامین میں اختلافات سے پاک 234
- ہدایت و رحمت 225
واضح المطالب 214,213
زمین و آسمان کی ہر بات مذکور 214
کتاب حکمت و دانش 221
اندھیروں سے نجات دینے والی کتاب 223
حفظ قرآن 211
بتدریج اور برمنوع حسب ضرورت نزول 210
-- 240,239
موت آنے سے پہلے عمل کی ہدایت 220
تعظیم تکرمیم کے تقاضے 215
تلاوت کے تقاضے اوقات و آداب 217,215
سجدہ تلاوت قرآن 216
رموز قرآن بتدریج کھنکشف ہونے کی پیش گوئی 214
قوم یہود کے اہل علم قرآن کی سچائی سے آشنا 240
اہل کتاب پر قرآن پر ایمان اور عمل فرض 243
منکرین قرآن کا انجام 227
عربی زبان میں نزول کی حکمت 230
قرآن میں جن کا ذکر ملتا ہے
- قرآن میں مذکور اشخاص (اشخاص قرآن) 1147
قرآن میں مذکور اشیاء (دیکھئے ضمیمہ جات) 1159
قرآن میں مذکور مقامات (مکان قرآن) 1155,1153
قرآن میں مذکور اعضاء بدن انسانی 1161
قرآن میں مذکور رنگ (دیکھئے ضمیمہ جات) 1152
قرآن میں مذکور اعداد (دیکھئے ضمیمہ جات) 1165
قرآنی دعائیں 1116
قرآنی سورتیں (سورتہائے قرآن) 1171
قرآنی شہادتیں 1031,982,981,679,437,427
قرآنی قسمیں (اقسام قرآن) 1144
قرآنی حروف مقطعات (دیکھئے ضمیمہ جات) 1169
قرآنی مثالیں (تمثیلات قرآن) 1141
قرآن اور مستشرقین کے ابہام 228
قرآن اور سائنس (دیکھئے علوم قرآن،)
- قرب اللہ تعالیٰ 866
یاد (ذکر) اللہ 294
تقویٰ 308
- بذریعہ زکوٰۃ 267
بذریعہ خیرات 276
بذریعہ صدقہ 284
جہاد 644
کے ذریعے تلاش کرو 294
کے متلاشی 146
حصول قرب الہی کے بارے میں غلط فہمی 147
- قرب جنت 804
قرب جہنم 804
قربانت داری (رشتہ دار کے حقوق) 534,458,443
قربانی
- قربانی اسماعیلؑ 972,956
قربانی بطور کفارہ 292
قربانی حج 291
قربانی کا فلسفہ 292
قربانی برائے غیر اللہ 505,105
قربانی کے حکم پر نبی اسرائیل کا لیت و لعل 1053
قربانی ہائیل قابیل 915
- قرض 491
قرض حسنہ 286,277
قرض دار کے حقوق 491
قرض کی یادداشت کو ضبط تحریر میں لانا 491
قرض بعد از مرگ بھی واجب الادا 491
قرض سے رہائی دلانا 272
قرض اللہ کو بذریعہ زکوٰۃ 268
قرض اللہ کو بذریعہ خیرات 277
قرعہ اندازی 562,555,501
قریش مکہ کی شرارتیں 742,693
قریظہ (قبیلہ یہود اور غزوة) 712
قذف (تہمت) 537
قسمیں اور حلف 1144,571
قسم اور حلف کی حفاظت کا حکم 571
دنیاوی فائدے کیلئے قسمیں نہ اٹھاؤ 571
قسم اور کفارہ 573

قوانین قصاص و دیت 560
 قوانین کذب 536
 قوانین وراثت (ترکہ-میراث) 510
 قوانین وصیت 508
 قوانین مکاتبت 584
 قوانین جنگ و صلح (دیکھئے زیر عنوان جہاد)
 -- 663,585

قوت

قوت (طاقت) کا سرچشمہ (اللہ تعالیٰ) 142
 قوت بینائی (بصر) 397,396
 قوت گویائی (ناطقہ) 443,404,396
 قوت سماع (سننے کی طاقت) 397,396
 قول فصل (قرآن کریم) 223
 قول و فعل میں تضاد 473

قوم

ہر قوم کے لئے رسول 373
 ہر قوم کے لئے دستور عمل شریعت
 -- (دیکھئے زیر عنوان دین اللہ) 374
 قوم آشوری (آسیریا) 1085
 قوم ابراہیمؑ 947
 قوم الیاس 1066
 قوم نبی اسرائیل 1033,1004,596
 -- 1051,1044,1042,1036
 قوم نبی مدین 997
 قوم تیج 1115,1003
 قوم شموذ (عادثانی) 936
 قوم سباء 1114,1075
 قوم صالحؑ 936
 قوم عاد 929
 قوم عمالقہ 1043
 قوم لوطؑ 962
 قوم نوحؑ 917
 قوم ہود (عاداولیٰ) 929
 قوموں کی ترقی کا راز 673

سخت دل 414
 قفل زدہ دل 413
 قلب سلیم 413
 مطمئن دل 414
 مہرزده دل 414
 نفرت کرنے والا دل 414
 اللہ کا خوف رکھنے والا دل 414

اندھے دل 413
 بکھرا ہوا (منقسم) دل 414
 قلب و نگاہ کی خیانت 111

قلزم (دریا) 1037
 قلعہ خیر 716
 قلم 439,173
 قمار بازی 562,555,501
 قمر 794,332
 قمری سال 334
 قمیض یوسف 994,982
 قناعت 496

قناعت پسند کے حقوق 463,272
 قناعت بخشنے والا (اللہ تعالیٰ) 119
 قوانین (احکامات)

قوانین الہیہ اٹل ہوتے ہیں 370
 قوانین الہیہ میں تغیر نہیں 713
 قوانین الہیہ (دیکھئے سنت اللہ)
 قوانین تعزیر 566,564
 قوانین جنسی ضوابط 535
 قوانین پردہ 541
 قومی زبان 442,144
 قوانین رضاعت 533
 قوانین رہن 495
 قوانین شریعت 553
 قوانین شہادت و گواہی 567
 قوانین عائلی (نکاح، حق مہر، طلاق) 514
 قوانین عدت 531
 قوانین فطرت 366

قسم کھانا (بات بات پر) 470
 روز قیامت حلف اور قسم کی پرش ہوگی 572
 قسموں کو ڈھال نہ بناؤ 572
 بات بات پر بے مقصد قسم نہ کھاؤ 571
 قسم توڑنے کا ازالہ (دیکھئے کفارہ) 573
 قابل مواخذہ قسمیں 572
 غیر ارادی (غیر جواب دہ) قسمیں 572

قصاص 566,559

قصر (سر کے بال دیکھئے حج) 292
 قصر فی الصلوٰۃ (نماز قصر) 257
 قصص الانبیاء 905
 قصص قرآنی 904
 قصص عبرت (دیکھئے زیر عنوان انجام)

طوفان نوحؑ 925

غرقاب فرعون 1037

قصہ نصیحت حضرت یوسفؑ 977

قصہ غیب کی خبروں سے (قصہ حضرت یوسفؑ) 977

قصور معاف کر دینا 558,557,466

قضا و قدر 98

قضا روزہ 262

قضائے شہوت (صرف بذریعہ نکاح) 540

قطبی ستارہ برائے رہنمائی سفر 332

قطع

قطع تعلق کفار سے 612

قطع تعلق منافقین سے 748

قطع تعلق زانیین (دیکھئے ازدواجی تنازعات) 523

قطع تعلق (روز قیامت) 837,835,815

قطع ید۔ ہاتھ کاٹنا (دیکھئے چوری، ذکین) 562

قطع رحمی 458

قطع طریق (ذکین) 962

قطمیر (اصحاب کہف کا کتا) 1106,1105

قلب (دل) کی اقسام 413

بیمار (مریض) دل 414

رجوع کرنے والا دل 414

زنگ آلود دل 414

قومی زبان 442

قیامت 792

کب آئے گی 782

قیامت کا ایک دن 798

نفسا نفسی کا عالم 818,815

کی نشانیاں 788

کاظہور (برپاہونا) 791

کیفیت زمین 808,792,791

کیفیت آسمان 792

کیفیت پہاڑ 793

کیفیت سیارگان 794

کیفیت ستارے 795

کیفیت سمندر و دریا 795

وحشت ناک منظر 796,790

روز جزا (یوم حساب) 798

اعمال کا وزن 807,798

جسمانی اعضاء کی گواہی 808

زمین کی گواہی 808

پیغمبران کی گواہی 810

نامہ اعمال 800,799

کے روز ملاقاتیں 833

قیام

قیام دنیا کی زندگی 812

قیام طور 1045

قیام عرفات 290

قیام مشعر الحرام 290

قیام وادی منیٰ 290

قید

قید تہائی 564,537

قید حیات 537

جیل کا تصور 564

قیدی کے حقوق 463,282,271

قیدیوں کی اصلاح احوال 984,564

قیدی کی بیرونی پرہیزی 564

قیدی کو آزاد کرانا 573,271

قید کی دھمکیاں (منکر اقوام کی پیغمبران کو) 205

حضرت موسیٰ کو 1021

حضرت یوسف کو 984

قیلولہ 445

قیمتی پتھر 338

کارساز صرف اللہ 303,142,140,133,99

ک

کاروبار (بزنس-تجارت)

تجارت کے اصول 485

ناجائز فائدہ اٹھانا 1067

کاروبار سود 488,485

کاروبار میں ہفتہ وار چھٹی 487

کاروبار شراکت کے تنازعات 1069

شراکت میں بددیانتی 1069

کاروباری بددیانتی 1069

کافور (کی آمیزش والے مشروب) 871

کام اور آرام کے موزوں اوقات 336

کامیابی کی شرط 673,654,653,645

کان کنی (معدنیات) 339

کانا پھوسی (سرگوشی) 448

کاہن 158

کائنات پر غور و فکر (مظاہر قدرت) 350,344,337

-- 320,219,216,214

کائناتی علوم

کائنات کی پیدائش 321

کائنات کا پھیلاؤ 323

کائنات کی ہر چیز کا مالک 103

کائنات کا علم 321

کائنات کا نظام 366

کبیرہ گناہوں سے اجتناب 120

کپڑے پہنانا (لباس فراہم کرنا)

مساکین اور غربا کو 573

فاتر العقل اور نا سمجھ لوگوں کو 461

بطور کفارہ گناہ 573

کتاب

کتاب مسطور 856

کتاب مبین 222,214

کتاب حکیم 222,221

الکتاب (دیکھئے زیر عنوان قرآن کریم) 207

کتاب اعمال (دیکھئے زیر عنوان نامہ اعمال)

801,799,378--

کتاب اعمال لکھنے والے 378

کتاب اعمال روز قیامت 806,798

کتاب سماویہ (دیکھئے زیر عنوان الہامی کتابیں، صحیفے) 245

معنی اور تفاسیر میں تحریف 616,601,591

معنی اور تفاسیر میں اختلاف 616,601,591

کانزول (دیکھئے نزول)

کتمان حق 591

کتا (قطیر) 1107,1105

کتے کی مثال 416

کثرت مال اور اولاد کا غرور 422,419

-- 435,430,429,427,425,423

کثرت رزق 277,274,267

کثرت یاد الہی 652,294

کثیر الازدواجی (دیکھئے زیر عنوان نکاح)

کج بختی منکرین (دیکھئے زیر عنوان استہزا) 896

کدورت (کینے، بغض) 882,477

کرامت (دیکھئے الہام کشف)

کرب عظیم 1056,927

کردار کی چٹنگی

حضرت یوسف 981

حضرت یحییٰ 1091

حضرت سلیمان 1077

حضرت اسماعیل 972

حضرت مریم 1093

نصیحت لقمان 1071

کرانا کاتبین 378

کسوٹی ایمان 554,473,139

کوا 915,364
کواکب (دیکھئے نظام سیارگان) 330
کواکب پرستی (دیکھئے نجوم) 589
کوثر عطا کیا جانا 165
کوڑوں کی سزا (مجرمینزانا اور بدکاری) 565
کوڑھ۔ برص (دیکھئے زیر عنوان معجزات عیسیٰ)
کوشش کا پھل (دیکھئے زیر عنوان محنت) 673,440
کوشش شرط 674,96
کوئچیں کا ثنا (دیکھئے زیر عنوان معجزات مسیح)
کوہ (دیکھئے زیر عنوان جبل۔ پہاڑ)
کوہ جودی (اراراط) 926
کوہ سینا 1041,1012
کوہ صفا 290
کوہ طور 1051,1048,1045,1012,1011
کوہ مردہ 290
کہکشاں 329
کیڑے مکوڑے (حشرات) 365
کیتھولک نصاریٰ 607
کیفیات قلب (دل کی کیفیات) 413
کیفیات نفس 417
کیلنڈر قمری (التقویم) 334
کیلے 873
کیونزم اور اسلام 551
کینہ پروری (دیکھئے نفس)
کینہ حسد 978,548,477

کفالت مریم 1091
کفالت نومولود اولاد 534,533
کفایت شعاری (دیکھئے خرچ کے اصول) 496
کفران نعمت 301
اللہ کسی ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا 301
کی سزا۔ تنگ دستی بھوک اور خوف 301
ناشکری باعث عذاب 301
تم شکر کیوں نہیں کرتے 302
کفر کا مرض 748
کلالہ (لا وارث) 512
کلب 1107,1105,416
کلمات استقبالیہ 447
کلمات خیر 446
کلمہ
کلمہ اللہ 693,678,370,242
کلمہ طیبہ 770
کلمہ خبیثہ 641
کلمہ حق (جابر حکمران کے سامنے) 953
کلمہ کفر 643
کلیم اللہ (حضرت موسیٰ) 1012
کم عقل لوگوں کے حقوق 461
کم تولنا (کم ماپ تول) 997,485
کیونزم اور اسلام 551
کنارہ کشی (دین کو کھیل تماشا بنانے والوں سے) 814,430
نافرمان بیوی سے 524,523
کنجوسی 497
کنجیاں (چابیاں)

کشتی رانی 340
کشتی سازی 924
کشتی نوح 926,924
کشتی (جس میں حضرت یونس سوار ہوئے) 1085
کشتی (جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے سفر کیا) 1059
کشف (کھولنا) 124
کعبہ (خانہ کعبہ) 625,624
کفار و منکرین 858,857
کفار کی آرزو روز قیامت (دیکھئے احوال قیامت) 827
کفار کی غلط فہمی 859
کفار کی چالیں (دیکھئے منکرین مشرکین۔ یہود و نصاریٰ)
695,711,742,745
کفار کا انجام 856
کفار کی عذاب الہیہ کی طلب 754
کفار روز قیامت 837,822,820,804
کفار اور جہنم 885
کفار سے تعلقات
نظریہ حفاظت تک کی حد تک اجازت 612
کفار سے دوستی کی مخالفت 612
کفار سے تعلق مودت (خفیہ تعلق) کی ممانعت 613
کافر سے تعلق چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو 613
کافر کی محفل میں چاہے جتنی عزت ملے 614
کافر کو راز دار نہ بناؤ 614
مشرک اور یہود سب مسلمانوں کے دشمن ہیں 614
کفار کے اعمال کی مثال 857
کفارہ (ازالہ گناہ) تلافی عصیاں 573
کفارہ ظہار 525
احرام کی پابندی توڑنے کا کفارہ 289
جانور کی قربانی بطور کفارہ 573,292,289
روزہ بطور کفارہ 573,292,289,264
صدقہ بطور کفارہ 573,289
مسکین کو کھانا کھلانا بطور کفارہ 573,289
مسکین کو لباس فراہم کرنا بطور کفارہ 573
غلام آزاد کرنا بطور کفارہ 573
قیدی رہا کرنا بطور کفارہ 573



کھار اپانی اور شیریں پانی 347,343
کھانا (طعام)
(کھانے پینے کا انتظام مشترکہ اور جدا جدا)
449,445 --
کھانے کے آداب 449
کون سے گھروں سے بلا تکلف کھاپی لینا چاہیے
449,445 --
کھاڈ پو مگر ضائع مت کرو 523,450,252

آسمان وزمین کی کنجیاں 327
خزانہ قارون کنجیاں 1030
علم غیب کی کنجیاں 108
کامیابی کی کنجیاں 673,653,645
کنعان (ملک) 988
کنعان (ابن نوح) 926
کن فیکون 791,105
کنیز (لونڈی) 584,581,519

گواہی 567

گواہی (شہادت) کے اصول 567

غیر مسلم کی گواہی 588

واقعاتی گواہی 983,982

سچی گواہی کوئی مفاد یا رشتہ رکاوٹ نہ بنے 567

تمہاری دشمنی بھی سچی گواہی رکاوٹ نہ بنے 567

سچی، صاف اور واضح گواہی دو 568,567

ایک مرد کے بدلے دو عورتوں کی گواہی میں حکمت 568

انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات سے گواہی کا تصور 570

گواہی روز قیامت

گواہی اعضاء انسانی 808

اپنے اعمال کی گواہی 809,379

زمین کی گواہی 808

گواہی پیغمبران 810

فرشتوں کی گواہی 806

نبی کریم کی گواہی 811,177

گوشت 360

پرندوں کا 869

حرام گوشت 505

حلال گوشت 502

حلال جانوروں کا گوشت 502

سدھائے جانوروں کے شکار کا گوشت 502

مردار گوشت 505

گھ

گھائے کی تجارت (دیکھئے سود حرام روزی)

595,500,498,489,427 --

گھبراہٹ پریشانی، خوف کا علاج 298,295,258

472,305 --

گھریلو زندگی کے آداب 444

گھریلو زندگی میں سادگی 544

گھریلو ملازمین کا ضابطہ 445

گھروں میں داخلے کے آداب 444

گھروں میں نماز ہنگامی حالت میں 1033,261

گھر سے بلا ضرورت عورتوں کا باہر نکلنا 544

گھر سے باہر نکلنے پر عورتوں کیلئے پردہ کا اہتمام 542

گدھے کی آواز 1071,595,363

گھٹلی (بج) 351

گفتگو کے آداب 465,445

گمان اچھا (حسن ظن) 467

گمان بد (شک و شبہ) 481

گمراہ کن لیڈر (رہنما) 835,552

گمراہ کن سردار روز قیامت 835

گمراہ کن دعوتیں یہود و نصاریٰ 629

گمراہ عقائد کے گروہ روز قیامت 589

گمراہ اقوام کا انجام 679,677

گلہ بانی (ریوڑ چرانا) 1010

گناہ

گناہ کا وبال (احوال روز قیامت و دوزخ)

گناہ کی بخشش (دیکھئے زیر عنوان مہجرت مغفرت) 314

گناہ اور ظلم کے تعاون کی ممانعت 575

گناہ کا احساس (دیکھئے توبہ) 315

گناہ کا کفارہ (دیکھئے کفارہ) 573

گناہ کبیرہ سے گریز کا اجر 120

گنتی کا علم (علم الاعداد) 1165,344

گمراہ لوگ

کا انجام 892

کواکب پرست 945

رحمت خداوندی سے مایوس ہونے والے 957

توبہ توڑنے والے انجام 507,317

بت پرست لوگ 949

قیامت کے روز پچھتانے والے 826

اندھی تقلید کرنے والے 156

گواہ

گواہ (ثانی کے اصول) 567

گواہ کے فرائض 567

گواہ وصیت 509,508

گواہ دستاویزات (تمسکات) 495

گواہ لعان 568

گواہ جنسی جرائم 568

گواہ کی اہمیت 569

گواہ کی نااہلیت 570

گواہ کا تحفظ 570

لا علمی میں کھانا 504

حالت اضطرار میں کھانا 504

شکار کا گوشت 502

سمندری غذائیں 503,502

حلال غذائیں 502

حرام غذائیں 505

کھانا کھلانا

مساکین کو 573,289,283,282

معذور اور فاتر لعل لوگوں کو 461

غریبوں کو دیئے گئے کھانے کا معیار 573

کھانوں کا گل جانا (عذاب جہنم) 893

کھجوریں

کھجوروں کے باغ 873,358,357,356,281

کھجورتازہ 1096

کھلا دشمن (دیکھئے شیطان) 383

کھوج لگانا 1035,1006

کھیل تماشہ (دیکھئے زیر عنوان دنیا کی زندگی)

گ

گداگر کے حقوق (دیکھئے حقوق فقراء و مسائل)

گالی نددو (مشروکوں کے جھوٹے خدا کو بھی) 470

گالی گلوچ سے پاک ماحول 883

گاؤ شالہ کی ابتداء 1048

گاؤ شالہ پرستی 1048,590,150

گائے بیل بچھرا 1048,363

گر جاگھر (دیکھئے بیسیائیوں کے عبادت خانے) 583

گرج و چمک 349,348

گردن چھڑانا (آزادی دلانا)

غلام یا کنیز کی 271

قرض دار کی 491

قیدی کی 282,271

گروی رہن 495

گدھے کی مثال 1071,595,363

گھمنڈ کا انجام

دولت اور طاقت پر گھمنڈ کرنیوالی اقوام 685,582,427
دنیاوی اسباب پر فخر کرنے والی اقوام 675,582,427
فراخی معیشت پر اترانے والی اقوام 684,582,427
قارون کی دولت کا گھمنڈ اور انجام 1031
فن و ثقافت کی مہارت پر گھمنڈ 941,936
گھوڑے 362

ل

لا الہ الا اللہ 133
لائبڈ آرڈر کی عمل داری 563
لات و منات (بت) 590
لاٹری 555,501
لا حاصل کوشش (محنت رائیگاں) 569
لاش کا دفن کرنا (دیکھئے میت) 915,776
لاف زنی (یادہ گوئی) 237
لاج 480
لاچی انسان کی مثال 1096,416
لا علمی میں کھانا 504
لا علمی میں قتل (دیکھئے قتل خطا) 560
لا وارث کا ترکہ 512
لباس

لباس برائے ستر پوشی 544
لباس باعث زینت 544
لباس آدم اور حوا کو عطا کیا جانا 911
لباس اہل جنت 878
لباس جنگی ضرر سے حفاظت کیلئے (حضرت داؤد) 1068,647
لباس اہل دوزخ 893
لباس زینین (ایک دوسرے کے لئے پردہ) 548
لباس حریر و ریشم 881
لباس کی صفائی۔ پاکیزگی 252,251
لباس گرم 362
لباس غرباء فراہم کرنا 573
لباس فاجر العقل (نا سمجھ لوگ) 461
لبنان (اشارہ ذکر دیکھئے ارض مقدس)
لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا 561

لڑکی کی پیدائش پر اظہارِ افسوس 561,456
لڑکی (بیوی کے پہلے شوہر سے) 516
لشکر سلطان 382,296
لشکر اللہ تعالیٰ (حزب اللہ) 763,655
لشکر سلطان 382,296
لشکر زمین و آسمان 763,655
لظی (جہنم) 888
لعان 537,525
لعل و یاقوت 880
لعنت اللہ 935,934,912,161
لغو گوئی 483
لعنت عیسیٰ 1103,605
لعنت داؤد 1067,605
لغو لٹریچر 482
لغو شاعری 483
لغو محفلیں 477,465
لغویات سے پرہیز (کنارہ کشی) 765,465
لقاللہ (اللہ تعالیٰ کا دیدار) 833
لقب (دیکھئے لقابات)

لقمان علیہ السلام 1071
لکیر کے فقیر 115
لوح محفوظ 369,367
لوط علیہ السلام 962
قوم کو بے حیائی اور بے غیرتی سے روکنا 962
مہمانوں کی تکریم اور عزت نفس کی حفاظت 966
قوم کو جنسی آسودگی کیلئے نکاح کی ہدایت 966
بے راہ رو قوم کا ہدایت پر عمل کا احتراز 968
قوم لوط پر عذاب 968
نافرمان اور خائن بیوی کا انجام 969
لونڈی 584,581,519
لوہا کثیر المقاصد 339
لوہے کی تسخیر (دیکھئے داؤد) 1068
لوامہ نفس 417
لواطت (فعل قبیح قوم لوط) 962
لوٹ مار (دیکھئے ڈاکہ چوری) 997,962,562
لوٹ کھسوٹ کا نظام قائم کرنے والوں کا انجام 997,475
لہو (بہتا ہوا خون) 505
لے پالک اولاد 518

لیڈر گمراہ کن اقوام (دیکھئے زیر عنوان سرداران)
999,953,949,938,931,920,190 --
لیڈر (سردار) اقوام گمراہ روز قیامت 835
لیلۃ القدر 209
لین دین باہمی 494,491

ماپ تول 997,485
ما تحت (زیر اختیار) لوگوں کے حقوق 462
ماحول کی آلودگی کی صفائی کا قدرتی نظام 354
ماحول کی آلودگی کا تصور (شور) 898,884
مادہ پرستی 551,415
مارب ڈیم 1114
ماشاء اللہ کہنا 1112,469
مال و دولت اور اولاد 425,422

بڑی آزمائش (تند) 427,423,422,419
442,435,430,429 --
کا حص اور اسکی سزا 426,425
باعث غفلت یاد الہی 423
کی کثرت کا غرور 425
روز قیامت 813,424
بعض جیون ساتھی اور اولاد دشمن ہو سکتے ہیں 425

م

مال حرام (دیکھئے رشوت۔ حرام روزی) 595,555,500
مال ناحق کھانا 555
مال غنیمت 669,668,490
تقسیم میں حکمت 669
مال فئے 672 669,490
ماہر علوم (علماء) 338,308

مظاہر قدرت پر غور کرنیوالے 1125,335,320
علوم سائنس پر غور کرنے والے 443
قوانین فطرت پر غور کرنے والے 347,90
ماہی گیر قوم یہود (دیکھئے اسباب سبت) 1068
مایوسی ایک گناہ 304
ماں باپ کے حقوق (دیکھئے والدین) 451
ماں باپ کی تکریم (دیکھئے تکریم)
1098,995,993,947,452 --
ماں باپ سے سلوک (دیکھئے والدین) 451

1143 مکھی
 1141 مینہ بارش طوفان
 1142 نہریں
 1142 ویران کھیت
 1143 نوحؑ کی بیوی
 1142 ہموار چٹان
 328 مثبت منفی چارج (ہر چیز کے جوڑے)
 524 مجادلہ (دیکھئے ظہار)
 657,642 مجاہدین
 650 مجاہدین کی مدد کا اجر
 655,654 مجاہدین کی مدد کا وعدہ
 642 مجبور محکوم لوگوں کی امداد
 520 مجرد (بغیر نکاح) رہنا
 805 مجرم لوگ
 574 مجرم کی وکالت کی ممانعت
 575 مجرم کی اعانت
 575 مجرم کی بجائے کسی اور کو پکڑ لینا انصافی
 805 مجرم روز قیامت
 551,448 مجلس شوریٰ
 447 مجلس کے آداب
 1058 مجمع البحرین
 589 مجوس
 365 مچھر
 503,343 مچھلی
 503 مچھلی (حلال غذا)
 1058 موسیٰؑ کا سفر کے دوران مچھلی کا بھول جانا
 1084 مچھلی والے پیغمبر (حضرت یونسؑ)
 1085 مچھلی کا نکل جانا (حضرت یونسؑ)
 1070 مچھیرے قوم یہود
 1069 محراب (مصطفیٰ داؤد علیہ السلام)
 709 محاصرہ مدینہ (دوران غزوہ خندق)
 712 محاصرہ یہود (دوران غزوہ بنو قریظہ)
 514 محرمات (دیکھئے نکاح کے احکام)
 1040,774,317 مرگ الموت (دیکھئے موت)

362 کرخت آواز انسان
 141,123 بے سوہ پکار
 488 سوذخو
 1141 آگ اور روشنی
 1142 اناج کی بالی
 1141 اندھے لوگ
 1141 انگور
 1142 بادل
 1141 باغ
 1142 بدخوانسان
 1141 برسات بجلی
 1142 بوڑھا آدمی کمزور اولاد
 1141 بہرے لوگ
 1142 تند آمدھی
 1142 تیز آمدھی
 1142 روشن چراغ
 1142 زیتون
 1142 سُراب (نظر کا دھوکہ)
 1142 سایہ اور دھوپ
 1141 سرسبز کھیت
 1142 شیطان
 1142 عمران کی دختر
 1143 غلام
 1142 غلام اور مالک
 1142 کتا زبان نکالے ہوئے
 1143 فرعون کی بیوی
 1142 کھجور
 1142 گاؤں
 1142 کتا زبان نکالے ہوئے
 1143,1071 گدھا
 1141 گونگے لوگ
 1143 گہرا سمندر
 1143 مکڑی
 1143 لوطؑ کی بیوی
 1142 مردہ اور زندہ انسان
 1142 مچھر

634,574,441 مباحثہ کے اصول (دیکھئے بحث و تمحیص)
 209 مبارک رات (لیلۃ المبارک)
 770 مبارک کلمہ
 357 مبارک درخت (زیتون)
 540 مباشرت کے اصول
 1104,604,96 مبالغہ آمیزی
 607 مبالغہ
 426,218 متاع دنیا (دیکھئے دنیا کی زندگی)
 431,418 متاع آخرت (دیکھئے دنیا کی زندگی، مقابلہ آخرت)
 518 (متنبی) لے پاک
 227,226 متشابہات (آیات)
 622 متون مساجد
 492 متون (دیکھئے نگرانِ امانت)
 513 متون (دیکھئے زیر عنوان وصیت وراثت قصاص)
 559,510,508--
 1098,452 ماں کے خصوصی احترام
 1141 مثالیں (دیکھئے قرآنی مثالیں)
 855 منکرین قرآن کی
 144 شرک کی وضاحت کیلئے
 147 معبودان باطل کیلئے
 144 مشرکین کی بے بسی
 857 کفار کے اعمال
 227 منکرین آیات اللہ
 141,123 اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے پر
 304 اللہ سے بدگمانی
 857 ریگستان میں پیاسا
 569 کوشش لا حاصل۔ محنت رائیگاں
 227 اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزرنا
 344 انسان بمثل جانور
 387 پرندوں کی تلاش رزق
 402 مدارج زندگی۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا
 426 اسباب دنیا
 427 دنیا کیلئے خرچ
 595 بے عمل عالم
 569 غلط حلف اٹھانے والے
 413 پتھر دل انسان
 416 نفس کے غلام انسان

اصحاب رسول (صحابہ کرام) 758	آپ کی اطاعت اور اتباع کا حکم 171	محرمات جنسی بے ضابطگی (سے حفاظت)
قیامت کے روز نبی کریم کی گواہی	آپ کی اطاعت کا اجر بخشش 175	-- (دیکھئے پردہ، شرم و حیا کے احکام)
811,177 --	آپ کی زندگی عملی نمونہ 174	555,543,541,535 --
قیامت کے روز شفاعت نبی کریم 176	آپ کو بخشش طلب کرنے کی اجازت 175	محرم اور غیر محرم رشتے 516
قیامت کے روز گواہی 177	آپ کی تکریم کے خصوصی احکامات 182	محتاج کے حقوق (دیکھئے حقوق مساکین و فقراء)
محمد 758,703,641,436,249,247,99	آپ کی محبت کے تقاضے 168	283,271,263 --
احمد 164	آپ کی بیعت اللہ کی بیعت 170	محکمات (آیات) 226
رسول اللہ 163	آپ پر منکرین، مشرکین کے اعتراضات اور	محبت
ختم الانبیاء (ختم النبیین) آخری نبی 166	-- قرآنی استدلال 190	اللہ تعالیٰ سے 142
مصطفیٰ 165	اہل کتاب آپ کی حقیقت سے آشنا 180,163	محبت نبی کریم کے تقاضے 168
رسول عربی 181	سب پیغمبروں نے آپ کی تصدیق کی 180	محبت رسول ﷺ 168
رحمت العالمین 174	تمام انسانوں کے رسول 179	محبت غیر اللہ 142
افضل الانبیاء 180	شرح صدر (مصطفیٰ) 165	محبت مال و دولت اولاد 423,422,419
مبشر 165	رسول امین 167	-- 435,430,429,427,425
بشیر (خوش خبری سنانے والا) 179,168	پیغمبر برحق 167	محفل و مجلس کے آداب 447
-- 1691,180	معلم، نفوس کا تزکیہ کرنے والا 169	محنت
نذیر (ڈر سنانے والا) 179,169,168,165	منصف اور جج 170	محنت کا اجر (دیکھئے فضیلت علم) 440
-- 211,199	سنت رسول کریم 172	محنت رائیگاں (لا حاصل کوشش) 569
شاہد 177,169,165	اسوۂ حسنہ 172	محنت ترقی اور کامیابی کی شرط 673
مدثر 164	نرم دل اور شفیق 172	محنت (کاوش) رسول اللہ 163
مزیل 261	حدیث نبوی 173	محنت میں اپنا ہی فائدہ 674
رؤف و رحیم 173	ناموس رسالت 185	محمد مصطفیٰ ﷺ نبی کریم 163
رسول کریم 209	سیرت نبوی 174	آپ کا تورات اور انجیل میں ذکر 163
ظہ 733	معزز اور قابل اعتماد 209	آپ کی قوم یہود کے اہل دانش نے تصدیق کی 163
یسین 221	اخلاق کی انتہائی بلندیوں پر 172,173	آپ کے اسم احمد کی پیش گوئی 164
شفیق و رحیم 173	نوع انسان کیلئے موجب خیر 179	آپ کیلئے حضرت ابراہیم کی دعا 163
سراج منیر 165	نصرت رسول 177	آپ کیلئے حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی 164
شافع محشر 176	شاتم رسول کا انجام 187	آپ کا امی ہونا ایک معجزہ 165
صاحب سدرۃ المنتہی 689	تمام اہل کتاب پر ایمان اور اطاعت محمد قرض	آپ کی آمد مومنوں پر احسان 167
صاحب المعراج 688	-- 640,641,181	آپ کا بعثت اور نبوت کا اعلان 164
صاحب کوثر 165	بارگاہ نبوی کے آداب 182	آپ پر نزول قرآن مجید بذریعہ جبرائیل 164
حائل مقام محمود 166	توقیر و تعظیم رسول کریم 182	آپ پر درود و سلام کا حکم 377,120
خلق عظیم 173	خصوصی احکامات ازواج مطہرات 189,184	آپ کا ذکر بلند کیا گیا 166
رسول امی 165,163	احترام اہل بیت 188	آپ پر دین اسلام کی تکمیل 166
عبداللہ 688,628,164	اہل بیت اور قرابت دار 188	آپ پر ایمان نہ لانا کفر 181,170
نبی امی 181,165,163		آپ پر ایمان نہ لانے پر تمام اعمال ضائع 181

168	مبین	عرصہ حج اور مناسک	290,287	1043	مردم شماری
165	روشن چراغ	عرصہ حمل	400	535,443,395	مرد اور عورت
686	محمد مصطفیٰ ﷺ حیات طیبہ کے واقعات	عرصہ حیض	535	118	مرشد
686	سال ولادت کا واقعہ	عرصہ عدت	531,517	386,159	مرید شیطان
687	ابتدا نزول قرآن غار حرا	ایک دن سے کم قیام زندگی	812	1091	مریم علیہا السلام
688	معجزہ شق قمر	پچاس ہزار سال قیامت کا ایک روز	798	1091	پیدائش
700	معجزہ بر موق غزوة بدر	ایک ہزار سال عذاب کا ایک دن	887	1092	کفالت زکریا
688	اسراء معراج النبی	مدارج زندگی	401	1092	جہانوں کی عورتوں میں سے منتخب
689	روسائے مشرکین کو دعوت	مداخلت بے جا کی ممانعت	444	1092	فرشتوں سے ملاقات
690	مقام نخلہ پر جنات کا تلاوت سننا	مدعی پر بار ثبوت	568,537,525	1093	بشارت عیسیٰ پر تعجب
693	واقعہ غار ثور	مدوجزر کا تصور	344	1093	مریم کی پاک دامنی
693	ہجرت مدینہ	مدہوشی کی حالت میں نماز	253	1094	مریم حاملہ ہو جانا
694	آپ خواہش پر تبدیلی قبلہ	مدینہ النبی	761,626	1094	مریم بیت اللحم کی جانب سفر
696 تا 725	غزوات (معاهدے، بیثاق)	مدینہ کو ہجرت	693	1094	مریم فطری حالت زچگی
727	واقعہ تحریم	مزدلفہ	290	1097	مریم قوم کے الزامات
717	ادائیگی عمرہ کا خواب	مزارع (ہاری) کے حقوق	353,274	1097	مریم کے بارے میں نومولو د عیسیٰ کا جواب
729	ادائیگی عمرہ کا اعلان	مذاق (دیکھئے استہزاء)		1103,606	مریم پرستی کے عقیدہ کا ابطال
729	کفار کے ایمان نہ لانے پر آپ کا افسوس	مذاق اڑانا	479,94		مسافر کے حقوق
332	محور زمین پر گردش	مذہب مذہبی		463,282,271	مساکین
	مخالفین و معاندین (دیکھئے منکرین مشرکین یہود و نصاریٰ)	مذہبی پیشوائیت کے جنون کا پس منظر	616	283,271,263	مستجاب الدعوات
	مخبری کرنا (غیر ضروری باتوں کی)	مذہبی اختلافات	616	315	مستحقین زکوٰۃ
	مداین شمود (قوم صالح)	مذہبی اختلافات (یہود و نصاریٰ)	600	271	مستحقین خیرات
	مدینہ منورہ	مذہبی آزادی سلب کرنا (فرعون)	1033	282	مساجد
	مدارج تخلیق انسان	مذہب کو ذریعہ معاش بنانے والے	239,215,207		کو آباد کرنے والے
	مدارج تخلیق کائنات	مذہب دیگر (دیکھئے اسلام اور دیگر مذاہب)			کے متولی
	مدت (عرصہ ادوار - یوم)	مراة (دیکھئے زیر عنوان زوجہ)			کی غرض و غایت
	چھ یوم تخلیق کائنات ارض و سما	مرج البحرین	344,343		کی ظاہری چہل پہل کی بجائے عمل کی ضرورت
	دو یوم تخلیق زمین	مردہ زمین کو زندگی	346		مشرکوں کو آباد کرنے کی ممانعت
	چار یوم انتظامات معیشت	مردہ کی تدفین (دیکھئے فن کرنا)	915,776		میں داخلہ کے آداب
	آنکھ جھپکنے کی بات	مردار گوشت	505		میں عورتوں کا نماز ادا کرنا
	950 سال عرصہ تبلیغ نوح	مرد	161		کو پاک صاف رکھنے کا حکم
	100 سال نیند حضرت عزیز	مرد سے اللہ بے پرواہ	162		کو فرقہ واریت کیلئے استعمال کی ممانعت
	309 سال قیام غار اصحاب کہف	مرد کی سزا	162		عبادت کیلئے پہلا گھر
	سات رات آٹھ دن عذاب باد صرطوفان	مرد کیلئے عذاب آخرت	161		اللہ عبادت خانوں کا محافظ
		مرد کے لئے توبہ کا راستہ	162		

مسجد الحرام بیت اللہ (خانہ کعبہ) 622,288,287
717,695,694,688,663,625,624 -

مسجد نبویؐ 761,626

مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) 626

مسجد قباء 726,626

مسجد جن (جوار مکہ معظمہ) 690

مسجد قبلین (جوار مدینہ منورہ) 694

مسجد ضرار کا انہدام 726

موجود ملائیکہ (آدم علیہ السلام) 907

مسح (وضو) 252

مسک کی مذہبی آزادی 583,580

مسلمان

امن اور سلامتی کا علمبردار 90

مسلمان بنادیا اللہ کا احسان 90

کفار کی مسلمان ہونے کی آرزو 91

اللہ پر ایمان لانے والوں کا نام مسلمان 92

سب پیغمبروں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا 92

حضرت ابراہیمؑ کا دعویٰ اسلام 945,93

حضرت عیسیٰؑ کا دعویٰ اسلام 93

حضرت موسیٰؑ کا دعویٰ اسلام 93

حضرت نوحؑ کا دعویٰ اسلام 93

حضرت یعقوبؑ کا دعویٰ اسلام 92

حضرت یوسفؑ کا دعویٰ اسلام 93

مسح (عیسیٰ علیہ السلام) 1095

سیحی راہب (دیکھئے حواری) 1100

سیحی عقائد باطلہ (دیکھئے زیر عنوان عقائد باطلہ مسیحیت)

مسیحیت (دیکھئے زیر عنوان انصاری)

مشاورت (ایچھے کاموں کیلئے) 465

-- 549,484,467,466

مشاورت (دیکھئے مجلس شوریٰ) 549,448

مشاورت کا معیار 296

مشاورت کا نظام 551,465

مشاہدہ قدرت (دیکھئے مظاہر قدرت) 320

مشرق اور مغرب کا رب 1020,324

مشرق اور مغرب کی انتہا تک سفر 1082

مشرک (دیکھئے شرک) 139

مشرک کا انجام 846

مشرک کے لئے دعائے مغفرت 140

مشرک کو پناہ دینا 668,588,585

مشرکین کے عقائد باطلہ کا ابطال

مشرکین کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد باطلہ

-- 148,138,136

قرآن پاک کے بارے میں ابہام کی

-- سازشوں کا ابطال 228

رسول کریمؐ پر اعتراضات کا ابطال 199,190

پیغمبران اللہ پر اعتراضات 199,190

حیات بعد از موت پر اعتراضات کا ابطال 777

مشرکانہ رسومات (دیکھئے اندھی تقلید) 159,155

مشرکین عرب 159,155

مشروب 357

مشروب اہل جنت 870

مشروب اہل جہنم 890

مشعر الحرام 290

مشک کی خوشبو والے مشروب 871

مشکل کشائی 141,140, 125,124,123,122

-- 147,146,145,144,143,142,119

مشکل کے بعد آسانی کی نوید 371

مشکل کے وقت سب پیغمبران نے اللہ کو پکارا

حضرت ابراہیمؑ کی پکار 955

حضرت ایوبؑ کی پکار 996

حضرت لوطؑ کی پکار 964

حضرت موسیٰؑ کی پکار 1010,1009

حضرت نوحؑ کی پکار 927,922

حضرت یونسؑ کی پکار 1085

مشورہ (دیکھئے مشاورت)

مشورہ نیک باتوں میں 466

مشیت ایزدی 98

مصارف زکوٰۃ 271

مصارف خیرات و صدقہ 282

مصارف مال غنیمت و فتنے 715,669,668

مصر 1037,1035,1029,995,985

-- 981,980

مصیبت (دیکھئے زیر عنوان آزمائش اور مشکل)

مطلب براری

کیلئے دعائیں 412

کیلئے خیرات 280

کیلئے عبادات 297

کیلئے اطاعت 578

مصطفیٰؐ (محمد رسول اللہ) 165

مصلحت (دیکھئے زیر عنوان حکمت)

کائنات کی کوئی چیز خالی از مسحت نہیں 371

مطلقہ عورتوں کے حقوق 529

مطلق العنانیت کا نظریہ 549

مظاہر قدرت پر غور کی دعوت 320

معاشی

معاشرتی بائیکاٹ 564,540

معاشرتی بہبود ٹیکس 265

معاشرتی احکام (دیکھئے قوانین) 514,451,443

معاشرتی زندگی کے آداب 443

معاشی سہولتوں کا حصول 432

معاشی احکام (دیکھئے رزق) 378

معاشیات (دیکھئے کاروبار کے اصول) 485

معاشرت کا حسن (دیکھئے حسن معاشرت)

معاشرتی برائیاں 473

اترانا۔ شیخی بگھاڑنا 479

احساس کمتری 480

احسان جتنا 281,280

اخلاق سوز پروپیگنڈا 482

اخلاقی گراؤٹ (دیکھئے اخلاقیات) 465

اکڑ کر چلنا 1071,479

الزام تراشی 475

بات بات پر قسم کھانا 571,474

بد خوئی 477,474

بدگمانی 481

465 معاشرہ کی اصلاح (حسن عمل سے)

معاشی جدوجہد

434 معاشی جدوجہد کا ضابطہ

435,432 معاشی جدوجہد کی ترغیبات

432 معاشی سہولتوں کا حصول

1117,997 معاشی لوٹ کھسوٹ

378 معاشی احکام (دیکھئے رزق)

435, 432 معاشی ترقی اور اسلام

معاشیات کے ٹیکس

265 زکوٰۃ

274 عشر

490,284,275,274,265 معاشرتی بہبود ٹیکس

668,490 جنگی قیدیوں پر ٹیکس

668,490 سوشل سیکورٹی ٹیکس

558,557,377 معافی درگزر

120 معافی چھوٹی کوتاہیوں پر

558,524,528 معاہدات صلح (دیکھئے زیر عنوان صلح)

665,663,621,585 --

494 معاہدات لین دین

133 معبود واحد (توحید)

139 معبودان باطل (شرک۔ طاغوت)

842,148,147,146,144 --

معجزات انبیاء کرام (دیکھئے تفصیل قصص قرآنی)

700 معجزہ بر موقوع غزوہ بدر

688 معجزہ شق القمر

معجزات حضرت صالحؑ

939 اونٹنی (بطور نشانی)

معجزات حضرت موسیٰؑ

1018,1013

1026,1013 عصا

1013 پید بیضا (چمکتا ہوا ہاتھ)

1043,1013 چٹانوں سے چشمے پھوٹنا

1037,1013 بحر قلزم میں راستہ

1044 من و سلویٰ کا نزول

1053 قاتل کی شناخت کا معجزہ

معجزات حضرت عیسیٰؑ

1099 ماں کی گود میں کلام

476 غیبت

281 غریبوں سے نفرت

481 غیر ضروری باتوں کا تجسس

571,474 غیر ضروری قسمیں اٹھانا

496 فضول خرچی

473 قول و فعل میں تضاد

477 کینہ (بغض)

470 گالی دینا (ہتک کرنا)

483 گمراہ شاعر کی پیروی

480 لالچ

483 لغو گوئی۔ بکواس۔ بے ہودہ باتیں

426,425 مال اور دولت کا حرص

902,475,157 مکر و فریب

1078,481,480 میاں بیوی میں بگاڑ پیدا کرنا

483 یادہ گوئی

معاشرتی برائیاں قوم عاد

929 مادہ پرستی

معاشرتی برائیاں قوم ثمود

939 امیر طبقہ کی اجارہ داری

939 غریب طبقہ کو قدرتی وسائل سے محروم رکھنا

معاشرتی برائیاں قوم لوطؑ

962 شہوت پرستی

962 غیر فطری جنسی فعل کی علت

962 قطع طریق

962 ڈکیتی

962 بے حیائی اور بے غیرتی کے کھلے عام مجرم

معاشرتی برائیاں قوم نبی مدین

997 کاروباری بددینی

997 دھوکہ

997 ناپ تول میں کمی بیشی

997 ملک میں شرفساد

997 لوٹ مار۔ ڈاکہ زنی

997 لوگوں کو حق بات سے روکنا

665,554 معاشرہ کی اصلاح (دیکھئے اصلاح معاشرہ)

484 برائی سے نہ روکنا

477 برائی کا چرچا کرنا

484,470 بری صحبت

479 برے لقب سے پکارنا

525,475 بہتان

475 تہمت لگانا

1071,477 تکبر

477 تنگ نظری

562,555,501 جوا، پانسہ بازی، قمار بازی

541,535 جنسی بے راہ روی

474 جھوٹ

477 جھگڑا لوپن (بد مزاجی)

475,157 چال بازی

997,562 چوری ڈاکہ زنی

477 حسد

480 حرص

480 خوشامد پسندی

475,282 دکھاوا

475,474 دھوکہ بازی

486 ذخیرہ اندوزی

555 ذہنی آوارگی کے جرائم

475 ریا کاری۔ خود نمائی

555 سفید پوش لوگوں کے جرائم

506 شراب خوری

481 شکوک و شبہات پیدا کرنا

557,482 شریف لوگوں کو تنگ کرنا

473,468 صرف دوسروں کو نصیحت کرنا خود عمل نہ کرنا

480 طمع

575,574 ظالم اور مجرم کی وکالت کرنا

483 ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے سب کام

575,574 ظلم اور جرم میں معاونت کرنا

474 عہد و پیمانہ کی خلاف ورزی

476 عیب جوئی

481 غلط افواہیں اڑانا

483,155 غلط رسوم و رواج

مقام	مقام	مقام
مشرکین اور جھوٹے معبود 845,842	مقام ابراہیمؑ 290	زمانہ شیر خواری میں تبلیغ 1099
نیک اور گناہ گار لوگ 840	مقامات عبرت 1002,969,943,935	اللہ کے حکم سے مردہ روح کو زندہ کرنا 1099
شیطان اور اسکے پیروکار 837	مقامات سجدہ تلاوت قرآن 1168,216	پیدائشی اندھوں کو بینائی دینا 1099
ملائیکہ (دیکھئے زیر عنوان فرشتے)	مقام ادب (دیکھئے زیر عنوان تکریم) 82	جذام اور کوڑھ کے مریضوں کو شفیاب کرنا 1099
ملبوسات (دیکھئے لباس)	مقام کریم 1040,596	مٹی کے پرندوں کو اللہ کے حکم سے
ملت ابراہیمیؑ 960	مقام امن (حرم کعبہ خانہ کعبہ) 879,625,624	-- پھونک مار کر اڑانا 1099
ملکہ سباء (بلیقیس) 1076	مقام بلند پر اٹھایا جانا (ادریسؑ) 916	یہ بتا دینا کہ انسان نے کتنا کھایا کتنا بچایا 1099
ملک الموت 775,379	مقام محمود 260,166	معجزات حضرت داؤدؑ 1068
<u>ملک</u>	مقربین (دیکھئے السابقون) 761,688,639	لوہے کی تسخیر 1068
شام (اشارتا ذکر) 1109,1077,1042,954	مقصد حیات 405	پہاڑوں کی تسخیر 1068
عراق (اشارتا ذکر) 1085,954	مقننہ (قانون سازی) دستور سازی 549	پرندوں کی تسخیر 1068
فلسطین (اشارتا ذکر) 1079	مکاتبت (غلام کی آزادی) 584,581,462	معجزات حضرت سلیمانؑ 1072
مصر 1037,1035,1029	مکافات عمل 673,186	تسخیر جنات 1072
یمن (اشارتا ذکر) 1115,1108,1075	مکافات اعمال بد (دیکھئے جہنم) 885	ہواؤں پر حکمرانی 1072
ملکی دفاع (سرحدوں کی حفاظت) 646	مکافات اعمال صالح (دیکھئے جنت) 860	پرندوں کی بولیوں کا علم 1072
منات (بت) 590	<u>مکالے</u>	چرند پرند کی لشکر بندی 1072
مناجات زبور 1068	حضرت ابراہیمؑ اور نمرود 953	معدنیات 339
منادی حج 287	اہل جنت و اہل دوزخ 839	تانا 1073,339
مناسک حج 393,288,293,290	حضرت موسیٰؑ اور فرعون 1036	قیمتی پتھر 1072,338
منشیات 555,506	نیک اور گناہ گار لوگ روز قیامت 840	چاندی 339
منتر 157	مکہ معظمہ (مسجد الحرام) 625,624,287	سونا 339
منت (جائز مراد کیلئے) نذر 285	مکر و فریب	لوہا 1068,339
من و سلوئی (خوان نعت) 1044	مکر و فریب برادران یوسفؑ 979	موتی مونگے 342
<u>منافقین</u> 748	مکر و فریب زلیخا 983,981	معراج النبیؐ 688
منافق بمثل شیطان 750	مکر و فریب یہود 1102	معیشت کے خزانے (دیکھئے معدنیات، رزق کے خزانے)
منافق بمثل کافر 750	شیطان 385	388,338 --
منافق بمثل مرتد 750	مکڑی 365	معیوب افعال 535,473
منافقین سب ایک جیسے ہیں 753	مکڑی کا جالا 143	مغفرت طلبی (استغفار) 312
منافق کی بات کا اعتبار نہ کرو 660,659,750	مکھی 365	مفلسی کا خوف 383
منافقین کی پہچان 663	ملازمین (ماتحت) سے سلوک 462	مفلسی اور تنگ دستی 520,301
منافق کے مال اور اولاد پر رشک نہ کرو 750	ملاقاتیں روز قیامت 833	مفتوحہ علاقے کا مال (مال نیت دینے) 669,668
منافق سے محتاط رہو 753,751,663,660,659	اہل جنت اور دوزخ 839,838	مفاد پرستی 578,383
پد و منافقین کا جھوٹا نظہار ایمان 728	کفار اور مومن 841	مغفرت طلبی ملائکہ (برائے انسان) 377
منافقین کے عذروتاویلات 728,721		مسجد الحرام 625,624
عبداللہ بن ابی کا کردار 743		

معجزانہ عبور بحر قلزم 1037
 غرقاب فرعون 1040
 تبلیغ قوم نبی اسرائیل 1050,1017,1014
 قیام کوہ طور 1045
 دیدار رب تعالیٰ کی درخواست 1046
 عطائے تورات 1047,1014
 قوم کی گوشالہ پرستی 1048
 بیثاق کوہ طور 1052
 حصول علم کے لئے طویل سفر 1058
 ملاقات خضرؑ 1058

موت 117,115
 موت کی جگہ اور مقام 771
 موت سے فرار ممکن نہیں 771
 موت کا فرشتہ 775,379
 موت کا وقت 771
 موت کا فر 772
 موت مشرک 773
 موت مومن 772
 موت کا خوف 773
 موت کے بعد جی اٹھنا 777
 موت دوران جہاد 658
 موت دوران ہجرت 672
 موت کی سزا (دیکھئے تعزیری سزائیں) 566
 موت کا وقت (سکرات) 774
 موت کے وقت توبہ 1040,317
 موت دوبارہ نہیں آئے گی 899,868
 موت آنے تک اللہ کی یاد کا حکم 296
 موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو 275
 موت سے پہلے توبہ کر لو 316
 موت سے پہلے قرآن بر عمل کر لو 220
 موت سے جنات کی لائسی 1079

موجبات تالیف قلب
 خیرات 276
 زکوہ 266
 ذکر اللہ تعالیٰ 295

حضرت صالحؑ کو 938
 پیغمبران کا جادو زدہ قرار دینا
 حضرت شعیبؑ کو 1000
 حضرت صالحؑ کو 939
 پیغمبران کو کاہن یا نجومی قرار دینا
 حضرت محمدؐ کو 199
 منکرین کا پیغمبران سے معجزات کا مطالبہ 194
 حضرت صالحؑ سے 939
 حضرت شعیبؑ سے 1001
 حیات بعد الموت پر شک اور اعتراضات کا جواب 777
 منکرین کتب سماویہ اور یوم حساب 850
 منکر
 منکر بیٹا حضرت نوحؑ 926
 منکر بیوی حضرت نوحؑ 927,545
 منکر بیوی حضرت لوطؑ 969,545
 منکر باپ حضرت ابراہیمؑ 947,946
 منگول (تاتاری) قبائل 1083
 منطق طیر (حضرت سلیمانؑ) 1070
 موسیٰ علیہ السلام 1004
 پینٹل 1005
 دریائے نیل میں بہادیا جانا 1006
 تعاقب صندوق 1006
 پرورش محل فرعون میں 1007
 حقیقی والدہ سے دودھ پینا 1007
 ہجرت وادی مدین 1009
 ملاقات حضرت شعیبؑ 1010
 نکاح دختر شعیبؑ 1010
 جلوہ طور 1012,1011
 عطائے معجزات 1013
 دعا معاونت برادر ہارونؑ 1015
 دعوت حق فرعون 1017,1016
 مقابلہ جادوگران دربار فرعون 1025
 نبی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ 1036
 تعاقب فرعون 1037

منافقین کی الزام تراشیاں 284
 کے حیلے بہانے شرکت جہاد 721,661
 مومنین میں تفرقہ کی سازش 726
 کی چالوں کا بے نقاب ہونا 704
 منافق کی نماز جنازہ جائز نہیں 751
 منافق کا انجام 751
 منافق کے خلاف جہاد کرنے کا حکم 643
 منافقین مدینہ کی شرارتیں اور منصوبے 703
 -- 742,728,718,716,704
 منکرین کتب سماویہ 228
 منکرین انبیاء کرام 191
 منکرین اقوام کا انجام تاریخ کے آئینے میں 685-679
 منکر اقوام کا انجام (دیکھئے زیر عنوان انجام - قصص قرآنی) 679
 منکرین کی عذاب الہی کی طلب میں جلدی 754
 منکرین و مشرکین کے اعتراضات اور قرآنی استدلال
 رسول کریمؐ پر اعتراضات کا ابطال 199,190
 قرآن پاک پر اعتراضات کا ابطال 228
 پیغمبران اللہ پر اعتراضات 199,190
 پیغمبران ہم جیسے آدمی کیوں ہیں 191
 حضرت نوحؑ پر اعتراض 920
 حضرت صالحؑ پر اعتراض 938
 حضرت شعیبؑ پر اعتراض 1001,999
 حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ پر اعتراض 1019
 پیغمبر فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا
 حضرت نوحؑ پر اعتراض 921
 حضرت ہودؑ پر اعتراض 932
 حضرت موسیٰؑ پر اعتراض 1019
 پیغمبران کو جادو کر قرار دینا 202
 حضرت موسیٰؑ کو 1021
 حضرت سلیمانؑ کو 1080
 پیغمبران کو دیوانہ مجنون قرار دینا 202,199
 حضرت نوحؑ کو 921
 حضرت موسیٰؑ کو 1020
 حضرت ہودؑ کو 932
 حضرت محمدؐ کو 199
 پیغمبران کو شاعر قرار دینا
 حضرت محمدؐ کو 199
 پیغمبران جھوٹا قرار دینا 203

قیامت کے روز توبہ کی مہلت 828	اشرف المخلوقات 770	موجبات تقرب اللہ تعالیٰ 276,267,250
منکرین کو عذاب الہی طلب کرنے پر مہلت 756	کی جان اور مال 644	موجبات خوشنودی اللہ 644,287,284,276
موت سے پہلے توبہ کر لینے کی 316	کی زندگی اور موت 646	266,262 --
موت سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی مہلت 275	کے اعمال کا اجر 860	موجبات رضائے اللہ 266,262,253,250
کفار کو روز قیامت تک مہلت 830	کی مدد کا وعدہ 205	294,287,286,276 --
قوم شومود مہلت برائے توبہ 941	کی حفاظت کا وعدہ 655	موجبات وسعت رزق 313,277,274,267
شیطان کو تا قیامت مہلت 912	اللہ کی رحمت کے قریب 1117,1116	موجبات مغفرت 644,586
قرض دار کو ادائیگی کیلئے مہلت دینا 491	کافر کبھی غالب نہیں آسکتا 662	احساس گناہ۔ اعتراف گناہ 573,315
مہذب معاشرہ 554	اللہ کیساتھ معاہدہ 644	ادائیگی زکوٰۃ۔ عشر۔ صدقہ۔ خیرت 284,276,274,266
بیٹھا بول (خوش اخلاقی) 446	اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا 720	استغفار (معانی) 312
مہینے 334	شیطان کی بے بسی 769	ترک عادات قبیحہ۔ اصلاح احوال (توبہ الصوح) 318,317
میاں بیوی	مومن عورتوں کیلئے لمحہ فکریہ 545	تقویٰ 306
کے تعلقات 540,535	مومنین اقوام سابق (نبی کریم بعثت سے پہلے ایمان لائے) 1022,1010,943,939,935,927,924 --	توبہ 315
کے تنازعات 523	1037,1023 --	توکل 303
کے فرائض و حقوق 523,522,520	موسم	حج 287
میت کی تدفین 915,776	بوجہ بدلتے رخ کی ہوائیں 349	حقوق العباد 451
میثاق	موسم کی شدت سے حفاظت 883	روزہ 262
میثاق ازل 405	بوجہ گردش شمس و قمر 334	شرکت جہاد 646,645
میثاق نبی آدم 914	موصل (نینوا) عراق 1085	شکر 300
میثاق انبیاء کرام 405,180	موقع پرستی 412,280,297,662	غفور و درگزر 558,557,466
میثاق کوہ طور (میثاق نبی اسرائیل) 1052	مونگے، موتی (سمندری خزانے) 1072,342	کبیرہ گناہوں سے اجتناب 120
میثاق مدینہ 706	مویشی (دیکھئے زیر عنوان جانور۔ چوپائے) 361,360,359	نماز 250
میدان احد 702	منہ بولی اولاد (دیکھئے متبتی) 518,512	یاد اللہ 294
میدان بدر 696	من و سلوٰی 1044	اللہ تعالیٰ 125,123,121,120,119
میدان تیبہ 1043	مہاجرین 671	-- (دیکھئے صفات اللہ تعالیٰ اسمائے حسنیٰ)
میراث کے قوانین 510	مہاجرین کی امداد کا اجر 671	اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے 123,122
میکائیل علیہ السلام (رزق کی تقسیم پر مامور فرشتہ) 380	مہاجر خواتین 671,669,519	مورچہ بندی 646
میدان جنگ میں نماز اور یاد اللہ 652,648	مہاجرین کی مدد کا حکم 672,671	موذت ذی القربا 168
میزان (دیکھئے ناپ تول و عدالت و انصاف اور یوم حساب)	مہر (حق مہر) 521	مومنین روز قیامت 803,764,644,643
821,578,485 --	مہمان نوازی	مومن کی صفات 764
میسرہ (دیکھئے ہوا) 562,55,501	مہمانوں کی تکریم حضرت ابراہیمؑ 957	مخلوق کے دلوں میں الفت 769
میقات (حدود حرم) 663,625	مہمانوں کی تکریم حضرت لوطؑ 966	کفار کے دل میں مومن کی ہیبت 654
مینڈک 1034	مہلت	دنیا کی زندگی کے انعامات 768
میوے و پھل 828,589	منکرین کو دوبارہ دنیا میں آنے کی مہلت 828,589	انگڑی زند کے انعامات 769
		کے اعمال کی مثال 770
		سے دوستی کا اجر 770

نجات اہل ایمان - سنت اللہ

- نسل پرستی 582
 نسی (دیکھئے توہم پرستی) 159
 نشانات قیامت 788
 نشانات مومن (دیکھئے صفات مومن)
 نشانات عبرت
 اصحاب ایکہ 1002
 قوم بنی مدین 1002
 قوم ثمود 943
 قوم عاد 935
 قوم لوط 969
 نشہ آور مشروبات 506
 نشہ بازی 506
 نصاریٰ (دیکھئے اہل کتاب) 607,601
 مذہبی پیشوائیت کے جنون کا پس منظر 616
 انجیل کی دانستہ تحریف 601
 کی بنیاد پرستی 1105,607,601
 کی تشدد پسندی 1105,601
 کی مذہب میں مبالغہ آمیزی 1104,604
 کی فرقہ بندی 607
 سب ایک جیسے نہیں 638
 مسلمانوں سے دوستی کے قریب تر لوگ 638
 نصاریٰ پر محمد پر ایمان لانا فرض 640,243,181
 کے عبادت خانے (چرچ) 583
 کے عقائد باطلہ 1103,606,602
 عقیدہ تثلیث (اقانیم ثلاثہ) کا ابطال
 -- 1103,606,602
 عقیدہ مریم پرستی (الوہیت) کا ابطال 602
 -- 1103,606
 عقیدہ رہبانیت کا ابطال 601,434
 نصاب شہادت (دیکھئے گواہی)
 نصرانی (دیکھئے نصاریٰ عیسائی مسیح)
 نصرانی (درج ذیل پیغمبران) (عیسائی) نہ تھے
 حضرت ابراہیم 945
 حضرت اسماعیل 971
 حضرت اسحاق 973
- نجات حضرت نوح اور اہل ایمان 928
 نجات حضرت ہود اور اہل ایمان 935
 نجات حضرت صالح اور اہل ایمان 943
 نجات حضرت ابراہیم 954
 نجات حضرت لوط اور اہل ایمان 970
 نجات حضرت شعیب اور اہل ایمان 1003
 نجات حضرت موسیٰ اور اہل ایمان 1037
 نجاشی (دیکھئے ہجرت حبشہ) 688
 نجم الثاقب 329
 نرمی درگزر (قوتوں کے ساتھ دیکھئے غفور گزر) 456,386
 ندامت گناہ (دیکھئے توبہ کفارة) 573,315
 ندامت روز قیامت 811
 نذر (جائز مراد کیلئے) صرف اللہ سے ماننا 285
 نذر زوجہ عمران 1091
 نذر (عہد اللہ) کو پورا کرنا 285
 نذر مریم 1096
 نذر ہابیل وقابیل 915
 نذر برائے غیر اللہ 505,105
 نذیر و مبین (ڈراور خوش خبری سنانے والا)
 حضرت محمد 168
 حضرت نوح 919
 حضرت ابراہیم 948
 حضرت لوط 963
 نزول قرآن 239,230,208
 نزول تورات (دیکھئے تورات) 1047,1014
 نزول انجیل (دیکھئے انجیل) 1098
 نزول زبور (دیکھئے زبور) 1067
 نزول تسکین (دیکھئے تسکین)
 نزول عذاب (دیکھئے عذاب)
 نزع کا وقت 774
 نسب نسل کی حفاظت کا نظام 996,531,513
 نسب نسل کے رشتے 443
 نسر (بت) 917
- نا انصافی 582
 ناامیدی 304
 ناپ تول کے اصول 997,485
 ناپ تول کی خان قوم کا انجام 1001
 ناجائز تعلقات (دیکھئے جنسی ضوابط) 535
 ناجائز کاروبار (دیکھئے کاروبار کے اصول) 485
 ناجائز تنگ کرنا 557
 نادانی میں سرزد غلط افعال (دیکھئے زیر عنوان رعایت)
 نار جہنم 900,891,887
 ناحق قتل 559
 نار نمود 954
 ناشائستہ حرکات 557,543
 ناشکری 301
 ناشکری کا عذاب 1114,685,679,673
 نافرمان
 نافرمان بیٹا نوح 926
 نافرمان بیوی لوط 969,545
 نافرمان بیوی نوح 927,545
 نافرمان (بددماغ، سرکش) بیوی کی اصلاح 523
 ناقہ اللہ (اوٹنی معجزہ صالح) 939
 نامہ اعمال 798,378
 لکھنے والے (کرانا کاتبین) 378
 دائیں ہاتھ میں 800,799
 بائیں ہاتھ میں 880,801
 پیٹھ کے پیچھے لٹکا ہوا 801
 گلے میں لٹکا ہوا 798
 علین (دفتر نیک اعمال) 800
 سحین (دفتر بد اعمال) 801
 ناموس رسول کریم 185
 نان و نفقہ 533,522
 نباتات 351
 نبی کریم حضرت محمد ﷺ 163
 نجاست سے دوری (دیکھئے نماز) 252,251

نماز عصر (صلوٰۃ الوسطیٰ) 254	نقل و حمل کے ذرائع 340	حضرت یعقوب * 975
نماز قبلہ رخ ہو کر پڑھنا 353	نکاح (کے احکام) 514	نصرت اللہ کا وعدہ (دیکھئے جہاد و غزوات)
نماز باجماعت 255	عورت کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں 514	نصرت الہی (دیکھئے اللہ کی مدد)
عورتوں کیلئے باجماعت نماز کا تصور 255	فریقین کی پسند کی اجازت 517	نصرت رسول 178,177
نماز میں خشوع و خضوع 255	ولی یا سرپرست کا تصور 514	نصیحت لقمان 1069
نماز میں سستی کا ہلی 256	کا مقصد صرف شہوت رانی نہ ہو 514	نطفہ کی تحقیق کا نظام اسلام 531,513
نماز میں عجز و انکساری 255	نکاح (کے احکام) 514	نظام قدرت رب تعالیٰ 366
دکھاوے کی نماز 256	فکر و نظر (عقائد) کی ہم آہنگی شرط 515	نظام قدرت میں تغیر یا تبدیلی نہیں 678,370,242
نماز حالت خوف (صلوٰۃ الخوف) 257	کن رشتوں سے نکاح جائز (غیر محرم) 516	نظام کائنات 366,320
نماز کی قصر (قصر فی الصلوٰۃ) 257	کن رشتوں سے نکاح ناجائز (محرم) 516	نظام حفاظت آسمان 330
نماز ہنگامی حالات 261	مناسب رشتہ ملنے پر لڑکی کے والدین	نظام شمسی 331
نماز میدان جنگ 257	-- کابا ت چیت کرنا (دیکھئے حضرت موسیٰ) 1010	نظام قمری 331
نماز جمعہ 256	نکاح کی شرائط میں طرفین کی رضامندی 1010	نظام سیارگان 330
نماز تہجد (صلوٰۃ تہجد) 260	بیوہ عورتوں سے نکاح 517	نظام مملکت اسلامی 553,549
نماز عیدین 260	یتیم عورتوں سے نکاح 517	نعمت خداوندی 875,300,102
نماز عید الفطر 260	لے پالک اولاد کی مطلقہ سے نکاح 518	نفس می فرعون 1040
نماز عید الفصحیٰ 260	اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح 518	نفاذ شریعت 553
نماز جنازہ 260	جنگ و جہاد کے نتائج میں مہاجر عورتوں سے نکاح 519	نفاذ نظام زکوٰۃ 269
نماز استسقاء (بارش کے لئے دعا) 261	کنیراؤں (لونڈیوں) سے نکاح 519	نفاذ نظام صلوٰۃ 251
اوقات نماز میں وقفہ کاروبار 257	کنوارے افراد کو نکاح کی ترغیب 966,520	نفس کی بیماریاں - اسباب و علاج
نماز گھبراہٹ، خوف اور پریشانی کا علاج 258	مفسی نکاح میں رکاوٹ نہ بنے 520	-- 313,316,296,297
نماز کا اجر 258	ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی شرائط 520	نفع نقصان 145
تارک نماز کا انجام 259	نکاح حضرت موسیٰ * 1010	نفاق (دیکھئے زیر عنوان منافقین)
نمائش زینت نسواں	نگاہ (دیکھئے زیر عنوان آنکھیں)	نفس صور (احوال قیامت) 788
-- (دیکھئے احکام شرم و عیوب) 543,541	نگاہوں کی خیانت 111	نفس کی مختلف کیفیات 417
نمائش عبادات (دیکھئے زیر عنوان طلب براری) 578	نگاہوں کا پردہ 541	نفس امارہ 417
-- 412,297,280	نگاہ دوسروں کے عیب پر 476	نفس مطمئنہ 417
نمرود 953	نگران فرشتے (بہشت) 864	نفس لوامہ 417
نوح علیہ السلام 917	نگران فرشتے (دوزخ) 896	نفس میں بخل شامل 528
950 سال تبلیغ 923	نگران (دیکھئے زیر عنوان سرپرست)	نفس پرستی 415
سفینہ نوح * 924	نماز (صلوٰۃ) 250	نفس کی حفاظت 555
طوفان نوح * 925	اسلام میں شمولیت کی بنیادی شرط 250	نفس کی اصلاح 468
غرقاب نافرمان پسر 926	پچھلی قوموں پر بھی فرض کی گئی 1000,973,251,250	نفسیاتی امراض کا علاج 472,305,298,295,258
انجام خائن بیوی 927	نماز کی تیاری 252,251	نقلی عبادت 260
نجات اصحاب سفینہ 928	نماز کی مقررہ اوقات میں ادائیگی 253	
نور السموات والارض (اللہ تعالیٰ) 368	نماز کی پابندی 250	
	نماز پانچ فرض نمازوں کے اوقات 254,253	

واقعہ محاصرہ مومنین مدینہ (دیکھئے غزوہ خندق) 711
 واقعہ محاصرہ (یہود و بنو قریظہ) 712
 وبال گناہ (دیکھئے قیامت جنم افراد و اقوام) 818,817
 وثیقہ نویسی 494
 وحشی قبائل منگول (دیکھئے یا جوج ماجوج) 1083,788
 وحشی جانور 363
 وحی قرآن کی ابتدا (حضرت محمدؐ پر) 687
 وحی کے ذریعہ نزول قرآن کوئی منفرد واقعہ نہیں 242
 وحی حضرت نوحؑ پر 923
 وحی حضرت موسیٰؑ پر 1035
 وحی حضرت داؤدؑ پر 1065
 وحی حضرت عیسیٰؑ پر 1098
 وڈ (بت) 917
 وڈیرہ ازم (جاگیر داری) 551
 وراثت کے قوانین 513,510
 وارث کو قصاص کی وصولی کا حق 559
 وارث جنت 862
 وسائل آبپاشی 345
 وسوسہ شیطانی 383
 وسیلہ قرب اللہ کی تلاش 866,294
 وسیلہ قرب اللہ کے متلاشی 147,146,141
 وصیت کے احکام 508
 وصیت کا طریق کار 508
 وصیت میں عدل 509
 وصیت کے گواہ 508
 وصیت کی تصدیق 509
 وصیت کا پاس رکھنا (بھانا) 511
 وصیت میں تبدیلی 509
 وصیت ابراہیمؑ 959
 وصیت یعقوبؑ 976
 وضو 251
 وطن کی سرحدوں کی حفاظت 646
 وعدہ خداوندی 132,129
 وعدہ ایفائی 468

وادی مشعر الحرام 290
 وادی عرفات 290
 وادی نخلہ 696
 وادی نخل (دیکھئے حضرت سلیمانؑ) 1070
 والدین کے حقوق 451
 والدین سے سلوک 451
 والدین کا احترام سنت نبویؐ 1090
 والدین کا احترام (سنت یوسفؑ) 1155,995
 والدین کیلئے دعا 1123
 والد
 والد کی شفقت (سنت یعقوبؑ) 994
 والد کا احترام سنت حضرت ابراہیمؑ 947
 والد کی محبت (سنت یعقوبؑ) 993
 والدہ
 والدہ کا احترام سنت عیسیٰؑ 1098
 والدہ کا خصوصی احترام 452
 والدہ اسحاق (سارہ) 1155,1153,958
 والدہ اسماعیل (حاجرہ) 1155,1153,955
 والدہ موسیٰؑ 1006
 والدہ عیسیٰ (مریمؑ) 1091
 واقعاتی گواہی 981
 واقعات
 واقعات الانبیاء (دیکھئے رقص قرآنی) 904
 واقعات امم سابقہ (دیکھئے رقص قرآنی) 904
 واقعات اصحاب ابرار (دیکھئے مندرجات برائے تفصیل اسماء) 10
 واقعات اصحاب اشرار (دیکھئے مندرجات برائے تفصیل اسماء) 11
 واقعات حیات طیبہ رسول کریمؐ 686
 واقعہ اٹک 708
 واقعہ بیعت رضوان 713
 واقعہ تحریم 727
 واقعہ تحویل قبلہ 694
 واقعہ نفع جبل موسیٰؑ (طور) 1052
 واقعہ شق القمر 688
 واقعہ غار ثور 693
 واقعہ مسجد ضرار 726
 واقعہ نخلہ 694,690

نور مبین (قرآن کریم) 222
 نور (نبی کریمؐ) روشن چراغ 165
 نوکر کے حقوق 353
 نو مسلم خواتین 669
 نہریں (دیکھئے زیر عنوان جنت و مظاہر قدرت) 870,341
 نہی عن المنکر (دیکھئے تبلیغ دین و فرائض حاکم وقت) 631,562
 نیک اعمال کا اجر (دیکھئے جنت) 866
 نیک اعمال کا اجر ضائع نہیں ہوتا 471,470
 نیک اولاد 878
 نیک بخت و بد بخت لوگ 804
 نیک بات کا مشورہ 466
 نیک بات کی پیروی 467
 نیک لوگ (دیکھئے فضائل مومن) 764
 نیک و بد جنات 381
 نیکی اور برائی کا سامنے لایا جانا 806
 نیکی سے برائی کو دور کرنا 466
 نیکی کا دس گنا اجر 472
 نیکی کی ترغیب دینا 472,466
 نیکی کیا ہے 288,159
 نیکی کا معیار 279
 نینوا (موصل) ملک عراق 1085
 نیند (آرام کیلئے رات) 336
 نیت کے ساتھ کوشش بھی لازمی 96



وادی
 وادی احناف (قوم عاد) 930
 وادی حجر (قوم ثمود) 936
 وادی سینا 1041,1012
 وادی شعیب 1002,997
 وادی طوی 1014
 وادی طور 1052,1045,1012
 وادی قراء (قوم ثمود) 936
 وادی مکہ 959,955
 وادی حنین 718

ہم کلامی اللہ (دیکھئے زیر عنوان کلیم اللہ)

ہندو ازم کے عقائد باطلہ 589

بت پرستی 590

گاؤ شالہ پرستی 590

نظریہ آواگون 589

نظام اونچ نیچ ذات پات 590

ہنسنا اور رونا 119

ہنسی اڑانا (مذاق اڑانا)

ایمان والوں کا 840

غریب کی خیرات پر 281

قرآن کریم کی آیات کا 237

کسی کے سلام (خیر مقدم کا) 470

منکرین، مشرکین کا (دیکھئے زیر عنوان استہزاء)

مومن کی زندگی پر 841

ہنگامی حالات کے دوران گھروں میں عبادت 1033

ہوائیں 349

خوشگوار ہوائیں 349

ناگوار ہوائیں 350

بادلوں کے سفر کا باعث 349

بارش کی خوش خبری 349

زندگی کا اہم عنصر 350

بدلتے رخ 349

معاون تخم ریزی عالم نباتات 350

بطور عذاب 350

سمندری اور دریائی سفر 350

اگر اللہ ہوا کو بند کر دے تو 350

ہو علیہ السلام 929

ہیکل سلیمانی (دیکھئے سلیمان) 1079

ی

یا جوج ماجوج 1083,788

یاد اللہ 297,296,294

یاس (ناامیدی) 304

یا قوت 876,342

یا وہ گوئی 483

یتیم کے حقوق 520,517,460,282,271

یثرب (مدینہ منورہ) 693

معاون حضرت موسیٰ 1056,1015

فرعون کو دعوت حق 1057,1019,1016

موسیٰ کے قیام طور کے عرصہ میں جانشینی

1057,1049 --

ہاری (مزارع) کا حق خدمت 353

ہامان 1030

ہاویہ (جہنم) 888

ہائیڈرالوجی (علم آب) 345

ہجرت 670

ہجرت کا حکم 670

ہجرت کب کی جائے 670

ہجرت سے مستثنیٰ لوگ 670

ہجرت ایمان کی کسوٹی 670

ہجرت کا اجر 670

ہجرت موجب مغفرت 671

قیام نظام خداوندی کے لئے 461

بغیر معقول مجبوری کے باطل نظام زندگی کی طرف

670,650 --

حق سے کفر کی جانب 461

ہجرت سنت پیغمبران

ہجرت ابراہیم 954

ہجرت حبشہ 688

ہجرت مدینہ 693

ہجرت موسیٰ 1035,1009

ہجرت یعقوب 976

ہجرت یونس 1085

ہجری ماہ و سال 664

ہفتہ وار اجتماعی عبادت اسلام (نماز جمعہ) 256

ہفتہ وار تعطیل کا روز ہار 487

ہفتہ وار مبارک دن اسلام (جمعہ) 256

ہفتہ وار مبارک دن یہود (ہفتہ) 1070,600

ہفتہ وار مبارک دن نصاریٰ (اتوار) 600

ہلال (پہلی کا چاند) 332

ہلاکت حرث و نسل (انسان دیکھتی) 586

ہمت و حوصلہ 645

ہم جنسی 962,539

ہمسایہ کے حقوق 462

ہمشیرہ موسیٰ 1006

ہلاکت منکرین (دیکھئے زیر عنوان نذاب الہی)

وعدہ خلائی 474

وعدہ شیطان 385

وفات (دیکھئے موت)

وفات دوران ہجرت 672

وفات دوران جہاد 658

وفات ابراہیم 961

وفات سلیمان 1079

وفات یعقوب 976

وفات یوسف 995

وقت کی تسخیر 1105,1081,336,328

وقت معلوم 914,912

وقت نزاع 774

وکالت و معاونت کے اصول 574

ولادت پیغمبران (دیکھئے زیر عنوان پیدائش)

ولی اللہ (اللہ تعالیٰ) 1120,960,817,746

713,710,610,609,366,345,128,115 --

انسان کا ولی تو صرف اللہ 731,143,142

مومن کا ولی اللہ تعالیٰ ہے 770

متقین کا ولی اللہ ہے 611

خود ساختہ ولی 153

کیا کوئی ایسا ولی ہے

جو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا سکے 609

روز قیامت تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے 849

ولی (دیکھئے سرپرست) 514

ولی اللہ (دیکھئے اولیاء اللہ) 762

ولایت کا نظریہ نصاریٰ 367

ویلفیر ٹیکس (دیکھئے زکوٰۃ) 265

وکیل مچھلی (دیکھئے قصہ یونس) 1085

و

وکیل و قاتیل 915

واہی والے 686

وہد 1075

وارثت و وارث 1080,380,157

وارث علیہ السلام 1056

نصاحت و بلاغت 1056,1015

یہود (دیکھئے قوم نبی اسرائیل) احکام خیرات و زکوٰۃ پر

الزام تراشیاں 745,597 --
 اسلام دشمنی 745,742,711,695
 بدعہدی 1068,1043,597
 عالم یہود 240,181,163
 بے عمل عالم 595
 تاقیامت ذلت و غلامی 598,597
 تحویل قبلہ پر شور 695
 تشدد پسندی (دہشت گردی) 1113
 حرام غذا میں 594
 حلت و حرمت 594,592
 دانستہ تحریف تورات 592,591
 دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش 422
 ذلت و تباہی 1045,712,598,597,592
 سازش قتل عیسیٰؑ 1102
 عبادت خانے (سینا گگ) 583
 عزیرؑ کو اللہ کا بیٹا کہنا 1081,593
 عقائد باطلہ 603,599,594,593
 غلط فہمی 599
 کفران نعمت 1045
 مذہبی پیشوائیت کے جنون 616
 منافقانہ کردار 742,711,707,695,592
 یہود پر لعنت حضرت عیسیٰؑ 1103,605
 یہود پر لعنت داؤدؑ 1067,605
 یہود پر بھی حضرت محمدؐ پر ایمان لانا فرض
 640,243,181 --
 یہود کی الزام تراشی پیغمبران پر
 حضرت عیسیٰؑ پر 1097
 حضرت موسیٰؑ پر 1055
 حضرت سلیمانؑ پر 1079
 یہود مدینہ کی سازشیں اور منصوبے
 742,711,707,695 --
 پیغمبران اللہ یہودی نہ تھے (صرف مسلمان تھے)
 975,973,971,945 --
 یہودی (دیکھئے یہود نبی اسرائیل)

یونس علیہ السلام 1084

خود ساختہ ہجرت 1085
 معاملات (فیصلہ) میں جلد بازی 1085
 عجلت میں سواری کشی 1085
 مچھلی کا نگل لینا 1085
 ساحل سمندر پر مچھلی کا نگل دینا 1086
 بیماری اور دعائے صحت پانی اور نجات 1086
 قوم کی جانب واپسی 1086


یوم

الیوم (دیکھئے قیامت)
 یوم جمعہ 256
 یوم سبت (قوم بنی اسرائیل) 1068
 یوم زینت (قوم حضرت ابراہیمؑ) 951
 یوم نوروز (قوم بنی اسرائیل) 1025
 یوم عرفہ 290
 یوم جزا 819,798
 یوم حساب 798,782
 یوم الدین 818,798
 یوم قیامت 796,791,788,782
 یوم عظیم (دیکھئے قیامت) 1002,930
 یوم کبیر (دیکھئے قیامت) 312
 یوم مشہور 904
 یوم عقیقہ 783
 یوم لیسر (عمر) 827,796
 یوم الفصل 824
 یوم آخر 748,98
 یوم لاریب 1125,821
 یوم الیم 918
 یوم عصب 965
 یوم محیط 998
 یوم عاصف 857
 یوم معلوم 1025,939
 یہود و نصاریٰ (اہل کتاب) 637

کی اسلام دشمن تحریکیں 745,742,711,695
 ایک دوسرے کے دوست 615
 سب ایک جیسے نہیں 638
 کے باہمی اختلافات 600

یحییٰ علیہ السلام 1089

ید بیضا (سفید چمکتا ہوا ہاتھ) 1013
 یروشلم (اشارتا) 1155,1153
 یسوع علیہ السلام 1066
 یسوع مسیح (دیکھئے عیسیٰ)
 یسوع (دیکھئے یسوع)
 یسین (حضرت محمدؐ) 221
 یعقوب علیہ السلام 975
 اسرائیل نام 1138
 پیدائش کی بشارت 975
 نہ یہودی تھے نہ نصرانی 975
 حضرت یوسفؑ کی جدائی کا غم 993
 شفقت پدری 994,993
 صبر جمیل 992,980
 ہجرت مصر 995
 یغوث (بت) 917
 یمن (اشارتا ذکر) 1075,1115
 یوحنا (حضرت یحییٰؑ) 1089
 یوسف علیہ السلام 977
 بہترین قصہ 977
 خواب دیکھنا 978
 سوتیلے بھائیوں کا لے جانا 979
 کنویں میں پھینک دیا جانا 979
 بازار مصر میں فروخت ہونا 980
 آزمائش یوسفؑ 981
 سازش زلیخا 981
 جلوہ حسن یوسفؑ 983
 قید خانہ اور تبلیغ 984
 خوابوں کی تعبیر بتانا 984
 پاک دامنی کا ثابت ہو جانا 987
 بادشاہ مصر کا مشیر خاص بننا 988
 بھائیوں کی قحط کتھان کے موقع پر امداد 988
 حقیقی بھائی (بنیامین) سے ملاقات 990
 والدین کو بلانا اور ان کا استقبال 995
 وفات یوسفؑ 995
 یوشع علیہ السلام (اشارتا ذکر) 1061
 موسیٰؑ کے رفیق سفر تلاش برائے خضرؑ 1062
 یوناہ (دیکھئے یونس)



مشہور و اللہ کے نام سے جو بڑا امیر و بابران نہایت درجہم و ابل ہے

* ازل سے ** ابد تک

رموز اوقاف قرآن کریم

دنیا بھر کے لوگ جب کسی بھی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے۔ کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں۔

○ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سادہ دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول (ت) جو بصورت (ة) لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وقف تام کی علامت ہے یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے اب (ة) تو نہیں لکھی جاتی۔ چھوٹا سادہ دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کہتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو تو رک جائیں ورنہ علامت کے مطابق عمل کریں۔

۵ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کوفین کے نزدیک آیت ہے۔ وقف کریں تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔
۵ یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلاً کسی کو یہ کہنا ہو کہ ”اٹھو۔ مت بیٹھو“ جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہی ہے۔ تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، اگر ٹھہرا نہ جائے تو ”اٹھو مت، بیٹھو“ ہو جائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نہی اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔

ط وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔
ج وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔

ز علامت وقف مجوز کی ہے۔ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔
ص علامت وقف مخصص کی ہے۔ یہاں ملا کر پڑنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ (ص) پر ملا کر پڑھنا (ز) کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔

صلۃ الوصل اولیٰ کا اختصار ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
ق قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے۔ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔

صل قَدِیو صَلُّ کا مخفف ہے۔ یہاں ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ بوقت ضرورت وقف کر سکتے ہیں۔
قف یہ لفظ وقف ہے۔ جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے، جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔

سکتۃ سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔
وقفۃ لے سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے۔ لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، وقفہ میں زیادہ۔

لا لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔

ك كذلک کا مخفف ہے، اس سے مراد ہے کہ جو مرزا سے پہلی آیت میں آچکی ہے، اس کا حکم اس پر بھی ہے۔
۵ یہ تین نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کر کے (صع) لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا معانقہ کر رہے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے دوسرے پر نہیں۔ ہاں وقف کرنے میں رموز کی قوت اور ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

RELIGION OF ISLAM

الدين الاسلامي

دين السلام

"ISLAM"

RESIGNATION TO DIVINE WILL

Decidedly the religion with Allah means "Islam" (the Surrender to His will and guidance). Those who (formerly) received the Scripture did not disagree until after knowledge came to them, out of the envy for one another, Anyone who disbelieves the revelations of Allah (will find that) surely Allah is Prompt in reckoning. (3:19)

ISLAM IS FINAL RELIGION

NO RELIGION OTHER THAN "ISLAM" WILL BE ACCEPTED

And whoever desires something other than "Islam" as a religion, it will never be accepted from him, and he will be a loser in the Hereafter. (3:85)

For Detail Consult 2:132 3:19 Page 89,90

ISLAM - A PERFECT RELIGION
A CONSENT AND FAVOUR OF ALLAH(SWT)

-----This day I have perfected your religion for you and completed My Favours to you, and have chosen for you as religion "Islam" (a commitment to live in peace)----- (5:3) PART

ISLAM IS A SOURCE OF ENLIGHTENMENT

And if they argue with you, (O Muhammad), say: I have surrendered my purpose to Allah and (so have) those who follow me. And say to those who have received the Scripture and those who read not: Have you (too) surrendered? If they surrender, then truly they are rightly guided, and if they turn away, then it is your duty only to convey the message (to them). Allah is Seer of (His) bondmen. (3:20)

WILLINGNESS TOWARDS ISLAM
IS BLESSED BY ALLAH (SWT)'S LIGHT

Is he whose bosom Allah has expanded for the Surrender (to Him), so that he follows a light from His Lord (as he who disbelieves)? Then woe to those whose hearts are hardened against remembrance of Allah. Such are in plain error. (39:22)

الاسلام
الإذعان لله كاملاً وطائعاً

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾
آل عمران ١٩

الإسلام هو الدين النهائي

لن يقبل دين غير الإسلام

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾
آل عمران ٨٥

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٣٢ ٣ آل عمران ١٩:

الاسلام دين كامل مرضى لله ونعمته

.....الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.....
﴿٥ المائدة ٣﴾ جزء

الإسلام هو الهدى

فَإِنْ كَانُوكُمْ فَقُلْ اسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَقْبَانِ اسْلَمْتُمْ فَإِنْ اسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِعَصِيَّتِكُمْ عَلِيمٌ ﴿٢٠﴾
آل عمران ٢٠

شرح الصدر للإسلام
لا يمكن إلا بنور من الله

أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِمَّنْ رَزَقَهُ فَحِيلَ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾
الزمر ٢٢

اسلام۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری
(اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کرنا)

دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اہل کتاب نے جو (اس دین سے) اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا۔ اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا (اور سزا دینے والا ہے) (19:3)

دین اسلام آخری دین ہے

اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا (85:3)

مزید حواہ 2:132 3:19 صفحہ 89,90

اسلام ایک کامل دین۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور پسند

.....(اور) آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا (امن اور اشی کا دین)----- (3:5) جزو

اسلام ہی ہدایت ہے

(اے پیغمبر) اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگیں تو کہہ دیجئے کہ میں اور میری اتباع کرنے والے تو اللہ کے فرماں بردار ہو چکے۔ اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اللہ کے فرماں بردار بننے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بیشک ہدایت پالیں اور اگر (آپ کا کہا) نہ مانیں تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ (اپنے) بندوں کو دیکھ رہا ہے (20:3)

قبول اسلام کی توفیق اللہ تعالیٰ کے
نور سے ہی ممکن ہے

بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو (تو کیا وہ سخت دل کا فر کی طرح ہو سکتا ہے) پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے (اثر نہیں لیتے) بلکہ سخت ہو گئے ہیں اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں (22:39)

**ENTER PERFECTLY INTO ISLAM
OFFER WHOLE HEARTED AND ABSOLUTE
SURRENDER TO THE WILL OF ALLAH(SWT)**

O you who believe! Come, all of you, into submission (to Him); and follow not the footsteps of the devil. Surely, he is an open enemy for you. (2:208)

الأمر بالذخول في الإسلام كافة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

﴿٢ البقرة ٢٠٨﴾

اسلام کو مکمل اپنانے کا حکم

مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (208:2)

**EMBRACING ISLAM BY ANY HUMANKIND
IS A PRECIOUS PRIVILEGE
AND A GREAT FAVOUR OF ALLAH (SWT)**

It is not for any soul to believe save by the permission of Allah. He has set uncleanness upon those who have no sense. (10:100)

They make it favour to you (Muhammad) that they have surrendered (to Him). Say: Deem not your Surrender a favour to me but Allah does confer a favour on you, in as much as He has led you to the Faith, if you are earnest. (49:17)

التوفيق للإيمان من عند الله
وهو من الله على من آمن

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَفَّقَ لِلْإِيمَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

﴿١٠٠ يونس ١٠٠﴾

مسلمان بنا دینا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے

حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر (کفر و ذلت کی) گندگی ڈال دیتا ہے (100:10)

يُمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ
إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ
لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

﴿٤٩ الحجرات ١٧﴾

یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا اگر تم سچے (مسلمان) ہو (17:49)

**THE MUSLIM COMMUNITY IS INDEED
THE BEST AMONG THE HUMANKIND**

You are the best community that has been raised up for mankind. You enjoin right conduct and forbid indecency; and you believe in Allah (3:110) PART

الأمة المسلمة خير أمة

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ

﴿٣ آل عمران ١١٠﴾ جزء

امت مسلمہ سب سے بہتر امت

(مومنو!) جتنی امتیں (یعنی قومیں) لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو (110:3) جزو

**MUSLIMS - A MODERATE COMMUNITY
REJECTING BOTH
LICENTIOUSNESS AND SECTICISM**

Thus We have appointed you (Muslims) a moderate nation (2:143) Part

المسلمون
أمة وسط متوازنة

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
﴿٢ البقرة ١٤٣﴾ جزء

مسلمان - امت معتدل

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے (143:2) جزو

For Detail Consult 2:143 Page 636

واللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٤٣

مزید حوالہ 143:2 صفحہ 636

**MAKE HASTE IN ENTERING
INTO THE FOLD OF ISLAM
BEFORE DEATH OVERTAKES YOU**

The same did Abraham bequeath upon his sons, and also Jacob, saying: O my sons! Surely Allah has chosen for you the (true) religion; therefore die not save as men who have surrendered (to Him). (2:132)

يجب على المؤمنين أن يتمسكوا بالإسلام
حتى أتاهم الموت

وَوَضِيَ بِهَا لِأَبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِيهِ
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

﴿٢ البقرة ١٣٢﴾

خاتمہ اسلام پر ہی ہونا چاہئے

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی (اپنے فرزندوں سے یہی کہا) کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لئے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا (132:2)

O you who believe! Observe your duty to Allah with right observance, and die not save as those who have surrendered (to Him); (3:102)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾
﴿٣ آل عمران ١٠٢﴾

مومنو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے
اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا (102:3)

You take vengeance on us only for as much as we believed the tokens of our Lord when they came to us. Our Lord! Vouchsafe to us steadfastness and make us die as men who have surrendered (to you). (7:126)

وَمَا تَنْتَقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا
لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا
مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾
﴿٧ الاعراف ١٢٦﴾

اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب
ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آگئیں تو ہم ان
پر ایمان لے آئے اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے
دہانے کھول دے اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالنا
(126:7)

**IT WILL COME TO PASS WHEN
DISBELIEVERS WILL WISH THAT THEY
HAD EMBRACED ISLAM IN THEIR LIFE TIME**

It may be that those who disbelieve wish ardently, that they were Muslims. (15:2)

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾
﴿١٥ الحجر ٢﴾

کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ
مسلمان ہوتے (2:15)

ISLAM - THE RELIGION OF ABRAHAM (PBUH)

And who forsakes the religion of Abraham save him who befools himself? Surely We chose him in the world, and surely in the Hereafter he is among the righteous. (2:130)

وَمَنْ يَرْتَدَّ عَنْ قِبَلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ
نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾
﴿٢ البقرة ١٣٠﴾

اور ابراہیم کے دین سے کون بے رغبتی کر سکتا ہے
سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا
میں بھی برگزیدہ کیا تھا۔ اور آخرت میں بھی وہ (زمرہ)
نیک اعمال کرنے والوں میں ہوں گے (130:2)

When his Lord said to him: Surrender! He said: I have surrendered to the Lord of the Worlds. (2:131)

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾
﴿٢ البقرة ١٣١﴾

جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے
آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے
آگے سرطاعت خم کرتا ہوں (131:2)

Abraham was not a Jew, nor yet a Christian; but he was an upright man who had surrendered (to Allah), and he was not of the idolaters. (3:67)

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ
كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾
﴿٣ آل عمران ٦٧﴾

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ وہ تو یک طرفہ
(خالص) مسلمان تھے اور اسی کے فرمانبردار تھے
اور مشرکوں میں نہ تھے (67:3)

No doubt those of mankind who have the best claim to Abraham are those who followed him, and this Prophet and those who believe (with him); and Allah is the Protecting Friend of the believers. (3:68)

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾
﴿٣ آل عمران ٦٨﴾

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی
پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر (آخر الزماں) اور وہ لوگ
جو ایمان لائے ہیں۔ اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے
(68:3)

Say: Allah speaks the truth. So follow the religion of Abraham, the upright. He was not of the idolaters. (3:95)

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾
﴿٣ آل عمران ٩٥﴾

کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا پس دین ابراہیم کی پیروی
کرو جو مشرکوں سے نہ تھے (95:3)

He has no partner. This I am commanded, and I am first of those who surrender (to Him). (6:163)

لَا شَرِيكَ لَكَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ١٦٣﴾

جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا فرمانبردار (مسلم) ہوں (6:163)

You take vengeance on us only for as much as we believed the tokens of our Lord when they came to us. Our Lord! Vouchsafe to us steadfastness and make us die as men who have surrendered (to You). (7:126)

وَمَا تَنْتَقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا
لَمَّا جَاءَتْ تِنَّا لِرَبِّنَا لَعْنَةُ الَّذِينَ صَبَرُوا وَتَوَفَّنَا
مُسْلِمِينَ ﴿٧﴾
﴿٧ الاعراف ١٢٦﴾

اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالنا (126:7)

O my Lord! You have given me (something) of sovereignty and have taught me (something) of the interpretation of dreams, Creator of the heavens and the earth! You are my Protecting Friend in the world and the Hereafter. Make me to die submissive (to You), and join me to the righteous. (12:101)

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ
أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٢﴾
﴿١٢ يوسف ١٠١﴾

(جب یہ سب باتیں ہوئیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ) اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے (دنیا سے) اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا (میرا خاتمہ اسلام پر کرنا) اور (آخرت میں) اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا (101:12)۔

And I am commanded to be the first of those who surrender (to Him). (39:12)

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ١٢﴾

اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں (سب سے پہلے خود مسلم ہوں) فرمانبرداروں میں سب سے پہلا ہوں (12:39)

He has ordained for you that religion which He commanded to Noah, and that which We inspire in you (Muhammad), and that which We commanded to Abraham and Moses and Jesus, saying: Establish the religion, and be not divided therein. Dreadful for the idolaters is that to which you call them. Allah chooses for Himself whom He wills, and guides (to Himself) him who (repents) turns (towards Him). (42:13)

شَرَعْنَا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَضَعْنَا لَكُمْ فِي نُوْحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ
اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ يُنِيبُ ﴿٤٢﴾
﴿٤٢ الشورى ١٣﴾

اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس (کے اختیار کرنے) کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی (اے محمد) ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا (وہ یہ) کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ ان کو دشوار گزرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف راستہ دکھا دیتا ہے (13:42)

More Reference : 10:71,72 Page 918

وللمزيد راجع ١٠ يونس: ٧٢، ٧١ الصفحة ٩١٨

مزید حوالہ: 10:71,72 صفحہ 918

ISLAM ORDAINS TO BELIEVE AND RESPECT
ALL THE MESSENGERS OF ALLAH(SWT)
WITHOUT DISCRIMINATION

الإسلام يقتضى الإيمان بجميع الرسل
من غير تفریق بينهم
بأمر بتكريمهم اجمعين

دین اسلام تمام پیغمبروں پر ایمان لانے اور ان کی تکریم کرنے کا حکم دیتا ہے

Surely those who disbelieve in Allah and His messengers, and seek to make distinction between Allah and His messengers, and say: We believe in some and disbelieve in others, and seek to choose a way in between; (4:150)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ
بِبَعْضٍ وَكُفَرُوا بِبَعْضٍ لَّيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٤٥﴾
﴿٤٥ النساء ١٥٠﴾

جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں (150:4)

Such are disbelievers in fact and for disbelievers We have reserved a shameful doom. (4:151)

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾
﴿٤ النساء ١٥١﴾

وہ بلاشک و شبہ کافر ہیں۔ اور کافروں کے لئے ہم نے
ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے (151:4)

But those who believe in Allah and His messengers and make no distinction between any of them, to them Allah will give their wages; and Allah is ever Forgiving, Merciful. (4:152)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجْرَهُمُ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾
﴿٤ النساء ١٥٢﴾

اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان
میں سے کسی میں فرق نہ کیا (یعنی سب کو مانا) ایسے لوگوں
کو وہ عنقریب ان (کی نیکیوں) کے صلے عطا فرمائے گا۔
اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے (152:4)

And peace be to those sent as messengers(to warn). (37:181)

وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾
﴿٣٧ الصافات ١٨١﴾

اور پیغمبروں پر سلام (181:37)

For Detail Chapter :

ARTICLES OF FAITH SINE QUANONS OF ISLAM

Page 97

والمزيد راجع العقائد الاسلامية
الصفحة ٩٧

تفصیل کیلئے دیکھئے باب : عقائد اسلام
صفحہ 97

ISLAM-ORDAINS TO BELIEVE IN ALL DIVINE
SCRIPTURES REVEALED TO HIS MESSENGERS
(IN THEIR ORIGINAL FORM WITH
COMPLETE-UNCORRUPTED-UNTEMPERED TEXT)

الإسلام يقتضى الإيمان بجميع الكتب
المنزلة على النبيين

دین اسلام تمام الہامی کتابوں پر
ایمان لانے کا حکم دیتا ہے

Say (O Muhammad): We believe in Allah and that which is revealed to us and that which was revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and that which was vouchsafed to Moses and Jesus and the Prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and to Him we have surrendered. (3:84)

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾
﴿٣ آل عمران ٨٤﴾

کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل
ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب
اور ان کی اولاد پر اتارے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور
دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر
ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق
نہیں کرتے (یعنی سب کو مانتے ہیں) اور ہم اسی (ایک
اللہ تعالیٰ) کے فرماں بردار ہیں (84:3)

More Reference : 2:136,285 4:136
Page 97, 98

For Detail Chapter :

ARTICLES OF FAITH SINE QUANONS OF ISLAM

Page 97

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٣٦، ٢٨٥، ٤ النساء: ١٣٦
الصفحة ٩٧ ، ٩٨
والمزيد راجع العقائد الاسلامية
الصفحة ٩٧

مزید حوالہ 2:136,285 4:136
صفحہ 97, 98

تفصیل کیلئے دیکھئے باب : عقائد اسلام
صفحہ 97

MOCKING OF DIVINE'S INJUNCTIONS
IS INFIDELITY

الاستهزاء بدين الله كفر

اللہ تعالیٰ کے دین سے مذاق کرنا کفر ہے

And if you ask them (O Muhammad) they will say: We did but talk and jest. Say: was it at Allah and His revelations and His Messenger that you did scoff? (9:65)

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ
وَنُلْعَبُ قُلْ أَلَيْسَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾
﴿٩ التوبة ٦٥﴾

اور اگر آپ ان سے (اس بارے میں) دریافت کریں تو
کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے
تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے
رسول سے ہنسی مذاق کرتے تھے؟ (65:9)

Make no excuse you have disbelieved after your (confession of) belief. If We forgive a party of you, a party of you We shall punish because they have been guilty. (9:66)

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ
نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا جُحُومِينَ ﴿٦٦﴾
﴿٩ التوبة ٦٦﴾

بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔
اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری
جماعت کو سزا بھی دیں گے کیوں کہ وہ گناہ کرتے رہے
ہیں (66:9)

DO NOT MAKEUP PARABLES ABOUT ALLAH(SWT)

So coin not similitudes for Allah. In fact Allah knows; you know not. (16:74)

النهي عن ضرب الأمثال لله

فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾
النحل ٧٤

اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں نہ پیش کرو

تو (لوگو) اللہ کے بارے میں (غلط) مثالیں نہ بناؤ (صحیح
مثالوں کا طریقہ) اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے
(74:16)

DO NOT EXAGGERATE IN YOUR RELIGION BEYOND THE TRUTH (DO NOT OVERSTEP THE BOUNDS OF VERACITY) CONCEAL OR TRAMPLE UPON THE FACTS

Say: O People of the Scripture! Do not exaggerate in your religion other than the truth, and follow not the vain desires of folk who have already got astray and misled many as they erred from a plain road. (5:77)

النهي عن الغلو في الدين

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ
قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾
المائدة ٧٧

دین میں غلو کی ممانعت سچائی کی حدود کو پار کرنا،
حق کو چھپانا یا توڑ موڑ کر پیش کرنا

کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین (کی بات) میں
ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے
نہ چلو جو (خود بھی) پہلے گمراہ ہوئے اور بہت سے
لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک
گئے (77:5)

More Reference : 4:171 Page 96

والمزيد راجع ٤ النساء: ١٧١ الصفحة ٩٦

مزید حوالہ 171:4 صفحہ 96

ISLAM - A RELIGION OF TRUTH SHALL PREVAIL OVER ALL FALSE RELIGIONS

Faint not nor grieve, for you will overcome them if you are (indeed) believers. (3:139)

سوف يغلب الحق ويزهق الباطل

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
آل عمران ١٣٩

باطل مٹ جائیگا اور حق غالب آکر رہے گا

اور (دیکھو) حوصلہ نہ ہارنا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا اگر تم
مومن (واقعی سچے) ہو تو تم ہی غالب رہو گے (139:3)

Fain would they put out the light of Allah with their mouths, but Allah disdains (nothing) except that He shall perfect His light, however much the disbelievers are averse. (9:32)

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾
التوبة ٣٢

یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے (پھونک مار
کر) بجھادیں۔ اور اللہ اپنے نور کو پورا کئے بغیر ماننے والا
نہیں۔ اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے (32:9)

No, but We hurl the truth against the false, and it does break its head and indeed it vanishes. And yours will be woe for that which you ascribe (to Him). (21:18)

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا
هُوَ رَاقٍ ﴿٢١﴾ وَاللَّهُ الْوَلِيُّ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾
الانبیاء ١٨

(نہیں) بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر ٹنچ دیتے ہیں تو سچ جھوٹ
کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت ناپید ہو جاتا ہے۔
اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے
(18:21)

He is the One Who has sent His messenger with the guidance and the religion of truth, that He may cause it to prevail over all religions. And Allah suffices as a witness. (48:28)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾
الفتح ٢٨

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت (کی کتاب) اور
دین حق دے کر بھیجا۔ تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کرے
اور حق ظاہر کرنے کے لئے اللہ ہی کافی ہے (28:48)

Fain would they put out the light of Allah with their mouths, but Allah will perfect His light however much the disbelievers are averse. (61:8)

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَأَبَى اللَّهُ مِتْمَتَ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾
الصف ٨

یہ چاہتے ہیں کہ اللہ (کے چراغ) کی روشنی کو منہ سے
(پھونک مار کر) بجھادیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے
رہے گا خواہ کافر ناخوش ہی ہوں (8:61)

He is the One Who has sent His Messenger with the guidance and the religions of truth, that He may make it conqueror of all religions however much idolaters may be averse. (9:33) (61:9)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور ہر دین پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے (9:33) (61:9)

﴿٩ التوبة ٣٣﴾ ﴿٦١ الصف ٩﴾

More Reference : 3:12 34:49

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٢ ٣٤ سبأ: ٤٩
الصفحة ٦٥٧ ٧٣٦

مزید حوالہ 12:3 49:34
صفحہ 736, 657

Page 657, 736

**CO-RELATION OF FAITH AND RELIGION (ISLAM)
FAITH IS A BELIEF IN SINE QUA NONS OF ISLAM
WHILE ISLAM (RELIGION) REQUIRES
ACTING UPON THE ARTICLES OF FAITH**

الإيمان و الإسلام يستلزم كل واحد منهما
آخراً - الإيمان هو اليقين على
المعتقدات الإسلامية وأما الإسلام
فهو الإذعان والطاعة فعلاً

ایمان اور دین اسلام لازم ملزوم ہیں ایمان عقائد
اسلام پر یقین اور اقرار کا نام اور دین اسلام انہی
عقائد کی عملی اطاعت کا نام ہے

The desert Arabs say: We believe. Say, (to them, O Muhammad): You believe not, but rather say "We submit," for the faith has not yet entered into your hearts. yet if you obey Allah and His messenger, He will not withhold from you anything of (the reward of) your deeds. Surely Allah is Forgiving, Merciful. (49:14)

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَكُنْ لَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٩﴾
﴿٤٩ الحجرات ١٤﴾

دیہاتی کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے۔ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے (بلکہ یوں) کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بخش دینے والا مہربان ہے (14:49)

**MERE (LIP SERVICE)
PROFESSION OF FAITH IS NOT ENOUGH**

اقرار الایمان باللسان لایکفی بدون
اجتياز الامتحان والفتنة

محض زبان سے دعویٰ ایمان کافی نہیں ہے

Alif. Lam. Mim. (29:1)

Do men imagine that they will be left (at ease) because they say, we believe, and will not be tested with affliction? (29:2)

الْمَرَّةَ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢٩﴾
﴿٢٩ العنكبوت ١﴾ ﴿٢٩ العنكبوت ٢﴾

الم (1:29) کیا لوگ یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ (صرف) یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی (2:29)

Surely We tested those who were before you. Thus Allah knows those who are sincere, and knows those who feign. (29:3)

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٢٩﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٣﴾

اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا (اور ان کو بھی آزمائیں گے) سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو (اپنے ایمان میں) سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں (3:29)

**MERE WISH FOR MORAL AND SPIRITUAL
ADVANCEMENT IS OF NO USE.
IT MUST BE BACKED UP BY HARD ENDEAVOUR
AND SUPPORTED BY A LIVELY FAITH**

السعي يستلزم النية

نیت کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا
بھی لازمی ہے

And whoever desires the Hereafter and strives for it with the necessary effort, being a believer; for such, their efforts finds favour (with their Lord). (17:19)

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ١٩﴾

اور جو شخص آخرت کا طلب گار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہو اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش کی قدر دانی کی جائے گی (19:17)

People of the Scripture! Do not exaggerate in your religion nor utter anything concerning Allah save the truth. (4:171) PART

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلَوْا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
﴿٤ النساء ١٧١﴾ جزء

اے اہل کتاب اپنے دین (کی بات) میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو (171:4) جزو

ARTICLES OF FAITH
SINE QUANONS OF ISLAM

الاسلام الاسلامية

عقائد اسلام

BELIEF IN ONENESS OF ALLAH (SWT)

الإيمان بالله تعالى

اللہ تعالیٰ پر ایمان

They only are the true believers who believe in Allah and His messenger
----- (24:62) PART

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
----- ﴿٢٤﴾ النور ٦٢ ﴿جزء

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے
----- (62:24) جزو

More Reference 2:177, 285 3:18 4:136, 152, 162
9:18 Page : 473, 97, 98, 94, 439, 622
Consult Chapter : Attributes of Allah
and Monotheism Page 101 to 132

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٨٥، ١٧٧، ٤ النساء: ١٣٦،
٤ النساء: ١٥٢، ١٦٢، ٩ التوبة: ١٨،
وللتفصيل راجع باب الصفات الله تعالى و التوحيد
الصفحة ١٠١ الى ١٣٢

مزید حوالہ 2:177, 285, 3:18, 4:136, 152, 162
18:9 صفحہ 473, 94, 98, 97, 439, 622
تفصیل کے لئے دیکھئے: باب صفات اللہ تعالیٰ اور توحید
صفحہ 101 تا 132

BELIEF IN ALL ANGELS OF ALLAH (SWT)

الإيمان بالملائكة كلهم

اللہ تعالیٰ کے سب فرشتوں پر ایمان

-----But virtue means one should believe in Allah (alone), the Last Day, Angels, the Book and Prophets.-----
(2:177) PART

وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ
أَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ
----- ﴿٢﴾ البقرة ١٧٧ ﴿جزء

بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر
روز قیامت پر فرشتوں پر کتاب اللہ پر اور نبیوں
(پیغمبران) پر ایمان لائیں
----- (177:2) جزو

The messenger believes in that which has been revealed to him from his Lord and (so do) the believers. Each one believes in Allah and His angels and His scriptures and His messengers. We make no distinction between any of His messengers--and they say: We hear, and we obey. (Grant us) Your forgiveness our Lord, to You is the journeying. (2:285)

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ
رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
----- ﴿٢﴾ البقرة ٢٨٥ ﴿

رسول اس کتاب پر جو کے پروردگار کی طرف سے ان پر
نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی۔ سب اللہ پر
اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے
پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم اس
کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ (اللہ
سے) عرض کرتے ہیں کہ ہم نے (تیرا حکم) سنا اور قبول
کیا۔ اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی
طرف لوٹ کر جانا ہے (285:2)

BELIEF IN ALL DIVINE SCRIPTURES REVEALED
TO HIS MESSENGERS IN THEIR ORIGINAL
TEXT (UN-CORRUPTED,
UN-TEMPERED AND COMPLETE)

الإيمان بجميع الكتب
المنزلة من الله

اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں
(الہامی صحیفوں) پر ایمان

Say (O Muslims): We believe in Allah and that which is revealed to us and that which was revealed to Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and that which Moses and Jesus received, and that which the (other) Prophets received from their Lord. We make not distinction between any of them, and to Him we have surrendered. (2:136)

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
----- ﴿٢﴾ البقرة ١٣٦ ﴿

(مسلمانو) کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو (کتاب)
ہم پر اتری اس پر اور جو (صحیفے) ابراہیم اور اسمعیل اور
اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور
جو (کتابیں) موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور
پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ہیں ان پر
(سب پر ایمان لائے) ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں
کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ تعالیٰ کے
فرمانبردار ہیں (136:2)

More Reference : 2:4, 285 3:84 4:136
Page 764, 97, 94, 98

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٨٥، ٤ آل عمران: ٨٤،
٤ النساء: ١٣٦، ٩٧، ٩٤، ٩٨

مزید حوالہ 2:4, 285, 3:84, 4:136
صفحہ 764, 97, 94, 98

BELIEF IN ALL PROPHETS (MESSENGERS) OF ALLAH(SWT) WITHOUT DISCRIMINATION (REGARDING THEM ALL AS TRUE PROPHETS)

O you who believe! Believe in Allah and His messenger and the Scripture, which He has revealed to His messenger, and the Scriptures, which He revealed aforetime. ----- (4:136) PART

الإيمان بجميع رسل الله

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ﴿٤﴾ النساء ١٣٦ ﴿جزء ٧﴾

اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں (پیغمبروں) پر ایمان

مومنو! اللہ پر اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر (آخر الزماں) پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ ----- (136:4) جزو

More Reference : 2:285 Page 97

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٨٥ الصفحة ٩٧

مزيد حوالہ 285:2 صفحہ 97

BELIEF IN THE LAST DAY (RESURRECTION) RISING TO LIFE OF ALL DEAD HUMANKIND FOR FINAL JUDGEMENT

They believe in Allah and the last Day, and enjoin right conduct and forbid indecency, and vie one with another in good works. They are of the righteous. (3:114)

الإيمان باليوم الآخر

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾ آل عمران ١١٤ ﴿جزء ٧﴾

روز آخرت پر ایمان (مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان)

(اور) اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں (114:3)

More Reference : 2:4 4:162 9:18

Page 764, 439, 622

For Detail Chapter : RESURRECTION Page 777

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٤ ٤ النساء: ١٦٢ ٩ التوبة: ١٨ الصفحة ٦٢٢، ٤٣٩، ٧٦٤ والمزيد راجع النشور الصفحة ٧٧٧

مزيد حوالہ 2:4 4:162 9:18

صفحہ 622, 439

تفصیل کیلئے دیکھئے باب : حیات بعد الموت صفحہ 777

BELIEF IN DESTINY THE WILL OF ALLAH(SWT) - DIVINE DECREE THAT EXISTS FROM ETERNITY AND THE EXECUTION OF WHICH IS TO BE AT AN APPOINTED TIME

-----Yet if a happy thing befalls them they say: This is from Allah, and if an evil thing befalls them they say; this is of your doing (O Muhammad). Say (to them): All is from Allah. What is amiss with these people that they come not near to understand a happening? (4:78) PART

الإيمان بالقدر و مشية الله

وَأِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ النساء ٧٨ ﴿جزء ٧﴾

مشیت الہی، تقدیر پر ایمان

----- اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو (اے محمد تم سے) کہتے ہیں کہ یہ (نقصان) آپ کی وجہ سے (ہمیں پہنچا) ہے کہہ دو کہ (رنج و راحت) سب اللہ ہی کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے ----- (78:4) جزو

They denied (the Truth) and followed their own lusts. Yet everything will come to a decision. (54:3)

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ﴿٥٤﴾ القمر ٣ ﴿جزء ٧﴾

اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے (3:54)

**FUNDAMENTALS OF FAITH
FOUNDATIONS OF ISLAM**

ارکان الإسلام

ارکان الإسلام

BELIEF IN MONOTHEISM

التوحيد

توحيد ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان

Allah (Himself) is witness that there is no God save Him. And the angels and the men of learning (too are witness). standing firm on justice, there is no God save Him, the Almighty, the Wise. (3:18)

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾
آل عمران ١٨

اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی (گواہی دیتے ہیں کہ) اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں (18:3)

For Detail Consult: Page 101 to 132
Chapter of Attributes of Allah
and Monotheism 1129 to 1138

وللتفصيل راجع باب الصفات اللہ تعالیٰ و التوحيد
الصفحة ١١٢٨ الى ١١٢٩

تفصیل کے لئے دیکھئے: باب صفات اللہ تعالیٰ اور توحيد
صفحة 1138 تا 1129

**BELIEF IN
PROPHETHOOD OF MUHAMMAD(SAAS)
AND HIS BEING SEAL OF THE PROPHETS**

**الإيمان برسالة محمد
وبختم نبوته**

**رسالت حضرت محمد ﷺ
اور ختم نبوت پر ایمان**

Muhammad is not the father of any man among you but he is the messenger of Allah and the Seal of the Prophets; and Allah is Aware of all things. (33:40)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن
رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾
الاحزاب ٤٠

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی (نبوت) کی مہر (یعنی اسکو ختم کر دینے والے یعنی آخری نبی ہیں) اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے (40:33)

He is the One Who has sent His messenger with the guidance and the religion of truth, that He may cause it to prevail over all religions. And Allah is sufficient as a witness. (48:28)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾
الفتح ٢٨

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت (کی کتاب) اور دین حق دے کر بھیجا۔ تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کرے۔ اور حق ظاہر کرنے کے لئے اللہ ہی کافی ہے (28:48)

For Detail Consult :
Chapter of Muhammad (SAAS)
Page 163

وللتفصيل راجع باب محمد رسول الله
الصفحة ١٦٣

تفصیل کے لئے دیکھئے: باب حضرت محمد رسول الله
صفحة 163

**BELIEF IN THE HOLY QURAN
AS THE FINAL DIVINE WRIT**

**القرآن الكريم
كتاب تهنائي منزل من الله**

قرآن پاک (آخری الہامی کتاب)

Alif-Lam-Mim (2:1)

الْحَمْدُ

الم (1:2)

This is the Scripture where of there is no doubt. A guidance for those who ward off (evil); (2:2)

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾
البقرة ٢

یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں (کلام اللہ ہے) اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے (2:2)

For Detail Consult : Chapter of Holy Qur'an
Page 207

وللتفصيل راجع باب القرآن الكريم
الصفحة ٢٠٧

تفصیل کے لئے دیکھئے: باب قرآن کریم
صفحة 207

**SALAT - RECITING REGULAR PRAYERS
(DAILY AT FIVE PRESCRIBED TIMINGS)**

إقامة الصلوة

**نماز (صلوة) قائم کرنا
(باقاعدہ روزانہ پانچ وقت ادائیگی)**

Establish worship at the two ends

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّن

اور دن کے دونوں سروں (یعنی صبح اور شام کے اوقات میں)

Establish worship at the two ends of the day and in some watches of the night. Surely good deeds annul ill deeds. This is a reminder for the mindful. (11:114)

الْيَلِيلُ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾
﴿١١٤ هود﴾

اور رات کی چند (پہلی) ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لئے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں (11:114)

For Detail Consult : Chapter of Salat (Prayer) Page 250

وللتفصيل راجع باب الصلوة الصفحة ٢٥٠

تفصیل کے لئے دیکھئے: باب نماز (صلوة) صفحہ 250

OBSERVING FAST (FOR STIPULATED TIMINGS) DURING THE WHOLE RAMADHAN (NINTH MONTH OF LUNAR CALENDAR)

you who believe! Fasting is prescribed for you, even as it was prescribed for those before you, that you may ward off (evil); (2:183)

صِيَامُ رَمَضَانَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾
﴿٢ البقرة ١٨٣﴾

صوم۔ ماہ رمضان میں روزہ کی پابندی مومنوں تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بنو (183:2)

For Detail Consult : Chapter of Saum (fasting) Page 262

وللتفصيل راجع باب الصوم الصفحة ٢٦٢

تفصیل کے لئے دیکھئے: باب روزہ صفحہ 262

ZAKAT - OBLIGATORY SHARING OF WEALTH WITH THE POOR COMMUNITY USHR - MANDATORY ALMS ON HARVEST

Establish worship, and pay the poor due; and whatever of good you send before (you) for your souls, you will find it with Allah. Surely Allah is Seer of what you do. (2:110)

إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْعَشْرِ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾
﴿٢ البقرة ١١٠﴾

زکوٰۃ و عشر کی ادائیگی اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لئے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے (110:2)

For Detail Consult : Chapters of Zakat and Ushr Page 274, 265

وللتفصيل راجع باب الزكاة والعشر الصفحة ٢٦٥، ٢٧٤

تفصیل کے لئے دیکھئے: باب زکوٰۃ اور عشر صفحہ 265, 274

PILGRIMAGE - VISITING SACRED KA'ABA DURING ZILHAJAH (TWELFTH MONTH OF LUNAR CALENDAR)

perform the pilgrimage and the visit (Makkah) for Allah. (2:196) PART

حج بیت الله
وَآتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
﴿٢ البقرة ١٩٦﴾ جزء

حج بیت اللہ اور اللہ (کی خوشنودی) کے لئے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ (196:2)

For Detail Consult : Chapter of Pilgrimage Page 287

وللتفصيل راجع باب الحج الصفحة ٢٨٧

تفصیل کے لئے دیکھئے: باب حج صفحہ 287

HOLY WAR - STRUGGLE FOR THE CAUSE OF ALLAH (SWT)

Warfare is ordained for you. Though it is hateful to you but it may happen that you hate a thing, which is good for you. And it may happen that you love a thing, which is bad for you. Allah knows you know not. (2:16)

الجهاد في سبيل الله
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾
﴿٢ البقرة ٢١٦﴾

جہاد (مسلمانوں) تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو اچھی لگے اور وہ تمہارے لئے بُری ہو اور (ان باتوں) کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (216:2)

For Detail Consult : Chapter of Holy war (Jihad) Page 642

وللتفصيل راجع باب الجهاد الصفحة ٦٤٢

تفصیل کے لئے دیکھئے: باب جہاد صفحہ 642

ATTRIBUTES OF ALLAH
SUBHANA HU WA TA ALA SWA
MAY HE BE PRAISED AND MAY HIS TRANSCENDENCE
BE AFFIRMED SAID AT ALL OCCASIONS WHILE
MENTIONING HIM TO PROFESS DIVINE MAJESTY

صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ

AN EJACULATION
FREQUENTLY USED AT THE COMMENCEMENT OF
ANY UNDERTAKING WITH THE AUSPICIOUS
NAME OF ALLAH(SWT)

In the name of Allah, the most Gracious the most Merciful. (1:1)

It is from Solomon, and it is: In the name of Allah the Beneficent, the Merciful; (27:30)

More Reference : 55:78 Page 105

ONLY ALLAH(SWT) MERITS
ALL THE PRAISES AND THANKS

All the praises and thanks be to Allah the Lord of the universe (1:2)

Say (O Muhammad): Praise be to Allah, and peace be on His slaves whom He has chosen! Is Allah best, or (all) that they ascribe as partners (to Him)? (27:59)

And Praise be to Allah, Lord of the Worlds! (37:182)

Yet Allah merits all the praise as, Lord of the heavens and Lord of the earth, the Lord and cherisher of all the worlds. (45:36)

More Reference :	7:43	10:10	14:39
Page :	882	882	955
15:98	16:75	17:111	18:1
296	144	367	213
23:28	27:15	28:70	29:63
925	1067	133	346
31:25	32:15	34:1	35:1
300	766	104	378
40:7,55,65	42:5	50:39	52:48
378-295-104	378	295	295

THE ATTRIBUTES OF ALLAH(SWT)
ARE INNUMERABLE
NO ONE CAN SING HIS PRAISES ENOUGH

Say: Though the ocean became ink well for the Words of my Lord, the ocean would be used up before the Words of my Lord were exhausted, even though We brought the like there of to help. (18:109)

And if all the trees in the earth were pens, and the oceans, with seven more oceans to replenish it, (were ink), the words of Allah could not

ابتداء کل عمل باسم اللہ المبارک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ فاتحة ۱

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۲۷﴾ النمل ۳۰

والمزید راجع : ۵۵ الرحمن : ۷۸ : الصفحة ۱۰۵

الحمد لله

أَحْمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴿۱﴾ فاتحة ۲

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی ۗ اللّٰهُ خَیْرٌ مِّمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۷﴾ النمل ۵۹

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴿۳۷﴾ الصفت ۱۸۲

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴿۴۵﴾ الجنات ۳۶

والمزید راجع	۷ الأعراف : ۴۳	۱۰ یونس : ۱۰۰
۱۴ ابراهیم : ۳۹	۱۵ الحجر : ۹۸	۱۶ النحل : ۷۵
۱۷ الإسراء (یسرا رابل) : ۱۱۱	۱۸ کیف : ۲۰	طہ : ۱۳۰
۲۳ المؤمنون : ۲۸	۲۷ النمل : ۱۵	۲۸ القصص : ۷۰
۲۹ العنکبوت : ۲۳	۳۰ الروم : ۱۸	۳۱ لقمان : ۲۵
۳۲ السجدة : ۱۵	۳۴ سباء : ۱	۳۵ فاطر : ۱
۴۰ المؤمن (غافر) : ۱۵	۴۲ الشوری : ۵۰	ق : ۲۹
۵۲ الطور : ۴۸	۱۱۰ النصر : ۳	

کلمات اللہ لاتعد ولا تحصى

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّیْ لَنَفَذْتُ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهَا مِدَادًا ﴿۱۰۹﴾ الکہف ۱۰۹

وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامًا وَ الْبَحْرُ یَدًا مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ اَبْحَارٍ لَنَفَذْتُ کَلِمَاتِ

ہر کام کا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز

شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ (1:1)

جو سلیمان کی طرف سے ہے اور (مضمون یہ ہے) کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے (30:27)

مزید حوالہ : 78:55 صفحہ 105

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے (2:1)

کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کو لائق ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ (اس کا) شریک بناتے ہیں (59:27)

اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے (182:37)

پس اللہ ہی ہر طرح کی تعریف (کے لائق) ہے جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے (36:45)

مزید حوالہ	43:7	10:10	39:14	98:15
صفحہ	882	882	955	296
75:16	111:17	1:18	130:20	28:23
144	367	213	254	925
15:27	70:28	63:29	18:30	25:31
1067	133	346	254	300
15:32	1:34	1:35	75:29:39	55:7:40
766	104	378	206-376	295,104
65:40	5:42	39:50	48:52	3:110
378	378	295	295	312

اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا شمار ممکن نہیں

کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے (لکھنے کے) لئے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور (سمندر) اس کی مدد کو لائیں (109:18)

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں (سب کے سب) قلم ہوں اور سمندر (کا تمام پانی) سیاہی ہو (اور) اس کے بعد سات سمندر اور (سیاہی ہو

be exhausted. Allah is Mighty, Wise. (31:27)

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾
﴿٣١ لقمان ٢٧﴾

جائیں) تو اللہ ہی کی باتیں (یعنی اس کی صفتیں) ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے (27:31)

BOUNTIES - FAVOURS AND GRACES OF ALLAH(SWT) ARE COUNTLESS

And He gives you of all you ask of Him, and if you would count the bounties of Allah you cannot reckon it. Man is indeed a wrongdoer, an ingrate. (14:34)

لا يمكن إحصاء نعمة الله

وَأَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَافٍ ﴿١٤﴾
﴿١٤ ابراهيم ٣٤﴾

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں

اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو (مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے) کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف (اور) ناشکرا ہے (34:14)

And if you would count the favours of Allah you cannot calculate it. Allah is indeed Forgiving. (16:18)

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾
﴿١٦ النحل ١٨﴾

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (18:16)

Then which of the favours of your Lord, will you deny?

فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿١٧﴾

تو (اے گروہ جن وانس) تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

55:13,16,18,21,23,25,28,30,32,34,36,38,40,42,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77)

٥٥ الرحمن ١٣، ١٦، ١٨، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٨، ٣٠، ٣٢، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٢، ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٤٩، ٥١، ٥٣، ٥٥، ٥٧، ٥٩، ٦١، ٦٣، ٦٥، ٦٧، ٦٩، ٧١، ٧٣، ٧٥، ٧٧

40,38,36,34,32,30,28,25,23,21,18,16,13):55
69,67,65,63,61,59,57,53,51,49,47,45,42
(77,75,73,71)

More Reference 40:81 93:11 Page 361, 300

والمزيد راجع ٤٠ المومن (غافر): ٨١ ٩٣ الضحى ١١:

مزيد حوالہ 40:81 93:11 صفحہ 361, 300

ALL THE MOST BEAUTIFUL (BEST AND FINEST) NAMES BELONG TO ALLAH(SWT)

And Allah has the fairest names. Invoke Him by them. And leave the company of those who blaspheme His names. They will be requited what they do. (7:180)

لله الاسماء الحسنی

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾
﴿٧ الاعراف ١٨٠﴾

اللہ تعالیٰ کے سب نام ہی اچھے

اور اللہ کے سب نام ہی اچھے ہیں تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ اور جو لوگ اس کے ناموں میں کج روی (اختیار) کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے (180:7)

Allah! There is no god except Him. To Him belong the most beautiful names. (20:8)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿٢٠﴾
﴿٢٠ طه ٨﴾

(وہ) معبود (برحق) ہے (کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے (سب) نام اچھے ہیں (8:20)

He is Allah, than Whom there is no other god, the Sovereign Lord the Holy One, Peace, the Keeper of Faith, the Guardian, the Majestic, the Compeller, the Superb. glorified be Allah from all that they scribe as partner (to Him). (59:23)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٥٩ الحشر ٢٣﴾

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بادشاہ (حقیقی) پاک ذات (ہر عیب سے) سلامتی امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے (23:59)

He is Allah, the Creator, the shaper out of nothing, (the originator). His names are the finest. All that is in the heavens and the earth glorifies Him, and He is the Mighty the Wise (59:24)

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾
﴿٥٩ الحشر ٢٤﴾

وہی اللہ (تمام مخلوقات کا) خالق۔ وجود بخشنے والا صورتیں بنانے والا اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور وہ غالب حکمت والا ہے (24:59)

More Reference : 17:110 19:65 55:78
Page 105 294 255

والمزيد راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ١١٠ :
١٩ مريم: ٦٥ ٥٥ الرحمن: ٧٨
وللتفصيل للمزيد راجع الصفحة ١١٢٩

مزيد حوالہ 17:110 19:65 55:78
صفحة 105 294 255
مزيد تفصيل كيلے دیکھئے صفحہ 1129

For More Detail Consult : Page : 1129

**GLORIFY (HYMN) THE NAME OF ALLAH(SWT)
CELEBRATE HIS PRAISES
IN THOUGHT, WORDS AND DEEDS**

In houses, which Allah has allowed to be exalted, and that His name shall be remembered therein. Therein do offer praise to Him at morn and evening. (24:36)

So glorify the name of your tremendous Lord. (56:74,96) (69:52)

More Reference 17:110 19:65 Page 255, 294
For Detail Consult : Page 1129
Chapter of Remembrance of Allah(SWT)
For Detail Consult : Page 294

**ALLAH(SWT) HOLDS
WHATSOEVER IS IN THE UNIVERSE**

-----To Him belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth-----
(2:255) PART

Allah holds whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth; and to Allah all things are returned. (3:109)

But To Allah belong all things in the heavens and in the earth. Allah ever surrounds all things. (4:126)

To Allah belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. And Allah is sufficient as Defender. (4:132)

To Him belongs whatsoever rests in the night and the day. He is the Hearer, the Knower. (6:13)

Indeed all that is in the heavens and the earth is Allah's. Surely Allah's promise is true. But most of them know not. (10:55)

To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. Allah, He indeed is the Absolute, the Owner of Praise. (22:64)

Say: to Whom (belongs) the earth and whatsoever is therein, if you have knowledge? (23:84)

ذکر اسم اللہ تعالیٰ و تسبیحہ

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾
﴿٢٤﴾ النور ٣٦

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾
﴿٥٦﴾ الواقعة ٥٦ ﴿٦٩﴾ الحاقة ٥٢

والمعزید راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ١٩ ١١٠: مریم: ٦٥
وللفصل راجع الصفحة ١١٢٩
وللفصل راجع باب ذکر اللہ تعالیٰ الصفحة ٢٩٤

للہ مافی السموات وما فی الأرض

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ
﴿٢٥٥﴾ البقرة ٢٥٥ جزء

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلٰى اللّٰهِ
تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿١٠٩﴾
﴿٣﴾ آل عمران ١٠٩

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ
اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾
﴿٤﴾ النساء ١٢٦

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰى
بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾
﴿٤﴾ النساء ١٣٢

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْاَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾
﴿٦﴾ الانعام ١٣

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاِلٰهَ
وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾
﴿١٠﴾ يونس ٥٥

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنَّ
اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾
﴿٢٢﴾ الحج ٦٤

قُلْ لِمَنْ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾
﴿٢٣﴾ المؤمنون ٨٤

اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر و تسبیح

ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کئے جائیں۔ اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے (اور) ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرو (36:24)

تو تم اپنے اللہ بزرگ و برتر کے نام کی تسبیح کرو (52:69) (96,74:56)

مزید حوالہ 17:110 19:65 255, 294 صفحہ 294, 255
تفصیل کیلئے دیکھئے صفحہ 1129
تفصیل کیلئے دیکھئے باب یاد (ذکر) رب تعالیٰ صفحہ 294

کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ

----- جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے -----
(255:2) جزو

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور سب کاموں کا رجوع (اور انجام) اللہ ہی کی طرف ہے (109:3)

اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے (126:4)

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور اللہ ہی کا ساز کانی ہے (132:4)

اور جو مخلوق رات اور دن میں آباد ہے سب اسی کی ہے۔ اور وہ سنتا جانتا ہے (13:6)

سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (55:10)

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ اور بے شک اللہ بے نیاز (اور) قابل تعریف ہے (64:22)

کہہ دیجئے کہ اگر تم جانتے ہو تو (بتاؤ کہ) زمین اور جو کچھ زمین میں ہے (سب) کس کا مال ہے (84:23)

They will say: to Allah. Say: Will you not then bear it in mind. (23:85)

To Allah belongs whatsoever is in the heavens and the earth. Allah, He is the Absolute, the Owner of Praise. (31:26)

Praise be to Allah, to Whom belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. His is the praise in the Hereafter, and He is the Wise, the Aware. (34:1)

Lord of the heavens and the earth and all that is between them, the Mighty, the Pardoning. (38:66)

To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth, and He is the Sublime, the Tremendous. (42:4)

Lord of the heavens and the earth and all that is between them, if you would be convinced. (44:7)

سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٨٥﴾

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٣١﴾
﴿٣١ لقمان ٢٦﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهٗ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٣٤﴾
﴿٣٤ سبأ ١﴾

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ ص ٢٨﴾

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٤٢﴾
﴿٤٢ الشورى ٤﴾

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوَقِنِيْنَ ﴿٤٤﴾
﴿٤٤ الدخان ٧﴾

جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں۔ (85:23)

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے (سب) اللہ ہی کا ہے۔ بیشک اللہ بے پروا (اور) لائق حمد (و ثنا) ہے (26:31)

سب تعریف اللہ ہی کو (لائق ہے) ہے (جو سب چیزوں کا مالک ہے یعنی) وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے۔ اور وہ حکمت والا (اور) خبردار ہے (1:34)

جو آسمانوں اور زمین اور جو (مخلوق) ان میں ہے سب کا مالک ہے۔ غالب (اور) بخشنے والا (66:38)

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اور وہ عالی رتبہ (اور) گرامی قدر ہے (4:42)

آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک۔ بشرطیکہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو (7:44)

More Reference : 19:65 Page 294

والمزید راجع ١٩ مریم ٦٥: الصفحة ٢٩٤

المزید حوالہ 65:19 صفحه 294

THE EVER LIVING AND THE ETERNAL

البقاء لوجه الله ذى الجلال والإكرام

صرف اللہ کا جلال اور اس کی عظمت ہمیشہ رہے گی (ہمیشہ زندہ اور قائم)

Allah! There is no god except Him, the Alive, the Eternal. Neither slumber nor sleep overtakes Him (2:255) PART

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴿٢٥٥﴾
﴿٢٥٥ البقرة ٢٥٥﴾ جزء

اللہ (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ (255:2)

Alif. Lam. Mim. (3:1)

Allah! There is no deity except Him, the Alive, the Eternal. (3:2)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهٗ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٣٤﴾
﴿٣٤ آل عمران ١﴾

الم (1:3)

He is the Living One. There is no god except Him. So call upon Him, giving Him sincere devotion. (Only) Praise be to Allah, the Lord of the Worlds! (40:65)

هُوَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ الدِّيْنُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٠﴾
﴿٤٠ المؤمن ٦٥﴾

اللہ (جو معبود برحق ہے) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا (2:3)

وہ زندہ ہے (جسے موت نہیں) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اسکی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو (لائق) ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے (65:40)

Everyone that is thereon will pass away; (55:26)

There will remain (nothing) but the punishment of your Lord of Might and Glory. (55:27)

Blessed be the name of your Lord, full of Majesty and Honour (55:78)

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٥٥﴾
الرحمن ٧٨

تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے (78:55)

More Reference : 16:96 20:73,111 13:9 25:58 Page 553,1029,299,834,108

والمزید راجع ١٦ النحل: ٩٦ ٢٠ طه ١١١,٧٣ ١٣ الرعد: ٩ ٢٥ الفرقان: ٥٨

مزید حوالہ 9:13 111,73:20 96:16 صفحہ 108,834,299,1029,553 58:25

NO ONE IS BETTER THAN ALLAH(SWT) AT HUE (COLOURING)

(We take our) colour from Allah, and who is better than Allah at colouring. We are His worshippers. (2:138)

صبغة الله أحسن

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبَادُونَ ﴿٢﴾
البقرة ١٣٨

سب سے بہتر اللہ تعالیٰ ہی کا رنگ (کہہ دیجئے کہ ہم نے) اللہ کا رنگ (اختیار کر لیا ہے) اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں (138:2)

THE MOMENT ALLAH(SWT) INTENDS ANYTHING, JUST COMMANDS "BE" AND IT EXISTS

The Originator of the heavens and the earth! When He Decrees a thing, He says to it only: Be! And it is. (2:117)

يبدع الأشياء بقوله "كن"

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٧﴾
البقرة ١١٧

(وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرمادیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے (117:2)

And Our Word to a thing, when We Will anything to be, it is only that We say to it: Be! And it is. (16:40)

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾
النحل ٤٠

جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا! تو وہ ہو جاتی ہے (40:16)

But His Command, when He determines upon some matter is only that He says to it: Be! And it is. (36:82)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾
يس ٨٢

اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرمادیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے (82:36)

He is the one Who quickens and gives death. When He Decides on some matter, He merely tells it: Be! And it is. (40:68)

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾
المؤمن ٦٨

وہی تو ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے پھر جب وہ کوئی کام کرنا (اور کسی کو پیدا کرنا) چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے (68:40)

More Reference : 3:47,59 6:73 16:77 19:35 Page 1092, 605, 791, 782, 134

والمزید راجع ٣ آل عمران: ٥٩,٤٧ ٦ الأنعام: ٧٣ ١٦ النحل: ٧٧ ١٩ مريم: ٣٥

مزید حوالہ 35:19 77:16 73:6 59,47:3 صفحہ 134, 782, 791, 605, 1092

EXECUTION OF HIS COMMANDMENT TAKES A MOMENT - EQUAL TO TWINKLING OF HUMAN EYE

And Our commandment is but a single word, like the twinkling of an eye. (54:50)

أمر الله كلمح بالبصر

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾
القمر ٥٠

اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے (50:54)

More Reference : 16:77 Page 782

والمزید راجع: ١٦ النحل: ٧٧ الصفحة ٧٨٢

مزید حوالہ: 77:16 صفحہ 782

NO ONE CAN DARE TO REASON THE WILL OF ALLAH(SWT)

And He is the Forgiving, the Affectionate, (85:14)

لا معقب لحكم الله

وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ﴿١٤﴾
البروج ١٤

کسی کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حکم کی وجہ پوچھے اور وہ بخشنے والا (اور) محبت کرنے والا ہے (14:85)

Lord of the Majestic Throne. (85:15)

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾
البروج ١٥

عرش کا مالک بڑی شان والا (15:85)

Doer of anything He wants. (85:16)

He cannot be questioned for what He does, where as they (others) will be (questioned) called to accoun. (21:23)

More Reference : 11:107 13:41 18:26
Page 805, 326, 1107

ALLAH(SWT) IS AWARE OF ALL CONCEALED AND PROCLAIMED THINGS

Nothing in the earth or in the heavens is hidden from Allah. (3:5)

He is Allah in the heavens and in the earth. He knows both your secret and your utterance, and He knows what you earn. (6:3)

No matter what business you may be engaged in as well as whatever you quote from any reading, We act as witness for you when you are occupied with it-----

10:61) PART

It is the same to Him whether any of you conceal his speech or declare it openly he who lurks in the night and he who goes freely in the daytime. (3:10)

Our Lord! You know that which we hide and that which we proclaim. Nothing in the earth or in the heavens is hidden from Allah. (4:38)

And We know who hasten forward among you and We know who lag behind. (15:24)

And Allah knows that which you keep hidden and that which you proclaim. (16:19)

And if you speak aloud, then surely! He knows the secret (thought) and that which is yet) more hidden. (17:7)

He says: My Lord knows every word what is spoken in the heaven and on the earth. He is the Hearer, the Knower. (21:4)

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝

﴿٨٥ البروج ١٦﴾

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝

﴿٢١ الأنبياء ٢٣﴾

وَاللَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ ۝
١١ هود: ١٠٧ ١٣ الرعد: ٤١
١٨ الكهف: ٢٦ الصفحة ٨٠٥، ٣٢٦، ١١٠٧

عالم الغيب والشهادة

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ

وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

﴿٣ آل عمران ٥﴾

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يُعَلِّمُ

سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝

﴿٦ الانعام ٣﴾

وَمَا تَكُونُونَ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ

وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا

إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۝

﴿١٠ يونس ٦١﴾ جز

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَن أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

﴿١٣ الرعد ١٠﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ

عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

﴿١٤ ابراهيم ٣٨﴾

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا

الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝

﴿١٥ الحجر ٢٤﴾

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝

﴿١٦ النحل ١٩﴾

وَإِنْ تَجَاهَدُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ۝

﴿٢٠ طه ٧﴾

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

﴿٢١ الأنبياء ٤﴾

جو چاہتا ہے کر دیتا ہے (16:85)

وہ اپنے کاموں کے لیے (کسی کے سامنے) جواب دہ نہیں اور سب (اس کے سامنے) جواب دہ ہیں (23:21)

مزید حوالہ 11:107 13:41 18:26
صفحہ 805, 326, 1107

ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا

اللہ (ایسا باخبر و بصیر ہے کہ) کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں (5:3)

اور آسمان اور زمین میں وہی (ایک) اللہ ہے۔ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے۔ اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے (3:6)

اور آپ کسی حال میں ہوں اور مجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ اور جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ----- (61:10) جزو

کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر۔ یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن (کی روشنی) میں کھلم کھلا چلے پھرے (اس کے نزدیک) برابر ہے (10:13)

اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ تو سب جانتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں (نہ) زمین میں نہ آسمان میں (38:14)

اور جو لوگ تم میں آگے بڑھنے والے ہیں ہم کو معلوم ہے اور جو پیچھے ہٹنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں (24:15)

اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے (19:16)

اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے (7:20)

(پیغمبر نے) کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں (کہی جاتی) ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے۔ اور وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے (4:21)

He knows that which is said openly, and that which you conceal. (21:110)

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾
﴿٢١ الأنبياء ١١٠﴾

جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے (110:21)

Do you not know that Allah knows all that is in the heaven and the earth? It is in a record. Indeed that is easy for Allah. (22:70)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾
﴿٢٢ الحج ٧٠﴾

کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ (سب کچھ) کتاب میں (لکھا ہوا) ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے (70:22)

He knows all that is before them and all that is behind them, and to Allah all things are returned. (22:76)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾
﴿٢٢ الحج ٧٦﴾

جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے۔ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے (76:22)

Whether you divulge a thing or keep it hidden, Allah is ever Knower of all things. (33:54)

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾
﴿٣٣ الأحزاب ٥٤﴾

اگر تم کسی چیز کو ظاہر کر دیا اس کو مخفی رکھو تو (یاد رکھو کہ) اللہ ہر چیز سے باخبر ہے (54:33)

More Reference	2:77	11:5,123	13:9	14:38
Page	742	107,108	855	106
16:23	25:6	32:6	49:18	62:8
473	208	108	109	95
64:18	87:7			
109	211			

للغزير راجع	٢ البقرة: ٧٧	١١ هود: ١٢٣، ٥	١٣ الرعد: ٩
١٤ ابراهيم: ٢٨	١٦ النحل: ٢٣	٢٥ الفرقان: ٦	
٣٢ السجدة: ٦	٤٩ الحجرات: ١٨	٦٢ الجمعة: ٨	
٦٤ التغابن: ١٨	٨٧ الأعلى: ٧		

مزيد حوالہ	77:2	123,5:11	9:13
صفحہ	742	108, 107	855
38:14	23:16	6:25	6:32
106	478	208	108
8:62	18:64	7:87	
95	109	211	

KNOWER OF SECRET THOUGHTS OF HEARTS AND MINDS

علم بلدات الصدور

دلوں کے (بھید) راز جاننے والا

Say, (O Muhammad): Whether you hide that which is in your breasts or reveal it, Allah knows it. He knows that which is in the heavens and that which is in the earth, and Allah is Able to do all things. (3:29)

قُلْ إِنْ تَخْفَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾
﴿٣ آل عمران ٢٩﴾

(اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو اللہ اس کو جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (29:3)

Now they fold up their breasts that they may hide (their thoughts) from Him. At the very moment when they cover themselves with their clothing, Allah knows that which they keep hidden and that which they proclaim. He is Aware of what is in the breasts (of men). (11:5)

إِلَّا أَنَّهُمْ يُشْفُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ الْأَحْيِينَ لِيَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾
﴿١١ هود ٥﴾

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے اپنی بات چھپائیں۔ سن رکھو جس وقت یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں (تب بھی) وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے (5:11)

Your Lord is best aware of what is in your minds. If you are righteous, then He is ever Forgiving to those who turn (to Him). (17:25)

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مَا فِي نَفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٢٥﴾

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے۔ اگر تم نیک ہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے (25:17)

Your Lord knows surely all that their bosoms hide, and all that they proclaim. (27:74)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكْتُمْنَ صُدُورَهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾
﴿٢٧ النمل ٧٤﴾

اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان (سب) کو جانتا ہے (74:27)

And your Lord knows what their breasts conceal, and what they disclose. (28:69)

Indeed Allah is the knower of the Unseen of the heavens and the earth. He is Aware of the secret of the mind. (35:38)

He causes the night to pass into the day, and He causes the day to pass into the night, and He is Knower of all that is in the hearts. (57:6)

He knows all that is in the heavens and all that is in the earth, and He knows what you conceal and what you disclose. And Allah is Aware of what is in one's breast (minds). (64:4)

And keep your opinion secret or proclaim it, He is still Aware of all that is in your minds (breasts). (67:13)

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨ القصص ٦٩﴾

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٥﴾
﴿٣٥ فاطر ٣٨﴾

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥٧﴾
﴿٥٧ الحديد ٦﴾

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦٤﴾
﴿٦٤ التغابن ٤﴾

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦٧﴾
﴿٦٧ الملك ١٣﴾

اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے (69:28)

بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے (38:35)

(وہی) رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے (6:57)

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے۔ اور اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے (4:64)

اور تم (لوگ) بات پوشیدہ کہو یا ظاہر۔ وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے (13:67)

Reference:	2:77,284	3:119,154	5:7,61,116
Page	742, 568	753, 704	306, 748
43	9:78	13:10	14:38
98	111	106	106
110	29:10	31:23	33:54
107	662	735	107
19	42:24	50:16	62:8
11	738	111	772

Reference:	2 البقرة: ٧٧-٢٨٤	3 آل عمران: ١١٩-١٥٤	5 المائدة: ٦١-١١٦
Page	٧٤٣	١٣	١٠٠
14	١٩: ٢٠	٧: ٢١	١١٠: الأنبياء
29	٣١ لقمان: ٢٣	٣٣ الأحزاب: ٥٤	٢٩ العنكبوت: ١٠٠
34	٣٩ الزمر: ٧	٤٠ المؤمن (غافر): ١٩	٣٤ سبأ: ٣
42	٥٠ ق: ١٦	٦٢ الجمعة: ٨	٨٤ الانشقاق: ٢٣

Reference:	2 البقرة: ٧٧-٢٨٤	3 آل عمران: ١١٩-١٥٤	5 المائدة: ٦١-١١٦
Page	٧٤٣	١٣	١٠٠
14	١٩: ٢٠	٧: ٢١	١١٠: الأنبياء
29	٣١ لقمان: ٢٣	٣٣ الأحزاب: ٥٤	٢٩ العنكبوت: ١٠٠
34	٣٩ الزمر: ٧	٤٠ المؤمن (غافر): ١٩	٣٤ سبأ: ٣
42	٥٠ ق: ١٦	٦٢ الجمعة: ٨	٨٤ الانشقاق: ٢٣

KNOWLEDGE OF ALL ACCULT SCIENCES (THE TRANSCENDENT REALM) WHICH IS BEYOND THE REACH OF HUMAN PERCEPTION IS ONLY WITH ALLAH(SWT)

And Allah holds the Invisible of the heavens and the earth, and to Him the whole matter will be returned. worship Him and put your trust in Him. Your Lord is not unaware of what you (mortals) do. (11:123)

He is the Knower of the invisible and the visible, the Great, the High Exalted. (13:9)

He (O Muhammad): None in the heavens and the earth knows the Unseen except Allah; and they know not when they will be raised (again). (65:65)

He is the Knower of the things hidden and open, the Mighty, the Merciful, (32:6)

He: My Lord hurls the truth. (He is the Knower of Things Hidden. (48:48)

عالم الغيب

وَاللَّهُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾
﴿١١ هود ١٢٣﴾

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿١٣﴾
﴿١٣ الرعد ٩﴾

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٢٧ النمل ٦٥﴾

ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٣٢﴾
﴿٣٢ السجدة ٦﴾

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِرُ بِالْحَقِّ عِلْمَ الْغُيُوبِ ﴿٣٤﴾
﴿٣٤ سبأ ٤٨﴾

عالم الغيب

اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام معاملات کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں (123:11)

وہ ظاہر و پوشیدہ کا عالم ہے سب سے بزرگ (اور) عالی مرتبہ ہے (9:13)

کہہ دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب (زندہ کر کے) اٹھائے جائیں گے (65:27)

یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا (اور) غالب (اور) رحم والا (اللہ) ہے (6:32)

کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے (اور) وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے (48:34)

Indeed Allah knows the Unseen of the heavens and the earth. And Allah is Observant of what you do. (49:18)

Knowing the Unseen and the Visible (He is) the Powerful, the Wise! (64:18)

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٤٩﴾ الحجرات ١٨

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٤﴾
﴿٦٤﴾ التغابن ١٨

بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے (18:49)

وہ پوشیدہ اور ظاہر جاننے والا ہے زبردست حکمت والا (18:64)

More Reference :	2:255	5:116	6:50	المزید راجع	٢ البقرة: ٢٥٥	٥ المائدة: ١١٦	٦ الأنعام: ٥٠
Page	103	606	855	٩ التوبة: ١١٥، ٧٨	١١ هود: ١٢٣	١٦ النحل: ٧٧	١٨ الكهف: ٢٦
9:78,105	11:123	16:77	18:26	20:110	٢٠ طه: ١١٠	٢١ الأنبياء: ٢٨	٢٣ المؤمنون: ٩٢
111,819	108	782	1107	111	٢٤ سباء: ٣	٢٥ الفرقان: ٦	٣٥ فاطر: ٣٨
21:28	23:92	25:6	34:3	35:38	٣٨: الحشر: ٢٢	٤٩ الحجرات: ١٨	٦٢ الجمعة: ٨
176	136	208	787	108	٧٢ الجن: ٢٦	٦٤ التغابن: ١٨	١٠٩
49:18	59:22	62:8	64:18	72:26	١٠٩	١٠٩	١٠٩
109	134	772	109	109			

105,78:9	50:6	116:5	255:2	مزیّد حوالہ
819,111	855	606	103	صفحہ
28:21	110:20	26:18	77:16	123:11
176	111	1107	782	108
18:49	38:35	3:34	6:25	92:23
109	108	787	208	136
	26:72	18:64	8:62	22:59
	109	109	772	134

ALLAH (SWT) REVEALS SUCH PORTION OF UNSEEN SECRETS AS HE DEEMS FIT TO HIS CHOSEN MESSENGERS

(He is) the knower of the Unseen, and He never discloses His Unseen (secrets) to anyone. (72:26)

Except a messenger whom He has chosen, and then He makes on escort to go before him and a guard behind him: (72:27)

That He may know that they have indeed conveyed the messages of their Lord. He encompasses all their doings, and He keeps count of all things. (72:28)

يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ بِمِقْدَارٍ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٧٢﴾
﴿٧٢﴾ الجن ٢٦

إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٧٢﴾
﴿٧٢﴾ الجن ٢٧

لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٧٢﴾
﴿٧٢﴾ الجن ٢٨

اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں سے (پیغمبروں کو) امور غیب سے جس قدر چاہتا ہے مطلع کر دیتا ہے

(وہی) غیب (کی بات) جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا (26:72)

ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس (کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس) کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے (27:72)

تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور (یوں تو) اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے (28:72)

More Reference :	6:50	7:62	14:4	81:24
Page	855, 917, 374, 164			

QUITE AWARE OF ALL THE DEEDS (RIGHTEOUS AND EVIL DOINGS) OF HUMANKIND

Your Lord, He knows best who strays from His way; and He knows best (who are) the rightly guided. (6:117)

How many generations have We destroyed since Noah! And Allah suffices as Knower and Beholder of the sins of His slaves. (17:17)

Say: Each one acts according to his rule of conduct, and your Lord is well aware of him who is best guided. (17:84)

Say (to them, O Muhammad): Would you (presume to) teach Allah your religion, when Allah knows all that is in the heavens and all that is in the earth, and Allah is Aware of all things. (49:16)

والمزید راجع	٦ الأنعام: ٥٠	٧ الأعراف: ٢٢
١٤ إبراهيم: ٤	٨١ التکویر: ٢٤	

خَبِيرٌ بِأَعْمَالِ عِبَادِهِ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾
﴿١١٧﴾ الأنعام ١١٧

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾
﴿١٧﴾ بنی اسرائیل ١٧

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾
﴿٨٤﴾ بنی اسرائیل ٨٤

قُلْ أَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٩﴾
﴿٤٩﴾ الحجرات ١٦

مزیّد حوالہ	50:6	62:7	81:24
صفحہ	164, 374, 917, 855		

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے

تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چل رہے ہیں (117:6)

اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے (17:17)

کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقہ کے مطابق عمل کرتا ہے سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے (84:17)

ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو۔ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے۔ اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے (16:49)

Such is range of their knowledge. Your Lord is well Aware of him who strays, and He is well Aware of him who goes right. (53:30)

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ﴿٥٣﴾ النجم ٣٠

ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چلا (30:53)

On the Day when Allah will raise them all together and inform them of what they did. Allah has kept account of it while they forgot it. And Allah is Witness over all things. (58:6)

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٨﴾ المجادلة ٦

جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو بتائے گا۔ اللہ کو وہ سب (کام) یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں۔ اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے (6:58)

So believe in Allah and His messenger and the Light which We have sent down. And Allah is well acquainted with what you do. (64:8)

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالتُّورِ الَّتِي اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٦٤﴾ التغابن ٨

تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ۔ اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبر دار ہے (8:64)

Your Lord is fully aware of him who strays from His way, and He is well aware of those who walk aright. (68:7)

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٦٨﴾ القلم ٧

تمہارا پروردگار اس کو بھی جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں (7:68)

More Reference :

2:77,96,144,149,233,237,265	742, 422, 694, 695, 400, 522, 274	3:15,20,98,99,153,163,180	4:35,94
71,283	431, 89, 243, 242, 703, 493, 498	5:8,71	6:18,132
9:105	819	11:111,123	17:30,96
23:51	499	26:218	27:88
29:10,45	662	42:25,27	48:11
49:18	109	59:18	62:8
63:11	64:2	307	772

٢ البقرة: ٢٣٧, ٢٣٣, ١٤٩, ١٤٤, ٩٦, ٧٧	٣ آل عمران: ١٥٣, ٩٩, ٩٨, ٢٠٠, ١٥٠	٤ النساء: ١٨٠, ١٦٣	٥ المائدة: ١٣٥, ١٢٨, ٩٤, ٣٥
٦ الأنعام: ١٣٢, ١١٨	٩ التوبة: ١٠٥	١٠ يونس: ٤٦, ٣٦	١١ هود: ١٢٣, ١١١
١٢ الإسراء: ٩٦, ٣٠	٢٣ المؤمنون: ٥١	٢٥ الفرقان: ٥٨	٢٦ الشعراء: ٢١٨
٢٧ النمل: ٨٨	٢٩ العنكبوت: ٤٥, ١٠	٣٥ فاطر: ٣١	٤٢ الشورى: ٢٧, ٢٥
٤٨ الفتح: ٤٨	٥١ الحشر: ١٨	٦٢ الجمعة: ٨	٦٣ المنافقون: ١١

265,237,233,149,144,96,77:2	274,522,742,422,694,695,400	180,163,153,99,98,20,15:3	283,271
447,524	498,493,703,242,243,89,431	495,279	
105:9	132,18:6	71,8:5	135,128
819	372,112,129	204,567	567,528
51:23	96,30:17	123,111:11	46,36:10
499	733,390	108,819	175,152
45,10:29	88:27	218:26	58:25
662	794	260	303
18:49	11:48	27,25:42	31:35
109	729	391,315	245
2:64	11:63	8:62	18:59
402	772	772	307

**SUBTLE AND WELL AWARE
WELL-ACQUAINTED WITH ALL THINGS**

Any dear son! Surely though it be the weight of a grain of mustard seed, and though it be in a rock, or in the heavens, or in the earth, Allah will bring it forth. Allah is Subtle and Well-Aware. (31:16)

Should He not know what He created? And He is the Subtle, the Well-Aware. (Gracious and Informed) (31:14)

لطيف "خبير"

يُبَيِّنُ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰٓاَتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٣١﴾ لقمان ١٦

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿٦٧﴾ الملك ١٤

باریک بین اور خبردار

اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی عمل (بافرض رائی کے دانے کے برابر بھی) چھوٹا (ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں (مخفی ہو) یا زمین میں اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین (اور) خبردار ہے (16:31)

بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور (ہر چیز سے) آگاہ ہے (14:67)

Reference : 6:103	22:63	33:34	٢٢ الحج: ٦٣	٦ الأنعام: ١٠٣	34:33	63:22	103:6
Page: 112, 346, 173			١١٢, ٧٢٣, ٣٤٦, ١٧٣	الصفحة: ٣٤	٣٣ الأحزاب: ٣٤		173, 346, 112

NO LEAF DROPS DOWN WITHOUT HIS KNOWLEDGE

And with Him are the keys of the Unseen. None but He knows them. And He knows whatever exists in the land and the sea. Not a leaf drops but He knows it, not a seed amid the darkness of the earth, nothing wet or dry but (it is noted) in a clear record. (6:59)

لا تسقط ورقة إلا يعلمها

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ
وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ
وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾
﴿٦ الانعام ٥٩﴾

اس کے علم کے بغیر پتہ بھی نہیں جھڑتا

اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے (59:6)

EVEN AWARE OF THE TRICKS OF EYES

He knows the treachery of the eyes, and that which the hearts conceal. (40:19)

يعلم خائنة الاعين

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾
﴿٤٠ المؤمن ١٩﴾

آنکھوں تک کی خیانت کو جاننے والا

وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو (باتیں) سینوں میں پوشیدہ ہیں (ان کو بھی) (19:40)

KNOWS THE WHISPERING OF SOUL (SUGGESTIONS AND FEELINGS OF CONSCIENCE) OF HUMANKIND

**NEARER TO THE JUGULAR VEIN OF HUMANKIND
KNOWER OF INMOST DESIRES & MOTIVES**

We created a man and We know what his soul whispers to him, and We are closer to him than his jugular vein. (50:16)

الله عليم بوساوس النفوس

هو أقرب إلى الإنسان حبل الوريد

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ
نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾
﴿٥٠ ق ١٦﴾

جو خیال دل میں گزرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے

رگ جان سے زیادہ قریب

اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ اور اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں (16:50)

NO ONE CAN COMPASS KNOWLEDGE OF ALLAH(SWT)

He knows (all) that is before them and (all) that is behind them, while they cannot compass His knowledge. (20:110)

لا يستطيع أحد أن يحيط الله علماً

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾
﴿٢٠ طه ١١٠﴾

کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا احاطہ نہیں کر سکتا

جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ (اپنے) علم سے اللہ (کے علم) پر احاطہ نہیں کر سکتے (110:20)

**NO SECRET COUNSELLING OR SCHEME IS HIDDEN TO ALLAH(SWT)
(FULLY CIRCUMVENT THE PLOTS OF SINNERS)**

They seek to hide from men and seek not to hide from Allah. He is with them when by night they hold discourse displeasing to Him. Allah ever surrounds what they do. (4:108)

الله يكون مع الناس في نجواهم أينما كانوا

يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ
مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى
مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَاطًا ﴿١٠٨﴾
﴿٤ النساء ١٠٨﴾

اللہ تعالیٰ ہر خفیہ مشورہ میں موجود ہوتا ہے

یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ ان کے (تمام) کاموں پر احاطہ کئے ہوئے ہے (108:4)

Do they not realize that Allah knows both their secrets and their intrigues, and that Allah is the Knower of Unseen things? (9:78)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾
﴿٩ التوبة ٧٨﴾

کیا ان کو معلوم نہیں اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے (78:9)

That is because they say to those who hate what Allah has revealed: We will obey you in some matters; and Allah knows their secret talks. (47:26)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا الَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ
سَطَطْنَاهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾
﴿٤٧ محمد ٢٦﴾

یہ اس لئے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی (کتاب) سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے (26:47)

Had you not seen that Allah knows all that is in the heavens and all that is in the earth? There is no secret conference of three but He is their fourth, nor of five but He is their sixth, nor of less than that or more but He is with them wherever they may be; and afterward, on the Day of Resurrection, He will inform them of what they did Allah is Knower of all things. (58:7)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ (کسی جگہ) تین (شخصوں) کا (مجمع اور) کانوں میں سرگوشی (خفیہ مشورہ) نہیں ہوتی مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے ہیں قیامت کے دن وہ (ایک ایک) ان کو بتائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے (7:58)

﴿٥٨ المجادلة ٧﴾

More Reference :	2:77	3:29
Page	742	107
6:3	11:5	13:10
106	107	106
16:19,23	20:7	21:110
106,478	106	107
36:76	64:4	67:13
737	108	108

والمزید راجع	٢ البقرة: ٧٧	٣ آل عمران: ٢٩
٦ الأنعام: ٣	١١ هود: ٥	١٣ الرعد: ١٠
١٤ إبراهيم: ٣٨	٢٠ طه: ٧	٢١ الأنبياء: ١١٠
١٦ النحل: ٢٣، ١٩	٣٦ يس: ٧٦	٦٤ التغابن: ٤
٣٣ الأحزاب: ٥٤	٦٧ الملك: ١٣	

3:6	29:3	77:2	106	107	742
23,19:16	38:14	10:13	478,106	106	106
76:36	54:33	110:21	737	107	107
		13:67		108	108

NO POWER OF VISION CAN GRASP ALLAH(SWT) IMPERCEPTIBLE (INVISIBLE TO THE PHYSICAL EYE SIGHT)

Vision comprehends Him not, but He comprehends (all) vision. He is the Subtle, the well Aware. (6:103)

NOTHING EXISTS UNLESS IT HYMNS ALLAH(SWT) 'S PRAISES - ALL CREATIONS OF UNIVERSE CELEBRATE HIS GLORY

The seven heavens and the earth and all that is therein praise Him, and here is not a thing but hymns his glorification but you understand not their praise. He is ever Lenient, Forgiving. (17:44)

To Him belongs whosoever is in the heavens and in the earth. And those who dwell in His presence are not so proud to worship Him nor do they weary; (21:19)

They glorify (Him) night and day; they flag not. (21:20)

Have you not seen how everyone in the heavens and the earth glorifies Allah and the birds in their flight? Each one knows how to worship and glorify Him and Allah is Aware of what they do. (24:41)

لا تدرك الله الأبصار

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ١٠٣﴾

إن من شيء

الا يسبح الله بحمده

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٤٤﴾

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الأنبياء ١٩﴾

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الأنبياء ٢٠﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾
﴿٢٤ النور ٤١﴾

انسانی نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتیں

(وہ ایسا ہے کہ) نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اور وہ بڑا باریک بین خبردار ہے (103:6)

کائنات کی تمام مخلوقات

اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے

ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور (مخلوقات میں سے) کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بیشک وہ بردبار (اور) غفار ہے (44:17)

اور جو لوگ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اسی کے (ملکیت اور مال) ہیں۔ اور جو (فرشتے) اسکے پاس ہیں وہ اسکی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں (19:21)

رات دن (اسکی) تسبیح کرتے رہتے ہیں (نہ تھکتے ہیں) نہ رکتے ہیں (20:21)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے (اور پر پھیلائے ہوئے اڑنے والے پرندے بھی۔ اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں (سب) اللہ کو معلوم ہے (41:24)

To Him belongs whosoever is in the heavens and in the earth. All are obedient to Him. (30:26)

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿٣٠﴾
الرُّومُ ٢٦

اور آسمانوں اور زمین میں جتنے (فرشتے اور انسان وغیرہ) ہیں اسی (کی ملکیت) ہیں (اور) تمام اس کے فرمانبردار ہیں (26:30)

All that is in the heavens and in the earth glorify Allah and He is the Mighty, the Wise. (57:1)

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٧﴾
الْحَدِيدُ ١

جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب (اور) حکمت والا ہے (1:57)

All that is in the heavens and all that is in the earth glorifies Allah, and He is the Mighty, the Wise. (59:1) (61:1)

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٩﴾
الْحَشْرُ ١ ﴿٦١﴾
الْضَّفَرُ ١

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے (1:59)(1:61)

All that is in the heavens and all that is in the earth celebrates Allah, and He is the Sovereign and Wise. (62:1)

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلَائِكَةُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾
الْجُمُعَةُ ١

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے جو کہ بادشاہ ہے (عیسوں سے) پاک ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ (1:62)

Whatever is in the heavens and whatever is in the earth celebrates the praises of Allah the Sovereign Lord, He merits all the Praises, and Able to do all things. (64:1)

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٤﴾
التَّغَابُنُ ١

ارض وسموات کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامحدود ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (1:64)

More Reference:	13:13,15	22:18
Page	349,114	114
37:166	39:75	40:7
37:373	37:375	41:38
55:6	59:24	42:5
113	102	378

والمزيد راجع	١٣ الرعد	١٥٠١٣	٢٢ الحج	١٨
٣٩ الزمر	٧٥	٣٧ الصافات	١٦٦	٤٠ المؤمنون (غالب)
٤١ حم السجدة (نزلت)	٢٨٦	٤٢ الشورى	٥٥	٥٥ الرحمن
٥٩ الحشر	٢٤			

مزيد حوالہ	15,13:13	18:22
صفحہ	349,114	114
166:37	75:39	7:40
376	376	377
6:55	24:59	5:42
114	102	378

OUTWARD AND INNERMOST

"EVIDENT" WITH AMPLE SIGNS OF HIS EXISTENCE
"HIDDEN" AS NO INTELLECT CAN GRASP HIS ESSENCE

اللہ مخفی بذاتہ ولكن ظاهر
بآياته المنتشرة في الكون

He is the First and the Last, and the Outward and the innermost and He is Aware of all things. (57:3)

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾
الْحَدِيدُ ٣

اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر پھر بھی پوشیدہ وہ (سب سے) پہلا اور (سب سے) پچھلا اور (اپنی قدرتوں سے سب پر) ظاہر اور (اپنی ذات سے) پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے (3:57)

IT IS NOT FITTING FOR HUMANKIND
THAT ALLAH(SWT) SHOULD SPEAK DIRECT

ما كان لأحد من البشر أن بكلمه الله في هذه
الحياة الدنيا إلا وحيًا أو من وراء حجاب

It is not (fitting) for Allah to speak to any human being except through inspiration or from behind a curtain, or by sending a messenger anything He wishes to inspire (mankind) with, through His permission. He is Sublime, Wise (42:51)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٥١﴾
الشُّورَى ٥١

کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے اور کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام (وحی کے ذریعے) سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القاء کرے بے شک وہ عالی رتبہ (اور) حکمت والا ہے (51:42)

ALL BEINGS OF THE UNIVERSE RECOGNIZE
THEIR SUBJECTION TO THE WILL OF ALLAH(SWT)
EITHER OBEDIENTLY OR GRUDGINGLY

لله يسجد جميع المخلوقات

Those who are with your Lord are not too proud to worship Him but they glorify Him and drop down on their knees before Him. (7:206)

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾
الْأَعْرَافُ ٢٠٦

تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اسکی عبادت پر تکبر نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اسکے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں (206:7)

And to Allah falls prostrate whosoever is in the heavens and in the earth, willingly or unwillingly, as do their shadows in the morning and the evening hours. (13:15)

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَظِلُّهُمُ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝۱۵
﴿۱۳ الرعد ۱۵﴾

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے یا نہ خوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں اور انکے سائے بھی صبح و شام (سجدے کرتے ہیں) (15:13)

Have they not observed all things that Allah has created, how their shadows incline to the right and to the left, making prostration to Allah, and in the humblest manner? (16:48)

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّهٗا
ظِلُّهُ عَنْ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَالِ سُجَّدًا لِلّٰهِ
وَهُمْ ذٰخِرُوْنَ ۝۴۸
﴿۱۶ النحل ۴۸﴾

کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے (بائیں کو) اور بائیں سے (دائیں کو) لوٹتے رہتے ہیں (یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں) (48:16)

And to Allah makes prostration whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth of living creatures, and the angels (also), and they are not proud (they worship their Lord (Allah) with humility). (16:49)

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝۴۹
﴿۱۶ النحل ۴۹﴾

اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے (49:16)

They all fear their Lord High above them, and do what they are commanded. (16:50)

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ
مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝۵۰
﴿۱۶ النحل ۵۰﴾

اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں۔ اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں (50:16)

Have you not seen that to Allah pays adoration whosoever is in the heavens and whosoever is in the earth, and the sun, and the moon, and the stars, and the mountains, and the trees, and the animals (beasts), and many of mankind, while there are many to whom the doom is justly due. He whom Allah weakens, there is none to give him honour. Allah does what He wishes. (22:18)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ
مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعِذَابُ
وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝۲۲
﴿۲۲ الحج ۱۸﴾

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو (مخلوق) آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے (18:22)

Rather prostrate yourselves before Allah and serve Him. (53:62)

فَاَسْجُدْ وَارْتَدِّدْ وَاَعْبُدْ وَاَسْئَلْ ۝۵۳
﴿۵۳ النجم ۶۲﴾

تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور (اسی کی) عبادت کرو (62:53)

The Shurbs and the trees both (alike) bow in adoration. (55:6)

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝۵۵
﴿۵۵ الرحمن ۶﴾

اور بیل بوٹے اور درخت سجدہ کرتے ہیں (6:55)

More Reference 3:113 27:25 41:37 53:62
Page 638, 1076, 115, 114

والمزید راجع ۳ آل عمران: ۱۱۳ ۲۷ النمل: ۲۵
۴۱ حم السجدة (فصلت): ۳۷ ۵۳ النجم: ۶۲

مزید حوالہ 3:113 27:25 41:37 53:62
صفحہ 638, 1076, 115, 114

**TO PROSTRATE BEFORE ALLAH (SWT)
OUT OF HUMBLNESS AND GRATITUDE
WHILE RECITATION OF
SPECIFIED VERSES OF HOLY QURAN**

**آیات سجود التلاوة
فی القرآن الکریم**

**اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ
دوران تلاوت قرآن کریم
(آیات سجدہ)**

For Detail Consult :	7:206	13:15
Page	113	114
6:50	17:109	19:58
14	218	640
5:60	27:26	32:15
14	1076	766
1:38	53:62	84:21
76	114	216

والتفصیل راجع	۷ الأعراف: ۲۰۶	۱۳ الرعد: ۱۵
۱۶ النحل: ۵۰	۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل): ۱۰۹	۱۹ مریم: ۵۸
۲۲ الحج: ۷۷، ۱۸	۲۵ الفرقان: ۶۰	۲۷ النمل: ۲۶
۳۲ السجدة: ۱۵	۳۸ ص: ۲۴	۴۱ حم السجدة (فصلت): ۳۸
۵۳ النجم: ۶۲	۹۶ العلق: ۱۹	۸۴ الانشقاق: ۲۱

تفصیل کیلئے دیکھئے	7:206	13:15	206:7
صفحہ	113	114	113
50:16	15:13	206:7	109:17
114	114	113	218
60:25	77,18:22	58:19	26:27
714	258,114	640	1076
38:41	24:38	15:32	62:53
376	1069	766	114
	19:96	21:84	
	628	216	

PROSTRATION- ADORING - BOWING DOWN ONLY MERITS FOR ALLAH(SWT)

Among His portents are the night and the daylight and the sun and the moon. Adore neither the sun nor the moon; but adore Allah Who created them, if it is in truth you have been worshipping Him. (41:37)

لايجوز السجود إلا لله وحده

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٤١﴾ حم السجدة ٣٧ ﴿

سجده کرنا صرف اللہ تعالیٰ کو جائز ہے

اوررات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو۔ بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے (37:41)

More Reference :	7:206	13:15	15:98
Page	113	114	296
16:48,49	22:18	27:25	32:15
114	114	1076	766
53:62	84:20,21	96:19	
114	216	628	

والمزید راجع	٧ الأعراف: ٢٠٦	١٣ الرعد: ١٥
١٥ الحجر: ٩٨	١٦ النحل: ٤٨، ٤٩	٢٢ الحج: ١٨
٢٧ النمل: ٢٥	٣٢ السجدة: ١٥	٥٣ النجم: ٢٢
٨٤ الانشقاق: ٢١، ٢٠	٩٦ العلق: ٩١	

مزید حوالہ	206:7	15:13	98:15
صفحہ	113	114	296
49,48:16	18:22	25:27	15:32
114	114	1076	766
62:53	21,20:84	91:96	
114	216	628	

GIVES LIFE AND CAUSES DEATH

How can you disbelieve Allah when you were dead and He gave life to you! Then He will give you death, then life again, and then to Him you will return. (2:28)

He it is Who has created you from clay, and has decreed a deadline for you. A term is fixed with Him. Still you doubt! (6:2)

Allah (it is) Who splits the grain of corn and the date stone (for sprouting). He brings forth the living from the dead, and is the bringer forth of the dead from the living. Such is Allah. How then are you perverted? (6:95)

And He is the one Who has produced you from a single being, and (has given you) a habitation and a repository. We have detailed Our revelations for the people who have understanding. (6:98)

Allah! To Him belongs the sovereignty of the heavens and the earth. He quickens and He gives death. And you have, instead of Allah, no protecting friend nor helper. (9:116)

He gives you life and brings about death, and to Him you will be returned. (10:56)

To Allah is your return. He is Capable of everything. (11:4)

And it is We, even We, Who give you life and give death, and We are the Inheritor. (15:23)

اللہ هو المحیی والممیت

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ البقرة ٢٨ ﴿

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٦﴾ الأنعام ٦ ﴿

إِنَّ اللَّهَ فُلُقُوحٌ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ الأنعام ٩٥ ﴿

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ الأنعام ٩٨ ﴿

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٩١﴾ التوبة ٩١ ﴿

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٠﴾ يونس ١٠ ﴿

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾ هود ٤ ﴿

وَإِنَّا لَنَحْنُ مُحْيِيٌّ وَمُتِّمٌ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾ الحجر ٢٣ ﴿

زندگی اور موت دینے والا

تم اللہ سے کیونکر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کریگا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے (28:2)

وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر (مرنے کا) ایک وقت مقرر کر دیا۔ اور ایک مدت لکے ہاں اور مقرر ہے۔ پھر بھی تم (لے) کا فر اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو (2:6)

پیشک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ (کران سے درخت وغیرہ) اگاتا ہے وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یہی تو اللہ ہے۔ پھر تم کہاں بے شک پھرتے ہو؟ (95:6)

اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر (تمہارے لئے) ایک زیادہ رہنے کی جگہ ہے اور ایک تھوڑے رہنے کی جگہ ہے سمجھنے والوں کے لئے ہم نے (اپنی) آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں (98:6)

اللہ ہی ہے۔ جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہی زندگانی بخشتا اور (وہی) موت دیتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے (116:9)

وہی جان بخشتا اور (وہی) موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے (56:10)

تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے (4:11)

اور ہم ہی زندگی بخشتے اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب (کے) وارث (مالک) ہیں (23:15)

And He it is Who has scattered you in the earth, and to Him you will be gathered. (23:79)

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾
﴿٢٣ المومنون ٧٩﴾

اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے (79:23)

And He it is Who gives life and causes death, and He controls the alteration of night and day. Will you not understand? (23:80)

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾
﴿٢٣ المومنون ٨٠﴾

اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کے بدلنے کا وہی مختار ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ (80:23)

Allah Who begins the creation, then He repeats it, and then to Him you will be returned. (30:11)

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾
﴿٣٠ الروم ١١﴾

اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی اس کو پھر پیدا کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے (11:30)

He brings forth the living from the dead, and He brings forth the dead from the living, and He revives the earth after her death. And even so will you be brought forth. (from the dead). (30:19)

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾
﴿٣٠ الروم ١٩﴾

وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور (وہی) مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ اور (وہی) زمین کو اسکے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح تم (دوبارہ زمین میں سے) نکالے جاؤ گے (19:30)

He it is Who begins the creation, then reproduces it and it is easier for Him. His is the Sublime (we can think of) in the heavens and in the earth. He is the Mighty, the Wise. (30:27)

وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾
﴿٣٠ الروم ٢٧﴾

اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور یہ اس کو بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے۔ اور وہ غالب حکمت والا ہے (27:30)

Your creation and your raising (from the dead) happen only as (the creation and the raising of) a single soul. Allah is Hearer, Knower. (31:28)

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثْكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ؕ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾
﴿٣١ لقمان ٢٨﴾

(اللہ کو) تمہارا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانا ایک شخص (کے پیدا کرنے اور زندہ اٹھانے) کی طرح ہے۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے (28:31)

There is no god except Him. He quickens and gives death; your Lord and Lord of your forefathers. (44:8)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾
﴿٤٤ الدخان ٨﴾

اس کے سوا کوئی معبود نہیں (وہی) زندہ کرتا ہے اور (وہی) مارتا ہے (وہی) تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے (8:44)

It is We Who grant life and bring death, and to Us lies the goal. (50:43)

إِنَّا نَحْنُ مُحْيِي وَمُتِمِّتُ وَالْيَاكُومُ ﴿٤٣﴾
﴿٥٠ ق ٤٣﴾

ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے (43:50)

And that He it is Who gives death and gives life; (53:44)

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾
﴿٥٣ النجم ٤٤﴾

اور یہ کہ وہی موت اور زندگی دیتا ہے (44:53)

His is the Sovereignty of the heavens and the earth; He grants life and deals death and He is Able to do all things. (57:2)

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾
﴿٥٧ الحديد ٢﴾

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے (وہی) زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (2:57)

No doubt He it is Who originates when repeats all over again. (85:13)

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾
﴿٨٥ البروج ١٣﴾

وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ (زندہ) کرے گا (13:85)

He surely is Able to retain him (to life). (86:8)

إِنَّكَ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨٦﴾
الطارق ٨٦

بے شک اللہ اس کے اعادے (یعنی پھر پیدا کرنے) پر قادر ہے (8:86)

More Reference :	2:258,259	3:156	۱۵۶:۳ آل عمران	158:7	156:3	259,258:2	مذہب
Page	953,1081	652	۷ الاعراف: ۱۵۸ ۱۰ یونس: ۳۱ ۲۲ الحج: ۶۶	180	652	341,953	صنہ
7:158	10:31	22:66	۲۶ الشعراء: ۱۸ ۳۰ الروم: ۵۰، ۴۰، ۴۱ المومن (غافر): ۶۸	50,40:30	81:26	66:22	31:10
165	388	408	۴۱ حم السجدة (فصلت): ۳۹ ۴۲ الشوری: ۹ ۵۵ الجاثیة: ۲۱	348,387	948	408	388
30:40,50	40:68	41:39	۴۶ الاحقاف: ۲۳ ۷۵ القیامة: ۴۰	26:45	9:42	39:41	68:40
387,351	105	352	والتضمیل راجع باب "النشور" "خلق الانسان" الصفحة ۷۹۶، ۷۷۷	822	143	352	105
45:26	46:33	75:40				40:75	33:46
822	326	781				781	326

Consult Chapter "Resurrection" and Creation of Humankind
Page : 777,797,394

تفصیل کیلئے دیکھئے باب حیات بعد الموت اور تخلیق انسان

GATHERS US ALL AT NIGHT (DURING ASLEEP) AND REVIVES US IN DAY (ON AWAKENING)

He it is Who causes you to be (like) dead at night and knows that which you commit by day. Then He raises you again to life each day, so that the term appointed (for you) may be fulfilled. And afterward to Him is your return. Then He will make you understand what you used to do (in life). (6:60)

Allah recalls souls at the time of their death, and that (soul), which dies not yet during their sleep. He keeps that (soul) for which He has ordained death and dismisses the other till an appointed term. Herein indeed are portents for people who take thought. (39:42)

ALLAH (SWT) GRANTS WISDOM (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF FAITH)

He gives wisdom to whom He wills, and he to whom wisdom is given, he truly has received abundant good. But none remember except men of understanding. (2:269)

And whomsoever it is Allah's will to guide, He expands his breast to Islam and whomsoever it is His will to send astray, He makes his breast cramped and tight as if he were engaged in climbing to heaven. Thus Allah lays ignominy upon those who believe not. (6:125)

This is the path of your Lord, a straight path. We have detailed Our revelations for the people who take heed. (6:126)

هو الذي يميم ليلاً ويحيى نهاراً

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾
الانعام ۶۰

اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيم_Sِكِ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾
الزمر ۳۹

هو يؤتي الحكمة والتفقه في الدين

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾
البقرة ۲۶۹

فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمَّا يَهْدِهِ لِيُتْرَكْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمَّا يَهْدِهِ لِيُتْرَكْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأْتِيَ صَعْدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾
الانعام ۱۲۵

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾
الانعام ۱۲۶

روزانہ رات کو موت (وفات صغریٰ) اور دن کو زندگی عطا کرنے والا

اور وہی تو ہے جو رات کو (سونے کی حالت میں) تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ (یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت مقرر پوری کر دی جائے پھر تم (سب) کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اس روز) وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو (ایک ایک کر کے) بتائے گا (60:6)

اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں نیند کے وقت سوتے میں (قبض کر لیتا ہے) پھر جن پر موت کا حکم کر چکا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لئے اس میں نشانیاں ہیں (42:39)

حکمت و دانش (دین کی سوجھ بوجھ) عطا کرنے والا

وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بیشک اس کو بڑی نعمت ملی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہیں (269:2)

تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ (125:6)

اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ (126:6)

For them is the abode of peace with their Lord. He will be their Protecting Friend because of what they used to do. (6:127)

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾
﴿٦ الانعام ١٢٧﴾

انکے لئے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ اور وہی ان کا دوستدار ہے (6:127)

And Allah summons to the abode of peace, and leads whom He wills to a straight path. (10:25)

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾
﴿١٠ يونس ٢٥﴾

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے (10:25)

-----He whom Allah guides, he indeed is led aright, and he whom He sends astray, for him you will not find a guiding friend. (18:17) PART

.....اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
وَمَنْ يُضَلِّ فَلَئِن تَجَدَلْهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا
﴿١٨ الكهف ١٧﴾ جزء

-----جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لئے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے (17:18) جزو

We have sent down revelations and explained them. Allah guides whom He wishes to a straight path. (24:46)

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾
﴿٢٤ النور ٤٦﴾

ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے (24:46)

Page Reference	2:213,105,142	6:39	7:186
Page	616,614,695	850	756
10:107	14:4	16:93	28:56
120	374	819	735
33:4	35:8	24:21,35	
512	736	385,368	
39:23,36,37	42:13		
227,304,148	93		

واللهم يدرج ٢ البقرة: ١٠٥، ١٠٤، ١١٣، ٦ الانعام: ٣٩	186:7	39:6	213,142,105:2
٧ الأعراف: ١٨٦، ١٠ يونس: ١٠٧، ١٤ إبراهيم: ٤	756	850	695,614,616
١٦ النحل: ٩٣، ٢٤ النور: ٢١، ٢٨ القصص: ٥٦	56:28	93:16	4:14
٣٣ الأحزاب: ٤، ٣٥ فاطر: ٨، ٣٩ الزمر: ٢٣، ٣٧	735	819	374
٤٢ الشورى: ١٣	35,21:24		8:35
	368,385		736
			4:33
			512
			13:42
			37,36,23:39
			93
			148,304,227

١٨٦ الأعراف: ١٠٧، ١٠٤ إبراهيم: ٤	186:7	39:6	213,142,105:2
١٦ النحل: ٩٣، ٢٤ النور: ٢١، ٢٨ القصص: ٥٦	756	850	695,614,616
٣٣ الأحزاب: ٤، ٣٥ فاطر: ٨، ٣٩ الزمر: ٢٣، ٣٧	56:28	93:16	4:14
٤٢ الشورى: ١٣	735	819	374
	35,21:24		8:35
	368,385		736
			4:33
			512
			13:42
			37,36,23:39
			93
			148,304,227

**TUNER OF HEARTS
(UNITES AND BRINGS TO HARMONY)**

اللہ ہو المؤلف بین القلوب

دلوں میں باہم الفت پیدا کرنے والا

-----And remember Allah's favour to you: How you were enemies and He made friendship between your hearts (united you) so that you became as brothers by His grace; and (how) you were upon the brink of a pit of fire, and He did save you from it. Thus Allah makes clear His revelations to you, that haply you may be guided. (3:103) PART

.....وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا
حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾
﴿٣ آل عمران ١٠٣﴾ جزء

-----اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچالیا اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ (3:103) جزو

and (as for the believers) has but perfection between their hearts. If you had spent all that is in the earth you could not have attuned their hearts, but Allah has attuned them. He is Mighty, Wise. (8:63)

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾
﴿٨ الانفال ٦٣﴾

اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ بے شک وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے (8:63)

may be that Allah will ordain love between you and those of them with whom you are at enmity. Allah is Mighty, and Allah is Forgiving, Merciful. (60:7)

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ
عَادَيْتُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾
﴿٦٠ الممتحنة ٧﴾

عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے اور اللہ قادر ہے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (7:60)

THE HEALER - THE CURER

And when I sicken, then He heals me, (26:80)

إنه هو الشافي

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۝۸۰
﴿۲۶ الشعراء: ۸۰﴾

صحت دینے والا

اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے (80:26)

WHO FREES FROM WANT AND CAUSES SATISFACTION

And that He is the One Who frees from want (enriches) and contents (53:48)

وهو المغنى وهو الذى يعطى الاطمئنان

وَإِنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۝۵۳
﴿۵۳ النجم: ۴۸﴾

غنی (دولت مند) اور اطمینان بخشنے والا

اور وہی دولت مند بناتا اور قناعت بخشتا ہے (48:53)

CAUSES TO LAUGH (GLAD) AND MAKES TO WEEP (GLOOM)

And that He it is Who makes laugh, and makes weep, (53:43)

هو المضحك والمبكي

وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكِي ۝۵۳
﴿۵۳ النجم: ۴۳﴾

ہنسانے اور رلانے (خوشی اور غم دینے) والا

اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے (43:53)

ALLAH(SWT) HAS WILLED UPON HIMSELF THE LAW OF GRACE AND MERCY

Say: To Whom belongs whatsoever is in the heavens and the earth? Say: To Allah. He has prescribed for Himself mercy, that He may bring you all together to a Day whereof there is no doubt. Those who ruin their own souls will not believe. (6:12)

كتب الله على نفسه الرحمة

قُلْ لِمَنْ تَأْتِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۱۲
﴿۶ الانعام: ۱۲﴾

اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے

آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ کا اس نے اپنی ذات (پاک) پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے (12:6)

-----Your Lord has prescribed for Himself mercy, ----- (6:54) PART

عَلَيْكُمْ كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۝۵۴
﴿۶ الانعام: ۵۴﴾ جزء

اللہ نے اپنی ذات (پاک) پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ ----- (54:6) جزو

Announce, (O Muhammad) to My slaves that I am the Forgiving, the Merciful. (15:49)

نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغُفُورُ الرَّحِيمُ ۝۱۵
﴿۱۵ الحجر: ۴۹﴾

(اے پیغمبر) میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا (اور) مہربان ہوں (49:15)

And your Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful. (26:9)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۲۶
﴿۲۶ الشعراء: ۹﴾

اور تمہارا پروردگار غالب (اور) مہربان ہے (9:26)

Allah is Gracious to His slaves. He provides for whom He wills. And He is the Strong, the Mighty. (42:19)

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۝۴۲ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝۴۲
﴿۴۲ الشورى: ۱۹﴾

اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اور وہ قوت والا (اور) زبردست ہے (19:42)

More Reference :	2:105	4:31	7:156
Page	614	120	1051
10:60	16:61	18:58	27:11
507	123	123	120
35:45	39:53	42:25,30	53:32
123	121	315,121	120

والمزید راجع	۲ البقرة: ۱۰۰	۴ النساء: ۳۱
۷ الاعراف: ۱۵۶	۱۰ یونس: ۶۰	۱۶ النحل: ۶۱
۱۸ الکہف: ۵۸	۲۷ النمل: ۱۱	۳۵ فاطر: ۴۵
۴۲ الشوری: ۲۵	۳۹ الزمر: ۵۳	۵۳ النجم: ۳۲

156:7	31:4	105:2
1051	120	614
11:27	58:18	61:16
120	123	507
32:53	30,25:42	53:39
120	315,121	121

FAVOURS OF ALLAH(SWT) ARE FREELY ENDOWED TO ALL AND WILL NEVER BE CONFINED TO ANYONE

Each We do supply, both these and those, from the bounty of your Lord. And the bounty of your Lord can never be withheld. (17:20)

لا مانع لما يعطى

كُلًّا نُمِدُّهُ هَوَاءً وَهَوَاءً مِنْ عَطَائِ رَبِّكَ ۝۱۷ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝۱۷
﴿۱۷ بنی اسرائیل: ۲۰﴾

اللہ تعالیٰ کی عطا (نعمتیں اور عنایات) سے کوئی محروم نہیں کر سکتا (نہ کسی سے روکی جاسکتیں)

ہم ان کو بھی اور ان کو بھی سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش (کسی سے) روکی ہوئی نہیں (20:17)

**NO ONE CAN INTERCEPT (SPURN)
THE MERCY, GIFTS AND FAVOURS OF ALLAH(SWT)**

لَا مَانِعَ لِفَضْلِ اللَّهِ

**اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی دشمن
محروم نہیں کر سکتا**

If Allah afflicts you with some hurt, there is none who can remove it except Him; and if He desires good for you, there is none who can repel His bounty. He strikes with it whom He wants of His bondmen. He is the Forgiving, the Merciful. (10:107)

وَأَنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَأَنْ يُرِيدَ لَكَ خَيْرًا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور وہ بخشنے والا مہربان ہے (107:10)

More Reference : 35:3 Page 125,388

وللمزيد راجع 35 فاطر 3: الصفحة 125, 388

مزید حوالہ 35:3 صفحہ 125, 388

**ALLAH(SWT) EFFACES MINOR BAD DEEDS
ONE ESCHEWS FROM THE MOST HEINOUS SINS**

**من اجتنب كبائر الإثم
يكفر الله عن سيئاته**

**بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے (دور رہنے) پر
اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے**

If you avoid the great (things), which you are forbidden, We will remit from you your evil deeds and make you enter to the gate of great honour. (4:31)

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرُ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا ﴿٤﴾

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پر ہیز کرو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے) گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے (4:31)

Those who avoid enormities of sin and abominations, save the unwilling offences (for them) your Lord is of vast mercy. He is best aware of you from the time when He created you from the earth, and when you were hidden in the bellies of your mothers. Therefore do not try to justify yourselves. He is the best aware of him who wards off (evil). (3:32)

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا
اللَّحْمَ إِنْ رَزَقَهُ رَبُّكَ وَإِسْعَ الْبَغْفَرِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ
إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي
بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ تَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہیز گار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے (32:53)

More Reference : 36:45 39:53
Page 308,121

وللمزيد راجع 36 یس 45: 39 الزمر 53: الصفحة 121, 308

مزید حوالہ 36:45 39:53 صفحہ 121, 308

**IF WE ADOPT GOOD DOINGS
(IN OUR THOUGHTS, WORDS, AND DEEDS)
ALLAH(SWT) SHALL KEEP US AWAY FROM EVIL DOINGS**

الحسنات يذهبن السيئات

**انسان کے نیک اعمال کرنے پر
اللہ تعالیٰ اس سے برائیوں کو دور کر دیتا ہے**

Good deeds annul ill deeds. This is a reminder for the mindful. (11:114) PART

إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لئے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں (114:11) جزو

Except of him who has done wrong and afterward has changed evil for good. And I am Forgiving, Merciful. (27:11)

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾

ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں (11:27)

As for those who believe and do good deeds, We shall remit from them their evil deeds and shall repay them the best that they did. (29:7)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے (7:29)

That Allah will remit from them the worst of what they did, and will pay them for reward the best they used to do. (39:35)

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا
وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کیں دور کر
دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ
دے (35:39)

﴿٣٩ الزمر ٣٥﴾

**ALLAH(SWT) IS THE MOST COMPASSIONATE
TOWARDS HIS SERVANTS**

اللہ رؤف بالعباد

اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں پر بہت مہربان ہے

And of mankind is he who would give his life to earn the pleasure of Allah; and Allah is full of kindness to His devotees. (2:207)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے
لئے اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے۔ اور اللہ بندوں پر
مہربان ہے (207:2)

﴿٢٠٧ البقرة ٢٠٧﴾

More Reference :

2:143	3:30	9:117
Page	636	807
10:60	15:49	22:65
507	119	341
29:7	39:53	42:19
120	121	119
		122
		224

والمزيد راجع

٢ البقرة: ١٤٣	٣ آل عمران: ٣٠	٩ التوبة: ١١٧
١٥ الحجر: ٤٩	١٠ يونس: ٦٠	٢٢ الحج: ٦٥
٢٧ النمل: ١١	٢٤ النور: ٢٠	٣٩ الزمر: ٥٣
٤٤ الدخان: ٤٢	٤٢ الشورى: ١٩	٥٧ الحديد: ٩

مزید حوالہ

117:9	30:3	143:2
725	807	636
11:27	20:24	65:22
120	709	341
9:57	42:44	19:42
224	122	119
		121
		120

**ALLAH(SWT) IS LIMITLESS IN HIS BOUNTIES TO
ALL THE CREATURES OF WORLDS**

اللہ ذو فضل علی العالمین

اللہ تعالیٰ اہل عالم (تمام مخلوق) پر
بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے

-----But Allah is a
Lord of Kindness to (His) creatures.
(2:251) PART

وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے
(251:2) جزو

More Reference :

2:243	7:156	10:60
Page	1065	507
15:49	18:58	24:20
119	123	709
42:25,30	53:32	
315,121	120	

والمزيد راجع

٧ الأعراف: ١٥٦	٢ البقرة: ٢٤٣	١٠ يونس: ٦٠
١٨ الكهف: ٥٨	١٥ الحجر: ٤٩	٢٤ النور: ٢٠
٣٠، ٢٥ الشورى: ٤٢	٣٩ الزمر: ٥٣	٥٣ النجم: ٣٢

مزید حوالہ

60:10	156:7	243:2
507	1065	1065
53:39	20:24	58:18
121	709	123
		32:53
		120
		30,25,42
		121,315

**YET ALLAH(SWT) OVERLOOKS A GREAT DEAL OF
HUMANKIND (PARDONS THEM MUCH)**

يعفو الله عن كثير من الذنوب

انسانوں کے بہت سے گناہ تو
اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے

Whatever of misfortune strikes you,
it is what your own hands have
earned. And He forgives much.
(42:30)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٤٢﴾

اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے
کرتوتوں سے اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا
ہے (30:42)

More Reference :

3:155	4:43,99,149	6:165	22:60
Page	658	252,670,471	373
39:53	42:25,34	53:32	58:2
121	315,418	120	525
			426

والمزيد راجع

٤ النساء: ١٥٥	٣ آل عمران: ١٥٥	١٦ الأنعام: ١٦٥
٣٩ الزمر: ٥٣	٢٢ الحج: ٦٠	٤٢ الشورى: ٢٤، ٢٥
٦٤ التغابن: ١٤	٥٨ المجادلة: ٢	

مزید حوالہ

60:22	149,99,43:4	165:6	155:3
557	471,670,252	373	658
14:64	2:58	32:53	34,25,42
426	525	120	418,315
			53:39
			121

**ALLAH(SWT) FORGIVES ALL OFFENCES
ON SINCERE REPENTANCE
AND AMENDMENT OF CONDUCT**

من تاب و عمل صالحاً
فإن الله يغفر الذنوب جميعاً

توبہ اور اصلاح احوال کرنے پر
اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے

Say: My slaves who have been
transgressed to their own souls!
Despair not of the mercy of Allah,
Who forgives all sins. He is the
Forgiving, the Merciful. (39:53)

قُلْ يٰٓعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا
تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
لِلذُّنُوبِ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

(اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو) کہہ دیجئے کہ اے میرے
بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت
سے ناامید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے (اور) وہ تو
بخشنے والا مہربان ہے (53:39)

ALLAH (SWT) MAY FORGIVE WHOM HE WISHES OR MAY IMPOSE SUFFERING ON WHOM HE WILLS

Allah possesses whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. He forgives whom He wishes, and punishes whom He wishes. Allah is Forgiving, Merciful. (3:129)

Do not you know that to Allah belongs the Sovereignty of the heavens and the earth? He punishes whom He wishes and forgives whom He wishes. Allah is Able to do all things. (5:40)

Know that Allah is severe in punishment, but that Allah (also) is Forgiving, Merciful. (5:98)

And (there are) others who await Allah's decree, whether He will punish them or will forgive them. Allah is Knower, Wise. (9:106)

And your Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful. (26:104)

He punishes whom He pleases and shows mercy to whom He pleases, and to Him you will be turned. (9:21)

He is the Forgiver of sin, the Acceptor of repentance, the Stern in punishment, the Bountiful. There is no god except Him. To Him is the journeying. (40:3)

Nothing is said to you (Muhammad) except what was said to the messengers before you. Your Lord is the owner of forgiveness, and owner (also) of dire punishment. (41:43)

Except him on whom Allah has mercy. He is the Mighty, the Merciful. (44:42)

المغفرة و العقوبة مقصورة على مشية الله

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يُغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾
﴿٣ آل عمران ١٢٩﴾

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾
﴿٥ المائدة ٤٠﴾

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾
﴿٥ المائدة ٩٨﴾

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجُوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾
﴿٩ التوبة ١٠٦﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٠٤﴾

يُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَّشَاءُ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢٩﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٢١﴾

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ اِلَّا هُوَ الْيَسِيْرُ ﴿٤٠﴾
﴿٤٠ المؤمن ٣﴾

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٤١﴾
﴿٤١ حم السجدة ٤٣﴾

اِلَّا مَن رَّحِمَ اللّٰهُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٤﴾
﴿٤٤ الدخان ٤٢﴾

مغفرت اور عقوبت اللہ تعالیٰ کی مشیت (رضا) پر موقوف ہے (جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے)

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (3:129)

کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (5:40)

جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے (5:98)

اور جو کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے۔ چاہے ان کو سزا دے اور چاہے توبہ قبول کر لے۔ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے (9:106)

اور تمہارا پروردگار تو غالب (اور) مہربان ہے (104:26)

وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے۔ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے (21:29)

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا (اور) سخت عذاب دینے والا (اور) صاحب کرم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے (3:40)

آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں۔ بیشک آپ کا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب الیم دینے والا بھی ہے (43:41)

مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب (اور) مہربان ہے (42:44)

And Allah's is the Sovereignty of the heavens and the earth. He forgives anyone He wills, and punishes anyone He wills. And Allah is ever Forgiving, Merciful. (48:14)

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٨﴾
الفتح ١٤

اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہ جسے چاہے بخشنے اور جسے چاہے سزا دے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (14:48)

More Reference : 2:284 5:18,40 7:156,167
Page 568 599,122 1051,598
9:27 17:20
718 119

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٨٤ ٥ المائدة: ١٨، ٤٠
٧ الأعراف: ١٥٦، ١٦٧ ٩ التوبة: ٢٧
١٧ الإسراء (سراويل): ٢٠

مزید حوالہ 2:284 5:18,40 7:156,167
صفحہ 568 599,122 1051,598
20:17 27:9
119 718

IF ALLAH (SWT) WERE TO TAKE IMMEDIATELY TO TASK FOR THEIR WRONG DOINGS ON EARTH, HE WOULD NOT LEAVE A SINGLE LIVING CREATURE AROUND

If Allah were to take mankind to task for their wrong doing, He would not leave hereon a living creature, but He reprieves them to an appointed deadline, and when their deadline comes they cannot put (it) off (Postpone) an hour nor (yet) advance (it). (16:61)

لو يؤخذ الله الناس بما كسبوا مترك على الأرض من دابة

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿٦١﴾
النحل ٦١

اگر اللہ تعالیٰ اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر کسی کو بھی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑتا

اور اگر اللہ لوگوں کو انکے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے۔ لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیئے جاتا ہے۔ جب وہ وقت آجاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں (61:16)

Your Lord is the Forgiver, full of Mercy. If He takes them to task (now) for what they earn, He would hasten the doom for them; but there is an appointed term from which they will find no escape. (18:58)

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلُ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يُجِذُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ﴿٥٨﴾
الكهف ٥٨

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے مگر ان کے لئے ایک وقت (مقرر کر رکھا) ہے کہ جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے (58:18)

If Allah should take mankind to task by that which they deserve, He would not leave a living creature on the surface of the earth; but He gives them respite to an appointed term, and when their term comes--then (they will know that) Allah is ever Observant of His servants. (35:45)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَىٰ ظَهْرِهِا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾
فاطر ٤٥

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا۔ لیکن وہ ان کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیئے جاتا ہے۔ سو جب ان کا وقت آجائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے (45:35)

More Reference : 7:100 34:9
Page 309, 310

والمزيد راجع ٧ الأعراف: ١٠٠ ٣٤ سباء: ٩
الصفحة ٣٠٩، ٣١٠

مزید حوالہ 7:100 34:9
صفحہ 309, 310

HIS MERCY AND FORGIVENESS IS UNLIMITED

**SALVATOR - RESCUER - RELIEVER
SAVER - DELIVERER
FROM EVERY DISTRESS AND ANXIETY**

Say: Who delivers you from the darkness of the land and the sea? You call upon Him humbly and in secret, (saying): If we are delivered from this (fear) we truly will be of the thankful. (6:63)

إن الله واسع المغفرة

كاشف الضر المنجى من كل كرب

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيِّنَ أَنْجِئَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾
الانعام ٦٣

بڑی مغفرت والا

تکلیف میں نجات دینے والا
حاجت رواں مشکل کشا

کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون (نجات) دیتا ہے (جب) کہ تم اسے عاجزی اور چپکے چپکے سے پکارتے ہو (اور کہتے ہو) اگر اللہ ہم کو اس (تنگی) سے نجات بخشنے تو ہم اس کے شکر گزار ہیں (63:6)

Say: Allah relieves you from it and from all afflictions yet you associate partners to Him. (6:64)

قُلْ اللَّهُ يُخَفِّضُكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُفٍّ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

﴿٦٤ الانعام﴾

کہو کہ اللہ ہی تم کو اس (بتی) سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے پھر (تم) اس کے ساتھ شرک کرتے ہو (64:6)

And when harm touches you upon the sea, all to whom you appeal (for succor) fail except Him (alone), but when He brings you safe to land, you turn away, for man has been ever thankless. (17:67)

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

﴿٦٧ بنی اسرائیل﴾

اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے (یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے) تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس (پروردگار) کے سوا غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو (ڈوبنے سے) بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا (67:17)

Feel you then secure that He will not cause a slope of the land to engulf you, or send a sandstorm, upon you, and then you will find that you have no protector? (17:68)

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ وَكَيْلًا ﴿٦٨﴾

﴿٦٨ بنی اسرائیل﴾

کیا تم (اس سے) بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف (لے جا کر زمین میں) دھنسا دے یا تم پر پتھروں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے۔ پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ (68:17)

Or feel you secure that He will not return you to that (plight) a second time, and send against you a hurricane of wind and drown you for your thanklessness, and then you will not find therein any follower to help you against Us. (17:69)

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ عَلَيْنَا يَوْمَ تَبْيَعًا ﴿٦٩﴾

﴿٦٩ بنی اسرائیل﴾

یا (اس سے) بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے۔ پھر تم اس کے سبب اپنے لئے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ (69:17)

Is not He (best) Who answers the distressed one when he appeals to Him and removes the evil, and has made you viceroys of the earth? Is there any god besides Allah? Little do they reflect! (27:62)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ط عَالِمٌ مَعَهُ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

﴿٦٢ النمل﴾

بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے اور (کون اس کی) تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور (کون) تم کو زمین میں (انگلوں کا) جانشین بناتا ہے (یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے) تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں مگر) تم بہت کم غور کرتے ہو (62:27)

More Reference Page	7:156 1051	10:103 655	11:66,94 943,1003
18:58	21:76,88	23:28	26:65
123	927,1086	925	1038
119,170	27:53	31:32	36:43
228,970	943	407	340
17:76,115	41:18	44:30	54:34
927,1056	943	597	970

والمزید راجع	٧ الأعراف: ١٥٦	١٠ یونس: ١٠٣
١١ ہود: ٩٤، ٩٦، ٩٧	٢١ الأنبياء: ٨٨، ٧٦	٢٣ المؤمنون: ٢٨
٢٦ الشعراء: ١١٩، ١٢٠، ١٢١	٢٧ النمل: ٥٣	
٣١ لقمان: ٣٢	٣٦ يس: ٤٣	٣٧ الصافات: ١١٥، ٧٦
٤١ حم السجدة (فصلت): ١٨	٤٤ الدخان: ٣٠	٥٤ القمر: ٣٤
٦٦ التحريم: ١١	٧٠ المعارج: ١٤	

مزیّد حوالہ	156:7 1051	103:10 655	94,66:11 1003,943
58:18	88,76:21 1086,927	28:23 925	65:26 1038
123	170,119, 970,928	32:31 407	43:36 340
115,76:37 1056,927	18:41 943	30:44 597	34:54 970

IF ALLAH(SWT) HELPS NONE CAN OVERCOME YOU IF HE FORSAKES, WHO IS HERE TO SUPPORT YOU

If Allah is your supporter none can overcome you, and if He withdraws His help from you, who is there to help you? In Allah let believers put their trust. (3:160)

ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان ینخذ لکم فمن الذی ینصرکم

ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان ینخذ لکم فمن الذی ینصرکم من بعدہ و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون ﴿١٦٠﴾

﴿٣ آل عمران﴾

اگر اللہ تعالیٰ مددگار ہو تو کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو مدد کو آئے؟

اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں (160:3)

More Reference Page	2:102,107,120 157,366,629	3:126 699
10	9:74,116	17:73
19	746,115	609
29:37	42:31	128
8	128	

والمزید راجع	٢ البقرة: ١٠٢، ١٠٧، ١٠٧	٣ آل عمران: ١٢٦
٨ الأنفال: ١٠	٩ التوبة: ١١٦، ٧٤	١٧ الإسراء
(بنی اسرائیل): ٧٣	٢٩ العنکبوت: ٢٢	٣٣ الأحزاب: ١٧
٣٩ الزمر: ٣٧	٤٢ الشوری: ٣١	

مزیّد حوالہ	120,107,102:2 157,366,629	10:8 699	126:3 699
116,74:9	73:17	37:39	22:29
746,115	609	148	128
31:42 128			

**IF ALLAH (SWT) TOUCHES YOU WITH MISFORTUNE
THERE IS NONE TO RELIEVE
AND IF HE BLESSES YOU WITH GOOD FORTUNE
THERE IS NO ONE TO DEPRIVE YOU**

If Allah touches you with affliction, there is none that can relieve there from except Him, and if He touches you with good fortune (there is none that can impair it); well He is Able to do all things. (6:17)

لا كاشف الضر إلا الله ولا
مانع لما أعطى الله

وَأِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَأِنْ يَمْسَسْكَ بِمُنْعٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾
﴿٦ الانعام ١٧﴾

اللہ تعالیٰ تمہیں (تکلیف و آزمائش) میں ڈال دے تو
کوئی بچانے والا نہیں اور اگر وہ اپنا فضل نازل کر دے
تو کوئی روکنے والا نہیں

اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی
دور کرنے والا نہیں اور اگر نعمت (وراحت) عطا کرے
تو (کوئی اس کو روکنے والا نہیں) وہ ہر چیز پر قادر ہے
(17:6)

More Reference	2:102,107	4:45,52	8:40
Page	157,366	630,158	654
9:74,116	10:107	17:75	25:31
746,115	120	609	203
29:22	33:65	42:31	48:22
128	900	128	713

واللہ عز وجل	40:8	52:45,4	107,102:2
صفحة	654	158,630	366,157
8 الأنفال: 40	31:25	80,75:17	107:10
17 الإسراء (بئس السراويل): 75	203	1122,609	120
22 الفرقان: 25	22:48	31:42	65:33
29 العنكبوت: 22	713	128	900
23 الأحزاب: 65			128

واللہ عز وجل	40:8	52:45,4	107,102:2
صفحة	654	158,630	366,157
8 الأنفال: 40	31:25	80,75:17	107:10
17 الإسراء (بئس السراويل): 75	203	1122,609	120
22 الفرقان: 25	22:48	31:42	65:33
29 العنكبوت: 22	713	128	900
23 الأحزاب: 65			128

**WHATEVER ALLAH (SWT) WITHHOLDS NONE
CAN RELEASE IT AND WHATEVER GRACE
ALLAH (SWT) GRANTS TO ANY HUMANKIND
NONE CAN WITHHOLD IT**

That which Allah opens to mankind of mercy none can withhold it; and that which He withholds none can release thereafter. He is the Mighty, the Wise. (35:2)

لا مرسل لما أمسك الله ولا ممسك
لما فتح الله للناس من رحمته

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا
وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٥﴾
﴿٣٥ فاطر ٢٥﴾

اگر اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ بند کر دے تو
کوئی کھولنے والا نہیں اور اگر رحمت
کھول دے تو کوئی بند کرنے والا نہیں

اللہ جو اپنی رحمت (کا دروازہ) کھول دے تو کوئی اس کو
بند کرنے والا نہیں۔ اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی
اس کو کھولنے والا نہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے
(2:35)

**NOTHING CAN EVER AFFLICT UNLESS
ALLAH (SWT) HAS PRESCRIBED FOR ANYONE**

Say: Nothing befalls us except that which Allah has decreed for us. He is our protecting friend. In Allah let believers put their trust! (9:51)

لا تصيب مصيبة إلا ما كتب الله

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ
مَوْلَانَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾
﴿٩ التوبة ٥١﴾

وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہو

کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ سوائے اس کے
جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہو وہی ہمارا کارساز ہے
اور مومنوں کو اللہ ہی پر کو بھروسہ رکھنا چاہیے (51:9)

More Reference : 57:22 Page 369

واللہ عز وجل
 57:22 | صفحة | 369 |

ALLAH (SWT) NEITHER ERRS NOR FORGETS

He said: The knowledge thereof is with my Lord in a Record. My Lord neither errs nor forgets, (20:52)

لا يضل الله ولا ينسى

قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي
وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾
﴿٢٠ طه ٥٢﴾

More Reference : 22:57 Page 369

اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے نہ چھوکتا ہے

کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے (جو) کتاب
میں (لکھا ہوا ہے) میرا پروردگار نہ چھوکتا ہے نہ بھولتا
ہے (52:20)

**GRIP OF ALMIGHTY ALLAH (SWT)
IS EXCEEDINGLY STRONG - HIS PUNISHMENT IS
STERN AND ONSLAUGHT IS SEVERE**

-----Allah is stronger in might
and stronger in inflicting
punishment. (4:84) PART

بطش الله شديد

وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ
تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾
﴿٤ النساء ٨٤﴾ جزء

اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے

اور اللہ لڑائی کے اعتبار
سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے
(84:4) جزو

Even thus is the taken over of your
Lord when He grasps the townships
while they are doing wrong. His
seizing is painful, very strong.
(11:102)

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾
﴿١١ هود ١٠٢﴾

اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستوں کو پکڑا کرتا ہے تو
اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ بے شک اس کی
گرفت دردناک (اور) سخت ہے (102:11)

We withdraw the torment a little. You return (to disbelief). (44:15)

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾
﴿٤٤ الدخان ١٥﴾

ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں (مگر) تم پھر کفر کرنے لگتے ہو (15:44)

On the Day when We shall seize them with the greater seizure (then), in truth We shall punish. (44:16)

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُتَقِمُونَ ﴿١٦﴾
﴿٤٤ الدخان ١٦﴾

جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے (16:44)

The punishment of your Lord is stern. (85:12)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾
﴿٨٥ البروج ١٢﴾

بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ (گرفت) بہت سخت ہے (12:85)

More Reference :	2:165,196,211	3:4,11,56
Page	142,100,591	221,679,204
5:2,98	6:124	8:13,25,48,52
289,122	190	186,310,698,679
11:102	13:6,32	14:2,7,47
125	754,756	856,300,126
22:2	35:7,10	38:26
790	736,475,737	1067
41:27,43	42:16,26	58:15
892,122	630,315	613
65:10	70:28	
583	767	

والمزید راجع	٢ البقرة: ٢١١، ١٩٦، ١٦٥	٣ آل عمران: ٥٦، ١١، ٤
٥ المائدة: ٩٨، ٢	٦ الأنعام: ١٢٤	٨ الأنفال: ١٣، ٢٥، ٤٨، ٥٢
١٠ یونس: ٧٠	١١ هود: ١٠٢	١٣ الرعد: ٣٢، ٦
١٤ ابراهيم: ٤٧، ٧٠، ٢	١٧ الإسراء (نبی اسرائیل): ٥٨	
٢٢ الحج: ٢	٣٥ فاطر: ١٠، ٧	٣٨ ص: ٢٦
٤١ المؤمن (غافر): ٢٢، ٣	٤١ حم السجدة (فصلت): ٤٣، ٢٧	
٤٢ الشوری: ٢٦، ١٦	٥٨ المجادلة: ١٥	٥٩ الحشر: ٧، ٤
٦٥ الطلاق: ١٠	٧٠ المعارج: ٢٨	

مزیب حوالہ	56,11,4:3	211,196,165:2	
صفحہ	204,679,221	591,100,142	
70:10	52,48,25,13:8	124:6	98,2:5
846	679,698,310,186	190	122,289
58:17	47,7,2:14	32,6:13	102:11
856	126,300,856	756,754	125
22,3:40	26:38	10,7:35	2:22
428,122	1067	737,475,736	790
7,4:59	15:58	26,16:42	43,27:41
669,186	613	315,630	122,892
		28:70	10:65
		767	683

ALLAH(SWT) IS EVER VIGILANT AND WATCHFUL

إِنَّ اللَّهَ بِالْمُرْصَادِ

اللہ تعالیٰ تاک میں ہے (سب کچھ دیکھ رہا ہے)

Your Lord is ever on the lookout. (89:14)

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ﴿١٤﴾
﴿٨٩ الفجر ١٤﴾

بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے (14:89)

ALLAH(SWT) IS MIGHTY AVENGER (WIELDER OF RETRIBUTION)

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مُنْتَقِمٌ

اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا

So think not that Allah will fail to keep His promise to His messengers. No doubt Allah is Mighty, Able to requite (the wrong). (14:47)

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ فَخْلَفَ وَعَدَا رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾
﴿١٤ ابراهيم ٤٧﴾

تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا۔ بے شک اللہ زبردست (اور) بدلہ لینے والا ہے (47:14)

They rejected him, so they tremor seized them, and one morning they lay cowering in their home. (29:37)

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُنُودًا ﴿٣٧﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٣٧﴾

پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ ایک صبح اپنے گھروں میں (گھٹنوں کے بل بیٹھنے) مردہ ہو کر رہ گئے (37:29)

ALLAH(SWT) IS THE BEST OF AAL PLANNERS HIS SCHEME IS FIRM AND HE IS MORE SWIFT IN PLOTTING

تدبير الله أحسن

اللہ تعالیٰ کی تدبیر (منصوبہ بندی) سب سے بہتر ہے

And they (the disbelievers) schemed, and Allah too planned against them): and Allah is the best of all planners. (3:54)

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾
﴿٣ آل عمران ٥٤﴾

اور وہ (یعنی یہودی عیسیٰ کے بارے میں ایک) چال چلے اور اللہ نے بھی (عیسیٰ کو بچانے کے لئے) ایک خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے (54:3)

Those who were before them devised plots but in all things Allah is devising altogether. He knows that which each soul earns. The disbelievers will come to know for whom will be the sequel of the (heavenly) Home. (13:42)

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَلَغُوا الْبُرْجَانَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعِلْمُ الْكُفْرِ لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾
﴿١٣ الرعد ٤٢﴾

جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہت سی چالیں چلتے رہے ہیں۔ سو جو چالیں تم چلتے ہو تو سب اللہ ہی کی ہیں ہر جان دار جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ اس جہاں کی جزا کس کے لئے ہے (42:13)

They have plotted their plot, while Allah holds up their plot, though their plot were one whereby the mountains could be moved. (14:46)

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾
﴿١٤ ابراهيم ٤٦﴾

یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ (ان کے کراتے بڑے تھے) ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں (46:14)

More Reference :	7:183	8:30	10:21
Page	756	693	406
7:50	68:45	77:39	86:16
41	757	902	757

والمزید راجع	٧ الأعراف: ١٨٣	٨ الأنفال: ٣٠
١٠ یونس: ٢١	٢٧ النمل: ٥٠	٦٨ القلم: ٤٥
٧٧ المرسلات: ٣٩	٨٦ الطارق: ١٦	

مزیب حوالہ	21:10	30:8	183:7
صفحہ	406	693	127
16:86	39:77	45:68	50:27
757	902	757	941

PEOPLE PRACTISING EVIL AND THINKING OF ESCAPE (FEELING SECURE AGAINST DEEP DEVISES) OF ALLAH(SWT) ARE THE LOSERS

Are they then secure from Allah's scheme? None deems himself secure from Allah's scheme except folk that perish. (7:99)

Or do those who do ill deeds imagine that they can outstrip Us: Evil (for them) is that which they decide. (29:4)

More Reference : 7:183 27:50,51 42:35
46:24,25 68:45
Page 756,941,943,617,933,757

NO ONE CAN INTERCEDE ALLAH(SWT) PLEAD FOR ANYONE ELSE WITHOUT HIS PRIOR PERMISSION, PROMISE OR CONSENT

-----Who is he that intercedes with Him except by His permission? ----- (2:255) PART

-----There is no intercessor (with Him) until He gives His permission. Such is Allah, your Lord, so worship Him. Oh, will you not reflect? (10:3) PART

Or choose they intercessors other than Allah? Say: What! Even though they have power over nothing and have no intelligence? (39:43)

Say: To Allah belongs all intercession. His is the Sovereignty of the heavens and the earth. And afterward to Him you will be brought back. (39:44)

More Reference : 2:48,123 6:51,70 10:18
Page 814 222,430 148
19:87 20:109 21:28 32:4 34:23
176 176 176 322 176
36:23 53:26
1110 177

NOTHING IN THE UNIVERSE COULD ESCAPE (ELUDE) OR FRUSTRATE THE PLAN OF ALLAH(SWT)

And let not those who disbelieve suppose that they can outstrip (Allah's purpose). They cannot escape. (8:59)

And they ask you to inform them (saying): Is it true? Say: indeed by my Lord, it is true, and you cannot escape. (10:53)

الغافلون عن مكر الله هم الخاسرون

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٩﴾

والمزيد راجع ٧ الأعراف: ١٨٣ ٢٧ النمل: ٥١، ٥٠ ٤٢ الشورى: ٣٥ ٤٦ الأحقاف: ٢٤، ٢٥ ٦٨ القلم: ٤٥ الصفحة ٧٥٦، ٧٥١، ٩٤٣، ٦١٧، ٩٣٣، ٧٥٧

لا شافع عند الله إلا بإذنه

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿٢٥٥﴾ جزء

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٠٣﴾

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ نُوَاوِلُكُمْ بَلَاءًا وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَمْ يَلِكْ لِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٤٨، ١٢٣ ٦ الأنعام: ٥١، ٥٠ ١٠ يونس: ١٨ ١٩ مريم: ٨٧ ٢٠ طه: ١٠٩ ٢١ الأنبياء: ٢٨ ٣٢ السجدة: ٤ ٣٤ سباء: ٢٣ ٣٦ يس: ٢٣ ٥٣ النجم: ٢٦

ما أحد بمعجز الله في الأرض ولا في السماء

وَلَا يَعْزُبُونَ عَنْ رَبِّكَ لَنْ يَسْتَنْبِطُوكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْزِزِينَ ﴿٥٣﴾

والمزيد راجع 18:10 70:51:6 123,48:2 148 430,222 814 23:34 4:32 28:21 109:20 87:19 176 176 176 26:53 23:36 177 1110

اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف (برے کاموں کے انجام سے بے خبر) لوگ خسارہ پانے والے ہیں

کیا وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے سوائے اللہ کی پکڑ سے سوائے ان کے جن کی شامت ہی آتی ہے اور کوئی بے فکر نہیں رہا (99:7)

کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے۔ جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے (4:29)

مزیں حوالہ 35:42 51,50:27 183:7 45:68 25,24:46 صفحہ 757,933,617,943,941,756

اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا

-----کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے ----- (255:2) جزو

-----کوئی (اس کے پاس) اس کی اجازت حاصل کے بغیر (کسی کی) سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے (3:10) جزو

کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنائے ہیں کہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ (کچھ) سمجھتے ہی ہوں؟ (43:39)

کہہ دیجئے کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے (44:39)

زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز (مجبور) نہیں کر سکتی (ہر اچھی نہیں سکتی) اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں وہ (اپنی چالوں سے ہم کو) ہرگز عاجز نہیں کر سکتے (59:8)

اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہہ دیجئے ہاں اللہ کی قسم سچ ہے اور تم (بھاگ کر اللہ کو) عاجز نہیں کر سکو گے (53:10)

Think not that the disbelievers can, escape in the land. Fire will be their home, a hapless journey's end! (24:57)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا أُوهُمْ النَّارُ وَكَانَ الْمَصِيرُ ۝
﴿٢٤ النور ٥٧﴾

(اور) ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ (ہم کو) زمین میں مغلوب کر دیں گے (یہ جاہی کہاں سکتے ہیں) ان کا ٹھکانا دوزخ ہے وہ بہت برا ٹھکانا ہے (57:24)

You cannot escape (from Him) in the earth or in the Heaven, and there is no friend or supporter for you besides Allah. (29:22)

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ ۝
﴿٢٩ العنكبوت ٢٢﴾

اور تم (اس کو) نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار (22:29)

Have they not travelled in the land and seen the nature of the consequence for those who were before them, and they were mightier than these in power? Allah is not such that anything in the heavens or in the earth escapes Him. No doubt He is the Wise, the Mighty. (35:44)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ
قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝
﴿٣٥ فاطر ٤٤﴾

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے وہ علم والا (اور) قدرت والا ہے (44:35)

But the evils that they earned smote them; and such of these as do wrong, the evils that they earn will smite them; they cannot escape. (39:51)

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝
﴿٣٩ الزمر ٥١﴾

ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے۔ اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے۔ اور وہ (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے (51:39)

You cannot frustrate anything (cannot prevent anything from happening) in the earth, for besides Allah you have no patron or any supporter. (42:31)

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝
﴿٤٢ الشوریٰ ٣١﴾

اور تم زمین میں (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور نہ مددگار (31:42)

And whosoever responds not to Allah's summoner he can no way escape in the earth, and you (can find) no protecting friends instead of Him. Such are in manifest error. (46:32)

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ
فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝
﴿٤٦ الاحقاف ٣٢﴾

اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہونگے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں (32:46)

More Reference : 9:2,3 11:20 16:46
22:51 34:38 72:12
Page 719,291,851,309,852,853,692

واللہ عزوجل ۹ التوبة: ۲، ۱۱ ہود: ۲۰، ۱۶ النحل: ۴۶،
۲۲ الحج: ۵۱، ۳۴ سباء: ۳۸، ۷۲ الجن: ۱۲،
الصفحة ۶۹۲، ۸۵۳، ۸۵۲، ۳۰۹، ۸۵۱، ۲۹۱، ۷۱۹،

مزید حوالہ 9:2,3 11:20 16:46 22:51 34:38 72:12
صفحہ 692,853,852,309,851,291,719

ALLAH (swt) IS SELF SUFFICIENT-TRANSCENDENT
FREE OF ALL WANTS AND NEEDS
WHEREAS ALL CREATURES STAND IN NEED OF HIM

واللہ الغنی وجميع الخلق هم
الفقراء إليه

اللہ تعالیٰ غنی ہے اور سب مخلوق اس کی محتاج
(اللہ تعالیٰ کی بے نیاز اور بے پرواہ ذات)

O mankind! You all have need of Allah. And Allah! He is free of all wants, the Owner of Praise. (35:15)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝
﴿٣٥ فاطر ١٥﴾

لوگو! تم (سب) اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پروا لائق
حمد (و ثنا) ہے (15:35)

-----And Allah is indeed self sufficient whereas you stand in need of Him. And if you turn away He will exchange you for some other folk, and they will not be the like of you. (47:38) PART

All that are in the heavens and in the earth ask for something from Him. Everyday He exercises (universal) power. (55:29)

There was indeed in them an excellent example for you to follow - for those whose hope is in Allah and the Last Day. And whosoever may turn away, still Allah, He is the Transcendent the Owner of Praise. (60:6)

More Reference :	2:263,267	3:97	4:131
Page	446,271	287/290	310
6:133	10:68	14:8	22:64
133	603	301	103
27:40	29:6	31:12,26	39:7
1078	440	301,104	301
64:6	76:3		
693	301		

For More Detail Consult : Chapter Canons of Divine Nature - System of Omnipotence of Allah swt Page 366

ALLAH(SWT) HOLDS SWAY AND IS IRRESISTIBLY SUPREME OVER HIS SLAVES

He is the Omnipotent over His slaves, and He is the Wise, the Informed. (6:18)

More Reference :	6:37,61	12:21	36:81
Page	193,775	981	321
46:33	75:40	86:8	
326	781	117	

IF ALLAH(SWT) PLEASES HE CAN TAKE YOU OFF AND REPLACE WITH NEW GENERATION

If He wills, He can remove you, O people, and produce others (in your stead). Allah is Able to do that. (4:133)

See they not how many a generations We destroyed before them, whom We had established in the earth more firmly than We have established you, and We shed on them abundant showers from the sky, and made the rivers flow beneath them. Yet We destroyed them for their sins, and created after them another generations. (6:6)

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

﴿٤٧ محمد ٣٨﴾ جزء

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

﴿٥٥ الرحمن ٢٩﴾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

﴿٦٠ الممتحنة ٦﴾

والمزيد راجع	٢ البقرة: ٢٦٣، ٢٦٧	٣ آل عمران: ٩٧
٤ النساء: ١٣١	٦ الأنعام: ١٣٣	١٠ يونس: ٦٨
١٤ إبراهيم: ٨	٢٢ الحج: ٦٤	٢٥ الفرقان: ٧٧
٢٧ النمل: ٤٠	٢٩ العنكبوت: ٦	٣١ لقمان: ٢٦، ١٢
٣٩ الزمر: ٧	٥٧ الحديد: ٢٤	٦٤ التغابن: ٦
٧٦ الدهر (الإنسان): ٣		

والتفصيل راجع باب القوانين الطبية نظام القدرة الالهية الصفحة ٣٦٦

الله القاهر فوق عباده

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

والمزيد راجع	٦ الأنعام: ٦١، ٣٧	١٢ يوسف: ٢١
٣٦ يس: ٨١	٤٦ الأحقاف: ٣٣	٧٥ القيامة: ٤٠
٨٦ الطارق: ٨		

يقدر الله على إذهاب الناس الموجودين وعلى الإتيان بخلق جديد

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿٤﴾

أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِطْرًا زَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾

-----اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے (38:47) جزو

آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں۔ وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے (29:55)

تم (مسلمانوں) کو یعنی جو کوئی اللہ (کے سامنے جانے) اور روز آخرت (کے آنے) کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک روش اختیار کرنی ضرور ہے اور جو منہ پھیرتے ہیں تو اللہ بھی بے پروا اور سزاوار حمد (و ثنا) ہے (6:60)

المزيد حوالہ	267,263:2	97:3	131:4
صفحة	271,446	290/287	310
68:10	8:14	64:22	77:25
603	301	103	131
6:29	26,12:31	7:39	
440	104,301	301	
6:64	3:76		
683	301		

تفصیل کے لئے دیکھئے باب قوانین فطرت، نظام قدرت البیہ صفحہ 366

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے

اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور وہ دانا (اور) خبردار ہے (18:6)

المزيد حوالہ	61,37:6	21:12	81:36
صفحة	775,193	981	321
33:46	40:75	8:86	
326	781	117	

اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے

لوگوں کو چاہے تو تم کو فنا کر دے اور (تمہاری جگہ) اور لوگوں کو پیدا کر دے اور اللہ اس بات پر قادر ہے (133:4)

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیئے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے اور ان پر آسمان سے لگاتار مینہ برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے (مکانوں کے) نیچے بہ رہی تھیں پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں (6:6)

Your Lord is free from all wants the Lord of Mercy. If He wills, He can remove you and can cause what He wills to follow after you, even as He raised you from the seed of other folk. (6:133)

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِّنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾
﴿٦ الانعام ١٣٣﴾

اور تمہارا پروردگار بے پرواہ (اور) صاحب رحمت ہے۔ اگر چاہے (تو اے بندو) تمہیں مٹا دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے (6:133)

Have you not seen that Allah has created the heavens and the earth with truth? If He wishes, He can remove you and bring (in) some new creation. (14:19)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾
﴿١٤ ابراہیم ١٩﴾

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو مٹا دے اور (تمہاری جگہ) نئی مخلوق پیدا کر دے (19:14)

And that is no great matter for Allah. (14:20)

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾
﴿١٤ ابراہیم ٢٠﴾

اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں (20:14)

How many a community that dealt unjustly have We demolished and raised up after them another folk! (21:11)

وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾
﴿٢١ الانبیاء ١١﴾

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیئے (11:21)

Have they not travelled in the land and seen the nature of the consequence for those who were before them? They were stronger than these in power, and they cultivated the earth and developed it more than these have developed. Messengers of their own came to them with clear proofs (of Allah's Sovereignty). Surely Allah wronged them not, but they did wrong themselves. (30:9)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾
﴿٣٠ الروم ٩﴾

کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا (چلتے پھرتے) تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو بویا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا۔ اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے۔ تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا۔ بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے (9:30)

If He so pleased, He can be rid of you and bring (instead of you) some new creation. (35:16)

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾
﴿٣٥ فاطر ١٦﴾

اگر وہ چاہے تو تم کو مٹا دے اور نئی مخلوق لا آبا د کرے (16:35)

That is not a difficult for Allah. (35:17)

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾
﴿٣٥ فاطر ١٧﴾

اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں (17:35)

We ordained death among you, and we are not to be outrun. (56:60)

نَحْنُ قَدْ زَوَّيْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾
﴿٥٦ الواقعة ٦٠﴾

ہم نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس (بات) سے عاجز نہیں (60:56)

That We may transform you and make you what you know not. (6:61)

عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾
﴿٥٦ الواقعة ٦١﴾

کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں (61:56)

We replace them by (others) better than them. And nothing can prevent us (from doing what We may wish). (10:41)

عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾
﴿٧٠ المعارج ٤١﴾

(یعنی) اس بات پر (قادر ہیں) کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں۔ اور ہم عاجز نہیں ہیں (41:70)

Have We not destroyed the former folk? (77:16)

كَلِمَةٌ نُهَيْكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾

کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ (16:77)

Then caused the latter folk to follow after (77:17)

ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾

کیا ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں (17:77)

Thus We deal ever with the guilty. (77:18)

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْجُرْمِينَ ﴿١٨﴾

ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں (18:77)

More Reference	5:54	6:133,134	9:69	11:57,100
Page	649	130,786	752	931,905
17:16,99	19:74	28:58,78	40:21,78	
541,778	427	428,1031	428,905	
47:13,38	50:36	54:51	67:16	
429,497	429	856	310	

والمزید راجع ۵ المائدة: ۵۴	۶ الأنعام: ۱۳۳، ۱۳۴	۹ التوبة: ۶۹	۱۱ ہود: ۵۷، ۱۰۰	۱۷ الإسراء
۷۸، ۵۸: القصص	۲۸	۷۴: مریم	۱۹	۹۹، ۱۶: (بنی اسرائیل)
۴۰ المومن (غافر): ۲۸، ۲۱	۴۷ محمد: ۱۳، ۳۸	۵۴ القمر: ۵۱	۶۷ الملك: ۱۶	۵۰ ق: ۳۶

مزید حوالہ 54:5	صفحة 649	134,133:6	69:9	100,57:11
786,130	752	78,58:28	74:19	99,16:17
905,931	28,21:40	905,428	1031,428	427 778,541
16:67	51:54	36:50	38,13:47	
310	856	429	497,429	

ALLAH (SWT) DOES NOT ATTACH ANY IMPORTANCE TO DISBELIEVERS

Say (O Muhammad, to the disbelievers): My Lord would not care about but for your prayer. And as now you have denied (the Truth), therefore there will be inevitable (Punishment). (25:77)

لا يعبر الله بالمشركين أبداً

قُلْ مَا يَعْجُبُ آبَاءَكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

اللہ تعالیٰ مشرکوں کی مطلق پرواہ نہیں کرتا

کہہ دیجئے کہ اگر تم (اللہ کو) نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تم جھٹلا چکے سو اس کی سزا (تمہارے لئے) لازم ہوگی (77:25)

Therefore invoke not with Allah another god, lest you be one of the doomed. (26:213)

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾

تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا (213:26)

He it is Who has made you his representative the earth. Hence, he who is bent in denying the truth (of Allah's Oneness must know that) this denial will fall back upon him: for their (persistent) denial of this truth merely increases disbelievers in loathing towards their Lord: their disbelief involves them in even greater loss. (35:39)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اُس کے کفر کا وبال اُس پر پڑے گا اور کافروں کے لیے ان کا کفر پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے (39:35)

More Reference : 5:54 Page 649

NO ONE CAN CAUSE A LEAST HARM TO ALLAH (SWT) BY DISBELIEVING HIM

Those who purchase disbelief at the price of faith harm Allah not at all, but theirs will be a painful doom. (3:177)

والمزید راجع ۵ المائدة: ۵۴ الصفحة ۶۴۹

لا تضررون الله شيئاً إن ضللتهم إن الذين اشتروا الكفر بالآيمان لن يضرروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم ﴿١٧٧﴾

مزید حوالہ 54:5 صفحه 649

کوئی گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا (177:3)

More Reference : 5:54 8:59 9:74 47:32 Page 649, 127, 746, 161

SOME FOLK AMONG THE BYGONE NATIONS WORSHIPPED EVIL AT LAST FACED THE WRATH OF ALLAH (SWT) AND WERE TURNED INTO HATED APES (MONKEYS) AND SWINE

Shall I tell you of a worse (case) than theirs for recompense with

والمزید راجع ۵ المائدة: ۵۴ الأنفال: ۵۹ ۹ التوبة: ۷۴ ۴۷ محمد: ۲۲

لعن الله بعض الناس من الامم الماضية و غضب عليهم و جعل منهم القرود و الخنازير

مزید حوالہ 54:5 74:9 59:8 32:47 صفحه 161, 746, 127, 649

پچھلی قوموں کے بعض لوگوں (جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور غصہ ہوا) کو بندر اور سورا بنا دیا گیا

کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی

Allah? Worse (is the case of him) whom Allah has cursed, him on whom His wrath has fallen! Worse is he of whose sort Allah has turned some to apes and swine, and who serves idols. (evil powers) Such are in worse plight and further astray from the plain road. (5:60)

عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن
سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٥٠﴾
﴿٥ المائدة ٦٠﴾

برا اجر پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور (جن کو) ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پوجا کی ایسے لوگوں کا برا ٹھکانا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہیں (60:5)

More Reference : 2:65 4:47 7:166
Page 1070, 244, 1070

وللمزيد راجع البقرة: ٦٥ النساء: ٤٧
الأعراف: ١٦٦ الصفحة ١٠٧٠, ٢٤٤, ١٠٧٠

مزید حوالہ 65:2 47:4 166:7
صفحہ 1070, 244, 1070

ALLAH (SWT) IS THE MOST TRUST WORTHY TO HIS WORDS

اللہ موف بعہدہ اشد ايفاء

اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا بہت سچا ہے

-----And who fulfills covenant better than Allah? Rejoice then in your bargain that you have reached with Him, for that is the supreme achievement. (9:111) PART

وَمَنْ
أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ
الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾
﴿٩ التوبة ١١١﴾ جزء

----- اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے (111:9) جزو

More Reference	2:268	3:170,194	4:122
Page	312/384	658,1124	132
5:9	6:114,134,135	7:44	9:111
470	240,786,731	839	644
10:4,55	13:31	16:38	18:21,98
786,103	248	777	1107,1084
19:61	21:104	22:47	28:13
867	793	755	1008
30:6-60	31:9-33	35:5	39:20,74
687,610	866,418	385	307,862
40:55,77	45:32	48:29	51:5
295,738	823	163/247	823
73:18			
793			

وللمزيد راجع البقرة: ٢٦٨ آل عمران: ١٩٤,١٧٠	٤ النساء: ١٢٢	٥ المائدة: ٩	٦ الأنعام: ١١٤,١٣٤,١٣٥
٧ الأعراف: ٤٤	٩ التوبة: ١١١	١٠ يونس: ٥٥,٤	
١٣ الرعد: ٣١	١٦ النحل: ٣٨	١٨ الكهف: ٩٨,٢١	
١٩ مريم: ٦١	٢١ الأنبياء: ١٠٤	٢٢ الحج: ٤٧	
٢٨ القصص: ١٣	٣٠ الروم: ٦٠,٦	٣١ لقمان: ٢٣,٩	
٣٥ فاطر: ٣٩	الزمر: ٢٠,٧٤,٤٠	المنون (غافر): ٧٧,٥٥	
٤٥ الجاثية: ٣٢	٤٨ الفتح: ٢٩	٥١ الذاريات: ٥	
			٧٣ المزمل: ١٨

١٢٢:4	194,170:3	268:2	١٢٢:4
132	1124,658	312/384	132
60:8	44:7	135,134,114:6	9:5
440	839	240,786,731	470
38:16	31:13	55,4:10	11:9
777	248	103,786	644
47:22	104:21	61:19	98,21:18
755	793	867	1084,1107
5:35	33,9:31	60,6:30	13:28
385	418,866	610,687	1008
29:48	32:45	77,55:40	74,20:39
163/247	823	738,295	862,307
		18:73	5:51
		793	823

ALL COVENANTS - PROMISES ASSURANCES OF ALLAH (SWT) WILL BECOME TRUE ON THE DAY OF RESURRECTION

سيكون وعد الله حقاً يوم القيامة

قيامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سب وعدے سچے ثابت ہو جائیں گے

Our Lord! It is You Who will gather mankind together to a Day of which there is no doubt. Allah fails not to keep the Promise. (3:9)

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾
﴿٣ آل عمران ٩﴾

ہمارے پروردگار تو اس روز جس (کے آنے) میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو (اپنے حضور میں) جمع کر لے گا بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا (3:9)

Allah! There is no god except Him. He shall gather you all to a Day of Resurrection whereof there is no doubt. Who is more true in statement than Allah? (4:87)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجَمِّعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾
﴿٤ النساء ٨٧﴾

اللہ (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا اور اللہ سے بڑھ کا بات کا سچا کون ہے؟ (87:4)

But as for those who believe and do good works, We shall bring them into gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide forever. It is a promise from Allah in truth; and who can be more truthful than Allah in utterance? (4:122)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾
﴿٤ النساء ١٢٢﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے (122:4)

For Detail Chapter : Canons of (Divine) Nature and Chapter Day of the Judgement Page 366,798

وللمزيد راجع القوانين الطبيعية نظام القدرة الالهية و الباب اليوم الدين الصفحة ٣٦٦, ٧٩٨

تفصیل کیلئے دیکھئے باب : قوانین فطرت۔ نظام قدرت الہیہ دیکھئے باب یوم حساب صفحہ 798,366

MONOTHEISM

A DOCTRINE OF ONENESS OF ALLAH(SWT)

التوحيد

**توحید
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان**

**(NO DEITY EXCEPT ALLAH(SWT) ALONE)
THERE IS NONE WHO HAS THE RIGHT
TO BE WORSHIPPED BUT ALLAH(SWT)**

لا إله إلا الله

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں

Your God is One God; there is no god except Him, the Beneficent, the Merciful. (2:163)

وَالْهَكْمَ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

اور (لوگو) تمہارا معبود اللہ واحد ہے۔ اس بڑے مہربان (اور) رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں (163:2)

Such is Allah, your Lord. There is no deity except Him, the Creator of all things, so worship Him. And He takes care of all things. (6:102)

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

یہی (اوصاف رکھنے والا) اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں (وہی) ہر چیز کا پیدا کرنے والا (ہے) تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگران ہے (102:6)

Your God is only Allah, than Whom there is no other god He embraces all things in His knowledge. (20:98)

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے (98:20)

That is because Allah, He is the True, and that whereon they call instead of Him, it is the false, and because Allah, He is the High, the Great. (22:62)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

یہ اس لئے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس چیز کو (کافر) اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اس لئے کہ اللہ رفیع الشان اور بڑا ہے (62:22)

Now Allah be exalted, the True King! There is no god except Him, the Lord of the Throne of Grace. (23:116)

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے (اس کی شان اس سے) اونچی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں (وہی) عرش بزرگ کا مالک ہے (116:23)

And He is Allah; there is no god except Him. His is all praise from the very first as well as in the hereafter and His is the command, and to Him you will be brought back. (28:70)

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

اور وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے (70:28)

By those who set the ranks in battle order (37:1)

وَالصَّفَاتِ صَفًّا ﴿٣٧﴾

قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی (1:37)

And those who drive away (the wicked) with reproof (37:2)

قَالَ تَجِدُكَ إِجْرًا ﴿٣٧﴾

پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر (2:37)

And those who read (the Word) for a reminder, (37:3)

قَالَ تَلِيَّتِ ذِكْرًا ﴿٣٧﴾

پھر ذکر (یعنی قرآن) (غور کر کے) پڑھنے والوں کی (3:37)

Your Lord is surely One. (37:4)

إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٣٧﴾

یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے (4:37)

Such is Allah, your Lord, the Creator of all things. There is no god except Him. How then are you perverted? (40:62)

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾

یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو (62:40)

Say: 'I am only human like yourselves. It has been revealed to me that your god is Allah Alone. So go straight towards Him and seek His forgiveness; how awful will it be for associators (41:6)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٤١﴾

آپ کہہ دیجئے! کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے ہو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لئے (بڑی ہی) خرابی ہے (6:41)

And He is alone Who is God in the heavens, and God on the earth. He is the Wise, the Knower. (43:84)

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٤٣﴾
﴿٤٣﴾ الزخرف ٨٤

اور وہی (ایک) آسمانوں میں معبود ہے اور (وہی) زمین میں معبود ہے۔ اور وہ دانا (اور) علم والا ہے (84:43)

Or have they any god besides Allah? Glorified be Allah from all that they ascribe as partner (to Him)! (52:43)

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾
﴿٥٢﴾ الطور ٤٣

کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے (43:52)

He is Allah, than Whom there is no other god, the Knower of the invisible and the visible. He is the Beneficent, the Merciful. (59:22)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٥٩﴾
﴿٥٩﴾ الحشر ٢٢

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے (22:59)

Reference	2:83,163,255	3:2,18,62	4:87,171
Page	251,133,103/104	104,99,607	132,604
5:73	6:19,46,106	7:59,65,73,85,158	
602	243,152,730	917,930,939,997,165	
9:31,129	10:3,104	11:2,14,50,61	
595,731	127,609	168,233,930,936	
13:16,30	14:52	16:3,51	17:22,23,111
153,170	223	372,135	609,451,367
18:110	20:8,14,98	21:87,92,108	
154	102,1012,133	1085,620,164	
23:116	26:213	27:26,60,61,62	28:88
133	131	1076,355,343,124	148
25:3	37:35	38:65	39:6
288	848	169	397
30:62,65	41:6	44:8	51:51
133,104	133	116	739
59:23	64:13	73:9	114:3
02	303	324	1128

والمزید راجع ٢ البقرة: ٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٣ آل عمران: ١٨، ٢	٤ النساء: ١٧١، ٨٧	٥ المائدة: ٧٣	٦ الأنعام: ١٩، ٤٦، ١٠٦	٧ الأعراف: ١٥٨، ٨٥، ٧٣، ٦٥، ٥٩	٨ التوبة: ٣١، ١٢٩	٩ يونس: ١٠٤، ٣	١٠ هود: ١١، ١٤، ٢٠، ١٤٠، ٦١	١١ الرعد: ١٦	١٢ النحل: ١٠، ٣	١٣ إبراهيم: ٥٢	١٤ الإسراء (يسرائيل): ١١١، ٢٣، ٢٢	١٥ الكهف: ١١٠	١٦ طه: ٩٨، ١٤٨، ٨	١٧ الأنبياء: ١٠٨، ٩٢، ٨٧	١٨ المؤمنون: ١١٦	١٩ الشعراء: ٢١٣	٢٠ النمل: ٢٧، ٦١، ٦٠، ٢٦	٢١ القصص: ٨٨	٢٢ فاطر: ٣٥	٢٣ الصافات: ٣٥	٢٤ ص: ٦٥	٢٥ حم السجدة (فصلت): ٦	٢٦ الذاريات: ٥١	٢٧ الحشر: ٢٣	٢٨ التغابن: ١٣	٢٩ المزمّل: ٩	٣٠ الناس: ٣
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------	-----------------------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------------------------	---------------	-------------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------------------------	--------------	-------------	----------------	----------	------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------	-------------

٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣	٢٥٥، ١٦٣، ٨٣
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ALLAH(SWT) BEGETS NOT, AND NEITHER IS HE BEGOTTEN HAS NEITHER A SON NOR CONSORT

and they say: Allah has taken to himself a Son. Be He glorified! No, but whatsoever is in the heavens and on the earth is His. All are subservient to Him. (2:116)

the Deviser of the heavens and the earth! How can He have a child, when there is no consort for Him when He created all things and is aware of all things? (6:101)

benefits not (the Majesty of) Allah that He should take to Himself a son. Glory is to Him! When He creates a thing, He says to it only: Be! And it is. (19:35)

to Whom belongs the sovereignty of the heavens and the earth. He has chosen no son nor has any partner in the sovereignty. He has created everything and has measured it out precisely. (25:2)

Glorified be your Lord, the Lord of Majesty, beyond what they attribute (to Him)! (37:180)

لم يلد الله أحدا ولم يولد ولم تكن له صاحبة

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَدَيْهِ قَانِتُونَ ﴿١١٦﴾
﴿٢﴾ البقرة ١١٦

بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أُنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾
﴿٦﴾ الانعام ١٠١

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾
﴿١٩﴾ مريم ٣٥

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَكَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءَاهُ تَقْدِيرًا ﴿٢٥﴾
﴿٢٥﴾ الفرقان ٢٥

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ١٨٠

اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ نہ بیٹا نہ اس کی کوئی بیوی اور نہ اولاد

اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے (ہرگز نہیں) وہ پاک ہے۔ بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کے فرمان بردار ہیں (2:116)

(وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (ہے) اس کے اولاد کہاں سے ہو جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے (6:101)

اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کا ہونا لائق نہیں وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے (35:19)

وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس نے (کسی کو) بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا (2:25)

یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے (اس سے پاک ہے) (37:180)

If Allah had willed to choose a son, He could have chosen what He would of that which He has created. Be He glorified He is Allah, the One, the Absolute. (39:4)

And (we believe) that He--exalted be the glory of our Lord! He has taken neither wife nor son, (72:3)

Say: He is Allah, the Unique! (112:1)

Allah, the Eternal, the Absolute. (Source of everything). (112:2)

He begets not nor was begotten (He has not fathered anyone, nor was He fathered). (112:3)

And there is nothing comparable to Him. (112:4)

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَنَسُبْنَاهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ الزمر ٤

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٧٢﴾ الجن ٣

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١١٢﴾ الاخلاص ١

اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿١١٢﴾ الاخلاص ٢

لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ ﴿١١٢﴾ الاخلاص ٣

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿١١٢﴾ الاخلاص ٤

اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق پاک میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ (لیکن) وہ تو پاک ہے وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ یگانہ اور قوت والا (4:39)

اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت (شان) بہت بڑی ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد (3:72)

کہہ دیجئے کہ وہ (ذات پاک جس کا نام) اللہ (ہے) ایک ہے (1:112)

اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے (2:112)

نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا (3:112)

اور کوئی اس کا ہمسر نہیں (4:112)

More Reference : 17:111 Page 367

وللمعزین راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ١١١

مزید حوالہ 111:17 صفحہ 367

DO NOT ADOPT TWO GODS FOR WORSHIP

Allah has said: Choose not two gods. There is only One God. So of Me, Me only, you should revere. (16:51)

To Him belongs whatsoever is in the heavens and on the earth, and religion is His forever. Will you then fear any other than Allah? (16:52)

THE MULTIPLICITY OF GODS IS INTELLECTUALLY INDEFENSIBLE CONSIDERING THE UNITY OF DESIGN AND PURPOSE OF WONDERFUL UNIVERSE

Say (O Muhammad, to the disbelievers): If there were other gods along with Him, as they say, then had they sought a way against the Lord of the Throne. (17:42)

If there were therein gods besides Allah, then both (the heavens and the earth) had been disordered. Glorified be Allah, the Lord of the Throne, from all that they ascribe (to Him). (21:22)

And if the Truth had followed their desires, the heavens and the earth and all beings is therein had been (ruined) corrupted. Rather We have brought them their Reminder, but from their Reminder they now turn away. (23:71)

لا تتخذوا إلهين اثنين

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ الْوَاحِدِ ۚ فَآيَا قَارِهٖبُونَ ﴿٥١﴾ النحل ٥١

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاَصْبٰٓءًا ۚ فَغَيِّرِ اللّٰهُ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾ النحل ٥٢

لو كان مع الله الهة لاختل نظام الكون

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ اِلٰهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذَا لَا بُغُوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾ بنی اسرائیل ٤٢

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۗ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُوْنَ ﴿٢١﴾ الانبياء ٢٢

وَلَوْ اَتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۗ بَلْ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧١﴾ المؤمنون ٧١

دو دو معبود نہ بناؤ

اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بناؤ معبود وہی ایک ہے تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو (51:16)

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے تو پھر کیا تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ (52:16)

اگر اللہ سجانہ و تعالیٰ کے ساتھ کئی معبود ہوتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا

کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور اللہ مالک عرش کی طرف (لڑنے بھڑنے کے لئے) راستہ نکالتے (42:17)

اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے (22:21)

اور اگر (اللہ برحق) ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں سے سب درہم برہم ہو جائے بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت (کی کتاب) پہنچا دی ہے اور وہ اپنی (کتاب) نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں (71:23)

Allah has not chosen any son, nor is there any god along with Him; else would each god have assuredly championed that which he created, and some of them would assuredly have overcome others. Glorified be Allah above all that they allege. (23:91)

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَىٰ ذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾

﴿٢٣ المؤمنون ٩١﴾

Knower of the invisible and the visible! And exalted is He over all that they ascribe as partners (to Him)! (23:92)

عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

﴿٢٣ المؤمنون ٩٢﴾

اللہ نے نہ تو کسی کو (اپنا) بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آجاتا۔ یہ لوگ جو کچھ (اللہ کے بارے میں) بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے (91:23)

وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور (مشرک) جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں (اس کی شان) اس سے بلند ہے (92:23)

PAGAN ARABS ASSIGN THE "ANGELS" AS THE "DAUGHTERS" OF ALLAH(SWT)

حرق المشركون الملائكة البنات لله

مشرکوں کا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا

And they assign to Allah daughters. Be He glorified! And to themselves what they desire; (16:57)

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَٰ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾

﴿١٦ النحل ٥٧﴾

اور یہ لوگ اللہ کے لئے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں (اور) وہ ان سے پاک ہے اور اپنے لئے (بیٹے) جو مرغوب (و دل پسند) ہیں (57:16)

And they assign to Allah that which they (themselves) dislike, and their tongues expound the lie that the better portion will be theirs. Assuredly theirs will be the Fire, and they will be abandoned. (16:62)

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَآ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾

﴿١٦ النحل ٦٢﴾

اور یہ اللہ کے لئے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو (قیامت کے دن) بھلائی (یعنی نجات) ہوگی کچھ شک نہیں کہ ان کے لئے (دوزخ کی) آگ (تیار) ہے اور یہ (دوزخ میں) سب سے آگے بھیجے جائیں گے (62:16)

Have your Lord then distinguished you (O, Pagans) by giving you sons, and has chosen for Himself females from among the angels? Surely you speak an awful statement. (17:40)

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا لَّتَقُولُنَّ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

﴿١٧ بنی اسرائیل ٤٠﴾

(مشرکوں) کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیئے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا۔ کچھ شک نہیں کہ (یہ) تم بڑی (نامعقول) بات کہتے ہو (40:17)

How ask them (O Muhammad): Have your Lord daughters whereas they have sons? (37:149)

فَأَسْأَلْتَهُمُ الْبَنَاتِ وَالَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾

﴿٣٧ الصفت ١٤٩﴾

ان سے پوچھیے تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لئے تو بیٹیاں اور ان کے لئے بیٹے (149:37)

Or created We the angels females while they were present? (37:150)

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾

﴿٣٧ الصفت ١٥٠﴾

یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ (اس وقت) موجود تھے (150:37)

Is of their falsehood that they say: (37:151)

أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكَهْمُ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾

﴿٣٧ الصفت ١٥١﴾

دیکھو یہ اپنی (طرف سے) جھوٹ بنائی ہوئی (بات) کہتے ہیں (151:37)

Allah has begotten. And indeed they tell a lie. (37:152)

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾

﴿٣٧ الصفت ١٥٢﴾

کہ اللہ کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں (152:37)

And again of their falsehood): He is preferred daughters to sons (37:153)

أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾

﴿٣٧ الصفت ١٥٣﴾

کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ (153:37)

What is wrong with you? How do you make decisions? (37:154)

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾

﴿٣٧ الصفت ١٥٤﴾

تم کیسے لوگ ہو۔ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو (154:37)

Will you not then reflect? (37:155)

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾

﴿٣٧ الصفت ١٥٥﴾

بھلا تم غور (کیوں) نہیں کرتے (155:37)

Or have you a clear warrant?
(37:156)

أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾
﴿٤٧ الصفت ١٥٦﴾

یا تمہارے پاس کوئی روشن دلیل ہے (156:37)

Then produce your writ, if you are
truthful. (37:157)

فَاتُوا بِكُتُبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾
﴿٣٧ الصفت ١٥٧﴾

اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو (157:37)

Or chooses He daughters of all that
He has created, and grants you sons
for choice? (43:16)

اَمْ اَتَّخَذَ مِنْ مَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفَكَمُ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾
﴿٤٣ الزخرف ١٦﴾

کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم
کو جن کر بیٹے دیئے (16:43)

And if one of them has tidings of
(birth of female child) that which he
likenes to the Beneficent One, his
countenance becomes black and he
is full of inward rage. (43:17)

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾
﴿٤٣ الزخرف ١٧﴾

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری (دختر کی
پیدائش کی خبر) دی جاتی ہے جس کی مثال انہوں نے اللہ
کے لئے بیان کی ہے تو انکا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین
ہو جاتے ہیں (17:43)

(Compare them then to Allah) that
which is bred up in outward show,
and in dispute cannot discuss things
clearly? (43:18)

اَوْ مَنْ يُنشِئُوْنَ فِي الْحَلِيَّةِ وَّهُوَ فِي الْخِصَامِ
غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾
﴿٤٣ الزخرف ١٨﴾

کیا اللہ تعالیٰ کی اولاد (لڑکیاں ہیں) جو زیورات میں
پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں
(18:43)

And they make the angels, who are
the slaves of the Beneficent,
females. Did they witness their
creation? Their testimony will be
recorded and they will be
questioned. (43:19)

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ
اِنَاثًا لَّيْسَ لَهُنَّ شَهَادَةٌ وَّاَخْلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادٰتُهُمْ
وَيُسْأَلُوْنَ ﴿١٩﴾
﴿٤٣ الزخرف ١٩﴾

اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں (اللہ
کی) بیٹیاں مقرر کیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر
تھے عقرب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز
پرس کی جائے گی (19:43)

Say: "If the Marcy - giving had a
son, I would be the first to worship
(him)". (43:81)

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾
﴿٤٣ الزخرف ٨١﴾

کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمن کی اولاد ہو تو میں (سب
سے) پہلے (اس کی) عبادت کرنے والا ہوتا (81:43)

Glorified be the Lord of the heavens
and the earth, the Lord of the
Throne, from that which they
ascribe (to Him)! (43:82)

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَمَّا يُصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾
﴿٤٣ الزخرف ٨٢﴾

یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا مالک
(اور) عرش کا مالک اس سے پاک ہے (82:43)

Or has He daughters whereas you
have sons? (52:39)

اَمْ لَهَا الْبَنٰتُ وَّلَكُمْ الْبَنُوْنَ ﴿٣٩﴾
﴿٥٢ الطور ٣٩﴾

کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے (39:52)

Or ask you (Muhammad) a reward
from them so that they are plunged
in debt? (52:40)

اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَمَا هُمْ مِنْ مَّعْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٠﴾
﴿٥٢ الطور ٤٠﴾

اے پیغمبر کیا آپ ان سے صلہ مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان
کا بوجھ پڑ رہا ہے (40:52)

Or possess they the unseen so that
they can write (it) down? (52:41)

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَمَا يَكْتُبُوْنَ ﴿٤١﴾
﴿٥٢ الطور ٤١﴾

یا ان کے پاس غیب (کا علم) ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے
ہیں (41:52)

Or do they intend a plot against (the
messenger)? But those who
disbelieve, they are the ensnared!
(52:42)

اَمْ يُرِيدُوْنَ كَيْدًا فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٢﴾
﴿٥٢ الطور ٤٢﴾

کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ
فریب خوردہ کافر ہی ہیں (42:52)

Are yours the males and His the
females? (53:21)

اَلَكُمْ الذَّكَرُ وَاِلٰهِي الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾
﴿٥٣ النجم ٢١﴾

(مشرک) کیا تمہارے لئے تو بیٹے اور اللہ کے لئے بیٹیاں
(21:53)

That would then be an unfair
division! (53:22)

تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِيزٰى ﴿٢٢﴾
﴿٥٣ النجم ٢٢﴾

یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے (22:53)

They are nothing but names, which you and your forefathers have devised, for which Allah has revealed no warrant. They follow but a guess and that which (they) themselves desire. And now the guidance from their Lord has come to them. (53:23)

It is those who disbelieve in the Hereafter who name the angels with the names of females. (53:27)

And they have no knowledge thereof. They follow but a guess, and a guess can never take the place of the truth. (53:28)

إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ
آبَاؤُكُمْ قَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ
جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴿٥٣﴾
﴿النجم ٢٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَ
الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى ﴿٥٣﴾
﴿النجم ٢٧﴾

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٥٣﴾
﴿النجم ٢٨﴾

در اصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ
دادوں نے ان کے رکھ لئے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل
نہیں اتاری یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی
خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً ان کے
رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی
ہے (23:53)

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو (اللہ
کی) لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں (27:53)

حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں۔ وہ صرف گمان پر چلتے
ہیں اور بے شک وہم (وگمان) حق کے مقابلے میں کچھ
کام نہیں آتا (28:53)

More Reference 6:100-101
Page 138,134

واللہ یبرأج ٦ الأنعام: ١٠١، ١٠٠
الصفحة ١٣٤، ١٣٨

مزیلہ حوالہ 6:100,101
صفحة 134,138

**PAGANS INVENTED KINSHIP BETWEEN
ALLAH (SWT) AND
ALL KINDS OF INVISIBLE FORCES**

**جعل المشركون بين الله وبين
الجنة نسبا**

**مشركين کا اللہ تعالیٰ اور جنات
(تمام غیر مرنی مخلوق) سے رشتہ قائم کرنا**

Yet they ascribe as partners to Him the jinns, although He did create them, and impute falsely, without knowledge, sons and daughters to Him. Glorified be He and high exalted above (all) that they ascribe to Him). (6:100)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ
بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا
يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾
﴿الانعام ١٠٠﴾

اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے
پیدا کیا۔ اور بے سمجھے (جھوٹ بہتان سے) اس کے لئے بیٹے
اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں۔ وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت
بیان کرتے ہیں پاک ہے اور اس کی شان ان سے بلند ہے
(100:6)

And on the Day when He will gather them all together, He will say to the angels: Did these worship you? (34:40)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ
أَهْلُؤَلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾
﴿سبا ٤٠﴾

اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے
فرمائے گا۔ کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے (40:34)

They will say: Be You glorified. You are our Protector from them! No, but they worshipped the jinn; most of them were believers in them. (34:41)

قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ
كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾
﴿سبا ٤١﴾

وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ یہ۔
بلکہ یہ جنات کی پوجا کرتے تھے۔ اور اکثر ان ہی کو مانتے
تھے (41:34)

And they imagine kinship between Him and the jinns, whereas the jinns know well that they will be brought before (Him). (37:158)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتْ
الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾
﴿الصفت ١٥٨﴾

اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتے داری قائم کی
حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ (اللہ کے سامنے) حاضر
کئے جائیں گے (158:37)

Glorified be Allah from that which they attribute (to Him), (37:159)

سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾
﴿الصفت ١٥٩﴾

یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے
(159:37)

POLYTHEISM
ASSOCIATING DIVINE POWER
TO ANYTHING BESIDES ALLAH (SWT)

الشُرک

ASCRIBING OF DIVINITY IS AN AWESOME WRONG

And (remember) when Luqman said to his son, when he was exhorting him: O my dear son! Ascribe no partners to Allah. No doubt to ascribe partners (to Him) is a tremendous wrong (31:13)

الشرك ظلم عظیم

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾
 ﴿٣١ لقمان ١٣﴾

شرك ظلم عظیم ہے

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ (بے شک) شرک تو بڑا (بھاری) ظلم ہے (13:31)

More Reference : 2:22	4:36,117,118	5:72	والمزید راجع ٢ البقرة: ٢٢ ٤ النساء: ١١٨,٧١١,٣٦	72:5	118,711,36:4	22:2	مزید حوالہ
Page 357	462,159	605	٥ المائدة: ٧٢ ٦ الأنعام: ١٣٧,١٠٧,٩٥,٦٤,٥٦,١٩	605	462,159	357	صفحہ
6:19,56,64,95,107,137	7:33	9:17	٧ الأعراف: ٣٣ ٩ التوبة: ١٧ ١١ هود: ١٠١	17:9	33:7	137,107,95,64,56,19:6	
213,538,124,115,731,513	484	622	١٢ يوسف: ٤٠ ١٦ النحل: ١٠٠,٧٣ ١٧ الإسراء	622	484	243,608,124,115,731,513	
11:101	12:40	16:73,100	١٢ يوسف: ٤٠ ١٦ النحل: ١٠٠,٧٣ ١٧ الإسراء	68,67:17	100,73:16	40:12	101:11
679	984	391,386	(بنی اسرائیل): ٦٨,٦٧ ١٨ الكهف: ٤٢ ١٩ مريم: ٤٢	124,124	391,386	984	679
18:42	19:42	22:12,30,62	٢٢ الحج: ١٢,٢٠,٢٣ ٢٣ المؤمنون: ٥٩ ٢٧ النمل: ٦٣	59:23	62,30,12:22	42:19	42:18
1112	946	145,149,133	٢٨ القصص: ٦٨ ٢٩ العنكبوت: ٨ ٣٠ الروم: ٤٠	766	145,149,133	946	1112
27:63	28:68	29:8	٣١ لقمان: ١٥,٣٠ ٣٧ الصافات: ٢٢ ٣٩ الزمر: ٤٣	40:30	8:29	68:28	63:27
153	375	453	٤٠ المثومن (غافر): ٦٦ ٤١ حم السجدة (فصلت): ٩	357	453	375	153
31:15,30	37:22	39:43	٤٣ الزخرف: ٨٦ ٦٠ الممتحنة: ١٢ ٧١ نوح: ٢٣	66:40	43:39	22:37	30,15:31
453,141	789	127		610	127	789	453,141
41:9	43:86	60:12		23:71	12:60	86:43	9:41
325	177	176		590	176	177	325

ALLAH (SWT) PARDONS EVERY SIN EXCEPT ASCRPTION OF PARTNERS TO HIM

Allah forgives not that a partner should be ascribed to Him. He forgives (all) except that to whom He pleases. Anyone who ascribes partners to Allah, he has indeed invented a tremendous sin. (4:48)

كل ذنب عند الله قابل للغفران سوى الاشرار بالله

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾
 ﴿٤٨ النساء ٤٨﴾

Allah pardons not that partners should be ascribed to Him. He pardons all except that to whom He wishes. Whoever ascribes partners to Allah has wandered far astray. (4:116)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾
 ﴿٤٨ النساء ١١٦﴾

FALSE GODS (DEVILS OR PERSONIFIED FANCIES) AND THEIR WORSHIPPERS WILL BE THROWN HEADLONG INTO THE FIRE OF HELL

You (idolaters) and that which you worship besides Allah are fuel of hell. There to you will come. (21:98)

سوف تلقى الالهة من دون الله في جهنم

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾
 ﴿٢١ الانبياء ٩٨﴾

If these had been gods they would not have come here, but all will abide therein. (21:99)

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾
 ﴿٢١ الانبياء ٩٩﴾

اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے علاوہ ہر گناہ قابل معافی ہے

اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا (ظلم کیا) (48:4)

اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا (اور گناہ) جس کو چاہے بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ راستے سے بھٹک گیا (4:116)

جھوٹے معبود خود جہنم میں ڈالے جائیں گے

(کافر اس روز) تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے (اور) تم (سب) اس میں داخل ہو کر رہو گے (98:21)

اگر یہ لوگ (درحقیقت) معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے۔ سب اس میں ہمیشہ (چلتے) رہیں گے (99:21)

Therein wailing is their portion, and therein they hear not. (21:100)

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ١٠٠﴾

وہاں ان کو چلانا (رونا اور چیخنا) ہوگا اور اس میں (کچھ) نہ سن سکیں گے (100:21)

More Reference 18:52 26:94 28:64
Page 843 843 844
34:33 40:47
836 837

والمزید راجع ۱۸ الکہف: ۵۲ ۲۶ الشعراء: ۹۴
۲۸ القصص: ۶۴ ۳۴ سبأ: ۳۳ ۴۰ المؤمن (غافر): ۴۷

مزید حوالہ 64:28 94:26 52:18
844 843 843
47:40 33:34
837 836

IT DOES NOT BEHOVE THE BELIEVERS TO SEEK FORGIVENESS FOR WHO ASCRIBED DIVINITY TO ANYONE BESIDES ALLAH(SWT)

لا ينبغي للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين

کسی مشرک کے لئے بخشش کی دعا کرنا اہل ایمان کو شایاں نہیں

It is not for the Prophet, and those who believe, to pray for the forgiveness of idolaters even though they may be near of kin (to them) after it has become clear that they are people of hell fire. (9:113)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٩﴾
﴿٩ التوبة ١١٣﴾

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایاں نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لئے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں (9:113)

More Reference 11:47 Page 927

والمزید راجع ۱۱ ہود: ۴۷ الصفحة ۹۲۷

مزید حوالہ 927 47:11

APPEAL ALLAH(SWT) ALONE FOR HELP

لا يجوز الاستعانة بغير الله

صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو

And your Lord has said: Pray to Me and I will hear your prayer. Those who scorn My service, they will enter hell, disgraced. (40:60)

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾
﴿٦٠ المؤمن ٦٠﴾

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں۔ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے (60:40)

More Reference : 1:4 2:186
Page 1116,1126

والمزید راجع ۱ الفاتحة: ۴ ۲ البقرة: ۱۸۶
الصفحة ۱۱۲۶, ۱۱۱۶

مزید حوالہ 186:2 4:1
1116,1126

TO INVOKE ALLAH(SWT) DURING DISTRESS IS A HABIT OF HUMANKIND

من الفطرة أن الانسان يدعوا لله وحده عند التورط في الضر

مصیبت میں مبتلا ہو جانے پر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا انسانی فطرت ہے

Say: Can you see yourselves, if the punishment of Allah comes upon you or the Hour comes upon you, calling upon other than Allah? Do you then call (for help) to any other than Allah? (then answer) if you are truthful. (6:40)

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٠﴾
﴿٦٠ الانعام ٤٠﴾

کہہ دیجئے (کافرو) بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آجائے یا قیامت آ موجود ہو۔ تو کیا تم (ایسی حالت میں) اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو (تو بتاؤ) (40:6)

No, but to Him you call, and He removes that because of which you call to Him, if He wills, and you forget whatever partners you ascribe to Him. (6:41)

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾
﴿٤١ الانعام ٤١﴾

(نہیں) بلکہ (مصیبت کے وقت تم) اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لئے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو (اس وقت) انہیں بھول جاتے ہو (41:6)

Those on whom you call besides Allah are slaves like to you. Call on them now, and let them answer you, if you are truthful! (7:194)

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ قَادِعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾
﴿١٩٤ الاعراف ١٩٤﴾

(مشرکوں) جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں (اچھا) تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہئے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں (7:194)

Allah knows what thing they invoke instead of Him. He is the Mighty, the Wise. (29:42)

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٩﴾
العنكبوت ٤٢

یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں (خواہ وہ کچھ ہی ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور وہ غالب (اور) حکمت والا ہے (42:29)

That (is so) because Allah, He is the True, and that which they invoke besides Him is the False, and because Allah, He is the Sublime, the Great. (31:30)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣١﴾
لقمان ٣٠

یہ اس لئے کہ اللہ کی ذات برحق ہے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں۔ اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ (اور) گرامی قدر ہے (30:31)

If you pray to them they hear not your prayer, and if they heard they could not grant it you. On the Day of Resurrection they will disown association with you. None can inform you like Him Who is Aware. (35:14)

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿٣٥﴾
فاطر ١٤

اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں۔ اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور حق تعالیٰ جیسے خبردار کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا (14:35)

And who is further astray than those who, instead of Allah, pray to such as hear not their prayer until the Day of Resurrection, and are unconscious of their prayer, (46:5)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴿٤٦﴾
الاحقاف ٥

اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو (5:46)

More Reference : 10:21,22 Page 406

والمعزید راجع ١٠ یونس: ٢٢، ٢١: ٢٢ الصفحة ٤٠٦

SEEKING HELP ONLY FROM ALLAH(SWT) IS BEFITTING AND FRUITFUL

To Him is due the real prayer. Those, to whom they pray besides Allah respond to them not at all, save as (if the response to) one who stretches forth his hands towards water (asking) that it may come to his mouth, and it will never reach it. The prayer of disbelievers goes (far) astray. (13:14)

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاؤُ الْكٰفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿١٣﴾
الرعد ١٤

صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا سود مند ہے
سود مند پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے۔ مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ (دور ہی سے) اس کے منہ تک آ پہنچے حالانکہ وہ (اس تک کبھی بھی) نہیں آ سکتا اور (اسی طرح) کافروں کی پکار بے کار ہے (14:13)

And that you should worship Me alone (for that) this is the straight way. (36:61)

وَإِنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾
یسین ٦١

اور میری ہی عبادت کرنا۔ یہی سیدھی راہ ہے (61:36)

Therefore (O believers) pray to Allah, with sincere devotion to Him (only), however much the disbelievers be averse (40:14)

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ ﴿٤٠﴾
المؤمن ١٤

سو تم لوگ اللہ سے خالص اعتقاد رکھ کر اسے پکارتے رہو اگرچہ کافر برائی مانیں (14:40)

NO ONE EXCEPT ALLAH(SWT) HAS A POWER TO REMOVE OR TO CHANGE OR MITIGATE EVEN ANY ADVERSITY FROM YOU

Say: Cry to those (saints and angels) whom you assume (to be gods) besides Him, yet they have no power to rid you of misfortune or to change. (17:56)

لا يملك غير الله كشف الضر عن احد ولا تحويلا قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿١٧﴾
بنی اسرائیل ٥٦

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تکلیف کو رفع کرنے کی طاقت ہے نہ ہی بدلنے کا اختیار ہے
آپ کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود قرار دے رہے ہو ذرا ان کو پکارو تو سہمی وہ نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا۔ (56:17)

And if you should ask them: Who created the heavens and the earth? They will say: Allah. Say: Be think you then of those you worship besides Allah, if Allah willed some hurt for me, could they remove from me His hurt; or if He willed some mercy for me, could they restrain His mercy? Say: Allah is my all. In Him do (all) the trusting put their trust. (39:38)

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٣٨﴾

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں (38:39)

THERE IS NO PROTECTION AGAINST ALLAH(SWT)

لا مجير الا الله ولا يجار عليه

اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں

Say: In Whose hand is the dominion over all things and He protects, while against Him there is no protection, if you have knowledge? (23:88)

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٨٨﴾

کہہ دیجئے کہ اگر تم جانتے ہو تو (بتاؤ کہ) وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا (88:23)

They will say: To Allah (all that belongs). Say: How then are you bewitched? (23:89)

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٨٩﴾

فوراً کہہ دیں گے کہ (ایسی بادشاہی تو) اللہ ہی کی ہے کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے کر دیا جاتا ہے (89:23)

EVERY TORMENT IS FOR THE PEOPLE WHO CHOOSE COMPERS TO ALLAH(SWT) AND LOVE THEM JUST AS THEY SHOULD LOVE ALLAH(SWT)

مصير من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله

غیر اللہ سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت رکھنے والوں کی سزا

Let of mankind are some who take themselves (objects of worship which they set as) rivals to Allah, loving them with a love like (that which is the due) of Allah (only)--those who believe are stauncher in their love for Allah--Oh, that those who do evil had but known, (on the day) when they behold the doom, that power belongs wholly to Allah, and that Allah is severe in punishment! (2:165)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾
﴿٢ البقرة ١٦٥﴾

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک (اللہ) بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے (165:2)

DO NOT ADOPT ANY OTHER AS PATRON, INSTEAD OF ALLAH (SWT)

لا تتخذوا من دون الله اولياء

اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کارساز نہ بناؤ

Do the disbelievers reckon that they can choose My bondmen as protecting friends besides Me? We have prepared hell as a welcome for the disbelievers. (18:102)

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾
﴿١٨ الكهف ١٠٢﴾

کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا (اپنا) کارساز بنائیں گے (تو ہم نفا نہیں ہوں گے) ہم نے (ایسے) کافروں کے لئے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے (102:18)

Or have they chosen protecting friends instead of Him? But Allah, He (alone) is the Protecting Friend. He quickens the dead, and He is Able to do all things. (42:9)

That is because Allah is patron of those who believe, and because the disbelievers have no patron. (47:11)

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ
وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾
﴿٤٢ الشورى ٩﴾

ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ
الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾
﴿٤٧ محمد ١١﴾

کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو اللہ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (9:42)

یہ اس لئے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں (11:47)

SUPPORT OF ANY BEING OTHER THAN ALLAH(SWT) IS AS FRAILEST AS SPIDER'S SILK THREADS

The likeness of those who choose other patrons than Allah is as the likeness of the spider when she takes to herself a house, and the frailest of all houses is the spider's house, if they realize it. (29:41)

As for these similitudes, We coin them for mankind, but none will grasp their meaning save the wise. (29:43)

الاعتماد على غير الله
كالاعتماد على نسيج العنكبوت

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ
الْبَيْوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٤١﴾

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا
إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٤٣﴾

غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور ناپائیدار ہیں

جن لوگوں نے اللہ کے سوا (اوروں کو) کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک (طرح کا) گھر بناتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ (اس بات کو) جانتے (41:29)

اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے (سمجھانے کیلئے) بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں (43:29)

NO ONE ELSE CAN ORIGINATE (CREATE OUT OF NOTHING) EXCEPT ALLAH(SWT)

Attribute they as partners to Allah those who created nothing, but are themselves created, (7:191)

Say : Is there of your partners (whom you ascribe to Allah) one that produces creation and then reproduces it? Say: Allah produces creation, and then reproduces it. How then, are you misled! (10:34)

Yet they choose besides Him other gods who create nothing but are themselves created, and possess not hurt nor profit for themselves, and possess neither death nor life, nor power to raise the dead. (25:3)

This is the Creation of Allah. Now show me that which those (you worship) instead of Him have created. No, but the wrongdoers are in error manifest! (31:11)

لا خالق إلا الله

الَّذِينَ كُونُوا مَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾
﴿٧ الاعراف ١٩١﴾

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾
﴿١٠ يونس ٣٤﴾

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَاتٍ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا
نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾
﴿٢٥ الفرقان ٣﴾

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ
مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾
﴿٣١ لقمان ١١﴾

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں

کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کئے جاتے ہیں (191:7)

(ان سے) پوچھیے کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتدا پیدا کرے (اور) پھر اس کو دوبارہ بنائے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں بچے جا رہے ہو (34:10)

اور (لوگوں نے) اس کے سوا اور معبود بنائے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کئے گئے ہیں۔ اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ (مر کر) اٹھ کھڑے ہونا (3:25)

یہ تو اللہ کی پیدائش ہے تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں (11:31)

Say: Have you seen your partner gods to whom you pray besides Allah? Show me what they created of the earth! Or have they any portion in the heavens? Or have We given them a Scripture so that they act on clear proof there from? No, the evil doers promise one another only to deceive. (35:40)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا الْإِغْوَارًا ﴿٣٥﴾ فاطر ٤٠

بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کوئی چیز پیدا کی ہے۔ یا (بتاؤ کہ) آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سندر کھتے ہیں؟ (ان میں سے کوئی بات بھی نہیں) بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے (40:35)

And if you ask them who created them, they will surely say: Allah. How then are they turned away? (43:87)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ الزخرف ٨٧

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ (87:43)

Say (to them,) Have you thought on all that you invoke besides Allah? Show me what they have created of the earth. Or have they any Portion in the heavens? Bring me a Scripture before this (Scripture), or some vestige of knowledge (in support of what you say), if you are truthful. (46:4)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ قَاتِدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِنِّي بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلِيمٌ ﴿٤﴾ الاحقاف ٤

کہہ دیجئے کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو (ذرا) مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے۔ یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے کوئی پہلے ہی کی کتاب میرے پاس لاؤ۔ یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو (تو اسے پیش کرو) (4:46)

FALSE GODS ARE HELPLESS AND DEFENCELESS THEY CANNOT CREATE EVEN A FLY AND IF THE FLY SNATCHES AWAY A THING THEY WOULD HAVE NO POWER TO RECOVER

عجز الالهة من دون الله انهم لا يقدرون على خلق ذبابة وان سلبت شيئا لا يستنقذوه منها

جھوٹے معبودوں کی بے بسی ایک مکھی کو پیدا کرنا تو درکنار یہ تو مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز بھی واپس نہیں لے سکتے

o mankind! A similitude is coined, o pay you heed to it: Those on whom you call besides Allah will never create a fly though they combine together for the purpose. and if the fly took something from them, they could not recover it from the fly. So weak are (both) the maker and the sought! (22:73)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلُ مَا اسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا وَاجَةً عَوَالَهُمْ وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٣﴾ الحج ٧٣

لوگو ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ (73:22)

PARABLES TO ELUCIDATE POLYTHEISM

الامثال القرآنية لتفهيم لغوية الشرك

شرك کی لغویت واضح کرنے کیلئے امثال قرآنی

Allah coins a similitude: (on the one hand) a (mere) chattel, who has control of nothing, and (on the other hand) one on whom We have bestowed a fair provision from Us, and he spends thereof secretly and openly. Are they equal? Praise be to Allah! But most of them know not. (75)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ النحل ٧٥

اللہ ایک مثال اور بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو (بالکل) دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے (بہت سا) مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے (رات دن) پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں (ہرگز نہیں) اللہ تعالیٰ ہی کیلئے سب تعریف ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے (75:16)

And Allah coins a similitude. Two men, one of them dumb, having control of nothing, and he is a burden on his owner; to whatever place he directs him to go, he brings no good. Is he equal with one who enjoins justice and follows a straight path (of conduct)? (16:76)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَأَيَاتٍ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Turning to Allah (only), not ascribing partners to Him; for whoever ascribes partners to Allah, it is as if he had fallen from the sky and the birds had snatched him or the wind had blown him to a far off place. (22:31)

حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

Allah has compared: A man in relation to whom are several part owners, quarrelling, and a man belonging wholly to one man. Are the two equal in similitude? Praise be to Allah! But most of them do not realize it. (39:29)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

اور اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک ان میں سے گونگا (اور دوسرے کی ملکیت) ہے (بے اختیار و ناتواں) کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور اپنے مالک کے لئے بوجھ ہے وہ جہاں اسے بھیجتا ہے (خیر سے کبھی) بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا (گونگا بہرا) اور وہ شخص جو (سنتا بولتا اور) لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں؟ (76:16)

صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر سنبھالنا (کسی کو) اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو چاہے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے (31:22)

اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس میں کئی مختلف المزاج (آدمی) شریک ہیں اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا (غلام) ہے۔ بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ (نہیں) اللہ تعالیٰ کے لئے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے (29:39)

ONLY ALLAH (SWT) HAS THE CONTROL OVER ANY ADVANTAGE AND HARM

بید اللہ النفع والضرر

نفع و نقصان اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے

Say: Serve you in place of Allah that which possesses for you neither hurt nor use? Allah is the one Who is the Hearer, the Knower. (5:76)

قُلْ أَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَآ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں اور اللہ ہی (سب کچھ) سنتا جانتا ہے (5:76)

Say: I have no power to hurt or benefit myself, except that which Allah wills.----- (10:49) PART

قُلْ لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴿١٠﴾

کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ مگر جو اللہ چاہے ----- (49:10) جزو

And cry not, besides Allah, to that which cannot profit you nor hurt you, for if you did so then were you of the wrong doers. (10:106)

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَآ يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے (106:10)

He calls, besides Allah, to that which hurts him not nor benefits him. That is the extreme error. (22:12)

يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَآ يَضُرُّهُ وَمَا لَآ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾

اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں انتہا درجہ کی گمراہی ہے (12:22)

He appeals to someone whose harm is closer than his benefit. How wretched is such patron and how wretched is such friend. (22:13)

يَدْعُوا لِمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَيْسَ الْبَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً ایسا کارساز بھی برا اور ایسا ساتھی بھی برا (13:22)

Yet they worship instead of Allah that which can neither benefit them nor hurt them. The disbeliever is ever a partisan against his Lord. (25:55)

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَآ يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان۔ اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے (55:25)

Allah judges with truth, while those to whom they cry instead of Him judge not at all. Allah, He is the Hearer, the Seer. (40:20)

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٤٠﴾
﴿٤٠ المؤمن ٢٠﴾

اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بے شک اللہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے (20:40)

WHOM THE POLYTHEISTS INVOKE BESIDES ALLAH (SWT) ARE HELPLESS TO ASSIST THEMSELVES HOW CAN THEY PROVIDE SUCCOUR TO ANYONE ELSE

And cannot give them help, nor can they help themselves? (7:192)

They on whom you call besides Him have no power to help you, nor can they help themselves. (7:197)

Say: Who guards you in the night or in the day from the Beneficent? No, but they turn away from mention of their Lord! (21:42)

Or have they gods who can shield them from Us? They cannot help themselves nor can they be defended from Us. (21:43)

And they have taken (other) gods besides Allah, in order that they may be helped. (36:74)

It is not in their power to help them; but they (the worshippers) are to them a host in arms. (36:75)

ALL FALSE DIVINITIES, WHOM POLYTHEISTS APPEAL TO CRAVE ACCESS TO THEIR LORD THEMSELVES ARE STRIVING TO OBTAIN ALLAH (SWT)'S FAVOUR

Those to whom they cry seek the way of approach to their Lord, which of them shall be the nearest; they hope for His mercy and they fear His doom. The doom of your Lord is to be shunned. (17:57)

لا تستطيع الآلهة من دون الله نصر أنفسهم فماذا ينصرون غيرهم

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾
﴿٧ الاعراف ١٩٢﴾

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾
﴿٧ الاعراف ١٩٧﴾

قُلْ مَنْ يَكْفُرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ٤٢﴾

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾
﴿٢١ الانبياء ٤٣﴾

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٧٤﴾
﴿٣٦ يس ٧٤﴾

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُودٌ مُحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾
﴿٣٦ يس ٧٥﴾

الأنداد المتخذة من دون الله (من البشر والجن والملائكة) عباد الله يتبعون إلى الله الوسيلة ويرجون رحمته

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٥٧﴾

جھوٹے معبود تو خود اپنی مدد سے قاصر ہیں وہ کسی کی کیا مدد کریں گے

اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں (7:192)

اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں (7:197)

کہہ دیجئے کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں (21:42)

کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو (مصائب سے) بچا سکیں۔ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہم سے پناہ ہی دیئے جائیں گے (21:43)

اور انہوں نے اللہ کے سوا (اور) معبود بنا لئے ہیں کہ شاید (ان سے) ان کو مدد پہنچے (36:74)

(حالانکہ) ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں۔ (لیکن) پھر بھی (مشرکین) ان کے لئے حاضر باش لشکر سے ہیں (36:75)

مشرکوں کے خود ساختہ معبود (انسان جن یا فرشتے) بذات خود اللہ تعالیٰ کے تقرب کے متلاشی اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں

یہ لوگ جن کو (اللہ کے سوا) پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ (تقرب) تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں (اللہ کا) زیادہ مقرب (ہوتا) ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے (57:17)

Surely Pure religion is for Allah only. And those who choose protecting friends instead of Him (say): We worship them only that they may bring us near to Allah. Allah will judge between them concerning that wherein they differ. Allah guides not him who is a liar, an ingrate. (39:3)

الذین الذین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفی ان الله یحکم بینهم فی ما هم فیه یختلفون ان الله لا یهدی من هو کذب کفارا ﴿۳۹ الزمر﴾

ذیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لئے (زیبا) ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ) ہم ان کو اس لئے پوجتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔ تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکر ہے ہدایت نہیں دیتا (3:39)

WHOM POLYTHEISTS IMAGINE TO BE ENDOWED WITH DIVINE POWERS BESIDES ALLAH (swt) HAVE NOT AN ATOM'S WEIGHT OF POWER IN SHARE OF GOVERNING ANYTHING IN THE UNIVERSE

Say: Call upon those whom you set up besides Allah! They possess not an atom's weight either in the heavens or on the earth, nor have they any share either, nor has He an auxiliary among them. (34:22)

الالهة من دون الله لا یملکون مثقال ذرة من شیء فی الکنون

جھوٹے معبود کائنات کی کسی چیز کے نہ مالک ہیں اور نہ ہی کچھ اختیار رکھتے ہیں

He makes the night to pass into the day and He makes the day to pass into the night. He has subdued the Sun and Moon to service. Each runs to an appointed term. Such is Allah, your Lord; His is the Sovereignty; and those to whom you pray instead of Him own not so much as the white spot on a date stone. (35:13)

قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرة فی السموات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شریک وما لہم منہم من ظہیر ﴿۳۴ سبا﴾

کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا (معبود) خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ۔ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے (22:34)

A PARABLE TO EXPOSE THE INFLUENCE OF FALSE GODS

He coins for you a similitude of yourselves. Have you, from among those whom your right hands possess, partners in the wealth We have bestowed upon you, equal with you in respect thereof, so that you fear them as you fear each other (that you ascribe to Us partners out of that which We created)? Thus We display the revelations for people who have sense. (30:28)

یولج الیل فی النہار ویولج النہار فی الیل وسخر الشمس والقمر کل ینجری لاجل مسی ذلکم اللہ ربکم لہ المملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطیر ﴿۳۵ فاطر﴾

وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور (وہی) دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کی بادشاہی ہے۔ اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو (کسی چیز کے) مالک نہیں (13:35)

ONLY ALLAH (swt) BESTOWS GUIDANCE TO THE TRUTH AND HE IS WORTHY TO BE FOLLOWED ALONE

Say: Is there of your partners (whom you ascribe to Allah) one that leads to the Truth? Say: Allah leads to the Truth. Is He Who leads to the Truth more deserving that He should be followed, or he who finds not the way unless he (himself) is guided? What ails you? How you judge? (10:35)

مثل سلطة الالهة الباطلة

ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم من ما مملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتم انفسکم کذلک نفضل الایات لقوم یعقلون ﴿۳۰ الروم﴾

جھوٹے معبودوں کے اختیار کی ایک مثال

وہ تمہارے لئے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن (لوٹنی غلاموں) کے تم مالک ہو وہ اس (مال) میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں؟ اور (کیا) تم اس میں (ان کو اپنے) برابر (مالک سمجھتے) ہو (او رکھا) تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں (28:30)

لا یهدی الی الحق الا الله وهو احق ان یتبع

قل هل من شرکاء لکم من ینہدی الی الحق قل اللہ ینہدی الی الحق فمن ینہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا ینہدی الا ان ینہدی فما لکم کیف تمکون ﴿۱۰ یونس﴾

حق کی راہ دکھانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی پیروی کئے جانے کے لائق ہے

(جب پوچھیں) کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا راستہ دکھائے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ یا وہ کہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے راستہ نہ پائے۔ تو تم کو کیا ہوا ہے کیا انصاف کرتے ہو؟ (35:10)

No one can mislead anyone whom Allah guides. Is Allah not Powerful, the wielder of Retribution? (39:37)

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٣٧﴾

اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ (37:39)

A SIMILITUDE OF A MISLED PERSON WANDERING BEWILDERED AFTER LEAVING A RIGHTEOUS PATH OF MONOTHEISM

مثل حيرة المشرك في الاهتداء

اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرنے والے کی مثال

Say: Shall we appeal, instead of Allah, to that which neither profits us nor hurts us, and shall we turn back after Allah has guided us, like one bewildered whom the devils have infatuated through the earth, who has companions who invite him to the guidance (saying): Come to us? Say: The guidance of Allah is Guidance, and we are ordered to surrender to the Lord of the Worlds, (6:71)

قُلْ اَنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَوْثَوُۗهُ الشّٰيْطٰنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرٰنًا لَّهٗ اَصْحٰبٌ يَدْعُوْنَہٗ اِلَى الْهُدٰى اَتَيْنَا قُلَّ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى وَاْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ٧١﴾

کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا تو (کیا) ہم لٹے پاؤں پھر جائیں؟ (پھر ہماری ایسی مثال ہو) جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو (اور وہ) حیران (ہو رہا ہو) اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو راستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ آپ کہہ دیجئے کہ راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے فرمانبردار ہو جائیں (6:71)

The path of Allah, to Whom belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. Do not all things reach Allah at last? (42:53)

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِي لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرِ ﴿٥٣﴾
﴿٥٣ الشوری ٥٣﴾

(یعنی) اللہ کا راستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ کی طرف لوٹنے والے ہوں گے (اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا) (53:42)

EVERYTHING IS BOUND TO PERISH EXCEPT ALLAH(SWT)

لکل شیئی ما سوی اللہ فناء

اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے

Do not appeal to any other deity along with Allah, no god except Him. Everything is perishable except His face! Discretion belongs to Him and to Him will you (all) be returned. (28:88)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وِجْهَہٗ لَهٗ الْحُكْمُ وَاِلَيْہٖ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٨﴾
﴿٨٨ القصص ٨٨﴾

اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو (معبود سمجھ کر) نہ پکارنا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات (پاک) کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے (88:28)

More Reference : 55:26,27 Page 104

وللمزيد راجع ٥٥ الرحمن: ٢٦، ٢٧ الصفحة ١٠٤

مزید حوالہ 55:26,27 صفحہ 104

ALLAH(SWT) IS SUBLIMELY EXALTED OVER ANYTHING WHICH POLYTHEISTS MAY ASCRIBE AS A SHARE IN HIS DIVINITY

سبحان اللہ تعالیٰ عن مزعومات المشركين

اللہ تعالیٰ مشرکین کے نام نہاد عقائد سے اعلیٰ وارفع ہے

They worship besides Allah that which neither hurts them nor profits them, and they say: These are our intercessors with Allah. Say: Would you inform Allah of (something) that He knows not in the heavens or in the earth? Praised be He and high exalted above all that you associate with Him! (10:18)

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلٰى عَنَّا يَشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾
﴿١٨ يونس ١٨﴾

اور یہ (لوگ) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو۔ جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور (اس کی شان) ان کے شریک کرنے سے بہت بلند ہے (18:10)

More Reference : 7:190 27:63 Page 160,153

وللمزيد راجع ٧ الاعراف: ١٩٠، ٢٧ النمل: ٦٣

مزید حوالہ 7:190 27:63 صفحہ 160,153

POLYTHEISTS HAVE NOT RIGHTLY ESTIMATED THE POWER OF ALMIGHTY ALLAH(SWT)

They measure not Allah His rightful measure. Allah is Strong, Almighty. (22:74)

What is wrong, with you that you are not conscious of Allah's dignity (71:13)

More Reference : 3:102 Page: 306

DO NOT EXCEED REVERENCE TO WORSHIP

Consult Chapter MONOTHEISM

More Reference : 7:206 13:15 16:48 22:18 Page 113, 114

IDOLATRY IS PROHIBITED (WORSHIP OF PHYSICAL OBJECTS IS BANNED)

Is He Who is Aware of every soul (like any other who is aware of nothing)? Yet they ascribe to Allah partners. Say: Name them. Is it that you would inform Him of something which He knows not in the earth? Or is it but a way of speaking? No, but their contrivance is made seeming fair for those who disbelieve and they are kept from the right road. He whom Allah sends astray, for him there is no guide. (13:33)

Those to whom they appeal besides Allah created nothing, but are themselves created. (16:20)

(They are) dead, not living. And they know not when they will be raised. (16:21)

-----So shun the filth of idols----- (22:30) PART

No, but We have brought them the Truth, and they are liars. (23:90)

OPEN CHALLENGE OF ALLAH(SWT) TO THE IDOLATERS

Have they feet wherewith they walk, or have they hands where with they hold, or have they eyes wherewith they see, or have they ears wherewith they hear? Say: Call upon your (so-called) partners (of Allah), and then contrive against me, spare me not! (7:195)

ماقدروا الله حق قدره

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

﴿٢٢ الحج ٧٤﴾

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿٧١﴾

﴿٧١ نوح ١٣﴾

وللمزيد راجع ٣ آل عمران ١٠٢: الصفحة ٣٠٦

يجب التمييز بين المحبة والعبادة

وللتفصيل راجع باب التوحيد وللمزيد راجع ٧ الأعراف: ٢٠٦ ١٣ الرعد: ١٥ ١٦ النحل: ٤٨ ٢٢ الحج: ١٨: الصفحة ١١٣، ١١٤

النهي عن الوثنية

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿١٣﴾

﴿١٣ الرعد ٣٣﴾

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

﴿٢٠ النحل ٢٠﴾

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

﴿٢١ النحل ٢١﴾

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

﴿٢٢ الحج ٣٠﴾ جزء

بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾

﴿٩٠ المؤمنون ٩٠﴾

التحدى من الله للوثنيين

أَلَمْ لَهُمْ آرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَمَا تُنظِرُونَ ﴿١٩٥﴾

﴿١٩٥ الأعراف ١٩٥﴾

مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی

ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ (74:22)

تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد (برتری کا عقیدہ) نہیں رکھتے (13:71)

مزید حوالہ 102:3 صفحہ 306

محبت اور عبادت میں فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے

تفصیل کیلئے دیکھئے ابواب توحید مزید حوالہ 206:7 15:13 48:16 48:16 صفحہ 114, 113

بت پرستی کی ممانعت

تو کیا جو (اللہ) ہر شخص کے اعمال کا نگران (نگہبان) ہے (وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟) اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں۔ ان سے کہیں کہ (ذرا) ان کے نام تو لو کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں (کہیں بھی) جانتا ہی نہیں یا (محض) ظاہری (باطل اور جھوٹی) بات کی (تقلید کرتے ہو) اصل یہ کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ (ہدایت کے) راستے سے روک لئے گئے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں (33:13)

اور جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں۔ (20:16)

مردے ہیں زندہ نہیں اور ان کو خبر نہیں کہ کب اٹھائے جاویں گے۔ (21:16)

..... بس تمہیں بتوں کی گندگی (نجاست) سے بچتے رہنا چاہئے۔ (30:22) جزو بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے تو اور یہ (جو بت پرستی کے جاتے ہیں) بے شک جھوٹے ہیں (90:23)

اللہ تعالیٰ کا بت پرستوں کو چیلنج

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ ہی جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں (جو) تدبیر (کرنی ہو) کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو (پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں) (195:7)

**IDOLATRY (WORSHIP OF FALSE GODS)
AN OLD TRADITION OF DISBELIEVERS**

Allah has not appointed anything in the nature of a Bahirah or a Saibah or a Wasilah or a Ham, but those who disbelieve invent a lie against Allah. Most of them have no sense. (5:103)

عبادة الالهة من دون الله
عادة الكفار منذ الأزمان الغابرة

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی پرستش
زمانہ قدیم سے کفار کی عادت

اللہ نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے ہیں۔ اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے (103:5)

More Reference : 53:19,20 71:23 Page 590

وللمزيد راجع ٥٣ النجم: ٢٠، ١٩، ٢٠، ٧١ نوح: ٢٣

المزيد راجع 53: 20, 19, 23 صفحہ 590

**WORSHIP OF GOLDEN CALF
BY CHILDREN OF ISRAEL
AND OF COW IN HINDUISM**

And Moses came to you with clear proofs (of Allah's Sovereignty), yet while he was away, you chose the calf (for worship) and you were wrongdoers. (2:92)

And the folk of Moses, after (he had left them), designed (for worship), an effigy of calf (made) out of their ornaments, which (mooed) gave a lowing sound. Saw they not that it spoke not to them nor guided them in any way? They opted it, and thereby became wrong-doers. (2:148)

اتخاذ بنی اسرائیل العجل الها

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا قَوْمَ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهَةٍ خَوَارًا يَمْشِي وَاللَّهُ لَا يَكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾

گاؤ شالہ پرستی۔ قدیم فعل منکرین
(قوم بنی اسرائیل اور ہندوازم)

اور موسی تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے (کوہ طور پر جانے کے) بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم (اپنے ہی حق میں) ظلم کرتے تھے (92:2)

اور قوم موسی نے موسی کے بعد اپنے زیورات کا ایک بچھڑا بنالیا (وہ) ایک قالب (تھا جس میں) سے تیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے (معبود) بنالیا اور (اپنے حق میں) ظلم کیا (148:7)

More Reference : 2:51 to 54
Page 590, 1045, 1047, 590

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٥١ الى ٥٤
الصفحة ٥٩٠، ١٠٤٧، ١٠٤٥، ٥٩٠

المزيد راجع 51: 2 تا 54
صفحة 590, 1047, 1045, 590

**GLAD TIDINGS FOR THE PEOPLE WHO
TURN FALSE DEITIES AND TURN TO ALLAH(SWT)**

And those who put away false gods and that they should worship them and turn to Allah in repentance, for them there are glad tidings. Therefore give glad tidings to My bondmen (39:17)

بشرى من الله للمجتنبين الطاغوت
والمنيبين إلى الله

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿٣٩﴾

شرك سے اجتناب کرنے اور اللہ تعالیٰ
کی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے خوشخبری

اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لئے خوشخبری ہے۔ تو میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ (17:39)

**THE DEEDS OF POLYTHEIST
WHY WHO JOINS IN WORSHIP OTHERS WITH
ALLAH(SWT) WOULD RENDER VAIN**

Such is the guidance of Allah where He wills of His bondmen. But if they have set up (for worship) anything beside Him, (all) that they did would have been vain. (6:88)

الإشراك بالله
يؤدى إلى حبط الأعمال

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

شرك کا ارتکاب
اعمال کو ضائع کرنے کا موجب ہے

یہ اللہ کی ہدایت ہے اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے (88:6)

**ASKING OF INFIDELS
FOR MIRACULOUS DEMONSTRATION BY ALLAH(SWT)**

And those who have no knowledge say: Why does not Allah speak to us, or some sign come to us? Even thus, as they now speak, spoke those (who were) before them. Their hearts are all alike. We have made clear the revelations for people who are sure. (2:118)

**SCOFFING OF PAGANS
ON A WONDERFUL CONCEPT OF ONENESS
AND UNIQUENESS OF ALLAH(SWT)**

And they marvel that a warner from among themselves has come to them, and the disbelievers say: This is a wizard, a charlatan. (38:4)

Makes he the gods into One God? That is an astounding thing. (38:5)

The chiefs among them go about, exhorting: Go and be staunch to your gods! This is a thing designed. (38:6)

We have not heard of this in latter religion. This is nothing but an invention. (38:7)

**POLYTHEISM HAS NEVER BEEN PERMITTED
IN ANY REVEALED SCRIPTURE
AS IT IS NOTHING BUT CONJECTURE
WITHOUT ANY JUSTIFICATION**

They who are idolaters will say: Had Allah willed, we had not ascribed (to Him) partners neither had our fathers, nor had we forbidden anything. Thus did those who were before them give the lie (to Allah's messengers) till they tasted of the fear of Us. Say: Have you any knowledge that you can adduce for us? You follow nothing but an opinion. You do but guess. (6:148)

طلب المشركين
أن يخاطبهم الله مباشرة

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ
أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ
بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾
(البقرة ١١٨)

استعجاب الكفار على كون الإله
واحداً بغير شريك

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ
الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴿٣٨﴾
(ص ٤)

أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ
عَجَابٌ ﴿٥﴾
(ص ٥)

وَأَنْطَلِقُ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَى
إِلَهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾
(ص ٦)

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْإِلَهَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا لَأَلَا
اِخْتِلَافٌ ﴿٧﴾
(ص ٧)

لامبرر للشرك في الكتب السماوية
السابقة إنما المشركون خرافون

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا
وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا آحْزَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا
بِأَسْنَانِهِمْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ
لَنَا لِمَ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾
(الأنعام ١٤٨)

مشركين کا مطالبہ
اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا

اور جو لوگ (کچھ) نہیں جانتے (یعنی مشرک) وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے (سمجھانے کے) لئے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں (118:2)

کفار کا ایک معبود کے نظریے
پر اظہار تعجب

اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان ہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادو گر ہے جھوٹا (4:38)

کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے (5:38)

تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے (اور بولے) کہ چلو اور اپنے معبودوں (کی پوجا) پر قائم رہو۔ بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے (تم پر شرف و فضیلت) مقصود ہے (6:38)

یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے (7:38)

کسی آسمانی کتاب میں شرک کی اجازت نہیں
مشرکین محض انکل سے کام چلاتے ہیں جس کی
ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے

جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا (شرک کرتے) اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے (اگر ہے) تو اسے ہمارے سامنے نکالو۔ تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور انکل کے تیر چلاتے ہو (148:6)

Say, for Allah is the final argument, Had He willed, He could indeed have guided all of you. (6:149)

Most of them follow nothing but conjecture. Assuredly conjecture can by no means take the place of truth. Allah is Aware of what they do. (10:36)

Is it not to Allah that belongs whosoever is in the heavens and whosoever is in the earth? Those who follow anything instead of Allah follow not (His) partners. They follow only a conjecture, and they do but guess. (10:66)

And they worship instead of Allah that for which no warrant has been revealed to them, and that whereof they have no knowledge. For evil doers there is no helper. (22:71)

He who cries to any other god along with Allah has no proof thereof. His reckoning is only with his Lord. Disbelievers will not be successful. (23:117)

And they say: If the Beneficent One had (so) willed, we should not have worshipped them. They have no knowledge whatsoever of that. They do but guess. (43:20)

Or have We given them any Scripture before (this Qur'an) so that they are holding fast thereto? (43:21)

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

﴿١٤٩ الانعام﴾

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿١٠﴾

﴿١٠ يونس﴾

أَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٠﴾

﴿١٠ يونس﴾

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾

﴿٧١ الحج﴾

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

﴿١١٧ المومنون﴾

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا لَهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

﴿٢٠ الزخرف﴾

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾

﴿٢١ الزخرف﴾

کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا (6:149)

اور ان میں سے اکثر صرف گمان پر چل رہے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا بے شک اللہ ان کے (سب) اعمال سے واقف ہے (10:36)

یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض قیاسی باتیں کر رہے ہیں (10:66)

اور (یہ لوگ) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مدد گار نہیں ہوگا (22:71)

اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ کافر سیدھا راستہ نہیں پائیں گے (23:117)

اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے ان کو اس کا کچھ علم نہیں۔ یہ تو صرف اٹکل (جھوٹی باتیں) کہتے ہیں (20:43)

یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں (21:43)

More Reference : 2:170 16:35 31:21
Page 155

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٧٠: ١٦ النحل: ٣٥: ٣١ لقمان: ٢١: الصفحة ١٥٥

مزید حوالہ 2:170 16:35 31:21
صفحہ 155

POLYTHEISTS ARE ASKED TO CONTEMPLATE ON DIVINE'S BOUNTIES TO UNDERSTAND THE UNIQUENESS OF ALLAH (SWT)

اللہ يدعو المشركين إلى التفكير في آلاءه حتى يشعروا توحيد الله

مشركين کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لانے کے لئے نعمتوں پر غور و فکر کی دعوت

ay: Have you imagined, if Allah should take away your hearing and your sight and seal your hearts, who the god who could restore it to you except Allah? See how We display the revelations to them? Yet they turn away in disdain!. (6:46)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿٤٦﴾

(ان کافروں سے) کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشنے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ روگردانی کئے جاتے ہیں (46:6)

Is not He (best) Who guides you in the darkness of the land and the sea, He Who sends the winds as heralds of His mercy? Is there any god besides Allah? High exalted be Allah from all that they ascribe as partner (to Him)! (27:63)

أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ
وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ طَعْمَ الْغُلَّةِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾
﴿٢٧ النمل ٦٣﴾

بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راستہ بتاتا اور (کون) ہواؤں کو اپنی رحمت کی خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے (یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے) تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ (کی شان) اس سے بلند ہے (63:27)

More Reference : 36:43 42:33 67:30
Page 340, 348

والمزید راجع ۳۶ یس: ۴۳ ۴۲ الشوری: ۳۲
۶۷ الملک: ۳۰ الصفحة ۳۴۰، ۳۴۸

مزید حوالہ: 30:67 33:42 43:36
صفحة 348, 340

**POLYTHEISTS ARE VISIONLESS
(HARD TO CONCEIVE TRUTH)**

Say Who is Lord of the heavens and the earth? Say: Allah! Say: Take you then (others) besides Him for protectors, which, even for themselves, have neither benefit nor hurt? Say: Is the blind man equal to the seer, or is darkness equal to light? Or assign they to Allah partners who created the like of His creation so that the creation (which they made and His creation) seemed alike to them? Say: Allah is the Creator of all things, and He is the One, the Almighty. (13:16)

المشركون عميان عن الحق

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ
قُلْ أَفَاتُخَذُ ثَمَرًا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ
وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ
فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾
﴿١٣ الرعد ١٦﴾

مشركين راه حق دیکھنے سے قاصر (عاری) ہیں

آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ کیا پھر بھی تم نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار قرار دے رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے یا کہیں تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی پیدا کیا ہو جیسا اللہ پیدا کرتا ہے پھر ان کو پیدا کرنا ایک سا معلوم ہوا ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی واحد ہے غالب ہے (16:13)

For you cannot make the dead to hear, nor can you make the deaf to hear the call when they have turned to flee. (30:52)

فَأَنْتَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ
إِذَا وَلَوْ أَمْدُ بِرِينَ ﴿٥٢﴾
﴿٣٠ الروم ٥٢﴾

تو آپ مردوں کو (بات) نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں (52:30)

Nor can you guide the blind out of their error. You can make none to hear save those who believe in Our revelations so that they surrender (to Him). (30:53)

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَاتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ
إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ مِنْ بَيْنِنَا فَمَنْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٣٠ الروم ٥٣﴾

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے (نکال کر) راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو ان ہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہی فرمانبردار ہیں (53:30)

Is he who goes groping on his face more rightly guided, or he who walks upright on a beaten road? (67:22)

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ
يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾
﴿٦٧ الملک ٢٢﴾

بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ (22:67)

**ALL MESSENGERS OF
ALLAH (swt) PROCLAIMED
AGAINST POLYTHEISM**

And Moses said to his people: Seek help in Allah and endure. The earth is Allah's. He gives it for an inheritance to whom He wills. And the sequel is for those who keep their duty (to Him). (7:128)

**نہی کل رسول من اللہ
عن عبادة الطاغوت**

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾
﴿٧ الاعراف ١٢٨﴾

**ہر پیغمبر نے توحید کا درس دیا
شرک (طاغوت کی عبادت) سے روکا**

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو زمین تو اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے۔ اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے (128:7)

And We have raised in every nation a messenger, (proclaiming): Serve Allah and shun false gods. Then (there were) some of them whom Allah guided, and (there were) some of them upon whom error had just held. Do but travel in the land and see the nature of the consequence for the deniers! of truth (16:36)

Or have they chosen other gods besides Him? Say: Bring your proof (of their godhood). This is the Reminder of those with me and those before me, but most of them know not the Truth and so they are averse. (21:24)

And We sent no messenger before you but We inspired him, (saying): There is no god except Me (Allah), so worship Me. (21:25)

He said: My Lord! Judge you with truth. Our Lord is the Beneficent, Whose help is to be implored against that which you ascribe (to Him). (21:112)

Say (O Muhammad, to the disbelievers): Do you bid me serve other than Allah? O you fools! (39:64)

And it has been revealed to you as to those before you (saying): If you ascribe a partner to Allah your work will fail and you indeed will be among the losers. (39:65)

None, but Allah must you serve, and be among the thankful! (39:66)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْفِرِينَ ﴿١٦﴾ النحل ٣٦

أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا مَلَأُوا بِرُءُوسِهِمْ لِيَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَلا يَفْقَهُوا قَوْلَهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢١﴾ الانبياء ٢٤

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢١﴾ الانبياء ٢٥

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾ الانبياء ١١٢

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٣٩﴾ الزمر ٦٤

وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَجْبُطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٩﴾ الزمر ٦٥

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٣٩﴾ الزمر ٦٦

اور ہم ہی نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں (کی پرستش) سے اجتناب کرو۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی سوزین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا (36:16)

کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنالئے ہیں کہہ دیجئے کہ (اس بات پر) اپنی دلیل پیش کرو یہ (میری اور) میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے (پیغمبر) ہوئے ہیں۔ ان کی کتابیں بھی ہیں۔ بلکہ (بات یہ ہے کہ) ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لئے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں (24:21)

اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو (25:21)

(پیغمبر نے) کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ (112:21)

کہہ دیجئے کہ اے نادانو! تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں (64:39)

اور (اے محمد) آپ کی طرف اور ان (پیغمبروں) کی طرف جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے (65:39)

بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو (66:39)

Consult : Chapter of ultimate fate of Polytheists Page 836,842,846

Noah - Nuh (PBUH) Page 917
More Reference 10:71 11:26

Yasha - Al-yas'a (PBUH) Page 1066
More Reference 37:125

Shaber - Hud (PBUH) Page 929
More Reference 7:65 11:50

Ibrahim - Ibrahim (PBUH) Page 944
More Reference 6:74,78,79 19:42,49

Shu'ro - Shu'aib (PBUH) Page 997
More Reference 11:87

Moses - Musa (PBUH) Page 1004
More Reference 19:36

Eisa - Eisa (PBUH) Page 1095
More Reference 3:51

والمزید راجع : باب عاقبة المشركين الصفحة ٨٤٦,٨٤٢,٨٣٦

نوح الصفحة ٩١٧
والتفصیل راجع ١٠ یونس: ٧١ ١١ هود: ٢٦

الیاس الصفحة ١٠٦٦
والتفصیل راجع ٣٧ الصافات: ١٢٥

هود الصفحة ٩٢٩
والتفصیل راجع ٧ الأعراف: ٦٥ ١١ هود: ٥٠

ابراهیم الصفحة ٩٤٤
والتفصیل راجع ٦ الأنعام: ٧٤, ٧٨, ٧٩ ١٩ مریم: ٤٩, ٤٢

شعیب الصفحة ٩٩٧
والتفصیل راجع ١١ هود: ٨٧

موسی الصفحة ١٠٠٤
والتفصیل راجع ١٩ مریم: ٣٦

عیسی الصفحة ١٠٩٥
والتفصیل راجع ٣ آل عمران: ٥١

المزید حوالہ : دیکھئے باب مشرکین کا انجام (روز قیامت) صفحه 846,842,836

حضرت نوح صفحه 917
تفصیل کیلئے دیکھئے 10: 71 11: 26

حضرت الیاس صفحه 1066
تفصیل کیلئے دیکھئے 37: 125

حضرت ہود صفحه 929
تفصیل کیلئے دیکھئے 7: 65 11: 50

حضرت ابراہیم صفحه 944
تفصیل کیلئے دیکھئے 6: 74,78,79 19: 42,49

حضرت شعیب صفحه 997
تفصیل کیلئے دیکھئے 11: 87

حضرت موسیٰ صفحه 1004
تفصیل کیلئے دیکھئے 19: 36

حضرت عیسیٰ صفحه 1095
تفصیل کیلئے دیکھئے 3: 51

FOLLOWING FOOTPRINTS OF FOREFATHERS WHO WERE VOID OF WISDOM AND GUIDANCE AND CONFIRMITY OF ANCESTRAL BELIEF WITHOUT USING OWN REASONS

اتبع سلك الاملاك والاباء والجدات و
السنن العتيبة السراويل على غير ما

مخيل في اثار الاليت في اولي القليل
بلا تخين (بلا سب سے گئے) سنا ان کی پیروی

And when it is said to them: Follow that which Allah has revealed, they say: We follow that wherein we found our fathers. What! Even though their fathers were wholly unintelligent and had no guidance? (2:170)

وَإِذ قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾
﴿٢ البقرة ١٧٠﴾

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں (تب بھی انہی کی تقلید کئے جائیں گے) (170:2)

(Saying): Follow that which is sent down to you from your Lord, and follow no protecting friends besides Him. Little do you recollect! (7:3)

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾
﴿١٧ الاعراف ٣﴾

(لوگو) جو (کتاب) تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو۔ اور اس کے سوا اور دوستوں کی پیروی نہ کرو (اور) تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو (3:7)

Or lest you should say: (It is) only (that) our fathers ascribed partners to Allah of old and we were (their) seed after them. Will You destroy us on account of that which those who follow falsehood did? (7:173)

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾
﴿١٧ الاعراف ١٧٣﴾

یا یہ (نہ) کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا۔ اور ہم تو ان کی اولاد تھے (جو) ان کے بعد (پیدا ہوئے) تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ (173:7)

Thus We detail Our revelations, that haply they may return. (7:174)

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾
﴿١٧ الاعراف ١٧٤﴾

اور اسی طرح ہم (اپنی) آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں (174:7)

So be not you in doubt concerning that which these (folk) worship. They worship only as their fathers worshipped aforetime. We shall pay them their whole due unabated. (11:109)

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُونَ هَؤُلَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِن لَّكَ لَئُوفٌ بِهِمْ نَصِيحَةٌ مِّن قَبْلُ ﴿١٠٩﴾
﴿١١ هود ١٠٩﴾

تو یہ لوگ جو (غیر اللہ کی) پرستش کرتے ہیں۔ اس سے تم شک و شبہ میں نہ پڑنا۔ یہ (اسی طرح) پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں۔ اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا کسی کمی کے بغیر دینے والے ہیں (109:11)

And the idolaters say: Had Allah willed, we had not worshipped anything besides Him, we and our fathers, had not we forbidden anything without (command from) Him. Even so did those before them. Anything the messengers charged with nothing except plain conveyance (of the message)? (16:35)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ مِّن شَيْءٍ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَزَمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾
﴿١٦ النحل ٣٥﴾

اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی (پوجتے) اور نہ اس کے (فرمان کے) بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے (اے پیغمبر) اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبروں کے ذمے (خدا کے احکام کو) کھول کر سنا دینے کے سوا کچھ نہیں (35:16)

And if it be said to them: Follow that which Allah has revealed, they say: No, but we follow that wherein we found our fathers. What! Even though the devil was inviting them to the doom of flame? (31:21)

وَإِذ قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾
﴿٣١ لقمان ٢١﴾

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو (تب بھی) (21:31)

They indeed found their fathers astray, (37:69)

إِنَّهُمْ الْفَوَّابِءُ هُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾
﴿٣٧ الصفت ٦٩﴾

انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا (69:37)

But they make haste (to follow) in their footsteps. (37:70)

فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾
﴿٣٧ الصفت ٧٠﴾

سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں (70:37)

No, for they say only: We found our fathers following a religion, and we are guided by their footprints. (43:22)

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٢﴾
﴿٤٣ الزخرف ٢٢﴾

بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے اور ہم ان ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں (22:43)

And even so We sent not a warner before you (Muhammad) into any township but its luxurious ones said: We found our fathers following a religion, and we are following their footprints. (43:23)

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ٢٣﴾

اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی آبادی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم ان ہی کے پیچھے چلتے ہیں (23:43)

And the warner) said: What! Even though I bring you better guidance than that you found your fathers following? They answered: In what you bring we are disbelievers. (43:24)

قُلْ أَوَلَوْ جِئْتَكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قُلْتُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾
﴿٤٣ الزخرف ٢٤﴾

پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا (دین) لاؤں کہ جس (راستے) پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہو کہنے لگے کہ جو (دین) تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے (24:43)

So We requited them. Then see the nature of the consequence. (43:25)

فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٢٥﴾
﴿٤٣ الزخرف ٢٥﴾

تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا (25:43)

More Reference : 5:104 Page 783

Consult Chapters Witch Craft- Wizardry-Taking Omen Page 157 Superstitions Page 159

وللمزيد راجع ٥ المائدة: ١٠٤ الصفحة ٧٨٣ راجع الأبواب (السحروالتفاول والتكهن) الصفحة ١٥٧ التوهمات الصفحة ١٥٩

مزید حوالہ 104:5 صفحه 783

دیکھئے ابواب (جادوگری-منتر-قال گیری) صفحه 157 توہم پرستی صفحه 159

TEACHING AND BUYING OF MAGIC - WITCH CRAFT - WIZARDRY - TAKING OMEN

السحر والشعوذة والكهنة

جادوگری (سحر) سترت فال گیری

PRACTICE OF SATANS DURING THE ERA OF SOLOMON (PBUH) FOR TEMPTATION AND TRIAL OF PEOPLE

And follow that which the devils falsely related against the kingdom of Solomon. Solomon disbelieved not; but the devils disbelieved, teaching mankind magic and that which was revealed to the two angels Harut and Marut in Babylon. Nor did they (the two angels) teach it to anyone till they had said: We are only a temptation, therefore disbelieve not (in the guidance of Allah). And from these two (angels) people learnt that by which they caused separation between man and wife, but they harmed thereby no one except by Allah's permission. And they learnt that which harmed them and benefited them not. And surely they knew that he who traffics therein will have no (happy) portion in the Hereafter; and surely evil is the price for which they sell their souls, if they but knew. (2:102)

And if they had believed and kept from evil, a recompense from Allah would be better, if they only knew. (2:103)

TEACHING DECEPTIVE ATTRACTIONS LIKE FRAUD - TRICKS - AND BEGUILE

-----They inspire in one another plausible discourse through guile. If your Lord willed, they would not do so; so leave them alone with their devising; (6:112) PART

That the hearts of those who believe not in the Hereafter may incline thereto, and that they may take pleasure therein, and that they may earn what they are earning. (6:113)

أعمال الشياطين في عصر سليمان عليه السلام

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ
بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ
أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلْقٍ نَّاسٍ مَّا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾
﴿٢ البقرة ١٠٢﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾
﴿٢ البقرة ١٠٣﴾

تعليم الدجل والخداع والحيلة والضلالة

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
فِي زُخْرَفِ الْقَوْلِ عُرُودًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا
فَعَلُوهُ فَذُرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾
﴿٦ الانعام ١١٢﴾ جزء

وَلِيَتَصْنَعِيَ إِلَيْهِ أَفِيدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا
مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾
﴿٦ الانعام ١١٣﴾

دور حضرت سليمان عليه السلام میں لوگوں کی آزمائش کے لئے شیاطین کے کام

اور ان (ہزلیات) کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سليمان نے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور سليمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے بھی (پیچھے لگ گئے) جو شہر بابل میں دو فرشتوں (یعنی) ہاروت اور ماروت پر اتاری تھیں۔ اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو (ذریعہ) آزمائش ہیں۔ تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا (جادو) سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس (جادو) سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اور کچھ ایسے (ستر) سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے۔ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں (یعنی سحر اور ستر) وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ (اس بات کو) جانتے (102:2)

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے (103:2)

مکر و فریب۔ چال بازی اور حیلے سکھانا

----- وہ دھوکا دینے کے لئے ایک دوسرے کے دل میں طمع کی باتیں (چکنی چٹری باتوں کا دوسرے) ڈالتے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو (112:6) جزو

اور (وہ ایسے کام) اس لئے بھی (کرتے تھے) کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں (113:6)

ALLAH(SWT) HAS CURSED ALL MEANS OF DIVINATION - SORCERERS - MAGICIANS AND PROVIDERS OF ANY FALSE BELIEF

Have you not seen those, to whom a portion of the Scripture has been given, how they believe in idols and false deities, and how they say of those (idolaters) who disbelieve: "These are more rightly guided than those who believe?" (4:51)

These are they whom Allah has cursed, and he whom Allah has cursed; you will find for him no helper. (4:52)

Have they even a share in the sovereignty? Then in that case, they would not give mankind even the weight of a date stone. (4:53)

ULTIMATE FATE OF ENCHANTERS - MAGICIANS - WIZARDERS - SORCERERS AND CONJURERS

For Reference: 7:118 20:97 Page 1026,158

ONE MUST TRUST IN ALLAH'S(SWT) WILL ABSOLUTELY INSTEAD OF BELIEVING IN FALSE OBJECTS AND DECEPTIVE ATTRACTIONS

No calamity befalls except by Allah's leave. And whosoever believes in Allah, He guides his way. And Allah is Knower of all things. (64:11)

More Reference: 113:1 to 5 Page 1127,1128

CALLING MESSENGERS AS SORCERERS IS A TRADITION OF DISBELIEVERS

Even if there came no messenger to those before them but they said: A wizard or a madman! (51:52)

الجبت والطاغوت ملعونون

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَّحِيمٌ ﴿٥١﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا آلَا يَوْمُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

مصير الساحرين

وللتفصيل راجع ٧ الأعراف: ١١٨ ٢٠ طه: ٩٧

الإيمان الواثق بالله يكفي، لا حاجة للمؤمنين إلى السحر والتفاول والتكهن

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

وللمزيد راجع ١١٣ الفلق: ١ الى ٥

من دأب الكافرين اتهام انبياء الله بكونهم الساحرين أو المسحورين

كَذَٰلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنَّونٌ ﴿٥٢﴾

جبت (کاہن اور ساحر) ہر اس ذریعے پر جو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان میں کمزوری کا باعث بنے) پر اللہ تعالیٰ کی لعنت

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے راستے پر ہیں (51:4)

یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے (52:4)

کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کجھور کی گھٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے (53:4)

جادوگروں کا انجام

تفصیل کیلئے دیکھئے 7:118 20:97 صفحہ 1026,158

منتر، ٹونہ اور دوسوں کی بجائے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کی ہدایت

کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے (64:11)

مزید حوالہ 113:1-5 صفحہ 1127,1128

منکرین و مشرکین نے تمام پیغمبران اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ جادوگر یا جادو زدہ کہا

اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے (52:51)

For Detail Page	5:110 1099	6:7 239	7:109 1024	٧: الأنعام: ١١٠	٥ المائدة: ١٠٩	١٠٩: ٧ الأعراف: ١٠٩	١٠٩: ٧ الأعراف: ١٠٩	١٠٩: ٧ الأعراف: ١٠٩	١٠٩: ٧ الأعراف: ١٠٩	١٠٩: ٧ الأعراف: ١٠٩	١٠٩: ٧ الأعراف: ١٠٩	١٠٩: ٧ الأعراف: ١٠٩	١٠٩: ٧ الأعراف: ١٠٩
10:2,76	25:8	26:34	27:13	٨: الفرقان: ٢٥	٧٧:٧٦:٢٠	٢٦ الشعراء: ٣٤	٢٦ الشعراء: ٣٤	٢٦ الشعراء: ٣٤	٢٦ الشعراء: ٣٤	٢٦ الشعراء: ٣٤	٢٦ الشعراء: ٣٤	٢٦ الشعراء: ٣٤	٢٦ الشعراء: ٣٤
109,1019	195	1024	1020	٢٨ القصص: ٢٤	١٣: التمل: ١٣	١٠: الصافات: ١٠	١٠: الصافات: ١٠	١٠: الصافات: ١٠	١٠: الصافات: ١٠	١٠: الصافات: ١٠	١٠: الصافات: ١٠	١٠: الصافات: ١٠	١٠: الصافات: ١٠
28:36	37:15	38:4	40:24	٤٠ المنون (غافر): ٢٤	٣٨ ص: ٤	٤٩ الزخرف: ٤٩	٤٩ الزخرف: ٤٩	٤٩ الزخرف: ٤٩	٤٩ الزخرف: ٤٩	٤٩ الزخرف: ٤٩	٤٩ الزخرف: ٤٩	٤٩ الزخرف: ٤٩	٤٩ الزخرف: ٤٩
1020	198	151	1030	٥١ الداريات: ٢٩	٧: الأحقاف: ٧	٧٤ المدثر: ٢٤	٧٤ المدثر: ٢٤	٧٤ المدثر: ٢٤	٧٤ المدثر: ٢٤	٧٤ المدثر: ٢٤	٧٤ المدثر: ٢٤	٧٤ المدثر: ٢٤	٧٤ المدثر: ٢٤
43:49	46:7	51:39	74:24										
1033	234	1021	234										

SUPERSTITIONS

الترومات

توہم برقی

FALSE BELIEF AND CUSTOMS OF ARAB PAGANS IN BYGONE TIMES OF IGNORANCE

معتقدات العرب وأوهامهم
وتقالیدهم فی العهد الجاهلی

زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کی
توہمات رسوم و رواج

-----It is not righteousness that you go to houses by the backs thereof (as do the idolaters at certain seasons), but the righteous man is he who wards off (evil). So go to houses by the gates thereof, and observe your duty to Allah, that you may be successful. (2:189) PART

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ أَبْوَابِهَا مِمَّا وَضَعُوا لَكُمْ فِيهَا مَدْخُلًا
مَّا كُنْتُمْ تَخْفَوْنَ ﴿١٨٩﴾ جزاء

اور نیکی اس بات میں نہیں کہ (حرام کی حالت میں) گھروں میں ان کے پچھواڑے (پچھے) کی طرف سے آؤ بلکہ نیک وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ (2:189) جزو

They invoke in His stead only females; they pray to none else than Satan, a rebel. (4:117)

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهَا إِلَّا إِنثَاءً وَإِنْ
يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾

وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ (4:117)

Whom Allah cursed, and he said: Surely I will take of Your bondmen an appointed portion, (4:118)

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے (وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں) جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ (4:118)

And surely I will lead them astray, and surely I will arouse desires in them, I will order them to slit the ears of cattle and surely I will command them and they will change Allah's creation. Whosoever chooses Satan for patron instead of Allah is a loser and his loss is manifest. (4:119)

وَلَأضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمْرئُهُمْ
فَلْيَبْئِثَنَّ إِذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأْمُرَّهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ
خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

میں انہیں بھٹکاؤں گا اور انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیر دیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا دوست و سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ (4:119)

And they say: Such cattle and crops are forbidden. No one is to eat of them except whom we wish, in their make believe, cattle whose backs are forbidden, cattle over which they mention not the name of Allah. (All that is) a lie against Him. He will repay them for that which they invent. (6:138)

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرَّمَ حَبْرٌ لَا يَطْعَمُهَا
إِلَّا مَنِ اتَّبَعْنَا بَرٌّ عِبَهُمْ وَأَنْعَامٌ حَرِّمَتْ ظُهُورُهَا
وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً
عَلَيْهِمْ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے۔ اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے اور (بعض) چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے۔ اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر (ذبح کرتے وقت) اللہ کا نام نہیں لیتے۔ سب اللہ پر جھوٹ ہے۔ وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا (6:138)

And they say: That which is in the bellies of such cattle is reserved for our males and is forbidden to our wives; but if it is still (born), dead, then they (all) may be partakers thereof. He will reward them for their attribution (ordinances to Him). Indeed, He is Wise, Aware. (6:139)

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
لِّذَكَورِنَا وَمُعَرَّمَةٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ
مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ
وَصَفَّهُمْ آتَاهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لئے ہے۔ اور ہماری عورتوں کو (اس کا کھانا) حرام ہے۔ اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں (یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں) عنقریب اللہ ان کو ان کی غلط بیانیوں کی سزا دے گا۔ بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے (6:139)

Say: Come, bring your witnesses who can bear witness that Allah forbade (all) this. And if they bear witness, do not you bear witness with them. Follow you not the whims of those who deny Our revelations, those who believe not in the Hereafter and deem (others) equal with their Lord. (6:150)

قُلْ هَلْ مَعَكُمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں پھر اگر وہ (آکر) گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور (بتوں کو) اپنے پروردگار کے برابر ٹھیراتے ہیں (150:6)

But when He gave to them healthy child, they ascribed partners to Him in respect of that which He had given them. High is He, exalted above all that they associate (with Him)! (7:190)

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾

جب وہ (اللہ) ان کو صحیح و سالم (بچہ) دیتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ جو وہ شریک کرتے ہیں اللہ (کارتبہ) اس سے بلند ہے (190:7)

Postponement (of a sacred month) is only an excess of disbelief whereby those who disbelieve are misled, they allow it one year and forbid it (another) year, that they may make up the number of the months which Allah has hallowed, so that they allow that which Allah has forbidden. The evil of their deeds is made fair-seeming to them. Allah guides not the disbelieving folk. (9:37)

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُرِينٌ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کئے ہیں گنتی پوری کر لیں اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (37:9)

And that the foolish one among us used to speak concerning Allah an atrocious lie. (72:4)

وَإِنْ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٧٢﴾

اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے قوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کیا کرتا تھا (4:72)

And we had supposed that humankind and jinn would not speak a lie concerning Allah. (72:5)

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٧٢﴾

اور ہمارا (یہ) خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے (5:72)

And indeed individuals of humankind used to invoke the protection of individuals of the jinn, so that they increased them in revolt (against Allah); (72:6)

وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُدْعُونَ مِنَ الْإِنْسِ بِعُودُونٍ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٧٢﴾

اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے (اس سے) ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی (6:72)

For Reference : 6:144,145 9:13 Page 503,505,719

وللمزيد راجع ٦ الأنعام: ١٤٤، ١٤٥، ٩ التوبة: ١٣ الصفحة ٧١٩، ٥٠٥، ٥٠٣

مزید حوالہ 6:144,145 9:13 صفحہ 719,505,503

DECIDING ARBITRARILY ANY WHOLESOME THING AS UNLAWFUL IS FORBIDDEN

لا يجوز تحريم ما احل الله

کسی حلال چیز کو اپنے اوپر خود بخود حرام قرار دینا جائز نہیں

and speak not, concerning that which your own tongues qualify (as clean or unclean), the falsehood: "this is lawful, and this is forbidden," so that you invent a lie against Allah. Those who invent a lie against Allah will not succeed. (16:116)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

اور یونہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا (116:16)

Detail Consult : 2:9 Page 489

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٩ الصفحة ٤٨٩

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:9 صفحہ 489

APOSTASY

الارتداد عن الدين

ارتداد = مرتد ہونا

FORSAKING FAITH AND ALIGNING WITH DISBELIEVERS

اختيار الكفر بعد الإيمان

ایمان لانے کے بعد کافر ہوجانا

-----And whoso becomes a renegade and dies in his disbelief: Such are they whose works have fallen both in the world and the Hereafter. Such are rightful owners of the Fire: They will abide therein. (2:217) PART

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ البقرة ٢١٧ ﴿جزء ٢﴾

اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر (کافر ہو) جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزخ (میں جائیں) والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے (2:217) جزو

How shall Allah guide a people who disbelieved after their belief and (after) they bore witness that the messenger is true and after clear proofs (of Allah's Sovereignty) had come to them. And Allah guides not wrongdoing folk. (3:86)

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ آل عمران ٨٦ ﴿جزء ٣﴾

اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور (پہلے) اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آگئے اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا (3:86)

As for such, their guerdon is (that rests on them) the curse of Allah and of angels and of men combined. (3:87)

أُولَئِكَ جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ﴿٨٧﴾ آل عمران ٨٧ ﴿جزء ٣﴾

ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو (3:87)

Those who disbelieve and turn from the way of Allah and oppose the messenger after the guidance has been manifested to them, they will never hurt Allah, in anyway and He will make their actions fruitless. (47:32)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّنَا لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾ محمد ٣٢ ﴿جزء ٤٧﴾

جن لوگوں کو سیدھا راستہ معلوم ہو گیا (اور) پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور اللہ ان کا سب کیا کرایا (سب اعمال) اکارت (ضائع) کر دے گا (32:47)

More Reference : 9:66 47:25
Page 94,385

والمزيد راجع ٩ التوبة: ٢٢ ٤٧ محمد: ٢٥
الصفحة ٣٨٥,٩٤

مزید حوالہ 25:47 66:9
صفحہ 385,94

AGONY OF APOSTATE IN THE LIFE HEREAFTER

مصير المرتدين يوم القيامة

مرتد کے لئے عذاب آخرت

They will abide therein. Their doom will not be lightened; neither will they be reprieved; (3:88)

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ آل عمران ٨٨ ﴿جزء ٣﴾

ہمیشہ اس لعنت میں (گرفتار) رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی (88:3)

Those who disbelieve, and die in disbelief, the (whole) earth full of gold would not be accepted from such a one if it were offered as a ransom (for his soul). Theirs will be a painful doom and they will have no helpers. (3:91)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أُفْتَدِيَ بِهِ بِأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاللَّهُ مِنْ تَوَّابِينَ ﴿٩١﴾ آل عمران ٩١ ﴿جزء ٣﴾

جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر (نجات حاصل کرنی چاہیں اور) بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا (91:3)

<p>MUHAMMAD <small>SAWS (SALAMU ALAYHIS WASALAM)</small> MAY THE PEACE AND BLESSINGS OF ALLAH BE UPON HIM (SAID WHENEVER THE NAME OF THE PROPHET MUHAMMAD IS MENTIONED OR WHENEVER HE IS REFERRED TO AS PROPHET OF ALLAH)</p>	<p>رحمته رسول الله ﷺ</p>	<p>حضرت محمد ﷺ رسول الله</p>
---	--------------------------	------------------------------

And those who believe and do good deeds and believe in that which is revealed to Muhammad--and it is the truth from their Lord--He rids them of their ill deeds and improves their attitude. (47:2)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ
 عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٤٧﴾ محمد ٢

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو (کتاب) محمد پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیئے اور ان کی حالت سنواری (2:47)

Muhammad is the messenger of Allah.----- (48:29) PART

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴿٤٨﴾ الفتح ٢٩ جزء

محمد ﷺ کے پیغمبر ہیں ----- (29:48) جزو

More Reference : 4:136,79 33:21 48:28
 Page 98, 172, 99

والمزيد راجع ٤ النساء ٧٩، ١٣٦، ٤٨ الفتح ٢٨،
 ٣٣ الأحزاب ٢١: الصفحة ٩٩، ١٧٢، ٩٨

مزيد حوالہ 4:136، 79، 33:21، 48:28
 صفحہ 98، 172، 99

**FORETOLD IN TORAH (OLD TESTAMENT) AND
 GOSPEL (NEW TESTAMENT)**

ذکر النبی الکریم ﷺ
 فی التوراة و الإنجیل

آپ ﷺ کا ذکر مبارک تورات و انجیل میں

Those who follow the messenger, the Prophet who can neither read nor write, whom they will find described in the Torah and the Gospel (which are) with them. ----- (7:157) PART

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
 يَجِدُونَ أَتُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
 وَالْإِنْجِيلِ ﴿٧﴾ الاعراف ١٥٧ جزء

وہ جو (محمد) رسول (اللہ) کی جو نبی امی ہیں کی پیروی کرتے ہیں جن (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں ----- (157:7) جزو

More Reference : 48:29 Page 247/249

والمزيد راجع ٤٨ الفتح ٢٩: الصفحة ٢٤٧/٢٤٩

مزيد حوالہ 48:29 صفحہ 247/249

**LEARNED JEWS TESTIFIED MUHAMMAD(SAAS)
 AS HOLY PROPHET IN LIGHT OF THE
 FORESHADOWS IN THEIR REVEALED BOOKS**

تصديق علماء بنى اسرائيل على ضوء
 صحفهم بأن محمداً رسول الله

تواضع بنى اسرائيل (يهود) کے اہل دانش نے اپنے صحیفوں کی روشنی میں حضرت محمد ﷺ کی بطور رسول اللہ تصدیق کی

Have you considered if it is from Allah and you disbelieve therein, and a witness of the Children of Israel has already testified to the like thereof and has believed, and you are too proud (what plight is yours)? Allah, guides not wrongdoing folk. (46: 10)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُوا
 ثُمَّ بِهِمْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 عَلَى مِثْلِهِ قَامِنًا وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ لَمْ يَهْدِ
 لَكُمْ آيَاتِنَا أَتَأْتُونَ اللَّهَ بَعْتًا ﴿٤٦﴾ الاحقاف ١٠

آپ کہہ دیجئے اگر یہ (قرآن) اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور نبی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک (کتاب) کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی (تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے) بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (10:46)

**SUPPLICATION OF ABRAHAM(PBUH)
 ABOUT ENUNCIATION
 OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)**

دعاء إبراهيم عليه السلام
 لبعثة محمد ﷺ

آپ ﷺ کے بارے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

Our Lord! And raise up in their midst a messenger from among them who shall recite to them your verses, and shall teach them the Scripture and in wisdom and shall purify them. You, only You are the Mighty, Wise. (2:129)

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
 عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ البقرة ١٢٩

اے پروردگار ان (لوگوں) میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے۔ اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان (کے دلوں) کو پاک صاف کیا کرے۔ بے شک تو غالب (اور) صاحب حکمت ہے (2:129)

COMING OF HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS) WITH THE NAME OF "AHMAD" WAS PROPHECIED BY JESUS (PBUH)

And (remember) when Jesus son of Mary said: O Children of Israel! I am the messenger of Allah to you, confirming that which was (revealed) before me in the Torah, (old testament) and bringing good tidings of a messenger who comes after me, whose name shall be Ahmad. (the praised one) Yet when he came to them with clear signs, they say: This is mere magic. (61:6)

REVELATION OF QURAN ON MUHAMMAD (SAAS) THROUGH MEDIUM OF ANGEL GABRIEL

Say: I am only a mortal like you. My Lord inspires in me that your God is only One God. And whoever expects to meet his Lord, let him do righteous deeds, and make none partner of the worship due to his Lord. (18:110)

Say: It is only inspired in me that your God is One God. Will you then bow to His will (in Islam) (21:108)

And thus We have inspired in you (Muhammad) a Spirit of Our command. You knew not what the Scripture was, nor what the Faith. But We have made the (Qur'an) a Light whereby We guide whom We wish of Our bondmen. And you guide mankind to a right path. (42:52)

Nor was he grudging about the unseen (81:24)

إخبار عيسى به أنه نبي كريم مع ذكر اسمه احمد

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦١﴾
﴿٦١﴾ الصَّف ٦

تنزيل القرآن عليه محمد بوساطة جبريل

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ الْوَحْيَ وَاللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾
﴿١٨﴾ الكهف ١١٠

قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ الْوَحْيَ وَاللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١﴾ انبياء ١٠٨

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾
﴿٥٢﴾ الشورى ٥٢

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ ﴿٨١﴾
﴿٨١﴾ التکویر ٢٤

آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی اور اسم احمد

اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے (میری قوم) بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا (رسول) آیا ہوں (اور) جو (کتاب) مجھ سے پہلے آچکی ہے (یعنی) تورات اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سنانے والا ہوں۔ (پھر) جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے (6:61)

آپ پر نزول قرآن بذریعہ حضرت جبریل

آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ (البتہ) میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (وہی) ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے اسے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے (10:18)

کہہ دیجئے کہ مجھ پر (اللہ کی طرف سے) یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تم کو چاہئے کہ فرمانبردار ہو جاؤ (108:21)

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے (قرآن) بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو۔ لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور بے شک (اے محمد) آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں (52:42)

اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں (24:81)

More Reference :	4:113	7:203	10:15
Page	178	239	233
2:102	16:102	26:192,193,194	33:2
77	208	208,209	610
8:70	41:6	46:9	53:1 to 6
69	133	739	687
6:3	69:38,39,40	81:19,20,21	
27	209	209	

المعزید راجع	٤ النساء: ١١٣	٧ الأعراف: ٢٠٣
١٠ یونس: ١٥	١٢ یوسف: ١٠٢	١٦ النحل: ١٠٢
٢٦ الشعراء: ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤	٣٣ الأحزاب: ٢	٤٦ الأحقاف: ٩
٣٨ ص: ٧٠	٤١ حم السجدة (فصلت): ٦	٦٩ الحاقة: ٣٨، ٣٩، ٤٠
٥٣ النجم: ١١	٦٦ التحريم: ٣	٢٩ الحاقة: ٣٨، ٣٩، ٤٠
٨١ التکویر: ٢٤		

مزید حوالہ	113:4	203:7	15:10
صفحہ	178	239	233
102:12	102:16	26:192,193,194	2:33
977	208	208,209	610
70:38	6:41	9:46	6:1:53
169	133	739	687
3:66	3:66	40,39,38:69	21,20,19:81
727	209	209	209

PROCLAIMING OF MUHAMMAD (SAAS) AS MESSENGER OF ALLAH (SWT) AND GOING FORTH TO PREACH DISBELIEVERS TO ENTER INTO THE FOLD OF ISLAM

you wrapped up in a cloak, (4:1)

rise and deliver the warning. (4:2)

بعثة محمد (ﷺ) وإعلان نبوته

يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ ﴿٧٤﴾
﴿٧٤﴾ المدثر ١
قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٧٤﴾
﴿٧٤﴾ المدثر ٢

آپ کی بعثت اور نبوت کا اعلان

اے (محمد) جو چادر اوڑھنے والے (1:74)

اٹھیے اور لوگوں کو ہدایت کیجئے (2:74)

**AN UNLETTERED PROPHET - A MIRACLE
(WHO CAN NEITHER READ NOR WRITE)**

-----So believe in Allah and His messenger, the Prophet who can neither read nor write, who believes in Allah and in His words and follow him that haply you may be guided. (7:158) PART

And you (O Muhammad) were not a reader of any scripture before it, nor did you write it with your right hand, for then might those have doubted, who follow falsehood. (29:48)

He is the one Who has sent among the unlettered ones a messenger of their own, to recite to them His revelations and to make them purify, and to teach them the Scripture and Wisdom, though previously they were indeed in error manifest, (62:2)

كون النبي ﷺ أمياً
قبل البعثة من الإعجاز

فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٧﴾
الاعراف ١٥٨ ﴿جزء ٧﴾

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَنَّكَ الْمُبْطَلُونَ ﴿٢٩﴾
العنكبوت ٤٨ ﴿٢٩﴾

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٦٢﴾
الجمعة ٢ ﴿٦٢﴾

آپ ﷺ کا امی ہونا (ایک معجزہ)
(کبھی نہ پڑھ اور نہ لکھ سکنے والا)

----- تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر۔ جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ (158:7) جزو

اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے (دائیں) ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے (48:29)

وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں یعنی انہی میں سے (محمدؐ کو) پیغمبر (بنا کر) بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کی زندگی سنارتے ہیں اور (اللہ کی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے (2:62)

More Reference : 7:157,158 10:16 42:52
Page 181, 236, 164

والله اعلم بالصواب
الاعراف ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ٢٣٦، ١٨١، ١٦٤، ٢٣٦، ١٨١

مزید حوالہ 7:157,158 10:16 42:52
صفحہ 181, 236, 164

**"AL-MUSTAFA" DILATION (EXPANDING) OF
BREAST (OPENING OF HEART) FOR BESTOWING
KNOWLEDGE, WISDOM, STRENGTH, AND
COURAGE TO BEAR THE BURDEN OF GALLING
WORK TO FIGHT SINGLE HANDED AGAINST SIN**

Have We not caused your breast to dilate, (94:1)

And eased you of the burden (94:2)

Which did gall your back; (94:3)

**SHINING LAMP (BEACON)
TO ILLUMINATE THE WHOLE WORLD**

O Prophet! We have sent you as a witness and a bringer of good tidings (herald) and a warner (33:45)

And as a summoner to Allah by His permission, and as a shining lamp that spreads light. (33:46)

**GRANTED (AL KAUTHAR) A RIVER IN PARADISE
BESTOWED WITH BLESSINGS IN ABUNDANCE**

We have granted you the Abundance; (108:1)

المصطفیٰ. شرح صدرہ ﷺ
حتى يكافح جميع كفار العالم وحيداً

الْمَ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿٩٤﴾
الم نشرح ١ ﴿٩٤﴾
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٩٤﴾
الم نشرح ٢ ﴿٩٤﴾
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٩٤﴾
الم نشرح ٣ ﴿٩٤﴾

كان الرسول ﷺ سراجاً منيراً

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ﴿٣٣﴾
الاحزاب ٤٥ ﴿٣٣﴾
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾
الاحزاب ٤٦ ﴿٣٣﴾

أعطى النبي ﷺ الكوثر

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١٠٨﴾
الكوثر ١ ﴿١٠٨﴾

مصطفیٰ ﷺ کا شرح صدر (سینہ کھول دیا جانا)
دنیا کے کفر کے خلاف اکیلے نبرد آزما ہونے کیلئے
علم۔ حکمت۔ قوت۔ اور حوصلہ کا عطا کیا جانا

(اے محمدؐ) کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ (بے شک کھول دیا) (1:94)
اور آپ پر سے آپ کا بوجھ بھی اتار دیا (2:94)
جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی (3:94)

آپ ﷺ روشن چراغ
(تمام دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کرنا)

اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے (45:33)

اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن (46:33)

آپ ﷺ کو کوثر (اور بہت کچھ) عطا ہوئی

(اے محمدؐ) ہم نے آپ کو حوض کوثر اور بہت کچھ عطا فرمایا (1:108)

**RAISED HIGH IN DIGNITY
(EXALTED FAME)**

Now We have revealed to you a Scripture wherein is your Reminder. Will you not use your reason? (21:10)

Oh, I swear by the afterglow of Sunset, (84:16)

And by the night and all that it enshrouds (84:17)

And by the Moon when it blossoms full, (84:18)

That you shall surely move onward from stage to stage. (84:19)

And We have raised you high in dignity? (94:4)

رفع ذکرہ ﷺ

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ١٠﴾

فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿٨٤﴾
﴿٨٤ الانشقاق ١٦﴾

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿٨٤﴾
﴿٨٤ الانشقاق ١٧﴾

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿٨٤﴾
﴿٨٤ الانشقاق ١٨﴾

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿٨٤﴾
﴿٨٤ الانشقاق ١٩﴾

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٩٤﴾
﴿٩٤ الم نشرح ٤﴾

آپ ﷺ کا ذکر بلند کیا گیا

ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں آپ کا ذکر ہے کیا تم نہیں سمجھتے؟ (10:21)

ہمیں شام کی سرخی کی قسم (16:84)

اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ سمیٹے ہوئے ہے ان کی (17:84)

اور چاند کی جب کامل ہو جائے (18:84)

کہ آپ درجہ بہ درجہ (رتبہ اعلیٰ پر) چڑھو گے (19:84)

اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا (4:94)

**MUHAMMAD (SAAS) - IS SEAL OF
ALL THE PROPHETS OF ALLAH (SWT)
NO PROPHET AFTER HIM**

Muhammad is not the father of any man among you, but he is the messenger of Allah and the Seal of the Prophets; and Allah is Aware of all things. (33:40)

**کان محمد رسول اللہ ﷺ
وخاتم النبیین لا نبی بعده**

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٤٠﴾

**آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا**

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (خاتم النبیین ہیں) اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے (40:33)

**THE RELIGIOUS LAWS OF ISLAM WERE
COMPLETED (FAITH WAS PERFECTED) DURING
HIS MINISTRY**

-----This day I have perfected your religion for you and completed My favours towards you, and have chosen for you as religion Al-Islam.----- (5:3) PART

أكمل الله الدين الإسلامي عليه ﷺ

.....الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٥﴾
﴿٥ المائدة ٣ جزء ١﴾

آپ ﷺ پر دین اسلام کی تکمیل ہوئی

..... (اور) آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا (3:5) جزو

**ASSIGNED THE HIGHEST POST OF HONOUR AND
GLORY (MAQAM-I-MAHMUD)**

and some part of the night awake for it, as additional prayer for you. It may be that your Lord will raise you to a station of praise and glory. (79:79)

وعد الله له مقاماً محموداً

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾
﴿٧٩ بنی اسرائیل ٧٩﴾

آپ ﷺ کو مقام محمود کا وعدہ

اور کچھ حصہ شب میں بیدار ہوا کریں (اور تہجد کی نماز میں قرآن پڑھا کریں یہ رات کا جاگنا) آپ کے لئے اچھا ہے قریب ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود میں داخل کرے (79:17)

**KNOWN AS (AL - AMIN)
MOST TRUSTWORTHY**

No prophet could (ever) act dishonestly (deceivingly).-----
(3:161) PART

A MESSENGER WITH TRUTH

These are the portents of Allah, which We recite to you with truth, and you are one of (Our) messengers; (2:252)

You are indeed one of the messengers. (an emissary) (36:3)

Sent (along) a straight path, (36:4)

**ALLAH (SWT) HAS CONFERRED GREAT FAVOUR
OVER BELIEVERS BY SENDING MUHAMMAD(SAAS)
AS MESSENGER**

Allah has shown grace to the believers by sending to them a messenger of their own who recites to them His revelations, and purifies them and teaches them the Scripture and Wisdom; although before (he came to them) they were in flagrant error. (3:164)

And announce to the believers the good tidings that they will have great bounty from Allah. (33:47)

As a Command from Our presence. We are ever sending-- (44:5)

A Mercy from your Lord. No doubt He is the Hearer the Knower, (44:6)

And know that the messenger of Allah is among you. If he were to obey you in many of the matters, you would surely be in trouble; but Allah has endeared the faith to you and has beautified it in your hearts, and has made disbelief and lewdness and rebellion hateful to you. Such are they who are rightly guided. (49:7)

(It is) a bounty and a grace from Allah; and Allah is Knower, Wise. (49:8)

كان النبي ﷺ على أسمى
درجة من الأمانة

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ
﴿ ۳ آل عمران ۱۶۱ ﴾ جزء

محمد ﷺ الرسول الحق

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ۲ البقرة ۲۵۲ ﴾

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ۳۶ يس ۳ ﴾

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ۳۶ يس ۴ ﴾

بعثة محمد ﷺ من الله على المؤمنين

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ۳ آل عمران ۱۶۴ ﴾

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ فَضْلًا
كَبِيرًا ﴿ ۳۳ الاحزاب ۴۷ ﴾

أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ۴۴ الدخان ۵ ﴾

رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ۴۴ الدخان ۶ ﴾

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي
كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ
الْإِيمَانَ وَزَيْنَاهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿ ۴۹ الحجرات ۷ ﴾

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ۴۹ الحجرات ۸ ﴾

آپ ﷺ رسول امین

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے پیغمبر سے خیانت ہو جائے
----- (161:3) جزو

آپ ﷺ حق اور سچائی لانے والے رسول
(پیغمبر برحق)

یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر
سناتے ہیں اور (اے محمد) تم بلاشبہ پیغمبروں میں سے ہو
(252:2)

(اے محمد) بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو (3:36)

سیدھے راستے پر (4:36)

آپ ﷺ کی آمد مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان

اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں ان ہی
میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر
سناتے اور ان کو پاک کرتے اور (اللہ کی) کتاب اور
دانائی سکھاتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے
(164:3)

اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لئے اللہ کی
طرف سے بڑا نفضل ہے (47:33)

(یعنی) ہمارے ہاں سے حکم ہو کر۔ بے شک ہم ہی
(پیغمبر کو) بھیجتے ہیں (5:44)

(یہ) تمہارے پروردگار کی رحمت ہے۔ وہ تو سننے والا
جاننے والا ہے (6:44)

اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر بہت سی
باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ
جاؤ۔ لیکن اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو عزیز بنا دیا اور
اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی
سے تم کو بے زار کر دیا۔ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں
(7:49)

(یعنی) اللہ کے فضل اور احسان سے۔ اور اللہ جاننے والا
(اور) حکمت والا ہے (7:49)

REQUISITES OF REVERENCE
FOR THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS)

مہضبات حب الرسول ﷺ

نبی کریم ﷺ سے محبت کے تقاضے

REVERENCE OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)
SHOULD BE ABOVE ALL THE LOVE FOR HEART CLINGS
(OWNSELF - KITH & KIN - PARENTS
WEALTH AND COMMERCE)

لیکن حب الرسول ﷺ فوق کل حب

آپ ﷺ کو جان و مال اور دنیا کے ہر رشتہ سے
محبوب رکھنے کا حکم

Say: If your fathers, and your sons,
and your brothers, and your
spouses, and your family ties, and
the wealth you have acquired, and
merchandise for which you fear that
there will be no sale, and dwellings
you are so fond of, are dearer to you
than Allah and His messenger and
striving in His way: Then wait till
Allah brings His command to pass.
Allah guides not wrongdoing folk.
(9:24)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اِقْتَرَفْتُمْوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَسَكُنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٩﴾
﴿٩ التوبة ٢٤﴾

کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور
عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور
تجارت جس کی کمی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند
کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں
جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو انتظار کرو
یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم (یعنی عذاب) بھیجے اور اللہ
نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (24:9)

The Prophet is closer to the
believers than their own selves, and
his wives are (as) their mothers.

(33:6)PART

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

﴿٣٣ الاحزاب ٦﴾ جزء

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے
ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

(6:33) جزو

More Reference : 9:120 Page 724

والمزيد راجع ٩ التوبة: ١٢٠: الصفحة ٧٢٤

المزيد راجع 9:120 صفحة 724

A HERALD - FOR CONVEYING GLAD
TIDINGS AND WARNINGS IN MOST
CLEAR AND PLAIN TERM

أرسل الله النبي ﷺ بشيراً و نذيراً

آپ ﷺ خوشخبری اور ڈر سنانے۔
کھلم کھلا نصیحت کرنے والے رسول۔ ایک مبلغ

We have sent you (O Muhammad)
with the truth, a bringer of glad
tidings and a warner. And you will
not be asked about the companions
of hell fire. (2:119)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَا تُسْأَلُ
عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿٢﴾
﴿٢ البقرة ١١٩﴾

(اے محمد) ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوش خبری سنانے
والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دوزخ کے
بارے میں آپ سے کچھ پرسش نہیں ہوگی (119:2)

(Saying): Serve none but Allah. I
am to you from Him a warner and a
bringer of good tidings. (11:2)

لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾
﴿١١ هود ٢﴾

(وہ یہ) کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس
کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا اور خوش خبری دینے
والا ہوں (2:11)

And say: I, even I, am a plain
warner, (15:89)

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿١٥٥﴾
﴿١٥٥ الحجر ٨٩﴾

اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں (89:15)

Say: O mankind! I am only a plain
warner to you. (22:49)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾
﴿٢٢ الحج ٤٩﴾

(اے پیغمبر) کہہ دیجئے کہ لوگو! میں تم کو کھلم کھلا نصیحت
کرنے والا ہوں (49:22)

And We have sent you (O
Muhammad) only as a bearer of
good tidings and a warner. (25:56)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾
﴿٢٥ الفرقان ٥٦﴾

اور ہم نے آپ (اے محمد) کو خوشخبری سنانے اور خوف
دلانے والا بنا کر بھیجا ہے (56:25)

You are but a warner. (35:23)

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ فاطر ٢٣ ﴿٢٣﴾ آپ تو صرف ہدایت کرنے والے ہیں (23:35)

We have sent you with the Truth, a bearer of glad tidings and a warner; and there is not a nation but a warner has passed among them. (35:24)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ فاطر ٢٤ ﴿٢٤﴾ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے (24:35)

Say (to them, O Muhammad): I am only a warner, and there is no god save Allah, the Unique, the Absolute, (38:65)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ ص ٣٨ ﴿٦٥﴾ کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں۔ اور اللہ واحد یکتا (اور) غالب کے سوا کوئی معبود نہیں (65:38)

Only this has been revealed to me: that I am to give warning plainly and publically. (38:70)

إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَن أَنذِيرُ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾ ص ٣٨ ﴿٧٠﴾ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت (صاف صاف آگاہ) کرنے والا ہوں۔ (70:38)

We have sent you (O Muhammad) as a witness and a bearer of good tidings and a warner, (48:8)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ الفتح ٨ ﴿٨﴾ (اور) ہم نے (اے محمد) آپ کو گواہی دینے والا خوش خبری سنانے والا خوف دلانے والا (بنا کر) بھیجا ہے (8:48)

This (Muhammad) is a warner just like the warners of old. (53:56)

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾ النجم ٥٦ ﴿٥٦﴾ یہ (محمد) بھی اگلے خوف دلانے والوں میں سے ایک خوف دلانے والے ہیں (56:53)

More Reference :	2:119	4:165	5:19	والمزید راجع	٢ البقرة: ١١٩	٤ النساء: ١٦٥	184:7	19:5	165:4	119:2	مزید حوالہ
Page	168	375	179	٥ المائدة: ١٩	٧ الأعراف: ١٨٤	٩ التوبة: ٣٣	199	179	375	168	صفحہ
7:184	9:33	11:2,12	17:105	١١ هود: ١٢٠	١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ١٠٥	٢٩ العنكبوت: ٥٠	45:33	50:29	105:17	12,2:11	33:9
199	96	168,193	212	٢٨ سبأ: ٢٨	٤٨ الفتح: ٢٨	٤١ حم السجدة (صلت): ٤	165	195	212	193,168	96
33:45	34:28	41:4	46:9	٥١ الذاریات: ٥١	٦٧ الملك: ٢٦		51,50:51	28:48	9:46	4:41	28:34
165	180	226	739				739,170	95	739	226	180
51:50,51	67:26										26:67
170,739	755										755

THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS)
A REHEARER FOR BELIEVERS TO TEACH
DEMONSTRATE, IMPART - REVELATION AND
WISDOM TO CAUSE THEM TO GROW IN PURITY

بعث النبي ﷺ معلما و مزكيا للنفوس

آپ ﷺ کو معلم اور نفوس کا تزکیہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا

Even as We have sent to you a messenger from among you, who recites to you Our revelations and causes you to grow in purity, and teaches you the Scripture and Wisdom, and teaches you that which you knew not.' (2:151)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ البقرة ١٥١ ﴿١٥١﴾

جس طرح ہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب (یعنی قرآن) اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے (151:2)

This (which) We recite to you is a revelation and a wise reminder. (3:58)

ذٰلِكَ تَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾ آل عمران ٥٨ ﴿٥٨﴾

(اے محمد) یہ ہم تم کو آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں (58:3)

Thus We send you (O Muhammad) to a nation, before whom other nations have passed away, that you may recite to them that which We have inspired in you, while they are disbelievers in the Beneficent. Say: He is my Lord; there is no god except Him. In Him I do put my trust and to Him is my recourse. (13:30)

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿١٣ الرعد ٣٠﴾

(جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں) اسی طرح (اے محمدؐ) ہم نے آپ کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو وہ (کتاب) جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دیں۔ اور یہ لوگ رحمن کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے۔ وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں (30:13)

Therefor flee to Allah; I am a plain warner to you from Him (51:50)

فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ لِيُنذِرَكُمْ فِتْنَةً نَّذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١ الذریت ٥٠﴾

تو تم لوگ اللہ کی طرف دوڑو (رجوع کرو) میں اس کی طرف سے تم کو واضح تنبیہ کرنے والا ہوں (50:51)

More Reference : 2:129-252 3:108,164
Page 163,167 802,167
4:170 28:59 45:6 62:2 65:11 98:2
179 677 854 165 868 242

والمزید راجع ۲ البقرة: ۲۵۲، ۱۲۹، ۱۰۸، ۱۶۴
۴ النساء: ۱۷۰، ۲۸ القصص: ۵۹، ۴۵ الجاثية: ۶
۶۲ الجمعة: ۲، ۶۵ الطلاق: ۱۱، ۹۸ البينة: ۲

المزید حوالہ 2:129-252 3:108,164
صفحہ 163,167 802,167
2:98 11:65 2:62 6:45 59:28 170:4
242 868 165 854 677 179

NOT ATTAINING FAITH IN PROPHET MUHAMMAD (SAAS) IS INFIDELITY AND AN UNDOUBTED LOYALTY WITH HIM TOKEN OF A BELIEVER

من لم يؤمن بالنبي محمد ﷺ فهو كافر
والايمان بالرسول ﷺ علامة المؤمن

آپ ﷺ پر ایمان نہ لانا کفر ہے
آپ پر بلاشک و شبہ ایمان لانا ہی مومن کی نشانی ہے

And as for him who believes not in Allah and His messenger No doubt We have prepared a flame for disbelievers. (48:13)

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿٤٨ الفتح ١٣﴾

اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے (ایسے) کافروں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے (13:48)

The (true) believers are those only who believe in Allah and His messenger and afterward doubt not, but strive with their wealth and their lives for the cause of Allah. Such are the sincere. (49:15)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٤٩ الحجرات ١٥﴾

مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں
پھر شک میں نہ پڑیں اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے
لڑیں۔ یہی لوگ (ایمان کے) سچے ہیں (15:49)

More Reference : 4:136,170 7:157,158 47:2
8:9 57:7,28 65:11
Page 98,179,165,163,187,275,175

والمزید راجع ۴ النساء: ۱۳۶، ۱۷۰، ۱۵۷، ۱۵۸
۴۷ محمد: ۲، ۴۸ الفتح: ۹، ۵۷ الحديد: ۲۸، ۷
۶۵ الطلاق: ۱۱

مزید حوالہ 4:136,170 7:157,158 47:2
8:9 57:7,28 65:11
صفحہ 98,179,165,163,187,275,175

SWEARING FEALTY TO THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS) IS LIKE PLEDGING ALLEGIANCE TO ALLAH(SWT)

من بايع محمداً ﷺ فقد بايع الله

آپ ﷺ کی بیعت
اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے

Those who swear allegiance to you (Muhammad), swear allegiance to Allah. The Hand of Allah is above their hands. So whosoever breaks his oath, breaks it only to his own hurt; while whosoever keeps his covenant with Allah, He will bestow an immense reward on him. (10:48)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَثَّرَ فَأَلَمَّا يَبْتَئِثُ
عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٨ الفتح ١٠﴾

جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے
ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو عہد کو توڑے تو
عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے۔ اور جو اس بات کو جس کا اس
نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم
دے گا (10:48)

Reference : 48:18 60:12 Page 713,176

والمزید راجع ۴۸ الفتح: ۱۸، ۶۰ الممتحنة: ۱۲

مزید حوالہ 48:18 60:12
صفحہ 713,176

ALLAH(SWT) HAS AUTHENTICATED
PROPHET MUHAMMAD(SAAS) AS JUDGE AND HAS
MADE INCUMBENT UPON BELIEVERS TO ACCEPT
HIS DECISIONS WHOLE HEARTEDLY

But no by your Lord, they will not believe (in truth) until they make you judge of what is in dispute between them and find within themselves no dislike of that which you decide, and submit with full submission. (4:65)

And if We had decreed for them : Lay down your lives or go forth from your dwellings, but few of them would have done it; though if they did what they are exhorted to do (by you) it would be better for them, and more strengthening; (4:66)

And then We should bestow upon them from Our presence an immense reward, (4:67)

And should guide them to a straight path. (4:68)

جعل الله النبي الكريم ﷺ حكماً
وجعله مطاعاً يا ذنوب للمؤمنين

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾
﴿٤ النساء ٦٥﴾

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ
أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ
مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ﴿٦٦﴾
﴿٤ النساء ٦٦﴾

وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾
﴿٤ النساء ٦٧﴾

وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾
﴿٤ النساء ٦٨﴾

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو منصف بنایا اور مومنوں
پر آپ کے فیصلوں کی پابندی کو لازم قرار دیا

تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات
میں آپ کو منصف نہ بنائیں۔ اور جو فیصلہ آپ کر دیں
اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے
مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے (4:65)

اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کر ڈالو یا
اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا
کرتے۔ اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی
جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور (دین میں) زیادہ
ثابت قدمی کا موجب ہوتا (4:66)

اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے
(4:67)

اور سیدھا راستہ بھی دکھاتے (4:68)

For Detail Consult : 4:59 8:46 24:51
33:36 Page 552, 550, 766, 374

والتفصیل راجع ٤ النساء: ٥٩ ٨ الأنفال: ٤٦
٢٤ النور: ٥١ ٣٣ الأحزاب: ٣٦

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:59 8:46 24:51
صفحات 374, 766, 550, 552

OBEYING - FOLLOWING
OF THE PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
IS ORDAINED

Say: Obey Allah and the messenger.
But if they turn away, Allah loves
not the disbelievers. (3:32)

And obey Allah and His messenger,
that you may find mercy. (3:132)

Obey Allah and obey the
messenger, and beware! But if you
turn away, then know that the duty
of Our messenger is only plain
conveyance (of the message). (5:92)

O you who believe! Obey Allah and
His messenger, and turn not away
from him when you hear (him).
(8:20)

He who obeys Allah and His
messenger, and fears Allah, and
keeps duty (to Him): Such indeed
are the victorious. (24:52)

الامر بإطاعة الرسول ﷺ واتباعه

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن
اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾
﴿٣ آل عمران ٣٢﴾

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾
﴿٣ آل عمران ١٣٢﴾

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَي رَسُولِنَا الْبَلٰغَةُ
الْمُبِينَةُ ﴿٩٢﴾
﴿٥ المائدة ٩٢﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
وَلَا تَوَلَّوْا عٰتِهٖ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾
﴿٨ الانفال ٢٠﴾

وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشِ اللّٰهَ وَيُقِمْ
فَاوْلٰئِكَ هُمُ الْقٰبِلُوْنَ ﴿٥٢﴾
﴿٢٤ النور ٥٢﴾

آپ ﷺ کی اطاعت کا حکم
اتباع رسول ﷺ

کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اگر نہ مانیں تو
اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا (32:3)

اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت
کی جائے (132:3)

اور اللہ کی (اطاعت) فرمانبرداری اور رسول اللہ کی
اطاعت کرتے رہو۔ اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو
جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام صاف
صاف پہنچا دینا ہے (92:5)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور
سننے اور جاننے کے باوجود اس سے انکار نہ کرو (20:8)

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری
(اطاعت) کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی
لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں (52:24)

O you who believe! Obey Allah and obey the messenger, and render not your actions vain. (47:33)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٤٧﴾ محمد ٣٣ ﴿

مومنو! اللہ تعالیٰ کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی (اطاعت) کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو (33:47)

Obey Allah and obey His messenger; but if you turn away, then the duty of Our messenger is only to convey (the message) plainly. (64:12)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٦٤﴾ التغابن ١٢ ﴿

اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے (12:64)

More Reference :

3:19	4:14,59,61
89	512,552,743
4:64,65,69,70,80,170	5:12 6:48
76,171,178,173,179	1045 803
7:157,158	8:1,24,46 9:62,71 12:108
181,165	668,657,550 749,764 609
19:43	20:134 24:51,54,56,62 28:47
946	677 766,734,265,183 179
33:31,33,36,71	47:2 48:9,13,17
89,543,374,173	163 187,170,645
19:14	57:7,19 58:4,9,13 59:7
89	89 89 89
50:12	61:11
176	644

٦١.٥٩.١٤: النساء	٣ آل عمران: ١٩	٤ النساء: ١٤	٥ المائدة: ١٢	٦ الأنعام: ٤٨	٧ الأعراف: ١٥٨.١٥٧	٨ الأنفال: ١٠١.٢٤٤	٩ التوبة: ٧١.٦٢	١٢ يوسف: ١٠٨	١٩ مريم: ٤٣	٢٠ طه: ١٣٤	٢٤ النور: ٥١.٥٤.٥٦.٥٧	٢٨ القصص: ٤٧	٣٣ الأحزاب: ٣١.٣٣.٣٦.٧١	٤٨ الفتح: ١٧.١٣.٩	٤٩ الحجرات: ١٤	٥٧ الحديد: ١٩.٧	٥٨ المجادلة: ١٢.٩.٤	٥٩ الحشر: ٧	٦٠ الممتحنة: ١٢	٦١ الصف: ١١
------------------	----------------	--------------	---------------	---------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	-------------	------------	-----------------------	--------------	-------------------------	-------------------	----------------	-----------------	---------------------	-------------	-----------------	-------------

69,65,64,61,59,14:4	19:3	171,176,743,552,512	89	158,157:7	48:6	12:5	170,80,70:4	165,181	803	1045	179,173,878	43:19	108:12	71,62:9	46,24,1:8	946	609	764,749	550,657,609	31:33	47:28	62,56,54,51:24	134:20	189	179	183,265,734,766	677	14:49	17,13,9:48	2:47	71,36,33,33	89	645,170,187	163	543,374,173	11:61	12:60	7:59	13,9,4:58	19,7:57	644	176	89	89	89
---------------------	------	---------------------	----	-----------	------	------	-------------	---------	-----	------	-------------	-------	--------	---------	-----------	-----	-----	---------	-------------	-------	-------	----------------	--------	-----	-----	-----------------	-----	-------	------------	------	-------------	----	-------------	-----	-------------	-------	-------	------	-----------	---------	-----	-----	----	----	----

AL-SUNNAH - THE GOOD NORMATIVE EXAMPLES AND PATH OF THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS) CONSISTING OF ALL THAT HE SAID, DID, CONSENTED OR CONDEMNED

سنة الرسول ﷺ

سنت رسول کریم ﷺ

USWAH HASANA - THE LIFE PATTERN OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS) IS THE BEST MODEL FOR HUMANKIND TO FOLLOW

الأسوة الحسنة للمؤمنين

اسوة حسنہ - آپ ﷺ کی زندگی ایک بہترین نمونہ

When you see the messenger of Allah you have a fine model for someone who looks forward to (meet) Allah and the last day, and remembers Allah frequently. (33:21)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ الاحزاب ٢١ ﴿

یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے (یعنی) اس شخص کو جسے اللہ (سے ملنے) اور روز قیامت (کے آنے) کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو (21:33)

Detail Consult : 4:80 6:50 63:1 to 4 Page 173, 855, 749, 572, 750, 751

والتفصیل راجع ٤ النساء: ٨٠ ٦ الأنعام: ٥٠ ٥٣ النجم: ١١:٤ الصفحة ١٧٣, ٨٥٥, ٧٤٩, ٥٧٢, ٧٥٠, ٧٥١

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:53 تا 4:53 50:6 80:4 صفحہ 173, 750, 572, 749, 855, 173

EVERY ACTION OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS) IS SPONSORED BY ALLAH(SWT)

كل عمل للرسول ﷺ مؤيد من الله

آپ ﷺ کی ہر سنت (عمل) اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا حامل ہوتا ہے

When you see the messenger of Allah you have a fine model for someone who looks forward to (meet) Allah and the last day, and remembers Allah frequently. (33:21)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿٨﴾ الانفال ١٧ ﴿

تم لوگوں نے ان (کفار) کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور (اے محمد) جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے (احسانوں) سے اچھی طرح آزما لے بے شک اللہ سنتا جانتا ہے (17:8)

SUBLIME BEHAVIOUR - TREMENDOUS CHARACTER OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS) WITH TENDER HEART-FULL OF COMPASSION AND MERCY

It was by the mercy of Allah that you were lenient with them (O Muhammad), for if you had been stern and fierce of heart they would have dispersed from round about you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult with them upon the conduct of affairs. And when you are resolved, then put your trust in Allah. Allah loves those who put their trust (in Him). (3:159)

There has come to you a messenger, (one) of yourselves, to whom anything that you are overburdened is grievous, full of concern for you, for the believers full of pity, merciful. (9:128)

Nun. By the pen and that which they write (therewith), (68:1)

And you will have a never-ending reward. (68:3)

And you are of a tremendous moral. (68:4)

كان النبي ﷺ على خلق عظيم

فَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٣﴾ آل عمران ١٥٩

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾ التوبة ١٢٨

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ ٦٨ القلم ١

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ ٦٨ القلم ٣

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ ٦٨ القلم ٤

آپ ﷺ کے اخلاق بڑے عالی نرم دل بڑے ہی شفقت اور مہربان

(اے محمد) اللہ کی مہربانی سے آپ ان لوگوں کیلئے نرم دل واقع ہوئے ہو اور اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دیجئے اور ان کیلئے (اللہ سے) مغفرت مانگیں اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت لیا کریں۔ اور جب (کسی کام کا) پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر یقین رکھیں۔ بے شک اللہ یقین رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے (159:3)

(لوگو) تمہارے پاس تم ہی سے ایک پیغمبر آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان کو سخت معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے (اور) مہربان ہیں (128:9)

ن۔ قلم کی اور جو (اہل قلم) لکھتے ہیں اس کی قسم (1:68)

اور تمہارے لئے بے انتہاء اجر ہے (3:68)

اور تمہارے اخلاق بڑے (عالی) ہیں (4:68)

MAINTAIN THE ORIGINAL FORM OF TRADITION OF THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS) REPORTING ON AUTHENTIC SAHADAH CONSTRUCTIVE OF SUNNAH

الحديث النبوي الشريف

حديث نبوي ﷺ

Say, (O Muhammad, to mankind): If you love Allah, follow me; Allah will love you and forgive you your sins. Allah is Forgiving, Merciful. (3:31)

Whosoever obeys the messenger obeys Allah, and whosoever turns away: We have not sent you as a warder over them. (4:80)

And bear in mind that which is recited in your houses of the revelations of Allah and wisdom. Allah is Ever Most Courteous, Well-Acquainted with all things. (33:34)

He will improve your action for you and will forgive for your sins. Whosoever obeys Allah and His messenger, he has gained a splendid victory. (33:71)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ آل عمران ٣١

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾ ٤ النساء ٨٠

وَإِذْ كُنَّا نَمُوتُ فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾ ٣٣ الاحزاب ٣٤

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ٣٣ الاحزاب ٧١

(اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (31:3)

جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر آپ کو ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا (80:4)

اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت (رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں) ان کو یاد رکھو۔ بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے (34:33)

وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا (71:33)

And whatsoever the messenger gives you, take it. And whatsoever he forbids, abstain (from it). And heed Allah. Surely Allah is stern in reprisal. (59:7) PART

وَمَا اتَّخَذُوا
الرَّسُولَ فُحْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّبِعُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾
الحشر ٧ ﴿جزء﴾

سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں (اس سے) باز رہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (7:59) جزو

More Reference : 4:65 6:50 24: 56,62
Page 171, 855, 265, 183

والمزيد راجع ٤ النساء: ٦٥ ٦ الأنعام: ٥٠
٢٤ النور: ٦٢، ٥٦: الصفحة ١٧١، ٨٥٥، ٢٦٥، ١٨٣

المزيد حوالہ 62,56:24 50:6 65:4
صفحة 183, 265, 855, 171

(AL HADITH AND AL-SUNNAH) TRADITIONS
AND BIOGRAPHY OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)
IS REHEARSAL AND DEMONSTRATION OF DIVINE
REVELATIONS (HOLY QURAN)

قول النبي ﷺ وسنته، تفسير
عملي لما أنزل الله

حدیث نبوی ﷺ اور سیرت نبوی ﷺ
اللہ تعالیٰ کے احکام کی تفسیر اور عملی نمونہ

We sent no messenger unless he was to be obeyed by Allah's permission. (4:64) PART

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ
اللَّهِ

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ (4:64) جزو

By the Star when it sets, (53:1)

وَالْتَجَمَّ إِذَا هُوَ ۝١

قسم ہے تارے کی جب وہ گرے (1:53)

Our comrade errs not, nor is deceived; (53:2)

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۝٢

کہ تمہارے ساتھی (محمدؐ) نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں (2:53)

For does he speak of (his own) desire. (53:3)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝٣

اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں (3:53)

It is nothing except an inspiration that is revealed. (53:4)

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۝٤

یہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ (4:53)

More Reference : 6:50 7:158 Page 855,165

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ٥٠ ٧ الأعراف: ١٥٨

المزيد حوالہ 855,165 صفحه 158:7 50:6

PROPHET MUHAMMAD(SAAS) SENT AS A
MERCY FOR ALL CREATURES IN THE UNIVERSE

بعث رحمة للعلمين

آپ ﷺ رحمۃ العالمین تمام جہانوں کیلئے رحمت

We have merely sent you as a mercy for (everybody) in the universe. (107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾
الانبیاء ١٠٧ ﴿﴾

اور (اے محمدؐ) ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے (107:21)

More Reference : 3:164 9:61 33:47 44:5,6
Page 167, 186

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٦٤ ٩ التوبة: ٦١
٣٣ الأحزاب: ٤٧ ٤٤ الدخان: ٦، ٥ ٩ الحجرات: ٧

المزيد حوالہ 6,5:44 47:33 61:9 164:3
صفحة 186, 167 7:49

SPICIOUSNESS OF PROPHET MUHAMMAD'S(SAAS)
PROTECTION VOUCHSAFED - (ALLAH(SWT) DID NOT PUNISH
THE DISBELIEVERS WHILE HE WAS AMONG THEM)

وجود (رسول الله ﷺ) في قرية كان
سباً للنظرة في إنزال العذاب

آپ ﷺ کا وجود گرامی باعث حفظ و امان
(آپ ﷺ کی ذات کی وجہ سے منکرین پر عذاب کاٹل جانا)

And when they said: O Allah! If this is indeed the truth from you, then rain down stones on us or bring on us some painful doom! (8:32)

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ
أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ آلِيمٍ ﴿٨﴾
الانفال ٣٢ ﴿﴾

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ (قرآن) تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج (32:8)

But Allah would not punish them while you were with them, nor will He punish them while they seek forgiveness. (8:33)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا
كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٨﴾
الانفال ٣٣ ﴿﴾

اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے (33:8)

Whether We let you (O Muhammad) behold something of that which We promise them or (whether We) cause you to die, still to Us is their return, and Allah, moreover, is Witness over what they do. (10:46)

Say: My Lord! If you should show me that which they are promised, (23:93)

My Lord! Then set me not among the wrongdoing folk. (23:94)

IF ALLAH(SWT) HAD SENT DOWN AN ANGEL AS MESSENGER, THE DISBELIEVERS WOULD NOT HAVE AVAILED RESPITE IN PENALTY

They say: Why has not an angel been sent down to them? If We sent down an angel, then the matter would be judged; no further time would be allowed to them (for reflection). (6:8)

We send not down the angels except with the Fact, and that case (the disbelievers) would not be tolerated. (15:8)

ALLAH(SWT) HAS ASSURED FORGIVENESS AS A REWARD OF REVERENCE AND FOLLOWING OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)

And whoso brings the truth and believes therein. Such are the dutiful (heedful). (39:33)

O you who believe! Be mindful of your duty to Allah and put faith in His messenger. He will give you twofold of His mercy and will appoint for you a light wherein you shall walk, and will forgive you. Allah is Forgiving, Merciful; (57:28)

More Reference : 3:31 33:71 48:17
49:14 57:19 65:11
Page 173, 645, 728, 758, 868

PERMISSION OF ASKING ALLAH(SWT) FOR MERCY (PLEADING FORGIVENESS FOR FOLLOWERS) IS PROMISED TO PROPHET MUHAMMAD(SAAS)

-----So pardon them and ask forgiveness for them and consult with them upon the conduct of affairs.----- (3:159) PART

وَمَا نُرِيكَ بِبَعْضِ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ وَاللَّيْنَا مَرَجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾
﴿١٠ يونس ٤٦﴾

قُلْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٩٣﴾

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٩٤﴾

لو أنزل الله ملكاً لعجل لهم العذاب

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ٨﴾

مَا نُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر ٨﴾

اطاعة الرسول ﷺ
تؤدي ألى مغفرة من الله

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٣٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٧﴾
﴿٥٧ الحديد ٢٨﴾

والمزيد راجع ٣ آل عمران ٣١ ٣٣ الأحزاب ٧١
٤٨ الفتح ١٧ ٤٩ الحجرات ١٤ ٥٧ الحديد ١٩
٦٥ الطلاق ١١ الصلوة ١٧٣ ٦٤٥ ٧٢٨ ٧٥٨ ٨٦٨

إذن للرسول ﷺ
أن يستغفر الله لأمتهم

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿٣﴾
﴿٣ آل عمران ١٥٩﴾ جزء

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے (نازل) کریں یا (اس وقت جب) تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے (10:46)

(اے محمد) آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے (23:93)

تو اے پروردگار مجھے (اس سے محفوظ رکھنا اور) ان ظالموں میں شامل نہ کر (23:94)

اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو منکرین کو ہرگز مہلت نہ ملتی

اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر (پیغمبر) فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا۔ (جو ان کی تصدیق کرتا) اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو سارا قصہ ہی تمام ہو جاتا پھر انہیں ذرا سی بھی مہلت نہ دی جاتی (6:8)

(کہہ دو) ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اتارتے ہیں اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی (8:15)

آپ ﷺ کی اطاعت کا اجر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا وعدہ

اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں (39:33)

مومنو! اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (28:57)

مزید حوالہ 31:3 71:33 17:48
11:65 19:57 14:49
صفحہ 868, 758, 728, 645, 173

آپ ﷺ کو اللہ سے
بخشش طلب کرنے کی اجازت

-----تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لئے (خدا سے) مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کر۔----- (3:159) جزو

O Prophet! If believing women come to you, taking oath of allegiance to you that they will ascribe nothing as partner to Allah, and will neither steal nor commit adultery nor kill their children, nor produce any lie that they have devised between their hands and feet, nor disobey you in what is right, then accept their allegiance and ask Allah to forgive them. Allah is Forgiving, Merciful. (60:12)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾
﴿٦٠ الممتحنة ١٢﴾

اے پیغمبر! جب آپ کے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی جھوٹ باندھ لائیں گی نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (12:60)

ALLAH (SWT) HAS ASSURED FORGIVENESS IF INVOKED BY PROPHET MUHAMMAD (SAAS) FOR THE DEVOTEES

يستجيب الله تعالى لاستغفار نبيه ﷺ لافراد أمته

(امتوں اور پیروکاروں کے لئے) آپ ﷺ کے بخشش مانگنے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے

We sent no messenger except that he should be obeyed by Allah's permission. And if, when they had wronged themselves, they had but come to you and asked forgiveness of Allah and messenger had prayed forgiveness for them they would have found Allah Forgiving, Merciful. (4:64)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾
﴿٤ النساء ٦٤﴾

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو نہایت معاف کرنے والا اور بے حد مہربان پاتے (64:4)

INTERCESSION ON THE DAY OF JUDGEMENT (PLEADING FORGIVENESS FOR THE FOLLOWERS) IS PROMISED TO PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

شفاعة النبي الكريم يوم القيامة

قیامت کے دن نبی کریم ﷺ کی شفاعت (اللہ تعالیٰ سے بخشش کی سفارش کرنا)

They will have no power of intercession, except him who has received permission or promise by the Lord. (19:87)

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾
﴿١٩ مريم ٨٧﴾

کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول و قرار لے لیا ہے (87:19)

On that Day no intercession avails except (that of) him to whom the Beneficent has given leave and whose He accepts (20:109)

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿٢٠﴾
﴿٢٠ طه ١٠٩﴾

اس روز (کسی کی) سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے (109:20)

He knows what is before them and what is behind them, and they cannot intercede except for him whom He accepts, and they stand in awe and reverence of His (glory). (2:28)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ فِي خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٢١ الأنبياء ٢٨﴾

جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے اور وہ (اس کے پاس کسی کی) سفارش نہیں کر سکتے ماسوائے اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہوا اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں (28:21)

No intercession avails with Him except for him whom He permits. Yet when fear is banished from their hearts, they say: What was it that your Lord said? They say: The Truth. And He is the Sublime, the Great. (34:23)

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾
﴿٣٤ سبا ٢٣﴾

اور اللہ کے پاس (کسی کے لئے) سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لئے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشنے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو کہیں گے کہ تمہارے چودہ گار نے کیا فرمایا ہے۔ (فرشتے) کہیں گے کہ حق (فرمایا ہے) اور وہ عالی رتبہ (اور) گرامی قدر ہے (23:34)

And those to whom they appeal instead of Him possess no power of intercession, except him who bears witness to the Truth knowingly. (43:86)

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾
﴿٤٣ الزخرف ٨٦﴾

اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں (وہ سفارش کر سکتے ہیں) (86:43)

And how many angels are in the heavens whose intercession avails nothing except after Allah gives leave to whom He chooses and accepts (53:26)

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿٥٣﴾
﴿٥٣ النجم ٢٦﴾

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لئے چاہے اجازت بخشے اور (سفارش) پسند کرے (26:53)

More Reference : 2:255 10:3 81:24
Page 1051, 127/322, 164

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٥٥ ١٠ يونس: ٣
٨١ التکویر: ٢٤ الصفحة ١٠٥١, ١٢٧, ٣٢٢, ١٦٤

مزید حوالہ 255:2 3:10 24:81
صفحة 164, 322/127, 1051

PROPHET MUHAMMAD(SAAS) WILL ACT AS WITNESS TO HIS FOLLOWERS ON THE DAY OF JUDGEMENT

يكون الرسول ﷺ شهيداً على امتهم يوم القيامة

آپ ﷺ قیامت کے دن امت پر گواہ ہونگے

Thus We have appointed you a moderate nation, that you may be witnesses against mankind, and that the messenger may be a witness against you.----- (2:143) PART

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾
----- ﴿٢ البقرة ١٤٣﴾ جزء

اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخر الزماں) تم پر گواہ بنیں۔----- (143:2) جزو

We have sent to you a messenger as witness against you, even as We sent to Pharaoh a messenger. (73:15)

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿٧٣﴾
﴿٧٣ المزمل ١٥﴾

(اے اہل مکہ) جس طرح ہم نے فرعون کے پاس (موسیٰ کو) پیغمبر (بناکر) بھیجا تھا (اسی طرح) تمہارے پاس بھی (محمد) رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے (15:73)

More Reference : 5:109 22:78 25:30
Page 92/250, 811

وللمزيد راجع ٥ المائدة: ١٠٩ ٢٢ الحج: ٧٨
٢٥ الفرقان: ٣٠ الصفحة ٢٥٠/٩٢, ٨١١

مزید حوالہ 109:5 78:22 30:25
صفحة 811, 250/92

VICTORY - SURMOUNT OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)

نصرة الرسول ﷺ

نصرت رسول ﷺ

ALLAH(SWT) IS THE PATRON WHILE GABRIEL, AND OTHER ANGELS ARE THE SUPPORTERS OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)

يقوم بنصره الله تعالى وجبريل والملائكة

آپ ﷺ کے مددگار اللہ تعالیٰ، جبریل اور تمام فرشتے

Allah has decreed: I shall prevail both, I Myself and My messengers. Surely Allah is Strong, Powerful. (58:21)

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ المجادلة ٢١﴾

اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے بے شک اللہ طاقتور (اور) زبردست ہے (21:58)

----- And if you aid one another against him (Muhammad) then Allah, even He, is his protecting Friend, and Gabriel and the righteous among the believers; and furthermore the angels are his helpers. (66:4)

وَأِنْ تَطَهَّرَ عَلَيْهِ فَاِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٦٦﴾
﴿٦٦ التحريم ٤﴾

----- اگر تم پیغمبر کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی ہیں اور ان کے علاوہ (اور) فرشتے بھی مددگار ہیں (4:66)

More Reference : 22:15 Page 304

وللمزيد راجع ٢٢ الحج: ١٥ الصفحة ٣٠٤

مزید حوالہ 15:22 304
صفحة

**MANIFEST VICTORY (CLEAR TRIUMPH)
BESTOWED UPON PROPHET MUHAMMAD(SAAS)**

We have granted you (O Muhammad) a manifest victory, (48:1)

That Allah may forgive your faults that which is past and that which is to come, and may perfect His favour to you, and may guide you on a right path, (48:2)

And that Allah may help you with strong help(48:3)

More Reference : 110 : 1 to 3 Page 317,318

ALLAH(SWT) HAS ASSURED PROPHET MUHAMMAD(SAAS) TO SHIELD HIM AGAINST EVERY MISCHIEF AND PLOT OF DISBELIEVERS

But for the grace of Allah upon you (Muhammad), and His mercy, a party of them had resolved to mislead you, but they will mislead only themselves and they will hurt you but not at all. Allah reveals to you the Scripture and Wisdom, and teaches you that which you knew not. The grace of Allah towards you has been infinite. (4:113)

And when, by your Lord, We shall question, everyone, (15:92)

of what they used to do. (15:93)

And we will proclaim that which you are commanded, and withdraw from the idolaters. (15:94)

And we will suffice you from the offenders, (15:95)

More Reference : 22:15 Page 304

ALLAH(SWT) HAS EVER PROTECTED EVERY MESSENGER OR PROPHET AGAINST THE SECRET WHISPERS OF SATAN

Never We sent a messenger or a Prophet before you but when he recited (the message), Satan proposed (opposition) in respect of that which he recited thereof. But Allah abolishes that which Satan proposes. Then Allah establishes His revelations. Allah is Knower, Wise; (22:52)

فتح الله له فتحا مبينا

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

﴿ ٤٨ الفتح ١ ﴾

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

﴿ ٤٨ الفتح ٢٠ ﴾

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا

﴿ ٤٨ الفتح ٣ ﴾

والمزيد راجع ١١٠ النصر: ١ الى ٣

وعد الله لكفاية النبي ﷺ من شرور الأعداء

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تُكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

﴿ ٤ النساء ١١٣ ﴾

فَوَرِّكَ لَسْنَا لَهُمْ أَجْمَعِينَ

﴿ ١٥ الحجر ٩٢ ﴾

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

﴿ ١٥ الحجر ٩٣ ﴾

فَأَصْدَعْ بِمَأْتُومِرُوا عَرَضَ عَنِ الشِّرْكَائِينَ

﴿ ١٥ الحجر ٩٤ ﴾

إِنَّا كَفَيْتَكَ الْمُسْتَهْزِعِينَ

﴿ ١٥ الحجر ٩٥ ﴾

والمزيد راجع ٢٢ الحج: ١٥: الصفحة ٣٠٤

كل رسول و نبي كان محصوماً من وساوس الشيطان

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

﴿ ٢٢ الحج ٥٢ ﴾

آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے واضح اور صاف فتح عطا کی

بے شک (اے محمد) ہم نے آپ کو صاف اور واضح فتح دی (1:48)

تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی بھول چوک معاف کر دے۔ اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھے راستے چلائے (2:48)

اور اللہ آپ کی زبردست مدد کرے (3:48)

مزيد حوالہ 3:1:110 صفحہ 318,317

آپ ﷺ کو منکرین کے شر سے محفوظ فرمانے کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ

اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت آپ کو بھٹکانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اور یہ اپنے سوا (کسی کو) بھٹکانہیں سکتے اور نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ جانتے نہیں تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے (4:113)

تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھ گچھ کریں گے (15:92)

ان کاموں کی جو وہ کرتے ہیں (15:93)

پس جو حکم آپ کو (اللہ کی طرف سے) ملا ہے وہ (لوگوں کو) سنا دو اور مشرکوں کا (ذرا) خیال نہ کرو (15:94)

آپ سے جو لوگ مسخر اپن کرتے ہیں ان کی سزا کے لئے ہم کافی ہیں۔ (15:95)

مزيد حوالہ 15:22 صفحہ 304

ہر پیغمبر و سوسہ شیطان سے محفوظ

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر (اس کا یہ حال تھا کہ) جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں (وسوسہ) ڈال دیتا تھا تو جو (وسوسہ) شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اللہ علم والا (اور) حکمت والا ہے (22:52)

And those who disbelieve would almost trip you with their eyes when they hear the Reminder, and they say: He is indeed possessed. (68:51)

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ
إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾
﴿٦٨ القلم ٥١﴾

اور کافر جب (یہ) نصیحت (کی کتاب) سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے (51:68)

More Reference : 22:15 Page 304

والمزيد راجع ٢٢ الحج : ١٥ الصفحة ٣٠٤

مزيد حوالہ 15:22 صفحہ 304

**PHILOSOPHY IN THE ADVENT
OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)**

الحكمة في بعثة النبي العربي محمد ﷺ

حضرت محمد ﷺ کی بعثت میں حکمت

O people of the Scripture! Now Our messenger has come to you to explain things the after an interval (of cessation) of the messengers, lest you should say: There came not to us a herald nor any warner. Now a messenger of glad tidings and a warner has come to you. Allah is Able to do all things. (5:19)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا
مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ
جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾
﴿٥ المائدة ١٩﴾

اے اہل کتاب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو (ایک عرصے تک) منقطع رہا تو (اب) تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آگئے ہیں جو تم سے (ہمارے احکام) بیان کرتے ہیں۔ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوش خبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو (اب) تمہارے پاس خوشخبری اور آگاہ کرنے والے آگئے ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (19:5)

Otherwise, if disaster should afflict them because of that which their own hands have sent before (them), they might say: Our Lord! Why You sent no messenger to us, that we might have followed Your revelations and been of the believers? (28:47)

وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
فَتُنَبِّئَنَا بِآيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾
﴿٢٨ القصص ٤٧﴾

اور (اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لئے بھیجا ہے کہ) ایسا نہ ہو کہ اگر ان (اعمال) کے سبب جو اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے (47:28)

For Detail Consult : 13:30 Page 170

والتفصيل راجع ١٣ الرعد : ٣٠ الصفحة ١٧٠

تفصیل کیلئے دیکھئے 30:13 صفحہ 170

**HOLY PROPHET MUHAMMAD(SAAS)
HAS BEEN ENUNCIATED AS A MESSENGER
FOR ALL HUMANKIND**

بعث محمد ﷺ رسولا
إلى كافة الناس

حضرت محمد ﷺ تمام انسانوں کی
طرف رسول بنا کر بھیجے گئے

-----We have sent you (Muhammad) as a messenger to mankind and Allah is sufficient as a witness. (4:79) PART

وَأَرْسَلْنَاكَ
لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾
﴿٤ النساء ٧٩﴾ جزء

----- لوگوں (کی ہدایت) کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے (79:4) جزو

O mankind! The messenger has come to you with the truth from your Lord. Therefore believe; (it is) better for you. But if you disbelieve, still, to Allah belongs whatsoever is in the heavens and in the earth. Allah is ever Knower, Wise. (4:170)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ
مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا
فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾
﴿٤ النساء ١٧٠﴾

لوگو! اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو (ان پر) ایمان لاؤ (یہی) تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر کفر کرو گے تو (جان رکھو کہ) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ (سب کچھ) جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (170:4)

Say (O Muhammad): O mankind! I am the messenger of Allah to you all the messenger of Him to Whom belongs the Sovereignty of the heavens and the earth. There is no god except Him. He quickens and He gives death.-----

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
﴿٧٧ الأعراف ١٥٨﴾ جزء

(اے محمدؐ) کہہ دو کہ لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں (یعنی اس کا رسول ہوں) (وہ) جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔-----
(158:7) جزو

If We had so wished, We could raise up a warner in every village. (25:51)

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا
﴿٢٥ الفرقان ٥١﴾

اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے
(51:25)

And We have not sent you (O Muhammad) except as a bringer of good tidings and a warner to all mankind; but most of mankind knows not. (34:28)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
﴿٣٤ سبأ ٢٨﴾

اور (اے محمدؐ) ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (28:34)

Along with others of them who have not yet joined them. He is the Mighty, the Wise. (62:3)

وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ
﴿٦٢ الجمعة ٣﴾

اور ان میں سے اور دوسرے لوگوں کی طرف بھی (ان کو بھیجا ہے) جو ابھی ان (مسلمانوں) سے نہیں ملے۔ اور وہ غالب حکمت والا ہے (3:62)

More Reference : 5:15,16 7:157 8:64
Page 181, 223, 181, 303, 163

وللمزيد راجع ٥ المائدة: ١٥, ١٦ ٧ الأعراف: ١٥٧
٨ الأنفال: ٦٤ ٤٧ محمد: ٢

مزید حوالہ 5:15,16 7:157 8:64
صفحہ 163, 303, 181, 223, 181

THE SOLEMN PLEDGE OF THE PROPHETS - COVENANT REGARDING BELIEF IN HOLY PROPHET MUHAMMAD(SAAS) (CONFERRING HIS AUTHORITY OVER ALL THOSE SENT BY ALLAH)(SWT)

When Allah made (His) covenant with the Prophets, (He said): Remember that which I have given you of the Scripture and knowledge. And afterward there will come to you a messenger, confirming that which you possess. You shall believe in him and you shall help him. He asked do you agree, and will you take up My burden (which I lay upon you) in this (matter)? They answered: We agree. He asked then but you witness. I will be a witness with you. (3:81)

هو افضل الانبياء، أخذ ميثاق النبيين
للايمان بمحمد ولنصره (ﷺ)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ
وَآخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
﴿٣ آل عمران ٨١﴾

افضل الانبياء۔ آپ ﷺ کی تائید و تصدیق کے لئے
تمام انبیاء کرام سے عہد لیا گیا

اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور (عہد لینے کے بعد) پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا (یعنی مجھے گواہ ٹھہرایا) انہوں نے کہا (ہاں) ہم نے اقرار کیا (اللہ نے) فرمایا کہ تم (اس وعدہ کے) گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں
(81:3)

PROPHET MUHAMMAD(SAAS) VOUCHES FOR ALL PREDECESSORS (PROPHETS AND MESSENGERS OF ALLAH)(SWT)

Not only he brought the Truth, and he confirmed those sent (before him). (37:37)

تصدیق محمد ﷺ لجميع المرسلين

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ
﴿٣٧ الصّٰفّٰت ٣٧﴾

حضرت محمد ﷺ سب پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں

(نہیں) بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور (پہلے) پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں (37:37)

**THE PEOPLE OF THE BOOK RECOGNIZE
PROPHET MUHAMMAD(SAAS)
WHO CORRESPONDS TO THE
DESCRIPTIONS OF A TRUE MESSENGER
FORETOLD IN THEIR SCRIPTURES**

Those to whom We gave the Scripture recognize (him) as they recognize their sons. But a party of them knowingly conceals the truth. (2:146)

Those to whom We gave the Scripture recognize (him) as they recognize their sons. Those who ruin their own souls will not believe. (6:20)

**ALL THE PEOPLE OF SCRIPTURES ARE
ORDAINED BY ALLAH(SWT) TO BELIEVE AND
FOLLOW PROPHET MUHAMMAD(SAAS)**

O people of the Scripture! Now Our messenger has come to you, expounding to you much of that which you used to hide in the Scripture, and dispense with much of it. Now has come to you Light from Allah and a manifest Scripture, (5:15)

Those who follow the messenger, the Prophet who can neither read nor write, whom they will find described in the Torah and the Gospel (which are) with them. He will enjoin on them that which is decent and forbid them that which is wrong. He permits them all wholesome things and prohibits for them only the foul; and he will relieve them of their burden and the fetters that they used to wear. Then those who believe in him, and honour him and support him, and follow the Light, which is sent down with him: they are the successful. (7:157)

More Reference : 4:79 7:158 34:28
Page 179/675, 165/180, 180

**BELIEF IN ALLAH(SWT) AND PROPHET
MUHAMMAD(SAAS) AND HOLY QURAN IS
OBLIGATORY TO QUALIFY FOR REWARD OF DEEDS**

Those are they who disbelieve the revelations of their Lord and in the meeting with Him. Therefore their works are vain, and on the Day of Resurrection. We assign no weight to them. (18:105)

أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي العربي
محمد ﷺ معرفة جيدة بما وجدوه
مكتوباً عندهم في صحف انبيائهم

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾
﴿٢ البقرة ١٤٦﴾

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
أَبْنَاءَهُمْ وَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾
﴿٦ الانعام ٢٠﴾

أمر الله لأهل الكتاب بالإيمان بالرسول
النبي الأمي العربي محمد ﷺ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿٥﴾
﴿٥ المائدة ١٥﴾

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يَجِدُ وَنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَا أُولَئِكَ إِنَّكُمْ أَعْرَفْتُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْعَلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّوْا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٧﴾
﴿٧ الاعراف ١٥٧﴾

والمزيد راجع ٤ النساء: ٧٩ ٧ الاعراف: ١٥٨
٣٤ سباء: ٢٨ الصفحة ١٧٩/٦٧٥، ١٦٥/١٨٠، ١٨٠

الذين لا يؤمنون بالله وبالنبي محمد
وبالقرآن الكريم، حبطت أعمالهم

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٨﴾
﴿١٨ الكهف ١٠٥﴾

آپ ﷺ کے آخری اور سچے نبی ہونے کی حقیقت سے اہل
کتاب اپنے دلوں میں آشنا تھے۔ کیونکہ انہوں نے آپ ﷺ
کے اوصاف کو اپنے صحیفوں میں
ایک سچے رسول کی پیش گوئیوں کے مطابق پایا

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں
کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا
کرتے ہیں مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان
بوجھ کر چھپا رہا ہے (2:146)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ ان (ہمارے پیغمبر) کو
اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا
کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال
رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے (20:6)

اللہ کا اہل کتاب کو رسول کریم محمد عربی ﷺ پر
ایمان لانے کا حکم

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر (آخر
الزمان) آگئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب (الہی) میں سے
چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر
بتا دیتے ہیں۔ اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے
ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور
روشن کتاب آچکی ہے (5:15)

وہ جو (محمد) رسول (اللہ) کی جو نبی امی ہیں کی پیروی
کرتے ہیں جن (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات
اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیک کام کا حکم
دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔ اور پاک
چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں
کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو
ان (کے سر) پر (اور گلے میں) تھے اتارتے ہیں۔ تو جو
لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی اور انہیں مدد
دی۔ اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی
کی وہی مراد پانے والے ہیں (7:157)

مزید حوالہ 4:79 7:158 34:28
صفحة 180, 180/165, 675/179

اللہ تعالیٰ پر نبی کریم ﷺ پر اور قرآن پاک پر
ایمان لانا شرط ورنہ تمام اعمال بے کار

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور
اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع
ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کا وزن ہی نہیں کریں
گے (105:18)

COMMANDS FOR REVERENCE OF HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

احکام النبی کریم ﷺ و تکریمہ

تکریم و تعظیم رسول کریم ﷺ کے احکام

ORDER OF ASKING FOR BLESSINGS OF ALLAH (SWT) UPON PROPHET MUHAMMAD (SAAS) AND TO SALUTE HIM WITH ALL RESPECT

الأمر بالصلوة والسلام على النبي (ﷺ)

حضرت محمد ﷺ پر درود سلام بھیجنے کا حکم

Allah and His angels shower blessings on the Prophet. O you who believe! Ask blessings on him and salute him with all respect (greet him properly) (33:56)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٥٦﴾

اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود (رحمت) بھیجتے ہیں۔ مومنو! تم بھی پیغمبر پر درود اور خوب سلام بھی بھیجا کرو (56:33)

ALLAH (SWT) BESTOWED HONOUR AND INFLUENCE UPON PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

كان الله وهب النبي (ﷺ) العزة

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو عزت سے سرفراز کیا

They say: Surely, if we return to Al Madinah the mightier will soon drive out the weaker; when might (honour and influence) belongs to Allah and to His messenger and the believers; but the hypocrites do not realize it. (63:8)

يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾
﴿٦٣ المنافقون ٨﴾

کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی لیکن منافق نہیں جانتے (8:63)

INSTRUCTION FOR REVERENT BEHAVIOUR WHILE VISITING PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

الأمر بحسن التعامل عند الحضور في خدمة النبي (ﷺ)

بارگاہ نبوی حضرت محمد ﷺ میں ادب

REVERENTIAL RESPECT FOR PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

توقیر النبی (ﷺ) وتعظیمہ

توقیر و تعظیم رسول کریم حضرت محمد ﷺ

DO NOT ADDRESS THE PROPHET MUHAMMAD (SAAS) FAMILIARLY USE PROPER TERMS OF RESPECT FOR CONVOKE

النهي عن دعاء النبي (ﷺ) كدعاء عامة الناس

حضرت محمد ﷺ کو صرف ناکلے کر پکارنے سے اجتناب کا حکم

Make not the calling of the messenger among you as your calling one of another. Allah knows those of you who try to slip away, hiding themselves. And let those who conspire to evade orders beware lest grief or painful punishment befalls them. (24:63)

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَافُونَ عَنَ أَمْرٍ أَن تَصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾
﴿٢٤ النور ٦٣﴾

مومنو پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہئے کہ (ایسا نہ ہو کہ) ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا دردناک عذاب نازل ہو (63:24)

ETIQUETTES FOR MEETING THE PROPHET MUHAMMAD (SAAS) - AVOID LOUD CALL OUTSIDE APARTMENT, WAIT AND BIDE UNTIL HE IS FREE TO COME OUT TO ATTEND

النهي عن مناداة النبي (ﷺ) من وراء الحجرات و الأمر بالصبر والانتظار

حضرت محمد ﷺ سے ملاقات کے آداب حجرہ سے آواز دے کر پکارنے کی بجائے صبر اور انتظار کی ہدایت

Those who call you from outside the apartment, most of them have no sense. (they do not use their reason) (4:4)

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٤٩ الحجرات ٤﴾

جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں (4:49)

And if they had patience till you came forth to them, it had been better for them. And Allah is Forgiving, Merciful. (49:5)

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾
﴿٤٩ الحجرات ٥﴾

اور اگر وہ صبر کئے رہتے یہاں تک کہ آپ خود (حجرہ سے) نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا۔ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے (5:49)

DO NOT RAISE YOUR VOICES NOR SHOUT BEFORE PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

O you who believe! Lift not up your voices above the voice of the Prophet, nor shout when speaking to him as you shout one to another, lest your deeds be rendered vain while you perceive not. (49:2)

عدم رفع الصوت فوق صوت النبي ﷺ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٤٩﴾
الحجرات ٢

حضرت محمد ﷺ کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی ممانعت

اے اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو (اس طرح) ان کے سامنے زور سے نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو (2:49)

LOWER YOUR VOICES IN PRESENCE OF THE PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

They who subdue their voices in the presence of the messenger of Allah, those are they whose hearts Allah has proven to righteousness. Theirs will be forgiveness and an immense reward. (49:3)

غض الصوت عند رسول الله ﷺ

إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُّونَ أَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾
الحجرات ٣

حضرت محمد ﷺ کے سامنے دبی آواز میں بات کرنے کی ہدایت

جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے دل تقویٰ (پرہیزگاری) کے لئے آزما لئے ہیں۔ ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے (3:49)

DO NOT ALLOW YOUR OWN DESIRES TO HAVE PRECEDENCE (PRIORITY) OVER THE HOLY PROPHET'S (SAAS) COMMANDS (QURAN AND SUNNAH)

O you who believe! Be not forward in the presence of Allah and His messenger, and keep your duty to Allah. Allah is Hearer, Knower. (49:1)

النهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله ﷺ وهو إيثار الأهواء على الكتاب والسنة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٩﴾
الحجرات ١

اپنی سمجھ اور رائے کو احکام رسول محمد ﷺ (قرآن و سنت) پر ترجیح نہ دو

مومنو! (کسی بات کے جواب میں) اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے (1:49)

MANDATORY TO ATTEND CALL OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS) FOR ASSEMBLY AND NOT LEAVING WITHOUT PERMISSION

They only are the true believers who believe in Allah and His messenger and, when they are with him on some common errand, go not away until they have asked permission to leave him. Those who ask for permission to leave you, those are they who believe in Allah and His messenger. So, if they ask your leave for some affair of theirs, give leave to whom you wish of them, and ask for them forgiveness of Allah. Allah is Forgiving, Merciful. (24:62)

النهي عن الذهاب من مجلس الرسول ﷺ بدون إذنه ﷺ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَن بَشِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾
النور ٦٢

حضرت محمد ﷺ کے بلاوے پر حاضر ہو جانے اور بلا اجازت رخصت نہ ہونے کی ہدایات

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لئے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لئے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر جو لوگ آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو جب یہ لوگ آپ سے کسی کام کے لئے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں اور ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگا کریں کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے (62:24)

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR PRIVATE CONSULTATION WITH PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ﷺ

حضرت محمد ﷺ سے (انفرادی طور پر) مشورہ طلب کرنے کے آداب

you who believe! When you hold private consultation with the messenger, offer something in charity before your conference. That is better and most conducive to purify your conduct. But if you cannot find then Allah is forgiving, Merciful. (58:12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤُكُمْ صَدَقَةً ط ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ط فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ المجادلة ١٢﴾

مومنو! جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو (سرگوشی کرنا چاہو) تو بات کہنے سے پہلے (مساکین کو) کچھ صدقہ دے دیا کرو یہ تمہارے لئے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے۔ اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے (12:58)

are you worried to offer alms before your conference? Then, when you do not do so and Allah has forgiven you, establish worship and pay the poor due and obey Allah and his messenger. And Allah is Aware of what you do. (58:13)

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤُكُمْ صَدَقَاتٍ ط فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ المجادلة ١٣﴾

کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے (سرگوشی) سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ ڈر گئے؟ پھر جب تم نے (ایسا) نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے (13:58)

DECORUM OF DINING WITH PROPHET MUHAMMAD (SAAS), REFRAIN ENTERING PROPHET'S DWELLING UNLESS INVITED TO MEAL, OBSERVE DECORUM AND DISPERSE AFTER DINING RATHER THAN INDULGING IN CONVERSATION

الحضور إلى بيت النبي ﷺ في الموعد المحدد لتناول الطعام وعدم التأخير في الانشطار بعد الطعام

حضرت محمد ﷺ کی دعوت طعام پر بروقت حاضری اور کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر نہ ٹھہرنے کی ہدایات

you who believe! Enter not the dwellings of the Prophet for a meal without waiting for the proper time, unless permission be granted to you. But if you are invited, enter, and when your meal is ended, then disperse. Linger not for conversation. That would cause annoyance to the Prophet, and he would be shy of (asking) you (to go); but Allah is not shy of the truth. (33:53) PART

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ﴿٣٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٥٣﴾ جزء

مومنو! پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے اور اس کے پکینے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ یہ بات پیغمبر کو تکلیف دیتی تھی اور وہ تم سے لحاظ کرتے تھے (اور کہتے نہیں تھے) لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے لحاظ نہیں کرتا۔ (33:53) جزو

EXCLUSIVE MATRIMONIAL LAWS FOR PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

قوانين الزواج المختصة بالرسول ﷺ

خصوصی احکام ازدواج برائے رسول کریم ﷺ

O Prophet! We have made lawful to you your wives to whom you have paid their dowries, and those whom your right hand possesses and those whom Allah has given you as spoils of war, and the daughters of your uncles on the father's side and the daughters of your aunts on the father's side, and the daughters of

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنَّمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ أَخِيكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلِيكِ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ

اے پیغمبر ہم نے آپ کے لئے آپکی بیویاں جن کو آپ کی لونڈیاں جو اللہ نے آپ کو (کفار سے بطور مال غنیمت) دلوائی ہیں اور آپ کے چچا کی لڑکیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے

your uncles on the mother's side and the daughters of your aunts on mother's side who emigrated with you, and a believing woman if she gives herself to the Prophet and the Prophet desires to ask her in marriage, a privilege for you only, not for the (rest of) believers. We are aware of that which We enjoined upon them concerning their wives and captives, those whom their right hands control that there maybe no difficulty for you, for Allah is Forgiving, Merciful. (33:50)

You can defer any of them whom you wish and receive to you whom you please, and whomsoever you desire of those whom you have set aside (temporarily), it is no sin for you (to approach her again); that is better; that they may be comforted and not grieve, and may all be pleased with what you give them. Allah knows what is in your hearts (O men) and Allah is Aware and Lenient. (33:51)

It is not allowed you to take (other) women henceforth nor that you should exchange them for other wives even though their beauty pleased you, except those whom your right hand controls. And Allah is Observer over all things. (33:52)

وَأَمْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ إِن وَهَبْتَ نَفْسًا لِلرَّبِّ
إِن أَرَادَ التَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً
لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا
عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
لِيُكْفَلُوا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرْجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ۝

﴿ ۳۳ الاحزاب ۵۰ ﴾

تُرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَىٰ إِلَيْكَ
مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ إِذْ بَدَأْتَ
أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ
كُلَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝

﴿ ۳۳ الاحزاب ۵۱ ﴾

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ
تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۝

﴿ ۳۳ الاحزاب ۵۲ ﴾

ساتھ ہجرت کی ہے (سب حلال ہیں) اور کوئی مومن عورت اگر اپنا نفس پیغمبر کو بخش دے (یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے) بشرطیکہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں (وہ بھی حلال ہیں لیکن یہ اجازت) (اے محمد) خاص آپ ہی کے لئے ہے سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو (مہر واجب الادا) مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے (یہ) اس لئے (کیا گیا ہے) کہ آپ پر کسی طرح تنگی نہ رہے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (50:33)

(اور آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ) جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ اور جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لیں تو آپ پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ (اجازت) اس لئے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم زدہ نہ ہوں اور جو کچھ آپ ان کو دیں اسے لے کر سب خوش رہیں۔ اور جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ جاننے والا (اور) بردباد ہے (51:33)

(اے پیغمبر) ان کے سوا اور عورتیں آپ کو جائز نہیں اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لیں خواہ ان کا حسن آپ کو (کیسا ہی) اچھا لگے مگر وہ جو آپ کے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں آپ کو اختیار ہے اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے (52:33)

More References: 4:3 5:5 37:33
Page 520, 503/518, 848

والتفصیل راجع ۴ النساء: ۳ ۵ المائدة: ۵
۳۷ الصفات: ۳۳ الصفحة ۵۲۰، ۵۱۸/۵۰۳، ۸۴۸

تفصیل کیلئے دیکھئے 3:4 5:5 33:37
صفحہ 848, 518/503, 520

HONOUR AND RESPECT WITH LOVE
FOR THE HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

الحترام والاحترام للرسول ﷺ

نامہ رسالت ﷺ

PUNISHMENT FOR BLASPHEMY FOR WHO SCORN - RIDICULE - INSULT - OPPOSE - OR VEX THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS)

شناعة إهانة الرسول ﷺ

توہین رسالت کی سزا

And whoso opposes the messenger after the guidance (of Allah) has been manifested to him, and follows other than the believer's way, We appoint for him that to which he himself has turned, and expose him to hell a hapless journey's end! (4:115)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ
مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

﴿ ۴ النساء ۱۱۵ ﴾

اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جس طرف وہ چلتا ہے ہم اسے اس طرف چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے۔ اور وہ بری جگہ ہے (115:4)

Say (to the disbelievers): Travel in the land, and see the nature of the consequence for the rejecters! (6:11)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظروا كيف كان
عاقبة المكدبين ۝

﴿ ۶ الانعام ۱۱ ﴾

کہو کہ (اے منکرین رسالت) ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا (11:6)

So if they accuse you of falsehood, (Muhammad), say: Your Lord is a Lord of all embracing mercy, and His wrath will never be withdrawn from guilty folk. (6:147)

That is because they opposed Allah and His messenger. Whoso opposes Allah and His messenger, (for him) Allah is Stern in punishment. (8:13)

And of them are those who vex the Prophet and say: He is all hearing. Say: He listens to what is best for you, who believes in Allah and is true to the believers, and a mercy for such of you as believe. Those who vex the messenger of Allah, for them there is a grievous chastisement. (9:61)

Know they not that whoso opposes Allah and His messenger, his portion is hell, to abide therein? That is the extreme abasement. (9:63)

That is their recompense hell, because they disbelieved, and made a jest of Our revelations and Our messengers. (18:106)

Those who try to annoy Allah and His messenger, Allah has cursed them in the world and the Hereafter, and has prepared for them the shameful torment. (33:57)

Those who oppose Allah and His messenger, they will be among those most humiliated. (58:20)

That is because they have broken off with Allah and His messenger; and whoso opposes Allah, (for him) Allah is stern in reprisal. (59:4)

is your insulter (and not you) who without posterity. (108:3)

فَإِنْ كَذَّبْتُمْ فَلْيَسِّرْ مَوْضُوعِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
فَإِنْ كَذَّبْتُمْ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ
وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾
﴿٦ الانعام ١٤٧﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ
يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿١٣﴾
﴿٨ الانفال ١٣﴾

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ
هُوَ آذُنٌ قُلُّ أذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾
﴿٩ التوبة ٦١﴾

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ
لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ
الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾
﴿٩ التوبة ٦٣﴾

ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْكَفْرِ وَأَتَّخَذُوا
آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا ﴿١٠٦﴾
﴿١٨ الكهف ١٠٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
مُهِينًا ﴿٥٧﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٥٧﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾
﴿٥٨ المجادلة ٢٠﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ
يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾
﴿٥٩ الحشر ٤﴾

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾
﴿١٠٨ الكوثر ٣﴾

اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب گنہگار لوگوں سے نہیں ملے گا (147:6)

یہ (سزا) اس لئے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے (13:8)

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کان کا کچا ہے (ان سے) کہہ دو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لئے ایسا ہے وہ اللہ کا اور مومنوں (کی بات) کا یقین رکھتا ہے۔ اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لئے رحمت ہے اور جو لوگ رسول اللہ کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لئے عذاب الیم (تیار) ہے (61:9)

کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لئے جہنم کی آگ (تیار) ہے جس میں وہ ہمیشہ (جلتا) رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے (63:9)

یہ ان کی سزا ہے (یعنی) جہنم اس لئے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی (106:18)

جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے (57:33)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے (20:58)

یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (4:59)

کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہوگا (3:108)

**BELIEVERS ARE FORBIDDEN TO TAKE ANY
BLASPHEMER AS INTIMATE - FRIEND - PATRON
SPONSOR - SUPPORTER (HOW NEAR KIN MAY BE)**

You will not find any people who believe in Allah and the Last Day showing affection for those who oppose Allah and His messenger: even though they be their fathers or, their sons or their brothers or their family connection. As for such, He has engraved faith upon their hearts and has strengthened them with a Spirit from Him, and He will bring them into Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide. Allah is well pleased with them, and they are well pleased with Him. They are Allah's partisans. Is it not Allah's partisans who are the successful? (58:22)

نہی اللہ المؤمنین عن التواد لمن
حاد اللہ ورسوله (ﷺ)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
وَآيَدَهُمْ بَرُودًا وَمِنَّةً وَيُؤْتِيهِمْ خَزَائِرَ
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٨﴾
المجادلة ٢٢

مؤمنین کو شاتم رسول حضرت محمد ﷺ سے
ہر قسم کی دوستی رکھنے کی ممانعت

جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان (پتھر پر لکیر کی طرح) تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے۔ اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے (اور) سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے (22:58)

More Reference : 9:63 58:20 Page 186

والمزید راجع ٩ التوبة: ٦٣ ٥٨ المجادلة: ٢٠

مزید حوالہ 63:9 20:58 صفحہ 186

ULTIMATE FATE OF THE BLASPHEMER

May Abu-Lahab's both hands waste away and may he waste away (as well). (111:1)

His wealth and gains will never profit him. (111:2)

He will be plunged in flaming fire, (111:3)

And his wife, the wood carrier, (111:4)

Will have a rope around her neck of palm fiber. (111:5)

عاقبة شاتم الرسول (ﷺ)

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾
﴿١١١ اللہب ١﴾

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾
﴿١١١ اللہب ٢﴾

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾
﴿١١١ اللہب ٣﴾

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾
﴿١١١ اللہب ٤﴾

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾
﴿١١١ اللہب ٥﴾

شاتم رسول حضرت محمد ﷺ کا انجام

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو (1:111)

نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا (2:111)

وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا (3:111)

اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں سر پر اٹھائے پھرتی ہے (4:111)

اس کے گلے میں مونج (پوست کھجور سے بنی ہوئی) کی رسی ہوگی (5:111)

More Reference : 22:15 104:1 108:3
Page 304, 476, 186

والمزید راجع ٢٢ الحج: ١٥ ١٠٤ الهمزة: ١
١٠٨ الكوثر: ٣ الصفحة ٣٠٤ ٤٧٦ ١٨٦

مزید حوالہ 15:22 1:104 3:108
صفحہ 186, 476, 304

**MUSLIMS SHOULD DEFEND THE HONOUR
DIGNITY - OF THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS)**

That you (mankind) may believe in Allah and His messenger, and may honour Him, and may revere Him, and may glorify Him at early dawn and at the close of day. (48:9)

يجب على المسلمين أن يدافعوا عن
كرامة الرسول (ﷺ) وتكريمه

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾
﴿٤٨ الفتح ٩﴾

مسلمانوں کو تکریم نبوی حضرت محمد ﷺ
کی پاسبانی کرنی چاہیے

تاکہ (مسلمانو) تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور دل سے اس کی تعظیم کرو۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو (9:48)

More Reference : 7:157 Page 181

والمزید راجع ٧ الأعراف: ١٥٧ الصفحة ١٨١

مزید حوالہ 157:7 صفحہ 181

MEMBERS OF THE
HOUSEHOLD-FAMILY-KINDRED
OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)

اهل بیت الرسول ﷺ وارانہ

اهل بیت اہل بیت دار
رسول اللہ حضرت محمد ﷺ

And warn your nearest kinfolk.
(26:214)

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢١٤﴾

اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرنا دو (214:26)

-----Allah merely
wants to remove any blight from
you and cleanse you thoroughly
since you are) people of the
Prophet's House. (33:33) PART

إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٣٣﴾ جزء

----- اے (پیغمبر کے) اہل بیت اللہ چاہتا
ہے کہ تم سے ناپاکی (کا میل کچیل) دور کر دے اور تمہیں
بالکل پاک صاف کر دے (33:33) جزو

Reference : 3:61 33:28,29,30 66:1,3,5,6
Page 607, 189, 543

والمزید راہی ۳ آل عمران: ۶۱ ۳۲ السجدة: ۵۰، ۵۲
۳۳ الاحزاب: ۲۸، ۲۹، ۳۰ ۶۶ التحريم: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶

6,5,3,1:66 30,29,28:33 61:3
صفحة 543, 189, 607

REVERENTIAL RESPECT FOR THE FAMILY
HOUSEHOLD AND KINDRED
OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)

تکریم اہل بیت الرسول ﷺ

احترام اہل بیت تکریم
اہل بیت الرسول ﷺ

TIQUETTES FOR TALKING WITH THE ESTEEMED
WIVES OF THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS)

آداب التکلم بأزواج النبی ﷺ

ازواج مطہرات سے گفتگو کے آداب

-----And when
you ask them (the wives of the
Prophet) anything, ask from them
behind a curtain. That is purer for
our hearts and for their hearts.
----- (33:53) PART

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴿٥٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٥٣﴾ جزء

----- اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز طلب
کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو تمہارے اور ان
کے دلوں کے لئے کامل پاکیزگی یہی ہے۔
----- (53:33) جزو

NEVER MARRYING WITH THE WIDOWS OF THE
PROPHET MUHAMMAD(SAAS) IS AN ENORMITY

تحریم نکاح أزواج
النبی ﷺ من بعده

ازواج مطہرات سے
نکاح کی ممانعت

-----And it is not
for you to cause annoyance to the
messenger of Allah, nor that you
could ever marry his wives after
him. That in Allah's sight would be
an enormity. (33:53) PART

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ
أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٥٣﴾ جزء

----- اور تم کو یہ اچھا نہیں کہ پیغمبر اللہ کو تکلیف دو
اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو
بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے
(53:33) جزو

PROPHET'S MUHAMMAD(SAAS) WIVES
ARE LIKE MOTHERS OF BELIEVERS

ازواج النبی ﷺ أمهات المؤمنین

ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں

-----The Prophet is closer to the
believers than themselves are, and
his wives are (as) their mothers.
----- (33:6) PART

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ
أُمَّهَاتُهُمْ ﴿٦﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٦﴾ جزء

----- پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے
ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں
----- (6:33) جزو

**ASKING OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)
FOR CONSIDERATION OF COGNATE
(FAMILY TIES) AFFECTION AND LOVE**

This is which Allah proclaims to His bondmen who believe and perform good deeds. Say(O Muhammad, to mankind): I do not ask you any payment therefor, except loving kindness among kinsfolk. And whoso scores a good deed We add to its good for him. Allah is Forgiving, Appreciative. (42:23)

**REVILING OR DISREGARDING THE FAMILY OF
PROPHET MUHAMMAD(SAAS)
IS A GRAVE OFFENCE**

-----And it is not for you to cause annoyance to the messenger of Allah, nor that you should ever marry his wives after him. That in Allah's sight would be an enormity. (33:53) PART

**SPECIAL INSTRUCTIONS TO THE WIVES
OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)
FOR HIS VENERATION**

O Prophet! Tell your wives: If you desire the worldly attractions then come on! I will let you enjoy them and will release you in a handsome manner. (33:28)

But if you desire Allah and His messenger and the abode of the Hereafter, then Allah has prepared for the good among you an immense reward. (33:29)

And whosoever of you is devout in the service to Allah and His messenger and does right, We shall grant her reward twice over, and We have prepared for her a generous sustenance. (33:31)

And bear in mind that which is rehearsed in your houses of the signs of Allah and wisdom. Allah is Subtile, Aware. (33:34)

رعاية المودة في القربى بشأن
النبي الكريم ﷺ

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْرَفْ حَسَنَةً
نَّزِدْنَا لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٤٢﴾
الشورى ٢٣

التنقيص في كرامة أهل
البيت ائمة اكبير

وَمَا كَانَ لَكُمْ
أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِ آيَاتِهِ إِنَّكُمْ كَانْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٣٣﴾
الاحزاب ٥٣ جزء

الأوامر المختصة بأزواج النبي ﷺ
بشأن تبجيله ﷺ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
وَأَسْرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾
الاحزاب ٢٨

وَأَن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ
فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾
الاحزاب ٢٩

وَمَن يَفْعَلْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ
صَالِحًا نُؤْتِهِنَّ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا
لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾
الاحزاب ٣١

وَإِذْ كُنَّ مَائِتًا فِي بَيْوتِكُنَّ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ
وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾
الاحزاب ٣٤

نبی کریم حضرت محمد ﷺ کا خاندانی تعلق
اور قربت داری کا لحاظ رکھنے کے لیے فرمایا

یہی وہ (انعام ہے) جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو
کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر (تم سے)
قربت کی محبت (تو چاہئے) اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم
اس کے لئے اس میں ثواب بڑھائیں گے۔ بے شک
اللہ بخشنے والا قدر دان ہے (23:42)

تکریم اہل بیت میں کمی بڑا گناہ

----- اور تم کو یہ اچھا نہیں کہ پیغمبر اللہ کو
تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد
نکاح کرو بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام
ہے (53:33) جزو

ازواج مطہرات کو بھی رسول کریم
حضرت محمد ﷺ کی تکریم خصوصی کی ہدایات

اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور
اس کی زینت و آرائش کی طلب گار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ
دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں
(28:33)

اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر (یعنی
بہشت) کی طلب گار ہو تم میں جو نیک عمل کرنے والی
ہیں ان کے لئے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا
ہے (29:33)

اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار رہے
گی اور عمل نیک کرے گی۔ اس کو ہم دوہرا ثواب دیں
گے اور اس کے لئے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی
ہے (31:33)

اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں اور رسول
کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ بے شک
اللہ باریک بین اور باخبر ہے (34:33)

REFUTATION OF FALSE ACCUSATIONS OF DISBELIEVERS ON THE PROPHETHOOD OF MUHAMMAD (SAAS) IN LIGHT OF (DIVINE REVELATION) HOLY QURAN

رفع الشبهات حول ذات الرسول (ﷺ)

رسال اکرم حضرت محمد ﷺ پر مشرکین و مشرکین کے اعتراضات اور ان کی استزلال

OBJECTION OF UNBELIEVERS ON ENUNCIATION OF (MUHAMMAD (SAAS) WHY A MERE MORTAL FROM THEIR OWN MIDST AS MESSENGER OF ALLAH (SWT) TO GUIDE THEM

Is it a wonder for mankind that We have inspired a man among them, saying: Warn mankind and bring to those who believe the good tidings that they have a sure footing with their Lord? The disbelievers say: This is a mere wizard. (10:2)

That was because their messengers (from Allah) kept coming to them with clear proofs (of Allah's Sovereignty), but they said: Shall mere mortals guide us? So they disbelieved and turned away, and Allah was independent (of them). Allah is Absolute, Owner of all praise. (64:6)

Core Reference : 18:110 41:6
Page 208

اعتراض الكفار على بشرية الرسول (ﷺ)

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٠﴾
(١٠ يونس ٢)

ذٰلِكَ يٰۤاٰنٰكُ كَاٰنَتْ تَاۤاِيٰهُمُ رُسُلُهُمۡ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوۡا اِبۡشِرۡنَا بِرُءُوسِنَا فَاكۡفُرُوۡا وَتَوَلَّوۡا وَاٰسۡتَعۡنَى ۤاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيۡدٌ ﴿٦٤﴾
(٦٤ التّٰغٰبِث ٦)

والمزید راجع : ١٨ الكهف : ١١٠ : ٤١ حم السجدة : ٦
الصفحة ٢٠٨

آپ حضرت محمد ﷺ کے بشر ہونے پر کفار کا اعتراض

کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک شخص کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے (ایسے شخص کی نسبت) کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صرف جادوگر ہے (2:10)

یہ اس لئے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں؟ تو انہوں نے (ان کو) نہ مانا اور منہ پھیر لیا اور اللہ نے بھی بے پروائی کی۔ اور اللہ بے پرواہ (اور) لائق حمد (و ثنا) ہے (6:64)

مزید حوالہ : 110:18 41:6
صفحہ 208

ENUNCIATION OF DISBELIEVERS ON MARITAL STATUS OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS) (WHY HAVING WIVES AND OFFSPRINGS)

And We sent messengers (to mankind) before you, and We wanted for them wives and offspring, and it was not (given) to any messenger that he should bring a portent except by Allah's permission. For everything there is a time prescribed. (13:38)

WHIMS OF CHIEFS OF DISBELIEVERS OF MOKKHAH TO RECEIVE DIVINE REVELATION (HOLY QURAN) BY THEIR OWNSelves

And when a token comes to them, they say: We will not believe till we are given that which Allah's messengers are given. Allah knows best with whom to place His message. Humiliation from Allah and heavy punishment will smite the guilty for their scheming. (124)

And they say: If only this Qur'an had been revealed to some great man of the two towns? (43:31)

اعتراض الكفار على حياته الزوجية

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنۡ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمۡ اَزۡوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً وَّ مَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيۡ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ لِڪُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿١٣﴾
(١٣ الرعد ٣٨)

طلب الكفار رسالة الله لأنفسهم جهاراً

وَ اِذَا جَاۤءَتْهُمۡ آيَةٌ قَالُوۡا لَنْ نُّؤۡمِنَ حَتّٰى نُوۡفَىٰ مِثۡلَ مَاۤ اُوۡتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ۗ اللّٰهُ اَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسٰلَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِيۡنَ اٰجَرَمُوۡا صَغَارًا عِنۡدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيۡدٌ ۗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ كٰفَرُوۡا ﴿١٢٤﴾
(١٢٤ الانعام ١٢٤)

وَقَالُوۡا لَوْلَا نَزَّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرۡيَتَيْنِ عَظِيۡمٍ ﴿٤٣﴾
(٤٣ الزخرف ٣١)

آپ حضرت محمد ﷺ کی عائلی زندگی پر اعتراض

اور (اے محمد) ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی۔ اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر (حکم) قضاء (کتاب میں) لکھا ہوا ہے (38:13)

سرداران قریش مکہ کی برملا خواہش کہ ایسی رسالت ہمیں کیوں نہیں ملی

اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا اس لئے کہ مکاریاں کرتے تھے (124:6)

اور (یہ بھی) کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں (یعنی مکہ اور طائف) میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ (31:43)

DISBELIEVERS HAVE EVER DEMONSTRATED ALMOST ALL THE MESSENGERS OF ALLAH(SWT) OF THE PLEA OF THEIR BEING A MERE MORTAL HAVING COMMON WORLDLY STATUS WITH ROUTINE LIFE

Then, after them, We brought forth another generation; (23:31)

And We sent among them a messenger of their own saying: Serve Allah. You have no other god except Him. Will you not fear Him? (23:32)

And the chieftains of his people, who disbelieved and denied the meeting of the Hereafter, and whom We had bestowed the good things in the life of the world, said: This is only a mortal like you, who eats of that whereof you eat and drinks of that you drink. (23:33)

If you were to obey a man like yourselves, you surely would be losers. (23:34)

When We sent to them twain, and they denied them both, so We reinforced them with a third, and they said; We have been sent (as messengers) to you. (36:14)

They said: You are but mortals like. The Beneficent has nothing revealed. You do but lie! (36:15)

استعجاب الكفار على بشرية الرسل منذ غابر الزمان

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾
﴿٢٣ المومنون ٣١﴾

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾
﴿٢٣ المومنون ٣٢﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاتِ الْآخِرَةِ وَاتْرَفْتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا نَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا نَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾
﴿٢٣ المومنون ٣٣﴾

وَلَكِنِ اطَّعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذْ أَخْبِرُونَ ﴿٣٤﴾
﴿٢٣ المومنون ٣٤﴾

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٣٦ يسين ١٤﴾

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِن أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ ﴿١٥﴾
﴿٣٦ يسين ١٥﴾

پیغمبروں کے بشر ہونے پر اعتراض منکر اقوام کی قدیم روش

پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی (31:23)

اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا (جس نے ان سے کہا) اللہ ہی کی عبادت کرو (کہ) اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ (32:23)

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھانا ہے اور جو (پانی) تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے (33:23)

اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھائے میں پڑ گئے (34:23)

(یعنی) جب ہم نے ان کی طرف دو (پیغمبر) بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں (14:36)

وہ بولے کہ تم (اور کچھ) نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی (ہو) اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو (15:36)

More Reference : 11:27 14:10,11 23:24,33
Page 921 194,195 921,191
26:186 41:6 54:23,24,25
1001 133 938

واللهم زدنا ۱۱ ہود: ۲۷ ۱۴ ابراهيم: ۱۱،۱۰
۲۳ المومنون: ۲۴،۲۵ ۲۶ الشعراء: ۱۸۶ ۴۱ حم السجدة (فصلت): ۶
۵۴ القمر: ۲۲،۲۴،۲۵

سزید ہوالہ 27:11 11,10:14 33,24:23
صنہ 921 195,194 191,921
6:41 186:26 25,24,23:54
133 938 1001

IF THE ANGELS HAVE THEIR NATURAL ABODE ON EARTH, ALLAH(SWT) WOULD HAVE SENT DOWN THE ANGEL AS MESSENGER

And nothing prevented mankind from believing when the guidance came to them except that they said: Has Allah sent a mortal as (His) messenger? (17:94)

Say: If there were settled on in the earth angels walking about in peace and quite, We had sent down for them from heaven an angel as messenger. (17:95)

لو كان في الأرض ملائكة لنزل عليهم رسولا من الملائكة

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾
﴿١٧ بني اسرائيل ٩٤﴾

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾
﴿١٧ بني اسرائيل ٩٥﴾

اگر زمین پر فرشتے رہائش پذیر (آباد) ہوتے تو پیغمبر بھی فرشتہ نازل کیا جاتا

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے (94:17)

کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے (کہ اس میں) چلتے پھرتے (اور) آرام کرتے (یعنی بستے) تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے (95:17)

PROTEST OF DISBELIEVERS AS TO WHY ALLAH(SWT) HAS NOT SENT DOWN ANGELS WITH THE MESSENGER FOR AUTHENTICATION

Why do not you bring angels to us, if you are of the truthful? (15:7)

And they say: What sort of this messenger (of Allah) is, that he eats food and walks in the markets? Why not an angel is sent down to him, to be a warner with him? (25:7)

لِمَ لَمْ يَأْتِ الرُّسُولَ بِالْمَلَائِكَةِ
اسْتَعْجَابُ الْكُفَّارِ

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾
﴿١٥ الحجر ٧﴾

وَقَالُوا مَا لِيَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ
فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾
﴿٢٥ الفرقان ٧﴾

پیغمبروں کے ساتھ فرشتے کیوں
نہیں اترے۔ اعتراض منکرین

اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے
آتا (7:15)

اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں
میں چلتا پھرتا ہے۔ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا
گیا اس کے ساتھ رہتا اور (نہ ماننے والوں کو) دھمکاتا
رہتا۔ (7:25)

More Reference : 6:8,9,12 11:12 17:95
Page 175, 192, 119, 193, 191

والمعزید راجع ٦ الأنعام: ١٢، ٩، ٨، ١١ ہود: ١٢
١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٩٥

ترجمہ دہوا اللہ ١٢: ١١، ٩، ٨، ١٢، ١٧
١٩١، ١٩٣، ١١٩، ١٩٢، ١٧٥

EVEN IF ALLAH(SWT) HAD APPOINTED AN ANGEL AS MESSENGER TO GUIDE THE DISBELIEVERS THEY STILL WOULD NOT HAVE CONVINCED

Had We appointed an angel (Our messenger), We assuredly had made him (as) a man (that he might speak to them); and (thus) We would only have confused them in the same way as they are (now) confusing themselves. (6:9)

And though We should send down the angels to them, and the dead should speak to them, and We should gather against them all things in array, they would not believe unless Allah so wished. How, most of them are ignorant. (6:111)

لَوْ نَزَّلَ اللَّهُ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ
مَا كَانُوا الْيُؤْمِنُونَ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَكِنَّا عَلَيْنَاهُمْ
قَائِلِينَ ﴿٩﴾
﴿٦ الانعام ٩﴾

وَلَوْ أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُم
الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا
مَا كَانُوا الْيُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ
أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾
﴿٦ الانعام ١١١﴾

اگر اللہ کسی فرشتے کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیج دیتا تب
بھی یہ مشرکین ایمان نہ لاتے

اور اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں
بھیجتے اور جو شبہ (اب) کرتے ہیں اسی شبہ میں پھر انہیں
ڈال دیتے (9:6)

اور ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے
گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا
موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔
الہاماً شاء اللہ۔ بات یہ ہے کہ اکثر نادان ہیں (111:6)

DEFIANCE OF OBJECTIONS OF PEOPLE OF THE BOOK AND IDOLATERS RAISED ON PROPHETHOOD OF MUHAMMAD(SAAS)

ALLAH(SWT) HAS NEVER SENT AS MESSENGER OR PROPHET BUT ALWAYS A MORTAL MAN (HUMAN BEING)

We sent not before you (any messengers) except men whom We inspired from among the folk of the townships..... (2:109) PART

And We sent not (as Our messengers) before you other than men whom We inspired, Ask those who possess the message if you do not realize? (16:43)

الرد على اعتراض أهل الكتاب والمشرکین
بشأن رسالة محمد ﷺ

كان الرسل رجالا من البشر

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ
إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
﴿١٢ يوسف ١٠٩﴾ جزء

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ
إِلَيْهِمْ
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾
﴿١٦ النحل ٤٣﴾

اہل کتاب اور مشرکین کے رسالت حضرت محمد ﷺ
کے بارے میں اعتراضات کا جواب

ہر پیغمبر ہمیشہ انسان (مرد) ہی مبعوث کیا گیا

اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں سے مرد
ہی بھیجتے تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے
تھے؟ (109:12) جزو

اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن
کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے
تو اہل کتاب سے پوچھ لو (43:16)

And We sent not (as Our messengers) before you other than men whom We inspired. Ask the followers of the earlier revelation if you know not? (21:7)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي
إِلَيْهِمْ فَسُئِلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
لَاتَعْلَمُونَ ﴿٧﴾
﴿٢١ الأنبياء ٧﴾

اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی (پیغمبر بنا کر) بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو (7:21)

We gave them not bodies that would not eat food, nor were they immortals. (21:8)

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾
﴿٢١ الأنبياء ٨﴾

اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے (8:21)

We never sent before you any messengers but they ate food and walked in the markets. And We have appointed some of you a trial for others: Will you be steadfast? And your Lord is ever Observant. (25:20)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِينَ إِلَّا إِنَّمَا
لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ وَ
جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾
﴿٢٥ الفرقان ٢٠﴾

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لئے آزمائش بنایا۔ کیا تم صبر کرو گے اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے (20:25)

**PERSISTENT DEMAND OF DISBELIEVERS
TO PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
FOR PERFORMING MIRACLES
(OF SOME SORT OF JUMBLE)**

**إصرار الكفار على إتيان
الرسول بالآية**

**كفار مکہ کا حضرت محمد ﷺ کو
معجزات لانے کا اصرار**

They say: Why has no portent been sent down upon him from his Lord? Say: Allah is Able to send down a portent. But most of them know not. (6:37)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾
﴿٦ الانعام ٣٧﴾

اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (37:6)

And they will say: If only a portent were sent down upon him from his Lord! Then say (O Muhammad): The Unseen belongs to Allah. So wait! I am too waiting with you. (10:20)

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانظُرُوا إِلَيَّ مِنْ
مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾
﴿١٠ يونس ٢٠﴾

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دیجئے کہ غیب (کا علم) تو اللہ ہی کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں (20:10)

Perhaps you are abandoning something that has been inspired in you, and that your breast is feeling straitened for it, since they say: Why has not a treasure been sent down for him, or an angel come with him? You are but a warner, and Allah is Trustee of all things. (11:12)

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ
صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ
مَعَهُ مَلَائِكَةٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
وَكَئِيلٌ ﴿١٢﴾
﴿١١ هود ١٢﴾

بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑنے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ اور اس (خیال) سے آپ کا دل تنگ ہو کہ (کافر) یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ (اے محمد ﷺ) آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے (12:11)

However they who are bent on denying the truth, say "why has no miraculous sign ever been bestowed on him from his Lord but you are only a warner (from Allah) and all people have a guide. (13:7)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ
مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾
﴿١٣ الرعد ٧﴾

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی۔ سو (اے محمد ﷺ) آپ تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لئے رہنما ہوا کرتا ہے (7:13)

Those who disbelieve say: If only a sign were sent down upon him from his Lord! Say: Allah sends whom He wills astray, and guides to Himself all who turn (to Him), (13:27)

And they say: We will not put faith in you till you cause a spring to gush out of earth for us; (17:90)

Or you have a garden of date palms and grapes, and cause rivers to gush therein abundantly; (17:91)

Or you cause the heaven to fall upon us piecemeal, as you claim, or bring Allah and the angels before us (face face); (17:92)

Or you have a Luxurious home built or you ascend up into heaven, and even then we will put no faith in your ascension till you bring down for us a book that we can read. Say (O Muhammad): My Lord be glorified! I am nothing except a man messenger? (17:93)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ آلِهَةٍ مِّنْ آبَابٍ ﴿١٣﴾
﴿١٣ الرعد ٢٧﴾

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدًا مِنَ السَّمَاءِ ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٩٠﴾

أَوْ تَكُونَ لَكِ جَنَّةٌ مِّنْ تَحْتِهَا نَاقُورَاتُ الْمِائِدِ تُجْرِي فِيهَا الْأَنْهَارُ خَالِفَةً لِغُلَامِكِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ فِيهَا عَاكِفُونَ ﴿٩١﴾
﴿٩١ بنی اسرائیل ٩١﴾

أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنْ سَمَانٍ أَوْ تَأْتِيَنَا السَّمَاءُ مَطَرًا مِّنْ سَمَانٍ ﴿٩٢﴾
﴿٩٢ بنی اسرائیل ٩٢﴾

أَوْ يَكُونَ لَكِ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ سَائِرِ الْبَشَرِ ﴿٩٣﴾
﴿٩٣ بنی اسرائیل ٩٣﴾

اور کافر کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو (اس کی طرف) رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے (27:13)

اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ (عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ یعنی یا تو) ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دو (90:17)

یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے اندر سے نہریں بہاؤ (91:17)

یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا کر آیا اللہ اور فرشتوں کو (ہمارے) سامنے لے آؤ (92:17)

یا تمہارا سونے کا گھر ہو۔ یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تم کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم خود پڑھ لیں کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں (93:17)

DISBELIEVERS HAVE ALWAYS PERSISTENTLY DEMANDED THE MESSENGERS FOR PERFORMANCE OF MIRACLES

(The same are) those who say: Allah has charged us that we believe not in any messenger until he brings us an ordering which fire (from heaven) shall devour. Say (to them, O Muhammad): Messengers came to you before me with miracles, and with that (very miracle) which you describe. Why then did you slay them? (Answer that) if you are truthful! (3:183)

Their messengers said: Can there be doubt concerning Allah, the Creator of the heavens and the earth? He calls you that He may forgive you your sins and relieve you to an appointed term. They say: You are but mortals like us, who would fain turn us away from what our fathers used to worship. Then bring some clear authority. (10:10)

من دأب المنكرين الإصرار على طلب المعجزات

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا الْآلَاءَ لِنُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّمَىٰ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣﴾
﴿٣ آل عمران ١٨٣﴾

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلِىَّ اللَّهُ شَكٌّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا مُرِيدُونَ إِنْ تَصَدَّقْنَا وَعٰمِنَا كَانَ يُعْبَدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٠﴾
﴿١٠ ابراهيم ١٠﴾

تمام پیغمبروں سے معجزات لانے پر اصرار منکرین اقوام کی روش

جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیازی نہ لے کر نہ آئے جس کو آگ (آکر) کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے (اے پیغمبر ان سے) کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ (معجزہ) بھی لائے جو تم کہتے ہو تم اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ (3:183)

ان کے پیغمبروں نے کہا کیا (تم کو) اللہ (کے بارے) میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں اس لئے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور (فائدے پہنچانے کے لئے) ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تمہاری یہ نشانی ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان (کے پوجنے) سے ہم کو بند کر دو تو (اچھا) کوئی کھلی دلیل لاؤ (یعنی معجزہ دکھاؤ) (10:14)

Their messengers said to them: We are but human like you, but Allah showers blessing to whom He wishes of His slaves. It is not ours to bring you a proof unless by the permission of Allah. In Allah let believers put their trust! (14:11)

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٤﴾
﴿١٤ ابراهيم﴾

پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (نبوت کا) احسان کرتا ہے۔ اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو (تمہاری فرمائش کے مطابق) معجزہ دکھائیں اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسا رکھنا چاہئے (11:14)

And they say: If only he would bring us a miracle from his Lord! Has there not come to them the proof of what is in the former Scriptures? (20:133)

وَقَالُوا لَوْلَا آتَيْنَا بآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ
تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿٢٠﴾
﴿٢٠ طہ﴾

اور کہتے ہیں کہ یہ (پیغمبر) اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے۔ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی (133:20)

Or (why is not) a treasure bestowed on him, or why has he not a garden out of which to eat? And the evildoers say: You are but following a man bewitched. (25:8)

أَوْ يُنْفِقُ إِلَيْهِ كَنْزًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا
وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الفرقان﴾

یا اس کی طرف (آسمان سے) خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ (جادو کئے ہوئے) شخص کی پیروی کرتے ہو (8:25)

See how they coin similitudes for you, so that they are all astray and cannot find a path (way) (25:9)

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الفرقان﴾

(اے پیغمبر) دیکھو تو یہ آپ کے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے ہیں اور راستہ نہیں پاسکتے (9:25)

But when there came to them the Truth from Our presence, they said: Why is he not given the like of what was given to Moses? Did they not disbelieve in that which was given to Moses of old? They say: Two magicians that support each other; and: in both we disbelieve. (28:48)

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا
أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا
بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ
تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ وَّاهُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨ القصص﴾

پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپنچا تو کہنے لگے کہ جیسی (نشانیوں) موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملیں۔ کیا جو (نشانیوں) پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے معاون اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں (48:28)

And they say: Why are not portents sent down upon him from his Lord? Say: Portents are with Allah only, and I am but a plain warner. (29:50)

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ
إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٩﴾
﴿٢٩ العنكبوت﴾

اور (کافر) کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیوں کیوں نازل نہیں ہوئیں کہہ دیجئے کہ نشانیوں تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں (50:29)

More Reference : 26:153,154 43:51,52,53
Page 198, 939, 1021

واللہ اعلم بالصواب
الصفحة 198, 939, 1021

مزید حوالہ 154,153:26 51,52,53:43
صفحہ 1021, 939, 198

PHILOSOPHY IN PREVENTING FURTHER
MIRACULOUS SIGNS TO MUHAMMAD(SAAS)
(AFTER REVELATION OF HOLY QURAN)
(TO SAVE THE FOLK FROM SURE PENALTY OF CONTEMPT)

الحكمة في عدم إرسال المعجزات
للنبي الكريم ﷺ

نبی کریم حضرت محمد ﷺ پر (نزول قرآن کے بعد)
معجزات موقوف کر دیے جانے میں حکمت
(لوگوں کو تکذیب کی یقینی سزا سے بچانے کیلئے)

Nothing has prevented Us from sending signs except that the folk of old denied them. And We gave Thamud the she-camel--to open their eyes--but they mistreated her. We send not portents except to warn the people. (17:59)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ
بِهَا الْأَوَّلُونَ وَإِنَّا لَكَاذِبُونَ مُبْصِرَةٌ
فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾
﴿٥٩ بنی اسرائیل﴾

اور ہم نے نشانیوں نازل کرنا اس لئے موقوف کر دیا کہ
اگلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ثمود کو اونٹنی
(نبوت صالح کی کھلی) نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم
کیا۔ اور ہم جو نشانیوں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کے لئے
(59:17)

NO MATTER THE DISBELIEVERS ARE PROVIDED WITH ANY MIRACULOUS SIGNS OR PORTENTS-THEY WILL NEVER BELIEVE

Wait they for nothing else than that Allah should come to them in the shadows of the clouds with the angels? Then the case would be already judged. All cases go back to Allah (for judgement) (2:210)

And if they deny you, even so did they deny messengers who were before you who came with miracles and with the Psalms and with the Scripture giving light. (3:184)

The People of the Scripture ask you that you should cause a Book to descend upon them from heaven. They asked a greater thing of Moses aforetime, for they said: Show us Allah directly. The storm of thunderbolt seized them for their wickedness. Then (even after that) they chose the calf (for worship) after clear proofs (of Allah's Sovereignty) had come to them. And We still forgave them that! And We bestowed on Moses evident authority. (4:153)

Never came there to them a sign of Allah but they did turn away from it. (6:4)

And they denied the truth when it came to them. But there will come to them the tidings of that which they make fun of. (6:5)

And they swear a solemn oath by Allah that if there comes to them a portent they will believe therein. Say: Portents are with Allah and (so) that what will make you realize that if such came to them they would not believe still. (6:109)

We confound their hearts (vital organs) and their eyesight. As they believed not therein at the first, We let them wander blindly on in their obstinacy. (6:110)

ان یروا کل آية لا یؤمنوا بها

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ
مِّنَ الْعَمَامِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾
﴿٢ البقرة ٢١٠﴾

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾
﴿٣ آل عمران ١٨٤﴾

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّن
السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا
أَرِنَا اللَّهَ جَهْدَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ
اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا
عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾
﴿٤ النساء ١٥٣﴾

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِن آيَةٍ مِن آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا
عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾
﴿٦ الانعام ٤﴾

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ
الْأَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾
﴿٦ الانعام ٥﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ
آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ
وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾
﴿٦ الانعام ١٠٩﴾

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَةٍ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾
﴿٦ الانعام ١١٠﴾

منکرین چاہے جس قدر معجزات بھی دیکھ لیں
پھر بھی ایمان نہ لائیں گے

کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ
(کا عذاب) بادل کے سائبانوں میں آنازل ہو اور
فرشتے بھی (اتر آئیں) اور کام تمام کر دیا جائے اور
سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے (2:210)

پھر اگر یہ لوگ آپ کو سچا نہ سمجھیں تو آپ سے پہلے بہت
سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے (زبور) اور روشن
کتابیں لے کر آچکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں
سمجھا (3:184)

(اے محمد) اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں
کہ آپ ان پر ایک (لکھی ہوئی) کتاب آسمان سے
اتار لائیں تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی
درخواستیں کر چکے ہیں (ان سے) کہتے تھے ہمیں اللہ کو
ظاہر (یعنی آنکھوں سے) دکھا دو سو ان کے گناہ کے
باعث ان کو بجلی نے آ پکڑا پھر کھلی نشانیوں کے (اس کی
عدم موجودگی میں) پیچھے ہٹ کر (معبود) بنا بیٹھے تو اس
سے بھی ہم نے درگزر کی۔ اور موسیٰ کو کھلا غلبہ
دیا (4:153)

اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس
نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں (6:4)

جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا۔ سو ان کو
ان چیزوں کا جن سے یہ مذاق کرتے ہیں عنقریب انجام
معلوم ہو جائے گا (6:5)

اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان
کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے
آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں اور
(مومنو!) تمہیں کیا معلوم ہے (یہ تو ایسے بد بخت ہیں)
کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ
لائیں (6:109)

اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے (تو)
جیسے یہ اس (قرآن) پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (ویسے)
پھر نہ لائیں گے) اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی
میں بہکتے ہوئے (6:110)

And they said: -Whatever portent you bring to bewitch us, we shall not put faith in you. (7:132)

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا
فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾
﴿٧ الاعراف ١٣٢﴾

کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس (خواہ) کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں (132:7)

Then, after (Noah) him, We sent messengers to their folk, and they brought them clear proofs. But they were not ready to believe in that which they denied before. Thus We seal off the hearts of the transgressors. (10:74)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ
مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٠﴾
﴿١٠ يونس ٧٤﴾

پھر اس (نوح) کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں (74:10)

Those for whom the word of your Lord (concerning sinners) has effect will not believe, (10:96)

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾
﴿١٠ يونس ٩٦﴾

جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم (عذاب) قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے (96:10)

Even though every token should be brought to them, till they see the painful doom. (10:97)

وَلَوْ جَاءَهُمْ تَهْمٌ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٠﴾
﴿١٠ يونس ٩٧﴾

جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر (طرح) کی نشانی آجائے (97:10)

Not a township believed of those, which We destroyed before them (though We sent them portents): would they then believe? (21:6)

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الأنبياء ٦﴾

ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں۔ تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے (6:21)

If We so wish, We can send down on them from the sky a portent so that their necks would remain bowed (submissively) before it. (26:4)

إِنْ نَشَاءُ نُنزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً
فَخَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٤﴾

اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں (4:26)

Never comes there to them a fresh reminder from the Beneficent One, but they turn away from it. (26:5)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُعَدِّتٍ
إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٥﴾

اور ان کے پاس (خدائے) رحمن کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں (5:26)

We have coined for mankind in this Quran all kinds of similitudes; and indeed if you come to them with a miracle those who disbelieve would exclaim: (30:58)

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ
مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٣٠﴾
﴿٣٠ الروم ٥٨﴾

اور ہم نے لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کریں تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو (58:30)

Thus Allah seals off the hearts of those who know not. (30:59)

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾
﴿٣٠ الروم ٥٩﴾

اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے (59:30)

And if there were to see a fragment of the heaven falling, they would say: A heap of clouds. (52:44)

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ
مُرْكُومٌ ﴿٥٢﴾
﴿٥٢ الطور ٤٤﴾

اور اگر یہ آسمان (سے عذاب) کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے (44:52)

DESPITE OF RECOGNIZING THE TRUTHFULNESS OF MISSION OF PROPHET (SAAS) MUHAMMAD THE INFIDELS ATTRIBUTED IT AS A SHEER MAGIC AND SORCERY

And someone of them is he who believes therein, and someone of them is he who believes not therein, and your Lord is best aware of the corrupters. (10:40)

We are best aware of what they wish to hear when they give ear to you and when they take secret counsel, when the evil doers say: You follow but a man bewitched. (17:47)

See what sort of stories they coin for you, and thus are all astray, and cannot find a way back! (17:48)

With hearts distracted. And they confer in secret the wrongdoers say: Is this other than a human like you? Will you then succumb to magic when you see (it)? (21:3)

They said: You are but one of the bewitched; (26:153) (26:185)

Rather you have been surprised, as they sneered. (37:12)

And heed not when they are reminded, (37:13)

And make fun of it when they see some a portent (37:14)

And they say: This is sheer magic; (37:15)

لَا يُؤْمِنُونَ بِالرَّسُولِ ﷺ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِصَدَقِ كِتَابِ اللَّهِ، وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مَبِينٌ

وَمِنْهُمْ مَن يُوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾
﴿١٠ يونس﴾

مَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾
﴿١٧ بني اسرائيل﴾

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾
﴿١٧ بني اسرائيل﴾

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأَ التَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الأنبياء﴾

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ ﴿١٥٣﴾ ﴿٢٦ الشعراء﴾
﴿١٨٥﴾

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٧﴾
﴿٣٧ الصفت﴾

وَإِذَا ذُكِرُوا بِالْآيَاتِ كُرُؤُنَ ﴿١٣﴾
﴿٣٧ الصفت﴾

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾
﴿٣٧ الصفت﴾

وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾
﴿٣٧ الصفت﴾

قرآنی آیات کی سچائی کو دل اور دماغ سے تسلیم کر لینے کے باوجود منکرین آپ ﷺ کو جادو گر کہہ کر مکر جاتے

اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے (40:10)

یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ کان میں بات کرتے ہیں (یعنی) جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی تابعداری کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے (47:17)

دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں۔ سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور راستہ نہیں پاسکتے (48:17)

ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ظالم لوگ (آپس میں) چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ (شخص کچھ بھی) نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھتے جادو (کی لپیٹ) میں کیوں آتے ہو (3:21)

وہ کہنے لگے کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے (153:26) (185:26)

ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ (مذاق) کرتے ہیں (12:37)

اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے (13:37)

اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں (14:37)

اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے (15:37)

NAMING THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS) AS POSSESSED POET

And said: Shall we forsake our gods for a mad poet? (37:36)

Or say they: (he is) a poet, (one) for whom we wait some calamity (hatched) by time? (52:30)

اتهامهم النبي ﷺ بالشعر

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَرَاكَ لَتًا كَوَّا إِلَهَتِنَا لَشَاعِرٍ مُّجَنُّونٍ ۗ ﴿٣٧﴾ الطفت ٣٦

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَّتَرَبِّصٌ بِهِ رَبِّبُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾ الطور ٣٠

منکرین کا آپ حضرت محمد ﷺ کو شاعر کہنا

اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں (36:37)

کیا کافر کہتے ہیں کہ شاعر ہے (اور) ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث (موت) کا انتظار کر رہے ہیں (30:52)

More Reference : 21:5 Page 228,203

والمزید راجع ٢١ الأنبياء: ٥ الصفحة ٢٢٨، ٢٠٣

مزید حوالہ 5:21 صفحہ 203,228

CALLING THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS) BY UNBELIEVERS AS TUTORED (IMPARTED) AND POSSESSED ONE

And they say: O you to whom the Reminder is revealed, you are indeed a madman! (15:6)

Has he invented a lie concerning Allah, or is there in him a madness? No, but those who disbelieve in the Hereafter are in torment and extreme error. (34:8)

And they had turned away from him and said: One taught (by others), a madman? (44:14)

قول الكفار في النبي إنه معلم مجنون

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿١٥﴾ الحجر ٦

أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حِجَّةٌ مُّبِينٌ ۚ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٣٤﴾ سبا ٨

ثُمَّ تَوَلَّوْا عُنُقَهُ وَقَالُوا مَا عَلَّمَنَا مَجْنُونٌ ۗ ﴿٤٤﴾ الدخان ١٤

کافروں کا نبی کریم حضرت محمد ﷺ کو سکھایا ہوا، دیوانہ قرار دینا

اور (کفار) کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت (کی کتاب) نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے (15:6)

یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے۔ یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور حد درجے کی گمراہی میں (بتلا) ہیں (8:34)

پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے (یہ تو) پڑھایا ہوا (اور) دیوانہ ہے (14:44)

More Reference : 68:15 Page 855,203

والمزید راجع ٦٨ القلم: ٥١ الصفحة ٨٥٥، ٢٠٣

مزید حوالہ 51:68 صفحہ 203, 855

THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS) WAS NEITHER SOOTHSAYER (FORTUNE TELLER) NOR POSSESSED ONE

Have they not thought over (that) there is no madness in their companion? He is but a plain warner. (7:184)

Or say they: There is a madness in him? No, but he brings them the Truth; and most of them hate the Truth. (23:70)

Say (to them, O Muhammad): I preach you to one thing only: that you standup, for Allah's sake, in pairs and singly, and then consider: There is no madness in your comrade. He is nothing else than a warner to you in face of stern torment. (34:46)

لم يكن النبي ﷺ كاهناً ولا مجنوناً

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِجَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ الاعراف ١٨٤

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِجَّةٌ مَّ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَآكُثْرُهُمُ لِلْحَقِّ لِرُهُونٍ ﴿٢٣﴾ المؤمنون ٧٠

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْتَرِئًا وَإِنَّمَا كُنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مُغْتَابًا مَثَلًا يَوْمَ إِقَامَتِ الصُّلْبِ فَذُلُّوا فِيهَا وَبَدَّخُوا فِيهَا وَأُخْرُوا فِيهَا فَمَنْ يَدْعُ لِحُكْمِ اللَّهِ فَآذِنُوا لَهُ سَلَامًا لِلَّذِينَ أَقَامُوا ﴿٤٦﴾

آپ حضرت محمد ﷺ اللہ کے فضل سے نہ تو کابھن (نجومی) تھے اور نہ مجنون

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق (محمد ﷺ) کو (کسی طرح کا بھی) جنون نہیں ہے۔ وہ تو صاف صاف ڈرسانے والے ہیں (184:7)

کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے (نہیں) بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں (70:23)

کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لئے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو تمہارے رفیق کو ہرگز جنون نہیں وہ تو تم کو عذاب سخت (کے آنے) سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں (46:34)

So they wonder that a warner has come to them among themselves! And the disbelievers say, "This is a sorcerer telling lies! (38:4)

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ﴿٤﴾
﴿٣٨ ص ٤﴾

اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان ہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا یہ کافر کہنے لگے کہ جادوگر ہے جھوٹی باتیں بتانے والا (4:38)

Therefore warn (men, O Muhammad). By the grace of Allah you are neither soothsayer nor madman. (52:29)

فَذَكِّرْهُمَ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ يٰ كٰهِنٍ وَّلَا جِنُّونَ ﴿٢٩﴾
﴿٥٢ الطور ٢٩﴾

تو (اے پیغمبر) آپ نصیحت کرتے رہیں تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن (غیب کی خبریں بتانے والے) ہو اور نہ دیوانے (29:52)

You are not, for your Lord's favour of you, a madman. (68:2)

مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾
﴿٦٨ القلم ٢﴾

کہ (اے محمد ﷺ) تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو (2:68)

And you will see and they will see (68:5)

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾
﴿٦٨ القلم ٥﴾

سو عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ (کافر) بھی دیکھ لیں گے (5:68)

Which of you is the demented. (68:6)

يٰٓاَيُّكُمْ الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾
﴿٦٨ القلم ٦﴾

کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے (6:68)

And your comrade is not mad. (81:22)

وَمَا صٰحِبِكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾
﴿٨١ التکویر ٢٢﴾

اور (کے والو) تمہارے رفیق (یعنی محمد) دیوانے نہیں ہیں (22:81)

More Reference : 16:103 37:36
Page 236, 199

والمزيد راجع ١٦ النحل: ١٠٣ ٣٧ الصافات: ٣٦
الصفحة ٢٣٦، ١٩٩

36:37 103:16
صفحة 199, 236

DISBELIEVERS OF PROPHETS
(NON-BELIEVERS OF MESSENGERS OF ALLAH ﷻ)

منكرو الرسل

منكرو انبياء كرام (منكرو رسل و مبعوثان)

SCOFFING AND MOCKERY WITH MESSENGERS
IS AN OLD CUSTOM OF DISBELIEVERS

الاستهزاء بالانبياء خصلة الكفار
منذ قديم الزمان

پیغمبروں کا مذاق اڑانا
ہمیشہ خصلت کفار رہی ہے

Messengers (of Allah) have been derided before you, till whatever they were ridiculing swept in around those who had been scoffing. (6:10)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِ مَنْ قَبْلِكَ فَمَا كَانَ بِالَّذِينَ
سَخَرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ١٠﴾

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مذاق ہوتے رہے
ہیں سو جو لوگ ان میں سے مذاق کرتے تھے ان کو سزا نے
آگھیرا (10:6)

They who disbelieve say: You are no messenger (of Allah). Say: Allah, and whosoever has true knowledge of the Scripture, is sufficient witness between me and you. (13:43)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ
كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ
عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾
﴿١٣ الرعد ٤٣﴾

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ (اللہ کے) رسول نہیں ہو
کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص
جس کے پاس کتاب (آسمانی) کا علم ہے گواہ کافی
ہیں (43:13)

Has not the history of those before you reached you: The folk of Noah. And (the tribes of) Aad and Thamud, and those after them? None except Allah knows them. Their messengers came to them with clear proofs, but they thrust their hands into their mouths, and said: We disbelieve in that wherewith you have been sent, and we are in grave doubt concerning that to which you call us. (14:9)

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ
نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ
لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا
كُفْرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ
عُونًا إِلَيْنَا مُرِيبًا ﴿٩﴾
﴿١٤ ابراهيم ٩﴾

بھلا تم کو ان لوگوں (کے حالات) کی خبر نہیں پہنچتی جو تم
سے پہلے تھے (یعنی) نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور جو ان
کے بعد تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ (جب) ان
کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے
ہاتھ ان کے مونہوں پر رکھ دیئے (کہ خاموش رہو) اور
کہنے لگے ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور جس
چیز کی طرف تم ہمیں بلا تے ہو ہم اس سے بڑے شبہ میں
ہیں (9:14)

We sent (messengers) before you among the factions of the men of old. (15:10)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾
﴿١٥ الحجر ١٠﴾

اور ہم نے آپ سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے
(10:15)

And never came there to them a messenger but they did mock him. (15:17)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٧﴾
﴿١٥ الحجر ١١﴾

اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق
اڑاتے تھے (11:15)

Thus We make it traverse in the hearts of the guilty: (15:12)

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾
﴿١٥ الحجر ١٢﴾

ہم یہ (مذاق) مجرموں کے دلوں میں اسی طرح داخل کر
دیتے ہیں۔ (12:15)

They believe not therein, through the custom of the early people who already preceded it. (15:13)

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾
﴿١٥ الحجر ١٣﴾

سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی عادت بھی
یکہی رہی ہے (13:15)

And there had come to them a messenger from among them, but they had denied him, and so the torment seized them while they were wrongdoers. (16:113)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ
هُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾
﴿١٦ النحل ١١٣﴾

اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے
اس کو جھٹلایا سو ان کو عذاب نے آپکڑا اور وہ ظالم تھے
(113:16)

And when those who disbelieve see you, they but choose you out for mockery, (saying): Is this he who makes mention of your gods? And they would disown any mention of the Beneficent. (21:36)

وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يَتَّخِذُونَكَ
الْأَهْزَاءِ وَاهْتَدَى الَّذِي يَنْذُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ
يُنذِرُونَ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفِرُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٢١ الانبياء ٣٦﴾

اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مذاق کرتے
ہیں۔ کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر
(برائی سے) کیا کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمان کے نام
سے منکر ہیں (36:21)

Messengers before you, indeed, were mocked, but that where upon they mocked surrounded those who scoffed at them. (21:41)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مذاق ہوتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے مذاق کیا کرتے تھے ان کو اسی (عذاب) نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آگھیرا (41:21)

﴿٢١ الانبياء ٤١﴾

If they deny you (Muhammad), even so the folk of Noah, and (the tribes of) Aad and Thamud, denied before, (Our messengers); (22:42)

وَإِنْ يَكْفُرْ بِكَ فَكُذِّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ
نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٢﴾

اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی (اپنے پیغمبروں کو) جھٹلا چکے ہیں (42:22)

﴿٢٢ الحج ٤٢﴾

And the folk of Abraham and the folk of Lot; (22:43)

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی (43:22)

﴿٢٢ الحج ٤٣﴾

(And) the dwellers of Midian. And Moses was denied; but I indulged the disbelievers a long while, then I seized them, and how (terrible) was My abhorrence! (22:44)

وَاصْحَابَ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ
لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

اور مدین کے رہنے والے بھی۔ اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں۔ لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ لیا تو (دیکھ لو کہ) میرا عذاب کیسا (سخت) تھا (44:22)

﴿٢٢ الحج ٤٤﴾

And when they see you (O Muhammad) they treat you only as a jest (saying): Is this he whom Allah sends as a messenger? (25:41)

وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ أَنْتَ يَتَخَدُّونَكَ إِلَّا هُزُوًا
أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾

اور یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے (41:25)

﴿٢٥ الفرقان ٤١﴾

And if they deny you, (O Muhammad), messengers (of Allah) were denied before you. To Allah all things are brought back. (35:4)

وَإِنْ يَكْفُرْ بِكَ فَكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ
وَاللَّهُ يَرْجِعُ الْأُمُورَ ﴿٤١﴾

اور (اے پیغمبر) اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں۔ اور (سب) کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے (4:35)

﴿٣٥ فاطر ٤١﴾

How many a Prophets did We send among the men of old! (43:6)

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾

اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے (6:43)

﴿٤٣ الزخرف ٦﴾

And never came there to them a prophet but they used to mock him. (43:7)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾

اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے مذاق کرتے تھے (7:43)

﴿٤٣ الزخرف ٧﴾

When We wiped out more mightier and valiant people than these in power; and the example of the men of old has gone (before them). (43:8)

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾

تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے (8:43)

﴿٤٣ الزخرف ٨﴾

The folk of Lot rejected warnings. (54:33)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِي هُوَ
رَسُولٌ ﴿٣٣﴾

لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا (33:54)

﴿٥٤ القمر ٣٣﴾

USING EVERY PROPHET AS A SORCERER OR POSSESSED ONE IS A TRADITION OF DISBELIEVERS

مازال الظالمون يتهمون
أنبياء الله بالسحر و الجنون

پیغمبروں کو جادو گریا دیوانہ کہنا ہمیشہ
منکرین کی عادت رہی ہے

Even so there came no messenger to these before them but they said: A ward or a madman! (51:52)

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّن رَّسُولٍ
إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُونٌ ﴿٥٢﴾

اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادو گریا دیوانہ کہتے (52:51)

﴿٥١ الذریت ٥٢﴾

Have they handed down (the saying) as an heirloom one to another? But they are froward folk. (51:53)

أَتَوَصَّوْنَآيَةً بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ ﴿٥٣﴾

کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں (53:51)

Detail Consult	5:110	6:7	7:109	10:2,76,77
Page	1099	239	1024	1019
17:101	25:8	26:34	27:13	28:36
1018	195	1024	1020	1020
34:43	37:15	38:4	40:24	43:30
228	198	151	1030	234
46:7	51:39,52	54:2	61:6	74:24
234	1021,202	688	164	234

واللتفصیل راجع	٥ المائدة: ١١٠	٦ الأنعام: ٧
١٧ الأعراف: ١٠٩	١٠ يونس: ٧٧,٧٦,٢	١٧ الإسراء
(بنا اسرائیل): ١٠١	٢٥ الفرقان: ٨	٢٦ الشعراء: ٣٤
٢٧ النمل: ١٣	٢٨ القصص: ٢٦	٣٤ سبأ: ٤٣
٣٧ الصافات: ١٥	٣٨ ص: ٤	٤٠ المؤمن (غافر): ٢٤
٤٣ الزخرف: ٢٠	٤٦ الأحقاف: ٧	٥١ الذاریات: ٥٢,٣٩
٥٤ القمر: ٢	٦١ الصف: ٦	٧٤ المدثر: ٢٤

تفصیل کیلئے دیکھئے	110:5	7:6	109:7	77,76,2:10
صفحہ	1099	239	1024	1019
101:17	8:25	34:26	13:27	36:28
1018	195	1024	1020	1020
43:34	15:37	4:38	24:40	30:43
228	198	151	1030	234
7:46	52,39:51	34:54	6:61	24:74
234	202,1021	970	164	234

CALLING PROPHETS AS POSESSED ONE IS A TRADITION OF DISBELIEVERS

ما زال المنكرون يتهمون أنبياء الله بالجنون

For Detail Consult : 26:27 37:36 44:14
Page 1020 199 199
51:39,52 52:29 54:9
1021,202 200 / 922

واللتفصیل راجع	٢٦ الشعراء: ٢٧	٣٧ الصافات: ٢٦
٤٤ الدخان: ١٤	٥١ الذاریات: ٥٢,٣٩	
٥٢ الطور: ٢٩	٥٤ القمر: ٩	

تفصیل کے لئے دیکھئے	27:26	36:37	14:44
صفحہ	1020	199	199
52,39:51	29:52	9:54	
202,1021	200	922	

NAMING MESSENGERS AS A POET IS AN OLD TRADITION OF UNBELIEVERS

ما زال المنكرون يتهمون أنبياء الله بالشعر

For Detail Consult : 37:36 52:30 Page 199

واللتفصیل راجع	٣٧ الصافات: ٢٦	٥٢ الطور: ٢٠
----------------	----------------	--------------

تفصیل کیلئے دیکھئے	36:37	30:52	199
--------------------	-------	-------	-----

DECLARING PROPHETS AS SOOTHSAYER IS AN OLD HABIT OF DISBELIEVERS

ما زال الكافرون يتهمون أنبياء الله بالكهانة

For Detail Consult : 69:42 Page 235

واللتفصیل راجع	٦٩ الحاقا: ٤٢	الصفحة ٢٣٥
----------------	---------------	------------

تفصیل کیلئے دیکھئے	42:69	235
--------------------	-------	-----

CALLING PROPHETS AS LIAR IS AN OLD TRADITION OF DISBELIEVERS

ما زال الكافرون يتهمون انبياء الله بالكذب

For Detail Consult : 26:105,123,141,160
Page 921,932,938,963
40:5,24 50:12,14 54:18,23,33 69:4
206,1030 1114,997 934,938,202 785

واللتفصیل راجع	٢٦ الشعراء: ١٠٥,١٠٢,١٠١,١٠٠	
٤٠ المؤمن (غافر): ٢٤,٥٠	٥٠ ق: ١٤,١٢	٥٤ القمر: ٢٣,٢٢,١٨
٦٩ الحاقا: ٤٢		

تفصیل کے لئے دیکھئے	26	160,141,123,105:
صفحہ	921,932,938,963	
24,5:40	14,12:50	33,23,18:54
1030,206	997,1114	202,938,934

THERE HAVE ALWAYS BEEN A SET UP OF EVIL JINNS (SPRITES) ACTIVE AGAINST EVERY MESSENGER OF ALLAH(SWT)

لكل نبي عدو من شياطين الإنس والجن

Thus We appointed to every Prophet an opponent-devils from humankind and jinns (sprites) -----
----- (6: 112) PART

وَكُنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ
﴿٦٦﴾ انعام ١١٢ جزء

شیطان سیرت انسان اور جن ہمیشہ سے پیغمبر کے دشمن رہے ہیں

اور اسی طرح ہم نے شیطان (سیرت) انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔

(112:6) جزء

Even so We have appointed to every Prophet an enemy from among the guilty; but Allah suffices for a Guide and Helper. (25:31)

وَكُنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ الفرقان ٣١

اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے (31:25)

More Reference :	3:52,53,54	26:29,116
Page	1100,1101,126	1021,922
27:20	36:18,19	40:26 44:20
1009	1110	1022 1022

واللتفصیل راجع	٣ آل عمران: ٥٤,٥٣,٥٢	٢٦ الشعراء: ١١٦,١١٩
٢٧ النمل: ٢٠	٣٦ يس: ١٩,١٨	٤٠ المؤمن (غافر): ٢٦
٤٤ الدخان: ٢٠		

مزید حوالہ	3	54,53,52:
صفحہ	126,1101,1100	
20:27	19,18:36	26:40
1009	1110	1022

ARROGANT DISBELIEVERS HAVE OFTEN GIVEN THE LIE (SLAYING) TO THE PROPHETS OF ALLAH (SWT)

المستكبرون كانوا تعودوا
بقتل الأنبياء

متکبرین اقوام کا پیغمبروں کو قتل کر دینا
ان کی ایک روش رہی ہے

-----Is it ever so, that, when there comes to you a messenger (from Allah) with that which you yourselves desire not, you grow arrogant, and some you disbelieve and some you slay? (2:87) PART

Those who disbelieve the revelations of Allah, and slay the Prophets wrongfully, and slay those of mankind who enjoin equity: Announce them a painful doom. (3:21)

Those are they whose works have failed in the world and the Hereafter; and they have no helpers. (3:22)

Then because of breaking of their covenant, and their disbelieving in the revelations of Allah, and their slaying of the Prophets wrongfully, and their saying: Our hearts are hardened No, but Allah has set a seal upon them for their disbelief, so that they believe not except a few (4:155)

We made a covenant of old with the Children of Israel and We sent to them messengers. As often as a messenger came to them with what they themselves desired not (they became rebellious). Some (of them) they denied and some they slew. (5:70)

They thought no harm would come of it, so they were willfully blind and deaf. And afterward Allah turned (in mercy) towards them. Now (even after that) are many of them willfully blind and deaf. Allah Observer of what they do. (5:71)

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ
بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرِقْنَا قَتْلَكُمْ فَفَرِقْنَا
كُذَّبْتُمْ وَفَرِقْنَا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾
﴿البقرة ٨٧﴾ جز ٢

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾
﴿آل عمران ٣١﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾
﴿آل عمران ٢٢﴾

فَمَا نَقِضْتُمْ بِبَيْتِ اللَّهِ
وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ
بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾
﴿النساء ١٥٥﴾

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ
بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا
وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾
﴿المائدة ٧٠﴾

وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا
وَتَمَرَّوْا وَابْتَدَلُوا خُلُقَهُمْ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ ﴿٧١﴾
﴿المائدة ٧١﴾

-----تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ (انبیاء) کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے (87:2) جز ٢

جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں ان کو دکھ دینے والے عذاب کو خوشخبری سنا دو (21:3)

یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں (22:3)

(لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا) تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے (پڑے ہوئے) ہیں اللہ نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں) بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں (155:4)

ہم نے نبی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے (لیکن) جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ (انبیاء کی) ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے (70:5)

اور یہ خیال کرتے تھے کہ (اس سے ان پر) کوئی آفت نہیں آنے کی تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی (لیکن) پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے (71:5)

Reference : 3:112 Page 393

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ١١٢ الصفحة ٣٩٣

مزید حوالہ 3:112 صفحہ 393

ALLAH'S (SWT) HELP CAME SWIFTLY TO HIS MESSENGERS AND THEIR ADHERENTS TO DELIVER THEM FROM PERSECUTION WHILE THE WRATH OF ALLAH (SWT) OVERTOOK SINNERS

لا يزال ينصر الله رسله و المؤمنين
ويهلك المجرمين

اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیغمبروں اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتا اور مجرموں کو ہلاک کرتا رہا ہے

When the messengers gave up hope (of their people) and thought that they were denied, then came to them Our help, and whom We shed was saved. And our wrath cannot be warded from the guilty. (110)

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ
وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾

یہاں تک کہ جب پیغمبر ناامید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ (اپنی نصرت کے بارے میں) جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں (وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آجیگی۔ پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب (اتر کر) گنہگار لوگوں سے پھر نہیں کرتا (110:12)

And those who disbelieved said to their messengers: We will drive you out from our land, unless you return to our religion. Then their Lord inspired them, (saying): We shall destroy the wrongdoers, (14:13)

And We shall make you to dwell in the land after them. This is for him who fears My Majesty and fears My threats. (14:14)

And they sought help (from their Lord) and every froward potentate was blundered. (14:15)

Then We fulfilled the promise to them. So We delivered them and whom We wished and We destroyed the prodigals. (31:9)

We sent before you (Muhammad) messengers to their own folk. They brought them clear proofs (of Allah's Sovereignty). Then We took vengeance upon those who were guilty (in regard to them). To help believers is incumbent upon Us. (30:47)

We do help Our messengers, and those who believe, in the life of the world and on the Day when the witnesses arise, (40:51)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ
مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى
إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْدِيَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾

وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ
لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ
نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٢١﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ
فَجَاءَهُمْ وَهُمْ بِالْبَيْتِ قَانَتْقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ
أَجْرُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٤٠﴾

اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ (یا تو) ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے (13:14)

اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لئے ہے جو (قیامت کے روز) میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے (14:14)

اور پیغمبروں نے (اللہ سے اپنی) فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا (15:14)

پھر ہم نے ان کے بارے میں (اپنا) وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا (9:21)

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی (47:30)

ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے (یعنی قیامت کو بھی) (51:40)

More Reference : 22:15 Page 304

DISBELIEVERS HAVE A CRIMINAL TRADITION OF
THREATENING THE MESSENGERS OF ALLAH (SWT)
(FOR STONING TO DEATH-CRUCIFYING
-IMPRISONMENT AND SLAYING) TO DETER
FROM THEIR RIGHTEOUS MISSION (DAWAH)

For Detail Consult : 3:52,54 26:29 28:20
Page 1100,126 1021 1009
36:18,19 40:26 44:20
1110 1022 1022

For Detail Consult : 922,941,947,981,1000

PARABLES FOR DISBELIEVERS
OF MESSENGERS OF ALLAH (SWT)

Is he who was dead and We have raised him to life, and set for him a light wherein he walks among the people can be compared to someone who is in utter darkness out of which he cannot emerge? Thus is their conduct made attractive for the disbelievers. (6:122)

والمزید راجع ۲۲ الحج: ۱۵: الصفحة ۳۰۴

كان المنكرون يهددون الأنبياء
بالرجم والصليب والسجن

والتفصيل راجع ۳ آل عمران: ۵۴، ۵۲، ۲۶ الشعراء: ۲۹
۲۸ القصص: ۲۰، ۳۶ يس: ۱۸، ۱۹، ۴۰ المؤمنون (غافر): ۲۱
۴۴ الدخان: ۲۰

والتفصيل راجع ۱۰۰۰، ۹۸۱، ۹۴۷، ۹۴۱، ۹۲۲

مثل الكافرين المكذبين بالرسول

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ
فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِمَخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ
زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

المزید حوالہ 15:22 صفحہ 304

منکر اقوام کے مجرم پیغمبروں کو تبلیغ سے باز رکھنے کیلئے انہیں
ہمیشہ (سنگسار کرنے۔ مصلوب کرنے۔ قید میں ڈالنے اور
قتل کرنے کی) خطرناک دھمکیاں دیتے رہے ہیں

تفصیل کے لئے دیکھئے 3:52,54 26:29 28:20
صفحہ 1100,126 1021 1009
36:18,19 40:26 44:20
1110 1022 1022

تفصیل کے لئے دیکھئے 922,941,947,981,1000

رسولوں کے جھٹلانے والے کفار کی مثال

بھلا جو شخص پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے
لئے ایک نور دے دیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں
چلتا پھرتا ہے کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے
میں پڑا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ اسی طرح کافر
جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے
ہیں (122:6)

We have coined for mankind in the Quran all kinds of similitudes; and indeed if you come to them with a miracle, those who disbelieve would exclaim: You are but tricksters! (30:58)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَلَكِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾
﴿٣٠ الروم ٥٨﴾

اور ہم نے لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے۔ اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو (58:30)

Thus Allah seals off the hearts of those who know not. (30:59)

كَذَلِكَ يُطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٣٠ الروم ٥٩﴾

اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے (59:30)

The blind man is not equal with the sighted; (35:19)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾
﴿٣٥ فاطر ١٩﴾

اور اندھا اور آنکھ کی روشنی والا برابر نہیں (19:35)

Nor is darkness (tantamount) to light; (35:20)

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾
﴿٣٥ فاطر ٢٠﴾

اور نہ اندھیرا اور روشنی (20:35)

Nor is the shadow equal with the sun's full heat; (35:21)

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾
﴿٣٥ فاطر ٢١﴾

اور نہ چھاؤں اور دھوپ (21:35)

Nor are the living equal with the dead. Allah makes whom He wishes to listen. You cannot reach those who are in the graves. (35:22)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْواتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ۗ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنٍ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾
﴿٣٥ فاطر ٢٢﴾

اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اور تم ان کو جو قبروں میں دفن ہیں سنا نہیں سکتے (22:35)

Pharaoh's lie gave the lie afore time to Noah's people and (the tribe of) Mad, and Pharaoh of the (many) ant-poles. (38:12)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾
﴿٣٨ ص ١٢﴾

ان سے پہلے بھی اقوام نوح اور عاد اور میمون والے (خالص) فرعون نے جھٹلایا تھا۔ (12:38)

Pharaoh's folk denied it even before them, and (so did) the Coalition later on. Every nation worried about their own messengers, how to catch him (if guard). They argued with them in vain to refute the Truth. So I fought up with them and how (punishful) was My punishment! (40:5)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۗ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۗ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾
﴿٤٠ المؤمن ٥﴾

قوم نوح نے اور ان کے بعد گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعہ کج بحثیاں کیں تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں پس میں نے ان کو پکڑ لیا۔ سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی (5:40)

Reference : 26:123,141,160 50:12,13
Page 932,938,963 1114
59,18,23,33 69:4 91:11
934,938,202 785 939

والمعرب راجع ٢٦ الشعراء: ١٢٣، ١٤١، ١٦٠، ١٧٠، ١٨٠، ١٩١ الشمس: ١١
٥٤ القمر: ١٨، ٢٣، ٣٢، ٦٩ الحاقة: ٤، ٩١ الشمس: ١١
الصفحة 939,785,922,934,938,202,1114,932,938,963

مزيد حوالہ 13,12: 50 160,141,123: 26
صفحة 1114 932,938,963
11: 91 4: 69 33,23,18,9: 54
939 785 922,934,938,202

ULTIMATE FATE OF DISBELIEVERS OF PROPHETS

The folk of Noah and the factions after them denied (their messengers) before these, and every nation purposed to seize their messenger and argued falsely, (thinking) thereby to refute the Truth. Then I seized them, and how (punishful) was My punishment! (40:5)

منكرو الرسل

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۗ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۗ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾
﴿٤٠ المؤمن ٥﴾

منكرين انبياء كرام کا انجام

ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی (پیغمبروں کو) جھٹلایا تھا اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور وہ فضول بحث کرتے رہے کہ اس سے حق بات کو زائل کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ لیا سو (دیکھ لو) میرا عذاب کیسا ہوا (5:40)

For details Consult : Pages 679,933,941, 968,1001,1034,1068,1110

والتفصيل راجع الصفحة ٦٧٩، ٩٣٣، ٩٤١، ٩٦٨، ١٠٠١، ١٠٣٤، ١٠٦٨، ١١١٠

تفصيل کے لیے دیکھیے صفحہ 968,941,933,679 1110,1068,1034,1001

HOLY QURAN

القرآن الكريم

قرآن کریم

A revelation from Him Who created the earth and the high heavens, (20:4)

The Beneficent One, Who is established on the Throne (20:5)

As for you (Muhammad), you have been proffered the Qur'an out of the Grace of One Wise, Aware. (27:6)

Alif. Lam. Mim. (32:1)

The revelation of this Scripture whereof there is no doubt is from the Lord of the Worlds. (32:2)

The revelation of this book is from Allah, the Mighty, the Wise. (39:1)

Ha. Mim. (40:1)

The bestowal of this Writ is from Allah, the Mighty, the Knower, (40:2)

Ha. Mim. (41:1)

A revelation from The Most Gracious, Most Merciful. (41:2)

Ha. Mim. (45:1)

The revelation of this Book is from Allah the Exalted in Power, full of Wisdom. (45:2)(46:1;2)

A revelation from the Lord of the Worlds. (56:80)(69:43)

تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ①
﴿ ٢٠ طه ٤ ﴾

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ②
﴿ ٢٠ طه ٥ ﴾

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ③
﴿ ٢٧ النمل ٦ ﴾

الْحَمْدُ ④
﴿ ٣٢ السجدة ١ ﴾

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑤
﴿ ٣٢ السجدة ٢ ﴾

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ⑥
﴿ ٣٩ الزمر ١ ﴾

الْحَمْدُ ⑦
﴿ ٤٠ المؤمن ١ ﴾

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ⑧
﴿ ٤٠ المؤمن ٢ ﴾

الْحَمْدُ ⑨
﴿ ٤١ خم السجدة ١ ﴾

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ⑩
﴿ ٤١ خم السجدة ٢ ﴾

الْحَمْدُ ⑪
﴿ ٤٥ الجاثية ١ ﴾

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ⑫
﴿ ٤٥ الجاثية ٢ ﴾ ﴿ ٤٦ الاحقاف ١ ﴾ ﴿ ٤٦ الاحقاف ٢ ﴾

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑬
﴿ ٥٦ الواقعة ٨٠ ﴾ ﴿ ٦٩ الحاقة ٤٣ ﴾

یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے (4:20)

(یعنی رب) رحمن جس نے عرش پر قرار پکڑا (5:20)

اور آپ کو قرآن رب حکیم و عظیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے (6:27)

الم (1:32)

اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا ان کے پروردگار عالم کی طرف سے ہے (2:32)

اس کتاب کا اتارا جانا رب غالب (اور) حکمت والے کی طرف سے ہے (1:39)

حم (1:40)

اس کتاب کا اتارا جانا رب غالب و دانائی کی طرف سے ہے (2:40)

حم (1:41)

(یہ کتاب خدائے) رحمن و رحیم (کی طرف) سے اتری ہے۔ (2:41)

حم (1:45)

اس کتاب کا نازل کیا جانا خدائے غالب (اور) دانائی کی طرف سے ہے۔ (2:45)(2,1:46)

پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے (80:56)(43:69)

More Reference : 2:1,2,23,121,176 4:166,175
Page 99,99,231,215,239 210,621

6:93	7:3,105	12:2	14:52	15:9	17:105
231/773	155,1036	230	223	211	212
18:1	19:97	20:113	22:16	23:58	
213	230	230	214	766	
24:34	28:86	36:5	38:29	44:3	76:23
225	208	223	223	209	210

١٧٥:١٦٦: النساء	١٧٦:١٢١:٢٣:٢٠:١: البقرة	١٧٧:١٢١:٢٣:٢٠:١: البقرة	١٧٨:١٢١:٢٣:٢٠:١: البقرة
٢: الأنعام	٩٣: الأعراف	١٠٥:٣: الإسراء	١٠٥:٣: الإسراء
١٤: إبراهيم	٥٢: الحجر	١٧: الإسراء	١٧: الإسراء
١٨: الكهف	١٩: مريم	٩٧: طه	٩٧: طه
٢٢: الحج	٢٣: المؤمنون	٥٨: النور	٥٨: النور
٢٨: القصص	٨٦: يس	٣٨: ص	٣٨: ص
٤٤: الدخان	٧٦: الدهر (الإنسان)		

175,166:4	176,121,23,2,1:2	177,121,23,2,1:2	178,121,23,2,1:2
621,210	239,215,231,99		
105:17	9:15	52:14	2:12
212	211	223	230
34:24	58:23	16:22	113:20
225	766	214	230
23:76	3:44	29:38	5:36
210	209	223	223

A DIVINE WRIT REVEALED TO THE PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

Alif. Lam. Mim. Ra. These are verses of the Scripture. That which is revealed to you from your Lord is the Truth, but most of mankind believes not. (13:1)

Alif. Lam. Ra. (This is) a Scripture which We have revealed to you (Muhammad) that thereby you may bring forth mankind from darkness

كلام الله المنزل على النبي العربي ﷺ

الْقُرْآنُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ①
﴿ ١٣ الرعد ١ ﴾

الَّذِي كُنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

نبی کریم حضرت محمد ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام

آلہ (اے محمد) یہ کتاب (الہی) کی آیتیں ہیں۔ اور جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے حق ہے۔ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (1:13)

الہ (یہ) ایک (پرنور) کتاب (ہے) اس کو ہم نے آپ پر اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف (یعنی) ان کے پروردگار کے حکم سے

to light, by the permission of their Lord, to the path of the Mighty, the Owner of Praise. (14:1)

إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

غالب اور قابل تعریف (اللہ) کے راستے کی طرف لے جائیں۔ (1:14)

﴿۱۴ ابراہیم﴾

Say (to them, O Muhammad): He Who knows the secret of the heavens and the earth has sent it down. He is ever Forgiving, Merciful. (25:6)

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ

کہہ دیجئے کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے (6:25)

وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

﴿۲۵ الفرقان﴾

As for you (Muhammad), the Quran has been proffered by Someone Who is) Wise, Aware. (27:6)

وَإِنَّا لَنُنزِّلُ الْقُرْآنَ مِنْ دُونِ حَكِيمٍ

اور آپ کو قرآن (رب) حکیم و عظیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے (6:27)

عَلِيمٍ ۝

﴿۲۷ النمل﴾

You had no hope that the Scripture would be inspired in you but it is a mercy from your Lord, so never be a helper to the disbelievers. (28:86)

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْفَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ

اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی۔ مگر آپ کے پروردگار کی مہربانی سے (نازل ہوئی) تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا (86:28)

إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا

لِلْكَافِرِينَ ۝

﴿۲۸ القصص﴾

We have revealed this Scripture to you (Muhammad) with truth; so serve Allah offering Him sincere devotion. (39:2)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ

(اے پیغمبر) ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچائی کیساتھ نازل کی ہے پس اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کریں۔ (2:39)

مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝

﴿۳۹ الزمر﴾

We have bestowed upon you (Muhammad) the Scripture for the benefit of mankind with truth. Then whosoever is guided it is for his own good, and whosoever strays, strays only to its hurt. And you are not a warder over them. (39:41)

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ

ہم نے آپ پر کتاب لوگوں (کی ہدایت) کیلئے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے۔ تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے (بھلے کے) لئے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور (اے پیغمبر) آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں (41:39)

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا

يُضِلُّ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

﴿۳۹ الزمر﴾

More Reference :	4:166	5:83	7:2,3	18:1
Page	210	218	222,155	213
5:1	53:1 to 6	76:23		
24	687	210		

والمزید راجع	۴ النساء: ۱۶۶	۵ المائدة: ۸۳
۱۷ الأعراف: ۲۰۲	۱۸ الکہف: ۱	۲۵ الفرقان: ۱
۵۳ النجم: ۱۱ الی ۶	۷۶ الدھر (الإنسان): ۲۳	

۱:18	3,2:7	83:5	166:4
213	155,222	218	210
23:76	6:1:53	1:25	
210	687	224	

VERBATIM REVELATION OF MESSAGE

تنزیل القرآن و حیا

وحی کی صورت میں نزول قرآن

Say: I am only a human being like you. My Lord inspires in me that our God is only One God. (18:110) PART

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَإِنِّي أَنَا الْوَاحِدُ ۝

کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ (البتہ) میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (وہی) ایک معبود ہے۔ (18:110) جزو

More Reference :	10:2	12:102	21:108
Page	190	977	164
7:68	41:6	42:52	53:1 to 6
79	133	164	687

والمزید راجع	۱۰ یونس: ۲	۱۲ یوسف: ۱۰۲
۲۱ الأنبياء: ۱۰۸	۲۷ النمل: ۶۸	۴۱ حم السجدة: ۶
۴۲ الشوری: ۵۲	۵۳ النجم: ۱۱ الی ۶	

108:21	102:12	2:10
164	977	190
6:1:53	52:42	6:41
687	164	133

REVELATION THROUGH MEDIUM OF ANGEL GABRIEL (PBUH)

تنزیل القرآن بوساطة جنبریل علیہ السلام

نزول بذریعہ حضرت جنبریل علیہ السلام

Say: The Holy Spirit has revealed it from your Lord with truth, that it may confirm (the faith of) those who believe, and as guidance and good tidings for (Muslims) those who have surrendered (to Allah). (16:102)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

کہہ دیجئے کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ (قرآن) مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لئے تو (یہ) ہدایت اور بشارت ہے (102:16)

﴿۱۶ النحل﴾

And it is a revelation of the Lord of the Worlds, (26:192)

وَإِنَّا لَنُنزِّلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور یہ (قرآن) پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے (192:26)

﴿۲۶ الشعراء﴾

Which the Truthful Spirit has brought down (26:193)

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٩٣﴾

اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے (193:26)

Upon your heart, that you may be (one) of the warners, (26:194)

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٩٤﴾

(یعنی اس نے) تمہارے دل پر (القا کیا ہے) تاکہ (لوگوں کو) نصیحت کرتے رہو (194:26)

I swear by all that you observe (see). (69:38)

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٦٩﴾
﴿٦٩ الحاقہ ٣٨﴾

تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں (38:69)

And all that you do not observe (see). (69:39)

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٦٩﴾
﴿٦٩ الحاقہ ٣٩﴾

اور ان کی جو نظر نہیں آتیں (39:69)

That it is indeed the inspired word of a noble messenger. (69:40)

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٦٩﴾
﴿٦٩ الحاقہ ٤٠﴾

کہ یہ (قرآن) عالی مرتبت رسول کی زبان کا پیغام ہے (40:69)

That this is in truth the inspired word of an honoured messenger, (81:19)

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٨١﴾
﴿٨١ التکویر ١٩﴾

کہ بے شک یہ (قرآن) عالی مرتبت رسول کی زبان کا پیغام ہے (19:81)

Endued with power held in honour by the Lord of the Throne, (81:20)

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٨١﴾
﴿٨١ التکویر ٢٠﴾

جو صاحب قوت ہے۔ عرش کے مالک کے ہاں بلند مرتبہ ہے (20:81)

With authority there (and) Faithful and Trustworthy; (81:21)

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٨١﴾
﴿٨١ التکویر ٢١﴾

سردار (اور) امانت دار ہے (21:81)

More Reference : 2:97 16:102 26:193 42:52 53:1 to 6 Page 360, 208, 209, 164, 687

والمزید راجع ۲ البقرة: ۹۷ ۱۶ النحل: ۱۰۲ ۲۶ الشعراء: ۱۹۳ ۴۲ الشوری: ۵۲ ۵۳ النجم: ۱۱ الیٰ

مزید حوالہ 2:97 16:102 26:193 42:52 53:1 to 6 صفحہ 687, 164, 209, 208, 380

SENT DOWN FROM THE PRESERVED TABLET TO THE LOWEST HEAVEN DURING A "BLESSED NIGHT"

کان انزال القرآن التقديری فی لیلۃ مبارکۃ

نزول تقدری۔ ایک مبارک رات میں

Ha. Mim. (44:1)

حَمِّمْ ﴿٤٤﴾

حم (1:44)

By the Scripture that makes things clear. (44:2)

﴿٤٤ الدخان ١﴾

اس کتاب روشن کی قسم (2:44)

We revealed it on a blessed night.-- surely We are ever warning (against evil). (44:3)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٤٤﴾
﴿٤٤ الدخان ٣﴾

کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ (3:44)

(And in that night) every wise command (affair) is made clear and (distinct) (44:4)

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤٤﴾
﴿٤٤ الدخان ٤﴾

اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصلے کئے جاتے ہیں (4:44)

CO-RELATION OF THE MONTH OF RAMADHAN (NINTH MONTH OF LUNAR CALENDAR) AND REVELATION OF HOLY QURAN

علاقہ شہر رمضان بالقرآن الکریم

ماہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کا باہمی تعلق

REVELATION OF HOLY QURAN STARTED IN THE NIGHT OF POWER DURING THE MONTH OF RAMADHAN

انزل القرآن فی لیلۃ القدر من شہر رمضان

نزول حقیقی کی ابتدا شب قدر۔ ماہ رمضان

The month of Ramadhan in which the Qur'an, was revealed, a guidance for mankind, with clear signs of the guidance, and the Criterion (of right and wrong).----- (2:185) PART

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴿٢﴾ البقرة ١٨٥ ﴿جزء ١﴾

(روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن (اول اول) نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور (جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور (جو حق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا ہے۔ (2:185) جزو

We have indeed revealed this Message) in the Night of Power. (97:1)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿٩٧﴾
﴿٩٧ القدر﴾

ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل (کرنا شروع) کیا (1:97)

REVEALED GRADUALLY WITH INTERVALS INTO PARTS - TO FACILITATE COMPREHENSION

نزل القرآن تدريجاً على مكث
بمناسبة مقتضيات الظروف

بتدرج - وقفہ کے ساتھ بر موقع و محل
(حسب ضرورت) نازل کیا گیا

and (it is) a Quran that We have gradually unfolded so, that you may read it out to mankind by stages, and We have revealed it (step by step). (76:106)

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتَبٍ
وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ١٠٦﴾

اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنائیں اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے (106:17)

Indeed We have revealed to you the Quran, step by step. (76:23)

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٢٣﴾
﴿٧٦ الدهر ٢٣﴾

(اے محمدؐ) ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے (23:76)

FIRST REVEALED VERSE

الوحى الأول

پہلی وحی

Read: In the name of your Sustainer who has created, (96:1)

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾
﴿٩٦ العلق ١﴾

(اے محمدؐ) اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے (عالم کو) پیدا کیا (1:96)

SUBLIMITY OF HOLY QURAN

عظمة القرآن الكريم

عظمت قرآن پاک

We had bestowed this Qur'an to descend upon a mountain, you (O Muhammad) had seen it humbled, split asunder by the fear of Allah. Such similitudes We coin for mankind that haply they may reflect. (59:21)

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِمَّنْ خَشِيَ اللَّهَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٥٩ الحشر ٢١﴾

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں (21:59)

What other tidings, after this, will they believe? (77:50)

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾
﴿٧٧ المرسلات ٥٠﴾

اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ (50:77)

FESTIVITY (REJOICINGS) OF BELIEVERS ON PROVISION OF QURANIC WISDOM

إظهار الفرح عند تنزيل القرآن

جشن نزول قرآن

So: In the bounty of Allah and in His mercy: Therein let them rejoice. It is better than what they heard. (10:58)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾
﴿١٠ يونس ٥٨﴾

کہہ دیجئے کہ (یہ کتاب) اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے (نازل ہوئی ہے) تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں (58:10)

ALLAH (SWT) HIMSELF BEARS WITNESS TO THE TRUTH OF HIS WORD (HOLY QUR'AN) AND ANGELS ALSO TESTIFY THIS SCRIPTURE

شهد الله على أن كلامه حق
والملائكة أيضاً يشهدون

اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام (قرآن پاک) کی تصدیق کرتا ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں

But Allah (Himself) bears witness through what He has revealed to you in His (own full) knowledge and the Angels also testify. And Allah is Sufficient witness. (4:166)

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾
﴿٤ النساء ١٦٦﴾

لیکن اللہ نے جو (کتاب) آپ پر نازل کی ہے اس کی بابت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے۔ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے (166:4)

ETERNAL CARE OF HOLY QURAN AGAINST ANY TEMPERING AND DESTROYING OF TEXT

We have without doubt sent down this Message and We are assuredly its Guardian. (15:9)

Move not your tongue in haste (repeating the words of revelation) (75:16)

It is for Us to collect it and to recite it (to you) (75:17)

And when We read it, you follow the reading; (75:18)

Then upon Us (rests) to make its meaning clear. (75:19)

We shall make you read (O Muhammad) so that you shall not forget (87:6)

Except that which Allah wishes. He knows the obvious and that which is still hidden; (87:7)

MEMORIZERS OF HOLY QUR'AN (LEARNING BY HEART AND KEEPING IN MIND) LIKE COMPUTER DISKETTE RETRIEVABLE WHILE RECITING

But here are self evident revelations in the hearts of those who have been gifted with (innate) knowledge, and none deny Our revelations except wrongdoers. (29:49)

INSCRIBED ON A PRESERVED DIVINE TABLET

And in the Source of Decrees, (the patent record- the Mother Book) which We possess, it is indeed sublime, decisive, (43:4)

For it is indeed an Admonishment, (80:11)

So let whosoever wishes keep it in remembrance. (80:12)

حفاظة القرآن من التحريف على الله تعالى

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر ٩﴾

لَا تَجْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ ﴿٧٥﴾
﴿٧٥ القيامة ١٦﴾

إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ ﴿٧٥﴾
﴿٧٥ القيامة ١٧﴾

فَإِذَا قُرِئَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿٧٥﴾
﴿٧٥ القيامة ١٨﴾

ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾
﴿٧٥ القيامة ١٩﴾

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٨٧﴾
﴿٨٧ الاعلى ٦﴾

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٨٧﴾
﴿٨٧ الاعلى ٧﴾

قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ (ہر قسم کی تحریف سے محفوظ)

بے شک یہ (کتاب) نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں (9:15)

اے پیغمبر آپ قرآن جلدی (یاد کرنے) کے لئے اپنی زبان کو (جالت) سے حرکت نہ دیں (16:75)

اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ (17:75)

تو جب ہم اس کو پڑھ لیں تو آپ اس کی پیروی کیجئے (18:75)

پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ (19:75)

ہم آپ کو پڑھا دیں گے کہ آپ فراموش نہیں کریں گے (6:87)

مگر جو اللہ چاہے۔ وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی (7:87)

القرآن فی صدور القراء اولی العلم

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٤٩﴾

القرآن مكتوب في لوح محفوظ

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلَى حَكِيمٍ ﴿٤٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ٤﴾

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿٨٠﴾
﴿٨٠ عبس ١١﴾

فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ﴿٨٠﴾
﴿٨٠ عبس ١٢﴾

حفاظ اور علمائے قرآن

بلکہ یہ (قرآن) تو روشن آیتیں ہیں۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں (محفوظ) اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں۔ جو بے انصاف ہیں (49:29)

لوح محفوظ پر لکھا ہوا

اور یہ بڑی کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں ہمارے پاس (لکھی ہوئی اور) بڑی فضیلت (اور) حکمت والی ہے (4:43)

دیکھو یہ (قرآن) نصیحت ہے (11:80)

پس جو چاہے اسے یاد رکھے (اس سے نصیحت لے) (12:80)

It exists on honoured leaves (of sacred register) (80:13)

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿٨٠﴾
عَبَسَ ١٣

یہ تو قابل ادب ورقوں (پر عظمت صحیفوں) میں (لکھا ہوا) (13:80)

Exalted, in dignity kept pure and holy, (80:14)

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿٨٠﴾
عَبَسَ ١٤

جو بلند مقام پر رکھے ہوئے (اور) پاک صاف ہیں (14:80)

(Set down) by the hands of scribes (80:15)

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿٨٠﴾
عَبَسَ ١٥

(ایسے) لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے (15:80)

Noble and righteous. (80:16)

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿٨٠﴾
عَبَسَ ١٦

جو بزرگ (اور) پاک باز ہیں (16:80)

But it is a glorious Qur'an (85:21)

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٨٥﴾
الْبُرُوجِ ٢١

بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے (21:85)

Inscribed in a Preserved Tablet. (85:22)

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٨٥﴾
الْبُرُوجِ ٢٢

لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) (22:85)

More Reference : 11:1 Page 227

واللغزید راجع ١١ هود: ١ الصفحة ٢٢٧

مزید حوالہ 1:11 صفحہ 227

QURANIC TEXT IS GUARDED AGAINST ANY INVENTION AND ACCRETIONS

In their histories there is a lesson for men of understanding. It is not a narrative which could be forged but a confirmation of the existing Scripture) and a distinct explanation of everything, and a guidance and a mercy for people who believe. (12:111)

القرآن محفوظ من الافتراء

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصَدِّقُ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٢١﴾
يُوسُفَ ١١١

قرآن پاک میں کوئی بات من گھڑت نہیں

ان کے بیان میں عقل مندوں کے لئے عبرت ہے۔ یہ (قرآن) ایسی بات نہیں ہے جو (اپنے دل سے) بنائی گئی ہو بلکہ جو (کتابیں) اس سے پہلے (نازل ہوئی) ہیں ان کی تصدیق (کرنے والا) ہے اور ہر چیز کی تفصیل (کرنے والا) اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے (11:12)

More Reference : 6:38,59 10:61
Page 359, 111, 106 / 214

واللغزید راجع ٦ الأنعام: ٥٩، ٣٨، ١٠ يونس: ٦١
الصفحة ٢١٤/١٠٦، ١١١، ٣٥٩

مزید حوالہ 6:38, 59, 61:10
صفحہ 214/106, 111, 359

THE DESCRIPTIVE NARRATION OF BYGONE GENERATIONS IS A CRYSTAL PROOF OF QURAN BEING A DIVINE WRIT

More Reference : 3:44 7:101 11:49,100,120
2:102 20:99 28:44,45,46 32:23
Page 1091, 904, 905, 977,1004

**بیان تاریخ الأمم السابقة فی القرآن
دلیل علی کونہ من عند اللہ**

واللتفصیل راجع ٣ آل عمران: ٤٤ ٧ الأعراف: ١٠١
١١ هود: ١٢٠، ١٠٠، ٤٩ ١٢ يوسف: ١٠٢ ٢٠ طه: ٩٩
٢٨ القصص: ٤٤، ٤٥، ٤٦ ٣٢ السجدة: ٢٣

**تمام کچھلی اقوام کے تفصیلی حالات کا بیان بھی
قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے**

تفصیل کیلئے دیکھئے 3:44 7:101 11:49,100,120
101:7 44:3 49,100,120:11 102:12
23:32 46,45,44:28 99:20 102:12
صفحہ 1004,977, 905, 904, 1091

NO FALSEHOOD CAN EVER APPROACH IT BY ADDITION OR OMISSION AND NEITHER SURREPTITIOUSLY

With truth We have sent it down, and with truth it has descended. And We have sent you nothing else except a bearer of good tidings and a Warner (to sinners). (17:105)

**لا التباس فی القرآن ولا یاتیه الباطل
من ائی مکان**

وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾
١٧ بنی اسرائیل: ١٠٥

**قرآن پاک میں جھوٹ کسی طرح سے بھی داخل
نہیں ہو سکتا (باطل پاس سے بھی نہیں پھٹک سکتا)**

اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا اور (اے محمد) ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرسانے والا بنا کر بھیجا ہے (105:17)

Those who disbelieve in the Reminder when it comes to them (are guilty), for it is an unassailable Scripture. (41:41)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ
وَإِنَّ لِكِتَابِكَ عَزِيزًا ﴿٤١﴾
﴿٤١﴾ حم سجدة ٤١

جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی۔ اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے (41:41)

Falsehood cannot approach it from either front of it or behind it. (It is) a revelation from the Wise, the Owner of Praise. (41:42)

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾
﴿٤١﴾ حم سجدة ٤٢

اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ (اور) دانا (اور) خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے (42:41)

More Reference : 2:176 17:105 Page 239,212

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٧٦ ١٧ الإسراء (بني اسرائيل): ١٠٥

مزید حوالہ 2:176 17:105 صفحہ 212,239

QURAN IS UN EQUIVOCAL WHICH CONTAINS NO DOUBT

Alif Lam Miem-This is the Scripture, which contains no doubt, it is a guidance to those who ward off (evil). (2:1)(2:2)

لَا رَيْبَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَى الْقُرْآنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾
﴿٢﴾ البقرة ١ ﴿٢﴾ البقرة ٢

قرآن پاک میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام اللہ ہے۔ (اللہ سے) ڈرنے والوں کی رہنما ہے (2:2)(1:2)

And it is absolute truth. (69:51)

وَإِنَّ الْحَقَّ لَلْيَقِينِ ﴿٥١﴾
﴿٦٩﴾ الحاقہ ٥١

اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے (51:69)

More Reference : 10:94 Page 241

والمزيد راجع ١٠ يونس: ٩٤ الصفحة ٢٤١

مزید حوالہ 10:94 صفحہ 241

FREE FROM ALL DEVIOUSNESS

A Lecture in Arabic, containing no crookedness, that haply they may ward off (evil). (39:28)

لَا عِوَجَ فِي آيَاتِ الْقُرْآنِ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٣٩﴾ الزمر ٢٨

قرآنی آیات میں کوئی عیب اور کجی نہیں (یہ) قرآن عربی (ہے) جس میں کوئی عیب (اور) اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانیں (28:39)

COMPREHENSIVE AND EXPLICATED VERSES OF MANIFEST BOOK

A Scripture whereof the verses are expounded, a Lecture in Arabic for people who have knowledge. (41:3)

الْقُرْآنَ فِيهِ آيَاتٌ مُفَصَّلَةٌ
كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾
﴿٤١﴾ حم السجدة ٣

قرآنی آیات واضح المعانی ہیں (ایسی) کتاب جس کی آیتیں واضح (المعانی) ہیں (یعنی) قرآن عربی ان لوگوں کے لئے جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں (3:41)

More Reference : 6:38 69:51 Page 333, 213

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ٣٨ ٦٩ الحاقہ: ٥١ الصفحة 213, 833

مزید حوالہ 6:38 69:51 صفحہ 213, 833

NO CROOKEDNESS OR AMBIGUITY (STRAIGHT CLEAR - PERSPICUOUS VERSION)

Praise be to Allah Who has revealed the Scripture to His slave, and has not placed therein any deviousness to obscure its meaning, (18:1)

لَا تَعْقِيدُ وَلَا عِوَجَ فِيهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾
﴿١٨﴾ الكهف ١

قرآن پاک میں کوئی پیچیدگی نہیں (سلیس اور سیدھی آیات)

(But has made it) straight, to give warning of stern punishment from Him, and to bring to the believers who perform good deeds the news that theirs will be a handsome reward, (18:2)

فَمَا لِيُبَيِّنَ رَبُّكَ آيَاتِكَ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ آجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾
﴿١٨﴾ الكهف ٢

سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے (محمد) پر (یہ) کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کسرباتی نہیں چھوڑی (1:18)

(بلکہ) سیدھی (اور سلیس اتاری) تاکہ (لوگوں کو) عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے (آنے والا) ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لئے (ان کے کاموں کا) نیک بدلہ (بہشت) ہے (2:18)

Thus We reveal it as clear signs, and Allah guides whom He wants to. (22:16)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿٢٢﴾
الحج ١٦

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے (جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی (ہیں) اور یہ (یاد رکھو) کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے (16:22)

More Reference : 54:17,22,32,40 Page 214

واللمزید راجع ٥٤ القمر: ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠

مزید حوالہ 54: 17، 22، 32، 40 صفحہ 214

ALLAH(SWT) MADE HOLY QURAN EASY TO UNDERSTAND AND TO ACT UPON

Hence, indeed We made this Quran easy to understand who then, is willing to take it to heart. (receive admonition) (54:17) (54:22) (54:32) (54:40)

والقرآن سہل "میسور" للذکر

قرآن پاک سمجھنے اور عمل کیلئے آسان بنا دیا گیا

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ﴿٥٤﴾
القمر ١٧ ﴿٥٤﴾ القمر ٢٢ ﴿٥٤﴾
القمر ٣٢ ﴿٥٤﴾ القمر ٤٠ ﴿٥٤﴾

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا پس کیا کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ (17:54) (22:54) (32:54) (40:54)

More Reference : 18:1,2 73:20 Page 213

واللمزید راجع ١٨ الکہف: ٢٠ ٧٣ المزمل: ٢٠

مزید حوالہ 2: 18 20: 73 213 صفحہ

A UNIQUE BOOK OF RECORDS OF THE UNIVERSE WITHOUT ANY OMISSION AND SHORTCOMING

We have neglected nothing in the Book (of Our decrees). (6:38) PART

لا تفریط فی القرآن من شیء وکل شیء فی کتاب مبین

قرآن پاک میں آسمان اور زمین کی کسی بات کے ذکر میں کوتاہی نہیں ہوئی

And not an atom's weight in the earth or in the sky escapes your Lord, nor what is less than that or greater than that, but it is (written) in a Clear Book. (10:61) PART

مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (٦ الانعام ٣٨) جزء

ہم نے کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے لکھنے) میں کوتاہی نہیں کی۔ (38:6) جزو

And there is nothing hidden in the heavens or in the earth but it is in a Clear Record. (27:75)

وَمَا يُعْزَبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾
یونس ٦١ جزء
وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٢٧﴾
النمل ٧٥

اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر (وہ) کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے (75:27)

Certainly We shall revive the dead to life. We record that which they send before (them), and their footprints. And all things We have kept in a Clear Register. (36:12)

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿٣٦﴾
یسین ١٢

بیشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور (جو) ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو سب قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن (یعنی لوح محفوظ) میں لکھ رکھا ہے (12:36)

More Reference : 6:38,59 11:6 12:111 18:1 Page 359,111 387 212 213
4:3 35:11 54:52,53 87 737 248,369

واللمزید راجع ٦ الانعام: ٣٨، ٥٩، ١١ ہود: ٣، ١٢ یوسف: ١١١ ١٨ الکہف: ١ ٣٤ سباء: ٣٥ فاطر: ١١ ٥٤ القمر: ٥٢، ٥٣

مزید حوالہ 6: 38، 59 11: 6 12: 111 18: 1 صفحہ 359، 111، 387، 212، 213
53، 52: 54 11: 35 3: 34 1: 18 248، 369 737 787 213

PREDICTION OF UNFOLDING QURANIC WISDOMS IN STAGES OVER THE HORIZONS AND BECOMING THEIR MANIFEST THROUGH THE ADVANCEMENT OF KNOWLEDGE AND SCIENTIFIC RESEARCH AT APPROPRIATE TIMES

We shall show them Our portents on the horizons and within themselves until it will be manifest to them that this is the Truth. Does not your Lord observe, since He is Witness over all things? (41:53)

سوف یصدق اهل النهی القرآن كلما تكشف لهم آيات الله في الآفاق والأنفس

قرآن پاک کے رموز کا اہل دانش پر جدید علوم و سائنسی تحقیق کی روشنی میں مناسب وقت پر بتدریج منکشف ہونے اور آفاق عالم کا اس کتاب کی صداقت پر ایمان لانے کی پیش گوئی

سَأُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤١﴾
خم سجدة ٥٣

عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ یہ قرآن حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے (53:41)

SANCTITY - SACREDNESS OF HOLY QURAN

تقدس القرآن الکریم و تعظیم

تعظیم و تکریم قرآن پاک

<p>PRE REQUISITES FOR READING OF THE HOLY QURAN</p>	<p>مقتضیات تلاوة القرآن</p>	<p>تلاوت قرآن کے تقاضے</p>
<p>ONLY THE PURIFIED AND CLEAN CAN TOUCH THIS HOLY BOOK</p>	<p>لايجوز مس المصحف إلا في حالة الطهارة</p>	<p>حالت پاکیزگی میں ہاتھ لگانا چاہئے</p>
<p>Yet, I swear by the star's position (setting). (56:75)</p>	<p>فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ﴿٥٦﴾ الواقعة ٧٥</p>	<p>مجھے تاروں کی منزلوں کی قسم (75:56)</p>
<p>And that is a solemn affirmation if you but knew it. (56:76)</p>	<p>وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعَلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٥٦﴾ الواقعة ٧٦</p>	<p>اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے (76:56)</p>
<p>That (this) is indeed a noble Qur'an. (56:77)</p>	<p>إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٥٦﴾ الواقعة ٧٧</p>	<p>کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے (77:56)</p>
<p>In a Book kept hidden. (56:78)</p>	<p>فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٥٦﴾ الواقعة ٧٨</p>	<p>(جو) کتاب محفوظ میں (لکھا ہوا ہے) (78:56)</p>
<p>Which none but the purified may touch. (56:79)</p>	<p>لَا يَسْتَأْذِنُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ الواقعة ٧٩</p>	<p>اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں (79:56)</p>
<p>SEEK ALLAH'S (SWT) SPIRITUAL REFUGE AGAINST WHISPERINGS OF THE ACCURSED SATAN FIRST WHENEVER READING OR MEDITATING HOLY QURAN</p>	<p>الا ستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن</p>	<p>تلاوت قرآن پاک سے پہلے تعوذ (شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا)</p>
<p>And when you recite the Quran, seek refuge in Allah from Satan the outcast. (16:98)</p>	<p>فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٦﴾ النحل ٩٨</p>	<p>اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں (98:16)</p>
<p>QURAN SHOULD BE READ WITH DUE CARE TO ABSORB ITS MEANING AND TO UNDERSTAND ITS SPIRITUAL DESIGN</p>	<p>ليقرأ القرآن بالعناية والاهتمام</p>	<p>خوب توجہ اور احتیاط سے پڑھا جائے</p>
<p>And their are among them illiterates, who know not the book (who have no real knowledge of the Divine writ) but (see there in their own) desires, and they are depending on nothing but conjecture. (2:78)</p>	<p>وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢﴾ البقرة ٧٨</p>	<p>اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ (جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں) اپنے خیالاتِ باطل کے سوا (خدا کی) کتاب سے واقف نہیں اور وہ صرف زن (گمان اور انکل) سے کام لیتے ہیں۔ (78:2)</p>
<p>Those to whom We have given the Scripture, recite it in the way, it should be recited, such persons believe in it. And those who disbelieves in it, are the losers. (2:121)</p>	<p>الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢﴾ البقرة ١٢١</p>	<p>جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو (ایسا) پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں (121:2)</p>

CHANT (RECITE) THE HOLY QURAN CALMLY AND DISTINCTLY (WITHOUT HASTE) TO ATTUNE TO ITS MEANINGS

Or a little more and recite the Quran, in slow, measured rhythmic tones. (73:4)

More Reference 17:106 Page 210

DO NOT APPROACH THE HOLY QURAN IN HURRY - AVOID DRAWING HASTY CONCLUSIONS OR INTERPRETATIONS

Then exalted be Allah, the True King! And hasten not (O Muhammad) with the Quran before its revelation has been perfected to you and say: My Lord! Increase me in knowledge. (20:114)

Stir not your tongue herewith to hasten it. (75:16)

More Reference : 2:78 17:106 73:4,6 Page 215, 210, 216, 261

PROSTRATE WHILE READING OR RECITING QURAN (ON SPECIFIC STAGES) OUT OF RESPECT AND HUMBLE GRATITUDE TO ALLAH (SWT)

What ails them, then, that they believe not (84:20)

And, when the Qur'an is recited to them, they fall not prostrate. (84:21)

But on the contrary disbelievers deny; (84:22)

and Allah knows best the secrets of their breasts. (84:23)

to give them tidings of a painful doom, (84:24)

For Detail Consult : Page : 114,1151

APPROPRIATE TIMINGS OF READING, RECITING AND MEDITATING HOLY QURAN

Establish worship at the going down of the Sun until the dark of night, and (the recital of) the Qur'an at dawn. Surely (the recital of) the Qur'an at dawn is ever witnessed. (78:78)

Detail Consult : 73:20 Page 768

ليقرأ القرآن بالترتيل

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٧٣﴾
﴿٧٣ المزل ٤﴾

وللمزيد راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ١٠٦

لا تعجل بقراءة القرآن
في إدراك فحواه

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿٢٠ طه ١١٤﴾

لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿٧٥﴾
﴿٧٥ القيامة ١٦﴾

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٧٨ ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ١٠٦
٧٣ المزل: ٤، الصفحة ٢١٠، ٢١٦، ٢٦١، ٢١٥

سجود تلاوة القرآن

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٤﴾
﴿٨٤ الانشقاق ٢٠﴾

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٨٤﴾
﴿٨٤ الانشقاق ٢١﴾

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ﴿٨٤﴾
﴿٨٤ الانشقاق ٢٢﴾

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٨٤﴾
﴿٨٤ الانشقاق ٢٣﴾

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨٤﴾
﴿٨٤ الانشقاق ٢٤﴾

وللتفصيل راجع الصفحة ١١٤، ١١٥١

الاقوات المناسبة لتلاوة القرآن

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٧٨﴾

وللتفصيل راجع ٧٣ المزل: ٢٠، الصفحة ٧٦٨

آہستہ (اور ٹھہر ٹھہر کر) صاف پڑھا جائے

یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔
(4:73)

مزید حوالہ 106:17 صفحہ 210

پڑھنے اور سمجھنے (اخذ معانی) میں
جلدی نہ کرو

تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے۔ اور قرآن کی وحی جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے (پڑھنے کے) لئے جلدی نہ کیا کریں اور دعا کیجئے کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے
(114:20)

اے پیغمبر آپ قرآن کو جلدی (یاد کرنے) کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ (16:75)

مزید حوالہ 78:2 106:17 6,4:73 صفحہ 261, 216, 210, 215

سجدہ دوران تلاوت قرآن

تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے (20:84)

اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے (21:84)

بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں (22:84)

اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے (23:84)

تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو (24:84)

تفصیل کیلئے دیکھئے : صفحہ 1151,114

تلاوت قرآن پاک (پڑھنے اور سمجھنے) کے موزوں اوقات

سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر - عصر - مغرب - عشاء) کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو۔ کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا (زیادہ مناسب ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں) (78:17)

تفصیل کیلئے دیکھئے 20:73 صفحہ 768

GIVE ATTENTION, AND LISTEN IN SILENCE WHEN THE HOLY QURAN IS VOICED,

And when the Qur'an is recited, give ear to it and pay heed, that you may obtain mercy. (7:204)

DO NOT INDULGE IN SUCH COMPANY WHERE ALLAH'S (SWT) MESSAGE IS DERIDED

He has already revealed to you in the Scripture that, when you hear the revelations of Allah rejected and derided (you) sit not with them (who disbelieve and mock) until they engage in some other conversation. In that case (if you stayed) you would be like to them. Allah will gather hypocrites and disbelievers, all together, into hell; (4:140)

And when you see (meet) those who are indulged in blasphemous talk about Our revelations, withdraw from them until they meddle with (discourse about) another topic. And if the devil causes you to forget, sit not, after the remembrance, with the congregation of wrongdoers. (6:68)

Those who ward off (evil) are not accountable for them in anything but the Reminder (must be given them) that haply they (too) may ward off (evil). (6:69)

Do you wonder at this recital? (53:59)

And you laugh and do not weep, (53:60)

Wasting your time in vanities? (53:61)

WHOSOEVER ACCEPTS GUIDANCE ON REHEARSING THE QURAN EARNS GOOD FOR HIS OWN SOUL

And recite the Qur'an. And whoso accepts guidance he does only for (the good of) his own soul; and as for him who goes astray (to him) say: I am only a warner. (27:92)

آداب الاستماع للقرآن

وَ إِذْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَبِعْهُ أَهْلًا وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾
﴿٧ الاعراف ٢٠٤﴾

النهي عن القعود مع المستهزئين بآيات الله

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَتَعَدُّوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾
﴿٤ النساء ١٤٠﴾

وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَتَعَدَّ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾
﴿٦ الانعام ٦٨﴾

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾
﴿٦ الانعام ٦٩﴾

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٥٣ النجم ٥٩﴾

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٥٣ النجم ٦٠﴾

وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٥٣ النجم ٦١﴾

الاهتداء باستماع القرآن لنفس المهتدي

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾
﴿٢٧ النمل ٩٢﴾

تلاوت قرآن پاک سننے کے آداب (خاموشی اور غور سے سنا جائے)

اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کر اور خاموش رہا کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے (204:7)

جہاں آیات الہی کی ہنسی اڑائی جارہی ہو وہاں مت بیٹھو

اور اللہ نے تم (مومنوں) پر اپنی کتاب میں (یہ حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم (کہیں) سناؤ کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں (نہ) کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے (140:4)

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں اور اگر (یہ بات) شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو (68:6)

اور پرہیز گاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیز گار ہوں (69:6)

(اے منکرین اللہ) کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو (59:53)

اور ہنستے ہو اور روتے نہیں (60:53)

اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو (61:53)

قرآن پاک سن کر راہ راست اختیار کرنے میں اپنا ہی فائدہ ہے

اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کر تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے اختیار کرتا ہے۔ اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں (92:27)

AVOID CHATTER AND FRIVOLOUS TALK WHILE HOLY QURAN IS BEING VOICED AS SUCH INTERRUPTION CAN DEPRIVE THE OTHER LISTENERS FROM COMPREHENDING DIVINE MESSAGE

Those who disbelieve say: Heed not this Qur'an, but talk at random in the midst of its (reading) that haply you may gain upper hand. (41:26)

THE HEART FELT IMPRESSIONS OF BELIEVERS WHILE READING RECITING AND MEDITATING QURAN

When they listen to that which has been revealed to the messenger, you see their eyes overflow with tears because of their recognition of the Truth. They say: Our Lord, we believe. Inscribe us as among the witnesses. (5:83)

Say: Believe therein or believe not, those who were given knowledge before it, when it is read to them, fall down prostrate on their faces, adoring, (17:107)

Saying: Glory to our Lord! Indeed the promise of our Lord must be fulfilled. (17:108)

They fall down on their faces, weeping, and it increases humility in them. (17:109)

And when it is recited to them, they say: We believe in it. It is the Truth from our Lord. Even before it we have been Muslims. (28:53)

Not the high time for the hearts of those who believe to submit to Allah's reminder and to the truth, which has been sent down, that they come not as those who received the Scripture previously but the term (waiting period) was prolonged for them and so their hearts were hardened, and many of them became immoral. (57:16)

الامر بالانصات والاستماع عندما
قرأ القرآن كى يدرك السامعون
الرسالة الالهية

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا
الْقُرْآنَ وَالْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٤١ حم السجدة ٢٦﴾

تأثر المومنين بعد الاستماع
إلى تلاوة القرآن والتأمل فيه

وَإِذْ سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾
﴿٥ المائدة ٨٣﴾

قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوَلَا تَوَدُّونَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذْ آتَيْنَاهُمْ بِنُحُورٍ
لِلْأَذْقَانِ سُبْحًا ﴿١٠٧﴾
﴿١٧ بنى اسرائيل ١٠٧﴾

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾
﴿١٧ بنى اسرائيل ١٠٨﴾

وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ
خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾
﴿١٧ بنى اسرائيل ١٠٩﴾

وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾
﴿٢٨ القصص ٥٣﴾

الْمَيَّانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ
لِنُكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا
كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ
الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾
﴿٥٧ الحديد ١٦﴾

تلاوت کو خاموشی سے سننے کی ہدایت
آپ کا شور اور یادہ گوئی دوسرے سامعین تک
قرآن پاک کا پیغام پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے

اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو اور (جب
پڑھنے لگیں تو) شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو (26:41)

تلاوت قرآن سننے اور روح قرآن تک رسائی کے
بعد اہل ایمان کے دلی جذبات کی کیفیت

اور جب اس (کتاب) کو سنتے ہیں جو (سب سے آخری)
پیغمبر (محمد) پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں
سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے حق
بات پہچان لی (اور وہ اللہ کی جناب میں) عرض کرتے ہیں
کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں
میں لکھ لے (83:5)

کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جن لوگوں کو اس سے
پہلے علم (کتاب) دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا
جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے
ہیں (107:17)

اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے
پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا (108:17)

اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے
ہیں یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا
ہے (109:17)

اور جب (قرآن) ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں
کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک وہ ہمارے
پروردگار کی طرف سے برحق ہے (اور) ہم تو اس سے
پہلے کے ہی مسلمان ہیں (53:28)

کیا ابھی تک مومنوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ
کی یاد کرنے کے وقت اور (قرآن) جو اللہ برحق کی
طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے
دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں
جن کو (ان سے) پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک
طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور ان
میں سے اکثر نافرمان ہیں (16:57)

**REPUGNANCE ON THE FACES
OF DISBELIEVERS (FEELING DISGUST)
ON HEARING THE MESSAGE OF HOLY QURAN**

And when Our revelations are recited to them, you know the denial on the faces of those who disbelieve; they all but attack those who recite Our revelations to them. Say: Shall I proclaim to you worse than that? The Fire! Allah has promised it for those who disbelieve. A hapless journey's end! (22:72)

قلق الكافرين عند سمع الآيات القرآنية
و ظهور علامات الرفض على وجوههم

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِتِلْكَ تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ
بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُم
بَشَرٌ مِّنْ ذِكْمِ الْآرَاءِ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَيَسُوءُ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾
الحج ٧٢

منکرین قرآن کا تلاوت سننے کے بعد
(انکار حق کے باعث) چہروں پر واضح اضطراب

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو (ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور) تم ان کے چہروں پر صاف طور پر ناخوشی (کے آثار) دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ (دوزخ کی) آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے (72:22)

**IT IS ORDAINED TO BELIEVERS TO
READ - RECITE - UNDERSTAND AND PRACTISE
THE PRINCIPLES OF HOLY QURAN**

He Who has given you the Qur'an for a law will surely bring you home again. Say: My Lord is best aware of him who brings guidance and him who is in error manifest. (28:85)

تنفيذ الأوامر والنواهي في القرآن الكريم
فرض على المومنين

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ
إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ
بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾
القصاص ٨٥

مومنوں پر قرآن کا پڑھنا۔ سمجھنا اور اس کی
تعلیمات پر عمل کرنا فرض کر دیا گیا ہے

(اے پیغمبر) جس (اللہ) نے آپ پر قرآن (کے احکام) کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور (اس کو بھی) جو کھلی گمراہی میں ہے (85:28)

**HERE HEARING (READING OR RECITING)
QURAN WITH NO HEED TO UNDERSTAND
IS AN ACT OF DEAF AND DUMB**

Be not as those who say, we hear, and they hear not. (8:21)

المعاندون للقرآن صم بكم لا يعقلون

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ
لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾
الأنفال ٢١

اللہ تعالیٰ کے پیغام کو محض سن اور پڑھ لینے
مگر اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرنے والے
بہرے اور گونگے ہیں

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے (حکم اللہ) سن لیا مگر (حقیقت میں) نہیں سنتے (21:8)

The worst of beasts in Allah's sight are the deaf, the dumb, who have no sense. (8:22)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾
الأنفال ٢٢

کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام مخلوق سے بدتر
بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے (22:8)

Had Allah Known of any good in them He would have made them listen, but had He made them hear they would but have turned away, and shun (Him). (8:23)

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ
وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾
الأنفال ٢٣

اور اگر اللہ ان میں نیکی (کا مادہ) دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق
بخشتا اور اگر (بغیر صلاحیت ہدایت کے) سماعت دیتا تو ضرور
بے رخی کرتے ہوئے روگردانی کرتے (23:8)

**QUR'AN-A CURE AND HEALING
FOR ILLS OF HEARTS AND MINDS
HEALTH FOR SPIRIT OF HUMANKIND**

**القرآن شفاء لما في الصدور
من الأمراض الروحية**

دلوں کی بیماری کی شفا

O mankind! There has come to you an admonition from your Lord, a healing for the (diseases) in your hearts, a guidance and a mercy for believers. (10:57)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾
﴿١٠ يونس ٥٧﴾

لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت آچکی ہے (57:10)

And We reveal of the Qur'an which is a healing and mercy for believers though it increases the unjust nothing but loss after loss. (17:82)

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٨٢﴾

اور ہم قرآن (کے ذریعے) سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے (82:17)

More Reference : 41:44 Page 230

والمزيد راجع ٤١ حم السجدة (فصلت) : ٤٤
الصفحة ٢٣٠

بعض سوالیہ 41:44 صفحہ 230

**FOLLOW (ACT UPON) THE TEACHINGS OF HOLY
QURAN BEFORE THE DEATH APPROACHES OR
THE CHASTISEMENT COMES ALL OF A SUDDEN**

**يجب العمل بالقرآن
قبل ان ياتي الاجل أو تأتي الساعة**

**اچانک (موت) یا اس کسی عذاب کے آنے
سے پہلے قرآن پاک پر عمل کر لو**

And if you slide back after the clear proofs have come to you, then know that Allah is Mighty, Wise. (2:209)

فَإِنْ زُلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾
﴿٢٠٩ البقرة ٢٠٩﴾

پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد پھسل جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے (209:2)

And follow the better (guidance) of that which is revealed to you from your Lord, before the torment comes on you suddenly when you now not, (39:55)

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٥٥﴾

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آجائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی (کتاب) کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو (55:39)

lest any soul should say Alas, my grief that I was unmindful of Allah, and I was indeed among the losers! (39:56)

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُّحْسِرُنِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الزمر ٥٦﴾

(ایسا نہ ہو کہ) کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا (56:39)

lest he should say: If Allah had only guided me I should have been among the heedful! (39:57)

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾
﴿٥٧ الزمر ٥٧﴾

یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا (57:39)

lest he may say, when he comes aware of the torment: Oh, what I had but a chance that I might be among the righteous! (39:58)

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ الزمر ٥٨﴾

یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیک اعمال کرنے والوں میں ہو جاؤں (58:39)

(but now the answer will be): No, My revelations came to you, but you did deny them and was scornful and was among the disbelievers. (39:59)

بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾
﴿٥٩ الزمر ٥٩﴾

(اللہ فرمائے گا) کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھیں۔ مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آگیا اور تو کافر بن گیا (59:39)

And on the Day of Resurrection you (Muhammad) will see those who lied concerning Allah with their faces blackened. Is not the home of the scorners in hell? (39:60)

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ
وَوُجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ أَلْسِنًا فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٣٩﴾
﴿الزمر ٦٠﴾

اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے۔ کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانا دوزخ میں نہیں ہے؟ (60:39)

PROPHET(SAAS) WILL SAY, MY PEOPLE ASSUMED THIS BOOK AS OUT-OF-DATE

سوف يشكو الرسول الى الله ان قومه
اتخذوا هذا القرآن مهجورا

رسول اللہ ﷺ روز قیامت فرمائیں گے کہ میری
امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا

And the messenger says: O my Lord! Mine own folk treated this Qur'an with neglect. (25:30)

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا
هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾
﴿الفرقان ٣٠﴾

اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس
قرآن کو چھوڑ رکھا تھا (30:25)

More Reference : Page 810,811

وللمزيد راجع : الصفحة ٨١٠،٨١١

مزید حوالہ : صفحہ 811,810

QURAN - THE BOOK OF WISDOM

القرآن كتاب حكيم

كتاب حکمت

Alif.Lam.Mim. (31:1)

الْم

الم (1:31)

These are revelations of the wise Scripture, (31:2)

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾
﴿٣١ لقمان ٢﴾

یہ حکمت کی (بھری ہوئی) کتاب کی آیتیں ہیں (2:31)

A guidance and a mercy for the doers of good, (31:3)

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾
﴿٣١ لقمان ٣﴾

نیک اعمال کرنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت
ہیں (3:31)

Ya Sin. (36:1)

يَس

یسین (1:36)

By the Qur'an (full of wisdom) (36:2)

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾
﴿٣٦ یسین ٢﴾

قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے (2:36)

QUR'AN - A STANDARD BY WHICH TO DISCERN THE TRUTH FROM THE FALSE

القرآن فرقان بين الحق و الباطل

فرقان - حق و باطل میں خط کھینچنے والی کتاب

Aforetime, for a guidance to mankind; and has revealed the Criterion (of judgement between right and wrong). Then those who disbelieve the signs of Allah, theirs will be a heavy chastisement. Allah is Mighty, Able to Requite (the wrong). (3:4)

مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾
﴿٣ آل عمران ٤﴾

(یعنی) لوگوں کو ہدایات کے لئے (تورات اور انجیل
اتاری) اور (پھر قرآن جو حق و باطل کو) الگ الگ کر
دینے والا ہے نازل کیا جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے
ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست (اور) بدلہ
لینے والا ہے (4:3)

More Reference : 86:13 Page 223

وللمزيد راجع ٨٦ الطارق ١٣ الصفحة ٢٢٣

مزید حوالہ 13:86 صفحہ 223

THE OPENING CHAPTER OF SEVEN VERSES ESSENCE OF THE BOOK

فضيلة سورة الفاتحة

سورة فاتحة کی فضیلت

We have bestowed upon you seven of the oft-repeated (verses) and this sublime Quran. (15:87)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ
الْعَظِيمِ ﴿٨٧﴾
﴿١٥ الحجر ٨٧﴾

اور ہم نے آپ کو سات (آیتیں) جو (نماز میں) دہرا
کر پڑھی جاتی ہیں (یعنی سورہ الحمد) اور عظمت والا
قرآن عطا فرمایا ہے (87:15)

**THE PERSPICUOUS BOOK
THAT MAKES THINGS CLEAR**

We have revealed to you clear tokens, and only miscreants will disbelieve them. (2:99)

O mankind! Now a proof from your Lord has come to you, and We have sent down to you a clear light; (4:174)

Alif. Lam. Ra. These are verses of the wise Scripture. (10:1)

Alif. Lam. Ra. These are verses from the clear Book. (12:1)

Alif. Lam. Ra. These are verses from the Book and a clear Reading. (5:1)

Ta. Sin. Mim. (26:1) (28:1)

These are messages of the Divine writ (Verses of the Book that makes things clear). (26:2)(28:2)

Ta. Sin. These are revelations of the Qur'an and the Scripture that makes plain; (27:1)

القرآن کتاب حکیم و نور مبین

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾
﴿٢ البقرة ٩٩﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٤﴾
﴿٤ النساء ١٧٤﴾

الرَّتِّكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١٠﴾
﴿١٠ يونس ١٠﴾

الرَّتِّ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١٢﴾
﴿١٢ يوسف ١٢﴾

الرَّتِّ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر ١٥﴾

طَسَمَ ﴿٢٦﴾ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢٨﴾
﴿٢٦ الشعراء ١﴾ ﴿٢٨ القصص ١﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢﴾ ﴿٢٨ القصص ٢﴾

طَسَّ تِلْكَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٢٧﴾
﴿٢٧ النمل ١﴾

دانائی کی کتاب روشن

اور ہم نے آپ کے پاس واضح آیات (نشانیوں) ارسال کی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکردار ہیں (99:2)

لوگو! تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل (روشن) آچکی ہے اور ہم نے (کفر اور گمراہی کا اندھیرا دور کرنے کو) تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے (174:4)

آرا۔ یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں (1:10)

آرا۔ یہ کتاب روشن کی آیات (نشانیوں) ہیں (1:12)

آرا۔ یہ کتاب (الہی) اور قرآن روشن کی آیات (نشانیوں) ہیں۔ (1:15)

طسم (1:26)(1:28)

یہ کتاب مبین کی آیات (نشانیوں) ہیں (2:26)(2:28)

طس۔ یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات (نشانیوں) ہیں (1:27)

More Reference :	10:61	24:34	27:75
Page	106,214	225	214
36:12	43:1,2	44:1,2	
214	231	209	

والعزیز راجع	١٠ یونس: ٦١	٢٤ النور: ٢٤
٢٧ النمل: ٧٥	٣٦ یس: ١٢	٤٣ الزخرف: ٢٠١
٤٤ الدخان: ٢٠١		

مزید حوالہ	75:27	34:24	61:10
صفحہ	214	225	214,106
12:36		2,1:44	2,1:43
214		209	231

**A CLEAR LESSON AND GUIDANCE
FOR THE HEEDFUL**

This is a declaration for mankind, a guidance and an admonition to those who ward off (evil). (3:138)

Warn hereby those who fear (because they know) that they will be summoned to their Lord, for whom there is no protecting friend or intercessor except Him, that they may do their duty. (6:51)

Alif. Lam. Mim. Sad. (7:1)

It is a Scripture that is revealed to you (Muhammad) so let there be no doubt in your heart concerning that you may warn thereby, and (it is) a Reminder to believers. (7:2)

**القرآن موعظة و ذکرى
لاهل النهی والنقی**

هَذَا بَيِّنَاتٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾
﴿٣ آل عمران ١٣٨﴾

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾
﴿٦ الانعام ٥١﴾

الْمُصَّ ﴿٧﴾

﴿٧ الاعراف ١﴾

كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾
﴿٢ الاعراف ٢﴾

اہل عقل اور تقویٰ کے لئے کتاب نصیحت

یہ (قرآن) لوگوں کے لئے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے (138:3)

اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کئے جائیں گے (اور جانتے ہیں کہ) اس کے سوانہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ ان کو اس (قرآن) کے ذریعے سے نصیحت کریں تاکہ پرہیزگار بنیں (51:6)

المص (1:7)

(اے محمدؐ) یہ کتاب (جو) آپ پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہئے (یہ نازل) اس لئے (ہوئی ہے) آپ اس کے ذریعے سے (لوگوں کو) ڈرائیں اور (یہ) ایمان والوں کے لئے نصیحت ہے (2:7)

This is a clear message for mankind in order that they may be warned thereby, and that they may know that He is the God Alone, and that men of understanding may take heed. (14:52)

A revelation of the Mighty, the Merciful, (36:5)

That you may warn a folk whose fathers were not warned, so they are heedless. (36:6)

So that he may warn whosoever is alive, and that the word may be confirmed against the disbelievers. (36:70)

(This is) a Scripture that We have revealed to you, is full of blessing, that they may ponder its revelations, and that men of understanding may reflect. (38:29)

Surely therein is a Reminder for him who has a wide - awake heart, or lends ear with conscious mind. (50:37)

And it is a Warrant to those who ward off (evil). (69:48)

هَذَا بَلَدٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾
﴿١٤ ابراهيم ٥٢﴾

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٣٦﴾
﴿٣٦ يسين ٥﴾

لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾
﴿٣٦ يسين ٦﴾

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾
﴿٣٦ يسين ٧٠﴾

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ ص ٢٩﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ ق ٣٧﴾

وَإِنَّهُ لَتَذَكُّرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾
﴿٤٨ الحاقة ٤٨﴾

یہ (قرآن) لوگوں کے نام (اللہ کا پیغام) ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں (52:14)

(یہ رب) غالب (اور) مہربان نے نازل کیا ہے (5:36)

تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا ڈرائیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں (6:36)

تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے (70:36)

(یہ) کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں (29:38)

جو شخص دل (آگاہ رکھتا) ہے یاد دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لئے اس میں نصیحت ہے (37:50)

اور یہ (کتاب) تو پرہیزگاروں کے لئے نصیحت ہے (48:69)

More Reference :

2:185	12:7,111	14:5
Page	209	977,212
15:9,74,75,76,77	18:9	23:30
211,958,969, 1105	925	356
250		
41:41	44:58	76:26
213	231	261
	211	307

والمزید راجع

١٢ یوسف ١١١:٧	٢ البقرة ١٨٥	١٤ ابراهيم ٥
١٨ الكهف ٩	١٥ الحجر ٧٥,٧٦,٧٧,٧٨,٧٩	٢٣ المؤمنون ٣٠
٢٧ النمل ٣٠	٢٦ الشعراء ٨٧	٤١ حم السجدة (لمسكت) ٤١
٧٦ الدهر	٤٤ الدخان ٥٨	٢٦ (الإنسان) ٨٠
١١٠:١١	٨٧ الأعلى ١١	٢٦ عبس ٨٠

مزید حوالہ

5:14	111:7:12	185:2
1014	212,977	209
3,2:27	8,7:26	30:23
250	356	925
		1105
		969,968,211
11,10:87	11:80	26:76
307	211	261
		231
		213

دو ٹوک کلام (قول فصل) کوئی بیہودہ بات نہیں

کہ یہ کلام (حق کو باطل سے) جدا کرنے والا ہے (13:86)

اور بیہودہ بات نہیں (14:86)

نجات کا راستہ دکھانے والی اور اندھیرے سے نکالنے والی کتاب

جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے (16:5)

A DECISIVE STATEMENT WITHOUT ANY JOKE

Behold This (Qur'an) is a conclusive Word, (it is a decisive statement). (86:13)

It is no Joke (idle tale). (86:14)

A GUIDE TO THE PATH OF SALVATION AND TO LEAD OUT OF DARKNESS INTO THE LIGHT

Whereby Allah guides him who seeks His good pleasure to paths of peace. He brings them out of darkness to light by His decree, and guides them to the straight path. (5:16)

القرآن قول "فصل" لا لغو ولا هزل فيه

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾
﴿٨٦ الطارق ١٣﴾

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾
﴿٨٦ الطارق ١٤﴾

کتاب ہاد لسبل السلام و مخرج من الظلمات إلى النور

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانٌ لَّهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥﴾
﴿٥ المائدة ١٦﴾

No doubt this Quran guides to that which is straight forward and gives tidings to the believers who perform honourable works that theirs will be a great reward. (17:9)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٩﴾

یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے اجر عظیم ہے (9:17)

And that those who believe not in the Hereafter, for them We have prepared a painful doom. (17:10)

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ١٠﴾

اور یہ بھی (بتاتا ہے) کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے (10:17)

And We have set forth for mankind in this Qur'an all kinds of similitudes, but most of mankind refuses anything except disbelief. (17:89)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٨٩﴾

اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا (89:17)

He is the one Who sends down clear revelations to His slave, that He may bring you forth from darkness to light; and surely for you, Allah is full of Pity, Merciful. (57:9)

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾
﴿٥٧ الحديد ٩﴾

وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح (الطالب) آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا (اور) مہربان ہے (9:57)

More Reference : 31:1,2,3 36:69,70
Page 221, 234, 223

وللمزيد راجع ٣١ لقمان ٢٠٢٠١ ٣٦ عيسى ٧٠٠٦٩
الصفحة ٢٢٣, ٢٢٤, ٢٢١

مزید حوالہ 31:1,2,3 36:69,70
صفحہ 223, 234, 221

UNIVERSAL GUIDE FOR ALL THE HUMANITY

You need not ask them for any payment for it. It serves as a reminder to everybody in the universe. (12:104)

Blessed is He Who has revealed to His slave the Criterion (of right and wrong), that he may be a warner to the peoples. (25:1)

Had : By the Quran, full of admonition (This is the Truth) (38:1)

O Muhammad, to mankind): I ask you no reward for it, and I am not a pretender. (38:86)

This is no less than a Reminder for all worlds. (38:87)

And you will come in time to know the truth thereof. (38:88)

When it is nothing else than a Reminder (from Allah) to all mankind. (68:52)

ذکر للعالمین

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾
﴿١٢ يوسف ١٠٤﴾

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ
لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾
﴿٢٥ الفرقان ١﴾

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ ص ١﴾

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٨٦﴾
﴿٣٨ ص ٨٦﴾

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾
﴿٣٨ ص ٨٧﴾

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾
﴿٣٨ ص ٨٨﴾

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾
﴿٦٨ القلم ٥٢﴾

قرآن۔ اہل عالم کے لئے (رہنما) نصیحت

اور تم ان سے اس (خیر خواہی) کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے یہ (قرآن) اور کچھ نہیں تمام عالم کے لئے نصیحت ہے (104:12)

وہ (رب عزوجل) بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے (1:25)

ص : اس نصیحت والے قرآن کی قسم (1:38)

(اے پیغمبر) کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہوں (86:38)

یہ (قرآن) تو اہل عالم کے لئے سراسر نصیحت ہے (87:38)

اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا (88:38)

حالانکہ یہ قرآن تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے۔ (52:68)

This is a Reminder. Let him who wishes, then, set out on a way to his Lord. (73:19)

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾
﴿٧٣ المزمل ١٩﴾

یہ (قرآن) تو نصیحت ہے۔ سو جو چاہے اپنے پروردگار تک (پہنچنے کا) راستہ اختیار کر لے (19:73)

This is no less than a Reminder to creation, (all worlds). (81:27)

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾
﴿٨١ التکویر ٢٧﴾

یہ تو جہان کے لوگوں کے لئے نصیحت ہے (27:81)

To whomsoever of you wills to walk straight. (81:28)

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾
﴿٨١ التکویر ٢٨﴾

(یعنی) اس کے لئے جو تم میں سیدھی چال چلنا چاہے (28:81)

SOURCE OF BITTER REGRET FOR ALL WHO DENY ITS TRUTH

And We know that some among you will deny (it). (69:49)

القرآن حسرة على الكافرين

منکرین کے لئے موجب حسرت

And it is indeed an anguish for the disbelievers. (69:50)

وَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾
﴿٦٩ الحاقہ ٤٩﴾

اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں (49:69)

وَإِنَّهَا لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾
﴿٦٩ الحاقہ ٥٠﴾

نیز یہ کافروں کے لئے (موجب) حسرت ہے (50:69)

IT IS A GUIDANCE AND GRACE FOR ALL WHO BELIEVE

We have given them a Scripture, which We expound with knowledge, a guidance and a mercy for the people who believe. (7:52)

القرآن ہدی ورحمة للمؤمنين

اہل ایمان کیلئے ہدایت اور رحمت

And it is said to those who ward off (evil): What has your Lord revealed? They say "the best" For those who acted kindly in this world there is a fine (reward) and the home of the Hereafter will be even better. Pleasant indeed will be the home of those who ward off (evil). (16:30)

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾
﴿٧ الاعراف ٥٢﴾

اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل کے ساتھ بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے (اور) وہ مومن لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے (52:7)

And We have revealed the Scripture to you only that you may explain to them that wherein they differ, and (as) a guidance and a mercy for the people who believe. (16:64)

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا مَاذَا أَنْزَلْنَا رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾
﴿١٦ النحل ٣٠﴾

اور (جب) پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہترین (کلام) جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے (30:16)

We have displayed (Our warnings) in this Qur'an that they may take heed, but it increases them in nothing except aversion. (17:41)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾
﴿١٦ النحل ٦٤﴾

اور ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لئے کہ جس چیز میں ان لوگوں کو اختلاف ہے آپ اس کو واضح کر دیں۔ اور (یہ) مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے (64:16)

And We have sent down for you clarifying verses and the example of those who passed away before you. An admonition to those who are heedful. (24:34)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٤١﴾

اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں (41:17)

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾
﴿٢٤ النور ٣٤﴾

اور ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کیلئے نصیحت (34:24)

And it is a guidance and mercy for the believers. (27:77)

وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾
﴿٢٧ النمل ٧٧﴾

اور بے شک یہ مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے (77:27)

Is it not enough for them that We have sent down to you the Scripture which is read to them? Surely herein indeed is mercy, and a reminder for folk who believe. (29:51)

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٥١﴾

کیا ان لوگوں کے لئے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لئے اس میں رحمت اور نصیحت ہے (51:29)

Sa'ad: By the Quran so full of renown (38:1)

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ ص ١﴾

ص! اس نصیحت والے قرآن کی قسم (1:38)

Conveys good Tidings and Warnings. But most of them turn away as that they hear not. (41:4)

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤١﴾
﴿٤١ حم سجدة ٤﴾

جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں (4:41)

These are insights (clear mediations) for mankind, and guidance and mercy for the folk who are convinced. (45:20)

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾
﴿٤٥ الجاثية ٢٠﴾

یہ (قرآن) لوگوں کے لئے دانائی کی باتیں ہیں۔ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے (20:45)

And it is a Warrant to those who ward off (evil). (69:48)

وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾
﴿٦٩ الحاقة ٤٨﴾

اور یہ (کتاب) تو پرہیزگاروں کے لئے نصیحت ہے (48:69)

More Reference :

2:1 to 6,77	3:138
Page 99,764,858,742	222
7:1,2,52 10:57 12:111 14:52 16:64,102	
222,225 220 995 223 225,208	
7:9,82 24:34 27:2,3,77 29:51 31:3	
1088 225 250,226 226 221	
38:1,29 45:20 50:37 68:52	
224,223 226 223 224	

والمزید راجع ٢ البقرة: ١٠ الى ٧٧:٦ ٣ آل عمران: ١٣٨	52,2,1:7 138:3 77,6 تا 1:2
٧ الأعراف: ١٠٢، ٢٠١، ٥٢، ١٠ يونس: ٥٧، ١٢ يوسف: ١١١	225,222 222 742,858,764,99
١٤ إبراهيم: ٥٢، ١٦ النحل: ١٠٢، ٦٤، ١٧ الإسراء	102,64:16 52:14 III:12 57:10
(بنی اسرائیل): ٨٢، ٩، ٢٤ النور: ٣٤، ٢٧ النمل: ٢٧، ٣٠، ٢	208,225 223 995 220
٢٩ العنكبوت: ٥١، ٣١ لقمان: ٣، ٣٨ ص: ٢٩، ١	51:29 77,3,2:27 34:24 82,9:17
٤٥ الجاثية: ٢٠، ٥٠ ق: ٣٧، ٦٨ القلم: ٥٢	226 226,250 225 1088
	52:68 37:50 20:45 29,1:38 3:31
	224 223 226 223,224 221

١٣٨:٣	٧٧:٦	١٠٢:١١	١٠٢:١٢	١٠٢:١٣	١٠٢:١٤
١٠٢:١٥	١٠٢:١٦	١٠٢:١٧	١٠٢:١٨	١٠٢:١٩	١٠٢:٢٠
١٠٢:٢١	١٠٢:٢٢	١٠٢:٢٣	١٠٢:٢٤	١٠٢:٢٥	١٠٢:٢٦
١٠٢:٢٧	١٠٢:٢٨	١٠٢:٢٩	١٠٢:٣٠	١٠٢:٣١	١٠٢:٣٢
١٠٢:٣٣	١٠٢:٣٤	١٠٢:٣٥	١٠٢:٣٦	١٠٢:٣٧	١٠٢:٣٨
١٠٢:٣٩	١٠٢:٤٠	١٠٢:٤١	١٠٢:٤٢	١٠٢:٤٣	١٠٢:٤٤
١٠٢:٤٥	١٠٢:٤٦	١٠٢:٤٧	١٠٢:٤٨	١٠٢:٤٩	١٠٢:٥٠

IT CONTAINS SOME DECISIVE (ENTIRELY CLEAR) VERSES WHILE OTHER AS ALLEGORICAL (WITH HIDDEN MEANING)

القرآن، منه آیات محکمت و آخر متشابہات

بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ

It is Who has sent down to you Muhammad) the Scripture wherein are verses basic or fundamental, clear (in meaning)--They are the substance (foundation) of the Book--and others (which are) allegorical. (not entirely clear). But those in whose hearts is doubt pursue, for both, that which is allegorical seeking (to cause) dissension by seeking to explain it. None knows explanation except Allah. And those who are of sound knowledge say: We believe therein; the whole is from our Lord; but only men of understanding really heed (really asp). (3:7)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣﴾
﴿٣ آل عمران ٧﴾

وہی اللہ تعالیٰ تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں واضح اور مضبوط ہیں (اور) وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں (شک) ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور ان کی مراد کا پتہ لگائیں حالانکہ حقیقی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ پختہ اور مضبوط علم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ اور نصیحت تو عقلمند ہی قبول کرتے ہیں (7:3)

VERSES QUITE CLEAR IN ITS MEANING AND DISTINCTLY SPELLED OUT

Alif.Lam.Ra (This is)a Scripture the verses whereof are perfected (of established meaning)and then expounded. (it comes) from One Wise and Well-Acquainted (11:1)

الایات المحکمات
(التي هي واضحة في معناها راسخة)

الذات التي احكمت آياتها ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴿١١ هود﴾

آیات محکمات (جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے)

الرا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اللہ حکیم باخبر کی طرف سے صاف صاف بیان کر دی گئی ہے (1:11)

More Reference : 47:20 Page 661

وللمزيد راجع 47 محمد: 20 الصفحة 661

مزيد حوالہ 20:47 صفحہ 661

ANALOGICAL VERSES - REPEATED STATEMENT IN MANIFOLD FORMS (BUT WITHOUT ANY CONTRADICTION IN THE CORE OF TRUTH) EXPLICATION CAN LEAD TO ONLY PROPER INTERPRETATION

Allah has revealed (from time to time). The most beautiful message in the form of a Book (Scripture) consistent, (wherein promises of reward are) paired (with threats of punishment), whereat does creep the flesh of those who fear their Lord, so that their skins and their hearts soften to Allah's reminder. Such is Allah's guidance, He guides whom He pleases. And whom Allah lets go astray, for him there is no guide. (39:23)

الآيات المتشابهات التي يشبه بعضها بعضاً بدون التناقض في بيان الحق

اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًا تَقْشَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٣٩ الزمر﴾

آیات متشابهات ملتی جلتی۔ دہرائی جانے والی (مگر حقائق میں ہر قسم کے تضاد سے پاک) جن کی وضاحت کے لئے تفسیر اور توضیح کا علم ضروری ہے

اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں (یعنی) کتاب (جس کی آیتیں باہم) ملتی جلتی (ہیں) اور دہرائی جاتی ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے (اس سے) روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے بدن اور دل نرم (ہو کر) اللہ کی یاد کی طرف (متوجہ) ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں (23:39)

More Reference : 4:82 Page 234

وللمزيد راجع 4 النساء: 82 الصفحة 234

مزيد حوالہ 4:82 صفحہ 234

PHILOSOPHY IN ABRIGATION OF SOME REVELATIONS AND THEIR SUBSTITUTION WITH THE IMPROVED VERSION

None of Our revelations We do abrogate or cause to be forgotten, But We substitute something (in place) one better or the like (similar). Know you not that Allah is Able to do all things? (2:106)

And when We substitute a revelation in place of (another) revelation, and Allah knows best what He reveals (in stages) they say: You are but a forger. Most of them know not. (16:101)

حکمة نسخ بعض الآيات

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦ البقرة﴾

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ طِبْلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١ النحل﴾

بعض آیات کے نسخ کی حکمت

ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے (106:2)

اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو (کافر) کہتے ہیں کہ آپ تو (یونہی) اپنی طرف سے بنالاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں (101:16)

THE REJECTORS OF THE SIGNS OF ALLAH (SWT) WILL NEVER ENTER THE GARDENS OF PARADISE

No doubt they who reject Our revelations and treat them with arrogance, for them the gates of Heaven will not be swing opened nor will they enter the Garden until the camel goes through the needle's eye. Thus We requite the guilty. (7:40)

لن يدخل الجنة المكذبون

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۗ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠ الاعراف﴾

منکرین کتب الہیہ بہشت میں داخل نہ ہوں گے

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں (40:7)

REFUTAL OF THE INSINUATING OF DISBELIEVERS, IDOLATERS AND ORIENTALISTS REGARDING HOLY QURAN

ابطال مزعمات الكفار المنكرين والمستشرقين بشأن القرآن الكريم

مشرکین، مشرکین اور مشرکین کے قرآن پاک کے بارے میں اور ہمام، سیداکرے کی سازشوں کا ابطال

BLAMING QURAN AS A FORGED MESSAGE - INVENTED BY PROPHET MUHAMMAD(SAAS) HIMSELF

زعمهم أن القرآن كلام "مفتري

قرآن پاک کو کلام اللہ ماننے سے انکار اور قرآن پاک کو (انسانی کلام) کہنا

Or say they (again) he has invented it? Say: If I have invented it, then my crime rests on myself. But I am innocent of (all) that you commit. (11:35)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتَهُ فَعَلَيْ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرَبِّي مُّتَّبِعٌ مُّجْرِمُونَ ﴿١١ هود ٣٥﴾

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں (35:11)

Rather they say, (these are but) jumble of dreams; no, he has but invented it; No he is but a poet. Let him bring us a portent even as those of old (who were Allah's messengers) were sent (with portents). (21:5)

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ﴿٢١ الأنبياء ٥﴾

بلکہ یوں کہا کہ یہ پریشان خیالات ہیں۔ بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ بلکہ یہ تو ایک شاعر شخص ہے۔ تو جیسے پہلے (پیغمبر نشانیاں دے کر) بھیجے گئے تھے (اس طرح) یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے (5:21)

Those who disbelieve say: This is nothing but a swindle that he has devised and other folk have helped him in it. So that they have produced an inequity and falsehood. (25:4)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آفَاكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٢٥ الفرقان ٤﴾

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) من گھڑت باتیں ہیں جو اس (مدعی رسالت) نے بنالی ہیں۔ اور لوگوں نے بھی اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ (کافر) لوگ (ایسا کہنے سے) ظلم اور جھوٹ پر (اتر) آئے ہیں (4:25)

Or say they: He has invented it? No, but it is the Truth from your Lord, that you may admonish a folk to whom no warner came before you, that haply they may be rightly guided. (32:3)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣٢ السجدة ٣﴾

کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے (نہیں) بلکہ وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہدایت کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تاکہ یہ آپ کے راستے پر چلیں (3:32)

And when Our revelations are recited to them in plain terms, they say: This is nothing else than a man who would turn you away from what your forefathers used to worship; and they say: this is nothing than an invented lie. Those who disbelieve will say about truth, once it comes to "them" this is nothing but sheer magic!". (34:43)

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفَاكُ مُفْتَرِيٌّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَقُّ لَبِئْسَ مَا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٣٤ سبا ٤٣﴾

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک (ایسا) شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے اور (یہ بھی) کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) محض جھوٹ ہے جو (اپنی طرف سے) بنا لیا گیا ہے۔ اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے (43:34)

and We have given them no scriptures which they study, nor sent We to them, before you, any warner. (34:44)

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٣٤ سبا ٤٤﴾

اور ہم نے نہ تو ان (مشرکوں) کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا (مگر انہوں نے جھٹلایا) (44:34)

Or say they: He has invented it? Say (O Muhammad): If I have invented it, still you have no power to support me against Allah. He is best aware of what you say among yourselves concerning it. He suffices for a witness between me and you And He is the Forgiving, the Merciful. (46:8)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٦﴾ الاحقاف ٨

کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو از خود بنالیا ہے آپ کہہ دیجئے! کہ اگر میں ہی اسے بنالایا ہوں تو تم میرے لئے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، جو کچھ تم اس (قرآن) کے بارے میں کہہ سنا رہے ہو وہی اسے اللہ خوب جانتا ہے وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ اور وہ بخشنے والا مہربان ہے (8:46)

Or say they: He has forged it? No, but they will not believe! (52:33)

أَمْ يَقُولُونَ تَقْوَلُوهٗ بَلْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ الطور ٣٣

کیا کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن از خود بنالیا ہے بات یہ ہے کہ یہ (اللہ پر) ایمان نہیں رکھتے (33:52)

More Reference : 10:38 16:103 74:25,26
Page 232, 236, 855

والمزید راجع ١٠ یونس: ٣٨ ١٦ النحل: ١٠٣
٧٤ المدثر: ٢٦، ٢٥ الصفحة ٢٣٢، ٢٣٦، ٨٥٥

مزید حوالہ 38:10 103:16 26,25:74
صفحہ 232، 236، 855

HYPOCRITES ARE ANXIOUS ABOUT THE VERACITY OF QURAN AND ARE AFRAID, LEST A REVELATION MAY UNVEIL THE RANCOUR OF THEIR HEARTS

The hypocrites are afraid lest a chapter should be revealed about them, proclaiming what is in their hearts. Say: Scoff Allah is disclosing what you fear. (9:64)

اعتراف المنافقین بصدق القرآن
و خوفهم علی إفشاء بما فی قلوبهم

منافقین کا صداقت قرآن کا اعتراف اور اس کے ساتھ اپنے دلوں کی حالت کے افشا کا خدشہ

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزْءُوا وَا إِنَّ اللَّهَ مَخْرُجٌ قَاتِلٌ تَحْذِرُونَ ﴿٩﴾ التوبة ٦٤

منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) پر کہیں کوئی ایسی سورت (نہ) اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان (مسلمانوں) پر ظاہر کر دے۔ کہہ دیجئے کہ ہنسی کئے جاؤ۔ جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا (64:9)

DIVINE CHALLENGE TO THE DISBELIEVERS OF QURAN

Has the Reminder been revealed to him (alone) among us? No, but they are in doubt concerning My Reminder; no but they have not yet tasted My torment. (38:8)

أَوُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُّ وَقُوعًا عَذَابٍ ﴿٣٨﴾ ص ٨

منکرین قرآن کو اللہ تعالیٰ کا چیلنج

کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت (کی کتاب) اتری ہے؟ (نہیں) بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں۔ بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا (8:38)

Or do they have the treasures of the mercy of your Lord, the Mighty, the Bestower? (38:9)

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٣٩﴾ ص ٩

کیا ان کے پاس آپ کے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب (اور) بہت عطا کرنے والا ہے (9:38)

Or is the dominion of the heavens and the earth and all that is between them theirs? Then let them ascend (mount up) by ropes! (38:10)

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ ﴿٤٠﴾ ص ١٠

یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان (سب) پر ان ہی کی حکومت ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ رسیاں تان کر (آسمانوں پر) چڑھ جائیں (10:38)

This army of theirs is amongst the allies, which is going to be defeated. (38:11)

وَجُنْدٌ كٰهِنٰلِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الْاَحْزَابِ ﴿٤١﴾ ص ١١

یہ بھی ان کے گروہوں میں سے ایک (چھوٹا) لشکر ہے جو شکست کھانے والا ہے۔ (11:38)

Or were they created out of nothing? Or they are their own creators? (52:35)

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٢﴾ الطور ٣٥

کیا یہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر ہی خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ یا یہ خود (اپنے تئیں) پیدا کرنے والے ہیں (35:52)

Or did they create the heavens and the earth? No, but they are sure of nothing! (52:36)

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٥٢﴾ الطور ٣٦

یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ (نہیں) بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے (36:52)

Or do they own the treasures of your Lord? Or have they been given charge (thereof)? (52:37)

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ لَهُمُ الْمَضْيَطُونَ ﴿٥٣﴾ الطور ٣٧

کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں۔ یا یہ (کہیں کے) داروغہ ہیں (37:52)

Or have they any stairway (to heaven) by means of which they overhear (decrees). Then let their sterner produce warrant manifest! (52:38)

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ مَّا يَسْتَمِعُونَ فِيهَا فَلْيَأْتِ مُسْتَعْتَبُهُمْ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ الطور ٣٨

یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر (چڑھ کر آسمان سے باتیں) سن آتے ہیں تو جو سن آتا ہے وہ روشن دلیل پیش کرے (38:52)

PHILOSOPHY IN REVELATION OF QURANIC TEXT IN ARABIC

لماذا أنزل القرآن باللسان العربي

قرآن۔ عربی زبان میں کیوں نازل ہوا

We have revealed it, a Lecture in Arabic, that you may understand. (2)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ يوسف ٢

ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو (2:12)

And We make (this Scripture) easy for your tongue, (O Muhammad) so that you may bear good tidings with to those who ward off evil, and warn therewith the forward folk. (19:97)

فَأَمَّا يُسِّرْنَاهُ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَدًّا ﴿١٩﴾ مريم ٩٧

(اے پیغمبر) ہم نے یہ (قرآن) آپ کی زبان میں آسان (نازل) کیا ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دیں اور جھگڑالو لوگوں کو ڈر سنا دیں۔ (97:19)

Thus We have revealed it as a course in Arabic, and have displayed therein certain threats, that they may keep away from evil or that Allah may arouse them to take heed. (20:113)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْذَرُونَ ﴿٢٠﴾ طه ١١٣

اور ہم نے اس کو اسی طرح قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈر کے بیان سنائے گئے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں۔ یا اللہ ان کے لئے دل میں ہی سمجھ پیدا کر دے (113:20)

And if We had revealed it to any one of the Non Arabs, (26:198)

وَلَوْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿٢٦﴾ الشعراء ١٩٨

اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے (198:26)

And if he had read it to them, they would never have believed in it. (26:199)

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ فَأَكَرُّوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٦﴾ الشعراء ١٩٩

اور وہ اسے ان (لوگوں) کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے (کبھی) نہ مانتے (199:26)

And if We had appointed it a Lecture in a non-Arabic tongue they would assuredly have said: why it is that its verses have not been spelled out clearly? Why (a message) in a non-Arab tongue and (its bearer) an Arab. Say to them (O Muhammad): For those who believe it is a guidance and a healing; and as for those who disbelieve, there is a deafness in their ears, and it is blindness for them. Such are called to Islam from far. (41:44)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَطَّيَّبُ لَأَعْجَمِيٍّ وَعَرَبِيٍّ مُطَقَّنٍ هُوَ الَّذِي نَزَّلَهُ مِنَ السَّمَاءِ مَدِينًا وَحَقَّقَهُ لِقَوْمٍ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ ﴿٤٤﴾ حم السجدة ٤٤

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں (نازل) کرتے۔ تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں (ہماری زبان میں) کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں۔ کیا (خوب کہ قرآن تو) عربی اور (مخاطب) عربی۔ کہہ دیجئے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لئے (یہ) ہدایت اور شفا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ (یعنی بہرا پن) ہے اور یہ ان کے حق میں (موجب) اندھا پن ہے۔ بوجھ کے سبب ان کو (گویا) دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے (44:44)

And thus We have inspired in you the Qur'an in Arabic, that you may warn the Mother Town and those around it, and may warn of a Day of assembling whereof there is no doubt. A host will be in the Garden, and a host of them in the Flame. (42:7)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ
أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ
لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي
السَّعِيرِ ﴿٧﴾
﴿٤٢ الشوریٰ ٧﴾

اور اسی طرح آپ کے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ آپ بڑے گاؤں (یعنی مکے) کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھائیں اور انہیں قیامت (جمع ہونے) کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلائیں۔ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں (7:42)

Ha. Mim. (43:1)

حٰم
﴿٤٣ الزخرف ١﴾

حم (1:43)

By the clear Book. (43:2)

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾
﴿٤٣ الزخرف ٢﴾

کتاب روشن کی قسم (2:43)

We have set it up as an Arabic reading that you may understand (43:3)

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ٣﴾

کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو (3:43)

And We have made (this Scripture) easy in your language only that they may heed. (44:58)

فَاتِمَّا يَسِرَّنَا بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾
﴿٤٤ الدخان ٥٨﴾

ہم نے اس (قرآن) کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں (58:44)

More Reference : 6:156 26:195 Page 243

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ١٥٦ ٢٦ الشعراء: ١٩٥

مزيد حوالہ 6:156 26:195 صفحہ 243

PAGANS FALSE CLAIM AS THEY COULD CERTAINLY COMPOSE SAYINGS LIKE QURAN THEMSELVES

Who can be more wicked than one who invents a lie against Allah or says, "I have received inspiration" when he has received none, and who says "I shall send down the same like of what Allah has revealed"?----- (6:93) PART

And when Our revelations are recited to them they say: We have heard. If we wish we can speak the like of this. This is nothing but fables of the men of old. (8:31)

No, but they denied that, the knowledge whereof they could not compass, and whereof the interpretation (in events) has not yet come to them. Even so did those (denied) before them. Then see what was the consequence for the wrongdoers! (10:39)

**ادعاء الكافرين
بإحداث الكلام كالقرآن**

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ
أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ
مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
﴿٦ الأنعام ٩٣﴾ جزء

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا
لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾
﴿٨ الأنفال ٣١﴾

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَكِنَّا إِنَّا
تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾
﴿١٠ يونس ٣٩﴾

**منکرین کا قرآن جیسا کلام
خود کہہ دینے کا دعویٰ**

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو۔ اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں (93:6) جزو

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں (یہ کلام) ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا (کلام) ہم بھی کہہ دیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں (31:8)

حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پاسکے اس کو (نادانی سے) جھٹلادیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا؟ (39:10)

DIVINE CHALLENGE TO ALL HUMANKIND AND JINNS TO PRODUCE A CHAPTER OR EVEN A SINGLE VERSE COMPARABLE IN MERIT TO THAT OF THE QURAN

And if you are in doubt concerning that which We reveal to Our slave (Muhammad), then produce a Chapter (Surah) or the like thereof, and call your witnesses or helpers beside Allah if you are truthful. (2:23)

And if you do it not and you can never do it-then guard yourselves against the fire prepared for disbelievers, whose fuel is men and stones. (2:24)

Or say they: He has invented it? Say: Then bring a Chapter (Surah) like to it, and call (for help) on all you can besides Allah, if you are truthful. (10:38)

Or they say: He has forged it. Say: Then bring ten surahs, the like thereof, invented, and call on everyone you can beside Allah, if you are truthful! (11:13)

Say: Though mankind and the Jinn should assemble to produce the like of this Qur'an, they could not produce the like thereof though they were helpers of one another. (17:88)

Say (to them, O Muhammad): Then bring a Scripture from the presence of Allah that gives clearer guidance than these two (that) I may follow it, if you are truthful. (28:49)

Then let them produce discourse the like thereof, if they are truthful: (52:34)

التحدى من الله تعالى للإنس والجن
بآيات كلام من مثل القرآن

وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾
﴿٢٣ البقرة ٢٣﴾

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾
﴿٢٤ البقرة ٢٤﴾

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ يونس ٣٨﴾

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١﴾
﴿١١ هود ١٣﴾

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾
﴿٨٨ بنى اسرائيل ٨٨﴾

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِثْلِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾
﴿٤٩ القصص ٤٩﴾

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٥٢﴾
﴿٥٢ الطور ٣٤﴾

انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کا چیلنج
(قرآن جیسی ایک آیت تو بنا لائیں)

اور اگر تم کو اس (کتاب) میں جو ہم نے اپنے بندے (محمد عربی) پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو (23:2)

لیکن اگر (ایسا) نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے (اور جو) کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے (24:2)

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو (38:10)

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے کہہ دو اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی دس سورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو (11:13)

کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لائیں گے اگر چہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں (88:17)

کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں (کتابوں) سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو۔ تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں (49:28)

اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا کر تو لائیں (34:52)

CHALLENGES

التحدى

چیلنج

For Detail Consult :	2:111,258	3:168
Page	618,953	704
35:144,149	7:195	11:38
30,503,152	149	924
7:64	34:22	35:13,40
387	147	147,144
6:4	56:85,86,87	77:39
44	774	902

والتفصیل راجع ٢ البقرة: ١١١، ٢٥٨، ٣ آل عمران: ١٦٨	٦ الأنعام: ٣٥، ١٤٤، ١٤٩، ١٧ الأعراف: ١٩٥، ١١ الودود: ٢٨	١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٥٦، ٢٧ النمل: ٦٤، ٣٤ سباء: ٢٢	٣٥ فاطر: ٤٠، ١٣، ٣٧ الصافات: ١٥٧، ١٥٦	٤٦ الأحقاف: ٤، ٥٦ الواقعة: ٨٧، ٨٦، ٨٥	٧٧ المرسلات: ٣٩
---	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------

تفصیل کیلئے دیکھئے	35:6	168:3	258,111:2
صفحہ	730	704	953,618
56:17	38:11	195:7	149,144:6
141	924	149	503,152
157,156:37	40,13:35	22:34	64:27
137	144,147	147	387
	39:77	87,86,85:56	4:46
	902	774	144

FLEEING AWAY OF DISBELIEVERS FROM ACCEPTING THE CHALLENGE IS ITSELF A CONCRETE PROOF OF QURAN AS DIVINE WRIT

And if they (your false gods) answer not your call, then know that it is revealed only with the knowledge of Allah; and that there is no god except Him. Will you then (submit to Allah) and become Muslims (11:14)

عدم استجابة الكافرين للتحدي
دليل على أن القرآن منزل من الله

قَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ
اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾
﴿١١ هود ١٤﴾

مکرمین کا چیلنج قبول نہ کرنا ہی قرآن مجید کے
کلام اللہ ہونے کا ثبوت ہے

گر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم
سے اترے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس کیا تم
مسلمان ہوتے ہو؟ (14:11)

MALICE PROPOSAL OF DISBELIEVERS TO PROPHET MUHAMMAD(SAAS) TO CHANGE THE QURANIC MESSAGE ACCORDING TO THEIR FANCIES

And when Our clear revelations are recited to them they who do not expect to meet Us say: Bring some other reading than this, or change it. Say (O Muhammad): It is not for me to change it of my own accord. I only follow that which is inspired in me. If I disobey my Lord I fear the retribution of an awful Day. (10:15)

اقتراح المشركين للنبي الكريم
بتبديل القرآن بموجب أهوائهم

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ
لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا
أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيٰ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ
تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَكْبَرُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي
أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾
﴿١٠ يونس ١٥﴾

مکرمین کا رسول کریم ﷺ کو قرآن کریم میں
(ان کی حسب خواہش)
ترمیم کا مشورہ دینے کی چال

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن
لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ (یا تو)
اس کے سوا کوئی اور قرآن (بنا) لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ
 دیجئے کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل
دوں۔ میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا
ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے
بڑے (سخت) دن کے عذاب سے خوب آتا ہے۔
(15:10)

10:5 Page 334

والمزید راجع ١٥ يونس: ٥ الصفحة ٣٣٤

مزیں حوالہ 5:10 صفحہ 334

LABELLING, HOLY QURAN BY DISBELIEVERS AS A FABLES OF ANCIENT TIMES

Some of them who listen to you, but We have placed upon their hearts veils, lest they should understand, and in their ears a deafness. If they saw every token they would not believe therein; to the point that, when they come to you to argue with you, the disbelievers say: This is nothing else than legends of the men of old. (6:25)

زعم الكافرين
بأن القرآن أساطير الأولين

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا
كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ
يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾
﴿٦ الانعام ٢٥﴾

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی (باتوں کی) طرف
کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پر دے ڈال
دیئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں نقل پیدا کر
دیا ہے (کہ سن نہ سکیں) اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ
لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب
آپ کے پاس آپ سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو
کافر ہیں کہتے ہیں یہ (قرآن) اور کچھ بھی نہیں صرف
پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں (6:25)

And when it is said to them: What has your Lord revealed? they say: (Mere) fables of the men of old. (16:24)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ قَالَوْا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾
﴿١٦ السجدة ٢٤﴾

اور جب ان (کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے
پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ (وہ تو) پہلے
لوگوں کی حکایتیں ہیں (16:24)

And they say: Tales of ancients which he has had written down so that they are dictated to him morn and evening. (25:5)

وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ٥﴾

اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں (5:25)

Now they have denied (the Truth); but there will come to them tidings of that whereat they used to scoff. (26:6)

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيَهُمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَاسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٦﴾

سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگئی جس کی ہنسی اڑاتے تھے (6:26)

And those who disbelieve say of those who believe: If it had been (any) good thing (in this message), they would not have been ahead of us in attaining it. And since they will not be guided by it, they say: This is an old swindle. (46:11)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْوَكَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ فَسَيَقُولُونَ هَذَا آفَاكُ قَدِيمٍ ﴿١١﴾
﴿٤٦ الاحقاف ١١﴾

اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ (دین) کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے۔ اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے (11:46)

More Reference : 12:102 28:44,45,46 32:23
Page 977, 1004

والله اعلم بالصواب : ١٢ يوسف : ١٠٢ القصص : ٤٤، ٤٥، ٤٦
٣٢ السجدة : ٢٣ الصفحة ٩٧٧، ١٠٠٤

مترجم القرآن : 102:12 28:44,45,46 32:23
صفحہ 977، 1004

DESPITE OF UNDERSTANDING THE GENUINENESS OF HOLY QURAN IN THEIR HEARTS DISBELIEVERS CALL IT SORCERY.

انتساب الكافرين للقرآن الى السحر لما جاءهم الحق

قرآن پاک کی حقیقت سمجھنے کے بعد بھی کفار کا اس کتاب کو جادو کہنا

Yet whenever the Truth has come to them they say: This is mere magic, and we are disbelievers therein. (43:30)

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾
﴿٤٣ الزخرف ٣٠﴾

اور جب ان کے پاس حق (یعنی قرآن) آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے (30:43)

And when Our clear revelations are recited to them, who disbelieve say of the Truth when it reaches them: This is sheer magic. (46:7)

وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٧﴾

اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آچکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے (7:46)

And said: This is nothing else than magic derived from the old; (74:24)

فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ قَدِيمٌ ﴿٢٤﴾
﴿٧٤ المدثر ٢٤﴾

پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو (انگلوں سے) منتقل ہوتا آیا ہے (24:74)

HAD QURAN COME FROM SOME OTHER SOURCE THAN ALLAH, (SWT) THERE WOULD HAVE BEEN MUCH DISCREPANCY AND CONTRADICTION

لو كان القرآن من عند غير الله لكان مملوءاً باختلاف كثير

اگر قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا

Will they not then ponder on the Qur'an? If it had been from other than Allah they would have found herein much incongruity. (4:82)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾
﴿٤ النساء ٨٢﴾

بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا (کلام) ہوتا تو اس میں (بہت سا) اختلاف پاتے (82:4)

HOLY QURAN IS NOT A POET'S STATEMENT

ليس القرآن بقول شاعر

قرآن پاک کسی شاعر کا کلام نہیں

And We have not taught him (Muhammad) poetry, nor would it be fitting for him. This is nothing more than a Reminder and a Lecture making the things clear, (36:69)

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾
﴿٣٦ يس ٦٩﴾

اور ہم نے ان (پیغمبر) کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایاں ہے یہ تو محض نصیحت اور واضح قرآن (پراز حکمت) ہے (69:36)

It is not a poet's statement, little is it that you believe! (69:41)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿٤١﴾
﴿٦٩ الحاقه ٤١﴾

اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو (41:69)

QURAN IS NOT A WORD OF FORTUNE TELLER (SOOTHSAYER)

ليس القرآن بقول كاهن

قرآن پاک کسی کاہن کا قول نہیں

Nor it is the word of a soothsayer, little admonition is it that you receive (69:42)

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ ﴿٤٢﴾
﴿٦٩ الحاقه ٤٢﴾

اور نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو (42:69)

It is a Message sent down from the Lord of the Worlds. (69:43)

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾
﴿٦٩ الحاقه ٤٣﴾

(یہ تو) پروردگار عالم کا اتارا (ہوا) ہے (43:69)

QURAN IS NOT A WORD OF SATANIC ACCURSED FORCE

ليس القرآن بقول شيطان رجيم

قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں

The devils did not bring it down. (26:210)

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢١٠﴾

اور اس (قرآن) کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے (210:26)

It is not suit them to, nor is it in their power, (26:211)

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢١١﴾

یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں (211:26)

Nor is this the utterance of a devil worthy to be stoned (81:25)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾
﴿٨١ التكوير ٢٥﴾

اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں (25:81)

Where then you go? (81:26)

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٨١ التكوير ٢٦﴾

پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ (26:81)

More Reference : 36:69 Page 234

والمزيد راجع ٣٦ يس ٦٩ الصفحة ٢٣٤

مزيد حوالہ 69:36 صفحہ 234

MUHAMMAD(SAAS) THE UNLETTERED PROPHET (A HISTORICALLY ESTABLISHED FACT) WHO WAS NEVER BEEN ABLE TO READ, OR WRITE BEFORE ENUNCIATION (PROVEN FACT OF QURAN BEING A DIVINE WRIT)

كون محمد ﷺ أمياً حقيقته "تاريخية" ثابتة "ما كان يتلو من قبل نزول الوحي من كتاب ولا يخطه بيمينه فذلك برهان" على كون القرآن منزلاً من الله

حضرت محمد ﷺ کا رسول امی ہونا (تاریخی مصدقہ حقیقت) جنہوں نے بعثت سے پہلے نہ کبھی پڑھنا سیکھا اور نہ لکھنا (قرآن پاک کے الہامی پیغام ہونے کا ثبوت)

And you (O Muhammad) were not a reader of any scripture before it, nor did you write it with your right hand, for then might those have doubted, who follow falsehood. (29:48)

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٤٨﴾

اور تم اے محمد پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے (48:29)

It is a Message sent down from the Lord of the Worlds. (69:43)

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾
﴿٦٩ الحاقه ٤٣﴾

(یہ تو) پروردگار عالم کا اتارا (ہوا) ہے (43:69)

And if he had invented false sayings concerning Us, (69:44)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾
﴿٦٩ الحاقه ٤٤﴾

اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے (44:69)

We assuredly had taken him by the right hand (69:45)

لَاخِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾
﴿٦٩ الحاقہ ٤٥﴾

تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے (45:69)

And then severed his life artery, (69:46)

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾
﴿٦٩ الحاقہ ٤٦﴾

پھر ان کی گردن کاٹ ڈالتے (46:69)

And not one of you could have held Us off from him. (69:47)

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾
﴿٦٩ الحاقہ ٤٧﴾

پھر تم میں سے کوئی (ہمیں) اس سے روکنے والا نہ ہوتا (47:69)

FALSE NOTION OF DISBELIEVERS AS IF SOME FOREIGNER (NON ARAB) TUTOR HAS BEEN IMPARTING (TEACHING) TO PROPHET MUHAMMAD(SAAS)

افتراء الكافرين على النبي ﷺ بأن معلماً أعجمياً خصوصاً يعلمه

كفار کا الزام کہ کوئی عجمی اتالیق حضرت محمد ﷺ کو سکھا جاتا ہے

And We know well that they say: Only a man teaches him. The speech of him at whom they falsely hint is outlandish, (foreigner) and this is clear (pure) Arabic speech. (16:103)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِّسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾
﴿١٦ النحل ١٠٣﴾

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) کو ایک شخص سکھا جاتا ہے۔ مگر جس کی طرف (تعلیم کی) نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے (103:16)

Only they invent falsehood who believe not Allah's revelations, and (only) they are the liars. (16:105)

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾
﴿١٦ النحل ١٠٥﴾

جھوٹ (افترا) تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اور وہی جھوٹے ہیں (105:16)

More Reference : 25:4 Page 228

والسبب راجع ٢٥ الفرقان: ٤ الصفحة ٢٢٨

مزید حوالہ 4:25 صفحه 228

MUHAMMAD(SAAS) WAS NEVER DISTINGUISHED FOR ANY POETIC OR PHILOSOPHIC ELOQUENCE DURING HIS WHOLE LIFE (BEFORE ANNUNCIATION, WHICH HAD ANY RESEMBLANCE WITH THE REVEALED MESSAGE OF HOLY QURAN

لبث النبي ﷺ في العرب عمراً ولم يقل كلمة تشبه الوحي

حضرت محمد ﷺ نے زندگی کے ایک طویل عرصہ میں (بعثت سے پہلے) کوئی ایسی بات نہ کہی جس کا انداز بیان وحی (اللہ کے پیغام) قرآن پاک سے مشابہت رکھتا ہو

ay: If Allah had so willed I should not have recited it to you nor would He has made it known to you. I dwelt among you a whole lifetime before it (came to me). Have you then no sense? (10:16)

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَدْرَأَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٦﴾
﴿١٠ يونس ١٠٦﴾

(یہ بھی) کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو (نہ تو) میں ہی یہ (کتاب) تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں (اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا) بھلا تم سمجھتے نہیں (16:10)

DISPUTING ABOUT THE DIVINE REVELATIONS IS LOATHED BY ALLAH(SWT)

الجدال في آيات الله موجب لسخط الله

اللہ کی آیات کے بارے میں تنازعہ پیدا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی

Those who wrangle concerning the revelations of Allah without any warrant that has come to them, it is greatly hateful in the sight of Allah and in the sight of those who believe. Thus Allah seals off every arrogant, disdainful heart. (40:35)

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ إِتْمَانٍ كَبِيرٍ مُّقْتَاتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا مَنُوكًا لِّكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾
﴿٤٠ المؤمن ٣٥﴾

جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے (35:40)

Those who dispute about the signs of Allah without any authority bestowed on them, there is nothing else in their breasts except (quest of) pride, which they will never attain. So seek you refuge in Allah. He, only He, is the Hearer, the Seer. (40:56)

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ
سُلْطَنٍ أَتَّهُمُ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا
كِبْرًا هُمْ بِالْغَيْبِ فَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾
﴿٤٠ المومن ٥٦﴾

جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں بڑائی ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں تو اللہ کی پناہ مانگو۔ بے شک وہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے (56:40)

Have you not considered those who argue about the revelations of Allah, how they are turned away? (40:69)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ
أَنِّي يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾
﴿٤٠ المومن ٦٩﴾

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ (69:40)

Those who reject the Scripture and that wherewith We send Our messengers. But they will come to know, (40:70)

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ
رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾
﴿٤٠ المومن ٧٠﴾

جن لوگوں نے کتاب (اللہ) کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا۔ وہ عنقریب معلوم کر لیں گے (70:40)

SHAMEFUL SUFFERING AWAITS THOSE THEM WHO
MAKE THE REVELATIONS AND SIGNS OF
ALLAH, (SWT) A TARGET OF THEIR MOCKERY

للمستهزئين بايات الله عذاب مهين

اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑانے والوں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب

And when he learns something of Our revelations he makes it a jest. For such there is a humiliating chastisement. (45:9)

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩﴾
﴿٤٥ الجاثية ٩﴾

اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے (9:45)

This is Guidance. And those who disbelieve the revelations of their Lord, for them there is a painful doom of wrath. (45:11)

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ
عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ الْيَوْمِ ﴿١١﴾
﴿٤٥ الجاثية ١١﴾

یہ ہدایت (کی کتاب) ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا (11:45)

DISBELIEVERS OF DIVINE MESSAGE WILL BE
COMPANIONS OF THE SINISTER SIDE

الكفار بايات الله أصحاب المشئمة

آیات اللہ کے منکرین بد بخت لوگ

But those who disbelieve Our revelations, their place will be (unhappy) companions of the left hand. (90:19)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾
﴿٩٠ البلد ١٩﴾

اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بد بخت ہیں (19:90)

Fire will be an awning over them. (90:20)

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٢٠﴾
﴿٩٠ البلد ٢٠﴾

یہ لوگ آگ میں بند کر دیئے جائیں گے (20:90)

THE PAGANS USED TO MAKE LAME EXCUSE THAT
HAD THEIR FOREFATHERS AN INKLING OF DIVINE
SCRIPTURE, THEY CERTAINLY WOULD HAVE
BELIEVED BUT ON REVELATION
OF QURAN, THEY REJECTED IT

الكفار كانوا يتمنون من قبل لإتيان
ذكر عندهم، ثم انحرفوا
ولم يؤمنوا بالقران الكريم

کتاب ہدایت کے آنے سے پہلے کفار اس کے آنے کی تمنا کیا کرتے تھے مگر نزول قرآن کے بعد منکر ہو گئے

And indeed they used to say: (37:167)

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾
﴿٣٧ الصافات ١٦٧﴾

اور یہ لوگ کہا کرتے تھے (167:37)

If we had but a reminder from early men. (37:168)

We should have become loyal Servants of Allah. (37:169)

Yet (now that it is come) they, disbelieve therein: But they soon shall know. (37:170)

DIVINE INSPIRATION TO PROPHET MUHAMMAD(SAAS) IS NOT A NOVEL EVENT ALLAH(SWT) HAD CONVEYED HIS STATEMENT TO THE FOLKS THROUGH REVEALED SCRIPTURES ON HIS MESSENGERS UNTIL FINAL REVELATION OF HOLY QURAN

So, We have conveyed the statement to them so that they may keep it in mind. (28:51)

Those to whom We gave the Scripture before it, they believed in it. (28:52)

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧ الطفت ١٦٨﴾

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٣٨﴾
﴿٣٧ الطفت ١٦٩﴾

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٧ الطفت ١٧٠﴾

لیس تنزیل الوحی علی محمدؐ
بشیء غریب
أنزل الله الكتب سلسلا
من سلسل قبل تنزیل القرآن

کہ اگر ہمارے پاس اگلے لوگوں کی کوئی نصیحت (کی کتاب) ہوتی (168:37)

تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے (169:37)

لیکن (اب) اس سے کفر کرتے ہیں سو عنقریب ان کو (اس کا نتیجہ) معلوم ہو جائے گا (170:37)

نزول وحی کوئی نیا واقعہ نہیں
اللہ تعالیٰ کا الہامی کتب کا سلسلہ
(نزول قرآن تک) جاری رہا

اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس (ہدایت) اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں (51:28)

جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں (52:28)

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾
﴿٢٨ القصص ٥١﴾

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾
﴿٢٨ القصص ٥٢﴾

More Reference : 4:163 6:84 16:44 42:3
47,249 248 996 242 243

والمعز براجع ٤ النساء ١٦٣ ٦ الأنعام ٨٤
١٦ النحل ٤٤ ٤٢ الشورى ٣

مزیلہ حوالہ 3:42 44:16 84:6 163:4
243 242 996 248 249,247

MISINTERPRETING OF THE QURANIC VERSES FOR CONCEALING FACTS AND TO TRAFFIC MISERABLE GAINS

Therefore woe be to those who write the Scripture with their hands and then say, "This is from Allah," that they may purchase a small gain therewith. Woe to them for that their hands have written, and woe to them for that they earn thereby. (2:79)

Those who conceal the clear signs and the guidance, which We revealed, after We had made it clear in the Scripture: Such are accursed of Allah and accursed of those who have the power to curse. (2:159)

Those who suppress anything of the Scripture, which Allah has revealed, and barter it off for a small gain therewith, they swallow into their bellies nothing else than fire. Allah will not speak to them on the Day of Resurrection, nor will He make them grow in purity. Theirs will be a painful doom. (2:174)

کتمان ما أنزل الله وتحریفه
لکسب المنافع المادية الحقيرة به

قَوْلِيلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلِيلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ
وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾
﴿٢ البقرة ٧٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي
الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
الْمَلَائِكَةُ ﴿١٥٩﴾
﴿٢ البقرة ١٥٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ
فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يَزِيدُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾
﴿٢ البقرة ١٧٤﴾

مادی فوائد کے حصول کی خاطر اللہ تعالیٰ
کی آیات کو چھپانا یا ان کو غلط معنی دینا

تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے (آئی) ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت (یعنی دنیاوی فائدہ) حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لئے کہ (بے اصل باتیں) اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور (پھر) ان پر افسوس ہے اس لئے کہ ایسے کام کرتے ہیں (79:2)

جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں (کسی غرض فاسد سے) چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں (159:2)

جو لوگ (اللہ کی) کتاب سے ان (آیتوں اور ہدایتوں) کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت (یعنی دنیاوی فائدہ) حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو (گناہوں سے) پاک کرے گا اور ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے (174:2)

Those are they who purchase error at the price of guidance, and torment at the price of pardon. How constant are they in their strife to reach the Fire! (2:175)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ
بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾
﴿٢ البقرة ١٧٥﴾

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور
بخشش چھوڑ کر عذاب خریدی۔ یہ آتش (جہنم) کو کتنا
برداشت کرنے والے ہیں (175:2)

That is because Allah has revealed the Scripture with the truth. Those who find (a cause of) disagreement in the Scripture are in open schism (went much to far in dissension). (2:176)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾
﴿٢ البقرة ١٧٦﴾

یہ اس لئے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی
اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں
(آکر نیکی سے) دور (ہو گئے) ہیں (176:2)

-----So fear not mankind, but fear Me. And barter not My revelations for a little gain. -----
----- (5:44) PART

فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَاحْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي
ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿٤٤﴾
﴿٥ المائدة ٤٤﴾ جزء

----- تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور
مجھ ہی سے ڈرتے رہنا اور میری آیتوں کے بدلے
تھوڑی سی قیمت بھی نہ لینا۔ ----- (44:5) جزو

Are you (all) trying to dodge this statement? (56:81)

أَفِيْهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾
﴿٥٦ الواقعة ٨١﴾

کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ (81:56)

And make denial thereof your livelihood? (56:82)

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ ﴿٨٢﴾
﴿٥٦ الواقعة ٨٢﴾

اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ (اے) جھٹلاتے
ہو (82:56)

More Reference 3:187 Page 591

والمزيد راجع ٣ آل عمران ١٨٧: الصفحة ٥٩١

مزيد حوالہ 187:3 صفحہ 591

**THE DISBELIEVERS WOULD CALL IT
A SHEER MAGIC EVEN THOUGH ALLAH (SWT)
HAD SENT DOWN HIS MESSAGE
WRITTEN ON PAPERS SCROLL**

Had We sent down to you (Muhammad) (actual) writing upon parchment, so that they could touch it with their hands, those who disbelieve would have said: This is nothing else than mere magic. (6:7)

لو كان القرآن منزلا في قرطاس
لقال الكافرون إنه سحر

اگر قرآن کاغذوں پر لکھا ہوا بھی نازل کر دیا جاتا
تو بھی منکرین اسے محض جادو کہتے

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَسُوهُ
بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا
سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾
﴿٦ الانعام ٧﴾

اور اگر ہم آپ پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل
کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے۔ تو جو
کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو (صاف اور) کھلم کھلا
جادو ہے (7:6)

**TAUNTING OF INFIDELS ON INTERMISSIONS
IN PROMULGATION OF MESSAGE
(REVELATION OF QURAN)**

And when you bring not a revelation for them they say: Why has you not chosen it? Say: I follow only that which is inspired in me from my Lord. This (Qur'an) is insight from your Lord, and a guidance and Mercy for people that believe. (7:203)

اقاويل الكفار عند الفتره
في نزول الوحي

نزول وحی میں وقفہ ہو جانے پر
منکرین کی جھتیں

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا
فَلَنِإِنَّمَا أَنْتَ مُؤْتَىٰ إِلَىٰ مِنْ رَبِّي هُدًى
ابْصَارُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾
﴿٧ الاعراف ٢٠٣﴾

اور جب آپ ان کے پاس (کچھ دنوں تک) کوئی آیت نہیں
لائے تو کہتے ہیں کہ آپ نے (اپنی طرف سے) کیوں نہیں
بنائی۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے
پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ (قرآن)
تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے
لئے ہدایت اور رحمت ہے (203:7)

**WHY IT HAS NOT BEEN BESTOWED
ALL AT ONCE- AN OBJECTION OF INFIDELS ON
GRADUAL REVELATION OF QURAN**

And those who disbelieve say: Why is the Qur'an not revealed to him all at once? (It is revealed) thus that We may strengthen your heart therewith; and We have rehearsed it to you in slow, well arranged stages, gradually. (25:32)

And they bring you no question but We reveal to you the Truth (as against it), and better explanation. (25:33)

لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ٣٢﴾

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾
﴿٢٥ الفرقان ٣٣﴾

**قرآن پاک ایک ہی مرتبہ
مکمل کیوں نہیں اترا**

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اس طرح (آہستہ آہستہ) اس لئے (اتارا گیا) کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں۔ اور (اسی واسطے) ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں (32:25)

اور یہ لوگ تمہارے پاس جو (اعتراض کی) بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول عمدہ حل بھیج دیتے ہیں (33:25)

**EARNED DOCTORS OF JEWS (RABBIS) KNEW
(RECOGNIZED) THE HOLY QURAN
AS A DIVINE REVELATION**

Shall I seek other than Allah for Judge, when He it is Who has revealed to you (this) Scripture, fully explained? Those to whom We gave the Scripture (aforetime) know that it is revealed from your Lord in Truth. So be not you (O Muhammad) of the waverers. (6:114)

Is it not a token for them that the doctors of the Children of Israel know it? (26:197)

In like manner We have revealed to you the Scripture, and those to whom We gave the Scripture aforetime will believe therein; and these (also) there are some who believe therein. And none deny Our revelations except the disbelievers. (26:47)

Those who have been given knowledge see that what is revealed to you from your Lord is the truth and leads to the path of the Mighty, Owner of Praise. (34:6)

**كان علماء بنى اسرائيل عارفين
بحقانية القرآن الكريم**

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾
﴿٦ الانعام ١١٤﴾

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٩٧﴾

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٤٧﴾

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٣٤﴾
﴿٣٤ سبأ ٦﴾

**قوم یہود کے اہل علم (رہی) کا قرآن کی
سچائی سے آشنا ہونا**

(کہہ دیجئے) کیا میں اللہ کے سوا اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب (تورات) دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا (114:6)

کیا ان کے لئے یہ سزا نہیں ہے کہ علمائے بنی اسرائیل اس (بات) کو جانتے ہیں (197:26)

اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے۔ تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور بعض ان لوگوں (مکہ والوں) میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر (ازلی) ہیں (47:29)

آپ کو اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے کہ جو (قرآن) آپ پر پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ اور اللہ غالب (اور) لائق تعریف راستہ بتاتا ہے (6:34)

THE PEOPLE OF SCRIPTURES RECOGNIZED THE QURAN AS DIVINE WRIT

And if you (Muhammad) are in doubt concerning that which We reveal to you, then question those who read the Scripture (that was) before you. The Truth from your Lord has come to you. So be not you of the waverers. (10:94)

أهل الكتاب كانوا بأنفسهم شاهدين على كون القرآن حقا

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُبْتَلِينَ ﴿٩٤﴾

اہل کتاب خود قرآن پاک کی سچائی کے گواہ تھے

اگر آپ کو اس (کتاب کے) بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ آپ سے پہلے کی (اتری ہوئی) کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس حق آچکا ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں (94:10)

SOME PEOPLE OF THE BOOK REJOICED THE REVELATION OF QURAN (ON FINDING IN IT CONFIRMATION OF WHAT THEIR ANCESTORS HAD RECEIVED)

Those to whom We gave the Scripture are happy in that which is revealed to you. And of the clans there are who deny part of it. Say: I am commanded only that I serve Allah and ascribe to Him no partner. To Him I appeal, and to Him is my return. (13:36)

بعض أهل الكتاب يفرحون بإنزال القرآن (لأنه مصدق لما عندهم من التوراة والانجيل)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يُفْرِحُونَ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٍ ﴿٣٦﴾

بعض اہل کتاب نزول قرآن پر بھی خوش ہیں (کیوں کہ یہ ان کے صحیفوں تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے)

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس (کتاب) سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں اور بعض فرتے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دیجئے کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ (کسی کو) شریک نہ بناؤں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے (36:13)

DESPITE OF RECOGNIZING THE ELOQUENCE OF DIVINE MESSAGE - HOLY QURAN THE INFIDELS ATTRIBUTED IT TO MAGIC AND SORcery OF PROPHET(SAAS)

And when there comes to them a Scripture from Allah, confirming that in their possession though before that they were asking for a signal triumph over those who disbelieved and when there comes to them that which they know (to be the Truth) they disbelieve therein. The curse of Allah is on disbelievers. (2:89)

كفر أهل الكتاب بالقرآن الكريم وهم عارفون به وشهداء على كونه حقا

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَعَرُفُوا كَفْرًا وَإِن كَلَعْنَا اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

اہل کتاب کا قرآن پاک کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود ماننے سے انکار

اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی (آسانی) کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور وہ پہلے (ہمیشہ) کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آئی تو اس سے منکر ہو گئے پس منکروں پر اللہ کی لعنت (89:2)

And when it is said to them: Believe in that which Allah has revealed, they say: We believe in that which was revealed to us. And they disbelieve in that which comes after it, though it is the Truth confirming that which they possess. Say (to them, O Muhammad): Why then slew you the Prophets of Allah aforetime, if you are (indeed) believers? (2:91)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ قَالَوا نؤمنُ بِمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) اللہ نے (اب) نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر (پہلے) نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں (یعنی) یہ اس کے سوا اور (کتاب) کو نہیں مانتے حالانکہ وہ (سراسر) سچی ہے اور جو ان کی (آسانی) کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے (ان سے) کہہ دیجئے کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے (91:2)

O People of the Scripture! Why disbelieve you in the revelations of Allah, when you (yourselves) bear witness (to the Torah)? (3:70)

Say: O People of the Scripture! Why drive you back believers from the way of Allah, seeking to make it crooked, when you are witnesses (to Allah's guidance)? Allah is not unaware of what you do. (3:99)

Those who disbelieve among the People of the Scripture and the idolaters did not give up (erring) till the clear proof come to them, (98:1)

(Through) A messenger from Allah, reciting purified pages (98:2)

Which Comprise Books of ever true soundness and clarity. (98:3)

Nor the People of the Scripture were divided (disagreed about it) until after the clear evidence came to them. (98:4)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾
﴿٣ آل عمران ٧٠﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾
﴿٣ آل عمران ٩٩﴾

لَمْ يَكُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالشُّرَكِيِّنَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ ﴿٩٨﴾
﴿٩٨ البينة ١﴾

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۗ ﴿٩٨﴾
﴿٩٨ البينة ٢﴾

فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۗ ﴿٩٨﴾
﴿٩٨ البينة ٣﴾

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ ﴿٩٨﴾
﴿٩٨ البينة ٤﴾

اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم (تورات کو) مانتے تو ہو (70:3)

کہو اے اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو اس میں عیب نکالتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں (99:3)

جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ (کفر سے) باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل (نہ) آتی (1:98)

(یعنی) اللہ کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں (2:98)

جن میں صحیح (آیتیں) لکھی ہوئی ہیں (3:98)

اہل کتاب اپنے پاس دلیل آجانے کے بعد ہی (اختلافات میں پڑ کر) متفرق ہو گئے۔ (4:98)

DIVINE INSPIRATION TO PROPHET MUHAMMAD(SAAS) IS NOT A NOVEL EVENT THE REVELATION OF HOLY QURAN IS LIKE THAT OF EARLIER SCRIPTURES LIKE TORAH, PSALMS AND GOSPEL

We inspire you as We inspired Noah and the prophets after him, as We inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as We imparted to David the Psalms; (4:163)

Say: O, People of the Scripture! Do you blame us for anything else than that we believe in Allah and that which is revealed to us and that which was revealed aforetime, and because most of you are iniquitous? (5:59)

With clear proofs and writings; (of Psalms) and We have revealed to you the Reminder that you may explain to mankind that which has been revealed for them, and that haply they may reflect. (16:44)

Ha. Mim. (42:1)

Ain. Sin. Qaf. (42:2)

لیس تنزیل الوحی علی محمد بشیء غریب و تنزیل القران لیس الا ک انزال الکتب السماویة من قبل

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالتِّيْنِ مِنْ بَعْدِهٖ ۗ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاِلْسَبٰطِ وَعِيسٰى وَاَيُوْبَ وَيُوْنُسَ وَاِهْرٰوْنَ وَسَلْمٰنَ ۗ وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾
﴿٤ النساء ١٦٣﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ۗ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٥ المائدة ٥٩﴾

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾
﴿١٦ النحل ٤٤﴾

حَمِّ ﴿٤٢﴾ الشورى ١

عَسَقِ ﴿٤٢﴾ الشورى ٢

نزول وحی کوئی نیا واقعہ نہیں نزول قرآن بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلی کتب سماویہ نازل ہوئیں

(اے محمد) ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی (163:4)

کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سو اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو (کتاب) ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو (کتا ہیں) پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں۔ اور تم میں اکثر بد کردار ہیں (59:5)

(اور ان پیغمبروں کو) دلیلیں اور کتابیں دے کر (بھیجا تھا) اور اب ہم نے آپ پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو (ارشادات) لوگوں کی جانب نازل ہوئے ہیں ان پر واضح کر دیں تاکہ وہ غور کریں (44:16)

حَم (1:42)

عَسَق (2:42)

Thus Allah the Mighty, the Knower inspires you (Muhammad) as (He inspired) those before you. (42:3)

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾
﴿٤٢ الشورى ٣﴾

اللہ غالب و دانا اسی طرح آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے (جس طرح) آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے (3:42)

More Reference : 16:84,92 28:51,52
41:43 Page 810, 569, 238, 122

والصبر راجع ٦ الأنعام: ٩٢، ٨٤، ٢٨ القصص: ٥٢، ٥١
٤١ حم السجدة (صکت): ٤٣، الصفحة ٨١٠، ٥٦٩، ٢٣٨، ١٢٢

مزید حوالہ 6:84,92 28:51,52 41:43
صفحہ 238, 569, 810

**LEARNED JEWS AUTHENTICATED
QURAN AS DIVINE WRIT, IN LIGHT
OF THE FORESHADOWS
IN THEIR REVEALED BOOKS**

Say (O Muhammad) : What thing is of most important in testimony? Say: Allah is witness between you and me. And this Qur'an has been inspired in me, that I may warn therewith you and whomsoever it may reach. Do you in truth bear witness that there are gods beside Allah? Say: I bear no such witness. Say: He is the only One God. I am innocent of that which you associate (with Him). (6:19)

قُلْ أَمَىٰ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ
بِهِ وَمَنْ بَلَغْ إِلَيْكُمْ لِتَشْهَدُوا إِنَّ مَعَ اللَّهِ
إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ
وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾
﴿٦ الانعام ١٩﴾

ان سے پوچھیے کہ سب سے بڑھ کر کس کی گواہی ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے۔ اور یہ قرآن مجھ پر اس لئے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں (اے محمد) کہہ دیجئے کہ میں تو (ایسی) گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں (6:19)

Bethink you: If it is from Allah and you disbelieve therein, and a witness of the Children of Israel has already testified to the like thereof and has believed, and you are too proud (what plight is yours)? Allah, guides not wrongdoing folk. (46:10)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكْفَرَ
تَمْرِيهٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَلَىٰ مِثْلِهِ قَامِنًا وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾
﴿٤٦ الاحقاف ١٠﴾

کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ (قرآن) اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک (کتاب) کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی (تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے) بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (46:10)

**REVELATION OF QURAN FORETOLD
IN EARLIER SCRIPTURES**

In clear Arabic speech. (26:195)
And it is in the Scriptures (Psalms) of the early men . (26:196)

إخبار الكتب السابقة
بتنزيل القرآن الكريم مقمدا

پہلے پیغمبروں کی کتب میں
نزول قرآن کی پیش گوئی

**ALL THE PEOPLE OF SCRIPTURES ARE
ORDAINED BY ALLAH (SWT) TO BELIEVE AND
FOLLOW THE FINAL AND MOST PERFECT
EXPRESSION (HOLY QURAN)**

Say: O People of the Scripture! Why disbelieve you in the revelations of Allah, when Allah (Himself) is Witness of what you do? (3:98)

أمر الله لأهل الكتاب بالإيمان
بالقرآن الكريم

اللہ تعالیٰ کا اہل کتاب کو قرآن پاک پر
ایمان لانے کا حکم

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾
﴿٣ آل عمران ٩٨﴾

کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے (98:3)

O you to whom the Scripture has been given! Believe in what We have revealed concerning that which you possess, before We change the face and fame of some (of you) beyond all recognition, and set them on backwards or curse them as We cursed the Sabbath breakers (of old time). The commandment of Allah is always executed. (4:47)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِنَّمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّتَّخِذَ وَجُوهَافِتْرًا عَلٰى أَدْبَارِهِا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾
﴿٤ النساء ٤٧﴾

اے اہل کتاب قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی۔ ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ۔ اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو (سمجھ لو کہ) ہو چکا (47:4)

Say (O Muhammad): Proofs have come to you from your Lord, so whoso sees, it is for his own good, and whoso is blind is blind to his own hurt. And I am not a keeper over you. (6:104)

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾
﴿٦ الانعام ١٠٤﴾

(اے محمدؐ ان سے کہہ دیجئے کہ) تمہارے (پاس) پروردگار کی طرف سے (روشن) دلیلیں پہنچ چکی ہیں تو جس نے (ان کو آنکھ کھول کر) دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں (104:6)

Thus We do spell out Our revelations that they may say (to you, Muhammad): "You have studied," and that We may make (it) clear for people who have knowledge. (6:105)

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ وَيَقُولُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾
﴿٦ الانعام ١٠٥﴾

اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ کہیں کہ تم (یہ باتیں اہل کتاب سے) سیکھے ہوئے ہو اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لئے تشریح کر دیں (105:6)

And this is a blessed Scripture which We have revealed. So follow it and ward off (evil), that you may find mercy. (6:155)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبْرَكًا فَاتَّبِعُوْهُ وَاْتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾
﴿٦ الانعام ١٥٥﴾

اور (اے کفر کرنے والو) یہ کتاب بھی ہم نے اتاری ہے برکت والی۔ تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے (155:6)

Lest you should say: The Scripture was revealed only to two sects before us, and we in truth were unaware of what they read; (6:156)

اَن تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَنْزَلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طٰٓئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَاِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾
﴿٦ الانعام ١٥٦﴾

(اور اس لئے اتاری ہے) کہ (تم یوں نہ) کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے (معذور اور) بے خبر تھے (156:6)

For (We shall requite) all those who hold fast the Divine Writ and are constant in prayer : Verily shall requite those who enjoin the doing what is right. (7:170)

وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾
﴿١٧ الاعراف ١٧٠﴾

اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے (170:7)

Bethink you: If it is from Allah and you reject it--Who is further astray than one who is at open feud (with Allah)? (41:52)

قُلْ اَرءَيْتُمْ اِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مِّنْ اٰثَرٍ هُوَ مِنَّ هُوَ فِى شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾
﴿٤١ حم سجدة ٥٢﴾

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ (قرآن) اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اسے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو (حق کی) پرلے درجے کی مخالفت میں ہو (52:41)

SIMILITUDE OF THE UNBELIEVERS OF HOLY QURAN

Is he who knows that what is revealed to you from your Lord is the truth like him who is blind? But only men of understanding heed; (13:19)

مثل الكافرين الذين يكذبون القرآن الكريم

اَفَمَن يَعْلَمُ اِنَّمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ﴿١٩﴾
﴿١٣ الرعد ١٩﴾

منکرین قرآن کریم کی مثال

بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقلمند ہیں (19:13)

**HOLY QURAN AUTHENTICATES
ALL PRECEDING SCRIPTURES REVEALED
TO THE MESSENGERS OF ALLAH(SWT)**

القرآن مصدق لما بين يديه

قرآن پاک تمام پہلی الہامی کتابوں
صحیفوں کی تصدیق کرتا ہے

And believe in that which I reveal, confirming that which you possess already (of the Scripture), and be not first to disbelieve therein, and part not with My revelations for a trifling price, and keep your duty to Me. (2:41)

وَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا
أَوَّلَ كَافِرِينَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
وَلِيَايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾
﴿٢ البقرة ٤١﴾

اور جو کتاب میں نے (اپنے رسول محمد پر) نازل کی ہے جو تمہاری کتاب (تورات) کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں (تحریف کر کے) ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت (یعنی دنیاوی نفع) نہ حاصل کرو اور مجھ ہی سے خوف رکھو (41:2)

And this is a blessed Scripture which We have revealed, confirming that which (was revealed) before it, that you may warn the Mother of Villages and those around her. Those who believe in the Hereafter believe herein, and they are careful of their worship. (6:92)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكًا مُصَدِّقًا لِّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ
صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٩٢﴾
﴿٦ الانعام ٩٢﴾

اور (وہی ہی) یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلی (کتابوں) کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لئے (نازل کی گئی ہے) کہ آپ مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی (پوری) خبر رکھتے ہیں (92:6)

And this Quran is not such as could ever be invented by anyone except Allah; but it is a confirmation of that which was before it and an exposition of that which is decreed for mankind-- Therein is no doubt-- from the Lord of the Worlds. (10:37)

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾
﴿١٠ يونس ٣٧﴾

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں (ہاں یہ اللہ کا کلام ہے) جو (کتابیں) اس سے پہلے (کی) ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ انہی کتابوں کی (اس میں) تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں (کہ) یہ رب العالمین کی طرف سے (نازل ہوا) ہے (37:10)

This Qur'an tells the Children of Israel most of that concerning which they differ. (27:76)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ
أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾
﴿٢٧ النمل ٧٦﴾

بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے (76:27)

As for that which We inspire in you of the Scripture, it is the Truth confirming that which was (revealed) before it. Allah is indeed fully Aware, all-seeing of (needs of) His servants. (35:31)

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ
لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾
﴿٣٥ فاطر ٣١﴾

اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان (کتابوں) کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار (اور ان کو) دیکھنے والا ہے (31:35)

More Reference:	2:97	3:3,48,50,65,93	4:163
Page	380	247,249,594	246
5:66,68,110	6:89,155	7:157	9:111
601,374,1099	246,244	181	644
12:111	37:115,116,117	46:12,30	48:29
212	1056	247,691	163
53:36	61:6	62:5	87:18,19
246	164	442	246,

والمزید راجع ٢ البقرة ٩٧: ٣ آل عمران ٩٣,٦٥,٥٠,١٠١,٨٠,٣	٤ النساء ١٦٣: ٥ المائدة ١١٠,٦٨,٦٦	٦ الأنعام ١٥٥,٨٩	١٢ يوسف ١١١
١٧ الأعراف ١٥٧: ٩ التوبة ١١١	١١٧,١١٦,١١٥	٤٦ الأحقاف ٣٠,١٢	٣٧ الصافات ١١٧,١١٦,١١٥
٤٨ الفتح ٢٩: ٥٣ النجم ٣١	٦١ الصف ٦	١٩٠,١٨	١٨٧ الأعلى ١٩٠,١٨

١٦٣:٤	٩٣,٦٥,٥٠,٤٨,٣:٣	٩٧: ٢
246	247,249,594	380
111:9	157:7	155,89:6
644	181	244,246
29:48	30,12:46	117,116,115:37
163	691,247	1056
	19,18:87	5:62
	246	442
		6:61
		36:53
		246-

**HOLY QURAN CONFIRMS
THE REVELATION OF ALL SCRIPTURES
TO THE MESSENGERS**

**القرآن مصدق لمافی
صحف المرسلین**

قرآن پاک تمام صاحب کتاب پیغمبران
اور ان پر الہام شدہ کتب کی تصدیق کرتا ہے

We inspire you as We inspired Noah and the prophets after him, as We inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as We imparted to David the Psalms; (4:163)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَ الذِّكْرِ مِنَ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ
وَ عِيسَى وَ الْيُوسُفَ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ
وَ اتَّبْنَا دَاوُدَ وَ زَبُورًا ۝

(اے محمدؐ) ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی (163:4)

And Ishmael and Elisha and Jonah and Lot. Each one of them We preferred over (every body else in) the Universe.. (6:86)

وَاسْمَعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُوسُفَ وَ لُوطًا وَ كَلَّا فَضَّلْنَا
عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

اور اسمعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی۔ اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی (86:6)

With some of their forefathers and their offspring and their brethren; and chose them and guided them to a Straight path. (6:87)

وَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ وَ انْحَوَانِهِمْ وَ اجْتَبَيْنَاهُمْ
وَ هَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اور بعض بعض کو ان کے باپ اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی۔ اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا (87:6)

Those are they to whom We gave the Scripture and Command and Prophethood. But if (disbelievers) they disbelieve therein, then indeed We Shall entrust it to the people who will not be disbelievers therein. (6:89)

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَ وَ التَّوْبَةَ فَإِنْ
يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوْنَ
بِهَا كَافِرِينَ ۝

یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم (شریعت) اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ اگر یہ (کفار مکہ) ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر (ایمان لانے کے لئے) ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں (89:6)

And it was said to his son): O John! Hold the Scripture. And We gave him wisdom when he was a child. (19:12)

يٰحَبِيبُ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا ۝

اے (یحییٰ) (ہماری) کتاب کو زور سے پکڑے رہو۔ اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی (12:19)

And We gave grace to Moses and Aaron, (37:114)

وَ لَقَدْ مَنَّآ عَلَى مُوسَى وَ هَارُونَ ۝

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کئے (114:37)

and We gave them the clear scripture (37:117)

وَ آتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۝

اور ان دونوں کو کتاب واضح (الطالب) عنایت کی (117:37)

Or has he not had news of what is in the Books of Moses (53:36)

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۝

کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی (36:53)

This is in the former scrolls: (7:18)

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝

یہی بات پہلے صحیفوں (کتابوں) میں (مترجم) ہے (18:87)

the Books of Abraham and Moses, (7:19)

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى ۝

(یعنی) ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں (کتابوں میں) (19:87)

HOLY PSALMS (ZABUR)

**A SCRIPTURE SENT DOWN TO DAVID (PBUH)
CONFIRMED IN THE HOLY QURAN**

الذِّكْرُ الْمُنِيرُ
الَّذِي دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

الذِّكْرُ الْمُنِيرُ (مُتَّبِعًا لِتَسْوِيَةِ)
حُضْرَتِ مَوْلَانَا اَبُو ذَرٍّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
الَّذِي دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

We inspire you as We inspired Noah and the prophets after him, as We inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as We imparted to David the Psalms; (4:163)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَى وَيُوسُفَ وَيُوحَنَّا وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٤﴾
النساء ١٦٣

(اے محمدؐ) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی (4:163)

Had it been possible for any Quran (scripture) to cause the mountains to move, or the earth to be torn asunder, or the dead to speak, (They who are bent on changing the truth would have refused). No, but Allah's is the whole command. Do not those who believe know that, had Allah willed, He could have guided all mankind? As for those who disbelieve, disaster ceases not to strike them because of what they do, or it dwells near their home until the threat of Allah comes to pass. Allah fails not to keep the appointment. (13:31)

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ
أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهَلَّلَتْ
بِلِلَّةِ اللَّهِ الْأَمْرَ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الْذَّيْنِ
أَمْثَلًا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ
كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ
أَوْ تَمَلُّهُمُ قَرْيَةٌ مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى
يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيعَادَ ﴿١٣﴾
الرعد ٣١

اور اگر کوئی قرآن (آسمانی کتاب) ایسا ہوتا کہ اس (کی تاثیر) سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا۔ اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی۔ یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آپہنچے بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا (31:13)

And your Lord is best aware of all who are in the heavens and in the earth. And We preferred some of the Prophets above others, and to David We gave the Psalms. (17:55)

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى
بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾
بنی اسرائیل ٥٥

اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے۔ اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشا اور داؤد کو زبور عنایت کی (17:55)

And We have written in the scripture, after the Reminder: My righteous slaves will inherit the earth: (21:105)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾
الأنبياء ١٠٥

اور ہم نے نصیحت (کی کتاب یعنی تورات) کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکو کار بندے ملک کے وارث ہوں گے (105:21)

There is a plain statement for folk who are devout. (21:106)

إِنَّ فِي هَذَا بَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾
الأنبياء ١٠٦

عبادت کرنے والے لوگوں کے لئے اس میں اللہ کے (حکموں کی) تبلیغ ہے (106:21)

They were truly guilty (because all the evil) that they ever did had been revealed to them as such) in the ancient books of (divine) wisdom (is to be found in the Psalms). (54:52)

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٤﴾
القمر ٥٤

(یہ یقیناً مجرم ہیں) کیونکہ جو کچھ انہوں نے (بد) اعمال کئے ہیں ان کی کتابوں میں درج ہیں (یعنی ان کو راہ ہدایت زبور میں دے دی گئی تھی) (52:54)

For Reference at Page 1065
Detail Consult : Chapter of David (PBUH)

وللمزيد راجع الصفحة ١٠٦٥
وللتفصيل راجع باب داؤد عليه السلام

مزید حوالہ صفحہ 1065
تفصیل کیلئے دیکھئے باب حضرت داؤد علیہ السلام

HOLY GOSPEL - BIBLE (INJIL)
(NEW TESTAMENTS)
(INSPIRED TO JESUS (PBUH))
CONFIRMED IN THE HOLY QURAN

الانجیل
القرآن مصدق لسان النور
الی عیسیٰ علیہ السلام

انجیل مقدس (مزمور جدید)
حضرت عیسیٰ علیہ السلام برائے نازل کی گئی
الہامی کتاب کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے

He has revealed to you (Muhammad) the Scripture with truth, confirming that which was (revealed) before it, even as He revealed the Torah and the Gospel (3:3)

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾
آل عمران ٣

اس نے (اے محمدؐ) تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی (آسمانی) کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی (3:3)

And He will teach him the Scripture and wisdom, and the Torah and the Gospel. (3:48)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾
آل عمران ٤٨

اور وہ انہیں لکھنا (پڑھنا) اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا (48:3)

O People of the Scripture! Why will you argue about Abraham, when the Torah and the Gospel were not revealed till after him? Do you not use your reason? (3:65)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُمَاجِدُونَ فِيْ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾
آل عمران ٦٥

اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں (اور وہ پہلے ہو چکے) تو کیا تم عقل نہیں رکھتے (65:3)

Those who follow the messenger, the Prophet who can neither read nor write, whom they will find described in the Torah and the Gospel (which are) with them. ----- (7:157) PART

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ وَنَهْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ----- ﴿١٥٧﴾
الاعراف ١٥٧ جزء

وہ جو (محمد ﷺ) رسول (اللہ) کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں ----- (157:7) جزو

Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard against the disbelievers and merciful among themselves. You (O Muhammad) see them bowing and falling prostrate (in worship), seeking bounty from Allah and (His) acceptance. The mark of them is on their foreheads from the traces of prostration. Such is their likeness in the Torah and their likeness in the Gospel ----- (48:29) PART

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ----- ﴿٤٨﴾
الفتح ٢٩ جزء

محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں (کثرت) سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں ان کے یہی اوصاف تورات میں (مرقوم) ہیں۔ اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں ----- (29:48) جزو

More Reference : 5:66,68 9:111 57:27

Page 601, 374, 644, 434

For Detail Consult : Chapter of Jesus (PBUH)

والمزید راجع ٥ المائدة: ٦٦، ٦٨، ٩ التوبة: ١١١

٥٧ الحديد: ٢٧ الصفحة ٦٠١، ٣٧٤، ٦٤٤، ٤٣٤

والمفضل راجع باب عیسیٰ علیہ السلام

المزید حوالہ 5:66,68 9:111 57:27

صفحة 434, 644, 374, 601

لتفصیل کیلئے دیکھئے باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام

WAYS OF WORSHIP
IN ISLAM

العبادات الإسلامية

عبادات اسلام

SALAT (OFFERING PRAYER)

الصلوة

نماز

ESTABLISHING REGULAR SALAT

إقامة الصلوة

اقامت صلوة (نماز کی پابندی)

And to establish worship and ward off (evil), and He it is to Whom you will be gathered. (6:72)

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾

اور یہ (بھی) نماز ادا کرتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کئے جاؤ گے (72:6)

Say: In fact my worship and, my sacrifice and my living and my dying are for Allah, Lord of the Worlds. (6:163)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾

(یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے (163:6)

-----So establish worship and give the poor due.----- (22:78) PART

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ حَنَافٍ مُّبِينَةٍ ﴿٧٨﴾

----- اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو ----- (78:22) جزو

A guidance and good tidings for believers (27:2)

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

مومنوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری ہے (27:2)

Who establish worship and pay the poor due and are sure of the Hereafter. (27:3) (31:4)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣١﴾

وہ جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں (31:4) (27:3)

Turning to Him (only); and be careful of your duty to Him, and establish worship, and be not of those who ascribe partners (to Him); (30:31)

مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

(مومنو) اسی (اللہ) کی طرف رجوع کئے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز ادا کرتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا (31:30)

More Reference :	2:43,110,177	4:162,77
Page	155,100,473	439,661
5:55	8:3	9:18,71,112
762	275	622,764,437
22:35,41,78	23:2,9,10	24:37,56
65,370,92	255,765,766	256,265
31:4,17	33:33	35:18,29
250,1071	543	818,259
58:13	70:22,23,34	73:20
184	767,765	768
		265

المزید راجع	٢ البقرة: ٤٣، ١١٠، ١٧٧	٤ النساء: ٧٧، ١٦٢
٥ المائدة: ٥٥	٨ الأنفال: ٣	٩ التوبة: ١٨، ٧١، ١١٢
١٣ الرعد: ٢٢	١٤ إبراهيم: ٣١	٢٢ الحج: ٣٥، ٤١، ٧٨
٢٣ المؤمنون: ١٠، ٩، ٢	٢٤ النور: ٣٧، ٥٦	٢٥ الفرقان: ٦٤
٣١ لقمان: ١٧، ٤	٣٣ الأحزاب: ٣٣	٣٥ فاطر: ١٨، ٢٩
٤٢ الشوری: ٢٨	٤٣ الزخرف: ٧٧، ٨٢	٥٨ المجادلة: ١٣
٧٠ المعارج: ٢٢، ٢٣، ٣٤	٧٣ المزمل: ٢٠، ٢٠	٩٨ البینة: ٥

٥٥:٥	١٦٢،٧٧:٤	١٧٧،١١٠،٤٣:٢
٧٦٢	٦٦١،٤٣٩	٤٧٣،١٠٠،١٥٥
٣١:١٤	٢٢:١٣	١١٢،٧١،١٨:٩
٢٥٥	٧٦٥	٤٣٧،٧٦٤،٦٢٢
٦٤:٢٥	٥٦،٣٧:٢٤	١٠،٩،٢:٢٣
٧٦٦	٢٦٥،٢٥٦	٧٦٦،٧٦٥،٢٥٥
٨٣،٧٧:٤٣	٣٨:٤٢	٢٩،١٨:٣٥
٨٤٩،٨٩٩	٤٦٥	٢٥٩،٨١٨
٥:٩٨	٢٠:٧٣	٣٤،٢٣،٢٢:٧٠
٢٦٥	٧٦٨	٧٦٥،٧٦٧
		١٨٤

KEEPING UP SALAT - A PRIMARY CONDITION FOR BECOMING BROTHERS IN FAITH

But if they repent and establish worship and pay the poor due, then they are your brethren in religion. We detail Our revelations for the people who have knowledge. (9:11)

إقامة الصلوة شرط للدخول في الإسلام

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَاكُمْ فِي الدِّينِ وَتَفَصِّلِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

پابندی نماز دین اسلام میں شمولیت کی شرط

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں (11:9)

SALAT REMAINED OBLIGATORY FOR ALL PROPHETS

For Detail Consult :

2:85	3:43	5:12
Page	593	255 1045
7:156	10:87	11:87 19:11,31,55
1051	261	1000 971,1097,1089
20:14	21:72,73	31:17 98:5
1012	973	1071 265

SALAT WAS INCUMBENT UPON ALL BYGONE NATIONS

And (remember) when We made a covenant with the Children of Israel, (saying): Worship none except Allah (only), and be good to parents and to kindred and to orphans and the needy, and speak kindly to mankind; and establish worship and pay the poor due. Then, after that, you slid back, except few of you, being averse. (2:83)

More Reference : 3:43 5:12 7:170 21:73
Page 255, 1045, 244, 636

ENJOIN SALAT ON YOUR FAMILY AND BE CONSISTENT YOURSELF

And enjoin upon your people worship, and be constant therein. We do not ask you for any provision: We provide for you. And the sequel is for righteousness. (20:132)

ESTABLISHING REGULAR SALAT SYSTEM AN OBLIGATION OF ISLAMIC STATE

Those who, if We give them power in the land, establish worship and pay the poor due and enjoin kindness and forbid inequity. ----- (22:41) PART

PREPARATION FOR OFFERING SALAT

BATHE WHOLE BODY AFTER SEMINAL EMISSION-COITION

ESSENTIALS OF WADHU (ABLUTION)

O you who believe! When you rise up for prayer, wash your face, and your hands up to the elbows, and lightly rub your heads and (wash) your feet up to the ankles. And if you are unclean, purify yourselves. ----- (5:6) PART

كانت الصلوة فرضا على جميع الأنبياء

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٨٥ ٣ آل عمران: ٤٣ ٥ المائدة: ١٢ ٧ الأعراف: ١٥٦ ١٠ يونس: ٨٧ ١١ هود: ٨٧ ١٩ مريم: ٥٥، ٣١، ١١ ٢٠ طه: ١٤ ٢١ الأنبياء: ٧٢، ٧٣ ٣١ لقمان: ١٧ ٩٨ البينة: ٥

كانت الصلوة مكتوبة على الأمم السابقة

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾
﴿٢ البقرة: ٨٣﴾

وللتفصيل راجع ٣ آل عمران: ٤٣ ٥ المائدة: ١٢ ٧ الأعراف: ١٧٠ ٢١ الأنبياء: ٧٣

أمر أهل البيت باللوة والاصطبار عليها

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّحْنٌ نَّزِقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾
﴿٢٠ طه: ١٣٢﴾

إقامة الصلوة واجب أساسي للحكومة الإسلامية

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿٢٢﴾ الْحَجَّ ٤١ ﴿جزء ٢٢﴾

الاستعداد للصلوة

الاعتسال من الجنابة

التوضؤ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴿٥﴾ الْمَائِدَةَ ٦ ﴿جزء ٥﴾

نماز تمام انبیاء کرام پر فرض کی گئی

تفصیل کیلئے دیکھیے

156:7	12:5	43:3	85:2
1051	1045	255	593
14:20	55,31,11,19	87:11	87:10
1012	971,1097,1089	1000	261
	5:98	17:31	73,72:21
	265	1071	973

پہلی قوموں کو بھی نماز کا حکم دیا گیا

اب جب ہم نے نبی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ تو چند شخصوں کے سوا تم سب (اس عہد سے) منہ پھیر بیٹھے (83:2)

مزید حوالہ : 73:21 170:7 12:5 43:3
صفحہ 636,244,1045,255

گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا اور خود بھی اسے قائم کرنا

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو ہم تم سے روزی کے طلب گار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور (نیک) انجام (پرہیز گاروں) کا ہے (132:20)

اقامت صلوة

اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ

یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس (اختیارات) دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں ----- (41:22) جزو

نماز کی تیاری

غسل جنابت

وضو

مومنو! جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو۔ اور ٹخنوں تک پاؤں (دھولیا کرو) اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو (نہا کر) پاک ہو جایا کرو۔ ----- (6:5) جزو

**TAYAMMUM (WIPING WITH CLEAN SOIL)
SUBSTITUTING BOTH WUDHU AND FULL BATH
ORDAINED IN THE YEAR 5 AH (625-AD)**

التیمم بدلا من الاغتسال کیفیتہ واحکامہ
(بالعام ۵ ہج الموافق ۶۲۵ م)

غسل کی بجائے تیمم کب اور کیسے
دوران سن 5 ہجری بمطابق سن 625 عیسوی

**APPROACH NOT SALAT WHILE
IN STATE OF INTOXICATION,
DAZE MINDED, OR IN SEXUAL IMPURITY**

النہی عن القيام إلى الصلوة في حالة
السكر والجنابة

حالت مدہوشی اور جنابت (ناپاکی)
میں نماز کی ممانعت

O you who believe! Draw not near to prayer when you are drunken, till you know that which you utter, nor when you are polluted, till you have bathed, except when you are travelling (Passing by through the mosque). And if you be ill, or on a journey, or one of you comes from the toilet or you had a contact with women, and you find not water, then go to high clean soil and rub your faces and your hands (therewith). No doubt Allah is Pardoning, Forgiving. (4:43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾
﴿٤ النساء ٤٣﴾

مومنو! جب تم نشے کی حالت میں مست ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو۔ نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے پاس نہ جاؤ) جب تک کہ غسل (نہ) کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے (مسجد سے) گذر جانے والے ہو (یا حالت سفر میں منزل طے کر رہے ہو) تو اور بات ہے۔ اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں (غسل کے لیے) پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح (تیمم کر کے نماز پڑھ لو) کر لو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا (اور) بخشنے والا ہے (43:4)

-----And if you are sick or on a journey, or one of you have just come from the toilet or you have had contact with women, and you find not water, then go to clean, high ground and rub your faces and your hands with some of it. Allah would not place a burden on you, but He would purify you and would perfect His grace upon you, that you may give thanks. (5:6) PART

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
فَمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾
﴿٥ المائدة ٦﴾ جزء

----- اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح (یعنی تیمم) کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو (6:5) جزو

**ADORN YOURSELF FOR
OFFERING SALAT IN MOSQUES**

أخذ الزينة عند كل مسجد

مساجد میں حاضری سے پہلے
زینت اختیار کرنا۔ پاک صاف لباس پہننا

O Children of Adam! Look to your adornment at every place of worship,----- (7:31) PART

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
﴿٧ الاعراف ٣١﴾ جزء

اے اولاد آدم! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنے آپ کو (صاف ستھرے لباس سے) مزین کیا کرو۔----- (31:7) جزو

**BE CLEAN BODILY
AND PURIFY YOUR INNERSELF**

التطهر

جسمانی طہارت اور دماغی و قلبی پاکیزگی کا اہتمام

-----Wherein are men who love to purify themselves. Allah loves the purifiers. (9:108) PART

فِي رِجَالٍ يُحِبُّونَ
أَنْ يُطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴿٩﴾
﴿٩ التوبة ١٠٨﴾ جزء

----- اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے (108:9) جزو

**PURIFY YOUR CLOTHING
AND SANCTIFY THE SOUL**

تطهير الثياب

لباس کی پاکیزگی ساتھ ساتھ
دل و نگاہ کی پاکیزگی

And purify your raiment (sanctify
your innerself) (74:4)

وَتِيَابِكُمْ فَطَهِّرُوهُنَّ
﴿٧٤ المدثر ٤﴾

اور اپنے کپڑوں (لباس - دل و نگاہ) کو پاک رکھو
(4:74)

**SHUN ALL ABOMINATION
AND STEER CLEAR OF FILTH**

التباعد عن نجاسة

ہر قسم کی نجاست سے دوری

And shun pollution (defilement)
(74:5)

وَالرُّجُزَ فَإِهْجُرُوهُنَّ
﴿٧٤ المدثر ٥﴾

اور ناپاکی سے دور رہو (ہر قسم کی نجاست کو ترک کر دو)
(5:74)

More Reference : 22:29 87:14
Page 293, 253

والمزيد راجع ٢٢ الحج: ٢٩ ٨٧ الأعلى: ١٤
الصفحة ٢٥٨, ٢٩٣

مزيد حوالہ 14:87 29:22
صفحة 258, 293

**PAY HEED TO ADHAN
CALL PROCLAIMED FOR CONGREGATIONAL PRAYER**

الأمر باحترام الأذان

اذان کے احترام کا حکم

And when you call to prayer they
take it for a jest and sport. That is
because they are a folk who
understand not. (5:58)

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوعًا وَوَجْهًا
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ المائدة ٥٨﴾

اور جب تم لوگ نماز کے لئے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی
ہنسی اور کھیل بناتے ہیں یہ اس لئے کہ سمجھ نہیں رکھتے
(58:5)

More Reference : 62:9 Page 256

والمزيد راجع ٦٢ الجمعة: ٩ الصفحة ٢٥٦

مزيد حوالہ 9:62 صفحه 256

**FACING TOWARDS QIBLA-(KABA AT MAKKAH)
WHILE OFFERING SALAT**

استقبال القبلة عند كل صلاة

ہر نماز کے لئے قبلہ رو ہونا

**OFFER SALAT WITH SINCERE
DEVOTION TO ALLAH (SWT)**

اقامة الصلاة خالصة
لابتغاء وجه الله

خالص اللہ کی رضا کے لئے نماز

Say: My Lord has ordered me to
play fair, keep your faces set
towards every place of worship
(prayer) and appeal to Him
sincerely, religion belongs to Him.
Even as He started you off, so will
you return. (7:29)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُوَ
كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾
﴿١٧ الاعراف ٢٩﴾

کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم
دیا ہے اور یہ کہ ہر مسجد کے وقت سیدھا۔ (قبلہ کی طرف)
رخ کیا کرو۔ اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو
اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم
پھر (دوبارہ) پیدا ہو گے (29:7)

More Reference : 2:142 to 150
Page 695, 694, 696, 181, 468, 600

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٤٢ الى ١٥٠
الصفحة ٦٠٠, ٤٦٨, ١٨١, ٦٩٦, ٦٩٤, ٦٩٥

مزيد حوالہ 150:2:142
صفحة 600, 468, 181, 696, 694, 695

**SALAT IS A TIMELY PRESCRIPTION
FOR THE BELIEVERS
27th NIGHT OF RAJAB (IN ONE YEAR BEFORE MIGRATION)**

فرضية الصلاة في المواعيد المحددة
٢٧ رجب قبل الهجرة سنة واحدة

مقررہ اوقات میں نمازوں کی ادائیگی فرض
27- رجب (ہجرت سے ایک سال پہلے)

When you have performed the act of
worship, remember Allah,
standing, sitting and reclining. And
when you are in safety, observe
proper worship. Worship at fixed
hours has been enjoined on the
believers. (4:103)

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوقُوتًا ﴿١٠٣﴾
﴿٤ النساء ١٠٣﴾

پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر
حالت میں) اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو
(اس طرح سے) نماز پڑھو (جس طرح امن کی حالت
میں پڑھتے ہو) بیشک نماز کا مومنوں پر اوقات (مقررہ)
میں ادا کرنا فرض ہے (103:4)

**KEEPING UP REGULAR SALAT
ORDAINED IN THE YEAR 2 AH**

Establish worship, pay the poor-due, and bow your heads with those who bow (in worship). (2:43)

الأمر بإقامة الصلوة جماعة
بالعام ٢ هج

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾
﴿٢ البقرة ٤٣﴾

باجامعت نماز ادا کرنے کا حکم
دوران سال 2 ہجری

اور نماز پڑھا کرو زکوٰۃ دیا کرو اور (اللہ کے آگے) جھکنے
والوں کے ساتھ جھکا کرو (43:2)

More Reference : 3:43 4:102 Page 255,648

والمزيد راجع : ٣ آل عمران ٤٣ : ٤ النساء ١٠٢ :

عزیز حوالہ 3:43 4:102 صفحہ 255,648

**MARY (PBUH) WAS ORDAINED TO ESTABLISH
REGULAR PRAYER (IQAMAT-E- SALAT)**

O Mary! Be obedient to your Lord, Prostrate yourself and bow with those who bow (in worship). (3:43)

كانت إقامة صلوة فرضاً
على مريم عليها السلام

يَمْرِيْمًا اقْنِطِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي
مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾
﴿٣ آل عمران ٤٣﴾

حضرت مریم علیہا السلام کو
باجامعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا

مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا اور سجدہ کرنا اور
رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا (43:3)

**NEITHER SHOUT IN YOUR SALAT
NOR SAY IT UNDER YOUR BREATH
(ADOPT IN MIDDLE COURSE)**

Say (to mankind): Appeal to Allah, or appeal to the Beneficent, to whichsoever you appeal (it is the same). His are the most beautiful names. And you (Muhammad), be not loud voiced in your worship nor yet silent therein, but follow a way between. (17:110)

كيفية قراءة القرآن في الصلوة
بين الجهر والخفوت

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا وَالرَّحْمٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا
فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلٰتِكُمْ
وَلَا تَخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ١١٠﴾

نماز میں قرأت: متوسط آواز میں
(نہ بہت بلند نہ بہت آہستہ)

کہہ دو کہ تم (اللہ کو) اللہ (کے نام سے) پکارو یا رحمن
(کے نام سے) جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے
ہیں۔ اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس
کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو (110:17)

BE HUMBLE IN SALAT

Who are humble in their prayers (23:2)

الخشوع في الصلوة

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ ﴿٢﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٢﴾

نماز میں عجز و انکساری

جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں (2:23)

**ESTABLISH REGULAR SALAT
FOR THE WHOLE LIFE**

Tell My bondmen who believe to establish worship and spend of that which We have given them, secretly and Publically, before the Day comes wherein there will be neither bargaining nor befriending. (14:31)

الأمر بإقامة الصلوة طيلة الحياة

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾
﴿١٤ ابراہیم ٣١﴾

زندگی بھر نماز کو قائم کرنے کا حکم

(اے پیغمبر) میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز
پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے بیشتر جس میں نہ
(اعمال کا) سودا ہوگا اور نہ دوستی (کام آئے گی) ہمارے
دیئے ہوئے مال میں سے درپردہ اور ظاہر خرچ کرتے
رہیں (31:14)

**BEING NEGLECTFUL IN SALAT
NOT APPLYING HEART AND MIND EARNESTLY**

Ah, woe to worshippers (107:4)

الصلوة بدون الخشوع

قَوْلٍ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾
﴿١٠٧ الماعون ٤﴾

خشوع و خضوع کے بغیر نماز

تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے (4:107)

Who are heedless of their prayers;
(107:5)

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾
(الماعون ۱۰۷)

جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں (5:107)

**RELUCTANCE IN SALAT
WITHOUT APPLYING HEART AND MIND
EARNESTLY**

And nothing prevents that their contributions should be accepted from them but that they have disbelieved in Allah and in His messenger, and they come not to worship except as idlers, and pay not (their contribution) but reluctantly. (9:54)

الكسل في القيام إلى الصلوة

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَالْيَاتُونَ الصَّلَاةَ
الْأَوْهَمَ كَسَالَى ۖ وَلَا يَتَفَقَّحُونَ إِلَّا وَهُمْ
كِرْهُونَ ﴿٩﴾
(التوبة ۵۴)

نماز کی مقررہ اوقات پر ادائیگی میں
تاخیر، سستی اور کاہلی

اور ان کے خرچ (اموال) کے قبول ہونے سے کوئی چیز
مانع نہیں ہوتی سوا اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس
کے رسول سے کفر کیا اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو
کر اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے (54:9)

More Reference : 4:142 Page 256

والمزید راجع ۴ النساء: ۱۴۲ الصفحة ۲۵۶

مزیں جو الہ 256 صفحہ 142:4

**STANDING UP SALAT FOR ONLY
TO BE SEEN BY OTHER PEOPLE**

The hypocrites seek to beguile Allah, but it is Allah Who beguiles them. When they stand up to worship they perform it languidly and to be seen of other people, and are mindful of Allah but little; (4:142)

Swaying between this (and that), Belonging neither to these nor to those. He whom Allah causes to go astray, you (O Muhammad) will not find a way for him: (4:143)

الرياء في الصلوة

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا
قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾
(النساء ۱۴۲)

مُذَبِّدًا بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ كَالَّذِي هُوَ إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ
هَؤُلَاءِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾
(النساء ۱۴۳)

دکھاوے کی نماز

منافق (ان چالوں سے اپنے نزدیک) اللہ کو دھوکا دیتے
ہیں۔ (یہ اس کو کیا دھوکا دیں گے) وہ انہی کو دھوکے میں
ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو
سست اور کاہل ہو کر (صرف) لوگوں کے دکھانے کو اور
اللہ کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم (4:142)

وہ درمیان میں معلق ڈمگا رہے ہیں نہ پورے ان کی
طرف (ہوتے ہیں) نہ انکی طرف۔ اور جس کو اللہ گمراہی
میں ڈال دے آپ اس کے لئے کبھی بھی راستہ نہیں
پاسکے (4:143)

**WEEKLY ASSEMBLY OF CONGREGATION
EVERY FRIDAY EARLY AFTERNOON SALAT**

O you who believe! When the call is heard for the prayer of the day of congregation, hasten earnestly to remembrance of Allah and leave your trading. That is better for you if you but know. (62:9)

أهمية صلوة الجمعة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾
(الجمعة ۶۲)

نماز جمعہ کی اہمیت

مومنو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو
اللہ کی یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور (خرید اور)
فروخت ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر
ہے (9:62)

**QUEST OF SUSTENANCE
MAY NOT DIVERT YOU FROM OFFERING
REGULAR SALAT**

Men whom neither merchandise nor sale beguiles from remembrance of Allah and constancy in prayer and paying to the poor their due; who fear the Day when hearts and eyeballs will be overturned; (24:37)

**لايكن طلب الرزق مانعاً في
إقامة الصلوة**

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۗ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾
(النور ۳۷)

**کاروبار (تلاش معاش)
اقامت صلوة میں رکاوٹ نہ بنے**

(یعنی ایسے) لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور
زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری، غافل کرتی ہے نہ
خرید و فروخت۔ وہ اس دن سے جب دل (خوف اور
گھبراہٹ کے سبب) الٹ جائیں گے اور آنکھیں
(اوپر چڑھ جائیں گی) ڈرتے ہیں (37:24)

**MAKE INTERVAL IN BUSINESS
WHEN THE CALL IS PROCLAIMED
FOR CONGREGATIONAL PRAYER**

And when the prayer is ended, then disperse in the land and seek of Allah's bounty, and remember Allah much, that you may be successful. (62:10)

But when they see some business or pastime they break away to it and leave you standing. Say: That which Allah has is better than pastime and than merchandise, and Allah is the best of providers. (62:11)

الأمر بترك البيع في وقت الصلاة

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾
﴿٦٢ الجمعة ١٠﴾

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا
وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ
اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾
﴿٦٢ الجمعة ١١﴾

اوقات نماز کیلئے کاروبار میں وقفہ کرنے کا حکم

پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ (10:62)

اور جب یہ لوگ سودا بکتایا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو (کھڑے کا) کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (11:62)

More Reference : 62:9 Page 256

وللمزيد راجع ٦٢ الجمعة: ٩ الصفحة ٢٥٦

مزید حوالہ: 9:62 صفحہ 256

**OFFERING SALAT
WHILE IN FEAR OF ENEMY**

And if you go in fear, then (pray) standing or riding. And when you are again in safety, remember Allah, as He has taught you that which (up to this time) you knew not. (2:239)

كيفية الصلاة عند الخوف

فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾
﴿٢ البقرة ٢٣٩﴾

خوف کی حالت میں نماز کی کیفیت

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار (جس حال میں ہو نماز پڑھ لو) پھر جب امن (واطمینان) ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو (239:2)

More Reference : 4:101 10:87
Page 257, 261

وللمزيد راجع ٤ النساء: ١٠١ ١٠ يونس: ٨٧
الصفحة ٢٦١, ٢٥٧

مزید حوالہ: 101:4 87:10
صفحہ 261, 257

OFFERING OF SALAT IN BATTLEFIELD

More Reference : 4:102 Page 648
Under heading "Procedure for keeping up salat in the battlefield"

أداء الصلاة في ساحة الحرب

وللمزيد راجع ٤ النساء: ١٠٢ الصفحة ٦٤٨
العنوان "كيفية الصلاة في ساحة الحرب"

ميدان جنگ میں نماز

مزید حوالہ: 102:4 صفحہ 648
زیر عنوان میدان جنگ میں نماز کا طریقہ

**PERMISSION TO SHORTEN PRAYERS
ORDAINED IN THE YEAR 4 AH (626-AD)**

And when you go forth in the land, it is no sin for you to curtail (your) worship if you fear that those who disbelieve may attack you. In truth the disbelievers are an open enemy to you. (4:101)

**اجازة القصر في الصلاة
بالعام ٤ هج الموافق ٦٢٦ء**

وَإِذَا خَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا
لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾
﴿٤ النساء ١٠١﴾

**نماز قصر کرنے کی اجازت
دوران سال 4 ہجری بمطابق سن 626 عیسوی**

اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو۔ بشرطیکہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو تکلیف دیں گے۔ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں (101:4)

More Reference : 73:20 Page 768

وللمزيد راجع ٧٣ المزمّل: ٢٠ الصفحة ٧٦٨

مزید حوالہ 20:73 صفحہ 768

SEEK ALLAH'S (SWT) FAVOUR IN DISTRESS THROUGH SALAT

الاستعانة بالصلاة عند الشدائد

رنج و تکلیف میں نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو

KEEPING UP "SALAT" A CURE TO PSYCHOLOGICAL DISTURBANCE STRESS - TENSION AND DEPRESSION

اقامة الصلاة - علاج الجزع والخوف والقلق

نماز کی باقاعدگی گھبراہٹ خوف اور پریشانی کا علاج

Seek help in patience and prayer; and truly it is hard but for the humble-minded, (2:45)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾
﴿٢ البقرة ٤٥﴾

اور (رنج و تکلیف میں) صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر (گراں نہیں) جو عجز کرنے والے ہیں (2:45)

O you who believe! Seek help in steadfastness and prayer. Surely Allah is with the steadfast. (2:153)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾
﴿٢ البقرة ١٥٣﴾

اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (2:153)

More Reference : 2:277 22:35
Page 258, 765

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٧٧ ٢٢ الحج: ٢٥
الصفحة ٢٥٨, ٧٦٥

مزيد حوالہ 2:277 22:35
صفحہ 258, 765

REWARD OF ESTABLISHING REGULAR SALAT

جزاء إقامة الصلاة

پابندی نماز کا اجر

Indeed those who believe and do good works and establish worship and pay the poor due, their reward is with their Lord and there shall no fear come upon them neither shall they grieve. (2:277)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾
﴿٢ البقرة ٢٧٧﴾

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور (قیامت کے دن) ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے (2:277)

O, you who believe! Bow down and prostrate yourselves, and worship your Lord, and do good, that haply you may prosper. (22:77)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾
﴿٢٢ الحج ٧٧﴾

مومنو! رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ (77:22)

Those who establish worship and pay the poor due and have sure faith in the Hereafter. (31:4) (27:3)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾
﴿٣١ لقمان ٤﴾ ﴿٢٧ النمل ٣﴾

جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں (31:4) (27:3)

Such have guidance from their Lord. Such are the successful. (31:5)

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾
﴿٣١ لقمان ٥﴾

یہی اپنے پروردگار (کی طرف) سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں (31:5)

He is successful who purifies himself (87:14)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾
﴿٨٧ الاعلیٰ ١٤﴾

بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا (87:14)

And remembers the name of his Lord, and prays (will prosper). (87:15)

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾
﴿٨٧ الاعلیٰ ١٥﴾

اور جس نے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر جاری رکھا اور نماز پڑھا (87:15)

More Reference : 2:3,4,5 4:162 6:72
Page 275,764 439 250
2:3,4 23:9,10 24:56 27:23
275 765,766 265 1076

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٥,٤,٣ ٤ النساء: ١٦٢
٦ الأنعام: ٧٢ ٨ الأنفال: ٤٠,٣ ٢٣ المؤمنون: ١٠٠,٩
٢٤ النور: ٥٦ ٢٧ النمل: ٢٣

مزيد حوالہ 2:3,4,5 4:162 6:72
صفحہ 275 764,275 439 250
23:27 56:24 10,9:23
1076 265 766,765

**ESTABLISHING REGULAR SALAT
A SURE GAIN TRADE**

Those who read the Scripture of Allah, and establish worship, and spend of that which We have bestowed on them secretly and openly, they look forward to imperishable gain, (35:29)

إقامة الصلوة تجارة لن تبور

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾
﴿٣٥ فاطر ٢٩﴾

نماز کی پابندی ایسی تجارت
جس میں کبھی خسارہ نہیں

جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت (کے فائدے) کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی (29:35)

**SALAT RESTRAINS FROM SHAMEFUL
AND EVIL DEEDS**

Recite that which has been inspired in you of the Scripture, and establish worship. No doubt worship restrains from lewdness and iniquity, and remembrance of Allah is more important. And Allah knows what you do. (29:45)

إن الصلوة تنهى عن
الفحشاء والمنكر

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٤٥﴾

بے شک نماز بے حیائی اور
بڑی باتوں سے روکتی ہے

(اے محمد!) یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کریں اور نماز کے پابند رہیں۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بڑی باتوں سے روکتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر بڑا (اچھا کام ہے) اور آپ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے (45:29)

More Reference : 2:277 Page 258

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٧٧ الصفحة ٢٥٨

مزيد حوالہ 277:2 صفحہ 258

NEGLECTING SALAT IS AN ACT OF IDOLATERS

Turning to Him (only); and be careful of your duty to Him, and establish worship, and be not of those who ascribe partners (to Him); (30:31)

ترك الصلوة علامة للشرك

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾
﴿٣٠ الروم ٣١﴾

ترک نماز - علامت شرک

(مومنو) اسی (اللہ) کی طرف رجوع کئے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز ادا کرتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا (31:30)

**NEGLECTER OF SALAT SHALL FACE
DESTRUCTION**

Now there have succeeded them a later generation who have ruined worship and have followed lusts. But they will meet deception. (19:59)

إضاعة الصلوة مهلكة

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاةً ﴿٥٩﴾
﴿١٩ مريم ٥٩﴾

نماز کا ضائع کرنا موجب بربادی

پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو (چھوڑ دیا۔ گویا اسے) کھو دیا۔ اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے۔ سو عنقریب ان کو گمراہی (کی سزا) ملے گی (59:19)

ULTIMATE FATE OF NEGLECTERS OF SALAT

In gardens they will ask one another (74:40)

عاقبة تارك الصلوة

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٠﴾

تارك صلوة کا انجام

(کہ) وہ باغ ہائے بہشت میں (ہوں گے اور) پوچھتے ہوں گے (40:74)

Concerning the guilty: (74:41)

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾
﴿٧٤ المدثر ٤١﴾

(یعنی آگ میں جلنے والے) گناہ گاروں سے (41:74)

What has brought you to this burning? (74:42)

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٢﴾

کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ (42:74)

They will answer: We were not of those who prayed (74:43)

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلِّينَ ﴿٧٤﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٣﴾

وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
(43:74)

More Reference : 107:5 Page 256

وللمزيد راجع ١٠٧ الماعون: ٥ الصفحة ٢٥٦

مزید حوالہ 5:107 صفحہ 256

**TWO EID PRAYERS
EID-ULFITER AND EID-ULZUHA**

**صلوة العیدین
عید الفطر وعید الاضحی**

**نماز عیدین
عید الفطر، عید الاضحی**

And (He desires) that you should complete the period, and that you should magnify Allah for having guided you, and that perchance you may be thankful. (2:185) PART

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢﴾
﴿٢ البقرة ١٨٥﴾ جزء

..... کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کی بزرگی بیان کرو اور اس کا شکر کرو (185:2) جزو

So pray to your lord, and sacrifice. (108:2)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرُسْ ﴿٢﴾
﴿٢ الكوثر ٢﴾

تو اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو (2:108)

**FUNERAL PRAYER TO SEEK MERCY
FOR THE DECEASED BEFORE THE BODY
IS CONSIGNED TO THE GRAVE**

صلوة الجنائزہ

نماز جنازہ - دعا مغفرت

And never (O Muhammad) pray for one of them who dies, (Showing hostility to faith And remained unrepent) nor stand by his grave. They disbelieved in Allah and His messenger, and they died while they were evil doers. (9:84)

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٩﴾
﴿٩ التوبة ٨٤﴾

اور (اے پیغمبر) ان میں سے کوئی مر جائے (جن کا خاتمہ کفر و فسق پر ہوا ہو) تو کبھی آپ اس کی نماز (جنازہ) نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر (جا کر) کھڑے ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان (ہی مرے) (84:9)

**OPTIONAL PRAYERS (TAHAJJUD)
AFTER MIDNIGHT AND DURING THE
SMALL WATCHES OF MORNING**

صلوة التهجد (عبادة نافلة)

نماز تہجد (شب بیداری - نقلی عبادت)

And some part of the night awake for additional prayer. It may be that your Lord will raise you to a station of Praise and Glory. (17:79)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾
﴿٧٩ بنی اسرائیل ٧٩﴾

رات کے کچھ حصہ میں بیدار ہوا کریں (تہجد کی نماز پڑھا کریں) یہ شب بیداری کی زیادتی آپ کے لئے ہے قریب ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود میں داخل کرے (79:17)

Who sees you whenever you stand up alone (to pray) (26:218)

الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢١٨﴾

تو آپ جب (تہجد کے وقت) اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ دیکھتا رہتا ہے (218:26)

And (sees) you abasement among those who fall prostrate (in worship). (26:219)

وَتَقَلِّبُكَ فِي السَّجِدِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢١٩﴾

اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے گھومنے پھرنے کو بھی (219:26)

No doubt He, only He, is the Hearer, the Knower. (26:220)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٢٠﴾

بے شک وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے (220:26)

Is he who pays adoration in the watches of the night, prostrate and standing, bawaring of the Hereafter and hoping for the mercy of his Lord, (to be accounted equal with a disbeliever)? Say (to them, O Muhammad): Are those who know equal with those who know not? But only men of understanding will pay heed. (39:9)

أَمْ مَنْ هُوَ قَائِمٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٩﴾

(بھلا مشرک اچھا ہے) یا وہ رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتے بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ (اور) نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقلمند ہیں (9:39)

O you wrapped up in your raiment!
(73:1)

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ ﴿١﴾
﴿٧٣ المزمل ١﴾

اے (محمدؐ) جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہو (1:73)

Keep vigil the night long, but a little-- (73:2)

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾
﴿٧٣ المزمل ٢﴾

رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات (2:73)

A half thereof, or abate a little thereof (73:3)

نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾
﴿٧٣ المزمل ٣﴾

یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم (3:73)

For We shall charge you with a weighty statement. (73:5)

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾
﴿٧٣ المزمل ٥﴾

ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے (5:73)

Indeed the vigil of the night is (a time) when impression is more keen and speech more certain. (73:6)

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾
﴿٧٣ المزمل ٦﴾

کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا دل جمعی کے لئے بہت مناسب ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے (6:73)

Indeed you have by day a chain of business. (73:7)

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ﴿٧﴾
﴿٧٣ المزمل ٧﴾

دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے کام ہوتے ہیں (7:73)

So remember the name of your Lord and devote yourself with a complete devotion-- (73:8)

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾
﴿٧٣ المزمل ٨﴾

تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ (8:73)

Remember the name of your Lord at morn and evening. (76:25)

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾
﴿٧٦ الدهر ٢٥﴾

اور صبح شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو (25:76)

And worship Him (a portion) of the night. And glorify Him through the livelong night. (76:26)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾
﴿٧٦ الدهر ٢٦﴾

اور رات کے وقت اس کے آگے سجدے کرو اور بہت رات تک اس کی پاکی بیان کرتے رہو (26:76)

More Reference : 3:17 7:170 25:46 32:16 73:20 Page 764, 244, 334, 767, 768

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٧ ٧ الأعراف: ١٧٠ ٢٥ الفرقان: ٤٦ ٣٢ السجدة: ١٦ ٧٣ المزمل: ٢٠

مزيد حوالہ 3:17 7:170 25:46 32:16 73:20 صفحہ 768, 767, 334, 244, 764

PRAYER FOR PLENTIOUS RAIN DURING DROUGHT

صلوة الاستسقاء

نماز استسقاء

And I have said: Seek pardon of your Lord He has been ever Forgiving. (71:10)

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾
﴿٧١ نوح ١٠﴾

اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے (10:71)

He will let loose the sky for you in plenteous rain, (71:11)

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ قِدْرَارًا ﴿١١﴾
﴿٧١ نوح ١١﴾

وہ تم پر آسمان سے مینہ برسائے گا (11:71)

More Reference : 11:52 42:28 Page 933,345

والمزيد راجع ١١ هود: ٥٢ ٤٢ الشورى: ٢٨

مزيد حوالہ 11:52 42:28 صفحہ 933,345

INSTRUCTIONS TO SETUP PRAYER PLACES WITHIN THE HOUSES BEING SOJOURNERS OR IN CASE OF EMERGENCY

أمرؤ أن يجعلوا بيوتهم مساجد موقتاً في الظروف الطوارية

ہنگامی صورتحال اور مذہبی آزادی سلب ہونے پر (غرض ہر حال میں) نماز کی ادائیگی اور پابندی کا حکم

And We inspired Moses and his brother, (saying): Provide dwellings for your people in Egypt and make your houses oratories, (Places of worship) and establish regular worship. And give good news to the believers. (10:87)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوِّءُوا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾
﴿١٠ يونس ٨٧﴾

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لئے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ (یعنی مسجدیں) ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوش خبری سناؤ (87:10)

AL-SAUM (FASTING)

الصِّيَامُ

روزہ

AL-SAUM (FASTING)
OBLIGATORY TO EVERY MUSLIM
PRESCRIBED IN THE YEAR 2 AH

الصيام فرض علی کل مسلم
العام ۲ هج

روزہ ہر مسلمان پر فرض
سال 2 ہجری

O you who believe! Fasting is prescribed for you, even as it was prescribed for those before you, that you may ward off (evil); (2:183)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾

مومنو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بنو (183:2)

-----And whosoever of you is present, let him fast the month, -----
(2:185) PART

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
﴿۲﴾ البقرة ۱۸۵ جزء

-----تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے (185:2)-----

SANCTITY OF FASTING MONTH
OF RAMADHAN

شہر رمضان و فضیلتہ

ماہ رمضان اور اس کی فضیلت

The month of Ramadhan in which the Qur'an, was revealed a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance, and the Criterion (of right and wrong).-----
(2:185) PART

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
﴿۲﴾ البقرة ۱۸۵ جزء

(روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے) جس میں قرآن (اول اول) نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور (جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو (حق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا ہے۔-----
(185:2) جزو

TIMINGS OF OBSERVING FASTING (SAUM)
REFRAINING FROM EATING OR DRINKING SINCE
EARLY DAWN TILL SUN SET

مواقیت السحور و الإفطار

روزہ کے اوقات سحر و افطار

-----And eat and drink until the white thread becomes distinct to you from the black thread of the dawn. Then strictly observe the fast till nightfall -----
(2:187) PART

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
﴿۲﴾ البقرة ۱۸۷ جزء

-----اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری (رات کی) سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ (رکھ کر) رات تک پورا کرو (187:2)-----

PROVISION FOR PUTTING OFF SAUM IF ILL OR ON
A JOURNEY AND THEN OBSERVING SAUM FOR AS
MANY OTHER DAYS AS MISSED

تأجيل صوم المريض والمسافر

مريض اور مسافر کو روزے کے
قضاء کی اجازت

(Fast) a certain number of days; and (for) you who is sick among, or on a journey, (should choose) a same number of other days,-----
(2:184) PART

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
﴿۲﴾ البقرة ۱۸۴ جزء

(روزوں کے دن) گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے۔-----
(184:2) جزو

-----And whosoever of you is sick or on a journey, (let him fast the same) number of other days. Allah desires for you ease; He desires not hardship for you; and (He desires) that you should complete the period, and that you should magnify Allah for having guided you, and that peradventure you may be thankful. (2:185) PART

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲﴾ البقرة ۱۸۵ جزء

-----اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں (رکھ کر) ان کا شمار پورا کر لے اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے۔ اور سختی نہیں چاہتا۔ اور (یہ آسانی کا حکم) اس لئے (دیا گیا ہے) کہ تم روزوں کا شمار پورا کرو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو (185:2) جزو

RANSOM OF SAUM FOR THOSE WHO FACE HARDSHIP WHILE OBSERVING, AGED PEOPLE OR PERSONS SPECIALLY CIRCUMSTANCED

-----And for those who can afford it there is a ransom: The feeding of a man in need. But whoso does good of his own accord, it is better for him: And that you fast is better for you if you did but know-----
(2:184) PART

الفدية بدلاً من الصيام
للشيوخ الضعفاء

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامِ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾
﴿٢ البقرة ١٨٤﴾ جزو

ضعیف اور معذور جائز عذروالوں کیلئے
روزے کے بدلے فدیہ کی اجازت

----- اور جو لوگ اس کی طاقت رکھیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے
(184:2) جزو

FASTING WAS ALSO OBLIGATORY TO PREVIOUS NATIONS

O you who believe! Fasting is prescribed for you, even as it was prescribed for those before you, that you may ward off (evil); (2:183)

كان الصيام مكتوباً على
الأمم السابقة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾
﴿٢ البقرة ١٨٣﴾

پہلی اقوام پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا
(پہلی شریعتوں میں بھی حکم دیا گیا)

مومنو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزارگار بنو
(183:2)

For Detail Consult : 19:10,26 Page 1088,1096

والتفصیل راجع ۱۹ مريم: ۲۶، ۱۰۸۸، ۱۰۹۶،

تفصیل کیلئے دیکھئے 26,10:19 صفحہ 1088, 1096

GLAD TIDINGS PROCLAIMED FOR FAST OBSERVER

(Triumphant) are those who turn repentant (to Allah), those who serve (Him), those who praise (Him), those who fast, those who bow down, those who fall prostrate (in worship), those who enjoin the right and who forbid the wrong and those who keep the limits (ordained) of Allah And give glad tidings to believers!. (9:112)

بشرى للصائم

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ الْمَالَ ذَرًّا وَبِهِمْ كِبَارُ الْوَجْهِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالَّذِينَ يَأْتُوا الصَّلَاةَ إِحْسَانًا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْوِجْدَانَ حِمْلًا وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْبُخْرَىٰ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفْئِدَتُكَ يَا رَبَّنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالَّذِينَ يَأْتُوا الصَّلَاةَ إِحْسَانًا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْوِجْدَانَ حِمْلًا وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْبُخْرَىٰ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفْئِدَتُكَ يَا رَبَّنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿١١٢﴾
﴿٩ التوبة ١١٢﴾

روزہ دار کے لئے خوش خبری

توبہ کرنے والے۔ عبادت کرنے والے۔ حمد کرنے والے۔ روزہ رکھنے والے۔ رکوع کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے۔ نیک کاموں کا حکم دینے والے۔ بری باتوں سے منع کرنے والے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ (یہی مومن لوگ ہیں) اور اے پیغمبر مومنوں کو (بہشت کی) خوشخبری سنا دیں
(112:9)

For Detail Consult : 33:35 Page 547

والتفصیل راجع ۳۳ الأحزاب: ۳۵، الصفحہ ۵۴۷

تفصیل کیلئے دیکھئے 35:33 صفحہ 547

PERMITTED TO APPROACH TO YOUR SPOUSES DURING THE NIGHTS OF FAST BETWEEN SUN SET TO DAWN AFTER BREAKING FAST TILL NEXT COMMENCEMENT

It is made lawful for you to go to your wives on the night of the fast. They are raiment for you and you are raiment for them. Allah is aware that you were deceiving yourselves in this respect and He has turned in mercy towards you and relieved you. So hold intercourse with them and seek that which Allah has ordained for you -----
(2:187) PART

جواز الرفث إلى النساء
ليلة الصيام

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿١٨٧﴾
﴿٢ البقرة ١٨٧﴾ جزو

ماہ رمضان کی راتوں میں
بیویوں کے پاس جانے کی اجازت

روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم (ان کے پاس جانے سے) اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب (تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو چیز تمہارے لئے لکھی ہے (یعنی اولاد) اس کو (اللہ سے) طلب کرو۔
(187:2) جزو

**REGULATIONS REGARDING "ITIKAF"
SECLUSION IN MOSQUES
FOR PRAYERS AND INVOCATION**

-----And touch them not, but be at your devotions in the mosques. These are the limits imposed by Allah, so approach them not. Thus Allah expounds His revelations to mankind that they may ward off (evil). (2:187) PART

أحكام الاعتكاف و مسائله

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

﴿٢ البقرة ١٨٧﴾ جزء

اعتكاف کے احکام و مسائل

----- اور جب مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں (2:187) جزو

**AL-SAUM FOR EXPIATION AND AMENDS
TO REMOVE THE STRAIN OF SIN**

-----The exoneraton for it is the feeding of ten of the needy with the average of that wherewith you feed your own families, or the clothing of them, or the liberation of a slave, and for him who finds not (the resources to do so) then should fast for three days. This is the penance of your oaths when you have sworn;--- (5:89) PART

الصوم كفاره و فدية للذنوب

فَكَفَّارَةٌ لِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿٥ المائدة ٨٩﴾ جزء

روزہ بطور غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ و فدیہ

----- تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ تین روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ (اور اسے توڑ بیٹھو)۔ (5:89) جزو

More Reference : 2:196 4:58,92 5:95
Page 100, 492, 507, 289

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٩٦، ٤ النساء: ٥٨، ٩٢، ٥ المائدة: ٩٥، الصفحة ١٠٠، ٤٩٢، ٥٠٧، ٢٨٩

مزید حوالہ 2:196 4:58,92 5:95
صفحہ 100, 492, 507, 289

**NIGHT OF POWER DURING RAMADHAN
(A TRANSCEND TIME)**

Ah, what will convey to you what the Night of Power is! (97:2)

The Night of Power is better than a thousand months. (97:3)

The angels and the Spirit descend therein, by the permission of their Lord, with all decrees. (97:4)

(That night is) Peace until the rising of the dawn. (97:5)

ليلة القدر

وَمَا آدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿١﴾
﴿٩٧ القدر ٢﴾

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾
﴿٩٧ القدر ٣﴾

تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾
﴿٩٧ القدر ٤﴾

سَلَامٌ شَهْرٍ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾
﴿٩٧ القدر ٥﴾

ماہ صیام کی بابرکت رات (شب قدر)

اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ (2:97)

شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے (3:97)

اس میں روح (الامین) اور فرشتے ہر کام کے (انتظام کے) لئے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں (4:97)

یہ رات طلوع صبح تک (امان اور) سلامتی ہے (5:97)

ZAKAT - POOR DUE - OBLIGATORY CHARITY
WELFARE TAX - MANDATORY ALMS

الزكوة

زكوة

PAYMENT OF ZAKAT IS OBLIGATORY
ORDAINED IN THE YEAR 9 - AH

Establish worship, pay the poor due, and bow your heads with those who bow (in worship). (2:43)

Establish worship and pay the poor due and obey the messenger that haply you may find mercy. (24:56)

And they are ordered nothing else than to serve Allah, keeping religion pure for Him, as men by nature upright, and to establish worship and to pay the poor due. That is true religion. (98:5)

فرضية ايتاء الزكوة
بالعام ۹ هج

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّاكِعِينَ ﴿١٦﴾
﴿٢ البقرة ٤٣﴾

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٢٤ النور ٥٦﴾

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الْدِينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾
﴿٩٨ البينة ٥﴾

زكوة کی ادائیگی فرض
دوران سال 9ھ

اور نماز پڑھا کرو اور زکوة دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو (2:43)

اور نماز پڑھتے رہو اور زکوة دیتے رہو اور پیغمبر (اللہ) کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے (56:24)

اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں (اور یکسو ہو کر) اور نماز پڑھیں اور زکوة دیں اور یہی سچا دین ہے (5:98)

More Reference :

2:3,177,254	3:17,134
Page 275,473,269	764,275
4:39,77,162	5:55 7:156 9:5,18,71
267,661,439	762 1051 719,622,764
13:20 14:31 22:78 23:4 57:7,18	
468 255 92/250 266 275,278	
58:13 73:20	
184 768	

والمزید راجع

١٢٤:١٧	٣ آل عمران	٢٥٤:١٧٧:٣	٢ البقرة
١٥٦:	٧ الأعراف	٥٥:	٥ المائدة
٣١:	١٤ إبراهيم	١٣ الرعد	٢٠: ١٤
١٨٧:	٥٧ الحديد	٢٣ المؤمنون	٤: ٥٧
		٧٣ المنزل	٢٠:

مزید حوالہ

134,17:3	254,177,3:2
275,764	269,473,275
71,18,5:9	156:7 55:5 162,77,39:4
764,622,719	1051 762 439,661,267
18,7:57 4:23 78:22 31:14 20:13	
278,275 266 250/92 255 468	
	20:73 13:58
	768 184

GLAD TIDINGS FOR ZAKAT PAYERS

Indeed! Those who believe and do good works and establish worship and pay the poor due, their reward is with their Lord and there shall no fear come upon them neither shall they grieve. (2:277)

A guidance and good tidings for believers (27:2)

Who establish worship and pay the poor due and are sure of the Hereafter. (27:3)(31:4)

Such have guidance from their Lord. Such are the successful. (31:5)

بشرى لفا على الزكوة

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتَمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾
﴿٢ البقرة ٢٧٧﴾

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٧﴾
﴿٢٧٧ النمل ٢﴾

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٢٧٧﴾
﴿٢٧٧ النمل ٣﴾ ﴿٣١ لقمان ٤﴾

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ ﴿٥﴾
﴿٣١ لقمان ٥﴾

زكوة ادا کرنے والوں کے لئے خوش خبری

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز پڑھتے اور زکوة دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور (قیامت) کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے (277:2)

مومنوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری ہے (2:27)

وہ جو نماز پڑھتے اور زکوة دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں (27:3)(31:4)

یہی اپنے پروردگار (کی طرف) سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں (31:5)

More Reference :

8:3,4	34:39 35:30
Page 275, 277, 268	

والمزید راجع

٣٩:	٢٤ سباء	٤٠:٣	٨ الأنفال
٢٦٨,	٢٧٧,	٢٧٥	٣٥ فاطر

مزید حوالہ

30:35	39:34 4,3:8
268, 277, 275	صفحة

**GIVING ZAKAT
A PRIMARY CONDITION FOR JOINING
AS BRETHERN IN FAITH**

But if they repent and establish worship and pay the poor due, then they are your brethren in religion. We detail Our revelations for the people who have knowledge. (9:11)

إيتاء الزکوة شرط للدخول
فی الإسلام

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾
﴿٩ التوبة ١١﴾

دین اسلام میں شمولیت کی شرط
ادائیگی زکوٰۃ

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کے لئے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں (9:11)

More Reference : 98:5 Page 265

وللمزيد راجع 98 البينة: 5 الصفحة 265

مزيد حوالہ 98:5 صفحہ 265

**GIVING POOR DUE (ZAKAT)
A SURE SUCCESS FOR BELIEVERS**

Successful indeed are the believers (23:1)

And who are payers of the poor due; (23:4)

إيتاء الزکوة تؤدي إلى الفلاح
وهي علامة المؤمن

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٤﴾

ادائیگی زکوٰۃ: باعث فلاح اور نشان مومن

بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی (1:23)

اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں (4:23)

**ZAKAT COVERS MULTITUDE OF SINS
AS AN EXPIATION AND AMENDS
TO REMOVE THE STRAIN OF SIN**

For Detail Consult : 2:271 Page 279

إيتاء الزکوة كفارة للذنوب

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٧١ الصفحة ٢٧٩

ادائیگی زکوٰۃ۔ گناہوں کا کفارہ

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:271 صفحہ 279

**GIVING ZAKAT
A SOURCE OF CONSOLATION OF HEART**

For Detail Consult : 9:60 Page 272

إيتاء الزکوة وسيلة لتأليف القلوب

وللتفصيل راجع ٩ التوبة: ٦٠ الصفحة ٢٧٢

ادائیگی زکوٰۃ۔ ذریعہ تالیف قلب

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:60 صفحہ 272

**PAYING ZAKAT
SANCTIFIES YOUR SOUL**

Take alms of their wealth, wherewith you may purify them and may make them sanctify, and pray for them. Indeed! Your prayer is an assuagement for them. Allah is the Hearer, Knower. (9:103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾
﴿٩ التوبة ١٠٣﴾

ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لیں اس سے آپ ان کو (ظاہر میں بھی) پاک اور (باطن میں بھی) پاکیزہ کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائے خیر طلب کریں کہ آپ کی دعا ان کیلئے موجب تسکین ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے (103:9)

More Reference : 29:18 to 21
Page 949, 779, 122

وللمزيد راجع ٢٩ العنكبوت: ١٨ الى ٢١
الصفحة ١٢٢, ٧٧٩, ٩٤٩

مزيد حوالہ 29:18:21
صفحہ 122, 779, 949

**GIVING ZAKAT
PURIFIES YOUR WEALTH**

إيتاء الزکوة موجب للتطهير والتزكية
للمال والرزق

زکوٰۃ۔ باعث تطہیر مال و رزق

**GIVING ZAKAT - A MEANS
TO SEEK THE COUNTENANCE OF ALLAH (SWT)**

Who gives his wealth that he may grow (in goodness), (92:18)

إيتاء الزکوة تؤدي إلى ابتغاء
مرضات الله

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾
﴿٩٢ الليل ١٨﴾

ادائیگی زکوٰۃ:
اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ
جو پاک ہونے کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے (18:92)

And none has with him any favour for reward, (92:19)

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿٩٢﴾
﴿٩٢ اللیل ۱۹﴾

اور (اس لئے) نہیں (دیتا کہ) اس پر کسی کا احسان (ہے) جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے (19:92)

Except as seeking (to fulfill) the purpose of his Lord Most High. (92:20)

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٩٢﴾
﴿٩٢ اللیل ۲۰﴾

بلکہ اپنے اللہ بزرگ و برتر کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے دیتا ہے (20:92)

He will be content (meet approval). (92:21)

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٩٢﴾
﴿٩٢ اللیل ۲۱﴾

اور عنقریب خوش ہو جائے گا (21:92)

More Reference : 2:215,272 4:114
Page 282, 276, 269

والمزيد راجع ۲ البقرة: ۲۱۵، ۲۷۲ ۴ النساء: ۱۱۴
الصفحة ۲۸۲، ۲۷۶، ۲۶۹

مزيد حوالہ 2:215,272 4:114
صفحہ 269, 276, 282

**PAYMENT OF ZAKAT
A SOURCE OF PROXIMITY TO ALLAH(SWT)**

But some of the desert Arabs who believe in Allah and the Last Day, and take that which they spend and also the prayers of the messenger as acceptable offerings in the sight of Allah. Surely! It is an acceptable offering for them. Allah will admit them into His mercy. Indeed! Allah is the Forgiving, the Merciful. (9:99)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيَخْتَدُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا لِلَّهِ
وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ إِلَّا أَنهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ
سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾
﴿٩٩ التوبة ۹۹﴾

إيتاء الزكوة تؤدي إلى قربة الله

ادائیگی زکوٰۃ: قربت الہی کا راستہ

اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں کہ اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لئے (موجب) قربت ہے اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے (99:9)

**MANIFOLD REWARD ASSURED BY ALLAH(SWT)
FOR THE PAYMENT OF ZAKAT**

What have they (to fear) if they believe in Allah and the Last Day and spend (aright) of that which Allah has bestowed upon them, when Allah is ever Aware of them (what all they do)? (4:39)

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ النساء ۳۹﴾

أجر إيتاء الزكوة عند الله مضاعف

اللہ تعالیٰ کے ہاں ادائیگی زکوٰۃ کا اجر دو چند ہے

اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روزِ قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے (39:4)

Surely! Allah wrongs not even of the weight of an ant; and if there is a good deed, He will double it and will give (the doer) from His presence in immense reward. (4:40)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكَ
حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٤٠﴾
﴿٤٠ النساء ۴۰﴾

اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا اور اگر نیکی (کی) ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا۔ اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا (40:4)

More Reference : 2:245 35:29,30 64:17
73:20 Page 268, 276, 768

والمزيد راجع ۲ البقرة: ۲۴۵، ۳۵ فاطر: ۲۹، ۳۰ ۶۴ النور: ۱۷، ۷۳ الذمّل: ۲۰
۶۴ النعابین: ۱۷

مزيد حوالہ 2:245 35:29,30 64:17
20:73 صفحہ 768, 276, 268

GIVING ZAKAT - WILL CAUSE MANIFOLD INCREASE IN SUBSISTENCE AND WEALTH

That which you give in usury in order that it may increase on (other) people's property has no increase with Allah; but that which you give in charity, seeking Allah's countenance has increase manifold. (30:39)

More Reference : 2:261,265,272 4:39,40 34:39 35:29,30 Page 274,276,267,618,268

GIVING ZAKAT A COMMERCE, WHICH NEVER FAILS

Surely! Those who read the Scripture of Allah, and establish worship, and spend of that which We have bestowed on them secretly and openly, they look forward to imperishable gain, (35:29)

That He will pay them their wages and increase them of His grace. Indeed! He is the Forgiving, the Responsive. (35:30)

GIVING ZAKAT- A BEAUTIFUL LOAN TO ALLAH(SWT) WHICH WILL BE RECOMPENED MANIFOLD

Who is it that will lend to Allah a goodly Loan, so that He may give it increase manifold? Allah straitens and enlarges. To Him you will return. (2:245)

More Reference : 57:11,18 64:11 Page 277, 278, 158

PAYMENT OF ZAKAT WAS MADE INCUMBENT UPON PREVIOUS NATIONS AND ALSO ORDAINED IN OLD SCRIPTURES

And (remember) when We made a covenant with the Children of Israel, saying: Worship none save Allah (only), and be good to parents and to kindred and to orphans and the needy, and speak kindly to mankind; and establish worship and pay the poor due. Then, after that, you slid back, save a few of you, being averse. (2:83)

More Reference : 2:83 5:12 7:156 19:31,35 21:72,73 98:5 Page 251, 1045, 1051, 1097, 973, 265

إيتاء الزكوة موجبة للنمو والازدياد في الرزق

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٠﴾
﴿٣٠﴾ الروم ٣٩

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٦١، ٢٦٥، ٢٧٢، ٤ النساء: ٣٩، ٣٤ سبأ: ٣٩، ٣٥ فاطر: ٢٩، ٣٠

إيتاء الزكوة تجارة رابحة دائما

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾
﴿٢٩﴾ فاطر ٢٩

لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾
﴿٣٠﴾ فاطر ٣٠

إيتاء الزكوة قرض على الله

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾
﴿٢٤٥﴾ البقرة ٢٤٥

والمزيد راجع ٥٧ الحديد: ١١، ١٨، ٦٤ التغابن: ١١، الصفحة ٢٧٧، ٢٧٨، ١٥٨

إيتاء الزكوة كان واجبا على الأمم السابقة

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ... وَالْيَتَامَى وَالسَّكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا... وَالْأَقْلِيَّةِ لَكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾
﴿٨٣﴾ البقرة ٨٣

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٨٣، ٥ المائدة: ١٢، ١٧ الأعراف: ١٥٦، ١٩ مريم: ٣١، ٣٥، ٢١ الأنبياء: ٧٣، ٩٨ البينة: ٥

ادائیگی زکوة باعث افزائش مال ورزق

اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور جو تم زکوة دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو (وہ) موجب برکت ہے اور ایسے ہی لوگ (اپنے مال کو) دو چند نہ چند کرنے والے ہیں (39:30)

مزيد حوالہ 2:261,265,272 4:39,40 34:39 35:29,30 Page 274,276,267,618,268

ادائیگی زکوة: کبھی تباہ نہ ہونے والی تجارت

جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت (کے فائدے) کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی (29:35)

کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا۔ وہ تو بخشنے والا (اور) قدر دان ہے (30:35)

زکوة ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے

کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسد دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا۔ اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور (وہی اسے) کشادہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے (245:2)

مزيد حوالہ 11:64 18,11:57 158, 278, 277

زکوة کی ادائیگی پہلی قوموں پر بھی فرض کی گئی (پہلی شریعتوں میں حکم دیا گیا)

اب جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوة دیتے رہنا۔ تو چند شخصوں کے سوا تم سب (اس عہد سے) منہ پھیر کر بیٹھ گئے (83:2)

مزيد حوالہ 83:2 12:5 156:7 55,31:19 73,72:21 5:98 Page 265, 973, 1097, 1051 1045, 251

**ADMINISTERING ZAKAT SYSTEM
AN OBLIGATION OF ISLAMIC STATE**

Those who, if We give them power in the land, establish worship and pay the poor due and enjoin kindness and forbid iniquity.-----
(22:41) PART

**تنفيذ نظام الزكاة واجب أساسي
للحكومة الإسلامية**

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ
﴿٢٢ الحج ٤١﴾ جزء

**نفاذ نظام زکوة
اسلامی حکومت کا بنیادی فرض**

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس (اختیارات) دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔-----
(41:22) جزو

**EXHORTING FOR GIVING ZAKAT
IS ALSO AN ACT OF VAST REWARD**

There is no good in much of their secret conferences save (in) him who enjoins alms giving and kindness and peace making among the people. Whoso does that, seeking the good pleasure of Allah; We shall bestow on him a vast reward. (4:114)

الأمر بالصدقة حسنة

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُودِهِمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤﴾
﴿٤ النساء ١١٤﴾

ادائیگی زکوٰۃ کا مشورہ دینا بھی ثواب

ان لوگوں کے بہت سے مشورے اچھے نہیں ہاں (اس شخص کا مشورہ اچھا ہو سکتا ہے) جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں کو صلح کرنے کو کہے۔ اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے گا تو ہم اس کو ثواب دیں گے (114:4)۔

EXPEDITE PAYMENT OF ZAKAT

O you who believe! Spend of that wherewith We have provided you before the Day comes when there will be no trafficking, nor friendship, nor intercession. The disbelievers, they are the wrongdoers. (2:254)

التعجيل في ايتاء الزكاة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَكُمُ يَوْمَ لَابِئِئِهِ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ
وَ الْكُفْرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾
﴿٢ البقرة ٢٥٤﴾

زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرنا

اے ایمان والو جو (مال) ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہو۔ اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے۔ اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں (254:2)

Tell My bondmen who believe to establish worship and spend of that which We have given them, secretly and openly, before the Day comes wherein there will be neither trafficking nor befriending. (14:31)

قُلْ لِّعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَكُمُ يَوْمَ لَابِئِئِهِ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ﴿٣١﴾
﴿١٤ ابراهيم ٣١﴾

(اے پیغمبر) میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہوگا اور نہ دوستی (کام آئے گی) ہمارے دیئے ہوئے مال سے درپردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں (31:14)

More Reference : 63:10,11 Page 276, 772

وللمزيد راجع ٦٣ المنافقون : ١١، ١٠ : الصفحة ٢٧٦، ٧٧٢

مزید حوالہ 63:10,11 صفحہ 276, 772

**QUEST OF SUSTENANCE MAY
NOT DISTRACT YOU FROM GIVING ZAKAT**

Men whom neither merchandise nor sale beguiles from remembrance of Allah and constancy in prayer and paying to the poor their due; who fear the Day when hearts and eyeballs will be overturned; (24:37)

**لايكن طلب الرزق مانعاً
في ايتاء الزكاة**

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾
﴿٢٤ النور ٣٧﴾

**معاشی مصروفیات ادائیگی زکوٰۃ میں
رکاوٹ نہ بنیں**

(یعنی ایسے) لوگ جن کو اللہ کا ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت۔ اور اس دن سے جب دل (خوف اور گھبراہٹ کے سبب) الٹ جائیں گے آنکھیں (اوپر چڑھ جائیں گی) ڈرتے ہیں (37:24)

GIVING ZAKAT OBLIGATORY FOR WOMEN TOO

Be regular in prayer, and pay the poor due, and obey Allah and His messenger. Allah's wish is but to remove uncleanness far from you, O Folk of the Household, and cleanse you with a thorough cleansing. (33:33) PART

NON PAYMENT OF ZAKAT IS A PRACTICE OF IDOLATERS

Who give not the poor due, and who are disbelievers in the Hereafter. (41:7)

الزكاة واجبة على النساء ايضاً

وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٣٣﴾ جزء ١

عدم ايتاء الزكاة. علامة للشرك

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾
﴿٤١ خم السجدة ٧﴾

خواتین بھی زکوٰۃ ادا کریں

اور نماز پڑھتی رہو۔ اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو۔ اے (پیغمبر کے) اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی (کا میل کچیل) دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے (33:33) جزو

ترک ادائیگی زکوٰۃ۔ علامت شرک

جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں (7:41)

More Reference : 2:195 9:33,35,75,76,77 Page 278, 96, 270, 285, 286

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٩٥: ٩ التوبة: ٣٣، ٣٥، ٧٥، ٧٦، ٧٧ الصفحة ٢٧٨، ٩٦، ٢٧٠، ٢٨٥، ٢٨٦

مزید حوالہ 2:195 9:33,35,75,76,77 286, 285, 270, 96, 278

LAME EXCUSE OF DISBELIEVERS TO AVOID PAYMENT OF ZAKAT

And when it is said to them: Spend of that wherewith Allah has provided you. Those who disbelieve say to those who believe: Shall we feed those whom Allah, if He willed, would feed? You are in nothing else than error manifest. (36:47)

الاعتذار عن ايتاء الزكاة عادة الكفار

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

زکوٰۃ کی ادائیگی سے بہانے بنانا کافروں کا شیوہ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تم کھلی گمراہی میں ہو (47:36)

More Reference : 9:75,76,77 Page 285,286

وللمزيد راجع ٩ التوبة: ٧٥، ٧٦، ٧٧ الصفحة ٢٨٥، ٢٨٦

مزید حوالہ 9:75,76,77 286,285

ULTIMATE FATE OF PEOPLE WHO AVOID TO PAY ZAKAT

O you, who believe! Many of the Jewish) rabbis and the (Christian) monks devour the wealth of mankind wantonly and debar (men) from the way of Allah. They who hoard up gold and silver and spend not in the way of Allah, to them will be the tidings (O Muhammad) of a painful doom. (9:34)

عاقبة عدم ايتاء الزكاة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

زکوٰۃ کی ادائیگی کے منکرین کا انجام

اے ایمان والو۔ یہود و نصاریٰ کے علماء و عابد لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے (9:34)

On the Day when it will (all) be heated in the fire of hell. And their foreheads and their flanks and their backs will be branded there with (and it will be said to them): Here is that which you hoarded for yourselves. Now taste of that you used to hoard. (9:35)

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ كَلَّا تَزُونَ ﴿٣٥﴾

جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو (9:35)

More Reference : 2:195 Page 467

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٩٥: الصفحة ٤٦٧

مزید حوالہ 2:195 467

**GIVING ZAKAT OUT OF
TAINTED PROPERTY OR GAIN IS UNLAWFUL**

O you who believe! Spend of the good things which you have earned, and of that which We bring forth from the earth for you, and seek not the bad (with intent) to spend thereof (in charity) when you would not take it for yourselves except with disdain; and know that Allah is the Absolute, the Owner of Praise. (2:267)

الكسب الحلال الطيب شرط لاداء الزكاة
ولا يجوز اداؤه من الكسب الحرام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَنِّي خَبِيرٌ ﴿٢٦٧﴾
البقرة ٢٦٧

زکوٰۃ کے لئے حلال اور پاکیزہ کمائی شرط
رزق حرام سے ادائیگی زکوٰۃ ناجائز

مومنو جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ اللہ میں خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو سوائے اس کے کہ (لیتے وقت) آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے (2:267)

More Reference : 9:54 Page 256

والمزید راجع ٩ التوبة: ٥٤ الصفحة ٢٥٦

مزید حوالہ 54:9 صفحہ 256

BENEFICIARIES OF ZAKAT

**مصالح الزکوٰۃ
المستحقون من الزکوٰۃ**

زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین

**INDIGENT RELATIVES
ORPHANS - POOR - WHO BEG
WAYFARER - STRANGER - PAUPERS-NEEDY
PERSONS WITHOUT SUPPORT OR HELP**

المستحقون من الیتیمی
المساکین ابن السبیل. السائل

مستحق - یتیم - مساکین - محتاج
مسافر - اجنبی - سائل - فقیر - مفلس

**TO GIVE OR BUY FREEDOM
SETTING FREE SLAVES
REDEEMING PERSONS IN BONDAGE
LIBERTY FOR CAPTIVES OF WAR- PRISONERS**

فی الرقاب

آزادی دینا یا خریدنا (دلانا)
غلام - جنگی قیدی اور جیل کے قیدی
آزاد (رہا) کرانے کے لئے واجبات کی ادائیگی

Virtue does not mean (It is not righteousness) that you turn your faces to the East and the West; but righteous is he who believes in Allah and the Last Day and the Angels and the Scripture and the Prophets; and gives his wealth, and no matter how he loves it, to kinsfolk and to orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask, and to set slaves free; -----
-----Such are they who are sincere. Such are the God fearing. (2:177) PART

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ
..... وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
..... وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾
البقرة ١٧٧ جزء ١

(ساری اچھائی) نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب (کو قبلہ سمجھ کر ان) کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور فرشتوں پر اور (اللہ کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں (خرچ کریں)۔
----- یہی لوگ ہیں جو (ایمان میں) سچے ہیں اور یہی ہیں جو (اللہ سے) ڈرنے والے ہیں (2:177) جزو

(It is) to free a slave, (90:13)

فَكَ رِقَبَةٍ ﴿١٣﴾
﴿٩٠ البلد﴾

کسی کی گردن کا چھڑانا (13:90)

More Reference : 2:215,273 4:8 9:60 16:90
Page 282,272 510 272 459
17:26,28 24:22 30:38 70:24,26
459,281 459 459 272,767

والمزید راجع ٢ البقرة: ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧ النساء: ٤ النساء: ٢٨، ٢٩، ٣٠ التوبة: ١٠، ١١، ١٢ النحل: ٩٠، ٩١ الإسراء: ١٧ (سراسر نیل) ٢٨، ٢٩، ٣٠ النور: ٢٢، ٢٣، ٢٤ الروم: ٣٨، ٣٩ الماعز: ٢٤، ٢٥

مزید حوالہ 2:215,273 4:8 9:60 16:90
صفحہ 282,272 510 272 459
28,26:17 22:24 38:30 70:24,26
281,459 459 459 272,767

THOSE EMPLOYED
TO ADMINISTER ZAKAT

والعاملين على الزكوة

کارکنان زکوٰۃ کے لئے

WHOSE HEARTS HAVE BEEN RECENTLY
RECONCILED TO THE FAITH (ISLAM)

المؤلفة قلوبهم

نومسلموں کی دل جوئی کے لئے

TO HELP INDEBTED ONES
(THOSE WHO OWE DEBT)

للغارمين

قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے

The alms are only for the poor and the needy, and those who collect them, and those whose hearts are to be reconciled, and to free the captives and the debtors, and for the cause of Allah, and (for) the wayfarers; a duty imposed by Allah. Allah is the Knower, the Wise. (9:60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَبْدَانِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿٩﴾
التوبة ٦٠

صدقات (یعنی زکوٰۃ و خیرات) تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں جن کی تالیف قلوب (دل جوئی) منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں (کے قرض ادا کرنے میں) اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے یہ حقوق) اللہ کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (60:9)

THE PEOPLE WHO ARE IN REAL NEED,
BUT THEY NEVER ASK OR BEG
SHOULD BE KNOWN AND HELPED

معرفة الفقراء المتعفين
والإنفاق عليهم

ضرورت مندوں اور قناعت کرنے والوں
کی پہچان کرنا اور ان کی مدد کرنا

UNLUCKY PERSONS-WHO HAVE LOST THEIR
PROPERTY AND WEALTH OR DEPRIVED OFF
OR WHOSE MEANS OF LIVING HAVE BEEN STRAINED

المحروم

سفید پوش (جو اصرار نہیں کرتے)

HELPING THE PEOPLE WHO ARE ENGAGED
WHOLE TIME FOR THE CAUSE OF ALLAH (SWT)
AND CANNOT MANAGE THEIR LIVELIHOOD

للذين أحصروا في سبيل الله

ایسے لوگوں کی امداد جنہوں نے تلاش معاش
کی بجائے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ
اور انسانیت کے لئے وقف کر دی ہیں

(Alms are) for the poor who are straitened for the cause of Allah, who cannot travel in the land (for trade). The unthinking man accounts them wealthy because of their restraint. You shall know them by their mark: They do not beg of men with importunity. And whatsoever good thing you spend, surely Allah knows it. (2:273)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَأَنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾
البقرة ٢٧٣

صدقات کے مستحق صرف وہ غریبا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے نادان لوگ ان کی بے سوالی (نہ مانگنے) کی وجہ سے انہیں مالدار (امیر) خیال کرتے ہیں آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے (اندازہ لگا کر) انہیں پہچان لیں گے۔ وہ تو لوگوں سے چٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے (273:2)

And in whose wealth there is a right
acknowledged (70:24)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾
المعارج ٢٤

اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے (24:70)

for the beggar and the destitute;
(70:25)

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾
المعارج ٢٥

(یعنی) مانگنے والوں کا۔ اور نہ مانگنے (سوال سے بچنے)
والوں کا (25:70)

REFUGEES- IMMIGRANTS

المهاجرون في سبيل الله

اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے (مہاجرین)

ANSAR
THE HELPERS OF IMMIGRANTS

الأنصار

انصار

Those who entered the city and the faith before them love these who flee to them for refuge, and find in their breasts no need for that which has been given them, but prefer (the fugitives) above themselves though poverty becomes their lot. And whoso is saved from his own avarice such are they who are successful. (59:9)

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾
﴿٥٩ الحشر ٩﴾

اور (ان لوگوں کے لئے بھی) جو مہاجرین سے پہلے (ہجرت کے) گھر (یعنی مدینے) میں مقیم اور ایمان میں (مستقل) رہے (اور) جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش (اور تنگی) نہیں پاتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں خواہ ان کو خود سخت ضرورت ہی ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں (9:59)

ENACTMENT OF ZAKAT(CHARITY)
WAS SUBJECTED TO OBLOQUY
AND SLANDER BY THE HYPOCRITES

لمز المنافقين في تقسيم الصدقات

احکامات تقسیم زکوٰۃ کے نزول پر منافقین کی الزام تراشیاں

For Detail Consult: 9:58,59 Page 721

وللتفصيل راجع ٩ التوبة: ٥٩، ٥٨ الصفحة ٧٢١

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:58,59 صفحہ 721

MOCKERY OF JEWS ON PROMULGATION
OF (ZAKAT) POOR DUE

استهزاء اليهود
على طلب الله القرض

حکم زکوٰۃ پر استهزاء قوم بنی اسرائیل (یہود) کا فعل

Allah heard the saying of those who said, (when asked for contributions to the war): "Allah, forsooth, is poor, and we are rich!" We shall record their saying with their slaying of the Prophets wrongfully and We shall say: Taste you the punishment of burning! (3:181)

لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾
﴿٣ آل عمران ١٨١﴾

اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی (قلم بند کر رکھیں گے) اور (قیامت کے روز) کہیں گے کہ عذاب (بڑھتی ہوئی آگ) کے مزے چکھتے رہو (181:3)

More Reference : 36:47 Page 270

وللمزيد راجع ٣٦ يس: ٤٧ الصفحة ٢٧٠

مزید حوالہ 47:36 صفحہ 270

USH'R

**PAYING OF TITHES ON HARVEST
(OBLIGATORY WELFARE TAX
ON AGRICULTURE PROCEEDS)**

العشر
الانعام لیس سبیل اللہ
من السورح عند الحصاد

عشر
عشر من الثمرات من الارض
(سورح انعام ۱۱۰)

O you who believe! Spend of the good things which you have earned, and of that which We bring forth from the earth for you, and seek not the bad (with intent) to spend thereof (in charity) when you would not take it for yourselves save with disdain; and know that Allah is Absolute, Owner of Praise. (2:267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾
البقرة ۲۶۷

اے مومنو! جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کما تے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے (راہ اللہ میں) خرچ کرو۔ اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرنا کہ (اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو) سوائے اس کے کہ (لینے وقت) آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو۔ اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ (اور) خوبیوں والا ہے (267:2)

-----Eat you of the fruit thereof when it fruits, and pay the due thereof upon the harvest day. -----(6:141) PART

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿١٤١﴾
الانعام ۱۴۱ جزء

----- جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن (پھل توڑو اور کھیتی) کا ٹوالہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو۔ ----- (141:6)

More Reference : 4:39 14:31 68:28 to 33
Page 267, 255, 1109

واللغزیر راجع ۴ النساء: ۳۹ ۱۴ ابراہیم: ۳۱
۶۸ القلم: ۲۸ الی ۳۳ الصفحة ۲۶۷، ۲۵۵، ۱۱۰۹

۳۳: 28: 68 31:14 39:4
صفحة 1109, 255, 267

**PAYING USH'R (TITHES ON HARVEST)
BRINGS GOOD FORTUNE**

فضل العشر: از دیاد الرزق

فضیلت عشر: ذریعہ افزائش رزق

The likeness of those who spend their wealth in Allah's way is as the likeness of a grain which grows seven ears, in every ear a hundred grains. Allah gives increase manifold to whom He wills. Allah is All Embracing, All Knowing. (2:261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعُّ لِمَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾
البقرة ۲۶۱

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے (مال) کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک میں سو سودانے ہوں۔ اور اللہ جس کے (مال) کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے (261:2)

And the likeness of those who spend their wealth in search of Allah's pleasure, and for the strengthening of their souls, is as the likeness of a garden on a height. The rainstorm smites it and it brings forth its fruit wofold. And if the rainstorm smites it not, then the shower. Allah is the Observer of what you do. (2:265)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكْلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾
البقرة ۲۶۵

اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو (جب) اس پر بینہ پڑے تو دگنا پھل لائے اور اگر بینہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے (265:2)

**HOLDING BACK TO PAY USH'R
MAY INVITE RUIN**

الإهمال في إيتاء العشر والإنكارك
يودى إى الدمار

اداىگی عشر میں غفلت و انکار۔ باعث تباہی

**PAYING OF TITHES ON HARVEST
WAS ALSO OBLIGATORY
ON THE BYGONE NATIONS**

كان العشر مكتوباً على الأمم السابقة

عشر کی اداىگی پہلی اقوام پر بھی فرض کی گئی تھی

For Detail Consult : 68:17 to 33 Page 1108,1109
Chapter "Test of the Prople of Garden"
Page 1108

وللتفصیل راجع ۶۸ القلم: ۱۷ الی ۲۳ الصفحة ۱۱۰۸، ۱۱۰۹
باب ابتلاء أصحاب الجنة الصفحة ۱۱۰۸

تفصیل کیلئے دیکھیے 33: 17: 68 صفحه 1108, 1109
زیر باب "باغ والوں کی آزمائش" صفحه 1108

خیرات (بخاری)

الإنفاق في سبيل الله
السخاء الجود

VOLUNTARY ALMS
BENEVOLENCE - GENEROSITY

**SPEND, IN THE WAY OF ALLAH (SWT)
OUT OF THE BESTOWED BOUNTIES
(ORDAINED IN THE YEAR 2 -AH)**

Who believe in the Unseen, and establish worship, and spend of that which We have bestowed upon them; (2:3)

These depend on guidance from their Lord. These are the successful. (2:5)

Those who spend (of that which Allah has given them) in ease and in adversity, those who control their wrath and are forgiving towards mankind; Allah loves the good; (3:134)

Who establish worship and spend of that which We have bestowed on them. (8:3)

Those are they who are in truth believers. For them are grades (of honour) with their Lord, and pardon, and a bountiful provision. (8:4)

Believe in Allah and His messenger, and spend of that whereof He has made you trustees; and such of you as believe and spend (aright), theirs will be a great reward. (57:7)

الأمر بالإنفاق في سبيل الله
بالعام ٢ هج

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾
﴿٢ البقرة ٣﴾

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾
﴿٢ البقرة ٥﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ
وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾
﴿٣ آل عمران ١٣٤﴾

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾
﴿٨ الانفال ٣﴾

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ
عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾
﴿٨ الانفال ٤﴾

إِنِّي بَالِغٌ إِلَيْكُمْ رَسُولٌ وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْفِينَ
فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾
﴿٥٧ الحديد ٧﴾

اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کا حکم
سال 2ھ

جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (3:2)

یہی لوگ اپنے پروردگار (کی طرف) سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں (5:2)

جو آسودگی اور تنگی میں (اپنا مال اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (134:3)

(اور) وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں (3:8)

یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لئے پروردگار کے ہاں (بڑے بڑے) درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے (4:8)

(تو) اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس (مال) میں اس نے تم کو (اپنا) نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور (مال) خرچ کرتے رہے ان کے لئے بڑا ثواب ہے (7:57)

More Reference : 2:196 9:34,35,104 22:11
Page 100/288 270, 185 297
28:54 33:35 58:12,13 64:16
299 547 184 278

والمزید راجع ٢ البقرة: ١٩٦ ٩ التوبة: ٣٥، ٣٤، ٣٥
٢٢ الحج: ١١ ٢٨ القصص: ٥٤ ٣٣ الأحزاب: ٣٥
٥٨ المجادلة: ١٢، ١٣ ٦٤ التغابن: ١٦

مزیں حوالہ 11:22 104,35,34:9 196:2
صفحہ 297 185,270 288/100
16:64 13,12:58 35:33 54:28
278 184 547 299

**RUSH-FOR SPENDING IN THE CAUSE OF
ALLAH (SWT) OUT OF HIS BOUNTIES**

And spend of that wherewith We have provided you before death comes to one of you and he says: My Lord! If only You would

التعجيل في الإنفاق في سبيل الله

وَأَنفِقُوا مِن تَمَارِكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرو

اور جو (مال) ہم نے تم کو دیا اس میں سے اس (وقت) سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے تو (اس وقت) کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے

reprieve me for a little while, then I would give alms and be among the righteous. (63:10)

إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا (10:63)

﴿٦٣ المنفقون ١٠﴾

More Reference : 2:196,254,263,264,270
Page 100/288, 269, 446,280,285
2:271,273 4:114 9:60,75,76,79,103,104
279,272 269 272,285,281,266,316
14:31 23:61 57:10 58:12,13
255 468 717 184

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٧٠، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٤، ١٩٦:٢
١٠٤:١٠٣، ٧٩، ٧٦، ٧٥، ٦٠: ٩ التوبة: ١١٤: ٤ النساء: ٢٧٣، ٢٧١:
١٤ ابراهيم: ٣١: ٢٣ المؤمنون: ٦١: ٥٧ الحديد: ١٠:
٥٨ المجادلة: ١٢: ١٣

المزيد راجع 2:196,254,263,264,270
272,279,285,280,446,269,288/100
61:23 31:14 104,103,79,76,75,60:9 114:4
468 255 316,266,281,285,272 269
13,12:58 10:57
184 717

ANY ALM (MANDATORY OR VOLUNTARY) IS LAWFUL IF ASCRIBED TO ALLAH (SWT) ONLY

And they assign a portion of that which We have given them to what they know not. By Allah! But you will indeed be asked concerning (all) that you used to invent. (16:56)

لا يجوز الإنفاق إلا باسم الله

خیرات صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر جائز ہے

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ
تَاللَّهِ لَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾
﴿١٦ النحل ٥٦﴾

اور ہمارے دیئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں (کافرو) اللہ کی قسم کہ جو تم بہتان باندھتے ہو اس کی تم سے ضرور پریش ہوگی
(56:16)

More Reference : 6:136 9:104
Page 284, 285

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ١٣٦: ٩ التوبة: ١٠٤: الصفا ٢٨٥، ٢٨٤

المزيد راجع 104:9 136:6
285, 284

CHARITY- A WAY OF SEEKING FORGIVENESS OF SINS AND MISDEEDS

الإنفاق كفارة للذنوب

خیرات - گناہوں کی بخشش کا ذریعہ

CHARITY- A SOURCE OF SEEKING ALLAH'S (SWT) APPROVAL

الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى مرضات الله

خیرات - ذریعہ خوشنودی اللہ تعالیٰ

The guiding of them is not your duty (O Muhammad), but Allah guides whom He wills. And whatsoever good thing you spend, it is for yourselves, when you spend not in search of Allah's countenance; and whatsoever good thing you spend, it will be repaid to you in full, and you will not be wronged. (2:272)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾
﴿٢ البقرة ٢٧٢﴾

(اے محمد ﷺ) آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور (مومنو!) تم جو مال خرچ کرو گے اسکا فائدہ تم ہی کو ہے اور جو تم خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لئے کرو گے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا۔ اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا
(272:2)

If you lend to Allah a goodly loan, He will double it for you and will forgive you, for Allah is the responsive, the Clement. (64:17)

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾
﴿٦٤ التغابن ١٧﴾

اگر تم اللہ کو (اخلاص اور نیت) نیک (سے) قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دوگنا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ قدر شناس اور بردبار ہے (17:64)

More Reference : 2:265 92:18 to 21
Page 274, 266, 267

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٦٥: ٩٢ الليل: ١٨: الی ٢١
الصفحة ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٧٤

المزيد راجع 2:265 92:18 to 21
267, 266, 274

EXHORTING FOR CHARITY A WAY TO EARN ALLAH'S (SWT) PLEASURE AND VAST REWARD

الترغيب إلى الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى مرضات الله

خیرات کی ترغیب دینا ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ

There is no good in much of their secret conferences except (in) him who enjoins alms giving and kindness and peace making among people. Whoso does that, seeking the good pleasure of Allah; He shall bestow on him a vast reward. (4:114)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُؤَالِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾
﴿٤ النساء ١١٤﴾

ان لوگوں کے بہت سے مشورے اچھے نہیں ہاں (اس شخص کا مشورہ ہو سکتا ہے) جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں کو صلح کرنے کو کہے۔ اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے گا تو ہم اس کو ثواب دیں گے۔ (114:4)

**CHARITY - VOUCHSAFES
SUSTENANCE IN ABUNDANCE**

Say: "My Lord extends sustenance to anyone He wishes among His servants and He budgets it out. He will compensate you for anything you have spent since He is the best Provider. (34:39)

الإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبَبٌ لِّازْدِيَادِ الرِّزْقِ

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٩﴾

خیرات ذریعہ افزائش رزق

کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراغ کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا) تنگ کر دیتا ہے اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا (تمہیں) پورا پورا بدلہ دے گا۔ وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (39:34)

More Reference : 2:245,261,265,272 4:39,40 35:29,30 Page 268, 274, 276, 267, 268

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٤٥، ٢٦١، ٢٦٥، ٢٧٢ ٤ النساء: ٤٠، ٣٩ ٣٥ فاطر: ٣٠، ٢٩ الصفحة ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٦٨

مزید حوالہ 40,39:4 272,265,261,245:2 30,29:35 صفحہ 268, 267, 276, 274, 268

**CHARITY BRINGS AUSPICIOUSNESS
FROM ALLAH(SWT)**

Who is there that will offer to Allah a goodly loan, so that He may give it increase manifold? Allah straitens and enlarges. To Him you will return. (2:245)

الإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يورث البركة في الرزق

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

خیرات باعث برکت رزق

کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسد دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا۔ اور اللہ روزی کو تنگ کرتا ہے اور (وہی اسے) کشادہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے (2:245)

More Reference : 2:276 35:29,30 Page 489, 268

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٧٦ ٣٥ فاطر: ٣٠، ٢٩ الصفحة ٢٦٨، ٤٨٩

مزید حوالہ 30,29:35 276:2 صفحہ 268, 489

**SPENDING IN THE WAY OF ALLAH(SWT)
IS AN IMPERISHABLE GAIN**

Those who read the Scripture of Allah, and establish worship, and spend of that which We have bestowed on them secretly and openly, they look forward to imperishable gain, (35:29)

الإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
تجارة رابحة إلى الأبد

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٥﴾

خیرات دائمی کامیاب تجارت

جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت (کے فائدے) کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی (29:35)

MANIFOLD REWARD ASSURED BY ALLAH(SWT)

إِضْعَافُ الْأَجْرِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

اللہ کی طرف سے خیرات کا دو چندان

CHARITY-A BEAUTIFUL LOAN TO ALLAH(SWT)

Who is the one that will advance Allah a goodly loan, that He may increase it manifold to his credit, and he may be rich rewarded? (57:11)

الإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَرْضٌ حَسَنٌ عَلَى اللَّهِ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَّا أَجْرُكُمْ ﴿١١﴾ ﴿٥٧﴾

خیرات۔ اللہ کو قرض حسد

کون ہے جو اللہ کو (نیت) نیک (اور خلوص سے) قرض دے پھر اللہ اسے اُسکے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے (11:57)

Those who give alms, both men and women, and lend to Allah a goodly loan, it will be doubled for them, and theirs will be a rich reward. (57:18)

إِنَّ الْمُسْتَضِيقِينَ وَالْمُضْذِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٧﴾ الحديد ١٨

جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو (نیت) نیک (اور خلوص سے) قرض دیتے ہیں ان کو دوگنا ادا کیا جائے گا اور ان کے لئے عزت کا صلہ ہے (18:57)

More Reference : 2:245,274 4:39,40 35:29,30 64:17 73:20 Page 268, 279, 267, 268, 276, 768

والمزید راجع ٢ البقرة: ٢٤٥، ٢٤٥: ٢٧٤، ٤ النساء: ٣٩، ٣٥ فاطر: ٢٩، ٣٠، ٦٤ التغابن: ١٧، ٧٣ المزمّل: ٢٠ الصفحة ٢٦٨، ٢٧٦، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٧٩، ٢٦٨

مزیّد حوالہ 30,29:35 40,39:4 274,245:2 20:73 17:64 صفحه 768, 276, 268, 267, 279, 268

RELUCTANCE IN SPENDING IN THE WAY OF ALLAH (SWT)

الاعتذار الزائف من الإنفاق في سبيل الله

اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے لئے حیلے اور بہانے ڈھونڈنا

And when it is told to them: Spend of that which Allah has provided you. Those who disbelieve say to the believers, Shall we feed those whom Allah, if He so wishes, would feed? You are in nothing else than error manifest. (36:47)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ أُمِنُوا أَنْطَعُم مِّنْ لَّدُنَّا اللَّهُ أَطَعَمَهُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٦﴾ يٰسِينَ ٤٧

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تم تو کھلی گمراہی میں ہو (47:36)

REFRAINING TO SPEND WEALTH IN THE WAY OF ALLAH (SWT) IS JUST EXPOSING YOURSELF TO RUIN

عدم الإنفاق في سبيل الله طريق الانتحار

خیرات سے گریز۔ ہلاکت

Spend your wealth for the cause of Allah, and be not cast by your own hands to ruin; and do good. - (2:195) PART

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ﴿٢﴾ البقرة ١٩٥ جزء

اور اللہ کی راہ میں (مال) خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو۔ ----- (195:2) جزو

More Reference : 9:34,35,75,76,77 Page 270, 285, 286

والمزید راجع ٩ التوبة: ٣٤، ٣٥، ٧٥، ٧٦، ٧٧ الصفحة ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٧٠

مزیّد حوالہ 77,76,75,35,34:9 286, 285, 270 صفحه

ESCHEWING IN SPENDING WEALTH FOR THE CAUSE OF ALLAH (SWT)

البخل في الإنفاق في سبيل الله

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے احتراز

Did you (O Muhammad) observe him who turned away, (53:33)

أَقْرَبَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿٥٣﴾ النجم ٣٣

بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا (33:53)

And gave a little, then was grudging? (53:34)

وَأَعْطَى قَلِيلًا أَوَّكْدَى ﴿٥٣﴾ النجم ٣٤

اور تھوڑا سا (پھر) ہاتھ روک لیا (34:53)

As he such knowledge of the Unseen so that he can (actually) see? (53:35)

أَعْنَدَهُ عِلْمَ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٥٣﴾ النجم ٣٥

کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ (35:53)

Keep your duty to Allah as best you can, and listen, and obey, and spend; that is better for your souls. And whoso is saved from his own heed, such are the successful. (4:16)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَرِّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦٤﴾ التغابن ١٦

سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور (اس کے احکام کو) سنو اور (اس کے) فرمانبردار رہو اور (اس کی راہ میں) خرچ کرو (یہ) تمہارے حق میں بہتر ہے اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں (16:64)

More Reference : 3:180 4:37 9:75,76,77 37,38 Page 498, 497, 285, 286, 497

والمزید راجع ٣ آل عمران: ١٨٠، ٤ النساء: ٣٧، ٤٧ محمد: ٣٧، ٣٨، ٩ التوبة: ٧٥، ٧٦، ٧٧ الصفحة ٤٩٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٤٩٧، ٤٩٨

مزیّد حوالہ 38,37:47 37:4 180:3 77,76,75:9 497, 286, 285, 497, 498 صفحه

SPENDING FOR MATERIAL WORLD AND IGNORING THE LIFE HEREAFTER

مثل الإنفاق في الحياة الدنيا دون الآخرة

آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کی زندگی میں خرچ کی مثال

For Detail Consult : 3:117 Page 427

والتفصیل راجع ۳ آل عمران: ۱۱۷ الصفحة ۴۲۷

تفصیل کیلئے دیکھئے 117:3 صفحہ 427

WHAT AND HOW MUCH SHOULD BE SPENT IN CHARITY IN THE WAY OF ALLAH (SWT)

ما تخرج المال الذي ينفق في سبيل الله وما تفضلوا

کون سی مال اور کس قدر خیرات کیا جائے

SPENDING SOMETHING OUT OF WHICH YOU ARE FOND OF OR YOU LOVE OR YOU VALUE IT

الأمر بإنفاق المال المحبوب

پسندیدہ اور اچھی چیزوں میں سے خرچ کرنے کا حکم

You will not attain to piety until you spend of that which you love. And whatsoever you spend, Allah is Aware thereof. (3:92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾
﴿٣ آل عمران ٩٢﴾

(مومنو!) جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں (راہ اللہ میں) صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے (92:3)

AS MUCH AS YOU CAN SPARE (WHICH IS BEYOND YOUR NEEDS) SHOULD BE SPENT IN THE WAY OF ALLAH (SWT)

الإمر بإنفاق العفو

اپنی حاجت سے زائد چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کا حکم

-----And they ask you what they ought to spend. Say: That which is superfluous. Thus Allah makes plain to you (His) revelations, that haply you may reflect. (2:219) PART

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾
﴿٢ البقرة ٢١٩﴾ جزء

----- اور یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں) کونسا مال کرچ کریں کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو (219:2) جزو

SPENDING IN THE WAY OF ALLAH (SWT) (BOTH PRIVATELY AND PUBLICLY)

كيف يكون الإنفاق في سبيل الله الله سرا أم علانية؟

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز پوشیدہ یا ظاہر

PUBLICIZING ANY ACT OF CHARITY IS QUITE WORTH WHILE, BUT EVEN BETTER IF CONCEALED

الانفاق الخفى خير من الإنفاق المعلن

پوشیدہ طریقے سے خیرات کرنا ظاہر کرنے سے بہتر ہے

CHARITY- COVERS MULTITUDE OF SINS AS AN EXPIATION AND AMENDS TO REMOVE STRAIN OF MISDEED

الانفاق في سبيل الله كفارة للذنوب

خیرات۔ گناہوں کا کفارہ

If you publish your alms giving, it is well, but if you hide it and give it to the poor, it will be better for you, and will atone for some of your ill deeds. Allah is Informed of what you do. (2:271)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾
﴿٢ البقرة ٢٧١﴾

اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے اور (اس طرح دینا) تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔ اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے (271:2)

Those who spend their wealth by night and day, by secret and openly, their reward is with their Lord, and there shall no fear come upon them neither shall they grieve. (2:274)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾
﴿٢ البقرة ٢٧٤﴾

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر (راہ اللہ میں) خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے۔ اور ان کو (قیامت کے دن) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم (274:2)

More Reference : 23:60,61 Page 766

والتفصیل راجع ۲۳ المؤمنون: ۶۰، ۶۱ الصفحة ۷۷۶

مزید حوالہ 23:60,61: 776

THE PEOPLE WHO ARE IN REAL NEED, BUT THEY NEVER ASK OR BEG, SHOULD BE RECOGNIZED AND HELPED

(Alms are) for the poor who are straitened for the cause of Allah, who can not travel in the land (for trade). The unthinking man accounts them wealthy because of their restraint. You shall know them by their mark: They do not beg of men with importunity. And whatsoever good thing you spend, surely Allah knows it. (2:273)

More Reference : 2:195-271-274 70:25
Page 278, 279, 272

STANDARD SET FOR CHARITY

DO NOT FOLLOW UP ANY REFERENCE OR REMINDER OF THE GENEROSITY AND DON'T EXPECT ANY GRATITUDE

Those who spend their wealth for the cause of Allah and afterward make not reproach and injury to follow that which they have spent; their reward is with their Lord, and there shall no fear come upon them, neither shall they grieve. (2:262)

More Reference : 2:264 92:18 to 21
Page 280, 284

MAKE NOT REPROACH OR SCOLDING OF THE PEOPLE WHOM YOU HAVE HELPED

A polite conversation with forgiveness is better than act of charity followed by scolding. Allah Transcendent, Lenient.. (2:263)

HOW ACTS OF CHARITY ARE CANCELLED

you who believe! Render not vain your alms giving by reproach and injury, like him who spends his wealth only to be seen of men and believes not in Allah and the Last Day. His likeness is as the likeness of a rock whereon is dust of earth; a storm smites it, leaving it smooth and bare. They have no control of anything except of that which they have gained. Allah guides not the believing folk. (2:264)

معرفة الفقراء المتعفين واجبة قبل الإنفاق

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا لَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

والمعز يد رابع ٢ البقرة: ١٩٥، ٢٧١، ٢٧٤، ٧٠ المعارج: ٢٥
الصفحة ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٧٢

آداب الإنفاق في سبيل الله

لا تمنوا بعد الإنفاق في سبيل الله ولا تؤذوا السائل، ولا تطمعوا للانفعا منه

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

والمعز يد رابع ٢ البقرة: ٢٦٤، ٩٢ الليل: ١٨، ٢١
الصفحة ٢٨٠، ٢٨٤

الأمر بإخفاء شخص السائل و حفظ عزة نفسه

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

موجبات إبطال الصدقات

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابٌ فَتَرَكَهَ صَدًّا لَا يُقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

ضرورت مند اور قناعت کرنے والوں کی پہچان کر مدد کرو

صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے نادان لوگ ان کی بے سوالی (نہ مانگنے) کی وجہ سے انہیں مال دار خیال کرتے ہیں آپ ان کے چہرے دیکھ کر (اندازہ لگا) قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ تو لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے (273:2)

المعز يد رابع 25: 70 274, 271, 195: 2
صفحة 272, 279, 278

اللہ کی راہ میں خرچ کے اصول

خیرات دینے کے بعد احسان نہ جتاؤ اور سائل سے کسی نفع کی طمع نہ رکھو

جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کے لئے (کسی کو) تکلیف دیتے ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس (تیار) ہے اور (قیامت کے روز) نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں (262:2)

المعز يد رابع 21: 18: 92 264: 2
صفحة 284, 280

سائل کی عزت نفس کا خیال رکھو اس کی شخصیت کی پردہ پوشی کرو

جس خیرات دینے کے بعد (لینے والے کو) ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور (اس کی بے ادبی سے) درگزر کرنا بہتر ہے اور اللہ بے پروا (اور) بردبار ہے (263:2)

خیرات کی بربادی کے عوامل دکھاوے کی خیرات

مومنو! اپنے صدقات (وخیرات) احسان رکھنے اور تکلیف دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس (کے مال) کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ (اسی طرح) یہ (ریا کار) لوگ اپنے اعمال کا کچھ صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (264:2)

Would any of you like to have a garden of palm trees and vines, with rivers flowing underneath it, with all kinds of fruit for him therein; and old age has stricken him and he has feeble offspring; and a fiery whirlwind strikes it and it is (all) consumed by fire. Thus Allah makes plain His revelations to you, in order that you all may give thought. (2:266)

أَيُّوُدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ مَّخِيلٍ
وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ
ضَعْفَاءٌ فَأَصَابَهَا عِصَابٌ مِّنْ نَّارٍ فَاحْتَرَقَتْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾
(البقرة ٢٦٦)

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لئے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھا پیا آپڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو (ناگہاں) اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا گولا چلے اور وہ جل (کر راکھ کا ڈھیر ہو) جائے اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو (اور سمجھو) (266:2)

More Reference : 9:54 Page 256

وللمزيد راجع ٩ التوبة: ٥٤ الصفحة ٢٥٦

مزید حوالہ 54:9 صفحہ 256

SPEAK POLITELY TO NEEDY- DELIVER A WORD OF COURTESY TO THE PAUPER

المعاملة بالسائل بقول ميسور

سائل سے نرم رویہ

But if you turn away from them, seeking mercy from your Lord, for which you hope, then speak to them a reasonable word. (17:28)

وَأَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ أَيُّغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ
تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾
(١٧ بنی اسرائیل ٢٨)

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت (یعنی فراخ دستی) کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان (مستحقین) کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو (28:17)

DO NOT MAKE FUN OF SCANTINESS OF ALMS OR SCOFF MITE CONTRIBUTION OF THE POOR

الاستهزاء بالمنفقين المطوعين من المؤمنين ممنوع

غریب کی خیرات کا مذاق نہ اڑاؤ

Those who point at such of the believers as give the alms willingly and such as can find nothing to give but their endeavors, and deride them Allah (Himself) derides them. Theirs will be a painful doom. (9:79)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا
جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ
وَأَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾
(٩ التوبة ٧٩)

جو (ذی استطاعت) مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو (بیچارے غریب) صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے (اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں) ان پر جو (مناق) طعن کرتے اور ہنستے ہیں اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لئے تکلیف دینے والا عذاب ہے (79:9)

BEGGAR SHOULD NOT BE BRUSHED ASIDE DO NOT REPULSE WHO ASK

لا تنهروا السائل

مانگنے والے کو جھڑکی نہ دو

Therefor the beggar drive not away, (93:10)

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ ﴿١٠﴾
(٩٣ الضحیٰ ١٠)

اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا (10:93)

A FALSE CHARITY-SPENDING WEALTH TO BE SEEN OF OTHER PEOPLE

الإنفاق رثاء للناس

دکھاوے کی خیرات

And (also) those who spend their wealth in order to be seen of men, and believe neither in Allah nor the Last Day. Whoso takes Satan for a comrade, a bad comrade has he. (4:38)

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا قَرِينًا ﴿٣٨﴾
(٤ النساء ٣٨)

اور خرچ بھی کریں تو (اللہ کے لئے نہیں بلکہ) لوگوں کے دکھانے کے لئے۔ اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخرت پر (ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے) اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو (کچھ شک نہیں کہ) وہ برا ساتھی ہے (38:4)

More Reference : 2:264 Page 280

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٦٤ الصفحة ٢٨٠

مزید حوالہ 264:2 صفحہ 280

THE REAL DESERVERS OF CHARITY

مصارف الإنفاق والمستحقون للإنفاق

مصارف - خیرات - مستحقین خیرات

They ask you, (O Muhammad), what they shall spend. Say: That which you spend for good (must go) to parents and near kindred and orphans and the needy and the wayfarer. And whatsoever good you do, Surely! Allah is Aware of it. (2:215)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾
﴿٢ البقرة ٢١٥﴾

(اے محمد ﷺ) لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ (اللہ کی راہ میں) کس طرح خرچ کریں۔ کہہ دیجئے کہ (جو چاہو خرچ کرو لیکن) جو مال خرچ کرنا چاہو وہ (درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی) ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو (سب کو دو) اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے (215:2)

The alms are only for the poor and the needy, and those who are employed to collect the funds, and those whose hearts are to be reconciled, and to free the captives and the debtors, and for the cause of Allah, and (for) the wayfarers; a duty imposed by Allah. Allah is Knower, Wise. (9:60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾
﴿٩ التوبة ٦٠﴾

صدقات (یعنی زکوٰۃ و خیرات) تو مفلسوں اور محتاجوں اور مسکینوں کا حق ہے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لئے اور ان لوگوں کا جن کی دل جوئی منظور ہو اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں (کے قرض ادا کرنے میں) اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے یہ حقوق) اللہ کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (60:9)

More Reference :	4:36	17:26	22:36	24:22
Page	462	459	292	459
	30:38	51:19	59:7	70:25
	459	862	669	272

والمعزید راجع	٤ النساء: ٣٦	١٧ الإسراء (سبأ اسرائیل): ٢١
٢٢ الحج: ٣٦	٢٤ النور: ٢٢	٣٠ الروم: ٣٨
٥١ الذاریات: ١٩	٥٩ البحشر: ٧	٧٠ المعارج: ٢٥
٩٣ الضحیٰ: ١٠		

مزید حوالہ	36:4	26:17	36:22	22:24
صفحہ	462	459	292	459
	19:51	7:59	25:70	10:93
	862	669	272	281

FEEDING THE PAUPERS

إطعام المستحقين في يوم ذي مسغبة

مستحقین کو بھوک میں کھانا کھلانا

And feed with food however great be their own want of it, to the needy wretch, the orphan and the prisoner, for love of (Allah) Him, (76:8)

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾
﴿٧٦ الدهر ٨﴾

(اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی حاجت ہے) اور (اللہ کی محبت میں) فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں (8:76)

And to feed in the day of hunger (90:14)

أَوْ اطْعَمُوا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾
﴿٩٠ البلد ١٤﴾

یا بھوک کے دن کھانا کھلانا (14:90)

An orphan near of kin, (90:15)

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾
﴿٩٠ البلد ١٥﴾

یتیم رشتہ دار کو (15:90)

Or some poor wretch in misery, (90:16)

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾
﴿٩٠ البلد ١٦﴾

یا فقیر خاکسار کو (16:90)

And to be of those who believe and exhort one another to perseverance and exhort one another to pity. (90:17)

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ ﴿١٧﴾
﴿٩٠ البلد ١٧﴾

پھر ان لوگوں میں (شامل) ہو جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور (لوگوں پر) شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے (17:90)

Their place will be on the right hand. (90:18)

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾
﴿٩٠ البلد ١٨﴾

یہی لوگ خوش بخت دائیں ہاتھ والے ہیں (18:90)

<p>FOOD OF THE INDIGENTS SHALL MEET THE AVERAGE STANDARD OF YOUR NORMAL FAMILY FEED</p> <p>For Detail Consult : 5:89 Page 573</p>	<p>لیکن طعام المسکین مثل طعام مما تطعمو اہلیکم</p> <p>وللتفصیل راجع ۵ المائدة: ۸۹: الصفحة ۵۷۳</p>	<p>مساکین کو فراہم کئے جانے والے کھانے کا معیار تمہارے اپنے گھر کے کھانے کے برابر ہونا چاہئے</p> <p>تفصیل کیلئے دیکھئے 89:5 صفحہ 573</p>
<p>ENCOURAGE THE PEOPLE FOR FEEDING OF INDIGENTS</p>	<p>ترغیب الناس فی إطعام المسکین والجائع</p>	<p>مسکینوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا۔ رغبت دلانا</p>
<p>He used not to believe in Allah, the Tremendous, (69:33)</p>	<p>إِنَّكَ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٦٩﴾ الحاقہ ۳۳</p>	<p>یہ نہ تو اللہ جل شانہ پر ایمان لاتا تھا (33:69)</p>
<p>And urged not on the feeding of the wretched, (69:34)</p>	<p>وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٦٩﴾ الحاقہ ۱۳</p>	<p>اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا (34:69)</p>
<p>Therefore he has no lover (friend) here this day, (69:35)</p>	<p>فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ﴿٦٩﴾ الحاقہ ۳۵</p>	<p>سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں (35:69)</p>
<p>Nor any food save filth (69:36)</p>	<p>وَلَا طَعَامًا إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ ﴿٦٩﴾ الحاقہ ۳۶</p>	<p>اور نہ پیپ کے سوا (اس کے لئے) کھایا ہے (36:69)</p>
<p>Which none but sinners eat. (69:37)</p>	<p>لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٦٩﴾ الحاقہ ۳۷</p>	<p>جس کو گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا (37:69)</p>
<p>Have you observed him who denies the judgement (to come)? (107:1)</p>	<p>أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١٠٧﴾ الماعون ۱</p>	<p>بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو (روز) جزا کو جھٹلاتا ہے (1:107)</p>
<p>And urges not the feeding of the needy. (107:3)</p>	<p>وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٠٧﴾ الماعون ۳</p>	<p>اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لئے (لوگوں کو) ترغیب نہیں دیتا (3:107)</p>

More Reference : 90:14,15,16 Page 282 للمزيد راجع ۹۰ البلد: ۱۴، ۱۵، ۱۶: الصفحة ۲۸۲ 282 صفحہ 16,15,14: 90

<p>GENEROUS PATRON SHOULD NOT WITHDRAW SUPPORT OF DELINQUENTS, (NEAR RELATIVE PAUPER) EVEN IN PERSONAL ANGER</p> <p>For Detail Consult : 17:28 24:22 Page 281, 459</p>	<p>لا يجوز منع المعونة لذوى القربى والمساكين فى السخط</p> <p>وللتفصیل راجع ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل): ۲۸: ۲۴ النور: ۲۲: الصفحة ۲۸۱، ۴۵۹</p>	<p>حالت ناراضگی میں مستحق رشتہ داروں اور محتاجوں کی امداد بند نہ کرو</p> <p>تفصیل کیلئے دیکھئے 28:17 22:24 صفحہ 459, 281</p>
<p>GIVING PREFERENCE TO PAUPERS OVER ONESELF</p>	<p>إيثار المحتاجين على الذات</p>	<p>ضرورت مند کو اپنے آپ پر ترجیح دینا</p>
<p>And those who before them, had homes (in Madinah) and had adopted the faith show their affection to such as Came to them for refuge, and entertain no desire in their hearts for things given to the (latter)but give them preference over themselves, even though poverty was their (own lot).And those saved from the covetousness of their own souls, they are the ones that achieve prosperity. (59:9)</p>	<p>وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَهُ نَفْسِهِ فَوَالْبَآءِ يُؤْفِكُونَ ﴿٥٩﴾ الحشر ۹</p>	<p>اور (ان لوگوں کے لئے بھی) جو مہاجرین سے پہلے (ہجرت کے) گھر (یعنی مدینے) میں مقیم اور ایمان میں (مستقل) رہے (اور) جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش (اور خلش) نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں (9:59)</p>

ENACTMENT OF CHARITY - POOR DUE (WELFARE TAX) MANDATORY ALMS WERE SUBJECTED TO OBLOQUY AND SLANDER BY THE HYPOCRITES

And among them are some who defame you in the matter of the alms. If they are given part thereof they are pleased, and if they are not given part thereof, they are enraged. (9:58)

لمز المنافقین فی تقسیم الصدقات

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴿٥٨﴾
﴿٩ التوبة: ٥٨﴾

احکامات صدقات کے نزول پر منافقین کی الزام تراشیاں

اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ (تقسیم) صدقات میں تم پر طعنہ زنی (اعتراض) کرتے ہیں۔ اگر ان کو اس مال میں سے کچھ مل جائے تو خوش رہیں اور اگر کچھ نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں (58:9)

VOLUNTARY CHARITY CHARITABLE FUNDS

الصدقة

TO PURIFY THE WEALTH AND SANCTIFY THE SOUL

Take alms of their wealth, wherewith you may purify them and may make them sanctify, and pray for them. Surely your prayer is an assuagement for them. Allah is the Hearer, the Knower. (9:103)

الصدقة - تطهير للنفس والمال

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾
﴿٩ التوبة: ١٠٣﴾

صدقہ - مال کو پاک اور نفس کو پاکیزہ کرتا ہے

ان کے مال میں سے صدقہ قبول کر لیں اس سے ان کو (ظاہر میں بھی) پاک اور (باطن میں بھی) پاکیزہ کرتے رہیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب تسکین ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے (103:9)

A WAY TO EARN ALLAH'S (SWT) PLEASURE

Who gives his wealth that he may grow (in goodness), (92:18)

And none has with him any favour or reward, (92:19)

Except as seeking (to fulfill) the purpose of his Lord Most High. (92:20)

He will be content (feel satisfaction). (92:21)

الصدقة توجب مرضات الله

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾
﴿٩٢ الليل: ١٨﴾

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾
﴿٩٢ الليل: ١٩﴾

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾
﴿٩٢ الليل: ٢٠﴾

وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾
﴿٩٢ الليل: ٢١﴾

صدقہ باعث خوشنودی اللہ تعالیٰ

جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے (18:92)

اور (اس لئے) نہیں (دیتا کہ) اس پر کسی کا احسان (ہے) جس کا وہ بدلہ تارتا ہے (19:92)

بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے دیتا ہے (20:92)

اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا (21:92)

Reference : 4:114 9:99
Page 817, 267

وللمزيد راجع ٤ النساء: ١١٤ ٩ التوبة: ٩٩
الصفحة ٨١٧, ٢٦٧

مزید حوالہ 114: 4 99: 9
صفحہ 267, 817

PRONOUNCE ALLAH'S (SWT) NAME ONLY OVER CHARITY DO NOT ATTRIBUTE YOUR ALM OR CHARITY TO ANYONE EXCEPT ALLAH (SWT)

They assign to Allah, of the crops and cattle which He created, a portion, and they say: "This is Allah's" in their false believe "and this is for (His) partners in regard to the crops and the cattle." Thus that which (they assign) to Allah reaches not to His partners in them reaches not to Allah and that which (they assign) to their partners. Evil is their judgement. (136)

لا تدكروا اسم غير الله على الصدقة

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَشُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾
﴿٦ الانعام: ١٣٦﴾

اللہ تعالیٰ کے سوا صدقہ یا خیرات پر کسی کا نام نہ لو

اور (یہ لوگ) اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی بھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال (باطل) سے کہتے ہیں کہ یہ (حصہ) تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں (یعنی باطل معبودوں) کا تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جاسکتا۔ اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جاسکتا ہے۔ یہ کیسا برا انصاف ہے (136:6)

Know they not that Allah is He Who accepts repentance from His bondmen and takes the alms, and that Allah is He Who is the Relenting, the Merciful. (9:104)

And they assign a portion of that which We have given them to what they know not. By Allah! But you will indeed be asked concerning (all) that you used to invent. (16:56)

ACTS OF CHARITY FOR CONTINUAL AND INCESSANT EFFECTS

Surely We shall bring the dead to life. We record that which they send before (them), and their footprints. (Which they leave behind) and all things We have kept in a Clear Register. (36:12)

CHARITY-A BEAUTIFUL LOAN TO ALLAH(SWT)

Those who give alms, both men and women, and lend to Allah a goodly loan, it will be doubled for them, and theirs will be a rich reward. (57:18)

PERFORM YOUR VOW WHEN YOUR DESIRE OF TRUE MOTIVES IS FULFILLED BY THE GRACE OF ALLAH(SWT)

Whatever alms you spend or vow you now, Allah knows it. Wrongdoers have no helpers. (2:270)

Because they perform the vow and fear a Day whereof the evil is wide spreading, (76:7)

DO NOT TURN AWAY FROM YOUR PLEDGE OR VOW WHEN ALLAH(SWT) BESTOWS ON YOU HIS BOUNTY

And of them is he who made a covenant with Allah (saying): If He gives us of His bounty We will give alms and become of the righteous. (9:75)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾
﴿٩ التوبة ١٠٤﴾

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَحْسَبُونَ نَصِيبًا مِّمَّا نَزَّلْنَا مِنْهَا وَمَا لَكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾
﴿١٦ النحل ٥٦﴾

الإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ
صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٣٦﴾
﴿٣٦ يس ١٢﴾

الصدقة - قرض حسن على الله

إِنَّ الْمُضِدِّ قَيْنَ وَالْمُضِدِّ قَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يضاعِفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٧﴾
﴿٥٧ الحديد ١٨﴾

إيفاء النذر واجب

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾
﴿٢٧٠ البقرة ٢٧٠﴾
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧٦﴾
﴿٧٦ الدهر ٧﴾

لا تنقضوا عهد الله من نذر بعد الحصول على فضل الله

وَمِنْهُمْ مَن مَّنَّ عَهْدَ اللَّهِ لَئِن آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾
﴿٩ التوبة ٧٥﴾

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات (و خیرات) لیتا ہے اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے (104:9)

اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں (کافرو) اللہ کی قسم کہ جو تم بہتان باندھتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی (56:16)

خیرات اور اعمال صالح بطور صدقہ جاریہ (برائے ایصال ثواب)

بیشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور (جو) ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن (یعنی لوح محفوظ) میں لکھ رکھا ہے (12:36)

صدقہ - اللہ کو قرض حسنہ

جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو (نیت) نیک (اور خلوص سے) قرض دیتے ہیں ان کو دوگنا ادا کیا جائے گا اور ان کے لئے عزت کا صلہ ہے (18:57)

جائز مراد بر آنے پر اللہ تعالیٰ کی نذر پوری کرو

اور تم (اللہ کی راہ میں) جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نذر مانو۔ اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (270:2)

یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں (7:76)

خواہش پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ کی نذر (خیرات کے عہد) کو پورا کرنے سے روگردانی نہ کرو

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے (مال) عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیک عمل کرنے والوں میں ہو جائیں گے (75:9)

Yet when He gave them of His bounty, they hoarded it and turned away, averse; (9:76)

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا
وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾
﴿٩ التوبة ٧٦﴾

لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے (مال) دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور (اپنے عہد سے) روگردانی کر کے پھر بیٹھے (76:9)

So He has made the consequence (to be) hypocrisy in their hearts until the Day when they shall meet Him, because they broke their word to Allah that they promised Him, and because they lied. (9:77)

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ
بِئْسَ أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِئْسَ كَانُوا
يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾
﴿٩ التوبة ٧٧﴾

تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لئے جس میں وہ اللہ کے رو برو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس لئے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے (77:9)

Reference : 3:35,41,76 22:29
Page 1091, 1088, 308, 293

والمزید راجع ۳ آل عمران: ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۲۹ الحج: ۲۹
الصفحة ۲۹۳، ۳۰۸، ۱۰۸۸، ۱۰۹۱

والمزید حوالہ 29:22 76,4135:3
صفحة 293, 308, 1088, 1091

**UNPRETENTIOUS CHARITY
WITHOUT ANY MOTIVE OF REWARD
OR THANKS FROM BENEFICIARY**

لیکن الغرض من النذر
رضاء الله وطلب الأجر منه

صدقہ اور نذر کا مدعا محض اجر آخرت
اور رضائے الہی ہونا چاہئے

(Saying): We feed you, for the sake of Allah only. We wish for no reward nor thanks from you; (76:9)

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَنُرِيدَ مِنْكُمْ جَزَاءً
وَلَا شُكُورًا ﴿٧٦﴾
﴿٧٦ الدهر ٩﴾

(اور کہتے ہیں کہ) ہم تم کو خالص اللہ کے لئے کھلاتے ہیں۔ نہ تم سے بدلے کے طالب ہیں نہ شکرگزاری کے (طلب گار) (9:76)

We fear from our Lord the Day of reckoning and of fate. (76:10)

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾
﴿٧٦ الدهر ١٠﴾

ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو (چہروں کو) بد صورت اور (دلوں کو) سخت (پریشان کر دینے والا) ہے (10:76)

Therefore Allah has warded off from them the evil of that Day, and has made them find brightness and glory. (76:11)

فَوَقَّهْمُ اللَّهُ تِلْكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَضْرَةً
وَسُرُورًا ﴿١١﴾
﴿٧٦ الدهر ١١﴾

تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچالے گا۔ اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا (11:76)

Reference : 2:272 Page 276

والمزید راجع ۲ البقرة: ۲۷۲، ۲۷۱ الصفحة ۲۷۶

المزید حوالہ 272:2 صفحه 276

HAJJ - PILGRIMAGE - UMRA

الحج العمرة

حج بیت اللہ عمرہ

**THE FIRST HOUSE OF WORSHIP
KA'BA-THE SACRED HOUSE**

And when We made the House (at Makkah) a place of assembly for mankind and a place of safety And take you the station of Abraham as a place of prayer; And We imposed a duty upon Abraham and Ishmael, (saying): Purify My house for those who go around and those who meditate therein and those who bow down and prostrate themselves (in worship). (2:125)

More Reference : 3:96 90:1,2
Page 623, 624

الكعبة البيت الحرام
أول بيت وضع للناس

وَأَذِّنَا لِلنَّاسِ الْكَعْبَةَ الْغُرُوبَةَ وَأَنبَأُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

والمزيد راجع 3 آل عمران: 96، 90 البقرة: 125، 124، 123

خانہ کعبہ۔ بیت الحرام بنی نوع انسان کیلئے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے پہلا گھر

اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے جمع ہونے (ثواب کے لئے) اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو (125:2)

مزيد حوالہ: 96:3 90:1,2
صفحہ 624, 623

**PROCLAMATION FOR HAJJ
TO ALL HUMANKIND BY ABRAHAM(PBUH)**

And (remember) when We prepared for Abraham the place of the (Holy) House, saying: Ascribe you nothing as partner to Me, and purify My House for those who make the round (thereof) and those who stand and those who bow and make prostration. (22:26)

And proclaim to mankind the Pilgrimage. They will come to you on foot and on every lean camel; they will come from every deep ravine. (22:27)

More Reference : 2:125 3:96 5:97
Page 287, 623, 624

نداء ابراهيم عليه السلام
في الناس بالحج

وَأَذِّنَا لِلنَّاسِ الْكَعْبَةَ الْغُرُوبَةَ وَأَنبَأُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

والمزيد راجع 2 البقرة: 125، 3 آل عمران: 96، 5 المائدة: 97، 287، 623، 624

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں کو
ادا لگی حج (خانہ کعبہ) کے لئے پکارنا

اور (ایک وقت تھا) جب ہم نے ابراہیم کے لئے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا (اور ارشاد فرمایا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور طواف کرنے والوں (اور) قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں (اور) سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو صاف رکھا کرو (26:22)

اور لوگوں میں حج کے لئے آواز دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور (دراز) راستوں سے چلے آتے ہوں (سوار ہو کر) چلے آئیں (27:22)

مزيد حوالہ: 125:2 96:3 97:5
صفحہ 624, 623, 287

**HAJJ- ORDAINED ON THOSE WHO
CAN AFFORD ITS PERFORMANCE
FINANCIALLY AND PHYSICALLY**

-----And pilgrimage to the House is a duty to Allah for mankind, for him who can find a way there. As for him who disbelieves, (let him know that) Allah is Independent of (all) creatures. (3:97) PART

**SPECIFIC MONTHS
FOR PERFORMANCE OF HAJJ**

They ask you, (O Muhammad), of new moons. Say: They are fixed seasons for mankind and for the pilgrimage. -----
(2:189) PART

فرضية حج البيت
على كل ذي استطاعة

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

الأشهر المحددة للحج

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴿١٨٩﴾

ہر صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ فرض

----- اور لوگوں پر اللہ کا حق (یعنی فرض) ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی تمام دنیا سے بے پروا ہے (97:3) جزو

حج کے مقررہ مہینے

(اے محمد) لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ گھنٹا بڑھتا کیوں ہے) کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے (کاموں کی میعادیں) اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔ -----
(189:2)

The Pilgrimage falls during the specific month-----
(2:197) PART

PILGRIM SHALL PROCEED TO HAJJ TAKING PROVISIONS ALONG

Take provisions (for intended journey), yet the best provision is fearing Allah's displeasure. (right conduct) so fear Me, if you are wise. (2:197) PART

التزود فی السفر للحج

وَتَزَوَّدُوا
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢٠﴾
﴿٢ البقرة ١٩٧﴾ جزء

حج کے مہینے (مقرر ہیں جو) معلوم ہیں
(197:2) جزو

سفر حج میں زادراہ
(اخراجات و ضروریات سفر) ساتھ لینا

اور زادراہ (یعنی راستے کا خرچ) ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر (فائدہ) زادراہ (کا) پرہیزگاری ہے اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو (2:197) جزو

LEGITIMATE TRADE DURING HAJJ SEASON IS PERMISSIBLE

will not be held against you if you seek bounty from your Lord during Pilgrimage travel)-----
(2:198) PART

جواز ابتغاء فضل الله أثناء أيام الحج

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
﴿٢ البقرة ١٩٨﴾ جزء

ایام حج میں جائز تجارت کی اجازت

اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ (حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت) اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو۔ (2:198) جزو

CONVENIENCE FOR THE PILGRIM COMING FROM LONG DISTANCES TO MAKKAH

UMRA - A LESS FORMAL PILGRIMAGE (DURING ANY TIME OF THE YEAR)

perform the Pilgrimage and the visit (to Ka'bah) for Allah----- then whosoever contents himself with the visit for the Pilgrimage-----
(2:196) PART

حج التمتع للزائر الآفاقی

العمرة
وَآتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فَمِن تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
﴿٢ البقرة ١٩٦﴾ جزء

غیر وطنی (زائر آفاقی) کے لئے حج تمتع

عمرہ

اور اللہ (کی خوشنودی) کے لئے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ تو جو (تم میں) حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ (2:196) جزو

Reference : 2:158 Page 290

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٥٨ الصفحة ٢٩٠

مزید حوالہ 2:158 صفحہ 290

CERTAIN RESTRICTIONS (TABOOS) AFTER ONE WEARS PILGRIM ROBE (IHRAM) FOR UNDERTAKING CHIEF RITES OF HAJJ

And whoever is intended to perform the Pilgrimage therein (let him remember that) should not indulge in amorous intercourse; there shall (to be) no lewdness nor abuse nor angry conversation on the Pilgrimage. And whosoever good you do Allah knows it-----
(2:197) PART

مالا يجوز للمحرم

فَمَنْ قَرَضَ فِيهَا الْحَجَّ
فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ
﴿٢ البقرة ١٩٧﴾ جزء

نیت حج باندھ لینے اور حالت احرام میں آجانے کی پابندیاں اور احتیاطیں

تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج (کے دنوں) میں نہ عورتوں سے مباشرت نہ کوئی بے حیائی (بدکاری) کرے نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے۔ اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ (2:197) جزو

HUNTING (GAME) PROHIBITED WHILE IN PILGRIM ROBE (IHRAM)

The beast of prey is made lawful to you (for food) except that which is announced to you (herein), game being unlawful when you are on Pilgrimage. Surely Allah ordains that which pleases Him. (5:1) PART

تحريم الصيد للمحرم

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٥٥﴾
﴿٥ المائدة ١﴾ جزء

حالت احرام میں شکار کھیلنے کی ممانعت

تمہارے لئے چار پائے جانور (جو چرنے والے ہیں) حلال کر دیئے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ مگر احرام (حج) میں شکار کو حلال نہ جاننا اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے (5:1) جزو

TAWAF - THE RITUAL OF ANTI CLOCKWISE CIRCUMAMBULATING (GOING AROUND) KA'BA

It is therefore no sin for him who is on Pilgrimage to the House (of Allah) or Visits it, to go around them. And he who does so of his own accord (for him), Allah is the Responsive, the Aware. (2:158) PART

More Reference : 2:125 22:26,29
Page 287, 293

طواف الكعبة

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿٢﴾ البقرة ١٥٨ ﴿جزء

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٢٥ ٢٢ الحج: ٢٦، ٢٩ الصفحة ٢٨٧، ٢٩٣

طواف خانه کعبه

تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے (بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے) اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدر شناس اور انہیں خوب جاننے والا ہے (2:158) جزو

مزید حوالہ 2:125 22:26,29
صفحہ 287, 293

OFFERING SHORT PRAYER AT THE STATION OF ABRAHAM (PBUH) (A PLACE IN PRECINCTS OF KA'BA)

Take as your place of worship the place where Abraham stood (to pray). (2:125) PART

Herein are plain memorials (of Allah's guidance): The place where Abraham stood up to pray; and whosoever enters, is safe. (3:97) PART

GOING TO THE HILLS OF SAFA AND MARWAH

No doubt (the mountains) Al-Safa and Al-Marwah are among the indications of Allah. It is therefore no sin for him who is on Pilgrimage to the House (of Allah) or Visits it, to go around them. (2:158) PART

VISITING THE VALLEY OF MINA (HALT AND ENCAP AT NIGHT) (EIGHTH OF THE MONTH OF ZUL-HAJJ)

When you have completed your obligations, then remember Allah as you remember your fathers or with a more lively remembrance. (2:200) PART

More Reference : 2:203 Page 293

صلوة النوافل علی مقام

ابراہیم علیہ السلام

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّیٰ ﴿٢﴾ البقرة ١٢٥ ﴿جزء

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴿٣﴾ آل عمران ٩٧ ﴿جزء

السعي بين الصفا والمروة

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴿٢﴾ البقرة ١٥٨ ﴿جزء

الإقامة بالمنى . يوم التروية ٨ : ذى الحجة

فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴿٢﴾ البقرة ٢٠٠ ﴿جزء

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٠٣ الصفحة ٢٩٣

مقام ابراہیم علیہ السلام پر ادائیگی نوافل

اور (حکم دیا کہ) جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو (2:125) جزو

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس (مبارک) گھر میں داخل ہوا اس نے امن پایا۔ (3:97) جزو

سعی صفا و مروہ

بے شک (کوہ) صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اس لیے جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے (بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے)۔ (2:158) جزو

وادی منیٰ میں قیام (یوم الترویہ۔ 8 ذوالحجہ)

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو (منیٰ میں) اللہ کو یاد کرو۔ جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ (2:200) جزو

مزید حوالہ 2:203 293

PROCEEDING TO THE PLAIN AND HILL OF ARAFAT AND SHORT STOP AT MUZDALIFA (ON NINTH OF THE MONTH OF ZUL-HAJJ)

-----But, when you stream forth from Arafat, remember Allah by the sacred monument. Remember Him as He has guided you, although before you were of those astray. (2:198) PART

Then return from the place where from the multitude had stream forth, and ask forgiveness of Allah. Surely Allah is Forgiving, Merciful. (2:199)

THE GREATER PILGRIMAGE

EID-UL-ADHAH 10th-ZULHIJJ DAY OFFERING SACRIFICE STAY IN MINA VALLEY

And (this is) a proclamation from Allah and His messenger to all mankind on the day of the Greater Pilgrimage that Allah is free from obligation to the idolaters, and (so is) His messenger. So, if you repent, it will be better for you; but if you are averse, then know that you cannot escape Allah. Give tidings (O Muhammad) of a painful doom to those who disbelieve. (9:3)

Therein are benefits for you for an appointed term; and afterward they are brought for sacrifice to the ancient House. (22:33)

More Reference : 22:34 Page 907

OFFERING SACRIFICE SLAUGHTERING LAWFUL CATTLE DURING SPECIFIED DAYS OF HAJJ

That they may witness things those are of benefit to them, and mention the name of Allah on appointed days over the beast of cattle that He has bestowed upon them. Then eat thereof and feed there with the poor unfortunate. (22:28)

عرفات، مزدلفة (المشعر الحرام) يوم العرفة ٩: ذى الحجة

-----فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿٢﴾ البقرة ١٩٨ ﴿جزء ١﴾

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾ البقرة ١٩٩ ﴿جزء ٢﴾

يوم الحج الاكبر

عيد الأضحى. (١٠ ذى الحجة) يوم النحر. قيام وادى منى

وَإِذْ أَنْقَضْنَا مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ الْيَوْمِ ﴿٩﴾ التوبة ٣ ﴿جزء ١﴾

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٢﴾ الحج ٣٣ ﴿جزء ٢﴾

وللمزيد راجع ٢٢ الحج: ٣٤: الصنعة ٩٠٧

النسك في أثناء أيام الحج المحددة

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ الحج ٢٨ ﴿جزء ٢﴾

عرفات- مزدلفة (مشعر الحرام) میں قیام (یوم عرفہ- 9 ذوالحجہ)

----- اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام (یعنی مزدلفہ) میں اللہ کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا اور اس سے پیشتر تم لوگ (ان طریقوں سے محض) ناواقف تھے (2:198) جزو

پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا (اور) رحمت کرنے والا ہے (2:199)

یوم حج اکبر

(سب سے زیادہ مناسک حج کی ادائیگی کا دن)

یوم عید الاضحیٰ۔ (10 ذوالحجہ) قربانی کی ادائیگی کا دن۔ وادی منی میں قیام

اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بے زار ہے اور اس کا رسول بھی (ان سے دست بردار ہے) پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر نہ مانو (اور اللہ سے مقابلہ کرو) تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے اور (اے پیغمبر) کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سناؤ (3:9)

ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لئے فائدے ہیں پھر ان کو خانہ کعبہ (یعنی بیت اللہ) تک پہنچنا (اور ذبح ہونا) ہے (22:33)

مزید حوالہ 34:22 ص 907

حج کے مقررہ ایام میں قربانی

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لئے حاضر ہوں۔ اور (قربانی کے) مقرر دنوں میں چوپائے مویشی (کے ذبح کے وقت) جو اللہ نے ان کو دیئے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں۔ اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ (22:28)

نحر البدن

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٢﴾
الحج ٢٢

الحلق والقصر بعد ذبح الهدى

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ ﴿٢﴾
البقرة ١٩٦ جزء

كفارة حلق الرأس قبل ذبح الأضحية
وكفارة عدم ذبحها

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧﴾
البقرة ١٩٦ جزء

الغرض من الأضاحي وحكمتها

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٧﴾
الحج ٢٧

اونٹ کی قربانی (نحر)

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لئے شعائر اللہ مقرر کیا ہے۔ ان میں تمہارے لئے فائدے ہیں تو (قربانی کرنے کی وقت) قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو۔ جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو (36:22)

قربانی کی ادائیگی کے بعد حلق یا قصر کی اجازت

اور اللہ (کی خوشنودی) کے لئے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر (راستے میں) روک لئے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو (کردو) اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔ (2:196) جزو

قربانی سے پہلے سر منڈوا لینے پر
یا مقررہ ایام میں قربانی نہ دینے پر فدیہ

اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو۔ تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب (تکلیف دور ہو کر) تم مطمئن ہو جاؤ جو (تم میں) حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے۔ اور جس کو (قربانی) نہ ملے وہ تین دن روزے ایام حج میں رکھے اور سات دن جب واپس ہو۔ یہ پورے دس دن ہوں گے۔ یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جس کے اہل و عیال کے میں نہ رہتے ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (2:196) جزو

قربانی کا مقصد اور فلسفہ

اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون۔ بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مطیع فرمانبردار کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو۔ اور (انے پیغمبر) نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دو (37:22)

OFFERING SACRIFICE OF CAMEL
MOST PRECIOUS AND USEFUL ANIMAL OF ARABIA

And the camels! We have appointed them among the ceremonies of Allah. Therein you have much good. So mention the name of Allah over them when they are drawn up in lines. Then when their flanks fall (dead), eat thereof and feed the beggar and the suppliant. Thus We have made them subject to you, that haply you may give thanks. (22:36)

SHAVING OF HEAD HAIR AFTER THE OFFERING
REACHES THE PLACE OF SACRIFICE

Perform the Pilgrimage and the visit (to Makkah) for Allah. And if you are prevented, then send such gifts as can be obtained with ease, and shave not your heads until the gifts have reached their destination. (2:196) PART

EXEMPTION - IN CASE EITHER SHAVING HEAD
BEFORE MAKING SACRIFICE DUE TO SOME
AILMENT IN SCALP OR NOT AFFORDING OFFERING

And whoever among you is sick or has an ailment of the head must pay a ransom of fasting ormsgiving or offering. And if you are in safety, then whosoever intents himself with the Visit for the Pilgrimage (shall give) such gifts as can be had with ease. And whosoever cannot find (such gifts), then a fast of three days while on the pilgrimage, and of seven days when you have returned; that is, ten days all. That is for him whose folk are present at the Inviolable Place of Worship. Observe your duty to Allah, and know that Allah is severe in punishment. (2:196) PART

ESSENCE OF SACRIFICE

Their flesh and their blood reach not Allah, but the devotion from you reaches Him. Thus We have made them subject to you that you may glorify Allah that He has guided you. And give good tidings (O Muhammad) to the good. (22:37)

FINAL TAWAF - VISITING MAKKAH FOR CIRCUMAMBULATING THE ANCIENT HOUSE ON COMPLETION OF RITES OF HAJJ

Then let them make an end of their prescribed rites and pay their vows and go around the ancient House. (22:29)

THREE SUBSEQUENT DAYS OF TASHRIQ AFTER THE DAY OF SACRIFICE

LEAVING THE VALLEY OF MINA AND RETURNING TO MAKKAH

And Remember Allah through the appointed days. Then whoever is anxious for (his departure) by two days, it is no sin for him, and whoever delays, it is no sin for him; that is for him who wards off (evil). Be careful of your duty to Allah, and know that to Him you will be gathered. (2:203)

ESTEEM OF SHA' AIR - SIGNS OF ALLAH (swt)

That (is the command). And whoso magnifies the offerings consented to Allah, such (Honour) should come truly from devotion (piety) of the hearts. (22:32)

More Reference : 2:125,158,198 3:96 5:97 22:36 Page 290, 291, 623, 624, 292

OBSERVE STRICTLY THE SPECIFIC RITES DURING HAJJ

That (is the command). And whoso magnifies the sacred things of Allah, it will be well for him in the sight of his Lord. The cattle are lawful to you save that which has been told you. (22:30) PART

More Reference : 2:201 Page 433

DISBELIEVERS ARE BANNED TO ENTER INTO THE LIMITS OF HARAM TO APPROACH HOLY KAABA

For Detail Consult : 9:28 Page 625

PRAY ALLAH (swt) DURING HAJJ AND UMRA FOR BESTOWING GOOD IN THIS TEMPORARY WORLD AND IN THE HEREAFTER TOO

For Detail Consult : 2:102 Page 1117 Chapter Quranic supplications

قدوم مكة لطواف الإفاضة

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ
وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾
﴿٢٢ الحج ٢٩﴾

أيام التشریق ١١، ١٢، ١٣ ذی الحجۃ

العودة إلى مكة المعظمة من منى

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
﴿٢ البقرة ٢٠٣﴾

تعظیم شعائر الله

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾
﴿٢٢ الحج ٣٢﴾

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٢٥، ١٥٨، ١٩٨ ٣ آل عمران: ٩٦، ٥ المائدة: ٩٧ ٢٢ الحج: ٣٦

أداء مناسك الحج

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ
عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْبَاقِيَ إِلَّا مَا
يُنْتَهَىٰ عَلَيْكُمْ
﴿٢٢ الحج ٣٠﴾ جزء

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٠١ الصفحة ٤٣٣

حظر المشركين على دخول الحدود الميقات المسجد الحرام

والتفصيل راجع ٩ التوبة: ٢٨ الصفحة ٦٢٥

استحباب الدعاء لطلب الحسنة في الدنيا والآخرة

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٠٢ الصفحة ١١١٧ باب الادعية القرانية

طواف افاضة کے لئے مکہ معظمہ آنا مناسک حج کی تکمیل پر احرام کی پابندی سے آزادی

پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نذریں پوری کریں اور خانہ قدیم (یعنی بیت اللہ) کا طواف کریں (29:22)

ایام تشریق (11, 12, 13 ذوالحجہ)

وادی منی سے مکہ معظمہ واپسی

اور (قیام منی کے) دنوں میں (جو) گنتی کے (دن ہیں) اللہ کو یاد کرو۔ اگر کوئی جلدی کرے (اور) دو ہی دن میں (چل دے) تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کیلئے ہیں جو (اللہ سے) ڈرے اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کئے جاؤ گے (203:2)

تعظیم شعائر اللہ

یہ (ہمارا حکم ہے) اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے۔ تو یہ (فعل) دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے (32:22)

مزید حوالہ 2:125, 158, 198 3:96 5:97 22:36 صفحہ 290, 291, 623, 624, 292

مناسک حج کی پابندی

یہ (ہمارا حکم ہے) اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے اور تمہارے لئے مویشی حلال کر دیئے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ (30:22) جزو

مزید حوالہ 2:201 صفحہ 433

مشرکوں کی حدود میقات۔ مسجد حرام (خانہ کعبہ) میں داخلہ پر پابندی

تفصیل کیلئے دیکھتے 9:28 صفحہ 625

دوران حج و عمرہ دنیا اور آخرت دونوں کے لئے دعائے مانگنے کی ہدایت

تفصیل کیلئے دیکھتے 2:102 صفحہ 1117 باب قرآنی دعائیں

WORSHIP OF ALLAH (SWT)

عبادۃ اللہ

اللہ تعالیٰ کی عبادت

REMEMBRANCE OF ALLAH (SWT)
(GLORIFYING THE PRAISES OF THE LORD)

PRESENCE OF ALLAH IN THE CONSCIOUSNESS OF HUMANKIND

ذکر اللہ تعالیٰ

یاد (ذکر) رب تعالیٰ

O mankind! Worship your Lord Who has created you and those before you, so that you may ward off (evil). (2:21)

Lord of the heavens and the earth and all that is between them! Therefore, worship you Him and be you steadfast in His service. Know you one that can be named along with Him? (19:65)

O my bondmen who believe! My earth is spacious. Therefore serve Me only. (29:56)

No doubt Allah, He is my Lord and your Lord. So worship Him. This is a right path. (43:64)

Therefore (O Muhammad) praise the name of your Lord, the tremendous. (69:52)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾
﴿البقرة ٢١﴾

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾
﴿مريم ٦٥﴾

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾
﴿العنكبوت ٥٦﴾

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾
﴿الزخرف ٦٤﴾

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾
﴿الحاقة ٥٢﴾

لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم (اس کے عذاب سے) بچو (21:2)

(یعنی) آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار۔ تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ بھلا تم کوئی اس کا نام جانتے ہو (19:65)

اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو (29:56)

کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے (43:64)

تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو (52:69)

More Reference :	2:152	3:191	4:103	9:112
Page	300	320	253	437
	5:58,64	33:35	39:9	43:64
	103,766	547	260	294

والمزید راجع	٢ البقرة: ١٥٢	٣ آل عمران: ١٩١	٤ النساء: ١٠٣	٩ التوبة: ١١٢	٢٥ الفرقان: ٤٤,٥٨
	١٩ مريم: ٦٥	٣٩ الزمر: ٩	٤٣ الزخرف: ٦٤	٧٣ المزمل: ٩٠	

مزید حوالہ	2:152	3:191	4:103	9:112
صفحہ	300	320	253	437
	64,58,25	35,33	9:39	64:43
	766,303	547	260	294

REMEMBER ALLAH (SWT) OFTEN

O you who believe! Remember Allah with much remembrance. (33:41)

الأمر بذكر الله تعالى كثيرا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾
﴿الاحزاب ٤١﴾

اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم

اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو (41:33)

More Reference :	3:41	4:103	8:45	15:98,99
Page	1088	253	652	296
	2:65	22:77	33:21	48:29
	94	258	172	163

والمزید راجع	٣ آل عمران: ٤١	٤ النساء: ١٠٣	٨ الأنفال: ٤٥	١٥ الحجر: ٩٩,٩٨	١٩ مريم: ٦٥
	٢٩:٢٩	٣٣ الأحزاب: ٢١	٤٨ الفتح: ٢٩	٩٣ الضحیٰ: ١١	

مزید حوالہ	3:41	4:103	8:45	15:98,99
صفحہ	1088	253	652	296
	65,93	9:73	29:48	21:33
	300	324	163	172

MAGNIFY (HYMN) ALLAH (SWT)

Magnify your Lord, (74:3)

كبروا لله بالاستمرار

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٧٤﴾
﴿المدثر ٧٤﴾

اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو

اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو (3:74)

More Reference :	17:111	25:58	32:15
Page	367, 303, 766		

والمزید راجع	١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ١١١	٣٢ السجدة: ١٥	٢٥ الفرقان: ٥٨
--------------	-------------------------------	---------------	----------------

مزید حوالہ	17:111	25:58	32:15
صفحہ	766, 303, 367		

ASPIRE FOR MEANS OF APPROACHING ALLAH (SWT) - STRIVE TO PLEASE YOUR LORD

O you who believe! Be mindful of your duty to Allah, and seek the way of approach to Him, and strive in His way in order that you may speed. (5:35)

الأمر بابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾
﴿المائدة ٣٥﴾

اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ حاصل کرنے کی ہدایت

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب (اس کی حضور میں باریابی) حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ (5:35)

Reference :	18:110	29:69	73:20	83:26
Page	164, 472, 768, 871, 628			

والمزید راجع	١٨ الكهف: ١١٠	٢٩ العنكبوت: ٦٩	٧٣ المزمل: ٢٠	٨٣ المطففين: ٢٦
--------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

مزید حوالہ	18:110	29:69	73:20	83:26
صفحہ	628, 871, 768, 472, 164			

**HEARTS FEEL TRANQUIL
THROUGH REMEMBRANCE OF ALLAH(SWT)**

ذکر اللہ تعالیٰ سبب لطمانیۃ القلب

اللہ تعالیٰ کی یاد ذریعہ طمینان قلب

**OFTEN REMEMBRANCE OF ALLAH(SWT)
A CURE TO PSYCHOLOGICAL DISTURBANCES
(DEPRESSION - STRESS AND TENSION)**

ذکر اللہ تعالیٰ
علاج الجزع والخوف والقلق

اللہ تعالیٰ کی یاد
گھبراہٹ - خوف اور پریشانی کا علاج ہے

Who have believed and whose hearts have rest in the remembrance of Allah. Surely, in the remembrance of Allah do hearts find rest! (13:28)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾
﴿١٣ الرعد ٢٨﴾

(یعنی) جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد اللہ سے آرام پاتے ہیں (ان کو) اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں (28:13)

**REMEMBRANCE OF ALLAH(SWT)
STRENGTHENS FAITH**

ذکر اللہ بیزید المومنین ایماناً

ذکر اللہ تعالیٰ باعث تقویت ایمان

They only are the (true) believers whose hearts feel fear when Allah is mentioned, and when the revelations of Allah are recited to them they increase their faith, and they trust in their Lord; (8:2)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ زَادَتْهُمْ
إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٨﴾
﴿٨ الانفال ٢﴾

مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں (2:8)

**SUITABLE TIMINGS FOR
GLORIFYING THE PRAISES OF ALLAH(SWT)**

الأوقات المناسبة للتسبيح

اللہ تعالیٰ کے ذکر (تسبیح)
کے مناسب اوقات

And glorify Him morning and evening. (33:42)

وَسَبِّحْهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٤٢﴾

اور صبح اور شام اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہو (42:33)

Then have patience, indeed! The promise of Allah is true. And ask forgiveness of your sin, and hymn the praise of your Lord at fall of night and in the early hours. (40:55)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْأَبْكَارِ ﴿٥٥﴾
﴿٤٠ المنون ٥٥﴾

تو صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کرتے رہو (55:40)

Therefore bear with what they say: And hymn the praise of your Lord before the rising and before the setting of the Sun; (50:39)

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾
﴿٥٠ ق ٣٩﴾

تو جو کچھ یہ (کفار) باتیں بناتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو (39:50)

And in the night time hymn His praise: And after the (prescribed) prostrations. (50:40)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ ﴿٤٠﴾
﴿٥٠ ق ٤٠﴾

اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز (سجدہ ریزی) کے بعد بھی اس (کے نام) کی تسبیح کیا کرو (40:50)

So wait patiently (O Muhammad) for your Lord's decree, for surely you are in Our sight; and hymn the praise of your Lord when you uprise. (52:48)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾
﴿٥٢ الطور ٤٨﴾

اور (اے پیغمبر) آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہیں آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور جب اٹھائیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کریں (48:52)

And in the nighttime also hymn His praise, and at the setting of the stars. (52:49)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ ﴿٤٩﴾
﴿٥٢ الطور ٤٩﴾

اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو (49:52)

More Reference : 3:4,17 19:11 20:130
Page 221,764 1089 254
25:64 30:17,18 32:16 73:20 76:25,26
766 254 767 768 261

والمزيد راجع ٣ آل عمران ١٧:٤ ١٩ مريم ١١: ٢٠ طه ١٣٠: ٢٥ الفرقان ٦٤: ٣٠ الروم ١٧: ٢٢ السجدة ١٦: ٧٣ المزمل ٢٠: ٧٦ الدهر (الاسان) ٢٦: ٢٦٥

مزيد حوالہ 3:4,17 19:11 20:130 64:25 130:20 11:19 17:4,3
766 254 1089 764,221
26,25:76 20:73 16:32 18,17:30
261 768 767 254

**CELEBRATE THE GLORY OF ALLAH(SWT)
WHEN YOU FEEL RELIEVED FROM THE TASK**

So when you are relieved, still toil on. (94:7)

And strive to please your Lord. (94:8)

More Reference : 18:24 22:77 Page 469,258

**SERVE (HYMN) ALLAH(SWT)
UNTIL DEATH APPROACHES**

But hymn the praise of your Lord, and be of those who make prostration (to Him). (15:98)

And serve your Lord till the inevitable comes to you. (15:99)

**A SATAN BECOMES SOUL MATE
IF ONE WITHDRAWS FROM
REMEMBRANCE OF ALLAH(SWT)**

And he whose sight is dim to the remembrance of the Beneficent, We assign to him a devil who becomes his comrade; (43:36)

And they surely turn them from the way of Allah, and yet they deem that they are rightly guided; (43:37)

Will, when he comes to Us, he says to his comrade): Ah, would that between me and you there were the distances of the two horizons--an evil comrade! (43:38)

The devil has engrossed them and has caused them to forget remembrance of Allah. They are the devil's party. Surely it is the devil's party who will be the losers? (43:39)

**CONSEQUENCES OF TURNING AWAY
FROM ALLAH(SWT)**

Whoever turns away from remembrance of Me, his will be a narrow life, and We shall raise him up to the assembly on the Day of resurrection. (20:124)

أذْكُرُوا اللَّهَ فِي سَاعَاتِ الْفَرَاغِ

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝

﴿٩٤ الم نشرح ٧﴾

وَالِی رَّبِّكَ فَارْغَبْ ۝

﴿٩٤ الم نشرح ٨﴾

والمعزید راجع ۱۸ الكهف: ۲۴ ۲۲ الخج: ۷۷

الإمر بذكر الله طيلة العمر

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝

﴿١٥ الحجر ٩٨﴾

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

﴿١٥ الحجر ٩٩﴾

يكون الشيطان قرينا
للذي يعرض عن ذكر الله

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ

شَيْطَانًا فَهُوَ لِقَرِينٍ ۝

﴿٣٦ الزخرف ٣٦﴾

وَأَنَّهُمْ لَيَصَدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ

أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝

﴿٣٧ الزخرف ٣٧﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ نَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ

الْمَشْرِقَيْنِ فَيَسَّ الْقَرْيَيْنِ ۝

﴿٤٣ الزخرف ٣٨﴾

اسْتَعْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ

أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

﴿٥٨ المجادلة ١٩﴾

عاقبة الإعراض عن ذكر الله

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً

ضَنْكًا وَنَحْشًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ۝

﴿٢٠ طه ١٢٤﴾

فراغت کے اوقات
اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرو

تو جب فارغ ہوا کرو تو (عبادت میں) محنت کیا کرو (7:94)

اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو (8:94)

مزیلہ ہوالہ 24:18 صفحہ 258,469

موت کے آنے تک
اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم

تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور (اس کی) خوبیاں بیان کرتے رہو اور اس کے حضور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ (98:15)

اور اپنے پروردگار کی عبادت کئے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت (کا وقت) آجائے (99:15)

اللہ تعالیٰ کی یاد میں غفلت
شیطان کے دخل کی وجہ سے ہوتی ہے

اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے (یعنی غافل ہو جائے) ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے (36:43)

اور یہ (شیطان) ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہیں (37:43)

یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو بدترین ساتھی نکلا (38:43)

شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ یہ (جماعت) شیطان کا لشکر ہے۔ اور سن رکھو شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے (19:58)

اللہ تعالیٰ کے یاد سے غفلت کا انجام

اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے (124:20)

And be not you as those who forgot Allah, therefore He caused them to forget their souls. Such are the evildoers. (59:19)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾
﴿٥٩ الحشر ١٩﴾

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ یہ بد کردار لوگ ہیں (19:59)

More Reference : 9:76 18:100,101
63:9 72:17 102:1,2
Page 285, 804, 423, 392, 424

والمزید راجع ٩ التوبة: ٧٦ ١٨ الكهف: ١٠٠، ١٠١
٦٣ المنافقون: ٩ ٧٢ الجن: ١٧ ١٠٢ التكاثر: ٢، ١
الصفحة ٢٨٥، ٨٠٤، ٤٢٣، ٣٩٢، ٤٢٤

مزیذ حوالہ 9:76 101,100:18 76:9
2,1:102 17:72
صفحة 424, 392, 423, 804, 285

**WORSHIPPING ALLAH(SWT)
ALONG THE FRINGES ARE LOSING
BOTH THIS WORLD AND HEREAFTER**

عبادة الله على حرف تؤدي إلى
الخسران المبين

مطلب براری تک عبادت کرنا
(محض مطلب پورا ہونے تک
اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے لوگ)

And among mankind is he who worships Allah upon a narrow margine so that if good befalls him he is content thereupon, but if a trial befalls him, he falls away utterly. He loses both the world and the Hereafter. That is the sheer loss. (22:11)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾
﴿٢٢ الحج ١١﴾

اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر (کھڑا ہو کر) اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی (دنیاوی) فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے اور اگر کوئی آفت پڑے تو الٹا پھر جائے (یعنی پھر کافر ہو جائے) اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی تو انتہا کی گمراہی ہے (11:22)

More Reference : 2:200,201,202
Page 290/1117, 433,

والمزید راجع ٢ البقرة: ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢
الصفحة ٤٣٣، ١١١٧/٢٩٠

مزیذ حوالہ 202,201,200:2
صفحة 433, 1117/290

**WHOSOEVER TURNS HEEDLESS TO
ALLAH(SWT)(BECOMES SCORNFUL) WHILE
REJOICING PROSPERITY ARE CONFOUNDED IN THE
MIDST OF THEIR IMPIOUS TOMFOOLERY**

ربما يكون الترف
استد راجا لبطش الله

جو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں
ناگہاں عذاب کے حق دار ٹھہرتے ہیں

Then, when they forgot that whereof they had been reminded, We opened to them the gates of all things till, even as they were rejoicing in that which they were given, We seized them unawares, and they were dumbfounded. (6:44)

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ
شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً
فَإِذَا هُمْ مُبْتَلِسُونَ ﴿٤٤﴾
﴿٦ الانعام ٤٤﴾

پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے (44:6)

So of the people who did wrong the last remnant was cut off. Praise be to Allah, Lord of the Worlds! (6:45)

فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾
﴿٦ الانعام ٤٥﴾

غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کو (لائق) ہے (45:6)

Then We changed the evil plight for good till they grew affluent and said: Tribulation and distress did touch our ancestors. Then We seized them unawares, when they perceived not. (7:95)

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا
وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾
﴿٧ الاعراف ٩٥﴾

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ (مال و اولاد میں) زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کارن و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ (اپنے حال میں) بے خبر تھے (95:7)

More Reference : 7:96 72:17
Page 392, 135

والمزید راجع ٧ الاعراف: ٩٦ ٧٢ الجن: ١٧
الصفحة ١٣٥، ٣٩٢

مزیذ حوالہ 17:72 96:7
صفحة 135, 392

**NOTHING EXISTS UNLESS IT HYMNS
ALLAH'S(SWT) PRAISES - ALL CREATIONS
OF UNIVERSE CELEBRATE HIS GLORY**

إن من شيء الا يسبح الله بحمده

کائنات کی تمام مخلوقات
اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے

For Detail Consult : Page 112,113

والتفصیل راجع: الصفحة ١١٢، ١١٣

تفصیل کیلئے دیکھئے: صفحه 113,112

ALLAH(SWT) SET SOME OF PATIENT AND STEADFAST PEOPLE AS LEADER OF THE NATION

And when they became steadfast and believed firmly in Our revelations, We appointed from among them leaders who guided by Our command. (32:24)

GLAD TIDINGS OF REWARD FOR A PATIENT PERSEVERE

That which you have must vanish, and that which Allah has will endure. And We shall bestow those who are steadfast a recompense in proportion to the best of what they used to do. (16:96)

Say: O you My bondmen who believe! Observe your duty to your Lord. For those who do good in this world there is good, (reward) and Allah's earth is spacious. Indeed the steadfast will be paid their wages without (measure) stint. (39:10)

جعل الله الصابرين أئمة

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَمَةً يَهْتَدُونَ يَا مَرْثَا لَيْتَا صَبِرُوا لَشَأْوَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوَفِّقُونَ ﴿٣٢﴾ السجدة ٢٤

الصابرون لهم اجر غير ممنون

مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ النحل ٩٦

قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّكُمْ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ الزمر ١٠

اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو پیشوا بنایا

اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے۔ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے (24:32)

صبر کی بے انتہا جزا

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے (کہ کبھی ختم نہیں ہوگا) اور جن لوگوں نے صبر کیا۔ ہم ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے (96:16)

کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لئے بھلائی ہے۔ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا (10:39)

More Reference : 7:137 11:11 Page 1079,298

والمزید راجع ۱۱ ہود: ۱۱ ۷ الأعراف: ۱۳۷

مزید حوالہ 11:11 137:7 صفحہ 298,1079

TWO FOLD REWARD OF PATIENCE ASSURED BY ALLAH(SWT)

These will be given their reward twice over, because they are steadfast and repel evil with good, and spend (in charity) out of what We have provided them, (28:54)

الصبر یوجب الأجر مرتین

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾ القصص ٥٤

صبر کے دو چند اجر کا وعدہ

ان لوگوں کو دو گنا بدلہ دیا جائے گا کیوں کہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (54:28)

PATIENCE-FORBEARANCE A PROPHETIC TRADITION

For Detail Consult :	6:34	10:109
Page	730	732
14:12	16:41,42,127	21:12,85
303	670,671,557	825,916
38:17	40:77	46:35
1068	738	739
		70:5
		740

الصبر مسلك الرسل

والتفصیل راجع ۶ الأنعام: ۳۴ ۱۰ یونس: ۱۰۹ ۱۴ ابراهيم: ۱۲ ۱۶ النحل: ۴۱، ۴۲، ۴۳ ۲۱ الأنبياء: ۸۵، ۱۲ ۳۸ ص: ۱۷ ۴۰ المؤمن (غالب): ۷۷ ۴۶ الأحقاف: ۳۵ ۷۰ المعارج: ۵

صبر - شیوہ پیغمبران

تفصیل کیلئے دیکھئے	12:14	109:10	34:6
صفحہ	303	732	730
127,42,41:16	77:40	17:38	85,12:21
557,671,670	738	1068	916,825
5:70			
35:46			
740			739

ASHMAEL (PBUH) 21:85 37:102 Page 916,956

اسماعیل علیہ السلام ۲۱ الأنبياء: ۸۵ ۳۷ الصفات: ۱۰۲ الصلوة ۹۵۶,۹۱۶

حضرت اسماعیل 85:21 102:37 صفحہ 956,916

JACOB (PBUH) 12:18,83 Page 980,992

يعقوب علیہ السلام ۱۲ يوسف: ۸۳، ۱۸ الصلوة ۹۹۲,۹۸۰

حضرت یعقوب 83,18:12 صفحہ 992,980

JOSEPH (PBUH) 12:43,90 Page 985,993

يوسف علیہ السلام ۱۲ يوسف: ۹۰، ۴۳ الصلوة ۹۹۲,۹۸۵

حضرت یوسف 90,43:12 صفحہ 993,985

JOB (PBUH) 21:83 38:44 Page 996,997

ايوب علیہ السلام ۲۱ الأنبياء: ۸۳ ص: ۴۴ الصلوة ۹۹۷,۹۹۶

حضرت ایوب 83:21 44:38 صفحہ 997,996

DHUL-KIFL (PBUH) 21:85 Page 916

ذوالکفل علیہ السلام ۲۱ الأنبياء: ۸۵ الصلوة ۹۱۶

حضرت ذوالکفل 85:21 صفحہ 916

JONAH (PBUH) 68:48 Page 1086

يونس علیہ السلام ۶۸ القلم: ۴۸ الصلوة ۱۰۸۶

حضرت یونس 142:37 48:68 صفحہ 1086

IDRES (PBUH) 21:85 Page 916

ادريس ۲۱ الأنبياء: ۸۵ الصلوة ۹۱۶

حضرت ادريس 85:21 صفحہ 916

**GRATITUDE AND
THANKFULNESS TO ALLAH (SWT)**

الشكر لله

شكر رب تعالیٰ

BE GRATEFUL TO ALLAH (SWT)

Therefore remember Me, I will remember you. Give thanks to Me, and reject not Me. (2:152)

What concern has Allah for your punishment if you are thankful (for His mercies) and believe (in Him)? Allah is ever Responsive, Aware. (4:147)

And We have given you (mankind) power in the earth, and appointed for you therein a livelihood. Yet seldom are you grateful! (7:10)

If you should ask them: Who created the heavens and the earth? They would answer: Allah. Say: Praise be to Allah! But most of them know not. (31:25)

Therefore the bounty of your Lord be your discourse. (93:11)

More Reference :	2:172	3:144,145	5:89
Page	450	703,433/177	264
7:43	6:53	10:10	16:114
882	419	882	450
29:17	31:14,25	35:34	39:74
949	452,300	882	862

**ALLAH (SWT) CONFERS HIS FAVOURS
ON GRATEFUL PEOPLE EVEN MORE**

And when your Lord proclaimed: If you give thanks, I will give you more; but if you are thankless, remember My punishment is dire. (4:7)

**PROPHETS PREACHED
FOR THANKFULNESS TO ALLAH**

More Reference : 29:17 31:12 Page 949,301

**WHICH OF THE FAVOURS AND BLESSINGS OF
YOUR LORD, WILL YOU DENY?**

Which is it, of the favours of your Lord, that you deny?

13,16,18,21,23,25,28,30,32,34,36,38,40,42,45,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77

كونوا شاكرين لله

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿٢﴾ البقرة ١٥٢

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿٤﴾ النساء ١٤٧

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ الاعراف ١٠

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ لقمان ٢٥

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿٩٣﴾ الضحى ١١

والمزيد راجع	٢ البقرة: ١٧٢	٣ آل عمران: ١٤٤، ١٤٥
٥ المائدة: ٨٩	٦ الأنعام: ٥٣	٧ الأعراف: ٤٣
١٠ يونس: ١٠	١٢ النحل: ١١٤	٢٢ الحج: ٢٦
٢٩ العنكبوت: ١٧	٣٥ فاطر: ٣٤	٣٩ الزمر: ٧٤

رب تعالیٰ کا شکر کرنے والے بنو

سو تم۔ مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا (2:152)

اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور (اس پر) ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اور اللہ تو قدر شناس اور دانا ہے (4:147)

اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لئے روزی کے سامان پیدا کئے (مگر) تم کم ہی شکر کرتے ہو (7:10)

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے (31:25)

اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا (93:11)

مزيد حوالہ	2:172	3:144,145	5:89
صفحہ	450	177/433,703	264
7:43	6:53	10:10	16:114
882	419	882	450
29:17	31:14,25	35:34	39:74
949	452,300	882	862

الرزق يزداد بالشكر

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١٤﴾ ابراهيم ٧

الوحي الرسل بالشكر لله

والمزيد راجع ٢٩ العنكبوت: ١٧ ٣١ لقمان: ١٢

فبأي الآء ربكما تكذبن

فبأي الآء ربكما تكذبن ﴿٥٥﴾ الرحمن ٥٥

٢٠٠٢٨٠٢٥٠٢٣٠٢١٠١٨٠١٦٠١٣ الرحمن ٥٥
٥٣٠٥١٠٤٩٠٤٧٠٤٥٠٤٢٠٤٠٠٣٨٠٣٦٠٣٤٠٣٢٠
٧٧٠٧٥٠٧٣٠٧١٠٦٩٠٦٧٠٦٥٠٦٣٠٦١٠٥٩٠٥٧٠٥٥٠

اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا

اور جب تمہارے پروردگار نے (تم کو) آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو (یاد رکھو کہ) میرا عذاب (بھی) سخت ہے (7:14)

ادا نیکی شکر رب تعالیٰ کی تعلیم

مزيد حوالہ 17:29 12:31 صفحہ 949,301

تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے

38,36,34,32,30,28,25,23,21,18,16,13:55
67,65,63,61,59,57,55,53,51,49,47,45,42,40,
(77,75,73,71,69)

ANYONE WHO IS GRATEFUL TO ALLAH(SWT) IS MERELY FOR HIS OWN SAKE

And We gave Luqman wisdom, saying: Give thanks to Allah; and whosoever gives thanks, he gives thanks for (the good of) his own soul. And whosoever refuses, Allah is the Absolute, the Owner of Praise. (31:12)

If you are thankless, your Allah is Independent of you, though He is not pleased with thanklessness for His bondmen; and if you are thankful He is pleased therewith for you. No laden soul will bear another's load. Then to your Lord is your return; and He will tell you what you used to do. He knows what is in the breasts (of men). (39:7)

More Reference : 14:7 27:40
Page 300, 1078

EVEN IF EVERYONE ON EARTH, SHOWS INGRATITUDE, ALLAH(SWT) IS STILL TRANSCENDENT AND PRAISEWORTHY

And Moses said: Though you and all who are in the earth prove thankless, Allah is the Absolute, the Owner of Praise. (14:8)

We have shown him the way, whether he be grateful or ungrateful. (76:3)

More Reference : 2:267 4:37 27:40,73 34:17 39:7
Page 271,497,1078,302,1115,301

ALLAH(SWT) DOES NOT LOVE ANY UNGRATEFUL

Allah defends those who are true. Indeed Allah loves not each treacherous ingrate. (22:38)

More Reference : 16:83 39:7
Page 302, 301

MANY OF BYGONE FOLKS WERE AFFLICTED DUE TO UNGRATEFULNESS

More Reference : 34:16 to 21 Page 1115, 1114
More Detail Consult Page 673,679,685,1045

فی الشکر لله تعالی
مصلحة ذاتية لكل إنسان

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّا نَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣١﴾
﴿٣١ لقمان ١٢﴾

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى
لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا
تَزِدُوا زِينَةً وَّزِدُوا أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٧﴾

والمزيد راجع ١٤ إبراهيم: ٧ ٢٧ النمل: ٤٠
الصفحة ٣٠٠, ١٠٧٨

إن كفر جميع الناس فإن الله
غنى عنهم

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٤﴾
﴿١٤ إبراهيم ٨﴾

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٧٦﴾
﴿٧٦ الدهر ٣﴾

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٦٧ ٤ النساء: ٣٧
٢٧ النمل: ٤٠ ٧٣ ٣٤ سباء: ١٧ ٣٩ الزمر: ٧
الصفحة ٣٠١, ١١١٥, ٣٠٢, ١٠٧٨, ٤٩٧, ٢٧١

لا يحب الله كفوراً

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٢٢﴾
﴿٢٢ الحج ٣٨﴾

والمزيد راجع ٣٩ الزمر: ٧ ١٦ النحل: ٨٣
الصفحة ٣٠١, ٣٠٢

نزول عذاب الله على
الأقوام الماضية بكفرانهم

راجع ٣٤ سباء: ١٦ إلى ٢١ الصفحة ١١١٤, ١١١٥
والمزيد الصفحة ١٠٤٥, ٦٨٥, ٦٧٩, ٦٧٣

اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے میں
انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے

اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی۔ کہ اللہ کا شکر کرو۔ اور جو
شخص شکر کرتا ہے تو اپنے بھلے کو اور جو ناشکری کرتا ہے تو
اللہ بھی بے پرواہ (اور) تعریفوں (حمد و ثنا) والا ہے
(12:31)

اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے۔ اور وہ
اپنے بندوں کے لئے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کرو
گے تو وہ اس کو تمہارے لئے پسند کرے گا۔ اور کوئی
اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے
پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم
کو بتائے گا۔ وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ
ہے (7:39)

مزيد حوالہ 7:14 40:27
صفحة 300, 1078

اگر زمین کے سب لوگ بھی ناشکری کرنے لگیں
تب بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے

اور موسیٰ نے (صاف صاف) کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور
لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ بھی
بے نیاز (اور) قابل تعریف ہے (8:14)

(اور) اسے راستہ بھی دکھا دیا۔ (اب وہ) خواہ شکر گزار
ہو خواہ ناشکرا (3:76)

مزيد حوالہ 267:2 37:4 73,40:27
7:39 17:34
صفحة 301,1115,302,1078,497,271

اللہ کسی ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا

اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے بے
شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور نعمت کا شکر نہ کرنے
والے کو دوست نہیں رکھتا (38:22)

مزيد حوالہ 7:39 83:16
صفحة 301, 302

ناشکری کے باعث پچھلی اقوام پر عذاب

حوالہ 16:34 21: صفحہ 1114, 1115
مزيد صفحہ 1045,685,679,673

**THANKLESSNESS - MAY EXPERIENCE
A PALL OF HUNGER AND FEAR**

Allah coins a similitude: A township that dwelt secure and well content, its provision coming to it in abundance from every side, but it disbelieved in Allah's favours, so Allah made it experience the garb of dearth and fear because of what they used to do. (16:112)

For detail Consult Page 1045

**ULTIMATE FATE OF
UNGRATEFUL PEOPLE**

Have you not seen those who gave the grace of Allah in exchange for thanklessness and led their people down to the Abode of loss?, (14:28)

Even to Hell? They are exposed thereto. A hapless end! (14:29)

The sentence will be): Let both pass every stubborn disbeliever into Hell. (50:24)

Reference : 2:267 11:9 14:7,34
Page 271 409 300,102
6:55 28:81 29:66 30:34 31:32
407 1031 407 407 407
4:17 39:7 42:48 43:15 100:6
115 301 405 408 408

**EVERYONE WILL BE QUESTIONED CONCERNING
BLISS ON THAT DAY**

And, on that Day, you will be asked concerning the blessings (joy you indulged in.) (102:8)

Reference : 10:12,22,23 17:67 29:65
Page 33 39,8,49 41:49,51
406, 124, 407, 418, 408, 412

**WHY DON'T YOU THANK ALLAH(SWT)
FOR HIS FAVOURS BESTOWED UPON YOU**

**MOST OF YOU ARE THANKLESS TOWARD BOUNTIES
FAVOURS AND MERCY OF ALLAH(SWT)**

They know the favours of Allah and can deny it. Most of them are ingrates. (16:83)

Indeed, your Lord is full of bounty for mankind, but most of them do not give thanks. (27:73)

Reference : 2:243 7:10 10:60
Page 1065 300 507
1:18 16:78 17:70 22:66 23:18,78
396 404 408 346,408
2:56 31:32 32:9 34:13 36:35
407 397 1073 358
3:8 40:61 42:48 43:15 53:34
336 408 408 278
5:70 80:17 90:8,9,10 100:6,7
408 404 408

عقاب کفران النعمة فى الحياة الدنيا

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾
﴿١١٢ النحل﴾

وللتفصيل راجع الصفحة ١٠٤٥

عقاب کفران النعمة فى الآخرة

الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا كُفَرُوا
أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿١٤﴾
﴿١٤ ابراهيم ٢٨﴾
جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا مِنْ مَوْبِقِ الْقَرَارِ ﴿١٩﴾
﴿١٩ ابراهيم ٢٩﴾
الْقِيَامِ فِي جَهَنَّمَ كُلِّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ ق ٢٤﴾

وللمزيد راجع البقرة: ٢٦٧: ١١ هود: ٩: ١٤ ابراهيم: ٢٤، ١٦ النحل: ٥٥: ٢٨ القصص: ٨١: ٢٩ العنكبوت: ٢٦: ٣٠ الروم: ٣٤: ٣١ لقمان: ٢٢: ٣٤ سباء: ١٧: ٣٤ سباء: ١٧: ٣٩ الزمر: ٧: ٤٢ الشورى: ٤٨: ٤٣ الزخرف: ١٥: ١٠٠ العاديات: ٦

نعيم الدنيا مسئول عنه يوم القيامة

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿١٠٢﴾
﴿١٠٢ التكاثر ٨﴾

وللمزيد راجع البقرة: ٢٦٧: ١١ هود: ٩: ١٤ ابراهيم: ٢٤، ١٦ النحل: ٥٥: ٢٨ القصص: ٨١: ٢٩ العنكبوت: ٢٦: ٣٠ الروم: ٣٤: ٣١ لقمان: ٢٢: ٣٤ سباء: ١٧: ٣٤ سباء: ١٧: ٣٩ الزمر: ٧: ٤٢ الشورى: ٤٨: ٤٣ الزخرف: ١٥: ١٠٠ العاديات: ٦

لماذا الا تشكرون

اكثر كم لا يشكرون

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾
﴿٨٣ النحل﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾
﴿٧٣ النمل﴾

وللمزيد راجع البقرة: ٢٤٣: ٧ الأعراف: ١٠: ١٠ يونس: ٦٠: ١٢ يوسف: ٢٨: ١٦ النحل: ٧٨: ١٧ بنى اسرائيل: ٧٠: ٢٢ الحج: ٦٦: ٢٣ المؤمنون: ٧٨: ٢٩ العنكبوت: ٢٦: ٣١ لقمان: ٣٢: ٩: ٤٨ سباء: ١٣: ٣٥ يونس: ٣٥: ٣٩ الزمر: ٨: ٤٠ المؤمنون: ٦١: ٤٢ الشورى: ٤٨: ٤٣ الزخرف: ١٥: ٥٥ الرحمن: ٢٤: ٥٦ الواقعة: ٧٠: ٨٠ عبس: ١٧: ٩٠ البلد: ١٠٠: ١٠٠ العاديات: ٧: ٦

**کفران نعمت کی دنیا کی زندگی میں سزا
(تنگ دستی۔ بھوک اور خوف)**

اور اللہ ایک گاؤں کی مثال بیان فرماتا ہے جہاں (ہر طرح) امن چین سے زندگی تھی ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر (ناشکری کا) مزہ چکھا دیا (112:16)

تفصیل کے لیے دیکھئے صفحہ 1045

کفران نعمت (ناشکری) تحدیث نعمت کی آخرت میں سزا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا۔ اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا؟ (28:14)

(وہ گھر) دوزخ (ہے سب ناشکرے) اس میں داخل ہوں گے اور برا ٹھکانا ہے (29:14)

(حکم ہوگا کہ) ہر سرکش (اور) ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو (24:50)

وللمزيد راجع البقرة: 267: 2 11:9 14:7,34 16:83 27:73 28:14 29:14 30:34 31:32 34:13 36:35 39:6 40:61 42:48 43:15 50:24 53:34 73:73 83:16 102:8 112:16 116:83 117:23 121:24 122:1 123:1 124:1 125:1 126:1 127:1 128:1 129:1 130:1 131:1 132:1 133:1 134:1 135:1 136:1 137:1 138:1 139:1 140:1 141:1 142:1 143:1 144:1 145:1 146:1 147:1 148:1 149:1 150:1 151:1 152:1 153:1 154:1 155:1 156:1 157:1 158:1 159:1 160:1 161:1 162:1 163:1 164:1 165:1 166:1 167:1 168:1 169:1 170:1 171:1 172:1 173:1 174:1 175:1 176:1 177:1 178:1 179:1 180:1 181:1 182:1 183:1 184:1 185:1 186:1 187:1 188:1 189:1 190:1 191:1 192:1 193:1 194:1 195:1 196:1 197:1 198:1 199:1 200:1

شکر نعمت کے بارے میں یوم حساب ضرور پوچھا جائے گا پھر اس روز تم سے (شکر) نعمت کے بارے میں سوال ہوگا (8:102)

وللمزيد راجع البقرة: 267: 2 11:9 14:7,34 16:83 27:73 28:14 29:14 30:34 31:32 34:13 36:35 39:6 40:61 42:48 43:15 50:24 53:34 73:73 83:16 102:8 112:16 116:83 117:23 121:24 122:1 123:1 124:1 125:1 126:1 127:1 128:1 129:1 130:1 131:1 132:1 133:1 134:1 135:1 136:1 137:1 138:1 139:1 140:1 141:1 142:1 143:1 144:1 145:1 146:1 147:1 148:1 149:1 150:1 151:1 152:1 153:1 154:1 155:1 156:1 157:1 158:1 159:1 160:1 161:1 162:1 163:1 164:1 165:1 166:1 167:1 168:1 169:1 170:1 171:1 172:1 173:1 174:1 175:1 176:1 177:1 178:1 179:1 180:1 181:1 182:1 183:1 184:1 185:1 186:1 187:1 188:1 189:1 190:1 191:1 192:1 193:1 194:1 195:1 196:1 197:1 198:1 199:1 200:1

تم شکر کیوں نہیں کرتے

تم میں سے اکثر شکر نہیں کرتے

یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر (واقف ہو کر) ان سے انکار کرتے ہیں۔ اور یہ اکثر ناشکرے ہیں (83:16)

اور بے شک تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے (73:27)

وللمزيد راجع البقرة: 243: 7 الأعراف: 10: 10 يونس: 60: 12 يوسف: 28: 16 النحل: 78: 23 78:18:23 66:22 70:17 78:16 407 346,408 408 404 396 8:39 35:36 13:34 9:32 32:31 407 358 1073 397 407 70:56 34:55 15:43 48:42 61:40 347 278 408 408 336 7,6:100 10,9,8:90 17:80 408 404 408

TAWAKKUL
ABSOLUTE CONFIDENCE - FULL TRUST
AND RELIANCE IN ALLAH (SWT)

التوکل علی اللہ

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ "توکل"

If Allah is your helper none can overcome you, and if He withdraws His help from you, who is there to help you? In Allah let believers put their trust. (3:160)

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾
﴿٣ آل عمران ١٦٠﴾

اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ جو تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں (160:3)

How should we not put our trust in Allah when He has shown us our ways? We surely will endure patiently that hurt you do us. In Allah (Alone) should the reliant rely! (14:12)

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصَبِرَ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾
﴿١٤ ابراہیم ١٢﴾

اور ہم کیوں کر اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے (دین کے سیدھے) راستے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے۔ اور اہل توکل کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے (12:14)

And put your trust in the Living One Who dies not, and hymn His praise. He suffices as the Knower of His bondmen's sins, (25:58)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ ذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ﴿٥٨﴾
﴿٢٥ الفرقان ٥٨﴾

اور اسی اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جسے کبھی موت نہیں اور اسی کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے (58:25)

And put your trust in the Mighty, the Merciful. (26:217)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢١٧﴾

اور (اللہ) غالب (اور) مہربان۔ پر بھروسہ رکھو (217:26)

And put your trust in Allah, for Allah is sufficient as Trustee. (33:3)

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٣﴾

اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے (3:33)

Surely! Conspiracy is only of the devil, that he may vex those who believe; but he can harm them not at all unless by Allah's leave. In Allah let believers put their trust. (58:10)

إِنَّمَا التَّجْوِي مِّنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَفَىٰ بِيضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾
﴿٥٨ المجادلة ١٠﴾

(کافروں کی) سرگوشیاں تو شیطان (کی حرکات) سے ہیں (جو) اس لئے (کی جاتی ہیں) کہ مومن (ان سے) غم زدہ ہوں مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں (10:58)

Allah! There is no god save Him. In Allah, therefore, let believers put their trust. (64:13)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾
﴿٦٤ التغابن ١٣﴾

اللہ (جو معبود برحق ہے اس) کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں (13:64)

More Reference :

3:186	8:61	9:129
Page 422	553	731
10:71,84	11:56,123	13:30
918,1022	931,108	170
16:42	27:79	29:59
671	735	880
42:10	67:29	33:3,48
738	740	303,610
		142

٦١: الأنفال	٣ آل عمران ١٨٦:	٨ الأنفال
٩ التوبة ١٢٩:	١٠ يونس ٨٤:٧١:	١١ هود ١٢٣:٥٦:
١٣ الرعد ٣٠:	١٤ ابراہیم ١٢٠:١١:	١٦ النحل ٤٢:
٢٧ النمل ٧٩:	٢٩ العنكبوت ٥٩:	٣٣ الاحزاب ٤٨:٣:
٣٩ الزمر ٣٨:	٤٢ الشورى ١٠٠:	٦٧ الملك ٢٩:

84,71:10	129:9	61:8	186:3
1022,918	731	553	422
42:16	12,11:14	30:13	123,56:11
671	303,195	170	108,931
38:39	48,3:33	59:29	79:27
142	610,303	880	735
		29:67	10:42
		740	738

IS ALLAH(SWT) NOT SUFFICIENT ENOUGH FOR ALL PROTECTION AND NEED OF HIS SERVANTS

O Prophet! Allah is sufficient for you and those who follow you of the believers. (8:64)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾
﴿٨ الانفال ٦٤﴾

کیا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کو کافی نہیں ہے

اے نبی! اللہ آپ کو اور مومنوں کو جو آپ کے ماننے والے ہیں کافی ہے (64:8)

Is not Allah sufficient for His servant? (Will not Allah defend His slave?) Yet they would frighten you with those besides Him. He whom Allah sends astray, for him there is no guide. (39:36)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ
بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٩﴾
الزمر ٣٩

کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں (یعنی غیر اللہ سے) ڈراتے ہیں۔ اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں (36:39)

More Reference : 9:129 17:65
Page 729, 769

والمزید راجع ۹ التوبة: ۱۲۹ ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل): ۶۵
الصفحة ۷۶۹, ۷۲۹

مزیّد حوالہ 65:17 129:9
صفحة 769, 729

**REWARD OF UNFLINCHING CONFIDENCE
IN ALLAH(SWT)**

No doubt! Those who say: Our Lord is Allah, and thereafter walk aright, there shall no fear come upon them neither shall they grieve. (46:13)

أَجْر التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾
الاحقاف ۱۳

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا اجر
جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوں گے (13:46)

**EVEN A SLIGHT SUSPICION OR DISTRUST
IN ALLAH(SWT) IS AGAINST FAITH**

Whoso is used to think (through envy) that Allah will not give him victory in the world and the Hereafter (and is enraged at the thought of his victory), let him stretch a rope up to the roof (of his dwelling), and let him hang himself. Then let him see whether his strategy dispels that towards which he rages! (22:15)

سوء الظن في الله تعالى ينافي
التوكل عليه
مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَصِرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾
الحج ۱۵

اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی
توکل کے منافی ہے
جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف (یعنی اپنے گھر کی چھت میں) ایک رسی باندھے پھر (اپنے حلق میں) پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ دے (پھر دیکھے کہ آیا تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے (15:22)

HOPELESSNESS-DESPONDENCY- CHAGRIN

القنوط

یاس ناامیدی

DO NOT DESPAIR OF THE MERCY OF ALLAH(SWT)

لا يجوز القنوط من رحمة الله تعالى
قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾
الزمر ٥٣

رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہونا چاہئے
(اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو) کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے (اور) وہ تو بخشنے والا مہربان ہے (53:39)

More Reference : 3:139 12:87 15:56
Page 139, 992, 957

والمزید راجع ۳ آل عمران: ۱۳۹ ۱۲ یوسف: ۸۷
الحجر: ۵۶ الصفحة ۹۵۷, ۹۹۲, ۱۳۹

مزیّد حوالہ 56:15 87:12 139:3
صفحة 957, 992, 139

**DESPONDENTS
WILL SUFFER PAINFUL DOOM**

Those who disbelieve in the revelations of Allah and in (their) meeting with Him, such have no hope of My mercy. For such there is painful doom. (29:23)

اليأس من رحمة الله إثم
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ رَسُولِهِ
يَسْأَلُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾
العنكبوت ٢٣

ناامیدی گناہ ہے
اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے ناامید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا (23:29)

More Reference : 12:87 15:56
Page 992, 957

والمزید راجع ۱۲ یوسف: ۸۷ ۱۵ الحجر: ۵۶
الصفحة ۹۵۷, ۹۹۲

مزیّد حوالہ 56:15 87:12
صفحة 957, 992

DO NOT FEEL GRIEVE FOR THE BOOTY THAT HAD ELUDED YOUR GRASP

-----That (He might teach) you not to sorrow either for that which you missed or for that which befell you. Allah is Informed of what you do. (3:153) PART

لا تحزنوا على ما فاتكم

بِعِزِّ لِكَيْلَا
تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣﴾
﴿٣ آل عمران ١٥٣﴾ جزء

کسی چیز کے جانے کا غم نہ کرو

تہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین اور اداس نہ ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے (3:153) جزو

DO NOT DESPAIR OVER MATTERS THAT PASS YOU WITHOUT EXULT OR WHAT HAS ESCAPED YOU

That you grieve not for the sake of that which has escaped you, nor yet exult because of that which has been given. Allah loves not all prideful boasters, (57:23)

لا يجوز اليأس على ما قلت منكم

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٥٧﴾
﴿٥٧ الحديد ٢٣﴾

توقع یا مراد پوری نہ ہونے پر غم نہ کرو

تاکہ جو (مطلب) تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو اور اللہ کسی اترانے اور شیخی خوروں کو دوست نہیں رکھتا (23:57)

TRUST IN ALLAH(SWT) A CURE TO PSYCHOLOGICAL DISTURBANCES

And Allah delivers those who ward off (evil) because of their deserts. Evil touches them not, nor do they grieve. (39:61)

التوکل علاج الجزع والخوف والقلق

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْلِ مَا كَانُوا يَلْعَنُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٦١﴾

توکل علی اللہ

گھبراہٹ۔ خوف اور پریشانی کا علاج ہے اور جو پرہیزگار ہیں ان کی (سعادت اور) کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی۔ اور غم ناک ہوں گے (61:39)

ALL MESSENGERS-PROPHETS OF ALLAH(SWT) PREACHED FOR "TAWAKAL" FULL RELIANCE UPON ALLAH(SWT)

أوصى جميع الرسل بالتوكل على الله

تمام پیغمبران نے "توکل" اللہ پر بھروسہ کی تعلیم دی

NOAH (PBUH)	10:71	نوح علیہ السلام	71: 10	حضرت نوحؑ
	Consult Page 918	١٠ یونس: ٧١ راجع الصفحة ٩١٨	دیکھئے صفحہ 918	
HUD (PBUH)	11:56	هود علیہ السلام	56: 11	حضرت ہودؑ
	Consult Page 931	١١ هود: ٥٦ راجع الصفحة ٩٣١	دیکھئے صفحہ 931	
ABRAHAM (PBUH)	60:4	ابراہیم علیہ السلام	4: 60	حضرت ابراہیمؑ
	Consult Page 950	٦٠ الممتحنة: ٤ راجع الصفحة ٩٥٠	دیکھئے صفحہ 950	
JACOB (PBUH)	12:67	یعقوب علیہ السلام	67: 12	حضرت یعقوبؑ
	Consult Page 989	١٢ يوسف: ٦٧ راجع الصفحة ٩٨٩	دیکھئے صفحہ 989	
SHUAIB (PBUH)	7:89 11:88	شعیب علیہ السلام	88: 11 89: 7	حضرت شعیبؑ
	Consult Page 999,998	٧ الأعراف: ٨٩ ١١ هود: ٨٨ راجع الصفحة ٩٩٨,٩٩٩	دیکھئے صفحہ 998,999	
MOSES (PBUH)	10:84	موسیٰ علیہ السلام	84: 10	حضرت موسیٰؑ
	Consult Page 1022	١٠ یونس: ٨٤ راجع الصفحة ١٠٢٢	دیکھئے صفحہ 1022	
JESUS (PBUH)	3:51 19:36	عیسیٰ علیہ السلام	36: 19 51: 3	حضرت عیسیٰؑ
	Consult Page 1098,1100	٣ آل عمران: ٥١ ١٩ مریم: ٣٦ راجع الصفحة ١١٠٠,١٠٩٨	دیکھئے صفحہ 1100,1098	

"TAQWA"

FEAR OF ALLAH'S ANGER

(COMBINATION OF PIETY FAITH AND LOYALTY)

التقوى

حسنة الله

تقوی - پروردگاری

الذین اتقوا الله ان الله علیہم یدات الصدور

O you who believe! observe your duty to Allah with right observance, and die not except those who have surrendered (to Him); (3:102)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾
﴿٣ آل عمران ١٠٢﴾

مومنو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا (3:102)

Remember Allah's Grace upon you and His covenant by which He bound you to Himself when you said: We hear and we obey; and keep your duty to Allah. Allah knows what is in the breasts (of men). (5:7)

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥ المائدة ٧﴾

اور اللہ نے جو تم پر نعمتیں نازل کی ہیں ان کو یاد کرو اور اس پختہ عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا (یعنی) جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے (اللہ کا حکم) سن لیا اور قبول کیا۔ اور اللہ سے ڈرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوں کی باتوں (تک) سے واقف ہے (5:7)

More Reference :

2:150,172,194,203	3:13
Page 695/696,450,647/664,293	698
131 5:3,8,96,100 7:59,63,77 8:69 21:28	
89,289,501 917,940 669 176	
6:124,126,142,144,161,163 31:33 43:63	
931,937,963, 418 1100	
9:18 64:16	
207 278	

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٧٢، ١٩٤، ٢٠٣ آل عمران: ١٣، ٤ النساء: ١٣١، ٥ المائدة: ١٠٠، ٩٦، ٨٠، ٣ الأعراف: ٧٧، ٦٣، ٥٩، ٨ الأنفال: ٦٩، ٢١ الأنبياء: ٢٨، ٢٦ الشعراء: ١٢٤، ١٢٦، ١٤٢، ١٤٤، ١٦١، ١٦٣، ٣١ لقمان: ٣٣، ٤٣ الزخرف: ٦٣، ٥٩ الحشر: ١٨، ٦٤ التغابن: ١٦، ٤

3:3 203,194,172,150:2
698 293,664/647,450,696/695
69:8 77,63,59:7 100,96,8,3:5 131:4
669 917,940 89,289,501 310
33:31 163,161,144,142,126,124:26 28:21
418 931,937,963 176
16:64 18:59 63:43
278 307 1100

FEAR ALLAH(SWT) ALONE

is only the devil who would make (men) fear his partisans. Fear them not; fear Me, if you are true believers. (3:175)

لَا تَخَافُوا إِلَّا اللَّهَ
إِنَّمَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾
﴿٣ آل عمران ١٧٥﴾

صرف اللہ تعالیٰ سے خوف کھاؤ
یہ (خوف دلانے والا) تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا (3:175)

More Reference :

2:74 3:200 5:35 8:2
Page 413, 646, 294, 295, 308

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٧٤، ٣ آل عمران: ٢٠٠، ٥ المائدة: ٣٥، ٨ الأنفال: ٢، ٣٥ فاطر: ٢٨، ٢٨

28:35 2:8 35:5 200:3 74:2
308, 295, 294, 646, 413

REWARD FOR FEARING OF ALLAH(SWT)

at those who keep their duty to their Lord, for them are Gardens underneath which rivers flow, wherein they will be safe forever. a gift of welcome from their Lord. at which Allah has in store is better for the righteous. (3:198)

أجر التقوى
لِئِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾
﴿٣ آل عمران ١٩٨﴾

تقوی (خوف اللہ تعالیٰ) کا اجر
لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور) ان میں ہمیشہ رہیں گے (یہ) اللہ کے ہاں سے (انکی) مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیک عمل کرنے والوں کے لئے بہت اچھا ہے (3:198)

O Children of Adam! Whenever messengers among yourselves came to you who narrate to you My revelations, then whosoever remains from evil and amends therein shall no fear come upon them neither shall they grieve. (35:7)

يَبْنَئِ أَدْمًا مِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾
﴿١٧ الأعراف ٣٥﴾

اے بنی آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں اور میری آیتیں تم کو سنایا کریں (تو ان پر ایمان لایا کرو کہ) جو شخص (ان پر ایمان لا کر اللہ سے) ڈرتا رہے گا اور برے کاموں سے دور رہے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے (35:7)

And the reward of the Hereafter is better, for those who believe and ward off (evil). (12:57)

But those who keep their duty to their Lord, for them are lofty mansions one above another built (for them), beneath which rivers flow. (It is) a promise of Allah. Allah fails not His promise. (39:20)

O you who believe! Be mindful of your duty to Allah and put faith in His messenger. He will give you twofold of His mercy and will appoint for you a light where in you shall walk, and will forgive you. Allah is Forgiving, Merciful: (57:28)

Those who fear their Lord even though (He is) Unseen, theirs will be forgiveness and a great reward. (67:12)

But as for him who has been afraid to stand before his Lord and restrained his soul from lust (passion), (79:40)

The Garden will be his home. (79:41)

He will heed who fears, (87:10)

But the most hapless will flout it, (87:11)

Their reward is with their Lord: Gardens of Eden underneath which rivers flow, wherein they will dwell forever. Allah is pleased with them and they are pleased with Him. This is (in store) for him who fears his Lord. (98:8)

More Reference : 3:200 5:35 8:29
30:13,31 39:10 52:26 55:46
Page 646, 294, 308, 814, 250, 299, 882, 874

HEED ALLAH (swt) TO PREPARE FOR MORROW

O you who believe! Observe your duty to Allah. And let every soul look to that which it sends on before for the morrow. And observe your duty to Allah! Indeed Allah is Informed of what you do. (59:18)

وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾
﴿١٢ يوسف ٥٧﴾

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُقْبَاءٌ مِّنْ قَوْعِمَا
عُرْفٍ مَّبْنُوتَةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ
اللَّهُ لِمُخْلِفي اللَّهِ الْمِبْعَادَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٢٠﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ
يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾
﴿٥٧ الحديد ٢٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾
﴿٦٧ الملك ١٢﴾

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾
﴿٧٩ النزعت ٤٠﴾

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾
﴿٧٩ النزعت ٤١﴾

سَيِّدٌ كَرِيمٌ يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾
﴿٨٧ الاعلى ١٠﴾

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾
﴿٨٧ الاعلى ١١﴾

جَزَاءُ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾
﴿٩٨ البينة ٨﴾

المعزني راجع ٣ آل عمران: ٢٠٠ ٥ المائدة: ٢٥ ٨ الأنفال: ٢٩
٣٠ الروم: ٢١ ٣٩ الزمر: ١٠ ٥٢ الطور: ٢١ ٥٥ الرحمن: ٤٦
الصفحة ٨٧٤, ٨٨٢, ٢٩٩, ٢٥٠, ٨١٤, ٣٠٨, ٢٩٤, ٦٤٦

اتقوا الله وقد موامن
الأعمال الصالحة للآخرة

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾
﴿٥٩ الحشر ١٨﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لئے
آخرت کا اجر بہت بہتر ہے (57:12)

اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لئے
اونچے اونچے محل ہیں جو منزل بہ منزل بنے ہوئے ہیں
ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور) اللہ کا وعدہ ہے۔
اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا (20:39)

مومنو! اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ وہ تمہیں
اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے
روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تم کو بخش دے گا اور
اللہ بخشنے والا مہربان ہے (28:57)

(اور) جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں
ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے (12:67)

اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا
اور نفس کو دنیاوی خواہشوں سے روکتا ہے (40:79)

اس کا ٹھکانا بہشت ہے (41:79)

جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑیگا (10:87)

اور (بے خوف) بد بخت گریز کرے گا (11:87)

ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ
ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ان
میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ
(صلہ) اس کے لئے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے
(8:98)

مزید حوالہ 3:200 5:35 8:29 31,13:30 29:8 35:5 200:3
46:55 26:52 10:39
صفحہ 874,882,299,250,814,308,294,646

اخروی زندگی (آخرت کے سامان)
کے لئے اللہ تعالیٰ کا ڈرا اختیار کرو

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا
چاہئے کہ اس نے کل (قیامت) کے لئے کیا (سامان)
بھیجا ہے اور (ہم پھر کہتے ہیں کہ) اللہ سے ڈرتے رہو
بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے
(18:59)

ALLAH (SWT) LOVES THE HEEDFUL WHO FEAR HIM MUCH

No, but (the chosen of Allah is) he who fulfills his pledge and wards off (evil); for Allah loves those who ward off (evil). (3:76)

يُحِبُّ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾
﴿٣ آل عمران ٧٦﴾

اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے

ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور (اللہ سے) ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (76:3)

LEARNED SERVANTS DREAD ALLAH (SWT) ALONE

Some human, wild beasts and livestock are of diverse hues, (different colours) as well. Yet only His learned servants dread Allah (alone), even though Allah is Powerful, Forgiving.. (35:28)

العلماء من عباد الله هم يخشون الله

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٣٥﴾
﴿٣٥ فاطر ٢٨﴾

اللہ تعالیٰ کا خوف اصحاب علم کی نشانی

انسانوں اور جانوروں اور چوپائے کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ بے شک اللہ غالب (اور) بخشنے والا ہے (28:35)

For Detail Consult : Chapter of Virtues of Believers Page 764

وللتفصيل راجع: صفات المؤمنين الصفحة ٧٦٤

احوال ہوا اللہ دیکھئے: صفات مومن صفحه 764

STATE OF SPIRITUAL EXCITEMENT DUE TO FEAR OF ALLAH (SWT)

Allah has (now) revealed the fairest of statements, a Scripture consistent, (wherein promises of reward are) paired (with threats of punishment), whereat does creep the flesh of those who fear their Lord, so that their flesh and their hearts soften to Allah's reminder. Such is Allah's guidance, where with He guides whom He wills. And him whom Allah sends astray, for him there is no guide. (39:23)

القشعريرة كيفية لخشية الله

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مّتَابِرًا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَدِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٢٣﴾

خوف الہی کی ایک کیفیت

مذہب نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں (یعنی) کتاب (جس کی آیتیں باہم) ملتی جلتی (ہیں) اور دہرائی جاتی (ہیں) جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے (اس سے) روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے بدن اور دل نرم (ہو کر) اللہ کی یاد کی طرف (متوجہ) ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں (23:39)

For Reference : 8:2 Page 295

وللمزيد راجع ٨ الأنفال: ٢ الصفحة ٢٩٥

مزيد حوالہ 2:8 صفحه 295

IF YOU HEED ALLAH (SWT), HE WILL ABSOLVE YOUR EVIL DEEDS AND FORGIVE YOU

you who believe! If you keep your duty to Allah, He will give you discrimination (between right and wrong) and will rid you of your evil thoughts and deeds, and will forgive you. Allah is of Infinite bounty. (29)

إن تتقوا الله يغفر لكم ويكفر عنهم سيئاتكم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾
﴿٢٩ الأنفال ٢٩﴾

اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور بخش دے گا

مومنو! اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تم کو (کسوٹی) فیصلے کی ایک چیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے (29:8)

CONSIDER YOUR PAST BEWARE OF YOUR FUTURE IN ORDER TO QUALIFY FOR MERCY OF ALLAH (SWT)

When it is said to them: Beware of that which is before you and that which is behind you, that haply you may find mercy (they are heedless). (45)

التقوى موجب لرحمة الله

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾
﴿٣٦ يسين ٤٥﴾

ماضی کے آئینے میں مستقبل کی فکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگلے اور پچھلے (گناہوں) سے بچو اور (اس سے ڈرو) تاکہ تم پر رحم کیا جائے (45:36)

Those before them denied, and so the doom came on them from where they knew not. (39:25)

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾
﴿٣٩ الزمر ٢٥﴾

جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آگیا کہ ان کو خبر نہ تھی (25:39)

**ALWAYS DREAD ALLAH(SWT)
AS HIS PUNISHMENT CAN SEIZE IN
VARIOUS WAYS AT ANY TIME**

Say: Can you consider yourselves, if the punishment of Allah comes upon you suddenly or openly? Would any perish save wrongdoing folk? (6:47)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾
﴿٦ الانعام ٤٧﴾

کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ (47:6)

Are the people of the townships feel secure from the coming of Our wrath upon them as a night raid while they sleep? (7:97)

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾
﴿١٧ الاعراف ٩٧﴾

کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ (بے خبر) سو رہے ہوں (97:7)

Are the people of the townships feel secure from the coming of Our wrath upon them in the daytime while they play? (7:98)

أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفًا وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾
﴿١٧ الاعراف ٩٨﴾

اور کیا اہل شہر اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آنازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں (98:7)

Is it not an indication to those who inherit the land after its people (who thus reaped the consequence of evil doing) that, if We will, We can smite them for their sins and print upon their hearts so that they hear not? (7:100)

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾
﴿١٧ الاعراف ١٠٠﴾

کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے (مر جانے کے) بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں گے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں (100:7)

Are they who plan ill deeds are then secure that Allah will not cause the earth to swallow them, or that the doom will not come on them from where they know not? (16:45)

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾
﴿١٦ النحل ٤٥﴾

کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا (ایسی طرف سے) ان پر عذاب آجائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو (45:16)

Or that He will not seize them in their going to and fro so that there be no escape for them? (16:46)

أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَيَأْتِيَهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾
﴿١٦ النحل ٤٦﴾

یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے وہ (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے (46:16)

Or that He will not seize them with a gradual wasting? Surely your Lord is indeed full of Pity, Merciful! (16:47)

أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾
﴿١٦ النحل ٤٧﴾

یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا (اور) مہربان ہے (47:16)

Thus Allah made them taste humiliation in the life of the world, and the doom of the Hereafter will be greater if they did but know. (39:26)

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٣٩ الزمر ٢٦﴾

پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ سمجھ رکھتے۔ (26:39)

**TRIAL OF ALLAH (SWT)
EFFECTS INNOCENT AND GUILTY ALIKE**

And guard yourselves against a chastise which cannot fall exclusively on those of you who are wrongdoers, and know that Allah is severe in punishment. (8:25)

**DO YOU FEEL SECURE THAT ALLAH (SWT)
WILL NOT LET THE EARTH SWALLOW YOU BY
SHAKING IT WITH EARTHQUAKE**

Have you taken security from Him Who is in the heaven that He will not cause the earth to swallow you when it is convulsed? (67:16)

**HAVE YOU ANY SECURITY AGAINST VIOLENT
WIND - TORNADO AND HAIL STORMS**

Or have you taken security from Him Who is in the heaven that He will not let loose on you a hurricane? But you shall know the manner of My warning. (67:17)

**ALLAH (SWT) MAY CAUSE A PIECE
OF SKY DROP DOWN ON YOU**

Have they not observed what is before them and what is behind them of the sky and the earth? If We will, We can make the earth swallow them, or cause obliteration from the sky to fall on them. Herein surely is a portent for every slave who turns to Allah) repentant. (34:9)

And if they were to see a fragment of the heaven falling, they would say: A heap of clouds. (52:44)

**ALL THE PEOPLE OF SCRIPTURES WERE PREACHED
BY PROPHETS TO FEAR ALLAH (SWT)**

And Allah belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. And We charged those who received the Scripture before you, and (We charge) you, that you keep your duty towards Allah. And if you disbelieve, Allah belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and Allah is ever Absolute, Owner of Grace. (4:131)

عذاب اللہ يتعرض للجميع

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾
﴿٨ الانفال ٢٥﴾

ء أمنتم أن يخسف الله بكم الأرض؟

ء أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هي تمور ﴿١٦﴾
﴿٦٧ الملك ١٦﴾

ء أمنتم أن يرسل عليكم حاصبا؟

ء أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ﴿١٧﴾
﴿٦٧ الملك ١٧﴾

إن شاء الله يسقط عليكم كسفامن السماء

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ﴿٩﴾
﴿٣٤ سبا ٩﴾

وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب متركوم ﴿٤٤﴾
﴿٥٢ الطور ٤٤﴾

أمر رسل الله جميع الناس بالتقوى

ولله ما في السموات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ﴿١٣١﴾
﴿٤ النساء ١٣١﴾

عذاب الہی (آزمائش) آنے پر نیک اور بد (بلا تخصیص) مبتلا ہو جاتے ہیں

اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (25:8)

کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں غرق کر دے یا زلزلہ بھیج دے

کیا تم اس (اللہ) سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین لرزے لگے؟ (16:67)

کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تم پر کنکر بھری آندھی چھوڑ دے

کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے (اللہ سے) بے فکر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟۔ سو تم عنقریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے (17:67)

اللہ چاہے تو تم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے

کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین؟۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ اس میں ہر بندے کے لئے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے (9:34)

اور اگر یہ آسمان (سے عذاب) کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے (44:52)

تمام مذاہب اور اقوام کو پیغمبران نے تقویٰ کی تبلیغ کی ہے

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور (اے محمد) آپ کو بھی ہم نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اور اگر انکار کر دے تو (سمجھ رکھو کہ) جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ بے پرواہ اور لائق حمد و ثنا ہے (131:4)

For Detail Consult Chapters of :	والتفصیل راجع ابواب :	تفصیل کیلئے دیکھئے ابواب :
NOAH (PBUH) 23:23 26:106,108,110 Consult Page 919	نوح علیہ السلام ۲۳ المؤمنون: ۲۳ الشعراء: ۱۰۸، ۱۰۶، ۱۱۰ راجع الصفحة ۹۱۹	حضرت نوح علیہ السلام 23:23 26:106,108,110 دیکھئے صفحہ 919
HUD (PBUH) 7:65 26:126,131,132 Consult Page 930, 931	ہود علیہ السلام ۷ الأعراف: ۶۵ الشعراء: ۱۲۶، ۱۳۱، ۱۳۲ راجع الصفحة ۹۳۰، ۹۳۱	حضرت ہود علیہ السلام 7:65 26:126,131,132 دیکھئے صفحہ 930, 931
SALIH (PBUH) 26:144,150 Consult Page 937	صالح علیہ السلام ۲۶ الشعراء: ۱۴۴، ۱۵۰ راجع الصفحة ۹۳۷	حضرت صالح علیہ السلام 26:144,150 دیکھئے صفحہ 937
ABRAHEM (PBUH) 29:16 Consult Page 948	ابراہیم علیہ السلام ۲۹ العنکبوت: ۱۶ راجع الصفحة ۹۴۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام 29:16 دیکھئے صفحہ 948
LOT (PBUH) 11:78 15:69 26:162,163 Consult Page 966, 963	لوط علیہ السلام ۱۱ ہود: ۷۸ ۱۵ الحجر: ۶۹ الشعراء: ۱۶۲، ۱۶۳ راجع الصفحة ۹۶۳، ۹۶۶	حضرت لوط علیہ السلام 11:78 15:69 26:162,163 دیکھئے صفحہ 966, 963
SHUAIB (PBUH) 26:177,179,184 Consult Page 999	شعیب علیہ السلام ۲۶ الشعراء: ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۴ راجع الصفحة ۹۹۹	حضرت شعیب علیہ السلام 26:177,179,184 دیکھئے صفحہ 999
MOSES (PBUH) 7:156 21:49 Consult Page 1015,1048	موسیٰ علیہ السلام ۷ الأعراف: ۱۵۴ ۲۱ الأنبياء: ۴۹ راجع الصفحة ۱۰۱۵، ۱۰۴۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام 7:156 21:49 دیکھئے صفحہ 1015,1048
ELIAS (PBUH) 37:124 Consult Page 1066	الیاس علیہ السلام ۳۷ الصافات: ۱۲۴ راجع الصفحة ۱۰۶۶	حضرت الیاس علیہ السلام 37:124 دیکھئے صفحہ 1066
JESUS (PBUH) 3:50 5:112 43:63 Consult Page 1101,1100	عیسیٰ علیہ السلام ۵ المائدة: ۱۱۲ ۴۳ الزخرف: ۶۳ آل عمران: ۵۰ راجع الصفحة ۱۱۰۰، ۱۱۰۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3:50 5:112 43:63 دیکھئے صفحہ 1101,1100

OBJECT OF EVERY WORSHIP (RITUAL) IN ISLAM IS TAQWA (THE INTENSE DESIRE TO AVOID EVERYTHING WHICH IS AGAINST THE WILL OF ALLAH(SWT))

غاية كل العبادات في الدين السلامي التقوي

مذہب اسلام کی تمام عبادات کا مقصود تقویٰ

For Detail Consult Chapters of :	والتفصیل راجع ابواب :	تفصیل کیلئے دیکھئے ابواب :
SALAT (PRAYER) 20:132 Page 251	الصلوة ۲ طہ: ۱۳۲ الصفحة ۲۵۱	نماز 20:132 صفحہ 251
SAUM (FASTING) 2:183 Page 100	الصوم ۲ البقرة: ۱۸۳ الصفحة ۱۰۰	روزہ 2:183 صفحہ 100
PILGRIMAGE 2:197,203 Page 288,293	الحج ۲ البقرة: ۱۹۷، ۲۰۳ الصفحة ۲۸۸، ۲۹۳	حج 2:197,203 صفحہ 288,293
SACRIFICE 22:37 Page 292	النحر ۲۲ الحج: ۳۷ الصفحة ۲۹۲	قربانی 22:37 صفحہ 292

WHY DON'T YOU FEAR ALLAH(SWT)

لماذا لا تتقون الله

پھر تم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے

Say: Who is the Lord of the seven heavens, and Lord of the Tremendous Throne? (23:86)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۲۳﴾
المؤمنون ۸۶

(ان سے) پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا (کون) مالک ہے؟ (23:86)

They will say: To Allah (all that belongs). Say: Will you not then keep your duty (to Him)? (23:87)

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾
المؤمنون ۸۷

تو یہ لوگ کہہ دیں گے کہ (یہ چیزیں) اللہ ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ (23:87)

More Reference :	والمزيد راجع	مزید حوالہ
6:47 7:65,97,99,100 10:31 Page 309 930,309,127 388	۶ الأنعام: ۴۷ ۷ الأعراف: ۶۵، ۹۷، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱ ۱۰ یونس: ۳۱ ۱۶ النحل: ۴۵ ۲۳ المؤمنون: ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	7:65,97,99,100 47:6 309 309
16:45 23:23,32,87 26:142 309 919,191,311 937	۲۶ الشعراء: ۱۴۲ والتفصیل راجع باب	7:65,97,99,100 47:6 930,309,127 309

For Detail Consult Chapter of :
ULTIMATE FATE OF WICKED PEOPLE IN HISTORICAL PERSPECTIVE
Consult Page : 677,679

عاقبة الاقوام المكذبين في ضوء التاريخ
راجع الصفحة ۶۷۷، ۶۷۹

تفصیل کیلئے دیکھئے باب
گذشتہ مکرر اقوام کا انجام تاریخ کے آئینے میں
دیکھئے صفحہ 679,677

ASKING FORGIVENESS (PARDON) FROM ALLAH(SWT)

الاستغفار

اور حالی سے گناہوں کی مغفرت
(میرزا) کا لکھا استغفار

VIRTUE OF ASKING FORGIVENESS FROM ALLAH(SWT)

فضل الاستغفار

استغفار کی فضیلت

-----But Allah provides forgiveness from Himself with bounty. Allah is All-Embracing, All Knowing. (2:268) PART

----- وَاللّٰهُ يُعِدُّكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ البقرة ٢٦٨ ﴿جزء ٢﴾

----- اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ بڑی وسعت والا ہے (اور) سب کچھ جاننے والا ہے (268:2) جزو

And seek forgiveness of Allah. No doubt Allah is ever Forgiving, Merciful. (4:106)

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٦﴾ النساء ١٠٦ ﴿

اور اللہ سے بخشش مانگنا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (106:4)

and (bidding you) : Ask pardon of your Lord and turn to Him repentant. He will cause you to enjoy a fair estate until a time appointed. He gives His bounty to every bountiful one. But if you turn away, (then) I fear for you the tribulation of an awful Day. (11:3)

وَ اِنْ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ لِيُمَتِّعْكُم مَّتّٰعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِيْ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهُ طُوْرًا وَّ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اَخٰفَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ﴿١١﴾ هود ١١ ﴿

اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا اور اگر تم منہ موڑ لو گے تو مجھے تمہارے بارے میں (قیامت) کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے (11:3)

and nothing hinders mankind from believing when the guidance comes to them, and from asking forgiveness of their Lord, unless (it be that they wish) that the judgement of the men of old should come upon them or (that) they should be confronted with the Doom. (18:55)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى وَّ يَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةٌ اِلَّا قٰلِيْنَ اَوْ يٰٓاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلًا ﴿٥٥﴾ الكهف ٥٥ ﴿

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آگئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں۔ سوائے اس کے کہ (اس بات کے منتظر ہوں کہ) انہیں بھی پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے۔ یا ان پر عذاب سامنے آ موجود ہو (55:18)

when hymn the praises of your Lord, and seek forgiveness of Him. Surely He is ever ready to show mercy. (110:3)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾ النصر ٣ ﴿

تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے (3:110)

Reference :

2:128,160,286	146,18,17:4	286,160,128:2
92,315,674/1124	318,317	1124/674,315,92
7:18,146	5:39,74	6:54 7:153 8:38
18,317	316,319	119 316 318
102,104	10:90,91	11:52,61,90 15:49
13,285	1041	933,936,1001 119
119	19:60	20:73,82 25:71 27:46
18	315	1029,315 315 938
167	40:55,85	42:5,25 57:21 66:8
15	295,317	378,315 313 317
10,11,13		
1,400		

المعزین راجع ٢ البقرة ١٦٠:١٢٨: ٢٨٢:٤ النساء ١٧:١٨٠:١٤٦

٥ المائدة: ٣٩: ٧٤	٦ الأنعام: ٥٤	٧ الأعراف: ١٥٣
٨ الأنفال: ٣٨	٩ التوبة: ١٠٢: ١٠٤: ١٠٠: ٩١	١٠ يونس: ٩٠: ٩١
١١ هود: ٥٢: ٦١: ٩٠	١٥ الحجر: ٤٩	١٦ النحل: ١١٩
١٩ مريم: ٦٠	٢٠ طه: ٧٣: ٨٢	٢٥ الفرقان: ٧١
٢٧ النمل: ٤٦	٢٨ القصص: ٦٧	٤٠ المؤمنون (غافر): ٨٥: ٥٥
٤٢ الشورى: ٢٥: ٥٥	٥٧ الحديد: ٢١	٦٦ التحريم: ٨
٧١ نوح: ١٠: ١١: ١٣		

مزید حوالہ

146,18,17:4	286,160,128:2	318,317	1124/674,315,92
104,102:9	38:8	153:7	54:6 74,39:5
285,316	318	316	119 319,316
119:16	49:15	90,61,52:11	91,90:10
318	119	1001,936,933	1041
67:28	46:27	71:25	82,73:20 60:19
315	938	315	315,1029 315
8:66	21:57	25,5:42	85,55:40
317	313	315,378	317,295
			13,11,10:71
			400,261

SUITABLE TIMINGS FOR PRAYING FOR FORGIVENESS FROM ALLAH(SWT)

الأوقات المناسبة للاستغفار

استغفار کے لئے موزوں اوقات

Detail Consult

2:199	3:17	15:98,99
291	764	269
2:4	33:42	40:55 50:39,40 52:48
7:0	295	295 295 295
7:0	94:7,8	296

وللفصل راجع ٢ البقرة ١٩٩: ٣ آل عمران ١٧: ١٥ الحجر: ٩٩: ٩٨: ٦٤ الفرقان: ٢٥ ٣٣ الأحزاب: ٤٢ ٤٠ المؤمنون (غافر): ٥٥: ٥٥ ق: ٣٩: ٤٠: ٥٢ الطور: ٤٨ ٧٣ المزمل: ٢٠: ٩٤ الشرح: ٨٠: ٧

تفصیل کے لئے دیکھیے

99,98:15	17:3	199:2	269	764	291
40,39:50	55:40	42:33	295	295	295
	8,7:94	20:73	296	768	295

RUSH FOR ASKING PARDON FROM ALLAH(SWT) JUST AFTER FEELING SORROW OF MISDEED

And those who, when they do an evil thing or wrong themselves, remember Allah and implore forgiveness for their sins--Who forgives sins except Allah only?--and will not knowingly repeat (the wrong) they did. (3:135)

The reward of such will be forgiveness from their Lord, and Gardens underneath which rivers flow, wherein they will live forever, and a bountiful reward for workers! (3:136)

Yet whoso does evil or wrongs his own soul, then seeks pardon of Allah, will find Allah Forgiving, Merciful. (4:110)

التعجيل في الاستغفار عند ارتكاب ذنب

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ فَسَوْفَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٣٥﴾

﴿٣ آل عمران ١٣٥﴾

أُولَئِكَ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٣٦﴾

﴿٣ آل عمران ١٣٦﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عَفْوَ رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

﴿٤ النساء ١١٠﴾

گناہ سرزد ہو جانے پر فوراً مغفرت مانگنا (معافی کی طرف رجوع کرنا)

اور وہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے؟ اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے (3:135)

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں۔ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور) وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے۔ اور (اچھے) کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے (3:136)

اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا (اور) مہربان پائے گا (4:110)

More Reference : 4:64 7:153 9:104 41:6 66:8 Page 176, 316, 285, 133, 317

والمزيد راجع ٤ النساء: ٦٤ ٧ الأعراف: ١٥٣ ٩ التوبة: ١٠٤ ١٠٤ حم السجدة: ٦ ٦٦ التحريم: ٨

مزيد حوالہ 6:41 104:9 153:7 64:4 8:66 صفحہ 317,133,285,316,176

HASTEN TOWARDS BESEECHING FORGIVENESS FROM ALLAH(SWT)

Race one with another for forgiveness from your Lord and a Garden whereof the breadth is as the breadth of the heavens and the earth, which is in store for those who believe in Allah and His messengers. Such is the bounty of Allah, which He bestows upon whom He wills, and Allah is of Infinite bounty. (57:21)

المسارعة إلى مغفرة من الله

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٧﴾

﴿٥٧ الحديد ٢١﴾

بخشش طلب کرنے میں جلدی کرو

(بندوا) اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی (طرف) جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے (21:57)

More Reference : 3:133 4:18 5:34,74 Page 864 317 319 7:153 9:104 10:90,91 316 285 1040

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٣٣ ٤ النساء: ١٨ ٥ المائدة: ٧٤,٣٤ ٧ الأعراف: ١٥٣ ٩ التوبة: ١٠٤ ١٠ يونس: ٩١,٩٠

مزيد حوالہ 74,34:5 18:4 133:3 صفحہ 319 317 864 153:7 91,90:10 104:9 1040 285 316

ASKING PARDON OF SINS FROM ALLAH(SWT) WILL FOSTER YOUR SUSTENANCE AND STANDARDS

And I have said: Seek pardon of your Lord indeed He has been ever Forgiving. (71:10)

He will let loose the sky for you in plenteous rain, (71:11)

الاستغفار، موجب للزيادة في الرزق والوقار

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿٧١﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٧١﴾

﴿٧١ نوح ١١﴾

اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب استغفار، ذریعہ وسعت رزق ووقار

اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے (10:71)

وہ تم پر آسمان سے مینہ برسائے گا (11:71)

And will help you with wealth and sons, and will assign to you Gardens and will assign to you Rivers. (71:12)

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنَاءٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٧١ نوح ١٢﴾

اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور (ان میں) تمہارے لئے نہریں بہا دے گا (12:71)

More Reference : 11:52 Page 933

وللمزيد راجع 11 نوح 52: الصفحة 933

مزید حوالہ 52:11 صفحہ 933

BEG FORGIVENESS FOR YOUR SINS AS WELL AS FOR BELIEVING MEN AND WOMEN

الأمر بالاستغفار من ذنوب الذات واللمؤمنين والمؤمنات

اپنے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لئے مغفرت طلب کرنے کا حکم

So know that there is no deity except Allah, and ask forgiveness for your sins and for believing men and believing women. Allah knows (both) how you move about and how you dwell in your homes. (47:19)

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿٤٧ محمد ١٩﴾

پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو (اور) مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے بھی، اور اللہ تم لوگوں کی آمدورفت اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے (19:47)

SUPPLICATIONS FOR BEGGING FORGIVENESS OF WRONGDOINGS FROM ALLAH (SWT)

الأدعية للاستغفار

استغفار کی دعائیں

And say: My Lord! Forgive me and have mercy, for You are the best of all who show mercy. (23:118)

وقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿٢٣ المؤمنون ١١٨﴾

اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور (مجھ پر) رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے (118:23)

More Reference : 2:286 3:16,147,193,194 Page 674/1124 1125,653,1124, 23:155 11:41,47 14:41 21:87 59:10 12,1051 924,927 453 1085 1124 1:28 5:23

وللمزيد راجع 2: البقرة: 286 آل عمران: 16، 147، 193، 194 7: الأعراف: 194، 193، 147، 41: هود: 41، 23: 11 23: 155، 11: 41، 47، 14: 41، 21: 87، 59: 10، 12، 1051، 924، 927، 453، 1085، 1124، 1: 28، 5: 23

مزید حوالہ 2:286 3:16، 147، 193، 194 صفحہ 674/1124 1125، 653، 1124، 23:155 11:41، 47 14:41 21:87 59:10 12، 1051، 924، 927، 453 1085، 1124 28:71 10:59 923 1124

ALL MESSENGERS PREACHED THEIR NATIONS TO ASK FORGIVENESS FROM ALLAH (SWT) FOR THEIR DERAILMENT

أوصى جميع الرسل بالاستغفار

تمام پیغمبران نے اپنی اقوام کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی ہدایت کی

For Detail Consult : 11:52,61,90 27:46 1:10,12,13 Page 933,936,937,919,1001,920

وللتفصيل راجع 11 نوح: 52، 61، 90، 27 النمل: 27 71 نوح: 10، 12، 13، 3، 16، 147، 193، 194، 41، 23، 11، 14، 47، 14، 41، 21، 87، 59، 10، 12، 1051، 924، 927، 453، 1085، 1124، 1: 28، 5: 23

تفصیل کیلئے دیکھئے 11: 52، 61، 90، 27: 46 1، 10، 12، 13 صفحہ 933، 936، 937، 919، 937، 936، 933

WAYS AND MEANS OF REDEMPTION (FORGIVENESS AND PARDON) OF SINS AND MISDEEDS IN ISLAM

موجبات المغفرة في الدين الإسلامي

مذہب اسلام میں موجبات مغفرت (گناہوں سے معافی کے اسباب)

For Detail Consult Following Chapter :

وللتفصيل راجع ابواب

تفصیل کیلئے دیکھئے مندرجہ ذیل ابواب

REPENTANCE	Page :315	التوبة	315 صفحہ
PRAYER	Page : 250	الصلوة	250 صفحہ
ZAKAT (POOR-DUE)	Page : 265	الزكاة	265 صفحہ
GENEVOLENCE	Page : 275	الانفاق في سبيل الله	275 صفحہ
VOLUNTARY CHARITY	Page : 284	الصدقة	284 صفحہ
QWA (Fearing form Allah's displeasure)	Page : 306	التقوى	306 صفحہ
JHAD (Strugske in the Allah's way)	Page : 642	الجهاد	642 صفحہ
FORGIVENESS	Page : 312	العفو والصفح	312 صفحہ
REFRAINING FROM GREATER SINS	Page : 120	اجتناب الكبائر	120 صفحہ
REPENT OF WRONGDOINGS	Page : 316	الاعتراف بالذنب	316 صفحہ
REDEMPTION FOR A SIN	Page : 573	ازالة الإثم	573 صفحہ
Quranic Supplications	Page : 1116	الأدعية القرآنية	1116 صفحہ

**REPENTANCE
REGRET OF WRONGDOINGS**

التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ

**توبہ
گناہوں پر مذمت**

Except such of them as repent and amend and make manifest (the truth). These are they towards whom I relent. I am the Relenting, the Merciful. (2:160)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾
﴿٢ البقرة ١٦٠﴾

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور (احکام الہی) کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا (اور) رحم کرنے والا ہوں (160:2)

Save him who shall repent and believe and do right. Such will enter the Garden and they will not be wronged in anyway. (19:60)

الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾
﴿١٩ مريم ٦٠﴾

ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کئے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا (60:19)

And I am Forgiving towards him who repents and believes and does good, and afterward acts aright. (20:82)

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾
﴿٢٠ طه ٨٢﴾

اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے راستے پر چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں (82:20)

Save him who repents, believes and does righteous work; as for such, Allah will change their evil deeds to good deeds. Allah is ever Forgiving, Merciful. (25:70)

الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾
﴿٢٥ الفرقان ٧٠﴾

مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کئے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے (70:25)

And whosoever repents and does good, he repents towards Allah with true repentance. (25:71)

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾
﴿٢٥ الفرقان ٧١﴾

اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے (71:25)

But as for him who shall repent and believe and do right, he haply may be one of the successful. (28:67)

فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاعْتَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾
﴿٢٨ القصص ٦٧﴾

لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کئے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہوگا (67:28)

And He is the only Who accepts repentance from His bondmen, and pardons the evil deeds, and knows what you do. (42:25)

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾
﴿٤٢ الشوریٰ ٢٥﴾

اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور (ان کے) قصور معاف فرماتا ہے اور جو تم کرتے ہو (سب) جانتا ہے (25:42)

And accepts those who do good works, and gives increase to them of His bounty. And as for disbelievers, theirs will be an awful doom. (42:26)

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾
﴿٤٢ الشوریٰ ٢٦﴾

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کی (دعا) قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے (26:42)

More Reference :

2:128	2:286	3:135,136
Page	92	674/1124 313
4:110,146	5:39	6:131 7:15 9:3,104,
313,318	316	676 912 291,285
112,115	11:3,4	18:55 26:208,209 27:11
437,676	312	676,677 120
28:59	37:72,73	66:8 110:3
677	677	317 312

والمزید راجع ٢٠ البقرة: ٢٨١، ٢٨٨	٣ آل عمران: ١٣٥، ١٣٦
٤ النساء: ١١٠، ١١١	٥ المائدة: ٣٩
٦ الأنعام: ١٣١	٧ الأعراف: ١٥
٩ التوبة: ٣، ٤، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨	١٨ الكهف: ٥٥
٢٦ الشعراء: ٢٠٨، ٢٠٩	٢٧ النمل: ١١
٢٨ القصص: ٥٩	٢٩ النور: ١١
٣٧ الصافات: ٧٢، ٧٣	٦٦ التحريم: ٨
	١١٠ النصر: ٣

146,110:4	136,135:3	286,128:2
313,318	313	1124/674,92
4,3:11	115,112,104,3:9	15:7 131:6 39:5
312,115	676,437,285,291	912 676 316
59:28	11:27	209,208:26 55:18
677	120	676,677 312
	3:110	8:66 73,72:37
	312	317 677

BE FOREMOST IN ASKING REPENTANCE SOON SOON AFTER FEELING SORROW OVER WRONGDOINGS

But whoever repents after his wrongdoing and amends, Allah will relent towards him. No doubt Allah is Forgiving, Merciful. (5:39)

But those who do ill deeds and afterward repent and believe-- Indeed for them, afterward, Allah is Forgiving, Merciful. (7:153)

And (there are) others who have acknowledged their faults. They mixed a righteous action with another that was bad. It may be that Allah will relent towards them. Allah is Relenting, Merciful. (9:102)

Know they not that Allah is He Who accepts repentance from His bondmen and takes the alms, and that Allah is He Who is the Relenting, the Merciful. (9:104)

كَلِمَا أَحْسَنَ إِنْسَانٌ دُنْبًا فَعَلِيهِ أَنْ يَتُوبَ عَلَى الْفُورِ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾
﴿٥ المائدة ٣٩﴾

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾
﴿١٧ الاعراف ١٥٣﴾

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٢﴾
﴿٩ التوبة ١٠٢﴾

الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِي هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾
﴿٩ التوبة ١٠٤﴾

احساس گناہ کے فوراً بعد توبہ کی طرف رجوع کی ہدایت

اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیک عمل کرنے لگ جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیگا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے (39:5)

اور جنہوں نے برے کام کئے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد (معاف کر دے گا کہ وہ) بخشنے والا مہربان ہے (153:7)

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا (صاف) اقرار کرتے ہیں۔ انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلادیا تھا۔ قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (102:9)

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور صدقات (وخیرات) لیتا ہے اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے (104:9)

More Reference : 2:128, 160, 286 3:133, 135, 155
Page 92, 315, 674/1124 864, 313, 705
4:110, 146 19:60 27:11 57:21 66:8
313, 318 315 120 313 317

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٢٨، ١٦٠، ٢٨٦
٣ آل عمران: ١٣٣، ١٣٥، ١٥٥، ١٥٦، ١١٠، ١٤٦، ١٩ مريم: ٦٠
٢٧ النمل: ١١، ٥٧ الحديد: ٢١، ٦٦ التحريم: ٨

المزيد راجع 2: 128، 160، 286 3: 133، 135، 155
صفحة 92، 315، 674، 1124، 864، 313، 705
8: 66 21: 57 11: 27 60: 19 146، 110: 4
317 313 120 315 318، 313

BELIEVERS SHOULD ALSO REGRET FOR ANY WRONGDOING

ينبغي للمؤمنين أن يتوبوا إلى الله دائماً

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٨٦، ٥٩ الحشر: ١٠
الصفحة ١١٢٤، ١٦٧، ١١٢٤/٦٧٤

توبہ کی ہدایت صرف گنہگاروں کے لئے نہیں اہل ایمان بھی دعائیں طلب کرتے رہتے ہیں

تفصیل کے لئے دیکھئے 2: 286، 10: 59
صفحة 1124، 167، 1124/674

For Detail Consult : 2:286 59:10
Page 674/1124, 167, 1124

DISBELIEVERS WILL NOT BE GRANTED ANY GRACE

يومئذ لا تقبل توبة الكافرين

روز قیامت منکرین کی کوئی توبہ قبول نہ ہوگی

REPENT BEFORE YOU ARE SUBJECTED OR EXPOSED

التوبة على الجرم قبل أن يقبض عليه

پکڑے جانے سے قبل توبہ کر لو

For Detail Consult : 5:34 40:85 41:24
Page 319, 317, 828

والتفصيل راجع ٥ المائدة: ٣٤، ٤٠ المؤمنون (غافر): ٨٥،
٤١ حم السجدة (ملكت): ٢٤، الصفحة ٢١٩، ٣١٧، ٨٢٨

تفصیل کے لئے دیکھئے 5: 34، 40: 85، 41: 24
صفحة 828، 317، 319

REPENT BEFORE DEATH APPROACHES

توبو قبل أن يأتي الموت

وقت نزع (سے قبل) توبہ کر لو

For Detail Consult : 4:18 40:85 41:24
Page 317, 828

والتفصيل راجع ٤ النساء: ١٨، ٤٠ المؤمنون (غافر): ٨٥،
٤١ حم السجدة (ملكت): ٢٤، الصفحة ٢١٧، ٨٢٨

تفصیل کے لئے دیکھئے 4: 18، 40: 85، 41: 24
صفحة 828، 317

SUCCESS OF PEOPLE LIES IN TURNING COLLECTIVELY TOWARDS ALLAH (SWT) AS REPENTANCE OVER ILL-DEEDS

ليست التوبة للدين أدر كتهم غمرات الموت

افراد و اقوام کے لئے اجتماعی توبہ میں نجات اور کامیابی

Detail Consult : 24:31 Page 542
Detail Chapter : YUNUS (PBUH) Page 1085

والتفصيل راجع ٢٤ النور: ٢٤، الصفحة ٥٤٢
والمزيد راجع حضرت يونس الصفحة ١٠٨٥

تفصیل کے لئے دیکھئے 24: 31، 542
تفصیل کیلئے دیکھئے باب : حضرت يونس صفحه 1085

**DEATHBED REPENTANCE
(DYING HOUR) SHALL GO IN VAIN**

The forgiveness is not for those who do ill deeds until, when death attends upon one of them, he says: Surely! I repent now; nor yet for those who die while they are disbelievers. For such We have prepared a painful doom. (4:18)

But their faith could not avail them when they saw Our doom. This is Allah's law, which has ever taken course for His bondmen. And then the disbelievers will be ruined. (40:85)

More Reference : 10:90, 91 33:16 Page 1040,710

**THOSE WHO DO NOT AVAIL THE CHANCE
FOR TURNING IN REPENTANCE SHALL NOT
BE PARDONED**

See they not that they are tested once or twice in every year? Still they turn not in repentance, neither pay they heed. (9:126)

More Reference : 3:90 4:18 Page 317

**REPENTANCE - WITHOUT
COMPUNCTION IS WORTHLESS**

Those who disbelieve after their (profession of) belief, and afterward grow violent in disbelief: their repentance will not be accepted. And such are those who are astray. (3:90)

More Reference : 3:89 8:38 Page 162,318

**WHO DOES NOT REPENT IS
INDEED A TRANSGRESSOR**

-----And whoso turns not in repentance, such are evildoers. (49:11) PART

**SINCERE REPENTANCE - ALLAH'S (SWT)
PROMISE FOR REMITTANCE OF EVIL DEEDS
AND GRANT OF BLISS**

O you who believe! Turn to Allah in sincere repentance! It may be that your Lord will remit from you your evil deeds and bring you into Gardens underneath which rivers flow,----- (66:8)PART

لا تقبل توبة المحتضر

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَهُكَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾
﴿٤ النساء ١٨﴾

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا وَ سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَاكَ الْكٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾
﴿٤٠ المؤمن ٨٥﴾

والمزيد راجع ١٠ يونس ٩١:٩٠ ٣٣ الأحزاب ١٦:

لا غفران لمن لا ينتهر فرصة للتوبة

أُولَئِكَ يَرْوُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾
﴿٩ التوبة ١٢٦﴾

والمزيد راجع ٣ آل عمران ٩٠: ٤ النساء: ١٨:

لا نفع للتوبة التي يعود التائب بعدها إلى ارتكاب الذنوب

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ نَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾
﴿٣ آل عمران ٩٠﴾

والمزيد راجع ٣ آل عمران ٨٩: ٨ الأنفال: ٢٨:

من أعرض عن التوبة فإنه هو الظالم

وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٤٩ الحجرات ١١﴾ جزء

لتوبة النصوح كفارة للسيئات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٦٦﴾
﴿٦٦ التحريم ٨﴾ جزء

قريب الموت (آخري سانس)
کی توبہ قبول نہیں ہوتی

اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو (ساری عمر) برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آمو جو ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان کی (توبہ قبول ہوتی ہے) جو کفر کی حالت میں مرے ایسے لوگوں کے لئے ہم نے تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے (18:4)

لیکن جب ہمارا عذاب دیکھ چکے (اس وقت) ان کے ایمان نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، (یہ) اللہ کی عادت (ہے) جو اس کے بندوں (کے بارے) میں چلی آتی ہے اور وہاں کافر گھائے میں پڑ کر رہ گئے (85:40)

مزید حوالہ 91,90:10 16:33 صفحہ 710,1040

جو معافی کے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے
ان کو معافی نہیں ملتی

کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار آفت میں پھنسا دیے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں (126:9)

مزید حوالہ 90:3 18:4 صفحہ 317

توبہ کرنے کے بعد بھی
گناہ ترک نہ کرنا بے فائدہ ہے

جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے۔ ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں (90:3)

مزید حوالہ 89:3 38:8 صفحہ 162,318

توبہ نہ کرنے والا ظالم

----- اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں (11:49) جزو

سچے اور صاف دل سے توبہ کرنا
گناہوں کا کفارہ ہے

مومنو! اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغات بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا (8:66) جزو

ALLAH (SWT) ACCEPTS THE REPENTANCE OF SINS COMMITTED IN IGNORANCE

يتوب الله على التائبين
من الذنوب المرتكبة بجهالة

سہواً (نادانستہ) سرزد ہونے والے
گناہوں پر توبہ کی قبولیت

Forgiveness is only incumbent on Allah towards those who do evil in ignorance (and) then turn quickly (in repentance) to Allah. These are they towards whom Allah relents. Allah is ever Knower, Wise. (4:17)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾
﴿٤ النساء ١٧﴾

اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد اس سے باز آجاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا (اور) حکمت والا ہے (17:4)

That whoever among you does evil and repents afterward thereof and does right, (for him) Allah is Forgiving, Merciful. (6:54) PART

إِنَّكَ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنْ عَفُوًّا رَحِيمًا ﴿٥٤﴾
﴿٦ الانعام ٥٤﴾ جزء

..... کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے (54:6) جزو

When your Lord for those who do evil in ignorance and afterward repent and amend, (for them) your Lord is then indeed Forgiving, Merciful. (16:119)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوًّا رَحِيمًا ﴿١١٩﴾
﴿١٦ النحل ١١٩﴾

پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا۔ پھر اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو تمہارا پروردگار (ان کو) توبہ کرنے اور بخشنے والا (اور ان پر) رحمت کرنے والا ہے (119:16)

More Reference : 3:135 4:110 Page 313

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٣٥ ٤ النساء: ١١٠

313 صفحہ 110:4 135:3 مزید حوالہ

DESIST EVER FROM SIN AFTER REPENTING ONCE

اجتناب إعادة السوء بعد التوبة

توبہ کرنے کے بعد دوبارہ غلطی کا ارتکاب کرنے سے اجتناب

Let those who repent and amend and hold fast to Allah and make their religion pure for Allah (only). Those are with the believers. And Allah will bestow on the believers immense reward. (4:146)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾
﴿٤ النساء ١٤٦﴾

ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ (کی رسی) کو مضبوط پکڑا اور خاص اللہ کے فرمانبردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا (146:4)

Reference : 2:160 Page 315

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٦٠ الصفحة ٣١٥

315 صفحہ 160:2 مزید حوالہ

VAST PROVISION FOR TURNING ON REPENTANCE IN ISLAM

باب التوبة مفتوح في الإسلام

مذہب اسلام میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے

FOR UNBELIEVERS IF THEY DESIST FROM UNBELIEF

إمكان التوبة للكفار

منکرین کے لئے توبہ کی گنجائش

Let those who disbelieve that if they cease that which is past will be forgiven them; but if they return (to it) then the example of the man of old has already gone (before them, for a warning). (8:38)

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتُوبُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مِمَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾
﴿١٨ الانفال ٣٨﴾

(اے پیغمبر) کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے اپنے افعال سے باز آجائیں تو ان کے سارے گناہ جو کئے ہیں سب معاف کر دیئے جائیں گے اور اگر پھر (وہی حرکات) کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا (جو) طریق جاری ہو چکا ہے (وہی ان کے حق میں برتا جائے گا) (38:8)

<p>FOR THE BELIEVERS OF TRINITY IF THEY BELIEVE IN MONOTHEISM</p>	<p>إمكان التوبة للقائلين بالتثليث</p>	<p>نصاری کیلئے (عقیدہ تثلیث سے باز آجانے پر) توبہ کی گنجائش</p>
<p>For Detail Consult : 5:73,74 Page 602,319</p>	<p>وللتفصیل راجع ۵ المائدة: ۷۴، ۷۳: ۷۴، ۲۱۹، ۲۰۲</p>	<p>تفصیل کے لئے دیکھئے 602,319 صفحہ 74,73:5</p>
<p>FOR APOSTATE IF TURNS LOYAL TO ALLAH(SWT) (BEFORE EXPOSED)</p>	<p>إمكان التوبة للمرتد</p>	<p>مرتد کے لئے توبہ کی گنجائش</p>
<p>For Detail Consult : 3:89 9:74 Page 162, 746</p>	<p>وللتفصیل راجع ۳ آل عمران: ۸۵، ۹ التوبة: ۷۴، الصفحہ ۷۴۶، ۱۶۲</p>	<p>تفصیل کے لئے دیکھئے 74:9 85:3 صفحہ 746, 162</p>
<p>FOR HYPOCRITES IF THEY PURGE (BEFORE EXPOSED)</p>	<p>إمكان التوبة للمنافقين</p>	<p>منافقین کے لئے بھی توبہ کی گنجائش</p>
<p>For Detail Consult : 9:74 33:24 Page 746, 712</p>	<p>وللتفصیل راجع ۹ التوبة: ۷۴، ۳۳ الأحزاب: ۲۴، الصفحہ ۷۱۲، ۷۴۶</p>	<p>تفصیل کے لئے دیکھئے 24:33 74:9 صفحہ 712, 746</p>
<p>FOR OPPRESSORS AND TRANSGRESSORS IF THEY DESIST TREASON (BEFORE FALL)</p>	<p>إمكان التوبة للمحاربين والمفسدين في الأرض</p>	<p>بغاوت اور زمین میں فساد کرنے والوں کے لئے توبہ کی گنجائش</p>
<p>Save those who repent before you overpower them. For know that Allah is Forgiving, Merciful. (5:34)</p>	<p>إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾</p>	<p>ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے (34:5)</p>
<p>Mere Reference : 5:33 85:10 Page 162,482</p>	<p>وللمزيد راجع ۵ المائدة: ۳۳، ۸۵ البروج: ۱۰</p>	<p>مزید حوالہ 482,162 صفحہ 10:85 33:5</p>
<p>FOR KILLER WHO ACTS BY MISTAKE AND READY TO PAY RETRIBUTION AND BECOMES CAREFUL</p>	<p>إمكان التوبة للقاتل خطأ</p>	<p>قاتل بالخطا کے لئے توبہ کی گنجائش</p>
<p>For Detail Consult : 4:92 Page 560</p>	<p>وللتفصیل راجع ۴ النساء: ۹۲، الصفحہ 560</p>	<p>تفصیل کیلئے دیکھئے 92:4 صفحہ 560</p>
<p>FOR THIEF IF DESISTS STEALING (BEFORE CAUGHT)</p>	<p>إمكان التوبة للسارق</p>	<p>چور کیلئے (پکڑے جانے سے پہلے) توبہ کی گنجائش</p>
<p>For Detail Consult : 5:38,39 Page 562,316</p>	<p>وللتفصیل راجع ۵ المائدة: ۳۸، ۳۹، الصفحہ ۵۶۲، ۳۱۶</p>	<p>تفصیل کیلئے دیکھئے 562,316 صفحہ 39,38:5</p>
<p>FOR GUILTY OF LEWDNESS (BEFORE EXPOSED) ADULTERY-FORNICATION</p>	<p>إمكان التوبة لمرتكب الفاحشة</p>	<p>بے حیائی (زنا اور ہم جنسی) کے مرتکب کیلئے توبہ (پکڑے جانے سے پہلے) کی گنجائش</p>
<p>For Detail Consult : 4:16 Page 540</p>	<p>وللتفصیل راجع ۴ النساء: ۱۶، الصفحہ ۵۴۰</p>	<p>تفصیل کیلئے دیکھئے 540 صفحہ 16:4</p>
<p>ALL PROPHETS PREACHED THEIR PEOPLE FOR TURNING IN REPENTANCE</p>	<p>أوصى جميع الرسل بالتوبة على الله</p>	<p>تمام پیغمبران نے اپنی قوم کو گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی</p>
<p>For Detail Consult 2:54 11:52,61,90 71:10,12,13 Page 1050, 933, 936, 1001, 920</p>	<p>وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۵۴، ۱۱ ہود: ۵۲، ۶۱، ۹۰، ۷۱ نوح: ۱۰، ۱۲، ۱۱، الصفحہ ۱۰۵۰، ۹۳۳، ۹۳۶، ۱۰۰۱، ۹۲۰</p>	<p>تفصیل کیلئے دیکھئے 13,12,10:71 90,61,52:11 54:2 صفحہ 920, 1001, 936, 933, 1050</p>
<p>THEN WHY DO NOT YOU REPENT TO QUALIFY MERCY OF ALLAH(SWT)</p>	<p>لَمْ لَا تَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ</p>	<p>پھر تم توبہ کیوں نہیں کرتے؟</p>
<p>Will they not rather turn to Allah and seek forgiveness of Him? For Allah is Forgiving, Merciful. (5:74)</p>	<p>أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ</p>	<p>توبہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے (74:5)</p>

**SIGNS OF NATURE
TO PONDER SPLENDOROUS
ARTISTRY OF ALLAH(SWT)**

الْبصائر الالهية
آيات الله في الطبيعة للتفكير في براعة
الله الساطعة

مظاہر قدرت
آیات اللہ پر غور کرنا

**INSPIRATION TO PERCEIVE
THE WONDERS OF THE UNIVERSE**

الدعوة إلى التفكير
في عجائب الكون

مظاہر قدرت

اللہ تعالیٰ کی نشانیوں (آیات اللہ) پر غور کی دعوت

Say: Look at, what is in the heavens and the earth! But neither signs nor warnings profit those folk who do not believe. (10:101)

قُلْ أَنْظِرُوا مَا ذُرِّي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتِ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

(آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے؟ مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے نشانیاں اور کچھ کا نہیں آتے (10:101)

And those who, when they are reminded of the signs of their Lord, do not throw themselves upon them (as if) they are deaf and blind(25:73)

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صَبِيًا وَعُمِّيَانًا ﴿٧٣﴾

اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے (بلکہ غور فکر سے سنتے ہیں) (73:25)

**PEOPLE OF FAITH CONTEMPLATE
ON MYSTERIES OF THE NATURE**

لا يزال المؤمنون يتفكرون
في أسرار الكون

اہل ایمان ہر لحظہ مظاہر قدرت پر
غور و فکر کرتے رہتے ہیں

Such as remember Allah, standing, sitting, and reclining, (lying on their sides) and meditate the creation of the heavens and the earth, (and say): Our Lord! You created not this in vain. Glory be to You! Preserve us from the torment of Fire. (3:191)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے) ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ تو پاک ہے۔ تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ لے (191:3)

**DISBELIEVERS SHUN TO DISCERN
IN THE WONDERS OF THE UNIVERSE**

من فطرة الكفار الإعراض
عن التفكير في آيات الله في الكون

مظاہر قدرت پر غور نہ کرنا
منکرین کی فطرت ہے

Will they not then ponder on the Qur'an?----- (4:82) Part

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ ----- ﴿٨٢﴾

بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔۔۔۔۔۔ (82:4) جزو

How many a portent (signs) are here in the heavens and the earth, which they pass and pay no attention to them! (12:105)

وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں (105:12)

And most of them believe not in Allah except that they ascribe partners (to Him). (12:106)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر (اس کے ساتھ) شرک کرتے ہیں (106:12)

no one of their Lord's signs has come to them except they tried to avoid it. (36:46)

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّن آيَةٍ مِّن آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾

اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں۔ (46:36)

**WHY DON'T YOU PERCEIVE
PONDER - CONTEMPLATE**

لماذا لا تفكرون

تم غور کیوں نہیں کرتے

Have they not pondered upon themselves? Allah created not the heavens and the earth, and that which is between them, except with truth and for a destined end. But truly many of mankind are disbelievers in meeting with their Lord. (30:8)

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّن النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ﴿٨﴾

کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں (8:30)

COSMOLOGY

علم الكونيات

علم کائنات

EVOLUTIONARY PROCESS OF THE UNIVERSE

بدء الخلق

ابتداء آفرینش (دنیا)

ORIGNATION OF THE UNIVERSE

خلق الكون

تخلیق کائنات

No doubt your Lord! He is the All Wise Creator. (15:86)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾
﴿١٥ الحجر ٨٦﴾

کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی (سب کچھ) پیدا کرنے والا (اور) جاننے والا ہے (86:15)

Is He then Who creates as him who creates not? Will you not then bear this in mind? (16:17)

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾
﴿١٦ النحل ١٧﴾

تو جو (اتنی مخلوقات) پیدا کرے۔ کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ (17:16)

Is not He Who created the heavens and the earth able to create the like of them? Of course He is! For He is the All-Wise Creator, (36:81)

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾
﴿٣٦ يس ٨١﴾

بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ (ان کو پھر) ویسے ہی پیدا کر دے۔ کیوں نہیں بے شک وہ قادر ہے۔ اور وہی تو بڑا پیدا کرنے والا (اور) علم والا ہے (81:36)

Allah is the Creator of all things, and He is Guardian over all things. (39:62)

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾
﴿٣٩ الزمر ٦٢﴾

اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے (62:39)

And the heaven, how it is lifted up? (88:18)

وَالِی السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
﴿٨٨ الغاشیة ١٨﴾

اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے (18:88)

And the hills, how they are set up (erected)? (88:19)

وَالِی الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾
﴿٨٨ الغاشیة ١٩﴾

اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کئے گئے ہیں (19:88)

And the earth, how it is spread (flattened out)? (88:20)

وَالِی الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾
﴿٨٨ الغاشیة ٢٠﴾

اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی (20:88)

Reference: 6:1,73,101 7:185 9:36 10:6
Page 332,791,134 772 334 335
14:19,32 16:3 20:4 27:6 29:44
130,341 372 207 207 372
30:8 31:25 45:22 55:7
366 300 821 322

والمعزین راجع: ٦ الأنعام: ١، ٧٣، ١٠١، ٧ الأعراف: ١٨٥
٩ التوبة: ٣٦ ١٠ یونس: ٦ ١٤ ابراهیم: ٢١، ١٩
١٦ النحل: ٣، ٢٠ طه: ٤ ٢٧ النمل: ٦ ٢٩ العنکبوت: ٤٤
٣٠ الروم: ٨ ٣١ لقمان: ٢٥ ٤٥ الجاثیة: ٢٢ ٥٥ الرحمن: ٧

مزید حوالہ 36: 9 185:7 101,73,1:6
334 772 332,791,134
6:27 4:20 3:16 32,19:14 6:10
207 207 372 130,341 335
7:55 22:45 25:31 8:30 44:29
322 821 300 366 372

PROCESS OF PARTING (ASUNDER) OF PRIMITIVE SINGLE SOLID MASS

فتق السموات من الأرض

آسمان اور زمین کا جدا کرنا

Have not those who disbelieve seen that the heavens and the earth were once a solid mass, then We ripped apart them, (21:30) PART

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴿٣٠﴾
﴿٢١ الانبیاء ٣٠﴾ جزء

کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا۔ (30:21)

Then He turned (soared up) to the heaven when it was still a (haze) smoke, and said to it and to the earth: Come both of you, either obediently or reluctantly. They said: We come, willingly. (41:11)

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾
﴿٤١ حم السجدة ١١﴾

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ (خواہ) خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں (11:41)

SIX AEONS (DAYS) OF CREATION OF HEAVENS AND EARTH

No doubt your Lord is Allah Who created the heavens and the earth in six days (periods), then He mounted on the Throne.-----

(7:54) PART

Indeed your Lord is Allah Who created the heavens and the earth in six aeons, then He established Himself upon the Throne, directing all things.-----

(10:3) PART

Who created the heavens and the earth and all that is between them in six Days, then He mounted on the Throne of power. The Beneficent! Ask any one acquainted with such things concerning Him! (25:59)

Allah it is the One Who created the heavens and the earth, and that which is between them, in six periods. Then He mounted on the Throne.-----

(32:4) PART

He it is the One Who created the heavens and the earth in six (periods) Days; then He mounted on the Throne. He knows all which goes down into (penetrates) the earth and all that emerges therefrom and all that comes down from the sky and all that ascends therein; (ascends up into it) and He is with you wherever you may be. And Allah is observant of what you do. (57:4)

ست مراحل لخلق السموات والارض

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ----- ﴿٧٧﴾

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ ----- ﴿١٠٣﴾

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسْئَلُ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ----- ﴿٣٢﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُعَلِّمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِبُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٧﴾

آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے چھ ادوار (دن)

کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا۔----- (54:7) جزو

تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر عرش (تخت شاہی) پر قائم ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے۔----- (3:10) جزو

جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا (وہ جسکا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے) تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو (59:25)

اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا۔----- (4:32) جزو

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے (4:57)

Reference : 11:7 25:59 Page 403,332

۲۵ الفرقان: ۵۹ ۱۱ ہود: ۷

مزید حوالہ 7: 11 59:25 صفحہ 403,332 وللمزید راجع

BALANCE OF UNIVERSE

الميزان الكون

کائنات کا توازن

And the Firmament He has raised high, and He has setup the balance of justice) (55:7)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧٧﴾

اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی (7:55)

SEVEN HEAVENS

السموات السبع

سات آسمان

He is Who created for you all that is on the earth. And has applied His design to the heavens. And fashioned them into seven heavens. And He is Knower of all things. (9:9)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩﴾

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیں پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تو ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے (29:2)

And We have created above you seven orbits (paths), and We are never heedless of creation. (23:17)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا
عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾
﴿٢٣ المتونون ١٧﴾

اور ہم نے تمہارے اوپر (کی جانب) سات آسمان پیدا کیے اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں (17:23)

And We have built above you seven firmaments (heavens), (78:12)

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾
﴿٧٨ النبأ ١٢﴾

اور تمہارے اوپر سات مضبوط (آسمان) بنائے (12:78)

More Reference : 17:44 41:12 55:7
Page 112 329 322
65:12 67:3 71:15
325 323 323

والعزیز راجع : ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل) : ٤٤
٤١ حم السجدة (فصلت) : ١٢ ٥٥ الرحمن : ٧
٦٥ الطلاق : ١٢ ٦٧ الملك : ٣ ٧١ نوح : ١٥

مزید حوالہ : 12:65 7:55 12:41 44:17
325 322 329 112
صفحہ : 15:71 3:67
323 323

**SEVEN MATCHING HEAVENS
IN SYMMETRY (ONE ABOVE ANOTHER)**

Who has created seven heavens in harmony. You can see no fault (discrepancy) in the Beneficent One's creation; then look once again: Can you see any (flaws) rifts? (67:3)

الذی خلق سبع سموات طباقاً ما ترى
فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع
البصر هل ترى من فطور ﴿٣﴾
﴿٦٧ الملك ٣﴾

سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے (اے دیکھنے والے) کیا تو (اللہ) رحمن کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو (آسمان میں) کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ (3:67)

Have you not considered how Allah Created seven matching heavens? (71:15)

ألَمْ تَرَ أَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
طَبَاقًا ﴿١٥﴾
﴿٧١ نوح ١٥﴾

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر نیچے بنائے ہیں؟ (15:71)

EXPANSION OF THE UNIVERSE

We have raised the heaven high with Might, and we it is Who makes the vast extent (thereof). (51:47)

اتساع الكون
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾
﴿٥١ الذریت ٤٧﴾
وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾
﴿٥١ الذریت ٤٨﴾

کائنات کا پھیلاؤ اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں (47:51) اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو (دیکھو) ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں (48:51)

And the earth We have spread it out, how gracious was the Spreader (thereof)! (Who has smoothed it). (51:48)

And sky and Him, Who built it. (91:5)

And the earth and Him Who stretched it out. (91:6)

وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا ﴿٥﴾
﴿٩١ الشمس ٥﴾
وَالْأَرْضَ وَمَا طَرَاهَا ﴿٦﴾
﴿٩١ الشمس ٦﴾

اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا (5:91)

اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلا یا (6:91)

**HEAVENS AS CANOPY WITH ZERO DEFECT
CREATION OF OVER HANGING FIRMAMENTS
WITHOUT ANY FLAWS**

And We have made the sky as a roof (a guarded canopy), held up even. Yet they turn away from its portents. (21:32)

خلق السموات بغير عمد ولا خلل
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ
عَنِ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾
﴿٢١ الانبیاء ٣٢﴾

تخلیق آسمان کسی سہارے اور نقص کے بغیر اور آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا۔ لیکن لوگ اسکی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دھرتے۔ (32:21)

And if you were to ask them: Who created the heavens and the earth, and has regulated the sun and the moon (to the appointed work)? They would say: Allah. How then are they turned away? (29:61)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قَالَىٰ يُؤْفِكُونَ ﴿٦١﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٦١﴾

اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ اور سورج اور چاند کو کس نے کام پر لگایا تو کہہ دیں گے اللہ نے تو پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں (61:29)

Allah grasps the heavens and the earth if either should slip out of place, and if they were to deviate there is no one else that could hold them after Him. Indeed He is ever Lenient, Forgiving. (35:41)

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا
وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾
﴿٣٥ فاطر ٤١﴾

اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں۔ اگر وہ اپنی حالت کو چھوڑ دیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے۔ بے شک وہ بردبار (اور) بخشنے والا ہے (41:35)

Have they not then observed the sky above them, how We have constructed it and beautified it, and how there are no rifts (gap) therein? (50:6)

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا
وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾
﴿٥٠ ق ٦﴾

کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور (کیوں کر) سجایا اور اس میں کہیں شکاف تک نہیں (6:50)

When look again and yet again, your sight will return to you confused and made dim (fatigued). (67:4)

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾
﴿٦٧ الملك ٤﴾

پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ تیری نگاہ تیری طرف ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی (4:67)

Are you the harder to create, or is the heaven that He built? (79:27)

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا
﴿٧٩﴾
﴿٧٩ النزعت ٢٧﴾

بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا (27:79)

He has lifted its canopy up and smoothed it-off. (79:28)

رَفَعَهَا فَمَا فُسِّحَاصُهَا ﴿٢٨﴾
﴿٧٩ النزعت ٢٨﴾

اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا (28:79)

Reference : 2:22 13:2 22:65 31:10
Page 357, 330, 341, 338, 322

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٢ ١٣ الرعد: ٢٢
٢٢ الحج: ٦٥ ٣١ لقمان: ١٠ ٥٥ الرحمن: ٧

مزيد حوالہ 2:22 13:2 22:65 31:10
صفحہ 322, 338, 341, 330, 357 7:55

ALLAH (SWT) LORD OF THE ORIENTS AND OCCIDENTS (BOTH EASTS AND WESTS)

Allah belongs the East and the West, and to whatever place you turn, there is Allah's countenance. Allah is Boundless, All Knowing. (115)

رَبُّ الْمَشْرِقِينَ وَرَبُّ الْمَغْرِبِينَ
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ
وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾
﴿٢ البقرة ١١٥﴾

مشرقین و مغربین کا مالک اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے (115:2)

Lord of the heavens and of the earth and all that is between them, and Lord of all the points of Sun's rising. (37:5)

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ
الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾
﴿٣٧ الصفت ٥﴾

جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے (5:37)

Lord of the two East's, (two farthest points of Sunrise) and Lord of the two West's! (Two farthest points of Sunset) (55:17)

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾
﴿٥٥ الرحمن ١٧﴾

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک (ہے) (17:55)

By I swear by the Lord of the rising (Eastern) places and the setting (Western) places of the planets that I shall never be overruled. (74:40)

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿٤٠﴾
﴿٧٠ المعارج ٤٠﴾

مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی (کہ) ہم یقیناً قادر ہیں (40:70)

Lord of the East and the West; there is no god except Him; so choose you Him alone for your defender-- (79)

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ
وَكَيْلًا ﴿٩﴾
﴿٧٣ المزمل ٩﴾

(وہی) مشرق اور مغرب کا مالک (ہے اور) اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ (9:73)

Reference : 2:258 45:36 Page 953,101

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٥٨ ٤٥ الجاثية: ٣٦

مزيد حوالہ 2:258 45:36 101,953 صفحہ 36:45 258:2

CREATED EARTH IN TWO (DAYS) EPOCHES

Say (O Muhammad, to the idolaters): Do you disbelieve in Him Who created the earth in two aeons, and ascribe you to Him rivals? He (and none else) is the Lord of the Universe. (41:9)

خلق الأرض في يومين

قُلْ أَرَأَيْتُمْ لَكَفَرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾
﴿٤١ حم السجدة ٩﴾

زمین کی تخلیق کے دو ادوار (دن)

کہہ دیجیے کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا۔ اور (بتوں کو) اس کا شریک بناتے ہو۔ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے (9:41)

PROVIDING SUSTENANCE (MEANS OF LIVING) ON EARTH WITHIN FOUR PERIODS (DAYS)

He placed above its surface firm mountains and blessed it. And measured therein its sustenance in four Days, (periods) alike for (all) who ask; (41:10)

تقدير الأوقات في الأرض في أربعة أيام (مراحل)

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّالِبِينَ ﴿١٠﴾
﴿٤١ حم السجدة ١٠﴾

زمین پر سامان معیشت کا چار ادوار (روز) میں انتظام

اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیئے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان روزگار مقرر کیا (سب) چار دن میں (اور تمام) ضرورت مندوں کے لئے یکساں طور پر (10:41)

More Reference : 2:29 Page 322

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٩: الصفحة ٣٢٢

مزید حوالہ 29:2 صفحہ 322

SEVEN ASPECTS OF EARTH

Allah it is Who has created seven heavens, and of the earth the like thereof a similar number. The commandment comes down among them, that you may know that Allah is Able to do all things, and that Allah surrounds all things in knowledge. (65:12)

طبقات الأرض

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾
﴿٦٥ الطلاق ١٢﴾

سات طبقات ارض

اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور ویسی ہی زمینیں۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے (12:65)

ALL WHAT IS UNDERNEATH THE SOD (WITHIN THE BOWELS OF THE EARTH) BELONGS TO ALLAH(SWT)

To Him belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and whatsoever is between them, and whatsoever is beneath the sod (soil). (20:6)

لله ماتحت الثرى

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٦﴾
﴿٢٠ طه ٦﴾

جو کچھ تحت الثرى میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ (کرہ خاک) مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے (6:20)

SPREADING AND STRETCHING OF EARTH

Allah it is Who made for you the earth for a dwelling place and sky for a canopy. (40:64) PART

اتساع الأرض و كونها مهادا

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴿٦٤﴾
﴿٤٠ المؤمن ٦٤﴾ جزء

زمین کا پھیلا اور بچھا ہوا ہونا

اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا۔ (40:64) جزو

And if you ask them: Who created the heavens and the earth, they will surely answer: The Mighty, the Knower created them; (43:9)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾
﴿٤٣ الزخرف ٩﴾

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب (اور) علم والے (اللہ) نے پیدا کیا ہے (9:43)

Who made the earth a cradle (resting place) for you, and traced highways for you therein, that haply you may find your way (feel guided); (43:10)

No doubt in the heavens and the earth are signs for believers. (45:3)

And We have spread out the (spacious) Earth, how excellently it do spread out! (51:48)

Is He who has spread out the earth (His) creatures, (55:10)

Have We not made the earth a spectacle? (77:25)

Life for the living and the dead, (26)

And after that He spread the earth, (30)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٤٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ١٠﴾

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٥﴾
﴿٤٥ الجاثية ٣﴾

وَالْأَرْضِ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ٤٨﴾

وَالْأَرْضِ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥ الرحمن ١٠﴾

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٧٧﴾
﴿٧٧ المرسلت ٢٥﴾

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٧٧﴾
﴿٧٧ المرسلت ٢٦﴾

وَالْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٧٩﴾
﴿٧٩ النزعت ٣٠﴾

جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا۔ اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو (10:43)

بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے (اللہ کی قدرت کی) نشانیاں ہیں (3:45)

اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو (دیکھو) ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں (48:51)

اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھادی (10:55)

کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ (25:77)

(یعنی) زندوں اور مردوں کو (26:77)

اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا (30:79)

Reference : 23:79 24:53,54 31:10
Page : 116, 661, 734, 338

والصبريد هواله ٢٠ طه ٥٤٠٥٣ ٢٣ المؤمنون ٧٩:
٣١ لقمان ١٠: الصفحة ١١٦, ٧٣٤, ٦٦١, ٣٣٨

والصبريد هواله ٢٠ طه ٥٤٠٥٣ ٢٣ المؤمنون ٧٩:
٣١ لقمان ١٠: الصفحة ١١٦, ٧٣٤, ٦٦١, ٣٣٨

GRADUALLY DIMINISHING OF EARTH AT ITS BORDERS

Have they not seen, how We come to clear the land off at its borders,? (When) Allah decides the matter, there is none that can postpone His decision, and He is Swift at reckoning. (13:41)

Not that We gave provision to these and their fathers until life was prolonged to them. See they not how We visit the land, reducing it of its dying parts (curtailing it of its sides)? Can they then be the victors? (21:31)

نقص الأرض من الأطراف

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ لَكُمْ لِأَمْرِكُمْ لَكُمْ وَعِثَابُ سَرِيعٍ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾
﴿٤١ الرعد ٤١﴾

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ٤٤﴾

زمین کا کناروں سے بتدریج گھٹتے جانا

کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور اللہ (جیسا چاہتا ہے) حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا انکار کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے (41:13)

بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو زندگی کے ساز و سامان دیئے یہاں تک کہ (اسی حالت میں) ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ (44:21)

NO FATIGUE OR SENSE OF WEARINESS COULD EVER TOUCH ALLAH(SWT) EVEN ON CREATION OF THE UNIVERSE

Have they not seen that Allah, Who created the heavens and the earth and is not tired by their creation, is Able to give life to the dead? Yes, He is Able to do all things. (46:33)

ما من الله من لغوب في خلق السموات والأرض

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْْي بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾
﴿٣٣ الاحقاف ٣٣﴾

تخلیق کائنات پر اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاؤ نہیں ہوئی

کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں۔ وہ اس (بات) پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ ہاں (ہاں) وہ ہر چیز پر قادر ہے (33:46)

And We created the heavens and the earth, and all that is between them, in six periods, and nothing of weariness touched Us. (50:38)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ ق ٣٨﴾

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو (مخلوقات) ان میں ہے سب کو چھ دن میں بنا دیا اور ہم کو تکان نے چھوا تک نہیں (38:50)

THE THRONE OF HIS ALMIGHTINESS WAS RESTED OVER THE WATERS BEFORE CREATION OF HEAVENS AND EARTH

And He is the One Who created the heavens and the earth in six periods and His Throne of power was upon the water. ----- (11:7) PART

كان عرش الله على الماء قبل خلق السموات والأرض

تخلیق ارض وسموات سے پہلے عرش رب تعالیٰ پانی پر تھا

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ----- ﴿١١ هود ٧﴾ جزء

اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا اور (اس وقت) اس کا عرش پانی پر تھا ----- (7:11) جزو

NO BEING OR POWER HAS ANY HELPING SHARE IN HIS DIVINITY IN CREATION OF HEAVENS AND EARTH

I made them not to witness the creation of the heavens and the earth, nor their own creation; nor choose I misleaders for (My) helpers. (18:51)

خلق الله السموات والأرض وحيدا

تخلیق کائنات کے عمل میں مدد کے لئے اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں بلایا

مَا أَشْهَدُ بِهِمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقِ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿١٨ الكهف ٥١﴾

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت۔ اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ (51:18)

TO ALLAH (swt) BELONGS THE KEYS OF THE HEAVENS AND THE EARTH

His are the keys of the heavens and the earth. He enlarges providence for whom He wills and restricts (it for whom He wills). He has full knowledge of everything. (42:12)

بيد الله مقاليد السموات والأرض

آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّسْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٢ الشورى ١٢﴾

آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے (12:42)

More Reference : 39:63 Page 853

والمزيد راجع ٣٩ الزمر: ٦٣ الصفحة ٨٥٣

مزید حوالہ 63:39 صفحہ 853

GEOMETRY OF SPACE

انظار السموات والأرض

خلا = فضائی حدود

DIVINE CHALLENGE TO BOTH HUMANKIND AND SPRITES TO PENETRATE BEYOND THE REALMS OF HEAVENS AND EARTH

We shall soon settle your affairs, O you two dependents (men and jinns). (55:31)

التحدى الإلهي للجن والإنس للنفوذ من أقطار السموات والأرض

جنت اور انسانوں کو آسمانوں اور زمین کی حدود کو پار کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج

سَنَقَرُّكُمْ كَمَا نَرَىٰ الْثَقَلَيْنِ ﴿٥٥ الرحمن ٣١﴾

اے دونوں جنوں اور انسانوں کی جماعتو! ہم عنقریب تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے (31:55)

O company of jinns and men, if you can manage to penetrate (all) regions of the heavens and the earth; then penetrate (them)! You will never penetrate them except with (Our) sanction.(authority) (55:33)

يَمْشُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٥٥ الرحمن ٣٣﴾

اے گروہ جن و انسان اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور غلبہ اور طاقت کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں (33:55)

And even if We opened to them a Gate of Heaven and they might keep on mounting through it. (15:14)

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ
يَعْرَجُونَ ﴿١٤﴾

اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول بھی دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں (14:15)

They would say: Our sight has been dazzled in fact. We are enchanted folk. (15:15)

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ
مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

تو بھی یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں مست ہو گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے (15:15)

ALLAH(SWT) KNOWS WHAT PENETRATES THE EARTH, AND WHAT SPRINGS FORTH FROM IT, AND WHAT FALLS DOWN FROM HEAVENS AND WHAT SOARS UP

وَلَوْجُ الْأَشْيَاءِ فِي الْأَرْضِ وَالْخُرُوجُ
مِنْهَا (نزولها من السماء والعروج
فيها) في علم الله

اللہ تعالیٰ کو چیزوں کے زمین میں داخل ہونے اور اس میں سے نکلنے (آسمان سے اترنے اور اس کی جانب چڑھنے) کا علم ہے

He knows that which goes down into the earth and that which comes forth from it, and that which descends from the heaven and that which ascends into it. He is the Merciful, the Forgiving. (34:2)

يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٣٤﴾

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ اور وہ مہربان (اور) بخشنے والا ہے (2:34)

ALLAH'S(SWT) PLANS ARE ABOVE THE LIMITS OF TIME-SPEED AND DISTANCE

أسرار الزمن والسرعة
والمسافات عند الله

وقت رفتار اور فاصلوں کی مقدار کے رازوں پر اللہ تعالیٰ کا اختیار

From Allah, Lord of the Ascending Stairways (70:3)

مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾

(اور وہ) اللہ صاحب درجات کی طرف سے (نازل ہو گا) (3:70)

(Whereby) the angels and the Spirit ascend to Him in a Day whereof the span is fifty thousand years. (70:4)

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾

جس کی طرف روح (الائین) اور فرشتے چڑھتے ہیں (اور) اس روز (نازل ہوگا) جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہوگا (4:70)

He directs the affairs from the heavens to the earth; then it ascends to Him on a Day, whereof the measure is a thousand years according to the way you count. (32:5)

يُدِيرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ
إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا
تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

وہی آسمان سے لے کر زمین تک (کے) ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر (وہ کام) ایک ایسے روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ہزار برس ہے۔ اس کی طرف رجوع کریگا (5:32)

Core Reference : 2:259 18:11,12,25,26 38:69 39:69
Page 1081, 1106, 1107, 913, 799

واللہ اعلم بالصواب ۲ البقرة: ۲۵۹ ۱۸ الکہف: ۱۱، ۱۲، ۲۵، ۲۶ ۳۸ ص: ۶۹ ۳۹ الزمر: ۶۹
الصفحة ۱۰۸۱، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۹۱۳، ۷۹۹

مزید حوالہ 2: 259 18: 11, 12, 25, 26 38: 69 39: 69
صفحہ 1081, 1106, 1107, 913, 799

EVIDENCE OF POLARITY IN ALL CREATIONS (OPPOSITES OF ALL ANIMATE AND INANIMATE) PAIRS OF THE THINGS OR PHENOMENON NOT YET UNDERSTOOD TO MANKIND (POSITIVE AND NEGATIVE -CHARGE MAGNETISM - PROTONS AND ELECTRONS ETC)

قانون الزواج في خلق الانسان
والنبات وفي خلق اشياء
لا يعرفها الانسان

اللہ تعالیٰ نے انسان اور نباتات کے علاوہ ایسی چیزوں کے جوڑے بھی بنائے جن کو ابھی تک انسان نہیں جانتا یا دیکھ نہیں سکتا (مثبت و منفی چارج۔ الیکٹرون۔ پروٹون وغیرہ)

Every thing is to Him Who created the pairs of every kind of species, of that which the earth grows, and of themselves, and of that which they (even yet) know not! (36:36)

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ
الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور ان چیزوں کے جن کی ان کو ابھی تک خبر بھی نہیں سب کے جوڑے بنائے (36:36)

ASTRONOMY

علم الفلك

علم الفلك

<p>CELESTIAL ORGANIZATION</p>	<p>الاجرام السماوية</p>	<p>اجرام فلكية</p>
<p>SECRETS OF THE UNIVERSE</p>	<p>أسرار الكون</p>	<p>رموز کائنات</p>
<p>LOWEST HEAVEN - NEAREST SKY GALAXIES MILKY WAYS</p> <p>We have adorned the lowest heaven with the splendor of stars. (37:6)</p> <p>Then He ordained them seven heavens in two Days and inspired in each heaven its mandate; and We beautified the lowest heaven with lamps, and rendered it inviolable. That is the measuring of the Mighty, the Knower. (41:12)</p>	<p>المجرة</p> <p>إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٣٧﴾ الصُّفْتِ ٦</p> <p>فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٤١﴾ خَمِ السَّجْدَةِ ١٢</p>	<p>آسمان دنیا کہکشاں</p> <p>بے شک ہم ہی نے آسمان کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا (6:37)</p> <p>پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس (کے کام) کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں (یعنی ستاروں) سے سجایا اور (شیطانوں) سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست (اور) خبردار کے (مقرر کئے ہوئے) اندازے ہیں (12:41)</p>
<p>More Reference : 67:5 Page 331</p>	<p>والمزيد راجع ٦٧ الملك: ٥ الصفحة ٣٣١</p>	<p>مزید حوالہ 5:67 صفحہ 331</p>
<p>NIGHT VISITANT MORNING STAR</p> <p>By the heaven and the Morning Star (86:1)</p> <p>Ah, what will tell you what the Morning Star is! (86:2)</p>	<p>الطارق</p> <p>وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿٨٦﴾ الطَّارِقِ ١</p> <p>وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٨٦﴾ الطَّارِقِ ٢</p>	<p>رات کو آنے والا صبح کا تارا</p> <p>قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی (1:86)</p> <p>تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے (2:86)</p>
<p>PIERCING BRIGHT STAR SHINING BEFORE DAWN</p> <p>The Piercing Star! (86:3)</p>	<p>النجم الثاقب</p> <p>النَّجْمِ الثَّاقِبِ ﴿٨٦﴾ الطَّارِقِ ٣</p>	<p>ستارہ ثاقب</p> <p>وہ تارا ہے چمکنے والا (3:86)</p>
<p>More Reference : 17:15,18 26:212 37:6,8,9,10 67:5 Page 676, 421, 331, 329, 331</p>	<p>والمزيد راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ١٥: ١٨٠، ٢٦ الشعراء: ٢١٢: ٣٧ الصافات: ١٠، ٨، ٩، ١٠: ٦٧ الملك: ٥</p>	<p>مزید حوالہ 5:67 10,9,8,6:37 212:26 18,15:17 صفحہ 331, 329, 331, 421, 676</p>
<p>SIRIUS - MAGNIFICENT STAR</p> <p>And that He is the Only Who is the Lord of Sirius; (53:49)</p>	<p>الشعري</p> <p>وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ﴿٥٣﴾ النجم ٤٩</p>	<p>شعری تارا</p> <p>اور یہ شعری (ستارے) کا رب ہے (49:53)</p>
<p>ZODIACAL SIGNS GREAT CONSTELLATIONS</p> <p>And in the heaven We have set constellations of the stars, and We have beautified it for beholders; (15:16)</p>	<p>البروج في السماء. مجمع الكواكب</p> <p>وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٥﴾ الحجر ١٦</p>	<p>آسمانی برج - ستاروں کا جھرمٹ مجموعہ نجوم (دب اکبر و دب اصغر وغیرہ)</p> <p>اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اس کو سجایا (16:15)</p>
<p>More Reference : 25:61 Page 331</p>	<p>والمزيد راجع ٢٥ الفرقان: ٦١ الصفحة ٣٣١</p>	<p>مزید حوالہ 25:61 - صفحہ 331</p>

PLANETARY SYSTEM

نظام الكواكب السياره

نظام سیارگان

Allah it is Who raised up the heavens without visible supports, then Himself on the Throne, and subjected the Sun and the Moon each runs to an appointed term; He regulates all affairs. He manifests signs so, that haply you may be certain of the meeting with your Lord. (13:2)

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
تُوقِنُونَ ﴿١٣﴾
﴿١٣ الرعد ٢﴾

اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کام میں لگا دیا۔ ہر ایک ایک میعاد مقرر تک گردش کر رہا ہے وہی (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے (اس طرح) وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو (2:13)

And rotates the Sun and the Moon, constant in their courses, to be of service to you, and has made of service to you the night and the day. (14:33)

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ
لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿١٤﴾
﴿١٤ ابراهيم ٣٣﴾

اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے کام میں لگا دیا کہ دونوں (دن رات) ایک دستور پر چل رہے ہیں۔ اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا (33:14)

And He has constrained the night the day, the Sun and the Moon to be of service to you, and the stars are made subservient by His command. Therein indeed are portents for people who have sense. (16:12)

وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾
﴿١٦ النحل ١٢﴾

اور اسی نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لئے اس میں (اللہ کی قدرت بہت سی) نشانیاں ہیں (12:16)

Have you not seen how Allah causes the night to pass into the day and causes the day to pass into the night, and has subdued the Sun and the Moon (to do their work), each is running to an appointed term; and that Allah is Informed of what you do? (31:29)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِي
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾
﴿٣١ لقمان ٢٩﴾

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو (تمہارے) زیر فرمان کر رکھا ہے۔ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے (29:31)

METEOR-METEORITE SHOOTING STAR

شهاب ثاقب - نجم براق

شهاب ثاقب - شہابہ (چمکتا ہوا انگارہ)

HEAVENS ARE GUARDED AGAINST EVERY SATANIC ACCESS

حفظت السموات من التدخل الشيطاني

آسمانوں کو شیطانی رسائی سے محفوظ کر دیا گیا

And We have guarded it from every cast devil, (15:17)

وَحَفِظْنَا بِهَا مِنَ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر ١٧﴾

اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا (17:15)

Except for such as may try to eavesdrop so a blazing meteor follows him. (15:18)

إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر ١٨﴾

ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارا اس کے پیچھے لپکتا ہے (18:15)

They are too withdrawn to even hear it. (26:212)

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُونَ ﴿٢١٢﴾ الشعراء ٢١٢

وہ (آسمانی باتوں کے) سننے (کے مقامات) سے الگ کر دیئے گئے ہیں (212:26)

We have adorned the lowest heaven with an ornament, the planets; (37:6)

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٣٧﴾ الصّفت ٦

بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا (6:37)

Plus a safeguard against every stubborn devil (37:7)

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٣٧﴾ الصّفت ٧

اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی (7:37)

So they cannot listen to the supreme council for they are hurled from every side. (37:8)

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٣٧﴾ الصّفت ٨

کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے (ان پر انگارے) پھینکے جاتے ہیں (8:37)

They are outcast and theirs is a perpetual torment; (37:9)

دُحُورًا وَأَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٣٧﴾ الصّفت ٩

(یعنی وہاں سے) نکال دینے کو اور ان کے لئے عذاب دائمی ہے (9:37)

Except him who tries to eavesdrop and there pursues him a blazing meteor. (37:10)

إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿٣٧﴾ الصّفت ١٠

ہاں جو کوئی (فرشتوں کی کسی بات کو) چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا نگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے (10:37)

And We have beautified the nearest sky with lamps and We have made them missiles for the devils, and for them We have prepared the torment of flame. (67:5)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٦٧﴾ الملڪ ٥

اور ہم نے قریب کے آسمان کو (تاروں کے) چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لئے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے (5:67)

SOLAR AND LUNAR SYSTEM

النظام الشمسي والقمری

نظام شمسی اور قمری

THE SUN AND THE MOON

الشمس والقمر

سورج اور چاند

Blessed be He Who has placed in the heaven constellations and has set therein great beacon and a shining moon! (25:61)

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٢٥﴾ الفرقان ٦١

(اور اللہ) بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں (آفتاب کا نہایت روشن) چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا (61:25)

And has made the Moon as a light therein, and made the Sun as a source of light? (71:16)

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿٧١﴾ نوح ١٦

اور چاند کو ان میں (زمین کا) نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے (16:71)

And placed (therein the Sun) a dazzling lamp, (78:13)

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿٧٨﴾ النبأ ١٣

اور (آفتاب کا) روشن چراغ بنایا (13:78)

By the Sun and its radiance, (91:1)

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿٩١﴾ الشمس ١

سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی (91:1)

And the Moon when it follows him, (91:2)

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ﴿٩١﴾ الشمس ٢

اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے (2:91)

More Reference : 7:54 10:5 16:12 22:18
Page 322 334 330 1013
36:38,81 71:16 81:1
334,321 331 795

والمزيد راجع ٧ الأعراف: ٥٤ ١٠ يونس: ٥٥
١٦ النحل: ١٢ ٢٢ الحج: ١٨ ٣٦ يس: ٨١,٢٨
٧١ لوت: ١٦ ٨١ التكوير: ١

مزید حوالہ 7:54 10:5 16:12 22:18 54:7
صفحہ 322 334 330 1013 334,321
1:81 16:71
795 331

**SUN AND MOON ARE FLOATING
WITHIN THEIR ORBITS
(IN CELESTIAL SPHERES)**

And He it is Who created the night and the day, and the Sun and the Moon. They (all celestial bodies) float, each in an orbit. (21:33)

It is not for the Sun to overtake the Moon, nor does the night outstrip the day. They (all celestial bodies) float each in an orbit. (36:40)

The Sun and the Moon are made punctual. (55:5)

الشمس والقمر (والأجرام الفلكية الأخرى) كل في فلك مختص لهم يسبحون

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الأنبياء ٣٣﴾

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٣٦ يسين ٤٠﴾

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥ الرحمن ٥﴾

سورج اور چاند ایک مخصوص دائرے میں گھوم رہے ہیں

اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا (یہ) سب (یعنی سورج اور چاند اور ستارے) آسمان میں (اس طرح چلتے ہیں گویا) تیر رہے ہیں (33:21)

نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں (40:36)

سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں (5:55)

More Reference : 2:258 Page 953

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٥٨

المزيد راجع 2:258 صفحہ 953

**DESIGNED COURSE OF LUNAR PHASES
FROM CRESCENT TO FADING**

And for the Moon We have designed phases till it finally appears again like an old shrivelled palm-frond. (36:39)

**POLAR STAR TO GUIDE ON LAND AND SEA
DURING DARKNESS - LANDMARKS**

And He it is Who has set for you the stars that you may guide your course by them amid the darkness of the land and the sea. We have detailed our signs for people who have knowledge. (6:97)

and landmarks (too), and by the stars they find a way. (16:16)

I swear by the planets, (81:15)

the stars, which rise and set, (16)

منازل القمر

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْوَةِ الْقَدِيمِ ﴿٣٦﴾
﴿٣٦ يس ٣٩﴾

النجوم للاهتداء في السفر ليلا

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ٩٧﴾

وَعَلَّمْتُمُوهَا وَيَا لَنَجْمِهِمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾
﴿١٦ النحل ١٦﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ﴿٨١﴾
﴿٨١ التكويد ١٥﴾
الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ﴿٨١﴾
﴿٨١ التكويد ١٦﴾

چاند کا گھٹنا اور بڑھنا (ہلال - قمر)

اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ (گھٹتے گھٹتے) کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے (39:36)

قطبی ستارہ برائے رہنمائی سفر

اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لئے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں (97:6)

اور (راستوں میں) نشانات بنا دیئے اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں (16:16)

ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں (15:81)

اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں (16:81)

Reference :	7:54	15:16	22:18
Page	322	329	114
61	37:6,10	53:1,49	56:75
81	329,331	174,329	215
1	77:8	81:2	82:2
3	795	795	795
			329,379

وللمزيد راجع	٧ الأعراف: ٥٤	١٥ الحجر: ١٦
٢٢ الحج: ١٨	٢٥ الفرقان: ٦١	٣٧ الصافات: ١٠٠
٥٣ النجم: ٤٩	٥٦ الواقعة: ٧٥	٦١ الصف: ١
٧٧ المرسلات: ٨	٨١ التكويد: ٢	٨٢ الانفطار: ٤٠
		٨٦ الطارق: ٢

المزيد راجع	٧: ٥٤	١٥: ١٦	٢٢: ١٨
صفحة	322	329	114
61:25	18:22	16:15	54:7
331	114	329	322
8:77	1:61	75:56	49,1:53
795	113	215	329,174
		4,1:86	2:82
		379,329	795
			2:81
			795

**A CONTRAST OF
DARKNESS OF THE NIGHT
AND SPLENDOR OF THE DAY**

Be to Allah, Who has created the heavens and the earth and has appointed darkness and light. Yet the who disbelieve ascribe rivals to their Lord. (6:1)

**تباين الظلام والنور ظلمة الليل
وضحي الشمس نهارا**

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ١﴾

**اندھیرا اور روشنی کا فرق
رات کی تاریکی اور دن کا اجالا**

ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو لائق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی پھر بھی کافر (اور چیزوں کو) اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں (1:6)

Another token for them is night, We strip it of the day, and they are in darkness. (36:37)

وَأَيُّ لَيْلٍ لَّيْلٌ نَسْتَكْرِ مِنْهُ الْبَارِقَاتُ فِئَادُهُمْ مُّظْلِمُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٣٧﴾

اور ایک نشانی ان کے لئے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے (37:36)

And He made dark the night there of, and brought forth the morn thereof. (79:29)

وَاعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾
﴿٧٩﴾

اور اسی نے رات تاریک بنائی اور (دن کو) دھوپ نکالی (29:79)

And by the close of night (as it darkly falls), (81:17)

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾
﴿٨١﴾

اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے (17:81)

And by the breath of morning (dawn) (81:18)

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾
﴿٨١﴾

اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے (18:81)

And by the day when it reveals the world, (91:3)

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٣﴾
﴿٩١﴾

قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے (3:91)

And by the night when it (veils) enshrouds things up. (91:4)

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿٤﴾
﴿٩١﴾

قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے (4:91)

And by the night enshrouding (as it veils the earth in darkness) (92:1)

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾
﴿٩٢﴾

رات کی قسم جب چھا جائے (1:92)

And by the day resplendent (as it rises bright) (92:2)

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾
﴿٩٢﴾

اور دن کی قسم جب روشن ہو (2:92)

More Reference : 10:67 27:82
Page 336, 788

وللمزيد راجع ١٠ يونس: ٦٧ ٢٧ النمل: ٨٢
الصفحة ٣٣٦, ٧٨٨

مزید حوالہ 67:10 82:27
صفحہ 788, 336

MOVING SHADOWS
AND REFLECTIONS

تفيا ظل الأشياء

بڑھتے گھٹتے سائے - پرچھائیں
(عکس کا تصور)

Have they not observed all things that Allah has created, how their shadows incline to the right and to the left, bowing down to Allah, and they themselves feel of lessened importance? (16:48)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّهُوا ظِلًّا
عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذُخْرُونَ ﴿٤٨﴾
﴿١٦﴾

کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا جن کے سائے دائیں سے (بائیں کو) اور بائیں سے (دائیں کو) جھک جھک کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں (16:48)

And Allah has granted you shade out of what. He has created, (shelter from the Sun;)-----Thus He perfects His favours to you, in order that you may surrender (to Him). (16:81) PART

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا
كَذَلِكَ
يَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ﴿٨١﴾
﴿١٦﴾

اور اللہ ہی نے تمہارے (آرام کے) لئے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے
----- اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے کہ تم فرمانبردار بنو (81:16) جزو

Have you not seen how your Lord lengthens the shadows-- And if He willed He could have made it stand still-- then We have made the Sun its pilot; (25:45)

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَكَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ
لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾
﴿٢٥﴾

بھلا تم نے اپنے پروردگار (کی قدرت) کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر (کے پھیلا) دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو (بے حرکت) ٹھہرا رکھتا پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما (اُس پر دلیل) بنایا (25:25)

And then (after having caused it to lengthen) We draw it towards Ourselves with gradual drawing-in (contraction by easy stages). (25:46)

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ٤٦﴾

پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں
(46:25)

**SUN AND MOON TO MAINTAIN CALENDAR
MOON - SOURCE OF CALCULATION OF
TIME SUN - SOURCE OF OBSERVANCE
AND REGULATION OF SEASONS**

الاحتفاظ بالتقويم، والعلم بعدد السنين
والحساب وتنظيم الفصول تحتاج
إلى الشمس والقمر

چاند سورج برائے تقویم
چاند: وقت اور عرصہ کے شمار کا ذریعہ
سورج: موسموں کے نظام اور جائزہ کا ذریعہ

He is the kindler of the morn, and He has appointed the night for repose, and the Sun and the Moon for reckoning (telling time). That is the measuring of the Mighty, the Wise. (6:96)

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾
﴿٩٦ الانعام ٩٦﴾

وہی (رات کے اندھیرے سے) صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو (موجب) آرام (ٹھہرایا) اور سورج اور چاند کو (ذرائع) شمار بنایا ہے یہ اللہ کے (مقرر کے ہوئے) اندازے ہیں جو غالب (اور) علم والا ہے (96:6)

He it is Who made the Sun a source of radiant light and the Moon a light (reflected) and determined for it phases, that you might know how to compute the years and to count (time) Allah created not (all) that except in truth. He details His signs for people who have knowledge. (10:5)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ
الْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾
﴿١٠ يونس ٥﴾

وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور (کاموں کا) حساب معلوم کرو یہ (سب کچھ) اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے (5:10)

And We established the night and the day two symbols. Then We made dark the portent of the night, and We made the portent of the day sight-giving, that you may seek bounty from your Lord, and that you may know the computation of the years, and the reckoning, and We have spilt out everything most clearly.. (17:12)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَنْ نَا آيَةَ
الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ١٢﴾

اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو تاریک بنایا۔ اور دن کی نشانی کو روشن۔ تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل (یعنی روزی) تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ اور ہم نے ہر چیز کی (بخوبی) تفصیل بیان کر دی ہے (12:17)

And the Sun runs in an orbit of its own. That is laid down by the will of the Mighty, the Wise. (36:38)

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾
﴿٣٦ يسين ٣٨﴾

اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ (اللہ) غالب (اور) دانا کا (مقرر کیا ہوا) اندازہ ہے (38:36)

He has created the heavens and the earth with truth. He makes night to precede day, and He makes day to precede night, and He has made the sun and the Moon subservient (to His laws) each running for an appointed term. Is not He the Mighty, The Forgiving? (39:5)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ
عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ لِمَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَّا
هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْوَافُ ﴿٥﴾
﴿٣٩ الزمر ٥﴾

اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے (اور) وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی غالب (اور) گناہوں کا بخشنے والا ہے (5:39)

**LUNAR ALMANAC OF
TWELVE MONTHS**

التقويم القمري
يحتوي اثنا عشر شهرا لكل عام

قمري سال (کیلنڈر) کے بارہ ماہ

The number of the months with which Allah is twelve months by Allah's ordinance in the day that He created the heavens and the earth (9:36) PART

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
----- ﴿٩ التوبة ٣٦﴾ جزء

اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں (بارہ ہیں یعنی) اس روز (سے) کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں (برس کے) بارہ مہینے (لکھے ہوئے ہیں)۔ (36:9) جزو

ALTERNATION OF NIGHT WITH DAYLIGHT

In the creation of the heavens and the earth and (in) the succession of night and day are tokens (of His Sovereignty) for men of understanding. (3:190)

In the alternation of day and night and all that Allah has created in the heavens and the earth are portents, for folk who fear Him. (10:6)

That is because Allah makes the night grow longer by shortening the day and makes the day to grow longer by shortening the night, and because Allah is Alert and Observant. (22:61)

Allah causes the revolution of the day and the night. Herein is indeed a lesson for those who possess insight. (24:44)

And He it is Who has appointed night and day in succession, for him who desires to take thought, or desires to be grateful. (25:62)

IF ALLAH_(swt) WERE TO MAKE PERPETUAL NIGHT UNTIL RESURRECTION DAY, WHO ELSE CAN BRING ANY RADIANCE

Say: Have you thought, if Allah made night everlasting for you till the Day of Resurrection, who is a god besides Allah who could bring you light? Will you not then listen (to the truth)? (28:71)

IF ALLAH_(swt) WERE TO MAKE PERPETUAL DAYLIGHT UNTIL RESURRECTION DAY WHO ELSE COULD BRING A NIGHT

Say: Have you thought, if Allah made day everlasting for you till the Day of Resurrection, who is a god besides Allah who could bring you night wherein you rest? Will you not then observe (these things) (28:72)

اختلاف الليل والنهار

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
﴿٣ آل عمران ١٩٠﴾

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿١٠﴾
﴿١٠ بونس ٦﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾
﴿٢٢ الحج ٦١﴾

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾
﴿٢٤ النور ٤٤﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾
﴿٢٥ الفرقان ٦٢﴾

يقدر الله على أن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾
﴿٢٨ القصص ٧١﴾

يقدر الله على أن يجعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾
﴿٢٨ القصص ٧٢﴾

رات اور دن کا بدل بدل کر آنا جانا

بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں (190:3)

رات اور دن کے (ایک دوسرے کے پیچھے) آنے جانے میں جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں (سب میں) ڈرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں (10:6)

یہ اس لئے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ تو سننے والا دیکھنے والا ہے (22:61)

اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ دیکھنے والوں کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے (24:44)

اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے (جانے) والا بنایا (یہ باتیں) اس شخص کے لئے ہیں جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے (سوچنے اور سمجھنے کی ہیں) (25:62)

اگر اللہ تعالیٰ روز قیامت تک رات ہی رات قائم کرنے کو کون ہے جو دن کی روشنی کو لائے

کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات (کی تاریکی) کئے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لادے۔ تو کیا تم سنتے نہیں (28:71)

اگر اللہ تعالیٰ روز قیامت تک دن ہی دن رکھے تو کون ہے جو رات کو لائے

کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کئے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لادے جس میں تم آرام کرو۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں (28:72)

ALLAH'S (SWT) PLANS ARE ABOVE THE TIME LIMITS

For Detail Consult : 2:259 18:25

For Detail Chapter : "Companions of the cave" "Uzair(PBUH)"

Page 1081, 1106, 1107

NIGHT FOR SLEEP AND REPOSE WHILE DAY FOR QUEST OF LIVELIHOOD

He it is Who has made for you the night that you might have rest therein and the day to make you see, herein are portents for a folk that heed. (10:67)

And He it is Who made night, a covering for you, and sleep for repose, and has made day time for raising again. (25:47)

Have they not seen how We have appointed the night that they may rest therein, and the day sight giving? Therein are indeed portents for people who believe. (27:86)

Of His mercy He has made for you night and day, that therein you may rest and there you may seek His bounty, and that haply you may be thankful. (28:73)

And of His signs is your slumber by night and by day, and your pursuit of His bounty. In that indeed are signs for folk who listen. (30:23)

Allah is the Only Who has appointed for you night that you may rest therein, and day to make you see. Allah is the Lord of bounty to mankind, yet most of mankind are ungrateful. (40:61)

And We have granted you sleep for repose, (78:9)

And We have made the night as a covering. (78:10)

And We have made the daytime for (you to earn your) livelihood. (78:11)

الوقت مسخر لله

واللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۲۵۹ ۱۸ الكهف: ۲۵
مطالعه باب "اصحاب الكهف" "عزیز"
الصفحة ۱۰۸۱، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷

جعل الله الليل لباسا والنهار معاشا

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿١٠﴾
﴿١٠ يونس ٦٧﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ٤٧﴾

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٢٧ النمل ٨٦﴾

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨ القصص ٧٣﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٣٠﴾
﴿٣٠ الروم ٢٣﴾

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٤٠﴾
﴿٤٠ المؤمن ٦١﴾

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨ النبأ ٩﴾

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨ النبأ ١٠﴾

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨ النبأ ١١﴾

وقت کی تسخیر

تفصیل کیلئے دیکھیے 259:2 18:25
مطالعه باب "اصحاب الكهف" "حضرت عزیز"
صفحة 1107, 1106, 1081

رات آرام اور نیند کے لئے اور دن کام اور تلاش معاش کے لئے

وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ اور روز روشن بنایا (تاکہ اس میں کام کرو) جو لوگ سننے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لئے ان میں نشانیاں ہیں (67:10)

اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لئے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا وقت مقرر کر دیا (47:25)

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو (اس لئے) بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن (بنایا ہے) کہ اس میں کام کریں (بے شک اس میں مومن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں (86:27)

اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور (اس میں) اس کا فضل (اس کی بھیجی ہوئی روزی) تلاش کرو تاکہ شکر کرو (73:28)

اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا (نیند کرنا) اور اس کے فضل کا تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لئے ان باتوں میں (بہت سی) نشانیاں ہیں (23:30)

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا (کہ اس میں کام کرو) بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (61:40)

اور نیند کو تمہارے لئے (موجب) آرام بنایا (9:78)

اور رات کو پردہ مقرر کیا (10:78)

اور دن کو معاش (روزگار) کا وقت قرار دیا (11:78)

**ALL THE HEAVENLY BODIES ARE
SUBSERVIENT TO ALLAH'S(SWT) COMMAND**

-----He covers the night with the day, which is in haste to follow it, and has made the Sun and the Moon and the stars regulated by His command. Surely creation and authority belongs to Him. Blessed be Allah Lord of the Universe. (7:54) PART

**ALLAH(SWT) WITH HIS CHERISHING CARE HAS
MADE ALL THINGS IN NATURE AVAILABLE FOR
THE USE OF HUMANKIND**

And has made subservient to you whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth; it is all (as a gift) from Him. Herein are messages for people who reflect. (45:13)

**WHY DON'T YOU PERCEIVE
PONDER - CONTEMPLATE**

Will they not then ponder on the Qur'an? If it had been from other than Allah they would have found therein much incongruity. (4:82)

Already We have urged to hell many of the jinn and humankind, having hearts wherewith they understand not, and having eyes wherewith they see not, and having ears wherewith they hear not. These are as the cattle, But they are worse! These are the neglectful. (7:179)

كل شيء في السموات والأرض
مسخر بأمر الله

يَغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ
حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ
بِأَمْرِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾
﴿٧ الاعراف ٥٤﴾ جزء

سخر الله كل شيء في السماء والأرض
لخدمة الإنسان

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
قَبْلَ هَٰذَا فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾
﴿٤٥ الجاثية ١٣﴾

لماذا لا تتفكرون

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾
﴿٤ النساء ٨٢﴾

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾
﴿١٧ الاعراف ١٧٩﴾

کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احکام
کی تعمیل میں مصروف ہے

----- وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی (اسی کا ہے) یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے (54:7) جزو

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے
آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بنی نوع انسان کی
خدمت پر مامور کر دیا ہے

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے (حکم) سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لئے اس میں (اللہ کی قدرت) نشانیاں ہیں (13:45)

تم غور کیوں نہیں کرتے

بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا (کلام) ہوتا تو اس میں (بہت سا) اختلاف پاتے (82:4)

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں۔ اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ (بالکل) جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھلے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں (179:7)

For Detail Consult :	2:44	6:32	9:127
Page	473	418	851
10:3,16	11:24,30	16:17	23:85
127,236	770,918	321	104
28:60	29:63	30:8	37:155
431	346	366	136
54:17,22,32,40,51	56:62	69:42	86:5
124,856	402	235	402

للنفسيل راجع	٢ البقرة: ٤٤	٦ الأنعام: ٣٢
٩ التوبة: ١٢٧	١٠ يونس: ١٦٠	١١ هود: ٢٠٠
١٦ النحل: ١٧	٢٣ المؤمنون: ٨٥	٢٧ النمل: ٦٢
٢٨ القصص: ٦٠	٢٩ العنكبوت: ٦٣	٣٠ الروم: ٨
٣٧ الصافات: ١٥٥	٤٠ المؤمنون (عالم): ٥٨	٥٤ القمر: ١٧
٥١٤، ٥١٣، ٥١٢، ٥١١	٥٦ الواقعة: ٦٢	٦٩ الحاقة: ٤٢
٨٦ الطارق: ٥		

تفصيل کیلئے دیکھئے	127: 9	32:6	44:2
صفحہ	851	418	473
16,3:10	85:23	17:16	30,24:11
127,236	104	321	770,918
62:27	155:37	8:30	63:29
124	136	366	346
58:40	62:56	51,40,32,22,17:54	431
770	402	124,856	58:40
42:69			5:86
235			402

GEOLOGY

عالم طبقات الارض

(علم الارضیات) جبالہ

BEAUTIFUL STREAKS

(MARBLING) QUARTZ OF MANY HUES AND SHADES FROM THE MOUNTAINS

Have you not seen that Allah causes water to fall from the sky, and We produce therewith fruits of diverse hues, and among the mountains are streaks white and red, of diverse hues, and (others) raven black; (27)

وجود الأحجار المختلفة الألوان في الجبال

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ﴿٢٧﴾

﴿٣٥ فاطر ٢٧﴾

پہاڑوں سے مختلف رنگوں کے قیمتی پتھر

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے۔ اور پہاڑوں کے مختلف حصے سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں۔ اور (بعض) کالے سیاہ ہیں (27:35)

NATURAL ANTI - EARTHQUAKES STRATAGEM

MOUNTAINS AS KINGPINS - TO MAINTAIN STABILITY OF EARTH CRUST (STEADYING AGENTS)

And He has cast into the earth firm hills that it quake not with you, and streams and roads that you may find a way. (16:15)

النظام الطبيعي للوقاية من الزلازل

الجبال الراسيات لتوازن الأرض

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

﴿١٦ النحل ١٥﴾

زلزلوں سے حفاظت کا قدرتی نظام

زمین کے توازن و ضبط کیلئے پہاڑوں کا بوجھ

اور اسی نے زمین پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے اور نہریں اور راستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک (آسانی سے) جا سکو (15:16)

And We have placed in the earth firm hills lest it sway with them, and We have placed therein broad highways (between mountains) that they may find their way. (21:31)

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

﴿٢١ الأنبياء ٣١﴾

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں (کے بوجھ) سے ہلنے (اور جھکنے) نہ لگے اور اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں (راستہ حاصل کریں) (31:21)

And He has created the heavens without supports that you can see, and has cast into the earth firm hills, so that it quake not with you; and He has dispersed therein all kinds of beasts. And We send down water from the sky and We cause (plants) of every goodly kind to grow therein. (31:10)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٣١﴾

﴿٣١ لقمان ١٠﴾

اسی نے آسمان کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے تاکہ تم کو جنبش نہ دے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیئے۔ اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر (اس سے) اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں (10:31)

And the earth We have spread out, and have flung firm hills therein, and have grown of every lovely kind species thereon, (50:7)

وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥٠﴾

﴿٥٠ ق ٧﴾

اور زمین کو (دیکھو اسے) ہم نے پھیلا یا اور اس میں پہاڑ رکھ دیئے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں (7:50)

And a token and a reminder for every servant slave. (50:8)

تَبْحِيرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٥٠﴾

﴿٥٠ ق ٨﴾

تاکہ رجوع کرنے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں (8:50)

Have We not laid the earth as a wide expanse? (78:6)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهادًا ﴿٧٨﴾

﴿٧٨ النبأ ٦﴾

کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ (6:78)

And set the mountains as kingpins. (Bulwarks).? (78:7)

وَالْجِبَالِ أَوْتَادًا ﴿٧٨﴾

﴿٧٨ النبأ ٧﴾

اور پہاڑوں کو (اس کی) میخیں (نہیں ٹھہرایا؟) (7:78)

And We made fast the hills, (as anchors). (79:32)

وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا ﴿٧٩﴾

﴿٧٩ النزعت ٣٢﴾

اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا (32:79)

MINERALOGY

علم المعادن

معادن (علم کان کنی)

A SOURCE OF GROWING MECHANIZATION IRON - A METAL OF GREAT ADVANTAGE TO THE HUMANKIND

We sent Our messengers with clear proofs, and revealed with them the Scripture and the Balance, that mankind may observe right measure; and He revealed iron, wherein is mighty power and (many) uses for mankind, and that Allah may know him who helps Him and His messengers, though unseen. Surely Allah is Strong, Almighty. (57:25)

الحديد مصدر ترقية ميكانية
ومعدن ذو منافع كثيرة

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾
﴿٥٧ الحديد ٢٥﴾

لوہا صنعتی ترقی کا ذریعہ
انسانی زندگی کے لئے کثیر المقاصد

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور ان پر کتاب اور میزان و ترازو (یعنی قواعد عدل) نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور لوہا پیدا کیا اس میں (اسلحہ جنگ کے لحاظ سے) سخت ہیبت و قوت ہے۔ اور لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں اور اس لئے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے۔ بے شک اللہ قوی (اور) غالب ہے (25:57)

More Reference : 17:50 18:96 22:21 34:10 Page 777, 1083, 895, 1068

وللمزيد راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل) ٥٠: ١٨ الكهف: ٩٦ ٢٢ الحج: ٢١ ٣٤ سبأ: ١٠

مزید حوالہ 17:50 18:96 22:21 34:10 Page 777, 1083, 895, 1068

SILVER

For Detail Consult : 3:14 9:34 43:33 Page 418, 270, 418

واللتفصيل راجع ٣ آل عمران: ١٤ ٩ التوبة: ٣٤ ٤٣ الزخرف: ٥٣، ٢٣، ٤١٨، ٢٧٠، ٤١٨، ١٠٢١

تفصیل کے لئے دیکھئے 3:14 9:34 43:33 Page 418, 270, 418

GOLD

For Detail Consult : 3:14 9:34 22:23 43:35,53 44:55 Page 418,874

واللتفصيل راجع ٣ آل عمران: ١٤ ٩ التوبة: ٣٤ ٢٢ الحج: ٢٣ ٤٣ الزخرف: ٥٣، ٢٣، ٤١٨، ٢٧٠، ٤١٨، ١٠٢١

تفصیل کے لئے دیکھئے 3:14 9:34 22:23 43:35,53 44:55 Page 418,874

COPPER - BRASS

For Detail Consult : 18:96 34:12 Page 1083, 1073

واللتفصيل راجع ١٨ الكهف: ٩٦ ٣٤ سبأ: ١٢

تفصیل کے لئے دیکھئے 18:96 34:12 Page 1083, 1073

CAVES AND GROTTOS - SHELTERS (RESORTS) IN THE MOUNTAINS

And Allah has given you, of that which He has created, shelter from the Sun; and has given you places of refuge in the mountains, ----- (16:81) PART

الأكنان و المغارات

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا..... (١٦ النحل ٨١) جزء

BROAD TRACKS (HIGHWAY) ALONG MOUNTAINS

And We have placed in the earth firm hills lest it quakes with them, and We have placed therein broad paths that haply they may find their way. (21:31)

السبل الواسعة في الجبال

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ (٢١ الأنبياء ٣١)

VOLCANIC ERUPTIONS AND EARTHQUAKES

For Detail Consult : 18:47 20:105 22:1 Page 794 794 791 27:88 50:44 52:10 56:4,5,6 69:14 794 791 794 791,794 791 70:9 73:14 77:10 78:20 79:6 81:3 794 794 794 794 791 794 84:4,8 101:5 792,800 794

واللتفصيل راجع ١٨ الكهف: ٤٧ ٢٠ طه: ١٠٥ ٢٢ الحج: ١ ٢٧ النمل: ٨٨ ٥٠ ق: ٤٤ ٥٢ الطور: ١٠ ٥٦ الواقعة: ٦٥، ٤ ٦٩ الحاقة: ١٤ ٧٠ المعارج: ٩ ٧٣ المزمل: ١٤ ٧٧ المرسلات: ١٠ ٧٨ النبأ: ٢٠ ٧٩ النازعات: ٦ ٨١ التكويد: ٣ ٨٤ الانشقاق: ٨٤ ١٠١ القارعة: ٥

تفصیل کے لئے دیکھئے 18:47 20:105 22:1 Page 794 794 791 27:88 50:44 52:10 56:4,5,6 69:14 794 791 794 791,794 791 70:9 73:14 77:10 78:20 79:6 81:3 794 794 794 794 791 794 84:4,8 101:5 792,800 794

OCEANOLOGY

علم البحريات

علم بحريات

NAVIGATION
THE SAIL ON OR THROUGH THE
OCEANS AND CHANNELS

الملاحة، ركوب البحر بالفلک

بحری سفر۔ سمندری آمد و رفت
جہاز کشتی رانی

VOYAGE - TRANSPORT AND HAULAGE BY
LADEN SHIPS AND VESSELS

وسائل النقل

ذرائع نقل و حمل

And a token for them is that We bore (transported) their offspring (through the flood) in the laden ship, (36:41)

وَإِنَّ لَّهُمْ أَتَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا (41:36)

And have created for them of the sea thereof whereon they ride. (36:42)

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

اور ان کے لئے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں (42:36)

And if We will, We drown them, and there is no help for them, neither can they be saved; (36:43)

وَإِنْ نَشَاءُ نَغْرِقْهُمْ فَلَاصِرٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٣﴾

اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں۔ پھر نہ تو ان کا کوئی فریادرس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے (43:36)

Unless by mercy from Us and as comfort for a while. (36:44)

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں (44:36)

How are the ships looming up like lofty mountains on the sea. (55:24)

وَلَكِنَّ الْجَوَارِ الْمُشَاجِرِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

اور اللہ ہی کی (میلکیت میں) ہیں وہ جہاز بھی جو دریا میں پہاڑوں کی طرح بلند (چل پھر رہتے) ہیں (24:55)

Which is it, of the favours of your Lord, that you deny? (55:25)

فِي أَيِّ الْآيَاتِ رَبِّكُمَا نَكِرْتُمْ ﴿٢٥﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (25:55)

SAIL BOATS
STATELY SAILING SHIPS

السفن الشراعية في البحر

سمندر میں بادبانی کشتیاں

All of His portents are the ships, that sail like (floating) mountains through the sea; (42:32)

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

اور دریاؤں میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ (32:42)

If He wills He calms the wind so that they keep still upon its surface. He is in signs for every steadfast grateful (heart). (42:33)

إِنْ يَشَاءُ يُسَكِّنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے۔ اور جہاز سمندروں کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لئے ان (باتوں) میں قدرت اللہ کے نمونے ہیں (33:42)

More Reference : 23:22 Page 361

وللمزيد راجع: ٢٣ المؤمنون: ٢٢ الصفحة ٣٦١

مزید حوالہ 22:23 صفحہ 361

NAVIGATION ROUTES
RIVER WAYS

سبل السفر البحري

سمندری سفر کے راستے

And He has cast into the earth firm hills that it quakes not with you, and streams and roads that you may find a way (16:15)

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاكِبًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

اور اسی نے زمین پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے اور نہریں اور راستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک (آسانی سے) جا سکو (15:16)

MARITIME COMMERCE - MERCHANT NAVY

التجارة البحرية

سمندری تجارت

SAILINGS OF SHIPS - VESSELS AND BOATS THROUGH THE OCEANS RIVERS - CHANNELS-LAKES

البحر و الأنهار و الفلك

سمندر دریا نہریں اور کشتیاں و جہاز

In the creation of the heavens and the earth, and the difference of night and day, and the ships which run upon the sea with that which is of use to men, and the water which Allah sends down from the sky, thereby reviving the earth after its death, and dispersing all kinds of beasts therein, and (in) the ordinance of the winds, and the clouds obedient between heaven and earth: are signs (of Allah's Sovereignty) for people who have sense. (2:164)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ البقرة ١٦٤

بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات و دن کے ایک دوسرے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے نفع کے لئے رواں ہیں اور بارش میں جس کو اللہ ارش نازل کرتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقلمندوں کی لئے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں (164:2)

Allah is He Who has created the heavens and the earth, and causes water to descend from the skies, thereby producing fruits as food for you, and has made the ships to be of service to you, that they may sail upon the sea at His command, and has also made of service to you the rivers; (14:32)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿١٤﴾ ابراهيم ٣٢

اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور آسمان سے بارش نازل کی۔ پھر اس سے تمہارے کھانے کے لئے پھل پیدا کئے۔ اور کشتیوں (اور جہازوں) کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا (اور سمندر) میں اس کے حکم سے چلیں پھریں اور اسی نے نہروں کو بھی تمہارے اختیار میں کر دی ہیں (32:14)

(O mankind), your Lord is He Who drives for you the ships upon the sea that you may seek of His bounty. He is ever Merciful towards you. (17:66)

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ بنی اسرائیل ٦٦

تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے (روزی) تلاش کرو۔ بے شک وہ تم پر مہربان ہے (66:17)

Have you not seen how Allah has made all that is in the earth subservient to you? And the ships which sail upon the sea by His command, and He holds back the heaven from falling on the earth unless by His leave. Allah is, for mankind, full of Pity, Merciful. (22:65)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ الحج ٦٥

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں (سب) اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں۔ اور کشتیاں (بھی) جو اسی کی حکم سے دریا میں چلتی ہیں۔ اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر (نہ) گر پڑے مگر اسی کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے (65:22)

And of His signs is this: He sends herald winds to make you taste His mercy, and that the ships may sail at His command, and that you may seek His favour, and that haply you may be thankful. (30:46)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ الروم ٤٦

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے (روزی) طلب کرو عجب نہیں کہ تم شکر کرو (46:30)

Have you not seen how the ships glide on the sea by Allah's grace, that He may show you of His wonders? Therein indeed are portents for every steadfast, grateful (heart). (31:31)

الْمَتَرَاتِكُ الْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں۔ تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے (اور) شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں (31:31)

﴿٣١ لقمان ٣١﴾

Reference: 16:14,15 23:22 36:41 2:32,33 45:12 55:24 Page 342, 340, 361

والمزید راجع ١٦ النحل: ١٤، ١٥، ٢٣ المؤمنون: ٢٢ ٣٦ يس: ٤١ ٤٢ الشورى: ٢٢، ٣٢ ٤٥ الجاثية: ١٢ ٥٥ الرحمن: ٢٤

المزید حوالہ 41:36 22:23 15,14:16 24:55 12:45 33,32:42 صفحہ 361, 340, 342

TREASURES (SOURCES) OF LIVELIHOOD FROM MARINE ACTIVITIES

And He is the One Who has restrained the sea to be of service to you eat fresh meat from there, and He brings forth from there treasures which you wear. And you see the ships ploughing it that mankind may seek of His bounty, and that haply you may give thanks. (16:14)

خزائن الرزق في البحار والأنهار

سمندروں اور دریاؤں میں رزق کے خزانے

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ تَكُونُونَ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُوكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ اور اس سے زیور (موتی وغیرہ) نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس لئے بھی (دریا) کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے (معاش) تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو (14:16)

﴿١٤ النحل ١٤﴾

And He is Who has made the sea of service to you that the ships may run thereon by His command, and that you may seek of His bounty, and that haply you may be thankful; (45:12)

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُوكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے (معاش) تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو (12:45)

﴿١٢ الجاثية ١٢﴾

CORAL AND PEARLS (MINERAL GEMS) FROM SEA - RIVERS - LAKES

What is it, of the benefits of your Lord that you deny? (55:21)

خروج اللؤلؤ والمرجان من البحار

دریاؤں اور سمندروں سے موتی اور مونگے

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢١﴾

تو تم اپنے پروردگار کے کون کون سے کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ (21:55)

﴿٢١ الرحمن ٢١﴾

But these two (bodies of water) bring forth the pearls and coral stones. (55:22)

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں (22:55)

﴿٢٢ الرحمن ٢٢﴾

Reference: 21:82 38:37 Page 1072

والمزید راجع ٢١ الأنبياء: ٨٢ ٣٨ ص: ٣٧

المزید حوالہ 37:38 82:21 صفحہ 1072

DIVING

And some of the evil ones (We made absent to him) some who dived for pearls for him and did other works on the sides, and We were warders there. (21:82)

الغوص في الماء

غوطہ زنی

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿٨٢﴾

اور دیوؤں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے۔ اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے (82:21)

﴿٨٢ الأنبياء ٨٢﴾

And the unruly (devils), every wilder and diver (We made absent), (38:37)

وَالشَّيْطَانِ كُلِّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

اور دیوؤں کو بھی (ان کے زیر فرمان کیا) یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے (37:38)

﴿٣٧ ص ٣٨﴾

FISH - WHALE-SHARK

السّمك-الحوت-النون

مچھلی (وہیل-شارک)

For Detail Consult : 7:163 18:61,63
Page 502 1058
21:87 37:142 68:48
1085 1085 1086

وللتفصيل راجع ٧ الأعراف: ١٦٣ ١٨ الكهف: ٦١، ٦٢
٢١ الأنبياء: ٨٧ ٣٧ الصافات: ١٤٢ ٦٨ القلم: ٤٨
الصفحة ٥٠٢، ١٠٥٨، ١٠٨٥، ١٠٨٦

تفصيل کیلئے دیکھئے 7:163 18:61,63
502 1058
21:87 37:142 68:48
1085 1085 1086

MINGLING OF GREAT SALT OCEANS
(SANITIZING AGENT)
AND RIVER LAKES (PALATABLE)
THROUGH CONSTANT CIRCULATION

الأنهار والبحار ذوات المياه العذبة
والمياه الملح

کھاری پانی کے سمندر اور شیریں پانی کے ذخائر
(دریاؤں) کا باہمی گردش کے ذریعہ ملنا

And two seas are not alike: this, one is fresh, sweet, refreshing to drink, while the (other) bitter, salt. And from them both you eat fresh meat and derive the ornament that you wear. And you see the ship cleaving them with its prow that you may seek of His bounty, and that haply you may give thanks. (35:12)

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ
تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ فِيهِ مَؤَاخِرَ
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

اور دونوں دریا (مل کر) یکساں نہیں ہو جاتے یہ تو بیٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوش گوار ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا۔ اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو اور جسے پہنتے ہو۔ اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ (پانی کو) پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے (معاش) تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو (12:35)

And He it is Who has given independence to the two seas (though they meet); one palatable, sweet, and the other saltish, bitter; and has set a bar and a forbidding ban between them. (25:53)

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا
وَحُجْرًا مَجْجُورًا ﴿٥٣﴾

اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھالی جلانے والا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی (53:25)

Is not He (best) Who made the earth a fixed abode, and placed rivers in the folds thereof, and placed firm hills therein, and has set a barrier between the two seas? Is there any god besides Allah? No, but most of them know not! (27:61)

أَمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْفَهَا أَنْهَارًا
وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًّا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَاجِزًا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لئے پہاڑ بنائے اور (کس نے) دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی (یہ سب کچھ اللہ نے بنایا) تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے (61:27)

SCUM (AS DROSS)
SWELLING FOAM

إحداث الزبد الرابى من السيل

بہتے پانی کا جھاگ

He sends down water from the sky, so that valleys flow according to their measure, and the torrents carry (on its surface) swelling foam just like what comes out of fire, they have kindled to smelt jewelery or some equipment with. Thus Allah coins (the similitude of) the true and the false, (to compare them) As for the foam, it passes away as scum while, as for that which is of use to mankind, it remains in the earth. Thus Allah coins the similitudes. (13:17)

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ
عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ
مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

میں نے آسمان سے مینہ برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا۔ اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لئے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی) جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ (صحیح اور غلط کی) مثالیں بیان فرماتا ہے (تاکہ تم سمجھو) (17:13)

He has loosed the two seas. They meet. (55:19)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾
﴿٥٥ الرحمن ١٩﴾

اسی نے دو دریا رواں کئے جو آپس میں ملتے ہیں (19:55)

There is a barrier between them. They encroach not (one upon the other). (55:20)

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾
﴿٥٥ الرحمن ٢٠﴾

دونوں میں ایک آڑ ہے کہ (اس سے) بڑھ نہیں سکتے (20:55)

SPRINGS AND RIVERS OF PARADISE

Detail Consult	2:25	3:15	4:57
Page	860	431	860
85:119	9:72,100	10:9	13:35
50,868	880,860	866	869
6:31	22:23	25:10	29:58
67	879	861	880
5:54	57:12	65:11	76:5,6,17,18
6	863	868	871, 870
1:27,28	108:1		
872	165		

Detail Chapter : Paradise "Al-Janna"
Page 870

عَيْنُ الْجَنَّةِ وَأَنْهَارُهَا

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٥ ٣ آل عمران: ١٥
٤ النساء: ٥٧ ٥ المائدة: ١١٩، ٨٥ ٩ التوبة: ١٠٠، ٧٢
١٠ يونس: ٩ ١١ الرعد: ٣٥ ١٢ إبراهيم: ٢٣
١٣ النحل: ٣١ ١٤ الفرقان: ١٠ ١٥ الحج: ٢٣
١٦ العنكبوت: ٥٨ ١٧ الفتح: ٥ ١٨ القمر: ٥٤
١٩ الحديد: ١٢ ٢٠ الطلاق: ١١ ٢١ الطارق: ١٧، ١٥، ١٨
٢٢ المطففين: ٢٧، ٢٨ ٢٣ الكوثر: ١

راجع باب الفردوس
الصفحة ٨٧٠

جنت کے چشمے اور نہریں

تفصیل کے لئے دیکھئے	57:4	15:3	25:2	100,72:9	119,85:5
صفحہ	860	431	860	860,880	868,860
	23:14	35:13	9:10	23:22	31:16
	864	869	866	879	867
	5:48	58:29	10:25	12:57	54:54
	868	880	861	863	866
	18,17,6,5:76	11:65	12:57	28,27:83	
	871, 870	868	863	165	872

دیکھئے باب : بہشت
صفحہ 1085

CONCEPT OF SPRING (FLOOD) TIDES NEAPTIDE AND EBB-TIDE FLUX AND REFLUX OF THE SEA

Detail Consult	2:50	20:78	26:63
Page	1037, 1038		

تصور مد البحر و جزره

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٥٠ ٢٠ طه: ٧٨
٢٦ الشعراء: ٦٣ الصفحة ١٠٣٧، ١٠٣٨

جوار بھاٹا۔ مد و جزر کا تصور

تفصیل کے لئے دیکھئے	63:26	78:20	50:2
صفحہ	1038, 1037		

DO NOT REALIZE (OBSERVE-REFLECT)

O Muhammad, to the disbelievers: I say not to you (that) I possess the treasures of Allah, nor that I have knowledge of the Unseen; and I say not to you: I am an angel. I follow only that which is inspired in me. Say: Are the blind and the seer equal? Will you not then take thought? (6:50)

أنتم لا تفكرون

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُهُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾
﴿٦ الانعام ٥٠﴾

تم غور نہیں کرتے

کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ (یہ کہ) میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے (اللہ کی طرف سے) آتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور (کیوں) نہیں کرتے؟ (50:6)

Already We have urged to hell many of the jinn and humankind, having hearing wherewith they understand not, and having eyes wherewith they see not, and having ears wherewith they hear not. These are as the cattle. But they are worse! These are heedless. (7:179)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أذانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾
﴿١٧ الاعراف ١٧٩﴾

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں۔ اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ (بالکل) جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھلے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں (179:7)

Consult:	2:44	4:82	6:32
Page	473	234	418
13:16	11:24,30	16:17	23:85
351	322,236	770,918	321
7:62	60	29:63	30:8
124	1	346	366
4:17,21	2,40,51	56:62	69:42
214	6	402	235

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٤٤ ٤ النساء: ٨٢ ١٦ الانعام: ٣٢
٩ التوبة: ١٢٧ ١٠ يونس: ١٦٣ ١١ هود: ٣٠، ٢٤
١٦ النحل: ١٧ ٢٣ المؤمنون: ٨٥ ٢٧ النمل: ٦٢
٢٨ القصص: ٦٠ ٢٩ العنكبوت: ٦٣ ٣٠ الروم: ٨
٢٧ الصافات: ١٥٥ ٤٠ المنون (غافر): ٥٨ ٥٤ القمر: ١٧، ٢٢، ٢٤، ٤٠
٥٦ الواقعة: ٦٢ ٦٩ الحاقة: ٤٢ ٨٦ الطارق: ٥

تفصیل کے لئے دیکھئے	127:9	32:6	82:4	44:2
صفحہ	851	418	234	473
	2:27	85:23	17:16	30,24:11
	124	104	321	918,770
	58:40	155:37	8:30	63:29
	770	136	366	346
	402:86	42:69	62:56	17,22,32,40,51:54
	402	235	402	856,214

HYDROLOGY

علم الماء

علم آب (ایگزراؤبی)

PROTOPLASM (WHICH DEPENDS ON) CONSTANT PRESENCE OF WATER IS THE BASIS OF ALL LIVING MATTERS

الماء مصدر الحياة

پانی۔ مصدر حیات ہر جاندار کی ابتدا (تخلیق) پانی سے

-----And We made every living thing of water? Will they not then believe? (21:30) PART

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾ الأنبياء ٣٠ ﴿جزء﴾

-----اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے (30:21) جزو

Allah has created every moving (living) creature out of water.----- (24:45) PART

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ﴿٢٤﴾ النور ٤٥ ﴿جزء﴾

اور اللہ ہی نے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو پانی سے پیدا کیا۔----- (45:24) جزو

More Reference :

25:54	32:7,8	53:46
Page 443	394	396
56:58	75:37	76:6,7
399	396	395

والمزيد راجع

٢٥ الفرقان: ٥٤	٣٢ السجدة: ٨٠٧
٥٦ الواقعة: ٥٨	٤٦ الأحقاف: ٥٣
٧٦ الدهر (الإنسان): ٧٠	٧٧ المرسلات: ٢٠

مزید حوالہ

53:46	8,7:32	55:25
396	394	443
7,6:76	20:77	37:75
395	395	396
58:56		58:56
399		399

MEANS (SOURCES) OF IRRIGATION

وسائل الري

وسائل آب پاشی

HEAVY LADEN CLOUDS

السحاب الكثيف

بھاری بادل

-----Till, when they bear a cloud heavy (with rain), We drive it to a dead countryside, and then cause water to descend thereon, and thereby bring forth fruits of every kind.----- (7:57) PART

حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴿٧﴾ الاعراف ٥٧ ﴿جزء﴾

-----یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھالاتی ہیں تو ہم اس کو خشک سرزمین کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر بادل سے بارش برساتے ہیں اور بارش سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔----- (57:7) جزو

More Reference :

2:164	13:12	24:43
Page 341	348	348
30:48	35:9	78:14
345	349	354

والمزيد راجع

٢ البقرة: ١٦٤	١٣ الرعد: ١٢
٣٥ فاطر: ٩	٣٠ الروم: ٤٨
٧٨ النبأ: ١٤	٢٤ النور: ٤٣
٣٥٤، ٣٤٩، ٣٤٥، ٣٤٨، ٣٤١	الصفحة

مزید حوالہ

43:24	12:13	164:2
348	348	341
	14:78	9:35
	354	349
		48:30
		345

BLESSED WATER OF RAINS FROM THE SKY

ماء الغيث المبارك

بارش کا بابرکت پانی

-----And you see the rain down pouring from within them. And when He makes it to fall on whom He wills of His bondmen, they rejoice. (30:48) PART

فَتَرَىٰ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ الروم ٤٨ ﴿جزء﴾

-----پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں (48:30) جزو

Though before that, even before it was sent down upon them, they were in despair. (30:49)

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ الروم ٤٩ ﴿جزء﴾

یقین ماننا کہ وہ بارش کے برسنے سے پہلے ناامید ہو رہے تھے (49:30)

And He is the Only Who sends down the rain after they have lost the hope, and spreads out His mercy. He is the Protecting Friend, the Praiseworthy. (42:28)

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَكِيلُ الْحَمِيدُ ﴿٤٢﴾ الشورى ٢٨ ﴿جزء﴾

اور وہی تو ہے جو لوگوں کے ناامید ہوجانے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت (یعنی بارش کی برکت) کو پھیلا دیتا ہے۔ اور وہ کار ساز (اور) تعریف کے لائق ہے (28:42)

And We send down from the sky blessed water whereby We give growth to gardens and the grain of crops, (50:9)

We let water pour down in showers (abundantly) (80:25)

More Reference :	2:22	6:99	8:11	10:24
Page	357	358	697	426
11:52	13:17	14:32	15:22	16:10
933	343	341	347	354
20:53	22:63	23:18	25:48	27:60
1018	346	346	349	355
31:10	35:27	39:21	78:14	
338	338	347	354	

VIVIFYING SHOWERS OF RAIN TO DEAD COUNTRYSIDE

Allah sends down water from the sky and therewith revives the earth after its death! Herein is indeed a portent for the folk who will listen. (16:65)

See you not how Allah sends down water from the sky and then the earth becomes verdant upon the morrow? Indeed Allah is Subtle, Aware. (22:63)

And We down from the sky water in (due) measure, and We let it trickle into the earth, and We are Able to make it disappear. (23:18)

And if you were to ask them: Who causes water to come down from the sky, and therewith revives the earth after its death? They would say: Allah. Say: Praise be to Allah! But most of them have no sense. (29:63)

And who sends down water from the sky in (due) measure, and We give a dead countryside therewith. Even so will you be brought forth; (43:11)

Provision (made) for mankind (His servants); and therewith We awaken a dead land. Even so will be the Resurrection of the dead. (men) (86:11)

And the heaven which gives the falling rain, (86:11)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَدَّتٍ وَحَبَّ الْحَبِيدِ ﴿٩٥﴾

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

والمزيد راجع	٢ البقرة: ٢٢	٦ الأنعام: ٩٩
٨ الأنفال: ١١	١٠ يونس: ٢٤	١١ هود: ٥٢
١٣ الرعد: ١٧	١٤ إبراهيم: ٣٢	١٥ الحجر: ٢٢
١٦ النحل: ١٠	٢٠ طه: ٥٣	٢٢ الحج: ٦٣
٢٣ المؤمنون: ١٨	٢٥ الفرقان: ٤٨	٢٧ النمل: ٦٠
٣٠ الروم: ٥٠	٣١ لقمان: ١٠	٣٥ فاطر: ٢٧
٣٩ الزمر: ٢١	٧٨ النبأ: ١٤	

اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ گلستان اگائے اور کھیتی کا اناج (9:50)

بے شک ہم ہی نے خوب پانی برسایا (25:80)

٢٤:١٠	١١:٨	٩٩:٦	٢٢:٢	١١:٨
٤٢٦	٦٩٧	٣٥٨	٣٥٧	٣٥٧
١٠:١٦	٢٢:١٥	٣٢:١٤	١٧:١٣	٥٢:١١
٣٥٤	٣٤٧	٣٤١	٣٤٣	٩٣٣
٦٠:٢٧	٤٨:٢٥	١٨:٢٣	٦٣:٢٢	٥٣:٢٠
٣٥٥	٣٤٩	٣٤٦	٣٤٦	١٠١٨
١٤:٧٨	٢١:٣٩	٢٧:٣٥	١٠:٣١	٥٠:٣٠
٣٥٤	٣٤٧	٣٣٨	٣٣٨	٣٥١

إحياء الأرض بعد موتها بإنزال الغيث

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

الْمُتَرَاتِنَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِغُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾

رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿٥٠﴾

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

بارش کے ذریعہ مردہ زمین کو زندگی

اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں سننے والوں کے لئے نشانی ہے (65:16)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ مہربان اور خبردار ہے (63:22)

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا۔ پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہم اس کے ختم کر دینے پر قادر ہیں (18:23)

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد (کس نے) زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے (63:29)

اور جس نے اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا۔ پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا اسی طرح تم (زمین سے) نکالے جاؤ گے (11:43)

(یہ سب کچھ) بندوں کو روزی دینے کے لئے (کیا ہے) اور اس (پانی) سے ہم نے شہر مردہ (یعنی زمین افتادہ) کو زندہ کیا (بس) اسی طرح (قیامت کے روز قبروں سے) نکل پڑنا ہے (11:50)

آسمان کی قسم جو مینہ برساتا ہے (11:86)

CLEAR AN UNSULLIED DRINKING WATER FROM THE UNDERGROUND

وجود الماء المصفى
من تحت الارض للشرب

پینے کے لئے زمین کے اندر
سے نھرا ہوا مصفا پانی

IF ALL OF A SUDDEN THE SOURCES AND SPRINGS OF WATER SUPPLY ARE VANISHED WHO EXCEPT ALLAH (SWT) CAN REGAIN THIS INDISPENSABLE ELEMENT OF ALL ORGANIC LIFE

ان جعل الله الماء غوراً فمن ياتيه مرة
أجرى سوى الله

اگر اچانک پانی کے تمام وسائل خشک ہو جائیں
تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون اس اہم عنصر حیات
کو دوبارہ لاسکتا ہے

Say: Have you thought: If (all) your water were to sink into the earth, who then could bring you gushing water from a spring? (67:30)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾
﴿٦٧ الملك ٣٠﴾

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی (جو تم پیتے ہو اور برتے
ہو) خشک ہو جائے تو (اللہ کے سوا) کون ہے جو تمہارے
لئے شیریں پانی کا چشمہ بہالائے؟ (30:67)

HAILING

البرد

اولے۔ ژالہ باری

Have you not seen how Allah (drives along) the clouds, then amasses them together, next piles them into layers, and you see the rain comes forth from between them; He sends down from the heaven mountains wherein is hail, and smites therewith whom He wishes, and averts it from whom He wills. (24:43) PART

الْم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ
بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ
يَشَاءُ ﴿٤٣﴾
﴿٢٤ النور ٤٣﴾ جزء

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان
کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ پھر ان کو تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے پھر
تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے بارش نکل (کر برس) رہی
ہے۔ اور آسمان میں جو (اولوں کے) پہاڑ ہیں ان سے
اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا
ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ (43:24) جزو

CHASTISEMENT THROUGH THUNDER BOLT-RAIN STORMS

مطر الحجارة عذاب الله
عذاب قوم عاد و ثمود

منکوبین اقوام پر بارش اور طوفان
کے عذاب الہی

For Detail Consult : Page 1115,968,933,925
More Reference: 27:58 Page 968

وللتفصيل راجع : الصفحة ١١١٥،٩٦٨،٩٣٣،٩٢٥
وللمزيد راجع ٢٧ النمل : ٥٨ الصفحة ٩٦٨

تفصيل کے لئے دیکھئے صفحہ 1115,968,933,925
مزید حوالہ 58:27 صفحہ 968

THUNDER LIGHTENING DISCHARGE OF ELECTRICITY BETWEEN CHARGED CLOUDS AND EARTH DUE TO POTENTIAL DIFFERENCE

وجود البرق فى الكرة الهوائية

کرہ باد میں آسمانی بجلی (رعد)

He it is Who shows you the lightning, to inspire both a fear and expectation and raises the heavy clouds. (13:12)

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
يُنَشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٣﴾
﴿١٣ الرعد ١٣﴾

اور وہی ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لئے بجلی
دکھاتا۔ اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے (12:13)

-----The flashing of its lightning almost snatches away the resight. (24:43) PART

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ
يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٢٤﴾
﴿٢٤ النور ٤٣﴾ جزء

----- (اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے) اس کی
چمک آنکھوں کو (خیرہ کر کے بینائی کو) اچک لئے جاتی
ہے (43:24) جزو

And of His wonders is this: He displays you the lightning for a fear and for a hope, and sends down water from the skies, and thereby giving life to the earth after it had been lifeless. Herein indeed are messages for folk who understand. (24:43)

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾
﴿٣٠ الروم ٢٤﴾

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید
دلانے کے لئے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مینہ برساتا
ہے۔ پھر مردہ زمین کو زندہ (سرسبز و شاداب) کر دیتا
ہے۔ عقل والوں کے لئے ان (باتوں) میں (بہت
سی) نشانیاں ہیں (24:30)

ALLAH(SWT) MAY LET LOOSE THE THUNDER BOLTS AND STRIKE WITH WHOM HE WILLS

The thunder hymns His praise and (so do) the angels stand in awe of Him. He launches. (strikes) the thunder bolts and smites with them whom He wishes while they dispute (in doubt) concerning Allah, and He is stern in strategy. (13:13)

يسقط الصاعقة على من يشاء

وَيَسْبِغُ الرُّعْدُ بِمَحْمَدٍ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ
وَهُمْ مُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ ﴿١٣﴾
الرعد ١٣

اللہ تعالیٰ جس پر چاہے آسمانی بجلی گرا دے

اور گرج اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی حمد ثنا کرتے رہتے ہیں۔ اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے (13:13)

WINDS - HERALDS OF GLAD TIDINGS

More Reference : 15:22 30:46 55:12
Page 347,341,353

الرياح - مبشرات - لواقع

والمزيد راجع ١٥ الحجر: ٢٢ ٣٠ الروم: ٤٦
٥٥ الرحمن: ١٢

خوشگوار ہوائیں

مزید حوالہ 22:15 30:46 55:12
صفحہ 347,341,353

WINDS - AS PRECURSORS OF RAINING (GLAD TIDINGS OF PURE WATER FROM SKY)

And He is the One Who sends the winds, glad tidings heralding His mercy, and We send down purifying water from the sky. (25:48)

الرياح بشرى لنزول الغيث

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِّ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾
الفرقان ٤٨

ہواؤں کے ذریعہ بارش کی خوش خبری

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک (اور تھرا ہوا) پانی برساتے ہیں (48:25)

More Reference : 2:164 7:57 15:22 30:46
77:1,2,3,4 Page 341, 345, 347, 341, 349

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٦٤ ٧ الأعراف: ٥٧
١٥ الحجر: ٢٢ ٣٠ الروم: ٤٦ ٧٧ المرسلات: ٤٢

مزید حوالہ 2:164 7:57 15:22 30:46
صفحہ 349,341,347,345,341

WINDS ACT AS WINNERS TO SEPARATE AND SCATTER THE CLOUDS

By the emissary winds, (sent) one after another to spread goodness (profit the mankind) (77:1)

By the raging hurricanes, (winds blowing violently) (77:2)

(By those) scattering (things) far and wide (77:3)

By those who winnow with a winnowing, (77:4)

الرياح الناشرات للسحاب

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾
المرسلات ١
وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴿٢﴾
المرسلات ٢
وَالنَّاشِئَاتِ نَشْرًا ﴿٣﴾
المرسلات ٣
وَالْفَرْقَاتِ فَرَقًا ﴿٤﴾
المرسلات ٤

بادلوں کو منتشر کرنے کا کام

قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کیلئے بھیجی جاتی ہیں (1:77)

پھر ان ہواؤں کی جو تندی سے (جھکڑ کی طرح) چلتی ہیں (2:77)

اور ان ہواؤں کی جو (بادلوں کو) پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں (3:77)

پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھاڑ کر جدا جدا (متفرق) کر دیتی ہیں (4:77)

WINDS TO BLOW THE CLOUDS ALONG AND DRIVE THEM TOWARDS UNPROMISING SOILS TO SHOWER

And Allah is the One Who sends the winds and they raise a cloud; then We lead it to a dead land and revive therewith the earth after it had been lifeless. Such is the Resurrection. (35:9)

الرياح تثير السحاب

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا
فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾
فاطر ٩

بادلوں کو ابھارنے (بلندی پر لے جانے) کا کام

اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر ہم اس کو خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو جی اٹھانا ہوگا (9:35)

More Reference : 2:164 7:57 Page 341,345

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٦٤ ٧ الأعراف: ٥٧

مزید حوالہ 2:164 7:57
صفحہ 345,341

WHEELING OF WINDS

And the succession of night and day and the means of subsistence that Allah sends down from the skies and thereby giving life to the earth after it had been lifeless, and the change of the winds, are messages for the people who have sense. (45:5)

هبوب الرياح بتغيير الاتجاه

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ
السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾
الجناب ٥

بدلتے رخوں کی ہوائیں

اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو اللہ نے آسمان سے (ذریعہ) رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں قتل والوں کے لئے نشانیاں ہیں (5:45)

**FECUNDATING WINDS
AS A SOURCE OF POLLINATION
APPORTIONING THE LIFE GIFTS AT ALLAH'S(SWT) BEHEST**

By those that winnow with a winnowing (51:1)

And those that carry the burden (51:2)

And those that spread along with gentle ease. (51:3)

And those who distribute (blessings) by command, (51:4)

More Reference : 15:22 Page 347

**WINDS FOR SAILBOATS
AND SAILING SHIPS**

For Detail Consult : 2:164 30:46 42:33
Page 341, 340
Chapter Oceanology Page 340

WINDS AS A TORMENT

For Detail Consult : 2:266 10:22 17:68,69
Page 281 406 124
18:40 41:16 42:33 46:24,25 51:41
1112 933 340 933 934
52:27 54:19,20 69:6,7 77:2
884 934 934 349

TORNADO AND CYCLONES

For Detail Consult : 41:16 46:24,25
Page 933 933
51:41,42,50 54:18 to 21 69:6 to 8 77:2
934,170 934 934 349

**AIR - THE BASIC AND FOREMOST ESSENTIAL FOR
EXISTENCE OF LIFE (IF ALLAH (SWT) HUSHES UP
THE WINDS TO CEASE?)**

If He wishes He stills the wind so that they keep still upon sea surface surely! Herein are signs for every disciplined and grateful person (heart). (42:33)

YOU HEED LITTLE, YOU DISCERN SELDOM

Will they not then ponder on the Qur'an? -----(4:82) Part

For Detail Consult : 2:44 6:32 9:127
Page 473 418 851
3:16 11:24,30 16:17 23:85
7,236 770,918 321 104
62 28:60 29:63 30:8 37:155
4 431 346 366 136
58 54:17,22,32,40,51 56:62 69:42
0 214,856 402 235

**الرياح اللواقحة
الرياح موجبة للذرو البذور في الأرض**

وَالذَّرِيَّتِ ذُرَّوًّا ①
﴿٥١ الذریت ١﴾
فَالْحَمَلِ وَوَقْرًا ②
﴿٥١ الذریت ٢﴾
فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا ③
﴿٥١ الذریت ٣﴾
فَالْمُقْسَمَاتِ أَمْرًا ④
﴿٥١ الذریت ٤﴾

وللمزيد راجع: ١٥ الحجر: ٢٢ الصفحة ٣٤٧

الرياح الملائمة لجرى الفلك

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٦٤ ٣٠ الروم: ٤٦ ٤٢ الشورى: ٢٣
الصفحة ٣٤٠، ٣٤١
باب علم البحريات الصفحة ٣٤٠

**عاصف - قاصف - حاصف
سموم - اعصار - حسان
نفحة - صرصر - ریح عقیم**

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٦٦ ١٠ يونس: ٢٢
١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٦٩، ٦٨ ١٨ الكهف: ٤٠
٤١ حم السجدة (فصلت): ١٦ ٤٢ الشورى: ٢٣ ٤٦ الأحقاف: ٢٥، ٢٤
٥١ الذاریات: ٤١ ٥٢ الطور: ٢٧ ٥٤ القمر: ٢٠، ١٩
٦٩ الحاقة: ٧٠، ٧٧ المرسلات: ٢

الرياح والصرر حزم من السماء

وللتفصيل راجع ٤١ حم السجدة (فصلت): ١٦ ٤٦ الأحقاف: ٢٥، ٢٤
٥١ الذاریات: ٤١، ٤٢، ٤٠، ٥٤ القمر: ١٨، ٢١ ٦٩ الحاقة: ٦٠، ٨
٧٧ المرسلات: ٢

**الحياة الإنسانية أحوج إلى الهواء
وإن أمسك الله الرياح فلا راد لها**

إِنْ يَشَاءُ يُسَكِّنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٤٢ الشورى ٣٣﴾

قليلاً ما تفكرون

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ

﴿٤ النساء ٨٢﴾ جزء

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٤٤ ٦ الأنعام: ٣٢ ٩ التوبة: ١٢٧ ١٠ يونس: ١٦، ٣ ١١ هود: ٢٤، ٣٠ ١٦ النحل: ١٧ ٢٣ المؤمنون: ٨٥ ٢٧ النمل: ٦٢ ٢٨ القصص: ٦٠ ٢٩ العنكبوت: ٦٣ ٣٠ الروم: ٨ ٣٧ الصافات: ١٥٥ ٤٠ المنومن (غافر): ٥٨ ٥٤ القمر: ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠، ٥١، ٥٦ الواقعة: ٦٢ ٦٩ الحاقة: ٤٢

**حمل آور ہوا میں - ہواؤں کے ذریعے عالم نباتات کی تخم
ریزی بیج بکھیرنے اور تقسیم کرنے کا نظام**

بکھیرنے والیوں کی قسم جواڑا کر بکھیر دیتی ہیں (1:51)

پھر بوجھاٹھاتی ہیں (2:51)

پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں (3:51)

پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں (4:51)

وللمزيد راجع 22:15 صفحه 347

**بادیانی کشتیوں اور سمندری جہازوں
کے لئے مددگار ہوائیں**

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:164 30:46 42:33
33:42 46:30 164:2
340، 341 باب علم البحريات صفحه 340

ناگوار ہوائیں (بطور عذاب الہی)

تفصیل کیلئے دیکھئے 266:2 22:10 69,68:17
صفحة 281 406 124
41:51 25,24:46 33:42 40:18
934 933 340 1112
2:77 7,6:69 20,19:54 27:52
349 934 934 884

جھکڑ اور آندھی

تفصیل کیلئے دیکھئے 50,42,41:51 25,24:46 16:41
صفحة 934,170 933 933
2:77 8,6:69 21,18:54
349 934 934

**ہوا، انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت
(اگر اللہ ہواؤں کو بند کر دے تو؟)**

اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لئے ان (باتوں) میں اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں (33:42)

تم کم غور کرتے ہو

بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے
(82:4) جزو

تفصیل کیلئے دیکھئے 127:9 32:6 44:2
صفحة 851 418 473
62:27 85:23 17:16 30,24:11 16,3:10
124 104 321 770,918 127,236
58:40 155:37 8:30 63:29 60:28
770 136 366 346 431
42:69 62:56 51,40,32,22,17:54
235 402 214,856

BOTANY

علم النبات

علم نباتات (بانی)

**MYSTERY OF SEX IN VEGETATION
(EVERY SPECIES CREATED IN PAIRS)**

And He is the One Who spread out the earth and placed therein firm hills and flowing streams, and of all fruits be placed therein two spouses (male and female). He covers the night with the day. Herein indeed are portents for people who take thought. (13:3)

Glory be to Him Who created all the sexual pairs, of that which the earth grows, and of themselves, and of that which they know not! (36:36)

And all things We have created by pairs, that haply you may reflect. (51:49)

الزواج فی النبات

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِي وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾
﴿١٣ الرعد ٣﴾

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٣٦ يسين ٣٦﴾

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ٤٩﴾

**نباتات کی جنسی تولید
نباتات کے جوڑے**

اور وہ ہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کئے۔ اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور کرنے والوں کی لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں (3:13)

وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے (36:36)

اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو (49:51)

More Reference : 43:12 51:49 92:3
Page 361, 351, 359

والمزید راجع ٤٣ الزخرف ١٢: ٥١ الذاریات ٤٩: ٩٢ اللیل ٣: الصفا ٣٥٩, ٣٥١, ٣٦١

مزید حوالہ 3: 92 49: 51 12: 43
صفحة 359, 351, 361

**REPRODUCTION IN
PLANT KINGDOM**

SEED (GRAIN) AND KERNEL (FRUIT STONE)

No doubt Allah (it is) Who splits the seed-grain and the date stone (for sprouting) . He brings forth the living from the dead, and is the bringer forth of the dead from the living. Such is Allah. How then are you perverted? (6:95)

**WINDS AS A SOURCE OF POLLINATION
APPORTIONING THE LIFE GIFTS AT
ALLAH'S (SWT) BEHEST**

For Detail Consult : Chapter of Winds 51:1,2,3,4
Page 350

نظام التوالد والتناسل فی النبات

الحب والنوی

إِنَّ اللَّهَ فَلِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذُرِّيَّتُكُمْ اللَّهُ فَأَيُّ تَوَكُّونَ ﴿٩٥﴾
﴿٩٥ الانعام ٩٥﴾

الرياح موجبة لدرو البذور فی الأرض

والتفصیل راجع باب الرياح ٥١ الذاریات ١: ٢, ٣, ٤: ٣٥٠: الصفا

عالم نباتات کی افزائش نسل

بیج (دانہ) تخم اور گٹھلی

بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ (کران سے درخت وغیرہ) اگاتا ہے وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے یہی تو اللہ ہے۔ پھر تم کہاں بے پھر پھرتے ہو؟ (95:6)

**ہواؤں کے ذریعے عالم نباتات کی تخم ریزی
بیج بکھیرنے اور تقسیم کرنے کا نظام**

تفصیل کیلئے دیکھئے باب ہوائیں 51: 1, 2, 3, 4
صفحة 350

AGRICULTURE

**REVIVAL OF BARREN LAND INTO LUSH GREEN (IN
SPRING AND RAINS) AND CONVERTING AGAIN
DEAD (IN WINTER AND DROUGHT)**

Look, therefore, at the prints of Allah's mercy (in creation): How He gives life to the earth after it had become lifeless Surely! He is the Quickener of the Dead, and He is Able to do all things. (30:50)

الزراعة

**خصوبة الأرض الجرز
ثم كونها ميتة**

فَانظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُنْجَىٰ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ الروم ٥٠﴾

زراعت

**بجز زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا
اور پھر خشک ہو جانا**

تو (اے دیکھنے والے) اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (50:30)

And if We sent a wind and they beheld it yellow; they would still continue in their disbelief. (30:51)

Have they not seen how We lead the water to the barren land and therewith bring forth crops whereof their cattle eat, and they themselves? Will they not then see? (32:27)

And of His portents (is this): That you see the earth desolate but when We send down water thereon it is stirred to life and grows. He Who revives is the Quickener of the dead. He is Able to do all things. (41:39)

Have you seen that which you sow (plant)? (56:63)

Is it you who cause to grow it, or are We the Fosterer? (56:64)

If We so wished, We surely could make it chaff, then would you cease not to exclaim. (56:65)

Surely we are laden with debt! (56:66)

In fact we are deprived! (56:67)

Now that Allah revives the earth after its death. We have made clear our revelations for you, that haply you may understand. (57:17)

Who brings forth the pasturage, (57:4)

When turns into weather beaten rubble. (87:5)

وَلَيْنِ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾

﴿٣٠ الروم ٥١﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنَخْرِجُ مِنْهَا زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٣٢﴾

﴿٣٢ السجدة ٢٧﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

﴿٤١ حم السجدة ٣٩﴾

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ ﴿٦٣﴾

﴿٥٦ الواقعة ٦٣﴾

أَمْ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

﴿٥٦ الواقعة ٦٤﴾

لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

﴿٥٦ الواقعة ٦٥﴾

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾

﴿٥٦ الواقعة ٦٦﴾

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

﴿٥٦ الواقعة ٦٧﴾

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُمْحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

﴿٥٧ الحديد ١٧﴾

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿٤﴾

﴿٨٧ الاعلى ٤﴾

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴿٥﴾

﴿٨٧ الاعلى ٥﴾

اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ (اسکے سبب) کھیتی کو دیکھیں (کہ) زرد (ہو گئی ہے) تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں (51:30)

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی (کھاتے ہیں) تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ (27:32)

اور (اے بندے یہ) اسی (کی قدرت) کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی (یعنی خشک) دیکھتا ہے۔ جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے (39:41)

بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو (63:56)

تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ (64:56)

اگر ہم چاہیں تو اسے چوراچورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ (65:56)

(کہ ہائے) ہم پر تو تاوان پڑ گئے (66:56)

بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب (67:56)

جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو (17:57)

اور جس نے چارہ اگایا (4: 87)

پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا (5:87)

Reference: 7:58 36:33 78:15 79:31
354, 353, 349, 354

واللغزید راجع ٧ الأعراف: ٥٨ ٣٦ يس: ٣٣
٧٨ النبأ: ١٥ ٧٩ النازعات: ٣١

مزید حوالہ 7:58 33:36 15:78 31:79
صفحہ 354, 349, 353, 354

TREASURES (SOURCES) OF LIVELIHOOD FROM EARTH

المعاش في خبايا الأرض

زمین میں معیشت کے خزانے

At the earth We have spread out, and placed therein firm hills, and called each seemingly thing to grow therein. (15:19)

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا سُرُوحًا
وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَمْرُورٍ ﴿١٥﴾

اور زمین کو بھی ہم نے پھیلا یا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر چیز ایک مقرر مقدار سے اگائی (19:15)

And We have given to you livelihoods therein, and to those for whom you provide not. (15:20)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ

اور ہم ہی نے تمہارے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کئے ہیں (20:15)

And there is not a thing but with Us are the stores thereof. And We send it not down except in appointed measure. (15:21)

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں (21:15)

FOOD GRAIN

A token to them is the barren earth. We revive it, and We bring forth from it grain so that they eat thereof; (36:33)

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

اور ایک نشانی ان کے لئے زمین مردہ ہے۔ کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں (33:36)

Husked grain and scented herb. (55:12)

الحبوب

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول (12:55)

Then (We) split the earth in clefts, (80:26)

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا

پھر (ہم ہی نے) زمین کو اچھی طرح پھاڑا (26:80)

And (We) cause the grain to grow therein (80:27)

فَأَبْتْنَا فِيهَا حَبًّا

پھر (ہم ہی نے) اس میں اناج اگایا (27:80)

More Reference : 7:58 15:20 32:27
Page 354 353 352
50:9 78:15
346 354

والمزید راجع ۷ الأعراف: ۵۸ ۱۵ الحجر: ۲۰
۳۲ السجدة: ۲۷ ۵۰ ق: ۹ ۷۸ النبأ: ۱۵

مزید حوالہ صفحہ
27:32 20:15 58:7
352 353 354
15:78 9:50
354 346

EDIBLE PLANTS, POT-HERBS VEGETABLES

And grapes and green fodder, (80:28)

وَعِنَبًا وَقَضْبًا

سبزیاں ترکاریاں

انگور اور ترکاری (28:80)

And olive tree and palm trees, (80:29)

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا

اور زیتون اور کھجوریں (29:80)

WHEAT, LENTILS, ONIONS, GARLIC AND CUCUMBERS

القمح، العدس
البصل، الفوم، القثاء

گیہوں۔ مسور کی دال۔ پیاز
تھوم (لہسن) اور گدڑی

For Detail Consult : 21:61 Page 952

والتفصیل راجع ۱۲ یوسف: ۶۱ الصفحة ۹۵۲

تفصیل کے لئے دیکھئے 61:12 صفحہ 952

GOURD (CREEPING PLANT)

اليقطين

کدو

For Detail Consult : 37:146 Page 1086

والتفصیل راجع ۳۷ الصافات: ۱۴۶ الصفحة ۱۰۸۶

تفصیل کے لئے دیکھئے 146:37 صفحہ 1086

MUSTARD SEED

خردل

رائی کا دانہ

For Detail Consult : 21:47 Page 808

والتفصیل راجع ۲۱ الانبياء: ۴۷ الصفحة ۸۰۸

تفصیل کے لئے دیکھئے 47:21 صفحہ 808

RIGHTS OF GLEANERS - ARTISAN - PEASANTS AND MENIALS OF THEIR SERVICES

حقوق العمال الفلاحين و خدام الحصاد

مزارع۔ ہاری کے حقوق غریب مزدوروں اور نوکروں کا حق خدمت ادا کرنا

For Detail Consult : 68:17 to 33
Page 1108, 1109

والتفصیل راجع ۶۸ القلم: ۱۷ الی ۳۳
الصفحة ۱۱۰۸، ۱۱۰۹

تفصیل کے لئے دیکھئے 68:17:33
صفحہ 1108, 1109

ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGAINST POLLUTION

النظام الطبيعي للوقاية
من التلوث الجوي

فضائی آلودگی کی صفائی کا قدرتی نظام

FOLIAGE - HERBAGE - VEGETATIONS

As for the good land, its vegetation comes forth by permission of its Lord; while as for that which is bad, only evil comes forth (from it). Thus We recount the tokens for people who give thanks. (7:58)

And have sent down from the rainy clouds abundant water, (78:14)

Thereby to produce grain and plant, (78:15)

And gardens of thick foliage. (78:16)

And after that He spread the earth, (79:30)

And produced therefrom the water thereof and the pasture thereof, (79:31)

خروج النبات والمرعى من الأرض

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا تَكْدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾
﴿١٧ الاعراف ٥٨﴾

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾
﴿٧٨ النبأ ١٤﴾

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾
﴿٧٨ النبأ ١٥﴾

وَجَعَلْنَا الْفَاقَاتِ ﴿١٦﴾
﴿٧٨ النبأ ١٦﴾

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾
﴿٧٩ النزعت ٣٠﴾

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾
﴿٧٩ النزعت ٣١﴾

زمین سے سبزہ اور چارہ

(جو) زمین ستھری (ہے) اس میں سے پیداوار بھی پروردگار کے حکم سے (خوب نکلتی) ہے اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے ناقص کم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو شکر گزار لوگوں کے لئے طرح طرح سے بیان کرتے ہیں (58:7)

اور گھنے بادلوں سے موسلا دھار بارش نازل کی (14:78)

تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں (15:78)

اور گھنے گھنے باغ (16:78)

اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا (30:79)

اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارا اگایا (31:79)

More Reference : 22:60 57:17 78:15 87:4
Page 557, 352, 354, 352

والمزید راجع ٢٢ الحج ٦٠: ٥٧ الحديد ١٧: ٧٨ النبأ ١٥: ٨٧ الأعلى ٤:

مزید حوالہ 15:78 17:57 60:22
صفحہ 4:87 352, 354, 352, 557

PASTURAGE (SHRUBS FOR FORAGE)

He is the One Who sends down water from the sky, where from you drink, and from it - are trees on which you send your livestock to pasture. (16:10)

And enclosed gardens dense with lofty trees, (80:30)

And fruits and grasses: (80:31)

Provision for you and your cattle. (80:32)

مروج الكأ والأعشاب

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾
﴿١٦ النحل ١٠﴾

وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾
﴿٨٠ عبس ٣٠﴾

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾
﴿٨٠ عبس ٣١﴾

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾
﴿٨٠ عبس ٣٢﴾

چراگاہیں

وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی (شاداب ہوتے) ہیں جن میں تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو (10:16)

اور گھنے گھنے باغات (3:80)

اور میوے اور چارا (31:80)

(یہ سب کچھ) تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لئے بنایا (32:80)

More Reference : 20:54 32:27 87:4
Page 1018, 352

والمزید راجع ٢٠ طہ ٥٤: ٣٢ السجدة ٢٧: ٨٧ الأعلى ٤: الصفحة ٣٥٢, ١٠١٨

مزید حوالہ 4:87 27:32 54:20
صفحہ 352, 1018

WOODLOTS - FORESTS	الغابات	جنگلات
<p>PLANTATION</p> <p>Is not He (best) Who created the heavens and the earth, and sends down for you water from the sky wherewith We cause to spring forth joyous orchards, (whereas) it is not in your power to cause (even one single of) its trees to grow. Is there any god besides Allah? No, but they are folk who ascribe equals (to Him)! (27:60)</p>	<p>غرس الأشجار</p> <p>أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَأْكَانَ لَكُمْ أَنْ تَبْتُغُوا شَجَرَاهُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي فَضْلٍ عَلَى الْبَشَرِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٢٧﴾ النمل ٦٠</p>	<p>شجرکاری</p> <p>بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور (کس نے) تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا۔ (ہم نے) پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) بلکہ یہ لوگ راستے سے الگ ہو رہے ہیں (60:27)</p>
<p>More Reference 16:10 Page 354</p>	<p>وللمزيد راجع ١٦ النحل: ١٠٠ الصفحة ١١٤</p>	<p>مزید حوالہ 10:16 صفحہ 114</p>
<p>LOFTY TREES' COMMEMORATIVE AND COMFORT FOR WAYFARER-RESORTS</p> <p>Are you who made the tree thereof to grow, or are We the producer? (56:72)</p> <p>We, even We, made it a memorial and a comfort for the wayfarers in the wilderness. (56:73)</p>	<p>إنشاء الشجر تذكرة و متاعا</p> <p>أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٥٦﴾ الواقعة ٧٢</p> <p>نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا وَرَمَاقًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٥٦﴾ الواقعة ٧٣</p>	<p>درخت بطور ایک یاد اور مسافروں کے لئے راحت</p> <p>کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ (72:56)</p> <p>ہم نے اسے نعمت کا سبب (یاد) اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے (73:56)</p>
<p>STRIKING FIRE WITH TWIGS OF TREES (FIREWOOD - FUELWOOD)</p> <p>Who has granted for you fire from the green tree, and notice how you kindle from it. (36:80)</p> <p>Have you observed the fire, which you strike out? (56:71)</p>	<p>إخراج النار من الشجر الأخضر</p> <p>الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ قَبِلْتَهُ تُلْقِدُونَ ﴿٣٦﴾ يسين ٨٠</p> <p>أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٥٦﴾ الواقعة ٧١</p>	<p>درختوں سے آگ پیدا ہونا</p> <p>(وہی) جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس (کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان) سے آگ نکالتے ہو (80:36)</p> <p>بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو (71:56)</p>
<p>HERBS AND TREES BOTH ALIKE BEND TO WORSHIP (SUBMIT BEFORE ALLAH) (SWT)</p> <p>The herbs and the trees adore. (55:6)</p>	<p>سجود الشجر لله</p> <p>وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٥٥﴾ الرحمن ٦</p>	<p>اللہ تعالیٰ کے حضور اشجار کی اطاعت گزاری</p> <p>اور تیل بوٹے اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں (6:55)</p>
<p>More Reference : 13:15 22:18 Page 114</p>	<p>وللمزيد راجع ١٣ الرعد: ١٥ الحج: ٢٢ الصفحة ١١٤</p>	<p>مزید حوالہ 15:13 18:22 صفحہ 114</p>
<p>A BITTER AND PUNGENT INFERNAL TREE</p> <p>For Detail Consult : 17:60 37:62 44:43 56:52 Page 890, 889, 506</p>	<p>شجرة الزقوم</p> <p>وللتفصيل راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٦٠ الصافات: ٦٢ ٤٤ الدخان: ٤٣ الواقعة: ٥٢</p>	<p>زقوم (تھوہر) سیدھ کا درخت</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 43:44 62:37 60:17 صفحہ 506, 889, 890 52:56</p>

LUXURIANT GARDENS

الجنات والثمار والنباتات

باغ اور پھل اور میوے

Therewith He causes crops to grow for you, and the olive and the date palm and grapes and all kinds of fruits. Surely herein is indeed a portent for people who reflect. (16:11)

يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور (اور بے شمار درخت) اگاتا ہے۔ اور ہر طرح کے پھل (پیدا کرتا ہے) غور کرنے والوں کے لئے اس میں (قدرت اللہ کی بڑی) نشانی ہے (11:16)

And whatsoever He has created for you in the earth of diverse hues, Surely therein is a portent for people who take heed. (16:13)

وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں (سب تمہارے لئے زیر فرمان کر دیں) نصیحت پکڑنے والوں کے لئے نشانی ہے (13:16)

And We send down from the sky blessed water whereby We give growth to gardens and the grain of crops, (to be harvested). (50:9)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾

اور آسمان سے برکت والا پانی برسایا اور اس سے باغ و گلستان اگائے اور کھیتی کا اناج (غلہ پیدا کیا) (9:50)

And have sent down from the rainy clouds abundant water, (78:14)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَبَّاجًا ﴿١٤﴾

اور گھنے بادلوں سے موسلا دھار بارش نازل کی (14:78)

Thereby to produce grain and plant, (78:15)

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾

تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں (15:78)

And luxuriant gardens of thick foliage. (78:16)

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾

اور گھنے گھنے باغ (16:78)

More Reference : 2:22,25 3:141 6:141 7:57 13:3
Page 357,860 703 274 345 351
4:32 16:67 18:32 20:53 23:19 28:57 35:27
341 357 1111 1018 358 624 338
6:35 50:9 55:11 78:32 80:30,31
358 346 358 873 354

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٢:٢٥ ٣ آل عمران: ١٤١:٣
٦ الأنعام: ١٤١:٧ الأعراف: ٥٧:١٣ الرعد: ٣٢:١٤
١٤ إبراهيم: ٣٢:١٦ النحل: ٦٧:١٨ الكهف: ٢٢:٢٠
٢٠ طه: ٥٣:٢٣ المؤمنون: ١٩:٢٨ القصص: ٥٧:٣٥
٣٥ فاطر: ٢٧:٣٦ يس: ٣٥:٥٠ ق: ٩:٥٥ الرحمن: ١١:٧٨
النبا: ٢٢:٨٠ عبس: ٣١:٣٠

مزيد حوالہ 25,22:2 141:3 141:6
صفحة 860,357 703 274
32:18 67:16 32:14 3:13 57:7
1111 357 341 351 345
35:36 27:35 57:28 19:23 53:20
358 338 624 358 1018
31,30:80 32:78 11:55 9:50
354 873 358 346

GROWING MANY KINDS OF GENEROUS SPECIES FROM THE SOIL

نبت الأزواج الكريمة من الأرض

زمین میں انواع واقسام کی نفیس چیزوں کا اگنا

Have they not seen the earth, how much of every fruitful kind We make to grow therein? (26:7)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کئی عمدہ چیزیں اگائی ہیں (7:26)

Herein is indeed a portent; yet most of them are not believers. (26:8)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

کچھ شک نہیں کہ اس میں (قدرت اللہ کی) نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں (8:26)

More Reference : 2:22 6:99,141 7:57
13 20:53 31:10
Page 357, 358, 274, 345, 356, 1018, 338

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٢:٢٥ ٦ الأنعام: ١٤١:٩٩
١٧ الأعراف: ٥٧:١٦ النحل: ١٣:٢٠ طه: ٥٣:٣١ لقمان: ١٠:٣٣٨
الصفحة 357, 358, 274, 345, 356, 274, 358, 357

مزيد حوالہ 22:2 141,99:6 57:7
10:31 53:20 13:16
صفحة 338, 1018, 356, 345, 274, 358, 357

ENDLESS VARIETY OF COLOUR QUALITY AND TASTE OF DIFFERENT TREES AND FRUITS GROWING OUT OF SINGLE SOURCE OF SOIL AND WATER

الثمار المختلفة في الأكل، على أنها تسقى بماء واحد في أرض واحدة

ایک جیسے پانی اور زمین سے مختلف رنگ اور ذائقے کے پھل

And in the earth are neighboring plots, vineyards and ploughed fields, and date palms, like and unlike, which are watered with one water. And We have made some of them to excel other fruits (in food value and taste).

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتجاوِراتٌ وَجَدْتُمْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ وَنُحُلٌ وَإِذْ يُنْفِثُ سَحَابًا مِّن سَمَاءٍ وَاحِدَةٍ وَنُفِثَ بَعْضُهَا عَلَى

اور زمین میں کئی طرح کے ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت۔ بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی (باوجود یہ کہ) پانی سب کو ایک ہی ملتا

Herein are portents for people who use their reason. (13:4)

بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾
﴿١٣ الرعد ٤﴾

ہے۔ اور ہم بعض میوؤں کو بعض پر (غذائیت اور لذت میں) برتری دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں (4:13)

More Reference : 2:22 6:141 7:57 16:13 35:27 Page 357, 274, 345, 356, 338

والمزید راجع ٦ الأنعام: ٢٢ ٦ الأنعام: ١٤١ ٧ الأعراف: ٥٧ ١٦ النحل: ١٣ ٣٥ فاطر: ٢٧

مزیں حوالہ 22:2 6:141 7:57 13:16 27:35 صفحہ 338, 356, 345, 274, 357

LARGE VARIETY OF LUSCIOUS FRUIT TREES

Who has made the earth a resting-place for you, and the sky a canopy; and causes water to pour down from the sky, thereby producing fruits as food for you. And do not set up rivals to Allah when you know (better). (2:22)

الذی جعل لکم الأرض فراشا والسماء بناءً وانزل من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون ﴿٢٢﴾
﴿٢ البقرة ٢٢﴾

انواع واقسام کے میوے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش نازل کر کے تمہارے کھانے کے لئے انواع واقسام کے میوے پیدا کئے۔ پس کسی کو اللہ کا ہمسر (شریک) نہ بناؤ۔ اور تم جانتے تو ہو (22:2)

More References: 6:99,141 7:57 13:4 Page 358,274 345 357 16:13 18:32 20:53 23:19 35:27 55:11 356 1111 1018 358 338 358

والمزید راجع ٦ الأنعام: ٩٩، ١٤١ ٧ الأعراف: ٥٧ ١٣ الرعد: ٤ ١٦ النحل: ١٣ ١٨ الکھف: ٢٢ ٢٠ طہ: ٥٣ ٢٣ المؤمنون: ٩١ ٣٥ فاطر: ٢٧ ٥٥ الرحمن: ١١

مزیں حوالہ 6:99,141 7:57 13:4 356 357 345 358,274 11:55 27:35 91:23 53:20 32:18 358 338 358 1018 1111

FIG TREE

By the fig and the olive, (95:1)

التيـــــن
والتين والزيتون ﴿١﴾
﴿٩٥ التين ١﴾

انجیر اور زیتون کی قسم (1:95)

OLIVES

And a tree that springs forth from Mount Sinai that grows oil and relish for those who use it for food. (23:20)

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين ﴿٢٠﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٢٠﴾
وزيتونا ونخلا ﴿٢٩﴾
﴿٨٠ عبس ٢٩﴾

اور وہ درخت بھی (ہم ہی نے پیدا کیا) جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے (یعنی زیتون کا درخت کہ) جو تیل لئے ہوئے آگتا ہے اور کھانے والوں کیلئے سالن بھی (20:23)
اور زیتون اور کھجوریں (29:80)

And olive-trees and palmtrees. (80:29)

More Reference 6:99,141 16:11 24:35 95:1 Page 358, 274/357, 356, 368, 357

والمزید راجع ٦ الأنعام: ٩٩، ١٤١ ١٦ النحل: ١١ ٢٤ النور: ٣٥ ٩٥ التين: ١

مزیں حوالہ 6:99,141 16:11 24:35 1:95 صفحہ 358, 274/357, 356, 368, 357

GRAPEVINES

He is the One Who produces gardens trellised and untrellised, and the date palm, and crops of diverse flavour, and the olive and the pomegranate, like and unlike --- (6:141) PART

وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهة ﴿١٤١﴾
﴿٦ الأنعام ١٤١﴾ جزء

انگور اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی۔ اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو (بعض باتوں میں) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور (بعض باتوں میں) نہیں ملتے۔۔۔۔۔۔۔۔ (141:6) جزو

And of the fruits of the date palm, and grapes, out of which you derive strong drink and (also) good nourishment. Therein, is indeed a sign for people who ponder. (16:67)

ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾
﴿١٦ النحل ٦٧﴾

اور کھجور اور انگور کے میوؤں سے بھی (تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو) کہ ان سے شراب (مشروب) بناتے ہو اور عمدہ رزق (کھاتے ہو) جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لئے ان (چیزوں) میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے (67:16)

And We have placed therein gardens of the date palm and grapes, and We have caused springs of water to gush forth from it. (36:34)

وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وقضينا فيها من العيون ﴿٣٤﴾
﴿٣٦ يس ٣٤﴾

اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کئے اور اس میں چشمے جاری کر دیئے (34:36)

That they may eat of the fruits thereof, and their hands did not produce it. Will they not, then, give thanks? (36:35)

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٣٥﴾

تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا۔ تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ (35:36)

More Reference : 2:266 6:99 13:4 16:11
Page 281 358 357 356
17:91 18:32 23:19 78:32 80:28
194 1111 358 873 353

والمزید راجع ۲ البقرة: ۲۶۶ ۶ الأنعام: ۹۹
۱۳ الرعد: ۴ ۱۶ النحل: ۱۱ ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل): ۹۱
۱۸ الکہف: ۳۲ ۲۳ المؤمنون: ۱۹ ۷۸ النبأ: ۳۲
۸۰ عبس: ۲۸

المزید حوالہ 2:266 6:99 13:4 16:11
صفحہ 356 357 358 281
28:80 32:78 19:23 32:18 91:17
353 873 358 1111 194

POMEGRANATES

He it is Who showers water from the sky, and therewith We bring forth buds of every kind; We bring forth the green vegetation from which We bring forth the thick clustered grain; and from the date palm, from the pollen thereof, spring pendant bunches; and (We bring forth) gardens of grapes, and the olive and the pomegranate, alike and unlike. Look upon the fruit thereof, when they bear fruit, and upon its opening. In fact herein are portents for people who believe. (6:99)

الرمان

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نبات كل شئٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِبُ
مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا
قِنَاطٌ دَانِيَةٌ وَجَدَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى
أَثْمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾
﴿٩٩﴾

انار

اور وہی تو ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے۔ ہم ہی (جو بارش نازل کرتے ہیں) اس سے ہر طرح کی نباتات اگاتے ہیں۔ پھر اس میں سبز سبز کوٹلیں نکالتے ہیں اور ان کو پلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ اور کھجور کے گانجے میں سے لنگتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور (جب پکتی ہیں تو) ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں (اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں) (99:6)

More Reference : 6:141 55:68 Page 274,873

DATEPALM

When We produce for you therewith gardens of date palms and grapes, therein is much fruit for you and hereof you eat; (23:19)

and lofty date palms with ranged clusters, (50:10)

herein are fruit and sheathed palm-trees, (55:11)

النخيل

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٣﴾
وَالنَّخْلَ بَسِطًا لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠﴾
فِيهَا قَاقِئَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥﴾

کھجور

پھر ہم نے اس سے تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے۔ ان میں تمہارے لئے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو (19:23) اور کھجور کے بلند و بالا درخت جنکے خوشے تہہ بہ تہہ ہوتے ہیں (10:50) اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں (11:55)

More Reference : 2:266 6:99,141 13:4
Page 000 281 358,274 357
11:67 17:91 18:32 19:23,24,25 20:71
156 194 1111 1096 1029
2:148 36:34 54:20 55:68 80:29
87 357 934 873 353

والمزید راجع ۲ البقرة: ۲۶۶ ۶ الأنعام: ۹۹ ۱۳ الرعد: ۴
۱۶ النحل: ۱۱ ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل): ۹۱ ۱۸ الکہف: ۳۲
۱۹ مریم: ۲۳ ۲۰ طہ: ۷۱ ۲۶ الشعراء: ۱۴۸ ۳۶ یس: ۲۴
۵۴ القمر: ۲۰ ۵۵ الرحمن: ۶۸ ۸۰ عبس: ۲۹

المزید حوالہ 2:266 6:99,141 13:4
صفحہ 356 357 274,358 281
148:26 71:20 25,24,23:19 32:18 91:17
937 1029 1096 1111 194
29:80 68:55 20:54 34:36
353 873 934 357

PILED PUNCH BANANAS

Detail Consult : 56:29 Page 873

THE TREE (TRIMMED HAW THORN)

Detail Consult : 34:16 53:14,16 56:28
Page 1115, 689, 873

الطلع المنضود

والتفصیل راجع ۵۶ الواقعة: ۲۹ الصفحة ۸۷۳

السدر المخضود

والتفصیل راجع ۳۴ سباء: ۱۶ ۵۳ النجم: ۱۶
۵۶ الواقعة: ۲۸ الصفحة ۱۱۱۵, ۶۸۹, ۸۷۳

تہہ بہ تہہ کیے

تفصیل کے لئے دیکھیے 29:56 صفحہ 873

بے خار بیریاں

تفصیل کے لئے دیکھیے 16:34 16:14:53 28:56
صفحہ 873, 689, 1115

ZOOLOGY

علم الحيوانات

علم الحيوانات (زیالوجی)

REPRODUCTION SYSTEM OF ANIMAL KINGDOM (PAIRS OF SEX IN LIVESTOCK)

The Originator of the heavens and the earth. He has made for you (spouses) pairs of yourselves, as well as the pairs of livestock. whereby He multiplies you. Nothing is as His likeness; and He is the Alert, the Observant. (42:11)

And that it is He Who creates the two kinds, the male and the female, (53:45)

And Him Who has created male and female, (92:3)

خلق الذکر والانیثی فی الأنعام للتوالد والتناسل

فَاَطْرُسُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّوكُمْ فِيهِ كَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

﴿ ۴۲ الشوریٰ ۱۱ ﴾

وَإِنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ۝

﴿ ۵۳ النجم ۴۵ ﴾

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ۝

﴿ ۹۲ اللیل ۳ ﴾

حیوانات کی افزائش نسل

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (وہی ہے)۔ اسی نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور جو پایوں کے بھی جوڑے (بنائے اور) اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور وہ سنتا دیکھتا ہے (11:42)

اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم (کے حیوان) پیدا کرتا ہے (45:53)

اور اس (ذات) کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کئے (3:92)

More Reference : 6:143 36:36 43:12 51:49 Page 503, 328, 361, 351

والمزید راجع ۶ الأنعام ۱۴۳: ۳۶ یس ۳۶: ۴۳ الزخرف ۱۲: ۵۱ الذاریات ۴۹:

مزید حوالہ 6: 143 36: 36 43: 12 51: 49 صفحہ 351, 361, 328, 503

ALL WALKING BEASTS AND ALL FLYING BIRDS EXIST AS COMMUNITIES

There is not a single beast (walking) on the earth, nor any bird flying on its wings, but they are communities like you. We have neglected nothing in the Book (of Our decrees). Then to their Lord they will be summoned. (6:38)

الدواب والطیر أمم مثل الإنسان

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَالَكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝

﴿ ۶ الأنعام ۳۸ ﴾

حیوانوں اور پرندوں میں بھی جماعتیں

اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا (حیوان) یا دوپروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کے بھی تم لوگوں کی طرح گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے لکھنے) میں کوتاہی نہیں کی پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے جائیں گے (38:6)

More Reference : 35:28 Page 308

والمزید راجع ۳۵ فاطر ۲۸: الصفحة 308

مزید حوالہ 35: 28 صفحہ 308

THE ANIMAL CRAWLING ON THEIR BELLIES - WALKING EITHER ON TWO OR FOUR LEGS

Allah has created every animal out of water. Some of them is (a kind) that creeps upon its belly and (a kind) that walks upon two legs and (a kind) that walks upon four. Allah creates what He wishes. No doubt Allah is Able to do everything. (24:45)

الدواب الماشية على البطن وعلى رجلين وعلى أربع

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

﴿ ۲۴ النور ۴۵ ﴾

پیٹ کے بل چلنے والے اور دو یا چار ٹانگوں پر چلنے والے

اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (45:24)

Have they not seen how We have created for them of Our handiwork the cattle, so that they are their masters, (36:71)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝

﴿ ۳۶ یس ۷۱ ﴾

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا میں ان میں سے ہم نے ان کے لئے جو پائے پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں (71:36)

LIVESTOCK ANIMAL HUSBANDRY

علم فلاسفة الحيوانات الرعي

علم بائی و الغرائز حیوانات

CATTLE OF NUMEROUS BENEFITS FOR HUMANKIND

And of His portents is the creation of the heaven and the earth, and of whatever beasts He has dispersed therein. And He is Able to gather them when He wishes. (42:29)

And in your creation, and all the beasts that He scattered in the earth, are portents for those of assured faith (45:4)

A provision for you and for your livestock (79:33)

الأنعام ذوات المنافع الكثيرة

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

﴿٢٩ الشورى﴾

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤٥﴾

﴿٤٥ الجاثية﴾

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٧٩﴾

﴿٧٩ النزعت ٣٣﴾

چوپائے کثیر الفوائد

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں۔ اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے (29:42)

اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں (4:45)

یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لئے (کیا) (33:79)

Reference: 6:142 16:5,8,66,80 36:71,73
Page 499 362,361 677
79:79 43:12,13
60 361

المعزید راجع ٦ الأنعام ١٤٢: ١٦ النحل ٨٠,٦٦,٨٠,٥
٣٦ یس: ٧٣,٧١: ٤٠ المؤمن (غافر): ٧٩
٤٣ الزخرف: ١٣,١٢:

73,71:36 80,66,8,5:16 142:6
677 361,362 499
13,12:43 79:40
361 360

FOOD STUFF (SUBSTANCE)

FLESH (MEAT)

And have tamed them to them, so that some of them they have for riding, some for food? (36:72)

Allah is the One Who has provided you cattle, that you may ride on some of them, and eat some of them (79:79)

المنافع الغذائية

اللحوم

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾

﴿٧٢ يسين﴾

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾

﴿٧٩ المؤمن﴾

غذائی فائدے

گوشت

اور ان کو ان کے قابو کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں (72:36)

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو (79:40)

Reference: 6:142 16:5 23:21
Page 499, 362, 360,

والمعزید راجع ١٦ النحل ٥: ١٤٢: ٢٣ المؤمنون: ٢١: الصفحة ٤٩٩, ٣٦٢, ٣٦٠

21:23 5:16 142:6
صفحة 360, 362, 499

PURE MILK TO DRINK (A SECRETION OF THE FEMALE BODY)

And Surely in the livestock there is a lesson for you. We give you to drink of that which is in their bodies, and many other uses have you in them, and some of them you eat (23:21)

They receive benefits and drinks from them. Will they not be grateful? (36:73)

المشارب في بطون الأنعام

وَلَا يَكْفُرُ فِي الْآنِعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّسَيِّئِكُمْ مِمَّا فِي بَطُونِهَا وَكَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

﴿٢١ المؤمنون﴾

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

﴿٧٣ يسين﴾

حلال مادہ جانوروں کے پیٹ سے پینے کے لئے خالص دودھ

اور تمہارے لئے چوپائے میں بھی عبرت (اور نشانی) ہے جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم نہیں (دودھ) پلاتے ہیں۔ اور تمہارے لئے ان میں (اور بھی) بہت فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو (21:23)

اور ان کے لئے (اور) فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ (73:36)

ATTENTION IS DRAWN TO THE CONSTITUENTS OF PURE AND TYPIFIED WHITE MILK

And Surely in the livestock there is a lesson for you. We give you to drink of that which is in their bellies, in between the excretions and the blood, pure refreshing milk for the drinkers. (16:66)

الدعوة إلى التفكير في وجود اللبن في بطون الأنعام

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّسُقْيِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ ۗ إِنَّ ۝۱۶ النحل ۶۶ ﴿﴾

چوپاؤں کے پیٹ سے ملنے والے دودھ کی ترکیب پر دعوت فکر

اور تمہارے لئے چوپایوں میں بھی (مقام) عبرت (وغور) ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوہر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے (66:16)

FACILITY TO RIDE AND TRAVEL A SHOW OFF

And on them and on the ships you are transported . (23:22)

(Many) benefits you have from them and that you may satisfy by their means a need that is in your mind, and may be transported upon them as upon the ships. (40:80)

الحصول على منافع السفر والزينة بالأنعام

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلِّ تُحْمَلُونَ ۝۲۳ المؤمنون ۲۲ ﴿﴾

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْتَغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلِّ تُحْمَلُونَ ۝۴۰ المؤمن ۸۰ ﴿﴾

چوپاؤں سے سہولت سفر سواری باعث رونق وزینت

اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو (22:23)

اور تمہارے لئے ان میں (اور بھی) فائدے ہیں اور اس لئے بھی کہ (کہیں جانے کی) تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر (چڑھ کر وہاں) پہنچ جاؤ۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو (80:40)

And He shows you His tokens. Which, then, of the tokens of Allah will you deny? (40:81)

He Who created pairs in all things all sorts of species and granted you ships and livestock whereupon you ride. (43:12)

That you may mount upon their backs, and may remember your Lord's favour when you mount (or board) thereon, and may say: Glorified be He Who has subjected these to us, and we ourselves were not capable to (subdue) achieve it. (43:13)

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ۝۴۰ المؤمن ۸۱ ﴿﴾

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلِّ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝۴۳ الزخرف ۱۲ ﴿﴾

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝۴۳ الزخرف ۱۳ ﴿﴾

اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانوں کو نہ مانو گے (منکر بننے رہو گے) (81:40)

اور جس نے تمام چیزوں (تمام قسم کے حیوانات) کے جوڑے بنائے اور تمہارے لئے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو (12:43)

تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ (ذات) پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو قابو کر لیتے (13:43)

More Reference : 6:142 16:8,80 40:79 Page 499, 362, 360

والمزيد راجع ۶ الأنعام: ۱۴۲، ۱۶ النحل: ۸۰، ۴۰ المؤمن (غافر): ۷۹، الصفحة ۳۶۰، ۳۶۲، ۴۹۹

مزيد حوالہ 6:142 80,8:16 142:6 صفحہ 360, 362, 499

CATTLE FOLKS - A DISPLAY OF POWER AND WEALTH OF THEIR MASTER

And therein is beauty for you, when you drive them home, and when you take them out to pasture. (16:6)

الأنعام موجبة للجمال لصاحبها

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ ۝۱۶ النحل ۶ ﴿﴾

مال مویشی باعث شان و عزت مالک

اور جب شام کو انہیں (جنگل سے) لاتے ہو اور جب صبح کو (جنگل) چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے (6:16)

More Reference : 16:8,80 43:13 Page 362, 361

والمزيد راجع ۱۶ النحل: ۸۰، ۴۳ الزخرف: ۱۳، الصفحة ۳۶۱، ۳۶۲

مزيد حوالہ 16:8,80 43:13 صفحہ 361, 362

**TRANSPORT - HAULAGE
OF LOADS ON CATTLES**

And they transport your loads for you to a land you could not reach except with great trouble to yourselves. No doubt your Lord is full of Pity, Merciful. (16:7)

More Reference 6:142 40:79,80
Page 499, 360, 361

حمل الأثقال على الأنعام

وَتَحْمِيلُ أَثْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ
إِلَّا يَشِقُّ الْإِنْسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾
﴿١٦ النحل ٧﴾

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ١٤٢، ٤٠ المثنون (غافر): ٧٩، ٨٠
الصفحة ٤٩٩، ٣٦٠، ٣٦١

موشی برائے بار برداری نقل و حمل

اور (دور دراز) شہروں میں جہاں تم سخت محنت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا (اور) مہربان ہے (7:16)

مزيد حوالہ 80,79:40 142:6
صفحة 361, 360, 499

**SKINS (FOR LEATHER - FURS)
HAIR AND WOOL (FOR TEXTILE)**

**استخدام جلود الأنعام وأصوافها
وأوبراها وأشعارها**

جانوروں کی کھالیں، اون، پشم

عارضی سفری سہولتوں کے لئے
پلکے پھلکے گھر (خیمے)

PORTABLE COTTAGES FOR CAMPING

And Allah has granted you in your houses an abode, and has given you (also), of the skins of livestock, houses which you find light (to carry) on the day you pack them up and on the day of pitching camp; and of their wool and their fur and their hair, come furnishing and commodities for a while. (16:80)

**بيوت خفيفة جلود الأنعام
خلال السفر**

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَ
جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ
وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَثْقَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾
﴿١٦ النحل ٨٠﴾

اور اللہ ہی نے تمہارے لئے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لئے گھر بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اسے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی کام میں لاتے ہو اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں (بناتے ہو جو) مدت تک (کام دیتی ہیں) (80:16)

FABRIC FOR DRESS AND WINTER CLOTHING

And He has created the livestock wherefrom you have warm clothing and other advantages, and whereof you eat. (16:5)

صنع الملابس الدافئة من الأنعام

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾
﴿١٦ النحل ٥﴾

گرم لباس

اور چارپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ان میں تمہارے لئے سردی سے بچاؤ کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں۔ اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو (5:16)

CAMELS

Will they not regard the camels, how they are created? (88:17)

**الإبل، بعير، جمل، هيم، ركاب، ناقه، ضنامر
بدن، بحيره، سائيه، وصيلة، حام**

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾
﴿٨٨ الغاشية ١٧﴾

اونٹ

یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے (عجیب) پیدا کیے گئے ہیں (17:88)

More Reference : 6:144 7:40,73 11:64
Page 503 227,939 939
7:59 22:36 26:155,156 91:13,14
95 292 939 940

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ١٤٢، ٧ الأعراف: ٤٠، ١١ هود: ٦٤، ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٥٩، ٢٢ الحج: ٣٦، ٢٦ الشعراء: ١٥٤، ١٥٥، ٩١ الشمس: ١٤، ١٣

مزيد حوالہ 64:11 73,40:7 144:6
صفحة 939 227,939 503
14,13:91 155,154:26 36:22 59:17
940 939 292 195

HORSES

And horses and mules and donkey asses (He has created) that you may ride them, and to show off them. And He creates something that you know not. (16:8)

الخيال

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوهَا وَرِيَّةٌ
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾
﴿١٦ النحل ٨﴾

گھوڑے

اور اسی نے گھوڑے اور خیر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو (وہ تمہارے لئے) رونق و زینت (بھی ہیں) اور وہ (اور چیزیں بھی) پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں (8:16)

Detail Consult : 8:60 100:1 to 5
Page 440, 647, 648

والتفصيل راجع ٨ الأنفال: ٦٠، ١٠٠ العاديات: ١١، ٣٨ ص: ٢١، ٢٢، ٢٣، ٤٤٠، ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٤٩

تفصيل کے لئے دیکھئے 5:1:100 60:8
صفحة 648, 647, 440 33:31:38

<p>COW - OXEN - HEIFER</p> <p>For Detail Consult : 2:51,54,67,68,71,92 4:153 6:144 7:148,152 20:88 Page 590, 1053, 1054, 150, 196, 503, 150, 1048</p>	<p>المعز والضان. البقرة. العجل</p> <p>وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٥١، ٥٤، ٦٧، ٦٨، ٧١، ٩٢؛ النساء: ١٥٣؛ الأنعام: ١٤٤؛ الأعراف: ١٤٨، ١٥٢؛ طه: ٨٨؛ الصفحہ: ٥٩، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٤، ١٥٠، ١٩٦، ٥٠٣، ١٥٠، ١٠٤٨،</p>	<p>گائے، بیل، بچھڑا</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 2: 92,71,68,67,54,51 4: 153 6: 144 7: 148,152 20: 88 صفحہ 1048, 150, 503, 196, 150, 1054, 1053, 590</p>
<p>SHEEP - GOATS - EWES</p> <p>For Detail Consult : 20:18 21:78 28:23,24 Page 1013 1074 1069</p>	<p>صنان - الغنم - نحجة</p> <p>وللتفصيل راجع ٢٠ طه: ١٨؛ الأنبياء: ٧٨؛ القصص: ٢٤، ٢٣؛ الصفحہ: ١٠١٣، ١٠٧٤، ١٠٦٩،</p>	<p>بھیڑ بکریاں - دہی</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 20: 18 21: 78 28: 23,24 صفحہ 1069 1074 1013</p>
<p>DONKEY - ASS</p> <p>For Detail Consult : 2:259 16:8 31:19 Page 1081 362 445 62:5 74:50 442 824</p>	<p>الحمير</p> <p>وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٥٩؛ النحل: ١٦؛ لقمان: ١٩؛ الجمعة: ٥؛ المدثر: ٥٠؛ الصفحہ: ١٠٨١، ٣٦٢، ٤٤٥، ٤٤٢، ٨٢٤،</p>	<p>گدھا</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 2: 259 16: 8 31: 19 صفحہ 445 362 1081 50: 74 5: 62 824 442</p>
<p>ELEPHANT</p> <p>For Detail Consult : 105:1 Page 686</p>	<p>الفيل</p> <p>وللتفصيل راجع ١٠٥ الفيل: ١؛ الصفحہ: ٦٨٦،</p>	<p>ہاتھی</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 1:105 صفحہ 686</p>
<p>MULE</p> <p>For Detail Consult : 16:8 Page 362</p>	<p>البغال</p> <p>وللتفصيل راجع ١٦ النحل: ٨؛ الصفحہ: ٣٦٢،</p>	<p>خچر</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 8:16 صفحہ 362</p>
<p>DOG</p> <p>For Detail Consult : 5:4 7:176 18:18to22 Page 502 416 1106,1107,1105</p>	<p>الكلب</p> <p>وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٤؛ الأعراف: ١٧٦؛ الكهف: ١٨؛ الصفحہ: ٢٢،</p>	<p>کتا</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 5: 4 7: 176 18: 18to22 صفحہ 1106,1107,1105 416 502</p>
<p>APES - MONKEY</p> <p>For Detail Consult : 5:60 Page 132</p>	<p>قرده</p> <p>وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٦٠؛ الصفحہ: ١٣٢،</p>	<p>بندر</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 5: 60 صفحہ 132</p>
<p>LION</p> <p>For Detail Consult : 74:51 Page 824</p>	<p>الأسد- قسورة</p> <p>وللتفصيل راجع ٧٤ المدثر: ٥١؛ الصفحہ: ٨٢٤،</p>	<p>شیر (بر)</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 51:74 صفحہ 824</p>
<p>WOLF</p> <p>For Detail Consult : 12:13 Page 979</p>	<p>ذئب</p> <p>وللتفصيل راجع ١٢ يوسف: ١٣؛ الصفحہ: ٩٧٩،</p>	<p>بھیڑیا</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 12:13 صفحہ 979</p>
<p>WILD ANIMAL BEAST</p> <p>For Detail Consult : 5:3,4 Page 89, 502</p>	<p>سبوح - جوارح</p> <p>وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٤٠٣؛ الصفحہ: ٨٩، ٥٠٢،</p>	<p>وحشی جانور (درندہ)</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 5: 3,4 صفحہ 502, 89</p>
<p>SWINE - PORK</p> <p>For Detail Consult : 2:173 5:3,60 Page 505, 89/166, 132</p>	<p>خنزیر</p> <p>وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٧٣؛ المائدة: ٥؛ الصفحہ: ١٣٢، ١٦٦/٨٩، ٥٠٥،</p>	<p>خنزیر (سور)</p> <p>تفصیل کے لئے دیکھئے 2: 173 5: 3,60 صفحہ 132, 166/89, 505</p>

ORNITHOLOGY

علم الطيور

پرندوں کا علم

FLIGHT OF BIRDS IN MID-AIR
(LIVING IDEAS OF AERONAUTICS)

الطير في جوا لسماء طرازات
طبيعية لفن الطيران

پرندوں کا فضا میں اڑنا
(علوم ہوا بازی کے زندہ نمونے)

Do they not observe the birds governed in mid-air? None holds them except Allah. Surely herein, are portents for the people who believe. (16:79)

الْمَرِيرُوا إِلَى الطَّيْرِ مَسَخَرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾
﴿١٦ النحل ٧٩﴾

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضا میں کس طرح تابع فرمان ہو کر (اڑتے رہتے) ہیں۔ ان کو اللہ کے سوا کس نے تھام رکھا ہے ایمان والوں کے لئے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں (79:16)

Have they not watched the birds above them spreading out their wings and closing them? Nothing upholds them except the Beneficent. Surely He keeps of all things in His sight. (67:19)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَيْتٍ وَيَقْبِضْنَ
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّ رَبَّكُنَّ لَشَيْءٌ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾
﴿٦٧ الملك ١٩﴾

کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں۔ اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا۔ بیشک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے (19:67)

MANNA - QUAILS

دراج . سلوی

تیر۔ بیٹر

For Detail Consult : 2:57
Page 1044

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٥٧
الصفحة ١٠٤٤

تفصیل کیلئے دیکھئے 57:2
صفحہ 1044

FLESH OF FOWLS

لحم الطير

پرندوں کا گوشت

For Detail Consult : 56:21
Page 869

وللتفصيل راجع ٥٦ الواقعة: ٢١
الصفحة ٨٦٩

تفصیل کے لئے دیکھئے 21: 56
صفحہ 869

PLOVER - HOOPOE

الهدهد

ہد ہد

For Detail Consult : 27:20,22
Page 1075

وللتفصيل راجع ٢٧ النمل: ٢٠، ٢٢
الصفحة ١٠٧٥

تفصیل کے لئے دیکھئے 27:20,22
صفحہ 1075

RAVEN- CROW

الغداق، اغرب

پھاڑی کوا

For Detail Consult : 5:31
Page 915

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٣١
الصفحة ٩١٥

تفصیل کے لئے دیکھئے 31:5
صفحہ 915

SWARM OF BIRDS OF

طيران الطيور سرباً

”ابابیل“ پرندوں کی اجتماعی اڑان

For Detail Consult : 105:3
Page 686

وللتفصيل راجع ١٠٥ الفيل: ٣
الصفحة ٦٨٦

تفصیل کے لئے دیکھئے 3:105
صفحہ 686

ENTOMOLOGY

علم الحشرات

علم الحشرات (کیرے مکروں کا علم)

BEE INSECT
ONE OF THE DIVINE MARVELS

وظيفة النحل لإخراج العسل
من آيات قدرة الله

شہد کی مکھی کا عمل اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ

HONEY - A CURE FOR MANY DISEASES

وفي العسل شفاء من بعض الامراض

(شہد - امراض کی شفا)

And your Lord inspired the bees, to set up their hives in the hills and in the trees and in that which they built. (16:68)

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾
النحل ٦٨

اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتریوں میں اپنے گھر (چھتہ) بنا (68:16)

Then eat out of some of every kind of fruits, and follow humbly the ways of your Lord, made smooth (for you). There comes forth from their bellies a drink diverse of hues, wherein is healing for mankind. Herein is indeed a portent for people who meditate. (16:69)

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾
النحل ٦٩

اور ہر قسم کے میوے کھا۔ اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں (کے کئی امراض) کی شفا ہے بے شک سوچنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے (69:16)

More Reference :	47:15	Page 870/892	الصفحة ٨٩٢/٨٧٠	٤٧ محمد: ١٥	والمزید راجع	892/870	صفحة	15:47	مزید حوالہ
	SPIDER				العنكبوت				مکڑی
For Detail Consult :	29:41	Page 1141,143	الصفحة ١٤٣,١١٤١	٢٩ العنكبوت: ٤١	والتفصیل راجع	143,1141	صفحة	41:29	تفصیل کے لئے دیکھئے
	GNAT - MOSQUITO				البعرض				چھپر
For Detail Consult :	2:26	Page 1139	الصفحة ١١٣٩	٢ البقرة: ٢٦	والتفصیل راجع	1139	صفحة	26:2	تفصیل کے لئے دیکھئے
	MOTHS				فراش				پتنگا
For Detail Consult :	101:4	Page 785	الصفحة ٧٨	١٠١ القارعة: ٤	والتفصیل راجع	785	صفحة	4:101	تفصیل کے لئے دیکھئے
	FLY				الدباب				مکھی
For Detail Consult :	22:73	Page 287	الصفحة ٢٨٧	٢٢ الحج: ٧٣	والتفصیل راجع	287	صفحة	73:22	تفصیل کے لئے دیکھئے
	GROSSHOPPERS-LOCUSTS				جراد				مڈی
For Detail Consult :	7:133	Page 1034	الصفحة ١٠٣٤	٧ الأعراف: ١٣٣	والتفصیل راجع	1034	صفحة	133:7	تفصیل کے لئے دیکھئے
	ANT				النمل				چیونٹی
For Detail Consult :	27:18,19	Page 1074	الصفحة ١٠٧٤	٢٧ النمل: ١٨,١٩	والتفصیل راجع	1074	صفحة	19,18:27	تفصیل کے لئے دیکھئے
	TERMITE				الأرضة				دیمک
For Detail Consult :	34:14	Page 1079	الصفحة ١٠٧٩	٣٤ سباء: ١٤	والتفصیل راجع	1079	صفحة	14:34	تفصیل کے لئے دیکھئے
	LICE				قمل				چھڑی
For Detail Consult :	7:133	Page 1034	الصفحة ١٠٣٤	٧ الأعراف: ١٣٣	والتفصیل راجع	1034	صفحة	133:7	تفصیل کے لئے دیکھئے
	FROG				الضفادع				مینڈک
For Detail Consult :	7:133	Page 1034	الصفحة ١٠٣٤	٧ الأعراف: ١٣٣	والتفصیل راجع	1034	صفحة	133:7	تفصیل کے لئے دیکھئے
	INSECTS CREEPING ON THEIR BELLIES				الحشرات الماشية على البطن				پیٹ کے بل رینگنے والے کیڑے
For Detail Consult :	24:45	Page 359	الصفحة ٣٥٩	٢٤ النور: ٤٥	والتفصیل راجع	359	صفحة	45:24	تفصیل کے لئے دیکھئے
	SNAKE				الحية				سانپ
For Detail Consult :	7:107 20:20 27:10 28:31	Page 1036, 1013, 1014	الصفحة ٢٠ طه: ٢٠	٧ الأعراف: ١٠٧ ٢٨ القصص: ٣١ ٢٧ النمل: ١٠	والتفصیل راجع	10:27 20:20 107:7	صفحة	31:28	تفصیل کے لئے دیکھئے

**CANONS OF (DIVINE) NATURE
SYSTEM OF OMNIPOTENCE OF ALLAH (SWT)**

القوانين الطبقية
نظام القدرة الإلهية

قوانين نظرت نظام قدرت الهی

**SOVEREIGNTY OF THE UNIVERSE BELONGS TO
ALLAH (SWT) THE SUPREME POWER
AND FINAL AUTHORITY**

Know you not that it is Allah to Whom belongs the Sovereignty of the heavens and earth; and you have not, besides Allah, any friend or supporter? (2:107)

And to Allah belongs the Sovereignty of the heavens and the earth, and to Allah is the return. (24:42)

Therefore glory be to Him in Whose hand is the dominion over all things! To Him you will be brought back. (36:83)

And blessed be He to Whom belongs the Sovereignty of the heavens and the earth and all that is between them, ----- (43:85) PART

He holds control over the heavens and the earth and, to Allah (all) matters are brought back. (57:5)

Blessed is He in Whose hand is the sovereignty, and He is Able to do all things: (67:1)

الملک و الحکم و السلطۃ العلیا

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾
﴿البقرة ١٠٧﴾

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾
﴿النور ٤٢﴾

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَكْرُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾
﴿یس ٣٦﴾

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا -----
﴿الزخرف ٨٥﴾ جزء

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ﴿٥٧﴾
﴿الحديد ٥٧﴾

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٧﴾
﴿الملك ٦٧﴾

کائنات کا اقتدار اعلیٰ (بادشاہت)

تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں (107:2)

اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (42:24)

وہ (ذات) پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانا ہے (83:36)

اور وہ بہت بلند ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے (85:43) جزو

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں (5:57)

وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (1:67)

Reference :	2:116,255	3:26,180,189
Page	134,1127	367,498,549
131	5:17,18,40,120	7:158 9:116
10	602,599,122,549	165/180 115
66,68	25:2 32:5 38:10 39:44,63	
2,603	134 328 229 127,853	
12,49	48:14 57:2,10 59:23 62:1	
1,399	123 116,717 102 113	
11	85:9	
1113		

والمعراج راہ	٢ البقرة: ٢٥٥,١١٦	٣ آل عمران: ١٨٠,٢٦٠	١٨٩
٤ النساء:	١٣١	٥ المائدة: ١٨٠,١٧٠	١٢٠,٤٠٠
٧ الأعراف:	١٥٨	٩ التوبة: ١١٦	١٠ يونس: ٦٨,٦٦
٢٥ الفرقان:	٢	٣٢ السجدة: ٥	٣٨ ص: ١٠
٣٩ الزمر:	٦٣,٤٤	٤٢ الشورى: ٤٩,١٢	٤٨ الفتح: ١٤
٥٧ الحديد:	١٠٠,٢	٥٩ الحشر: ٢٣	٦٢ الجمعة: ١
٦٤ التغابن:	١	٨٥ البروج: ٩	

مترجم ہوالہ	255,116: 2	189,180,26: 3	367,498,549
صفحہ	134,1127		
131: 4	120,40,18,17: 5	158: 7	116: 9
310	602,599,122,549	165/180	115
68,66: 10	2: 25	5: 32	10: 38
152,603	134	328	229
63,44: 39	49,12: 42	14: 48	10,2: 57
127,853	327,399	123	116,717
23: 59	1: 64	9: 85	1113
102	113	113	

**WHATSOEVER IS IN THE HEAVENS AND EARTH
AND ANYTHING BETWEEN THEM) BELONGS
TO ALLAH (SWT)**

Have they not pondered upon themselves? Allah created not the heavens and the earth, and that which is between them, except with truth and for a destined end. But truly many of mankind are disbelievers in the meeting with their Lord. (30:8)

للہ ما فی السموت
وما فی الارض وما بینہما

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ
اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ﴿٣٠﴾
﴿الروم ٣٠﴾

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے

کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں (8:30)

ALLAH(SWT) COMMANDS THE VISIBLE AND INVISIBLE FORCES (HOSTS) OF THE UNIVERSE

And to Allah belong (commands) the armies of the Heavens and the Earth, and Allah is ever Mighty, Wise. (48:7)

اللہ جنود السموات والأرض

وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾
﴿٤٨ الفتح ٧﴾

آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں

اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے (7:48)

More Reference : 48:4 67:20 Page 654

والمزید راجع ٤٨ الفتح ٤: ٦٧ الملک ٢٠:

المزید حوالہ 48:4 67:20 Page 654

TREMENDOUS THRONE OF GRACE OF ALLAH(SWT)

For Detail Consult:

7:54	9:129	10:3
322	731	127/322
13:2	20:5	21:22
330	207	135
27:23,26	32:4	39:75
1076	322	376
57:4	69:17	81:20
322	932	209
		105

عرش اللہ

والتفصیل راجع ٧ الأعراف ٥٤: ٩ التوبة ١٢٩: ١٠ یونس ٣: ١٣ الرعد ٢٠: ٥: ٢١ الأنبياء ٢٢: ٢٣ المؤمنون ١١٦: ٨٦: ٢٥ الفرقان ٥٩: ٢٧ النمل ٢٦: ٢٣: ٣٢ السجدة ٤: ٣٩ الزمر ٧٥: ٤٠ المؤمن (غافر) ١٥٠: ٧: ٤٣ الزخرف ٨٢: ٥٧ الحديد ٤: ٦٩ الحاقة ١٧: ٨١ التکویر ٢٠: ٨٥ البروج ١٥:

عرش رب تعالیٰ (اللہ تعالیٰ کا تخت) مسندباری تعالیٰ

3:10	129:9	54:7	تفصیل کیے دیکھئے
127/322	731	354	صفحہ
59:25	116,86:23	22:21	5:20
322	311,133	135	207
15:7:40	75:39	4:32	26,23:27
377,375	376	322	1076
15:85	20:81	17:69	4:57
105	209	932	322
			137

ALLAH(SWT) IS THE LIGHT OF THE UNIVERSE

Allah is the Light of the heavens and the earth. The parable of His light is as a niche wherein is a lamp. The lamp is in a glass. The glass is as it were a shining star. (This lamp is) kindled from a blessed tree, an olive neither of the East nor of the West, whose oil would almost glow forth (of itself) though no fire touched it. Light upon light, Allah guides with His light whom He wills. And Allah knows His forth parables for mankind, for Allah is Aware of all things. (24:35)

اللہ نور السموات والأرض

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهَا كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾
﴿٢٤ النور ٣٥﴾

اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل (ایسی صاف شفاف ہے کہ) گویا موتی کا سا چمکتا ہوا اتارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے (یعنی) زیتون کا نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے یہ آپ ہی روشنی دینے لگے۔ نور پر نور ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اللہ (جو) مثالیں بیان فرماتا ہے (تو) لوگوں کے سمجھانے کے لئے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے (35:24)

ALLAH(SWT) ALONE HOLDS THE MAJESTY OF THE UNIVERSE

And to Him (alone) belongs Majesty in the heavens and the earth, and He is the Mighty, the Wise. (45:37)

اللہ الکبریاء فی السموات والأرض

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾
﴿٤٥ الجاثية ٣٧﴾

آسمانوں اور زمین میں بڑائی اور برتری اللہ تعالیٰ ہی کی ہے

اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لئے بڑائی ہے۔ اور وہ غالب (اور) دانائے ہے (37:45)

Reference : 13:9 22:62 31:30 34:23 Page 108, 133, 141, 176, 902

والمزید راجع ١٣ الرعد ٩: ٢٢ الحج ٦٢: ٣١ لقمان ٢٠: ٣٤ سبأ ٢٢: ٤٠ المؤمن (غافر) ١٢:

المزید حوالہ 13:9 22:62 31:30 34:23 Page 108, 133, 141, 176, 902

DESTINY (DIVINE DECREE) EXISTS FROM ETERNITY WHILE ITS EXECUTION IS AT THE APPOINTED TIME

-----Yet if something fine happens to them they say: This is from Allah; and if an evil thing befalls them they say: This is of your doing (O Muhammad). Say (to them): All is from Allah. What is wrong with these people that they fail to understand a single fact. (4:78) PART

They denied (the Truth) and followed their own lusts. Yet everything will come to a decision. (54:3)

More Reference : 6:86 65:3 Page 246,388

THE GUARDED TABLET (PRESERVED RECORD)

He knows them and numbers them with (exact) numbering. (19:94)

And everything they did is noted in (their) Books (of deeds) (54:52)

And every small and great thing is recorded. (54:53)

No disaster befalls on the earth or on yourselves but it is in a Book before We bring it into existance-- Surely that is easy for Allah-- (57:22)

Everything We have recorded in a Book. (Calculated in writing) (78:29)

More Reference : 7:145 43:4 85:22 Page 592, 211, 212

DIVINE PREORDAINMENTS BEFORE ITS CREATION - EVERYTHING IS IN DUE PROPORTION AND MEASURE WITH DEFINITE LIMITATION

We have created everything by measure (in due proportion). (54:49)

More Reference : 6:97 10:5 13:8 25:2 Page 332 334 398 134 30:8 36:38 39:5 41:12 65:3 366 334 334 329 727 85:21,22 212

القضاء والقدر

وَأَنْ تَصِبُّهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تَصِبُّهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَدِيثًا ۞

﴿٤ النساء ٧٨﴾ جزء

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ۞ ﴿٥٤ القمر ٣﴾

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ٨٦ ٦٥ الطلاق: ٣

اللوحة المحفوظة

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ ﴿١٩ مريم ٩٤﴾

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۞ ﴿٥٤ القمر ٥٢﴾

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ۞ ﴿٥٤ القمر ٥٣﴾

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۞ ﴿٥٧ الحديد ٢٢﴾

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۞ ﴿٧٨ النبأ ٢٩﴾

والمزيد راجع ٧ الأعراف: ١٤٥ ٤٣ الزخرف: ٨٥ البروج: ٢٢ الصلوة: ٥٩٢ ٢١١، ٢١٢

الخلق بقدر

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۞ ﴿٥٤ القمر ٤٩﴾

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ٩٧ ١٠ يونس: ٥ ١٣ الرعد: ٨ ٢٥ الفرقان: ٢ ٣٠ الروم: ٨ ٣٦ يس: ٢٨ ٣٩ الزمر: ٥ ٤١ حم السجدة (فصلت): ١٢ ٦٥ الطلاق: ٣ ٨٥ البروج: ٢٢، ٢١

مشيت الہی۔ تقدیر (جبر و قدر)

----- اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو (اے محمد ﷺ آپ سے) کہتے ہیں کہ یہ نقصان آپکی وجہ سے (ہمیں پہنچا) ہے کہہ دیجئے کہ (رج و راحت) سب اللہ ہی کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے (78:4) جزو

اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے (3:54)

مزید حوالہ 86:6 3:65 صفحہ 388,246

لوحة محفوظ

اس نے ان (سب) کو (اپنے علم سے) گھیر رکھا اور (ایک ایک کو) شمار کر رکھا ہے (94:19)

اور جو کچھ انہوں نے کیا (ان کے) اعمال ناموں میں (درج) ہے (52:54)

(یعنی) ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے (53:54)

کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔ (اور) یہ (کام) اللہ کو آسان ہے (22:57)

اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے (29:78)

مزید حوالہ 145:7 4:43 22:85 صفحہ 212, 211, 592

ہر چیز کا مقرر اندازہ

ہم نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کیا ہے (49:54)

مزید حوالہ 2:25 8:13 5:10 97:6 صفحہ 134 398 334 332 3:65 12:41 5:39 38:36 8:30 366 727 329 334 334 22,21:85 212

ACCOMPLISHMENT OF ALL PLANS OF HUMANKIND DEPENDS UPON THE GRACE OF ALLAH(SWT) AS NOTHING CAN HAPPEN WITHOUT HIS WILL

Say: For myself I have no power to benefit, nor power to hurt, except that which Allah wills. Had I knowledge of the Unseen, I should have increased my share of good and evil would not touch me. I am merely a warner, and a bearer of good news for the folk who believe. (188)

Let you wish not, unless Allah wishes so. Indeed Allah is Aware, Wise. (76:30)

He makes whom He wishes to enter His mercy, and for evil-doers has prepared a painful doom. (76:31)

Had you can wish nothing, unless He (be) that Allah wishes too, the Lord of Universe. (81:29)

مشية: الله غالبه على كل أمر

قُلْ لَأَمْرًا لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ لَوْلَا كُنْتُمْ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٧٦﴾

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٧٦﴾

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾

وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو

کہہ دیجئے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوش خبری سنانے والا ہوں (188:7)

اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے (30:76)

جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لئے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے (31:76)

اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے وہی جو پروردگار عالم چاہے (29:81)

Reference 53:24,25 87:7 Page 415,211

واللہ اعلم ۷: ۵۳ النجم: ۲۵، ۲۴ ۸۷ الأعلیٰ ۷:

مزیّد حوالہ 211,415 صفحہ 7:87 25,24:53

FINAL OUTCOME OF EVENTS RESTS WITH ALLAH(SWT) WHO HOLDS THE DESTINY

-----And Allah's is the sequel of events. (22:41) PART

Reference 31:22 87:7 Page 472,211

EVERY NEWS HAS A PURPOSE TO REALIZE AND AN APPOINTED TERM FOR IT

Every piece of news has some purpose to realize. (for every announcement there is a term) (6:67)

Reference : 54:3 Page 98

YOU WILL NEVER FIND CHANGE IN THE COURSE (RULES AND WAYS) OF ALLAH(SWT)

Perfect is the Word of your Lord in truth and justice. There is nothing that can change His words. He is the All-Knowing and Aware. (6:115)

(Such was Our) method in the case of those whom We sent before you (to humankind), and you will never find for Our method anything of power to change. (17:77)

اللہ عاقبۃ الأمور

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

واللہ اعلم ۱۱: ۳۱ لقمان: ۲۲ ۸۷ الأعلیٰ ۱۱:

سب کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے

----- اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی اختیار میں ہے (41:22) جزو

لکل نبی مستقر

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

واللہ اعلم ۹۸: ۵۴ القمر: ۳: الصفحہ ۹۸

ہر خبر کا ایک وقت اور مقصد ہے

اور ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک مقصد ہے تاکہ تم سمجھ سکو (ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے) (67:6)

مزیّد حوالہ 98 صفحہ 3:54

لا تبدل لسنة الله

وَمِمَّا كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

نظام قدرت میں تغیر نہیں

اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ مستجاب جانتا ہے (115:6)

جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے ان کا (اور ان کے بارے میں ہمارا یہی) دستور رہا ہے اور تم ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پاؤ گے (77:17)

-----The men who make it. Then, can they expect nothing except the treatment of the folk of old? You will not find for Allah's way of treatment any substitute, nor will you find any turning off in Allah's way (of dealing). (35:43) PART

The sentence that comes from Me cannot be changed, and I am in no way a tyrant to the slaves (worshippers). (50:29)

More Reference 6:34 8:38 10:64 30:30 33:62 35:43 38:23 41:43 48:23 Page 730, 318, 769, 402, 660, 475, 122, 713

**EVERY HARDSHIP IS FOLLOWED BY RELIEF
(EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING)**

With every hardship goes ease, (94:5)

Indeed every hardship is followed by ease; (there is relief) (94:6)

More Reference 65:7 Page 393

**NO ONE KNOWS WHAT THE MORROW
MAY BRING FORTH**

Allah! With Him is the knowledge of the Hour. He sends down the rain, and knows that which is in the wombs. No soul knows what it will earn tomorrow, and no soul knows in what land it will die. No doubt Allah is Informed, Aware. (31:34)

**GLAD TIDINGS FOR TRULY DEVOUT HUMANKIND
EACH SUCCEEDING MOMENT IS BETTER THAN
THE ONE PRECEDING IT**

And the latter portion will be better for you than the former, (93:4)

More Reference 65:7 94:5,6 Page 393,371

**ALLAH (SWT) HAS NOT CREATED ANYTHING IN THE
UNIVERSE, WITHOUT A PURPOSE OR DESIGN**

We created not the heavens and the earth and all that is between them except with truth, and The Hour is surely coming. So overlook (any human fault), O Muhammad, with a gracious forgiveness. (15:85)

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ
الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ
تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٣٥﴾
﴿٣٥ فاطر ٤٣﴾ جزء

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ ق ٢٩﴾

والمزید راجع ٦ الأنعام: ٣٤ ٨ الأنفال: ٢٨ ١٠ یونس: ٦٤
٣٠ الروم: ٣٠ ٣٣ الأحزاب: ٦٢ ٣٥ فاطر: ٤٣
٣٨ ص: ٢٣ ٤١ حم السجدة (صلت): ٤٣ ٤٨ الفتح: ٢٣

الیسر بعد العسر

وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥٤﴾
﴿٥٤ الم نشرح ٥﴾

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾
﴿٦ الم نشرح ٦﴾

والمزید راجع ٦٥ الطلاق: ٧: الصفحة ٣٩٣

الإنسان لا يعلم خبر المستقبل

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ سَأَلْتَهُ خَبْرَ الْغَيْبِ
وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا
ذَاتُهَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا تَأْتِي وَرِجْسٌ
مِنْ مَوْلَاكَ فَالْمُتَكَبِّرُونَ ﴿٣١﴾
﴿٣١ لقمان ٣٤﴾

الآخرة خير من الدنيا

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ﴿٩٣﴾
﴿٩٣ الضحى ٤﴾

والمزید راجع ٦٥ الطلاق: ٧: الشرح: ٩٤: ٦٥٠

لم يبدع الله الكائنات باطلا

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفِرِ الصَّفْرَ
الْحَمِيلَ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر ٨٥﴾

تو کیا یہ اسی ستور کے منتظر ہیں جو اگلوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا نہ پائیں گے اور اللہ کے قانون میں کبھی تغیر نہ پائیں گے (43:35) جزو

میرے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں (29:50)

مزیں حوالہ 34:6 38:8 64:10 30:30 23:48 43:41 23:38 43:35 62:33 صفحہ 713, 122, 475, 660, 402, 769, 318, 730

ہر مشکل کے بعد آسانی کی بشارت

ہاں (ہاں) مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے (5:94)

(اور) بیشک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے (6:94)

مزیں حوالہ 7:65 صفحہ 393

انسان کی مستقبل سے لاعلمی

بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے۔ اور وہی (حاملہ کے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے (کہ زہے یا مادہ) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بے شک اللہ ہی جاننے والا (اور) خبردار ہے (34:31)

حال کے بہ نسبت مستقبل بہتر ہونے کی نوید

اور آخرت آپ کے لئے پہلی (حالت یعنی دنیا) سے کہیں بہتر ہے (4:93)

مزیں حوالہ 7:65 6,5:94 صفحہ 393,371

کائنات کی کوئی چیز خالی از مصلحت نہیں

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو (مخلوقات) ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور قیامت تو ضرور آکر رہے گی تو آپ (ان لوگوں سے) اچھی طرح سے درگزر کریں (85:15)

He has created the heavens and the earth with truth. High be He exalted above all that they associate (with Him). (16:3)

And We created not the heaven and the earth and all that is between them in a mere idle play. (21:16)

If We had wished to find a pastime, We could have found it in Our presence if We ever did. (21:17)

Allah created the heavens and the earth with truth. Therein is indeed a portent for believers. (29:44)

And We created not the heaven and the earth and all that is between them in vain. That is the opinion of those who disbelieve. And those who disbelieve, should beware of the Fire! (38:27)

And We created not the heavens and the earth, and all that is between them, in a mere idle play. (44:38)

We created them not except with truth; but most of them know not. (44:39)

We created not the heavens and the earth and all that is between them except with truth, and for a specific period. But those who disbelieve turn away from that whereof they are warned. (46:3)

He created the heavens and the earth with truth, and He shaped you and made your shapes, beautiful, and to Him is the final return. (64:3)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالٰى
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾
﴿١٦ النحل ٣﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لَعِبِيْنَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ١٦﴾

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهُمْ اَلٰمِثَةً مِنْ لَدُنَّا
اِنْ كُنَّا فَعٰلِيْنَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ١٧﴾

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لٰيٰةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٤٤﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
بٰطِلًا ﴿٣٨﴾
ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَوْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنَ النَّارِ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ ص ٢٧﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لَعِبِيْنَ ﴿٤٤﴾
﴿٤٤ الدخان ٣٨﴾

مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾
﴿٤٤ الدخان ٣٩﴾

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
عَمَّا اُنذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿٤٦﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٣﴾

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ
فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٦٤﴾
﴿٦٤ التغابن ٣﴾

اسی نے آسمانوں اور زمین کو دانائی کی بنیاد پر پیدا کیا ہے۔ اس کی ذات ان (کافروں) کے شرک سے اونچی ہے (3:16)

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو (مخلوقات) ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا (16:21)

اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں (یعنی عورت اور بیٹے) بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے (17:21)

اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لئے اس میں نشانی ہے (29:44)

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو (کائنات) ان میں ہے اس کو خالی از حکمت نہیں پیدا کیا۔ یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لئے دوزخ کی آگ کی خزانہ ہے (27:38)

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا (38:44)

ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (39:44)

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے دانائی کی بنیاد پر اور ایک وقت مقرر تک کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھر لیتے ہیں (3:46)

اسی نے آسمانوں اور زمین کو دانائی کی بنیاد پر پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں اور اسی کی طرف (تمہیں) لوٹ کر جانا ہے (3:64)

RANKING ACCORDING TO THE SPIRITUAL STATUS (FOR OR GOOD DEEDS AND MOTIVES)

لكل درجات مما عملوا

درجے بلحاظ اعمال

وَلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا يَّعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾
﴿١٣٢ الانعام ١٣٢﴾

اور سب لوگوں کے لئے ان کے اعمال کے سبب درجے (مقرر) ہیں اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں (132:6)

For all there will be ranks from what they did. your Lord is not unaware of what they do. (6:132)

He is Who has placed you as viceroys of the earth and has exalted some of you in ranks above others, that He may try you by (the test of) that which He has given you. Surely your Lord is Swift in prosecution, and He is Forgiving, Merciful. (6:165)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ سَرَبَكُمْ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾
﴿الانعام ١٦٥﴾

اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے (165:6)

NO HUMAN INTELLECT CAN COMPREHEND ALLAH'S(SWT) PLAN

العقل الأنسانی لا یدرک المصالح الإلهیة

انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو جاننے سے قاصر ہے

IT IS POSSIBLE THAT YOU MAY DISLIKE A THING WHICH CAN BRING GOOD FOR YOU

عسی أن تکرهوا شیئاً وهو خیر لکم

ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو (ناپسند کرو) اور دراصل وہ تمہارے لئے بھی (فائدہ مند) ہو

----- But it may happen that you hate a thing which is good for you, and it may happen that you love a thing which is bad for you. Allah knows, you know not. (2:216) PART

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾
﴿البقرة ٢١٦﴾ جزء

----- مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو۔ اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لئے نقصان دہ ہو اور (ان باتوں کو) اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (2:216) جزو

-----For if you hate them it may happen that you hate a thing wherein Allah has placed much good. (4:19) PART

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾
﴿النساء ١٩﴾ جزء

----- اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے (19:4) جزو

ALLAH (SWT) HAS PRESCRIBED FOR EACH NATION A "SHARIAH" A CODE OF LIFE (SET PATTERN OF TRACED OUT WAYS)

لكل شرعة وسمهاج

ہر قوم کے لئے
ایک دستور و شریعت

Say: O People of the book you have no ground to shed upon till you observe the Torah and the Gospel and that which was revealed to you from your Lord. That which is revealed to you (Muhammad) from your Lord is certain to increase the contumacy and disbelief of many of them. But grieve not for the disbelieving folk. (5:68)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُتَّقُوا
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
وَلِيُزِيدَنَّ كَثِيرًا مِمَّا نَزَّلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو (اور کتابیں) تمہارے رب کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں انہیں قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے اور (یہ قرآن) جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا تو آپ قوم کفار پر افسوس نہ کریں (68:5)

For each people We have given sacred rites, which they are to perform; so let them not dispute with you of the matter, but invite you to your Lord. You indeed follow (them) right guidance. (22:67)

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسِكًا لَهُمْ فَاسْكُوهُ فَلا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُرْ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

ہم نے ہر ایک امت کے لئے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر چلتے ہیں۔ تو یہ لوگ آپ میں سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اور آپ (لوگوں) کو اپنے پروردگار کی طرف بلا تے رہیں۔ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں (67:22)

We have not sent any messenger unless he was to explain to them in their folk's own tongue. Allah lets anyone He wishes go astray, and He guides anyone He wishes. He is the Powerful, the Wise. (14:4)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٤﴾

ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھادے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ (4:14)

Reference : 5:42,43,44,45,47,48

وللمزيد راجع ٥ المائدة : ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٤٨
الصفحة 577, 1100, 593, 579/239, 744, 579

مزید حوالہ 48,47,45,44,43,42: 5
صفحہ 577, 1100, 593, 579/239, 744, 579

STRICT OBSERVANCE OF "SHARIAH"
DIVINE LAWS AND INJUNCTIONS
PROMULGATED BY THE PROPHET (SAWS)
IS INCUMBENT UPON ALL BELIEVERS

إطاعة الله و الرسول واجبة
على المؤمنين

احکام شریعت کی پابندی
اہل ایمان پر فرض ہے

And it not fit for a believing man or for a believing woman, when Allah and His messenger have decided an affair (for them), that they should (after that) claim any option in their affair; and whoso disobeys Allah and His messenger, he goes astray in his error manifest. (33:36)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا (36:33)

ALLAH (SWT) SPECIALLY CHOOSES
WHOM HE PLEASURES

الله يجتبي إليه من يشاء

اللہ تعالیٰ جسے چاہے
پیغمبر منتخب کر لیتا ہے

He singles out for His mercy whom He wills. Allah is of limitless Bounty. (3:74)

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے (74:3)

He sends down the angels with the Spirit of His command to whom He wills of His bondmen, (saying): Warn mankind that there is no god except Me, so keep your duty to Me. (16:2)

يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿١٦﴾
﴿النحل ٢﴾

Your Lord brings to pass what He wills and chooses. They have never any choice. Glorified be Allah and exalted above all that they associate (with Him)! (28:68)

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٨﴾
﴿القصص ٦٨﴾

The Exalter of Ranks, the Lord of the Throne. He casts the Spirit of His command upon any of His slaves whom He wills, that He may warn of the Day of Meeting-- (40:15)

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿٤٠﴾
﴿المنومن ١٥﴾

-----Allah chooses for Himself whom He wishes, and guides to Himself who turns (towards Him). (42:13) PART

.....اللَّهُ يُجْتَبَىٰ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿٤٢﴾
﴿الشورى ١٣﴾ جزء

EVERY COMMUNITY HAS HAD A MESSENGER

And for every nation there is a messenger. And when their messenger comes it will be judged between them fairly, and they will not be wronged. (10:47)

لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٠﴾
﴿يونس ٤٧﴾

More Reference : 6:48 14:4
Page 803, 374

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ٤٨ ١٤ إبراهيم: ٤
الصفحة ٣٧٤, ٨٠٣

مزید حوالہ 4:14 48:6
صفحہ 374, 803

PHILOSOPHY IN ENUNCIATING MESSENGERS TO ALL COMMUNITIES

Messengers of good cheer and of warning, in order that mankind might have no argument against Allah after the messengers. Allah is ever Mighty, Wise. (4:165)

الحكمة في بعث رسول إلى كل أمة
رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾
﴿النساء ١٦٥﴾

ہر قوم میں ایک رسول مبعوث کرنے میں حکمت

(سب) پیغمبروں کو (اللہ نے) خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے (بنا کر بھیجا تھا) تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے (165:4)

And they swore by Allah, their most solemn oath, that if a warner came to them they would be better guided than any of the nations; yet, when a warner came to them it aroused in them nothing but aversion, (35:42)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ كَانُوا كَذِبًا ﴿٤٢﴾
﴿فاطر ٤٢﴾

اور ان (کفار) نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ (42:35)

More Reference : 5:48 7:94 13:7 14:4
16:36,63 Page 577, 393, 193, 374, 154, 386

والمزيد راجع ٥ المائدة: ٤٨ ١٧ الأعراف: ٩٤ ١٣ الرعد: ٧ ١٤ إبراهيم: ٤ ١٦ النحل: ٣٦, ٣٧

مزید حوالہ 4:14 7:13 94:7 48:5
صفحہ 386, 154, 374, 193, 393, 577 63, 36, 16

THE ANGELS

الملائكة

فرشتے

EVERY ANGEL HAS KNOWN POSITION APPOINTED PLACE - ACKNOWLEDGED RANK TO PERFORM ASSIGNED SERVICE

لكل من الملائكة مقام معلوم

ہر فرشتے کا ایک مقام مقرر ہے

There is not one of us but has his own position. (37:164)

وَمَا مِمَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿٣٧﴾
الصف ١٦٤

اور (فرشتے کہتے ہیں کہ) ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے (164:37)

They are they who set the ranks. (165)

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿٣٧﴾
الصف ١٦٥

اور ہم صف باندھے رہتے ہیں (165:37)

They are they who hymn His praise. (166)

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿٣٧﴾
الصف ١٦٦

اور (اللہ) کی پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں (166:37)

ANGELS ARE BEARING AND SURROUNDING THE THRONE OF ALLAH(SWT)

تحمل الملائكة عرش الله وهم محيطون به

فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے (ارد گرد حلقہ باندھے) ہوئے ہیں

When you (O Muhammad) see the angels thronging round the Throne, hymning the praises of their Lord. And they are judged aright. And it will be said: Praise be to Allah, the Lord of the Worlds! (39:75)

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٩﴾
الزمر ٧٥

آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں (اور) اپنے پروردگار کی تعریف کیساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان میں انصاف کیساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جو سارے جہان کا مالک ہے (75:39)

More Reference : 40:7 69:17
Page 377, 832

والمزيد راجع ٤٠ المنومن (غافر) ٧: ٦٩ الحاقة ١٧: الصفحة 832, 377

مزيد حوالہ 7:40 17:69
صفحہ 832, 377

ANGELS ARE EXTOLLING THE LIMITLESS GLORY AND PRAISE OF ALLAH(SWT) DAY AND NIGHT AND NEVER FLAG OR GROW WEARY THEREOF

الملائكة يسبحون الله تعالى ليلا ونهارا، لا يتعبون ولا يستمون

فرشتے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں

But they are too proud still those who are with your Lord glorify Him high and day, and tire not. (41:38)

فَإِن اسْتَكَبَرُوا فَاذْكُرُونَهُمْ أَن سَبَّحُوا لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴿٤١﴾
خم سجدة ٣٨

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو (اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں) جو (فرشتے) تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور (کبھی) تھکتے ہی نہیں (38:41)

More Reference : 16:49 21:19,20 37:164,165,166
Page 114 112 376
19:75 0:7 42:5 376 77 378

والمزيد راجع ٢١ الأنبياء: ١٩، ٤٩ النحل: ١٦ ٣٧ الصفات: ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦ ٤٠ المنومن (غافر) ٧: ٤٢ الشورى: ٥٠

مزيد حوالہ 20,19:21 49:16 112 114
صفحہ 5:42 7:40 7:39 166,165,164:37 378 377 376 376

ALLAH(SWT) CHOOSES ANGELS AS COMMISSION TO CONVEY HIS MESSAGE TO THE PROPHETS

الله يصطفى من الملائكة رسلا

اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے جسے چاہے اپنا پیغام رسولوں تک پہنچانے کے لئے مامور کرتا ہے

Allah chooses out messengers, from the angels and (also) from mankind. Surely Allah is Hearer, Seer. (75)

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾
الحج ٧٥

اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے۔ اور انسانوں میں سے بھی بے شک اللہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے (75:22)

By those who bring down the Reminder, (77:5)

قَالْمَلٰٓئِكَةِ ذِكْرًا
﴿۷۷ المرسلات ۵﴾

پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں (5:77)

To excuse or to warn, (77:6)

عُدْرًا أَوْ نُذْرًا
﴿۷۷ المرسلات ۶﴾

تاکہ عذر (رفع) کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے (6:77)

More Reference : 16:2 19:64 35:1
97:4 Page 375, 378, 378, 264

والمزید راجع ۱۶ النحل: ۲ ۱۹ مریم: ۶۴
۳۵ فاطر: ۱ ۹۷ القدر: ۴

مزید حوالہ 2:16 64:19 1:35 4:97
صفحہ 264, 378, 375

ANGELS ARE DEPUTED FOR SECURITY OF HEAVENS AGAINST EVERY SATANIC FORCE

الملائكة الحرس الشداد

For Detail Consult : 15:16,17,18 37:6,7,8,9,10
67:5 72:8,9
Page 329, 330, 331, 692

والمفصل راجع ۱۵ الحجر: ۱۶، ۱۷، ۱۸ ۳۷ الصافات: ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰
۶۷ الملك: ۵ ۷۲ الجن: ۸، ۹
الصفحة ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۹۲

آسمانوں کی حفاظت پر مامور فرشتے

تفصیل کیلئے دیکھئے 10:6:37 18,17,16:15
9,8:72 5:67
صفحہ 692, 331, 330, 329

ANGELS REGULATE MATTERS FOR PROMPT COMPLIANCE OF ALLAH'S(SWT) BEHEST

الملائكة وتدير الامر بموجب مشيئة الله

By the (angels) who tear out (the souls of the wicked) with violence, (79:1)

وَالَّذِي عَرَقْنَا
﴿۷۹ النزعت ۱﴾

دنیا کے کاموں کی تدبیر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی فوری تعمیل کرنے والے فرشتے

ان (فرشتوں) کی قسم جو ڈوب کر سختی سے کھینچ لیتے ہیں (گناہ گار انسانوں کی روح) (1:79)

By those who gently draw out (the souls of the blessed), (79:2)

وَالَّذِي نَسْطُطُ
﴿۷۹ النزعت ۲﴾

اور (ان فرشتوں کی) جو بند کھول کر چھڑا دیتے ہیں (مومن کی بہ سہولت جان نکالنے کیلئے) (2:79)

By those who glide along (on errands of mercy) (79:3)

وَالَّذِي سَبَّحًا
﴿۷۹ النزعت ۳﴾

اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں (فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں) (3:79)

By the angels hastening, (79:4)

وَالَّذِي سَبَّحًا
﴿۷۹ النزعت ۴﴾

پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں (فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک پہنچانے کے لیے) (4:79)

And those who govern (regulate) the event, (matter). (79:5)

وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا
﴿۷۹ النزعت ۵﴾

پھر (دنیا کے) کام کا انتظام کرتے ہیں (5:79)

ANGELS HONOUR AND BLESS THE PROPHET MUHAMMAD(SAAS)

الملائكة يصلون على النبي محمد ﷺ

Allah and His angels shower blessings on the Prophet. You who believe! Ask blessings on him and salute him with a worthy salutation. (33:56)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۳۳﴾ الاحزاب ۵۶

فرشتے رسول کریم حضرت محمد ﷺ پر درود بھیجتے ہیں

اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں مومنو! تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو (56:33)

ANGELS IMPLORE FORGIVENESS AND MERCY OF ALLAH(SWT) FOR ALL THE DWELLERS OF EARTH WHO HAVE ATTAINED FAITH

الملائكة يستغفرون للدين آمنوا

Those who bear the Throne, and all who are round about it, hymn the praises of their Lord and believe in Him and ask forgiveness for those who believe (saying): Our Lord! You comprehend all things in mercy and knowledge, therefore forgive those who repent and follow Your way. Ward off them from the punishment of hell! (40:7)

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿۴۰﴾ المؤمن ۷

فرشتے اللہ تعالیٰ سے اہل ایمان کے لئے معافی و درگزر کی درخواست کرتے رہتے ہیں

جو عرش اٹھائے ہوئے اور جو اس کے ارد گرد (حلقہ باندھے ہوئے) ہیں (یعنی فرشتے) وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لئے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہے تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخشش دے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچالے (7:40)

The heavens are almost rent asunder from above them (by His Glory) while the angels hymn the praise of their Lord and ask forgiveness for those on the earth. Indeed Allah is the Forgiver, the Merciful. (42:5)

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ
فِي الْأَرْضِ ۗ الْأَرَاكُ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾
﴿٤٢ الشوریٰ ٥﴾

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے (اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے) پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کیساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کیلئے معافی مانگتے رہتے ہیں سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے (5:42)

THE MULTI-WINGED ANGELS ARE MESSAGE BEARER OR INSTRUMENTS OF ALLAH'S(SWT) WILL(WHO ARE ENTRUSTED WITH NUMEROUS ERRANDS)

الملائكة الرسل أولى أجنحة

کئی پروں والے فرشتے اللہ کے پیغام بر (قاصد) اور احکامات کی بحالی اور لانے والے

Praise be to Allah, the Creator of the heavens and the earth, Who appoints the angels as messengers having wings two, three and four pairs. He multiplies in creation what He wills. No doubt Allah is able to do all things. (35:1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ
الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مِّثْنَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعًا ۗ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾
﴿٣٥ فاطر ١﴾

سب تعریف اللہ ہی کو لائق ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (اور) فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں۔ وہ (اپنی) مخلوق میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (1:35)

ANGELS NEVER DESCEND EXCEPT ON ALLAH'S(SWT) COMMAND, WILL AND PURPOSE

لا ينزل الملائكة إلا بأمر الله

فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے

Angels (angels) never descend except by commandment of your Lord. To Him belongs all that lies in before us and all that is behind us and all that is in between those two, and your Lord is never forgetful- (19:64)

وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا
وَمَا خَلْفُنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾
﴿١٩ مريم ٦٤﴾

اور (فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ) ہم آپ کے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں (64:19)

Reference : 6:61 66:6
Page 775, 444

والمزید راجع ٦ الأنعام: ٦١ ٦٦ التحريم: ٦٦
الصفحة ٤٤٤, ٧٧٥

والمزید حوالہ 61:6 66:6
صفحة 444, 775

GUARDIAN ANGELS EVER WATCHFUL FORCES

الملائكة الحفظة

ہمہ وقت نگران فرشتے

TWO ANGELS ARE TO NOTE THOUGHTS, WORDS AND ACTIONS WITH RECORDING OF EACH UTTERANCE AND DEED OF EVERY HUMANKIND CONSTANTLY

الملائكة الكاتبون

نامہ اعمال (انسان کا ہر ارادہ۔ قول اور فعل) لکھنے والے فرشتے۔ کراما کاتبین

Would they that We cannot hear their secret thoughts and private counsels? Indeed (We do) And Our eyes, present with them, do record. (43:80)

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ
وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾
﴿٤٣ الزخرف ٨٠﴾

کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں (سب سنتے ہیں) اور ہمارے فرشتے ان کے پاس (ان کی) سب باتیں لکھ لیتے ہیں (80:43)

When the two guardian angels, appointed to observe (his doings) are (note them) seated on the right hand and on the left, (50:17)

إِذ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ
قَاعِدٌ ﴿١٧﴾
﴿٥٠ ق ١٧﴾

جب (وہ کوئی کام کرتا ہے تو) دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں (17:50)

He utters no word but there is with him an observer vigilant. (50:18)

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ ق ١٨﴾

کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے (18:50)

Nevertheless you deny the Judgement. (82:9)

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿٩﴾
﴿٨٢ الانفطار ٩﴾

ہرگز نہیں بلکہ تم تو سزا و جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو (9:82)

Yet there are above you guardians, (82:10)

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾
﴿٨٢ الانفطار ١٠﴾

حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں (10:82)

Some noble guardians writing it-down. (82:11)

كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾
﴿٨٢ الانفطار ١١﴾

میزز (تمہاری باتوں کے) لکھنے والے مقرر ہیں (11:82)

They know (all) that you do. (82:12)

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾
﴿٨٢ الانفطار ١٢﴾

جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں (12:82)

No human soul but has a guardian(set up) over it. (86:4)

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾
﴿٨٦ الطارق ٤﴾

کہ کوئی جاندار نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں (4:86)

More Reference : 66:6 72:27 Page 444,109

والمزيد راجع ٦٦ التحريم ٦٦ الجن ٧٢

مزيد حوالہ 6:66 27:72 صفحہ 109,444

ANGELS DEPUTED TO PULL OUT SOULS TO RECEIVE DEATH

ملائكة الموت

موت کے وقت جان قبض کرنے والے فرشتے

For Detail Consult : 4:97 6:61 7:37
Page 670 775 773
8:50 16:28,32 32:11 47:27 79:1,2
773 774,772 775 774 377

والتفصيل راجع ٦٦ التحريم ٦٦ الجن ٧٢
٦٦ الأعراف ٢٧ ٤ النساء ٩٧ ٦ الأنعام ٦١
٢٢:٢٨ النحل ١٦ ٨ الأنفال ٥٠ ٢٧ الأعراف ٢٧
٢٢ السجدة ١١ ٤٧ محمد ٢٧ ٧٩ النازعات ٢١

تفصیل کے لئے دیکھئے 4:97 6:61 7:37
صفحہ 773 775 773
8:50 16:28,32 32:11 47:27 79:1,2
773 774,772 775 774 377

ALLAH(SWT) DEPUTES ANGELS OF GRACE (SPIRITUAL FORCES) TO HELP THE BELIEVERS

ينزل الله الملائكة لنصر الموثومنين

اللہ ایمان والوں کی امداد کے لئے زمین پر فرشتے بھیجتا ہے

For Detail Consult : 3:124,125 9:26 66:4
Page 699, 718, 727

والتفصيل راجع ٣ آل عمران ١٢٤:١٢٥ ٩ التوبة ٢٦
٦٦ التحريم ٤ الصفحة ٦٩٩, ٧١٨, ٧٢٧

تفصیل کے لئے دیکھئے 3:124,125 9:26 66:4
صفحہ 727, 718, 699

ANGEL "ISRAFIL" WHO WILL SOUND THE TRUMPET ON THE LAST DAY

اسرافيل عليه السلام

روز قیامت صور پھونکنے پر مامور فرشتہ (حضرت اسرافیل علیہ السلام)

For Detail Consult : 6:74 20:102
Page 946 790
27:87 36:49,51,52,53 37:19 38:15
790 789,790,783,789 789 789
50:20,41 69:13 74:8 78:18 79:13,14
791,789 791 791 791 789
Consult Chapter: Prognostication of the Day
Page 788

والتفصيل راجع ٦ الأنعام ٧٤ ٢٠ طه ١٠٢
٢٧ النمل ٨٧ ٣٦ يس ٤٩:٥١:٥٢:٥٣ ٣٧ الصافات ١٩
٣٨ ص ١٥ ٥٠ ق ١٢٠:٤١ ٦٩ الحاقة ١٣ ٧٤ المدثر ٨
٧٨ النبأ ١٨ ٧٩ النازعات ١٣:١٤
والتفصيل راجع باب "أمارات الساعة"
الصفحة ٧٨٨

تفصیل کے لئے دیکھئے 6:74 20:102
صفحہ 790 946
27:87 36:49,51,52,53 37:19 38:15
790 789,790,783,789 789 789
50:20,41 69:13 74:8 78:18 79:13,14
791,789 791 791 791 789
مطالعہ باب "قیامت کی نشانیاں" صفحہ 788

ANGELS WILL BE SENT DOWN ON THE DAY OF JUDGEMENT

سوف ينزل الملائكة يوم القيامة

قیامت کے روز فرشتے نازل کئے جائیں گے

More Reference 4:166 25:25 50:21 to 23
Page 210, 806, 849

والتفصيل راجع ٤ النساء ١٦٦ ٢٥ الفرقان ٢٥
٥٠ ق ٢١: الی ٢٦

تفصیل کے لئے دیکھئے 4:166 25:25 50:21 to 23
صفحہ 210, 806, 849

EVERY PERSON WILL COME FORTH ALONG WITH AN ANGEL TO DRIVE HIM AND AN ANGEL TO BEAR WITNESS

سوف يقدم الملائكة كتب الاعمال يوم القيامة

قیامت کے روز فرشتے انسانوں کو اور ان کے نامہ اعمال کو پیش کریں گے

For Detail Consult : 25:25,23 50:21 to 26
Page 858, 806, 849

والتفصيل راجع ٢٥ الفرقان ٢٥:٢٦ ٥٠ ق ٢١: الی ٢٦
الصفحة ٨٥٨, ٨٠٦, ٨٤٩

تفصیل کے لئے دیکھئے 25:25,23 50:21 to 26
صفحہ 849, 806, 858

**WARDENS OF THE GARDENS OF DELIGHT
WILL GREET THE BLESSED PEOPLE**

**الملائكة المأمورون بالجنة
يحيون أهل الجنة**

بہشت کے باغوں کے نگران فرشتے
اہل جنت کو سلام کہیں گے

For Detail Consult : 13:23,24 14:23 21:103
Page 864 864 865
25:75,76 39:73 41:30
865 864 865

وللتفصیل راجع ۱۳ الرعد: ۲۴، ۲۳: ۱۴ ابراہیم: ۲۳
۲۱ الأنبياء: ۱۰۳ ۲۵ الفرقان: ۷۶، ۷۵: ۳۹ الزمر: ۷۳
۴۱ حم السجدة (فصلت): ۳۰

تفصیل کے لئے دیکھئے 103:21 23:14 24,23:13
865 864 864
30:41 73:39 76,75:25
865 864 865

**WARDENS OF FIRE - GUARDS OF HELL
(SUBORDINATE AND THEIR CHIEF)**

**الملائكة الغلاظ الشداد
المأمورون بجہنم**

دوزخ کے نگران فرشتے اور داروغہ جہنم

For Detail Consult : 39:71,72 40:49
Page 896 900
7:8,9,10,11 74:30 96:18
896,897 888 628

وللتفصیل راجع ۳۹ الزمر: ۷۱، ۷۲: ۴۰ المؤمنون (غافر): ۴۹
۶۷ الملك: ۱۱، ۱۰، ۹، ۸: ۷۴ المدثر: ۳۰ ۹۶ العلق: ۱۸
الصفحة ۲۸، ۸۸۸، ۸۹۷، ۸۹۶، ۹۰۰

تفصیل کے لئے دیکھئے 49:40 72,71:39
900 896
18:96 30:74 11,10,9,8:67
628 888 896,897

**GABRIEL (PBUH)
ANGEL OF REVELATION**

جبریل علیہ السلام

جبرائیل علیہ السلام - (روح القدس)
اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے والا فرشتہ

ay (O Muhammad, to mankind):
Who is an enemy to Gabriel! For he
is who has revealed (this
cripture) to your heart by Allah's
ave, confirming that which was
ealed) before it, and a guidance
ad glad tidings to believers; (2:97)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی
قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۷﴾
﴿۲ البقرة ۹۷﴾

کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے اس نے
تو (یہ کتاب) اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کی
ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں
کے لئے ہدایت اور بشارت ہے (97:2)

For Reference : 2:87 5:110 20:96
Page 204 1099 1050
6:13 66:4 81:23
7,689 727 687

وللمزيد راجع ۲ البقرة: ۸۷ ۵ المائدة: ۱۱۰
۲ طہ: ۹۶ ۵۳ النجم: ۱۳، ۶: ۶۶ التحريم: ۴
۸۱ التکویر: ۲۳

مزید حوالہ 96:20 110:5 87:2
1050 1099 204
23:81 4:66 13,6:53
687 727 687,689

**ENMITY TOWARDS
GABRIEL AND MICHAEL (PBHT)**

عدواة لجبرئیل و میکال علیہما السلام

حضرت جبرائیل و میکائیل علیہما السلام
سے دشمنی

Who is an enemy to Allah, and His
angels and His messengers, and
Gabriel and Michael! Then, Allah
(Himself) is an enemy to the
believers. (2:98)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾
﴿۲ البقرة ۹۸﴾

جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اس کے پیغمبروں
کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا
اللہ دشمن ہے (98:2)

**COMING DOWN OF ANGELS
HARUT AND MARUT IN BABYLON**

ہاروت و ماروت

ہاروت و ماروت فرشتوں کا شہر بابل میں نزول

For Detail Consult : 2:102 Page 157

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۱۰۲ الصفحة ۱۵۷

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:102 157

**ISRAELI ARAB ASSIGNED THE ANGELS
AS THE DAUGHTERS OF ALLAH(SWT)**

**خرق المشركين
الملائكة بنات الله**

مشركين مکہ کافرشتوں کو اللہ تعالیٰ
کی بیٹیاں قرار دینا

For Detail Consult : 17:40 37:150 43:19
Page 136, 137, 138

وللتفصیل راجع ۱۷ الإسراء (اسرائیل): ۴۰ ۳۷ الصافات: ۱۰۰
۴۳ الزخرف: ۱۹ ۵۳ النجم: ۲۷

تفصیل کے لئے دیکھئے 19:43 150:37 40:17
138, 137, 136 27:53

JINNS

الجنان

جنات

CREATION OF JINNS

And the jinns We had created earlier from smokeless fire. (15:27)

And He created the jinns from confusing flame of fire. (55:15)

خلق الجنان

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ ﴿١٥﴾
الحجر ٢٧

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾
الرحمن ١٥

تخلیق جنات

اور جنات کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا (27:15)

اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا (15:55)

More Reference :

18:50,51	21:82	27:38
Page 382,327	343	1077
32:13	34:14,41	38:36,76
885	1079	1073,906
46:29	51:56	72:5,6,7
690	405	691,692
		114:6
		1128

والمزيد راجع

٢١ الأنبياء: ٨٢	١٨ الكهف: ٥١,٥٠	٢٧ النمل: ٣٨
٣٤ سباء: ٤١,١٤	١٢ السجدة: ٣٢	٣٨ ص: ٧٦,٣٦
٢٥: (فصلت)	٤١ حلم السجدة (فصلت)	٢٩: الأحقاف
٧٢ الجن: ٧٦,٥	٥١ الذاريات: ٥٩	١١٤ الناس: ٦

مزيد حوالہ

38:27	82:21	51,50:18
1077	343	327,382
25:41	76,36:38	41,14:34
856	906,1073	1079
6:114	7,6,5:72	56:51
1128	696,691	405
		29:46
		690

JINNS ALSO FOLLOW DIVERGENT PATHS SOME THAT ARE RIGHTEOUS AND SOME THE CONTRARY

And among us there some are righteous folk and among us there some are far from that. We are sects having different rules. (72:11)

And there are among us some who are Muslims (have surrendered to Allah) and there are among us some who are unjust. And whoso have surrendered to Allah, such have taken the right path purposeful. (72:14)

And as for those who are unjust, they are firewood for hell. (72:15)

للجن مذاهب
منهم الصالحون و منهم دون ذلك

وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنُفَاءً طَرَائِقُ قَدِيدًا ﴿١١﴾
الجن ١١

وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا شَرًّا ﴿١٤﴾
الجن ١٤

وَإِنَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾
الجن ١٥

جنات بھی کئی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں بعض نیک ہیں اور بعض ان کے برعکس

اور یہ کہ بے شک ہم میں بعض تو نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں ہمارے بھی کئی طرح کے مذہب ہیں (11:72)

اور یہ کہ ہم میں بعض تو مسلمان (فرمانبردار) ہیں اور بعض (نافرمان) گنہگار ہیں تو جو فرماں بردار ہوئے وہ سیدھے راستے پر چلے (14:72)

اور جو گنہگار اور ظالم ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے (15:72)

More Reference :

6:128,130	32:13
Page 835, 885	

JINNS BELIEVED (WERE IMPRESSED) IN THE MESSAGE OF HOLY QURAN RECOGNITION OF MONOTHEISM

For Detail Consult :

46:30,31	72:1 to 6,13
Page 691, 692, 890	

SOLOMON (PBUH) TAMED AND UTILIZED THE JINNS AND DEVILS

For Detail Consult :

21:82	27:17	38:35,37,38,39,40
Page 343, 1073, 1072		

JINNS CONFESSED ABOUT THEIR KNOWING NOTHING OF HIDDEN SECRETS (UNSEEN) BEING IGNORANT TO THE DEATH OF THEIR KING SOLOMON (PBUH) EVEN

For Detail Consult :

34:14	Page 1079
-------	-----------

والمزيد راجع

٢٢ السجدة: ١٣	٦ الأنعام: ١٢٨,١٢٠
	الصفحة ٨٨٥, ٨٣٥

ایمان الجن بالقرآن الکریم
و اقرارهم بالتوحید

والتفصیل راجع

٧٢ الجن: ١٠ الى ١٣	٤٦ الأحقاف: ٢١,٣٠
	الصفحة ٨٩٠, ٦٩٢, ٦٩١

كانت الجن تخضع لسليمان عليه السلام

والتفصیل راجع

٢٧ النمل: ١٧	٢١ الأنبياء: ٨٢
	ص: ٣٨, ٣٧, ٣٥, ٣٩, ٤٠

اعتراف الجن بعدم علم الغيب
حيث لم يشعروا بموت سليمان

والتفصیل راجع

٣٤ سباء: ١٤	الصفحة ١٠٧٩
-------------	-------------

مزيد حوالہ

13:32	130,128:6
صفحة 885, 835	

جنات کا قرآن پاک پر ایمان لانا
اور اقرار توحید

تفصیل کے لئے دیکھئے

13,6:1:72	31,30:46
صفحة 890, 692, 691	

جنات کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع فرمان ہونا

تفصیل کے لئے دیکھئے

37,35:38	17:27	82:21
صفحة 1072, 1073, 343		40,39,38

حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے لاعلمی
پر جنات کا اپنے علم غیب سے معذوری کا اعتراف

تفصیل کے لئے دیکھئے

14:34	صفحة 1079
-------	-----------

SATAN - DEVIL - IBLIS

ابليس من الشيطان

ابليس = شيطان

IBLIS IS OF THE JINNS (SPRITES)

كان إبليس من الجن

ابليس جنات میں سے ہے

He said: What hindered you that you did not fall prostrate when I made you? (Iblis) said: I am better than he is. You created me of fire while him You did create of mud. (7:12)

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٧﴾
﴿١٧ الأعراف ١٢﴾

(اللہ نے) فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کسی چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے (12:7)

And (remember) when We said to the angels: Fall prostrate before Adam, and they fell prostrate, all except Iblis. He was of the Jinns, so he rebelled against his Lord's command. Will you choose him and his seed for your protecting friends instead of Me, when they are an enemy to you? Calamitous is the exchange for evildoers! (18:50)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلٰسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِۦٓ اَفَتَتَّخِذُوْنَ وَاُوْدِيَّتْ اَوْلِيَاۡءَ مِنْ دُوْنِ وَّهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۭۤ اَبْسَ لِلظَّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿١٨﴾
﴿١٨ الكهف ٥٠﴾

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس (نے نہ کیا) وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور (شیطان کی دوستی) ظالموں کے لئے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے (50:18)

Reference : 38:76 Page 908

وللمزيد راجع 38 ص 76 الصفحة 908

مزید حوالہ 38:76 صفحہ 908

IBLIS IS CREATED OF SMOKELESS FIRE (FLAME)

خلق ابليس من نار السمووم

ابليس بے دھوئیں کی آگ اور (شعلے) سے تخلیق کردہ

and the jinns We had created before me of essential fire. (15:27)

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾
﴿٢٧ الحجر ٢٧﴾

اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا (27:15)

and the jinns (sprites) He created of smokeless fire. (55:15)

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥ الرحمن ١٥﴾

اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا (15:55)

Reference : 7:12 Page 382

وللمزيد راجع 7 الأعراف 12: الصفحة 382

مزید حوالہ 7:12 صفحہ 382

SATAN ETERNAL ENEMY OF HUMANKIND

الشيطان عدو أزلی لبني آدم

شیطان نبی نوع انسان کا ازلی دشمن

Children of Adam! Let not Satan deceive you as he caused your (first) parents to go forth from the Garden and tore off from them their robe (of innocence) that he might manifest their shame to them. he and his tribe, watch you from where you see them not. We have made the devils protecting friends for those who believe not. (7:27)

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوٰٓءَكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنۡ جَعَلْنَا الشَّيْطٰنِ اَوْلِيَاۡءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾
﴿٢٧ الأعراف ٢٧﴾

اے بنی آدم (دیکھنا کہیں) شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو (بھٹکا کر) بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیئے تاکہ ان کے ستران کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں (27:7)

Reference Page 910,908

وللتفصيل راجع الصفحة 910,908

مزید حوالہ صفحہ 910,908

PARTISANS OF SATAN

حزب الشيطان

شیطان کا لشکر

Reference : 58:19 Page 296

وللتفصيل راجع 58 المجادلة 19: الصفحة 296

مزید حوالہ 58:19 صفحہ 296

**PERPETUAL MISSION OF SATAN
MISLEADING OF HUMANKIND**

He said: My Lord, because You have sent me astray, I shall adorn the path of error for them in the earth, and shall mislead them everyone. (15:39)

هدف الشيطان إلى يوم القيامة
إغواء بني آدم

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾
﴿١٥ الحجر ٣٩﴾

نبی نوع انسان کو برائی کی ترغیب دینا
شیطان کا تا قیامت مشن

(اس نے) کہا کہ پروردگار جیسے تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لئے (گناہوں کو) آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بھٹکاؤں گا (39:15)

**PERSONS OF TALENTS (SPIRITUAL INSIGHT)
SHOULD ALSO BE CAUTIOUS OF SATAN'S
INTRIGUES, TO LEAD THEM ASTRAY**

Recite to them the tale of him to whom We gave Our revelations, but he sloughed them off, so Satan overtook him and he became of those who lead astray. (7:175)

لیکن اولو العلم خدرین من کید الشيطان

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَاهُ
مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾
﴿١٧ الاعراف ١٧٥﴾

اہل علم کو بھی شیطان کی ترغیبات سے بچنا
چاہئے (وہ ان کو بھی گمراہ کرتا رہتا ہے)

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا (7:175)

**AN AVOWED ENEMY
OPEN FOE - ARCH ENEMY**

-----And follow not the footsteps of the devil. He is an open enemy for you. (2:168) PART

Tell My bondmen to speak that which is the Politist. The devil sows discord among them. The devil is an open foe for mankind. (17:53)

Behold the devil is an enemy for you, so treat him as an enemy. He only summons his faction to be owners of the Earning Fire. (35:6)

Did I not enjoin on you ,O children of Adam, not to serve (worship) Satan? He is an open (foe) enemy of yours (36:60)

He has led a numerous mob of you astray. Have not you been reasoning things out. (36:62)

العدو المبین

وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾
﴿٢ البقرة ١٦٨﴾ جزء

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنْ الشَّيْطَانُ كَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾
﴿١٧ بني اسرائيل ٥٣﴾

شیطان ایک کھلا دشمن

-----اور شیطان کے قدموں پر نہ
چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (2:168) جزو

اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ (لوگوں سے) ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں۔ کیوں کہ شیطان (بری باتوں سے) ان میں فساد ڈال دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے (53:17)

یہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے سو تم اس کو دشمن سمجھتے رہو وہ تو اپنے گروہ کو محض اس لئے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں ہو جائیں (6:35)

اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے (60:36)

اس (شیطان) نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ (62:36)

SATAN THREATENS HUMANKIND WITH POVERTY AND INSTIGATES FOR SEXUAL MISCONDUCT

He enjoins upon you only the evil and the foul, and that you should tell concerning Allah that which you know not. (2:169)

The devil promises you destitution and enjoins on you lewdness.----- (2:268) PART

الشيطان يأمر الانسان بالسوء والفحشاء

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

﴿٢ البقرة ١٦٩﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴿٢٦٨ البقرة ٢٦٨﴾ جزء

شیطان انسان کو مفلسی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے

وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں (کچھ بھی) علم نہیں (2:169)

(اور دیکھنا) شیطان (کا کہنا ماننا وہ) تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے ----- (2:268) جزو

Reference : 3:175 24:21 Page 306, 385

والمزید راجع ٢٤ النور: ٢١ ٣ آل عمران: ١٧٥ الصفحة ٣٨٥, ٣٠٦

المزید حوالہ 175:3 21:24 صفحه 385, 306

ALLAH(SWT) HAS PROCLAIMED TO FILL THE HELL WITH SATAN AND EVERYONE WHO FOLLOWS HIM

Detail Consult : 7:18 15:43 17:63 Page 82,83,84,85 Page 913, 914

وعد الله بملا جهنم من الشيطان وذريته

والتفصیل راجع ٧ الأعراف: ١٨ ١٥ الحجر: ٤٣ ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٦٣ ٣٨ ص ٨٥٠٨٤٠٨٣٠٨٢ الصفحة ٩١٤, ٩١٣

اللہ تعالیٰ کا اعلان۔ دوزخ کو شیطان اور اس کے پیلے چاٹوں (پیروکاروں) سے بھردوں گا

تفصیل کیلئے دیکھئے 63:17 43:15 18:7 914, 913 85,84,83,82:38

SATAN PREVAILS NO AUTHORITY OVER THOSE WHO BELIEVE AND RELY ALLAH(SWT)

He has no power over those who believe and put trust in their Lord. (5:99)

لاسلطان للشيطان على المؤمنين المتوكلين على الله

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

اللہ تعالیٰ کے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا

کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا (99:16)

Reference : 15:40,42 17:65 38:85 Page 306, 769

والمزید راجع ١٥ الحجر: ٤٠, ٤١ ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٦٥ ص ٨٥٠٨٤٠٨٣٠٨٢ الصفحة ٧٦٩, ٣٠٦

المزید حوالہ 85:38 65:17 42,40:15 صفحه 769, 306

SATAN'S STRATEGY IS EVER FEEBLE

Those who believe do battle for the cause of Allah; and those who do not believe do battle for the cause of the devil. So fight the minions of the devil. The devil's strategy is ever weak. (4:76)

كيد الشيطان ضعيف

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

شیطان کا داؤ کمزور ہے

جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لئے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لئے لڑتے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو (اور ڈرو مت) کیوں کہ شیطان کا داؤ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے (76:4)

HAVENS ARE GUARDED AGAINST EVERY ACCURSED SATANIC EVIL

For detail Consult : 79: 1 to 5 Page 377

حفظت السموات من الشياطين

والتفصیل راجع ٧٩ النازعات: ١ الى ٥ الصفحة ٣٧٧

آسمانوں کو شیطانوں سے محفوظ کر دیا گیا

تفصیل کے لئے دیکھئے 377 5٥١:79

DO NOT FOLLOW IN SATAN'S FOOTSTEPS

O you who believe! Follow not the footsteps of the devil. To whomsoever follows the footsteps of the devil, he commands filthiness and dishonour. Had it not been for the face of Allah and His mercy to

لا تتبعوا خطوات الشيطان

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

شیطان کی پیروی نہ کرو

مومنو! شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی (کی باتیں) اور برے کام ہی بتائے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں

you, not one of you would ever have grown pure. But Allah causes whom He wills to purify. And Allah is Hearer, Knower. (24:21)

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً مَا تَكْفِي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
﴿٢٤ النور ٢١﴾

پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے (21:24)

More Reference : 6:142 36:60,61,62,63,64
Page 499, 383, 141, 847

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ١٤٢ ٣٦ يس: ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤
الصفحة ٤٩٩، ٣٨٣، ١٤١، ٨٤٧

مزيد حوالہ 6: 142 36: 60, 61, 62, 63, 64
صفحہ 499, 383, 141, 847

ESCAPE FROM DEVIL'S DELUSION
TO DECEIVE YOU

O mankind! The promise of Allah is true. So let not the life of the world beguile you, and let not the (avowed) beguiler beguile you with regard to Allah. (35:5)

احذروا ما كيد الشيطان

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ
﴿٣٥ فاطر ٥﴾

شیطان کے دھوکے سے بچو

اے لوگو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور سچا ہے سوائے انہو کے یہ دنیوی زندگی تم کو دھوکہ میں ڈالے رکھے اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈال دے (5:35)

SATAN'S PROMISES ARE
NOTHING EXCEPT DECEPTION

He promises them and stirs up desires in them, and Satan promises them only to beguile. (4:120)

إنما وعد الشيطان غرور

يَعِدُهُمْ وَيُمِدُّهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ
إِلَّا غُرُورًا
﴿٤ النساء ١٢٠﴾

شیطان کے وعدے محض فریب

وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں (120:4)

For such, their habitation will be hell, and they will find no refuge therefrom. (4:121)

أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا
﴿٤ النساء ١٢١﴾

ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے (121:4)

Those who turn back after the guidance has been manifested to them, Satan has seduced them, and gives them the rein (buoyed them up with false hopes). (47:25)

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ
﴿٤٧ محمد ٢٥﴾

جو لوگ راہ ہدایت واضح ہونے کے بعد ہٹھ دے کر پھر گئے یقیناً شیطان نے (انکا یہ فعل) ان کو مزین کر رکھا یا۔ اور انہیں ڈھیل (جھوٹی امید) دلائی۔ (25:47)

More Reference :

3:155	4:60	6:43
Page 705	576	252
8:48	12:42,100	17:64
698	985, 994	913
22:53,54	25:29	27:24
734	826	1076
29:38	59:16	114:4
935	750	1128

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٥٥ ٤ النساء: ٦٠
٦ الأنعام: ٤٣ ٨ الأنفال: ٤٨ ١٢ يوسف: ٤٢، ١٠٠، ١٠٠
١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٦٤ ١٨ الكهف: ٦٣
٢٢ الحج: ٥٣، ٥٤ ٢٥ الفرقان: ٢٩ ٢٧ النمل: ٢٤
٢٨ القصص: ١٥ ٢٩ العنكبوت: ٢٨ ٥٩ الحشر: ١٦
١١٤ الناس: ٤

مزيد حوالہ 3: 155 4: 60 6: 43
صفحہ 705 576 252
8: 48 12: 42, 100 17: 64 18: 63
698 985, 994 913 1058
22: 53, 54 25: 29 27: 24 28: 15
734 826 1076 1008
29: 38 59: 16 114: 4 38: 29
935 750 1128 935

ULTIMATE FATE OF THOSE
WHO ENLIST SATAN AS THEIR PATRON
(WHO OBEY AND FOLLOW HIM)

-----As for those who disbelieve, their patrons are false deities. They bring them out of light into darkness. Such are rightful owners of the Fire. They will abide therein forever. (2:257) PART

مصیراتخاذ الشيطان وليا

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمْ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
﴿٢ البقرة ٢٥٧﴾ جزء

شیطان سے دوستی کا انجام

..... اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (257:2) جزو

A group He has guided while the other have deserved the loss of their way for they choose the devils for protecting friends instead of Allah and deem that they are rightly guided. (7:30)

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ
إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ
اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهم مُّهْتَدُونَ
﴿١٧ الاعراف ٣٠﴾

ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھتے (یہ) ہیں کہ ہدایت یاب ہیں (30:7)

By Allah, We sent messengers to the nations before you but the devil made their deeds fair seeming to them. So he is their patron this day, and theirs will be a painful doom. (16:63)

His power is only over those who make him a friend and those who ascribe partners to Him (Allah). (16:100)

And, by your Lord, We shall assemble them and the devils, then we shall bring them, crouching, bound hell. (19:68)

Among mankind is he who disputes concerning Allah without knowledge, and follows each toward devil; (22:3)

Whom him it is decreed that whoso makes him as friend, he will mislead him and will guide him to the punishment of the Flame. (22:4)

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَّةٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَمِنْ لَّهُمْ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٦﴾

﴿١٦ النحل ٦٣﴾

اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلٰى الَّذِيْنَ يَتَوَلَوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ رِيْهٖ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٠﴾

﴿١٠٠ النحل ١٠٠﴾

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطٰنِ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿١٩﴾

﴿١٩ مريم ٦٨﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مُّرِيْدٍ ﴿٢٢﴾

﴿٢٢ الحج ٣﴾

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَاِنَّهُ يَضِلُّ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢٢﴾

﴿٢٢ الحج ٤﴾

اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار (ناشائستہ) ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے (63:16)

اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے (وسوسے کے) سبب (اللہ کے ساتھ) شریک مقرر کرتے ہیں (100:16)

تمہارے پروردگار کی قسم! ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے (اور وہ) گھٹنوں پر گرے ہوئے (ہوں گے) (68:19) اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ (کی شان) میں علم (ودانش) کے بغیر جھگڑتے اور شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں (3:22)

جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا (4:22)

Reference : 19:44,45 29:38 36:60to64 59:19 Page 946,947,943,383,141,847,296,297

المعزید راجع ١٩ مريم: ٤٤، ٤٥ ٢٩ العنكبوت: ٣٨ ٣٦ يس: ١٠٠ الى ١٠٤ ٥٨ المجادلة: ١٩ ٥٩ الحشر: ١٩

مزیّد حوالہ 19:58 64:60:36 38:29 45,44:19 297,296,847,141,383,943,947,946 صفحہ 19:59

SEEKING REFUGE WITH ALLAH(SWT) AGAINST SATAN

الاستعاذة بالله من نزع الشيطان

شیطان کے فریب سے اللہ کی پناہ مانگنا

And if a slander from the devil found you, then seek refuge in Allah. He is Hearer, Knower. (200)

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْرٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾

اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو۔ بے شک وہ سننے والا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے (200:7)

Those who ward off (evil), when a glamour from the devil troubles them, they do but remember (Allah) and are granted insight! (7:201)

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾

جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو (اللہ کی) یاد میں لگ جاتے ہیں اور (دل کی آنکھیں کھول کر) دیکھنے لگتے ہیں (201:7)

Their brothers plunge them further in error and cease not. (7:202)

وَ اِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

اور ان (کفار) کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر (اس میں کسی طرح) کوتاہی نہیں کرتے (202:7)

And say: My Lord! I seek refuge in You from suggestions of the evil one. (23:97)

وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ ﴿٢٣﴾

اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں (97:23)

And I seek refuge in You, my Lord, lest they be present with me, (208)

وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ﴿٢٣﴾

اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں (98:23)

And if a whisper from the devil reaches you then seek refuge in Allah. He is the Hearer, the Knower. (41:36)

وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْرٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٤١﴾

اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ بے شک وہ سنتا جانتا ہے (36:41)

Reference : 22:52,53 113:1 to 5 114 to 4 Page 178,734,1127,1128

المعزید راجع ٢٢ الحج: ٥٢، ٥٣ ١١٣ الفلق: ١ الى ٥ ١١٤ الناس: ١ الى ٤

مزیّد حوالہ 4:1:114 5:1:113 53,52: 22 1128, 1127, 734, 178 صفحہ

رزق

الرزق

SUSTENANCE - LIVELIHOOD
MEANS OF LIFE

SUSTENANCE OF ALL LIVING CREATURES
IS DUE FROM ALLAH(SWT)

And there is not a living creature in the earth but the sustenance thereof depends on Allah. He knows its habitation (time limit on earth) and its repository (resting place after death). All is in a Clear Record. (11:6)

رزق جميع المخلوقات على الله

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ﴿١١﴾
﴿١١ هود ٦﴾

تمام مخلوقات کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے وہ جہاں رہتا (قیام کرتا) ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا (دفن کیا) جانا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ (روشن) واضح کتاب میں (لکھا ہوا) ہے (6:11)

More Reference : 5:114 16:112
Page 1101 302
22:58 23:72 30:40 34:24,39 42:19,27
658 734 387 389,277 119,391
51:58 62:11
390 257

والمزید راجع ۵ المائدة: ۱۱۴ ۱۶ النحل: ۱۱۲
۲۲ الحج: ۵۸ ۲۳ المؤمنون: ۷۲ ۳۰ الروم: ۴۰
۳۴ سباء: ۲۴ ۴۲ الشوری: ۱۹ ۵۱ الذاریات: ۵۸
۶۲ الجمعة: ۱۱

مزید حوالہ 58:22 112:16 114:5
صفحہ 658 302 1101
27:19:42 39:24:34 40:30 72:23
119,391 389,277 387 734
11:62 58:51
257 390

ALLAH(SWT) ORIGINATES CREATION
AND PROVIDES SUSTENANCE

Is not He (best), Who begins with creation, then reproduces it, and Who provides for you from the heaven and the earth? Is there any god besides Allah? Say: Bring your proof, if you are truthful! (27:64)

Allah is He Who created you and then sustained you, next He will cause you to die, then gives life to you again. Is there any of your (so-called) partners (of Allah) who can perform anything like that? Praised and exalted be He above what they associate (with Him)! (30:40)

الخالق هو الرزاق

أَمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَعْمًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ طُغْيَانًا
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾
﴿٢٧ النمل ٦٤﴾

جس نے پیدا کیا وہی رزق دیتا ہے

بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا۔ پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے اور (کون) تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے اور (یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے) تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) کہہ دو کہ (مشرک) اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو (64:27)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ
ثُمَّ يُخَيِّدُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ
ذَلِكُمْ مِثْلَ شَيْءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾
﴿٣٠ الروم ٤٠﴾

اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تمہیں موت دے گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے (بنائے ہوئے) شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے۔ وہ پاک ہے اور (اس کی شان) ان کے شریکوں سے بلند و برتر ہے (40:30)

More Reference : 29:60 37:64
Page 387, 890

والمزید راجع ۲۹ العنکبوت: ۶۰ ۳۷ الصافات: ۶۴
الصفحة ۸۹۰, ۳۸۷

مزید حوالہ 64:37 60:29
صفحہ 890, 387

ANIMALS AND BIRDS DO NOT
CARRY THEIR PROVISION ALONG

And how many are the living creatures there, that do not bear their own provision! Allah provides for it and for you. He is the Alert and the Aware. (29:60)

الدواب والطيائر لا تحمل رزقها

وَكَايِنَ مِمَّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ
يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾
﴿٢٩ العنکبوت ٦٠﴾

تمام جانور اور پرندے اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے

اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے (60:29)

PROVISIONS OF ALLAH(SWT)
WILL NEVER EXHAUST

Surely this in truth is Our provision, which will never be used up. (38:54)

رزق الله لن ينفد

إِنَّ هَذَا الرِّزْقَ مَا لَمْ يَنْفَدِ
﴿٣٨ ص ٥٤﴾

اللہ تعالیٰ کا رزق کبھی ختم نہیں ہو سکتا

یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا (54:38)

More Reference : 16:96 Page 299

والمزید راجع ۱۶ النحل: ۹۶ الصفحة ۲۹۹

مزید حوالہ 96:16 صفحه 299

ALLAH(SWT) IS THE BEST WHO GRANTS SUSTENANCE FOR ALL HIS CREATURES

No doubt, He is the Best of all who make provision. (22:58) PART

More Reference : 5:114 23:72 34:39
Page 1101, 734, 277, 257

EVERY CREATURE DEPENDS ON ALLAH(SWT) FOR ITS NEED

All creatures that are in the heavens and the earth depend on Him. Every day He manifests Himself in another (wondrous) way. (55:29)

Reference : 15:23 19:40 21:89
Page 115, 822, 1087

ALLAH(SWT) PROVIDES FROM SUCH SOURCES THAT ONE CAN NEVER ANTICIPATE OR IMAGINE

He will provide for him from (a source) he has no expectation. And whosoever puts his trust in Allah, He will suffice him. Surely Allah will accomplish His purpose. Allah has appointed a due proportion. (65:3)

Reference : 3:37 4:110 5:114
Page 1092, 313, 1101

ALLAH(SWT) SUSTAINS OUT OF HEAVENS AND EARTH

So (to them, O Muhammad): Who provides for you from the heavens and the earth, or Who controls your hearing and sight; and Who brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living; and Who regulates all affairs? They will say: Allah (Alone) Then say: Will you not then become (fully) conscious of Him)? (10:31)

Such then is Allah, your rightful Lord. After the Truth what remains but there error? How then are you turned away! (10:32)

PHYSICAL AND SPIRITUAL SUSTENANCE IS IN THE HEAVENS

O mankind! Remember the Grace of Allah towards you! Is there any creator other than Allah, Who provides for you from the heavens and the earth? There is no god except Him. How then are you perverted? (35:3)

والله خير الرازقين

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾
﴿٢٢ الحج ٥٨﴾ جزء

والمزيد راجع ٥ المائدة: ١١٤ ٢٣ المؤمنون: ٧٢
٣٤ سباء: ٣٩ ٦٢ الجمعة: ١١

كل حي يحتاج إلى الله في متطلباته

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥ الرحمن ٢٩﴾

والمزيد راجع ١٥ الحجر: ٢٣ ١٩ مريم: ٤٠
٢١ الأنبياء: ٨٩ ٢٢ الحج: ٥٨ الصفحة ١١٥، ٨٢٢، ١٠٨٧

مصادر الرزق وراء إدراك الناس

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٦٥﴾
﴿٦٥ الطلاق ٣﴾

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ٢٧ ٤ النساء: ١١٠
٥ المائدة: ١١٤ الصفحة ١٠٩٢، ٣١٣، ١١٠١

هو الرازق في خبايا الأرض و آفاق السماء

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَتَنْتَهِمُ أَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمُورَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠﴾
﴿١٠ يونس ٣١﴾

قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتُمْ تُصِرُّونَ ﴿٣٢﴾
﴿١٠ يونس ٣٢﴾

وفي السماء رزقكم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٥﴾
﴿٣٥ فاطر ٣﴾

اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا

اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (58:22) جزو

المزيد راجع 5 المائدة: 114 23:72 34:39
صفحة 11:62 257, 277, 734, 1101

ہر ذی روح اپنی ضروریات کے لئے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں۔ وہ ہر روز ایک شان میں ہے (29:55)

المزيد راجع 15:23 19:40 21:89
صفحة 1087, 822, 115

اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہم و گمان تک نہ ہو

اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے (وہم و گمان) بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اسکو کافی ہو گا اللہ اپنے کام کو (جو وہ کرنا چاہتا ہے) پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے (3:65)

المزيد راجع 114:5 110:4 37:3
صفحة 1101, 313, 1092

اللہ تعالیٰ زمین کی پنہائیوں اور آسمانوں کی وسعتوں سے رزق دینے والا

(ان سے) پوچھے کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون پہنچاتا ہے یا (تمہارے) کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ پھر تم (اللہ سے) ڈرتے کیوں نہیں (31:10)

یہی تو تمہارا پروردگار برحق ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا؟ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ (32:10)

آسمانوں میں رزق

اے لوگو اللہ کے جو تم پر احسان (انعام) ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق (اور رازق) ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں بے پھرتے ہو (3:35)

Say: Who gives you provision from the heavens and the earth? Say: Allah. No doubt we either you assuredly are rightly guided or in error manifest. (34:24)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ أَيْنَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٤﴾

چھنے کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے۔ اور (خود) جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ (سنو) تم یا تم یا تو یقیناً سیدھے راستے پر ہیں یا کھلی گمراہی میں (24:34)

He is the only Who shows you His portents, and sends down for you provision from the heaven. None pays heed except him who turns (to Him) repentant. (40:13)

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنزِلُ لَكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

ی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف (رجوع کرتا ہے) (13:40)

And in the heaven is (the source of) your providence (on earth) and that which you are promised; (51:22)

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے (22:51)

And by the Lord of the heavens and the earth, it is the truth, even as (it is true) just the same as you have been uttering? (51:23)

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِمَّا كُنتُمْ
تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾

اور آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ (اسی طرح) حق ہے جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو (23:51)

More Reference : 10:31 14:32 37:64
Page 388, 341, 390

والمزید راجع ۱۰ یونس: ۳۱ ۱۴ ابراہیم: ۲۲
۳۷ الصافات: ۶۴

مزید حوالہ 31:10 32:14 64:37
صفحہ 388, 341, 390, 391

ALLAH (swt) HAS MADE THE EARTH
SUBSERVIENT (TO DO AGRICULTURE
ON IT AND GET SUSTENANCE)

الرزق بحرث الأرض

زمین میں (زراعت کے ذریعہ) رزق

He is the One Who has made the earth subservient to you (to be developed by you), so walk along it by ways and eat of His providence. And to Him will be the Resurrection (of the dead). (67:15)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا
فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

ی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم (پست) (مطیع) کیا تو اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کا (دیا ہوا) رزق کھاؤ اور (تم کو) اسی کے پاس (قبروں سے) نکل کر جانا ہے (15:67)

More Reference : 7:10 16:13 32:27 41:39
56:63,64,65,66,67
Page 300, 356, 352

والمزید راجع ۷ الأعراف: ۱۰ ۱۶ النحل: ۱۳
۳۲ السجدة: ۲۷ ۴۱ حم السجدة (صلت): ۲۹
۵۶ الواقعة: ۶۳, ۶۴, ۶۵, ۶۶, ۶۷

مزید حوالہ 7:10 13:16 27:32 10:7
56:63,64,65,66,67 39:41
صفحہ 352, 356, 300

TREASURES OF SUSTENANCE
IN THE OCEANS AND RIVERS

خزائن الرزق في البحار

سندروں اور دریاؤں میں رزق کے خزانے

For Detail Consult : 16:14 45:12 55:21,22
Page 342
Consult Chapter : Oceanology

والتفصیل راجع ۱۶ النحل: ۱۴ ۴۵ الجاثية: ۱۲
۵۵ الرحمن: ۲۲, ۲۱: الصفحة ۳۴۲
والتفصیل راجع : علم البحريات

تفصیل کیلئے دیکھئے 14:16 22:21:55 12:45 14:16
صفحہ 342
دیکھئے باب : علم بحريات

ALLAH (swt) MAY ENLARGE OR STRAITEN
PROVISION OF SUSTENANCE AS HE WISHES

بسط الرزق و قدره بيد الله عز وجل

رزق میں کمی بیشی پر اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے

You make the night grow longer by shortening the day and You make the day grow longer by shortening the night. And You forth the living from the dead, and You bring forth the dead from the living. And You grant sustenance to whom You choose, beyond all reckoning (3:27)

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَخِّرُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے (27:3)

And Allah has bestowed His gifts of sustenance more freely on some of you above others. Now those who are more favoured will by no means hand over their provision to those (slaves) whom their right hands possess, so that they may be equal with them in respect thereof. Is it then the grace of Allah that they deny? (16:71)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ
فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَاءُوا مِن رِّزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمَا فِيهِ سَوَاءٌ أَقْبِنَعْمَا
اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

اور اللہ نے رزق (دولت) میں بعض کو بعض پر برتری دی ہے تو جن لوگوں کو برتری دی ہے وہ اپنا رزق اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ (71:16)

No doubt your Lord enlarges the provision for whom He pleases, and straitens (it for whom He wills). Surely, He is ever Knower, Observant of His slaves. (17:30)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ۳۰﴾

بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور (جس کی روزی چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور (ان کو) دیکھ رہا ہے (30:17)

Allah extends the provision for whom He wishes of His bondmen, and measures it out for whom (He wills). Surely Allah is Aware of all things. (29:62)

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٦٢﴾

اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے (62:29)

Do they not aware that Allah enlarges the provision for whom He wills, and gives it in scant measure for whom He wills). Herein indeed are messages for folk who believe. (37:30)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٠ الروم ٣٧﴾

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور (جس کی لئے چاہتا) تنگ کرتا ہے بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لئے نشانیاں ہیں (37:30)

(O Muhammad): Surely my Lord enlarges the provision for whom He pleases and restricts it for whom He wills). But most of mankind know not. (34:36)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾
﴿٣٤ سبا ٣٤﴾

کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور (جس کی لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (36:34)

Know they not that Allah provides ample subsistence for whom He wills and straitens it (for whom He wills). Herein are tokens for people who believe. (39:52)

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾
﴿٣٩ الزمر ٥٢﴾

کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کیلئے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں (52:39)

Allah is gracious to His slaves. He provides for whom He wills. And He is the Strong, the Mighty. (41:19)

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾
﴿٤٢ الشوری ١٩﴾

اللہ ہی اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اور وہ زور والا (اور) زبردست ہے (19:42)

Surely Allah! He is the One Who gives livelihood, the Lord of wielding sturdy strength. (51:58)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ﴿٥٨﴾
﴿٥١ الذریت ٥٨﴾

اللہ ہی تو رزق دینے والا زور آور (اور) مضبوط ہے (58:51)

That the People of the Scripture may know that they have no power over the Grace of Allah, but that the Grace is in Allah's hand to bestow on whom He wills. And Allah is of infinite bounty (Grace). (57:29)

لَعَلَّآ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ الْآيِقْدِرُونَ عَلَى
شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾
﴿٥٧ الحديد ٢٩﴾

(یہ باتیں) اس لیے (بیان کی گئی ہیں) کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے۔ اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے (29:57)

That the bounty of Allah; which He gives to whom He wishes. Allah is of infinite bounty. (62:4)

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾
﴿٦٢ الجمعة ٤﴾

یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے (4:62)

More Reference : 2:212,245,261 3:37 13:26
Page 215,268,274 1092 431
24:38 8:82 34:39 42:12 39:37
392 3032 277 327 148

مزیں حوالہ 261,245,212:2 26:13 37:3 261,245,212:2
صفحہ 431 1092 215,268,274
۱۳ الرعد ۲۶: ۲۴ النور ۳۸: ۲۸ القصص ۸۲:
۳۴ سباء ۳۹: ۴۲ الشوری ۱۲: ۳۹ الزمر ۳۷:
148 327 277 1032 392

METHODOLOGY IN PROPORTIONING OUT LIVELIHOOD BY RAISING SOME PEOPLE HIGHER IN RANK THAN OTHERS

Is it they who apportion your Lord's mercy? We have apportioned among them their livelihood in the life of the world, and raised some of them above others in rank that some of them may take labour from others; and the mercy of your Lord is better than (the wealth) that they amass. (43:32)

الحكمة في كون المعيشة غير متساوية

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾
﴿٤٣ الزخرف ٣٢﴾

رزق کی درجہ بندی (سب کو رزق یکساں فراہم نہ کرنے) میں حکمت

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی روزی کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کو دوسرے پر بلند درجہ دیا تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے (32:43)

PHILOSOPHY IN NOT ENLARGING THE PROVISIONS TO ALL HUMANKIND

And if Allah were to enlarge the provision for His slaves, they would Surely rebel in the earth, but He sends down by measure as He wishes Surely He is Informed and Observant of His bondmen. (42:27)

حکمة الله في عدم بسط الرزق

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾
﴿٤٢ الشورى ٢٧﴾

سب انسانوں پر برابر رزق فراخ نہ کرنے کی حکمت الہی

اور اگر اللہ اپنے (سب) بندوں کے لئے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے۔ لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے ایک اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا (اور) دیکھتا ہے (27:42)

ENOUGH PROVISIONS FOR ADAM AND HAWWA (PBUH) FOR THEY NOT TO GO HUNGRY NOR NAKED NEITHER SUFFER SUNSTROKE

It is (vouchsafed) to you that you neither go hungry nor to go naked. (20:118)

And you will neither suffer from thirst there nor exposed to the sun's heat. (20:119)

زود آدم عليه السلام وحواء بالحوائج الأساسية الحياة

إِنَّ لَكَ الْآلَةَ جُوعًا فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾
وَأَنْتَ لَا تَطْمَئِنُّ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

حضرت آدم اور حوا کو تمام بنیادی ضروریات (روٹی - کپڑا - مکان) مہیا کی گئیں

یہاں تم کو یہ (آسائش) ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ تنگے اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ جھیلو (119:20)

INEXHAUSTIBLE TREASURES OF EVERY THING ARE WITH ALLAH (SWT) AND HE SENDS DOWN IN DUE AND ASCERTAINABLE MEASURES

And there exists no single thing but with Us are the stores (sources) thereof. And We bestow it not down except in well defined measure. (15:21)

ينزل الله كل شيء بمقدار مناسب من خزائنه

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾
﴿١٥ الحجر ٢١﴾

اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور انہیں مناسب مقدار میں اتارتا ہے

اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو مناسب مقدار سے اتارتے رہتے ہیں (21:15)

NO ONE HAS POWER OF PROVIDING SUSTENANCE EXCEPT ALLAH (SWT)

And they worship instead of Allah those who own no provision whatsoever for them from the Heavens or the Earth, nor they (whom they worship) can do anything. (16:73)

لا رازق إلا الله

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّن السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾
﴿١٦ النحل ٧٣﴾

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں

اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ (کسی اور طرح کی) کچھ قدرت رکھتے ہیں (73:16)

More Reference : 10:31 11:6 16:112 30:40 29:17 27:64 Page 388, 387, 302

والمزید راجع ۱۰ ایلیس ۳۱ ۱۱ ہود ۶: ۱۶ النحل ۱۱۲ ۲۷ النمل ۶۴ ۲۹ العنکبوت ۱۷ ۳۰ الروم ۴۰ الصلوة ۲۰۲، ۲۸۷، ۲۸۸

مزید حوالہ 112:16 6:11 31:10 40:30 17:29 64:27 صفحہ 302, 387, 388

WHO IS THERE TO PROVIDE FOR YOU IF ALLAH(SWT) WERE TO WITHHOLD HIS PROVISIONS

ان أمسك الله الرزق، فلا رزق غيره

اگر اللہ تعالیٰ رزق بند کر دے تو کون ہے؟ جو رزق دے

Or who is he that will provide for you if He stops providing (for you) His providence? But they are set in pride and frowardness. (67:21)

اَكُنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَكَ
بَلْ لَجَّوْا فِي عُتُوٍّ وَنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾
﴿٦٧ الملك ٢١﴾

اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ یہ کافر سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں (21:67)

ALL MANKIND STAND IN NEED OF ALLAH (SWT) BUT ALLAH(SWT) IS FREE OF ALL WANTS

الغنى هو الله وأما الناس فهم الفقراء اليه

اللہ تعالیٰ غنی ہے اور سب مخلوق فقیر (سب اسی ذات کے محتاج ہیں)

Detail Consult : Page 128

وللتفصيل راجع الصفحة ١٢٨

تفصیل کیلئے دیکھیے صفحہ 128

ALLAH(SWT) SHOWERS ALL KIND OF BLESSINGS UPON HIS OWN FOLK WHO BELIEVE AND FEAR HIM

الأعمال الصالحة مستوجبة للبركات وبسط الرزق

اعمال صالحہ ذریعہ فراخی رزق

en, as for those who attained faith and did good deeds, He will grant to them their wages in full. Giving to them yet more out of His bounty;----- (4:173) PART

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ-----
﴿٤ النساء ١٧٣﴾ جزء

تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے (کچھ) زیادہ بھی عنایت کرے گا۔----- (173:4) جزو

And if the people of the townships had believed and kept away from evil, surely We would have opened for them blessings from the Heavens and from the Earth. But (to every messenger) they gave the lie, and so We seized them on account of what they used to earn. (7:96)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾
﴿١٧ الاعراف ٩٦﴾

اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلایا۔ سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا (96:7)

The Allah may reward them with the best of what they did, and increase reward for them of His bounty. Allah gives blessings without stint to whom He wills. (2:38)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾
﴿٢٤ النور ٣٨﴾

تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے۔ اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے (38:24)

Allah responds (the supplication of) those who do righteous deeds and give increase to them of His bounty. And as for disbelievers, they will be an awful doom. (42:6)

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٤٢﴾
﴿٤٢ الشورى ٢٦﴾

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے (26:42)

If they (the idolaters) tread the right path We shall give them to drink water in abundance. (72:16)

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ
مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾
﴿٧٢ الجن ١٦﴾

اور (اے پیغمبر) یہ (بھی ان سے کہہ دیجئے) کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کو پینے کو بہت سا پانی دیتے (16:72)

That we may test them thereby, and who turns away from the remembrance of his Lord, He will thrust him into ever-growing torment. (72:17)

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ
سَلَّمَ عَذَابًا مَّصَدًّا ﴿١٧﴾
﴿٧٢ الجن ١٧﴾

تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا (اللہ) اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا (17:72)

**ALLAH(SWT) BRANDED MISERY OVER THEM WHO
DISOBEYED AND ACTED AGGRESSIVE**

Ignominy shall be their portion wherever they are found except (where they grasp) a rope from Allah and a rope from men. They have earned anger from their Lord, and humiliation is laid upon them. That is because they used to disbelieve the revelations of Allah, and slew the Prophets wrongfully. That is because they were rebellious and used to transgress. (3:112)

More Reference : 6:42,43 16:112
Page 393, 302

**SUFFERING AND ADVERSITY MAY BE
A TRIAL SO THAT PEOPLE MIGHT
CALL IN HUMILITY**

And never yet have We sent a prophet to any community without trying its people with misfortune and hardship so that they might humble themselves. (7:94)

We sent (word) to nations before you and seized them with suffering and hardship so that they might act submissively. (6:42)

Why then did they not act submissively when Our violence came to them, but instead their hearts were hardened and Satan made whatever they were doing seem attractive to them? (6:43)

More Reference : 2:155 Page 298

**ALLAH(SWT) GRANTS RELIEF
AFTER HARDSHIP.**

Let him who has abundance spend of his means, and he whose income is budgeted let him spend of that which Allah has given him. Allah asks nothing of any soul except that which He has given it. Allah will vouchsafe ease following, hardship. (65:7)

More Reference : 94:4,5 Page 166,371

AUSPICIOUSNESS OF LAWFUL EARNING

For Detail Consult : 2:57,60,172 5:88 6:142
Page 1044,1043,450 499 499
7:160 16:72,114 17:70 40:64 45:16
1044 443,450 404 325 597

VISITATION OF ILLICIT LIVELIHOOD

For Detail Consult: 2:188 20:81
Page 485, 501

ربما تكون معصية الله سبباً
للجوع و النقصان في الرزق

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ إِنَّ مَا تُلْقُونَ إِلَّا مَحْبِلٌ
مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا وَيَغَضِبَ
مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ
يَا نَهْمُ كَانُوا يَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ سُبُلَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾
﴿٣ آل عمران ١١٢﴾

وللمزيد راجع ٦ الأنعام: ٤٢، ٤٣، ١٦ النحل: ١١٢:
الصفحة ٣٠٢، ٣٩٣

العسر، النقصان في الرزق
من بلاء التأديب

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا
أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٩٤﴾
﴿١٧ الاعراف ٩٤﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَا
بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾
﴿٦ الأنعام ٤٢﴾

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ
قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾
﴿٦ الأنعام ٤٣﴾

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٥٥: الصفحة ٢٩٨

يأتي اليسر بعد العسر

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾
﴿٦٥ الطلاق ٧﴾

وللمزيد راجع ٩٤ الشرح: ٥٤: الصفحة ٣٧١، ١٦٦

بركات كسب الحلال

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٥٧، ١٧٢، ٥ المائدة: ٨٨:
١٦ الأنعام: ١٤٢ ١٧ الاعراف: ١٦٠ ١٦ النحل: ١١٤، ٧٢:
١٧ الإسراء: (١٧٠: ٧٠) ٤٠ المؤمنون (عافر): ٦٤:
٤٥ الجنائي: ١٦:

وبال كسب الحرام

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٨٨ ٢٠ طه: ٨١:
الصفحة ٥٠١، ٤٨٥

احكامات الهية کی نافرمانی
رزق میں کمی کی وجہ بن سکتی ہے

یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت (کو دیکھو گے کہ) ان سے چٹ رہی ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ اللہ اور (مسلمان) لوگوں کی پناہ میں آجائیں اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور (اس کے) پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ ان نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ (112:3)

مزید حوالہ 43,42:6 112:16
صفحہ 302, 393

عسرت / تنگ دستی / رزق میں کمی
بوجہ اعمال اور ذریعہ آزمائش

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو۔ اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ (94:7)

اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تا کہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ (42:6)

سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ (43:6)

مزید حوالہ 2: 155 صفحہ 298

تنگی کے بعد کشائش

صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے اب اللہ تنگی کے بعد کشائش (آسانی اور فراغت) بخشنے کا (7:65)

مزید حوالہ 5,4: 94 صفحہ 371, 166

رزق حلال کی برکتیں

تفصیل کیلئے دیکھئے
صفحہ 142:6 88:5 172,60,57:2
499 499 1044,1043,450
16:45 64:40 70:17 114,72:16 160:7
597 325 404 443,450 1044

حرام روزی کا وبال

تفصیل کیلئے دیکھئے
صفحہ 81:20 188:2
501, 485

SUPPLICATION FOR ENLARGEMENT OF SUSTENANCE

For Detail Consult : 3:27 5:114
Page 1126, 1101

الأدعية لبسط الرزق

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ١١٤ ٣ آل عمران: ٢٧
الصفحة ١١٢٦، ١١٠١

کشائش رزق کے لئے دعا

تفصیل کیلئے دیکھئے
صفحہ 1101, 1126
27:3 114:5

BE GRATEFUL (PAY THANKS) TO ALLAH(SWT) FOR PROVIDING YOU SUSTENANCE

For Detail Consult : 2:172 8:26 14:37 29:17
34:15 Page 450, 656, 955, 949, 1114

أشكرو الله على بسط الرزق

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٧٢ ٨ الأنفال: ٢٦
١٤ إبراهيم: ٣٧ ٢٩ العنكبوت: ١٧ ٣٤ سباء: ١٥

رزق کے عطا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو

تفصیل کیلئے دیکھئے
صفحہ 1114, 949, 955, 656, 450, 15:34
17:29 37:14 26:8 172:2

EMBRYOLOGY

CREATION OF HUMANKIND

**عالم الجنین
عالمی الإنسان**

**عالم الجنین
عالمی الإنسان**

FACTS ABOUT CREATION OF HUMANKIND

CREATION OF HUMANKIND IS NO MORE DIFFICULT FOR ALLAH(SWT) THAN TO CREATE THE UNIVERSE

Then ask them are they stronger as a creation, or all those (others) whom We have created? We have created them of plastic clay. (37:11)

Assuredly the creation of the heavens and the earth is greater than the creation of mankind; but most of mankind do not realize it. (40:57)

Are you more difficult to create, or the heaven that Allah have originated? (79:27)

Reference :	7:11	15:33	17:61	22:5
Page	908	908	908	397
12:12	30:20	40:67	53:32	77:20
94	443	397	120	395
5:5,6,7	96:2			
395	396			

BIOLOGICAL CONSTITUENTS (ORGANIC AND INORGANIC SUBSTANCE) OF HUMAN BODY

We created man from sounded clay of black mud moulded into shape, (26:26)

And (remember) when your Lord said to the angels: I am creating a mortal out of ringing clay of black mud moulded into shape. (15:28)

We created man from an extract of clay; (23:12)

Who made all things so fine which He created, and He began the creation of human being from clay; (37:7)

That He made his race from an extract of discarded liquid. (32:8)

حقیقۃ الإنسان

ليس خلق الانسان اكبر من خلق السموت والارض

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا
إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴿٣٧﴾
الصفحة ١١

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾
المؤمن ٥٧

إِن تَتَمَّ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بِدُهَا ﴿٧٩﴾
الزمر ٧٩

المعزى راجع	٧ الأعراف: ١١	١٥ الحجر: ٣٣
الإسراء (بمصرائيل): ٦١	٢٢ الحج: ٥	٢٣ المؤمنون: ١٢
٢٠ الروم: ٢٠	٤٠ المؤمنون (غافر): ٦٧	٥٣ النجم: ٢٢
٧٧ المرسلات: ٢٠	٨٦ الطارق: ٧٠	٩٦ العلق: ٢٠

مقومات الإنسان البيولوجية

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿١٥﴾
الحجر ١٥

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾
الحجر ٢٨

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿٢٣﴾
المؤمنون ٢٣

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾
السجدة ٧

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْطَةٍ مِنْ تَمَّعِينَ ﴿٨﴾
السجدة ٨

حقیقت انسان (رموز تخلیق نبی آدم)

تخلیق انسان اللہ تعالیٰ کے لئے تخلیق ارض و سہاوت سے بڑا کام نہیں

توان (کافروں) سے پوچھئے کہ ان کا بنانا مشکل کام ہے یا جتنی مخلوق ہم نے بنائی ہے ان کا؟ انہیں ہم نے لیس دارٹی سے بنایا ہے (11:37)

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یقیناً انسان کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا (کام) ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (57:40)

بھلا تمہارا پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا (27:79)

مزیں حوالہ	11:7	33:15	61:17	5:22
صفحہ	908	908	908	397
12:23	20:30	67:40	32:53	20:77
394	443	397	120	395
7,6,5:86	2:96			
402,395	396			

انسان کے حیاتیاتی اجزائے ترکیبی

اور ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھٹھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (26:15)

اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کالی اور سڑی ہوئی کھٹھناتی مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں (28:15)

اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے (12:23)

جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا (یعنی) اس کو پیدا کیا۔ اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا (7:32)

پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کی (8:32)

He created man of ringing clay like the potter's, (55:14)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾
﴿٥٥ الرحمن﴾

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھٹکتاتی مٹی سے بنایا (14:55)

More Reference : 7:11,12 15:26,28,33
Page 908 906,908
17:61 18:37 22:5 35:11 37:11
908 1112 397/402 399 394
38:71,76 40:67 96:2
906 397 396

والمزید راجع ۷ الأعراف: ۱۱، ۱۲ ۱۵ الحجر: ۲۶، ۲۸، ۲۹ ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل): ۶۱ ۱۸ الکہف: ۳۷ ۲۲ الحج: ۵ ۳۵ فاطر: ۱۱ ۳۷ الصافات: ۱۱ ۳۸ ص: ۷۱، ۷۲ ۴۰ المؤمنون (غافر): ۶۷ ۹۶ العلق: ۲
والتفصیل راجع باب خلق آدم الصفحة ۹۰۶

مزید حوالہ 7:11,12 15:26,28,33 12,11:7
صفحہ 908 908,906 908
61:17 33,28,26:15 76,71:38 11:37 11:35 5:22 37:18
908 906 394 399 402/397 1112
2:96 67:40
396 397
مطالعہ باب تخلیق آدم صفحه 906

Consult Chapter of Creation of Adam

PROCESS OF REPRODUCTION FOR CONTINUANCE OF HUMAN RACE

سلسلہ التوالد والتناسل

سلسلہ بقائے نسل انسانی

SEXUAL COUPLES MALE AND FEMALE PAIR OF LIVING BEINGS

خلق الزوجین - الذکر والانثی

مرد اور عورت کی طرح تمام جانداروں کا جوڑا (نر اور مادہ)

And that He creates both sexes, the male and the female, (53:45)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٤٥﴾
﴿٥٣ النجم﴾

اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا ہے (45:53)

And made of him into pair of sexes, the male and female. (75:39)

فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾
﴿٧٥ القيامة﴾

پھر اس میں جوڑے بنائے یعنی نر اور مادہ (93:75)

More Reference : 39:6 Page 397

والمزید راجع ۳۹ الزمر: ۶ الصفحة ۳۹۷

مزید حوالہ 39:6 صفحه 397

HUMAN CREATED OUT OF SEMINAL FLUID (EJECTED FROM THE LOINS OF MAN AND THE PELVIC ARCH OF WOMAN)

خلق الانسان من سلاله من ماء مهين

بارور رقیق مادہ (سے انسان کی پیدائش)

Then He made his seed from a draught of despised fluid; (32:8)

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَّةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾
﴿٣٢ السجده﴾

پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کی (8:32)

Did We not create you from a despicable fluid? (77:20)

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٠﴾
﴿٧٧ المرسلات﴾

کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا (20:77)

He is created from an ejected fluid (86:6)

خَلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾
﴿٨٦ الطارق﴾

وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے (6:86)

That comes out between the backbone (the loins of man) and ribs (the pelvic arch of woman). (86:7)

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾
﴿٨٦ الطارق﴾

جو (مرد کی) پیٹھ اور (عورت کے) سینے (کی ہڈیوں) کے درمیان سے نکلتا ہے (7:86)

More Reference : 7:189 16:4 22:5
Page 398 409 397/402
23:13 35:11 40:67 53:46 75:37
396 399 397 396 396
76:2
396

والمزید راجع ۷ الأعراف: ۱۸۹، ۱۹۰ ۱۶ النحل: ۴ ۲۲ الحج: ۵ ۲۳ المؤمنون: ۱۳ ۳۵ فاطر: ۱۱ ۴۰ المؤمنون (غافر): ۱۷ ۵۳ النجم: ۴۶ ۷۵ القيامة: ۳۷ ۷۶ الدهر (الإنسان): ۲

مزید حوالہ 7:189 16:4 22:5 13:23 5:22 4:16 189:7
صفحہ 398 409 398
23:13 35:11 40:67 53:46 75:37 2:76 37:75 46:53 67:40 11:35
396 396 396 397 399

EVOLUTION OF EMBRYO FERTILIZATION OF OVUM BY THE SPERM SEMEN DROP INTERMINGLED WITH FEMALE OVUM

نطفہ امشاج فی الرحم

مرد اور عورت کا مخلوط نطفہ

We have created man from a drop of (semen) thickened fluid to test him; so We make him alert and observant. (76:2)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴿٢﴾
تَبَعِيَةٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾
﴿٧٦ الدهر﴾

ہم نے انسان کو مخلوط (ملے جلے) نطفہ سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا (2:76)

More Reference : 7:189 16:4 22:5
Page 398 409 397/402
23:13 32:8 35:11 40:67 53:46
396 394 399 397 396
56:58,59 75:37
399 396

والمزید راجع ۷ الأعراف: ۱۸۹، ۱۹۰ ۱۶ النحل: ۴ ۲۲ الحج: ۵ ۲۳ المؤمنون: ۱۳ ۳۲ السجدة: ۸ ۳۵ فاطر: ۱۱ ۴۰ المؤمنون (غافر): ۱۷ ۵۳ النجم: ۴۶ ۵۶ الواقعة: ۵۸، ۵۹ ۷۵ القيامة: ۳۷

مزید حوالہ 7:189 16:4 22:5 13:23 5:22 4:16 189:7
صفحہ 398 409 398
23:13 32:8 35:11 40:67 53:46 59,58:56 46:53 67:40 11:35 8:32
396 394 399 397 399 394 37:75
396

**GROWTH OF FOETUS IN MOTHER'S WOMB
TURNING OF SEMEN INTO CLOT**

Then placed him as a drop (of semen) in a safe enclosure. (23:13)

From a sperm drop when it is ejected lodged (in its place); (53:46)

Was he not once a drop of sperm, which gushed forth? (75:37)

More Reference : 22:5 32:8 35:11
Page 397/402 394 399

39:6 56:58,59 77:20
197 399 395

خلق الجنين في رحم الأم

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾
﴿٢٣ المومنون ١٣﴾

مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴿٤٦﴾
﴿٥٣ النجم ٤٦﴾

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيِّ يُمْنَى ﴿٣٧﴾
﴿٧٥ القيامة ٣٧﴾

والمزيد راجع ٢٢ الحج: ٥ ٣٢ السجدة: ٨
٣٥ فاطر: ١١ ٣٩ الزمر: ٦ ٥٦ الواقعة: ٥٨، ٥٩
٧٧ المرسلات: ٢٠

رحم مادر میں جنین کی پرورش

پھر اس کو ایک مضبوط (اور محفوظ) جگہ میں نطفہ بنا کر قرار دے دیا (13:23)

(یعنی) نطفے سے جو (رحم میں) ڈالا (پکایا) جاتا ہے (46:53)

کیا وہ منیٰ کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ (37:75)

مزید حوالہ 22:5 32:8 35:11
صفحہ 397/402 394 399
20:77 59,58:56
395 399

**TURNING CLOT INTO TISSUE
AND MAKING IT
EITHER MALE OR FEMALE SEX**

When it became a leach like clot then (Allah) shaped and fashioned in due proportion. (75:38)

And made of him into two sexes, the male and female. (75:39)

Created man from a clot. (96:2)

**كون العلقه مضغاً
خلق الذكر والانثى**

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣٨﴾
﴿٧٥ القيامة ٣٨﴾

فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾
﴿٧٥ القيامة ٣٩﴾

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
﴿٩٦ العلق ٢﴾

**لہو کے لو تھڑے سے بوٹی کا بننا
اور نر یا مادہ جنس کی بناوٹ**

پھر وہ لہو کا لو تھڑا ہوا پھر (اللہ نے) اس کو بنایا۔ پھر (اس کے اعضاء کو) درست کیا (38:75)

پھر اس کے جوڑے بنائے (ایک) مرد اور (ایک) عورت (39:75)

جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے بنایا (2:96)

**TURNING TISSUE INTO BONES
AND CLOTHING OF BONE WITH FLESH
FORMATION OF LIMBS GRADUALLY
SHAPING INTO SHAPE IN DUE PROPORTION**

When We made the sperm into a clot of blood next We turned the clot into a fetus lump) and then turned the lump into bones and clothed the bones with flesh. And then produced out of it new creation. So Praise be Allah, the Best of Creators! (23:14)

كسوة العظام لحما

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾
﴿٢٣ المومنون ١٤﴾

**لو تھڑے سے ہڈیوں کا بننا
اور پھر ہڈیوں پر پوست چڑھادیا جانا**

پھر نطفے سے جسے ہوئے خون کا لو تھڑا بنایا۔ پھر لو تھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا تو گوشت کے ٹکڑے کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت (پوست) چڑھایا۔ پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے (14:23)

Reference : 22:5 40:67 Page 397/402

والمزيد راجع ٢٢ الحج: ٥ ٤٠ المومنون (غافر): ٦٧

مزید حوالہ 22:5 40:67 صفحہ 397/402

**DIVINE SPIRIT IS POURED
(BREATHING STARTS)
INDIVIDUAL'S LIFE COMES INTO EXISTENCE**

نفخ الروح وبداية خفقان القلب

**روح کا پھونکا جانا اور
دل کی دھڑکن کا شروع ہونا**

**ENDOWMENT OF FACULTIES OF
HEARING - EYESIGHT AND FEELINGS
AS WELL AS OF MIND**

إعطاء قوة السمع والبصر والحس

**سننے۔ دیکھنے اور محسوس کرنے کی
قوت کا عطا کیا جانا**

Allah brought you out of the wombs of your mothers, and you knew nothing, and gave you hearing and eyesight and hearts (vital organs) that you might have cause to give thanks. (16:78)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾
﴿١٦ النحل ٧٨﴾

اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل (اور ان کے علاوہ اعضاء) عطا کئے تاکہ تم شکر کرو (78:16)

Then He fashioned him and breathed into him of His spirit; and gave you the faculties of hearing and eyesight and hearts (vital organs). Yet you are seldom thankful. (32:9)

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

پھر اس کو درست کیا پھر اس میں اپنی (طرف سے) روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے (مگر) تم بہت کم شکر کرتے ہو (9:32)

﴿٢٢ السجده ٩﴾

More Reference : 22:5 76:2

Page 397/402, 395

وللمزيد راجع ٢٢ الحج: ٥ ٧٦ الدهر (الإنسان): ٢٠

الصفحة ٣٩٥، ٤٠٢/٣٩٧

زيد حوالہ 2:76 5:22

صفحہ 395, 402/397

**STAGES OF EMBRYONIC DEVELOPMENT
THREE FOLD DEPTHS OF DARKNESS
(COVERING UNBORN CHILD)
THE CAUL (MEMBRANE) - THE WOMB
AND THE PRENATAL (HOLLOW)**

He created you all from a single soul, then from that (being) He made like nature mate; and He has provided for you cattle of eight kinds. He created you in the wombs of your mothers, one act of creation following upon another creation, in a threefold gloom veils of darkness. Such is Allah, your Lord. His is the Sovereignty. There is no god save Him. How then you disregard Him? (39:6)

مدارج خلق الانسان
فی بطن الام فی ظلمت ثلاث

انسان کی تخلیق کے مدارج
ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں رہنا

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآيَ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

اسی نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لئے چوپایوں میں سے آٹھ نر اور مادہ جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں (پہلے) ایک طرح کی بناوٹ پھر دوسری طرح کی بناوٹ تین اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بے جاتے ہو (6:39)

﴿٣٩ الزمر ٦﴾

**STAGES OF HUMANKIND
PHYSICAL GROWTH
(FROM NOTHING TILL COMPLETION)**

O mankind! If you are in doubt concerning the Resurrection, then We have created you from dust, then from a drop of semen, then from a clot, then from a little lump of flesh (tissue) complete and incomplete, (partly formed and partly unformed) so, that We may manifest (Our power) to you. And We cause what We wish to remain in the wombs for an appointed term, and afterward We bring you forth as infants, (babies)----- (22:5) PART

مدارج خلق الانسان في الرحم

مدارج تخلیق

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ خَلْقٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ----- ﴿٢٢ الحج ٥﴾ جزء

لوگو اگر تم کو (مرنے کے بعد) جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو (پہلی بار بھی تو) پیدا کیا تھا (یعنی ابتدا میں) مٹی سے پھر اس سے نطفہ بنا کر۔ پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر پھر۔ اس سے گوشت کا ٹکڑا بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر (اپنی تخلیق کی قدرت) ظاہر کر دیں۔ اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔----- (5:22) جزو

He it is Who created you from dust, then from a drop (of semen) then from a clot, then brings you forth as a child, then (ordains) that you (reach maturity) attain full strength (in youth) and afterward that you become old men though some among you die before (pass away earlier) and that you reach an appointed term, (deadline) that haply you may understand. (40:67)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَعَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

وہی تو ہے جس نے تم کو (پہلے) مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ بنا کر پھر لوتھڑا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے (کہ تم) بچے (ہوتے ہو) پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بوڑھے ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم (موت کے) وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو (67:40)

From what stuff does He created him? (80:18)

مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾

اسے (اللہ نے) کس چیز سے بنایا؟ (18:80)

From a drop of sperm. He has created him and proportioned him, (80:19)

Then makes the way easy for him, (80:20)

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿٨٠﴾
عيس ١٩ ﴿٨٠﴾
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرُهُ ﴿٨٠﴾
عيس ٢٠ ﴿٨٠﴾

(اس اللہ نے) ایک نطفے سے بنایا پھر اس کو ایک اندازہ پر رکھا (19:80)
پھر اس کے لئے راستہ آسان کر دیا (20:80)

More Reference : 23:14 39:6 75:38,39
Page 396, 397, 395

والصبرين راجع ٠ ٢٣ المؤمنون ١٤: ٣٩ الزمر: ٦
٧٥ القيامة: ٣٨: ٢٩٠ ٩٦ العلق: ٢

39,38: 75 6:39 14:23
صفحة 395, 397, 396
2:96

INCUBATION

REMAINING IN A PLACE OF REST FIRMLY
FIXED FOR A PRE - ORDAINED TERM GESTATION

Which We place it in a firm resting
place. (77:21)

For a known term. (77:22)

Thus We determine. How excellent
Our arranging! (77:23)

قرار الجنين في الرحم الى مدة معينة

ایک مقررہ عرصہ تک مضبوط اور محفوظ جگہ
(ماں کے پیٹ) میں رکھا جاتا

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٧٧﴾
المرسلات ٢١ ﴿٧٧﴾
إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٧٧﴾
المرسلات ٢٢ ﴿٧٧﴾
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ﴿٧٧﴾
المرسلات ٢٣ ﴿٧٧﴾

(پہلے) اس کو ایک محفوظ جگہ رکھا (21:77)

ایک وقت مقررہ تک (22:77)

پھر اندازہ مقرر کیا۔ اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر
کرنے والے ہیں (23:77)

Reference : 22:5 23:13 31:14
397,402 396 452
6 46:15 77:20
7 400 395

والصبرين راجع ٢٢ الحج: ٥ ٢٣ المؤمنون: ١٣
٣١ لقمان: ١٤ ٣٩ الزمر: ٦ ٤٦ الأحقاف: ١٥
٧٧ المرسلات: ٢٠

14: 31 13:23 5:22
452 396 402/397
20: 77 15:46 6:39
395 400 397

ANXIETY OF PARENTS FOR UNBORN CHILD AND THEIR APPEALING TO ALLAH(SWT) FOR GRANT OF A HEALTHY SOUND AND GOODLY BABY

It is Who did create you from a
single soul, and therefrom did make
himate of like nature that he might
dwell with her (in love). And when
they are united she bore a light
burden, and she carries it
(unnoticed) with it, but when it
became heavy they appeal to Allah,
the Lord, saying: If you give to us
a goodly (healthy) child we shall be
grateful (7:189)

دعاء الزوجين لذرية صالحة
بعد استقرار الحمل

قرار حمل کے بعد
صحیح و سالم بچے کی پیدائش کے لئے دعائیں

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا
تَغَشَّيْهَا حَبَلٌ خَفِيفٌ فَمَرَّتْ بِهِ
فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا
صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾
الاعراف ١٨٩ ﴿١٨٩﴾

وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ اور اس
سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے سو
جب خاوند بیوی سے قربت کرتا ہے۔ تو اسے ہلکا سا حمل ہو
جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب کچھ
بوجھ محسوس کرتی (یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا) ہے تو
دونوں (میاں بیوی) اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں
کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم (اولاد) دے گا تو ہم تیرے شکر
گزار ہوں گے (189:7)

MYSTERY OF GENETICS AND HEREDITY ARE ONLY KNOWN TO ALLAH(SWT) AS ITS SHAPING IN DUE PROPORTION, ITS INNER COHEREN (CENATURE) WILL IT BE BLESSING OR CURSE FOR ITS PARENTS OR FOR THE SOCIETY

All knows that which every
female (womb) bears and that which
the wombs absorb and that which
the grow (How wombs may
misery or else may wait too long).
And everything with Him is
measured. (13:8)

اللہ اعلم بما فی الارحام

قبل از پیدائش کے رازوں (بچے کے دل و دماغ
کے انداز تناسب۔ نیک اور بد۔ صورت و سیرت
کی حقیقتوں سے) صرف اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ
الْأَرْحَامَ وَمَا تَرْزُقُ أَذْوَاقًا وَعِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿١٣﴾
الرعد ٨ ﴿١٣﴾

مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا
ہے اور پیٹ کے گھٹنے اور بڑھنے سے بھی (واقف
ہے) اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک اندازہ مقرر ہے
(8:13)

-----And knows that which is in the wombs. Yet no person knows what it will earn tomorrow. -----(31:34) PART

-----And no fruits come out of their sheaths, (from its blossom) and no female conceives (within her womb) and not gives birth but with His knowledge. ----- (41:47) PART

MYSTERY OF BESTOWING MALE, FEMALE SINGLE AND TWIN OR EVEN KEEPING ANY COUPLE BARREN IS AN OUTCOME OF DIVINE'S UNFATHOMABLE WILL

He it is Who shapes you in (your mother's) wombs as pleases Him. There is no god except Him, the Almighty, the Wise. (3:6)

To Allah belongs the Sovereignty of the heavens and the earth. He creates what He wills. He bestows female (children) upon whom He wills, and bestows male (offspring) upon whom He wills; (42:49)

Or He mingles them both, males and females, and He leaves barren whom He wills. He is of Knowledge and Power. (42:50)

Have you ever considered what the (human seed) you emit. (56:58)

Do you create it or are We the creator? (56:59)

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَاتُكَتْسِبُ غَدًا ﴿٣١﴾ لقمان ٣٤ ﴿جزء ٣١﴾

وَمَا تَخْرُجُ مِنْ شَرَاتٍ مِّنْ الْأَمْهَامِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴿٤١﴾ حم سجده ٤٧ ﴿جزء ٤١﴾

الذرية من الذكور والاناث
أو كون الام عقيما بمشية الله

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ آل عمران ٦ ﴿

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا ثَائِرٌ بِهَبِّ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٤٢﴾ الشورى ٤٩ ﴿

أَوْ يَزْوِجَهُمْ ذَكَرًا أَوْ إِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ الشورى ٥٠ ﴿

أَفَرَأَيْبْتُمْ مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٦﴾ الواقعة ٥٨ ﴿

أَمْ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ الواقعة ٥٩ ﴿

..... اور وہی (حاملہ کے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے (نصیب اور اعمال کے لحاظ سے) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا (34:31) جزو

..... اور نہ تو پھل شگوفوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ اس کے علم کے بغیر حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنم دیتی ہے مگر اس (اللہ) کے علم سے (47:41) جزو

اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹا۔ بیٹی یا دونوں طرح کے بچے دے یا بے اولاد رکھے

وہی اللہ تو ہے جو (ماں کے) پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں (6:3)

(تمام) بادشاہت اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے (49:42)

یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ جاننے والا (اور) قدرت والا ہے (50:42)

دیکھو تو کہ جس (نطفے) کو تم (عورتوں کے رحم میں) ڈالتے ہو (58:56)

کیا تم اس (سے انسان) کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں (59:56)

More Reference : 3:36,40 4:1 11:72 19:4,5,8 21:91 Page 1091, 1088, 459/909, 958, 1087, 1093

المعزین راجع ٣ آل عمران: ٤٠، ٣٦، ٤٠ النساء: ١، ١١ ہود: ٧٢، ١٩ مریم: ٨٠، ٤٠، ٢١ الأنبياء: ٩١ الصفحة ١٠٩٢، ١٠٨٧، ٩٥٨، ٩٠٩/٤٥٩، ١٠٨٨، ١٠٩١

مزید حوالہ 72:11 1:4 40,36:3 91:21 8,5,4:19 صفحہ 1093, 1087, 958, 909/459, 1088, 1091

SECRETS OF EMBRYOLOGY LIKE EVALUATION OF LIFE SPAN AND INHERENT QUALITIES AND ABILITIES ARE ONLY KNOWN TO ALLAH(SWT)

And Allah created you from dust, then from a sperm-drop. Then He made you pairs (The couples of male and female). No female conceives or lays down (Her load) gives birth except with His knowledge. And no one grows old (long lived) granted length of days nor is a part shortened (cut off) from his life, but it is recorded (ordained) in a Book. That is easy for Allah. (35:11)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٣٥﴾ فاطر ١١ ﴿

انسانی پیدائش کے رموز پیدا ہونے والے بچے کی عمر کے راز (طویل و قلیل) اور اسکی پیدائشی فطرت سے صرف اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے

اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تم کو جوڑا جوڑا بنایا۔ اور کوئی عورت اس کے علم کے بغیر نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنم دیتی ہے اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر (سب کچھ) کتاب میں (لکھا ہوا ہے) بے شک یہ بات اللہ کو آسان ہے (11:35)

NATURAL ABORTION DURING VARIOUS STAGES OF EMBRYONIC DEVELOPMENT TO MANIFEST THE CREATIVE ARTISTRY OF ALLAH(SWT) AND TO UNFOLD THE GENETIC MYSTERIES TO HUMANKIND

حکمة من الله في الاجهاض الطبيعي
لإشعار الانسان بحقيقته
آيات معرفة الله و اعتراف عظمته
في مدارج خلق الانسان

قدرتی اسقاط حمل میں حکمت
اللہ تعالیٰ کا انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرنا
اور مدارج تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار

What is wrong, with you that you are not conscious of Allah's dignity (13)

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾
﴿٧١ نوح ١٣﴾

تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد (برتری کا عقیدہ) نہیں رکھتے (13:71)

When He created you in diverse stages? (71:14)

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾
﴿٧١ نوح ١٤﴾

حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح (کی حالتوں) کا پیدا کیا ہے (14:71)

Is there a period in (this) age not come every man, when he was nothing worth mentioning? (76:1)

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾
﴿٧٦ الدهر ١﴾

بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے کہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا (1:76)

Reference: 22:5 23:14 40:67
397/402

والمزيد راجع ٢٢ الحج: ٥ ٢٣ المؤمنون: ١٤
٤٠ المؤمنون (غافر): ٦٧ الصفحة ٤٠٢/٣٩٧

المزيد راجع 22:5 23:14 40:67
صفحة 402/397

MINIMUM PERIOD OF SIX MONTHS FOR GESTATION - PREGNANCY

أقل مدة الحمل ستة اشهر

کم سے کم مدت حمل چھ ماہ

His mother bears him pain, and gives birth to him painfully, and the weaning of him and the weaning of him is thirty months, (15) PART

حَمَلَتْهُ
أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا
﴿٤٦ الاحقاف ١٥﴾ جزء

اس کی ماں نے اس کو تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا اور اس کا پیٹ میں رہنا (زنانہ حمل) اور دودھ چھوڑنا ڈھائی برس (تیس ماہ) میں ہوتا ہے۔ (15:46) جزو

Mothers shall suckle (breast feed) the children for two whole years; (that is) for those who wish to complete the suckling. (233) PART

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
﴿٢٣٣ البقرة ٢٣٣﴾ جزء

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال (چوبیس ماہ) دودھ پلائیں یہ (حکم) اس شخص کے لئے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ (233:2) جزو

BESTOWING SPIRITUAL ABILITY, MENTAL CAPABILITIES, SHAPING THE BEST STATURE FASHIONING PERFECTLY IN HUMAN MODULE IS THE GRACE OF ALLAH(SWT) ONLY

خلق الانسان في أحسن تقويم
وتركيبه في صورة حسنة
وقامة معتدلة إنعام الله عليه

عقل و فہم، مناسب اعضا اور معتدل قامت کے ساتھ کامل انسانی صورت کا عطا کیا جانا اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے

And He created you, then fashioned you, (gave you shape). (7:11) PART

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ
﴿٧ الاعراف ١١﴾ جزء

اور ہم ہی نے تم کو (ابتدا میں مٹی سے) پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری شکل صورت بنائی۔ (7:11) جزو

O man! What has made you careless concerning your Lord, the Bountiful, (82:6)

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾
﴿٨٢ الانفطار ٦﴾

اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم سے کس چیز نے بھڑکایا؟ (6:82)

Who created you, then fashioned, then proportioned you? (82:7)

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾
﴿٨٢ الانفطار ٧﴾

(وہی تو ہے) جس نے تجھے بنایا اور (تیرے اعضاء) کو درست بنایا اور (تیری قامت کو) موزوں بنایا (7:82)

Into whatsoever shape He wished, He put your frame together. (82:8)

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ ۗ ﴿٨٢﴾
﴿٨٢ الانفطار﴾

اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا (8:82)

Praise the name of your Lord the Most High, (87:1)

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿٨٧﴾
﴿٨٧ الاعلیٰ ١﴾

(اے پیغمبر) اپنے اللہ بزرگ و برتر کے نام کی تسبیح کرو (1:87)

Who has created, then fashioned (further given order and proportion). (87:2)

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٨٧﴾
﴿٨٧ الاعلیٰ ٢﴾

جس نے (انسان کو) پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا (2:87)

Who has measured, then guided; (87:3)

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٨٧﴾
﴿٨٧ الاعلیٰ ٣﴾

اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا (پھر اس کو) راستہ دکھایا (3:87)

And a soul and Him Who perfected it (91:7)

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٩١﴾
﴿٩١ الشمس ٧﴾

اور نفس کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو درست کیا (7:91)

More Reference : 23:12,14 76:28
Page 394,396 422

والمزید راجع ۲۳ المؤمنون: ۱۴، ۱۲ ۷۶ الدھر
(الإنسان): ۲۸: الصفحة ۳۹۴، ۳۹۶، ۴۲۲
والتفصیل للمزید راجع الصفحة ۱۱۵۹

مزید حوالہ 23: 12, 14 76: 28
صفحة 422 396, 394
مزید تفصیل کیلئے دیکھئے صفحه 1159

For More Detail Consult : Page : 1159

DIFFERENT PHASES OF HUMAN LIFE

مدارج الحياة الانسانية

مدارج زندگی

INFANCY-CHILDHOOD-PRIME YOUTH-OLD
AGE PHENOMENON OF DEVOLVING
STABLENESS OUT OF WEAKNESS
AND FEEBLENESS OUT OF STRENGTH

الطفولية والشيخوخة
والشباب

بچپن۔ جوانی۔ بڑھاپا (کمزور سے طاقت ور
اور طاقت ور سے کمزور)

Allah is He Who created you out of weakness, then granted strength following (your) weakness then, He gave you weakness and gray hair. He creates whatever He wills. He Who has all Knowledge and Power. (30:54)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾
﴿٣٠ الروم ٥٤﴾

اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو (ابتدا میں) کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب دانش (اور) صاحب قدرت ہے (54:30)

He whom We grant long life, We cause him to be reversed to nature (making him go back to weakness after strength). Will they not understand? (36:68)

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾
﴿٣٦ يس ٦٨﴾

اور جس کو ہم بڑھا کرتے ہیں تو اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر لوٹا دیتے ہیں تو کیا پھر بھی وہ سمجھتے نہیں؟ (68:36)

More Reference Consult Page 395,397

والتفصیل راجع الصفحة ۳۹۷، ۳۹۵

مزید حوالہ دیکھئے صفحه 397, 395

OLD AGE IS A SENILE LIFE

أرذل العمر من الشيخوخة

بڑھاپے کی کمزور اور خراب عمر

GRADUALLY SINKING INTO FEEBLENESS
DUE TO PROLONGED AGE

نقصان الصلاحيات في العمر الطويل

طویل عمر بتدریج جسمانی صلاحیتوں کی کمی

And Allah creates you, then causes you to die, and among you is he who is brought back to the most abject stage of life (to a feeble age), so that he knows nothing after (having had) knowledge. Allah is Knower, Powerful. (16:70)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ
يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ
عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾
﴿١٦ النحل ٧٠﴾

اور اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا پھر وہی تم کو فوت کرے گا اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت (نکارہ) خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور (بہت کچھ) جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ (سب کچھ) جاننے والا (اور) قدرت والا ہے (70:16)

Surely We created man of the best stature (95:4)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾
﴿٩٥ التين ٤﴾

کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے (4:95)

Then We reduced him to the lowest of the low (to the dregs on the bottom), (95:5)

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾
﴿٩٥ التين ٥﴾

پھر (رفتہ رفتہ) اس (کی حالت) کو (بدل کر) پست سے پست کر دیا (5:95)

More Reference : 22:5 39:6 Page 397

وَالْمَزِيدُ رَاجِعٌ ۚ ۲۲ الْحَجَّ ۵ ۳۹ الزُّمَرُ ۶

مَزِيدٌ حَوَالَهُ ۶: 39 5: 22 397

AN EXAMPLE ILLUSTRATING THE REALITY OF HUMAN LIFE STAGES

مشابهة الحياة الانسانية
بالارض الهامدة التي تربو بعد الغيث

عرصہ حیات ایک خوبصورت مثال

We bring you forth as infant then (give you growth) eventually you attain your maturity. And among you there is he who dies (young) in early life, and among you there is he who is brought back to the most abject time of life (to the feeblest age of all), so that, after knowledge, he knows nothing. And you see the earth when We send down water thereon, it does thrill and swell and produce every lovely kind (of growth). (22:5) PART

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوفَىٰ وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ
بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ
وَإُنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾
﴿٢٢ الحج ٥﴾ جزء

پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض (بڑھاپے سے پہلے) فوت ہو جاتے ہیں۔ اور بعض (بے غرض عمر۔ یعنی بڑھاپے کی) نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ (بہت کچھ) جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور (اے دیکھنے والے) تو دیکھتا ہے (کہ ایک وقت میں) زمین خشک (پڑی ہوتی ہے) پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق نباتات لگتی ہے (5:22) جزو

HUMANKIND SHOULD OBSERVE THE MYSTERIES OF CREATION AND NOTICE THE EMBRYONIC DEVELOPMENT

ليتفكر الانسان في خلقه ونشأته

انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہئے

Did you know the first creation. Why, then, do you not reflect? (62)

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٦٢﴾

اور تم کو پہلی پیدائش تو معلوم ہی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ (62:56)

Let every man consider from what he is created. (86:5)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾
﴿٨٦ الطارق ٥﴾

انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے (5:86)

Reference : 71:13,14 82:6 Page 400

وَالْمَزِيدُ رَاجِعٌ ۚ ۷۱ نُوْحٌ ۱۴: ۱۳ ۸۲ الْاِنْفِطَارُ ۶

مَزِيدٌ حَوَالَهُ 6: 82 14,13: 71 400

EVERY CHILD IS BORN WITH UPRIGHT NATURE-TRUE AND INNOCENT INCLINED TO RIGHT AND VIRTUE

لا يولد مولود مذنباً فطرة

کوئی انسان فطری گنہگار پیدا نہیں ہوتا

Also, keep your face steadfastly towards the (ever-true) faith in accordance with the natural disposition which Allah has instilled into man, (for) not to allow any change to corrupt (the laws of nature) what Allah has created. That is the true religion, but most men know not. (30:30)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي
فَطَّرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾
﴿٣٠ الروم ٣٠﴾

تو آپ کیسے ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر لیں (اور) اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اختیار کئے رہیں) اللہ کی بنائی ہوئی (فطرت) میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (30:30)

He is the only Who created you, but one of you is disbeliever and one of you is believer, and Allah is Observant of what you do. (64:2)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ
وَاللَّهُ مِمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾
﴿٦٤ التغابن ٢﴾

وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے (2:64)

Reference : 7:172 Page 405

وَالْمَزِيدُ رَاجِعٌ ۚ ۷ الأعراف ۱۷۲: الصفحة ٤٠٥

مَزِيدٌ حَوَالَهُ 7: 172 405

OBJECT OF CREATION OF HUMANKIND IS TO TEST THE BEHAVIOUR DURING THE PROBATIONARY LIFE

Then We appointed you viceroys in the earth after them, that We might see how you behave. (10:14)

And He is the One Who created the heavens and the earth in six Days and His Throne was upon the water that He might try you, which of you is best in conduct. Yet if you say, you will be raised again after death! Those who disbelieve will surely say: This is nothing but mere magic. (11:7)

Did you then think that We have created you for nothing, and that you would not be returned to Us? (23:115)

And to Allah belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, that He may reward those who do evil with that which they have done, and reward those who do good with goodness. (53:31)

Does man reckon that he is to be left uncontrolled (without purpose)? (75:36)

More Reference : 2:155 214 6:42 Page 298,636

AFTERMATH OF CREATION AND DEATH AS WELL AS LIFE OF HUMANKIND IS A TEST

Who has created life and death that He may try you, which of you is best in conduct; and He is the Mighty, Forgiving, (67:2)

More Reference : 16:70 22:66 45:26 50:43 Page 116, 822, 408, 401

THE MESSENGERS OF ALLAH(SWT) ALSO UNDERGONE TRIAL

For Detail Consult :	Page
ADAM (PBUH) More Reference : 2:117 to 123	909
NOAH (PBUH) More Reference : 11:45,47	927
ABRAHAM (PBUH) More Reference : 2:124 37:102	956
ISHMAEL (PBUH) More Reference : 37:102,108	956,972
JOSEPH (PBUH) More Reference : 12:23	981
JOB (PBUH) More Reference : 21:83	996
DAVID (PBUH) More Reference : 38:21	1069

الغرض من خلق الانسان ابتلاء هـ

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ (يونس ١٤)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَعْبُودُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِسْحَارٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ (هود ٧)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ (المؤمنون ١١٥)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَى ﴿٥٣﴾ (النجم ٣١)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ (القيامة ٣٦)

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٥٥، ٢١٤، ١٥٥، ٦ الأنعام: ٤٢

وجود الحياة والموت لامتحان البشر

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٧﴾ (الملك ٢٧)

وللمزيد راجع ١٦ النحل: ٧٠، ٢٢ الحج: ٦٦، ٤٥ الجاثية: ٢٦، ٥٠ ق: ٤٣

ابتلاء الرسل من الله تعالى

الصفحة	والتفصيل راجع
٩٠٩	آدم عليه السلام
٩٢٧	نوح عليه السلام
٩٢٧	١١ هود: ٤٥، ٤٧
٩٥٦	ابراهيم عليه السلام
٩٥٦	٢ البقرة: ١٢٤، ٣٧ الصافات: ١٠٢
٩٧٢، ٩٥٦	اسماعيل عليه السلام
٩٥٦	٣٧ الصافات: ١٠٢، ١٠٨
٩٨١	يوسف عليه السلام
٩٨١	١٢ يوسف: ٢٣
٩٩٦	ايوب عليه السلام
٩٩٦	٢١ الأنبياء: ٨٣
١٠٦٩	داود عليه السلام
١٠٦٩	٣٨ ص: ٢١

انسان کی پیدائش کی غرض وغایت آزمائش اعمال

پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو (14:10)

اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا اور (اس وقت) اس کا عرش پانی پر تھا (تمہارے پیدا کرنے سے) مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد (زندہ کر کے) اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے (7:11)

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ (115:23)

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے (اور اس نے خلقت کو) اس لئے (پیدا کیا ہے) کہ جن لوگوں نے برے کام کئے ان کو ان کے اعمال بد کی سزا دے اور جنہوں نے نیکیاں کیں ان کو نیک اعمال کی جزا دے (31:53)

کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یونہی چھوڑ دیا جائے گا؟ (36:75)

مزید حوالہ 2: 155، 214، 6: 42 صفحہ 298، 636

زندگی اور موت کا سلسلہ بھی انسان کی آزمائش کے لئے ہے

اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست (اور) معاف فرمانے والا ہے (2:67)

مزید حوالہ 16: 70، 22: 66، 45: 26، 50: 43 صفحہ 116، 822، 408، 401

اللہ تعالیٰ نے پیغمبران کی بھی آزمائش کی

صفحہ	تفصیل کیلئے دیکھتے
909	حضرت آدم
927	حضرت نوح
927	حضرت ابراہیم
956	حضرت اسماعیل
956, 972	حضرت یوسف
981	حضرت ایوب
996	حضرت داؤد
1069	
1069	

SOLOMON (PBUH)	Page 1075
More Reference : 38:30,34	1067,1075
EZRA (PBUH)	1081
More Reference : 2:259	1081
JONAH (PBUH)	1085
More Reference : 37:142 21:87 68:48	

۱۰۷۳	صفحة	۳۸	ص: ۳۴،۳۰	سلیمان علیہ السلام
۱۰۸۱	صفحة	۲	البقرة: ۲۵۹	عزیر علیہ السلام
۴۸	القلم:	۳۷	الصفات: ۱۴۲	یونس علیہ السلام
۱۰۸۵	صفحة	۲۱	الانبیاء: ۸۷	

1073	صفحة	حضرت سلیمان
1067,1075	34,30:38	
1081	حضرت عزیر	
1081	259:2	
1085	حضرت یونس	
87:21 48:68 142:37		

BYGONE FOLKS HAD ALSO UNDERGONE TRIAL

For Detail Consult :	Page
FOLK OF NOAH	924,925
More Reference : 23:26 to 30	922,925
FOLK OF AA'D	933
More Reference : 46:26	929
FOLK OF THEMUD	938
More Reference : 7:73 to 79	939,436,938,940,941
FOLK OF SHUAIB PEOPLE OF MADIAN	1000
More Reference : 91:11	1000
CHILDREN OF ISRAEL	1052
More Reference : 2:63,67 5:21	1052,1053
PEOPLE OF SABATH	1070
More Reference : 2:63,66 4:154 7:163	1052,1005,502
PEOPLE OF BABYLOON	1080
More Reference : 2:102	742
OWNER OF GARDEN	1108,1110,1111
More Reference : 68:17 TO 24	1108
PEOPLE OF CAVE	1105
More Reference : 18:25,26	1107
PEOPLE OF SHEBA	1114
More Reference : 34:15	1114
BELIEVERS OF PROPHET(SAAS) AT MAKKAH	704,705
More Reference : 3:141,154	703,704
BELIEVERS OF PROPHET(SAAS) AT MADINAH	720,725
More Reference : 9:94	724

كانت الشعوب السالفة أتليت أيضا

۹۲۴،۹۲۵	صفحة	۲۳	المؤمنون: ۲۶	قوم نوح
۹۳۳	صفحة	۴۶	الأحقاف: ۲۶	قوم عاد
۹۳۸	صفحة	۱۷	الأعراف: ۷۳	قوم ثمود
۱۰۰۰	صفحة	۹۱	الشمس: ۱۱	قوم شعيب
۱۰۵۲	صفحة	۲	البقرة: ۲۷،۲۳	بنی اسرائیل
۱۰۵۴	صفحة	۴	النساء: ۲۶،۲۳	اصحاب السبت
۱۰۵۳	صفحة	۷	الأعراف: ۱۶۳	اصحاب الجنة
۱۰۸۰	صفحة	۲	البقرة: ۱۰۲	اهل بابل
۱۱۱۱،۱۱۱۰،۱۱۰۸	صفحة	۶۸	القلم: ۱۷	اصحاب الجنة
۱۱۰۵	صفحة	۱۸	الكهف: ۲۶،۲۵	اصحاب كهف
۱۱۱۴	صفحة	۳۴	سباء: ۱۵	قوم سبا
۱۵۴،۱۴۱	صفحة	۳	آل عمران: ۷۰،۷۰،۴	المؤمنین المکة المکرمه
۷۲۵،۷۲۰	صفحة	۹	التوبة: ۹۴	المؤمنین المدينة النبویة

پچھلی اقوام کی بھی آزمائش کی گئی

925,924	صفحة	قوم نوح
922,925	30:26:23	
933	قوم عاد	
929	26:46	
938	قوم ثمود	
939,436,938,940,941	79:73:7	قوم شعيب (سرور اہل مدین)
1000	بنی اسرائیل	
1000	91:11	
1052	اصحاب السبت	
1005,1032	21:5 67:2	
1053	1052,1005,502	163:7 154:4 66,63:2
1080	اهل بابل	
742	102:2	
1111,1110,1108	اصحاب الجنة	
1108	24:17:68	
1105	اصحاب كهف	
1107	26,25:18	
1114	قوم سبا	
1114	15:34	
705,704	مؤمنین مکہ	
703,704	154,141:3	
725,720	مؤمنین مدینہ	
724	94:9	

ALLAH(SWT) HAS ENDOWED HUMANKIND WITH FACULTIES OF ELOQUENT SPEECH, HEARING, VISION AND ALSO SHOWN BOTH HIGHWAYS OF LIFE (DIFFICULT PATH OF VIRTUE AND EASY PATH OF VICE)

لقد منّ الله تعالى على الانسان بالهامه التقوى والفجور وباعطائه قوة البيان والسمع والبصر

اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کی پہچان عطا فرمائی اور اسے بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا

He has created man. (55:3)
He has taught him self-expression. (5:4)
Did We not assign to him two eyes (8:8)
And a tongue and two lips, (90:9)
And guided him the two highways of life? (90:10)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥﴾ الرَّحْمٰنُ ٣
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥﴾ الرَّحْمٰنُ ٤
أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٩٠﴾
﴿٩٠﴾ الْبَلَدِ ٨
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩٠﴾
﴿٩٠﴾ الْبَلَدِ ٩
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿٩٠﴾
﴿٩٠﴾ الْبَلَدِ ١٠

اسی نے انسان کو پیدا کیا (3:55)
اسی نے اس کو بولنا سکھایا (4:55)
بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ (8:90)
اور زبان اور دو ہونٹ (نہیں دیے)؟ (9:90)
(یہ چیزیں بھی دیں) اور اس کو (خیر و شر کے) دونوں راستے بھی دکھادیے (10:90)

Reference	10:31	16:78	23:78
Page	388	396	408
32	67:23	76:2	
33	410	395	

۷۸	النحل:	۱۶	یونس:	۳۱	۱۰	المزید راجع
۲۳	الملک:	۶۷	السجدة:	۹	۳۲	۷۸: المؤمنون
۷۶	الدھر:	(الانسان):	۲			

78:23	78:16	31:10	مزید حوالہ
408	396	388	صفحة
		2:76	23:67
		395	410
		9:32	397

ALLAH(SWT) HAS DIGNIFIED THE CHILDREN OF ADAM FAR ABOVE MOST OF HIS CREATIONS

بنو آدم مکرمون عند الله

اولاد آدم کی بہت سی مخلوقات پر فضیلت (اشرف المخلوقات)

We have honoured the children of Adam. We carry them on the land and the sea, and have made provision of good things for them, and have preferred them above many of those whom We have created with a naked preferment. (17:70)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾
﴿٧٠﴾ بنی اسرائیل

اور ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری دی (70:17)

HUMANKIND HAS BEEN GIVEN FREEDOM OF CHOICE TO ACCEPT OR REJECT THE GOOD AND EVIL

And Allah alone can show the right-path. But there are ways that turn aside. And had He wished He would have guided you all. (16:9)

Had Allah willed, He could have made them one community, but Allah brings whom He wills into His mercy. And the wrongdoers have no friend or helper. (42:8)

أعطى الله الإنسان الحرية في الإرادة والعمل

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾
﴿١٦ النحل ٩﴾

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾
﴿٤٢ الشورى ٨﴾

انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی عطا کی

اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں (وہ اس تک نہیں پہنچتے) اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا (9:16)

اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور ظالموں کا نہ کوئی حمایت کرنے والا ہے اور نہ مددگار (8:42)

THE INNERMOST PURPOSE OF THE CREATION OF ALL RATIONAL BEINGS IS THEIR COGNITION OF THE EXISTENCE OF ALLAH(SWT)

I created the jinn and humankind only that they might worship Me. (51:56)

I seek no livelihood from them, nor do I ask that they should feed Me. (51:57)

إنما خلق الله الجن والانس لعبادته

مقصد حیات زندگی آمد برائے بندگی

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾
﴿٥١ الذریت ٥٦﴾

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾
﴿٥١ الذریت ٥٧﴾

اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں (56:51) -

میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے (کھانا) کھلائیں (57:51)

More Reference : 19:65 23:115
Page 294, 403

والمزید راجع ٢٣ المؤمنون: ١١٥ ١٩ مريم: ٦٥
الصفحة ٤٠٣, ٢٩٤

مزید حوالہ 65: 19 115: 23
صفحة 403, 294

COVENANT TAKEN FROM DESCENDANTS OF THE CHILDREN OF ADAM (ALL HUMANITY BORN AND UNBORN WITHOUT ANY TIME LIMIT) TO ACKNOWLEDGE THAT ALLAH(SWT) IS THE ONLY CREATOR, CHERISHER AND SUSTAINER

And (remember) when your Lord drew forth from the Children of Adam, from their reins, their descendants, and made them testify of themselves, (saying): Am I not your Lord? They said: Yes, surely We testify. (That was) lest you should say at the Day of Resurrection: of this we were unaware; (7:172)

إشهاد ذرية آدم على أنفسهم بربوبية الله في عالم الأرواح

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ إِنَّ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾
﴿١٧ الاعراف ١٧٢﴾

عہد الست (ميثاق ازل) عالم ارواح میں صلب آدم سے ذریت آدم کا ظہور اور ان سے ربوبیت الہی کا اقرار کرانا

اور جب تمہارے پروردگار نے نبی آدم سے یعنی ان کی پشت سے ان کی اولاد نکالی تو خود ان سے ان ہی کے متعلق اقرار کرایا (یعنی ان سے پوچھا کہ) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں (کہ تو ہمارا پروردگار ہے) (یہ اقرار اس لئے کرایا تھا) کہ قیامت کے دن (کہیں یوں نہ) کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی (172:7)

More Reference : 57:8 Page 717

والمزید راجع ٥٧ الحديد: ٨ الصفحة ٧١٧

مزید حوالہ 57: 8 صفحه 717

IMPLIED COVENANT OF ALL PROPHETS TO CARRY OUT THEIR MISSION OF PROCLAIMING TRUTH OF ALLAH(SWT) WITHOUT FEAR OR FAVOUR

And remember when We took a covenant from the Prophets, and from you (O Muhammad) and from Noah and Abraham and Moses and Jesus son of Mary. We took from them a solemn covenant; (33:7)

اخذ ميثاق الانبياء في عالم الارواح

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٧﴾

ميثاق انبياء عالم ارواح میں پیغمبروں سے عہد لیا جانا

اور جب ہم نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا اور (بالخصوص) آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے۔ اور عہد بھی ان سے (پکا اور) پختہ لیا (7:33)

More Reference : 3:81 42:13
Page 180, 93

والمزید راجع ٣ آل عمران: ٨١ ٤٢ الشورى: ١٣
الصفحة 93, 180

مزید حوالہ 13: 42 81: 3
صفحة 93, 180

**INBORN TENDENCY
NATURAL ATTITUDE-INCLINATION-
DISPOSITION-TEMPERAMENT
OF HUMANKIND**

الظُّرُفُ الْإِنْسَانِيَّةُ

ظُرُفُ الْإِنْسَانِيَّةِ

**INCONSIDERATE - OPPORTUNIST-APPEALS
TO ALLAH(SWT) DURING STRESS
AND MISFORTUNE BUT LURES AWAY
WHEN RELIEVED**

And if misfortune touches a man he cries to Us, (while reclining) on his side, or sitting or standing, but when We have relieved him of the misfortune he goes his way as though he had never appealed to Us because of a misfortune that afflicted him. Thus is what they deem fair to the transgressors. (10:12)

And when We cause mankind to taste of mercy after some adversity, which had afflicted them, they have a plot against Our revelations. Say: Allah is more swift in reckoning. Surely Our (heavenly) messengers write down that which is a plot. (10:21)

He is the One Who makes you to go on the land and the sea till, when you are in the ships and they sail with them with a fair breeze and they are glad therein, a storm wind strikes them and the waves come to them from every side and they deem that they are overwhelmed therein; (then) they appeal to Allah, making their faith pure for Him only; If You deliver us from this, we truly will be grateful. (10:22)

But when He has delivered them, they rebel in the earth wrongfully. O mankind! Your rebellion is only against yourselves. (You have) enjoyment of the life of the world; then to Us is your return and We shall proclaim to you what you used to do. (10:23)

And whatever of comforts you enjoy, it is from Allah. Then, when misfortune reaches you, to Him you appeal for help. (16:53)

الإنسان كفور مسرف ماكر "فرح"

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا
أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُصْرَهُ مَرَّكَانَ تَوَدَّدُ
عَنَّا إِلَىٰ خَيْرٍ مِّمَّا سَأَلَ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ
مَا كَانُوا يَعْبَأُونَ ﴿١٠﴾
﴿١٠ يونس ١٢﴾

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنَّا بَعُدُّوا
مَسَّتْهُمُ إِذِ الْهَمُّ مَكْرُوفٍ آيَاتِنَا قُلِّ اللَّهُ أَسْرَعُ
مَكْرَاهٍ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾
﴿١٠ يونس ٢١﴾

هُوَ الَّذِي يُسَبِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ
فِي الْفُلِكِ وَجَرِين بِيَعْمَرٍ مِرْطَبَةً وَقَرِحًا مِمَّا
جَاءَ تَهَارِيرٍ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ الدِّينَ هَلْ لَّنْ آجِبْتَنَّا مِنْ هَذِهِ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾
﴿١٠ يونس ٢٢﴾

فَلَمَّا أَجْتَهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ قَتْلَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا دُئِمَّتْ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾
﴿١٠ يونس ٢٣﴾

وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِذِ اتَّسَقْتُمْ
الضُّرَّ فَالْيَدِ تَجْرُونَ ﴿٥٣﴾
﴿١٦ النحل ٥٣﴾

بے لحاظ۔ مطلب پرست
تکلیف میں اللہ کو یاد کرنے والا
اور خوشی میں بھول جانے والا

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا
(ہر حال میں) ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس تکلیف کو
دور کر دیتے ہیں تو (بے لحاظ ہو جاتا ہے اور) اس طرح
گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا
ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کو ان کے
اعمال خوش نما کر کے دکھائے گئے ہیں (12:10)

اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد (اپنی)
رحمت (سے آسائش) کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری
آیتوں میں چالیں چلنے لگتے ہیں کہہ دیتے کہ اللہ بہت
جلد تدبیر کرنے والا ہے اور یقیناً جو چالیں تم چلتے ہو
ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں (21:10)

وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی
توفیق دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں (سوار)
ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا (کے نرم نرم جھونکوں) سے
سواروں کو لے کر چلے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو
ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے۔ اور ہر طرف سے موجیں
اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ (اب تو) لہروں
میں گھر گئے۔ تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس
سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ (اے اللہ) اگر تو ہم کو اس سے نجات
بخشنے تو ہم (تیرے) بہت ہی شکر گزار ہوں (22:10)

لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے تو زمین میں ناحق
شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری شرارت کا
وبال تمہاری ہی جانوں پر ہو گا تم دنیا کی زندگی کے
فائدے اٹھا لو پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے
(23:10)

اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے
ہیں۔ پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی
طرف فریاد کرتے ہو (53:16)

And afterward, when He has relieved you of the misfortune, a group of you ascribes partners to their Lord, (16:54)

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ
بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾
﴿١٦ النحل ٥٤﴾

پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں (54:16)

So as to deny that which We have given them. Then enjoy life (while you may), for you will come to know. (16:55) (30:34)

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَمَا تَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾
﴿٣٠ الروم ٣٤﴾

تاکہ جو (نعمتیں) ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی شکر کریں تو (مشرکوں) دنیا میں فائدے اٹھا لو مگر قریب تم کو (اس کا انجام) معلوم ہو جائے گا (34:30) (55:16)

And when they embark upon the ships they pray to Allah, making their faith pure for Him only, but when He brings them safe to land, they ascribe partners (to Him), (29:65)

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ
يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٦٥﴾

پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں (اور) خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگ جاتے ہیں (65:29)

That they may disbelieve in that which We have given them, and that they may take their ease. But they will come to know. (29:66)

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٦٦﴾

تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ (سوخیں) مگر قریب ان کو معلوم ہو جائے گا (66:29)

And when harm touches men they appeal to their Lord, turning to Him in repentance; then, when they have tasted of His mercy, some of them attribute partners (associate others) to their Lord. (30:33)

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ
إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آتَاهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ
مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾
﴿٣٠ الروم ٣٣﴾

اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے (33:30)

Or have We revealed to them any warrant, which speaks of that which they associate with Him? (30:35)

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا
كَانُوا بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾
﴿٣٠ الروم ٣٥﴾

کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہو؟ (35:30)

And whenever waves enshrouds them like awnings, they cry to Allah, making their faith pure for Him only. But when He brings them safe to land, some of them compromise. None denies Our signs but every traitor, ingrate. (31:32)

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا
يُبْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكٰفِرُ الْكَفُورُ ﴿٣٢﴾
﴿٣١ لقمان ٣٢﴾

اور جب ان پر (دریا کی) موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے (اور) خلوص کے ساتھ عبادت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف (اعتدال) پر قائم رہتے ہیں۔ اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو بد عہد (اور) ناشکرے ہیں (32:31)

And when some trouble afflicts man, he cries to his Lord, turning to Him (repentant). Then, when He confers some favour on him he forgets that for which he appealed to Allah that he may beguile (men) from His way. Say (O Muhammad, to such ones): Take pleasure in your disbelief a little while you are of the owners of the Fire. (39:8)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ
ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ
مِّن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ
تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾
﴿٣٩ الزمر ٨﴾

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے (اور) اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لئے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ (لوگوں کو) اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ (اے منکر نعمت) اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے پھر تو دوزخیوں میں ہوگا (8:39)

Now when affliction befalls man he cries to Us for help, and afterward when We have bestowed a favour from Us, he says: Only by force of certain knowledge I obtained it. No, but it is a test. But most of them understand not. (39:49)

Thus did the (generation) before them said it, yet (all) that they had earned was of no profit; (39:50)

But if they are averse, We have not sent you as a warder over them. Yours is only to convey (the message). And when We cause man to taste of mercy from Us, he exults therefor. And if some evil strikes them because of that which their own hands have sent before, then man is an ingrate. (42:48)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّمَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٤٩﴾

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾
﴿٣٩ الزمر ٥٠﴾

فَإِنْ أَعْرَضُوا قَبَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾
﴿٤٢ الشورى ٤٨﴾

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے (میرے) علم (ودانش) کے سبب ملی ہے۔ (نہیں) بلکہ وہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے (49:39)

جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آیا (50:39)

پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا کام تو صرف (احکام کا) پہنچا دینا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ اچکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو (سب احسانوں کو بھول جاتا ہے) بیشک انسان بڑا ناشکرا ہے (48:42)

Reference : 17:67 41:49,51
Page 124, 412

وللمزيد راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل) : ٦٧
٤١ حم السجدة (فصلت) : ٥١، ٤٩ الصفحات ١٢٤، ١٢٤

مزيد حوالہ 17: 67 41: 49, 51
صفحہ 124, 412

UNGRATEFUL - THANKLESS FOR THE INNUMERABLE GIFTS AND FAVOURS OF ALLAH(SWT)

He is the One Who gives you life, then causes you to die; next He will give you. Yet man is so ungrateful!. (22:66)

He it is Who has created for you ears and eyes and hearts. Little thanks you give. (23:78)

And they have assigned a portion of His bondmen! Man is mere ingrate. (15:15)

Why to man! What has made him ungrateful? (80:17)

Man is an ingrate to his Lord (100:6)

And he himself is a witness to that; (100:7)

الانسان لربه كفور "كنود"
وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾
﴿٢٢ الحج ٦٦﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٧٨﴾

وَجَعَلُوا آلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾
﴿٤٣ الزخرف ١٥﴾

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ﴿٧﴾
﴿٨٠ عبس ٧﴾

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾
﴿١٠٠ العديت ٦﴾

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾
﴿١٠٠ العديت ٧﴾

ناشکران احسان فراموش۔ ناقدر شناس

اور وہی تو ہے جس نے تم کو زندگی بخشی۔ پھر تم کو مارتا ہے پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ اور انسان تو (بڑا) ناشکرا ہے (66:22)

اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ (لیکن) تم کم شکر گزاری کرتے ہو (78:23)

اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لئے اولاد مقرر کی۔ بے شک انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے (15:43)

اللہ کی مار انسان پر۔ کیسا ناشکرا ہے (17:80)

کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس (اور ناشکرا) ہے (6:100)

اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے (7:100)

Me	Reference :	7:10	10:12,21,22	14:34
Pa		300	406	102
16		78,83	17:67,70	27:73
407		6,302	124,404	302
31		42:48	55:3,4	90:8,9,10
40		408	404	417

وللمزيد راجع	٧ الأعراف	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٤ إبراهيم	٣٤	١٦ النحل	٨٣، ٧٨، ٥٤	١٧ الإسراء
(بنی اسرائیل)	٧٠، ٦٧	٢٧ النمل	٧٣	٢٩ العنكبوت
٣٠ الروم	٣٣	٣١ لقمان	٣٢	٤٢ الشورى
٥٥ الرحمن	٤٣	٩٠ البلد	١٠٠، ٩٠، ٨	

مزيد حوالہ	10: 7	22,21,12: 10	34:14
صفحہ	300	406	102
	78,70,54: 16	73: 27	65: 29
	407,396,302	302	407
	32: 31	4,3: 55	10,9,8: 90
	407	404	417

**PROUD - ARROGANT - SELF GLORIFYING
EXULTANT AND BOASTFUL**

And if We cause him to taste Grace (Comfort) after some misfortune that had befallen him, he says: The evil things have departed from me. He is an exultant, (and) boastful; (11:10)

الانسان فرح " فخور "

وَلَمَّا أَذَقْنَا لِعِبَادِنَا مِنْ غَدَاةٍ مِمَّا نَحْنُ بِمُغْنِيهِمْ وَذَرَأَ مَسَّئُهُ لِيَقُولُوا
ذَهَبَ الْبُيُوتَاتُ عَلَيَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾
(11:10)

فخر کرنے والا

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزا چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ (آہا) سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ خوشیاں منانے والا (اور) فخر کرنے والا ہے (10:11)

**AVARICIOUS - ASPIRES
FOR ADDING YET MORE**

And made (life) smooth for him. (74:14)

Yet he desires that I should give more. (74:15)

طامع " للمزید "

وَمَجَدَّدْتُمُ لَهُ لِيَتَمَهَّدَ ﴿١٤﴾
(74:14)

ثُمَّ لِيَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾
(74:15)

آسائشوں کے حصول کی مزید
خواہش رکھنے والا

اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی (14:74)

میں خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں (15:74)

DESPONDENT - DESPAIRING

And if We cause man to taste some Mercy from Us and afterward withdraw it from him, He is despairing, thankless. (11:9)

And when We make life pleasant to man, he turns away and is averse; and when ill touches him he is in despair. (17:83)

And when We cause mankind to taste of Mercy they rejoice therein; but if an evil befalls them as the consequence of their own deeds, they are in despair! (30:36)

الانسان یتوس " ان نزع الله نعمة منه "

وَلَمَّا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا
مِنَهُ إِذْ لَمْ يَكُن لِيُتُوسَ كُفُورًا ﴿٩﴾
(11:9)

وَإِذَا أَعْزَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَاضًا وَتَأْيِيبًا
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُوسًا ﴿٨٣﴾
(17:83)

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن
تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذْ هُمْ
يَقْتُلُونَ ﴿٣٦﴾
(30:36)

جلد مایوس ہو جانے والا
(اللہ تعالیٰ کی نعمت ذرا دیر کے لئے چھین جانے پر)

اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو ناامید (اور) ناشکرا (ہو جاتا) ہے (9:11)

اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے۔ اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو ناامید ہو جاتا ہے (83:17)

اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ناامید ہو کر رہ جاتے ہیں (36:30)

**CREATED WEAK (IN RESOLUTION)
IMPATIENT TO FULFILL DESIRES**

Allah do wish to lighten your burdens, for man was created weak. (in resolution) (4:28)

خلق الانسان ضعيفاً

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ
ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾
(4:28)

طبعاً کمزور

اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے کیونکہ انسان (طبعاً) کمزور پیدا ہوا ہے (28:4)

**CONTENDER - ARGUER
ADVERSARY - DISPUTER**

He has created man from a drop of semen yet he is an open opponent. (16:4)

الانسان خصيم " مجادل "

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
مُنْتَبِئٌ ﴿٤﴾
(16:4)

جھگڑالو

اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس (خالق) کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا (4:16)

And We have displayed for mankind in this Qur'an all manner (every kind) of similitudes, but man is more than anything contentious. (18:54)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾
﴿١٨ الكهف ٥٤﴾

اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں (کے سمجھانے) کے لئے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے (54:18)

Has not man seen that We have created him from a sperm? Yet he is an open opponent. (36:77)

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾
﴿٣٦ يسین ٧٧﴾

کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر کیا ایک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا (77:36)

Concerning which then, of the bounties of your Lord, can you dispute? (53:55)

فِي آيَةِ الْآءِ رَبِّكَ تَمَارِي ﴿٥٥﴾
﴿٥٣ النجم ٥٥﴾

تو (اے انسان) تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا (55:55)

**IMBUED WITH IMPATIENCE
PRONE TO BE HASTY (IN JUDGEMENT)
CREATED OUT OF HASTE**

طبع الانسان على الاستعجال

**جلد باز
جلد بازی ہی سے بنایا گیا**

Man is made of impatience. I shall show you My portents, but ask Me not to hasten. (21:37)

خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾
﴿٢١ الأنبياء ٣٧﴾

انسان (کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا) جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو (37:21)

Reference : 17:11 Page 411

وللمزيد راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل) ١١

المزيد حوالہ 11:17 صفحہ 411

NIGGARD - STINGY - MISER GRUDGING

الانسان قسور "شحيح"

تنگ دل - بخيل

My (to them): If you possessed the treasures of the mercy of my Lord you would surely hold them back for fear of spending, for man is ever niggardly. (17:100)

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ١٠٠﴾

کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے (ان کو) بند کر رکھتے اور انسان ہے ہی تنگ دل (100:17)

And grudging, when good befalls him. (70:21)

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾
﴿٧٠ المعارج ٢١﴾

اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے (21:70)

Reference : 4:128 17:11 Page 528

وللمزيد راجع ٤ النساء ١٢٨ ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل) ١١

المزيد حوالہ 11:17 صفحہ 528

SELDOM GRATEFUL

الانسان قليل الامتنان

کم احسان ماننے والا

Say (to them, O Muhammad): He it is Who has created you, and has assigned to you ears and eyes and hearts (Vital organs). Yet how seldom you are grateful. (67:23)

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾
﴿٦٧ الملك ٢٣﴾

وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ (مگر) تم کم احسان مانتے ہو (23:67)

**IMPATIENT - LAMENTING OVER MISFORTUNE
FRUSTRATED AND PANICS WHEN EVIL TOUCHES**

خلق الانسان هلو عاً جزوعاً

کم حوصلہ - تکلیف میں فوراً گھبرا جانے والا

Try man is created very impatient (with a restless disposition). (70:19)

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾
﴿٧٠ المعارج ١٩﴾

کچھ شک نہیں کہ انسان کم (کچے دل والا) حوصلہ پیدا ہوا ہے (19:70)

Frustrated when evil befalls him (70:20)

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾
﴿٧٠ المعارج ٢٠﴾

جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے (20:70)

**CREATED INTO TOIL STRESS AND TRIAL
(BORN TO STRIVE AND STRUGGLE)**

And (I call to witness) every parent and every offspring. (90:3)

We indeed have created man into toil and struggle. (90:4)

**HUMAN BECOMES OVERWEENING
ON BELIEVING TO BE SELF SUFFICIENT
(POSES TO BE A MASTER OF OWN FATE)**

No, but man does transgress all bounds. (96:6)

That he looks himself independent! (96:7)

**ARDENTLY DEVOTED, AND VIOLENT
IN LOVE OF WEALTH**

And love wealth with abounding love. (89:20)

And in the love of wealth he is violent. (100:8)

**HUMANKIND IS OBLIVIOUS
OF FACTS OF OWN CREATION**

And he has coined for Us a similitude, (comparisons) and has forgotten the (origin) fact of his creation, saying: Who will revive these bones when they have rotted (decomposed) away? (36:78)

Say : He will revive them Who produced them at the first, for He is Knower of every creation, (36:79)

**HUMANKIND WHILE (APPARENTLY) APPEALING
FOR GOOD, ACTUALLY INVOKES FOR EVIL IN
HASTE BEING IGNORANT OF DIVINE WILL**

Man prays for evil as he prays for good; for man has been ever hasty. (17:11)

الحياة الانسانية مملوءة " كبداً

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ ﴿٩٠﴾
﴿٩٠ البلد ٣﴾

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾
﴿٩٠ البلد ٤﴾

يطغى الانسان عند الغنى

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيَّطِيءُ ﴿٦﴾
﴿٩٦ العلق ٦﴾

أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْتَى ﴿٧﴾
﴿٩٦ العلق ٧﴾

الانسان محب " للمال حياً شديداً

وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾
﴿٨٩ الفجر ٢٠﴾

وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾
﴿١٠٠ العديت ٨﴾

ينسى الانسان خلقه

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ مُّجِّي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٣٦﴾
﴿٣٦ يس ٧٨﴾

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾
﴿٣٦ يس ٧٩﴾

رُتَمَا يَسْتَعْجِلُ الْإِنْسَانَ الْهَلُوعُ بِالْخَيْرِ
حسب الظاهر وهو شرله، في الحقيقة

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشُّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾
﴿١٧ بني اسرائيل ١١﴾

تكليف کی حالت میں رہنے والا

اور (قسم ہے) انسانی باپ اور اولاد کی (3:90)

کہ ہم نے انسان کو تکلیف (کی حالت) میں (رہنے والا) بنایا ہے (4:90)

جب اپنے آپ کو خود کفیل محسوس کرتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے

مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے (6:96)

جب کہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے (7:96)

دولت سے سخت محبت کرنے والا

اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو (20:89)

اور وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے (8:100)

اپنی پیدائش کے عمل کی حقیقت کو بھولا ہوا

اور ہمارے بارے میں مثال بیان کرنے لگا اور اپنی (اصل) پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ (جب) ہڈیاں گل سڑ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ (78:36)

کہہ دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے (79:36)

بسا اوقات انسان بے حوصلہ ہو کر (اللہ تعالیٰ کی رضا سے بے خبر) بظاہر اپنے فائدہ مگر درحقیقت اپنے لئے نقصان کی طلب (کے لئے دعا) کرتا ہے

اور انسان جس طرح (جلدی سے) بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے۔ اور انسان جلد باز (پیدا ہوا) ہے (11:17)

UNJUST (FOR ONESELF) - IGNORANT (OF CONSEQUENCES) WICKED AND FOOLISH

We offered the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they shrank from bearing it and were afraid of it. And man assumed it. He has proved (himself) a tyrant and a fool. (33:72)

So Allah has to punish hypocritical men and hypocritical women, and idolatrous men and idolatrous women. But Allah pardons believing men and believing women, and Allah is Forgiving, most Merciful. (33:73)

الانسان ظلوم "جهول"

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٧٢﴾

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٧٣﴾

ظالم اور جاہل

ہم نے (بار) امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ اور انسان نے اس کو اٹھالیا۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے (72:33)

تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے اور اللہ توبہ دہی بخشنے والا مہربان ہے (73:33)

NEVER GETS TIRED OF APPEALING THE GOOD FOR ONESELF - ALWAYS HANKERING AFTER WORLDLY GAINS

Man tires not of praying for good, and if ill touches him, then he is disheartened, desperate. (41:49)

And when We show favour to man, he withdraws and turns aside, but when ill touches him then he abounds in (loud and long) prayer. (41:51)

الانسان يذكر الله في العسر وينساه في اليسر

لَا يَسْتَعْمِرُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُوسِسُ قَنُوطًا ﴿٤٩﴾
﴿٤١ خم السجدة ٤٩﴾

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾
﴿٤١ خم السجدة ٥١﴾

مطلب براری کے لئے لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہوئے تھکتا نہیں

انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ناامید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے (49:41)

اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور کنارہ کش ہو جاتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے (51:41)

More Reference : 10:12,22 17:67 29:65
Page 406 124 407
1:32 39:49
07 408

المعزین راجع ۱۰ یونس: ۲۲، ۱۷ الإسراء (بھی اسرائیل): ۲۷
۲۹ العنکبوت: ۶۵ ۳۱ لقمان: ۳۲ ۳۹ الزمر: ۴۹
الصفحة ۴۰۸، ۴۰۷، ۱۲۴، ۴۰۶

مزید حوالہ 22,12:10 67:17 65:29
406 124 407
صفحة 49:39 32:31
408 407

TAKES BOUNTIES AS GIFT - ATTRIBUTES DIVINE BLESSINGS AS OUTCOME OF OWN GOOD QUALITIES AND SUPPOSED "GOODLUCK"

And if We cause him to taste mercy after some hurt that has touched him, he will say: This is my own; and I deem not that the Hour will ever rise, and if I am brought back to my Lord, I surely shall be better off with Him--But We shall tell those who disbelieve (all) that they lied, and We shall make them taste the punishment. (41:50)

And if We cause him to taste mercy after some hurt that has touched him, he will say: This is my own; and I deem not that the Hour will ever rise, and if I am brought back to my Lord, I surely shall be better off with Him--But We shall tell those who disbelieve (all) that they lied, and We shall make them taste the punishment. (41:50)

يزعم رحمة الله حقاله ويظن النعيم من كسب يده

وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِمَّا مِنْ بَعْدِ خِزْيٍ آتَتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ الْخُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ عَذَابِ عَلِيظٍ ﴿٥٠﴾
﴿٤١ خم السجدة ٥٠﴾

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿٨٩﴾
﴿٨٩ الفجر ١٥﴾

رحمت رب تعالیٰ کو اپنا حق سمجھتا ہے

اور نعمتوں کو محض اپنی خوبیوں کا ثمر قرار دیتا ہے

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو اور اگر (قیامت سچ بھی ہو اور) میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا بھی جاؤں تو میرے لئے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے (50:41)

مگر انسان (عجیب مخلوق ہے کہ) جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے۔ تو (انسان) کہتا ہے کہ (آہا) میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی (15:89)

But whenever He tries him (other wise) by straitening his means of life, he (despairs) and says: My Lord has despised me. (89:16)

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾
(الفجر ١٦)

اور جب وہ اس کو (دوسری طرح) آزماتا ہے تو اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ (ہائے) میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا (16:89)

TENDENCY TOWARDS CARELESSNESS IN REMEMBRANCE OF ALLAH (SWT) APATHY TO DIVINE INJUNCTIONS

O man! What has made you careless concerning your Lord, the Bountiful, (82:6)

يغفل الانسان عن ذكر ربه
يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾
(الانفطار ٦)

اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا رجحان
اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بھٹکایا (6:82)

More Reference : 56:62 86:5 Page 402 للمزيد راجع ٥٦ الواقعة: ٦٢: ٨٦ الطارق: ٥٥ 402 62:56 5:86 402

SPIRITUAL STAGES (STATE AND QUALITY) OF HUMAN HEART

کیمیات القلب الإنسانی المسجلات

انسانی قلب کی مختلف کیفیات

Then even after that, your hearts were hardened and became as rocks, or worse than rocks, for hardness. For indeed there are rocks from out which rivers gush. And indeed there are rocks which split asunder so that water flows from them. And indeed there are rocks, which fall down for the fear of Allah. Allah is not unaware of what you do. (2:74)

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوَّسَدُ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُهَا فَتَجْرُبُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْرَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾
(البقرة ٧٤)

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں (74:2)

SACRED (SOUND) HEART

But he who brings to Allah a pure heart. (26:89)

القلب السليم
إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾
(الشعراء ٨٩)

پاک (بے عیب) دل قلب سليم
ہاں جو شخص اللہ کے پاس بے عیب دل لے کر آیا (وہ سچ جائے گا) (89:26)

LOCKED HEART - CONCEALED - UNDER WRAPPER AND VEIL

And they say: Our hearts are hardened. But Allah has cursed them for their unbelief. Little is that which they believe. (2:88)

القلب الأغلف
وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾
(البقرة ٨٨)

قفل زدہ دل (دل پر پردہ)
اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں (نہیں) بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے پس یہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں (88:2)

More Reference : 17:46 41:5 47:24 للمزيد راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٤٦: ٤١ حم السجدة (صلت): ٥: ٤٧ محمد: ٢٤: 24:47 5:41 46:17 854, 859, 858

HEART THAT GROWS BLIND

Have they not traveled in the land, and have they hearts where with to feel and ears where with to hear? For indeed it is not the eyes that grow blind, but the hearts, which are with in the breasts, that grow blind. (22:46)

القلوب العميان
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَلَمْ تَكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾
(الحج ٤٦)

اندھے دل
کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل (ایسے) ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان (ایسے) ہوتے کہ ان سے (واقعات کو) سن سکتے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں (وہ) اندھے ہوتے ہیں (46:22)

DISGUSTED - HATEFUL - SHUDDER - REPELLED - HEART

And when Allah alone is mentioned, the hearts of those who believe not in the hereafter are repelled, and when those (whom they worship) beside Him are mentioned, they are glad. (39:45)

HEART BLESSED WITH "SERENITY" (CALM AND SECURITY)

For Detail Consult : 9:26,40 48:4,18,26
Page 718,693 654,713,715

HARDENED (STONY) HEART

For Detail Consult : 2:74 6:43 22:53
Page 413 393 734
39:22 57:16
89 218

SEALED OFF HEART

For Detail Consult : 2:6 7:100,101 40:35
Page 858, 309, 904, 236, 747, 750

STAINED (RUSTED) HEART

For Detail Consult : 83:14 Page 825

HEART WHICH TURNS RIGHTEOUS DUE TO AWE OF ALLAH(SWT)

For Reference : 2:74 57:16 Page 413,218

HEART REVERTING (APPROACHING) TO ALLAH(SWT)

For Reference : 23:60 26:50 Page 468,1029

HEART IN PEACE - FEELING TRANQUIL THROUGH REMEMBRING ALLAH(SWT)

Detail Consult : 13:28 Page 295

DIVIDED (SO AT ODDS) HEART

Detail Consult : 59:14 Page 655

DISEASED (SICK) HEART

Detail Consult : 2:10 5:52 8:49
Page 748 748 749
9:25 22:53 24:50 33:12,32,60
734 578 710, 543,481
4:20,29 74:31
1,663 896

القلب المشمئز المنقبض

وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾
﴿٣٩ الزمر ٤٥﴾

السكينة من الله في القلوب:

وللتفصيل راجع ٩ التوبة: ٤٠، ٢٦، ٤٨ الفتح: ٤٠، ١٨، ٤٠
الصفحة ٧١٥، ٧١٣، ٦٥٤، ٦٩٣، ٧١٨

القلب القاسي

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٧٤ ٦ الأنعام: ٤٣
٢٢ الحج: ٥٣ ٣٩ الزمر: ٢٢ ٥٧ الحديد: ١٦
الصفحة 218, 89, 734, 393, 413

القلب المختوم عليه

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٦ ٧ الأعراف: ١٠٠، ١٠١
٤٠ المؤمنون (غافر): ٣٥ ٤٧ محمد: ١٦ ٥٣ المنافقون: ٤
الصفحة ٧٥٠، ٧٤٧، ٢٣٦، ٩٠٤، ٣٠٩، ٨٥٨

القلب ران عليه

وللتفصيل راجع ٨٣ المطففين: ١٤ الصفحة ٨٢٥

القلب الواجل

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٧٤ ٥٧ الحديد: ١٦

القلب المنيب

وللتفصيل راجع ٢٣ المؤمنون: ٦٠ ٢٦ الشعراء: ٥٠

طمأنينة القلب

وللتفصيل راجع ١٣ الرعد: ٢٨ الصفحة ٢٩٥

القلب المشتت

وللتفصيل راجع ٥٩ الحشر: ١٤ الصفحة ٦٥٥

القلب المريض

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٠ ٥ المائدة: ٥٢ ٨ الأنفال: ٤٩
٩ التوبة: ١٢٥ ٢٢ الحج: ٥٣ ٢٤ النور: ٥٠
٣٣ الأحزاب: ١٢، ٣٢، ٦٠ ٤٧ محمد: ٢٩، ٢٠ ٧٤ المدثر: ٣١
الصفحة ٨٩٦، ٦٦٣، ٦٦١، ٤٨١، ٥٤٣، ٧١٠، ٥٧٨، ٧٣٤، ٨٥١، ٧٤٩، ٧٤٨

نفرت کرنے والا دل

اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اس اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں (45:39)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں تسکین

تفصیل کیلئے دیکھئے
26,18,4: 48 40,26: 9
654,713,715 718,693

سخت (پتھر) دل

تفصیل کیلئے دیکھئے
43:6 53:22 74:2
734 393 413
16:57 22:39
218 89

مہرزہ دل

تفصیل کیلئے دیکھئے
35:40 101,100:7 6:2
4:63 16:47
750, 747, 236, 904, 309, 858

زنگ آلود دل

تفصیل کیلئے دیکھئے
825 14:83

اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا دل

تفصیل کیلئے دیکھئے
218,413 16:57 74:2

رجوع کرنے والا دل

تفصیل کیلئے دیکھئے
1029,468 50:26 60:23

مطمئن (پرسکون) دل

تفصیل کیلئے دیکھئے
295 28:13

بکھرا ہوا (منقسم) دل قلب

تفصیل کیلئے دیکھئے
655 14:59

بیمار (مريض) دل

تفصیل کیلئے دیکھئے
125:9 49:8 52:5 10:2
851 749 748 748
29,20:47 60,32,12:33 50:24 53:22
661,663 710, 543,481 578 734
31:74
896

**FOLLOWING VAIN DESIRES
IMPULSES - OWN PASSIONS AND LUSTS**

اتباع الهوى

نفس برستی خواہشات نفسانی کی پیروی

And Allah wants to turn to you in Mercy; but those who follow vain desires, wish you to go tremendously astray. (4:27)

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾
﴿٤ النساء ٢٧﴾

اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے (تمہاری توبہ قبول کرے) اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے (بھٹک کر) دور ہٹ جاؤ (27:4)

And if they respond you not, then know that what they follow only their lusts. And who goes farther astray than he who follows his lust without guidance from Allah. Allah guides not wrongdoing folk. (28:50)

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغيرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾
﴿٢٨ القصص ٥٠﴾

مگر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (50:28)

No but those who do wrong follow their own lusts without knowledge. Who is able to guide him whom Allah has sent astray? For such there are no helpers. (30:29)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ مُنْصِرِينَ ﴿٢٩﴾
﴿٣٠ الروم ٢٩﴾

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ان کا کوئی مددگار نہیں (29:30)

Have you seen him who makes his desire his god, and Allah sends him astray purposely, and seals up his hearing and his heart, and sets on his sight a covering? Then who will lead him after Allah (has condemned him)? Will you not then heed? (45:23)

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَاهُ هُوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِثْرَةً فَمَنْ يَهْدِي مَنْ بَعَدَ اللَّهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾
﴿٤٥ الجاثية ٢٣﴾

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے (گمراہ ہو رہا ہے تو) اللہ نے (بھی) اس کو گمراہ کر دیا۔ اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لاسکتا ہے تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ (23:45)

Is he who relies on a clear proof from his Lord like those for whom the evil that they do is beautified while they follow their own lusts? (47:14)

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾
﴿٤٧ محمد ١٤﴾

بھلا جو شخص اپنے پروردگار (کی مہربانی سے) واضح دلیل کے ساتھ سیدھے راستے پر (چل رہا) ہو وہ ان کی طرح (ہو سکتا) ہے جن کے برے اعمال انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں (14:47)

More Reference : 47:16 Page 747

والمزيد راجع ٤٧ محمد: ١٦: الصفحة ٧٤٧

مزید حوالہ 16: 47 صفحہ 747

**TO OVERCOME OWN PASSIONS
IS A TASK LIKE ATTEMPTING THE ASCENT**

But he has not attempted the Ascent (90:11)

Ah, what will convey to you what the Ascent is! (90:12)

التغلب على الهوى طريق صعب

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾
﴿٩٠ البلد ١١﴾

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾
﴿٩٠ البلد ١٢﴾

خواہشات نفسانی پر قابو پانا ایک دشوار گزار راستہ

مگر وہ گھائی پر سے ہو کر نہ گزرا (11:90)

اور تم کیا سمجھے کہ گھائی کیا ہے؟ (12:90)

**NO ONE CAN HAVE (JUST)
ANYTHING THAT IS HANKERS FOR**

Or shall man have what does he covet? (53:24)

But to Allah belongs the after (life), and the former. (53:25)

لا يكون للإنسان كل ما ياتمنى

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمْتَلِي ﴿٢٤﴾
﴿٥٣ النجم ٢٤﴾

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾
﴿٥٣ النجم ٢٥﴾

انسان کی ہر آرزو پوری نہیں ہوتی

کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ (24:53)

آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے (25:53)

Yet you will not, unless Allah wills. Allah is Knower, Wise. (76:30)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾
﴿٧٦ الدھر ٣٠﴾

اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے (30:76)

ULTIMATE FATE OF FOLLOWERS OF OWN IMPULSE

عاقبة متبعین ہواہم

نفس (مادہ) پرستی کا انجام

Detail Consult : Page 425,426

والتفصیل راجع الصفحة ٤٢٥، ٤٢٦

تفصیل کیلئے دیکھئے صفحہ 426,425

WHO ADORE OWN IMPULSE ARE LIKE LIVESTOCK

المتبعون ہواہم کالانعام

**خواہشات نفسانی کے پیروکار
جانور کی مانند ہیں**

Have you seen him who chooses for his god his own lust? Would you then be guardian over him? (25:43)

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴿٤٣﴾
﴿٢٥ الفرقان ٤٣﴾

کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ (43:25)

Or deem you that most of them hear and understand? They are but as the cattle, no but they are farther astray! (44:44)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾
﴿٢٥ الفرقان ٤٤﴾

یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ (نہیں) یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں (44:25)

Reference : 45:23 91:10
Page 415, 417

والمزيد راجع ٤٥ التجاثية ٢٣: ٩١ الشمس: ١٠
الصفحة ٤١٥، ٤١٧

المزيد راجع ١٠: ٩١ ٢٣: ٤٥
صفحة 417, 415

PERSON WHO FOLLOWS OWN WHIMS RESEMBLES WITH DOG

مثل متبع الهوى كمثل الكلب

خواہشات نفس کا غلام انسان کتے کی مانند

Had We wished We could have seduced him by their means, but he long to the earth and followed his own lust. Therefore his likeness is the likeness of a dog; if you attack him he pants with his tongue out, and if you leave him he pants with his tongue out. Such is the likeness of the people who deny Our relations. Narrate to them the history (of the men of old), that haply they may take thought. (76:76)

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا وَلَكِنَّهَا أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا هَبْوَةٌ مِثْلُ الْكَلْبِ إِنْ تَحِيلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٦﴾
﴿٧ الاعراف ١٧٦﴾

اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اس (کتے) درجے) کو بلند کر دیتے۔ مگر وہ پستی (دنیا) کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی (حملہ) کر دو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو (ان سے) یہ قصہ بیان کر دو۔ تاکہ وہ لوگ فکر کریں (کچھ سوچیں) (176:7)

How evil is the comparison of the folk who denied Our revelations, and it is their own soul they hurt. (77:77)

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ ﴿٧٧﴾
﴿٧ الاعراف ١٧٧﴾

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال بہت بری ہے اور انہوں نے نقصان (کیا تو) اپنا ہی کیا (177:7)

He whom Allah leads, he indeed is led aright, while he whom Allah sends astray they indeed are losers. (78:78)

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٧٨﴾
﴿٧ الاعراف ١٧٨﴾

جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (178:7)

DIFFERENT STAGES OF IMPROVEMENT OF A SOUL

کفیات النفس المختلفة

مختلف کیفیات نفس

<p>HOW TO PURIFY THE SOUL</p>	<p>تزکیة النفس</p>	<p>نفس پر غلبہ (تزکیہ نفس) کیسے ممکن ہے</p>
<p>SOUL, PRONE TO COMMIT EVIL</p>	<p>النفس الامارة</p>	<p>نفس امارہ (برائی پر ابھارنے والا نفس)</p>
<p>I do not absolve myself (of blame) Indeed the (human) soul incites to evil, unless whereon my Lord do bestow His mercy. My Lord is Forgiving, Merciful. (12:53)</p>	<p>وَمَا أَرْبِيئِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾ ﴿١٢ يوسف ٥٣﴾</p>	<p>میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا بے شک نفس (امارہ انسان کو) برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرسے۔ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے (53:12)</p>
<p>SELF - REPROACHING SOUL (REBUKING) CONSCIENCE DIFFERENTIATING GOOD FROM THE EVIL</p>	<p>النفس اللوامة</p>	<p>نفس اللوامہ - ضمیر (ملامت کرنے والا نفس)</p>
<p>I do swear by the accusing soul. (75:2)</p>	<p>وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٥ القيامة ٢﴾</p>	<p>میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو (2:75)</p>
<p>SOUL IN A STATE OF COMPLETE REST AND SATISFACTION (HAVING ATTAINED THE GOAL OF PERFECTION)</p>	<p>النفس المطمئنة</p>	<p>نفس مطمئنة (اطمینان والی روح)</p>
<p>(To the righteous soul will be said:) O (you) soul in (complete) rest and satisfaction! (89:27)</p>	<p>يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٨٩﴾ ﴿٨٩ الفجر ٢٧﴾</p>	<p>اے اطمینان پانے والی روح! (27:89)</p>
<p>Return to your Lord, content in His good pleasure! (89:28)</p>	<p>ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٨٩﴾ ﴿٨٩ الفجر ٢٨﴾</p>	<p>اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی (28:89)</p>
<p>REWARDS ON PURIFYING SOUL</p>	<p>الاجر عند تزكية النفس</p>	<p>نفس پر غلبہ (قابو پالینے) کا انعام</p>
<p>But as for him who feared to stand before his Lord and restrained his soul from lust, (79:40)</p>	<p>وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٧٩﴾ ﴿٧٩ النزعت ٤٠﴾</p>	<p>اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو دنیاوی خواہشوں سے روکتا ہے (40:79)</p>
<p>The Garden will be his home. (79:41)</p>	<p>فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٧٩﴾ ﴿٧٩ النزعت ٤١﴾</p>	<p>اس کا ٹھکانا بہشت ہے (41:79)</p>
<p>He is successful who purifies himself (87:14)</p>	<p>قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٧ الاعلیٰ ١٤﴾</p>	<p>بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا (14:87)</p>
<p>And inspired it (with conscience of) what is wrong for it and (what is) right for it. (91:8)</p>	<p>فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٩١﴾ ﴿٩١ الشمس ٨﴾</p>	<p>پھر اس کو بدکاری (سے بچنے) اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی (8:91)</p>
<p>He is indeed successful who causes it to grow, (91:9)</p>	<p>وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿٩١﴾ ﴿٩١ الشمس ٩﴾</p>	<p>کہ جس نے (اپنے) نفس (یعنی روح) کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا (9:91)</p>
<p>And he is indeed a failure who stunts it. (91:10)</p>	<p>قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩١﴾ ﴿٩١ الشمس ١٠﴾</p>	<p>اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ ناکام رہا (10:91)</p>

**WORLDLY LIFE - PROBATION
EPHEMERAL-TRANSITORY PERIOD**

الحیوة الدنیا

دنیا کی زندگی

**COMFORTS OF TEMPORARY WORLD
TRANSITORY LIFE**

Beautified for mankind is love of the joys (that come) from women and offspring, and stored up heaps of gold and silver, and horses branded (with their mark), and cattle and land. That is comfort of the life of the world. Allah! With Him is a more excellent abode. (3:14)

O mankind! Keep your duty to your Lord and fear a Day when the parent will not be able to avail the child in any way nor the child to avail the parent. Indeed Allah's promise is the very truth. Let not the life of the world beguile you, nor let the deceiver beguile you in regard to Allah. (31:33)

And were it not that mankind would have become one community, We might well have appointed, for those who disbelieve in the Beneficent, roofs of silver for their houses and stairs (of silver) whereby to mount, (43:33)

And for their houses doors (of silver) and couches of silver whereon to recline, (43:34)

And ornaments of gold. Yet all that would have been but a provision of the life of the world. And the Hereafter with your Lord would have been for those who keep from evil. (43:35)

**WORLDLY LIFE IS NOTHING BUT
JUST AN AMUSEMENT AND PLAY**

Nothing is the life of the world but a pastime and a sport. Better far is the abode of the Hereafter for those who keep their duty (to Allah). Do you then no sense? (6:32)

متاع الحیوة الدنیا الفانیة

زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المنقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحراث ذلك متاع الحیوة الدنیا والله عندہ حسن المآب ﴿١٤﴾
﴿٣ آل عمران ١٤﴾

یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخلشوا یوما لا یجزی والد عن والدہ ولا مولودہم جازع عن والدہ شیئا من شیء وعد الله حق فلا تغرنکم الحیوة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ﴿٣١﴾
﴿٣١ لقمان ٣٣﴾

ولولا ان یتکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن ینکر بالرحمن لیوتهم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون ﴿٤٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ٣٣﴾

ولیوتہم ابوابا وسرا علیہا یتکئون ﴿٤٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ٣٤﴾

ونخرقنا وان کل ذلك لمتاع الحیوة الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین ﴿٤٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ٣٥﴾

الحیوة الدنیا. لعب و لہو

وما الحیوة الدنیا الا لعب ولہو وللدائر الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون ﴿٣٢﴾
﴿٦ الانعام ٣٢﴾

عارضی دنیا کے سامان

لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی خوش نما معلوم ہوتی ہے (مگر) یہ سب دنیا ہی کی زندگی کا سامان ہے۔ اور اللہ کے پاس تو بہت اچھا ٹھکانا ہے (14:3)

اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے۔ اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آسکے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور نہ فریب دینے والا (شیطان) تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے (33:31)

اور اگر یہ (خیال) نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں۔ ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنادیتے اور سیڑھیاں (بھی) جن پر وہ چڑھتے (33:43)

اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں (34:43)

اور (خوب زینت و آرائش کر دیتے) اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لئے ہے (35:43)

**دنیا کی زندگی کی حقیقت محض
کھیل اور تماشہ**

اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشہ ہے۔ اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے (یعنی) ان کے لئے جو (اللہ سے) ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ (32:6)

This life of the world is but a pastime and a game. The home of the Hereafter that is Life, if they but knew. (29:64)

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۗ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَاةُ ۗ أَمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشہ ہے اور (ہمیشہ) زندگی (کا مقام) تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ (لوگ) سمجھتے (64:29)

They know only some appearance of the life of the world, and are heedless of the Hereafter. (30:7)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ﴿٧﴾

یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں۔ اور آخرت (کی طرف) سے غافل ہیں (7:30)

The life of the world is but a sport and a pastime. And if you believe and ward off (evil), He will give you your wages, and will not ask you of your worldly wealth. (47:36)

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشہ ہے۔ اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا۔ اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا (36:47)

More Reference : 3:185 4:77 10:54,70
Page 771/860 661 813,846
14:30 21:34,111 31:33 34:5 39:30,47
846 734,757 418 682 737,814
40:39 46:35 73:11
1024 739 757

والنبي راجع ٣ آل عمران: ١٨٥ ٤ النساء: ٧٧ ١٠ يونس: ٧٠
١٤ ابراهيم: ٣٠ ٢١ الانبياء: ١١١ ٣١ لقمان: ٢٣
٣٤ سباء: ٥ ٣٩ الزمر: ٥٣ ٤٠ المؤمنون (غافر): ٢٩
٤٦ الاحقاف: ٢٥ ٧٣ المزمل: ١١

مزید حوالہ 30:14 70,54:10 77:4 185:3
صفحہ 846 846,813 661 771/860
47,30:39 5:34 33:31 111,34:21
814,737 682 418 757,734
11:73 35:46 39:40
757 739 1024

BESTOWING WITH COMFORTS OF WORLDLY LIFE FROM ALLAH(SWT) IS A TEST OF FAITH

And even so We do try some of them by others, that they say: Are these they whom Allah favours among us? Is not Allah best aware of the thanks givers? (6:53)

متاع الحيوۃ الدنيا ليس إلفتنه

دنیا کی زندگی کی آسائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش

We have placed all that is in the earth as an ornament thereof that We may try them: Which of them is best in conduct. (18:7)

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهٰؤٰلَاءِ مَنۢ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمۡ مِّنۢ مَّنۢ مَّنَّ اللّٰهُ بِأَعۡلَمَ بِالشّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾

اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے کہ جو (دولت مند ہیں وہ غریبوں کے بارے میں) کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ (53:6)

And strain not your eyes towards that which We cause so many others among them to enjoy the flower of the life of the world, that We may try them thereby. The provision of your Lord is better and more lasting. (20:131)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لئے سجایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے (7:18)

-----And We try you with evil and with good, for ordeal. And to Us you will be returned. (21:35) PART

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٢٠﴾

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی (زندگی میں) آزمائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا۔ اور تمہارے پروردگار کی (عطا فرمائی ہوئی) روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے (131:20)

وَتَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

----- اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے (35:21) جزو

PERSONS FEELING SATISFIED LOVING THE FLEETING WORLDLY LIFE ARE HEEDLESS OF THE HEREAFTER

Such are those who buy the life of the world at the price of the hereafter: Their punishment will not be lightened, neither will they have support. (2:86)

المنهمكون في زينة الحيوۃ الدنيا والراضون بها عن الآخرة غافلون

دنیا کے اسباب پر خوش اور مطمئن لوگ آخرت کی فکر سے غافل ہیں

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی۔ سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو (اور طرح کی) مدد ملے گی (86:2)

It is but a brief comfort. And afterward their habitation will be hell, an ill abode. (3:197)

﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ﴾^①
﴿۳ آل عمران ۱۹۷﴾

(یہ دنیا کا) تھوڑا سا فائدہ ہے۔ پھر (آخرت میں) تو ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور وہ بری جگہ ہے (3:197)

Then let them laugh a little: They will weep much, as the reward of what they used to earn. (9:82)

﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^②
﴿۹ التوبة ۸۲﴾

یہ (دنیا میں) تھوڑا سا ہنس لیں اور (آخرت میں) ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا (82:9)

Those who expect not the meeting with Us but desire the life of the world and feel secure therein, and those who are neglectful of Our revelations, (10:7)

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾^③
﴿۱۰ یونس ۷﴾

بے شک جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل (ہو رہے) ہیں (7:10)

Their home will be the Fire because of what they used to earn. (10:8)

﴿أُولَٰئِكَ مَا أَوْهَمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^④
﴿۱۰ یونس ۸﴾

ان کا ٹھکانا ان (اعمال) کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے (8:10)

Whoso desires the life of the world and its pomp, We shall repay them their deeds herein, and therein they will not be wronged. (11:15)

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾^⑤
﴿۱۱ ہود ۱۵﴾

جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی (15:11)

Those are they for whom is nothing in the Hereafter but the Fire. (All) that they contrive here is vain and all that they are used to do is fruitless. (11:16)

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ تَاكَاثُفُوعُهُمْ﴾^⑥
﴿۱۱ ہود ۱۶﴾

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش (جہنم) کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کئے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا (16:11)

Those who love the life of the world more than the Hereafter, and debar (men) from the way of Allah and could have it crooked: such are far away. (14:3)

﴿وَالَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾^⑦
﴿۱۴ ابراہیم ۳﴾

جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں۔ یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی پر ہیں (3:14)

Let them eat and enjoy life, and let (else) hopes beguile them. They will come to know! (15:3)

﴿ذُرِّهِمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾^⑧
﴿۱۵ الحجر ۳﴾

(اے محمد) آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا (3:15)

That is because they have chosen the life of the world rather than the Hereafter, and because Allah guides not the disbelieving folk. (107)

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ﴾^⑨
﴿۱۶ النحل ۱۰۷﴾

یہ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا۔ اور اس لئے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (107:16)

Such are they whose hearts and ears and eyes Allah has sealed. And such are the heedless. (16:108)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ
سَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾
﴿١٦ النحل ١٠٨﴾

یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں (108:16)

Assuredly in the Hereafter they are the losers. (16:109)

لَا جَزْمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَسِرُونَ ﴿١٠٩﴾
﴿١٦ النحل ١٠٩﴾

کچھ شک نہیں کہ یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے (109:16)

Whoso desires that (life) which hastens away, We hasten for him therein that We will for whom We please. And afterward We have appointed for him hell; he will endure the heat thereof, condemned, rejected. (17:18)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا
نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ١٨﴾

جو شخص دنیا (کی آسودگی) کا خواہشمند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے لئے جہنم کو (ٹھکانا) مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ پھنکار سن کر اور (بارگاہ الہی) راندہ ہو کر داخل ہوگا (18:17)

Say: Shall We inform you who will be the greatest losers by their works? (18:103)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾
﴿١٨ الكهف ١٠٣﴾

کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں (103:18)

Those whose effort goes astray in the life of the world, and yet they reckon that they do good work. (18:104)

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾
﴿١٨ الكهف ١٠٤﴾

وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی۔ اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں (104:18)

Is he whom We have promised a fair promise, which he will find (true) like him whom We suffer to enjoy awhile the comfort of the life of the world, then on the Day of Resurrection he will be of those arraigned? (28:61)

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ
مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾
﴿٢٨ القصص ٦١﴾

بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہوگا جو (ہمارے روبرو) حاضر کئے جائیں گے (61:28)

Whoever desires the harvest of the Hereafter, We give him increase in its harvest. And whose desires the harvest of the world, We give him thereof, and he has no portion in the Hereafter. (42:20)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي
حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ
مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾
﴿٤٢ الشورى ٢٠﴾

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لئے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا خواست گار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے۔ اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا (20:42)

And on the Day when those who disbelieve are exposed to the Fire (it will be said): You squandered your good things in the life of the world and sought comfort therein. Now this Day you are rewarded with the doom of ignominy because you were disdainful in the land without a right and because you used to transgress. (46:20)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ لَكُمْ
طَبِيبٌ كُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٢٠﴾

اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کئے جائیں گے (تو کہا جائے گا کہ) تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے۔ سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے (یہ) اس کی سزا (ہے) کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے۔ اور اس کی سزا کہ بد کرداری کرتے تھے (20:46)

No but you do love the fleeting now (75:20)

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٧٥﴾
﴿٧٥ القيامة ٧٥﴾

مگر (لوگو) تم دنیا کو دوست رکھتے ہو (20:75)

And neglect the Hereafter. (75:21)

These love fleeting life, and put behind them (the remembrance of) a grievous Day. (76:27)

We, even We, created them, and strengthened their frame. And when We will, We can replace them, bringing others like them in their stead. (76:28)

This is an Admonishment, that whosoever will may choose a way to his Lord. (76:29)

Eat and take your ease (on earth) a little. Surely you are guilty. (77:46)

Then, as for him who rebelled (79:37)

And chose the life of the world. (79:38)

Hell will be his home.. (79:39)

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾

﴿٧٥ القیامۃ ٢١﴾

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ

يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

﴿٧٦ الدهر ٢٧﴾

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا

بَدَلْنَاهُمْ مِثْلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

﴿٧٦ الدهر ٢٨﴾

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ

سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

﴿٧٦ الدهر ٢٩﴾

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ فَجْرٌ مُّؤْتُونَ ﴿٤٦﴾

﴿٧٧ المرسلت ٤٦﴾

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾

﴿٧٩ النزعت ٣٧﴾

وَاشْرَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

﴿٧٩ النزعت ٣٨﴾

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْبَاوِي ﴿٣٩﴾

﴿٧٩ النزعت ٣٩﴾

اور آخرت کو ترک کئے دیتے ہو (21:75)

یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور (قیامت کے) بھاری دن کو پس پشت چھوڑے دیتے ہیں (27:76)

ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ و بندھن کو مضبوط مفاصل بنایا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے ان ہی کی طرح کے اور لوگ لے آئیں (28:76)

یہ تو نصیحت ہے۔ جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے (29:76)

(اے جھٹلانے والو) تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تم بے شک گنہگار ہو (46:77)

تو جس نے سرکشی کی (37:79)

اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا (38:79)

اس کا ٹھکانا دوزخ ہے (39:79)

PEOPLE MOST EAGER TO ENJOY LONG WORLDLY LIFE

حرص الناس على العيش الطويل في الحياة الدنيا

انسان کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ زندگی گزارنے کی خواہش

And you will find them the greediest of mankind for life and (greedier) than the idolaters. (Each) one of them would like to be allowed to live a thousand years. And to live (a thousand years) would by no means remove him from the doom. Allah is aware of what they do. (2:96)

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْحَبٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ ﴿٢ البقرة ٩٦﴾

بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں زیادہ حریص دیکھو گے یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر ان کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے (96:2)

POSSESSIONS AND PROGENY ARE A TRIAL

الاموال و الأولاد فتنة

تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے

Assuredly you will be tried in your property and in your persons, and you will hear much wrong from those who were given the Scripture before you, and from the idolaters. But if you persevere and ward off (evil), then that is of the steadfast heart of angels. (3:186)

لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْيًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ ﴿٣ آل عمران ١٨٦﴾

(اے اہل ایمان) تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی دکھ کی باتیں سنو گے۔ تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں (186:3)

And know that your possessions and your children are a test, and that with Allah is an immense reward. (8:28)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ
وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾
﴿٨ الانفال ٢٨﴾

اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس (نیکیوں) کا بڑا ثواب ہے (28:8)

Think they that in the wealth and sons wherewith We provide them (23:55)

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٥٥﴾

کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں (55:23)

We hasten to them with good things? No, but they perceive not. (23:56)

سَأْرُ لَهُمْ فِي الْغَيْبِ ۗ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٥٦﴾

(تو اس سے) ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں۔ (نہیں) بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں (56:23)

Your wealth and your children are only a temptation, whereas Allah! With Him is an immense reward. (64:15)

إِنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾
﴿٦٤ التغابن ١٥﴾

تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے۔ اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے (15:64)

**YOUR POSSESSIONS AND CHILDREN
MAY NOT TURN YOU AWAY
FROM DEVOTION TO ALLAH(SWT)**

لا تلھکم اموالکم و اولادکم
عن ذکر اللہ

مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی
یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے

And it is neither your wealth nor your children that will bring you near to Us, but he who believes and does good (he draws near). As for such, theirs will be twofold reward for what they did, and they will dwell secure in lofty halls. (34:37)

وَمَا آمَاكُمُ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ
عِنْدَنَا لِنُغْنِيَ الْآمِنِينَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ ۗ
فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَ
هُمْ فِي الْعَرْشَاتِ الْمُتُونِ ﴿٣٧﴾
﴿٣٤ سبا ٣٧﴾

اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے (ہمارا مقرب وہ ہے) جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو انکے اعمال کے سبب دگنابند لے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے (37:34)

O you who believe! Let not your wealth and your children distract you from remembrance of Allah. Those who do so, they are the losers. (63:9)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾
﴿٦٣ المنافقون ٩﴾

اے مومنو! تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں (9:63)

And it will be said (to them): This is that which you used to deny. (83:17)

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
تُكذِّبُونَ ﴿١٧﴾
﴿٨٣ المطففين ١٧﴾

پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے (17:83)

He lived joyous with his folk, (84:13)

إِنَّكَ كَانَتْ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾
﴿٨٤ الانشقاق ١٣﴾

یہ اپنے اہل (و عیال) میں مست رہتا تھا (13:84)

He deemed that he would never return (to Allah). (84:14)

إِنَّكَ ظَنَنْتَ أَنَّ لَنْ يَحُورَ ﴿١٤﴾
﴿٨٤ الانشقاق ١٤﴾

اور خیال کرتا تھا کہ (اللہ کی طرف) لوٹ کر نہ جائے گا (14:84)

Nevertheless his Lord was ever watchful of him! (84:15)

بَلَىٰ ۗ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾
﴿٨٤ الانشقاق ١٥﴾

کیوں نہیں، حالانکہ اس کا پروردگار اسے بخوبی دیکھ رہا تھا (15:84)

Competition in worldly increase distracts you (102:1)

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾
﴿١٠٢ التكاثر ١﴾

(لوگو) تم کو (مال کی) بہت سی طلب نے غافل کر دیا (102:1)

Until you visit the graves. (102:2)

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾
﴿١٠٢ التكاثر ٢﴾

یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں (2:102)

Nevertheless but you will come to know! (102:3)

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾
﴿١٠٢ التكاثر ٣﴾

دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا (3:102)

Again soon you will come to know! (102:4)

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾
﴿١٠٢ التكاثر ٤﴾

پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا (4:102)

Of course, would that you knew (now) with a sure knowledge! (102:5)

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾
﴿١٠٢ التكاثر ٥﴾

دیکھو اگر تم جانتے (یعنی) یقینی علم رکھتے تو غفلت نہ کرتے (5:102)

You shall certainly see Hell-Fire (102:6)

لَتَرُونَ الْجَهَنَّمَ ﴿٦﴾
﴿١٠٢ التكاثر ٦﴾

تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے (6:102)

Then, you will behold it with sure vision. (102:7)

ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾
﴿١٠٢ التكاثر ٧﴾

پھر اس کو تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے (7:102)

WHOSOEVER IS ENRICHED WITH WEALTH AND PROGENY IN HIS WORLDLY LIFE WILL INHERIT THE SAME POSSESSIONS TO ENJOY IN THE HEREAFTER IS A FALSE NOTION OF DISBELIEVERS

زعم الكفار الباطل بأن
خفص العيش في الدنيا
دليل على فلاح الآخرة

منکرین کا باطل عقیدہ
جو اس دنیا میں عیش کر رہا ہے
وہ آخرت میں بھی عیش کرے گا

NO ONE CAN INHERIT WORLDLY POSSESSIONS AFTER DEATH AND HAS TO APPEAR ALONE BEFORE ALLAH(SWT)

ينقطع من الانسان ماله ولده عند
الموت وهو يحصر امام الله فرداً

مال و اولاد کا عارضی تعلق موت کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کو اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے

Have you seen him who disbelieves in Our revelations and says surely I shall be given wealth and children! (19:77)

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَنَّا
لَأُؤْتِيَنَّ مَنَّا ﴿٧٧﴾
﴿١٩ مريم ٧٧﴾

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ (اگر میں پھر سے زندہ ہوا بھی تو یہی) مال اور اولاد مجھے (وہاں) ملے گا (77:19)

Has he perused the Unseen, or has he made a pact with the Beneficent? (19:78)

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ آتَاخُذُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾
﴿١٩ مريم ٧٨﴾

کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں (سے) عہد لے لیا ہے؟ (78:19)

No, but We shall record that which he says and prolong for him a span of torment. (19:79)

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ
مَدًّا ﴿٧٩﴾
﴿١٩ مريم ٧٩﴾

ہرگز نہیں۔ یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں (79:19)

And We shall inherit from him that whereof he talks of, and he will come to Us, alone (without his wealth and children). (19:80)

وَنُرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾
﴿١٩ مريم ٨٠﴾

اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا (80:19)

**STACKING UP WEALTH
AND KEEPING ON ADDING IT**

Who has gathered wealth (of this world) and arranged it. (104:2)

He thinks that his wealth will render him immortal. (104:3)

No, but he will be flung to the Consuming One. (104:4)

الذی جمع المال وعدده

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾
﴿١٠٤ الهمزة ٢﴾

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾
﴿١٠٤ الهمزة ٣﴾

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾
﴿١٠٤ الهمزة ٤﴾

مال گن گن کر جمع کرنے والا

جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے (2:104)

اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کیساتھ رہے گا (3:104)

ہرگز نہیں وہ ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ڈالا جائے گا (4:104)

**PUFFING UP WITH WEALTH
AND BACKING OF MAN AND POWER**

Violent (and cruel), and a bastard (of doubtful birth), besides that. (68:13)

It is because he possesses wealth and children (68:14)

الغرور بكثر المال والأولاد

عُتِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ﴿١٣﴾
﴿٦٨ القلم ١٣﴾

أَنَّ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾
﴿٦٨ القلم ١٤﴾

کثرت مال و دولت اور اولاد کی وجہ سے غرور

مخت خوار اس کے علاوہ بد ذات ہے (13:68)

اس کی سرکشی صرف اس لئے ہے کہ وہ مال دار اور بیٹوں والا ہے۔ (14:68)

**CUMULATIVE DISASTER
FOR GREEDY OF WEALTH AND PROGENY**

Leave Me (to deal) with him whom I created lonely, (74:11)

And then bestowed upon him ample means, (74:12)

And sons abiding in his presence (74:13)

And made (life) smooth for him. (74:14)

Yet he desires that I should give more. (74:15)

By no means, for he has been stubborn to Our revelations. (74:16)

On him I shall impose a fearful doom. (74:17)

حرص المال و الاولاد و عاقبته

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾
﴿٧٤ المدثر ١١﴾

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾
﴿٧٤ المدثر ١٢﴾

وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾
﴿٧٤ المدثر ١٣﴾

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾
﴿٧٤ المدثر ١٤﴾

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾
﴿٧٤ المدثر ١٥﴾

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِتْتَاعِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾
﴿٧٤ المدثر ١٦﴾

سَأَرْهُقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾
﴿٧٤ المدثر ١٧﴾

مال اور اولاد کا حرص اور اس کی سزا

میں اس شخص سے نمٹ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا (11:74)

اور مال کثیر دیا (12:74)

اور (ہر وقت اس کے پاس) حاضر رہنے والے بیٹے (دیئے) (13:74)

اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی (14:74)

ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں (15:74)

ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا (16:74)

ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے (17:74)

**SOME OF SPOUSES AND CHILDREN
MAY BE YOUR ENEMIES**

ربما يكون من الأزواج
والأولاد أعداء

بعض جیون ساتھی اور اولاد بھی
دشمن ہوتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ
عَدُوَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا
وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾
﴿٦٤ التَّغَابُنِ ١٤﴾

اے مومنو! تمہاری عورتوں (رفیق حیات) اور اولاد
میں سے بعض تمہارے دشمن (بھی) ہیں سو ان سے
بچتے رہو اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو
اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے (14:64)

**AMASSING TREASURES
HOARDING GOLD AND SILVER**

كنز الذهب و الفضة

ارٹکاز دولت (سونا چاندی جمع کرنا)

you, who believe! Many of the
(Jewish) rabbis and the (Christian)
monks devour the wealth of
mankind wantonly and debar (men)
from the way of Allah. They who
hoard up gold and silver and spend
not in the way of Allah, to them
will be tidings of a painful doom.
(34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّبِعُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
﴿٩ التَّوْبَةِ ٣٤﴾

اے ایمان والو اکثر (اہل کتاب کے) علماء اور عابد۔
لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی
راہ سے روک دیتے ہیں اور جو لوگ سونا چاندی کا
خزانہ جمع کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ
نہیں کرتے سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر
سنا دیجئے (34:9)

On the Day when it will (all) be
branded in the fire of hell, and their
foreheads and their flanks and their
backs will be branded therewith
(and it will be said to them): Here is
what which you hoarded for
yourselves. Now taste of what you
used to hoard. (9:35)

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾
﴿٩ التَّوْبَةِ ٣٥﴾

جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ اس خزانے کو دوزخ کی آگ
میں گرم کیا جائے گا پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں
اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا یہ وہ
ہے جس کو تم نے اپنے لئے جمع کر کے رکھا تھا سو اب اپنے
جمع کرنے کا مزہ چکھو (35:9)

Reference : 3:180 104:2,3,4
15,16 59:7 Page 498, 425, 669

والمزید راجع ۳ آل عمران ۱۸۰: ۱۰۴ الہمزہ ۳:۲۰۷
۷۷ المدثر ۱۶:۱۵ ۵۹ الحشر ۷

مزید حوالہ 3:180 104:2,3,4 15,16 59:7
صفحہ 498, 425, 669 7: 59

**PARABLE EXPLAINING THE REALITY
OF THIS TRANSITORY LIFE**

مثل الحیوة الدنیا الفانیة

دنیا کے عارضی اسباب کی مثال

The similitude of the life of the
world is only as water which We
send down from the sky, then the
earth's growth of that which men
and cattle eat mingles with it till,
when the earth has taken on her
ornaments and is embellished, and
then people deem that they are
masters of her, Our commandment
comes by night or by day and We
reap it as reaped corn as if it had
not flourished yesterday. Thus We
do expound the revelations for
people who reflect. (10:24)

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَأَخْتَلَط بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَأَزْيِنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا
أَنَّهُمْ أَمْزَنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَأَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا
كَأَن لَّمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَقُصُّ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾
﴿١٠ يُونُسَ ٢٤﴾

دنیا کی زندگی کی مثال مینہ کی سی ہے ہم نے اس کو آسمان
سے برسایا۔ پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور
کھاتے ہیں مل کر نکالا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما
اور آراستہ ہو گئی۔ اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر
پوری دسترس رکھتے ہیں ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم
(عذاب) آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ (کرایا کر) ڈالا
کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے
ہیں ان کے لئے ہم (اپنی قدرت کی) نشانیاں اسی طرح
کھول کھول کر بیان کرتے ہیں (24:10)

And We shall make all that is therein
a barren mound. (18:8)

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾
﴿١٨ الكهف ٨﴾

اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو برباد کر کے بخر میدان
کردیں گے (8:18)

And coin for them the similitude of the life of the world as water, which We send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it and then becomes dry twigs that the winds scatter. Allah is Able to do all things. (18:45)

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَا
انزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾
﴿١٨ الكهف ٤٥﴾

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو (وہ ایسی ہے) جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا۔ تو اس کے ساتھ زمین سے سبزہ ملا جلا نکلتا ہے پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں۔ اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (45:18)

Know that the life of this world is only play, and idle talk, and pageantry, and boasting among you, and rivalry in respect of wealth and children; as the likeness of vegetation after rain, whereof the growth is pleasing to the husbandmen (farmers) but afterward it dries up and you see it turning yellow then it becomes straw. And in the Hereafter, there is grievous punishment, and (also) forgiveness from Allah and His good pleasure, whereas the life of the world is but matter of illusion. (57:20)

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ
يَهْبِئُ فَتَأْوِيهِ أَصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمْتَاعٌ
الْعُرُورِ ﴿٢٠﴾
﴿٥٧ الحديد ٢٠﴾

جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت (و آرائش) اور تمہارے آپس میں فخر (وغرور) اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب (و خواہش) ہے (اس کی مثال ایسی ہے) جیسے بارش کہ (اس سے کھیتی آگتی اور) کسانوں کو کھیتی اچھی لگتی ہے پھر وہ خوب زور پر آتی ہے پھر (اے دیکھنے والے) تو اس کو دیکھتا ہے کہ (پک کر) زرد پڑ جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں (کافروں کے لئے) عذاب شدید اور (مومنوں کے لئے) اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں (20:57)

More Reference : 18:39 to 43
Page 1112, 1113

وللمزيد راجع ١٨ الكهف: ٣٩ الى ٤٣
الصفحة ١١١٢، ١١١٣

مزید حوالہ 18:39-43
صفحہ 1112، 1113

REALITY OF SPENDING FOR GRASPING
WORLDLY GAINS

The likeness of that which they spend in this life of the (material) world is as the likeness of a biting, icy wind, which smites the harvest of people who have wronged their own souls, and devastates it. Allah have not wronged them but they did wrong themselves. (3:117)

حقیقۃ الانفاق فی الحیوۃ الدنیا

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ
أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾
﴿٣ آل عمران ١١٧﴾

دنیا کی زندگی کے لئے خرچ
کرنے کی حقیقت

یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اسے تباہ کر دے اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ (117:3)

ULTIMATE FATE OF FORMER PEOPLE,
WHO TURNED INSOLENTLY PROUD
DUE TO WORLDLY POSSESSIONS

And when Our clear revelations are recited to them those who disbelieve say to those who believe: Which of the two parties (yours or ours) is better in position, and more imposing as an assembly. (19:73)

عاقبۃ الأقسام الفرحين علی
زینۃ الحیاۃ الدنیا

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا
وَ أَحْسَنُ نَدْبًا ﴿٧٣﴾
﴿١٩ مريم ٧٣﴾

دنیاوی زندگی کے اسباب (فراخی معیشت)
پر اترانے والے لوگوں (اقوام) کا انجام

اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں فریقین میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں؟ (73:19)

And how many a generations have We destroyed before them, who were more imposing in respect of gear and outward seeming! (19:74)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ
أَتْنَانًا وَرِيًّا ﴿٧٤﴾
﴿١٩ مريم ٧٤﴾

اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں۔ وہ لوگ (ان سے) ساز و سامان اور نام و نمود میں کہیں اچھی تھیں (19:74)

Say: As for him who is in error, the Beneficent will surely prolong his span of life until, when they see that which they were promised, whether it be punishment (in the world), or Hour (of Doom), they will know who is worse in position and who is weaker as an army. (19:75)

And how many a communities (towns) have We destroyed that was rankless for its means of livelihood! And on farther side are their dwellings, which have not been inhabited after them except a little. And We, even We, are their heirs (28:58)

And We sent not to any township a warner, but its pampered ones declared: we are disbelievers in that which you bring to us. (34:34)

And they say: We are more (than you) in wealth and children. We cannot be chastised. (34:35)

Have they not travelled in the land to see the nature of the consequence for those who disbelieved before them? They were mightier than these in power and (in the) traces which they left behind them) in the earth. Yet Allah seized them for their sins, and they had no protector from Allah. (40:21)

That was because their messengers not bringing them clear proofs (of Allah's Sovereignty) but they disbelieved; so Allah seized them. He is Strong, Severe in punishment. (22:22)

Have they not travelled in the land to see the nature of the consequence for those before them? They were more numerous than these, and mightier in power and (in the) traces which they left behind them) in the earth. But all that they used to avail them not. (40:82)

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّةً فَمَا إِذَا أُولُوا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَ إِنَّمَا السَّاعَةُ فَمَنْ يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

﴿١٩ مريم ٧٥﴾

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَغَتْ مَسْكِنَتَهُمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

﴿٢٨ القصص ٥٨﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾

﴿٣٤ سبا ٣٤﴾

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾

﴿٣٤ سبا ٣٥﴾

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا مِنْهُمْ أَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٢١﴾

﴿٤٠ المؤمن ٢١﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

﴿٤٠ المؤمن ٢٢﴾

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

﴿٤٠ المؤمن ٨٢﴾

کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیتے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب یا قیامت تو (اس وقت) جان لیں گے کہ مرتبہ کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے (75:19)

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی عیش و عشرت میں اتر رہے تھے۔ سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم۔ اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے (58:28)

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں (34:34)

اور (یہ بھی) کہنے لگے کہ ہم بہت سامان اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا (35:34)

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ وہ ان سے زور اور زمین میں یادگاریں (بنانے) کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ اور ان کو اللہ (کے عذاب) سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا (21:40)

یہ اس لئے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک وہ صاحب قوت (اور) سخت عذاب دینے والا ہے (22:40)

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ (حالانکہ) وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں یادگاریں (بنانے) کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا (82:40)

And when their messengers brought them clear proofs (of Allah's Sovereignty) they exulted in the knowledge they (themselves), possessed. And that which they were to mock befell them. (40:83)

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ تَاكَاثُرُهُمْ
﴿٤٠﴾ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٠﴾
﴿٤٠﴾ المنومن ٨٣

اور جب ان کے پیغمبران کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم (اپنے خیال میں) ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے اور جس چیز سے مذاق کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا (83:40)

How many towns have We wiped out which were much stronger than your own town which has expelled you? They had no supporter. (47:13)

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي
أَخْرَجْتَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
﴿٤٧﴾ محمد ١٣

اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس (کے باشندوں نے) تمہیں (وہاں) سے نکال دیا زور قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں۔ ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا (13:47)

And how many a generations We destroyed before them, who were mightier than these in prowess so that they overran the lands! Had they any place of refuge (50:36)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قُرُونٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ
بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجِيصٍ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠﴾ ق ٣٦

اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے۔ کہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ (36:50)

**DO NOT AWESTRUCK WITH
WORLDLY PRIVILEGES OF NONBELIEVERS**

Beautified is the life of the world for those who disbelieve; they make a jest of the believers. But those who keep their duty to Allah will be above them on the Day of Resurrection. Allah gives without stint to whom He wills. (2:212)

لا يغير نكم اموال الكفار
و كثره عدد هم

بے دین کی زندگی (مالی اور عدوی قوت) سے مرعوب نہ ہوں

زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْتَعْرَبُونَ
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾
﴿٢١٢﴾ البقرة ٢١٢

اور جو کافر ہیں ان کے لئے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے مذاق کرتے ہیں لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے (212:2)

Let not the vicissitude (of the success) of those who disbelieve, in the land, deceive you (O Muhammad). (3:196)

لَا يَغْتِرْكُ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾
﴿١٩٦﴾ آل عمران ١٩٦

(اے پیغمبر) کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکا نہ دے (196:3)

So let not their riches nor their children please you. Allah thereby intends but to punish them in the life of the world and that their souls shall pass away while they are disbelievers (9:55)

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا
يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَتَرْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥﴾ التوبة ٥٥

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور (جب) ان کی جان نکلے تو (اس وقت بھی) وہ کافر ہی ہوں (55:9)

Strain not your eyes towards that which We cause some classes among them to enjoy, and be not grieved on their account, and lower you wing (in tenderness) for the believers. (15:88)

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ
لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾
﴿٨٨﴾ الحجر ٨٨

اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو (فوائد دنیاوی سے) مستفید کیا ہے تم ان کی طرف (رغبت سے) آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر افسوس کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا (88:15)

Restrain yourself along with those who appeal to their Lord at morn and evening, seeking His countenance; and let not your eyes overlook them, desiring the pomp of the life of the world; and obey not him whose heart We have made heedless of Our remembrance, who follows his own lust and whose case has been abandoned. (18:28)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجْهًا وَلَا تَعْدُ
عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِينَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا
تَطْعَمَنْ مِّنْ اَغْفَلْنَا قَلْبًا عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ اَمْرًا فُرْقًا ﴿٢٨﴾
﴿٢٨﴾ الكهف ٢٨

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔ اور تمہاری نگاہیں ان میں سے (گزر کر اور طرف) نہ دوڑیں۔ کہ تم آرائش زندگی کے خواست گار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہا نہ ماننا (28:18)

None argue concerning the revelations of Allah except those who disbelieve, so let not their turn of fortune in the land deceive you. (40:4)

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَا يَخْرُوكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿٤٠﴾
المؤمن ٤٠

اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں۔
تو ان لوگوں کا شرور میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں
نہ ڈال دے۔ (4:40)

More Reference : 5:36 10:54 13:18 39:47
92:10 to 13 Page 813, 814, 498

والعزیز راجع ٥ المائدة: ٣٦ ١٠ يونس: ٥٤ ١٣ الرعد: ١٨
٣٩ الزمر: ٧ ٩٢ الليل: ١٠ الى ١٣

میزینہ حوالہ 47:39 18:13 54:10 36:5
صفحہ 498, 814, 813 13:10:92

STAY AWAY FROM THOSE WHO ARE DECEIVED BY THIS WORDLY LIFE

And forsake those who take their religion for a pastime and a jest, and whom the life of the world beguiles. Remind (mankind) hereby lest a soul be destroyed by what it earned. (6:70) PART

النهي عن اتخاذ الصداقة
بالمهمكين في زينة الحياة الدنيا

صرف دنیا کی زندگی میں مگن لوگوں سے دوستی
اور تعلق کی ممانعت

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَهَوًّا
وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرِيَهُ أَنْ تَبْسَلَ
نَفْسًا يَمَّا كَسَبَتْ ﴿٦٠﴾
الانعام ٧٠ جزء

اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشہ بنا رکھا ہے
اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور
ان سے کچھ کام نہ رکھو ہاں اس (قرآن کے) ذریعے
سے نصیحت کرتے رہو تا کہ (قیامت کے دن) کوئی اپنے
اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔
(6:70) جزو

Then withdraw from him who flees from Our remembrance and desires the life of the world. (53:29)

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ هَٰذَا دِينَهُ
ذَكَرْنَا وَلَمْ يَمُرِدْ
إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾
النجم ٢٩

تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی
زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو
(29:53)

BOASTING AND SCATTERING OF WEALTH FOR WORLDLY INFLUENCE IS PUTTING ONESELF INTO SNARES

He thinks that none has power over him? (90:5)

بدل الأموال الكثيرة تفاخرا يدل على سوء
تفكير صاحبه وعلى عدم نظره في العاقبة

دنیاوی ٹھاٹھ کے لئے اخراجات کی تشبیر
کرنے والے شخص کی غلط فہمی۔ ناعافیت اندیشی

And he may say, I have destroyed the greatest wealth: (90:6)

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾
٩٠ البلد ٥
يَقُولُ أَهْلَكَ مَالًا لَبَدًّا ﴿٦﴾
٩٠ البلد ٦

کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائیگا
(5:90)

He thinks that none beholds him? (90:7)

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾
٩٠ البلد ٧

کتا ہے کہ میں نے بہت سامان برباد کر دیا (6:90)
کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں
(7:90)

PREFERRING THE HEREAFTER INSTEAD WORLDLY LIFE WAS ALSO PRESCRIBED TO JEWS AND CHRISTIANS

But you prefer the life of the world (90:16)

كانت اليهود و النصارى أيضا
مأمورين بإيثار الآجلة على العاجلة

ترجیح آخرت کا حکم یہود و نصاریٰ کو بھی دیا گیا

Although the Hereafter is better and more lasting. (87:17)

بَلْ تَوَثَّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾
٨٧ الاعلى ١٦
وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾
٨٧ الاعلى ١٧

مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو
(16:87)
حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پابندہ تر ہے
(17:87)

This is (written) in the former Scriptures, (87:18)

إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾
٨٧ الاعلى ١٨
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾
٨٧ الاعلى ١٩

بیشک یہی بات پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے
(18:87)
(یعنی) ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں (19:87)

The Books of Abraham and Moses. (87:19)

**GLAD TIDINGS FOR WHO
PREFER THE HEREAFTER
INSTEAD OF WORLDLY GAINS**

Say: Shall I inform you of something better than that? For those who keep away from evil, with their Lord, are Gardens underneath which rivers flow, and pure companions, and contentment from Allah. Allah is Seer of His bondmen. (3:15)

Allah enlarges livelihood for whom He wills, and straitens (it for whom He wills); and they rejoice in the life of the world, whereas the life of the world is but brief comfort as compared with the Hereafter. (13:26)

See how We prefer one above another, and surely the Hereafter will be greater in degrees and greater in preferment. (17:21)

Wealth and children are an ornament of life of the world. But the good deeds, which endure, are better in your Lord's sight for reward, and better in respect of hope. (18:46)

And whatsoever you have been given is a comfort of the life of the world and an ornament thereof; and that which Allah has is better and more lasting. Have you then no sense? (28:60)

Now whatever you have been given is but a passing comfort for the life of the world, and that which Allah has is better and more lasting for those who believe and put their trust in their Lord. (42:36)

وعد الله تعالى للذين يؤثرون الآخرة
على الحياة الدنيا

قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِمَعِيٍّ مِّنْ ذَلِكُمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾
﴿٣ آل عمران ١٥﴾

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾
﴿١٣ الرعد ٢٦﴾

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِالْآخِرَةِ
أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾
﴿١٧ بني اسرائيل ٢١﴾

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ
الطَّيِّبَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ﴿٤٦﴾
﴿١٨ الكهف ٤٦﴾

وَمَا أَوْتَيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ مِّنَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾
﴿٢٨ القصص ٦٠﴾

فَمَا أَوْتَيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٤٢ الشورى ٣٦﴾

آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے والوں
سے اللہ تعالیٰ کے وعدے

اے پیغمبران سے) کہہ دیجئے کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں
توان چیزوں سے کہیں اچھی ہو (سنو) جو لوگ پرہیزگار ہیں
ان کے لئے اللہ کے ہاں باغات (بہشت) ہیں جن کے
نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پاکیزہ
خوشنویں ہیں اور (سب سے بڑھ کر) اللہ کی خوشنودی۔ اور اللہ
(اپنے نیک) بندوں کو دیکھ رہا ہے (15:3)

اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا
چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر
خوش ہو رہے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی آخرت (کے
مقابلے) میں (بہت) تھوڑا سا مال و متاع ہے (26:13)

دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی
ہے۔ اور آخرت درجوں میں (دنیا سے) بہت برتر
اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے (21:17)

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (رونق و) زینت ہیں اور
نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے
تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ
سے بہت بہتر ہیں (46:18)

اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس
کی زینت ہے۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی
رہنے والی ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ (60:28)

(لوگو) جو (مال و متاع) تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی
زندگی کا (ناپائیدار) فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں
ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے (یعنی) ان لوگوں
کے لئے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ
رکھتے ہیں (36:42)

ISLAM SUPPORTS STRUGGLE OF MANKIND FOR RIGHTEOUS SUCCESS AND IMPROVEMENT IN INDIVIDUAL AND COMMUNITY LIFE

الاسلام یسبح الانسان علی التحرك
للحصول علی الترفیة والפורیة
الحیة الفردیة والاجتماعیة

اسلام میں ہی انسان کی انفرادی اور اجتماعی
زندگی میں بہتر کامیابی اور ترقی کی جڑیں پائی جاتی
ہیں۔

INDIGENCE AND STARVATION OR DEPRIVATION FROM AMENITIES OF WORLDLY LIFE IS A SIGNAL OF DISPLEASURE OF ALLAH(SWT)

الحرمان من عیش رغید و مکابدة
الجوع والخوف تدل علی سخط الله

بھوک و افلاس اور دنیاوی اسباب سے محرومی
اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے

Allah coins a similitude: A town that dwelt secure and well content, its provision coming to it in abundance from every quarter, but which disbelieved in Allah's favours, so Allah made it experience the pangs of hunger and fear because of what they used to do. (16:112)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾
﴿١٦ النحل ١١٢﴾

اور اللہ ایک آبادی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ (ہر طرح) امن چین سے آبادی تھی۔ ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر (ناشکری کا) مزہ چکھا دیا (112:16)

More Reference : 3:112 6:42,43 7:94
Page 393

والمزید راجع ۳ آل عمران ۱۱۲: ۶ الأنعام: ۴۲، ۴۳
۷ الأعراف: ۹۴ الصفحة ۳۹۳

والمزید حوالہ: 3:112 6:42,43 7:94
صفحة 393

IGNORANCE IN REMEMBRANCE OF ALLAH(SWT) CAN AFFLICT IN DISTRESS AND HARDSHIP EVEN IN THIS TRANSITORY LIFE

الإعراض عن ذكر الله يودي
إلى عيشة ضنك

اللہ کی یاد سے غفلت دنیا کی زندگی میں
تنگی کا موجب بن سکتی ہے

But he who turns away from remembrance of Me, He will have a meager living, and I shall summon him blind to the assembly on the Day of Resurrection. (20:124)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾
﴿٢٠ طه ١٢٤﴾

اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے (124:20)

FORMER WICKED NATIONS WERE AFFLICTED BY FAMINE OF CROP FAILURE AND DROUGHT

سلط الله الجذب والنقصان من
الثمرات على المنكرين

پچھلی منکرین اقوام پر قحط سالی اور پیداوار میں
کمی بطور عذاب کی گئی

And We gripped Pharaoh's folk with famine and the shortage of fruits, with years of trial that perhaps they might heed. (7:130)

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾
﴿٧ الاعراف ١٣٠﴾

اور ہم نے فرعونوں کو قحطوں اور پھلوں کی کم پیداواری میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں (130:7)

More Reference : 6:42,43 Page 393

والمزید راجع ۶ الأنعام: ۴۲، ۴۳ الصفحة ۳۹۳

مزیذ حوالہ: 6:42,43 صفحه 393

THANKFULNESS TO ALLAH (SWT) COMES MANDATORY TO A HUMANKIND IN GETTING RID OF IMPOVERISHMENT (POVERTY AND HUNGER)

يجب على العبد أن يشكر الله
عند التخلص من الجوع والخوف

انسان کے لئے بھوک اور خوف سے نجات پر
اللہ کا شکر واجب ہو جاتا ہے

Let them worship the Lord of this House, (106:3)

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾
﴿١٠٦ قريش ٣﴾

(لوگوں کو) چاہئے کہ (اس نعمت کے شکر میں) اس گھر کے مالک کی عبادت کریں (3:106)

Who has fed them against hunger (famine) and has made them safe (secure) from fear. (106:4)

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنَ
خَوْفٍ ﴿٤﴾
﴿١٠٦ قريش ٤﴾

جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ اور خوف سے امن بخشا (4:106)

AROUSAL FOR STRIVING FOR GAINS OF BOTH WORLDLY AS WELL AS HEREAFTER AND SUPPLICATING ALLAH (SWT) FOR BESTOWING EASE AND COMFORT DURING BOTH TERMS

And there is another kind (of folk) who says "Our Lord! Give to us in the world that which is something fine and in the Hereafter that which is something fine, and shield us from the torment of Fire." (2:201)

For them there is in store a goodly portion out of that which they have earned. Allah is Swift at reckoning. (2:202)

-----Whoso desires the reward of the world, We bestow on him thereof; and whoso desires the reward of the Hereafter, We shall give it to him We will repay the thankful. (3:145) PART

Anyone who desires of the World, (let him know that) with Allah is the reward of the world and the Hereafter. Allah is Alert and Observant. (4:134)

To him who desires a harvest in the life to come, We shall grant an increase in his harvest whereas to him who desires (but) the harvest in this world, We (may) give something thereof - but he will have no share in (the blessings of) the life to come. (42:20)

الترغيب لطلب ثواب الدنيا والآخرة معا، ولطلب الحسنات في كلتاهما من الله

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ البقرة ٢٠١

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ البقرة ٢٠٢

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ آل عمران ١٤٥ جزء

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾ النساء ١٣٤

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَأَمْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾ الشورى ٢٠

آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی میں کوشش کی ترغیب اور دونوں کی بھلائی اور آسودگی کے لئے دعاؤں کا حکم

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخش اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ (201:2)

یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کے کاموں کا حصہ (یعنی اجر نیک تیار) ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا (اور جلد اجر دینے والا ہے) (202:2)

----- اور جو شخص دنیا میں (اپنے اعمال کا) بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب (بہت اچھا) صلہ دیں گے (3:145) جزو

جو شخص دنیا (میں عملوں) کی جزا کا طالب ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت (دونوں) کے لئے اجر (موجود) ہیں۔ اور اللہ ستادیکھتا ہے (4:134)

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لئے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب گار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے۔ اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا (20:42)

More Reference : 22:11 Page 297

وللمزيد راجع ٢٢ الحج ١١: الصفحة ٢٩٧

مزید حوالہ 22:11 صفحہ 297

MOTIVATION FOR PLAYING ACTIVE ROLE IN PROBATIONARY LIFE, STRIVING FOR LAWFUL LIVELIHOOD, AND FULFILLING SOCIAL OBLIGATIONS

الترغيب للمشاركة الموفورة في شئون الحياة الدنيا من كسب المعاش وأداء حقوق العباد

معاملات زندگی میں بھرپور حصہ لینے جائز تلاش معاش کی جدوجہد اور حقوق العباد کی ادائیگی کی ترغیب

MONASTICISM (MONKHOOD) CONDEMNED IN ISLAM

مذمة الرهانية في الإسلام

ترک دنیا (راہبانہ زندگی) کی مذہب اسلام میں مذمت

For Details Consult next Page

وللتفصيل راجع الصفحة الاتية

تفصیل کے لیے دیکھئے اگلا صفحہ

DISCIPLINE FOR ECONOMIC STRUGGLE MEANS OF LIVELIHOOD (EARNING)

It is no sin for you that you seek the bounty of your Lord (Earning livelihood). ----- (2:198) PART

Then We caused Our messengers to follow in their footsteps; and We caused Jesus, son of Mary, to follow, and gave him the Gospel, and placed compassion and mercy in the hearts of those who followed him. But monasticism they invented (initiated). We prescribed it not for them. Except through (their) seeking Allah's pleasure, and they observed it not with right observance. So We bestowed those of them who believed their reward, but many of them are immoral. ----- (27:27)

While other travel around the earth in search of Allah's bounty, and others are fighting for the cause of Allah. ----- (73:20) PART

And we have granted you sleep for repose, (78:9)

And have made the daytime for (you to earn your) livelihood. (78:11)

القائده في كسب المعاش

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

﴿٢ البقرة ١٩٨﴾ جزء

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

﴿٧٣ المزمّل ٢٠﴾ جزء

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٧٨﴾

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿٧٨﴾

معاشی جدوجہد کا ضابطہ

تم پر اپنے رب کا فضل (روزی) تلاش کرنے میں کچھ گناہ نہیں (198:2) جزو

پھر ان کے پیچھے انہی کے نشانات پر (اور) پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ اور رہبانیت دنیاوی معمولات سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے پھر جیسا اس کو نباہنا چاہئے تھا نباہ بھی نہ سکے پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے انہیں ہم نے ان کا اجر دیا۔ اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں (27:57)

اور بعض اللہ کے فضل (یعنی معاش) روزی کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں (20:73) جزو

اور نیند کو تمہارے لئے (موجب) آرام بنایا (9:78)

اور دن کو معاش (روزگار) کا وقت قرار دیا (11:78)

Pre Reference : Consult following Chapters

وللمزيد راجع ابواب

مزید حوالہ کیلئے درج ذیل ابواب دیکھئے

Night for sleep and repose while day for quest of livelihood. Page 336

١ العمل نهارا والاستراحة ليلا الصفحة ٣٣٦

1 دن کو کام رات کو آرام صفحه 336

Travel in quest of bounty of Allah (SWT). Page 437

٢ الرحلة في كسب المعاش الصفحة ٤٣٧

2 تلاش معاش کے لئے سفر صفحه 437

Legitimate trade during Hajj season is permissible. Page 288

٣ اذن التجارة حلالا أثناء سفر الحج الصفحة ٢٨٨

3 دوران حج جائز تجارت کی اجازت صفحه 288

Business ethics (mores of trade). Page 485

٤ اصول التجارته والضاعة الصفحة ٤٨٥

4 اصول تجارت صفحه 485

Regular intermission in business (weekly Holiday). Page 487

٥ بقور العطلة الأسبوعية في العمل الصفحة ٤٨٧

5 کاروبار میں ہفتہ وار ناغہ (چھٹی) صفحه 487

**RIGHTFUL CONVENIENCES AND AMENITIES
IN TRANSITORY LIFE
ARE THE BLESSINGS OF ALLAH(SWT)**

نعيم الدنيا هبة من الله

دنیا کی زندگی میں نعمتیں اور جائز اسباب
سہولت - انعام رب تعالیٰ ہیں

ELEGANCE IN PROBATIONARY LIFE IS LAWFUL

اختيار الزينة في الحياة الدنيا حلال

دنیاوی زینت حلال ہے

Say: Who has forbidden the amenities of Allah, which He has produced for His bondmen, and the wholesome things of His provision? Say: These are in the life of this world for those who believe and Such, on the Day of Resurrection, will be reserved exclusively for those who believed during the life of the world. Thus We do detail Our signs for people who have knowledge. (7:32)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالتَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾
(۷ الاعراف ۳۲)

آپ کہہ دیجئے کہ جو اسباب زینت (و آرائش) اور
کھانے (پینے) کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں
کے لئے پیدا کی ہیں انہیں حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ
دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کیلئے
ہیں۔ اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔
اسی طرح ہم اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لئے صاف
کھانا بیان کرتے ہیں (32:7)

**WEALTH, PROPERTY AND PROGENY
ARE ALSO GRACES OF ALLAH(SWT)**

الأموال و البنون من نعمة الله

مال و دولت اور اولاد کی عطا بھی
انعام رب تعالیٰ ہے

And I have said: Seek pardon of your Lord. He has been ever Forgiving: (71:10)

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾
(۷۱ نوح ۱۰)

اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف
کرنے والا ہے (10:71)

He will shower upon you heavenly blessings. (71:11)

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾
(۷۱ نوح ۱۱)

وہ تم پر آسمان سے بارش (فضل) نازل کرے گا
(11:71)

And will increase you with wealth and sons, and will grant to you Gardens and will bestow on you running waters. (71:12)

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنَاءٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ
وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾
(۷۱ نوح ۱۲)

اور تمہیں پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور
تمہیں باغ عطا کرے گا اور (ان میں) تمہارے لئے
نہریں بہا دے گا (12:71)

If they (the idolaters) tread the right path, We shall give them to drink water in abundance (72:16)

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ
مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾
(۷۲ الجن ۱۶)

اور (اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دو) کہ اگر یہ لوگ
سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کو پینے کیلئے بہت سا
پانی دیتے (16:72)

**WORLDLY POSSESSIONS (OWNERSHIP) ARE
THE SOURCE OF PREDOMINANCE
AND SHOW - OFF**

الأنعام والأموال زينة وتفاخر

مال مویشی اور سامان - ذریعہ شان و عزت

For Detail Consult : 16:6,8 43:13 80:16
Page 361, 362, 212

والتفصیل راجع ۱۶ النحل ۸:۶، ۴۳ الزخرف ۱۳:
۸۰ عبس ۱۶: الصفحة ۲۱۲، ۳۶۲، ۳۶۱

تفصیل کیلئے دیکھئے 16: 80 13: 43 8,6: 16
صفحة 212, 362, 361

**WELL - BEING AND COMFORTS
OF TEMPORARY LIFE
ARE BENEDICTIONS OF ALLAH (SWT)**

خفض العیش من آلاء الله

دنیا کی زندگی کی آسائشیں - اللہ کا انعام

For Detail Consult : 5:21 7:10,129,137
Page 1042 300,1032,1079
8:26 12:21,56,101 17:1,4 18:84 28:5,6
656 981,987,93 688,597 1082 1034

والتفصیل راجع ۵ المائدة ۲۱: ۷ الاعراف ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰:
۸ الأنفال ۲۶: ۱۲ یوسف ۱۱، ۵۶، ۲۱: ۱۷ الإسراء
(یسرا سرائیل): ۴۱، ۱۸ الکہف ۸۴: ۲۸ القصص ۶۰:

تفصیل کیلئے دیکھئے 26: 8 137,129,10: 7 21: 5
صفحة 656 300,1032,1079 1042
6,5: 28 84: 18 4,1: 17 101,56,21: 12
1034 1082 688,597 981,987,93

**AMPLE SUSTENANCE
IS A FAVOUR OF ALLAH (SWT)**

البسطة في الرزق نعمة الله

فراخی رزق انعام رب تعالیٰ

For Detail Consult : 4:173 7:96 24:38
42:26 72:16,17 Page 392, 315

والتفصیل راجع ۴ النساء ۱۷۳: ۷ الاعراف ۹۶:
۲۴ النور ۳۸: ۴۲ الشوری ۲۶: ۷۲ الجن ۱۷، ۱۶:

تفصیل کیلئے دیکھئے 38: 24 96: 7 173: 4
صفحة 315, 392 17,16: 72 26: 42

ALLAH (SWT) HAS PROMISED THE BELIEVERS FOR GOODLY REWARD IN THIS TRANSITORY LIFE

For Detail Consult : 10:64 19:96 24:55
Page 769, 768
Consult Chapter Virtues of Believers
Page 764

وعد الله للمؤمنين بوهبهم حياة طيبة

وللتفصيل راجع ۱۰ یونس: ۶۴ ۱۹ مریم: ۹۶
۲۴ النور: ۵۵ الصفحة ۷۶۸, ۷۶۹
وللتفصيل راجع صفات المؤمنین الصفحة ۷۶۴

مومنوں کو انعامات دنیوی کا وعدہ

تفصیل کیلئے دیکھئے 10:64 19:96 24:55
صفحہ 768, 769
تفصیل کیلئے دیکھئے مومنین کی صفات صفحہ 764

GRATEFULNESS TO ALLAH (SWT) FOR HIS FAVOURS WILL ENLARGE (AMPLIFY) YOUR SUSTENANCE

For Detail Consult : 2:172 8:26 14:7,37
Page 450, 656, 300
Consult Chapter Thankfulness to Allah (SWT)
Page 300

الشكر موجب للزيادة في الرزق

وللتفصيل راجع ۱۴ ابراہیم: ۳۷، ۷: ۲ البقرة: ۱۷۲
۸ الأنفال: ۲۶ الصفحة ۲۰۰، ۲۰۶، ۴۵۰
وللتفصيل راجع "الرزق" الشكر لله الصفحة ۳۰۰، ۳۸۷

دنیوی انعامات پر شکر رب تعالیٰ وسعت رزق کا موجب

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:172 8:26 14:7,37
صفحہ 450, 656, 300
تفصیل کیلئے دیکھئے "رزق" شکر رب تعالیٰ صفحہ 300, 387

CONCEPT OF (PRIVATE HOLDINGS) PERSONAL PROPERTY IN ISLAM

For Detail Consult : 4:4,7,32
Page 521, 510, 523
Consult Chapter Laws of Heritage Page 551

الملكية الشخصية في الإسلام

وللتفصيل راجع ۴ النساء: ۳۲، ۷: ۴
الصفحة ۵۲۳، ۵۱۰، ۵۲۱
وللتفصيل راجع قوانين التراث الصفحة ۵۵۱

اسلام میں شخصی ملکیت کا تصور

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:4,7,32
صفحہ 523, 510, 521
تفصیل کیلئے دیکھئے قوانین وراثت صفحہ 551

OBLIGATIONS OF THE BELIEVERS BLESSED (ENRICHED) WITH WORLDLY PRIVILEGES

For Detail Consult : 2:219,267 3:92 20:131
Page 279,271,419,268,423,276
Consult Chapter Zakat, Ushr, Voluntary Alms,
Voluntary Charity Page 284,275,274,265

مسئولية المئومنين المتمكنين في الأرض

وللتفصيل راجع ۲ البقرة: ۲۱۹، ۲۱۹: ۳ آل عمران: ۹۲
۲۰ طه: ۱۳۱ ۳۰ الروم: ۳۹ ۶۳ المنافقون: ۱۰۰، ۹
الصفحة ۲۷۶، ۴۲۳، ۲۶۸، ۴۱۹، ۲۷۱، ۲۷۹
وللتفصيل راجع زکوة، خرات، صدقہ، عشر
الصفحة ۲۶۵، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۸۴

دنیوی زندگی کے انعامات کے حامل ہونے پر اہل ایمان کی ذمہ داری

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:219,267 3:92 20:131
صفحہ 279,271,419,268,423,276
تفصیل کیلئے دیکھئے زکوة، خرات، صدقہ، عشر
صفحہ 265,274,275,284

EARLIER FOLKS WERE ALSO BESTOWED WITH WORLDLY HONOUR AND DIGNITY BY ALLAH (SWT)

And remember how He made you prosper after 'Aad and gave you dominion in the earth. You choose castles in the plains and hew (carve) the mountains into dwellings. So remember (all) the bounties of Allah and do not cause havoc, making mischief in the earth. (7:74)

كان الله منّ على الأمم الماضية بتمكينهم في الأرض

وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَا فِي الْأَرْضِ تُخَدُّونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾
﴿٧٤ الاعراف﴾

پچھلی اقوام کو بھی اقتدار اور فضیلت دینا

اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ کہ نرم زمین سے (مٹی لے لے کر) محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو (74:7)

Reference : 5:21 6:165 10:14
Page 1042, 373, 403, 688, 597

وللمزيد راجع ۵ المائدة: ۲۱ ۶ الأنعام: ۱۶۵
۱۰ یونس: ۱۴

مزيد حوالہ 5:21 6:165 10:14
صفحہ 597, 688, 403, 373, 1042

BELIEVING IN AND ACTING UPON ISLAMIC TEACHINGS CAN LEAD TO THE UPLIFT OF LIFE

All those who believe and do good deeds and believe in that which is revealed to Muhammad and is the truth from their Lord. He will cancel out their evil deeds and improve their attitude. (47:2)

الایمان والعمل یضمنان إصلاح البال

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٤٧﴾
﴿٤٧ محمد﴾

تعلیمات اسلام پر ایمان اور عمل موجب اصلاح احوال ہے

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو (کتاب) محمد پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیئے اور ان کی حالت سنواری (2:47)

سیر و سیاحت

السیر والسیاحه

TRAVEL AND TOURISM

He is the One Who enables (sends) you travelling along on the land and at the sea----- (10:22) PART

Have they not travelled around the land to see the nature of the consequence for those who were before them? Allah wiped them out. And similar (fate await) those who reject Allah. (47:10)

..... هُوَ الَّذِي يُسَيِّرْكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿۱۰﴾ بونس ۲۲ جزء

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿٤٧﴾ محمد ۱۰

ہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے----- (22:10) جزو

کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی۔ تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان کو تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا (عذاب) ان کا فروع کو ہوگا (10:47)

More Reference :

6:11	12:109	16:36
Page	185	192
22:46	27:69	29:20
413	681	779
34:18	35:44	40:21,82
1114	128	428,428

۱۰۹: یوسف	۱۱: الأنعام	۱۲
۱۶: النحل	۲۲: الحج	۲۷
۲۹: العنکبوت	۳۰: الروم	۳۴
۳۵: فاطر	۴۰: المثنون (غافر)	۴۱

36:16	109:12	11:6
154	192	185
42,9:30	20:29	69:27
130,681	779	681
	82,21:40	44:35
	428,428	128

TRAVEL IN QUEST OF KNOWLEDGE, RESEARCH AND FOR THE WIDER INTEREST OF FAITH

(Triumphant) are those who turn repentant (to Allah), those who serve (Him), those who praise (Him), those who wander in devotion to cause of Allah and go on seeking His goodly acceptance (or those who bow down, those who fall prostrate (in worship), those who enjoin the right and who forbid the wrong and those who keep the limits (ordained) of Allah And give glad tidings to believers!. (9:112)

السیاحه فی طلب العلم والبعث

الْمُتَابِعُونَ الْعَمِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِمُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۹﴾ التوبة ۱۱۲

سیر و سیاحت حصول علم و تحقیق برائے وسیع تر دینی مفادات

توبہ کرنے والے۔ عبادت کرنے والے۔ حمد کرنے والے۔ یا راہ حق میں سفر کرنے والے۔ رکوع کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے۔ نیک باتوں کی تعلیم دینے والے۔ بری باتوں سے منع کرنے والے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ (یہی مومن لوگ ہیں) اور اے پیغمبر مومنوں کو (بہشت کی) خوشخبری سنا دو (112:9)

TRAVEL IN QUEST OF BOUNTY OF ALLAH (SWT) TO EARN LAWFUL LIVELIHOOD

-----While other travel around the earth in search of Allah's bounty, and others are fighting for the cause of Allah.----- (73:20) PART

الرحلة فی طلب المعاش

..... وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتِغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿۷۳﴾ المزمل ۲۰ جزء

تلاش معاش (رزق حلال کے حصول) اور جائز تجارت کے لیے سفر

----- اور بعض اللہ کے فضل (یعنی معاش) روزی کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں----- (20:73) جزو

TRAVEL AROUND THE EARTH FOR OBSERVING THE NATURE BY VISITING ARCHAEOLOGY, VESTIGE OMNI SIGNS OF ANCIENTS TO PONDER

Systems have passed away before you. Do but travel in the land and observe the nature of the outcome for those who did deny (it all). (3:137)

السیاحه لمشاهدة الأطلال للتحصول على العبرة

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ ﴿۳﴾ آل عمران ۱۳۷

زمین کی سیر برائے مشاہدات آثار قدیمہ برائے غور و فکر

تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں۔ تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا (137:3)

Is it not a guidance for them (to know) how many a generations We destroyed before them, around in whose dwellings they walk? Therein are signs for men of thought. (20:128)

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ﴿٢٠﴾ طه ١٢٨ ﴿﴾

کیا یہ بات ان لوگوں کے لئے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں عقل والوں کے لئے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں (128:20)

How many a towns have We destroyed while they were sinful, they tumbled down on their roofs, and how many wells (have been abandoned and many impressive castles (towers) are neglected. (22:45)

فَكَأَيُّ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَعْرِفُ مَعْظَمَاتَهُ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٢٢﴾ الحج ٤٥ ﴿﴾

اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں۔ سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ اور (بہت سے) کنوئیں بے کار اور (بہت سے) محل ویران (پڑے ہیں) (45:22)

Surah Reference :	6:11	12:109	22:46
Page	185	192	413
7:69	29:20	30:9,42	34:18
581	779	130,681	1114
10:21,82	47:10		
428	437		

والمزید راجع	٦ الأنعام: ١١	١٢ يوسف: ١٠٩
٢٢ الحج: ٤٦	٢٧ النمل: ٦٩	٢٩ العنكبوت: ٢٠
٣٠ الروم: ٤٢,٩	٣٤ سباء: ١٨	٣٥ فاطر: ٤٤
٤٠ المؤمن (غافر): ٨٢,٢١	٤٧ محمد: ١٠	

المزید حوالہ	11:6	109:12	46:22
صفحہ	185	192	413
69:27	20:29	42,9:30	18:34
681	779	130,681	1114
44:35	82,21:40	10:47	
128	428	437	

AVOID ROAMING (WITHOUT PURPOSE)

عدم تجول بدون مبرر

بغیر مقصد اور بلا ضرورت نکل کر گھومنے پھرنے سے اجتناب

Detail Consult : 33:33 Page 543

والتفصیل راجع ٣٣ الأحزاب: ٣٣ الصفحة ٥٤٣

تفصیل کیلئے دیکھئے 33:33 صفحہ 543

BE THANKFUL TO ALLAH (SWT) ON YOUR SAFE JOURNEY (PROTECTING YOU FROM ALL HAZARDS)

أداء الشكر لله عند إتمام السفر بالأمان والحفظ

باعافیت سفر (تمام مشکلات اور تکالیف سے محفوظ رہنے پر) اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہدایت

For the familiarity of Qureysh (106:1)

لَا يَلْفِ قُرَيْشٌ ۝١

قریش کو مانوس کرنے کے لئے (1:106)

For their preparation to travel in winter and summer. (106:2)

إِفْهَمَ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢

(یعنی) ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لئے (2:106)

Let them worship the Lord of this house, (106:3)

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣

(لوگوں کو) چاہئے کہ (اس نعمت کے شکر میں) اس گھر کے رب کی عبادت کریں (3:106)

Who has fed them against hunger (mine) and has made them secure (safe) from fear (danger). (106:4)

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤

جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ اور خوف سے امن بخشا (4:106)

﴿١٠٦ القريش ٤﴾

SUPPLICATION FOR SEEKING SAFETY FROM HAZARDS OF TRAVEL (ENJOYING HAPPY JOURNEY AND SAFE RETURN)

الأدعية في أثناء السفر طلباً للعافية

دوران سفر عافیت و سکون کے لئے دعا

-----Till, when they are on board of the ships and they sail with them with a favourable breeze and they are glad therein, then a storm wind reaches them and the waves come to them from every side and they deem that they are overwhelmed therein; (then) they appeal to Allah, making their faith for Him only; if You save us from this, (hazard) we truly will be grateful. (10:22) PART

.....حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَبَ بِكُمْ رِيحٌ طَيِّبَةٌ وَقَدْ خَافْتُمْ لِمَ أَجَاءَتْكُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ الدِّينَ هَلْ لَيْنَٰ أُنَجِّبَتَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِيِّنَ ﴿٣٧﴾ ﴿١٠٦ يونس ٢٢﴾ جزء

----- یہاں تک کہ جب وہ کشتیوں میں (سوار) ہوتے ہیں اور کشتیاں پاکیزہ ہوا (کے نرم نرم جھونکوں) سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں تو اچانک زوردار ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ہر طرف سے موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ (اب تو) لہروں میں گھر گئے۔ تو اس وقت خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ (اے اللہ) اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم (تیرے) بہت ہی شکر گزار بن جائیں گے (22:10) جزو

EXCELLENCE OF KNOWLEDGE (WISDOM) **فضائل العلم** **فضائل علم**

<p>FIRST MESSAGE REVEALED TO PROPHET MUHAMMAD (SAAS) WAS TO READ (RECITE OR REHEARSE)</p>	<p>نزول الوحي الأول على النبي الكريم ﷺ الأمر بحصول الحكم</p>	<p>نبی اکرم حضرت محمد ﷺ پر پہلی وحی کا نزول اور حصول علم کا حکم</p>
<p>Read: In the name of your Lord Who creates, (96:1)</p>	<p>اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ ﴿٩٦ العلق ١﴾</p>	<p>اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیں جس نے (تمام عالم کو) پیدا کیا (1:96)</p>
<p>EMPHASIS ON SEEKING KNOWLEDGE AND USE OF PEN</p>	<p>العلم و القلم</p>	<p>علم اور قلم</p>
<p>Nun. By the pen and that which they write (therewith); (68:1)</p>	<p>ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ ﴿٦٨ القلم ١﴾</p>	<p>قلم کی اور جو (اہل قلم) لکھتے ہیں اس کی تم (1:68)</p>
<p>Read: And your Lord is the Most Bounteous, (96:3)</p>	<p>اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ﴿٩٦ العلق ٣﴾</p>	<p>پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے (3:96)</p>
<p>Who teaches by the pen, (96:4)</p>	<p>الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ ﴿٩٦ العلق ٤﴾</p>	<p>جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا (4:96)</p>
<p>Teaches man that which he knows not. (96:5)</p>	<p>عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ ﴿٩٦ العلق ٥﴾</p>	<p>اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا (5:96)</p>
<p>ALLAH(SWT) BESTOWED PARTICULAR QUALITIES AND FEELINGS INTO THE NATURE OF ADAM (PBUH)</p>	<p>أَلْهَمَ اللَّهُ الْإِشْتِيَاقَ إِلَى الْعِلْمِ فِي جِيلَةِ آدَمَ</p>	<p>اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں حصول علم (احساس اور تجسس) کا جذبہ عطا کرنا</p>
<p>And He taught Adam all the names, then showed them to the angels, saying; tell Me the names of these, if you are truthful. (2:31)</p>	<p>وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ ﴿٢ البقرة ٣١﴾</p>	<p>اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ (31:2)</p>
<p>THE PEOPLE WITH WELL GROUNDED AND VERSED KNOWLEDGE</p>	<p>الراسخون في العلم</p>	<p>کامل اور مضبوط علم والے لوگ (اصحاب علم و دانش)</p>
<p>But those of them who are firm in knowledge and the believers believe in that which is revealed to you, and that which was revealed before you especially the diligent in prayer and those who pay the poor due, the believers in Allah and the Last Day. Upon these We shall soon bestow an immense reward. (4:162)</p>	<p>لَكِنَّ الرَّاٰخِیْنَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْتُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾ ﴿٤ النساء ١٦٢﴾</p>	<p>مگر جو لوگ ان میں سے علم میں کپے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس (کتاب) پر جو آپ پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) آپ سے پہلے نازل ہوئیں (سب پر) ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں۔ ان کو ہم عظیم اجر عظیم دیں گے (162:4)</p>

More Reference :	3:18	12:76	30:56	والمزیدراجع	56:30	76:12	18:3	مزیدحوالہ
Page	99	990	830	۱۲ یوسف ۱۸: ۳ آل عمران ۳۹ الزمر: ۱۸۰۹	830	990	99	صلیہ
35:28	39:9,18	58:11	68:1	۳۰ الروم ۵۶: ۳۵ فاطر: ۲۸	1:68	11:58	18,9:39	28:35
308	260,467	447	173	۵۸ المجادلة: ۱۱ ۶۸ القلم: ۱	173	447	260,467	308

ACQUIRING KNOWLEDGE OR TEACHING FOR THE SPIRIT OF OBEDIENCE AND DISCIPLINE IS AS NECESSARY AS PARTICIPATION IN JIHAD

And the believers should not all go out to fight. Of every troop of them, a contingent from every expedition should march forth, that they (who are left behind) may gain sound knowledge in religion, and that they may warn their folk when they return to them, so that they may take precaution. (9:122)

التعليم والتعلم يستويان الجهاد

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾
﴿٩ التوبة ١٢٢﴾

ترویج علم کا مرتبہ جہاد کے برابر

اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہئے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ اس کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط کریں (9:122)

INJUNCTIONS TO STRIVE FOR KNOWLEDGE AND RESEARCH

التوصيات للحصول على العلم والبحث

حصول علم - اور تحقیق کے لئے ہدایات

STRUGGLE BRINGS ONE'S OWN BENEFITS

الجهاد فيه نفع لصاحبه

جدوجہد میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے

And whosoever strives, strives only for himself, for Allah is altogether independent of (His) creatures. (9:6)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٦﴾

اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے محنت کرتا ہے (اور) اللہ تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے (6:29)

Reference : 13:14 Page 141

وللمزيد راجع ١٣ الرعد: ١٤ الصفحة ١٤١

مزيد هواله 14:13 صفحه 141

WORKING HARD IS A KEY TO SUCCESS

السعي مفتاح النجاح

کامیابی کا انحصار محنت کی مقدار پر ہے

And that man has only that for which he makes effort, (53:39)

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾
﴿٥٣ النجم ٣٩﴾

اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے (39:53)

And that his effort will be seen, (53:40)

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾
﴿٥٣ النجم ٤٠﴾

اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی (40:53)

And afterward he will be paid for it with fullest reward. (53:41)

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجِزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾
﴿٥٣ النجم ٤١﴾

پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا (41:53)

Reference : 13:14 Page 141

وللمزيد راجع ١٣ الرعد: ١٤ الصفحة ١٤١

مزيد هواله 14:13 صفحه 141

JOURNEY IN QUEST OF KNOWLEDGE

الرحلة في طلب العلم والبحث

حصول تعليم و تحقيق کے لئے سفر

For Detail Consult : 9:112 Page 437

وللفصل راجع ٩ التوبة: ١١٢ الصفحة ٤٣٧

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:112 صفحه 437

ACQUAINTANCE WITH MODERN TECHNOLOGY

الأمر بالحصول على أرقى العلوم العصرية

جدید علوم اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہونے کا حکم

Prepare any strength you can muster against them and any cavalry posts that thereby you may dismay the enemy of Allah and your enemy, and others besides them whom you know not. Allah knows them. Whosoever you spend in the way of Allah, it will be repaid to you in full, and you will not be wronged. (8:60)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾
﴿٨ الانفال ٦٠﴾

اور جہاں تک ہو سکے (فوج کی قوت کے) زور سے اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے ان کے (مقابلے کے) لئے مستعد (تیار) رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے بہت پیٹھی رہے گی۔ اور تم جو کچھ راہ اللہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا (60:8)

**KNOWLEDGE AND SKILLFULNESS
MUST NOT LEAD TO SELFISHNESS,
MATERIALISM AND SKEPTICISM**

For Detail Consult : 20:96 Page 1050

ليس الغرض من العلم والحدق الأناية
والرأسمالية والفساد في الأرض

وللتفصيل راجع ٢٠ طه: ٩٦ الصفحة ١٠٥٠

علم اور ہنرمندی کا مقصد خود غرضی اور سرمایہ پرستی اور
دین سے گمراہی نہیں ہونا چاہئے

تفصیل کیلئے دیکھئے 20:96 صفحہ 1050

**SUPPLICATIONS
FOR ATTAINING KNOWLEDGE**

For Detail Consult : 20:25,114 26:83
Page 1016,216,948

الأدعية للحصول على العلم

وللتفصيل راجع ٢٠ طه: ٢٥، ١١٤، ٢٦ الشعراء: ٨٣
الصفحة ١٠١٦، ٢١٦، ٩٤٨

حصول علم کے لئے دعائیں

تفصیل کیلئے دیکھئے 20:25، 114، 26:83
صفحہ 948، 216، 1016

CHARMS OF KNOWLEDGE AND WISDOM

He gives wisdom to anyone He wills, and to whom wisdom is given he truly has received abundant boon. Yet only prudent persons will reflect on it. (2:269)

فضيلة العلم والحكمة

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾
﴿٢ البقرة ٢٦٩﴾

علم و حکمت کی نعمتیں

وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی ہے
شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول
کرتے ہیں جو عقلمند ہیں (2:269)

More Reference : 12:22 21:74,75 27:15
58:11 Page 981, 962, 971, 447

والله اعلم بالصواب: ٢١ الأنبياء: ٧٥، ٧٤
٢٧ النمل: ١٥ ٥٨ المجادلة: ١١

مزید حوالہ 12:22 21:74,75 27:15
صفحہ 447, 971, 962, 981 11:58

**AVOID DEBATE OR ARGUING
WITHOUT SOUND KNOWLEDGE**

And among mankind is one who disputes concerning Allah without knowledge or guidance or a Scripture giving light. (22:8)

لا تجادلوا في الله بغير علم

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٨﴾
﴿٢٢ الحج ٨﴾

بغیر علم کے بحث میں مت پڑو

اور بعض لوگ جو اللہ (کے بارے) میں بغیر علم (و دانش)
کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتے
ہیں (8:22)

See you not how Allah has made serviceable to you whatsoever is in the skies and whatsoever is in the earth and has lavished you with His favours both publicly and privately within? Yet there are among mankind who dispute concerning Allah, without knowledge or guidance or a Scripture giving light. (31:20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَ
بَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾
﴿٣١ لقمان ٢٠﴾

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین
میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر
اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض
لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر
ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں
(20:31)

**DO NOT ARROGATE OR EXULT
YOUR KNOWLEDGE**

And when their messengers brought them clear proofs (of Allah's Sovereignty) they exulted in the knowledge they (themselves) possessed. And that which they were used to mock befell them. (40:83)

لا تمرحوا ولا تغطروا على العلم

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾
﴿٤٠ المؤمن ٨٣﴾

علم پر نہ اتراؤ (غرور نہ کرو)

اور جب ان کے پیغمبران کے پاس کھلی نشانیاں لے کر
آئے تو جو علم (اپنے خیال میں) ان کے پاس تھا اس پر
اترانی لگے اور جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے
ان کو آگھیرا (83:40)

NATIONAL LANGUAGE

We have not sent any messenger unless he was to explain to them in his folk's own tongue. Allah lets anyone He wishes go astray, and guides anyone He wishes. He is the Powerful, the wise. (14:4)

اللِّسَانُ الشَّعْبِي

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٤﴾
﴿١٤ ابراهيم ٤﴾

قومی زبان

ہم نے ہر ہر نبی کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ (4:14)

SIMILITUDE OF IMPRACTICAL SCHOLAR

The likeness of those who are entrusted with the Law of Moses, yet apply it not, are as the likeness of the ass carrying books. Wretched is the likeness of folk who deny the revelations of Allah. And Allah guides not wrongdoing folk. (62:5)

مثل العالم بلا عمل

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَا يُحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٢﴾
﴿٦٢ الجمعة ٥﴾

بے عمل عالم کی مثال

جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (5:62)

SIMILITUDE OF AN ILLITERATE PERSON

Or deem you that most of them hear and understand? They are but as the cattle, no but they are farther astray! (25:44)

مثل الإنسان الجاهل

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ سَمِعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ٤٤﴾

بے علم انسان کی مثال

یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ (نہیں) یہ تو جانوروں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں (44:25)

PREFERENCE DUE TO KNOWLEDGE AND WISDOM

العلم موجب للتفوق

علم کی وجہ سے برتری

For Detail Consult :

وللتفصیل راجع

تفصیل کیلئے دیکھیے

Book Name (PBUH)	Page	Page	Page	Page	Page	Page	Page
ADAM (PBUH)	Page : 907	Page 439	٢ البقرة: ٣١	الصفحة ٤٣٩	٩٠٧	صفحة	حضرت آدم علیہ السلام
					439	صفحة	31:2
LUQMAN (PBUH)	Page : 962	Page 962	٢١ الأنبياء: ٧٤	الصفحة ٩٦٢	962	صفحة	حضرت لوط علیہ السلام
					962	صفحة	74:21
YUSUF (PBUH)	Page : 986	Page 981, 986, 93	١٢ يوسف: ١٠١, ٥٤, ٤٧	الصفحة ٩٨١, ٩٨٦, ٩٣	986	صفحة	حضرت يوسف علیہ السلام
					981, 986, 93	صفحة	101,54,47:12
YUQUB (PBUH)	Page : 993	Page 989, 992	١٢ يوسف: ٨٦, ٨٦	الصفحة ٩٨٩, ٩٩٢	993	صفحة	حضرت يعقوب علیہ السلام
					989, 992	صفحة	86:12 68:12
MUSA (PBUH)	Page : 1008	Page 1008	٢٨ القصص: ١٤	الصفحة ١٠٠٨	1008	صفحة	حضرت موسى علیہ السلام
					1008	صفحة	14:28
HAMIM (PBUH)	Page : 1058	Page 1058	١٨ الكهف: ٦٥	الصفحة ١٠٥٨	1058	صفحة	حضرت حميم علیہ السلام
					1058	صفحة	65:18
DANOD (PBUH)	Page : 1068	Page 1069	٣٨ ص: ٢٠	الصفحة ١٠٦٩	1068	صفحة	حضرت داؤد علیہ السلام
					1069	صفحة	20:38
SULAIMAN (PBUH)	Page : 1074,1078	Page 1068, 1072, 1073	٢١ الأنبياء: ٧٩	الصفحة ١٠٦٨, ١٠٧٢, ١٠٧٣	1078, 1074	صفحة	حضرت سليمان علیہ السلام
					1068, 1072, 1073	صفحة	17,16:27 79:21

SOCIAL OBLIGATIONS - ETIQUETTES

آداب الحیاة الاجتماعیة

سماجی زندگی کے آداب

CONCEPT OF FAMILY DYNASTY

تصوّر الأسرة والقبيلة

خاندان اور قبیلے کا تصور

BLOOD TIES - LINEAGE - PEDIGREE AND INLAWS

القرابة الرحمیة

نسب و نسل اور سسرال کے رشتے

And He is the Only Who has created mankind from water, and has granted kindred by blood (blood ties) and kindred by marriage (In-laws); for your Lord is Capable. (25:54)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٢٥﴾ الفرقان ٥٤

اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا۔ پھر اس کو صاحب نسب اور سسرالی رشتوں والا بنا دیا۔ اور تمہارا پروردگار (ہر طرح کی) قدرت رکھتا ہے (54:25)

YOUR MATES (SPOUSES) AND SONS DAUGHTERS, GRAND CHILDREN (ANCESTORS)

الأزواج والبنون والبنات والحفدة

شوہر۔ بیویاں۔ بیٹے۔ بیٹیاں پوتے۔ پڑپوتے۔ پڑپوتیاں

And Allah has given you spouses from among yourselves, and has given you, from your spouses, sons and grandsons, and has made provision of wholesome things for you. So will they still believe in falsehood while they disbelieve in Allah's favour? (16:72)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۚ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ ۚ وَبِالْحَقِّ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ النحل ٧٢

اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں تو کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ (72:16)

More Reference : 3:14 26:133 30:21 35:11 75:39 Page 418, 931, 548, 399, 395

والمزید راجع ٣ آل عمران: ١٤ ٢٦ الشعراء: ١٣٣ ٣٠ الروم: ٢١ ٣٥ فاطر: ١١ ٧٥ القيامة: ٣٩

مزید حوالہ 14:3 26:133 30:21 35:11 75:39 399, 548, 931, 418 صفحہ 39:75

SCATTERING OF HUMANKIND FAR AND WIDE OVER THE FARTHEST CORNERS OF THE EARTH

بث الانسان على أقصى أنحاء الأرض

انسان کا کرہ ارض پر جا بجا پھیل کر آباد ہوجانا

And of His signs is this: He created you of dust, and you human beings, are ranging widely! (30:20)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ الروم ٢٠

اور اسی (کی قدرت) کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اب تم انسان بن کر جا بجا پھیل رہے ہو (20:30)

More Reference : 42:11 Page 359

والمزید راجع ٤٢ الشوری: ١١ الصفحة ٣٥٩

مزید حوالہ 11:42 صفحہ 359

DIVERSITY IN LANGUAGES AND DIFFERENT SHADES OF COMPLEXIONS

اختلاف الألسنة والألوان

زبان اور رنگت کا جدا جدا ہونا

And of His signs are the creation of the heavens and the earth, and the variation of your languages and colours. Herein indeed are portents for men of knowledge. (30:22)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلاف ألسنتكم واللوانكم إن في ذلك لآياتٍ للعلمين ﴿٢٢﴾ الروم ٢٢

اور اسی (کی قدرت) کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا۔ اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے۔ اہل دانش کے لئے ان (باتوں) میں (بہت سی) نشانیاں ہیں (22:30)

More Reference : 35:28 Page 308

والمزید راجع ٣٥ فاطر: ٢٨ الصفحة ٣٠٨

مزید حوالہ 28:35 صفحہ 308

**RESPONSIBILITY OF THE HEAD OF FAMILY
(TO GUARD THE CONDUCT OF FAMILY)**

O you who believe! Ward off (Shield) yourselves and your families from a Fire whose fuel is men and stones, over which are set stern and severe angels, who resist not Allah in that which He commands them, but do that which they are commanded. (66:6)

مسئولیت سید العائلۃ:
الارشاد والدعوة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾
التحریم ٦٦

خاندان کے سربراہ کے فرائض
(اہل خانہ کے کردار کی نگہداشت)

مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر مضبوط اور سخت دل فرشتے (مقرر) ہیں جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں (6:66)

**ETIQUETTES AND COURTESIES
FOR ENTERING HOUSE**

آداب الدخول فی البيوت

گھروں میں داخلے کے آداب

**ASK PERMISSION WHILE ENTERING
OTHER'S HOUSES**

O you who believe! Enter not houses except your own without first announcing your presence and invoking peace greetings upon the occupants thereof. That is better for you, that you may be heedful. (24:27)

الامر بالا ستيدان قبل الدخول
فی بيوت الآخرين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَئِنْ دَخَلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾
النور ٢٤

دوسرے کے گھر میں داخلہ سے پہلے اجازت
طلب کرنے کا حکم

مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے (لوگوں کے) گھروں میں اجازت لئے اور ان کو سلام کئے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے (اور ہم یہ نصیحت اس لئے کرتے ہیں کہ) شاید تم یاد رکھو (27:24)

**TRESPASSING IS FORBIDDEN
(KNOCK AND WAIT AND THEN
WITHDRAW IF NO RESPONSE)**

And if you find no one therein, still enter not until permission has been granted. And if it is said to you: Go away then turn back for it is more fitting for you. Allah knows well all that you do. (24:28)

النهي عن اقتحام بيت بدون الاذن

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى
يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا
هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾
النور ٢٨

مداخلت بے جا کی ممانعت
(داخلہ کی اجازت نہ ملنے پر لوٹ جاؤ)

اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو اور اگر (یہ) کہا جائے کہ (اس وقت) واپس چلے جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے (28:24)

(is) no fault of you to enter uninhabited (not in use for living in) houses wherein is some property longing to you (which serve a purpose useful to you). Allah knows what you proclaim and what you hide. (29)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾
النور ٢٩

(ہاں) اگر تم کسی ایسے گھروں میں جاؤ جس میں کوئی نہ بتا ہو (غیر آباد ہو) اور اس میں تمہارا اسباب (رکھا) ہو (یا کوئی فائدہ ہو) تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے (29:24)

**SALUTE AND GREET TO EACH OTHER WHILE
ENTERING YOUR OWN HOUSES
(SAY: AL - SALAMU - ALAYKUM WA RAHMAT ALLAH)
THE BLESSING AND MERCY OF ALLAH BE UPON YOU (SAID
WHENEVER A MUSLIM MEETS A MUSLIM OR WHENEVER A
MUSLIM ENTERS A HOUSE OR ROOM)**

الامر بالسلام على أهل الاسرة
عند الدخول في البيت

اپنے گھر میں داخل ہونے پر اہل خانہ کو سلام کرنے
(السلام علیکم ورحمۃ اللہ) کہنے کا حکم

But whenever you enter houses, salute each other with a blessed, goodly greeting, as enjoined by Allah. Thus Allah makes clear His revelations for you, that haply you may understand. (61) PART

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا
فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَتَحِيَّاتُ مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ
طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾
النور ٦١ جزء

اور جب تم گھروں میں جانے لگو اپنے (گھر والوں) کو سلام کیا کرو (یہ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ بابرکت اور پاکیزہ دعائے خیر ہے۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو (61:24) جزو

DECORUM OF PRIVACY

آداب التخلية

تخلية کے آداب

THREE SPECIFIC TIMINGS FOR LIMITATIONS ON FREE ACCESS OF SERVANTS AND IMMATURE CHILDREN TO YOUR BEDROOM

O you who believe! Let your slaves, and those of you who have not come to puberty, ask permission from you at three occasions (before intruding upon your privacy) Before the prayer of dawn, and when you take off your clothes for the heat of noon, (For a Siesta) and after the prayer of night. Three times of privacy for you. It is no objection for them or for you at other times, to move about attending to each other. (If they come into your presence without leave). Thus Allah makes clear the revelations for you. Allah is Knower, Wise. (24:58)

ثلاثة اوقات للتخلية و استئذان الخدام و الاطفال ثلاث مرات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوْفًا وَعَلَيْكُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

تخلية کے تین اوقات ان اوقات میں گھریلو ملازمین اور نابالغ بچوں کو اجازت لے کر آرام گاہ میں داخل ہونے کی ہدایت کی جائے۔ مومنو تمہارے غلام لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے تین دفعہ (یعنی تین اوقات میں) تم سے اجازت لیا کریں۔ (ایک تو) نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور (تیسرے) عشاء کی نماز کے بعد (یہ) تین (وقت) تمہارے پردے (کے) ہیں ان کے (آگے) پیچھے (یعنی دوسرے وقتوں میں) نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ (کام کاج کے لئے) ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اور اللہ بڑا علم والا (اور) بڑا حکمت والا ہے (58:24)

EVEN YOUR CHILDREN ATTAINING THE AGE OF PUBERTY SHOULD SEEK PERMISSION TO ENTER HOUSE OR BEDROOM

And when the children among you come to puberty then let them ask permission just as those before them used to ask it. Thus Allah makes clear His revelations for you. Allah is Aware and Wise. (24:59)

الأمر بالاستئذان للأطفال الكبار عند الدخول

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

بلوغ اولاد کو بھی داخلہ کی اجازت طلب کرنے کا حکم اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہئے جس طرح ان سے اگلے (یعنی بڑے آدمی) اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (59:24)

ETIQUETTES OF CONVERSATION

آداب التکلم

آداب گفتگو

SPEAK IN GENTLE VOICE (NEITHER LOUD NOR TIMID)

Be modest in your walk and lower your voice. No doubt, harshest of all voices is the braying of the ass. (31:19)

التکلم بغض الصوت

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

دھیمی آواز (نرم لہجہ) میں گفتگو کا حکم اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کر۔ اور بولتے وقت اپنی آواز سنی (دھیمی) رکھنا یقیناً سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ (19:31)

RESPOND THE EVIL WITH SOMETHING FAR BETTER

Repel evil with that which is better. We are best Aware of that which they say. (23:96)

رد السية بالتی هی احسن

إِذْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ لَنْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

برائی بات کا بھی اچھی بات سے جواب دینا اور برائی بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے (96:23)

**REPELLING EVIL WITH SOMETHING
BEST WILL CONVERT ENMITY
INTO FAST FRIENDSHIP**

The good deed and the evil deed are not alike. Repel the evil deed with one which is better, then notice how someone between whom and you there was enmity (will become) as though he was a bosom friend. (41:34)

But none is granted it except those who are steadfast, and none is granted it except the luckiest. (41:35)

دفع السيئة باحسن يذهب العداوة
ويورث الصداقة المخلصة

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٤١﴾
﴿٤١ حم السجدة ٣٤﴾

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾
﴿٤١ حم السجدة ٣٥﴾

سخت کلامی کا اچھا جواب
دشمنی ختم کرنے کا موجب ہوگا

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو (سخت کلامی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس شخص کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا (34:41)

اور یہ بات ان ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں۔ اور ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں (35:41)

More Reference : 23:96 Page 445

والمزيد راجع ٢٣ المؤمنون ٩٦: الصفحة ٤٤٥

المزيد حوالہ 96:23 صفحہ 445

**LADIES SHOULD NOT ACT TOO DIFFERENTIAL
WHILE TALKING TO OTHERS TO AVOID
INDUCING DOUBT OF INTIMACY**

For Detail Consult : 33:32 Page 543

WHOLESOME WAY OF TALKING

They are guided to gentle way of talking and they are guided to the path of the Glorious One. (22:24)

More Reference : 20:44 31:19 Page 633,445

**POLITE CONVERSATION IS BETTER
THAN ANY ACT OF CHARITY**

polite conversation with forgiveness is better than act of charity followed by scolding. Allah Transcendent, Lenient.. (2:263)

TRY TO INITIATE COURTESY GREETINGS
IF OTHERWISE REPLY IT IN EVEN BETTER TERMS SAYING "WA
ALAYKUM ALSALAM WA RAHAMA ALLAH WA
BARAKATUH" (MAY THE BLESSING,
MERCY AND THE GRACE OF ALLAH(SWT) BE UPON YOU)

And when those who believe in Our relations come to you, say: Peace be upon you! Your Lord has prescribed for Himself mercy, (6:54) PART

كيف يتكلمن بالرجال غير المحرمين

والتفصيل راجع ٣٣ الأحزاب ٣٢: الصفحة ٥٤٣

القول الطيب

وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا
إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾
﴿٢٢ الحج ٢٤﴾

والمزيد راجع ٢٠ طه ٤٤: ٣١ لقمان ١٩

الكلمات الطيبة خير من
التصدق بمال

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
يَتَّبِعُهَا آذَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾
﴿٢ البقرة ٢٦٣﴾

الاستقبال بالتحية
ورد التحية بأحسن منها

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
﴿٦ الانعام ٥٤﴾ جزء

عورتوں کو اجنبی لوگوں میں گھل مل جانے سے
اجتناب اور گفتگو میں مناسب احتیاط کی ہدایت

تفصیل کیلئے دیکھئے 32:33 صفحہ 543

پاکیزہ کلام

اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور قابل صد
تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی (24:22)

المزيد حوالہ 44:20 19:31 صفحہ 445,633

کلمات خیر۔ خیرات سے بہتر ہیں

جس خیرات دینے کے بعد (لینے والے کو) ایذا دی جائے
اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور (اس کی بے ادبی سے) درگزر
کرنا بہتر ہے اور اللہ بے پروا (اور) بردبار ہے (263:2)

ایک دوسرے کا استقبال کرنے
میں پہل کرو اور دوسروں کے سلام
کا زیادہ بہتر الفاظ میں جواب دو

اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر
ایمان لاتے ہیں تو (ان سے) سلام علیکم کہا کرو اللہ نے اپنی
ذات (پاک) پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔۔۔۔۔ (54:6) جزو

Thus We do expound the revelations that the way of the unrighteous may be manifest. (6:55)

When a (courteous) greeting is offered to you then answer back with still more courteous greetings or (at least) return it in equal manner Allah takes careful count of all things. (4:86)

More Reference : 24:27:61 31:19 49:11 58:8
Page 444, 449, 445, 480, 745

USE PROPER WORDS OF RESPECT WHILE ADDRESSING THE VENERABLE

Make not the calling of the messenger among you as your calling one of another. Allah knows those of you who try to slip away, hiding themselves. And let those who conspire to evade orders beware lest grief or painful punishment befalls them. (24:63)

DO NOT TREAT INFERIOR WHO INITIATES GREETING (SALAM)

O you who believe! When you go forth (to fight) in the way of Allah, be careful to discriminate, and say not to one who offers you peace: "You are not a believer;" seeking the chance profits of this life (so that you may despoil him). With Allah are plenteous spoils. Even thus (as he now is) were you before; but Allah has since then been gracious to you. Therefore take care to discriminate. Allah is ever Informed of what you do. (4:94)

DECORUM FOR PUBLIC ASSEMBLY SESSIONS

ACCOMMODATE (MAKE ROOM FOR) OTHERS IN PUBLIC COUNCILS

O you who believe! When it is said, Make room! In assemblies, (at any session) then make room; Allah will make way for you (hereafter). And when it is said, move on ahead! Then move on up Allah will exalt those who believe among you, and those who have knowledge, to high ranks. Allah is Informed of what you do. (58:11)

وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلِكَسْتَشِينَ سَبِيلَ
الْجُرْمِينَ ﴿٥٥﴾
﴿٦ الانعام ٥٥﴾

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾
﴿٤ النساء ٨٦﴾

والمزيد راجع ٢٤ النور ٦١:٢٧ ٣١ لقمان ١٩:
٤٩ الحجرات ١١: ٥٨ المجادلة: ٨

خاطبوا الكبراء بالإكرام والتوقير

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ
لِوَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ
تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾
﴿٢٤ النور ٦٣﴾

عدم ازدراء لمن يحيى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمِنْدَلِ اللَّهُ مَعَانِمُ
كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾
﴿٤ النساء ٩٤﴾

آداب المجلس

التفسيح في المجالس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا
فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَ
إِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ المجادلة ٥٨﴾

اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے
ہیں (تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو) اور اس لئے کہ
گنہگاروں کا راستہ ظاہر ہو جائے (55:6)

اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب
دو یا انہیں لفظوں سے دعا دو بے شک اللہ ہر چیز کا
حساب لینے والا ہے (86:4)

مزيد حوالہ 8:58 11:49 19:31 61,27:24
صفحہ 745, 480, 445, 449, 444

بزرگوں کو تعظیم اور ادب سے مخاطب کرو

مومنو پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس
میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بے شک اللہ کو وہ لوگ
معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں تو جو
لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہئے
کہ (ایسا نہ ہو کہ) ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا درد ناک
عذاب نازل ہو (63:24)

کسی سلام کہنے والے کی تحقیر نہ کرو

مومنو! جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام
لیا کرو اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو
کہ تم مومن نہیں ہو۔ اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا
کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ سو اللہ کے نزدیک بہت سی
 نعمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ پھر اللہ نے تم پر
احسان کیا تو (آئندہ) تحقیق کر لیا کرو۔ اور جو عمل تم
کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے (94:4)

آداب مجلس (مجلس)

مجلس میں دوسروں کو جگہ دینا

مومنو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دو
تو تم جگہ کشادہ کر دو اللہ تم کو کشادگی بخشے گا۔ اور جب
کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اور جو
لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا
گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا۔ اور اللہ
تمہارے سب کاموں سے واقف ہے (11:58)

**JOIN ASSEMBLIES WHEN CALLED
FOR COMMON COMMUNITY CAUSE
AND DO NOT DEPART WITHOUT PERMISSION**

They only are the true believers who believe in Allah and His messenger and, when they are with him on some collective action they do not leave until they have asked permission of him. Those who ask permission of you, those are they who believe in Allah and His messenger. So, if they ask your permission of leave for some affair of theirs own, then allow any of them you may wish and seek for them forgiveness of Allah. Surely Allah is Forgiving, Merciful. (24:62)

الأمر بالحضور إلى أمر
جامع والنهي عن الذهاب
بدون استئذان

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا
حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَإِذَا سَأَلَكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذْنِ لِمَن
شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾
﴿٢٤ النور ٦٢﴾

مجلس مشاورت (اسمبلی) میں بلاوے
پر حاضر ہونے کی ہدایت اور بلا اجازت
چلے جانے (چھوڑنے) پر پابندی

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب بھی ایسے کام کے لئے جو اجتماعی طور پر کرنے کا ہو پیغمبر کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لئے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر جو لوگ آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو جب یہ لوگ آپ سے کسی کام کے لئے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں اور ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگا کریں کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (62:24)

WHISPERING AND SECRET COUNSELLING

O you who believe! When you hold secret counsel together, conspire not together for crime and wrongdoing and disobedience towards the messenger, but conspire together for righteousness and piety, and fear Allah, to Whom you will be brought back. (58:9)

النجوى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا
بِالْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ
وَتَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾
﴿٥٨ المجادلة ٩﴾

سرگوشی کرنا (کانا پھوسی)

مومنو! جب تم آپس میں سرگوشیاں (کان میں بات) کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیک عمل کرنے اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا۔ اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہنا (9:58)

More Reference : 4:140 6:68 58:10
Page 217, 303

**CONSPIRING FOR ILL MOTIVES
AN ACT OF HYPOCRITES**

Detail Consult : 4:108 17:47 20:62
Page 3 58:8 Page 111, 198, 1027, 745

**SECRET COUNSELLING
FOR RIGHTEOUS MOTIVES IS PERMISSIBLE**

Detail Consult : 4:114 Page 269

**KEEP ALOOF FROM THE COMPANY
OF DISBELIEVERS WHO MOCK AT
THE DIVINE ORDAINMENTS**

Whenever you see those who speculate about Our Signs, avoid them till they speculate about some other topic of conversation, Even if Satan should cause you to forget (to do so), still do not sit around with such a wrongful folk once you remember. (6:68)

والمعزير راجع ٤ النساء: ١٤٠: ٦ الأنعام: ٦٨
٥٨ المجادلة: ١٠٠ الصفحة ٢١٧, ٣٠٣

النجوى من خصال المنافقين

والتفصيل راجع ٤ النساء: ١٠٨: ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٤٧:
٢٠ طه: ٦٢: ٢١ الأنبياء: ٣: ٥٨ المجادلة: ٨:

إباحة المشاورة السرية
للدواعي المقسطة

والتفصيل راجع ٤ النساء: ١١٤: الصفحة ٢٦٩

لا تقعدوا مع القوم المستهزئين
بآيات الله وبرسوله

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ
عَنَّهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ
الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾
﴿٦ الأنعام ٦٨﴾

مزید حوالہ 10:58 68:6 140:4
صفحة 303, 217

سرگوشی: خصلت منافقین

تفصیل کیلئے دیکھئے 3:21 62:20 47:17 108:4
صفحة 745, 1027, 198, 111 3:58

نیک کاموں کے لئے رازدارانہ
مشوروں کی اجازت

تفصیل کیلئے دیکھئے 114:4 صفحه 269

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے احکامات
کو ہنسی مذاق سمجھنے والے (کفار اور منافقین)
کی محفل (مجلس) میں شرکت نہ کرو

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بے ہودہ بکواس (عیب جوئی) کر رہے ہیں تو ان سے الگ (کنارہ کش) ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں اور اگر (یہ بات) شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو (68:6)

ETIQUETTES OF DINING

آداب اكل الطعام

کھانا کھانے کے آداب

INVITE EACH OTHER TO MEALS
(DINING IN COMPANY IS ENCOURAGED)

No blame is there upon the blind nor upon the lame nor any blame upon the sick nor on yourselves if you eat from your houses, or the houses of your fathers, or houses of your mothers, or the houses of your brothers, or the houses of your sisters or the houses of your paternal uncles or aunts or the houses of your maternal uncles or aunts or (from that) whereof you hold the keys, or (in the house) of some of your Sincere friend. No objection shall it be for you whether you eat in company or separately. -----
--- (24:61) PART

الدعوة إلى المأدبة اجتماعياً

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا -----
﴿ ٢٤ النور ٦١ ﴾ جزء

مل بیٹھ کر کھانے کی ترغیب
ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دینا

نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے بچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے (اور اس کا بھی) تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ ----- (61:24) جزو

VISIT WHEN INVITED
REACH AT APPOINTED TIME
DISPERSE AFTER TAKING MEAL WITHOUT
INDULGING IN CONVERSATION TO
AVOID INCONVENIENCE OF THE HOST

O you who believe! Enter not the dwellings of the Prophet for a meal without waiting for the proper time, unless permission be granted you. But if you are invited, enter, and, when your meal is ended, then disperse. Linger not for conversation. -----
(33:53) PART

عدم الذهاب إلى المأدبة بدون الدعوة إليها وعدم تضييع وقت المضيف

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ -----
﴿ ٣٣ الاحزاب ٥٣ ﴾ جزء

بن بلائے دعوت پر نہ جاؤ
اور میزبان کا وقت ضائع نہ کرو

مومنو! پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں (جی لگا کر) مشغول ہو کر نہ بیٹھے رہا کرو ----- (53:33) جزو

AVOID OVER EATING (DEVOURING)

Allah will admit those who believe and do good deeds to enter Gardens through which channels flow; while those who disbelieve take their comfort in this life and eat even as the cattle eat, and the Fire is their abode. (47:12)

اجتناب الإفراط في الأكل

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ -----
﴿ ٤٧ محمد ١٢ ﴾

زیادہ کھانے سے اجتناب

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا۔ اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور (اس طرح) کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں۔ اور ان کا (اصل) ٹھکانا دوزخ ہے (12:47)

More Reference : 7:31 Page 252/449

وللمزيد راجع ٧ الاعراف ٣١ الصفحة ٢٥٢/٤٤٩

مزید حوالہ 31:7 صفحہ 449/252

EAT AND DRINK BUT DO NOT WASTE

-----And eat and drink, (freely) yet do not overdo (waste) things He loves not the extravagant. (7:31) PART

الاعتدال في الأكل والشرب

وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ -----
﴿ ٧ الاعراف ٣١ ﴾ جزء

کھانا کھانے میں توازن و اعتدال

----- اور خوب کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ کہ اللہ اسراف کرنے (ضائع کرنے) والوں کو پسند نہیں کرتا ----- (31:7) جزو

More Reference : 47:12 Page 449

وللمزيد راجع ٤٧ محمد ١٢ الصفحة ٤٤٩

مزید حوالہ 12:47 - صفحہ 449

EAT ONLY WHOLESOME (LAWFUL) THINGS

الاكتفاء على أكل الحلال الطيب

رزق حلال اور طیب چیزیں کھانے کی ہدایت

O you who believe! Eat of the wholesome things that We have provided you, and be grateful to Allah if it is (indeed) He Whom you worship. (2:172)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾
﴿٢ البقرة ١٧٢﴾

اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو (اس کی نعمتوں کا) شکر بھی ادا کرو (172:2)

More Reference: 2:168 5:88 6:164 16:114 23:51 Page 499, 731, 342, 499

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٦٨ ٥ المائدة: ٨٨
١٦ الأنعام: ١٦٤ ١٦ النحل: ١١٤ ٢٣ المؤمنون: ٥١

مزيد حوالہ 114:16 164:6 88:5 168:2
صفحہ 499, 342, 731, 499 51:23

BE GRATEFUL TO ALLAH (SWT) FOR HIS FAVOUR OF PROVIDING SUSTENANCE

الشكر لله بعد أكل الطعام

کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا

eat of the lawful and wholesome food, which Allah has provided for you, and be grateful for the bounties of your Lord if it is Him you serve. (5:114)

فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِ مَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا
لِنِعْمَتِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾
﴿١٦ النحل ١١٤﴾

پس اللہ نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو (114:16)

but (man) has not done what He commanded him. (80:23)

كَلَّا لَبَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾
﴿٨٠ عبس ٢٣﴾

کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا (23:80)

let man consider the source of his food; (How We provide it) (80:24)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾
﴿٨٠ عبس ٢٤﴾

تو انسان کو چاہئے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے (24:80)

More Reference: 2:172 Page 450

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٧٢ الصفحة ٤٥٠

مزيد حوالہ 172:2 صفحه 450

FEEDING THE PAUPERS

إطعام المستحقين في يوم ذي مسغبة

مستحقین کو بھوک میں کھانا کھلانا

More Reference: Page: 282,283,463,573

وللتفصيل راجع الصفحة ٥٧٣، ٤٦٣، ٢٨٣، ٢٨٢

تفصیل کیلئے دیکھئے صفحہ 573,463,283,282

DO NOT MISUSE OR WASTE WATER

الاعتدال في استعمال الماء

پانی کے استعمال میں اعتدال

Have you thought: If (all) your water were to sink into the earth, who then could bring you gushing water from a spring? (67:30)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾
﴿٦٧ الملك ٣٠﴾

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی (جو تم پیتے ہو اور برتے ہو) خشک ہو جائے تو (اللہ کے سوا) کون ہے جو تمہارے لئے شیریں پانی کا چشمہ بہالائے؟ (30:67)

More Reference: 11:52 18:41 42:28 70,11 Page 933, 1112, 345, 261

وللتفصيل راجع ١١ هود: ٥٢ ١٨ الكهف: ٤١
٤٢ الشورى: ٢٨ ٧١ نوح: ١١، ١٠

تفصیل کیلئے دیکھئے 11,10:71 28:42 41:18 52:11
صفحہ 261, 345, 1112, 933

PUBLIC OBLIGATIONS RIGHTS AND DEALINGS (SERVICE TO FELLOW CREATURES) **حقوق العباد** **حقوق العباد**

<p>PRIVILEGES OF PARENTS</p>	<p>حقوق الوالدين</p>	<p>والدين کے حقوق</p>
<p>VENERATION OF PARENTS</p>	<p>تبجيل الوالدين</p>	<p>تکریم و ادب والدين</p>
<p>Say: Come, I will recite to you that which your Lord has made a sacred duty (forbidden) for you: That you ascribe nothing as partner to Him and that you show kindness to both (your) parents,----- (6:151) PART</p>	<p>قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ اَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۗ ﴿٦﴾ الانعام ١٥١ ﴿جزء﴾</p>	<p>ہر دین سے کہ (لوگو) آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو ہمارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں (ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے) کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا۔ اور ماں باپ سے (بدسلوکی نہ کرنا) بلکہ اچھا سلوک کرتے رہنا۔----- (151:6) جزو</p>
<p>And We have commended to (every) man kindness towards the parents. His mother bears him with pain and gives him birth with pain and the bearing of him and the weaning of him are thirty months, till, when he attains full growth and reaches forty years, of age----- (46:15) PART</p>	<p>وَوَضَّيْنَا لِلْاِنْسَانِ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَّ حَمَلُهُ وَّ فِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَّ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۗ ﴿٤٦﴾ الاحقاف ١٥ ﴿جزء﴾</p>	<p>اور ہم نے انسان کو اپنے والدين کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا۔ اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا ڈھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور چالیس برس کو پہنچ جاتا ہے----- (15:46) جزو</p>

More Reference : 2:83,215 4:36 17:24 29:8 31:14 Page 251, 282, 451, 453, 452 والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢١٥، ٨٣ ٤ النساء: ٣٦ ١٧ الاسراء (بنی اسرائیل): ٢٤ ٢٩ العنكبوت: ٨ ٣١ لقمان: ١٤ مزيد حوالہ 2: 83, 215 4: 36 17: 24 29: 8 31: 14 صفحہ 251, 282, 451, 453, 452 14:31

<p>NEVER SAY TO THEM "NAUGHTY" NOR SCOLD EITHER OF THEM</p>	<p>لا تخاطب الوالدين بالعجرفة ولا تنهرهما</p>	<p>ماں باپ سے ترش لہجہ میں بھی بات نہ کرو</p>
<p>SHOW SPECIAL REGARDS AND KINDNESS TOWARDS YOUR PARENTS IN THEIR OLD AGE</p> <p>Your Lord has decreed, that you worship none except Him, and (that you show) kindness to parents. If one of them or both attain old age while they are still with you, say not "Fie" to them nor repulse them, but speak to them a gracious word. (17:23)</p>	<p>احترام خصوصي للوالدين في كبرهما</p> <p>وَقَضَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اَوْفٍ وَّ لَا تَنْهَرُهُمَا وَّقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ ١٧ بنی اسرائیل ٢٣ ﴿جزء﴾</p>	<p>والدين کا بڑھاپے میں خاص احترام کا حکم</p> <p>اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اوف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا (23:17)</p>

<p>PROTECTION OF PARENTS (LOOK AFTER AND MAINTENANCE) IS OBLIGATORY</p>	<p>الأمر برعاية الوالدين خاصة</p>	<p>والدين کی نگہداشت اور حفاظت کا حکم</p>
<p>Protect them carefully from the out sides by lowering to them the wing of submission through mercy, and say: My Lord! Have mercy on them both as they did care for me when I was little child. (17:24)</p>	<p>وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَّقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَّبَّنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ ١٧ بنی اسرائیل ٢٤ ﴿جزء﴾</p>	<p>ان کی نگہداشت اور حفاظت کے لئے عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں (شفقت سے) پرورش کیا ہے تو بھی ان (کے حال) پر رحمت فرما (24:17)</p>

More Reference : 2:215 Page 282 والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢١٥ الصفحہ ٢٨٢ مزيد حوالہ 2: 215 صفحہ 282

ESTEEM OF MOTHER

احترام خصوصی للام

والدہ کا خصوصی احترام

And We have commissioned upon (every) man to look after the parents. His mother bears him in travail upon travail, and his weaning is in two years. Show gratitude to Me and as well as to your parents. To Me is the journeying. (31:14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عامينَ أَن اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿٣١﴾ لقمان ١٤

اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ جسے اس کی ماں دکھ پردکھ اٹھا کر پیٹ میں (حمل کے دوران) اٹھائے رکھتی ہے (پھر اس کو دودھ پلاتی ہے) اور (آخر کار) دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے (اس لئے) وہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی (کہ ان دونوں کو) میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ (14:31)

For Reference : 2:233 19:32 46:15
Page 534, 1097, 400/451

واللہ اعلم بالصواب
للتمیز راجع ٢ البقرة: ٢٣٣ ١٩ مریم: ٣٢
٤٦ الاحقاف: ١٥ الصفحة ٥٣٤، ١٠٩٧، ٤٥١/٤٠٠

مزیں حوالہ 2:233 19:32 46:15
صفحہ 451/400, 1097, 534

LEGACY OF PARENTS OVER CHILDREN'S PROPERTY

حق الوالدين على الذرية في اموالهم وعقارهم

اولاد کی جائیداد اور مال پر والدين کا حق

Detail Consult : 2:180,215 4:11
Page 508, 282, 510

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢١٥، ١٨٠ ٤ النساء: ١١
الصفحة ٥١٠، ٥٠٨، ٢٨٢، ٥٠٨

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:180,215 4:11
صفحہ 510, 282, 508

LEGACY OF FATHER AND GRANDFATHER OVER THE PROPERTY OF GRAND CHILDREN

حقوق الوالد والجد

والد اور دادا کے حقوق

Detail Consult : 4:11 Page 510

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ١١ الصفحة ٥١٠

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:11
صفحہ 510

REVERENCE OF PARENTS HAS BEEN ORDAINED IN EVERY SCRIPTURE (TO BYGONE FOLKS)

أمر في كل شريعة باطاعة الوالدين

والدين کی اطاعت کا ہر شریعت میں (پچھلی اقوام کو بھی) حکم دیا گیا

and (remember) when We made a covenant with the Children of Israel, (saying): Worship none except Allah (only) and treat parents kindly (2:83) PART

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿٨٣﴾ البقرة ٨٣ جزء

اب جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ (83:2) جزو

For Reference : 31:14 Page 452

واللہ اعلم بالصواب
للتمیز راجع ٣١ لقمان: ١٤ الصفحة ٤٥٢

مزیں حوالہ 31:14
صفحہ 452

REVERENCE OF PARENTS IS A TRADITION OF THE PROPHETS

الإحسان بالوالدين سنة الأنبياء

والدين کے ساتھ نیک سلوک پیغمبران کی سنت

All dutiful towards his parents. And he was not arrogant, rebellious. (19:14)

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٩﴾ مریم ١٤

اور بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکش (اور) گناہ گار نہیں تھے (19:14)

For Detail Consult : 12:99 Page 994

وللتفصيل راجع ١٢ يوسف: ٩٩ الصفحة ٩٩٤

تفصیل کیلئے دیکھئے 12:99
صفحہ 994

DO NOT SAY TO PARENTS A WORD OF CONTEMPT NOR REPEL THEM PUNISHMENT FOR DISOBEDIENCE OF PARENTS

لا تقولوا للوالدين أف عقاب إهانة الوالدين

والدين کو أف تک نہ کہو والدين کی بے ادبی کی سزا

And whoso says to his parents: F upon you both! Do you threaten me that I shall be brought forth (again) when generations before me have passed away? And the twain appeal to Allah for help (and say): Woe to you! Believe! The praise of Allah is true. But he says: This is nothing but fables of the men of old: (46:17)

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا اتَّعَدْتُمْنِي أَن أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيَلِكُ امْنُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٦﴾ الاحقاف ١٧

اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں (زمین سے) نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے (ہوئے کہتے) تھے کہ کم بخت ایمان لا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں (17:46)

Such are those on whom the Word concerning nations of the Jinn and mankind which have passed away before them, has effected. They are the losers. (46:18)

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿٤٦﴾
الاحقاف ١٨ ﴿﴾

ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں
کی (دوسری) امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں
ہر اب کا وعدہ تحقیق ہو گیا۔ بے شک وہ نقصان اٹھانے
لے تھے (18:46)

LIMITATIONS OF OBEDIENCE OF PARENTS

We have enjoined on (every) man kindness to the parents; but if they strive to make you associate anything with Me that of which you have no knowledge, then obey them not. To Me is your return and I shall tell you what you used to do. (29:8)

حدود اطاعة الوالدين

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا
وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾
العنكبوت ٨ ﴿﴾

اطاعت والدین کی حدود

در ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک
کرنے کا حکم دیا ہے (اے مخاطب) اگر تیرے ماں باپ
کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس
کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں۔ تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ تم
(سب) کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو کچھ تم
کرتے تھے میں تم کو بتا دوں گا (8:29)

More Reference : 31:15 Page 453

والمزيد راجع ٣١ لقمان ١٥: الصفحة ٤٥٣

مزيد حوالہ 15:31 صفحہ 453

BE CONSIDERATE WITH YOUR PARENTS
(DEAL KINDLY IN WORLDLY AFFAIRS)
EVEN IF THEY DO NOT BELIEVE IN
MONOTHEISM

But if they strive with you to make you ascribe to Me as partner that of which you have no knowledge, then obey them not. Although you should (still) keep company with both of them kindly during (their life in this world) and follow the path of him who repents to Me. Then to Me will be your return, and I shall tell you what you used to do. (31:15)

الأمر بحسن المعاملة بالوالدين
ولو كانا مشركين

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ
إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾
لقمان ١٥ ﴿﴾

مشرك والدین کے ساتھ بھی
دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کا حکم

اور اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو
شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہنا نہ
ماننا۔ ہاں دنیا (کے کاموں) میں ان کا اچھی طرح ساتھ
دینا اور جو شخص میری طرف رجوع کرے اس کے راستے
پر چلنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو کام تم
کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کروں گا (15:31)

PROGENY SHOULD SEEK FROM
ALLAH(SWT) MERCY FOR THEIR PARENTS

Our Lord! Forgive me and my parents and believers on the Day when the account is cast. (14:41)

ينبغي للإنسان أن يدعو للوالدين

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ﴿٤١﴾
ابراهيم ٤١ ﴿﴾

اولاد کو والدین کے حق
میں دعا مانگنے کا حکم

اے پروردگار حساب (کتاب) کے دن مجھ کو اور میرے
ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دینا (41:14)

----- He says: My Lord!
Train me that I may be grateful for
the favours wherewith You have
bestowed upon me and upon both
my parents,-----
(46:15) PART

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
﴿٤٦﴾ الاحقاف ١٥ ﴿جزء﴾

----- تو کہتا ہے کہ اے
میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر
اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر گزار ہوں
----- (15:46) جزو

More Reference : 17:24 19:44 to 47 Page 451,947

والمزيد راجع ١٧ الإسراء (ہم اسرائیل): ٢٤: ١٩ مريم: ٤٤: ٤٧

مزيد حوالہ 17:24 19:44:47 صفحہ 451,947

REWARD FOR REVERENCE OF PARENTS

أجر إطاعة الوالدين

والدین کی اطاعت کا اجر

Those are they from whom We accept the best of what they do, and overlook their evil deeds. (They are) among the owners of the Garden. This is the true promise, which they were promised (in the world). (46:16)

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّاتِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٦﴾
الاحقاف ١٦

یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے (اور یہی) اہل جنت (ہوں گے) (یہ) سچا وعدہ (ہے) جو ان سے کیا جاتا تھا (16:46)

OVERBEARING OR REBELLIOUSNESS WITH THE PARENTS IS OFFENSIVE

التمرد بالوالدين فعل قبيح

والدین سے سرکشی ایک ناپسندیدہ فعل

Detail Consult : 18:80 19:14,32
Page 1061, 1090, 1097

وللتفصيل راجع ١٩ مريم:١٤، ٢٢، ١٨ الكهف: ٨٠٠
الصفحة ١٠٦١، ١٠٩٠، ١٠٩٧

تفصیل کیلئے دیکھئے 19:14, 32 80:18
صفحہ 1061, 1090, 1097

SHOW GRATITUDE TO ALLAH (SWT) AS WELL AS TO PARENTS

الأمر بالشكر للوالدين مع الشكر لله

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکریہ ادا کرنے کا حکم

I have commissioned (every) man (look after) his parents-----
-----Give thanks to Me and your parents. To Me is the journeying. (31:14) PART

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

-----إِن اشكركم ولو الشكر إليَّ المصير ﴿٣١﴾
لقمان ١٤ ﴿جزء٤﴾

ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے ----- کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی (کہ) تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے (14:31) جزو

More Reference : 27:19 46:15
Page 1074, 400/451

وللمزيد راجع ٢٧ النمل: ١٩، ٤٦ الاحقاف: ١٥٠
الصفحة ١٠٧٤، ٤٥١/٤٠٠

مزید حوالہ 19:27 46:15
صفحہ 1074, 400/451

RIGHTEOUS PROGENY CONTINUAL AND INCESSANT REWARD FOR PARENTS

تكون الذرية الصالحة صدقة جارئة للوالدين بعد موتهما

نیک اولاد والدین کے لئے (ان کی وفات کے بعد) صدقہ جاریہ

RIGHTEOUS DEEDS OF PROGENY WILL INCREASE THE MERIT AND GRADE OF THEIR PARENTS

الأعمال الصالحة للذرية الصالحة تستوجب رفع درجات الوالدين بعد موتهما

ایمان دار (نیک) اولاد کے اعمال صالح ان کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائیں گے

As they who believe and whose offspring follow them in faith, We cause their children to join them (in the Garden), and We deprive them of the fruiting of their (life's) work. Every man is a pledge for that which has been earned. (52:21)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٥٢﴾
الطور ٢١ ﴿﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی (راہ) ایمان میں ان کے پیچھے چلی۔ ہم ان کی اولاد کو بھی ان (کے درجے) تک پہنچادیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے (21:52)

**PRIVILEGES OF PROGENY
RIGHTS OF OFFSPRINGS**

حقوق اولاد

حقوق اولاد

**BRINGING UP A CHILD IS A JOINT TASK
OF PARENTS WHILE SUSTENANCE IS TO BE
BORNE BY FATHER**

For Detail Consult : 2:233 65:6,7
Page 534, 533, 393

تنشئة الطفل مهمة الوالدين

وللتفصيل راجع ۲ البقرة: ۲۳۳ ۶۵ الطلاق: ۶-۷
الصفحة ۳۹۳، ۵۳۳، ۵۳۴

بچے کی نشوونما والدین کی ذمہ داری
پرورش کے اخراجات والد کے ذمہ

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:233 65:6,7
صفحہ 393, 533, 534

**BREAST FEED IS BORN RIGHT OF A CHILD
WHICH MAY BE SUSPENDED IN MOST
UNAVOIDABLE SITUATIONS ONLY**

For Detail Consult : 2:233 22:2 28:7,12 31:14
46:15 Page 534, 790, 1006, 1007, 452, 400

يجوز للأُمّ عدم إرضاع الطفل عند ما
اضطرت لذلك في ظروف قاسية

وللتفصيل راجع ۲ البقرة: ۲۳۳ ۲۲ الحج: ۲ ۳۱ لقمان: ۱۴
۲۸ القصص: ۱۲۷ ۴۶ الأحقاف: ۱۵

ماں کا دودھ بچے کا پیدائشی حق
صرف انتہائی مشکل حالات اور مجبوری کی صورت میں
ماں کا بچے کو اپنا دودھ نہ پلانے کا تصور

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:233 22:2 28:7,12 31:14
46:15 15:46
صفحہ 400,452,1007,1006,790,534

**NOURISHMENT OF A CHILD
IS A DUTY OF PARENTS**

For Detail Consult: 22:2 28:7 31:14
Page 790, 1006, 452

الاعتناء بالطفل

وللتفصيل راجع ۲۲ الحج: ۲ ۳۱ لقمان: ۱۴
۲۸ القصص: ۷ الصفحة ۷۹۰، ۱۰۰۶، ۴۵۲

بچے کی دیکھ بھال غذا جسمانی اور
دماغی صحت کی نشوونما

تفصیل کیلئے دیکھئے 22:2 28:7 31:14
صفحہ 452, 1006, 790

**GUARDING CONDUCT OF A CHILD
IS OBLIGATION OF PARENTS**

O you who believe! Ward off
(Shield) yourselves and your
families from a Fire whereof the
fuel is men and stones, over which
are set awesome, and severe angels,
who resist not Allah in that which
He commands them, but obey that
which they are commanded. (66:6)

التربية الجيدة مهمة الوالدين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾
التحریم ۶

بچے کی اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری

مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم)
سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس پر بد خو
اور سخت مزاج فرشتے (مقرر) ہیں جو ارشاد اللہ ان کو
فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا
ہے اسے بجالاتے ہیں (6:66)

**RECEIVING EDUCATION
ATTAINING KNOWLEDGE
IS BASIC RIGHT OF THE CHILDREN**

The Beneficent (55:1)
Has made known (taught) the
Quran. (55:2)

التعليم حق الاطفال على الوالدين

الرَّحْمَنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥﴾ الرحمن ۱ ﴿٥٥﴾ الرحمن ۲

تعلیم (دینی اور دنیوی) بچوں کا حق

(اللہ جو) نہایت مہربان (55:1)
اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی (55:2)

**DEPRIVING KIDS FROM EDUCATION
IS EQUIVALENT TO INFANTICIDE**

For Detail Consult: 17:31 6:151,140 Page 539

**GOOD ADVICE TO PROGENY
THROUGH ADMONISHING AND EXHORTING**

For Detail Consult : 31:13,16,17,18,19
Page 1071

منع الاطفال من اكتساب العلم و
التربية قتلهم المعنوی

وللتفصيل راجع ۱۷ الإسراء (صہ اسرائیل): ۳۱
۶ الأنعام: ۱۵۱-۱۴۰ ۱۷

بچوں کو تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا بھی
قتل اولاد کے مترادف ہے

تفصیل کیلئے دیکھئے 17:31 6:151,140
صفحہ 539

**GOOD ADVICE TO PROGENY
THROUGH ADMONISHING AND EXHORTING**

For Detail Consult : 31:13,16,17,18,19
Page 1071

وعظ الاولاد عظات مفيدة

وللتفصيل راجع ۳۱ لقمان: ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹
الصفحة ۱۰۷۱

اولاد کو اچھی نصیحتیں کرنا

تفصیل کیلئے دیکھئے 31:13,16,17,18,19
صفحہ 1071

**AFFECTION OF FATHER
(TENDER ATTACHMENT)**

For Detail Consult : 12:83,93 Page 992,993

**FORGIVE YOUR CHILDREN'S FAULTS
AND SEEK MERCY FOR THEM
FROM ALLAH (SWT)**

For Detail Consult : 12:89,98 Page 994,995

شفقة الوالد للذرية

وللتفصيل راجع ۱۲ یوسف: ۹۳، ۸۳ الصفحة ۹۹۲، ۹۹۳

شفقت پدری (باپ کی محبت)

تفصیل کیلئے دیکھئے 12:83,93
صفحہ 993,992

**FORGIVE YOUR CHILDREN'S FAULTS
AND SEEK MERCY FOR THEM
FROM ALLAH (SWT)**

For Detail Consult : 12:89,98 Page 994,995

العفو عن الذرية عند ارتكاب
خطاء والدعاء لهم

وللتفصيل راجع ۱۲ یوسف: ۹۸، ۸۹ الصفحة ۹۹۵، ۹۹۴

اولاد سے غلطی سرزد ہونے پر مہر و تحمل سے کام لینا اور
اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت اور بخشش کے لیے دعا کرنا

تفصیل کیلئے دیکھئے 12:89,98
صفحہ 995,994

**PRAYING OF PARENTS
FOR THE BETTERMENT OF PROGENY**

My Lord! Make me to establish proper worship, And also (raise such) among my posterity; my Lord! and accept my prayer. (14:40)

And who say: Our Lord! Bestow upon us comfort of our spouses and our offspring, and make us patterns for (all) those who ward off (evil). (25:74)

And that I may do right acceptable to You. And be gracious to me in the matter of my offspring. I have turned to You repentant, and I am of those who surrender (to You). (46:15) PART

**INJUNCTION FOR SAFEGUARDING
INTEREST OF YOUNGER PROGENY
WHILE MAKING A WILL OR BEQUEST**

Detail Consult : 4:9 Page 508

**LEGACY OF (BOTH) SON AND DAUGHTER
OVER PARENTS PROPERTY**

Detail Consult : Chapter of Laws of Heritage Page : 510

**LEGACY OF GRANDSON OVER
GRANDFATHER'S PROPERTY**

Detail Consult : 4:11 Page 510

**GRIEF OVER THE BIRTH OF A FEMALE
CHILD IS A TRADITION OF DISBELIEVERS**

When if one of them receives tidings of the birth of a female, his face becomes black with gloom, and he is filled with inward grief. (16:58)

He hides himself from the folk because of the evil of that whereof he has bad news, (asking himself): Shall he keep it and feel disgraced or bury it beneath the dust. Evil is the decision. (16:59)

دعاء الوالدين للذرية

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
رَبَّنَا وَقَبَلْ دُعَاءَنَا
﴿١٤ ابراهيم ٤٠﴾

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
﴿٢٥ الفرقان ٧٤﴾

أَعْمَلٌ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي إِنَّي أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
﴿٤٦ الاحقاف ١٥﴾ جزء

رعاية الذرية الضعاف في الوصية

وللتفصيل راجع ٤ النساء ٩: الصفحة 508

نصيب الذرية في تراث الوالدين

وللتفصيل راجع باب قوانين التراث الصفحة ٥١٠

حقوق الابناء والأحفاد

وللتفصيل راجع ٤ النساء ١١: الصفحة ٥١٠

**الحزن عند ولادة الأنثى
خصلة الكفار**

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
﴿١٦ النحل ٥٨﴾

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ
أَيُّسْكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ
أَلْأَسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ
﴿١٦ النحل ٥٩﴾

اولاد کی بہتری کیلئے والدین کا دعا مانگنا

اے پروردگار مجھ کو (ایسی توفیق عنایت) کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی (یہ توفیق بخش) اے پروردگار میری دعا قبول فرما (40:14)

اور وہ جو (اللہ سے) دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہمارے جیون ساتھیوں کی طرف سے (دل کا چین) اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا (74:25)

یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے۔ اور میرے لئے میری اولاد میں اصلاح (وتقویٰ) دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں (15:46) جزو

والدین کو وصیت کرتے وقت اپنی کم سن اولاد کے حقوق کے تحفظ کا اہتمام پیش نظر رکھنے کا حکم

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:4 صفحہ 508

اولاد کا والدین کی جائیداد پر حق وراثت

تفصیل کیلئے دیکھئے باب وراثت کے قوانین صفحہ 510

پوتوں کے حقوق وراثت

تفصیل کیلئے دیکھئے 11:4 صفحہ 510

لڑکی کی پیدائش پر افسوس (خصلت کفار ہے)

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی (کے پیدا ہونے) کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ (غم کے سبب) کالا پڑ جاتا ہے اور (اس کے دل کو دیکھو تو) وہ غم ناک ہو جاتا ہے (58:16)

اور اس خبر بد سے (جو وہ سنتا ہے) لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے (اور) سوچتا ہے کہ آیا زلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے (59:16)

For those who believe not in the Hereafter is an evil similitude, and Allah's is the Sublime example. He is the Mighty, the Wise. (16:60)

لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾
﴿١٦ النحل﴾

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لئے
بری باتیں (شایاں) ہیں اور اللہ بلند صفت اور وہ غالب
حکمت والا ہے (60:16)

More Reference : 43:17 Page 137

وللمزيد راجع ٤٣ الزخرف: ١٧ الصفحة ١٣٧

مزيد حوالہ 17:43 صفحہ 137

**BURYING FEMALE INFANT ALIVE.
IS FORBIDDEN IN ISLAM**

قلع وأد البنات

اسلام میں لڑکیوں کو زندہ درگور
کرنے کی رسم کا خاتمہ

And when souls are reunited, (81:7)

اور جب روہیں (بدنوں سے) ملا دی جائیں گی (7:81)

And when the girl child that was buried alive is asked (81:8)

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾
﴿٨١ التکویر ٧﴾

اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنادی گئی ہو پوچھا جائے
گا (8:81)

For what sin she was slain, (81:9)

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾
﴿٨١ التکویر ٨﴾

کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی؟ (9:81)

And when the scrolls are laid open, (81:10)

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾
﴿٨١ التکویر ٩﴾

اور جب (عملوں کے) دفتر کھولے جائیں گے
(10:81)

**KILLING OF CHILDREN
IN DREAD OF POVERTY IS A BLUNDER**

النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر

مفلسی کے خوف سے اولاد کا قتل گناہ ہے

For Detail Consult : 6:140,151 17:31
Page 513, 451, 539

وللتفصيل راجع ٦ الأنعام: ١٤٠، ١٥١، ١٧ الإسراء
(بنی اسرائیل): ٣١ الصفحة ٥١٣، ٤٥١، ٥٣٩

تفصیل کیلئے دیکھئے 31:17 151,140:6
صفحہ 539, 451, 513

**RIGHTEOUS OFFSPRING ARE
REAL COMFORT AND FULFILMENT
OF SPIRITUAL LONGINGS**

الذرية الصالحة قرّة الأعين

نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک

For Detail Consult : 25:74 Page 456

وللتفصيل راجع ٢٥ الفرقان: ٧٤ الصفحة ٤٥٦

تفصیل کیلئے دیکھئے 74:25 صفحہ 456

**RIGHTEOUS DEEDS OF PARENTS WILL
INCREASE THE GRADE AND MERIT
OF THEIR PROGENY**

الأعمال الصالحة للذرية الصالحة تستوجب
رفع درجات الوالدين
بعد موتهما

ایمان دار (نیک) والدین کے اعمال صالح
ان کی اولاد کے درجات کی بلندی
کا باعث بن جائیں گے

And they who believe and whose offspring follow them in faith, We cause their children to join them (there), and We deprive them of nothing of their (life's) work. Every man is a pledge for that which has earned learned. (52:21)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٥٢﴾
﴿٥٢ الطور ٢١﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی (راہ) ایمان
میں ان کے پیچھے چلی۔ ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے
درجے (تک پہنچادیں گے اور ان کے اعمال میں سے
کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے
(21:52)

**STEP DAUGHTERS
(UNDER YOUR GUARDIANSHIP)**

ربائب - رایة

بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹیاں
(تمہارے زیر کفالت)

For Detail Consult : 4:22 Page 516

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ٢٢ الصفحة ٥١٦

تفصیل کیلئے دیکھئے 22:4 صفحہ 516

ADOPTED SON

ادعیاء - الدعی

مبتنی - منہ بولی اولاد

For Detail Consult : 33:4 Page 512

وللتفصيل راجع ٣٣ الأحزاب: ٤ الصفحة 512

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:33 صفحہ 512

**DEALING WITH CLOSE RELATIVES
RIGHTS OF KIN FOLK-KINDRED**

**العلاقات بالانساب
والتحريم بالانساب**

**رشتوں کے درجوں کے ساتھ
رشتوں کے درجوں کے ساتھ**

**BLOODTIES - RELATIONSHIP OF LINEAGE
GENEALOGY AND PEDIGREE
INLAWS (RELATIONSHIP BY MARRIAGE)**

**قربات النسب و النسب
القرباة بالمصاهرة**

**نسب و نسل کے رشتے
سسرال کے رشتے**

Detail Consult : 25:54 Page 443

وللتفصیل راجع ۲۵ الفرقان: ۵۴ الصفحة ۴۴۳

تفصیل کیلئے دیکھئے 54:25 صفحہ 443

**LEGACY OF BROTHERS AND SISTERS
AND SIBLINGS**

حق الإخوة والأخوات

بہن بھائیوں کا حق وراثت

Detail Consult : 4:11,12 Page 511

وللتفصیل راجع ۴ النساء: ۱۱، ۱۲ الصفحة ۵۱۰

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:11,12 صفحہ 510

**FOSTERAGE
REVERENCE OF MILK RELATIONSHIP**

احترام العلاقات الرضاعیة

رضاعی رشتوں کا احترام

Detail Consult : 4:23 Page 516

وللتفصیل راجع ۴ النساء: ۲۳ الصفحة ۵۱۶

تفصیل کیلئے دیکھئے 23:4 صفحہ 516

**FATHER'S BROTHERS AND SISTERS
(PATERNAL-UNCLES AND AUNTS)**

عم - عمة

چچا اور چچھی (والد کے بھائی اور بہن)

Detail Consult : 24:61 Page 449

وللتفصیل راجع ۲۴ النور: ۶۱ الصفحة ۴۴۹

تفصیل کیلئے دیکھئے 61:24 صفحہ 449

**MOTHER'S BROTHERS AND SISTERS
(MATERNAL-UNCLES AND AUNTS)**

خال - خالت

ماموں اور خالہ (والدہ کے بھائی اور بہن)

Detail Consult : 24:61 Page 449

وللتفصیل راجع ۲۴ النور: ۶۱ الصفحة ۴۴۹

تفصیل کیلئے دیکھئے 61:24 صفحہ 449

MOTHER IN LAW

امحست نسائکم

ساس (خوش دامن)

Detail Consult : 4:23 Page 516

وللتفصیل راجع ۴ النساء: ۲۳ الصفحة ۵۱۶

تفصیل کیلئے دیکھئے 23:4 صفحہ 516

MAINTAINING THE TIES OF KINSHIP

الامر بصلة الرحم

رشتہ قرابت جوڑے رکھنے (صلہ رحمی) کا حکم

Such as unite that which Allah has commanded should be joined, and fear their Lord, and dread a woeful reckoning; (13:21)

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں (21:13)

And those who break the covenant of Allah after they have pledged it, and sever that which Allah has commanded should be joined, and make mischief in the earth: theirs is the curse and theirs the ill abode. (25:25)

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

اور جو لوگ اللہ سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں ان پر لعنت ہے اور ان کے لئے گھر بھی برا ہے (25:13)

REGARD OF CLOSE RELATIONS

احترام القرباة

رشتوں ناطوں کی حرمت

Detail Consult : 2:83 4:22,23 Page 251, 516

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۸۳ ۴ النساء: ۲۲، ۲۳ الصفحة ۵۱۶، ۲۵۱

تفصیل کیلئے دیکھئے 83:2 23,22:4 صفحہ 516, 251

NOT SEVER THE BOND OF KINSHIP

مذمة قطع الأرحام

قطع رحمی کی مذمت

Those who break the covenant of Allah after ratifying it and sever that which Allah ordered to be joined, and make mischief in the earth: Those are they who are the losers (2:27)

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾

جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز (یعنی رشتہ قرابت) کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (27:2)

-----Be careful of your duty towards Allah in Whom you claim (your rights) of one another, and towards the ties of kinship Allah has been a Watcher over you. (4:1) PART

وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْضَ حَامِلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾
﴿٤ النساء ١﴾ جزء

اور اللہ جس کے نام کو تم
اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو اور رشتے ناٹے
توڑنے سے (بچو) کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے
(1:4) جزو

More Reference : 47:22 Page 676

وللمزيد راجع ٤٧ محمد ٢٢: الصفحة ٦٧٦

مزيد حوالہ 22:47 صفحہ 676

RENDER TO THE NEEDY RELATIVES (KINDRED) THEIR DUE RIGHTS

إيتاء ذى القربى حقه والمسكين
وابن السبيل

مستحق رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم

Give the kinsman his due, and the needy, and the wayfarer, and squander not (your wealth) in wantonness. (17:26)

وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا وَالْيَسِيرِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٢٦﴾

اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا
کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ (17:26)

So give to the kinsman his due, and to the needy, and to the wayfarer. That is best for those who seek Allah's countenance. And such are they who are successful. (30:38)

فَاتِّبِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا وَالْيَسِيرِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾
﴿٣٠ الروم ٣٨﴾

تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے
رہو۔ جو لوگ رضائے اللہ کے طالب ہیں یہ ان کے حق
میں بہتر ہے اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے
ہیں (38:30)

SUPPORTING INDIGENT CLOSE RELATIVES

الأمر بالإنفاق على ذوى القربى

رشتہ داروں پر خرچ کا حکم

Allah enjoins justice and kindness, and giving to kinsfolk, and forbids lewdness and abomination and wickedness. He exhorts you in order that you may take heed. (16:90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَالِإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾
﴿١٦ النحل ٩٠﴾

اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو
(خرچ سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی اور
نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے (اور)
تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو (90:16)

More Reference : 2:83,177,215 8:41,75
Page 251, 473, 282 668,671
24:22 33:6 59:7 90:15
537 168 669 282

وللمزيد راجع ٢ البقرة ٨٣: ١٧٧، ٢١٥، ٨٢: البقرة ٨ الأنفال: ٤١، ٧٥، ٢٤ النور: ٢٢ ٣٣ الأحزاب: ٦ ٥٩ الحشر: ٧ ٩٠ البلد: ١٥

مزيد حوالہ 2: 83، 177، 215 8: 41، 75
صفحہ 251، 473، 282 668، 671
24:22 33:6 59:7 90:15
537 168 669 282

GENEROUS PATRON SHALL ACT FORGIVINGLY AND SHOULD NOT WITHDRAW SUPPORT OF THE RELATIVES PAUPERS EVEN IF THEY ANNOY

النهي عن منع المعونة المالية
من ذوى القربى وغيرهم حتى
في حالة السخط

حالت نارساگی میں بھی مستحق
رشتہ داروں کی امداد بند نہ کرو

And let not those who possess dignity and resources among you swear not to give to the near of kin and to the needy, and to fugitives for the cause of Allah. Let them forgive and show indulgence. Do you not like that Allah may forgive you? Allah is Forgiving, Merciful. (24:22)

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ
وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
وَالْيَسِيرِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ
أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾
﴿٢٤ النور ٢٢﴾

اور جو لوگ تم میں بزرگی اور کشادگی والے ہیں وہ اس
بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن
چھوڑ جانے والوں کو کچھ فی سبیل اللہ خرچ نہیں دیں
گے۔ ان کو چاہئے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم
پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخش
دینے والا مہربان ہے (22:24)

RIGHTS OF ORPHANS

حقوق الیتامی

یتیموں کے حقوق

HELP IN IMPROVEMENT AND WELL - BEING OF THE ORPHANS

اصلاح احوال الیتامی

یتیموں کی اصلاح احوال

Concerning this world and the hereafter. And they question you about orphans. Say: "The best thing to do is what is for their good, and if you mingle your affairs with theirs, then (they are) your brothers. Allah shows him who spoils from him and who improves. Had Allah willed He could have overburdened you. Surely Allah is Mighty, Wise. (220:2)

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَمْكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ البقرة

(یعنی) دنیا اور آخرت (کی باتوں) میں (غور کرو) اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ ان کی (حالت کی) اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا (یعنی خرچ اکٹھا رکھنا) چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا بے شک اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے (220:2)

TREAT ORPHANS WITH TENDER AFFECTION

المعاملة بالیتامی بالشفقة والمحبة

یتیم سے شفقت بھرا سلوک

When you are not generous with the orphan (89:17)

كَلَّا بَلْ لَا تَهْتَدُونَ الْيَتِيمَ ﴿٨٩﴾ الفجر

نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے (17:89)

Therefore the orphan must not be treated with harshness. (93:9)

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩٣﴾ الضحیٰ

تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا (9:93)

That is he who pushes aside the orphan, (107:2)

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿١٠٧﴾ الماعون

یہ وہی (بد بخت) ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے (2:107)

RESPECT AND REGARD OF ORPHANS

اکرام الیتامی

یتیم کا اکرام

For detail Consult : 2:83,177,215 4:3,8 8:41 251,473,282 520,510 850 59 76:8 89:17 90:15 107:2,3 1 282 460 282 460,283

والتفصیل راجع ۲ البقرة: ۲۱۵، ۱۷۷، ۸۳، ۴ النساء: ۸۰، ۷ الأعراف: ۴۱، ۸ الأنفال: ۴۱، ۵۹ الحشر: ۷، ۷۶ الدهر (الإنسان): ۸، ۸۹ الفجر: ۱۷، ۹۰ البلد: ۱۵، ۱۰۷ الماعون: ۲، ۲

تفصیل کیلئے دیکھیں 2: 83, 177, 215 4: 3, 8 8: 41 251, 473, 282 520, 510 850 59 76: 8 89: 17 90: 15 107: 2, 3 1 282 460 282 460, 283

RESPONSIBILITIES OF A GUARDIAN OF ORPHAN

مسئولية ولی الیتیم

سرپرست و نگران کے فرائض

KEEP PROPERTY AND ACCOUNTS OF ORPHANS SEPARATE DO NOT SPENDTHRIFT AND RESTORE THEM ON ATTAINING MATURITY

حفاظة أموالهم وعدم استهلاك أموالهم بدون مبرر، حتى بلوغهم النكاح

یتیم کے مال اور جائیداد کی حفاظت پرورش میں غیر ضروری اخراجات سے اجتناب اور بالغ ہونے پر جائیداد کو اسکے سپرد کر دینا

Majority of orphans till they reach the marriageable age; then, if you find them of sound judgment, deliver over to them their fortune; and devour it not squandering and in haste lest they should grow up. Whoso (of the guardians) is rich, let him abstain generously (From taking of the

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ

اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو پھر (بالغ ہونے پر) اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے (یعنی بالغ ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے) اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو (ایسے

property of orphans); and whoso is poor let him take thereof in reason (for his guardianship). And when you deliver up their fortune to orphans, have (the transaction) witnessed in their presence. Allah suffices as a Reckoner. (4:6)

فَقِيْرًا قَلِيْلًا كُلُّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ
اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهَدُوْا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٤﴾
النساء ٦

مال سے قطعاً طور پر (یعنی بقدر خدمت) کچھ لے اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگے تو گواہ کر لیا کرو اور حقیقت میں تو اللہ ہی (گواہ) حساب لینے والا کافی ہے (6:4)

And approach not the wealth of the orphan save with that which is better, till he reaches maturity-----
----- (6:152)(17:34) PART

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ
اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ
﴿٦﴾ الانعام ١٥٢ ﴿١٧﴾ بنی اسرائیل ٣٤ ﴿جزء

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقہ سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے ----- (6:152)(17:34) جزو

PENALTY FOR THOSE WHO DRAIN OR EMBEZZLE PROPERTY OF ORPHANS

Those who devour the wealth of orphans wrongfully, they do but swallow fire into their bellies, and they will be exposed to burning flame. (4:10)

اَكْلَ مَالِ الْيَتِيْمِ ظُلْمًا
اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتِيْمِ ظُلْمًا اِنَّهُمْ
يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿١٠﴾
النساء ١٠

جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے (10:4)

PROPERTY OF ORPHANS SHOULD BE TREATED AS SACRED TRUST (NEITHER TO BE SUBSTITUTED NOR MIXED UP)

Give to orphans their wealth. Exchange not the good for the bad (in your management thereof) nor absorb their wealth into your own wealth. That would be a great sin. (4:2)

اِسْتِبْدَالَ الْمَالِ الطَّيِّبِ
بِالْمَالِ الْخَبِيْثِ ظُلْمًا
وَآتُوا الْيَتِيْمَ اَمْوَالَہُمْ وَلَا تَبَدَّلُوْا
الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَہُمْ اِلَى
اَمْوَالِكُمْ اِنَّہٗ كَانَ حُبًّا كَبِيْرًا ﴿٢﴾
النساء ٢

یتیموں کے عمدہ مال کو ناقص مال سے تبدیل نہ کرو اور نہ اپنے مال سے ملاؤ اور یتیموں کا مال (جو تمہاری تحویل میں ہو) ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ (اور عمدہ) مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو۔ اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے (2:4)

LEGACY OF ORPHANS IN THE PROPERTY OF RICH ONES

For Detail Consult : 4:8,9 Page 510,508
Consult Chapter Laws of Heritage
Page 510

حَقُّ الْيَتِيْمِ فِي التَّرَاثِ
وَلِلْفَتٰىلِ رَاجِعٌ ۙ النِّسَاءُ ٨: ٩٠٨، ٥١٠ الصَّفْحَةُ
وَلِلْفَتٰىلِ رَاجِعٌ ۙ قَوَانِيْنُ التَّرَاثِ الصَّفْحَةُ ٥١٠

یتیم کا مال دار انسانوں کی جائیداد میں حق
تفصیل کیلئے دیکھئے 4:8,9 صفحہ 508,510
تفصیل کیلئے دیکھئے قوانین وراثت صفحہ 510

DEALINGS WITH IMBECILE LACKING COMMON PRUDENCE

DO NOT ENTRUST PROPERTY TO FEEBLE MINDED BUT SUPPORT THEM OUT OF IT FEED AND CLOTHE THEM AND DEAL DECENTLY

Give not to the foolish (what is in) your (keeping of their) wealth, which Allah has given you to maintain; but feed and clothe them from it, and speak kindly to them. (4:5)

حَقُوْقُ السَّفٰہِءِ
حِفَاظَةُ اَمْوَالِ السَّفٰہِءِ
وَلَا تُؤْتُوْا السَّفٰہِءَ اَمْوَالَہُمْ الَّتِيْ جَعَلَ
اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَاَنْزَلْنٰمْ فِيْہَا وَاَسْوٰہُمْ
وَقُوْلُوْا لہُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٥﴾
النساء ٥

بے عقل لوگوں کو ان کی جائیداد اور مال حوالے نہ کرو ان کو کھلاؤ۔ پلاؤ۔ پہناؤ۔ اوڑھاؤ اور نرم رویہ رکھو اور بے عقل لوگوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لئے گزاراوقات کا سبب بنایا ہے مت دو (ہاں) اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو (5:4)

RIGHTS OF NEIGHBOURS

حقوق الجيران

ہمسایوں کے حقوق

DEALING WITH COLLEAGUES, ASSOCIATES, INTIMATE FRIENDS AND COMPANIONS

المعاملة بالزميل بالصدق وبصاحب الجنب

رفیق کار۔ دوست ساتھی کے ساتھ سلوک

And serve Allah. Ascribe nothing as partner to Him. (Show) kindness to parents, and to near kindred, and orphans, and the needy, and into the neighbour who is of kin (to you) and the neighbour who is not of kin and the fellow traveller and the wayfarer and (the slaves) whom your right hands possess. Allah loves not such who are proud and boastful, (4:36)

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٤٠٦﴾ النساء ٣٦

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور فقراء پہلو (یعنی پاس بیٹھنے والوں) اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ (احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا (4:36)

Reference : 107:7 33:6 Page 481,462

المعزیز راجع ۱۰۷ الماعون: ۷ ۳۳ الأحزاب: ۶ 462,481 صفحہ 6:33 7:107 مزید حوالہ

DO NOT REFUSE TO LEND ARTICLES OF COMMON USE

لا تمنع الماعون

برتنے کی چیزیں (عاریتاً) دینے سے انکار نہ کرو

Woe to worshippers (107:4)

قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤٠٧﴾ الماعون ۴

تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے (4:107)

Do not refuse small kindnesses! (Hold back contributions) (107:7)

وَيَمْنَعُونَ الْبَاعُونَ ﴿٤٠٧﴾ الماعون ۷

اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے (7:107)

DEALING WITH SUBDUES AND SUBORDINATES

المعاملة بالمأ مورين

زیر اثر۔ ماتحت افراد سے سلوک

Detail Consult : 4:36 Page 462

وللتفصیل راجع ۴ النساء: ۳۶ الصفحة ۴۶۲

تفصیل کیلئے دیکھئے 36:4 صفحہ 462

DEALINGS WITH SLAVES - CAPTIVES (ANYONE ELSE UNDER YOUR CONTROL) TO GIVE AND BUY THE FREEDOM SLAVES, CAPTIVES AND BOND MEN

المعاملة بالمماليك الإنفاق في فك الرقاب

غلاموں سے سلوک غلام آزاد کرانا

Detail Consult : 2:177 4:92 9:60 58:4 90:13 Page 755, 560, 272, 525, 271

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۱۷۷ ۴ النساء: ۹۲ ۹ التوبة: ۶۰ ۵۸ المجادلة: ۴۰۳ ۹۰ البلد: ۱۳

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:177 4:92 9:60 58:4 90:13 صفحہ 271, 525, 272, 560, 755 13:90

CONDITIONAL MANUMISSION (A WRITTEN DEED FOR EMANCIPATION OF SLAVE TO MEANWHILE EARN MONEY BY LAWFUL MEANS

قانون المكاتبه في فك الرقاب

غلاموں کے آزاد کرنے کیلئے قانون مکاتبہ

Detail Consult : 24:33 Page 520/584

وللتفصیل راجع ۲۴ النور: ۳۳ الصفحة ۵۸۴/۵۲۰

تفصیل کیلئے دیکھئے 33:24 صفحہ 584,520

MITIGATION FOR SLAVE GIRLS

تخفيف العقوبة للإماء بسبب أستضعافهن

لوٹڑیوں کو ان کی محکوم مجبور حیثیت کے باعث سزائیں کی

Detail Consult : 4:25 Page 519

وللتفصیل راجع ۴ النساء: ۲۵ الصفحة ۵۱۹

مزید حوالہ 25:4 صفحہ 519

DEALING WITH PRISONERS

المعاملة بأسارى والمسجونين

جیل کے قیدیوں سے سلوک

CONCEPT OF PAROLE AND PROBATION FROM JAIL

تصور إطلاق المسجون على عهد شرف

پیرول پر جیل سے آزمائشی رہائی کا تصور

For Detail Consult : 24:33 Page 520/584

وللتفصیل راجع ۲۴ النور: ۳۳ الصفحة ۵۸۴/۵۲۰

تفصیل کیلئے دیکھئے 33:24 صفحہ 584,520

CONCEPT OF REHABILITATION OF THE PRISONERS

تعلیم المسجونين الدين والأخلاق

جیل کے قیدیوں کو تعلیم اخلاق و مذہب

For Detail Consult : 12:38,39,40 Page 984

وللتفصیل راجع ۱۲ یوسف: ۳۸، ۳۹، ۴۰ الصفحة ۹۸۴

تفصیل کیلئے دیکھئے 12:38,39,40 صفحہ 984

REDEEMING PRISONERS BY PAYMENT OF PENALTIES OR FINE

فك الرقاب

قیدی کی گردن چھڑانا

(It is) to free a slave, (90:13)

فَكَ رَقَبَةً ﴿۹۰﴾
﴿۹۰﴾ البلد ۱۳ ﴿﴾

کسی (کی) گردن کا چھڑانا (13:90)

For Detail Consult : 2:177 9:60 Page 473, 272

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۱۷۷ ۹ التوبة: ۶۰

تفصیل کیلئے دیکھئے 177:2 60:9 صفحہ 272, 473

DEALING WITH PRISONERS OF WAR (POW'S)

المعاملة بأسارى الحرب

جنگی قیدیوں سے سلوک

O Prophet, Say to those captives who are in your hands: If Allah knows any good in your hearts He will give you better than that which has been taken from you, and will forgive you. Allah is Forgiving, Merciful. (8:70)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَيْرَاتٌ لِّئَلَّا يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَعْفُو عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۸﴾
﴿۸﴾ الانفال ۷۰ ﴿﴾

اے پیغمبر جو قیدی تم لوگوں کے قبضہ میں (گرفتار) ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو (مال) تم سے چھین گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (8:70)

For Detail Consult : Chapter of Jihad 8:71 47:4 76:8 Page 701, 493, 588, 282

وللتفصیل راجع باب الجهاد ۸ الانفال: ۷۱ ۴۷ محمد: ۴ ۷۶ الدهر (الإنسان): ۸

تفصیل کیلئے دیکھئے باب جہاد 8:71 47:4 76:8 صفحہ 282, 588, 493, 701

DEALING WITH WAYFARER FELLOW TRAVELLER

المعاملة بالمسافر

مسافر سے سلوک

DEALING WITH INDIGENTS AND NEEDY PEOPLE

المعاملة بالبائسين بالمساكين

مساکین سے سلوک

DEALING WITH INDIGENTS AND NEEDY PEOPLE

المعاملة بالبائسين والمحرومين

محتاج سے سلوک

DEALING WITH INDIGENTS AND NEEDY PEOPLE

المعاملة بالبائسين الفقراء

فقراء سے سلوک

The alms are only for the poor and the needy, and those who collect them, and those whose hearts are to be reconciled, and to free the captives and the debtors, and for the cause of Allah, and (for) the wayfarers; a duty imposed by Allah. Allah is the Knower, the Wise. (9:60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۶۰﴾
﴿۹۰﴾ التوبة ۶۰ ﴿﴾

صدقات (یعنی زکوٰۃ و خیرات) تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں جن کی تالیف قلوب (دل جوئی) منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں (کے قرض ادا کرنے میں) اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (بھی یہ مال خرچ کرنا چاہئے یہ حقوق) اللہ کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (60:9)

For Detail Consult : 2:83,177,215 4:36 8:41 Page 251,473,282 462 668 9:60 17:26 22:36 24:22 26:17 30:38 272 459 292 366 1036 459 59:7 69:34 to 37 76:8 669 283 282

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۲۱۵، ۱۷۷، ۸۳ ۴ النساء: ۳۶ ۸ الانفال: ۴۱ ۹ التوبة: ۶۰ ۱۷ الإسراء (بني اسرائيل): ۲۶ ۲۲ الحج: ۳۱ ۲۴ النور: ۲۲ ۲۶ الشعراء: ۱۷ ۳۰ الروم: ۲۸ ۵۹ الحشر: ۷ ۶۹ الحاقة: ۲۲، ۲۳ ۷۶ الدهر (الإنسان): ۸

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:83 36:4 215,177,83 41:8 36:4 251,473,282 668 462 26:17 60:9 17:26 22:24 36:22 26:17 60:9 1036 366 292 459 272 8:76 37:34 69 7:59 38:30 282 283 669 459

RIGHTS OF FAMINE AND PRIVATION EFFECTED PEOPLE - POOR AND HUNGRY

حقوق المصابين بالمحل

قحط زدہ (مفلس بھوکے لوگوں) کے حقوق

And urge not on the feeding of the poor, (89:18)

وَلَا تَحْضُونَهُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٨٩﴾
الفجر ١٨

اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے (18:89)

For Detail Consult : 5:89 22:28,36 76:7,8
Page 264/571 291,292 285,282
90:14 107:3
282 283

والمزید راجع ٥ المائدة: ٨٩ ٢٢ الحج: ٢٨، ٣٦
٧٦ الدهر (الإنسان): ٨٠، ٩٠ البلد: ١٤، ١٠٧ الماعون: ٣
الصفحة ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨٥، ٢٩٢، ٢٩١، ٥٧١/٢٦٤

8,7:76 36,28:22 89:5
282,285 292,291 264/571
3:107 14:90
283 282

RIGHTS OF PEOPLE FORSAKING THEIR HOUSES AND PROPERTY FOR THE CAUSE OF ALLAH (SWT)

حقوق المهاجرين في سبيل الله

اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنے والوں کے حقوق

Detail Consult : 8:74 33:6 59:8,9
Page 671, 168/188, 669, 273

والتفصیل راجع ٨ الأنفال: ٧٤ ٣٣ الأحزاب: ٦
٥٩ الحشر: ٩٠، الصفحة ٦٧١، ١٦٨، ١٨٨، ٦٦٩، ٢٧٣

9,8:59 6:33 74:8
273, 669, 188/168, 671

RIGHTS OF PEOPLE WHO DO NOT BEG DESPITE REAL NEED

اعانة المتعفين سراً

قناعت پسند ضرورت مندوں کے حقوق جو مانگنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں

DEALING WITH SUCH PEOPLE WHO ARE FULLY ENGAGED FOR THE CAUSE OF ALLAH (SWT) AND SERVICE TO THE HUMANITY DESPITE HAVING NO SOURCE OF LIVELIHOOD THEY DO NO BEG IMPORTUNATELY

المعاملة بالغارمين للذين أحصروا في سبيل الله

ایسے لوگوں سے سلوک جنہوں نے تلاش معاش کے بجائے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کاموں اور انسانیت کے لئے وقف کی ہوئی ہے

... (ms are) for the poor who are detained for the cause of Allah, ... cannot travel in the land (for trade). The unthinking man counts them wealthy because of their restraint. You shall know them by their mark: They do not beg of men with importunity. And whatsoever good thing you spend, solely Allah knows it. (2:273)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾
البقرة ٢٧٣

صدقات کے مستحق صرف وہ غریبا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے نادان لوگ ان کی بے سوالی (نہ مانگنے) کی وجہ سے انہیں مالدار (امیر) خیال کرتے ہیں آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے (اندازہ لگا کر) انہیں پہچان لیں گے۔ وہ تو لوگوں سے چٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے (273:2)

DEALING WITH THE PEOPLE IN DEBT

المعاملة المديونين

قرض داروں سے سلوک

Detail Consult : 9:60 Page 272

والتفصیل راجع ٩ التوبة: ٦٠، الصفحة ٢٧٢

272 60:9

RIGHTS OF WEAK, ILL - TREATED AND PLESS MEN, WOMEN AND CHILDREN

حقوق المستضعفين من النساء و الولدان و الرجال

کمزور انسانوں (بے بس عورتیں - معصوم بچے اور بوڑھے افراد) کے حقوق

... should you not fight for the cause of Allah and of the feeble among men and of the women and the children who are crying: Our Lord! Bring us forth from out this town of which the people are oppressors! Oh, give us from Your presence some protecting friend! Oh, give us from Your presence some defender! (4:75)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَوْلَاهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾
النساء ٧٥

اور تم کو کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان ظالموں (کے گاؤں) سے ہمیں نجات دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما (75:4)

MORAL PRECEPTS - VIRTUES - ETHICS
COMMENDABLE MANNERS

طبیخ الاخلاق

اخلاقیات
خصائل حمیدہ - پسندیدہ عادات

TURN AWAY FROM WRANGLERS
AVOID FOOLISH PEOPLE
WITHDRAW FROM EVIL AND VAIN TALK

الإعراض عن الجاهلین

جاہل اور ہٹ دھرم لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور بے ہودہ گفتگو سے اجتناب

Keep to forgiveness and enjoin kindness, and turn away from the ignorant. (7:199)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

عفو و درگزر اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو (7:199)

And who shun vain conversation, (23:3)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

اور جو بے ہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں (3:23)

The (faithful) slaves of the Beneficent are they who walk upon the earth modestly, and when the foolish ones address them they answer: Peace! (25:63)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ (63:25)

And those who will not witness vanity, but when they pass near senseless play, pass by with dignity. (25:72)

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّبُرَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شرافت سے گزرتے ہیں (72:25)

And when they hear vanity they withdraw from it and say: To us our works and to you your works. Peace be to you! We do not hanker after ignorant People. (28:55)

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

اور جب بے ہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے۔ تم کو سلام۔ ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے (55:28)

More Reference : 3:20 4:63,81 17:53
Page 39 743,745 383
45:14 54:6 73:10
757 740 741

والمزید راجع ۳ آل عمران: ۲۰، ۴ النساء: ۸۱، ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل): ۵۳، ۴۵ الجاثیة: ۱۴، ۵۴ القمر: ۶، ۷۲ المزمل: ۱۰

مزید حوالہ 3:20 4:63,81 17:53
صفحہ 39 743,745 383
10:73 6:54 14:45
741 740 757

DUE CARE WHILE
PREFERRING ANYONE AS FRIEND

لزوم جانب الحذر عند اختیار صدیق

دوستی اور تعلقات میں احتیاط

For Detail Consult : Chapter of Dealing with Idolaters Disbelievers
Page 612

وللتفصیل راجع: باب العلاقات بالكفار
الصفحة 612

تفصیل کیلئے دیکھئے: باب کفار سے تعلقات صفحہ 612

MUTUAL CONSULTATION

المشاورة فی الأمور

آپس کے کام باہم مشورے سے کرنا

And those who answer the call of their Lord and establish worship, and whose affairs are a matter of counsel, and who spend of what We have bestowed on them, (42:38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (38:42)

More Reference : 3:159 5:2 58:9
Page 173, 289, 448

وللتفصیل راجع ۳ آل عمران: ۱۵۹، ۵ المائدة: ۲، ۵۸ المجادلة: ۹، الصفحة ۱۷۳، ۲۸۹، ۴۴۸

مزید حوالہ 3:159 5:2 58:9
صفحہ 173, 289, 448

**COUNSELLING FOR RIGHTEOUS MOTIVES
ADVISING OR SUGGESTING FOR GOOD**

There is no good in much of their secret conferences save (in) him who enjoins alms giving and kindness and peace making among the people. Whoso does that, seeking the good pleasure of Allah, We shall bestow on him a vast reward. (4:114)

More Reference : 3:104,110,114 4:84,85 7:165,199
Page 631,90/637,98 646 465
71,112 22:41 31:17 41:33 51:55 87:8,9
64,437 370 1071 631 740 631

المشاورة الحسنة

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمْرٌ بِصِدْقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤﴾
النساء ١١٤

**اچھی مشاورت
نیک باتوں کے لئے مشورہ دینا اور کرنا**

ان لوگوں کے بہت سے مشورے اچھے نہیں ہاں (اس شخص کا مشورہ اچھا ہو سکتا ہے) جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے۔ اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے (114:4)

**COORDINATION AND COOPERATION
FOR VIRTUE AND HEEDFULNESS**

But help you one another to righteousness and pious duty. Help not one another to sin and transgression, but keep your duty to Allah. Allah is severe in punishment. (5:2) PART

التعاون على البر والتقوى

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾
المائدة ٢ جزء

نیک کاموں میں تعاون کرنا

اور (دیکھو) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے (2:5) جزو

REPEL EVIL WITH GOOD

For Detail Consult : 9:71,112 13:22 17:53
Page 764,437 765 383
23:96 28:54 41:34,35
445 299 446

دفع السیة بالحسنة

وللتفصیل راجع ٩ التوبة: ١١٢، ٧١ ١٣ الرعد: ٢٢ ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٥٣ ٢٣ المؤمنون: ٩٦ ٢٨ القصص: ٥٤ ٤١ حم السجدة (فصلت): ٣٥، ٣٤

برائی کا علاج نیکی سے کرنا

تفصیل کیلئے دیکھئے 53:17 22:13 112,71:9
383 765 437,764
35,34:41 54:28 96:23
446 299 445

FORBEARANCE AND SUPPRESSING ANGER

Those who spend (of that which Allah has given them) in ease and in diversity, those who control their wrath and are forgiving towards mankind; Allah loves the good; (3:134)

كظم الغيظ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾
آل عمران ١٣٤

غصہ پر قابو پانا (روکنا)

جو آسودگی اور تنگی میں (اپنا مال اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور اللہ نیک اعمال کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (134:3)

And those who shun the worst of sins and indecencies and, when they are wroth, forgive, (42:37)

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٤٢﴾
الشورى ٣٧

اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں (37:42)

TOLERANCE AND FORGIVENESS

The guerdon of an ill deed is an ill deed like thereof. But whosoever repents and amends, his wage is the fair of Allah. Surely He loves not wrongdoers. (42:40)

العفو والصفح

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾
الشورى ٤٠

عفو۔ درگزر (معاف کر دینا)

اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے۔ مگر جو درگزر کرے اور (معاصلے کو) درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (40:42)

And whoso is patient and forgives, that, is (of) the steadfast heart of things. (42:43)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٢﴾
﴿٤٢﴾ الشوری ٤٣

اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں (43:42)

More Reference : 2:109,237 3:134 7:199
Page 583,522 275 465
12:89,90,91 15:85 16:126 42:37
993 371 557 466

والمزید راجع ٢ البقرة: ١٠٩، ٢٣٧، ١٠٩، ٣ آل عمران: ١٣٤، ١٧ الأعراف: ١٩٩، ١٢ يوسف: ٨٩، ٩١، ٩٠، ١٥ الحجر: ٨٥، ١٦ النحل: ١٢٦، ٤٢ الشوری: ٣٧

مزید حوالہ 2:109,237 3:134 7:199
صفحہ 583,522 275 465
12:89,90,91 15:85 16:126 42:37
993 371 557 466

**DOING A FAVOUR OR OBLIGING
(TO DO A SERVICE OR COURTESY)**

-----Allah loves the beneficent. (2:195) PART

الإحسان
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥﴾ البقرة ١٩٥ جزء

احسان کرنا
بے شک اللہ نیک کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (2:195) جزو

More Reference : 3:134 5:13,85,93 7:56
Page 275 592,860,504 1117
9:120 11:115 12:22,56,90 28:14 37:80
725 293 981,987,993 1008 917
39:34 76:8
875 282

والمزید راجع ٣ آل عمران: ١٣٤، ٥ المائدة: ١٣، ٩٣، ٨٥، ١٣، ٧ الأعراف: ٥٦، ٩ التوبة: ١٢٠، ١١ هود: ١١٥، ١٢ يوسف: ٢٢، ٢٢، ٩٠، ٥٦، ٢٨ القصص: ١٤، ٣٧ الصافات: ٨٠، ٢٩ الزمر: ٣٤، ٧٦ الدهر (الإنسان): ٨٠

مزید حوالہ 3:134 5:13,85,93 7:56
صفحہ 275 592,860,504 1117
9:120 11:115 12:22,56,90 28:14 37:80
725 293 981,987,993 1008 917
39:34 76:8
875 282

**HUMBLENESS
SUBMISSION TO ALMIGHTY ALLAH(SWT)**

Those who believe and do good works and humble themselves before their Lord: Such are rightful owners of the Garden; they will abide therein. (11:23)

الإخبات الى الله
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾
﴿٢٣﴾ هود ٢٣

عجز و انکساری
جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی۔ یہی صاحب جنت ہیں۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے (23:11)

More Reference : 3:199 6:42,43 7:55,205
Page 640 393 1116
21:90 22:34,54 33:35
1009 507,734 547

والمزید راجع ٣ آل عمران: ١٩٩، ٦ الأنعام: ٤٢، ٤٣، ٧ الأعراف: ٢٠٥، ٥٥، ٢١ الأنبياء: ٩٠، ٢٢ الحج: ٥٤، ٣٣ الأحزاب: ٣٥

مزید حوالہ 3:199 6:42,43 7:55,205
صفحہ 640 393 1116
21:90 22:34,54 33:35
1009 507,734 547

GENEROSITY

For Detail Consult : 3:134 42:37
Page 275, 466

FOLLOWING GOOD ADVICE

Who hear advice and follow the best thereof. Such are those whom Allah guides, and such are men of understanding. (39:18)

السماحة
والتفصیل راجع ٣ آل عمران: ١٣٤، ٤٢ الشوری: ٣٧، الصفحہ ٤٦٦، ٢٧٥
اتباع أحسن القول
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾
﴿١٨﴾ الزمر ١٨

فراخ دلی
تفصیل کیلئے دیکھئے 3:134 42:37
صفحہ 275, 466

اچھی بات کی پیروی کرنا

جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں (18:39)

**OPTIMISM
SUPPOSITION FOR GOOD**

For Detail Consult : 24:12 Page 708

**SPEAKING GENTLY
POLITE AND COURTEOUS CONVERSATION**

For Detail Consult : 17:53 Page 383
Consult Chapter: Etiquettes of Conversation

حسن الظن
والتفصیل راجع ٢٤ النور: ١٢، الصفحہ ٧٠٨
والنفسیل راجع ١٧ الإسراء (بئس السرايل): ٥٢، الصفحہ ٣٨٣
والتفصیل راجع آداب التکلم

حسن ظن۔ خوش گمانی سے کام لینا
تفصیل کیلئے دیکھئے 24:12 صفحہ 708

خوش اخلاقی اور نرم خوئی۔ خوش گفتاری

تفصیل کیلئے دیکھئے 17:53 صفحہ 383
دیکھئے باب آداب گفتگو

**CONCENTRATE ON YOUR DEEDS
TAKING CARE OF OWN SOULS**

O you who believe! You have charge of your own souls. He who errs cannot injure you if you are rightly guided. To Allah you will all return; and then He will inform you of what you used to do. (5:105)

إصلاح النفس قبل إصلاح الناس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح

اے ایمان والو! اپنی فکر کرو۔ جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو (دنیا میں) کئے تھے آگاہ کرے گا (اور ان کا بدلہ دے گا) (105:5)

More Reference : 11:88 Page 998

والمعزیز راجع ۱۱ ہود: ۸۸ الصفحة 998

المعزیز حوالہ 88:11 صفحه 998

**KEEPING PROMISE - GUARDING PLEDGE
FULFILLING COVENANT**

O you who believe! Fulfill your undertakings. ----- (5:1)PART

Such as keep the pact of Allah, and break not the covenant; (13:20)

-----And keep the covenant. Surely of the covenant it will be asked. (17:34) PART

الإيفاء بالعهد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ----- ﴿٥ المائدة ١﴾ جزء

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿١٣ الرعد ٢٠﴾

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧ بنى اسرائيل ٣٤﴾ جزء

**عہد و میثاق کو پورا کرنا - وعدہ ایفائی
اقرار کی پابندی**

اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ----- (1:5) جزو

جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے (20:13)

----- اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی (34:17) جزو

More Reference : 2:100 3:76 16:91,95
Page 474 308 571
23:8 70:32
492 765

والمعزیز راجع ۲ البقرة: ۱۰۰ ۳ آل عمران: ۷۶ ۱۶ النحل: ۹۱، ۹۵ ۲۳ المؤمنون: ۸ ۷۰ المعارج: ۲۲
الصفحة 765, 492, 571, 308, 474

المعزیز حوالہ 100:2 76:3 95,91:16
صفحة 474 308 571
32:70 8:23
765 492

BE FOREMOST IN EVERY GOOD WORK

And each one has a goal towards which he turns so vie with one another in good works. Wheresoever you may be, Allah will bring you all together. Surely! Allah is Able to do all things. (2:148)

And those who give that which they give with hearts afraid because they are about to return to their Lord, (23:60)

These (all) compete in the good things, and they shall win (soon attain) them in the race. (23:61)

المسارعة فى الخيرات

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢ البقرة ١٤٨﴾

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
أَتَهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٢٣ المؤمنون ٦٠﴾

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا
سَابِقُونَ ﴿٢٣ المؤمنون ٦١﴾

نیک کام میں جلدی (سبقت حاصل) کرنا

اور ہر ایک (فرقے) کے لئے ایک سمت (مقرر) ہے جدھر وہ (عبادت کے وقت) منہ کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں ہو گے اللہ تم سب کو جمع کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (148:2)

اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انکو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے (60:23)

یہی لوگ نیکیوں میں (بھلائیاں حاصل کرنے میں) جلدی کرتے اور یہی ان کے لئے آگے نکل جاتے ہیں (61:23)

More Reference : 3:114 5:48 9:100
Page 98, 577, 860, 1089

والمعزیز راجع ۳ آل عمران: ۱۱۴ ۵ المائدة: ۴۸ ۹ التوبة: ۱۰۰ ۲۱ الانبياء: ۹۰

المعزیز حوالہ 100:9 48:5 114:3
صفحة 1089, 860, 577, 98 90:21

"AL-HAMDU-LILLAH"
PRAISE AND THANKS GIVING TO ALLAH(SWT)
(SAID AT THE TERMINATION OF ANY ACTIVITY)

And they say: Praise be to Allah Who has put grief away from us. No doubt Our Lord is Forgiving, Bountiful, (35:34)

For detail Consult : 1:2 10:10
Page 101, 882

قول "الحمد لله" عند تکمیل امر جیداً

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ
إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٥﴾
فاطر ٣٤

وللتفصيل راجع ١ الفاتحة: ٢: ١٠ يونس: ١٠٠
الصفحة ٨٨٢, ١٠١

کسی کام کے صحیح طور پر انجام ہو جانے پر بطور
شکر نعمت الحمد لله کہنا چاہئے

وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا۔
بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدر دان ہے
(34:35)

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:1 10:10
صفحہ 882, 101

"INSHA'A ALLAH"
IF ALLAH(SWT)WILLS IT
(SAID WHENEVER ONE REFERS TO THE FUTURE)

And say not of anything: I shall do that tomorrow, (18:23)

Except if Allah wills. And remember your Lord when you forget, and say: It may be that my Lord guides me to a nearer way of truth than this. (18:24)

More Reference : 68:17,18 Page 1108

"MASHA'A ALLAH"
HOW WONDERFUL ARE THE WORKS OF ALLAH(SWT)
(SAID WHENEVER ONE WITNESSES SOMETHING GOOD)

For detail Consult : 18:39 Page 1112
Consult Chapter Parable of two Man

"SUBHAN-ALLAH"
MAY ALLAH(SWT) BE PRAISED
(SAID ON ALL OCCASIONS ON VISITING ANY BOUNTY)

For detail Consult : 10:10 Page 882

MAKE YOUR UTTERANCE STRAIGHT
FORWARD AND TO THE POINT

O you who believe! Guard your duty to Allah, and speak words straight to the point; (33:70)

ALWAYS SPEAK THE TRUTH

No but We hurl the true against the false, and it does break its head and it vanishes -----
(21:18) PART

قولوا إن شاء الله كلما نويتم لعمل

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكِ غَدًا ﴿٢٣﴾
الكهف ٢٣
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكَرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ
عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾
الكهف ٢٤

وللتفصيل راجع ٦٨ القلم: ١٧، ١٨ الصفحة ٢٢٢

قولوا ماشاء الله عند رؤية نعمة من الله

وللتفصيل راجع ١٨ الكهف: ٣٩ الصفحة 1112
وللتفصيل راجع مثل رجلين

قولوا سبحان الله عند ذكر آلاء الله

وللتفصيل راجع ١٠ يونس: ١٠٠ الصفحة ٨٨٢

القول السديد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا ﴿٧٠﴾
الأحزاب ٧٠

اصدقوا في الكلام دائماً

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ
فَإِذَا هُوَ رَاقِقٌ ﴿٢١﴾
الانبياء ١٨ جزء

کسی کام کی نیت کرتے وقت
"ان شاء اللہ" کہنا چاہئے

اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا
(23:18)

مگر (ان شاء اللہ کہہ کر یعنی اگر) اللہ چاہے تو (کر دوں
گا) اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے
و۔ اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی
زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے (24:18)

مزید حوالہ 68:17,18 صفحہ 222

نعمت الہیہ کو دیکھتے ہی
"ماشاء اللہ" کہنا چاہئے

تفصیل کیلئے دیکھئے 18:39 صفحہ 1112
دیکھئے باب دو اشخاص کی تمثیل

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہونے پر
"سبحان اللہ" کہنا چاہئے

تفصیل کیلئے دیکھئے 10:10 صفحہ 882

بے لاگ لپیٹ اور سیدھی بات کیا کرو

اے مومنو! اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو
(70:33)

ہمیشہ سچ بولنا

ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس سچ جھوٹ کا سر
توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔
----- (18:21) جزو

More Reference : 2:42,140 3:17,71 4:135
Page 567,971 764,568 567
5:8 25:72 26:222,223 33:35,70
567 465 569 547,469

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٤٢، ١٤٠، ٤٣ آل عمران: ١٧، ٧١
٤ النساء: ١٣٥ ٥ المائدة: ٨ ٢٥ الفرقان: ٧٢
٢٦ الشعراء: ٢٢٢، ٢٢٣ ٣٣ الأحزاب: ٣٥، ٧٠

135:4 71,17:3 140,42:2
567 568,764 971,567
70,35:33 223,222:26 72:25
469,547 569 465 567

KEEPING AWAY FROM BAD COMPANY

The (faithful) slaves of the Beneficent are they who walk upon the earth modestly, and when the foolish ones address them they answer: Peace! (25:63)

For detail Consult : 4:140 6:68,69 7:199
Page 217 217 465
17:53 23:3 25:72 28:55
383 465 465 465

DO NOT OBEY ANYONE WHO SWEARS OFTEN

Neither obey you each feeble oath monger, (68:10)

More Reference : Oath - Swearing - Plighted Page 571

DO NOT RELY UPON THE REPORT OF LIAR OR SCOUNDREL

O you who believe! If an evil-liver brings you tidings, verify it, lest you smite some folk in ignorance and afterward repent of what you did. (49:6)

INSULT NOT THOSE WHOM IDOLATERS WORSHIP

Reville not those to whom they pray beside Allah lest they wrongfully revile Allah through ignorance. (6:108) PART

DO NOT DISREGARD ANYONE'S GREETINGS WORD OF GESTURE

For detail Consult : 4:94 Page 447

NO RIGHTEOUS DEED OF BELIEVERS GOES UNREWARDED

Allah has promised those who believe and do good works: Theirs will be forgiveness and an immense reward. (5:9)

For those who believe and do good works, We suffer not the reward of one whose work is goodly be lost. (18:30)

When whoso does good works and is a believer, there will be no rejection of his effort. We record (it) for him. (94)

الابتعاد عن صحبة الأشرار

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٢٥﴾ الفرقان ٦٣

وللتفصيل راجع : في النساء : ١٤٠ : ٦ الأنعام : ٦٨ : ١٩٠
٧ الأعراف : ١٩٩ : ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل) : ٥٣ :
٢٣ المؤمنون : ٣ : ٢٨ القصص : ٥٥ :

لا تطع الحلاف

وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿٦٨﴾ القلم ١٠

راجع باب : الأيمان و العهود الصفحة ٥٧١

لا تصدقوا اخبار فاسق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٤٩﴾ الحجرات ٦

لا تسبوا آلهة المشركين

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿٦١﴾ الانعام ١٠٨ جزء

لا تسخروا قوما

وللتفصيل راجع : النساء : ٩٤ : الصفحة ٤٤٧

لا تهبط أعمال المؤمنين

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٥٥﴾ المائدة ٩

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿١٨﴾ الكهف ٣٠

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٢١﴾ الأنبياء ٩٤

بري صحبت سے اجتناب

اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ (63:25)

تفصیل کیلئے دیکھئے : 199:7 69,68:6 140:4
465 217 217
55:28 72:25 3:23 53:17
465 465 465 383

زیادہ قسمیں کھانے والے شخص کے کہنے میں نہ آؤ

اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آجانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے (10:68)

دیکھئے باب : قسمیں اور حلف صفحه 571

فاسق کی خبر کو معتبر نہ سمجھو

اے مومنو! اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو (ایسا نہ ہو) کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کئے پر شرمندہ ہونا پڑے (6:49)

جن کو مشرک پکارتے ہیں ان کو بھی برانہ کہو

اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو بھی گالی مت دو کیونکہ پھر وہ جہالت کی حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ (108:6) جزو

کسی کی تسلیمات (خیر مقدمی) کا مذاق نہ اڑاؤ

تفصیل کے لئے دیکھئے : 94:4 صفحه 447

اہل ایمان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں جاتا

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے (9:5)

(اور) جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے (30:18)

جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش ضائع نہ جائے گی۔ اور ہم اس کے لئے (ثواب اعمال) لکھ رہے ہیں (94:21)

And as for those who believe and do good works, We shall make them enter in among the righteous. (29:9)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
فِي الصَّالِحِينَ ﴿٢٩﴾
العنكبوت ٢٩

جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک
گروں میں داخل کریں گے (9:29)

Shall We treat those who believe and do good works as those who spread corruption in the earth; or shall We treat the Pious as the wicked? (38:28)

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ
فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٣٨﴾
ص ٢٨

لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ کیا ان کو
م ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں۔
پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ (28:38)

Then, as for those who believe and do good works, their Lord will bring them into His mercy. That is the evident triumph. (45:30)

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ
رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٤٥﴾
الجاثية ٣٠

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا
وردگار انہیں اپنی رحمت (کے باغ) میں داخل کرے
گا۔ یہی کھلی کامیابی ہے (30:45)

More Reference : 12:57 Page 307

والمزيد راجع ١٢ يوسف: ٥٧ الصفحة ٣٠٧

مزيد حوالہ 57:12 صفحہ 307

**REWARD OF GOOD DEEDS OF BELIEVERS
WILL NEVER BE WITHHELD**

As for those who believe and do good works, for them is a reward enduring. (41:8)

أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ لِلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾
خم السجدة ٨

نیک اعمال کا بے انتہا اور نہ ختم ہونے والا اجر
جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے
لئے (ایسا) ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو (8:41)

Except those who believe and do good works, for theirs is a reward unending. (84:25)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ
غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾
٨٤ الانشقاق ٢٥

ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان
کے لئے بے انتہا اجر ہے (25:84)

Except those who believe and do good works, and theirs is a reward unending. (95:6)

أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾
٩٥ التين ٦

مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان
کے لئے بہت بڑا اجر ہے (6:95)

More Reference : 45:30 Page 471

والمزيد راجع ٤٥ الجاثية: ٣٠ الصفحة ٤٧١

مزيد حوالہ 30:45 صفحہ 471

**EACH SOUL IS HELD AS A PLEDGE
FOR ANYTHING IT HAS EARNED**

To him of you who will advance or hang back. (74:37)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ ﴿٣٧﴾
٧٤ المدثر ٣٧

ہر شخص اپنے اعمال کے باعث گروی (رہن) ہے
جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے
(37:74)

Every soul is a pledge for its own deeds; (74:38)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ ﴿٣٨﴾
٧٤ المدثر ٣٨

ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی (رہن) ہے
(38:74)

**GOOD DEEDS VALUE
WHETHER REVEAL THEM OR CONCEAL**

If you do good openly or keep it secret, or forgive evil, Allah is Forgiving, Powerful. (4:149)

تَبَدُّوا الْخَيْرَ وَتَخْفَوْهُ أَيْضاً
إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ خَفَوْهُ أَوْ تَعْفَوْا عَنْ سُوءِ قَوْلٍ
اللَّهُ كَانَ عَافِيًا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾
٤ النساء ١٤٩

نیکی کا کام اعلانیہ بھی کرو اور پوشیدہ بھی
اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر۔ یا برائی سے
درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا (اور) صاحب
قدرت ہے (4:149)

VIRTUE BRINGS A TENFOLD REWARD

Whoever brings a good deed will receive tenfold the like thereof, while whoso brings an ill deed will be recompensed but the like thereof; and they will not be wronged. (6:160)

Allah increases in right guidance those who walk aright, and the good deeds, which endure, are better in your Lord's sight for reward, and better for resort. (19:76)

Anyone who brings a good deed, he will have better than the same; while as for him who brings an ill deed, those who do ill deeds will be requited only what they did. (28:84)

As for those who strive in Us, We surely guide them to Our paths, and Allah is with the good. (29:69)

Whosoever surrenders his purpose to Allah while doing good, he has grasped the firm handhold. To Allah belongs the sequel of all things. (31:22)

While as for those who walk aright He aids to their guidance, and gives them protection (against evil). (47:17)

جزاء الحسنة بعشر أمثالها عند الله

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

﴿٦ الانعام ١٦٠﴾

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيْتُ
الضَّلَاطِطِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿١٩﴾
﴿١٩ مريم ٧٦﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ
جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨ القصص ٨٤﴾

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾
﴿٦٩ العنكبوت ٦٩﴾

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٣١﴾
﴿٣١ لقمان ٢٢﴾

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿٤٧﴾
﴿٤٧ محمد ١٧﴾

اللہ کے ہاں نیکی کا دس گنا اجر ہے

جو کوئی (اللہ کے حضور) نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی دس نیکیاں ملیں گی۔ اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (6:160)

اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اور اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور نیکیاں جو بانی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں (19:76)

جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے اس سے بہتر (صلہ موجود) ہے اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کئے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے (28:84)

اور جن لوگوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم ان کو ضرور راستے دکھا دیں گے۔ اور اللہ تو نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہے (29:69)

اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار کر دے اور نیک عمل کرنے والا بھی ہو تو اس نے ایک قابل اعتماد سہارا تھام لیا۔ اور (سب) کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے (31:22)

اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے (17:47)

More Reference : 4:40 28:54 42:23
Page 267, 299, 189

والمزيد راجع ٤ النساء: ٤٠: ٢٨ القصص: ٤٤
٤٢ الشورى: ٢٣ الصفحة ٢٦٧, ٢٩٩, ١٨٩

مزيد حوالہ 4:40 28:54 42:23
صفحہ 189, 299, 267

**ENJOIN AND PERSUADE
GOOD WHILE FORBID EVIL**

Detail Consult : 3:104,110,114 4:84
Page 631,90,98 125
65,199 9:71,112 22:41 31:17 39:61
70,465 764,437 370 479 305
33 51:55
31 740

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

والتفصيل راجع ٣ آل عمران: ١١٤, ١١٠, ١٠٤ ٤ النساء: ٨٤
٧ الأعراف: ١٦٥, ١٩٩ ٩ التوبة: ٧١, ١١٢ ٢٢ الحج: ٤١
٣١ لقمان: ١٧ ٣٩ الزمر: ٦١ ٤١ حم السجدة (فصلت): ٢٣
٥٥ الداريات: ٥٥

نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے منع کرنا

تفصیل کیلئے دیکھئے
صفحہ 84:4 114,110,104:3
125 98,90,631
17:31 41:22 112,71:9 199,165:7
479 370 764,437 1070,465
55:51 33:41 61:39
740 631 305

RIGHTEOUSNESS

TURE TO PSYCHOLOGICAL DISTURBANCE

Who have believed and whose hearts
find rest in the remembrance of
Allah. Surely, in the remembrance of
Allah do hearts find rest! (13:28)

**الأعمال الصالحة
علاج الجزع والخوف والقلق**

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾
﴿١٣ الرعد ٢٨﴾

نیک اعمال

گھبراہٹ۔ خوف پریشانی کا علاج ہیں

(یعنی) جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد اللہ سے آرام پاتے ہیں (ان کو) اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں (28:13)

Reference : 2:62 3:199 5:69 19:58
Page 640

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٦٢: ٣ آل عمران: ٥١
٥ المائدة: ٦٩ ١٩ مريم: ٥٨

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:62 3:199 5:69 19:58
صفحہ 640

SOCIAL EVILS

السلوك الاجتماعي

معاشرتی برائیاں جن سے اجتناب ضروری ہے

ISLAM EMPHASIZES OVER SOCIAL WELFARE

It is not righteousness that you turn your faces to the East and the West; but righteous is he who believes in Allah and the Last Day and the Angels and the Scripture and the Prophets; and gives his wealth, no matter how he loves it, to kinsfolk and to orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask, and to set slaves free; and observes proper worship and pays the poor due. And those who keep their treaty when they make one, and the patient in tribulation and adversity and time of stress. Such are they who are sincere. And who are Conscious of Allah. (2:177)

سعادة المجتمع - غرض الاسلام الاساسی

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٦٦﴾
﴿٦٦ البقرة ١٧٧﴾

معاشرتی بہبود مذہب اسلام کا بنیادی مقصد

نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روزِ آخرت پر اور فرشتوں پر اور (اللہ کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں (کے چھڑانے) میں (خرج کریں) اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور (معرکہ) کا رزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو (ایمان میں) سچے ہیں اور یہی ہیں جو (اللہ سے) ڈرنے والے (پرہیزگار) ہیں (177:2)

PREACHING OTHERS OF WHAT YOU DO NOT PRACTISE YOURSELF

And how they say that which they do not? (26:226)

O you who believe! Why say you that which you do not? (61:2)

It is most hateful in the sight of Allah that you say that which you do not. (61:3)

التعارض بين القول و الفعل

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾
﴿٢٢٦ الشعراء ٢٢٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٦١﴾
﴿٦١ الصف ٢﴾

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٦١﴾
﴿٦١ الصف ٣﴾

قول اور فعل میں تضاد

اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں (26:226)

اے مومنو! تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے (2:61)

اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں (3:61)

More Reference : 3:167 Page 661

وللمزيد راجع ٣ آل عمران ١٦٧: الصفحة ٦٦١

مزید حوالہ 167:3 صفحہ 661

ENJOINING OTHER PEOPLE TO BE VIRTUOUS WHILE FORGETTING IT YOURSELF

Are you ordering people to be virtuous while you yourself forget (to practise it)? And you are readers of the Scripture! Have you then no sense? (2:44)

أمر الناس بالبر وعدم تنفيذه على الذات

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾
﴿٤٤ البقرة ٤٤﴾

دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود عمل نہ کرنا

(یہ) کیا (عقل کی بات ہے کہ) تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب (اللہ) بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں؟ (44:2)

More Reference : 26:226 61:2,3 Page 473

وللمزيد راجع ٢٦ الشعراء ٢٢٦: ٦١ الصف ٢٠٢

مزید حوالہ 226:26 3,2:61 صفحہ ٤٧٣

DECEPTIVE STATEMENT LYING - FALSEHOOD	قول الزور	جھوٹ بولنا
And shun lying speech. (22:30) PART	وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٢٢﴾ الحج ٣٠ جزء	اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو (30:22) جزء

More Reference : 2:16 21:18 26:221,222,223 42:24 Page 748, 95, 569, 738	وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٦ ٢١ الانبياء: ١٨ ٢٦ الشعراء: ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣ ٤٢ الشورى: ٢٤	مزید حوالہ 2:16 21:18 26:221,222,223 42:24 صفحہ 738, 569, 95, 748
---	---	---

EVIDENCE OF A LIAR IS NOT ACCEPTABLE	لا تقبل شهادة الكاذب	جھوٹے انسان کی گواہی قابل قبول نہیں
More Reference : 24:4 68:8 Page 537,740	وللتفصيل راجع ٢٤ النور: ٤ ٦٨ القلم: ٨	تفصیل کیلئے دیکھئے 4:24 8:68 صفحہ 740,537

LIAR IS AMONG HYPOCRITES	الكاذب من المنافقين	جھوٹا انسان منافقین میں شمار
Detail Consult : 2:10 63:1 Page 748, 749	وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٠ ٦٣ المنافقون: ١ الصفحہ ٧٤٨، ٧٤٩	تفصیل کیلئے دیکھئے 1:63 10:2 صفحہ 749, 748

LIAR IS DEPRIVED TO ADOPT RIGHTEOUS PATH	الكاذب لايهتدى	جھوٹا انسان ہدایت سے محروم
Detail Consult : 39:3 Page 147	وللتفصيل راجع ٣٩ الزمر: ٣ الصفحہ 147	تفصیل کیلئے دیکھئے 3:39 صفحہ 147

LIAR IS DEPRIVED OF ALLAH'S (SWT) GRACE	الكاذب محروم من رحمة الله	جھوٹا انسان رحمت الہی سے محروم
Detail Consult : 24:23 Page 537	وللتفصيل راجع ٢٤ النور: ٢٣ الصفحہ ٥٣٧	تفصیل کیلئے دیکھئے 23:24 صفحہ 537

BETRAYING OF COVENANTS NOT FULFILLING PLEDGES	نقض العهد	عہد و میثاق (حلف قسم) کی خلاف ورزی
it ever so that when they make a covenant, a party of them set it aside? The truth is, most of them are faithless. (2:100)	أَوْ كَلَّمَا عَهْدًا وَعَهْدًا أَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ البقرة ١٠٠	یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں (100:2)
When whosoever after this shall turn away: They will be miscreants. (82)	فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾ آل عمران ٨٢	تو جو اس کے بعد بھی پلٹ جائیں یقیناً وہ بدکردار ہیں (82:3)
We found no (loyalty to any) covenant in most of them. No, most of them We found wrongdoers. (102)	وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾ الاعراف ١٠٢	اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں وعدے (کا نباہ) نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو (دیکھا تو) بدکار ہی دیکھا (102:7)

More Reference : 3:76 13:20 16:91,95 34:8 23:8 70:32 492 765	وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ٧٦ ١٣ الرعد: ٢٠ ١٦ النحل: ٩١، ٩٥ ١٧ الإسراء: (بنی اسرائیل): ٣٤ ٢٣ المؤمنون: ٨ ٧٠ المعارج: ٢٢	مزید حوالہ 3:76 13:20 16:91,95 34:8 23:8 70:32 492 765 صفحہ 571 308 468
--	---	---

MAKING OATH EVERY NOW AND THEN USING ALLAH'S (SWT) NAME AS AN EXCUSE

And make not Allah, by your oaths, a hindrance to your being righteous and observing your duty to Him and making peace among mankind. Allah is Hearer, Knower. (2:224)

More Reference : 68:10 5:53 Page 470,748
Consult Chapter Oath - Swearing Page 571

INTRIGUING MALEVOLENCE AND PLOTTING INIQUITIES

Who desires power (should know that) all power belongs to Allah. To Him good words ascend, and the pious deed does He exalts; but those who plot iniquities, theirs will be an awful doom; and the plotting of such (folk) will come to nothing. (35:10)

(Shown in their) behaving arrogantly in the land and plotting evil; and the evil plot encloses but the men who make it. Are they waiting only for what happened to the Primitive people? You will not find for Allah's way (of treatment) any change (substitute) nor will you find any change for Allah's treatment (practice). (35:43)

ACTING RIGHTEOUS IN ORDER TO BE SEEN BY PEOPLE

Be not as those who came forth from their dwellings boastfully and to be seen of men, and debar (men) from the way of Allah, while Allah is surrounding all they do. (8:47)

Who would be seen (at worship) (107:6)

More Reference : 4:38,142 Page 281,256

FRUAD - DECEPTION

For Detail Consult : 2:188 4:29 11:85
Page 485 485 485
17:35 26:181 55:8,9 83:1,2,3
485 486 486 486

حلف اليمين كثيرا

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾
البقرة ٢٢٤

وللمزيد راجع ٦٨ القلم: ١٠ المائدة: ٥٣ وللتفصيل راجع باب الايمان والعهود الصفحة ٥٧١

المكر السيء

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوَّرُ ﴿٣٥﴾
فاطر ١٠

إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأُولَىٰ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾
فاطر ٤٣

المرء

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَظِيطٌ ﴿٨﴾
الانفال ٤٧
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿١٠٧﴾
الماعون ٦

وللمزيد راجع ٤ النساء: ١٤٢، ٢٣٨ الصفحة ٢٥٦، ٢٨١

الغش والخداع

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٨٨ ٤ النساء: ٢٩ ١١ هود: ٨٥ ١٧ الإسراء: (بنی اسرائیل): ٣٥ ٢٦ الشعراء: ١٨١ ٥٥ الرحمن: ٩، ٨ ٨٣ المطففين: ٣، ٢، ١

بات بات پر قسم کھانا اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں میں ڈھال بنانا

بیر اللہ (کے نام) کو اس بات کا حیلہ نہ بنانا کہ (اس کی) قسمیں کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانا چھوڑ دو اور اللہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے (224:2)

مزید حوالہ 10: 68 53: 5 صفحہ 748,470
برائے تفصیل مطالعہ باب قسمیں وحلف صفحہ 571

چال بازی۔ مکر و فریب۔ داؤ

جو شخص عزت کا طلبگار ہو تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ اسی کی طرف تمام تر پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر برباد ہو جائے گا (10:35)

یعنی (انہوں نے) ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا (اختیار کیا) اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ اگلے لوگوں کی روش (انجام) کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے (43:35)

ریا کاری۔ خود نمائی (لوگوں کو دکھاوا)

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے (یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لئے) اور لوگوں کو دکھانے کے لئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ انہیں گھیر لینے والا ہے (47:8)

جو ریا کاری کرتے ہیں (6:107)

مزید حوالہ 4: 142,38 256,281 صفحہ

دھوکہ بازی

تفصیل کیلئے دیکھئے صفحہ
85: 11 29: 4 188: 2
485 485 485
3,2,1: 83 9,8: 55 181: 26 35: 17
486 486 486 485

**SLANDER - CALUMNY - FALSE ALLEGING
CASTING BLAME - ACCUSING THE INNOCENT**

And whoso commits a delinquency or crime, then throws (the blame) thereof upon the innocent, has burdened himself with falsehood and a flagrant crime. (4:112)

And those who malign believing men and believing women undeservingly, they bear the guilt of slander and manifest sin. (33:58)

Core Reference : 24:6,7,23 60:12
Page 525, 537, 176

PENALTY FOR SLANDERER

**EVIDENCE OF SLANDERER
IS NOT ACCEPTABLE**

Detail Consult : 24:4 Page 537

**MALEVOLENT
SLANDERER IS CURSED
IN THIS LIFE AND IN HEREAFTER**

For Detail Consult : 24:23 Page 537

**REINSTATEMENT OF SOCIAL
STATUS OF SLANDERER
ON REPENTING AND MENDING CONDUCT**

Except for the ones who repent later and reform. Allah is Forgiving, Merciful. (24:5)

**BACKBITING
SPEAKING ILL IN ABSENCE**

Do not backbite one another. Would one of you love to eat the flesh of his dead brother? You would loathe it (so phor)! And keep your duty (to Allah). Allah is Relenting, Merciful. (49:12) PART

Core Reference : 104:1 Page 476

**NAGGING - CARPING
FAULT FINDING TO TRADUCE OR DEFAME**

Extractor, spreader abroad ofanders, (68:11)

Be to every slandering traducer, (4:1)

Core Reference 49:11 Page 480

الاتهام

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا
فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٤١٢﴾
النساء ١١٢

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ
مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾
الاحزاب ٥٨

وللمزيد راجع ٢٤ النور: ٢٣٠٧٠٦، ٦٠ الممتحنة: ١٢
الصفحة ١٧٦، ٥٢٧، ٥٢٥

عقوبة الاتهام

شهادة القاذف غير مقبول

وللتفصيل راجع ٢٤ النور: ٢٠ الصفحة ٥٣٧

القاذف ملعون في الدنيا والآخرة

وللتفصيل راجع ٢٤ النور: ٢٣ الصفحة ٥٣٧

**إرجاع المنزلة السابقة
للقاذف بعد التوبة**

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْدَحُوا
فَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٨﴾
النور ٥٨

الاغتياب

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
أُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرَهُتُمْوهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿٤٩﴾
الحجرات ١٢ جزء

وللمزيد راجع ١٠٤ الهمة: ١ الصفحة ٤٧٦

الهمز واللمز

هَتَّازٌ مَشَاءٌ بِمِثْمٍ ﴿٦٨﴾ القلم ١١

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴿١٠٤﴾ الهمة ١

وللمزيد راجع ٤٩ الحجرات: ١١ الصفحة ٤٨٠

**بهتان - تهمت - الزام تراشی
(اپنی غلطی دوسروں پر تھوپ دینا)**

اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ پر الزام دھردے تو اس نے بہتان اور کھلا گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا (4:112)

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام (کی تہمت) سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا (33:58)

مزید حوالہ 24:6,7,23 60:12
صفحہ 176, 537, 525

بہتان تراشی کی سزا

**بہتان باندھنے والے کی
گواہی قابل قبول نہیں**

لتفصيل کیلئے دیکھئے 24:24 صفحہ 537

بہتان تراشی پر دنیا اور آخرت میں لعنت

لتفصيل کیلئے دیکھئے 23:24 صفحہ 537

**الزام تراشی سے توبہ کرنے پر
معاشرتی حیثیت کی بحالی**

ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے (5:24)

غیبت کرنا

اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ (تو غیبت نہ کرو) اور اللہ کا ڈر رکھو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے (12:49) جزو

مزید حوالہ 1:104 صفحہ 476

عیب جوئی، چغل خوری

بے وقار کمینہ عیب جو چغل خور (11:68)

بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لئے جو عیب ٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو (1:104)

مزید حوالہ 11:49 صفحہ 480

**MAKING PUBLIC SCANDALS
SENSATION - MONGERING
SPOILING REPUTATION SOCIALLY**

Allah loves not the utterance of harsh speech save by one who has been wronged. Allah is ever Hearer, Knower. (4:148)

More Reference : 24:23 104:1 Page 537,476

**JEALOUSY-ENVYING PEOPLE-GREEN EYED
GRUDGING AT OTHER'S ADVANTAGES**

Are they jealous of mankind because of that which Allah of His bounty has bestowed upon them? ---
----- (4:54) PART

**ENVYING
A PRACTICE OF HYPOCRITES**

For Detail Consult : 2:109 48:15
Page 583, 715

**SUPPLICATIONS FOR TAKING REFUGE
FROM MISCHIEF OF THE ENVIOUS**

For Detail Consult : 59:10 113:5
Page 1124, 1128

**NARROW MINDEDNESS
LACKING TOLERANCE - ENDURANCE AND PATIENCE**

More Reference : 2:109 4:54 47:37,38
48:15 Page 583, 477/960, 497, 715

**BRAWLING - SCRAPPY
QUARRELSOMENESS- INSOLENCE**

Greedy, intrusive, with that all bastered (68:13)

More Reference : 31:19,20 Page 445,441

ARROGANCE - PRIDEFULNESS

-----And as for those who were scornful and proud, He will punish them with a painful doom.---
----- (4:173) PART

Your God is One God alone. But as for those who believe not in the Hereafter their hearts refuse to know, for they are proud. (16:22)

السب علانية

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا
(٤ النساء: ١٤٨)

والمزيد راجع ٢٤ النور ٢٣: ١٠٤ الهمزة: ١

الحسد

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ
(٤ النساء: ٥٤) جزء

الحسد خصلة المنافقين

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٠٩ ٤٨ الفتح: ١٥
الصفحة ٧١٥, ٥٨٣

الأدعية للوقاية من الحسد

والمزيد راجع ٥٩ الحشر: ١٠ ١١٣ الفلق: ٥
الصفحة ١١٢٨, ١١٢٤

عدم التسامح

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٠٩ ٤ النساء: ٥٤
٤٧ محمد: ٣٧, ٣٨ ٤٨ الفتح: ١٥

الخصومة و التشاجر

عُتِلُّ بِعَدَاةٍ لَدَيْنِكَ زَنِيوُ
(٦٨ القلم: ١٣)

والمزيد راجع ٣١ لقمان: ٢٠١٩ الصفحة ٤٤١, ٤٤٥

الاستكبار

وَأَمَّا
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمُ
عَذَابًا أَلِيمًا
(٤ النساء: ١٧٣) جزء

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ
مُسْتَكْبِرُونَ
(١٦ النحل: ٢٢)

دوسروں کے عیب کا چرچا کرنا معاشرہ میں بدنام کرنا کھلے عام کسی کو برا کہنا

اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر جو مظلوم ہو۔ اور اللہ (سب کچھ) سنتا (اور) جانتا ہے (148:4)

زيد حوالہ 23:24 1:104 صفحہ 476,537

کینہ۔ حسد

جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں۔ (54:4) جزو

حسد۔ خصلت منافقین

تفصیل کیلئے دیکھئے 109:2 15:48
صفحہ 715, 583

حسد سے محفوظ رہنے کی دعائیں

تفصیل کیلئے دیکھئے 113:5 10:59
صفحہ 1128, 1124

تنگ نظری
(قوت برداشت تحمل۔ صبر۔ حوصلہ بردباری کی کمی)

تفصیل کیلئے دیکھئے 62:2 54:4 38,37:47
صفحہ 715, 497, 960/477, 583

تند خوئی۔ جھگڑالو پن اور بد مزاجی

سخت خوراس کے علاوہ بد ذات ہے (13:68)

زيد حوالہ 20,19:31 صفحہ 441, 445

تکبر

اور جنہوں نے (بندہ ہونے سے) عار و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا۔ (173:4) جزو

تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں (22:16)

Assuredly Allah knows that which they keep hidden and that which they proclaim. He loves not the proud. (16:23)

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾
﴿١٦ النحل ٢٣﴾

ضروری بات ہے کہ اللہ ان کے سب احوال پوشیدہ و ظاہر جانتے ہیں یقینی بات ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (23:16)

Who enter the gates of hell, to dwell therein forever. Woeful indeed will be the abode of the arrogant. (16:29)

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾
﴿١٦ النحل ٢٩﴾

سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے (29:16)

Turning away in pride to beguile (men) from the way of Allah. For in this world is ignominy, and on the Day of Resurrection We shall make him taste the doom of burning. (22:9)

ثَانِي عَظِيمٍ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِيُفِي فِي الدُّنْيَا حُزْرًا وَيُذِيقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾
﴿٢٢ الحج ٩﴾

(اور تکبر سے) گردن موڑ لیتا (ہے) تاکہ (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ اس کے لئے دنیا میں ذلت ہے۔ اور قیامت کے دن ہم اسے جلتے ہوئے عذاب کا مزہ چکھائیں گے (9:22)

This is for that which your two hands have sent before, and because Allah is not oppressor of His slaves. (10)

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَسُّ بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾
﴿٢٢ الحج ١٠﴾

(اے سرکش) یہ اس (کفر) کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں (10:22)

Have they not traveled in the land and seen the nature of the consequence for those who were before them, and they were mightier than these in power? Allah is not such that anything in the heavens or in the earth escapes Him. He is the Wise, the Mighty. (35:44)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾
﴿٣٥ فاطر ٤٤﴾

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے وہ علم والا (اور) قدرت والا ہے (44:35)

This is because you exulted in the earth without right, and because you were petulant. (40:75)

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾
﴿٤٠ المؤمن ٧٥﴾

یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق پھولے نہ ساتے تھے۔ اور اس کی (سزا ہے) کہ اترا یا کرتے تھے (75:40)

Enter you the gates of hell, to dwell therein. Evil is the habitation of the scornful. (40:76)

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾
﴿٤٠ المؤمن ٧٦﴾

(اب) جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ تکبر کرنے والوں کا کیا برا ٹھکانا ہے (76:40)

Reference :	2:206	4:36	7:146	8:47
Page :	586	462	851	475
10:	17:37	18:35	23:46	28:76
21:	479	1112	1019	1031
31:	32:15	35:43	40:35	45:31
47:	766	475	236	823
57:	63:5	75:33		
30:	749	797		

والمزید راجع	٢ البقرة: ٢٠٦	٤ النساء: ٣٦
٧ الأعراف: ١٤٦	٨ الأنفال: ٤٧	١٠ يونس: ٨٣
١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٣٧	١٨ الكهف: ٣٥	٢٣ المؤمنون: ٤٦
٢٨ القصص: ٧٦	٢٩ العنكبوت: ٣٩	٣١ لقمان: ١٨
٣٢ السجدة: ١٥	٣٥ فاطر: ٣٤	٤٠ المؤمن (غافر): ٣٥
٤٥ الجاثية: ٣١	٥٧ الحديد: ٢٣	٦٣ المنافقون: ٥
٧٥ القيامة: ٢٣		

مزیّد حوالہ	206:2	36:4	146:7	47:8
صفحہ	586	462	851	475
83:10	37:17	35:18	46:23	76:28
261	479	1112	1019	1031
39:29	18:31	15:32	34:35	35:40
1032	479	766	475	236
31:45	23:57	5:63	33:75	
823	305	749	797	

IGNORING THE PEOPLE WHO LACK IN WORLDLY AMENITIES TO YOU COMPARATIVELY

Restrain yourself along with those who cry to their Lord at morn and evening, seeking His countenance; and let not your eyes overlook them, desiring pomp and glitter of the life of the world; and obey not him whose heart We have made heedless of Our remembrance, one who follows his own lust and his case has been abandoned. (18:28)

استحقار الناس لفرهم

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرًا فُرْقَانًا ﴿١٨﴾ الكهف ٢٨ ﴿﴾

لوگوں کو ان کے دنیاوی وسائل میں کمی کے باعث قابل نفرت سمجھنا

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔ اور تمہاری نگاہیں ان میں سے (گزر کر اور طرف) نہ دوڑیں۔ کہ تم آرائش زندگی (دنیاوی ٹھاٹھ) کے ارادے میں لگ جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنے یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہنا ماننا (28:18)

BOASTING - BRAGGING

That you grieve not for the sake of that which has escaped you, nor yet exult because of that which has been given. Allah loves not all prideful boasters, (57:23)

التفاخر و الاختيال

لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُتَعَالٍ فَخُورٍ ﴿٥٧﴾ الحديد ٢٣ ﴿﴾

اترانا شیخی بگھارنا۔ ناجائز فخر

تاکہ جو (مطلب) تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بہ گارنے والے کو دوست نہیں رکھتا (23:57)

More Reference : 4:36,173 8:47 16:23,29
Page 462,392 475 478
17:37 35:43,44 40:35,75,76
479 475,128 236,478

والمعزین راجع ٤ النساء: ١٧٣، ٣٦: ١٦ النحل: ٢٩، ٢٣: ١٧ الإسرائاء (بنی اسرائیل): ٢٧: ٣٥ فاطر: ٤٤، ٤٣: ٤٠ المؤمنون (غافر): ٧٦، ٧٥، ٣٥:

مزید حوالہ 4:36,173 8:47 16:23,29
صفحہ 462,392 475 478
17:37 35:43,44 40:35,75,76
479 475,128 236,478

WALKING

BRASHLY - SAUCILY - EXULTINGLY

And walk not you in the earth exultant. You cannot rend the earth, nor can you stretch to the height of the hills. (17:37)

المسرح

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿١٧﴾ بنی اسرائیل ٣٧ ﴿﴾

اکڑ کر چلنا

اور زمین پر اکڑ کر (اور تن کر) مت چلا کر کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں (کی چوٹی) تک پہنچ جائے گا (37:17)

The evil of all that is hateful in the sight of your Lord. (17:38)

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿١٧﴾ بنی اسرائیل ٣٨ ﴿﴾

ان سب (عادتوں) کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے (38:17)

Turn not your cheek in scorn towards folk, nor walk with pertness in the land. Allah loves not any arrogant boaster. (31:18)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُتَعَالٍ فَخُورٍ ﴿٣١﴾ لقمان ١٨ ﴿﴾

اور (ازراہ غرور) لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا (18:31)

More Reference : 4:36,173 16:29
Page 462,392 478
35:43,44 40:35,75,76 49:11,13 57:23
475,128 236,478 480,582 305

والمعزین راجع ٤ النساء: ١٧٣، ٣٦: ١٦ النحل: ٢٩، ٢٣: ١٧ الإسرائاء (بنی اسرائیل): ٢٧: ٣٥ فاطر: ٤٤، ٤٣: ٤٠ المؤمنون (غافر): ٧٦، ٧٥، ٣٥: ٤٩ الحجرات: ١٣، ١١: ٥٧ الحديد: ٢٣:

مزید حوالہ 4:36,173 16:29
صفحہ 462,392 478
35:43,44 40:35,75,76 49:11,13 57:23
475,128 236,478 480,582 305

EXULTING ON BASIS OF SECTS, AND TRIBES

الشعوب والقبائل للتعارف فقط ولا للتفاخر

قوم۔ قبیلے (ذات پات) کو وجہ تفاخر بنانا

USING NICKNAMES SCOFFING - SARCASM

O you who believe! Let not a folk deride a folk who may be better than they (are), nor let women (deride)

التناز بالالقباب و السخرية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ

برے لقب سے پکارنا اور مذاق اڑانا

اے مومنو! کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے

women who may be better than they are; neither defame one another, nor insult one another by nicknames, ill-seeming name connoting wickedness, (to be used for one) after he has become a believer. And whoso turns not in repentance, such are evildoers. (49:11)

عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٤٩ الحجرات ١١﴾

(تمسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور اپنے (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام (رکھنا) گناہ ہے۔ اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں (11:49)

Reference : 49:13 104:1
Page 582

وللمزيد راجع ٤٩ الحجرات: ١٣ ١٠٤ الهمزة: ١
الصفحة ٥٨٢

المزيد حوالہ 1:104 13:49
صفحہ 582

TO SOW DISCARD BETWEEN SPOUSES FOR THEIR DISUNION

التفريق بين المرء وزوجه

میاں بیوی میں جدائی کے لئے بگاڑ ڈلوانا

Detail Consult : 2:102 Page 157

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٠٢ الصفحة ١٥٧

تفصیل کیلئے دیکھئے 157 صفحہ 102:2

REJOICING FLATTERY - SYCOPHANCY OBSEQUIOUSNESS - FAWNING

طلب الحمد بدون مبرر

خوشامد پسندی

Think not that those who exult in what they have given, and love to be praised for what they have not done - think not that they are in safety from the doom. A painful doom is theirs. (3;188)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣﴾
﴿٣ آل عمران ١٨٨﴾

جو لوگ اپنے (ناپسند) کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور (پسندیدہ کام) جو کرتے نہیں ان کے لئے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اور انہیں دردناک عذاب ہوگا (188:3)

INFERIORITY COMPLEX

الشعور بتفاهة الذات

احساس کمتری

Detail Consult : 17:37 22:9 31:18
Page 23 479,478,479,305

وللتفصيل راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٣٧ ٢٢ الحج: ٩ ٣١ لقمان: ١٨ ٥٧ الحديد: ٢٣

تفصیل کیلئے دیکھئے 18:31 9:22 37:17
صفحہ 23:57 305, 479, 478, 479

FALSE GENEROSITY WITH THE EXPECTATION OF GRATITUDE - HELPING WITH THE INTENTION OF RECEIVING BENEFIT

التمنن

کسی طمع کے لئے احسان کرنا

And show not favor, seeking worldly gain! (74:6)

وَلَا تَمُنُّنَّ تَسْتَكْثِرُونَ ﴿٦﴾
﴿٦ المدثر ٦﴾

اور (اس نیت سے) احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو (6:74)

For the sake of your Lord, be patient! (74:7)

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾
﴿٧ المدثر ٧﴾

اور اپنے پروردگار کے لئے صبر کرو (7:74)

Reference : 2:262 Page 280

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٦٢ الصفحة ٢٨٠

المزيد حوالہ 262:2 صفحہ 280

GREED - COVETOUSNESS AVARICE - CUPIDITY

الحرص

حرص (لاچ - طمع)

Detail Consult : 3:180 9:34 102:1 to 7
Page 498 270 424

وللتفصيل راجع ٣ آل عمران: ١٨٠ ٩ التوبة: ٣٤ ١٠٢ التكاثر: ١ الى ٧ ١٠٤ الهمزة: ٢ الى ٤

تفصیل کیلئے دیکھئے 7:1:102 34:9 180:3
صفحہ 425 270 498
4:2:104 424

**STIRRING UP SEDITION - AGITATING
ALARMISM-PUTTING FALSE RUMORS
(PRACTICE OF HYPOCRITES)**

If the hypocrites, and those in whose hearts is a disease, and the alarmists in the city do not cease, We shall urge you on against them, then they will be your neighbors in it but a little while. (33:60)

إحداث الأراجيف والأكاذيب

لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ
بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٦٠﴾

غلط افواہیں اور خبریں پھیلانا
خصلت منافقین

اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو
شہر میں افواہیں اڑایا کرتے ہیں (اپنے کردار سے) باز
نہ آئیں گے تو ہم تم کو اپن ر مسلط کر دیں گے پھر وہاں
تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔
(60:33)

More Reference : 9:47 24:23 Page 721,537

والمزيد راجع ٩ التوبة : ٤٧ ٢٤ النور : ٢٣

مزيد حوالہ 47:9 23:24 صفحہ 537,721

DOUBTS - CASTING SKEPTICS

Hinderer of good, transgressor, doubter, (50:25)

الإرابة والتشكيك

مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ ق ٢٥﴾

شکوک و شبہات (بدگمانی) پیدا کرنا

جو مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ نکلنے
والا تھا (25:50)

More Reference : 49:12 Page 476

والمزيد راجع ٤٩ الحجرات : ١٢ الصفحة ٤٧٦

مزيد حوالہ 49:12 صفحہ 476

CONJECTURE - SUSPICION - SURMISE

O you who believe! Shun much suspicions; for some suspicion is a crime. And spy not----- (49:12) PART

سوء الظن و التجسس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
﴿٤٩ الحجرات ١٢﴾ جزء

بدگمانی۔ اور تجسس (شک میں مبتلا ہونا)

اے اہل ایمان بہت بدگمانیوں سے بچا کرو بعض بدگمانیاں
گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو
(بھید نہ ٹولا کرو)----- (12:49) جزو

More Reference : 10:36 17:36
Page 152, 481

والمزيد راجع ١٠ يونس : ٣٦ ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل) : ٣٦
الصفحة ٤٨١, ١٥٢

مزيد حوالہ 36:17 36:10
صفحہ 481, 152

**PRYING INQUISITIVE
ABOUT UNRELATED THINGS**

O you who believe! Ask not of things, which, if they were made known to you, would trouble you; but if you ask of them when the Qur'an is being revealed, they will be made known to you. Allah pardons this, for Allah is Forgiving, Clement. (5:101)

الاعتناء بما لا يعنى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ شَيْءٍ
إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا
حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠١﴾
﴿٥ المائدة ١٠١﴾

غير ضروری باتوں کا کھوج لگانا

اے مومنو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ
اگر (ان کی حقیقتیں) تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری
لگیں اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی
باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی (اب تو)
اللہ نے ایسی باتوں (کے پوچھنے) سے درگزر فرمایا ہے وہ
اللہ بخشنے والا بردبار ہے (101:5)

A folk before you asked (for such disclosures) and then disbelieved therein. (5:102)

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا
كُفْرِينَ ﴿١٠٢﴾
﴿٥ المائدة ١٠٢﴾

اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی
تھیں (مگر جب بتائی گئیں تو) پھر ان سے منکر ہو گئے
(102:5)

(O man), follow not that whereof you have no knowledge. The hearing and the sight and the heart--of each of these it will be asked. (17:36)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مَسْئُورًا ﴿٣٦﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٣٦﴾

اور (اے بندے) جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے
نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب (اعضا) سے ضرور
باز پرس ہوگی (36:17)

**SPYING
COLLECTING SECRETS TO HARM**

الاستطلاع والوشاية

مخبری یا جاسوسی کرنا

Among them are some who give ear to you till, when they go forth from your presence,----- (17:16) PART

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ
﴿٤٧ محمد ١٦﴾ جزء

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ (سب کچھ سنتے ہیں لیکن) جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں (16:47) جزو

Reference : 5:42 Page 576

والمزید راجع ٥ المائدة :٤٢ الصفحة ٥٧٦

المزید حوالہ 42:5 صفحه 576

**SPREADING (SELLING OR BUYING)
OF OBSCENE LITERATURE**

إشاعة الفاحشة والكتب الماجنة

بے ہودہ باتوں اور فحش لٹریچر کا پھیلانا

There are among men those who purchase idle tales without knowledge (or meaning) to mislead (men) from the Path of Allah and to sow ridicule (on the Path); for there will be a humiliating chastisement. (31:6)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٣١﴾ لقمان ٦

اور بعض لوگ ایسے بھی جو لغو (بیہودہ) باتوں کو مول لیتے (خریدتے) ہیں تاکہ (لوگوں کو) بے علمی کے ساتھ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور اس سے ہنسی اڑائیں یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا (6:31)

Reference : 4:148 23:67 24:19 Page 477, 483, 482, 569

والمزید راجع ٤ النساء :١٤٨ ٢٣ المؤمنون :٦٧ ٢٤ النور :١٩ ٢٦ الشعراء :٢٢٣

المزید حوالہ 4:148 23:67 24:19 223:26 67:23 148:4 569, 482, 483, 477

**DELUDING OF IMMORAL VALUES
THROUGH LITERATURE OR MEDIA**

إذاعة الفاحشة

**فحش۔ اخلاق سوز خبریا
پروپیگنڈے کی تشہیر**

Those who love that slander should be spread concerning those who believe, theirs will be a painful punishment in the world and the Hereafter. Allah knows. You know not. (24:19)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الدِّينِ أَمْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾ النور ١٩

جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی (یعنی تہمت بدکاری کی خبر) پھیلے ان کی دنیا اور آخرت تم نہیں جانتے (19:24)

Reference : 4:148 23:67 24:23 26:31 Page 477, 483, 537, 569, 482

والمزید راجع ٤ النساء :١٤٨ ٢٣ المؤمنون :٦٧ ٢٤ النور :٢٣ ٢٦ الشعراء :٢٢٣ ٣١ لقمان :٦

المزید حوالہ 4:148 23:67 24:23 223:26 67:23 148:4 482, 569, 537, 483, 477 6:31

**PESTERING - MOLESTATION
OF GENTLE AND RIGHTEOUS PERSONS**

إزعاج الكرماء

نیک اور شریف لوگوں کو تنگ کرنا

Those who persecute believing men and believing women and repent not, theirs will be the doom of hell, and theirs the doom of burning. (85:0)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ ﴿٨٥﴾ البروج ١٠

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا (10:85)

Reference : 33:59 24:23 Page 542,537

والمزید راجع ٣٣ الأحزاب :٥٩ ٢٤ النور :٢٣

المزید حوالہ 33:59 24:23 537, 542

CHATting NONSENSE - RAVING

My revelations were recited to you, but you used to turn back on your heels, (23:66)

In scorn thereof. Nightly did you rave together. (23:67)

More Reference : 24:23 26:223,226 31:6
Page 537, 569, 473, 482

القول بالهجر

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ ﴿٦٦﴾
﴿٢٣ المومنون ٦٦﴾

مُسْتَكْبِرِينَ بِسِرِّهِمْ تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾
﴿٢٣ المومنون ٦٧﴾

والمزيد راجع ٢٤ النور: ٢٣ ٢٦ الشعراء: ٢٢٣، ٢٢٦
٣١ لقمان: ٦ الصفحة ٥٣٧، ٥٦٩، ٤٧٣، ٤٨٢

لغو گوئی اور بکواس (یا وہ گوئی)

میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم اٹے پاؤں پھر جاتے تھے (23:66)

ان سے سرکشی کرتے۔ کہانیوں میں مشغول ہوتے۔ اور یہودہ بکواس کرتے تھے (23:67)

مزید حوالہ 23:24 226,223:26 6:31
صفحہ 482, 473, 569, 537

MISLEADING AND STRAYING POETRY

As for poets, the erring follow them. (26:224)

Have you not seen how they stray in every valley, (26:225)

And how they say that which they do not? (26:226)

More Reference : 6:31 Page 833

BELIEVING SUPERSTITIONS OF ANCESTORS

And when it is said to them: Come to that which Allah has revealed and to the messenger, they say: Enough for us is that wherein we found our fathers. What! Even though their fathers had no knowledge whatsoever, and no guidance? (5:104)

More Reference : 2:170,189 4:117,118
Page 155,159 159
6:139,140,151 7:3,28,173,190 9:37 11:109
159,513,451 155,484,160 160 155
16:35 31:21 37:69,70 43:22,23,24
155 155 156 156

اتباع الشعراء الطائشين

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٢٤﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٢٥﴾

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٢٦﴾

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ٣١ الصفحة ٨٢٣

مصاحبة الفجار

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ
الرُّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَا آبَاءَنَا
أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾
﴿٥ المائدة ١٠٤﴾

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٨٩، ١٧٠ ٤ النساء: ١١٧، ١١٨
٦ الأنعام: ١٥١، ١٤٠، ١٣٩ ١٧ الأعراف: ١٧٣، ٢٨٠، ٣
٩ التوبة: ٣٧ ١١ هود: ١٠٩ ١٦ النحل: ٣٥
٣١ لقمان: ٢١ ٣٧ الصافات: ٧٠، ٦٩ ٤٣ الزخرف: ٢٢، ٢٣، ٢٤

جاہلانہ رسم و رواج

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں (تب بھی؟) (104:5)

مزید حوالہ 118,117:4 189,170:2
صفحہ 159 155,159
109:11 37:9 190,173,28,3:7 151,140,139:6
155 160 155,484,160 159,513,451
24,23,22: 43 70,69:37 21:31 35:16
156 156 155 155

ALL FLAGRANT DEEDS WHETHER OBVIOUS OR OBSCURE

Leave off obvious vice and its inner source; those who acquire a vice will be rewarded for whatever they may have committed.. (6:120)

More Reference : 6:120 Page 483

الفواحش ظاہراً و باطناً

وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَشْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ
يَكْسِبُونَ الْأَشْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا
يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾
﴿٦ الانعام ١٢٠﴾

ظاہر اور پوشیدہ طور پر بے حیائی کے جملہ کام

اور ظاہری اور پوشیدہ (ہر طرح کا) گناہ ترک کر دو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کئے کی سزا پائیں گے (120:6)

And when they do some lewdness they say: We found our fathers doing it and Allah has enjoined it on us. Say: Allah, enjoins not lewdness. Do you tell (say) concerning Allah that which you know not? (7:28)

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٧ الاعراف ٢٨﴾

اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ (7:28)

Say: My Lord forbids only indecencies, such of them as are apparent or such as are within, and sin and wrongful oppression, and that you associate with Allah that of which no warrant has been revealed, and that you tell concerning Allah that which you now not. (7:33)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾
﴿٧ الاعراف ٣٣﴾

کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں (7:33)

Reference : 2:169,268 4:15,22,149 7:80
Page 384,312 516,471 963
6:90 24:21 29:28 42:37 53:32 27:54
59 385 962 466 120 539

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٦٨، ١٦٩، ٤ النساء: ١٥، ٢٢، ١٤٩، ٢١ النور: ٢٤، ٩٠، النحل: ١٦، ٨٠، ٧ الاعراف: ٢٨، ٢٩ العنكبوت: ٢٨، ٤٢ الشورى: ٢٧، ٥٣ النجم: ٢٢، ٢٧ النمل: ٥٤

المزيد راجع البقرة: ٢، ١٦٩، ٢٦٨، ٤ النساء: ١٥، ٢٢، ١٤٩، ٢١ النور: ٢٤، ٩٠، النحل: ١٦، ٨٠، ٧ الاعراف: ٢٨، ٢٩ العنكبوت: ٢٨، ٤٢ الشورى: ٢٧، ٥٣ النجم: ٢٢، ٢٧ النمل: ٥٤

EVIL WILL HAVE ITS OWN EVIL CONSEQUENCES IN THE LONG RUN

The (faithful) slaves of the beneficent are they who walk upon the earth modestly, and when the foolish ones address them they answer: Peace! (25:63)

عاقبة السيئات سيئة
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾
﴿٢٥ الفرقان ٦٣﴾

برے کاموں کا انجام بھی برا
اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ (63:25)

When evil was the consequence to those who dealt in evil, because they denied the revelations of Allah and made a mock of them. (30:10)

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾
﴿٣٠ الروم ١٠﴾

پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا اس لئے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے (10:30)

KEEPING BAD SOCIETY

Reference : 4:81,140 7:199 23:3
Page 745,217 465 465
63,72 28:55 45:14 54:6 73:10
65 465 757 740 741

مصاحبة الفجار
وللتفصيل راجع ٤ النساء: ٨١، ١٤٠، ٧ الاعراف: ١٤٩، ٢٣ المؤمنون: ٢، ٢٥ الفرقان: ٧٢، ٧٣، ٢٨ القصص: ٥٥، ٤٥ الجاثية: ١٤، ٥٤ القمر: ٦، ٧٣ المزمل: ١٠

بري صحبت
تفصيل کیلئے دیکھئے
3:23 199:7 140,81:4
465 465 217,745
10:73 6:54 14:45 55:28 72,63:25
741 740 757 465 465

NOT FORBIDDING EACH OTHER FROM INIQUITIES

They restrained not one another from the wickedness they did. Evil is that they used to do! (5:79)

عدم التناهي عن المنكر
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾
﴿٥ المائدة ٧٩﴾

برائی سے ایک دوسرے کو نہ روکنا
(اور) برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے بلاشبہ وہ برا کرتے تھے (79:5)

Reference Consult : Restraining from the way of cause of Allah (swm)
Page 627,628

وللمزيد راجع سد عن سبيل الله
الصفحة ٦٢٧، ٦٢٨

مزید حوالہ کیلئے دیکھئے اللہ کی راہ سے روکنا
صفحہ 627,628

BUSINESS ETHICS - MORES OF TRADE, COMMERCE AND INDUSTRY

اصول التجار والصناعة

اصول تجارت و صنعت

ONLY LAWFUL TRADE PERMITTED IN ISLAM

O you who believe! Squander not your wealth among yourselves in vanity, except it is for some business (trade) by mutual consent, and kill (destroy) not yourselves. No doubt Allah is ever Merciful to you. (4:29)

الإجازة للتجارة الصحيحة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾
﴿٤ النساء ٢٩﴾

جائز تجارت کا حکم

وتمونا! ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر رحیم ہے۔ (29:4)

USURY BASED COMMERCE PROHIBITED

For Detail Consult : 2:275,276,278,279 3:130,131 Page 488, 489 Chapter of Usury Page 488

النهي عن المعاملة بالربو

واللفظ راجع ٢ البقرة: ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٦، ٢٧٥، ٣ آل عمران: ١٣٠، ١٣١ الصفحة ٤٨٩، ٤٨٨ باب "الربو" الصفحة ٤٨٨

سودی کاروبار کی ممانعت

میل کیے دیکھئے 2:275,276,278,279 3:130,131 صفحه 488, 488 ب "سود" صفحه 488

CONCEPT OF BUSINESS PARTNERSHIP

For Detail Consult : 4:29 38:24 Page 485, 1069

نظريّة الشركة و المضاربة في التجارة

واللفظ راجع ٤ النساء: ٢٩، ٣٨ ص: ٢٤ الصفحة ١٠٦٩، ٤٨٥

کاروبار میں شراکت کا تصور

میل کیے دیکھئے 4:29 38:24 صفحه 1069, 485

OFFERING AND ACCEPTING OF BRIBERY - KICKBACK - GRAFT TO OBTAIN MATERIAL GAINS FORBIDDEN

And eat not up your property among yourselves in vanity, and not try to bribe authorities with it so that you may knowingly devour a portion of the property of others wrongfully. (2:188)

النهي عن أخذ الرشوة

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾
﴿٢ البقرة ١٨٨﴾

ناجائز کاروبار کی فائدے کیلئے رشوت کے لین دین کی ممانعت

اور ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس رشوت پہنچا کر تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاوے اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ (188:2)

For Detail Consult : 16:116 Page 160

OBSERVE JUST MEASURE AND WEIGHT (USE EXACT AND FULL SCALES)

O my people! Give full measure and full weight in fairness, and do not cheat people in respect of their belongings. (the things that are their due) And do not cause havoc on the earth, causing corruption. (11:85)

الأمر بإيفاء الكيل والوزن

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾
﴿١١ هود ٨٥﴾

مزید حوالہ 16:116 صفحه 160

پورا اور صحیح ناپ تول کا حکم

اے میری قوم! ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔ (85:11)

Fill the measure when you measure, anything and weigh with a right balance; that is better and finest in the end. (17:35)

وَإَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَغِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٣٥﴾

اور جب (کوئی چیز) ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور (جب تول کر دو) ترازو سیدھی رکھ کر تول کرو۔ یہ بہت بہتر بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ (35:17)

Give full measure, and be not of those who give less (than the due). (26:181)

And weigh with the straight balance. (26:182)

Do not under sell people to cheat them of their goods and do not make mischief, in the land. (26:183)

And the Firmament has He raised high, and He has set up the Balance (of Justice). (55:7)

That you do not exceed (skimp) the measure, (55:8)

And establish weight with justice and fall not short in the balance.. (55:9)

Go to those who deal in fraud. (83:1)

Those who when they take the measure from mankind demand it full, (exact measure). (83:2)

But when they have to give to others by measure or weigh they give them less than their due. (83:3)

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿٢٦﴾ الشعراء ١٨١

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٢٦﴾ الشعراء ١٨٢

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٦﴾ الشعراء ١٨٣

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٥٥﴾ الرحمن ٧

الَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٥٥﴾ الرحمن ٨

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٥٥﴾ الرحمن ٩

وَيِلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨٣﴾ المطففين ١

الَّذِينَ إِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٨٣﴾ المطففين ٢

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨٣﴾ المطففين ٣

(دیکھو) پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو (181:26)

اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو (182:26)

اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین پر فساد نہ کرتے پھرو (183:26)

اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی۔ (7:55)

کہ ترازو (سے تولنے) میں حد سے تجاوز نہ کرو (8:55)

اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو۔ اور کم تول مت کرو (9:55)

ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لئے خرابی ہے (1:83)

کہ جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں (2:83)

اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں (3:83)

More Reference : 7:85 11:84
Page 997, 998

وللمزيد راجع ٧ الأعراف: ٨٥ ١١ هود: ٨٤
الصفحة ٩٩٧, ٩٩٨

مزید حوالہ 84:11 85:7
صفحہ 998, 997

WARNING TO THOSE WHO USE SHORT SCALES OF MEASURE AND WEIGHT

Do such (men) not consider that they will be raised up again (83:4)

On an awful Day, (83:5)

On the Day when (all) mankind will stand before the Lord of the Worlds? (83:6)

WARNING - SQUIRELING - STASHING

Do no means! For it would be a blazing Fire. (70:15)

Ever to roast; (70:16)

They will claim all who turned and fled (from truth), (70:17)

إنذار للمطففين الذين يخسرون الكيل والوزن

الْأَيُّظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ المطففين ٤

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ المطففين ٥

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ المطففين ٦

النهي عن الاحتكار

كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْيِرُّ ﴿١٥﴾ المعارج ١٥

نَزَاعَةَ لِّلشَّوْىِ ﴿١٦﴾ المعارج ١٦

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾ المعارج ١٧

کم ناپ تول کرنے والوں کو تنبیہ

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے (4:83)

(یعنی) ایک بڑے (سخت) دن میں (5:83)

جس دن (تمام) لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے (6:83)

ذخیرہ اندوزی کی ممانعت

(لیکن) ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے (15:70)

کھال ادھیڑ ڈالنے والی (16:70)

وہ ہر اس شخص کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے (دین حق سے) منہ موڑا (17:70)

And hoarded (wealth) and withheld it. (Hide it from use) (70:18)

وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿٧٠﴾
المعارج ١٨

ر(مال) جمع کیا اور بند کر رکھا (18:70)

More Reference : 3:180 9:34,35 104:2,3,4
Page 498, 270, 425

والمعارج راجع ٣ آل عمران: ١٨٠ ٩ التوبة: ٣٤، ٣٥
١٠٤ الهمزة: ٤٠٣، ٤٠٢

زيد حوالہ 180:3 35,34:9 4,3,2:104
صفحہ 425, 270, 498

**RULES FOR SAFEGUARDING AGAINST
LOSS IN THIS TEMPORARILY WORLD
AND HEREAFTER**

المبدأ القيم للوقاية
من خسران الدنيا والاخرة

دینی اور دنیوی تجارت میں گھائے سے
بچنے کے زریں اصول

By the declining day, (103:1)

وَالْعَصْرِ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿١٠٣﴾
العصر ١ ١٠٣ العصر ٢

ص(زمانے) کی قسم (1:103)

No doubt Man is in a state of Loss. (103:2)

بے شک انسان (گھائے) میں ہے (2:103)

Except those who believe and do righteous deeds and exhort one another to truth and exhort one another to endurance. (103:3)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿١٠٣﴾
العصر ٣

مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور
اپس میں حق (بات) کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے
ہے (3:103)

**IT IS THE BEST FOR YOU WHICH IS
LEFT BY ALLAH (SWT)**

بقية الله خير لكم

اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نفع ہی کافی ہے

Anything, which Allah leaves with you, is the best for you if you are believers;-----
(11:86) PART

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ؕ
﴿١١﴾ هود ٨٦ جزء

کرم کو (میرے کہنے کا) یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی
تمہارے لئے بہتر ہے۔۔۔۔۔ (86:11) جزو

**LEGITIMATE TRADE DURING PILGRIMAGE
(HAJJ) SEASON IS PERMISSIBLE**

جواز التجارة الصحيحة
خلال أيام الحج

ایام حج میں جائز تجارت کی اجازت

For Detail Consult : 2:198 Page 288/434

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٩٨ الصفحة ٢٨٨/٤٣٤

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:198 صفحہ 288/434

**ANY ACTIVITY OF BUSINESS
QUEST OF SUSTENANCE MAY NOT DIVERT
YOU FROM REMEMBRANCE OF ALLAH (SWT)**

لا تكن التجاره مانعاً في ذكر الله

کاروباری مصروفیت تمہیں
اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے

For Detail Consult : 24:37,38 62:9,10
Page 256, 392, 257

والتفصيل راجع ٢٤ النور: ٣٧، ٣٨ ٦٢ الجمعة: ٩، ١٠
الصفحة ٢٥٦، ٣٩٢، ٢٥٧

تفصیل کیلئے دیکھئے 24:37,38 62:9,10
صفحہ 256, 392, 257

**ONLY ALLAH (SWT) HAS THE POWER
EITHER TO BENEFIT OR HARM YOU**

النفع و الضرر بيد الله

نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے

Say: I have no power to hurt or benefit myself, except that which Allah wills.-----
(10:49) PART

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا
مَّا شَاءَ اللَّهُ
﴿١٠﴾ يونس ٤٩ جزء

کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ
انتخاب نہیں رکھتا۔ مگر جو اللہ چاہے۔۔۔۔۔ (49:10) جزو

For Detail Consult : 5:76 10:49 22:12,13
25:55 40:22 Page 145, 428

والتفصيل راجع ٥ المائدة: ٧٦ ١٠ يونس: ٤٩
٢٢ الحج: ١٢، ١٣ ٢٥ الفرقان: ٥٥ ٤٠ المؤمن (غافر): ٢٢

تفصیل کیلئے دیکھئے 5:76 10:49 22:12,13
25:55 40:22 صفحہ 145, 428

**CONCEPT OF WEEKEND - HOLIDAY
(REGULAR INTERMISSION IN BUSINESS)**

تصور العطلة الأسبوعية في العمل

کاروبار میں وقفہ - ہفتہ وار چھٹی کا تصور

O you who believe! When the call is announced for the prayer of the day of congregation (Friday) make haste to the remembrance of Allah and leave your trading. (Close your place of business) That is better for you if you realize it. (62:9)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
﴿٦٢﴾ الجمعة ٩

اے مومنو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی
جائے تو اللہ کی یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور
خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق
میں بہتر ہے (9:62)

**USURY "RIBA"
INTEREST BEARING TRANSACTIONS**

الربو

سود

**INJUNCTION TO WRITE OFF
ALL OUTSTANDING DUES OF USURY
FROM NOW ONWARD DURING YEAR 9-AH**

O you who believe! Heed Allah, and give up what remains (due to you) from lending at interest, if you are (in truth) believers. (2:278)

Reference: 2:279, 3:130, 131
Page 488, 489

النص الصريح في تحريم الربو
بالعام ٩ هج

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
﴿البقرة ٢٧٨﴾

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٧٩ ٣ آل عمران: ١٣٠، ١٣١
الصفحة ٤٨٨، ٤٨٩

سود کو چھوڑ دینے کا قطعی حکم
دوران سال 9ھ

مومنو! اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی
رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو (2:278)

المزيد حوالہ 131, 130: 3 279: 2
صفحہ 489, 488

**ULTIMATUM OF WAR TO USURER
FROM ALLAH (SWT) AND HIS PROPHET (SAAS)
INSTRUCTION TO TAKE CAPITAL SUM ONLY**

And if you do not do so, then be prepared to face war (against you) from Allah and His messenger. And if you repent, then you have your principal (without interest). Wrong do others, and you shall not be wronged. (2:279)

PAINFUL DOOM FOR USURER

Those who devour usury will not stand up except as he arises whom the devil has prostrated by (his) touch. ----- As for those who repeat the offence of (usury) -- Such are rightful owners of the Fire. They will abide therein. (275) PART

And of their taking usury when they were forbidden it, and of their devouring people's wealth by false pretences. We have prepared for these of them who disbelieve a painful doom. (4:161)

أكل الربو حرب من الله ورسوله
(الأمر بالحصول على رأس المال فقط)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾
﴿البقرة ٢٧٩﴾

عاقبة أكل الربو

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ---
----- وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
﴿البقرة ٢٧٥﴾ جزء

وَأَخَذْنَاهُم بِالرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ
أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾
﴿النساء ١٦١﴾

سود خوری: اللہ تعالیٰ اور رسول کے خلاف جنگ
(فورا سود چھوڑ کر صرف اصل زر وصول کرنے کا حکم)

اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ (کہ تم) اللہ اور رسول سے
جنگ کرنے کے لئے (تیار ہوتے ہو) اور اگر توبہ کر لو
گے (اور سود چھوڑ دو گے) تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے نہ
تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے (279:2)

سود خور کا انجام

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قبروں سے) اس طرح
(حواس باختہ) انھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر
دیوانہ بنا دیا ہو۔۔۔۔۔ اور پھر جو حرام (کی
طرف لوٹا) (سود) لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ
ہمیشہ دوزخ میں (جلتے) رہیں گے (275:2) جزو

اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کئے جانے کے سود
لیتے تھے اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق
کھاتے تھے۔ اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لئے
ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے (4:161)

Reference: 3:130, 131 Page 489

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٣٠، ١٣١

المزيد حوالہ 131, 130: 3 صفحہ 489

**COMPARISON BETWEEN APPARENT
INCREASE IN WEALTH BY USURY WITH
THE REWARDS OF ALLAH (SWT) ON CHARITY**

That which you give in usury in order that it may increase on (other) people's property has no increase with Allah; but that, which you give in charity, seeking Allah's countenance, has increased many fold. (30:39)

المقارنة بين ازدياد المال بالربو وبين
ازدياد المال بالصدقات عند الله

وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ مَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾
﴿الروم ٣٩﴾

سود کے ذریعہ مال میں (ظاہری) اضافہ کا زکوٰۃ
اور خیرات کے بدلے انعامات الہیہ سے تقابلی

اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں (بردھتا رہے)
افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی
اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی
طلب کرتے ہو تو (وہ موجب برکت ہے اور) ایسے ہی لوگ
(اپنے مال کو) دو چند نہ چند کرنے والے ہیں (39:30)

ALLAH (SWT) PERMITS TRADE AND FORBIDS USURY

-----That is because they say: Trade is just like usury; whereas Allah permits trading and forbids usury. He to whom an admonition from his Lord comes, and (he) refrains (in obedience thereto), he shall keep (the profits of) that which is past, and his case rests with Allah.-----
(2:275) PART

التجارة حلال والربو حرام

ذَلِكَ
بِأَنَّكُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَىٰهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
----- ﴿٢ البقرة ٢٧٥﴾ جزء

تجارت حلال مگر سود حرام

-----یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت
ی تو (نفع کے لحاظ سے) ایسا ہی ہے جیسے سود (لینا)
لانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس
س کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ (سود لینے
سے) باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا رہا۔ اور (قیامت
س) اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔----- (275:2) جزو

ALLAH (SWT) WIPES OUT USURY AND NOURISHES ACTS OF CHARITY

Allah has blighted usury and made almsgiving fruitful. Allah loves (likes) not the impious and guilty.
(2:276)

**الربو: لا بركة فيه،
وأما الصدقات فإن البركة فيها**

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
----- ﴿٢ البقرة ٢٧٦﴾

سود بے برکت اور خیرات و صدقہ با برکت

سود کو نابود (یعنی بے برکت) کرتا اور صدقہ (کی
برکت) کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار سے
محبت نہیں کرتا (276:2)

PENALTY OF DEVOURING MULTIPLE INTEREST (COMPOUNDED USURY)

O you who believe! Devour not usury, doubling and quadrupling (the sum lent). But fear Allah, that you may be successful. (3:130)

الربو المضاعف و عاقبته

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْلُوا الرِّبَا
مَضَاعَفًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
----- ﴿٣ آل عمران ١٣٠﴾

سود در سود کی سزا

سے ایمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو
تا کہ نجات حاصل کرو (130:3)

And ward off (heed yourselves) from the Fire which has been prepared for disbelievers. (3:131)

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
----- ﴿٣ آل عمران ١٣١﴾

اور (دوزخ کی) آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار
کی گئی ہے (131:3)

MISINTERPRETATIONS TO JUSTIFY THE DEVOURING OF USURY

They think to beguile Allah and those who believe, and they beguile none except themselves; but they perceive not. (2:9)

الاحتیال لإباحة الربو

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ
إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
----- ﴿٢ البقرة ٩﴾

**سود کو جائز قرار دینے کے لیے
حیلے بہانے (غلط تاویل)**

وہ (اپنے خیال میں) اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکا
دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکا دے
رہے ہیں۔ مگر سمجھتے نہیں (9:2)

SOCIO - ECONOMIC TAXES OF ISLAMIC STATE

الضرائب في الاقتصاد الإسلامي

اسلامی سرکاری ٹیکس کے ٹیکس

POORDUE - MANDATORY ALMS OBLIGATORY WELFARE TAX

الزكاة

زکوة

For Detail Consult : Zakat (Welfare Tax) Poor Due) Page : 265

وللتفصيل راجع: باب الزكاة الصفحة 265

تفصیل کے لئے دیکھئے: باب زکوة صفحه 265

ACTS OF CHARITY AND BENEVOLENCE VOLUNTARY ALMS

إنفاق في سبيل الله والصدقات

خيرات صدقہ

Detail Consult : Chapter of Charity and Benevolence Page : 275,284

وللتفصيل راجع: باب انفاق في سبيل الله والصدقات الصفحة 284,275

تفصیل کیلئے دیکھئے: باب خيرات وصدقہ صفحه 284,275

TITHES ON HARVEST OBLIGATORY WELFARE TAX OF AGRICULTURE PROCEEDS

العشر

عشر (زرعی پیداوار) (فصل و باغات) پر صدقہ واجبہ

Detail Consult : Chapter of Tithes Page 274

وللتفصيل راجع: باب العشر الصفحة 274

تفصیل کیلئے دیکھئے: باب العشر صفحه 274

SOCIAL SECURITY - POOL TAXES

الضرائب للرعاية الاجتماعية

معاشرتی بہبود کے لئے ٹیکس

Detail Consult : 9:29 18:94,95 490, 1083

وللتفصيل راجع: 9 التوبة: 29 18 الكهف: 94,95 الصفحة 490, 1083

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:29 18:94,95 490, 1083

RANSOM MONEY FOR FREEING CAPTIVES OF WAR

اخذ الفدية على اطلاق اسارى الحرب

جنگی قیدیوں کے چھوڑنے پر ٹیکس

is not for any prophet to have captives until he has made slaughter the land you desire the lure of this world and Allah desires (for you) Hereafter. And Allah is Mighty, se. (8:67)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَّخِذَ فِي الْأَرْضِ ثَمَرًا وَلَا يَتَّخِذَ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

پیغمبر کو شاپاں نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون (نہ) بہا دے تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے (8:67)

had it not been for an ordinance of Allah, which had gone before, an awful doom had come upon you on account of what you took. (8:68)

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو (فدیہ) تم نے لیا ہے اس کے بدلے تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی (8:68)

POLL TAX PAYABLE BY NON - MUSLIMS ISLAMIC STATE WHOSEVER AFFORDS (AS A SUBSTITUTE FOR ZAKAT, AS OBLIGATORY FOR ALL MUSLIMS)

اخذ الجزية من الذميين عوضا من توفير الأمن لهم في دولة إسلامية

جزیہ (سوشل سیکورٹی ٹیکس) غیر مسلموں کے اسلامی مملکت میں پر امن و بحفاظت رہنے کے لئے

Fight against such of those who have been given the Scripture as believe in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah has forbidden by His messenger, and follow not the Religion of Truth, until they pay the tribute readily, being brought low. (9:29)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر (یقین رکھتے ہیں) اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں (9:29)

For Detail Consult : Treaties - Pacts Page 669,668

وللتفصيل راجع المعاهدات بين الفريقين الصفحة 669,668

تفصیل کیلئے دیکھئے باہمی معاہدے صفحه 669,668

BOOTY AND SPOILS OF WAR

الأنفال والغنائم

مال غنیمت اور فتنے

For Detail Consult : 8:1,41,59 59:6 to 8 Chapter "Booty of war" Page 668, 127, 669

وللتفصيل راجع 8:1,41,59 59:6 to 8 راجع باب : الأنفال والغنائم الصفحة 668, 127, 669

تفصیل کیلئے دیکھئے 8:1,41,59 59:6 to 8 دیکھئے باب : مال غنیمت (انفال) صفحه 669, 127, 668

DEBTS AND LOANS

الْمَقْرُوضُ

قرض

WRITTEN DOCUMENT IS RECOMMENDED FOR EVERY TRANSACTION INVOLVING ANY FUTURE PAYMENTS

-----Be not averse to writing down (the contract) whether it be small or great, with (record of) the term thereof. That is more equitable in the sight of Allah and more sure for testimony, and the best way of avoiding doubt between you.-----
(2:282) PART

LEGACY OF DEBT LOANS ARE NOT WAIVED OFF AND REMAINS PAYABLE AFTER DEATH EVEN

-----But if they be more (than two) then they shall be sharers in the third, after payment of any legacy that may have been bequeathed or debt (contracted) not injuring (the heirs by willing away more than a third of the heritage) has been paid. This is a commandment from Allah. Allah is Ever all knower, Indulgent. (Most-forebearing) (4:12) PART

GRANT EXTENSION IN TIME LIMIT TO THE DEBTOR WHO SUFFERS HARDSHIP IN RE-PAYMENT

And if the debtor is in straitened circumstances, then (let there be) postponement to (the time of repayment) ease; and that you remit the debt, as charity would be better for you if you did but know. (2:280)

HELPING POOR BY RELIEVING BURDEN OF DEBT OR FREEING CAPTIVE BY PAYING OFF DEBT OUT OF ALMS OR CHARITY

For Detail Consult : 9:60 Page 272

CHARITY IS LOANING TO ALLAH (SWT) WHICH HAS MANIFOLD REWARDS

For Detail Consult : 2:245 57:11,18 64:17 73:20 Page 268, 277, 278, 276

كتابة عقود التداين المؤجلة ، وثائق الرهن

.....وَلَا تَسْتَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا.....
﴿٢ البقرة ٢٨٢﴾ جزء

لا يزال الدين مستحقا للأداء حتى بعد الموت

.....فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.....
﴿٤ النساء ١٢﴾ جزء

إمهال المديون ذى العسرة لدفع الدين

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.....
﴿٢ البقرة ٢٨٠﴾

إعانة مديون ذى العسرة لدفع الدين

وللتفصيل راجع ٩ التوبة: ٦٠: الصفحة ٢٧٢

إقراض الله و أجره

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٤٥: ٥٧ الحديد: ١١: ١٨٠: ٦٤ التغابن: ١٧: ٧٣ المزمّل: ٢٠:

معاهدات قرض كوضبط تحرير میں لانے کی ہدایت

..... اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس (کی دستاویز) کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور گواہی کے لئے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔----- (282:2) جزو

قرض بعد از مرگ بھی واجب الادا رہتا ہے

..... اور اگر (دو سے زیادہ) ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کی ادائیگی کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور اللہ نہایت علم والا (اور) نہایت بردبار ہے (4:12)

تنگدست مقرض کو عرصہ ادائیگی میں مہلت دینا

اور اگر قرض لینے والا (مقرض) تنگ دست ہو تو (اسے) آسانی (کے حاصل ہونے) تک مہلت (دو) اور اگر (تنگ دست قرض دار کو بطور صدقہ) بخش دو تو وہ تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے اگر تم سمجھو (280:2)

قرض تلے دے ہوئے، بے کس کا بوجھ ہلکا کرنا کسی مجبور کو رہائی دلانا

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:60 صفحہ 272

اللہ کو قرض اور ان کا کئی گنا اجر

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:245 18:11:57 17:64 20:73 صفحہ 268, 277, 278, 276

**TRUSTS - CUSTODIES
SECURITY DEPOSITS (AMANAT)**

الأمانة

امانت

RESTORE (RENDER BACK) TRUSTS

Among the People of the Scripture there is he who, if you trust him with a weight of treasure, will (readily) return it to you. And among them there is he who, if you trust him with a single coin will not return it to you unless you keep standing over him demanding its payment. That is because they say: We have no duty to the Gentiles. They speak a lie concerning Allah knowingly. (3:75)

Allah commands you that you restore deposits to their owners, and, if you judge between mankind, that you judge justly. How superbly Allah instructs you to do so. Indeed Allah is ever Hearer, Seer. (4:58)

And who are shepherds of their pledge and their covenant, (23:8)

More Reference : 2:283 4:6,7 70:32
Page 495, 461, 510, 765

**IT IS BETTER TO KEEP
WRITTEN RECORD OF TRUSTS**

For Detail Consult : 2:282 Page 491/494

**TRUST WORTHINESS
TRADITION OF EVERY MESSENGER OF ALLAH(SWT)**

MOHAMMAD(SAAS)	81:21	7:68	Page 209,930
JOSEPH(PBUH)	12:54		Page 987
JETHSALIH(PBUH)	26:143		Page 937
ISRAHIM(PBUH)	26:162		Page 963
MOSES(PBUH)	26:107		Page 919
DAVID(PBUH)	44:18		Page 1037
ISRAHIM(PBUH)	26:178		Page 999

**BETRAYING OF TRUSTS
MISAPPROPRIATION OF CUSTODIES
CHEATING - HANKY PANKY - FRAUD**

Whoever deceives will bring his deceit with him on the Day of Resurrection. Then every soul will be paid in full what it has earned; and they will not be dealt with unjustly. (3:161) PART

أداء الأمانة واجب

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

﴿٣ آل عمران ٧٥﴾

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

﴿٤ النساء ٥٨﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٢٣﴾ المومنون ٨

والمعزیز راجع ٢ البقرة: ٢٨٣ ٤ النساء: ٧٠٦
٧٠ المعارج: ٣٢ الصفحة ٤٩٥، ٤٦١، ٥١٠، ٧٦٥

اعداد وثيقة للأمانة خیر

وللتفصیل راجع ٢ البقرة: ٢٨٢ الصفحة ٤٩١/٤٩٤

الأمانة سنة الأنبياء

محمد	٨١	التكوير: ٢١	٧ الأعراف: ٦٨
يوسف	١٢	يوسف: ٥٤	الصفحة ٩٨٧
صالح	٢٦	الشعراء: ١٤٣	الصفحة ٩٣٧
لوط	٢٦	الشعراء: ١٦٢	الصفحة ٩٦٣
نوح	٢٦	الشعراء: ١٠٧	الصفحة ٩١٩
موسى	٤٤	الدخان: ١٨	الصفحة ١٠٣٧
شيعب	٢٦	الشعراء: ١٧٨	الصفحة ٩٩٩

الخيانة والغش والخدعة

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣﴾ آل عمران ١٦١ جزء

﴿٣ آل عمران ١٦١﴾ جزء

امانت لو تارینی چاہئے

اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس (دولت کا ڈھیر) خزانے امانت رکھ دو تو تم کو (فورا) واپس کر دے اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں واپس نہ کرے اس لئے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر ان جاہلوں (غیر یہودی) کے حق کا کوئی گناہ نہیں یہ اللہ پر جاننے کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں (75:3)

اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے۔ بیشک اللہ سنتا (اور) دیکھتا ہے (58:4)

اور جو امانتیں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں (8:23)

مزید حوالہ 283:2 7,6:4 32:70
صفحہ 765, 510, 461, 495

امانت کی دستاویزات بنالینا بہتر ہے

تفصیل کیلئے دیکھیے 282:2 صفحہ 494/491

امانت کی پاسداری تمام پیغمبران کی سنت

حضرت محمد ﷺ	21:81	68:7	صفحہ 209,930
حضرت یوسفؑ	54:12		صفحہ 987
حضرت صالحؑ	143:26		صفحہ 937
حضرت لوطؑ	162:26		صفحہ 963
حضرت نوحؑ	107:26		صفحہ 919
حضرت موسیٰؑ	18:44		صفحہ 1037
حضرت شعیبؑ	178:26		صفحہ 999

خیانت۔ (دغا بازی۔ دھوکہ بازی)

اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز (اللہ کے روبرو) لا حاضر کرنی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی (161:3) جزء

Is one who follows the pleasure of Allah can be like one who has earned condemnation from Allah, whose habitation is the Fire, an awful journey's end? (3:162)

أَقِمْنَ اتَّبِعِ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ
مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيُشَسِّمُ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾
﴿٣ آل عمران ١٦٢﴾

بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح (مرتبک خیانت) ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بدترین جگہ ہے (3:162)

There are degrees (of grace and reprobation) with Allah, and Allah is Observant of what they do. (3:163)

هُمُ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾
﴿٣ آل عمران ١٦٣﴾

ان لوگوں کے اللہ کے ہاں (مختلف) درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے (3:163)

O you who believe! Betray not Allah and His messenger, nor knowingly betray your trusts. (8:27)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٨ الانفال ٢٧﴾

اے ایمان والو! نہ تو اللہ اور رسول (کے حقوق) کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم (ان باتوں) کو جانتے ہو (27:8)

ALLAH(SWT) DOES NOT LIKE ANY BETRAYER OR CHEATER

لا يحب الله الخائن والخذاع

خائن اور دغا باز اللہ کا دوست نہیں

(Then Joseph said: I asked for) this, that he (my lord) may know that I have not betrayed him during his absence, and that surely Allah guides not the snare of the betrayers. (12:52)

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾
﴿١٢ يوسف ٥٢﴾

(یوسف نے کہا کہ میں نے) یہ بات اس لئے (پوچھی ہے) کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی (امانت میں) خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کے (مکروں) کو چلنے نہیں دیتا (52:12)

Surely Allah defends those who are true. Allah does not love any thankless traitor (unfaithful, ungrateful). (22:38)

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾
﴿٢٢ الحج ٣٨﴾

اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفرانِ نعمت کرنے والے (ناشکرے) کو ہرگز پسند نہیں کرتا (38:22)

BETRAYING AND DECEIVING A PRACTICE OF DISBELIEVERS

الخيانة والخذعة خصلة المنكرين

خیانت۔ دھوکہ۔ خصلت منکرین

And if they would betray you, they have betrayed Allah before, and He gave (you) power over them. Allah is Knower, Wise. (8:71)

وَأِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ
مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٧١﴾
﴿٨ الانفال ٧١﴾

اور اگر یہ لوگ تم سے خیانت کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں تو اس نے ان کو (تمہارے) قبضے (حکوم) میں کر دیا۔ اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے (71:8)

NEVER RELY UPON THE COVENANT OF BETRAYER

لا ثقة لعهد الخائن

خائن۔ دھوکہ باز کے عہد (وعدہ) پر اعتبار نہ کرو

For Detail Consult : 8:58 Page 666

وللتفصيل راجع ٨ الأنفال: ٥٨ الصفحة ٦٦٦

تفصیل کیلئے دیکھئے 8:58 صفحہ 666

NOT FULFILLING THE OBLIGATIONS OF AGREEMENTS - PACTS - CONTRACTS IS BETRAYING

نقض العهود خيانة

معاهدات کا توڑنا خیانت ہے

For Detail Consult : 5:13 Page 592

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ١٣ الصفحة 592

تفصیل کیلئے دیکھئے 5:13 صفحہ 592

**MUTUAL AGREEMENTS
AND TRANSACTION DEEDS**

اخذاء و بیعتہ للتبادل المالی

باہمی معاہدات اور لین دین

**EVERY PROMISSORY TRANSACTION
(IRRESPECTIVE OF QUANTUM)
SHALL BE KEPT ON RECORD**

التأکید لكتابة التداول المالی البسيط

**معمولی لین دین کو بھی ضبط
تحریر میں لانے کی ہدایت**

-----Be not averse to writing down (the contract) whether be small or big, with (record of) the term thereof. That is more equitable in the sight of Allah and more sure for testimony, and the best way of avoiding doubt between you.----- (2:282) PART

-----وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ ﴿٢﴾ البقرة ٢٨٢ ﴿جزء﴾

----- اور معاملہ (معاہدہ) تھوڑا ہو یا بہت اس (کی دستاویز) کے لکھنے میں کاہلی نہ کرنا یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لئے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا (282:2) جزو

**PROMISSORY NOTES
FIXED - TERM DEBT**

كتابة عقود التداين الموجلة

میعادی قرض کے معاہدات کی تحریر

-----you who believe! When you contract a debt for a fixed term, record it in writing.----- (282) PART

-----يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ ﴿٢﴾ البقرة ٢٨٢ ﴿جزء﴾

----- مومنو! جب تم آپس میں کسی میعاد مقررہ کے لئے قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔----- (282:2) جزو

**OBLIGATIONS OF A SCRIBE - PENMAN
(COPYIST OF CONTRACTS AND BONDS)**

واجبات كاتب الوثيقة بشأن التداين بدین

**کاتب تمسک - وثیقہ نویس
(دستاویزات لکھنے والے) کے فرائض**

-----Let a scribe record it in writing between you in (terms of) equity. No literate person should use to write as Allah has taught him, so let him write, and let him who incurs the debt (borrower) dictate, and heed Allah, his Lord, and shall not omit any part of it----- (2:282) PART

-----وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ ﴿٢﴾ البقرة ٢٨٢ ﴿جزء﴾

----- اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے۔ اور جو شخص قرض لے وہی (دستاویز کا) مضمون بول کر لکھوائے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور زرقرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔----- (282:2) جزو

**THE GUARDIAN OF MENTALLY
DEFICIENT AND INCAPACITATED
PERSONS SHALL DICTATE THE DEEDS
ON THEIR BEHALF IN GOOD FAITH**

ان كان المديون سفيها أو ضعيفا، فليملل وليه بالعدل

**نادان اور کمزور لوگوں کی دستاویزات
ان کے سرپرست (نگران) نہایت
ایمان داری اور انصاف کے ساتھ لکھوائیں**

-----But if (the borrower) is of low understanding, or weak, or unable himself to dictate, then let the guardian of his interests dictate in (terms of) all fairness.----- (282) PART

-----فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۗ ﴿٢﴾ البقرة ٢٨٢ ﴿جزء﴾

----- اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی (سرپرست و نگران) ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے۔----- (282:2) جزو

EXEMPTION OF ENTERING INTO BOND IN CASE OF SPOT TRADE AMONG PARTIES ON CASH TERMS

-----Except only in the case when it is actual merchandise, which you transfer among yourselves from hand to hand. In that case it is no sin for you if you write it not.----- (2:282) PART

لا حاجة الى الوثيقة اذا كانت التجارة حاضرة

.....
لَا اِنَّ تَكُوْنُ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا
﴿البقرة ۲۸۲﴾ جزء

نقد معاملات تجارت کے موقع پر لین دین کی صورت میں دستاویز نہ لکھوانے کی رعایت

.....ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ حاملہ نقد تجارت (دست بدست سودا) ہو جو تم آپس میں لین دین کر رہے ہو تو اگر (ایسے معاملے کی) دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔----- (282:2) جزو

OBLIGATIONS OF WITNESSES OF DEEDS

-----And call in witnesses whenever you engage in trade, and let no harm be done to scribe or witness. If you do (harm to them) Surely it is a sin on your part and fear Allah. He is teaching you. And Allah is Aware of all things. (2:282) PART

واجبات شہداء الوثائق

.....
وَاشْهَدُوا اِذَا تَبَّاعْتُمْ
وَلَا يَضُرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَ اِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا
اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ
﴿البقرة ۲۸۲﴾ جزء

دستاویزات کے گواہوں کے فرائض

..... اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو۔ اور کاتب دستاویز اور گواہ (معاملہ کرنے والے فریقین کو) کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر تم (لوگ) ایسا کرو تو یہ تمہارے لئے گناہ کی بات ہے اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو (کسی مفید باتیں) سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ (282:2) جزو

More Reference : 2:181,283 5:107,108
Page 509, 495/509, 509

واللہ اعلم
﴿البقرة: ۲۸۲، ۱۸۱﴾ المائدة: ۱۰۷، ۱۰۸
الصفحة ۵۰۹، ۴۹۵، ۵۰۹

مزید حوالہ 2:181,283 5:107,108
صفحہ 509/495, 509

LAW OF MORTGAGE OR PLEDGING

If you are on a journey and cannot find a scribe, then a pledge in hand (shall suffice) a deposit may be withheld as a lien. And if one of you entrusts to another let him who is trusted deliver up that which is entrusted to him (according to the pact between them) and fear Allah his Lord.----- (2:283) PART

قانون الرهن

.....
وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا
فَرِهْنٌ مَّقْبُوْضَةٌ اِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُوْدِّ الَّذِي اُوْتِيَ اَمَانَةً وَّلْيَتَّقِ اللّٰهَ
رَبَّهُ
﴿البقرة ۲۸۳﴾ جزء

قانون رهن
کسی چیز کو بطور ضمانت گروی یا گہنے رکھنا

..... اگر تم سفر پر ہو اور (دستاویز) لکھنے والا نہ مل سکے تو (کوئی چیز) رهن یا قبضہ (گروی) رکھ لو اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے (یعنی رهن کے بغیر مطمئن ہو تو امانت دار) کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے۔----- (283:2) جزو

HOW TO SPEND

کسبہ الإنفاق

خرچ کیسے کیا جائے

FRUGALITY - KEEPING JUST MEASURE BETWEEN CAPACITY, AND NEEDS

الاعتدال فی الإنفاق

خرچ میں اعتدال

LAVISH SPENDING MAY RESULT IN DESTITUTION

غاقبة الإسراف - الفقر

اسراف کا انجام - مفلسی

And let not your hand be chained to your neck nor open it to your utmost capacity. Lest you become unworthy and destitute. (17:29)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٢٩﴾

اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو (کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں) اور نہ بالکل کھول ہی دو (کہ کبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو) کہ ملامت زدہ اور پریشان حال ہو کر بیٹھ جاؤ (29:17)

And those who, when they spend, are neither too lavishly nor yet hold back and there is ever a just balance between the two; (25:67)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾
﴿٢٥ الفرقان ٦٧﴾

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں۔ بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم (67:25)

SPEND ACCORDING TO YOUR MEANS

الإنفاق حسب السعة

اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے

Let him who has abundance spend of his resources, and he whose income is restricted let him spend of that which Allah has given him. Allah asks nothing of any soul except that which He has given it. Allah will soon grant ease after hardship. (6:7)

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾
﴿٦٥ الطلاق ٦٥﴾

صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے اور اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخش دے گا (7:65)

Mo Reference : 17:29 Page 496

وللمزيد راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل) : ٢٩

مزید حوالہ 29:17 صفحہ 496

EXTRAVAGANCE - LAVISHNESS SPEND THRIFT - PRODIGALS SQUANDERING

الإسراف والتبذير

فضول خرچی (اسراف)

O you who believe! Forbid not the wholesome things which Allah has made lawful for you, and do not exceed the limits. Allah loves not who commit excess. (5:87)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾
﴿٥ المائدة ٨٧﴾

مومنو! جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا (87:5)

-----And be not prodigal. Allah loves not the prodigals. (6:141) PART

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦٦﴾
﴿٦ الانعام ١٤١﴾ جزء

----- اور بے جا نہ اڑانا کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا (141:6) جزو

The squanderers are ever brothers of the devils, and the devil is ever an ingrate to his Lord (17:27)

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٢٧﴾

کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار (کی نعمتوں) کا کفران کرنے والا (یعنی ناشکرا) ہے (27:17)

And obey not the command of the extravagants. (26:151)

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٥١﴾

اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو (151:26)

More Reference : 7:31 17:29 25:67
Page 252/449, 496, 496

والمزيد راجع ٧ الأعراف: ٢١ ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٢٩
٢٥ الفرقان: ٦٧ الصفحة ٤٩٦, ٤٤٩/٢٥٢

مزید حوالہ 7: 31 17: 29 25: 67
صفحہ 496, 449/252

**SPENDING FOR GOOD CAUSE
(ZAKAT, CHARITY AND POOR DUE)
IS NOT A SQUANDERING**

ليس من التبذير إيتاء الزكوة
والصدقات وإعانة المساكين

زکوٰۃ۔ صدقہ و خیرات اور مستحقین
کی امداد فضول خرچی نہیں

For Detail Consult : 17:26 Page 459

والتفصیل راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٢٦: الصفحة ٤٥٩

تفصیل کیلئے دیکھئے 26:17 صفحہ 459

STINGINESS - NIGGARDLINESS

البخل

کنجوسی

**HESITATION IN SPENDING
FOR THE CAUSE OF ALLAH (SWT)**

البخل في الإنفاق في سبيل الله

اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ سے احتراز

If He should ask it of you and press you, you would act miserably, and He would bring to light your (secret) hates (grudges). (47:37)

إِنْ يَسْأَلْكُمْ لَكُمْ لِمِ اللَّهِ تَبَخُلْتُمْ عَلَيْكُمْ تَبَخُلُوا وَيُبْخِرْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٧﴾
﴿٤٧ محمد ٣٧﴾

اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور زور دے کر مانگے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ تمہاری بدینتی ظاہر کر دے گا (37:47)

You are those who are called to spend in the way of Allah, yet among you there are some misers. And as for him who acts niggardly, he is miserly, only from his soul. And Allah is the Rich, and you are the poor. And if you turn away from the call of duty and belief He will replace you for some other folk, and they will not be the likes of you. (47:38)

هَآءَنتُمْ هَآءَآءُ تَدْعُونَ لِتُبْخِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِمَّنْ كُنْتُمْ تَبْخُلُونَ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾
﴿٤٧ محمد ٣٨﴾

دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے (38:47)

More Reference : 9:75,76,77 57:24 64:16 68:12 Page 285, 286, 497, 278, 497

والمزيد راجع ٩ التوبة: ٧٥, ٧٦, ٧٧ ٥٧ الحديد: ٢٤
٦٤ التغابن: ١٦ ٦٨ القلم: ١٢

مزید حوالہ 9: 75, 76, 77 57: 24 64: 16
صفحہ 497, 278, 497, 286, 285 12: 68

MISERLINESS AND ITS BOOSTING

البخل والحث عليه

بخل کرنا اور اس کی ترغیب دینا

Who hoard their wealth and enjoin avarice on others, and hide that which Allah has bestowed upon them of His bounty. For disbelievers We have prepared a shameful doom; (4:37)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾
﴿٤ النساء ٣٧﴾

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو (مال) اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں اور ہم نے ناشکروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے (37:4)

Such persons who are covetous and who enjoin upon the people avarice. And whosoever turns away, still Allah is free of all needs, the Owner of Praise. (57:24)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾
﴿٥٧ الحديد ٢٤﴾

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو شخص (اللہ کی راہ خرچ کرنے سے) منہ پھیرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے (اور) وہی لائق حمد (و ثنا) ہے (24:57)

Hinderer of the good, transgressor, deep in sin. (68:12)

مُكَذِّبًا لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ لِآثِمٍ ﴿١٢﴾
﴿٦٨ القلم ١٢﴾

بھلائی سے روکنے والا اور حد سے بڑھ جانے والا گنہگار (12:68)

More Reference : 3:180 9:34,35 57:24 64:16 Page 498, 270, 497, 278

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٨٠ ٩ التوبة: ٣٤, ٣٥ ٥٧ الحديد: ٢٤
٦٤ التغابن: ١٦

مزید حوالہ 3: 180 9: 34, 35 57: 24
صفحہ 498, 270, 497, 278 16: 64

ULTIMATE FATE OF STINGY

And let not those who hoard up that which Allah has bestowed upon them of His bounty think that it is better for them. No, it is worse for them. That which they hoard will be tied to their necks like a twisted collar on the Day of Resurrection. Allah's is the heritage of the heavens and the earth, and Allah is informed of what you do. (3:180)

But as for him who acts miserably and deems himself self-sufficient. (92:8)

And disbelieves in goodness; (92:9)

Surely We will ease his way to adversity. (92:10)

His wealth will not save him when he perishes. (92:11)

Indeed Guidance is Our Concern. (92:12)

And to Us belong the hereafter and the former. (First life) (92:13)

عاقبة البخیل

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

﴿٣ آل عمران ١٨٠﴾

وَأَمَّا مَنْ يَبْخُلْ وَأَسْتَعْنَىٰ ﴿٨﴾

﴿٨ الليل ٩٢﴾

وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ ﴿٩﴾

﴿٩ الليل ٩٢﴾

فَسَنِّيئِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

﴿١٠ الليل ٩٢﴾

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿١١﴾

﴿١١ الليل ٩٢﴾

إِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ ﴿١٢﴾

﴿١٢ الليل ٩٢﴾

وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾

﴿١٣ الليل ٩٢﴾

اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے (بخیلوں) کا انجام

جو لوگ اس مال میں سے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں (وہ اچھا نہیں) بلکہ ان کے لئے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ (180:3)

اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا (8:92)

اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا (9:92)

اسے سختی میں پہنچائیں گے (10:92)

اور جب وہ (دوزخ کے گڑھے میں) گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا (11:92)

بے شک ہمارے ذمہ تو راہ دکھادینا ہے (12:92)

اور آخرت اور دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے (13:92)

More Reference : 4:37 47:37,38 53:33,34,35 4:16 Page 497, 278

واللہ اعلم بالصواب ۴ النساء: ۳۷ ۴۷ محمد: ۳۷ ۲۸:۳۷ ۵۳ النجم: ۳۳، ۳۴، ۳۵ ۶۴ التغابن: ۱۶

مزید حوالہ 4:37 47:37,38 53:33,34,35 4:16 صفحہ 278, 497 16:64

LAWFUL AND UNLAWFUL LIVELIHOOD

كسب الحلال والحرام

حلال و حرام روزی

ADMONITION FOR MAKING EFFORTS TO EARN LAWFUL LIVELIHOOD

O mankind! Eat of that which is lawful and wholesome in the earth, and follow not the footsteps of the devil. Indeed he is an open enemy for you. (2:168)

O you who believe! Eat of the good things wherewith We have provided you, and render thanks to Allah if it is (indeed) He Whom you worship. (2:172)

Eat of that which Allah has bestowed on you as food lawful and good, and keep your duty to Allah in Whom you are believers. (5:88)

And of the cattle He produced some for transport, some for food. Eat of that which Allah has bestowed upon you, and follow not the footsteps of the devil, for indeed he is an open foe to you. (6:142)

So eat of the lawful and good food, which Allah has provided for you, and thank the bounty of your Lord if it is He you serve. (16:114)

O you messengers! Eat of the good things, and do right. I am Aware of what you do. (23:51)

أكل الحلال الطيب

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢﴾
﴿٢ البقرة ١٦٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾
﴿٢ البقرة ١٧٢﴾

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾
﴿٥ المائدة ٨٨﴾

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ١٤٢﴾

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا أَنْعَمَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٦﴾
﴿١٦ النحل ١١٤﴾

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾
﴿٥١ المؤمنون ٥١﴾

حلال اور پاکیزہ رزق کے حصول کی ہدایت

اے لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ۔ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (2:168)

اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو (اس کی نعمتوں کا) شکر بھی ادا کرو (2:172)

جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو (5:88)

اور چار پایوں (مویشی) میں اونچے قد کے بڑے بڑے بھی (بوجھ اٹھانے والے) پیدا کئے اور زمین سے لگے ہوئے (یعنی چھوٹے چھوٹے) بھی (مفروشات اور غذا کے لئے) (پس) اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (6:142)

پس اللہ نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اگر اسی کی عبادت کرتے ہو (16:114)

اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو۔ جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں (23:51)

More Reference : 20:81 62:10 73:20
Page 501, 257, 768

وللمزيد راجع ٢٠: ٨١ طه ٦٢ الجمعة: ١٠٠
٧٣ المزمّل ٢٠٠ الصفحة ٥٠١، ٢٥٧، ٧٦٨

مزید حوالہ 20:73 10:62 81:20
صفحہ 768, 257, 501

MOST GENEROUS PROVISION IS THE REWARD OF RIGHTEOUSNESS

Those who believe and do good works, for them is pardon and a rich provision; (22:50)

للمؤمنين مغفرة ورزق كريم

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ الحج ٥٠﴾

اہل ایمان کے لئے عزت اور آبرو کی روزی

تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کئے ان کیلئے بخشش اور عزت کی روزی ہے (22:50)

that He may reward those who believe and do good works. For them is pardon and a rich provision. (4:4)

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾
﴿٣٤ سبأ﴾

اس لئے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ یہی ہیں جن کے لئے بخشش اور عزت کی روزی ہے (4:34)

**LIVING ON GRAFT
EATING ILLEGAL THINGS FORBIDDEN**

حرمة أكل السحت

(رزق حرام) حرام خوری کی ممانعت

and you see many of them vying with another in sin and transgression and they are pouring of illicit gain. Surely evil that they do. (5:62)

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْأَشْرَارِ وَالْعُدْوَانَ
وَآكِلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾
﴿٥ المائدة ٦٢﴾

آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم اور زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں (62:5)

Reference : 5:100 20:81 Page 501

وللمزيد راجع ٥ المائدة: ١٠٠ ٢٠ طه: ٨١

٥٠١ صفحہ 81:20 100:5

**MISAPPROPRIATION OF
WEALTH AND PROPERTY OF ONE ANOTHER**

أكل الاموال بين الناس بالباطل

ایک دوسرے کا مال ناحق کھانا

O you who believe! Squander not your wealth among yourselves in vanity, except it be trade by mutual consent, and kill not one another. Surely Allah is ever Merciful to you. (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاحٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾
﴿٤ النساء ٢٩﴾

اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو (اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے) اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے (29:4)

Reference : 2:188 Page 485

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٨٨ الصفحة ٤٨٥

٤٨٥ صفحہ 188: 2

BRIBERY REPRIMANDED

حرمة اكل الرشوة

رشوت خوری کی ممانعت

Do not eat up your property among yourselves in vanity, nor seek by it to prevail in the hearing of the judges that you may knowingly devour a portion of the property of others wrongfully. (2:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾
﴿٢ البقرة ١٨٨﴾

اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو حاکموں کے پاس رشوت پہنچا کر لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور (اسے) تم جانتے بھی ہو (2:188)

Reference : 4:29 5:42 Page 485, 576

وللمزيد راجع ٤ النساء: ٢٩ ٥ المائدة: ٤٢ الصفحة ٥٧٦, ٤٨٥

٤٨٥ صفحہ 29:4 42:5

**PLUNDERING OR EMBEZZLING
PUBLIC EXCHEQUER**

الغلول في المغام

سرکاری فنڈز میں خورد برد۔ خیانت

Anyone who deceives will bring his deceit with him on the Day of Resurrection. The every soul will be paid in full what it has earned; and they will not be wronged. (3:161) PART

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ
بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾
﴿٣ آل عمران ١٦١﴾ جزء

اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز (اللہ کے روبرو) لا حاضر کرنی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی (161:3) جزو

**GAMES OF CHANCE
GAMBLING - LOTTERY - RAFFLES
DIVINING ARROWS**

They question you about wine (strong drink) and games of chance (gambling). Say: In both is great sin, and (some) utility for men; but the sin of them is greater than their usefulness.-----
(2:219) PART

-----And you are forbidden to seek to learn through divination what the future may hold in store for you this is sinful conduct-----
(5:3) PART

O you who believe! Intoxicants and games of chance (gambling) and idols and divining arrows (divining of the future) are only an infamy (abomination) of Satan's handiwork. Leave it aside in order that you may succeed (get welfare). (5:90)

Satan seeks only to cast among you enmity and hatred by means of intoxicants and games of chance, and to turn you from remembrance of Allah and from (His) worship. Will you then desist? (5:91)

**KEEP OFF FROM EVIL THINGS
EVEN ITS ABUNDANCE
MAY FASCINATE YOU**

Say: The evil, and the good are not alike even though the plenty of the evil attracts you. So be mindful of your duty to Allah, O men of understanding, that you may succeed. (5:100)

**PENALTY OF EARNING ILLICIT
PROVISION IS WRATH OF ALLAH(SWT)**

(Saying): Eat of the good things wherewith We have provided you, for your sustenance and transgress not in respect thereof lest My wrath comes upon you; and he on whom My wrath comes, he is lost indeed. (20:81)

الميسر الاستقسام بالازلام

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا
إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا -----
﴿ ٢ البقرة ٢١٩ ﴾ جزء "

-----وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فُسُوقٌ

﴿ ٥ المائدة ٣ ﴾ جزء "

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَسْنِمَاتُ أَيْدٍ وَسُلُوفٌ
وَأَعْيُنٌ يُفْتَنُ بِهَا وَالشَّيْطَانُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٩٠﴾
﴿ ٥ المائدة ٩٠ ﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
تَنْتَهُونَ ﴿٩١﴾
﴿ ٥ المائدة ٩١ ﴾

التباعد عن الخبيث ولو أعجبت
كثيرة الخبيث

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾
﴿ ٥ المائدة ١٠٠ ﴾

وبال كسب الحرام

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا
تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي
وَمَنْ يَحِلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ
﴿ ٢٠ طه ٨١ ﴾

جوا لاطری پانسہ بازی قمار بازی
قرعہ اندازی

مے پیغمبر لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور ان کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصان کے زیادہ سے کہیں زیادہ ہیں۔----- (219:2) جزو

----- اور یہ بھی کہ قرعہ کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو سب بدترین گناہ (کے کام) ہیں۔----- (3:5) جزو

مے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور فال نکانے کے پانے (یہ سب) ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں اور ان سے بچتے رہنا کہ نجات پاؤ (90:5)

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شرب اور جوئے کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوادے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تمہیں (ان کاموں) سے باز رہنا چاہئے (91:5)

ناپاک چیزوں سے دور رہو
جائے ان کی کثرت تمہیں کیسی بھلی لگے

آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی گونا پاک چیزوں کی کثرت تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے۔ تو عقل والو! اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ کامیابی حاصل کرو (100:5)

حرام روزی کا وبال

اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ۔ اور اس میں حد سے نہ لگنا۔ ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا (81:20)

**LAWFUL EARNING SEEMS UPHILL TASK
TO THOSE TEMPTED TO ILLICIT PROVISION**

ask them (O Muhammad) of the township that was by the sea, how they did break the Sabbath, how their big fish came to them visibly on their Sabbath day and on a day when they did not keep Sabbath they came not to them. Thus We did try them for that they were evil-livers. (163)

يَكْبُرُ عَلَى الْاَكْلِينَ السَّخْتِ
طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً
الْبَحْرِ إِذْ يُعَدُّونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْثَانُهُمْ
يَوْمَ سَبْتِهِمْ لَنْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

حرام چیزوں کی رغبت رکھنے والوں کو رزق حلال
کا حصول دشوار کام لگتا ہے

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھیں جو دریا کے کنارے واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے (یعنی) اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں۔ اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے (163:7)

**LAWFUL AND UNLAWFUL
EDIBLES — SUSTENANCES**

الْاَغْذِيَّةُ الْحَلَالَةُ وَالْحَرَامُ

حَلَالٌ وَحَرَامٌ فِي الْاَكْلِ

**LAWFUL FOODS
WHICH ALLAH (SWT) HAS MADE LEGITIMATE**

الْاَغْذِيَّةُ الَّتِي اَحَلَّتْ

حَلَالٌ عَزَائِمٌ

**ONLY SUCH SLAUGHTERED MEAT
ON WHICH ALLAH'S (SWT) NAME
HAS BEEN PRONOUNCED**

مَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الذَّبْحِ

اللَّهُ تَعَالَى كَمَا نَامَ لِي كَرْزِخٍ
كَيْتِي كَيْتِي جَانُورِ كَا كَوْشَتِ

of that over which the name of Allah has been mentioned, if you are believers in His revelations. (118)

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

تو جس چیز پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھالیا کرو (118:6)

Reference : 22:28,34,36
Page : 391, 507, 292

وَالْمَعْرُوفِ رَاجِعِ ٢٢ الْحَجِّ : ٢٨، ٣٤، ٣٦
الصفحة : ٢٩٢، ٥٠٧، ٣٩١

مَعْرُوفِ رَاجِعِ 22 : 28، 34، 36
الصفحة : 292، 507، 391

**HUNTING
PREY BY TRAINED BEASTS AND BIRDS**

الصَّيْدُ عَنْ طَرِيقِ الْجَوَارِحِ مَكْلَبِينَ

سَدِّهَائِي هُوَ جَانُورُوِي سِي شَكَارِ

ask you (O Muhammad) what is made lawful for them. Say: (all) good things are made lawful for you. And those beasts and birds of prey which you have trained as hounds you teach them that which Allah taught you; so eat of that which they catch for you and mention Allah's name upon it, and observe your duty to Allah. Surely Allah is Swift to take account. (5:4)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ
الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكْلَبِينَ
تَعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥﴾

آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لئے حلال ہیں (ان سے) کہہ دیجئے کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں اور وہ (شکار) بھی حلال ہے جو تمہارے لئے ان شکاری جانوروں نے پکڑا جو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو اور جس طریقہ سے اللہ نے تمہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے (اسی طریقہ سے) تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑ رہیں اس کو کھالیا کرو (اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت) اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے (4:5)

**PREY (PARTLY) EATEN (HURT)
BY WILD ANIMAL BUT SLAUGHTERED
IN DUE FORM (BEFORE DEATH)**

الصَّيْدُ الْمَفْتَرَسِ بِالسَّبْعِ
الَّذِي ذُبِحَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ

دَرْنَدِي كَا پَھَاڑا هُوَا (اِيَا) شَكَارِ جِي مَرْنِي سِي
پَھلِي بَا قَاعَدِه ذَبْحِ كَر لِيَا كِيَا هُوَا

And the devoured of wild beasts, except that which you make lawful (by the death stroke), (5:3) PART

وَمَا
أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
﴿٥ المائدة ٣﴾ جزء

اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں۔ مگر جس کو تم (مرنے سے پہلے) ذبح کر لو (3:5) جزو

**EIGHT TYPES (FOUR PAIRS)
OF QUADRUPED AND THEIR OFFSPRING**

Eight pairs: Of the sheep twain, and of the goats twain. Say: Has He forbidden the two males or the two females, or that which the wombs of the two females contain? Expound to me (the case) with knowledge, if you are truthful. (6:143)

And of the camels twain and of the oxen twain. Say: Has He forbidden the two males or the two females, or that which the wombs of the two females contain; or were you by to witness when Allah commanded you (all) this? Then who does greater wrong than he who devises a lie concerning Allah, that he may lead mankind astray without knowledge. Allah guides not wrongdoing folk. (6:144)

**ثمانية أنواع من الأنعام
وما اشتملت عليه أرحام الإناث**

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَأَلْذَكَرِينَ حَرَّمَ أَمْ أَلْأُنثَىٰ إِنَّمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَىٰ إِن نَبُحْتُمْ بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ١٤٣﴾

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَأَلْذَكَرِينَ حَرَّمَ أَمْ أَلْأُنثَىٰ إِنَّمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَىٰ إِن نَبُحْتُمْ بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ١٤٤﴾

**آٹھ چوپائے (چار قسم کے نر اور مادہ)
اور ان کی مادہ کے پیٹ کے بچے**

(یہ بڑے چھوٹے چوپائے) آٹھ قسم کے (ہیں) یعنی بھیڑیں دو قسم اور بکری بھی دو قسم (یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ) (اے پیغمبران سے) پوچھو کہ (اللہ نے) دونوں (کے) نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں (کی) مادہ کو یا بچہ مادہ کے پیٹ میں لئے ہوئے ہو اسے اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ (143:6)

اور اونٹ میں دو قسم اور گائے میں دو قسم (ان کے بارے میں بھی ان سے) پوچھو کہ (اللہ نے) دونوں (کے) نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں (کی) مادہ کو یا جو بچہ مادہ کے پیٹ میں لیے ہوئے ہو اس کو۔ بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے تاکہ نادانی سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (144:6)

More Reference : 22:6 39:30
Page 786, 737

وللمزید راجع ٢٢ الحج : ٣٠ ٣٩ الزمر : ٦
الصفحة ٧٢٧, ٧٨٦

مزید حوالہ 30:22 6:39
صفحة 737, 786

**FISH
(FOUND IN SEA - RIVER - LAKE - POND)**

To hunt and to eat the fish of sea is made lawful for you, a provision for you and for seafarers; (5:96) PART

**LAWFUL FOOD OF THE PEOPLE OF SCRIPTURE
SLAUGHTERED ANIMAL'S MEAT
AND BYPRODUCTS OF ITS MILK AND FAT**

This day are (all) good things made lawful for you. The food of those who have received the Scripture is lawful for you, and your food is lawful for them. (5:5) PART

**BOOTY OF WAR
SPOILS TAKEN AFTER ACTUAL WAR**

For Detail Consult : 8:1,41,69 59:1 to 8
Page 668, 669, 113, 707

السمك

من البحر، والنهر، والبحيرة، والبركة

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِلسَّيَارَةِ ﴿٩٦﴾
﴿٥ المائدة ٩٦﴾ جزء

الطيبات من طعام أهل الكتاب حلال

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ ﴿٥﴾
﴿٥ المائدة ٥﴾ جزء

الأنفال و الغنائم

وللتفصيل راجع ٨ الأنفال : ٤١، ٤١، ٤١، ٥٩ الحشر : ١، ٨
الصفحة ٧٠٧، ١١٣، ٦٦٩، ٦٦٨

مچھلی

(سمندر۔ دریا۔ جھیل۔ تالاب میں ہے)

تمہارے لئے دریا (کی چیزوں) کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے (یعنی) تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لئے۔ (96:5) جزو

اہل کتاب کی سب پاکیزہ چیزیں

آج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا (ذبیحہ) بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا (ذبیحہ) ان کو حلال ہے۔ (5:5) جزو

مال غنیمت اور انفال

تفصیل کے لیے دیکھئے 8:1:59 69,41,1:8
صفحة 707, 113, 669, 668

TAKING UNLAWFUL FOOD UNDER COMPULSION OR STARVATION OR DURESS IS EXCUSED

Whoso is forced by hunger, not by will, to sin: (for him) Allah is Forgiving, Merciful. (5:3) PART

How should you not eat of that over which the name of Allah has been mentioned, when He has explained to you that which is forbidden to you, unless you are compelled thereto. But many are led astray by their own lusts through ignorance. Your Lord, He is best aware of the transgressors. (6:119)

He has forbidden for you only carrion and blood and swine-flesh and that which has been immolated in the name of any other than Allah; but he who is driven thereto, neither praying nor transgressing, then Allah is Forgiving, Merciful. (16:115)

أَكْلُ الْحَرَامِ فِي حَالَةِ الْاضْطِرَارِ مِنْ غَيْرِ بَغْيٍ وَاعْتِدَاءٍ جَائِزٌ

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠ المائدة: ٣﴾ جزء

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فُضِّلَ لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثُرَ الْيُضْلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿٦٠ الانعام: ١١٩﴾

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٠ النحل: ١١٥﴾

حالت اضطرار (مجبوری) میں حرام اشیاء کھا لینا قابل معافی ہے

ہاں جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے (بشرطیکہ) گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے (3:5) جزو

اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لئے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں (پیشک ان کو نہیں کھانا چاہئے) مگر اس صورت میں کہ ان کے (کھانے کے) لئے مجبور ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہسکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو (اللہ کی مقرر کی ہوئی) حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے (119:6)

اس نے تم پر مردار اور (خون) اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے (اس کو بھی) ہاں اگر کوئی مجبور و بے بس ہو جائے مگر خواہش مند نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے (115:16)

More Reference : 2:173 6:145
Page 505

والمزینہ راجع ٢ البقرة: ١٧٣ ٦ الأنعام: ١٤٥
الصفحة ٥٠٥

مزینہ صفحہ 505
145:6 173:2

EATING UNLAWFUL FOOD IN IGNORANCE (DURING THE PAST) IS NO OFFENCE

There shall be no sin (imputed) to those who believe and do good works for what they may have eaten (in the past). when they guard themselves from evil, and do good works; and again: are mindful of their duty (guard themselves from evil) and believe; and once again: are mindful of their duty (guard themselves from evil) and do right. Allah loves those who do the good. (5:93)

لَا مَوْأخَذَةَ فِيمَا طَعِمَ قَبْلَ الْإِيمَانِ

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣ المائدة: ٩٣﴾

لا علمی میں کھایا ہوا (ایمان لانے سے پہلے جو کچھ کھا چکے) قابل معافی ہے

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے ہیں۔ جب کہ انہوں نے تقویٰ کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کئے۔ پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں اور اللہ ایسے نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (93:5)

UNLAWFUL FOODS

الحرام من الأعدية

حرام غذائیں

PORK, SWINE FLESH, CARRION, BLOOD, OF ANY ANIMAL DEAD DUE TO STRANGLING, BEATING VIOLENT BLOW, GORING OF HORNS, HEADLONG FALL, OR TRAPPED IN A PIT

لحم الخنزير - المنخنقة - الموقودة - النطيحة - المتردية

سورکا گوشت - ہر قسم کا مردار جانور (غیر ذبیحہ) - جاندار کا لہو - گلا گھٹ کر مرنا ہوا چوٹ لگ کر مرنا ہوا - سینگ لگ کر مرنا ہوا یا گر کر مرنا ہوا جانور کا گوشت

He has forbidden you only carrion, and blood, and swine flesh, and that which has been immolated to (the name of) any other than Allah. But he who is driven by necessity, neither craving nor transgressing, it is no sin for him. Allah is Forgiving, Merciful. (2:173)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

اس نے تم پر مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور مردہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں مجبور ہو جائے (بشرطیکہ) اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد (ضرورت) سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ نہیں ہے شک اللہ بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے (2:173)

Forbidden to you (for food) are carrion and blood and swine flesh, and that which has been dedicated to any other than Allah, and the strangled, and the dead through beating, and the dead through falling from a height, and that which has been killed by (the goring of) horns,----- (5:3) PART

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ ----- ﴿٥ المائدة ٣﴾ جزء

تم پر مردار جانور اور (بہتا) خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو اونچی جگہ سے گر کر مر جائے اور جو سینگ لگنے یا مارنے سے مر جائے یہ سب حرام ہیں۔----- (3:5) جزو

Say: I find not in that which is revealed to me nothing prohibited to an eater that he eats thereof, except it be carrion, or blood poured forth, or swine flesh- for that is foul or the abomination which was immolated to the name of other than Allah. But whoso is compelled (thereto), neither craving nor transgressing, (for him) your Lord, is Forgiving, Merciful. (6:145)

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مرنا ہو جانور ہو یا بہتا ہو خون یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو طالب لذت ہو اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے (6:145)

More Reference : 6:120,122 16:114 Page 483, 205, 450

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ١٢٠، ١٢٢، ١٦ النحل: ١١٤ الصفحة ٤٨٣، ٢٠٥، ٤٥٠

مزید حوالہ 114:16 122,120:6 صفحہ 450, 205, 483

ALL UN-SLAUGHTERED MEAT OR SUCH SLAUGHTERED MEAT ON WHICH ALLAH'S (SWT) NAME HAS NOT BEEN PRONOUNCED

مالم يذكر عليه اسم الله

ایسے جانور کا گوشت جسے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو

And eat not of that where on Allah's name has not been mentioned, for it is abomination. The devils do inspire their minions to dispute with you. But if you obey them, you will be in truth among Polytheists. (6:121)

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَيْكُمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ لِيُحَادِثَنَّكُمْ فِي عَمَلِكُمْ وَإِنْ أَنْطَعْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرَكَاءٌ ﴿١٢١﴾

اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان (لوگ) اپنے ساتھیوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے (6:121)

More Reference : 2:173 5:3 6:120,145 16:115 Page 505, 89/166, 483, 504

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٧٣، ٥ المائدة: ٣، ٦ الأنعام: ١٢٠، ١٤٥، ١٦ النحل: ١١٥

مزید حوالہ 145,120:6 3:5 173:2 صفحہ 504, 483, 166/89, 505 115:16

ANYTHING ASCRIBED TO SOMEONE OTHER THAN ALLAH (SWT) OR ANY SACRIFICE WHICH IS INVOKED TO ANY FALSE GOD

-----And that which has been immolated to idols. And (forbidden is it) that you swear by the divining arrows. This is an abomination. This day those who disbelieve are in despair of (ever harming) your religion; so fear them not, fear Me-----

(5:3) PART

INTOXICANT BEVERAGES - LIQUORS STRONG DRINKS - ALCOHOLIC POTABLES BANNED DURING YEAR 4AH (625-AD)

They question you about wine (strong drink) and games of chance. Say: In both is great sin, and (some) utility for men; but the sin of them is greater than their usefulness.-----

(2:219) PART

O you who believe! Draw not near to prayer when you are drunken, till you know that which you utter,-----

(4:43) PART

O you who believe! Intoxicants and games of chance and idols and divining arrows are but a loathsome evil of Satan's doing. Shun it aside in order that you may succeed. (5:90)

Satan seeks only to cast among you enmity and hatred by means of strong drinks and games of chance, and to turn you from remembrance of Allah and from (His) worship. Will you then desist? (5:91)

NARCOTICS AND ADDICTIONS BY PRODUCTS OF ZAQQUM) HALLUCINOGENS

the tree of Zaqqum, (44:43)

the food of the sinner! (44:44)

then you, the erring, the deniers, (51)

will eat of a tree called Zaqqum (52)

ما أهل به لغير الله ما ذبح على النصب

ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذِكْرُكُمْ فَفِئَةُ الْيَوْمِ يَسِرُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ﴿٥٠ المائدة ٣﴾ جزء

الخمير

حرمة في العام ٤ هج الموافق ٦٢٥ م

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿٢١٩ البقرة ٢١٩﴾ جزء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣ النساء ٤٣﴾ جزء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَسْرَامُ رَجْسٌ مِمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠ المائدة ٩٠﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١ المائدة ٩١﴾

المخدرات و مركبات الصبار

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ﴿٤٤﴾

﴿٤٤﴾ الدخان ﴿٤٣﴾

طَعَامُ الْأَشِيمِ ﴿٤٤﴾

﴿٤٤﴾ الدخان ﴿٤٤﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ مِنْهَا الضَّالُّونَ الْمَكْدُوبُونَ ﴿٥٦﴾

﴿٥٦﴾ الواقعة ﴿٥١﴾

لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ ﴿٥٦﴾

﴿٥٦﴾ الواقعة ﴿٥٢﴾

ایسا ذبیحہ کا گوشت جس کو غیر اللہ سے منسوب کیا گیا ہو

-----اور وہ جانور بھی جو آستانوں پر ذبح کیا جائے اور یہ بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فال معلوم کرو یہ سب گناہ (کے کام) ہیں آج کافر تمہارے دین سے ناامید ہو گئے خبردار ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔----- (3:5) جزو

شراب

حرمت دوران سال 4ھ بمطابق 625ء

اے پیغمبر لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔----- (219:2) جزو

مومنو! جب تم نشے کی حالت میں مست ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو۔ نماز کے پاس نہ جاؤ۔----- (43:4) جزو

اے ایمان والو شراب اور جو اور بت اور پانسے کے تیر (یہ سب) ناپاک اور شیطانی کام ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ (90:5)

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوادے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے باز رکھے تو تم کو (ان کاموں) سے باز رہنا چاہئے (91:5)

منشیات (تھوہر کے مرکبات) کوکین وغیرہ

بلاشبہ تھوہر کا درخت (43:44)

گنہگار کا کھانا ہے (44:44)

پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو! (51:56)

تھوہر کے درخت کھاؤ گے (52:56)

And will fill your bellies therewith;
(56:53)

فَمَا لُبُّونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٥٦ الواقعة ٥٣﴾

اور اسی سے پیٹ بھرو گے (53:56)

More Reference : 2:219 5:90,91 16:125
Page 279 501 633
37:62,63,64 44:43,46
839,890 506,891

والمزید راجع ۲ البقرة: ۲۱۹ ۵ المائدة: ۹۰، ۹۱
۱۶ النحل: ۱۲۵ ۳۷ الصافات: ۶۲، ۶۳، ۶۴ ۴۴ الدخان: ۴۳، ۴۴
الصفحة ۲۷۹، ۵۰۱، ۶۳۳، ۸۳۹، ۸۹۰، ۵۰۶، ۸۹۱

زید حوالہ 219:2 91,90:5 125:16
279 501 633
37:62,63,64 44:43,46 64,63,62:37
891,506 890,839

EVERY NATION WAS PRESCRIBED
THEIR RITES OF SACRIFICE
SLAUGHTERING IN DUE FORM
(BY PRONOUNCING THE NAME OF ALLAH) (SWT)

كل أمة كانوا أخبروا
بمنسك لذبح بهيمة

ہر امت کو اللہ کے نام پر (ذبیحہ)
قربانی کا طریقہ کار بتایا گیا

And for every nation We have
appointed a ritual, that they may
mention the name of Allah over the
beast of cattle that He has given
them for food; and your God is One
and only God, therefore surrender
to Him. And give good tidings (O
Muhammad) to the humble. (22:34)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَيْمَاتِهِ الْأَنْعَامِ وَاللَّحْمِ
اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَا أَسْلُوبًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ ﴿٣٤﴾

ہر ہم نے ہر ایک امت کے لئے قربانی کا طریقہ مقرر کر
لیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیئے ہیں
(ان کے ذبح کرنے کے وقت) ان پر اللہ کا نام لیں۔ سو
تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ۔ اور
عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو (34:22)

USING THEIR OWN DISCRETION
OF LAWFUL AND UNLAWFUL EATABLES
BY THE PEOPLE OF SCRIPTURES
DECIDING THE LEGALITY ARBITRARILY

حكم الحلال و الحرام على الهوى
خصلة أهل الكتاب

حلال و حرام کا خود مختار بن جانا و طیرہ (خصلت)
اہل کتاب، اہل کتاب کی حلال و حرام میں من پسندی
(خود حلال و حرام کے فیصلے کرنا)

Say: Have you considered what
provision Allah has sent down for
you, how you have made of it lawful
and unlawful? Say: Has Allah
permitted you, or do you invent a lie
concerning Allah? (10:59)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ
مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ
اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾
﴿١٠ يونس ٥٩﴾

کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لئے جو رزق نازل
فرمایا تو تم نے اس میں سے (بعض کو) حرام ٹھہرایا اور
(بعض کو) حلال ان (سے) پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم
دیا ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ (10:59)

And what think those who invent a
lie concerning Allah (will be their
plight) upon the Day of
Resurrection? Allah truly is
Bountiful towards mankind, but
most of them give not thanks.
(10:60)

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾
﴿١٠ يونس ٦٠﴾

اور جو لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی
نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان
ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (60:10)

And speak not, concerning that
which your own tongues qualify (as
clean or unclean), the falsehood:
"This is lawful, and this is
forbidden," so that you invent a lie
against Allah. Those who invent a
lie against Allah will not succeed.
(16:116)

وَلَا تَقُولُوا الْبَاطِلَ الَّذِي هُوَ الْكَذِبُ
حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾
﴿١٦ النحل ١١٦﴾

اور یونہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ دیا
کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کہ اللہ پر جھوٹ
بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے
ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا (116:16)

A brief enjoyment (will be theirs);
and theirs is a painful doom.
(16:117)

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾
﴿١٦ النحل ١١٧﴾

(جھوٹ کا) فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر (اس کے بدلے)
ان کو عذاب الیم (بہت) ہوگا (117:16)

JEWISH SOLEMN LAWS
FOR LAWFUL AND UNLAWFUL EATABLE

الحلة و الحرمة عند اليهود

یہود کے مذہب میں حلت و حرمت

For Detail Consult : Page 594

والتفصیل راجع: الصفحة ٥٩٤

تفصیل کے لئے دیکھئے صفحه 594

وصیت کے احکامات

احکام الوصیۃ

LAWS OF BEQUEST-WILL-TESTAMENT

TO MAKE BEQUEST-TO DRAW UP A FREE WILL IS PRESCRIBED FOR BELIEVERS

It is prescribed for you, when one of you approaches death, if he leaves wealth, that he should draw up a will in a proper manner for both parents and near relatives in kindness. (This is) a duty for all those who ward off evil. (2:180)

وجوب الوصیۃ علی کل مسلم

کَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكُوا خَيْرًا مِمَّا وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾
﴿٢ البقرة ١٨٠﴾

(ترکہ۔ ورثہ۔ میراث)
وصیت کرنا ہر مسلمان پر فرض

تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آجائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لئے دستور کے مطابق وصیت کر جائے (اللہ سے) ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے (2:180)

More Reference : 50:36 Page 429

وللمزید راجع ٥٠ ق: ٣٦ الصفحة ٤٢٩

مزیلہ حوالہ 36:50 صفحه 429

INJUNCTION FOR SAFEGUARDING INTEREST OF YOUNGER PROGENY WHILE MAKING A WILL OR BEQUEST

And let those fear (in their behavior towards orphans) who if they left behind them as helpless offspring would feel fear on their account. So let them mind their duty to Allah, and speak justly. (4:9)

من مسئولية الوالدين أن يراعوا حقوق ذريتهم الضعفاء عند الوصية

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِنَّ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾
﴿٩ النساء ٩﴾

وصیت کرنے کے وقت اپنی کم سن اولاد کے حقوق کے تحفظ کا اہتمام والدین کی ذمہ داری

اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو (ایسی حالت میں ہوں کہ) اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو (کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا) پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں (9:4)

WITNESSES WHILE MAKING BEQUEST

And you who believe! Let there be witnesses between you when death draws near to one of you, at the time of bequest two witnesses, just men from among you,----- (5:106) PART

الاستشهاد عند الوصية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ----- ﴿٥٥ المائدة ١٠٦﴾ جزء

وصیت کے وقت گواہ

مومنو! جب تم میں سے کسی کی موت آجائے تو شہادت (کا نصاب) یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم (مسلمانوں) میں سے دو مرد عادل (یعنی صاحب اعتبار) گواہ ہوں ----- (5:106) جزو

PROCEDURE OF MAKING BEQUEST IF DEATH APPROACHES IN TRAVEL

Or two other from another tribe, in case you are travelling in the land and the calamity of death befalls you. You shall detain them both after the prayer, and, if you doubt, they shall be made to swear by Allah (saying): "I will not take a bribe, even though it were (on behalf of) a near man nor will we hide the testimony of Allah, for then indeed we should be of the sinful. (5:106) PART

طريقة وصية المحتضر في حالة السفر

أَوْ آخَرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿٥٥ المائدة ١٠٦﴾ جزء

سفر کی حالت میں (موت کا وقت قریب آنے پر) وصیت کا طریقہ کار

..... ما اگر (مسلمان نہ ملیں اور) تم سفر کر رہے ہو اور (اس وقت) تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو (شخصوں کو) گواہ (کر لو) اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو (عصر کی) نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے (5:106) جزو

ANYONE WHO ALTERS THE CONTENTS OF BEQUEST AFTER HEARING OR READING WILL BE HELD GUILTY

And whoever alters (the will) after he has heard it the sin thereof is only upon those who alter it. surely Allah is Hearer, Knower. (2:181)

تبدیل فی الوصیۃ من عند الشاہد اثم

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢﴾ البقرة ١٨١

کسی گواہ کا وصیت سننے یا پڑھنے کے بعد اس میں تبدیلی کر دینا گناہ ہے

جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے (2:181)

Hide not testimony. He who hides it, Surely his heart is sinful. Allah is Aware of what you do. (2:283) PART

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمُ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ البقرة ٢٨٣ جزء

اور (دیکھنا) گواہی کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے (283:2)

More Reference : 2:282 5:107,108 Page 491/494, 509

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٨٢ ٥ المائدة: ١٠٧، ١٠٨ الصفحة ٤٩٤/٤٩١، ٥٠٩

المزيد حوالہ 2:282 5:107,108 صفحہ 491/494، 509

PROCEDURE OF ASCERTAINING THE MERIT OF WITNESS IN CASE OF PERJURY IF SUSPECTED

But then, if it is afterwards ascertained that both of them merit (the suspicion of) sin, let two others take their place of those nearly concerned, and let them swear by Allah, (saying): No doubt our testimony is more valid than their testimony and we have not transgressed (the bounds of duty), for then indeed we should be of the evil-doers. (5:107)

طريقة تحقيق شهادة الوصية اذا كانت مشتبها فيها

فَإِنْ عُدَّتْ عَلَىٰ أَيْمَانِهِمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُولُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَايْنَ فَيُقْسِمُونَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَدَدْنَا وَإِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ المائدة ١٠٧

وصیت کی گواہی اور کسی شک کی صورت میں تصدیق کا طریقہ کار

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے (جھوٹ بول کر) گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو (وصیت سے) قریب تر ہوں۔ پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت انکی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں (5:107)

Thus it is more likely that they will hear true witness or fear that after their oath, the oath (of others) will be taken. So be mindful of your duty (to Allah) and listen. Allah guides not the froward folk. (5:108)

ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالسَّمْعَ وَهُوَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ المائدة ١٠٨

اس طریقہ سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ (ہماری) قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور (اس کے احکام کو غور سے) سنو اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (5:108)

More Reference : 5:106 Page 508/570

والمزيد راجع ٥ المائدة: ١٠٦ الصفحة ٥٠٨/٥٠٧

المزيد حوالہ 5:106 صفحہ 508/570

IT IS NO SIN TO CHANGE THE PROVISIONS OF BEQUEST IF TESTATOR HAS ATTEMPTED TO DEPRIVE ANY LAWFUL HEIR

But he who fears from an executor (testator) of Will, has committed a mistake or a deliberate wrong. and brings about a settlement (patch up) between the parties, (it shall be) no sin for him. Surely Allah is Forgiving, Merciful. (2:182)

اذا كانت الوصية تحتوي على جنف أو اثم ، فلا اثم في تبديلها

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصِيٍّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾ البقرة ١٨٢

اگر وصیت غیر عادلانہ ہو تو (ورثاء میں سے کسی کو) اس میں تبدیلی کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے

اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے (کسی وارث کی) طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ (وصیت کو بدل کر) وارثوں میں صلح کر دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بخشنے والا (اور) رحم والا ہے (2:182)

**LAWS OF HERITAGE
LEGACY AND SUCCESSION
ORDAINED DURING THE YEAR (3-AH)**

**قانون تقسیم المیراث
بالتام الزواج**

تقسیم میراث کے آئینہ دارانہ اور ان کے حصص کا تناسب

**PRINCIPLES OF INHERITANCE
BROAD OUTLINE OF PROPORTION OF
SHARES OF HEIRS**

**قانون تقسیم المیراث
والتناسب فی اسهم الورثة**

**تقسیم میراث کا قانون
جائز و رشاء اور ان کے حصص کا تناسب**

**WOMEN (DAUGHTERS) ARE ALSO AMONG
LAWFUL BENEFICIARIES OF HERITAGE**

**النساء لهن أسهم فی
التراث مع الرجال**

**میت کے ترکہ پر مردوں کے ساتھ ساتھ
عورتوں کا بھی حق**

to the men (of a family) belongs a share of that which parents and near kindred leave, and to the women a share of that which parents and near kindred leave, whether it be little or much a legal share. (4:7)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

جو مال ماں باپ اور رشتہ دار ترکہ چھوڑ جائیں خواہ تھوڑا ہو زیادہ (کم ہو یا بہت) اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے (اللہ کے) مقرر کئے ہوئے ہیں (7:4)

**SPECIAL CONSIDERATION FOR SUCH
RELATIVES, ORPHANS AND PAUPERS
(WHO DO NO INHERIT) WHILE DISTRIBUTION**

**مراعاة غیر الوارثین من ذوی القربی
والبیتامی و المساکین عند قسمة التراث**

**تقسیم وراثت کے وقت غیر وارث
رشتہ دار۔ یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ برتاؤ**

And when kinsfolk and orphans and the needy are present at the division of the heritage), bestow on them therefrom and speak kindly to them. (4:8)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

اور جب میراث کی تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آجائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ (تھوڑا بہت) دے دیا کرو۔ اور (ان کے ساتھ نرمی سے بولو) (8:4)

Allah directs you concerning (the provision for) your children: to the male the equivalent of the portion of two females, and if there be daughters more than two, then theirs is two-third of the inheritance and if there be one (only) then the half. And to his parents a sixth of the inheritance to each, if he has ceased left children and if he has children and his parents are his heirs, then to his mother appertains the third; and if he has brothers (or sisters), then to his mother appertains the sixth, after any legacy he may have bequeathed, or debt (has been paid). Your parents of your children: you know not which of them is nearer to you in affection. These are settled portions ordained by Allah Indeed Allah is Aware, Wise. (4:11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِدَةِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِدَةِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ أَكْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں (یعنی دو یا) دو سے زیادہ تو کل حصے نصف۔ اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ بشرطیکہ میت کی اولاد نہ ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اور اگر میت کے بھائی (بہن) بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی) تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹیوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (11:4)

And to you belongs a half of that which your wives leave, if they have no child; but if they have a child then to you the fourth of that which they leave, after any legacy they may have bequeathed, or debt (they may have contracted, has been paid). And to them belongs the fourth of that which you leave if you have no child, but if you have a child then the eighth of that which you leave, after any legacy you may have bequeathed, or debt (you may have contracted, has been paid). And if a man or a woman has a distant heir (having left neither parent nor child), and he (or she) has a brother or a sister (only on the mother's side) then to each of them twain (the brother and the sister) the sixth, and if they be more than two, then they shall be sharers in the third, after any legacy that may have been bequeathed or debt (contracted) not injuring (the heirs by willing away more than a third of the heritage) has been paid. A commandment from Allah. Allah is Knower, Indulgent. (4:12)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَا لَهُنَّ آخِرٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٤ النساء ١٢﴾

اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑیں۔ اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا اور اگر اولاد ہو تو تر کے میں تمہارا حصہ چوتھائی ہے (لیکن یہ تقسیم وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو انہوں نے کی ہو۔ یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو۔ کی جائے گی) اور جو مال تم (مرد) چھوڑ مرو۔ اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ۔ اور اگر اولاد ہو تو انکا آٹھواں حصہ (یہ حصے) تمہاری وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو تم نے کی ہو۔ اور (ادائے) قرض کے (بعد تقسیم کئے جائیں گے) اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کا بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے (یہ حصے بھی) بعد ادائے وصیت و قرض بشرطیکہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو (تقسیم کئے جائیں گے) یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور اللہ نہایت علم والا (اور) نہایت بردبار ہے (12:4)

DEVOURING PROPERTY AND WEALTH OF DECEASED (UNLAWFUL POSSESSION)

And you devour heritages with devouring greed (89:19)

And love wealth till its brimming over love. (89:20)

أكل مال الميراث ظلما

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَهًّا ﴿٨٩ الفجر ١٩﴾

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَبًّا ﴿٨٩ الفجر ٢٠﴾

مال وراثت کو سمیٹ کر ناحق کھا جانا (ناجائز قبضہ)

اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو (19:89)

اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو (20:89)

RESPECT THE PLEDGE (PROMISE OR VOW) OF THE DECEASED

And to each We have appointed heirs of that which parents and near kindred leave; and as for those with whom your right hands have made a covenant, give them their due. Surely Allah is ever Witness over all things. (4:33)

رعاية عهد المتوفى بعد موته

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نِصيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٤ النساء ٣٣﴾

مرنے والے کے عہد و پیمان کا خیال رکھنا

اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں تو (حق داروں میں تقسیم کر دو کہ) ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیئے ہیں۔ اور جن لوگوں سے تم اپنے ہاتھوں سے معاہدہ کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے (33:4)

DISTRIBUTION OF PROPERTY OF THOSE WHO LEAVE NEITHER DESCENDANTS NOR ASCENDANTS AS HEIRS

They ask you for a legal decision, Say: Allah has pronounced for you Concerning distant kindred. If a man dies childless (No descendants or ascendants) and he has a sister, hers is half the heritage, and he

قسمة تراث الكلالة

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ أَمْرُ أَهْلِكَ لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَلَا لَهَّ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ

لا وارث کے ترکہ کی تقسیم کلالہ

(اے پیغمبر) لوگ آپ سے (کلالہ کے بارے میں) حکم (اللہ) دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے جس کے اولاد نہ ہو (اور نہ ماں باپ) اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کو بھائی

would have inherited from her had she died childless. And if there be two sisters, then theirs are two-thirds of the heritage, and if they be brethren, men and women, to the male is the equivalent of the share of two females. Allah expounds to you, so that you err not. Allah is Knower of all things. (4:176)

لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾
﴿٤ النساء ١٧٦﴾

کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا۔ اور اگر (مرنے والے بھائی کی) دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی ملے گا۔ اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں کئی شخص اس ناطے کی وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کی حصے کے برابر ہے (یہ احکام) اللہ تم سے اس لئے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے (4:176)

More Reference : 4:11,12 Page 510,511

والمزید راجع ٤ النساء : ١١، ١٢، الصفحة ٥١٠، ٥١١

بمزید مقوالہ 4: 11, 12 صفحہ 510, 511

STATUS OF ADOPTED CHILDREN

Allah has not assigned to any man two hearts within his breast, nor has He made your wives whom you declare to be your mothers (your mothers whom you divorce by Zihar), nor has He made those whom you adopt (to be your sons) your sons. This is but a saying of your mouths. But Allah tells the truth and He shows the right - way. (33:4)

مكانة الأدياء

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَهُ الَّتِي تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٣٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٤﴾

متبنی (لے پاک) بچوں کی حیثیت

اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اور جن عورتوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو سچ سچ ماں نہیں بنایا اور نہ تمہارے لے پاکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اور اللہ تو حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے (4:33)

proclaim their real parentage. That will be more equitable in the sight of Allah. And if you know not their fathers, then (they are) your brethren in the faith, and your friends. And there is no blame for you in the mistakes that you make unintentionally, but what your hearts purpose (that will be a sin for you). Allah is Forgiving, Merciful. (3:5)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٥﴾

مومنو! لے پاکوں کو ان کے (اصلی) والد کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے والد کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اور جو بات تم سے بھول چوک سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ لیکن جو دلی ارادہ سے کرو (اس پر پوچھ گچھ ہے) اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (5:33)

LAWS OF INHERITANCE ARE THE (ORDAINMENTS) LIMITS OF ALLAH (SWT)

These are the limits (imposed by Allah). Whoso obeys Allah and His messenger, He will make him enter gardens underneath which rivers flow, where such will dwell forever. That will be the Great success. (13)

أحكام قسمة الترات حدود الله المفروضة على العباد

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾
﴿٤ النساء ١٣﴾

احکام وراثت کو اللہ کی حدود کا درجہ حاصل ہے

(تمام احکام) اللہ کی حدیں ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرماں برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے (13:4)

HUMILIATING PUNISHMENT FOR TRANSGRESSING THE LIMITS OF ALLAH (SWT) REGARDING LAWS OF INHERITANCE

And whoever disobeys Allah and His messenger and transgresses His limits, He will make him enter Fire, where such will dwell forever; his will be a shameful doom. (4:14)

عاقبة عصیان احکام الميراث

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾
﴿٤ النساء ١٤﴾

احکامات وراثت کی نافرمانی کا انجام

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقررہ حدود سے آگے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا (14:4)

**LEGACY OF PARENTS
OVER CHILDREN'S PROPERTY**

They ask you, (O Muhammad), what they shall spend. Say: That which you spend for good (must go) to parents and near kindred and orphans and the needy and the wayfarer. And whatsoever good you do, Surely! Allah is Aware of it. (2:215)

حق الوالدين على الذرية
في اموالهم و عقارهم

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾
﴿٢ البقرة ٢١٥﴾

اولاد کی جائیداد اور مال پر والدین کا حق

(اے محمد ﷺ) لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ (اللہ کی
راہ میں) کس طرح خرچ کریں۔ کہہ دیجئے کہ (جو چاہو
خرچ کر لیکن) جو مال خرچ کرنا چاہو وہ (درجہ بدرجہ اہل
استحقاق یعنی) ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور
یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو (سب کو دو) اور جو
بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے (215:2)

For Detail Consult : 2:180 4:11 Page 508, 510

والتفصیل راجع ٢ البقرة : ١٨٠ ٤ النساء : ١١

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:180 4:11 صفحہ 508, 510

**SYSTEM OF ENSURING IDENTIFICATION
OF LINEAGE RECORD IN ISLAM**

-----And it is not
lawful for them that they should
conceal that which Allah has
created in their wombs if they are
believers in Allah and the Last
Day.----- (2:228) PART

Thus have their (so-called) partners
(of Allah) made the killing of their
children to seem fair to many of the
idolaters, that they may ruin them
and make their faith obscure for
them. Had Allah willed (it
otherwise), they had not done so.
So leave them alone with their
devices. (6:137)

They are losers who stupidly have
slain their children without
knowledge, and have forbidden that
which Allah bestowed upon them,
inventing a lie against Allah. They
indeed have gone astray and are not
guided. (6:140)

draw not near to lewd things
whether open or concealed. And
that you slay not the life which Allah
has made sacred, save in the course
of justice. This He has commanded
you, in order that you may discern.
(6:151) PART

نظام احتفاظ النسب في الإسلام

-----وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ-----
﴿٢ البقرة ٢٢٨﴾ جزء

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا
أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا
عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾
﴿٦ الانعام ١٣٧﴾

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾
﴿٦ الانعام ١٤٠﴾

وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَضَعُمُ بِهِ
لَعْنَتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾
﴿٦ الانعام ١٥١﴾ جزء

مذہب اسلام میں شجرہ نسب
کے تحفظ کا نظام

-----اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان
رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں
پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔----- (228:2) جزو

اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے خیال میں ان کے
معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن (اچھا) بنا
رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان
پر مشتبہ (شک میں ڈال) کر دیں اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو
ایسا کام نہ کرتے آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے
ہیں یونہی رہنے دیجئے (137:6)

جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی سے (بے سمجھی سے)
قتل کیا اور اللہ پر (جھوٹ باندھ کر) اس کی عطا فرمائی
ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ وہ بے
شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں (140:6)

ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں
یا پوشیدہ ان کے پاس نہ جانا۔ اور کسی جان (والے) کو
جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا۔ مگر جائز
طور پر (یعنی جس کا شریعت حکم دے) ان باتوں کی وہ
تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو (151:6) جزو

For Detail Consult : Chapters of Matrimonial
Laws and Sex discipline

More Reference : 17:31 65:1,4
Page 539, 527/530, 532

والتفصیل راجع ابواب القوانین الزوجية و العلاقات الجنسية
والمعزیز راجع ١٧ الإنسراء (بنی اسرائیل) : ٣١
٦٥ الطلاق : ٤٠١
الصلوة : ٥٢٩، ٥٢٠/٥٢٧، ٥٢٢

تفصیل کیلئے دیکھئے ابواب عائلی قوانین و جنسیاتی ضوابط

مزید حوالہ 17:31 65:1,4
صفحہ 532, 530/527, 539

**MATRIMONIAL LAWS, MARITAL RIGHTS
CONJUGAL AND NUPTIAL DEALINGS, BRIDAL
AND CONNUBIAL TIES**

القوانين الزوجية

نکاحی قوانین

MARRIAGE - WEDLOCK

النکاح

نکاح

**WILLINGNESS OF WOMAN FOR ENTERING
INTO WEDLOCK IS MANDATORY**

لايجوز نكاح امرأة بدون رضاها

عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح جائز نہیں

**WOMEN SHOULD NOT BE TREATED AS AN
INHERITED PROPERTY OR POSSESSED
AGAINST THEIR WILL**

ليست النساء مال الميراث

عورتوں کو مال میراث نہ سمجھو

you who believe! It is not lawful
for you forcibly to inherit the
women against their will-----
(4:19) PART

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرِهًا
﴿٤ النساء ١٩﴾ جزء

مومنو! تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن
جاؤ (ورثے میں لے بیٹھو)-----
----- (19:4) جزو

**CONCEPT OF GUARDIAN
(CUSTODIAN OF WOMAN WHILE WEDLOCK)**

تصوّر ولی امرأة عند النکاح

نکاح میں ولی یا سرپرست کا تصور

-----Allah knows best
(concerning) your faith. You
(proceed) one from another; so
marry them by permission
(consent) of their family
(guardians)-----
(25) PART

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاٰیٰتِنَا كُمْ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَاِنْ كَوَّهْتُمْ بِاٰذِنِ
اٰهْلِيْهِمْ
﴿٤ النساء ٢٥﴾ جزء

----- اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا
ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان
لوٹڈیوں کے ساتھ ان کے سرپرستوں سے اجازت
حاصل کر کے نکاح کر لو۔----- (25:4) جزو

For Reference : 2:232 Page 530

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٣٢ الصفحة ٥٣٠

لمزيد حواله 2: 232 صفحه 530

**MATCHING COUPLES - COMPANIONSHIP
OF EQUAL AGE IS CONGENIAL**

متاربة الزوجين

زوجین کے ہم عمر ہونے کی خوبی

And with them will be chaste
females (virgins) restraining their
glances only to their husbands (and)
of equal ages to them. (38:52)

وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ طَرَفِ اَلْاَرَابِ
﴿٣٨ ص ٥٢﴾

اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی (اور) ہم عمر
(عورتیں) ہوں گی (52:38)

**MARRIAGE SHOULD NOT BE A
DEBAUCHERY FOR MERE LUST
OR PHYSICAL DESIRE**

لايكن غرض النکاح
قضاء الشهوة فقط

نکاح کا مقصد محض شہوت رانی
نہیں ہونا چاہئے

For Detail Consult : 4:24 Page 519/521

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ٢٤ الصفحة ٥٢١/٥١٩

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:24 صفحہ 521/519

**BELIEVERS ARE FORBIDDEN
MARRY ADULTERER OR IDOLATERESS
(DURING THE YEAR 3 AH)**

نکاح الزانی مومنة و نکاح المومن
مشرکة حرام" بالعام ٣ هج

بدکار مرد اور مشرک عورت سے نکاح حرام
حکم دوران سال 3ھ

The adulterer shall not marry except
an adulteress or an idolateress, and
the adulteress none shall marry
except an adulterer or an idolater.
Such conduct is forbidden to
believers. (24:3)

الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة و الزانیة
لا ینکحها الا زان او مشرک و حرم ذلك
على المؤمنین
﴿٢٤ النور ٣﴾

بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور
بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح
میں نہیں لاتا اور یہ (یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا)
مومنوں پر حرام ہے (3:24)

<p>ISLAM COMMANDS SEXUAL PURITY</p>	<p>الإسلام والطهارة الجنسية</p>	<p>اسلام اور جنسیاتی پاکیزگی</p>
<p>FIANCEE (BETROTHS) MUST HAVE SAME SPIRITUAL OUTLOOK TO MAKE A MARRIAGE AN INTIMATE COMMUNION RATHER THAN A BURDENSOME FETTER FOR LIFE</p>	<p>التوافق الفكري والروحي لازم للزواج</p>	<p>شادی کے لئے فکر و نظر اور عقائد کی ہم آہنگی ضروری ہے</p>
<p>DO NOT MARRY ANY POLYTHEIST WOMAN OR MAN EVEN THOUGH SHE OR HE ALLURES YOU UNTIL THEY START BELIEVING (MONOTHEISM)</p>	<p>الزواج بين المومنين والمشرکين حرام حتى يؤمنوا</p>	<p>مشرک عورت یا مرد (چاہے جس قدر پسند ہو) سے رشتہ ازدواج قائم کرنا حرام ہے (جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں)</p>

Wed not idolateresses till they believe; for a believing maid is better than an idolateress no matter how attractive she may seem to you and give not your daughters in marriage to idolaters till they believe, for a believing slave is better than an idolater no matter how attractive he may seem to you. These people invite to the Fire, and Allah invites to the Garden, and to forgiveness by His grace, and expounds thus His revelations to mankind that haply they may bear in mind. (2:221)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا مَلَائِكَةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُؤْتُوا أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِيقِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

اور (مومنو) مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا۔ کیوں کہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ اور (اسی طرح) مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا۔ کیوں کہ مشرک (مرد) سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ (مشرک) لوگ دوزخ کی طرف بلا تے ہیں۔ اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں (221:2)

CONSORT ACCORDING TO THE CONDUCT (THOUGHTS AND IMAGINATIONS)

Vile women are for vile men, and impure men for impure women. ----- (24:26) PART

التزويج طبقا للسيرة الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ﴿٢٤﴾

جوڑے بلحاظ کردار ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لئے۔ ----- (26:24) جزو

PURE AND GOOD SPOUSES ARE ASSIGNED TO EACH OTHER

-----Righteous women are for righteous men, and men of purity for women of purity, such are innocent of that what people say: For them is pardon and a bountiful provision. (24:26) PART

وتزويج الطيبين من الطيبات وتزويج الطيبات من الطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مطهرة مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ﴿٢٤﴾

پاک عورتوں کیلئے پاک مرد اور پاک مردوں کے لئے پاک عورتیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں۔ اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے۔ یہ (پاک لوگ) ان (بد لوگوں) کی باتوں سے بری ہیں (اور) ان کے لئے بخشش اور نیک روزی ہے (26:24) جزو

PIOUS SPOUSES WILL JOIN EACH OTHER IN THE GARDENS OF PARADISE

(You) who believed Our revelations and were self-surrendered, (43:69)

لا يزال تزويج الرجال المسلمين من المسلمات باقياً في الجنة الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

نیک میاں بیوی (جیون ساتھی) جنت کے باغوں میں ایک دوسرے سے جا ملیں گے جو لوگ ہماری آیاتوں پر ایمان لائے اور فرماں بردار ہو گئے (69:43)

Enter the Garden, you and your spouses, to be made glad. (43:70)

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ ﴿٧٠﴾
﴿٤٣ الزخرف ٧٠﴾

(ان سے کہا جائے گا) کہ تم اور تمہاری بیویاں (رفیق حیات) عزت (وا احترام) کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ (70:43)

PROHIBITED DEGREES OF RELATIONS FOR WEDLOCK AND LAWFUL FEMALE COMBINATIONS

المحرمات و غیر المحرمات من النساء

کن عورتوں سے نکاح جائز اور کن سے حرام ہے (محرم اور غیر محرم عورتیں) سوتیلی ماں، بہن، بیٹی، بھینسی، خالہ، بھینسی، بھانجی رضاعی ماں، رضاعی بہن، ساس، بہو، بیوی کے پہلے شوہر سے لڑکیاں (جن کی کفالت تم کرتے ہو) دو بہنیں (ایک ساتھ)

And marry not any women whom your fathers have already married, except what has already happened (of that nature) in the past. It was ever a shocking act and abomination, and the worst possible way. (4:22)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
﴿٤ النساء ٢٢﴾

اور جن عورتوں سے تمہارے والد (باپ) نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر (جاہلیت میں) جو ہو چکا (سو ہو چکا) یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناراضگی کی بات تھی اور بہت برادرستور تھا (22:4)

Forbidden to you (in marriage) are your (own) mothers, and your daughters, and your sisters, and your aunts on your father's side as well as aunts on your mother's side and your brother's daughters and your sister's daughters, and your foster mothers, and your foster sisters, and your mothers-in-law, and your step daughters who are under your (own) guardianship (born) of your women to whom you have consummated (in marriage) but if you have not consummated with them then it is no sin for you (to marry their daughters) and the wives of your sons who are (own flesh and blood) from your own loins. And (it is forbidden to you) that you should have two sisters together in wedlock, except what has already happened (of that nature) in the past. Allah is ever Forgiving, Merciful. (4:23)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأَكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَنَ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾
﴿٤ النساء ٢٣﴾

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھینسیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضاعی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئیں ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو (وہ بھی تم پر حرام ہیں) ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو (ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں) تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور تمہارے (جو تمہاری نسل سے ہوں) بیٹوں کی عورتیں بھی۔ اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی (حرام ہے) مگر جو ہو چکا (سو ہو چکا) بے شک اللہ بخشنے والا (اور) رحم والا ہے (23:4)

More Reference : 5:5 23:6,7 33:37,38,39 Page 503 540 517,518

۲۳ المؤمنون: ۶، ۵ المائدة: ۵ ۳۳ الأحزاب: ۳۷، ۳۸، ۳۹

مزید حوالہ 5:5 23:6,7 33:37,38,39 صفحہ 503 540 517,518

MARRYING WITH SPOUSES OF CHOICE IS PERMISSIBLE

موافقة الفريقين للزواج

شادی میں فریقین کی پسند کی اجازت

For Detail Consult : 4:3 Page 520

وللتفصیل راجع ۴ النساء: ۳ الصفحة ۵۲۰

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:3 صفحہ 520

NO MARRIAGE CONTRACT WITH ANY DIVORCED OR WIDOWED WOMAN IS VALID UNTIL TERM OF WAITING (PRESCRIBED PERIOD) IS FULFILLED

لا يجوز نكاح مطلقة أو أرملة قبل نهاية العدة

مقررہ عرصہ (ایام عدت) کی تکمیل سے پہلے کسی مطلقہ یا بیوہ عورت سے نکاح جائز نہیں

For Detail Consult : 2:234 65:4,5 Page 531 532

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۲۳۴: ۶۵ الطلاق: ۴، ۵

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:234 65:4,5 صفحہ 531 532

MARRYING WIDOWS

نکاح الارامل

بیوہ عورتوں سے نکاح

METHOD OF PROPOSING TO WIDOW WOMAN

کیفیت خطبہ النساء الارامل

بیوہ عورت کو پیغام نکاح کا طریقہ

There is no sin for you in that which you proclaim or hide in your minds concerning your betrothal with women. Allah knows that you will bear them in mind. But however do not propose anything to them secretly unless you utter a formal statement. And do not tie the marriage until prescribed term is over. Know that Allah knows what is in your minds, be careful about Him; and know that Allah is Forgiving, Lenient. (2:235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْوِئُوا هُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا بَعْضَ الْوَعْدِ الْبَاطِلِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣٥ البقرة﴾

اگر تم کنائے کی باتوں میں (اشارتا) عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجیو یا (نکاح کی خواہش کو) اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے (نکاح کا) ذکر کرو گے۔ مگر (ایام عدت میں) اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ معاف کرنے والا اور بردبار ہے (235:2)

More Reference : 2:234 Page 531

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٣٤ الصفحة ٥٣١

مزید حوالہ 234:2 صفحہ 531

WEDDING FEMALE ORPHANS

نکاح النساء الیتامی

یتیم عورتوں سے نکاح

They consult you concerning women. Say: Allah advises you concerning them, and the Book which has been recited to you (gives decree), concerning female orphans to whom you give not that portion which is prescribed for them though you desire to marry them, and (concerning) the minor children, (who are oppressed and weak) and that you should deal justly with orphans. Whatever good you do, Allah is well - acquainted of it. (4:127)

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧ النساء﴾

(اے پیغمبر) لوگ آپ سے (یتیم) عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو ان کے (ساتھ نکاح کرنے کے) معاملے میں اجازت دیتا ہے اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو اور (بیز) بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں۔ اور یہ (بھی حکم دیتا ہے) کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے (127:4)

MARRIAGE WITH DIVORCED WIFE OF AN ADOPTED SON

نکاح مطلقہ المتنبی

منہ بولے بیٹے (متنبی) لے پالک کی مطلقہ سے نکاح

And when you said to him on whom Allah has conferred favour and you had conferred favour: Keep your wife to yourself, and fear Allah. And you did hide in your mind that which Allah was to bring to light, and you did fear mankind whereas Allah had a better right that you should fear Him. So when Zeyd had performed the necessary formality (of divorce) from her, We gave her to you in marriage, so that (henceforth) there may be no sin for believers in respect of wives of their adopted sons, when the latter have performed the necessary formality (of release) from them. The commandment of Allah must be fulfilled. (33:37)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧ الاحزاب﴾

اور جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا (یہ) کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور آپ اپنے دل میں پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پھر جب زید نے اس سے (کوئی) غرض نہ رکھی (یعنی) اس کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے) میں جب وہ ان سے (اپنی) غرض (تعلق) نہ رکھیں (یعنی طلاق دے دیں) کچھ تنگی نہ رہے۔ اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا (37:33)

There is no reproach for the Prophet in that which Allah has stipulated for him to do. That was Allah's way with those who passed away of old and the commandment of Allah is pre-ordained decree. (33:38)

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الاحزاب ٣٨

پیغمبر پر اس کام میں کچھ حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کر دیا۔ اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے۔ اور اللہ کا حکم (پہلے سے) تجویز کیا ہوا تھا۔ (38:33)

Those delivered the messages of Allah and feared Him, and feared none except Allah. Allah keeps good account. (33:39)

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ الاحزاب ٣٩

اور جو اللہ کے پیغام (جو ان کے توں) پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے (39:33)

MUSLIM MEN CAN MARRY VIRTUOUS WOMEN FROM PEOPLE OF BOOK PROVIDED THE INTERESTS OF FAITH ARE SAFEGUARDED

نکاح المحصنات من اهل الكتاب مباح

اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت بشرطیکہ دین کے تحفظات ملحوظ خاطر رہیں

-----And so are the virtuous women of the believers and the virtuous women of those who received the Scripture before you (lawful for you) when you give them their marriage portions (dowers) and take them in wedlock respectably and neither in fornication, nor taking them as secret concubines. Whoso denies the faith, his actions are vain and he will be among the losers in the Hereafter. (5:5) PART

-----وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾ المائدة ٥ جزء

-----اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی (حلال ہیں) جب کہ ان کا حق مہر دے دو۔ اور ان سے باقاعدہ نکاح کرو نہ کھلی بدکاری کرو اور نہ چھپی دوستی۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہو اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا (5:5) جزو

SPECIAL MARITAL LAWS FOR IMMIGRANT BELIEVING WOMEN AND FOR THOSE NEWLY JOINING ISLAM AS AN AFTERMATH OF JIHAD

قوانین الزواج الخاصة بشأن النساء المؤمنات المهاجرات وبشأن النساء التي أسلمن حالاً نتيجة لقتال الكافرين

جنگ اور جہاد کے نتائج میں مسلمان عورتوں اور نو مسلم خواتین کے بارے میں خصوصی احکامات

O you who believe! When believing women come to you as fugitives, examine them. Allah is best aware of their faith. Then, if you ascertain them for true believers, send them not back to the disbelievers. They are not lawful (wives) for the disbelievers, nor are the disbelievers lawful (husbands) for them. And pay the disbelievers that which they have spent (upon them). And it is no blame on you to marry such women when you have paid them their dower. And hold not to the ties of disbelieving women; and ask for (the return of) that which you have spent; on their dowers and let the disbelievers ask for that which they have spent on the dowers of women who come over to you. That is the command of Allah. He judges between you. Allah is the Power, Wise. (60:10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ الممتحنة ١٠

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ کر لو۔ (اور) اللہ تو ان کے ایمان کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ پھر جب تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کفار کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لئے حلال اور جو کچھ ان کے کافر شوہروں نے (ان پر) خرچ کیا ہو وہ ان کو واپس دے دو اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو۔ اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح (قبضے) میں نہ رکھو (یعنی کفار کو واپس دے دو) اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر خرچ کیا ہو تم ان سے واپس طلب کر لو اور جو کچھ کافروں نے (اپنی مسلمان عورتوں پر) خرچ کیا ہو وہ تم سے واپس طلب کر لیں یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کئے دیتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے (10:60)

And if any of your wives has gone from you to the disbelievers and afterward you have your turn (of triumph), then pay to those whose wives have deserted the equivalent of that which they have spent, and fear Allah in Whom you are believers. (60:11)

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ
فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ
مَا أَنْفَقُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾
﴿٦٠ الممتحنة ١١﴾

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے (اور اس کا مہر مول نہ ہوا ہو) پھر تم ان سے جنگ کرو (اور ان سے تم کو نیست ہاتھ لگے) تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ڈرتے رہو (11:60)

For Detail Consult : 60:12 Page 176

والتفصیل راجع ٦٠ الممتحنة : ١٢ الصفحة ١٧٦

تفصیل کیلئے دیکھیے 12:60 صفحہ 176

**CONDITIONS FOR MARRYING
A CAPTIVE SLAVE GIRL IN CASE
ONE HAS NO MEANS FOR
NUPTIAL KNOT WITH ANY BELIEVER**

نکاح الإمام و شروطه

اگر آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی وسعت نہ ہو تو بحالت مجبوری کینزوں سے نکاح اور اس کی شرائط (لونڈی) ایسی عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور ایران جنگ کا تبادلہ نہ ہونے کی صورت میں اسلامی مملکت کی طرف سے لوگوں کی ملکیت میں دے دی جائیں

**RELAXATION IN PUNISHMENT
FOR MARRIED CAPTIVE GIRL
COMMITTING INDECENCY**

تخفيف في عقوبة الإمام

لونڈیوں (غلام عورتوں) کو ان کی محکوم اور مجبور حیثیت کے باعث سزا میں کمی

And all married women (are forbidden to you except those (captive) whom your right hands possess. It is a decree of Allah for you. Lawful to you are all beyond those mentioned, so that you seek them with your wealth in honest wedlock, not debauchery.-----
----- (4:24) PART

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ۖ إِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسَافِحِينَ ۗ
﴿٤ النساء ٢٤﴾ جزء

اور شوہر والی عورتیں بھی (تم پر حرام ہیں) مگر وہ جو (قید ہو کر لونڈیوں کے طور پر) تمہارے قبضے میں آ جائیں (یہ حکم) اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان (محرمت) کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں اس طرح سے کہ مال خرچ (حق میراد) کر کے ان سے نکاح کر لو بشرطیکہ (نکاح سے) مقصود (برے کاموں سے بچنا) عفت قائم رکھنا ہو نہ ہو کہ شہوت رانی ----- (24:4) جزو

And anyone of you, who is not able to afford to marry free, believing women, let them marry from the believing maids whom your right hands possess. Allah knows best (concerning) your faith. You (proceed) one from another; so wed them by permission of their (guardians), and give to them their portions in kindness, they being honest, not debauched nor of loose conduct. And if when they are honourably married they commit lewdness they shall incur the half of the punishment (prescribed) for free women (in that case). This is for him among you who fears to commit sin. But to have patience would be better for you. Allah is Forgiving, Merciful. (4:25)

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَإِنْ كَوَّهْتُمْ بِأَذْنِ
أَهْلِيهِنَّ وَأَتَوْهِنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَيْمَانَ بِنِكَاحِ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَدَتَ
مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾
﴿٤ النساء ٢٥﴾

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں (یعنی بیبیوں) سے نکاح کرنے کی وسعت اور طاقت نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جن کے تم مالک ہو (نکاح کر لے) اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہی تو ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو شرط یہ ہے کہ (خفیہ آشنائی کرنے والی نہ ہوں اور) نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں (یعنی بیبیوں) کے لئے ہے اس کی آدھی ان کو (دی جائے) یہ (لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی) اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (25:4)

More Reference : Page 714

والمزید راجع الصفحة ٧١٤

مزید حوالہ صفحہ 714

ISLAM DOES NOT ALLOW THE PERSONS TO SATISFY THEIR SEXUAL CRAVINGS OUTSIDE MARRIAGE IN ANY CASE

And let those who cannot find away to marry hold off until Allah enriches them out of His bounty. --- (24:33) PART

لا ینحول الإسلام قضاء الشهوة غیر النکاح مہما کانت الظروف

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿٢٤﴾ النور ٣٣ ﴿جزء ٣﴾

کسی بھی مجبوری میں (قضائے شہوت) نکاح کے بغیر جنسیاتی آسودگی حاصل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا

اور جن کو نکاح کرنے کی حیثیت نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کئے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے عنی (مال دار) کر دے۔ (33:24) جزو

CELIBACY IS VICE (MORAL FAULT)

نکاح نہ کرنا (مجرد رہنا) گناہ ہے

MARRY OFF THE POOR WIDOWED DIVORCED AND UNMARRIED (FREE, SLAVE OR MAIDS) OR PERSUADE THEM FOR WEDLOCK

الأمر بنکاح الأیامی و الصالحین من العباد والإماء

اپنے زیر اثر غریب بیواؤں مطلقہ کنوارے مجرد افراد۔ غلاموں اور کنیزوں کو نکاح کی ترغیب دو (یا ان کے نکاح کر دو)

DO NOT AVOID MARRYING ONLY DUE TO POVERTY ALLAH(SWT) PROMISES TO ENRICH FROM HIS BOUNTY

لا یکن الفقرا جزابین النکاح فإن الله وعد الفضل

تمہاری مفلسی نکاح میں رکاوٹ نہ بنے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا وعدہ کیا ہے

And marry off every single person among you and the pious of your slaves and maidservants. If they be poor; Allah will enrich them of His bounty. Allah is of Ample means, Aware. (24:32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ النور ٣٢ ﴿جزء ٣﴾

تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو۔ اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں (نکاح کر دیا کرو) اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوش حال کر دے گا اور اللہ بہت وسعت والا (اور سب کچھ) جاننے والا ہے (32:24)

STRICT CONDITION OF DEALING ALL WIVES JUSTLY FAIR AND TREATING THEM WITH EQUALITY

نکاح اکثر من واحدة من النساء یشرط بالعدل فی أداء الحقوق

ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت اور سب کے ساتھ انصاف اور برابری کی ضروری شرط

MARRYING OF WIVES TO A MAXIMUM OF FOUR STRICTLY LIMITED WITH SPECIAL CONDITIONS

إجازة نکاح النساء مثنی وثلاث ورباع بشرط العدل

زیادہ سے زیادہ (چار) بیویاں رکھنے کی اجازت اور اس کیلئے خصوصی شرط

THAT WILL BE MORE SUITABLE TO HAVE SINGLE WIFE - IF ONE FEARS OF NOT ABLE TO DEAL ALL WIVES EQUALLY

الاكتفاء علی زوجة واحدة أحسن إذا خفتن أن لا تعدلوا

ایک ہی بیوی رکھنا زیادہ مناسب ہے اگر سب بیویوں سے انصاف اور برابری کی ذمہ داری پوری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو

And if you are afraid that you will not deal fairly by the orphans, marry off the women, who seem good to you, (is of your choice) in pairs or three or four; (at a time) and if you fear that you cannot do justice (to so many) then marry one woman (only) or (the captives) that your right hands possess. Thus it is more likely that you will not do injustice. (4:3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٤﴾ النساء ٣ ﴿جزء ٣﴾

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ (سب عورتوں سے) یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت (کافی ہے) یا لونڈی (غلام عورت) جس کے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے (3:4)

DO NOT INCLINE TOO MUCH TO ONE OF YOUR WIVES, BY GIVING HER MORE TIME AND PROVISION, SO AS TO LEAVE OTHER NEITHER DIVORCED NOR MARRIED

لا تميلوا كل الميل إلى واحدة من الأزواج دون الأخر ذلك ينا في العدل

ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی ایک بیوی کی طرف یکسر مائل ہونا نا انصافی ہوگی

YOU WILL NEVER BE ABLE TO DO PERFECT JUSTICE BETWEEN WIVES EVEN IF IT IS YOUR ARDENT DESIRE

إدعاء كم العدل الكامل لجميع الأزواج أمر لا يطاق

تم سے کبھی نہیں ہو سکے گا کہ تمام بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو۔ گو تم اسکی کتنی ہی خواہش اور کوشش کیوں نہ کرو

You will not be able to deal equally between (your) wives, however much you wish (to do so): But turn not altogether away (from one), leaving her as in suspense. If you do good and keep from evil, Allah is ever Forgiving, Merciful. (4:129)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤ النساء ١٢٩﴾

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اور دوسری کو (ایسی حالت میں) چھوڑ دو کہ گویا درمیان میں لٹک رہی ہے۔ اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے (4:129)

RESTRICTION ON SEXUAL RELATIONS WITH SPOUSES IN CERTAIN SITUATIONS

المحظورات بشأن العلاقات الزوجية بحسب الظروف

تعلق زوجین پر خصوصی حالات میں پابندی

For Detail Consult : 2:187,197,222 Page 262/263, 288, 535

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٨٧، ١٩٧، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٨٨، ٥٣٥ الصفحة

تفصیل کیلئے دیکھئے 222,197,187: 2 صفحہ 535, 288, 263/262

LAWS OF DOWER MONEY - BRIDAL MONEY (MAHR)

المهر

حق مہر

PAYING OF DOWER MONEY IS AN OBLIGATION FOR MARRIAGE

إيتاء النساء مهور هن المفروضة واجب على الرجال

مقررہ حق مہر کی ادائیگی فرض ہے

-----Give them their dower money, for the enjoyment you have of them as a duty and there is no blame on you in what you do by mutual agreement (to vary it) after the duty (has been done). Allah is ever Knower, Wise. (4:24) PART

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤ النساء ٢٤﴾ جزء

-----تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو اور مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضا مندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (4:24) جزو

More Reference : 4:20,21 Page 530

وللمزيد راجع ٤ النساء: ٢٠، ٢١ الصفحة ٥٣٠

مزید حوالہ 4:20,21 صفحہ 530

WIFE CAN REMIT ANY PART OF DOWER MONEY AT HER OWN PLEASURE

يمكن للمرأة تخفيف شيئاً من صداقها بطيب نفسها

عورت اپنی مرضی سے حق مہر میں کمی کر سکتی ہے

And give to the women, (whom you marry) free gift of their marriage portions (dower money); but if they of their own accord remit (waive) to you a part thereof, then you are welcome to absorb it (in your wealth). (4:4)

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤ النساء ٤﴾

اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے خوش ہو کر کھاؤ پیو (4:4)

More Reference : 2:237 Page 522

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٣٧ الصفحة ٥٢٢

مزید حوالہ 2:237 صفحہ 522

IN CASE DOWER MONEY IS NOT FIXED AND WOMAN IS DIVORCED BEFORE MARRIAGE IS CONSUMMATED

It will not be held against you if you divorce women while yet you have not touched them, nor assigned to them (marriage) portion. Provide for them, the well-to-do according to his means, and the straitened according to his means, a fair provision is due in all decency from those who act kindly. (2:236)

اعطاء المیزة متاعا عند تطليقها قبل مسهها او عدم تعيين مهرها

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَ مِمَّا عَوَّضْتُمْ عَنْهُنَّ عَلَى الْبُؤْسِ قَدْرُ ذِكْرِكُمْ عَلَى الْبُقْعَاتِ ۗ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾ البقرة

اگر بوقت نکاح حق مہر مقرر نہ ہوا ہو اور عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے

اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو یعنی حیثیت والا اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے (2:236)

IN CASE DOWER MONEY HAS BEEN ASSIGNED AND WOMAN IS DIVORCED BEFORE ENTERING CONNUBIAL RELATIONS

If you divorce them before you have had contact with them and you have already assigned to them a (marriage) portion, then (pay the) half of that which you assigned, (as dower money) unless they (the women) agree to forego it, or he agrees to forego it in whose hand is the marriage tie. To forego is nearer to piety. And forget not to be generous with one another. Allah is Observant of what you do. (2:237)

قانون تطليق المرأة قبل مسهها و قد فرضت لها فريضة

وَ إِنْ طَلَقْتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ البقرة

اگر نکاح کے وقت حق مہر مقرر ہو چکا ہو اور عورت کی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے

اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے (اپنا حق) چھوڑ دیں (اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے) اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیز گاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے (237:2)

DOWER MONEY WAS ALSO PRESCRIBED TO THE BYGONE NATIONS

الرجال كانوا أمروا بإعطاء المهور في شرائع الأمم السابقة

حق مہر کی ادائیگی کا پچھلی اقوام (کی شریعت) میں بھی حکم دیا گیا

For Detail Consult : 28:27 Page 1010

والتفصیل راجع ۲۸ القصص ۲۷: الصفحة ۱۰۱۰

تفصیل کیلئے دیکھئے 27:28 صفحہ 1010

OBLIGATIONS OF A HUSBAND

واجبات الرجل

شوہر کے فرائض

MEN ARE THE PROTECTORS AND MAINTAINERS OF WOMEN

كسب المعاش و حفاظة الزوج

بیوی کے لیے روزی کما لانا اور اسکی حفاظت (نگہبانی اور ضروریات مہیا کرنا) مرد کی ذمہ داری

Men are protectors and maintainers women, because Allah has given me more (strength than the other excel) the other, and because they end out of their wealth (for the support of women).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴿٣٤﴾ النساء جزء

مرد عورتوں پر قیم (نظام اور معاملات کو درست چلانے والے) ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ (34:4)

(4:34) PART

OBLIGATIONS OF A RIGHTEOUS WIFE

واجبات المرأة

نیک بیوی (عورت) کے فرائض

WIFE SHOULD BE DEVOUTLY OBEDIENT AND CARE
TAKER (TO GUARD HER CHASTITY AND PROPERTY
OF HUSBAND IN HIS ABSENCE)

العفاف وإطاعة الرجل

شوہر کی اطاعت اور اس کے مال اور اپنی آبروی
حفاظت کی ذمہ داری

-----So righteous
women are devoutly obedient, and
guarding the secret (intimacy) in the
husband's absence which Allah has
guarded.----- (4:34) PART

-----فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ وَنِتُّ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
﴿٤ النساء ٣٤﴾ جزء

-----تو جو نیک (صالح) عورتیں ہیں وہ مردوں کی
اطاعت شعار ہوتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں بہ
حفاظت الہی (مال و آبرو اور حقوق) کی حفاظت کرتی ہیں
----- (34:4) جزو

**PHILOSOPHY IN CONFERRING MEN,
A DEGREE ABOVE (PRECEDENCE OVER)
WOMEN**

تفوق الرجل على المرأة
بدرجہ و حکمتہ

مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ
دینے میں حکمت الہیہ

-----And men stand a
step above them. Allah is Mighty,
Wise. (2:228) PART

-----وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ
﴿٢ البقرة ٢٢٨﴾ جزء

-----البتہ مردوں کو عورتوں
پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ غالب (اور) صاحب
حکمت ہے (228:2) جزو

It is not wise to covet (or envy) the
bounties in which Allah has made
some of you excel over the others.-----
----- (4:32) PART

-----وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى
بَعْضٍ
﴿٤ النساء ٣٢﴾ جزء

-----اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس چیز کے باعث اللہ نے تم
میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت
کرو۔----- (32:4) جزو

For Detail Consult : 4:34 Page 522

والمزيد راجع ٤ النساء: ٣٤ الصفحة ٥٢٢

مزيد حوالہ 34:4 صفحہ 522

YOUR MATES AND DYNASTY

نسائکم وسیلۃ التناسل
وأساس الأسرة

تمہاری عورتیں اور سلسلہ خاندان

For Detail Consult : 16:72 25:54
Page 443

والتفصیل راجع ١٦ النحل: ٧٢ ٢٥ الفرقان: ٥٤
الصفحة ٤٤٣

تفصیل کیلئے دیکھئے 72:16 54:25
صفحہ 443

**DISPUTES ARISING IN MARITAL LIFE
(CONFLICTS BETWEEN SPOUSES)**

العلاقات الزوجية و ظهور الخلافات

ازدواجی زندگی کے تعلقات و تنازعات

**DECENCY AND POLITENESS
WITH WIFE**

معاشرۃ المرأة بالمعروف

بیوی کے ساتھ حسن سلوک

-----But consort
with them (your wives) in kindness,
for if you dislike them it may
perhaps be that you hate a thing in
which Allah has placed much good.
(4:19) PART

-----وَعَايِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
﴿٤ النساء ١٩﴾ جزء

-----اور ان کے ساتھ اچھی
طرح سے رہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم
کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا
کر دے (19:4) جزو

DEALING WITH DISLOYAL AND ILL - CONDUCT WIFE

-----As for those from whom you fear surliness admonish them and banish them to beds keep apart, and even scourge (beat) them if necessary. Then if they obey you, seek not a way (to proceed) against them. Allah is ever High Exalted, Great. (4:34) PART

المعاملة بالمرأة الناشرة

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٤٤﴾ النساء ٣٤ ﴿جزء ١﴾

نافرمان اور بددماغ (سرکش) بیوی کی اصلاح کا طریقہ کار

-----اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی (اور بد خوئی) کرنے لگی ہیں تو (پہلے) ان کو (زبانی) سمجھاؤ (اگر نہ سمجھیں تو) پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو۔ اور اگر فرمانبردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ بے شک اللہ سب سے اعلیٰ (اور) جلیل القدر ہے (34:4) جزو

RECONCILIATION BETWEEN SPOUSES THROUGH ARBITRATORS TO AVOID BREACH

And if you fear a breach between them twain (the man and wife), appoint an arbiter from his family and an arbiter from her family. If they both desire to be reconciled Allah will make them of one mind (cause reconciliation). Allah is ever Knower, Aware. (4:35)

طريقة الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق بينهما (بعث الحكيمين)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ النساء ٣٥ ﴿جزء ١﴾

زوجین میں جھگڑے کی صورت میں ثالث کے ذریعہ صلح کرانا

اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرادینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے (35:4)

"ILA" ISPO FACTO DIVORCE TAKING OATH BY MERE CAPRICE NOT TO HAVE CONJUGAL RELATIONS WITH WIFE (INCIDENT DURING YEAR 9-AH)

**الإيلاء
حادثه في العام ٩ هج**

'إيلاء'
عورت سے ازدواجی تعلق قائم نہ رکھنے کی جان بوجھ کر قسم کھا لینا واقعہ دوران سال 9 ہجری

PERIOD FOR WILLFUL ABSTENTION FROM WIFE WITHOUT ANY JUST REASON

مدة التبرص عند الإيلاء

Those who take an oath for abstention from their wives (not to have sexual contact) must wait four months; then, if they change their mind, Allah is Forgiving, Merciful. (2:226)

لِّلَّذِينَ يُؤَلِّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ البقرة ٢٢٦ ﴿جزء ١﴾

کسی معقول وجہ اور مجبوری کے بغیر جان بوجھ کر بیوی سے علیحدہ رہنے کا وقفہ

جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھالیں ان کو چار مہینے انتظار کرنا چاہئے اگر (اس عرصے میں قسم) سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے (226:2)

And if they decide upon divorce (let them remember that) Allah is Knower, (2:227)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ البقرة ٢٢٧ ﴿جزء ١﴾

اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا (اور) جانتا ہے (227:2)

"ZIHAR" ZIHAR PRONOUNCING OR LIKENING OF WIFE TO MOTHER (FOR AN EXCUSE FOR ABSTENTION)

الظهار

(ظہار)
بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا

When a man has heard the speech of the man pleading with you about her husband, and Complaining to Allah. Allah hears whatever you discuss, Allah is Alert, Omniscient, Servant. (58:1)

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُفَّاتٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٥٨﴾ المجادلة ٥٨ ﴿جزء ١﴾

یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔ (1:58)

Such of you as put away your wives (Divorce them by saying they are as their mothers) they are not their mothers; none are their mothers except those who gave them birth-- they indeed utter an ill word and a lie. And Allah is Forgiving, Merciful. (58:2)

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ
قَاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهُتُهُمْ إِلَّا الْآلُ
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ
الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٥٨﴾
﴿المجادلة ٥٨﴾

جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں (ہو جاتیں) ان کی ماں تو وہی ہیں جن کے لطن سے وہ پیدا ہوئے بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اور اللہ بڑا معاف کرنے والا (اور) بخشنے والا ہے (2:58)

More Reference : 33:4 Page 512

والمزيد راجع ٣٣ الأحزاب :٤ الصفحة ٥١٢

مزید حوالہ 4:33 صفحہ 512

ATONEMENT (EXPIATION) OF "ZIHAR"

كفارة الظهار

ظہار کا کفارہ

But those who pronounce the word "Zihar" to their wives and afterward wish to go back on that which they have said; (the penalty) in that case (is) the freeing of a slave before they touch one another. This is to admonish you and Allah is Informed of what you do. (58:3)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ
ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾
﴿المجادلة ٥٨﴾

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو (ان کو) ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا (ضروری) ہے (مومنو) اس (عقلم) سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے (3:58)

And if any has not (the means) let him fast for two successive months before they touch one another; and for him who is unable to do so (the penance is) the feeding of sixty needy ones. This is that you may put trust in Allah and His messenger. Such are the limits (imposed by Allah); and for disbelievers is a painful doom. (58:4)

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ
فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٨﴾
﴿المجادلة ٥٨﴾

جس کو غلام آزاد (کرنے یا کرانے) کی حاجت نہ ہو وہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے سے پہلے متواتر دو مہینے کے روزے رکھے۔ جس کو اس کا بھی مقدر نہ ہو (اسے) ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلانا (چاہئے) یہ (حکم) اس لئے (ہے) کہ تم اللہ اور رسول کے فرماں بردار ہو جاؤ۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لئے درد دینے والا عذاب ہے (4:58)

"LIYAN"

ACCUSING WIFE OF
ADULTERY (FREE-LOVE OR INCEST)
WITHOUT ANY SUPPORT OF EVIDENCE
AND PROCEDURE OF ESTABLISHING CHARGE

اللعان

عند مارمی الرجل زوجته

لعان

خاندن کا بیوی پر (کسی گواہ کے بغیر) زنا کی تہمت لگانا اور ایسے الزام کی صحت کے لیے قسم اٹھانا

As for those who launch a charge against their wives but have (in support) no witnesses except of their own, let one of them testify four times (swearing) by Allah that he is of those who speak the truth; (24:6)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ
شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٤﴾
﴿النور ٢٤﴾

اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے (6:24)

And yet a fifth (oath) should be, solemnly invoking the curse of Allah on himself if he is of those who tell a lie. (24:7)

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٤﴾
﴿النور ٢٤﴾

اور پانچویں (بار) یہ (کہے) کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت (7:24)

**PROCEDURE OF REFUTATION
OF CHARGE BY WIFE
FOR HER ACQUITTAL**

طريقة دفع العقوبة
عن المرأة التي رماها زوجها

عورت کا الزام کی تردید اور تہمت (لعان) سے
بچنے کا طریقہ کار

And it shall avert the punishment from the wife if she bears witness before Allah four times (with an oath) that the thing he (her husband) says is indeed false, (24:8)

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعًا
شَهَدَاتٍ بِأَنَّهَا لَيْسَ الْكَذِبُ بِهَا
﴿٢٤ النور ٨﴾

اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے (8:24)

And a fifth (time) oath should be that the wrath (anger) of Allah be upon herself if her husband speaks the truth. (24:9)

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٤ النور ٩﴾

اور پانچویں (دفعہ) یوں (کہے) کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب (نازل ہو) (9:24)

And had it not been for the grace of Allah and His mercy to you, and that Allah is Clement, Wise, (you had been ruined). (24:10)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤ النور ١٠﴾

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی (تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتیں)۔ مگر وہ صاحب کرم ہے اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا (اور) حکمت والا ہے (10:24)

LAWS OF DIVORCE

الطَّلَاق

طَلَاق

DISSOLVING MARRIAGE TIES BY HUSBAND

**THE LAST RESORT OF CONFLICTS
BETWEEN THE SPOUSES**

المحاولة الأخيرة لرفع الشقاق
بين الزوجين

ازدواجی تنازعات کے حل کے لیے
آخری چارہ کار

**DISSOLUTION OF MARRIAGE TIES PERMISSIBLE
IF CONFLICT AMONG SPOUSES REACHES THE
POINT OF NO RETURN**

جواز التفرق اذا كان
الشقاق بينهما شديدا

میاں بیوی میں اتفاق کی کوئی صورت
پیدا نہ ہونے پر علیحدگی کی اجازت

**SANCTITY OF MARRIAGE
IS GREATER THAN
ANY ECONOMIC INTEREST**

احترام العلاقات الزوجية أكبر من
المصالح المالية

زوجین کے تعلق کا تقدس مالی مفادات
سے بالاتر ہے۔ باہمی تعلق کو محض مالی
مفادات کی خاطر قائم نہ رکھو

But if they separate, Allah will (enrich) compensate each out of His abundance. Allah is ever All embracing, All Knowing. (4:130)

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿٤ النساء ١٣٠﴾

اور اگر میاں بیوی (میں موافقت نہ ہو سکے) اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا اور اللہ بڑی کشمکش والا (اور) حکمت والا ہے (130:4)

More Reference : 65:3 Page 388

وللمزيد راجع ٦٥ الطلاق ٣: الصفحة ٣٨٨

مزید حوالہ 65:3 صفحہ 388

**SINGLE PRONOUNCEMENT IS ENOUGH
AND FINAL IF A WOMAN IS DIVORCED
BEFORE CONSUMMATION OF MARRIAGE**

الطلاق قبل الخلوة لا يقتضى
إحصاء العدة

رخصتی سے پہلے طلاق کی صورت میں
ایک ہی طلاق قطعی ہوگی

you who believe! If you marry believing women and then divorce them before you have touched them, there is no waiting period "iddat" that you should count in their case. But content them and divorce them handsomely. (33:49)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسُوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَيَتَعَوَّهِنَّ
وَأَسْرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٣٣ الاحزاب ٤٩﴾

مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے (یعنی ان کے پاس جانے) سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ۔ ان کو کچھ فائدہ (یعنی خرچ) دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو (49:33)

**WHEN TO PRONOUNCE DIVORCE
AND ITS RECKONING FROM PROBATIONARY
WAITING PERIOD**

O Prophet! When you (men) divorce women, put them away for their prescribed period and count the period, (accurately) and fear Allah, your Lord. ----- (65:1) PART

**WAITING PERIOD FOR
DIVORCED WOMEN**

Women who are divorced shall wait, keeping themselves apart, three (monthly) courses. And for it is not lawful for them that they should conceal that which Allah has created in their wombs if they are believers in Allah and the Last Day. And their husbands would do better to take them back in that case if they desire a reconciliation. ----- (2:228) PART

**SECOND PRONOUNCEMENT OF
DIVORCE IS REVOCABLE
(WITH CHANCES OF RECONCILIATION)**

Divorce must be pronounced twice and then (a woman) must be retained in honour or released in kindness. And it is not lawful for you that you take from women anything of that which you have given them; except (in the case) when both fear that they may not be able to remain within the limits (imposed by) Allah. (Only then divorce be made effective) ----- (2:229) PART

When you have divorced women, and they (are about to) fulfill their term, (of Iddat) then either retain them in kindness or release them on equitable terms. Retain them not to their hurt or to take undue advantage so that you transgress (the limits). He who does so (he) has wronged his soul. Make not the revelations of Allah a laughingstock (by your behavior), but remember Allah's grace upon you and that which He has revealed to you the Scripture of the wisdom, for your instruction, and fear Allah and know that Allah is Aware of all things. (2:231)

كيفية إجراء الطلاق

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
﴿٦٥ الطلاق ١﴾ جزء

مدة التربص للمطلقات

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
﴿٢ البقرة ٢٢٨﴾ جزء

المرحلة الحاسمة بعد التطلاق الثاني

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمَّا سَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيَةً
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
أْتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ
﴿٢ البقرة ٢٢٩﴾ جزء

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيَةً بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَفْسٍ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
﴿٢ البقرة ٢٣١﴾

طلاق دینے کا وقت اور عرصہ انتظار کا شمار

اے پیغمبر (مسلمانوں سے کہ دیجئے کہ) جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ ----- (1:65) جزو

مطلقہ عورتوں کیلئے انتظار کا وقفہ

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس (مدت) میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے پورے حق دار ہیں۔ ----- (2:228) جزو

طلاق رجعی
(دوسری مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش)

طلاق (صرف) دو بار ہے (یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو) پھر (عورتوں کو) یا تو بطریق شائستہ (نکاح میں) رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو ہاں اگر بیوی اور شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ ----- (2:229) جزو

اور جب تم عورتوں کو (دو دفعہ) طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہیں رکھنا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور اللہ کے احکام کو ہنسی (اور کھیل) نہ بناؤ اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے (231:2)

**LAST CHANCE TO HUSBAND
FOR FINAL DECISION BEFORE EXPIRY
OF WAITING PERIOD EITHER TO RETAIN
OR TO RELEASE WIFE DECENTLY**

Then, when they (are about to) fulfill their term, of Iddat, either take them back on equitable terms or part from them in kindness, and call to witness two impartial persons among you, and keep your testimony upright for Allah. Whoso believes in Allah and the Last Day is instructed to act thus. And whosoever fears Allah, Allah will grant a way out for him, (65:2)

**اختیار الرجل لامساک
المرأة او فراقها**

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاَشْهَدُوْا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهٖ
مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

عدت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے خاوند کیلئے بیوی کو رکھنے یا جدا کر دینے (تیسری مرتبہ طلاق دینے کے) فیصلے کا آخری موقع

پھر جب وہ اپنی عدت کو پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے (زوجیت میں) رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور (گواہوں) اللہ کی رضا مندی کے لئے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت راہبان رکھتا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لئے (رنج و غم سے) نجات کی صورت پیدا کر دے گا (2:65)

**PRONOUNCING DIVORCE THIRD TIME
IS IRREVOCABLE**

الطلاق البائن

تیسری طلاق (قطعی)

**REUNION
REMARRYING AFTER FINAL DIVORCE
THE ONLY WAY IS TO UNDERGO AN ALMOST
UNDESIRABLE CONDITION**

**سبیل واحده للتوللمزید راجع
بعد الطلاق البائن**

سابقہ بیوی کو طلاق قطعی کے بعد دوبارہ نکاح میں لینے کی واحد صورت۔ ایک مشکل شرط
'حلالہ'

and if he has (finally) divorced her (the third time), then it is not lawful to her (to remarry him) thereafter until she has wedded some other husband. Then if he (the latter husband) divorces her willingly when it is no blame for both of them that they return to one another again provided they consider that they are able to observe the limits of Allah. These are the limits of Allah. He manifests them for people who have knowledge. (2:230)

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَيْثُ تَنَكَحَ زَوْجًا غَيْرَہٗۤ اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْہِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ یُقِیْمَا حُدُودَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ یُبَیِّنُہَا لِلْقَوْمِ یَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

پھر اگر شوہر (دو طلاقوں کے بعد تیسری) طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس (پہلے شوہر) پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی (اپنی مرضی سے) طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں شرط یہ کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کیلئے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں (230:2)

**SPOUSES SHALL TRY TO COME
TO AN AMICABLE SETTLEMENT
AMONG THEMSELVES**

**ینبغی للزوجین ان یوافقا
علی الصلح بینہما**

میاں بیوی کو تنازعات کے حل کے لیے آپس میں مناسب قراردادیں پر اتفاق کر لینا چاہئے

if a woman fears ill-treatment (abuse or cruelty) from her husband, or coercion, it is no blame for them either if they make terms of peace between themselves. Peace is better. But greed has been made present in the minds (in all souls). If you do good and keep from evil surely Allah is ever informed of what you do. (4:128)

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
فَلَا جُنَاحَ عَلَیْہِمَا اَنْ یُصَلِّحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا
وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحْرَ وَإِنْ
تَحْسَبُوْنَ وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرًا ﴿١٢٨﴾

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں اور صلح خوب (چیز) ہے اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں کیونکہ ہر نفس میں شامل کر دیا گیا ہے اور اگر تم اچھا سلوک اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے (128:4)

TRICK OF TREATING WOMAN BADLY TO FORCE HER TO SUE FOR A "KHULA" (RATHER THAN TO DIVORCE HER) FORFEITURE OF DOWER IS FORBIDDEN

For Detail Consult : 2:229,231 4:19,34
Page 527/529

"KHULA"

A WOMAN FEARING CRUELTY OR DESERTION BY HER HUSBAND IS PERMITTED TO INITIATE DIVORCE TO PART AWAY

THERE IS NO BLAME IN PAYMENT OF RANSOM (CERTAIN COMPENSATION) BY A WIFE TO OBTAIN FREEDOM FROM HER OPPRESSOR HUSBAND, IF THEY FEAR NOT TO KEEP LIMITS ORDAINED BY ALLAH(SWT)

-----And if you fear that they may not be able to keep the limits of Allah, in that case it is no blame for either of them if the woman gives something (pays ransom for her freedom). These are the limits (imposed by) Allah. Transgress them not. For whoso transgresses Allah's limits: Such are wrongdoers. (2:229) PART

PRIVILEGES OF DIVORCED WOMEN

IT IS DECENT TO BESTOW SUITABLE GIFT ACCORDING TO YOUR MEANS, EVEN IF YOU DIVORCE WOMAN BEFORE CONSUMMATION

-----To forgo is nearer to piety. And forget not kindness among yourselves. Allah is Seer of what you do. (2:237) PART

DEALING WITH KINDNESS (FAIR AND JUST SETTLEMENT) WITH DIVORCED WOMEN IS A DUTY OF RIGHTEOUS HUSBANDS

For divorced women a provision in kindness; is a duty for those who ward off (evil). (2:241)

لايحل أزجاج المرأة حتى تضطر إلى طلب الخلع بغير الحصول على مهرها

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٣١، ٢٢٩: ٤ ٣٤، ١٩: ٤
الصفحة ٥٢٧/٥٢٩

الخلع
طريقة نهائية لتخلص المرأة من الرجل الجائر

الزوجان إذا خافا أن لا يقيما حدود الله، فيجوز للمرأة أن تفتدي بتخلصها

..... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ جزء

حقوق المرأة المطلقة

إعطاء متاع للمطلقة غير المدخولة مستحسن

..... وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ جزء

للمطلقات متاع بالمعروف

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

عورت کو طلاق دینے کی بجائے خلع کی درخواست دینے پر مجبور کرنے کے لئے ناجائز تنگ کرنا (تا کہ خلع مہر ادا نہ کرنا پڑے) ناجائز ہے

تحلیل کیلئے دیکھئے 231,229:2 34,19:4
صفحہ 529/527

خلع
عورت کو اپنے بددماغ (بے رحم) اور بے پرواہ شوہر سے رہائی پالنے کی اجازت

اگر اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکے گا ڈر ہو تو عورت کو رہائی حاصل کرنے کے لیے کچھ ادا کرنا بھی پڑے تو کچھ گناہ نہیں

----- اس لئے اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو اگر عورت (خاوند کے ہاتھ سے) رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں یہ اللہ کی (مقرر کی ہوئی) حدود ہیں ان سے باہر نہ نکلنا۔ اور جو لوگ اللہ کی حدود سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے (2:229) جزو

مطلقة عورتوں کے حقوق

رخصتی سے پہلے طلاق ہو جانے کی صورت میں بھی حسب استطاعت عورت کو کچھ مال (تحفہ) دینا بھلائی ہے

----- اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ (2:237) جزو

مطلقة عورتوں سے بہتر انداز میں معاملہ نہیں اور حسن سلوک کا پرہیزگار شوہروں کو حکم

اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہئے (حسن سلوک اور طیب قلوب کا اہتمام) پرہیزگاروں پر (یہ بھی) حق ہے (2:241)

Thus Allah expounds to you His revelations so that you may understand. (2:242)

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾
﴿٢ البقرة ٢٤٢﴾

اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو (242:2)

More Reference : 2:237 4:21 33:49
Page 522, 530, 526

والصبر يذراجع ٢ البقرة: ٢٣٧ ٤ النساء: ٢١
٣٣ الأحزاب: ٤٩ الصفحة ٥٢٢, ٥٣٠, ٥٢٦

مزید حوالہ 2:237 4:21 33:49
صفحہ 526, 530, 522

**TAKING BACK EVEN A LEAST BIT
OUT OF WHOLE DOWER
(MAY IT BE ANY TREASURE)**

**FROM FIRST WIFE, WHILE REPLACING HER BY
MARRYING SECOND ONE IS A MANIFEST SIN**

لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَخْذَ الْمَالِ
مِنَ الْمَطْلُوقَةِ عِنْدَ اسْتِبْدَالِ الزَّوْجِ

دوسری شادی کرتے وقت پہلی بیوی کو دیئے ہوئے مال میں سے (چاہے کتنا خزانہ ہی کیوں نہ ہو) ذرہ برابر بھی واپس لینا کھلا گناہ ہے

and if you wish to replace one wife for another and you have already given to her a large sum of money (however great), take nothing from it. Would you take it (hold it) by the way of calumny (slander) and open enmity? (4:20)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّمَّنْ زَوْجِهَا وَأْتَيْتُمُوهَا مِنْهَا قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذْ بِهَا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَ بِهَا بِهَيِّئَاتِكُمْ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ فِيهَا عُقَّابٌ ﴿٢٠﴾
﴿٤ النساء ٢٠﴾

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی (واپس) مت لینا۔ بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لو گے؟ (20:4)

How can you take it (back) after one wife has gone in to the other, and they have taken a solemn agreement from you? (4:21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ بِهَا وَقَدْ آفَضْتُمْ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ يُثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾
﴿٤ النساء ٢١﴾

اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد و پیمانے لے چکی ہیں (21:4)

**PHILOSOPHY IN RIGHT OF LODGING
OF DIVORCED WOMAN TILL EXPIRY
OF HER PRESCRIBED PERIOD**

استحقاق المطلقة للإقامة
خلال زمن العدة

مطالقة عورت کے دوران
عدت حق سکونت میں حکمت

Expel them not from their houses nor let them go forth unless they commit an open immorality. Such are the limits (imposed by) Allah, and whoso transgresses Allah's limits, he wrongs his soul. You know not it may be that Allah will afterward bring some new thing to pass. (65:1) PART

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٥﴾
﴿٦٥ الطلاق ١﴾ جزء

عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ (خود ہی) نکلیں۔ ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں (تو نکال دینا چاہئے) اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا (اے طلاق دینے والے) تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی (رجوع کی) سبیل پیدا کر دے (1:65) جزو

**DO NOT HINDER DIVORCED WOMAN
FROM MARRYING AT HER OWN CHOICE**

للمطلقة حرية بالنكاح

طلاق کے بعد عورت کی دوسری
شادی میں رکاوٹ نہ ڈالو

When you have divorced women and they reach their term (Completed Prescribed period) Do not create difficulties in the way of their marrying (another or former) husbands if it is agreed between them on equitable terms. This is an admonition for him among you who believe in Allah and the Last Day. This is more virtuous for you, and Praise and Allah knows and you know not. (2:232)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾
﴿٢ البقرة ٢٣٢﴾

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس (حکم) سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لئے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (232:2)

<p>PRIVILEGES OF WIDOWED WOMEN</p>	<p>حقوق النساء الأرامل</p>	<p>بیوہ عورتوں کے حقوق</p>
<p>TAKING BACK ANY PART OF DOWER (GIFTS OF HER DECEASED HUSBAND) FROM WIDOWED WOMAN IS FORBIDDEN</p>	<p>لايجوز لورثة الأرملة أن يأخذوا من مال بعلها المتوفى</p>	<p>ورثاء کو بیوہ عورت سے اس کے مرحوم خاوند کے دیئے ہوئے مال میں سے کچھ واپس نہیں لینا چاہئے</p>
<p>Nor (that) you should put constraint upon them (hinder them from remarrying) that you may take away a part of (dower) that which you have given them, unless they are guilty of flagrant lewdness. (4:19) PART</p>	<p>وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ﴿٤﴾ النساء ١٩ ﴿جزء﴾</p>	<p>اور (دیکھنا) اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ (واپس) لے لو (گھروں میں) مت روک رکھنا۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں (تو روکنا نامناسب نہیں)۔ (4:19) جزو</p>
<p>MARRYING WIDOW WOMAN BY CONSIDERING HER AS INHERITED, WITH THE INTENTION OF TAKING HER PROPERTY INTO POSSESSION IS PROHIBITED</p>	<p>نكاح رجل من أهل الأسرة أرملة بالجبر للحصول على العقار منهي عنه</p>	<p>بیوہ عورت سے (اہل خاندان کا جائیداد پر قبضہ کیلئے) اسے مال میراث سمجھ کر زبردستی شادی کر لینے کی ممانعت</p>
<p>O you who believe! It is not lawful for you forcibly to inherit women (of your deceased kinsmen.) (4:19) PART</p>	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ﴿٤﴾ النساء ١٩ ﴿جزء﴾</p>	<p>مومنو تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ (4:19) جزو</p>
<p>MAINTENANCE WITHOUT EXPULSION FROM DECEASED HUSBAND'S HOUSE A RIGHT OF WIDOWED WOMAN</p>	<p>استحقاق الأرملة للإقامة بيت زوجها المتوفى إلى الحول</p>	<p>بیوہ عورت کا متوفی مرد کے گھر میں حق سکونت</p>
<p>In the case of those of you who are about to die and leave behind them widows, they should bequest for their widows a provision for the year without turning them out, but if they go out (of their own accord) there is no blame on you in which they do of themselves within their rights. Allah is Mighty, Wise. (2:240)</p>	<p>وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ البقرة ٢٤٠ ﴿جزء﴾</p>	<p>اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام (یعنی نکاح) کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور اللہ زبردست حکمت والا ہے (240:2)</p>
<p>PRIVILEGES OF PREGNANT WOMEN (DIVORCED OR WIDOWED) For Detail Consult : 2:228,233 65:4,6 Page 513/523, 534, 532, 533</p>	<p>حقوق الحوامل والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٢٨، ٢٣٣، ٦٥ الطلاق: ٦٤ الصفحة ٥١٣، ٥٣٢، ٥٣٤، ٥٣٣</p>	<p>حاملہ (مطلقہ یا بیوہ) عورتوں کے حقوق تفصیل کیلئے دیکھئے 2:228,233 65:4,6 صفحہ 513, 532, 534, 523/513</p>

REGULATIONS REGARDING "IDDAT" (PRESCRIBED PERIOD (WAITING TERM)) قوانین عدت

<p>WAITING PERIOD OF WIDOWHOOD</p>	<p>عدة الارامل</p>	<p>بیوہ عورتوں کی عدت</p>
<p>Such of you as die and leave behind them widows, they (the widows) shall wait, keeping themselves apart, four months and ten days. And when they fulfill the term (prescribed for them) then there is no blame for you that they may do with themselves (remarry) in reasonable manner. Allah is Well Acquainted of what you do. (2:234)</p>	<p>وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُدٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ البقرة ٢٣٤ ﴿جزء﴾</p>	<p>اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں اور جب (یہ) عدت پوری کر لیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام (یعنی نکاح) کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے (234:2)</p>

**NO WAITING PERIOD
FOR A WOMAN DIVORCED UNTOUCHED
(BEFORE NUPTIAL CONTACT)**

you who believe! If you wed believing women and divorce them before you have touched them, then there is no prescribed period that you should count in their case. But content them (giving some present) and release them handsomely. (49)

**الطلاق قبل الخلوة لا يقتضى
إحصاء العدة**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ تَعَوُّهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾
(٣٣ الاحزاب ٤٩)

**رخصتی سے پہلے طلاق کی صورت میں
عدت کی شرط نہیں**

مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے (یعنی ان کے پاس جانے) سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ۔ ان کو کچھ فائدہ (یعنی خرچ) دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو (49:33)

**"EDAT" (WAITING PERIOD) FOR A WOMAN
WHO HAVE PASSED THE AGE OF BEING
PREGNANT (STOPPED MENSTRUATION)**

**عدة العجوز
التي يئست من المحيض**

**بوڑھی (ایام حیض سے ناامید)
عورتوں کی عدت**

**EDAT FOR YOUNG WOMEN WHO HAVE NOT
STILL STARTED MENSTRUATING
(HAVE NOT ATTAINED THE BREEDING AGE)**

عدة النساء اللاتي لم يحضن

**کم سن۔ ایام حیض جاری نہ ہونے والی
عورتوں کی عدت**

And for such of your women as have passed the age of menstruation, for them. A prescribed period if you have any doubt is three months. Along with those who have it not. (It is the same as for three calendar months) (65:4) PART

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضُنَّ
(٦٥ الطلاق ٤ جزء ٤)

اور تمہاری عورتیں جو حیض سے ناامید ہو چکی ہوں اگر تم کو (ان کی عدت کے بارے میں) شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا (ان کی عدت بھی یہی ہے) یعنی ان کی عدت تین مہینے ہے (4:65) جزو

**WAITING PERIOD FOR PREGNANT WOMEN
(DIVORCED OR WIDOWED)**

عدة الحوامل

حاملہ عورتوں کی عدت

And for those who are pregnant their term shall be until they give birth (bring forth their burden.) And whosoever keeps his duty to Allah, He makes his course easy for him. (65:4) PART

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٦٥﴾
(٦٥ الطلاق ٤ جزء ٤)

اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل (یعنی بچہ جننے) تک ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا (4:65) جزو

This is the commandment of Allah which He reveals to you. And whoso keeps his duty to Allah, He will remit from him his evil deeds and magnify reward for him. (65:5)

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ﴿٦٥﴾
(٦٥ الطلاق ٥)

یہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے تم پر نازل کئے ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم فرمائے گا (5:65)

**PROPER RECKONING
OF WAITING PERIOD**

الأمر بإحصاء زمن العدة بالتدقيق

**عدت کے عرصہ کا صحیح (پورا)
شمار کرنے کا حکم**

For detail Consult : 65:1 Page 527

وللتفصيل راجع ٦٥ الطلاق ١: الصفحة ٥٢٧

تفصیل کیلئے دیکھئے 1:65 صفحہ 527

**WAITING PERIOD FOR
DIVORCED WOMEN**

مدة التربص للمطلقات

مطلقہ عورتوں کے لئے عدت

For detail Consult : 2:228 Page 513/523

وللتفصيل راجع ٢ البقرة ٢٢٨: الصفحة ٥٢٣/٥١٣

تفصیل کیلئے دیکھئے 228:2 صفحہ 523/513

**PRIVILEGES OF SUCKLING
FOSTERING WOMAN**

الحقوق من الرضاعة

دودھ پلانے (رضاعت) کے حقوق

**IMPORTANCE OF BREAST FEEDING
FOR INFANT**

أهمية الرضاعة من ثدى الأم
فى تنشئة الطفل

بچے کی نشوونما (پرورش) کے لئے
اپنی ماں کے دودھ کی اہمیت

Mothers shall breast feed their children for two whole years; -----
----- (2:233) PART

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
﴿البقرة ۲۳۳﴾ جزء

اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال اپنا دودھ
پلائیں ----- (233:2) جزو

And We inspired the mother of Moses, saying: Suckle him-----
----- (28:7) PART

وَإِذْ هَمَّ بِإِسْرَائِيلَ أَن نَّسُفَّعَهُ بِرِجْلِهَا فَمَدَّ إِلَىٰهَا
﴿القصص ۷﴾ جزء

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ
پلاؤ ----- (7:28) جزو

And We had before ordained that he refused to such foster-mothers so (His sister came up) and she said: Shall I point out you a household who will nourish him for you and take care of him? (28:12)

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ
وَهُمْ لَهَا نَاصِحُونَ ﴿۲۸﴾
﴿القصص ۱۲﴾

اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر (دایوں کے) دودھ حرام
کردیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا میں تمہیں ایسے گھر
والے بتاؤں کہ تمہارے لئے اس (بچے) کو پالیں اور
اس کی خیر خواہی (سے پرورش) کریں (12:28)

And We have enjoined upon every man concerning his parents. His mother bears him in travail upon travail and his weaning takes two years----- (31:14) PART

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا
عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ ﴿۳۱﴾
﴿لقمان ۱۴﴾ جزء

اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت
کی ہے۔ جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف برداشت
کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے (پھر اس کو دودھ
پلاتی ہے) اور (آخر کار) دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا
ہوتا ہے ----- (14:31) جزو

-----And the bearing of him and the weaning of him is thirty months, till, when he attains full growth----- (46:15) PART

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ
﴿الاحقاف ۱۵﴾ جزء

----- اور اس کا ماں کے پیٹ میں رہنا اور دودھ
چھوڑنا ڈھائی برس میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب
خوب جوان ہوتا ----- (15:46) جزو

More Reference : 22:2 Page 790

وللمزيد راجع ۲۲ الحج: ۲: الصفحة ۷۹۰

مزيد حوالہ 22:2 صفحہ 790

**INSTRUCTIONS FOR TAKING SPECIAL
CARE OF PREGNANT WOMAN
(IF SHE IS DIVORCED EVEN)**

التوصية برعاية ذات الحمل
التوصية الخصوصية و لو كانت مطلقة

حاملہ عورت کی خصوصی دیکھ بھال کی ہدایات
(بے شک وہ مطلقہ ہی کیوں نہ ہو)

Lodge them where you dwell, according to your circumstances and harass them not so as to make their life difficult for them. And if they are with child (pregnant) then provide for them till they bring forth their burden (give birth). Then, if they provide nursing (any baby) for you, give them their due payment and consult together in decency; but if you make difficulties for one another, then let some other wet nurse give suck for him (the father of the child to pay). (65:6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ فَلْيَفْقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُّوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِعُرْفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُنَّ لَهَا أُخْرَىٰ ﴿۶۵﴾
﴿الطلاق ۶﴾

(مطلقہ) عورتوں کو (ایام عدت میں) اپنی حیثیت کے مطابق
وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لئے
تکلیف نہ دو۔ اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ
دیتے رہو۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو
ان کو ان کی اجرت دو اور (بچے کے بارے میں) پسندیدہ
طریق سے موافقت رکھو اور اگر باہم ضد (نا اتفاق) کرو گے تو
(بچے کو) اس کے (باپ کے) کہنے سے کوئی اور عورت دودھ
پلائے گی (6:65)

SUCKLING PERIOD FOR INFANTS AND COMPENSATION OF SUCKLING MOTHER

مدة الرضاعة وأجرة الاسترضاع

دودھ پلانے کی میعاد اور (عرصہ) اور دودھ پلانے والی عورتوں کا معاوضہ

NO MOTHER SHALL BE TREATED UNFAIRLY ON ACCOUNT OF HER CHILD NOR FATHER SHALL BE CHARGED UNJUST FOR HIS CHILD BOTH SHALL DECIDE ON WEANING BY MUTUAL CONSENT

النهي عن الضرر من أي واحد من الوالدين بالنسبة من تشة الطفل

اولاد کی پرورش کے لئے ماں باپ (علیحدگی کے باوجود) آپس میں باہمی رضامندی سے معاملہ طے کریں اور ایک دوسرے کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائیں

Mothers shall breast feed their children for two whole years; (that is) for those who wish to complete the suckling. The duty of feeding and clothing of nursing mothers in a seemly manner is upon the father of the child. No one should be charged beyond his capacity. A mother should not be made to suffer because of her child, nor should he to whom the child is born (be made to suffer) because of his child. And on the father's heir is incumbent the like that (which was incumbent on the mother). If they desire to wean the child by mutual consent on the agreed terms (consultation) it is no sin for them; and if you wish to give your children out to wet nurse it is no sin for you, provided that you pay what is due from you in decency. Observe your duty to Allah, and know that Allah is Seer of what you do. (2:233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا لِاتِّضَاعِ وَالِدَةٍ بِوَلَدِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِيهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ (حکم) اس شخص کے لئے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی (تو یاد رکھو کہ) نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور اسی طرح (نان نفقہ) بچے کے وارث کے ذمے ہے۔ اور اگر دونوں (یعنی ماں باپ) آپس کی رضامندی اور (مشورہ) صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں مگر شرط یہ ہے کہ تم دودھ پلانے والی عورتوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا تھا دے دو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے (233:2)

Reference : - 31:14 46:15 65:6
Page 452, 400/451, 533

والمزيد راجع ٣١ لقمان ١٤: ٤٦ الأحقاف ١٥
٦٥ الطلاق ٦: الصفحة ٤٥٢، ٤٥١/٤٠٠، ٥٣٣

مزيد حوالہ 6:65 15:46 14:31
صفحہ 533, 451/400, 452

EXTENT OF SPENDING (ON MOTHER) FOR CARE AND MAINTENANCE OF INFANT BY THE FATHER

مقدار الأجرة للرضاعة التي تدفع الى الام المطلقة من عند الوالد

والد کی طرف سے بچہ کی دیکھ بھال کے لئے مطلقہ ماں کو دیئے جانے والے معاوضہ کی مقدار

If the man of means should spend according to his means and the man whose resources are restricted should spend according to what Allah has bestowed on him. Allah puts no burden on any person beyond what He has given to him. Allah will soon grant ease after hardship. (65:7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے اور اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشنے گا (65:7)

REVERENCE OF FOSTER RELATIONS (MOTHER - SISTERS AND BROTHERS)

احترام القربى من الرضاعة

رضاعی رشتوں کا احترام

For detail Consult : 4:23 Page 516

والمزيد راجع ٤ النساء ٢٣: الصفحة ٥١٦

تفصیل کیلئے دیکھئے 23:4 صفحہ 516

SEX DISCIPLINE

قَوَائِمُ الْعَلَاَقَاتِ الْجَنَسِيَّةِ

جَنَسِيَّاتِ تَعْلَقَاتِ كِ صَوَابِطِ

SEXUAL RELATIONS WITH WIVES SHALL BE IN A MANNER TO HAVE PROGENY

Your wives are a tilth for you (meant to cultivate) so go to your cultivation whenever you wish and send (good deeds) before you for your souls, and fear Allah, and know that you will (one day) meet Him. Give glad tidings to believers, (O Muhammad). (2:223)

More Reference : 4:24 Page 519/521

RESTRICTION ON SEXUAL RELATIONS WITH SPOUSES IN CERTAIN SITUATIONS

For Detail Consult : 2:187,197 Page 262/263, 288

DO NOT APPROACH WIFE DURING MENSTRUATION (THEIR PERIOD OF DISCHARGE OF BLOODY MATTER AT MONTHLY INTERVALS)

They question you (O Muhammad) concerning menstruation. Say: It is a nuisance, so keep away from woman, at such time and go not into them (for sexual contact) till they are cleansed. And when they have purified themselves, then go into them as Allah has enjoined upon you. Truly Allah loves those who turn to Him, and those who have a care for cleanness. (2:222)

More Reference Consult : Chapter preventive measures against Venereal and Skin diseases. Page 541

TAKING FULL BATH BECOMES IMPERATIVE AFTER COITION (SEMINAL EMISSION)

For Detail Consult : 4:43 5:6 Page 252,251

("QURANIC CHAPTER LIGHT") SURA AL-NOOR HAS BEEN ENJOINED AS A LESSON ON SEX REGULATIONS

Here is (chapter) which We have revealed and ordained, and wherein We have revealed plain tokens, that haply you may take heed (receive admonition). (24:1)

العلاقات الزوجية للحصول على الذرية

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شِئْتُمْ وَقَدْ مَوْلَا أَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ البقرة ٢٢٣

وللمزيد راجع ٤ النساء: ٢٤ الصفحة ٥١٩/٥١٢

المحظورات بشأن العلاقات الزوجية بحسب الظروف

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٨٧، ١٩٧ الصفحة ٢٦٢/٢٦٣، ٢٨٨

منع الجماع في أيام الحيض

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ البقرة ٢٢٢

وللمزيد راجع ابواب التدابير الوقائية من الأمراض التناسلية والجلدية الصفحة ٥٤١

وجوب الاغتسال من الجنابة

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ٤٣ ٥ المائدة: ٦

سورة النور تدلنا على جادة الصواب في موقف العلاقات الجنسية

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَقَرَّضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ النور ٢٤

بيویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات بطور کھیتی (برائے حصول اولاد)

ہماری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح ہو جاؤ۔ اور اپنے لئے (نیک عمل) آگے بھیجو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ (ایک دن) تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور (اے پیغمبر) ایمان والوں کو خوش خبری سنا دیجئے (223:2)

مزید حوالہ 24:4 صفحہ 512/519

تعلق زوجین پر مخصوص حالات میں پابندی

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:187,197 - صفحہ 262/263, 288

ایام حیض میں جماع کی ممانعت

اور آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ تو نجاست (گندگی) ہے سو ایام حیض میں گورتوں سے (مباشرت سے) کنارہ کش رہو۔ اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے (222:2)

مزید حوالہ مطالعہ جلدی اور جنیاتی امراض سے حفاظتی تدابیر صفحہ 541

جنسی تعلقات کے بعد غسل جنابت لازمی ہے

تفصیل کے لئے دیکھئے 4:43 5:6 صفحہ 251,252

قرآن کریم کی سورۃ نور نبی نوع انسان کو جنسی معاملات میں ضروری ہدایات فراہم کرتی ہے

یہ (ایک) سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس (کے احکام) کو فرض کر دیا اور اس میں واضح (کھلے احکامات) آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو (1:24)

**ADULTERY - FORNICATION
SEXUAL MISCONDUCT-A GREAT OFFENCE (SIN)**

And come not near to adultery. It is an abomination and an evil way. (17:32)

الزنى جريمة كبيرة

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

﴿١٧ بنى اسرائيل ٣٢﴾

زنا۔ بدکاری ایک بہت بڑا جرم (گناہ)

اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے (32:17)

**PUNISHMENT FOR FORNICATION BY
UN-MARRIED MAN AND WOMAN
FLOG WITH STRIPES PUBLICLY
AS A DETERRENT
(ORDAINED DURING THE YEAR 5 AH)**

Flog both the adulterer man and the adulteress woman (with) a hundred stripes. And let not pity for the wain withhold you from compliance of Allah, if you believe in Allah and the Last Day. And let a party of believers witness their punishment. (24:2)

إجراء العقوبة على الزانى والزانية على رؤوس الأشهاد نکالا للمجتمع (بالعام ٥ هج)

زنا اور بدکاری کرنے والے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو دڑے مارنے کی سزا اور اسکی تشہیر برائے عبرت عوام الناس حکم دوران سال 5ھ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤ النور ٢﴾

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد (جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو) دونوں میں سے ہر ایک کو سو دڑے مار دو۔ اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شریعت الہی (کے حکم) میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے اور چاہئے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو (2:24)

**PUNISHMENT FOR MARRIED WOMAN
GUILTY OF ADULTERY**

عقوبة الزانية المتزوجة

شادی شدہ زانیہ کی سزا

**PUNISHMENT OF STONING TO DEATH
FOR ADULTERY (OF MARRIED MEN AND
WOMEN) WAS ALSO ORDAINED IN TORAH**

كانت عقوبة الرجم للزاني والزانية المتزوجين مكتوبة في التوراة

شادی شدہ زانی (عورت اور مرد) کے لئے (رجم سنگسار) کرنے کی سزا تورات میں درج تھی؟

For Detail Consult : 5:41 to 44 Page 744,576

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٤١ الى ٤٤ الصفحة ٥٧٦,٧٤٤

تفصیل کے لئے دیکھیے 41:5 تا 44 صفحہ 576,744

**SOCIAL BOYCOTT OF PERSONS GUILTY
OF ADULTERY OR FORNICATION**

المقاطعة الاجتماعية للزاني والزانية

بدکار مرد اور عورت کا معاشرتی بائیکاٹ

For Detail Consult : 4:15,16 24:3 Page 537

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ١٥:١٥ ٢٤ النور: ٣

تفصیل کے لئے دیکھیے 3:24 16,15:4 صفحہ 537

**PERSONS GUILTY OF ADULTERY
AND FORNICATION SHALL FACE PUNISHMENT
AND IGNOMINY IN THE WORLDLY LIFE**

عقوبة الزانى والزانية فى الدنيا

بدکار مرد اور عورت کے لئے دنیا کی زندگی میں سزا اور رسوائی

Detail Consult : 4:15 24:2 Page 537,536

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ١٥: ٢٤ النور: ٢

تفصیل کے لئے دیکھیے 2:24 15:4 صفحہ 536,537

**PERSONS GUILTY OF ADULTERY
AND FORNICATION WILL MEET CHASTISEMENT
AND IGNOMINY IN THE HEREAFTER**

العقاب الدائم للزاني والزانية

بدکار مرد اور عورت کے لئے ابدی سزا اور ذلت

And those who appeal not to any other god along with Allah, nor the life which, Allah has bidden save in (course of) vice, nor commit adultery and also does this shall pay the penalty; (25:68)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٢٥ الفرقان ٦٨﴾

اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق (یعنی شریعت کے حکم) سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا (68:25)

The doom will be doubled for him on the Day of Resurrection, and he will abide therein disdained forever. (25:69)

يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٢٥﴾
﴿٢٥﴾ الفرقان ٦٩

یامت کے دن اس کو دوگنا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا (69:25)

**VIOLATING CHASTITY OF WOMEN
COMMITTING RAPE - RAVISHMENT
IS FORBIDDEN AND ITS PUNISHMENT**

More Reference : 5:33 24:33 85:10
Page 162, 520/540

النهي عن اغتصاب النساء و عقوبته

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٣٣ ٢٤ النور: ٣٣
٨٥ البروج: ١٠ الصفحة 162, 540/520

عورتوں کی آبروریزی (جنسی تشدد)
کی ممانعت اور اس کی سزا

تفصیل کیلئے دیکھئے 5:33 24:33 85:10
صفحہ 162, 540/520

**EVIDENCE OF FOUR WITNESSES TO TESTIFY THE
CRIME OF ADULTERY OR FORNICATION**

As for those of your women who are guilty of sexual offence call to witness four of you against them. And if they testify (to the truth of the allegation) then confine them to the houses until death takes them or (until) Allah grants for them a way. (4:15)

إثبات تهمة الزنا بالاستشهاد

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ
فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ
أَوْ يُجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾
﴿١٥﴾ النساء

بدکاری کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے
چار گواہوں کی شہادت

مسلمانو! تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا کام کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار اشخاص کی شہادت لو اگر وہ (ان کی بدکاری کی) گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے اللہ ان کے لئے کوئی اور سبیل راستہ پیدا کرے (15:4)

**PUNISHMENT FOR A PERSON
WHO LAUNCHES CHARGE OF ADULTERY-
INCEST ON CHASTE LADY
BUT FAILS TO PRODUCE WITNESSES**

And those who accuse honourable women but bring not four witnesses, flog them (with) eighty stripes and never (afterward) accept their testimony --They indeed are evildoers-- (24:4)

عقوبة القذف على المحصنات
عند عدم الاستشهاد

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾
﴿٤﴾ النور

پاک دامن عورت پر بدکاری، زنا کی تہمت لگانے لگا کر گواہ نہ لاسکنے کی صورت میں سزا

اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی درجے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بدکردار ہیں (4:24)

As for those who slander virtuous, believing women (who are) careless, cursed are they in the world and the Hereafter. Theirs will be an awful doom. (24:23)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنَةُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾
﴿٢٣﴾ النور

اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت (دونوں) میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا (23:24)

More Reference : 24:24,25 Page 809, 819

وللمزيد راجع ٢٤ النور: ٢٤، ٢٥ الصفحة ٨٠٩، ٨١٩

**PROCEDURE OF REFUTATION
OF CHARGE BY WIFE FOR HER ACQUITTAL**

For Detail Consult : 24:8,9,10 Page 526

اللعان و كيفية براءة المرأة منه

وللتفصيل راجع ٢٤ النور: ٨، ٩، ١٠ الصفحة 526

مزید حوالہ 24:24، 25:24 صفحہ 809، 819

بیوی پر خاوند کا تہمت لگانا (لعان)
اور عورت کا الزام سے برات کا طریقہ

تفصیل کیلئے دیکھئے 24:8، 9، 10 صفحہ 526

**BOTH MAN AND WOMAN ARE ORDAINED
TO PRESERVE THEIR CHASTITY
(GUARD THEIR PRIVATE PARTS OF BODY WHICH
ARE INDECENT TO EXPOSE EXCEPT TO THEIR SPOUSES)**

And who guard their modesty. (23:5)(70:29)

الأمر بحفظ الفروج
للجنسين الذكر والانثى

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾
﴿٢٣﴾ المؤمنون ﴿٥﴾ ﴿٧٠﴾ المعارج ﴿٢٩﴾

حفاظت عصمت کا (شرم گاہوں کی حفاظت)
مرد اور عورت دونوں سے یکساں تقاضا

اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں (5:23)
(29:70)

-----And men who guard their modesty and women who guard (their modesty), and men who remember Allah often and women who remember Allah often--Allah has prepared for them forgiveness and a vast reward. (33:35) PART

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٣٥﴾ جزء

----- اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے (35:33) جزو

TAKING CARE OF GESTATION TO MAINTAIN PROPER PARENTAL TITLE AND TO AVOID BASTARDY

الإحتفاظ بالنسب وتجنب النطفة

حفظ النسب (والاقتساب كالأولاد) من أجل تجنب النطفة

IT IS NOT LAWFUL TO HIDE PREGNANCY FOR ANY REASON

النهي عن كتمان وجود الجنين في الرحم

کسی بھی مجبوری یا غرض کے لیے حمل کو چھپانے کی ممانعت

----- And it is not lawful for them that they should conceal that which Allah has created in their wombs if they are believers in Allah and the Last Day. (2:228) PART

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ﴿٢٢٨﴾ البقرة ٢٢٨ ﴿جزء

----- اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ (2:228) جزو

Detail Chapter : Prescribed Period Page 531

والمزيد راجع قوانين العدة الصفحة ٥٧١

تفصیل کیلئے دیکھئے باب : قوانین عدت صفحہ 531

FORCED ABORTION IS FORBIDDEN

النهي عن إسقاط الحمل (أو الإجهاض الصناعي)

خود کردہ اسقاط حمل کی ممانعت

INFANTICIDE IS FORBIDDEN

النهي عن قتل الأولاد

اولاد کے قتل کی ممانعت

----- Thus have their (so-called) partners of Allah) made the killing of their children to seem fair to many of the idolaters, that they may ruin them and make their faith obscure for them. Had Allah willed (it otherwise), they had not done so. We leave them alone with their devices. (6:137)

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ
أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا
عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾
﴿٦ الانعام ١٣٧﴾

اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن (اچھا) بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ (شک میں ڈال) کر دیں اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ایسا کام نہ کرتے آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یونہی رہنے دیجئے (137:6)

----- They are losers who stupidly have slain their children without knowledge, and have forbidden that which Allah bestowed upon them, inventing a lie against Allah. They indeed have gone astray and are not guided. (6:140)

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بَغْيٍ عَلِيمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾
﴿٦ الانعام ١٤٠﴾

جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی سے (بے سمجھی سے) قتل کیا اور اللہ پر (جھوٹ باندھ کر) اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں (140:6)

----- And that you do not kill your children because of poverty. We provide for you and as for them and that you draw near to lewd things whether open or concealed. And that you do not take the life which Allah has made sacred, save in the course of justice. This He has commanded you, in order that you may discern. (17:31) PART

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَآبَاءَهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَضَعَمُ رَبِّهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾
﴿٦ الانعام ١٥١﴾ جزء

----- اور غربت تنگدستی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیوں کہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ جانا۔ اور کسی جان (والے) کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا۔ مگر جائز طور پر (یعنی جس کا شریعت حکم دے) ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو (151:6) جزو

Slay not your children, a fall to poverty. We shall provide for them and for you. No doubt the slaying of them is great sin. (17:31)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ﴿٣١﴾
۱۷ بنی اسرائیل ۳۱

اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا (کیونکہ) ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے (31:17)

More Reference : 60:12 Page 176

واللغزیر راجع ۶۰ الممتحنة: ۱۲ الصفحة ۱۷۶

مزید حوالہ 12:60 صفحہ 176

PUNISHMENT OF FORCED ABORTION AND INFANTICIDE ON THE DAY OF JUDGEMENT

العذاب الأخرى للإجهاض الصناعي وقتل الأولاد

اسقاط حمل - قتل اولاد کی اخروی سزا (ذلت اور عذاب)

For Detail Consult : 25:68,69 Page 536, 537

واللتفصیل راجع ۲۵ الفرقان: ۶۸، ۶۹ الصفحة 537, 536

تفصیل کیلئے دیکھئے 25:68,69 صفحہ 537, 536

NATURAL SYSTEM OF REASONABLE INTERMISSION IN CONCEIVEMENT (BREAST FEEDING OF BABIES)

النظام الطبيعي للفترة المناسبة في استقرار الحمل

بچے کی پیدائش (استقرار حمل) میں مناسب وقفہ کا خود کار قدرتی نظام (مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں)

For Detail Consult : 31:14 46:15 Page 1007, 452, 400

واللتفصیل راجع ۳۱ لقمان: ۱۴ ۴۶ الاحقاف: ۱۵ الصفحة ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۴۵۲، ۴۰۰

تفصیل کیلئے دیکھئے 15:46 14:31 صفحہ 400, 452, 1007

PREVENTIVE MEASURES AGAINST AIDS (HIV VIRUS)

الخطوات التحذيرية لوقاية "ايدز"

ایڈز (ایچ آئی وی وائرس) سے حفاظتی تدابیر

HOMOSEXUALITY - GAYNESS - SODOMY IS FORBIDDEN (COPULATION WITH A MEMBER OF SAME SEX)

النهي عن جماع الجنس بنفسه

ہم جنسی کی ممانعت

What! Of all creatures do you approach to the males, (26:165)

أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ الشعراء ۱۶۵

کیا تم دنیا والوں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو (165:26)

And ignore the wives whom your Lord has created for you? Indeed you are froward folk. (26:166)

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿٢٦﴾ الشعراء ۱۶۶

اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لئے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو (166:26)

And Lot! When he said to his folk: Will you commit sexual misconduct with open eyes. (27:54)

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ النمل ۵۴

اور لوط کو (یاد کرو) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم باوجود دیکھنے بھالنے کے بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ (54:27)

Do you approach men passionately instead of women? No, but you are folk who act senselessly. (27:55)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٢٧﴾ النمل ۵۵

کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت (حاصل کرنے) کے لئے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم آہستہ لوگ ہو (55:27)

**PUNISHMENT FOR SODOMY
AND HOMOSEXUALITY**

عقوبتہ مجامعة الجنس

صحبت ہم جنسی کی سزا

And as for the two of you, who are guilty thereof, punish (trounce) them both. And if they repent and improve, then ostracize (leave them alone) them both. Allah is Relenting, Merciful. (4:16)

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهُمَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٤﴾
﴿٤ النساء ١٦﴾

اور جو دو افراد تم میں سے ایسا کام (بدکاری) کریں تو ان کو ایذا دو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ موڑ لو (سوشل بائیکاٹ) کر لو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا (اور) مہربان ہے (16:4)

**SEXUAL RELATIONS MUST BE RESTRICTED
ONLY WITH THE SPOUSES**

الاكتفاء على جماع الزوجة

صرف اپنی منکوحہ (رفیق حیات) سے جنسی تعلق (مباشرت) کی ہدایت

Except with their spouses and however their right hands possess, (slaves) for them they are not blameworthy, (23:6) (70:30)

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٣﴾
﴿٢٣ المومنون ٦﴾ ﴿٧٠ المعارج ٣٠﴾

مگر اپنی منکوحہ (بیون ساتھیوں) سے یا (کنیزوں سے) جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں کہ (ان سے مباشرت کرنے سے) انہیں ملامت نہیں (6:23) (30:70)

But whoever hankers anything beyond that, such are transgressors, (3:7) (70:31)

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٢٣﴾
﴿٢٣ المومنون ٧﴾ ﴿٧٠ المعارج ٣١﴾

اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ (اللہ کی مقرر کی ہوئی) حد سے نکل جانے والے ہیں (7:23) (31:70)

**PROSTITUTION PROHIBITED
(COMPELLING ANY HELPLESS WOMAN
FOR SUCH AN ACT IS ALSO FORBIDDEN)**

البغاء - تحريم اكره امرأة
مستضعفه على البغاء

قبحہ گری (عصمت فروشی) کی ممانعت
(کسی بے بس عورت کو بدکاری پر مجبور کرنا ممنوع)

Force not your slave girls to prostitution that you may seek enjoyment of the life of the world, if they would preserve their chastity. And if one forces them, (to them, to do other wise) under their compulsion, Allah will be Forgiving, Merciful. (24:33)

وَلَا تُكْرَهُنَّ وَافْتَتِيَنَّهُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٤﴾
﴿٢٤ النور ٣٣﴾ جزء

----- اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو (بے شرمی سے) دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لئے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان (بیچاروں) کے مجبور کئے جانے کے بعد اللہ بخش دینے والا مہربان ہے (33:24) جزو

Reference : 60:10 Page 518

وللمزيد راجع ٦٠ الممتحنة: ١٠: الصفحة ٥١٨

مزید حوالہ 10:60 صفحہ 518

PUNISHMENT FOR PROSTITUTION

عقوبة البغاء

قبحہ گری کی سزا

**ISLAM DOES NOT ALLOW ANY PERSON
(FREE OR SLAVE, MALE OR FEMALE)
SATISFY HIS /HER SEXUAL CRAVINGS
OUTSIDE MARRIAGE IN ANY CASE**

لا ینحول الإسلام قضا الشهوة
من غیر النکاح مهما كانت الظروف

اسلام کسی مجبوری کی حالت میں کسی مرد اور عورت (آزاد یا غلام) کو نکاح کے بغیر جنسیاتی آسودگی حاصل کرنے (قضاے شہوت) کی اجازت نہیں دیتا

For detail Consult : 24:33 Page 520/540

وللتفصیل راجع ٢٤ النور: ٣٣: الصفحة ٥٤٠/٥٢٠

تفصیل کیلئے دیکھیے 33:24 صفحہ 540/520

OBJECT OF SEXUAL RELATIONS WITH SPOUSES SHOULD BE TO HAVE PROGENY RATHER THAN LUST

-----And all beyond those mentioned, are lawful for you, so that you court them with your wealth in honest wedlock, rather than taking them as mistresses, for debauchery.-----
(4:24) PART

الغرض من العلاقة الجنسية بين الزوجين هو طلب الذرية وليس قضاء الشهوة فقط

وَأَجَلَ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ ﴿٢٤﴾ النساء ٢٤ جزء

تعلق زوجین کا مقصد حصول اولاد ہونا چاہئے اور نہ کہ صرف شہوت رانی

-----اور ان (محرمات) کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو مگر شرط یہ کہ (نکاح سے) مقصود برے کاموں سے بچنا ہو اور نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لئے (بہ مثل داشتہ)-----
(24:4) جزو

More Reference : 2:223 Page 535

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٢٣ الصفحة ٥٣٥

مزید حوالہ 2:223 صفحہ 535

PREVENTIVE MEASURES AGAINST VENEREAL AND SKIN DISEASES

For Detail Consult : 2:222 26:165,166 27:54,55 Page 535, 539

التدابير الوقائية من الأمراض التناسلية والجلدية

وللتصیل راجع ٢ البقرة: ٢٢٢ ٢٦ الشعراء: ١٦٥، ١٦٦ ٢٧ النمل: ٥٥، ٥٤ الصفحة ٥٣٥، ٥٣٩

جلدی و جنسیاتی امراض سے حفاظتی تدابیر

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:222 26:165,166 27:54,55 صفحہ 535, 539

ALL ACTS OF ABOMINATION LEAD THE PEOPLE AND NATIONS TO DESTRUCTION

And when We would destroy a township We send commandment to its folk who live at ease, and afterward they commit abomination therein, and so the word (of Doom) has effect for it, and We annihilate it with complete annihilation. (17:16)

الفسق و الفجور يؤديان الى الدمار

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٧﴾ بنى اسرائيل ١٦

تمام بے حیائی کے کام (فواحش) باعث تباہی افراد و اقوام

اور جب ہمارا ارادہ کسی گاؤں کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے (خوشحال) آسودہ لوگوں کو کھلی نافرمانی (فواحش پر) مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے پھر اس پر (عذاب کا) حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا (16:17)

PREVENTIVE MEASURES AGAINST MOLESTATION, FORNICATION AND SLANDER

التدابير لوقاية الزنا والقذف

عورت کی حفاظت عصمت (زنا اور تہمت سے بچنے کے لئے حفاظتی تدابیر)

INJUNCTIONS OF VEILING (ORDAINED DURING YEAR 5AH-627 AD)

أحكام الحجاب (بالمعامه هج بموافق ٦٢٧)

پردہ کے احکامات حکم دوران سال 5ھ بمطابق 627ء

FALSE NOTION OF WEST AGAINST ISLAM REGARDING SECLUSION OF WOMAN

زعم الغرب الزائف في الاسلام بشأن إبعاد المرأة من المجتمع

اسلام میں عورت کو (الگ تھلگ) تنہا کر دینے کا غلط مغربی تاثر

BELIEVER MEN SHOULD AVERT THEIR GLANCES (LOWER THEIR GAZE)

غض البصر للرجال

(مردوں کے لئے پردہ) مسلمان مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں

Tell the believing men to lower their gaze and to guard their private parts. That is virtuous for them. Surely Allah is Aware of what they do. (24:30)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ النور ٢٤

مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے (اور) جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے (30:24)

EXTENT OF DRAWING VEIL FOR BELIEVING WOMEN

And tell the believing women to lower their gaze and to guard their private parts, and do not display their adornment (charms) except that which is (normally) apparent, And to fold their shawls over their bosoms, and not to reveal their adornment except to their own husbands or fathers or fathers in law or their step sons or their sons, or their brothers or their brothers' sons or sisters' sons, (nephews) or their folk women, or their slaves, or male attendants who lack vigor, or children who know nothing of women's nakedness. And let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment. And turn to Allah together, O believers, in order that you may prosper. (24:31)

is no sin for ladies (your wives) to appear before (to converse freely) with their fathers, or their sons: or their brothers, or their brothers' sons, or the sons of their sisters (nephews) or of their own women folk, or their slaves. O ladies keep your duty to Allah. No doubt Allah is witness over all things. (33:55)

BELIEVING WOMEN SHOULD DRAW CLOAKS

(DRAWING GOWN WHEN WALKING OUT OF DOOR)

Prophet! Tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks close around them (when they go out of door). That will be more appropriate, so that they may be recognized and not annoyed (boasted). Allah is ever Forgiving, Merciful. (33:59)

RELAXATION OF RULES OF DRESS AND DECORUM FOR ELDERLY WOMEN

For women past child-bearing, and who have no hope of marriage, it is no sin for them if they discard their (outer) clothing in such a way as not to show adornment. But to retain is better for them. Allah is the Ever-Knower. (24:60)

حدود الحجاب للنساء

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمَخْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٤﴾

﴿٢٤﴾ النور ٣١

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

﴿٥٥﴾ الاحزاب ٥٥

كيفية خروج النساء من البيوت

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

﴿٥٩﴾ الاحزاب ٥٩

التحفيف في قانون الحجاب للقواعد من النساء

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

﴿٦٠﴾ النور ٢٤

عورتوں کے لئے پردہ کی حدود اور دوسرے متعلقہ احکامات

اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش (یعنی زیور کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور اپنے والد اور اپنے خسر اور اپنے بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں (سوتیلے بیٹوں) اور اپنے بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجوں اور اپنی (میل جول کی) عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا اور ان خدام (نوکر چاکر مرد) کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں (غرض ان لوگوں کے سوا) کسی پر اپنی زینت (اور سنگھار کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور اپنے پاؤں (ایسے طور سے زمین پر) نہ ماریں کہ (جھنکار اچھی کانوں میں پہنچے اور) ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنوں کو اللہ کے آگے توبہ کرو تا کہ فلاح پاؤ (31:24)

عورتوں پر اپنے والد سے (پردہ نہ کرنے میں) کچھ گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ بھتیجیوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے نہ اپنی (قسم کی میل جول والی) عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے اور (اے عورتو) اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ (55:33)

عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے پر پردہ کا اہتمام

اے پیغمبر اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ (باہر نکلا کریں تو) اپنے چہروں پر چادر لٹکا (کر گھونگھٹ نکال) لیا کریں۔ یہ امر ان کے لئے موجب شناخت (وامتیاز) ہوگا تو کوئی ان کو (نہیں ستائے) ایذا نہ دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (59:33)

عمر رسیدہ عورتوں کو پردہ کے احکامات میں رعایت

اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع (امید اور خواہش) نہیں رہی چادر یا برقعہ اتار لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں مگر شرط یہ ہے کہ اپنی زینت (سنگھار) کی چیزیں نہ ظاہر کریں اور اگر اس میں بھی احتیاط کریں تو (یہ) ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے (60:24)

**MOLESTATION
(ANNOYING OR DISTURBING LADIES)**

For Detail Consult : 24:23 33:59 85:10
Page 537, 542, 557

**PUNISHMENT OF VIOLATING CHASTITY
OF WOMEN
COMMITTING RAPE - RAVISHMENT**

More Reference : 5:33 85:10
Page 162, 557

**SPECIAL INSTRUCTIONS FOR
BELIEVING WOMEN REGARDING
MODESTY (SENSE OF SHAME)**

**MAKE NOT A DAZZLING DISPLAY OF
YOUR BEAUTY EXCEPT BEFORE SPOUSES AND
SOME OTHERS AS SPECIFIED**

And remain in your houses, and do not dress up fancily the way they used to dress (the time of) primitive ignorance. Be regular in prayer, and pay the poor due, and obey Allah and His messenger. Allah's wish is but to remove uncleanness (blight) far from you, O Folk of the Household, and cleanse you with a thorough cleansing. (33:33)

**TO AVOID UNSEEMLY CONDUCT
(ANY FLAGRANT ACT)**

O you wives of the Prophet! Whosoever of you commits manifest lewdness, the punishment for her will be doubled, and that is easy for Allah. (33:30)

**DO NOT ACT TOO DIFFERENTIAL
WHILE TALKING TO OTHERS
INDUCING DOUBT OF INTIMACY**

O you wives of the Prophet! You are not like anyother women. If you keep your duty (to Allah), then be not soft of speech, lest some one whose heart contains malice may thereby be encouraged, but utter customary speech. (33:32)

مضایقہ المحصنات للمسافحة

وللفصل راجع ۲۴ النور: ۲۳ ۳۳ الأحزاب: ۵۹
۸۵ البروج: ۱۰ الصفحة ۵۲۷، ۵۴۲، ۵۵۷

هتك حرمة النساء
(الاغتصاب) و عقوبته

وللفصل راجع ۵ المائدة: ۳۳ ۸۵ البروج: ۱۰
الصفحة ۱۶۲، ۵۵۷

التوصية الخاصة للنساء
بشان الحجاب

النهي عن التبرج

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْبَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَ
آتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۳﴾
﴿۳۳﴾ الاحزاب ۳۳

عقوبة ارتكاب الفاحشة بالنسبة
لنساء النبي ﷺ

يُنسَاءُ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبِينَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۳۰﴾
﴿۳۰﴾ الاحزاب ۳۰

كيف يتكلمن بالرجال
غير المحرمين

يُنسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِن
اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿۳۲﴾
﴿۳۲﴾ الاحزاب ۳۲

شریف عورتوں کو تنگ کرنا

تفصیل کیلئے دیکھئے 23:24 33:33 85:10
صفحہ 537، 542، 557

(جنسیاتی مقاصد کے لئے چھیڑ چھاڑ)
آبروریزی (عصمت درمی) اور اس کی سزا

تفصیل کیلئے دیکھئے 5:33 85:10
صفحہ 162، 557

عورتوں کے لئے شرم و حیا
کی خصوصی ہدایات

زیب و زینت کا اظہار (غیر محرم کے سامنے)
نہ کرنے کی ہدایت

اور اپنے گھروں میں قرار سے رہیں اور جس طرح
(پہلے) جاہلیت (کے دنوں) میں بناؤ سنگھار کرتی تھیں
اس طرح زینت کا اظہار نہ کریں اور نماز پڑھتی رہیں۔
اور زکوٰۃ دیتی رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
گزاری کرتی رہیں۔ اے (پیغمبر کی) اہل بیت اللہ چاہتا
ہے کہ آپ سے ناپاکی (کا میل کچیل) دور کر دے
اور آپ کو بالکل پاک صاف کر دے (33:33)

ناشائستہ حرکات سے اجتناب

اے پیغمبر کی بیویو آپ میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی
(بداخلاقی اور نامناسب رویہ) کا ارتکاب کرے گی۔
اس کو دوہری سزا دی جائے گی۔ اور یہ (بات) اللہ
کو آسان ہے (30:33)

اجنبی لوگوں سے نرم لہجہ میں (گھل مل کر) گفتگو
کی ممانعت میں حکمت

اے پیغمبر کی بیویو آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اگر
آپ پر ہیزگار رہنا چاہتی ہیں تو (کسی) اجنبی شخص سے نرم
لہجہ سے باتیں نہ کیا کریں کہ وہ شخص جس کے دل میں کسی
طرح کا مرض (کھوٹ) ہے کوئی امید (نہ) پیدا کر لے۔
اور (ان سے) قاعدے کے مطابق بات کیا کریں
(32:33)

AVOID ROAMING

For Detail Consult : 33:33 Page 543

MODESTY IS MARK OF DIGNITY FOR WOMEN

Detail Consult : 24:30,31 33:59 Page 541, 542

MODESTY IS A SIGN OF CHASTITY

Detail Consult : 33:32,53 Page 543, 184/188

CLOTHING TO COVER NAKEDNESS AND CONCEALING PRIVATE PARTS

Children of Adam! We have bestowed on you clothing to conceal your private parts (shame) and splendid vesture, (to dress up you) and the raiment of restraint from evil, (righteousness) is best. This is among the signs of Allah, that they may receive admonition. (7:26)

Children of Adam! Let not Satan tempt you as he caused your (first) parents to go forth from the Garden and tore off from them their robe (of innocence), stripping off them their clothing in order to manifest their private parts to them. He and his angels watch you, from where you see them not. We have made the devils protecting friends for those who believe not. (7:27)

GUARDING CHASTITY - BY DUE CARE IN GAZE, DRESS, ORNAMENTS, VEILING, AND FOLDING SHAWLS OVER THE BOSOMS

Detail Consult : 7:27 24:31 33:59 Page 382, 542

INSTRUCTIONS FOR ADOPTING SIMPLICITY IN DOMESTIC LIFE

Prophet! Say to your wives: If you desire the world's life and its attractions, come! I will provide you for your enjoyment and will set you forth in handsome manner. (33:28)

But if you desire Allah and His messenger and the home of the Hereafter, then Allah has prepared for you the good among you an immense reward. (33:29)

عذیم تجول النساء خارج البيوت بدون مبرد

وللتفصيل راجع ۳۳ الأحزاب: ۳۳ الصفحة 543

الحجاب دليل على كرامة النساء

وللتفصيل راجع ۲۴ النور: ۳۱، ۳۰، ۳۳ الأحزاب: ۵۹، الصفحة 541، 542

الحجاب علامة لعفة النساء

وللتفصيل راجع ۳۳ الأحزاب: ۵۲، ۲۲، ۵۴، ۱۸۴، ۱۸۸

اللباس يوارى السوء

يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيكَمُ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوَاتِيْكُمْ وَرِيْثًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَةِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٧﴾
﴿٧ الاعراف ٢٦﴾

يَبْنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنٰكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوٰيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِيْهِمَا اِنَّ يَرِيْكُمْ هُوَ وَقَبِيْلَةُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاً لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾
﴿٧ الاعراف ٢٧﴾

التوصية الخاصة للنساء بشأن الحجاب

وللتفصيل راجع ٧ الاعراف: ٢٧، ٢٤ النور: ٣١، ٣٣ الأحزاب: ٥٩، الصفحة 382، 542

التوصية باختيار السداجة في الحياة العائلية

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَرِيْثَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمْتِعْكُمْ وَاسْرَحْكُمْ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾
﴿٢٨ الاحزاب ٢٨﴾

وَ اِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللّٰهَ وَرِسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾
﴿٢٩ الاحزاب ٢٩﴾

گھر سے بلا ضرورت نکل کر گھومنے پھرنے سے اجتناب

تفصیل کے لئے دیکھئے 33:33 صفحہ 543

حجاب عورتوں کی عظمت کی دلیل

تفصیل کے لئے دیکھئے 24:30,31 33:59 صفحہ 541, 542

حجاب عورت کی پاک دامنی کی علامت

تفصیل کے لئے دیکھئے 33:32,53 صفحہ 184, 188

ستر پوشی لباس (برائے حیا)

اے اولاد آدم ہم نے تم پر (لباس) پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر (شرم گاہوں کو) ڈھانکے (چھپائے) اور (تمہارے بدن کو) زینت (دے) اور (جو) پرہیزگاری کا لباس (ہے) وہ سب سے اچھا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں (26:7)

اے نبی آدم (دیکھنا کہیں) شیطان تمہیں گمراہ نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو (گمراہ کر کے) بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اترا دیئے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں (27:7)

حفاظت عصمت کے لئے نگاہ لباس زیورات میں احتیاط اور گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالنا

تفصیل کے لئے دیکھئے 7:27 24:31 33:59 صفحہ 382, 542

گھریلو زندگی میں سادگی اپنانے کی ہدایات

اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں (28:33)

اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور آخرت کے گھر (یعنی بہشت) کی طلب گار ہو تو تم میں جو نیک اعمال کرنے والی ہیں ان کے لئے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے (29:33)

DECORUM WITHIN THE SOCIAL FAMILY CIRCLE FOR MAINTAINING MODESTY

For Detail Consult : 7:26 24:27,28,29,58,59,61
Page 544, 444, 445
Consult Chapter Social Obligations - Etiquettes
Page 443 to 550

مقتضیات الحیاء فی الحیاة الاجتماعیة والعائلیة

وللتفصیل راجع ۷ الأعراف: ۲۶ ۲۴ النور: ۲۸، ۲۹، ۵۸، ۵۹، ۶۱
الصفحة ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶
وللتفصیل راجع آداب الحیاة الاجتماعیة
الصفحة ۴۴۳ الی ۵۵۰

سماجی اور خاندانی زندگی میں حیا کے تقاضے

تفصیل کے لئے دیکھئے 7: 26 24: 27, 28, 29, 58, 59, 61
صفحہ 445, 444, 544
تفصیل کے لئے دیکھئے سماجی زندگی کے آداب
صفحہ 443 تا 550

FOOD FOR THOUGHT FOR BELIEVING WOMEN

PARABLE OF AASEA (WIFE OF PHARAOH) AND MARY (DESCENDANT OF IMRAN)

And Allah sets forth as an example for those who believe: The wife of Pharaoh when she said: My Lord! Build for me a home in nearness to You in the Garden, and deliver me from Pharaoh and his doings and deliver me from evildoing folk; (66: 11)

And Mary, descendant of Imran, who preserved her chastity, therefore We breathed therein something of Our Spirit. And she put faith in the words of her Lord and His Scriptures, and was of the obedient. (66: 12)

PARABLE OF WIVES OF NOAH(PBUH)AND LOT(PBUH)

Allah cites an example for those who disbelieve: The story of the wife of Noah and the wife of Lot, who were wedded to two of Our righteous slaves yet betrayed them so that they (the husbands) availed them nothing against Allah and it was said (to them): Enter the Fire along with those who enter. (66: 10)

دعوة التفكير للنساء المؤمنات

مثل امرأة فرعون و مريم بنت عمران

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٦﴾
التحریم ۱۱

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢﴾
التحریم ۱۲

مثل امرأة نوح (عليه السلام) و امرأة لوط (عليه السلام)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾
التحریم ۱۰

مومن عورتوں کے لئے لمحہ فکریہ

فرعون کی بیوی (آسیہ) اور حضرت مريم بنت عمران کی مثال

اور مومنوں کے لئے (ایک) مثال (تو) فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی۔ کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لئے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال (زشت مال) سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو چھٹکارا دلا (11:66)

اور (دوسری) عمران کی دختر مريم جنہوں نے اپنی شرم گاہ کو محفوظ رکھا۔ تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرمانبرداروں میں سے تھی (12:66)

نوح (عليه السلام) اور لوط (عليه السلام) کی بیویوں کی مثال

اللہ نے کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے دو (شائستہ اور) نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ (دونوں نیک بندے) اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور ان کو حکم دیا گیا کہ (اے عورتو) اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ (10:66)

More Reference : 7:83 15:60 27:57
Page 969, 943

وللمزيد راجع ۷ الأعراف: ۸۳ ۱۵ الحجر: ۶۰
۲۷ النمل: ۵۷ الصفحة ۹۶۹، ۹۴۳

مزيد حوالہ 7: 83 15: 60 27: 57
صفحہ 943, 969

**EGALITARIANISM
ISLAM AGAINST GENDER BIASES**

الإسلام يعطي الحقوق المتساوية
للجنسين الذكور والإناث

اسلام انیسٹین مرد و عورت کے
درمیان جنسیتی کا فرق قائم نہیں کرتا

**SPOUSES HAVE
SIMILAR AND EQUITABLE RIGHTS
ON EACH OTHER**

حقوق الزوجین

(عورت اور مرد) زوجین
کا ایک دوسرے پر برابری حق

-----And they (women) have rights similar to those (of men) as are expected in all decency from them,----- (2:228) PART

..... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
﴿البقرة ۲۲۸﴾ جزء

----- اور عورتوں کا حق (مردوں پر) ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق (مردوں کا حق) عورتوں پر ہے۔----- (228:2) جزو

**ALLAH(SWT) REWARDS BOTH
MEN AND WOMEN EQUALLY
IN RESPECT OF THEIR DEEDS**

الرجال والنساء سواء
من حيث الأعمال

اللہ تعالیٰ کے پاس مرد اور عورت
کا درجہ بلحاظ اعمال برابر

**ALLAH(SWT) SHALL NEVER
WASTE THE GOOD DOINGS
OF EITHER SEX**

لا يضيع الله عمل عامل
من ذكر أو أنثى

اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو
(مرد ہو یا عورت) ضائع نہیں کرتا

And their Lord responded them I shall never waste: The work of any worker, whether it is male or female, (sprung) proceeds one from another----- (3:195) PART

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ
﴿آل عمران ۱۹۵﴾ جزء

تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی (اور فرمایا) کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا تم ایک دوسرے کی جنس ہو۔----- (195:3) جزو

And whoso performs good deeds, whether male or female, provided he (or she) is a believer, such will enter Paradise and they will not be harmed the dint in a date-stone. (4:124)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
﴿النساء ۱۲۴﴾

اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی (4:124)

Whosoever does right, whether male or female, and is a believer, We shall quicken him with good life, and We shall pay them a recompense in proportion to the best of what they used to do. (16:97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
﴿النحل ۹۷﴾

جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو (دنیا میں) پاک (اور آرام کی) زندگی سے زندہ رکھیں گے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے (97:16)

Muslim men (who surrender to Allah,) and Muslim women (who surrender), and men who believe and devout men (who obey) and devout women (who obey,) and men who speak the truth and women who speak the truth, and men who persevere (in righteousness) and women who persevere, and men who are humble and women who are humble, and charitable men (who give alms) and charitable women (who give alms), and men who fast and

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

(جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنیوالے ہیں یعنی) مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور راست باز (سچے) مرد اور راست باز (سچی) عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنیوالی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت

women who fast, and men who guard their modesty and women who guard (their modesty), and men who remember Allah often and women who remember Allah often--Allah has prepared for them forgiveness and a great reward. (33:35)

Anyone who commits an ill deed, he will be repaid the like thereof, while whoever acts honourably, whether male or female, and is a believer, (all) such will enter the Garden, where they will be nourished without stint. (40:40)

وَالذِّكْرُ إِعْدَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٣﴾ الاحزاب ٣٥

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ المنون ٤٠

کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنیوالی عورتیں کہ ان سب کے لئے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے (35:33)

جو بڑے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ اور جو ایک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان ہی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا (40:40)

More Reference : 4:32 9:71 Page 523,764

ALLAH(SWT) HAS ALSO EXALTED SOME OF THE WOMEN WITH SPIRITUAL VISION

For Detail Consult : 3:42,43 28:7 Page 1092, 1006

LAWS REGARDING WORSHIP TO ALLAH(SWT) AND SOCIAL OBLIGATIONS EQUALLY APPLY TO BOTH MAN AND WOMAN

For Detail Consult : 5:38 33:36 Page 562, 374

NO DISTINCTION BETWEEN SEXES WITH ALLAH(SWT) WHILE REWARDING THEIR DEEDS (EITHER BESTOWING OR DEPRIVING)

For Detail Consult : 66:10,11,12 Page 545

BOTH MALE AND FEMALE ARE CREATED FROM A SINGLE SOUL

O mankind! Heed your Lord Who created you from a single soul and from it created its mate and propagated so many men and women from them both----- (4:1) PART

And We have created you in pairs, (78:8)

والمزید حوالہ 32:4 71:9 صفحہ 764,523

التکریم من اللہ علی بعض النساء بالدرجات وللتفصیل راجع ٣ آل عمران ٤٢:٤٣ ٢٨ القصص:٧ الصفحہ ١٠٩٢, ١٠٠٦

تطبيق القوانين التبعية والاجتماعية سواء للرجل والمرأة وللتفصیل راجع: ٥ المائدة: ٣٨ ٣٣ الاحزاب: ٣٦ الصفحہ ٥٦٢, ٣٧٤

لاتباين بين الرجل والمرأة في تطبيق العدل عطاء أو حرمانا وللتفصیل راجع ٦٦ التحريم: ١٠:١١:١٢ الصفحہ ٥٤٥

خلق الرجال والنساء من نفس واحدة. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴿٤﴾ النساء ١ ﴿جزء﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٧٨﴾ النبأ ٨ ﴿جزء﴾

اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتوں کو بھی درجات سے نوازا عیال کے لئے دیکھئے 3:42,43 28:7 صفحہ 1006, 1092

قوانین الہیہ (عبادات و معاشرت) مرد اور عورت کے لئے یکساں ہیں تفصیل کے لئے دیکھئے 38:5 36:33 صفحہ 374, 562

عطاء اور محرومی کے اعتبار سے قیام عدل میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی تفاوت نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھئے 66:10,11,12 صفحہ 545

مرد اور عورت کو ایک روح سے پیدا کیا لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا (یعنی اول) اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلا دیئے۔ (1:4) جزو (بے شک بنایا) اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا (8:78)

More Reference : 16:72 30:20,21 35:11 42:11 75:39 Page 443,548,399,359,797

COITAL RELATION BETWEEN THE SPOUSES IS A SOURCE OF AUGMENTATION OF MANKIND

WEDDED LIFE IS TO PROVIDE LEISURE AND RELAXATION FOR BOTH THE SPOUSES

He it is Who did create you from a single soul, and therefrom did make its mate that he may settle down with her.----- (7:189) PART

والمزید راجع ١٦ النحل: ٧٢ ٣٠ الروم: ٢١:٢٠ ٣٥ فاطر: ١١ ٤٢ الشوری: ١١ ٧٥ القیامة: ٣٩

العلاقة الجنسية لبقاء النسل الغرض من الزواج الحصول علی السكون

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴿٧٥﴾ الاعراف ١٨٩ ﴿جزء﴾

مزیّد حوالہ 72:16 21,20:30 11:35 صفحہ 39:75 11:42 797,359,399,548,443

تعلق زوجین ذریعہ بقائے نسل انسانی ازدواجی زندگی میں مرد اور عورت کا باہمی مقصد۔ پرسکون زندگی

وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ (7:189) جزو

SYSTEM OF ISLAMIC WELFARE STATE نظام الدولة الإسلامية الرفاهية اسلامی نفاذی مملکت کا نظام

SOVEREIGNTY OF ALLAH (SWT) OVER THE UNIVERSE A BASIC CONCEPT IN ISLAM

To Allah belongs the Sovereignty of the heavens and the earth. Allah is Able to do all things. (3:189)

To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth and whatsoever is therein, and He is capable of everything. (5:120)

More Reference :

2:107	3:26	5:17,18,40
Page 366	367	602,599,122
9:116	20:6 / 24:42	25:2 32:5
115	325 366	134 328
36:83	38:10 39:44	42:49 43:85
366	229 127	399 782
45:27	48:14 57:5	64:1 85:9
232	123 366	113 1113

الحكومة الإلهية على الكائنات نظرية أساسية في الإسلام

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣﴾ آل عمران ١٨٩

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾ المائدة ١٢٠

والمزيد راجع

٢ البقرة: ١٠٧	٣ آل عمران ٢٦
٥ المائدة: ١٧، ١٨، ١٩	٩ التوبة: ١١٦
٢٤ النور: ٤٢	٢٥ الفرقان: ٢
٣٦ يس: ٨٣	٣٨ ص: ١٠
٤٢ الشورى: ٤٩	٤٣ الزخرف: ٨٥
٤٨ الفتح: ١٤	٥٧ الحديد: ٥
٨٥ البروج: ٩	٦٤ التغابن: ١

اللہ تعالیٰ کے کائنات کے اقتدار اعلیٰ (مطلق العنانیت) کا بنیادی نظریہ

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (3:189)

سمان اور زمین اور جو کچھ ان (دونوں) میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (5:120)

مزيد حوالہ

40,18,17:5	26:3	107:2
602,599,122	367	366
5:32	2:25	42:24
328	134	366
85:43	49:42 - 44:39	10:38
782	399 127	366
9:85	1:64	5:57
1113	113	366
116:9	6:20	116:9
115	325	115
83:36	83:36	83:36
229	229	229
27:45	14:48	27:45
832	123	832

RIGHTEOUS AND ABLEST PERSONS TO BE PREFERRED TO RUN THE GOVERNMENT

-----The noblest among you, in the sight of Allah, is the one who is best in conduct. Allah is Aware and Informed. (49:13) PART

LEGISLATION IN ISLAM

CONSULTATIVE COUNCIL FOR "SHURA" ATTAINING TO A CERTAIN DEGREE OF AUTHORITY FROM PRINCIPLES OF ISLAMIC JURISPRUDENCE

"IJTIHAD" - THE LOGICAL DEDUCTION FROM QURAN AND SUNNAH BY A COUNCIL

"IJMA" COLLECTIVE OPINION OF COUNCIL DERIVED FROM QURAN AND SUNNAH

-----And consult with them upon the conduct of affairs. And when you have taken a decision then put your trust in Allah. Allah loves those who put their trust (in Him). (3:159) PART

انتخاب الافراد الامل لنظام الحكومة

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٤٩﴾ الحجرات ١٣ جزء

التشريع في الإسلام

المشاورة بالمأمورين قبل اتخاذ القرارات

الاجتهاد

الإجماع

لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٣﴾ آل عمران ١٥٩ جزء

نظام حکومت کے لئے اہل ترین افراد کا انتخاب

----- (اور) اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا (اور) سب سے خبردار ہے (49:13) جزو

قانون سازی (مقتنہ) قرآن و سنت رسول کی روشنی میں

شوری

اجتہاد

اجماع

----- اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ اور جب (کسی کام کا) پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے (3:159) جزو

More Reference :

4:114	42:38	Page 269,465	والمزيد راجع ٤ النساء: ١١٤	٤٢ الشورى: ٣٨	مزيد حوالہ 4:114	38:42	صفحة 269,465
-------	-------	--------------	----------------------------	---------------	------------------	-------	--------------

PERMISSION OF HOLDING DIFFERENT VIEWS AND RESPECT OF EACH OTHER'S OPINIONS

Say: Do you know better than Allah? And who is more unjust than he who hides a testimony, which he has received from Allah? Allah is not unaware of what you do. (2:140) PART

اختلاف الراي
احترام الاختلاف الفكري

قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُوْا اَمْرَ اللّٰهِ
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ
مِنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾
﴿٢ البقرة ١٤٠﴾ جزء

اختلاف رائے کا حق
اختلاف رائے کا احترام

..... (اے محمد ان سے) کہہ دیجئے کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس (کتاب میں موجود) ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں (2:140) جزو

PREFERENCE OF COLLECTIVE OPINION TO INDIVIDUAL VIEWS

And obey Allah and His messenger, and dispute not one with another lest you loose heart and your strength departs from you; but be patient and persevering Allah sends beside the patient. (8:46)

ترجیح الراي الاجتماعی
علی الراي الفردي

وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا
وَتَذْهَبَ رِيْضَتُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ
الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٦﴾
﴿٨ الانفال ٤٦﴾

الفرادی رائے پر اجتماعی رائے کو فوقیت

اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرنا کہ (ایسا کرو گے تو) تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (8:46)

TAKING DECISIONS ARBITRARILY (CONTRARY TO THE PROVISIONS OF FAITH) FORBIDDEN

Say: The evil, and the good are not like even though the plenty of the evil attracts you. So heed Allah, O men of understanding, that you may succeed. (5:100)

النهي عن القضاء علی
اساس هوى النفس

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكُ
كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا اُولِيْ الْاَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾
﴿٥ المائدة ١٠٠﴾

ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی ممانعت

کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتیں گونا پاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے۔ تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ (100:5)

MAJORITY ON EARTH IS OF MISLEADING FOLK

you obey most of those on earth they would mislead you far from Allah's way. They follow nothing but an opinion, and they do but guess. (6:116)

إنما أغلبية سكان الأرض
علی ضلال

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ
عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾
﴿٦ الانعام ١١٦﴾

زمین پر اکثریت بھٹکانے (گمراہ کرنے) والے لوگوں کی ہے

اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستہ سے بھٹکا دیں گے یہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ (116:6)

ISLAM AND OTHER FORMS OF GOVERNMENT AND SOCIAL SYSTEMS

الاسلام والظلم
الحكومة الاخرى

اسلام اور دیگر طرز حکومت
اور معاشرتی نظام

ISLAM AGAINST AUTOCRACY (DICTATORSHIP)

It is not (proper) for any human being to whom Allah had given the Scripture and wisdom and the Prophethood that he should afterwards have said to mankind: Be worshippers of mine instead of Allah; but (what he said was): Be you faithful servants of the Lord by virtue of your constant teaching of the Scripture and of your constant study thereof. (3:79)

مدمة الحكم المطلق

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالتَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

آمریت (مطلق العنانیت) ڈکٹیٹر شپ کی نفی

کسی آدمی کو شایاں نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ بلکہ (اس کو یہ کہنا لائق ہے کہ تم سب اللہ کے ہو جاؤ کیوں کہ تم کتاب اللہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو (3:79))

More Reference : 3:180 76:24 Page 498,552

والمزید حوالہ 24:76 3:180 صفحہ 498,552

ISLAM AGAINST FEUDALISM

For Detail Consult : 3:180 Page 582

الإسلام ضد للنظام الإقطاعی

والتفصیل راجع 3:180 صفحہ 582

جاگیر داری نظام (وڈیرہ ازم) کی نفی

تفصیل کے لئے دیکھئے 3:180 صفحہ 582

ISLAM AGAINST COMMUNISM AND SOCIALISM

Have you seen some one who has taken his own passion as his god? Would you then be guardian over him? (25:43)

And they say: There is nothing exists except our worldly life we die and we live, and nothing destroys us except time. They have no knowledge whatsoever of (all) that; they are only supposing. (45:24)

مدمة الشيوعية

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴿٢٥﴾

وَإِذْ اتَّشَىٰ عَلَيْهِمْ ائْتِنَابَئِنَّا مَآكَانَ حُجَّتْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابًا بَيْنَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٥﴾

کیونزم اور سوشلزم کی نفی

کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ (25:43)

اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ (بہیں) مرتے اور جیتتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں۔ صرف قیاس سے کام لیتے ہیں (24:45)

More Reference : 3:180 45:23 Page 498,415

والمزید حوالہ 23:45 3:180 صفحہ 415,498

ISLAM AGAINST MATERIALISM

More Reference : 9:34,35 74:11 to 17 22:5 Page 270,298,198,232,233,420,851,397 Consult Chapter Worldly Life Page 418

مدمة المذهب المادی

والتفصیل راجع 9:34,35 74:11 to 17 22:5 صفحہ 270,298,198,232,233,420,851,397

مادہ پرستی کی نفی

تفصیل کے لئے دیکھئے 9:34,35 74:11 to 17 22:5 صفحہ 270,298,198,232,233,420,851,397

CONCEPT OF DEMOCRACY IN ISLAM THROUGH MUTUAL CONSULTATION TO RUN THE AFFAIRS OF GOVERNMENT

And those who respond the call of their Lord and establish worship, and whose affairs are conducted through mutual consultation among them selves, and who spend of what We have bestowed on them, (42:38)

النظام التشاوری فی الاسلام

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

اسلام میں (مجلس شوریٰ کے ذریعے) جمہوریت کا تصور

اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (38:42)

CONCEPT OF PERSONAL HOLDINGS IN ISLAM

For Detail Consult : Laws of Heritage Page 510

الملكية الشخصية في الإسلام

وللتفصيل راجع قوانين التراث الصفحة 510

اسلام میں شخصی ملکیت کا تصور

تفصیل کے لیے دیکھئے وراثت کے قوانین صفحہ 510

OBLIGATIONS OF MUSLIM RULERS

You are the best community that has been raised up for mankind. You enjoin right conduct and forbid indecency; and you believe in Allah. ----- (3:110) PART

فرائض اولی الامر المسلمین

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿٣٠﴾

﴿٣٠ آل عمران ١١٠﴾ جزء

مسلمان حکمران طبقہ کے فرائض

(مومنو) جتنی امتیں (یعنی قومیں) لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ----- (3:110) جزو

Those who, if We give them power of the land, establish regular prayer and pay the welfare tax (Zakat) and enjoin the right and forbid wrong. ----- (22:41) PART

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿٤١﴾

﴿٤١ الحج ٢٢﴾ جزء

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ ----- (41:22) جزو

Reference : 3:104,114 7:199 9:71,112 17:33 Page 631,98,465,764,1071,213

وللتفصيل راجع آل عمران ١٠٤، ١١٤، ١٧ الأعراف ١٩٩، ٩ التوبة ١١٢، ٧١، ٣١ لقمان ١٧، ٤١ حم السجدة (فصلت) ٣٣

مزید حوالہ 3:104,114 7:199 9:71,112 17:33 Page 631,98,465,764,1071,213 صفحہ 33: 41 17: 31

LOYALTY - (TRUST WORTHINESS) WITH THE GOVERNMENT

you who believe! Betray not Allah and His messenger, nor knowingly betray your trusts. (8:27)

الوفاء بنظام الدولة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

﴿٨ الانفال ٢٧﴾

نظام مملکت سے دیانت داری

اے ایمان والو! نہ تو اللہ اور رسول کی امانت (کے حقوق) میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم (ان باتوں کو) جانتے ہو (8:27)

PERSONS IN AUTHORITY TO BE OBEYED

you who believe! Obey Allah, and obey the messenger (SAAS) and obey those of you who are in authority; and if you have a dispute concerning any matter, refer it to Allah and the messenger (SAAS) if you are (in faith) believers in Allah and the Last Day. That is better for you and best in the long run. (4:59)

مشروعیہ اطاعت اولی الامر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

﴿٥٩ النساء ٥٩﴾

حاکم وقت کی اطاعت کا حکم

مومنو! اللہ اور رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے (59:4)

LIMITATIONS OF ALLEGIANCE TO THOSE WHO ARE IN AUTHORITY

submit patiently to your Lord's command, and obey not of them any wicked one or ungrateful. (76:24)

حدود اطاعت اولی الامر

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ إِمًّا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

﴿٢٤ الدهر ٧٦﴾

اطاعت حاکم کی حدود

تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کئے رہو۔ اور ان لوگوں میں سے کسی گنہگار اور ناشکرے کا کہا نہ مانو (24:76)

Reference : 4:59 Page 552

وللتفصيل راجع النساء ٥٩: الصفحة ٥٥٢

مزید حوالہ 4:59 صفحہ 552

SEQUENCES OF WICKED LEADERSHIP

Consult : 11:98 Page 1041

عواقب اتباع القيادة الفاسقة

وللتفصيل راجع ١١ هود ٩٨: الصفحة ١٠٤١

بری قیادت کی پیروی انجام

تفصیل کے لیے دیکھئے 11:98 صفحہ 1041

OBLIGATIONS OF ISLAMIC STATE

واجب الدولة الإسلامية

اسلامی مملکت کی ذمہ داریاں

IMPLEMENTATION OF RULE OF "SHARIAT" (DIVINE LAW AND PROPHET (SAAS) TRADITIONS) THE FOREMOST OBLIGATION OF ISLAMIC STATE

**تطبيق التشريع الإسلامی واجب
الحكومة الإسلامية**

**نظام شریعت کا نفاذ
اسلامی حکومت کی ذمہ داری**

ENFORCEMENT OF RULE OF "SHARIAT" TO BE ENSURED

تنفيذ الشريعة الإسلامية

قوانین شریعت کی پابندی کرانا

Any one who desires something other than Islam as religion it will not be accepted from him, and he will be among the losers in the Hereafter. (3:85)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾
﴿٣ آل عمران ٨٥﴾

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا (85:3)

-----And, whenever you judge between the people that you judge justly. How excellent is the teaching, which Allah has given you. Allah is ever Alert and Observant.. (4:58) PART

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
﴿٤ النساء ٥٨﴾ جزء

اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ سنتا (اور) دیکھتا ہے (58:4) جزو

More Reference : 24:2 Page 536

والمزيد راجع ٢٤ النور: ٢ الصفحة ٥٣٦

مزید حوالہ 2:24 صفحہ 536

FORMULATING DEFENCE STRATEGY AN OBLIGATION OF THE ISLAMIC STATE

واجب الدولة نحو الدفاع عن الوطن

اسلامی مملکت کی دفاعی ذمہ داریاں

Prepare any (military) strength you can muster against them, and any cavalry post with which you can over awe Allah's enemy and your own enemy as well, plus others besides them whom you do not know. Allah however knows them. (8:60) PART

وَاعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۗ ﴿٦٠﴾
﴿٨ الانفال ٦٠﴾ جزء

تم ان کے مقابلے کے لئے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی۔ کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور اس کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ (60:8) جزو

More Reference : 2:193 9:2 Page 643,719 Chapter Jihad Page 642

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٩٣ ٩ التوبة: ٢ النظر باب الجهاد الصفحة ٦٤٢

مزید حوالہ 2:193 9:2 صفحہ 719,643 دیکھئے باب جہاد صفحہ 642

FOREIGN POLICY OF THE ISLAMIC STATE INTERNATIONAL DIPLOMATIC RELATIONS

السياسة الخارجية للدولة

**اسلامی مملکت کی خارجہ پالیسی
بین الاقوامی سفارتی تعلقات**

And if they incline to peace, incline you also to it, and trust in Allah. Indeed He ever He is the Hearer the Knower. (8:61)

وَلِإِنْ جَاءَكَ السَّلَامُ فَأَجْزِلْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾
﴿٨ الانفال ٦١﴾

اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے (61:8)

And if they would deceive you, then Surely Allah is sufficient for you. He it is Who supports you with His help and with the believers. (8:62)

وَأِنْ يَرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ وَلِئِنْ خَانُوا اللَّهَ لَكُنَّ عُنُقًا ۗ وَجَاءَتْكَ الْيَدُ مِنَ اللَّهِ بِالنُّصْرَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾
﴿٨ الانفال ٦٢﴾

اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں (کی جمعیت سے) تقویت بخشی (62:8)

More Reference : 8:72 27:28 to 37 Page 650,633,1076,101,1077

والمزيد راجع ٨ الانفال: ٧٢ ٢٧ النمل: ٢٨ الى ٣٧ الصفحة ١٠٧٧, ١٠١, ١٠٧٦, ٦٣٣, ٦٥٠

مزید حوالہ 8:72 27:28:27 72:8 صفحہ 1077, 101, 1076, 633, 650

PROMULGATION FOR OBSERVANCE OF MORAL VALUES TO ESTABLISH A PURE UNBLEMISHED, CIVILIZED SOCIAL STRUCTURE

• إقامة المجتمع المهدب النقي
من الفواحش برعاية القيم الأخلاقية

بے حیائی سے پاک مہذب معاشرہ کا قیام
اخلاقی اقدار کی پاس داری کو یقینی بنانا

Say: My Lord has forbidden in decencies, such of them as are apparent and such as are hidden, and sin and wrongful oppression, (7:33) PART

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے۔ (33:7)

More Reference : 6:121 7:28 25:68,69
Page 505, 484, 536, 537

والمزید راجع ۶ الأنعام: ۱۲۱ ۷ الأعراف: ۲۸
۲۵ الفرقان: ۶۸، ۶۹

مزید حوالہ 6:121 7:28 25:68,69
صفحہ 505, 484, 536, 537

ISLAM DOES NOT ALLOW ANY PERSON (FREE OR SLAVE) (MALE OR FEMALE) TO SATISFY HIS/HER SEXUAL CRAVINGS OUTSIDE MARRIAGE IN ANY CASE

لا ینحول الاسلام قضا الشهوة
من غیر النکاح مهما كانت الظروف

اسلام جنسیاتی پاکیزگی کا دین کسی بھی حالت میں کسی مرد اور عورت (آزاد یا غلام) کو نکاح کے بغیر جنسیاتی آسودگی حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا

Consult Chapter :
Matrimonial laws and Sex Discipline
Page 520, 535

وللتفصیل راجع
باب القوانين الزوجية وقوانين العلاقات الجنسية
الصفحة ۵۲۰، ۵۳۵

تفصیل کے لئے دیکھئے
باب عائلی قوانین و جنسی تعلقات کے ضوابط
صفحہ 535, 520

**REJUVENATION OF SOCIETY
SOCIAL REFORMS**

إصلاح المجتمع

اصلاح معاشرہ

MERE PERFORMANCE OF ISLAMIC RITUALS DO NOT FULFIL THE REQUIREMENT OF FAITH BUT OBSERVANCE OF SOCIAL AND MORAL LIABILITIES TOWARDS HUMANITY ARE OBLIGATORY

ليس الإسلام مقصوراً في العبادات فقط،
بل يقتضى حسن المعاملة أيضاً

اسلام محض عبادات کا مذہب نہیں ہے
بلکہ باہم معاملات (حقوق العباد) پر زیادہ
توجہ دینے کا تقاضا کرتا ہے

virtue does not mean you turn your faces to the East and the West; but righteous is he who believes in Allah and the Last Day and the angels and the Scripture and the prophets; and gives his wealth, no matter how he loves it, to kinsfolk and to orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask to set slaves free; and observes proper worship and pay the poor tax. And those who keep their duty when they make one, and remain patient under suffering and hardship and in time of violence. Such are they who are sincere. And they are conscious of Allah. (2:177)

لَيْسَ الدِّينَ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الدِّينَ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور فرشتوں پر اور روز آخرت پر اور (اللہ کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں (کے چھڑانے) میں (خرچ کریں) اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور (معرکہ) کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو (ایمان میں) سچے ہیں اور یہی ہیں جو (اللہ سے) ڈرنے والے پرہیزگار ہیں (177:2)

MEASURES AGAINST
WHITE-COLLAR CRIMES

الوقایع من جرائم من لثام الشرطین

منشور لٹریچر کے جرائم کی روک تھام

CORRUPTION

For Detail Consult : 4:29 Page 485

اکل الموال بین الناس بالباطل

وللتفصیل راجع: ۴ النساء: ۲۹: الصفحة 485

لوگوں کا مال ناحق کھانا

تفصیل کے لئے دیکھئے: 29:4 صفحه 485

BRIBERY - KICK BACK

For Detail Consult : 2:188 Page 485

حرمة أكل الرشوة

وللتفصیل راجع: ۲ البقرة: ۱۸۸: الصفحة 485

رشوت

تفصیل کے لئے دیکھئے: 188:2 صفحه 485

MISAPPROPRIATION

For Detail Consult : 3:161 Page 167/492

الغلول فی المغام

وللتفصیل راجع: ۳ آل عمران: ۱۶۱: الصفحة 492/167

سرکاری امانتوں کا خوردبرد

تفصیل کے لئے دیکھئے: 161:3 صفحه 492/167

FRAUD

For Detail Consult : 2:188 4:29 11:85 17:35
Page 485 485 485 485
26:181,182 55:8,9
486 486

الغش والخداع

وللتفصیل راجع: ۲ البقرة: ۱۸۸: ۴ النساء: ۲۹: ۱۱ ہود: ۸۵: ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل): ۳۵: ۳۶ یس: ۱۸۱، ۱۸۲: ۵۵ الرحمن: ۹۰:۸

دھوکہ دہی

تفصیل کے لئے دیکھئے: 85:11 29:4 188:2
485 485 485
9,8:55 182,181:36 35:17
486 486 485

MEASURES AGAINST
CRIMINAL CRIMES - MENTAL VAGRANCY

الوقایع من جرائم الخلل العقلی

ذہنی آوارگی کے جرائم کی روک تھام

PROTECTION AGAINST
IMPUDENCE WANTONNESS

For Detail Consult : 24:33 85:10
Page 520/584, 482

كرامة النفس واحتفاظ الشرف

وللتفصیل راجع: ۲۴ النور: ۳۳: ۸۵ البروج: ۱۰: الصفحة ۵۲۰، ۵۸۴، ۴۸۲

تحفظ عزت نفس

تفصیل کے لئے دیکھئے: 10:85 33:24
482, 584/520

SAFEGUARDING AGAINST
DEBAUCHERY - VOLUPTUOUSNESS

For Detail Consult : 24:33 Page 520/584

الوقاية من الاغواء و تمزيق العفاف

وللتفصیل راجع: ۲۴ النور: ۳۳: الصفحة ۵۸۴/۵۲۰

آبرو اور عصمت کی حفاظت

تفصیل کے لئے دیکھئے: 33:24 صفحه 584/520

PUNISHMENT OF
RAPE - RAVISHING - DEFLOWERING

For Detail Consult : 5:33 85:10
Page 162, 482

عقوبة هتك عفة النساء

وللتفصیل راجع: ۵ المائدة: ۳۳: ۸۵ البروج: ۱۰: الصفحة 482, 162

عورتوں کی آبروریزی کی سزا

تفصیل کے لئے دیکھئے: 10:85 33:5
482, 162

GAMES OF CHANCE - GAMBLING - LOTTERY
RAFFLES - DIVINING ARROWS

O you who believe! Intoxicants and games of chance and idols and divining arrows (divining of the future) are only an infamy of Satan's handiwork. Leave it aside in order that you may succeed. (5:90)

الميسر، الاستقسام بالأزلام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَسْرَارُ أَمْْرٌ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
﴿٥ المائدة: ٩٠﴾

جوا لٹری پانسہ بازی
قمار بازی، قرعہ اندازی

اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے (یہ سب) ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا کہ نجات پاؤ (90:5)

More Reference : 2:219 5:3
Page 279/501, 89/166

وللمزيد راجع: ۲ البقرة: ۲۱۹: ۵ المائدة: ۳: الصفحة ۱۶۶/۸۹، ۵۰۱/۲۷۹

مزید حوالہ: 2:219 5:3
صفحة 166/89, 501/279

NARCOTICS AND ADDICTIONS

For Detail Consult : 4:43 5:90,91 16:125
Page 252 501 633
37:63,69 44:43 56:52
889,890 506 506

المخدرات

وللتفصیل راجع: ۴ النساء: ۴۳: ۵ المائدة: ۹۰، ۹۱: ۱۶ النحل: ۱۲۵: ۳۷ الصافات: ۶۹، ۶۳: ۴۴ الدخان: ۴۳: ۵۶ الواقعة: ۵۲:

تفصیل کے لئے دیکھئے: 125:16 91,90:5 43:4
633 501 252
52:56 43:44 69,63:37
506 506 889,890

**PEACEFUL - NON VIOLENT
ISLAMIC SOCIAL FABRIC**

الْمَجْتَمَعِ النَّقِيِّ
مِنَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ

ظلم اور زیادتی سے پاک (پر امن)
اسلامی معاشرہ

CRUELTY - OPPRESSION

الظلم والعدوان

ظلم اور زیادتی

-----Allah does not love transgressors or who break the limits of law). (3:57) PART

..... وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾
﴿٣ آل عمران ٥٧﴾ جزء

----- اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا
(57:3) جزو

Whoever does that through aggression and injustice, We shall soon cast him into Fire, and that is ever easy for Allah. (4:30)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾
﴿٤ النساء ٣٠﴾

اور جو سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے۔ اور یہ اللہ کو آسان ہے (4:30)

The way (of blame) is only against those who oppress mankind, and wrongfully rebel in the earth. For such there is a painful doom. (42:42)

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾
﴿٤٢ الشورى ٤٢﴾

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا (42:42)

And it profits you not this Day, because you did wrong, that you will be sharers in the doom. (43:39)

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٤٣ الزخرف ٣٩﴾

اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم (سب) عذاب میں شریک ہو (39:43)

More Reference : 11:18 Page 846

والمزيد راجع ١١ هود: ١٨ الصفحة 846

مزيد حوالہ 18:11 صفحہ 846

**TORMENT FOR THE CRUEL (OPPRESSOR)
IN WORLDLY LIFE BESIDES IN HEREAFTER**

عذاب الدنيا والآخرة للظالمين

ظالم کے لئے دنیا اور آخرت کا عذاب

And for those who do wrong, there is a punishment beyond that. But most of them know not. (52:47)

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾
﴿٥٢ الطور ٤٧﴾

ظالموں کے لئے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے (47:52)

**OPPRESSOR OR CRUEL PERSON
DOES NOT DESERVE ANY SYMPATHY OR FAVOUR**

الظالم لا يستحق المواساة

ظالم کسی ہمدردی کا مستحق نہیں

-----And let not pity or the twain withhold you from obedience to Allah, if you believe in Allah and the Last Day.-----
(4:2) PART

..... وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿٢٤﴾
﴿٢٤ النور ٢٤﴾ جزء

----- اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شریعت اللہ (کے حکم کی تعمیل) میں تمہیں ان پر ہر گز ترس نہ آئے۔-----
(2:24) جزو

AGGRESSION - ASSAULTING

الاعتداء

جارحیت۔ زیادتی۔ تعدی

-----Allah loves not, aggressors. (2:190) PART

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾
﴿٢ البقرة ١٩٠﴾ جزء

----- کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا (190:2) جزو

**REQUITAL IS PERMISSIBLE
(IN CASE IT IS HARDER TO
TOLERATE, FORGIVE OR RECONCILE)
DEMAND FOR EQUAL REDRESS ALLOWED**

If you punish, then punish with the like of that (to the some extent) wherewith you were afflicted. But if you endure patiently, it is better for the steadfast. (16:126)

Endure you patiently. Your endurance is only by (the help of) Allah. Grieve not for them, and be not in distress because of that which they devise. (16:127)

Allah is with those who keep their duty to Him and those who act kindly. (16:128)

That (is so). And whoever has retaliated with the like of that which he was made to suffer and then is set upon again, Allah will support him. Allah is Mild. Forgiving. (22:60)

And those who, whenever any outrage happens to them, defend themselves, (42:39)

And anyone who defends (protects) himself after he has suffered wrong for such, there is no way (of blame) against them. (42:41)

يجوز الانتقام اذا لم يمكن الصبر
و الصبح وليكن الانتقام بالعدل

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ صَبِرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلظَّالِمِينَ ﴿١٢٦﴾
﴿١٦ النحل ١٢٦﴾

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾
﴿١٦ النحل ١٢٧﴾

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾
﴿١٦ النحل ١٢٨﴾

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ
بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَصْرِتَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢٢٠﴾
﴿٢٢ الحج ٦٠﴾

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٤٢ الشورى ٣٩﴾

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا
عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾
﴿٤٦ الشورى ٤١﴾

انتقام
(اگر صبر اور درگزر کرنا مشکل ہو جائے)
تو بدلہ لینے میں بھی عدل کی ہدایت

اگر تم انہیں تکلیف دینا چاہو تو اتنی ہی دو جتنی
تکلیف تمہیں ان سے پہنچی۔ اور اگر صبر کرو تو یہ صبر
رنے والوں کے لئے بہت اچھا ہے (126:16)

صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے
ہے۔ اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ بداندیشی
کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو (127:16)

کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیک لوگ ہیں
اللہ ان کا مددگار ہے (128:16)

(بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے) اور جو شخص
(کسی کو) اتنی ہی تکلیف دے جتنی تکلیف اس کو دی
گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد
کرے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا (اور) بخشنے
والا ہے (60:22)

اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو
(مناسب طریقے سے) بدلہ لیتے ہیں (39:42)

اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے
ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں (41:42)

More Reference : 2:178,194 4:30 5:45 15:85
Page 559,547/664 556 593 371
17:33 40:42
560 1018

والمزید راجع ٢ البقرة: ١٧٨، ١٩٤، النساء: ٣٠،
٥ المائدة: ٤٥، ١٥ الحجر: ٨٥، ١٧ الإسراء
(بنی اسرائیل): ٣٣، ٤٠ المومن (غافر): ٤٢

مزيد حوالہ 2: 178, 194 4: 30 5: 45 15: 85
صفحہ 559, 547/664 556 593 371
42: 40 33: 17 85: 15
1018 560 371

**PENALTY FOR
PERSECUTING THE INNOCENT**

They who persecute believing men and believing women and repent not, theirs will be the doom of hell, and theirs is the doom of burning. (85:10)

عقوبة تضيق المواطنين الأبرياء

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ
الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾
﴿٨٥ البروج ١٠﴾

معصوم اور بے گناہ لوگوں کو
تنگ کرنے کی سزا

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو
تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا
اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا (10:85)

**REQUIRING EVIL MAY TOO BECOME AN EVIL
TOLERANCE WHILE POSSESSING CAPACITY
TO TAKE REVENGE HAS A
REWARD TRANSCENDING REWARD WITH ALLAH (SWT)**

The guerdon of an ill deed is an ill
deed like thereof. But whosoever
overlooks (overlooks) and amends
(reconciles), his reward is the affair
of Allah. Surely He loves not wrong
doers. (42:40)

PARDON YOUR FELLOW PERSONS

Detail Consult : 2:237 7:199 15:85
Page 126 42:37 Page 522, 371, 557, 466

**REMISSION IS NEARER
TO PIETY (TAQWA)**

Detail Consult : 2:237 Page 522

**HOLD A CHECK ON (REPRESS)
YOUR ANGER**

Detail Consult : 2:237 3:134 16:126
Page 37 Page 522, 275, 557, 466

**RECONCILIATION BETWEEN
CONTENDED PARTIES**

Detail Consult : 2:224 4:35,114,128
Page 9,10
Page 475, 524, 269, 528, 621, 620

**COMING TO THE TERMS OF PEACE
(SETTLEMENT OF MUTUAL DISPUTES)
IS GOODNESS**

Detail Consult : 4:128 Page 528

**OVERLOOK THE
SHORTCOMINGS OF OTHERS**

Detail Consult : 2:237 7:199 15:85
Page 522, 465, 371

STEADFASTNESS OR PATIENCE

Detail Consult: Chapter "PATIENCE" Page: 298

Reference : 2:153 4:25 8:46
Page 258 514 550
11 12:18,83 13:22 16:42,96,126
9 980,992 765 671,299,557
20 23:111 25:75 29:59 31:17
42 840 865 880 1071
4

جزاء السيئة مثلها' وأما العفو
عند مقدرة الانتقام فأجره عند الله

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
وَاصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾
﴿٤٢﴾ الشورى ٤٠

اعفوا عن خطايا الناس

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٣٧ ٧ الأعراف: ١٩٩
١٥ الحجر: ٨٥ ١٦ النحل: ١٢٦ ٤٢ الشورى: ٣٧

العفو أقرب للتقوى

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٣٧ الصفحة 522

كظم الغيظ

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٣٧ ٣ آل عمران: ١٣٤
١٦ النحل: ١٢٦ ٤٢ الشورى: ٣٧

الامر بالصلح بين الفريقين
المتخاصمين

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٢٤ ٤ النساء: ١٢٨، ١١٤، ٣٥
٤٩ الحجرات: ١٠٠٩
الصفحة ٤٧٥، ٥٢٤، ٢٦٩، ٥٢٨، ٦٢١، ٦٢٠

الصلح خير

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ١٢٨ الصفحة ٥٢٨

العفو والصفح

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٣٧ ٧ الأعراف: ١٩٩
١٥ الحجر: ٨٥ الصفحة ٣٧١، ٤٦٥، ٥٢٢

الصبر

وللتفصيل راجع باب الصبر الصفحة ٢٩٨
وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٥٣ ٤ النساء: ٢٥
٨ الأنفال: ٤٦ ١١ هود: ٤٩ ١٢ يوسف: ٨٢، ١٨
١٣ الرعد: ٢٢ ١٦ النحل: ١٢٦، ٩٦، ٤٢ ٢ طه: ١٣٠
٢٣ المؤمنون: ١١١ ٢٥ الفرقان: ٧٥ ٢٩ العنكبوت: ٥٩
٣١ لقمان: ١٧ ٤٢ الشورى: ٤٣

برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہو سکتی ہے
انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود
معافی اور درگزر کا بہتر اجر اللہ کے پاس ہے

اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے۔ مگر جو درگزر
کے اور (معاملے کو) درست کر دے تو اس کا بدلہ
اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (40:42)

لوگوں کے قصور معاف کر دو

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:237 7:199 15:85
37:42 126:16 37:42 126:16
466, 557, 371, 522

معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:237 522

غصہ پر قابو پانا

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:237 3:134 16:126
37:42 126:16 37:42 126:16
466, 557, 275, 522

فریقین میں صلح کرانے کا حکم

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:224 4:35,114,128
10,9:49
صفحہ 620, 621, 528, 269, 524, 475

صلح میں خیر ہے

تفصیل کے لئے دیکھئے 4:128 528

عفو اور درگزر

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:237 7:199 15:85
صفحہ 371, 465, 522

صبر

تفصیل کے لئے دیکھئے مکمل باب "صبر" 298
مزید حوالہ 8:46 25:4 153:2
صفحہ 550 514 258
126,96,42:16 22:13 83,18:12 49:11
557,299,671 765 992,980 904
59:29 75:25 111:23 130:20
880 865 840 254
43:42 17:31
467 1071

ENSURING SECURITY OF HUMAN LIFE IN ISLAM

ضمانت و نایب النفس مع الضرور

اسلام اور انسانی زندگی کا تحفظ

RESPECT OF HUMAN LIFE IN ISLAM

قد جعل الإسلام الحياة الإنسانية حراماً

اسلام انسانی زندگی کو واجب الاحترام بناتا ہے

HOMICIDE ASSASSINATION MURDER - KILLING - SLAYING BY HOSTILITY OR OPPRESSION

القتل متعمداً

دانستہ قتل (قتل عمد)

IMPERATIVE PUNISHMENT ON INTENTIONAL (DELIBERATE) SLAYING OF A BELIEVER

الأمر المؤكد لتنفيذ الحد على القاتل الذي قتل متعمداً

با ارادہ (قصداً) قتل کے مواخذہ کا تاکید حکم

Anyone who kills a believer intentionally, his recompense is Hell forever. And the curse of Allah is upon him and a dreadful chastisement is prepared for him. (4:93)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَقَدْ حَزَّ أَوْعًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾
﴿٤ النساء ٩٣﴾

اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ (جلتا) رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور ایسے شخص کے لئے اس نے بڑا (سخت) عذاب تیار کر رکھا ہے (93:4)

More Reference : 2:84 5:32 6:151 17:33 25:68,69 Page 592,561,451/513,560,536,537

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٨٤ ٥ المائدة: ٣٢ ٦ الأنعام: ١٥١ ١٧ الإسراء (بني اسرائيل): ٦٩، ٦٨، ٢٥ الفرقان: ٣٣

مزيد حوالہ 2:84 5:32 6:151 17:33 25:68,69 صفحہ 592,561,451/513,560,536,537

"AL-QISAS"

LAW OF EQUALITY IN PUNISHMENT - JUST RETRIBUTION

القصاص

قصاص

PAYMENT OF BLOOD MONEY IN CASE OF REMISSION OF GUILT OF THE OFFENDER BY HEIR OF DECEASED FAMILY

الدية

خون بہا

O you who believe! Just retribution is prescribed for you in the cases of the murder; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female. But if any remission is made by the brother of the slain then grant any reasonable demand and compensate him with handsome gratitude. This is a concession and a mercy from your Lord. He who transgresses after this will have a painful doom. (2:178)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِبْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
﴿٢ البقرة ١٧٨﴾

اے ایمان والو! تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص لینے (یعنی خون کے بدلے خون) کا حکم دیا جاتا ہے (اس طرح پر کہ) آزاد کے بدلے آزاد (مارا جائے) اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر قاتل کو اس (مقتول) کے بھائی (قصاص میں سے) کچھ معاف کر دیں تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہئے اور (قاتل کو) خوش دلی کے ساتھ (دیت) ادا کرنا چاہئے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے تخفیف اور رحمت ہے جو اس کے بعد بھی سرکشی کرے اس کے لئے دردناک عذاب ہے (178:2)

THE HEIRS OF VICTIM ARE AUTHORIZED TO DEMAND "QISAS"

حق ولی المقتول بالاقتصاص

وارث کو قاتل سے قصاص کا وصولی کا حق

For Details Consult Next Page 560

وللتفصیل انظر الصفحة الالية ٥٦٠

تفصیل کے دیکھئے اگلا صفحہ 560

GOVERNMENT SHOULD ENSURE THE PAYMENT OF "QISAS" (JUST RETRIBUTION) TO LEGAL HEIRS OF THE VICTIM,

And slay not the life, which Allah has forbidden except for just cause. Whoever is slain wrongfully, We have given power to his heir (to demand Qisas or to forgive), but let him not exceed bounds in the matter of taking life (Qisas) he will be helped (by the law). (17:33)

التنفيد بالقصاص لورثة المقتول من واجب الحكومة

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّكَ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٣٣﴾

ورثاء کو قصاص دلانا حکومت کی ذمہ داری

اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر (یعنی ہفتویٰ شریعت) اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے (کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے) تو اس کو چاہئے کہ قتل (کے قصاص) میں زیادتی نہ کرے کہ بے شک وہ شخص طرف داری کے قابل ہے (33:17)

PHILOSOPHY IN THE LAW OF RETRIBUTION "QISAS"

And there is saving of life for you in the law of just retribution,, O men of understanding, that you may ward off (evil). (2:179)

الحكمة في قانون القصاص

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولِي الالْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾
﴿٢ البقرة ١٧٩﴾

قانون قصاص میں حکمت

اور اے اہل عقل (حکم) قصاص میں (تمہاری) زندگانی ہے کہ تم (قتل و خونریزی سے) بچو (179:2)

ACCIDENTAL UN - INTENTIONAL KILLING OF ANY BELIEVER

القتل خطأ

قتل خطأ (نادانستہ - سہواً)

"DIYAT" COMPENSATION PAYING AN INDEMNITY TO THE HEIRS OR DEPENDENTS OF THE VICTIM

دیتہ القتل خطأ

قتل کی خطا کی دیت

Never should a believer kill a believer unless (it be) by mistake. He who has killed a believer by mistake it is ordained to set free a believing slave and pay the blood-money to the family of the slain, unless they remit it as a charity. If he (the victim) be of a people at war to you, and he was a believer then freeing of a believing slave (is enough) and if he comes from a folk between whom and you there is a treaty of mutual alliance then the blood-money must be paid to his folk and (also) a believing slave must be set free. And whoever finds beyond his means must fast two consecutive months. A penance from Allah. Allah is Knower, Wise. (92)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا لِإِخْطَاةٍ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾
﴿٤ النساء ٩٢﴾

اور کسی مومن کو شایاں نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو (ایک تو) ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور (دوسرے) مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے ہاں اگر وہ معاف کر دیں (تو ان کو اختیار ہے) اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہئے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا ادا کریں اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرنا چاہئے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے یہ (کفارہ) اللہ کی طرف سے (قبول) توبہ (کے لئے) ہے اور اللہ سب کچھ جانتا (اور) بڑی حکمت والا ہے (92:4)

Reference : 4:29 25:68 Page 485,536

وللمزيد راجع ٤ النساء: ٢٩ ٢٥ الفرقان: ٦٨

مزید حوالہ 4:29 25:68 صفحہ 485,536

FIRST INSTANCE OF ENORMITY OF HUMAN CRUELTY ON EARTH SLAYING OF HABIL (ABLE) BY HIS BROTHER QABIL (CAIN)

اول الجريمة على الأرض في التاريخ الإنساني قابيل قتل أخاه هابيل

انسانی تاریخ کا زمین پر پہلا سنگین جرم قابیل کا اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دینا

Detail Consult : 5:28 to 32 Page 915,561

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٢٨ الى ٣٢

تفصیل کیلئے دیکھیے 5:28 تا 32 صفحہ 561,915

INTENTIONAL KILLING OF AN INDIVIDUAL IS THE KILLING OF WHOLE COMMUNITY

On account of that We prescribed with the children of Isra'el that anyone who kills any person with out another soul being involved or for causing mischief in the land acts as if he had killed all mankind. Anyone who spares life acts as if he had granted life to all mankind. Our messengers have brought them explanations. Then later on many of them committed excesses on earth. (5:32)

For Detail Consult : 17:31 Page 539

RIGHT OF SELF DEFENCE AGAINST OPPRESSION

----- And be not cast by your own hands to ruin, ----- (2:195) PART

SUICIDE (HARAKIRI) SELF DESTRUCTION

----- And kill not (or destroy not) yourselves. Surely Allah is ever Merciful to you. (4:29) PART

For Detail Consult : 2:85,195 Page 593, 278/467

INFANTICIDE SLAYING OF OFFSPRINGS

For Detail Consult : 6:137,140,151 17:31 25:68,69 Page 513, 451/513, 539, 536, 537

BURYING GIRL CHILD ALIVE - FORBIDDEN

For Detail Consult : 81:8,9 Page 457

FORCED ABORTION FORBIDDEN

----- And it is not lawful for them that they should conceal that which Allah has created in their wombs if they are believers in Allah and the Last day. ----- (2:228) PART

For Detail Consult : 6:137,140,151 17:31 25:69 Page 513, 451/513, 539, 537

قتل نفس واحدة بغير حق كقتل الناس جميعا

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُفُونَ ﴿٣٢﴾

وللتفصيل راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٣١

الحق لاحتفاظ النفس

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿٢﴾ البقرة ١٩٥ ﴿جزء

الانتحار

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿٤﴾ النساء ٢٩ ﴿جزء

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٩٥، ٨٥ الصفحة ٥٩٣، ٢٧٨/٤٦٧

قتل الأولاد

وللتفصيل راجع ٦ الأنعام: ١٣٧، ١٤٠، ١٥١، ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٣١ ٢٥ الفرقان: ٦٨، ٦٩

النهي عن وأد النبات

وللتفصيل راجع ٨١ التکویر: ٩٠، ٨ الصفحة ٤٥٧

النهي عن اسقاط الحمل

وَلَا يَحِلُّ لِهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿٢٢٨﴾ البقرة ٢٢٨ ﴿جزء

وللمزيد راجع ٦ الأنعام: ١٣٧، ١٤٠، ١٥١، ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٣١ ٢٥ الفرقان: ٦٩ الصفحة ٥١٣، ٥٢٩، ٥١٣/٤٥١، ٥١٣

ایک انسانی جان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے

اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین پر فساد مچانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچالے؛ اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان کے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے (32:5)

تفصیل کیلئے دیکھئے 31:17 صفحہ 539

اپنی جان کی حفاظت کا حق

----- اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ----- (2:195) جزو

خودکشی

----- اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے (4:29) جزو

مزید حوالہ 2:85، 195 صفحہ 467/278، 593

اولاد کا قتل

تفصیل کیلئے دیکھئے 6:137، 140، 151 17:31 25:68، 69 صفحہ 513، 451/513، 539، 536، 537

لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی ممانعت

تفصیل کیلئے دیکھئے 81:8، 9 صفحہ 457

اسقاط حمل کی ممانعت

----- اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں (یا چھپانے کی کوشش کریں) ----- (2:228) جزو

مزید حوالہ 6:137، 140، 151 17:31 25:69 صفحہ 513، 451/513، 539، 537

ISLAM ENSURING SECURITY OF POSSESSION
BELONGINGS, (PROPERTY - GOODS - WEALTH)

احسانا الاموال لى الاسلام

الاسلام يحمى المال والى حمايته

DACOITY - ROBBERY LOOTING

قطع الطريق والغارة

ڈکیتی

The only reward of those who make war upon Allah and His messenger and strive after corruption in the land will be that they be killed or crucified, or have their hands and feet from alternate sides be cut off, or will be expelled out of the land. Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be an awful doom; (5:33)

اِنَّ جَزَاءَ الَّذِي يُمَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقْتَلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٣٣﴾

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیئے جائیں یا سولی چڑھادیئے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں یا ملک سے نکال دیئے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا (بھاری) عذاب (تیار) ہے (33:5)

More Reference : 5:38 Page 562

والمزيد راجع ٥ المائدة: ٣٨: الصفحة ٥٦٢

مزید حوالہ 38:5 صفحہ 562

STEALING - THEFT

السرقه

چوری

As for the thief, both male and female, cut off their hands. It is the retribution of their own deeds, an exemplary punishment from Allah. Allah is Mighty, Wise. (5:38)

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾

اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ اور اللہ زبردست (اور) صاحب حکمت ہے (38:5)

More Reference : 5:33,39 Page 162, 316

والمزيد راجع ٥ المائدة: ٣٣:٣٩: الصفحة ١٦٢, ٣١٦

مزید حوالہ 39,33:5 صفحہ 162, 316

GAMES OF CHANCE - GAMBLING - LOTTERY
RAFFLES - DIVINING ARROWS

الميسر، الاستقسام بالازلام

جوا، لٹری، پانسہ بازی، قمار بازی
قرعہ اندازی

you who believe! Intoxicants and games of chance and idols divining arrows (divining of the future) are only an infamy of Satan's handiwork. Leave it aside in order that you may succeed. (5:90)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَسْرَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے (یہ سب) ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا کہ نجات پاؤ (90:5)

More Reference : 2:219 5:3
Page 279/501, 89/166

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢١٩: ٥ المائدة: ٣: الصفحة ١٦٦/٨٩, ٥٠١/٢٧٩

مزید حوالہ 2:219:5 3:5
صفحہ 166/89, 501/279

**ENFORCEMENT OF LAW AND ORDER
AN OBLIGATION OF ISLAMIC STATE**

**تنفيذ القانون وتسيق المجتمع
ضمنية الحكومة الإسلامية**

**امن عامہ (لائسنڈ آرڈر) کی عمل داری
اسلامی حکومت کی ذمہ داری**

**PUNISHMENT OF SPREADING HAVOC
IN SOCIETY, WAGING WAR
AND COMMITTING TREASON**

The only reward of those who make war upon Allah and His messenger and strive after corruption in the land will be that they will be killed or crucified, or have their hands and feet on alternate sides cut off, or will be expelled out of the land. Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be an awful doom; (5:33)

Those who oppose Allah and His messenger will be abased even those before them were abased; and We have sent down clear tokens, and for disbelievers is a shameful doom (58:5)

عقوبة المحاربة والإفساد في الأرض

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَيْتُومًا كَمَا كَيْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٨﴾

فساد بگاوت اور سرکشی کی سزا

جو لوگ اللہ اور اسکے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیئے جائیں یا سولی چڑھا دیئے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں یا ملک سے نکال دیئے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا (بھاری) عذاب (تیار) ہے (33:5)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ (اسی طرح) ذلیل کئے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کئے گئے تھے اور ہم نے صاف اور کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا (5:58)

More Reference : 2:60,84,205 4:30 5:32,34,64
Page 1043,592,586 556 561,319,745
7:85,86 9:47,48,63 10:23 11:85 13:25
937,998 721,186 406 485 458
16:90 18:94 26:152,183 27:48 28:77,83
459 1083 937,486 941 1031,575
29:36 42:42 47:22,23 58:20
997 556 676,662 186

والمزید راجع ٢ البقرة: ٢٠٥، ٨٤، ٦٠، ٤ النساء: ٣٠،
٥ المائدة: ٦٤، ٣٢، ٣٤، ٣٣، ٧ الأعراف: ٨٦، ٨٥،
٩ التوبة: ٤٧، ٤٨، ٦٣، ١٠ يونس: ٢٣، ١١ هود: ٨٥،
١٣ الرعد: ٢٥، ١٦ النحل: ٩٠، ١٨ الكهف: ٩٤،
٢٦ الشعراء: ١٥٢، ١٨٢، ٢٧ النمل: ٤٨، ٢٨ القصص: ٨٢، ٧٧،
٢٩ العنكبوت: ٣٦، ٤٢ الشورى: ٤٢، ٤٧ محمد: ٢٢، ٢٣،
٥٨ المجادلة: ٢٠،

مزید حوالہ 2:60,84,205 4:30 5:32,34,64
صفحہ 745,319,561 556 586,592,1043
25:13 85:11 23:10 63,48,47:9 86,85:7
458 485 406 186,721 998,997
83,77:28 48:27 183,152:26 94:18 90:16
575,1031 941 486,937 1083 459
20:58 23,22:47 42:42 36:29
186 662,676 556 997.

ABETMENT OF CRIME FORBIDDEN

النهي عن الإغراء على الجريمة

امداد و اعانت جرم کی ممانعت

**DEVELOPING INTIMACY WITH
THE TRANSGRESSORS OF DIVINE LIMITS
FORBIDDEN**

You will not find any folk who believes in Allah and the Last Day loving those who oppose Allah and His messenger, even though they be their fathers or their sons or their brethren or their clan. As for such, He has written faith upon their hearts and has strengthened them with a Spirit from Him, and He will bring them into Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide. Allah is well pleased with them, and they are well pleased with Him. They are Allah's party. Is it not Allah's party who are the successful? (58:22)

**النهي عن اتخاذ البطانة
ممن يشاقق الله والرسول**

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

**اللہ تعالیٰ اور رسول کے باغیوں
کی اعانت - ایک جرم**

جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان (پتھر پر لکیر کی طرح) تحریر کر دیا ہے اور فیض نبی سے ان کی مدد کی ہے۔ اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے (اور) سن رکھو کہ اللہ کا لشکر ہی مراد حاصل کرنے والا ہے (22:58)

More Reference : 5:2 11:113 28:83
Page 289, 575

والمزید راجع ٥ المائدة: ٢، ١١ هود: ١١٣، ٢٨ القصص: ٨٣،
الصلوة: ٢٨٩، ٥٧٥

مزید حوالہ 5:2 11:113 28:83
صفحہ 575, 289

DIVINE LIMITS

حدود اللہ

حدود اللہ

And anyone who disobeys Allah and His messenger and transgresses His limits, He will make him enter the Fire, where such will dwell forever; his will be a shameful doom. (4:14)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾
﴿٤ النساء ١٤﴾

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا (4:14)

More Reference : 2:187,229,230
Page 262/263,527/529,528
4:13 9:97 58:4 65:1
512 728 525 527/530

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٨٧، ٢٢٩، ٢٣٠، ٤ النساء: ١٣، ٩ التوبة: ٩٧، ٥٨ المجادلة: ٤، ٦٥ الطلاق: ١

مزيد حوالہ 2:187,229,230 صفحہ 262,263/263,262,527,529,528
13:4 230,229,187:2
512 528,529/527,263/262
1:65 4:58 97:9
530/527 525 728

KEEPING THE LIMITS ORDAINED BY ALLAH (SWT)

These are the limits (imposed by) Allah. Whoever obeys Allah and His messenger, He will make him enter Gardens underneath which rivers flow, where such will dwell forever. That will be the great success. (4:13)

محافظة حدود الله
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾
﴿٤ النساء ١٣﴾

حدود اللہ کی پابندی اور حفاظت
(تمام احکام) اللہ کی حدیں ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرماں برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے (4:13)

More Reference : 2:65,173,187,197,222
Page 1070,505,262/263,288,535
2:223,229,230 4:3 to 14 5:32,34,35,45
35,527/529,528 520,512 561,319,294,593
9:120 8:5 9:49,119 23:6,7 24:2 58:4
82/483 697 722,574 540 536 525
65:1 70:30,31 90:14
71/530 540 126

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٧٣، ١٨٧، ١٩٧، ٢٢٢، ٤ النساء: ٣، ١٤، ٥ المائدة: ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٤٥، ٥٥: ٣٥، ٦ الأنعام: ١٢٠، ٨ الأنفال: ٥، ٩ التوبة: ٤٩، ١١٩، ٢٣ المؤمنون: ٧، ٢٤ النور: ٢، ٥٨ المجادلة: ٤، ٦٥ الطلاق: ١، ٧٠ المعارج: ٣١، ٣٠، ٩٠ البلد: ١٤

مزيد حوالہ 2:65,173,187,197,222 صفحہ 1070,505,262/263,288,535
5:8 120:6 45,35,34,32:5 14:3:4
697 483/482 593,294,319,561 512,520
1:65 4:58 2:24 7,6:23 119,49:9
530/527 525 536 540 574,722
14:90 31,30:70
126 540

Consult Chapter : "Assassination and Retribution" 559
"Fasting" "Seclusion in Mosques" "Divorce" 262 264 526/528
"Initiating Divorce by wife" "Laws of Heritage" 529 510
"Pronouncing of wife as Mother" "Privileges of divorced women" "Prescribed Period" "Islam" 524 530
"Ensuring Security of Possessions" "Enforcement of law and order" "Sex Discipline" "unlawful foods" 562 563 535 505
"Toxicant Beverages" "Narcotics" 505

والتفصيل راجع باب : القتل متعمداً، القصاص، الصوم، 262 559 559
الأعتكاف، الطلاق، الخلع، قوانين التراث، الظهار، 264 526/528 264
استحقاق المرأة المطلقة، قوانين العدة، احتفاظ الاموال في الاسلام، تنفيذ القانون و تنسيق المجتمع، 530 530
قوانين العلاقات الجنسية، الحرام من الاغذية، الخمر، 562 562
المحذرات و مركبات الصبار، 505 505

تفصيل کیلئے دیکھئے باب : قتل عمد و قصاص، روزہ، اعتکاف، طلاق، خلع، احکام وراثت، ظہار، مطلقہ عورت کے حقوق، قوانین عدت، اسلام میں انسانی مال کی حفاظت، امن عامہ کی عمل داری، جنسی تعلقات کے ضوابط، حرام غذائیں، شراب، نشہ، 264 262 559
529 526/528 510 524 530
531 562 563
505 505 535
505

NON OBSERVANCE OF DIVINE LIMITS IS DISBELIEVING

انکار حدود اللہ کفر

حدود اللہ سے انکار کفر ہے

ULTIMATE FATE OF THE BYGONE TRANSGRESSING NATIONS

عاقبۃ المعتدین لحدود اللہ

اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنیوالی اقوام کا انجام

Is that you may put trust in Allah and His messenger. Such are the limits imposed by Allah; and for disbelievers is a painful doom. (8:4) PART

ذَلِكَ لِمَنْ تَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ المجادلة ٤﴾ جزء

کہ تم اللہ اور رسول کے فرماں بردار ہو جاؤ۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لئے درد دینے والا عذاب ہے (8:58) جزو

Reference Consult : Page : 933,941
1001,1111,1108,1101,1069

والمزيد راجع الصفحة ٩٣٣، ٩٤١، ٩٦٨، ١٠٠١، ١١١١، ١١٠٨، ١١٠١، ١٠٦٨

مزيد حوالہ کیلئے صفحہ 933,941,1001,968,941,933 صفحہ 1111,1108,1101,1069

PENAL PHILOSOPHY IN ISLAM

تصور العقوبة في الإسلام

اسلام میں سزا کا تصور

For Detail Consult : 4:16,34 Page 540, 532

والتفصيل راجع ٤ النساء: ١٦، ٣٤: الصفحة ٥٤٠، ٥٣٢

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:16,34 صفحہ 532, 540

REPRIMANDING

التأنيب

سزائش

For Detail Consult : 4:34 24:2,4
Page 522/523, 536, 537

والتفصيل راجع ٤ النساء: ٣٤: ٢٤ النور: ٤٠٢:
الصفحة ٥٣٧، ٥٢٣/٥٢٢

تفصیل کیلئے دیکھئے 4,2:24 34:4
صفحہ 537, 536, 523/522

SOCIAL BOYCOTT
OSTRACIZING

المقاطعة (الهجر الاجتماعي)

سوشل بائیکاٹ (معاشرتی قطع تعلق)

For Detail Consult : 4:15,16 24:2
Page 537, 540, 536

والتفصيل راجع ٤ النساء: ١٦، ١٥: ٢٤ النور: ٢:
الصفحة ٥٣٦، ٥٤٠، ٥٣٧

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:24 16,15:4
صفحہ 536, 540, 537

CONFINEMENT DETENTION
OSTRACIZING

حبس بالمعزل

قید تنہائی

For Detail Consult : 4:15 12:25,32,33,35,36,39,42,100
Page 537, 981, 983, 894, 895, 985, 994

والتفصيل راجع ٤ النساء: ١٥، ١٢ يوسف: ١٠٠، ٤٢، ٣٩، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠:
الصفحة ٩٩٤، ٩٨٥، ٨٩٥، ٨٩٤، ٩٨٣، ٩٨١، ٥٣٧

تفصیل کیلئے دیکھئے 100,42,39,36,35,33,32,25:12 15:4
صفحہ 994, 985, 895, 894, 983, 981, 537

CONCEPT OF PRISONS AND JAILS
(SOLITARY CONFINEMENT)

تصور التسجين

جیل کا تصور سزائے قید

For Detail Consult : 12:35 Page 983

والتفصيل راجع ١٢ يوسف: ٣٥: الصفحة ٩٨٣

تفصیل کیلئے دیکھئے 35:12 صفحہ 983

CONDITIONAL
RELEASE ON PAROLE
OF PRISONER

وضع المنزل تحت المراقبة
إطلاق سراح مشروط بوعده شرف

مجرموں کو زیر نگرانی رکھنا
پیروں پر رہائی کا تصور

For Detail Consult : 24:32 Page 520

والتفصيل راجع ٢٤ النور: ٣٢: الصفحة ٥٢٠

تفصیل کیلئے دیکھئے 32:24 صفحہ 520

PROBATION
FOR CONVICTED OFFENDER

الوعظ في السجن لإصلاح المجرمين

قیدیوں کی اصلاح کے لیے جیل میں تبلیغ دین

For Detail Consult : 12:39,40 Page 984

والتفصيل راجع ١٢ يوسف: ٤٠، ٣٩: الصفحة ٩٨٤

تفصیل کیلئے دیکھئے 40,39:12 صفحہ 984

PHILOSOPHY OF CORPORAL
PUNISHMENT IN ISLAM

حكمة العقوبة في الإسلام

اسلام میں جسمانی سزا کی حکمت

PUBLIC DISCLOSEURES
OF PUNISHMENT

تنفيذ العقوبة على رؤوس الأشهاد

تشہیر سزا

CALLING A GROUP OF PEOPLE TO WITNESS
THE CORPORAL PUNISHMENT OF THE LEWDERS IS
TO ADMONISH THE PUBLIC
FROM SUCH ACT OF ABOMINATION

شهود طائفة من المؤمنين
على عذاب الزاني والزانية
للتشهير وإصلاح المجتمع

بدکاری اور (زنا) کے مجرموں کی سزا پر
مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی برائے
تشہیر و اصلاح معاشرہ

The adulterer and the adulteress,
scourge you each one of them (with)
a hundred stripes. And let not pity
for the twain withhold you from
complying with Allah's religion, if
you believe in Allah and the Last
Day. And let a party of believers
witness their punishment. (24:2)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾
﴿٢٤ النور﴾

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد
(جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو) دونوں میں
سے ہر ایک کو سو درے لگاؤ۔ اور اگر تم اللہ اور روز
آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شریعت اللہ (کے حکم کی
تعمیل) میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے اور چاہئے
کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی
موجود ہو (2:24)

More Reference : 24:4 Page 537

والمزيد راجع ٢٤ النور: ٤: الصفحة ٥٣٧

مزید حوالہ 4:24 صفحہ 537

النظام الجنائی الاسلامی

الاسلام میں تعزیری سزائوں کا نظام

PENAL CODE - CRIMINAL LAW
IN ISLAM

BLOOD MONEY

For Detail Consult : 2:178 4:92 Page 559,560

COMPENSATION TO THE HEIRS OR
DEPENDENTS OF THE VICTIM

For Detail Consult : 2:178 4:92 Page 559,560

DEATH PENALTY

For Detail Consult : 5:33,41 to 44 58:22
Page 162, 744, 576, 187
Consult Chapters Murder and TreasonPUNISHMENT OF "RAJIM"
(STONING TO DEATH) FOR ADULTERERS (MARRIED
MAN AND WOMAN) WAS ALSO PRESCRIBED IN
"TORAH" (THE LAW OF MOSES)For Detail Consult : 5:41 to 44
Page 744, 576PUNISHMENT OF WHIPPING
(LASHES - STRIPING - FLOGGING) FOR
THE CRIMES OF FORNICATION - ADULTERY

For Detail Consult : 24:2,4 Page 536,514

DACOITY - ROBBERY LOOTING

For Detail Consult : 5:33 Page 162

STEALING - THEFT

For Detail Consult : 5:38 Page 562

PUNISHMENT OF
CUTTING OF HANDS OR FEETFor Detail Consult : 5:33,38 Page 562
Consult Chapters of : Dacoity-Robbery-Looting-Theft

TREASON

For Detail Consult : 5:33 Page 562

PUNISHMENT OF SPREADING HAVOC
IN SOCIETY, WAGING WAR

For Detail Consult : 5:33 Page 562

القصاص

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۱۷۸ ۴ النساء: ۹۲

الدية

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۱۷۸ ۴ النساء: ۹۲

الإعدام

وللتفصیل راجع ۵۸ المجادلة: ۲۲ ۵ المائدة: ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴
الصفحة ۱۸۷، ۵۷۶، ۷۴۴، ۱۶۲
انظر ابواب عقوبة المحاربة والفساد في الارضعقوبة الرجم، للزانی والزانیة
كانت موجودة في التوراةوللتفصیل راجع ۵ المائدة: ۴۱ الى ۴۴
الصفحة ۵۷۶، ۷۴۴

عقوبة الجلد من جريمة الزنى

وللتفصیل راجع ۲۴ النور: ۴، ۵ الصفحة ۵۱۴، ۵۳۶

قطع الطريق والغارة

وللتفصیل راجع ۵ المائدة: ۳۳ الصفحة ۱۶۲

السرقه

وللتفصیل راجع ۵ المائدة: ۳۸ الصفحة ۵۶۲

عقوبة قطع يد اورجل

وللتفصیل راجع ۵ المائدة: ۳۸، ۳۳ الصفحة ۵۶۲
ابواب قطع الطريق والغارة، السرقه الصفحة ۵۶۲

المحاربة

وللتفصیل راجع ۵ المائدة: ۳۳ الصفحة ۵۶۲

عقوبة الإفساد في الأرض

وللتفصیل راجع ۵ المائدة: ۳۳ الصفحة ۵۶۲

قصاص

تفصیل کیلئے دیکھئے 178:2 92:4 صفحہ 560,559

خون بہا (دیت)

تفصیل کیلئے دیکھئے 178:2 92:4 صفحہ 560,559

سزائے موت

تفصیل کیلئے دیکھئے 22:58 41:33، 44
صفحة 187, 576, 744, 162
مطالعہ ابواب قتل و بغاوترجم کی تعزیری سزا (شادی شدہ زانی مرد
اور عورت کو پتھر مار کر ہلاک کر دینے) کا حکم تورات
(شریعت موسیٰ علیہ السلام) میں بھی موجود تھاتفصیل کیلئے دیکھئے 41:5 44
صفحة 576, 744کوڑوں کی سزا
زنا اور بدکاری کے مجرموں کیلئے

تفصیل کیلئے دیکھئے 4,2:24 صفحہ 514,536

ڈکیتی

تفصیل کیلئے دیکھئے 33:5 صفحہ 162

چوری

تفصیل کیلئے دیکھئے 38:5 صفحہ 562

ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا

تفصیل کیلئے دیکھئے 38,33: 5 صفحہ 562
عنوان ڈکیتی، چوری صفحہ 562

بغاوت

تفصیل کیلئے دیکھئے 33:5 صفحہ 562

فساد اور سرکشی کی سزا

تفصیل کیلئے دیکھئے 33:5 صفحہ 562

**RULES OF EVIDENCE
WITNESS - TESTIMONY**

ضوابط الشہادۃ

گواہی (شہادت) کے اصول

<p>OBLIGATIONS OF A WITNESS</p>	<p>فرائض الشاہد</p>	<p>گواہ کے فرائض</p>
<p>BEAR WITNESS TO THE TRUTH</p>	<p>الأمر بالثبات على الشهادة الحق</p>	<p>سچی گواہی دینے کا حکم</p>
<p>YOUR PERSONAL INTERESTS OR ANY RELATION MAY NOT HINDER YOU FROM TESTIMONY OF TRUTH AND FAIR PLAY</p>	<p>لا تكن المنفعة الذاتية أو قرابة سدا بين نصب العدل والشهادة الحق</p>	<p>تمہارا ذاتی مفاد۔ کوئی رشتہ یا تعلق بھی انصاف اور سچی گواہی میں رکاوٹ نہ بنے</p>
<p>O you who believe! Be you staunch in justice, witness for Allah, even though it be against yourselves or (your) parents or (your) near relatives, whether (the case be of) a rich man or a poor man, for Allah is closer to both (than you are). So follow not passion lest you lapse (from truth) and if you lapse or fall away, then Allah is ever Informed of what you do. (4:135)</p>	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾</p>	<p>اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لئے سچی گواہی دو خواہ (اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم نے سچ بیانی یا پہلو تھی (شہادت سے بچنے کی کوشش کی) تو (جان رکھو) اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے (135:4)</p>
<p>More Reference : 4:6 5:8,106 16:92 70:33 Page 461, 567, 508, 570, 569, 767</p>	<p>والمزید راجع ٤ النساء: ٦ ٥ المائدة: ١٠٦ ١٦ النحل: ٩٢ ٧٠ المعارج: ٣٣</p>	<p>مزید حوالہ 6:4 106,8:5 92:16 33:70 صفحہ 461, 569, 570, 508, 567, 767</p>
<p>NEVER LET HATRED OF ANYONE LEAD YOU INTO SIN OF DEVIATING FROM TRUE TESTIMONY (OR EVIDENCE) AND JUSTICE</p>	<p>الأمر بالثبات على العدل ولو كان للعدو</p>	<p>کسی سے تمہاری ذاتی دشمنی بھی انصاف اور سچی گواہی میں رکاوٹ نہ بنے</p>
<p>O you who believe! Be steadfast witnesses for Allah in equity, and let not hatred of any people seduce you that you deal not justly. Deal justly, that is nearer to your duty. Observe your duty to Allah. Allah is Informed of what you do. (5:8)</p>	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾</p>	<p>اے ایمان والو! اللہ کے لئے انصاف کی گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیز گاری کی بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے (8:5)</p>
<p>DO NOT CLOAK TRUTH WITH FALSEHOOD OR HIDE THE FACTS WHILE YOU REALIZE</p>	<p>لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق</p>	<p>سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی جان بوجھ کر سچ کو چھپاؤ</p>
<p>Confound not truth with falsehood, nor knowingly conceal the truth. (2:42)</p>	<p>وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكَلَّمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾</p>	<p>اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ (42:2)</p>

TESTIFY THE FACTS WITHOUT AMBIGUITY DO NOT TEMPER THE FACTS BY TRICKING THESE OUT IN COLOURS OF FALSEHOOD TO PREVENT THE ACCESS TO TRUTH

To Allah (belongs) whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth; and whether you make known what is in your minds or hide it, Allah will bring you to account for it. He will forgive whom He wills and He will punish whom He wills. Allah is Able to do all things. (2:284)

People of the Scripture! Why do you confound truth with falsehood and knowingly conceal the truth? (3:71)

WITNESS MUST NOT HESITATE (REFUSE) TO GIVE EVIDENCE WHENEVER SUMMONED

And the witnesses must not refuse when they are summoned----- (2:282) PART

PHILOSOPHY IN STIPULATION OF TWO WOMEN WITNESSES TO SUBSTITUTE SINGLE MALE WITNESS

And call to witness, from among your men folk, two witnesses. And if two men are not available then a man and two women, may serve as witnesses of such as you approve as witnesses, so that if (the one female witness errs through forgetfulness) the other will remind her.----- (2:282) PART

ONUS TO PROVE ALLEGATION LIES ON THE PLAINTIFF EQUATE EVIDENCE FOR CLAIM OR CHARGE

And those who accuse honorable men but bring not four witnesses, scourge them (with) eighty stripes and never afterward accept their testimony--they indeed are evildoers---- (24:4)

لتكن الشهادة واضحة غير معقدة و غير متشابهة

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤ البقرة ٢٨٤﴾

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِالْحَقِّ يٰٓاَلْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١ آل عمران ٧١﴾

لا يجوز اباء الشهادة عند الطلب

وَلَا يٰٓاَبَ الشُّهَدَآءِ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ ----- ﴿٢٨٢ البقرة ٢٨٢﴾ جزء

الحكمة في شهادة رجلين اور رجل وامرأتين

وَاَسْتَشْهَدُ وَاَشْهَدُكُمِنْ مِّنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ اَرَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحَدُهُمَا فَتَذَكِّرْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى ؕ ----- ﴿٢٨٢ البقرة ٢٨٢﴾ جزء

البينة على المدعى

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءٍ فَاَجْلِدُوْهُم مِّنْ اَرْبَعَةِ جَلَدٍ ؕ وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِقُوْنَ ﴿٢٤ النور ٢٤﴾

گواہی صاف الفاظ میں دو جو واضح ہو بیچ دار اور مبہم نہ ہو

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا تم ظاہر کرو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (2:284)

اے اہل کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ غلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو (71:3)

گواہی کے لئے طلب کیا جائے تو ہرگز انکار نہ کرو اور نہ جی چراؤ

اور جب گواہ (گواہی کے لئے) طلب کئے جائیں تو انکار نہ کریں ----- (2:282) جزو

ایک مرد کی گواہی کے بدلے دو عورتوں کی گواہی کے احکامات میں حکمت

اور اپنے میں سے دو مردوں کو (ایسے معاملے کے) گواہ کر لیا کرو۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو (کافی ہیں) کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلائے گی۔----- (2:282) جزو

بار ثبوت مدعی پر عائد ہوتا ہے اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لئے مناسب گواہی پیش کرے

اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں (4:24)

DO NOT USE YOUR TESTIMONY AS MEANS OF DEVIATING FROM JUSTICE

And be not like to her who unravels the yarn, (after its strands have been firmly spun,) making your oaths a deceit between you because of a nation being more numerous than (another) nation. Allah only tries you thereby, and He will explain to you on the Day of Resurrection that wherein you differ. (16:92)

لا تكن شهادتكم سدا بين نصب العدل

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾
﴿١٦ النحل ٩٢﴾

تمہاری گواہی انصاف دلانے میں رکاوٹ نہ بنے

اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے سوت کا تا۔ پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن توں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا (92:16)

SUPPRESSING A TESTIMONY OR CONCEALING EVIDENCE IS WICKEDNESS

-----And who is more unjust than someone who hides a testimony (some evidence) from Allah which he holds? Allah is not unaware of what you do. (2:140) PART

کتمان الشهادة ظلم

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾
﴿٢ البقرة ١٤٠﴾ جزء

گواہی کو چھپانا ظلم ہے

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس (کتاب میں موجود) ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں (140:2) جزو

IMPORTANCE OF A WITNESS IN JUDICIAL PROCEDURE

For Detail Consult : 2:283 4:15,135 5:8,106 Page 495/509, 567, 537, 508/570

أهمية الشاهد في نظام العدل

وَاللَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَارِهُونَ إِذْ يَقُولُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أُنبِئَكَ اللَّهُ بِصَلَاتِكَ وَنَذِيرِكَ وَإِنَّا لَمَنبِئُونَكَ أَنَّكَ لَا تُؤْمِنُ ﴿٢٨٣﴾
١٣٥:١٥ النساء ٢٨٣ البقرة ٢ المائدة ١٠٦:٨ الصفحة ٥٧٠/٥٠٨، ٥٣٧، ٥٦٧، ٥٠٩/٤٩٥

نظام عدل میں گواہ کی اہمیت

تفصیل کیلئے دیکھئے 283:2 135:4 106:8:5 صفحہ 570/508, 537, 567, 509/495

TRUE SERVANTS OF ALLAH (SWT) NEVER BEAR FALSE WITNESS

And those who witness no falsehood and if they pass by futilty, they pass by it with honourable (avoidance). (25:72)

Shall I inform you upon whom the devils descend? (26:221)

They descend on every sinful, false one. (26:222)

They listen eagerly, but most of them are liars. (26:223)

عباد الرحمن لا يشهدون الزور

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾
﴿٢٥ الفرقان ٧٢﴾

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٢١﴾

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ فَاجٍ أُنْيَا ﴿٢٢٢﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٢٢﴾

يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَآكُثْرَهُمْ كَذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٢٣﴾

اللہ کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے

اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب انہیں بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں (72:25)

(اچھا) میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ (221:26)

ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں (222:26)

جو سنی ہوئی بات (اس کے کان میں) لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں (223:26)

More Reference : 2:283 4:135 5:8 22:30 Page 495/509, 567, 149/293

والمزید راجع 283:2 البقرة 2 النساء 135:15 المائدة 106:8:5 22:30 الحج 30

مزید حوالہ 283:2 135:4 106:8:5 22:30 صفحہ 293/149, 567, 509/495

DISQUALIFICATION OF A WITNESS

And those who accuse honorable women but bring not four witnesses, scourge them (with) eighty stripes and never (afterward) accept their testimony They indeed are evildoers--(24:4)

تجزید شاہد من اہلیۃ الشہادۃ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾
﴿٢٤ النور ٤﴾

گواہ کی نااہلیت

اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو انہیں اسی درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں (4:24)

PROCEDURE OF SOLEMN DECLARATION OF WITNESS (TESTIMONY)

-----If you doubt (their truth) You shall detain them both after the prayer, and, they shall be made to swear by Allah (saying): We will not take a bribe, even though it were (on behalf of) a near kinsman nor will we hide the testimony of Allah, for when indeed we should be of the unful. (5:106) PART

طریقۃ الشہادۃ الحلفیۃ

-----تَحْسِبُونَهُمَا
مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ
ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِذَا إِذَا لَمِنَ الْأَشْمِئِينَ ﴿٥﴾
﴿٥ المائدہ ١٠٦﴾ جزء

حلفیہ گواہی کا طریقہ کار

-----اگر تمہیں ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو انہیں (عصر کی) نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے (106:5) جزو

BEARING WITNESS ON WRITTEN AGREEMENTS (DOCUMENTATION)

For Detail Consult : 2:282,283 Page 494

الشہادۃ علیٰ أساس الوثائق

وللتفصیل راجع ٢ البقرۃ: ٢٨٢، ٢٨٣ الصفحة ٤٩٤

تحریری شہادت (دستاویزات) پر گواہی

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:282,283 صفحه 494

OBLIGATIONS OF A SCRIBE (WRITER OF THE EVIDENCE)

For Detail Consult : 2:282,283 Page 494

مسئولیۃ کاتب الشہادۃ

وللتفصیل راجع ٢ البقرۃ: ٢٨٢، ٢٨٣ الصفحة ٤٩٤

شہادت لکھنے والے (وثیقہ نویس) کے فرائض

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:282,283 صفحه 494

SECURITY OF THE WITNESS

For Detail Consult : 2:282,283 Page 494

وقایۃ الشہداء من الضرر

وللتفصیل راجع ٢ البقرۃ: ٢٨٢، ٢٨٣ الصفحة ٤٩٤

گواہ کا تحفظ

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:282,283 صفحه 494

CONCEPT OF IDENTIFICATION THROUGH THUMB IMPRESSION

Does mankind think, We cannot assemble their bones? (75:3)

In course, We are capable to put together in perfect order (shaping) the very tips of his fingers. (75:4)

إثبات التعرف عن طریق البصامات

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ ﴿٣﴾
﴿٧٥ القیمۃ ٣﴾
بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسْوِيَّ بَنَانَهُ ﴿٤﴾
﴿٧٥ القیمۃ ٤﴾

انسانی انگوٹھے (اور انگلیوں کے پوروں) کے نشانات سے قدرتی نظام شناخت کا تصور

کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بھری ہوئی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ (3:75)

ہاں ضرور کریں گے ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی (انگلیوں کے) پور پور تک درست کر دیں (4:75)

**OATH - SWEARING - PLIGHTED WORD
(A SOLEMN TESTIMONY BEFORE ALLAH (SWT)
TO WITNESS THE TRUTH OF A STATEMENT)**

الایمان والیمن

قسمیں اور حلف

<p>OBSERVE YOUR OATHS FAITHFULLY BE MINDFUL OF YOUR OATHS</p>	<p>الالتزام بحفظ الأيمان</p>	<p>قسم اور حلف کی حفاظت کا حکم</p>
<p>TAKE NO FUTILE OATH</p>	<p>النهي عن اليمين الغموس</p>	<p>جھوٹی قسم اٹھانے کی ممانعت</p>
<p>DO NOT BARTER AWAY YOUR OATHS FOR TRIFLING GAINS</p>	<p>لا تحلفوا للحصول على المنافع المادية التافهة</p>	<p>معمولی دنیاوی فائدے کے لئے قسمیں نہ اٹھاؤ</p>
<p>DO NOT MAKE YOUR OATHS EVERY NOW AND THEN</p>	<p>لا تحلفوا على كل شيء تافه</p>	<p>ہر بات پر (بے مقصد) قسم نہ کھاؤ</p>
<p>Those who barter a small gain at the cost of Allah's covenant and their oaths, they have no share in the Hereafter. Allah will neither speak to them nor even notice them on the Day of Resurrection, nor will He purify them. Theirs will be a painful doom. (3:77)</p>	<p>إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّرُهُمْ وَلَا يَذَكِّرُهُمْ وَلَا يَذَكِّرُهُمْ وَلَا يَذَكِّرُهُمْ ﴿٣ آل عمران ٧٧﴾</p>	<p>بے شک جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں (کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان) کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا (77:3)</p>
<p>-----And keep your oaths. Thus Allah expounds to you His verses in order that you may give thanks. (5:89) PART</p>	<p>وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ ﴿٥ المائدة ٨٩﴾ جزء</p>	<p>----- اور (تمہیں) چاہئے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے (سمجھانے کے) لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو (89:5) جزو</p>
<p>And fulfill the covenant to Allah when you have pledged to do so and break not your oaths once have sworn in you, and after you have made Allah surety over you. Allah Knows what you do. (16:91)</p>	<p>وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ ﴿١٦ النحل ٩١﴾</p>	<p>اور جب اللہ سے عہد (پورا) کرو تو اس کو پورا کرو اور جب کئی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے (91:16)</p>
<p>And make not use of your oaths to take advantage over one another, lest a foot should slip after being firmly planted and you should taste evil for as much as you debarred (men) from the way of Allah, and yours should be an awful doom. (16:94)</p>	<p>وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ ﴿١٦ النحل ٩٤﴾</p>	<p>اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ (لوگوں کے) قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ تمہیں عذاب کا مزا چکھنا پڑے۔ اور بڑا سخت عذاب ملے (94:16)</p>
<p>And sell not Allah's covenant for a small gain only, which Allah has is best for you, if you only realized it. (16:95)</p>	<p>وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ ﴿١٦ النحل ٩٥﴾</p>	<p>اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے (اس کو مت بیچو اور) اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ (کیوں کہ ایمانے عہد کا) جو (صلہ) اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لئے بہتر ہے (95:16)</p>

More Reference :	2:27,63	4:155	5:1,12,53	والمزيد راجع	٢ البقرة: ٢٧، ٦٣	٤ النساء: ١٥٥	53,12,1:5	155:4	63,27:2
Page	458,1052	204	288,1045,748	٥ المائدة: ١٢، ١٣	٧ الأعراف: ١٦٩	١٣ الرعد: ٢٠	748,1045,288	204	1052,458
	7:169	13:20	17:34	٢٣ المؤمنون: ٨	١٧ الإسراء: (بنما إسرائيل): ٣٤	٢٣ المؤمنون: ٨	32:70	8:23	34:17
	598	468	468/461	٢٣ المؤمنون: ٨	٧٠ المغارح: ٣٢	٢٣ المؤمنون: ٨	765	492	461/468
			492						468
			765						598

**DO NOT MAKE YOUR OATHS
A COVER FOR YOUR FALSENESS**

They make a shelter of their oaths and turn (men) from the way of Allah; so theirs will be a shameful doom. (58:16)

They make their faith a pretext that they may turn (men) from the way of Allah. Evil is that which they do, (2:2)

**ACCOUNTABLE OATHS
(SWORN IN EARNEST)**

But He will take you to task for that which your hearts have garnered. Allah is Forgiving, Clement. (2:225) PART

But He will take you to task for the oaths which you swear in earnest. (2:225) PART

**UNACCOUNTABLE OATHS
(UTTERED WITHOUT PREMEDIATION)**

Allah will not take you to task for that which is unintentional in your oaths. (2:225) (5:89) PART

**AN OATH WILL SAVE THE FALSIFIER FROM THE
CONSEQUENCE ON THE DAY OF JUDGEMENT**

On the Day when Allah will raise them all together, then they will appear to Him as they (now) swear to Him, and they will think that they have some standing. No, indeed! They are but liars it not they who are liars? (58:18)

**LIBERATE OATHS (EVERY PROMISE MADE)
WILL BE ACCOUNTED FOR
ON THE JUDGEMENT DAY**

And keep the covenant. Surely the covenant will be asked. (17:34) PART

اتخاذ الأيمان جنة

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمْ عَدَابُ اللَّهِ مِثْلُ مِثْلِهِ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ المجادلة ١٦﴾

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾
﴿٦٣ المنفقون ٢﴾

الأيمان المستوجبة للمواخاة

وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾
﴿٢ البقرة ٢٢٥﴾ جزء

وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ بِالْإِيمَانِ ﴿٨٩﴾
﴿٥ المائدة ٨٩﴾ جزء

الأيمان اللغو

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴿٢٢٥﴾
﴿٢ البقرة ٢٢٥﴾ ﴿٥ المائدة ٨٩﴾ جزء

لا ينع الحلف يوم القيامة

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ المجادلة ١٨﴾

**العهد و الأيمان يسأل
عنها يوم القيامة**

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنى اسرائيل ٣٤﴾ جزء

قسموں کو ڈھال نہ بناؤ

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور اس کی آڑ میں (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روک دیا ہے سو ان کے لئے ذلت کا عذاب ہے (16:58)

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال (آڑ) بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے (لوگوں کو) راہ اللہ سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں (2:63)

قابل مواخاة قسمیں

لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاؤ گے ان پر (اللہ) پکڑے گا اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے (225:2) جزو

لیکن پختہ قسموں پر (جن کو) سچے دل سے کھاتے ہو اللہ پکڑے گا۔ (89:5) جزو

غیر جواب دہ قسمیں

اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا۔ (225:2) (89:5) جزو

روز قیامت قسموں سے کام نہیں چلے گا

جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں (اسی طرح) اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ (ایسا) کرنے سے کام لے نکلتے ہیں۔ دیکھو یہ جھوٹے (اور سراسر غلط) ہیں (18:58)

حلف اور قسم کی روز حساب پرش ہوگی

عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرش ہوگی (34:17) جزو

ATONEMENT FOR A SIN

إزالة الإثم

ازالہ گناہ

EXPIATION - MAKING AMENDS

-----The exoneraton for it is the feeding of ten of the needy with the average of that wherewith you feed your own families, or the clothing of them, or the liberation of a slave, and for him who finds not (the resources to do so) then should fast for three days. This is the penance of your oaths when you have sworn ----- (5:89) PART

Except of him who has done wrong and afterward has changed evil for good. And I am Forgiving, Merciful. (27:11)

الكفارة والتعويض

فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ
رَقَبَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا كَفَرْتُمْ. إِذَا حَلَفْتُمْ

﴿٥ المائدة ٨٩﴾ جزء
إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾
﴿٢٧ النمل ١١﴾

كفارہ اور فدیہ (تلافی)

----- تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ تین روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ (اور اسے توڑ بیٹھو)۔----- (5:89) جزو

ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں (11:27)

More Reference : 2:184,185,196 4:92
5:89,95 27:11 58:3,4
Page 263,260,100,257,560,120,171,525

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٨٤، ١٨٥، ١٩٦ ٤ النساء: ٩٢ ٥ المائدة: ٨٩، ٩٥ ٢٧ النمل: ١١ ٥٨ المجادلة: ٤٠٣

مزيد حوالہ 2:184,185,196 4:92
4,3:58 11:27 95,89:5
صفحہ 263,260,100,257,560,120,171,525

VOWS OF PENANCE

الأعمال الأخرى التي تكون كفارة

دیگر اعمال جو خطاؤں کا کفارہ بن سکتے ہیں

FEEDING INDIGENT PERSONS

إطعام مساكين كفارة

For Detail Consult : 2:184 5:89,95 58:3
Page 262/263, 264, 289, 525

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٨٤ ٥ المائدة: ٨٩، ٩٥ ٥٨ المجادلة: ٤ الصفحہ ٢٦٢/٢٦٣، ٢٦٤، ٢٨٩، ٢٥٥

مسكين کو کھانا کھلانا۔ بطور کفارہ
تفصیل کیلئے دیکھئے 2:184 5:89,95 58:3
صفحہ 262/263, 264, 289, 525

FOOD OF THE INDIGENTS SHALL MEET THE AVERAGE STANDARD OF YOUR NORMAL FAMILY FEED

ليكن طعام المسكين مثل طعام
مما تطعمون أهليكم

For Detail Consult : 5:89 Page 264/571

والتفصيل راجع ٥ المائدة: ٨٩ الصفحہ ٥٧١/٢٦٤

مسكين کو فراہم کئے جانے والے کھانے کا معیار
تمہارے اپنے گھر کے کھانے کے برابر ہونا چاہئے
تفصیل کیلئے دیکھئے 5:89 صفحہ 264/571

CLOTHING NEEDY PERSONS

كسوة المساكين

For Detail Consult : 5:89 Page 264/571

والتفصيل راجع ٥ المائدة: ٨٩ الصفحہ ٥٧١/٢٦٤

مسكين کو لباس فراہم کرنا
(کپڑے پہنانا)۔ بطور کفارہ
تفصیل کیلئے دیکھئے 5:89 صفحہ 264/571

FREEING A HUMAN BEING FROM BONDAGE OBTAINING RELEASE OF A CAPTIVE OR SLAVE

فك رقبة

For Detail Consult : 2:177 4:92 5:89 58:3
Page 473, 560, 264/571, 525

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٧٧ ٤ النساء: ٩٢ ٥ المائدة: ٨٩ ٥٨ المجادلة: ٣

کسی انسان کو قید اور غلامی سے رہائی دلانا
تفصیل کیلئے دیکھئے 2:177 4:92 5:89 58:3
صفحہ 473, 560, 264/571, 525

FASTING - (SAUM)

الصيام (كفارة)

For Detail Consult : 2:184,185,196 5:89,95
58:3,4 Page 262,209,100,264,149,525

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٨٤، ١٨٥، ١٩٦ ٥ المائدة: ٨٩، ٩٥ ٥٨ المجادلة: ٤٠٣ الصفحہ ١٠٠، ٢٠٩، ٢٦٤، ١٤٩، ٥٢٥

روزے (بطور کفارہ یا فدیہ)
تفصیل کیلئے دیکھئے 2:184,185,196 5:89,95
صفحہ 262,209,100,264,149,525

SACRIFICING (SLAUGHTERING LAWFUL ANIMAL)

الذبيحة (كفارة)

For Detail Consult : 2:196 5:95
Page 100, 289

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٩٦ ٥ المائدة: ٩٥ الصفحہ ١٠٠، ٢٨٩

حلال جانور کی قربانی (ذبح)۔ (بطور کفارہ)
تفصیل کیلئے دیکھئے 2:196 5:95 صفحہ 100, 289

ACTS OF CHARITY

الصدقة (كفارة)

For Detail Consult : 2:196 Page 100/288

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٩٦ الصفحہ ١٠٠/٢٨٨

صدقہ (بطور کفارہ)
تفصیل کیلئے دیکھئے 2:196 صفحہ 100/288

**RULES FOR PLEADING
RECOMMENDATION AND CO-OPERATION**

قواعد الرکال والشفاع والنصار

وکالت سفارش دعا و شہادت کے اصول

**BE WITH THOSE WHO ARE TRUE
IN WORDS AND DEEDS**

Q you who believe! Heed (fear) Allah, and should by those who are the truthful. (9:119)

And whoever brings the truth and believes therein - Such are the heedful. (39:33)

More Reference : 5:119 Page 868

مساعدة الصادقين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ
الضَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾
﴿٩ التوبة ١١٩﴾

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٣٣﴾

والمصنفين راجع ٥ المائدة: ١١٩: الصفحة ٨٦٨

سچے لوگوں کا ساتھ دو

اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو (119:9)

اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ پارسا ہیں (33:39)

بقرہ ١١٩: ٥ ٨٦٨

**DO NOT ADVOCATE OR ACT AS AN AGENT
FOR ANY WICKED, BETRAYER TRAITOR
CRIME INDULGER (PERSISTENT IN SINFUL WAYS)**

We reveal to you the Scripture with the truth, that you may judge between mankind by that which Allah shows you. And be not you a leader for the treacherous; (4:105)

And seek forgiveness of Allah. Surely Allah is ever Forgiving, Merciful. (4:106)

And plead not on behalf of (people) who deceive themselves. Indeed Allah loves not one who is treacherous and sinful. (4:107)

Are you those who plead for them in the life of the world. But who will plead with Allah for them on the Day of Resurrection, or who will be their defender? (4:109)

**REWARD OF INTERCEDING FOR GOOD
AND SHARE OF BURDEN FOR RALLYING EVIL**

Anyone who intercedes in a good cause will have the reward thereof, and anyone who intercedes in an evil cause will bear the consequence thereof. Allah Watches over all things. (4:85)

**النهي عن وكالة
المجرمين و الخائنين**

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ بِمَا آرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ
خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾
﴿٤ النساء ١٠٥﴾

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾
﴿٤ النساء ١٠٦﴾

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَتِيمًا ﴿١٠٧﴾
﴿٤ النساء ١٠٧﴾

هَآؤَآ تُمْ هَؤَآءَ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ
مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾
﴿٤ النساء ١٠٩﴾

**نصيب من الشفاعة حسنة
كانت أم سيئة**

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ
مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
كَفَلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٨٥﴾
﴿٤ النساء ٨٥﴾

**مجرم اور دھوکہ بازی
وکالت اور نمائندگی کی ممانعت**

ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کرو اور (دیکھئے) خیانت کرنے والوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا (105:4)

اور اللہ سے بخشش مانگنا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (106:4)

اور جو لوگ خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا کیوں کہ اللہ خیانت کرنے والے اور مجرم کو دوست نہیں رکھتا (107:4)

بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو قیامت کو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا۔ (109:4)

**اچھی اور بری سفارش کے
ثواب و عذاب میں حصہ**

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس (کے ثواب) میں سے حصہ ملے گا۔ اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس (کے عذاب) میں سے حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ (85:4)

ABETMENT OF CRIME FORBIDDEN

النهي عن المساعدة على الشر

امداد اور اعانت جرم کی ممانعت

DO NOT CO-OPERATE IN VICE AND AGGRESSION

عدم التعاون في الإثم والعدوان

گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو

-----But co-operate you one another to righteousness and pious duty. Do not co-operate one another to sin and transgression, and keep your duty to Allah. Surely Allah is severe in punishment. (5:2) PART

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾
﴿٥ المائدة ٢﴾ جزء

اور (دیکھو) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے (2:5) جزو

And incline not towards those who do wrong lest the Fire touches you, and you have no protecting friends against Allah, and afterward you would not be helped. (11:113)

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾
﴿١١ ہود ١١٣﴾

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا نہیں تو تمہیں (دوزخ کی) آگ آلیٹے گی اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تمہیں (کہیں سے) مدد مل سکے گی (11:11)

As for that Abode of the Hereafter We assign it to those who seek neither oppression in the earth, nor yet corruption. The sequel is for those who ward off (evil) (28:83)

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨ القصص ٨٣﴾

وہ (جو) آخرت کا گھر (ہے) ہم نے اسے ان لوگوں کے لئے (تیار) کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام (نیک) تو پرہیزگاروں ہی کا ہے (83:28)

More Reference : 4:30 28:17,18
Page 556, 1009

وللمزيد حوالہ ٤ النساء: ٣٠ ٢٨ القصص: ١٧، ١٨
الصفحة ٥٥٦، ١٠٠٩

مزيد حوالہ 4:30 28:17,18
صفحة 1009, 556

DETAINING ANY OTHER THAN THE CULPRIT IS UNJUST (TO SUBSTITUTE THE CRIMINAL)

القبض على غير المجرم ظلم

اصل مجرم کی بجائے کسی دوسرے کو پکڑ لینا بے انصافی ہے

He said : Allah forbids that we should seize except him with whom we found our property; then truly we should be wrongdoers. (12:79)

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِذْ أَلْظَمُونَا ﴿٧٩﴾
﴿١٢ يوسف ٧٩﴾

(یوسف نے) کہا اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں۔ ایسا کریں تو ہم (بڑے) بے انصاف ہیں (79:12)

CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE

شهادة القرائن

واقعاتی (قرینے کی) شہادت

For Detail Consult : 12:26,27,28
Page 981, 982

وللتفصيل راجع ١٢ يوسف: ٢٦، ٢٧، ٢٨
الصفحة ٩٨١، ٩٨٢

تفصیل کیلئے دیکھئے 12:26,27,28
صفحة 981, 982

RULES OF ARBITRATION

مسائل فرار الحکم

ثالث کے فرائض

OBLIGATIONS OF AN ARBITRATOR

واجبات الحکم

ثالث کے فرائض

Listeners of the falsehood! Greedy for illicit gain! If then they have recourse to you judge between them or disclaim jurisdiction. If you disclaim jurisdiction, then they cannot harm you at all. But if you judge, judge between them with equity. Allah loves the equitable. (42:5)

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾
﴿٥ المائدة ٤٢﴾

(یہ) جھوٹی باتیں بنانے کے لئے جاسوسی کرنے والے۔ اور (رشوت کا) حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس (کوئی مقدمہ فیصلہ کرانے کو) آئیں تو آپ ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا۔ اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں لگاؤ سکیں گے اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (42:5)

APPROACHING SELECTIVE JUDGES FOR RECEIVING FAVOURITISM IS A TRADITION OF HYPOCRITES

المراجعة إلى الطاغوت من خصال المنافقين

عدل وانصاف کے تقاضوں کے خلاف فیصلوں کے حصول کے لئے اپنی پسند کے ثالث یا جج سے رجوع کرنا خصلت منافقین

Have you not seen those who pretend that they believe in that which is revealed to you and that which was revealed before you, how they would go for judgement (in their disputes) to false deities when they have been ordered to abjure them? Satan would mislead them far and wide. (4:60)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَمَنَّوْا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾
﴿٤ النساء ٦٠﴾

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو (کتاب) آپ پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ کسی غیر اللہ کی طرف لے جا کر فیصلہ کرائیں۔ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ شیطان (طاغوت) کا انکار کریں اور شیطان (تو یہ) چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر کے راستے سے دور ڈال دے (60:4)

For Reference : 5:42 24:47,48,49,50 Page 576,578

والمزيد راجع ٥ المائدة: ٤٢ ٢٤ النور: ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١

50,49,48,47: 24 42: 5 576 صفحہ

NO FAVOURITISM IN ISLAMIC JUSTICE

لارعاية للقرابة عند الحکم

مقدمات (تنازعات) کا فیصلہ کرتے وقت کسی سے رعایت کرنے کی گنجائش نہیں

Detail Consult : 4:105,135 5:48,49 11:113 Page 577, 578, 575

والتفصيل راجع ٤ النساء: ١٠٥، ١٣٥ ٥ المائدة: ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١ ١١ هود: ١١٣ الصفحة ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٥

113: 11 49,48: 5 105,135: 4 575, 578, 577 صفحہ

DEVOURING ANYTHING (ASKING OR ACCEPTING BRIBES) OR PROVIDING JUSTICE OR ANY RELIEF IS FORBIDDEN

الارتشاء عند الحکم هو أكل السحت باسم العدل

انصاف کی فراہمی کے لئے رشوت لینا عدل کے نام پر حرام کھانا ہے

Detail Consult : 2:188 5:42 Page 485, 576

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٨٨ ٥ المائدة: ٤٢ الصفحة ٥٧٦، ٤٨٥، ٥٧٦

42: 5 188: 2 576, 485 صفحہ

DECLARING OF JUDGEMENT BEFORE HEARING THE OTHER PARTY WITHOUT AFFORDING THE CHANCE OF DEFENCE IS FORBIDDEN

النهي عن إصدار الحکم للقاضي قبل إتاحة الفرصة للفریق الثاني لبيان موقفه

کسی فریق مقدمہ (تنازعہ) کا موقف سننے بغیر فیصلہ سنانے کی ممانعت

Detail Consult : 38:24,25 Page 1069, 1070

والمزيد راجع ٣٨ ص: ٢٤، ٢٥ الصفحة ١٠٦٩، ١٠٧٠

25,24: 38 1070, 1069 صفحہ

**ESTABLISHING JUDICIAL SYSTEM
IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF
QURAN AND SUNNAH**

**إنشاء النظام القضائي
بموجب إرشاد الكتاب والسنة**

**کتاب و سنت کے احکام کے مطابق
نظام عدل کا قیام**

Yet by your Lord, they will not believe (in truth) until they make you judge of what is in dispute between them and find within themselves no inconvenience of that which you decided and submit with full submission. (4:65)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾
﴿٤ النساء ٦٥﴾

آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں۔ اور جو فیصلہ آپ کریں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے (65:4)

We reveal to you the Scripture with the truth, that you may judge between mankind by that which Allah shows. And be not you a pleader for the treacherous; (4:105)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ
خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾
﴿٤ النساء ١٠٥﴾

(اے پیغمبر) ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرو اور (دیکھو) دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا (105:4)

And to you We have revealed the Scripture with the truth, confirming whatever Scripture was before it, and to safeguard it. So judge between them by that which Allah has revealed, and follow not their desires away from the truth, which has come to you. For each We have given you a code of law and a traced out way. Had Allah wished He could have made you one community. But that He may try you by that which He has given you (He has made you as you are). So vie one with another in good deeds. To Allah you will all return, and He will then inform you of that wherein you differ. (5:48)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
هُمْ عِنَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَا أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾
﴿٥ المائدة ٤٨﴾

اور (اے پیغمبر) ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے۔ جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان (سب) پر شامل ہے تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آچکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک (فرقے) کے لئے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دیئے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا (48:5)

So judge among them by that which Allah has revealed, and follow not their desires, but beware of them lest they seduce you from some part of that which Allah has revealed to you. And if they turn away, then know that Allah's will is to smite them for some sin of theirs. Many of mankind are evil-livers. (5:49)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٥ المائدة ٤٩﴾

اور (ہم) پھر تاکید کرتے ہیں کہ (جو) حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا دیں۔ اگر یہ نہ مانیں تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں (49:5)

Is it a judgement of the time of (pagan) ignorance that they are seeking? Who is better than Allah for judgement to a people who have certainty (in their belief)? (5:50)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ
اللَّهِ حُكْمًا لِّلْقَوْمِ الَّتِي هُمْ فِيهَا
يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾
﴿٥ المائدة ٥٠﴾

کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہشمند ہیں۔ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لئے اللہ سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے (50:5)

And the Firmament He has raised high, and He has set up th Balance (of Justice). (55:7)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾
﴿٥٥ الرحمن ٧﴾

اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی۔ (7:55)

More Reference : 4:135 5:8 12:40 24:2 55:7
Page 567, 984, 536, 322

والمزید راجع ٤ النساء: ١٣٥ ٥ المائدة: ٨
١٢ يوسف: ٤٠ ٢٤ النور: ٥٥ ٥٥ الرحمن: ٧

مزید حوالہ 4:135 5:8 12:40 24:2 55:7
صفحہ 567, 984, 536, 322 7:55

**DIVINE DIRECTIVE FOR JUDICIARY
TO PROVIDE IMPARTIAL - UNBIASED JUSTICE
WITHOUT ANY PREJUDICE, FEAR OR FAVOUR**

الإرشاد الإلهي للقضاة

ارباب ودریہ کے لئے احکامات

ISLAMIC JUSTICE UPHOLDS EQUITY

O you who believe! Be you staunch in justice, witness for Allah, even though it be against yourselves or (your) parents or (your) near relatives, whether (the case be of) a rich man or a poor man, for Allah is closer to both (than you are). So follow not passion lest you lapse (from truth) and if you lapse or fall away, then Allah is ever Informed of what you do. (4:135)

تنفيذ القانون على الجميع سواء

اسلام میں عدل (قانون)
سب کے لئے مساوی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لئے سچی گواہی دو خواہ (اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے (یا شہادت سے) بچنا چاہو گے تو (جان رکھو) اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے (4:135)

More Reference : 5:8 6:152 7:29 16:90
9:1,2,3
Page 567, 461/674, 253, 459, 183

والمزید راجع ۵ المائدة: ۸ ۶ الأنعام: ۱۵۲
۷ الأعراف: ۲۹ ۱۶ النحل: ۹۰ ۴۹ الحجرات: ۲۰، ۲۱
الصفحة ۱۸۴، ۴۵۹، ۲۵۳، ۶۷۴/۴۶۱، ۵۶۷

مزید حوالہ 8:5 152:6 29:7
3,2,1:49 90:16
صفحة 183, 459, 253, 674/461, 567

**NO FAVOURITISM
IN ISLAMIC JUSTICE**

And they say: We believe in Allah and the messenger, and we obey; when after that a faction of them turns away. Such are not believers. (24:47)

لارعاية للقرابة عند الحكم

مقدمات (تنازعات) کا فیصلہ کرتے وقت
کسی سے رعایت کرنے کی گنجائش نہیں

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ
يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

اور (بعض لوگ) کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور (ان کا) حکم مان لیا۔ پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں (24:47)

And whenever they are invited to Allah and His messenger to judge between them, a group of them will hunt it aside. (24:48)

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ (رسول اللہ) ان کا جھگڑا چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے (24:48)

But if right had been with them they could have come to him willingly. (24:49)

وَلَٰن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾

البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو ان کی طرف تابع دار ہو کر چلے آتے ہیں (24:49)

There is a disease in their hearts, or they have doubts, or fear they lest Allah and His messenger should wrong them in judgement? No, but they are evildoers. (24:50)

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ رَبُّنَا أَعْمَىٰ أَمْ يَنظُرُونَ
أَن يُصِيبَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَعَرَّسَهُ بَلْ أُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا (یہ) شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ (نہیں) بلکہ یہ خود ظالم ہیں (50:24)

Reference : 4:135 5:8 6:152
Page 567, 461/674

والمزید راجع ۴ النساء: ۱۳۵ ۵ المائدة: ۸
۶ الأنعام: ۱۵۲ الصفحة ۶۷۴/۴۶۱، ۵۶۷

مزید حوالہ 152:6 8:5 135:4
صفحة 674/461, 567

GIVING DECISIONS CONTRARY TO QURAN AND SUNNAH IS DENIAL OF FAITH (TRANSGRESSION AND REBELLING)

-----Whoever judges not by that which Allah has revealed: Such are disbelievers. (5:44) PART

And no believing man or a believing woman, should exercise any choice in their affair; once Allah and His messenger have decided (for them), and whoever is rebellious to Allah and His messenger, he goes astray in error manifest. (33:36)

الحکم ضد ما أنزل الله کفر (ظلم و فسق)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾
﴿٥ المائدة ٤٤﴾ جزء

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ﴿٣٦﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٣٦﴾

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف فیصلے صادر کرنا کفر (ظلم اور فسق) ہے

اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں (44:5) جزو

اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا (36:33)

More Reference 5:45, 47 Page 593, 1100

والمزيد راجع ٥ المائدة: ٤٧، ٤٥: الصفحة ١١٠٠، ٥٩٣

مزيد حوالہ 47,45:5 صفحہ 593, 1100

DEVOURING ANYTHING (ASKING OR ACCEPTING BRIBES) FOR PROVIDING JUSTICE OR ANY RELIEF IS FORBIDDEN

Listeners for the sake of falsehood! Greedy for illicit gain! If then they have come to you judge between them or disclaim jurisdiction. If you disclaim jurisdiction, then they cannot harm you at all. But if you judge, judge between them fairly. Allah loves those who deal fairly. (5:42)

الارتشاء عند الحكم هو أكل السحت باسم العدل

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾
﴿٥ المائدة ٤٢﴾

انصاف کی فراہمی کے لئے رشوت لینا عدل کے نام پر حرام کھانا ہے

(یہ) جھوٹی باتیں بنانے کے لئے جاسوسی کرنے والے۔ اور (رشوت کا) حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس (کسی مقدمے کا فیصلہ) کرانے کو آئیں تو آپ کو اختیار ہے آپ ان میں فیصلہ کر دیں یا بال دیں۔ اور اگر ان کو بال دیں گے تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو انصاف کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (42:5)

More Reference 2:188 Page 485

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٨٨: الصفحة 485

مزيد حوالہ 188:2 صفحہ 485

APPROACHING SELECTIVE JUDGES FOR RECEIVING FAVOURITISM IS A TRADITION OF HYPOCRITES

For Detail Consult 4:60 5:42 Page 576

المراجعة إلى الطاغوت من حصال المنافقين

والتفصيل راجع ٤ النساء: ٦٠: ٥ المائدة: ٤٢: الصفحة ٥٧٦

عدل وانصاف کے تقاضوں کے خلاف فیصلوں کے حصول کے لئے اپنی پسند کے ثالث یا جج سے رجوع کرنا خصلت منافقین

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:60 5:42 صفحہ 576

**ISLAM
A PROPONENT OF HUMAN RIGHTS**

الإسلام يطمئني الإنسان حقوقه

اسلام میں بنیادی حقوق

BASIC HUMAN RIGHTS IN ISLAM

الحقوق الأساسية في الإسلام

اسلام میں بنیادی حقوق

**MUTUAL RESPECT AND SECURITY
OF OTHER RELIGIONS IN ISLAM**

احترام الأديان الأخرى
في الإسلام والاحتفاظ بها

اسلام میں دیگر مذاہب کی
تکریم و حفاظت

**VENERATION OF ALL MESSENGERS
PROPHETS OF ALLAH (SWT) AND
BELIEVING IN ALL REVEALED SCRIPTURES (IN
THEIR ORIGINAL UNCORRUPTED TEXT)**

تكريم الرسل كلهم، والإيمان
بجميع الكتب السماوية

تمام پیغمبروں کی تکریم
اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان

Say (O Muslims): We believe in Allah and that which is revealed to us and that which was revealed to Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and that which Moses and Jesus received, and that which the other Prophets received from their Lord. We make no distinction between any of them, and to Him we have surrendered. (2:136)

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

(مسلمانو) کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو (کتاب) ہم پر اتری اس پر اور جو (صحیفے) ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو (کتابیں) موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر (سب پر ایمان لائے) ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (اللہ واحد) کے فرمانبردار ہیں (136:2)

And peace be to those sent (to warn). (37:181)

وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾

اور پیغمبروں پر سلام (181:37)

More Reference : 2:285 3:84 4:136
Page 97, 94, 98

والله اعلم
بالمعنى المرجع ٢ البقرة: ٢٨٥ ٣ آل عمران: ٨٤
٤ النساء: ١٣٦ الصفحة ٩٧، ٩٤، ٩٨

مزید حوالہ
285:2 84:3 136:4
صفحہ 97، 94، 98

**MUTUAL REGARD - AND SECURITY
FOR THE PLACES OF WORSHIP
OF ALL RELIGIONS
MOSQUES, CHURCHES, AND SYNAGOGUES**

احترام معابد الأديان الأخرى
والاحتفاظ بها

دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں کا
احترام اور حفاظت

For had it not been for Allah's repelling some men by means of others, cloisters and churches and oratories and mosques, wherein the name of Allah is often mentioned, would surely have been pulled down. Allah helps one who helps Him. Indeed Allah is Strong, Almighty. (2:40) PART

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَكَيْنُصْرَتُ اللَّهِ مَن يَنْصُرْهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو (راہبوں کے) صومعے اور (عیسائیوں کے) گرجے اور (یہودیوں کے) عبادت خانے اور (مسلمانوں کی) مساجد جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں۔ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ بے شک اللہ توانا (اور) غالب ہے (40:22) جزو

**ISLAM PROHIBITS OF REVILING ANYTHING
THAT PEOPLE OF OTHER RELIGIONS
HOLD SACRED OR ABUSING OF OBJECTS
OF OTHER BELIEFS**

النهي عن سب الهة المشركين

مشرکوں کے خداؤں کو بھی
برا بھلانا نہ کہنے کی ہدایت

Do not insult those whom, they (believers) appeal instead of Allah, lest they insult Allah as an enemy without even realizing it.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ

اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا کرتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا (نہ) کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال (ان کی نظروں میں)

thus We have made their action seem attractive to every nation; then their return shall be to their Lord, so He may notify them about how they have been acting. (6:108)

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾
﴿٦﴾ الانعام ١٠٨

جیسے کر دکھائے ہیں۔ پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے (6:108)

ENSURING SECURITY OF HUMAN LIFE

For Detail Consult :
Chapter of Ensuring security of human life
Page: 559,585

ضمانہ و قایہ النفس من الضرر

وللتفصیل راجع باب ضمانہ و قایہ النفس من الضرر
الصفحة ٥٨٥،٥٥٩

اسلام میں انسانی زندگی کی حفاظت

تفصیل کے لئے دیکھئے باب اسلام میں انسانی زندگی کی حفاظت
صفحة 585,559

ENSURING SECURITY OF POSSESSIONS BELONGINGS - PROPERTY - GOODS - WEALTH

For Detail Consult : Chapter of ENSURING SECURITY OF POSSESSIONS BELONGINGS- PROPERTY-GOODS-WEALTH Page : 562

احتفاظ الاموال

وللتفصیل راجع احتفاظ الاموال
الصفحة ٥٦٢

اسلام میں انسانی مال کی حفاظت

تفصیل کے لئے دیکھئے اسلام میں انسانی مال کی حفاظت
صفحة 562

SAFEGUARDING AGAINST DEBAUCHERY - VOLUPTUOUSNESS

For Detail Consult : Chapter of Sex discipline
Page 535 to 540

الوقایہ من الإغواء و تمزیق العفاف

وللتفصیل راجع قوانین العلاقات الجنینہ
الصفحة ٥٣٥ الی ٥٤٠

اسلام میں انسانی آبرو کی حفاظت

تفصیل کے لئے دیکھئے باب جنسی تعلقات کے ضوابط
صفحة 535 تا 540

PROTECTION AGAINST IMPUDENCE FOR RESPECT OF HUMANKIND

For Detail Consult : 4:24 5:31 80:21 81:8,9
Page 519/521, 915, 775, 457

وللتفصیل راجع ٤ النساء: ٢٤ ٥ المائدة: ٣١
٨٠ عبس: ٢١ ٨١ التکویر: ٩٠

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:24 5:31 80:21 81:8,9
صفحة 457, 776, 915, 521/519

FORCED PROSTITUTION AND WHITE SLAVE TRAFFIC FORBIDDEN IN ISLAM

For Detail Consult : 4:24 24:33 60:10 to 12
Page 519/521, 520/540, 714, 715

لا یجوز إكراه الإمام علی البغاء

وللتفصیل راجع ٤ النساء: ٢٤ ٢٤ النور: ٢٣
٦٠ الممتحنة: ١٠ الی ١٢

لوئڈیوں سے جسم فروشی (تجہ گیری کی ممانعت)

تفصیل کے لئے دیکھئے 4:24 24:33 60:10 to 12
صفحة 715, 714, 540/520, 521/519

PUBLIC OBLIGATIONS (FOR ALL WALKS OF LIFE IN THE SOCIETY) MAINTAINING SOCIAL BEHAVIOUR AN OBLIGATION OF ISLAMIC STATE

Consult Chapter Public Obligations
Page 451 to 464, 473 to 484

المراقبة علی القيم الاخلاقیه فی المجتمع واجب الحكومة الاسلامیة

وللتفصیل راجع باب حقوق العباد
الصفحة 451 الی 464, 473 الی 484

حقوق العباد (معاشرہ کے ہر طبقہ کے حقوق کا علمبردار) معاشرہ میں اخلاقی اقدار کی نگہبانی اسلامی حکومت کا فرض

تفصیل کے لئے دیکھئے باب حقوق العباد
صفحة 451 تا 464, 473 تا 484

NON VIOLENT (PEACEFUL) SOCIETY

For Detail Consult : Page 556 to 566

المجتمع النقی من الظلم وانجور

وللتفصیل راجع الصفحة 556 الی 566

ظلم اور زیادتی سے پاک (پرامن) معاشرہ کا قیام

تفصیل کیلئے دیکھئے صفحه 556 تا 566

CONDITIONAL MANUMISSION WRITTEN DEED FOR EMANCIPATION OF SLAVES

For Detail Consult : 24:33 Page 520/540

فی فك الرقاب (قانون المكاتبه)

وللتفصیل راجع ٢٤ النور: ٢٣ الصفحة ٥٢٠/٥٤٠

غلاموں کے آزاد کرنے کیلئے (قانون مکاتبہ)

تفصیل کے لئے دیکھئے 33:24 صفحه 540/520

ISLAM AGAINST DISCRIMINATION OF COLOUR AND RACE

مذمة الفوارق العنصرية في الإسلام

اسلام میں رنگ و نسل کے امتیاز اور طبقاتی اور نسل پرستی کے خلاف

(We take our) colour from Allah, and who is better than Allah at colouring. We are His worshippers. (2:138)

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبَادُونَ ﴿١٣٨﴾
﴿٢ البقرة ١٣٨﴾

(کہہ دو کہ ہم نے) اللہ کا رنگ (اختیار کر لیا ہے) اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں (138:2)

ISLAM CONDEMNS CLASS DIFFERENTIATIONS

مذمة الصراع الطبقي

اسلام ہر طبقاتی نا انصافی کے خلاف

ISLAM AGAINST RACIAL PREJUDICE

مذمة الفوارق السلالية والعنصرية في الإسلام

اسلام نسل پرستی کے خلاف

CLASS DIFFERENTIATION EXULTING ON BASIS OF SECTS AND TRIBES A PRACTICE OF DISBELIEVERS

التفاخر على الفوارق العنصرية والسلالية فكرة الكفار

ذات پات (اونچ نیچ) قوموں اور قبیلوں کو وجہ تفاخر بنانا تصور کفار

DIVISION AMONG FAMILIES IN SECTS AND TRIBES IS ONLY TO HELP IDENTIFICATION

الشعوب والقبائل للتعارف فقط ولا للتفاخر

اقوام کے گروہ اور قبیلے محض شناخت کے لئے ہیں

O you who believe! Let not a folk deride a folk who may be better than they (are), nor let women (deride) women who may be better than they are; neither defame one another, or insult one another by nicknames, ill-seeming is a name connoting wickedness (to be used of one) after he has believed. And whoso turns not in repentance, such are evildoers. (49:11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفسوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾
﴿٤٩ الحجرات ١١﴾

مومنو! کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے (تمسخر کریں) ممکن ہے کہ ان سے اچھی ہوں۔ اور اپنے (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام (رکھنا) گناہ ہے۔ اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں (11:49)

O mankind! We have created you male and female, and have made you nations and tribes that you may know one another. In fact the noblest of you, in the sight of Allah, is (he who is) the best in conduct. Indeed Allah is Knower, Aware. (49:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾
﴿٤٩ الحجرات ١٣﴾

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ (اور) اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا (اور) سب سے خبردار ہے (13:49)

Detail Consult : 35:28,43,44
Page 308,475,478,190,920,938,949,953,999

والتفصیل راجع ۳۵ فاطر: ۲۸، ۴۳، ۴۴
الصفحة ۳۰۸، ۴۷۵، ۴۷۸، ۱۹۰، ۹۲۰، ۹۳۸، ۹۴۹، ۹۵۳، ۹۹۹

تفصیل کے لئے دیکھئے : 35 : 28, 43, 44
صفحة 308, 475, 478, 190, 920, 938, 949, 953, 999

CHIEFS OF TRIBES OF BYGONE NATIONS

سادة الشعوب الماضية الكفرة

پہلی مکر اقوم کے سردار

Detail Consult : Chapters of narrations of one folks and townships and ultimate fate of wicked people in historical perspective
Page 679,190,920,938,949,953,999

والتفصیل راجع ابواب قصص الایم الماضية وعابة الاقوام المكذبین الماصش فی ضوء التاريخ
الصفحة ۶۷۹، ۱۹۰، ۹۲۰، ۹۳۸، ۹۴۹، ۹۵۳، ۹۹۹

تفصیل کیلئے دیکھئے ابواب قصص قرآنی اور پہلی اقوام کا انجام تاریخ کے آئینے میں
صفحة 679, 190, 920, 938, 949, 953, 999

ULTIMATE FATE OF POWERFUL PEOPLE BYGONE TIMES WHO EXULTED THEIR WEALTH

عاقبة الإعجاب بالقوة

مکر افراد و اقوام کا دولت اور طاقت پر گھمنڈ کا انجام

Detail Consult : 10:83 18:35 23:45,46 28:76
Page 30:9 35:43,44
Page 420,1112,1047,1019,1031,1032,130,475,478

والتفصیل راجع ۱۰ یونس: ۸۳ ۱۸ الکہف: ۳۵ ۲۳ المؤمنون: ۴۵، ۶۰ ۲۸ القصص: ۷۶ ۲۹ العنکبوت: ۲۹ ۳۰ الروم: ۹ ۳۵ فاطر: ۴۳، ۴۴

تفصیل کے لئے دیکھئے 10:83 18:35 23:45,46 28:76
46,45:23 35:18 83:10
44,43:35 9:30 39:29 76:28
صفحة 478,475,130,1032,1031,1019,1047,1112,420

**FREEDOM OF THOUGHT
IN ISLAM**

الحرية الفكرية والبيان والتعبير
في الإسلام

اسلام میں آزادی اظہار خیال
رائے اور مسلک

There is no compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error.-----
----- (2:256) PART

لَا كَرْهًا فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ
﴿٢ البقرة ٢٥٦﴾ جزء

دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت (صاف طور پر ظاہر اور) گمراہی سے الگ ہو چکی ہے
----- (256:2) جزو

**ISLAM TEACHES THE BELIEVERS
TO FORGIVE - OVERLOOK AND FORGET
THOSE PEOPLE OF BOOK WHO WISHED
TO TURN THEM BACK TO INFIDELITY**

معاملۃ العفو باہل کتاب عن
مساعیہم لرد المؤمنین عن ایمانہم

اہل کتاب کی مسلمانوں کو اسلام سے منحرف
کرنے کی کوششوں کو معاف کر دینے کی ہدایت

Many of the people of the Scripture long (wish) to make you disbelievers after your belief, through envy on their own account, after the truth has become manifest to them, Forgive and be indulgent (towards them) until Allah gives command. Surely Allah is Able to do all things. (2: 109)

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا أَحْسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا
وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
﴿٢ البقرة ١٠٩﴾

بہت سے اہل کتاب محض حسد و بغض کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لاپکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں۔ حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کر دو۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لاپکنے کے بعد تم کو کافر بنا دیں۔ حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا (دوسرا) حکم بھیجے۔ بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ (109:2)

ISLAM AGAINST SECTARIANISM

مذمۃ العصبیۃ الجاہلیۃ الحزبیۃ
فی الاسلام

اسلام فرقہ واریت کے خلاف

Consult Chapter Dissension in Religion
Page 616

وللتفصیل راجع التفرقة فی الدین
الصفحة ٦١٦

تفصیل کیلئے دیکھئے باب مذہبی فرقہ واریت
صفحہ 616

**SYNAGOGUES AND CHURCHES
(IN WHICH NAME OF ALLAH (SWT)
IS COMMEMORATED FREQUENTLY)
ARE HALLOWED LIKE MOSQUES IN ISLAM**

الاسلام یراعی قداسة الصوامع والبيع
مع قداسة المساجد

اسلام یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں
صومعوں اور گرجوں کے تقدس کو بھی مساجد کے
تقدس کے ساتھ ساتھ ملحوظ رکھتا ہے

Those who have been driven from their homes unjustly only because they said: Our Lord is Allah--For had it not been for Allah's repelling some men by means of others, cloisters and churches and synagogues (oratories) and mosques, wherein the name of Allah is often mentioned, would assuredly have been pulled down. Allah helps one who helps Him. Indeed Allah is Strong, Almighty. (22:40)

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا
أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَّ مَتَّ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ
كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
﴿٢٢ الحج ٤٠﴾

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیئے گئے (انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا) ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو (راہبوں کے) صومعے اور (عیسائیوں کے) گرجے اور (یہودیوں کے) عبادت خانے اور (مسلمانوں کی) مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں۔ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ بے شک اللہ توانا (اور) غالب ہے
(40:22)

ISLAM - AN EXPOUNDER OF FREEDOM OF HUMANKIND

الإسلام دين حرية الإنسان

اسلام قرآن میں آزادی انسان کا سرچرچہ ہے

ISLAM IMPEACHED

JEWISH AND CHRISTIANS LAWS (CUSTOM) OF SLAVERY BY INDUCING THE CONCEPT OF SETTING FREE OF SLAVES, AS AN ACT OF CHARITY

جعل الإسلام فك رقبة جوداً و سخاء بالعكس من مروجات العبودية عند اليهود والنصارى

اسلام نے یہود و نصاریٰ کے قوانین غلامی کے خلاف انسانی آزادی کے لئے غلاموں کی رہائی کو خیرات و سخاوت کا تصور دیا

Detail Consult : 2:177 5:89 58:3 90:13
Page 473,264/571,490,525,271

وللتفصيل راجع - ٢ البقرة: ١٧٧- ٥ المائدة: ٨٩- ٥٨- المجادلة: ٣- ٩٠ البلد: ١٣

تفصيل کے لئے دیکھئے 2:177 3:58 5:89 13:90
صفحہ 473, 264, 571/264, 473, 525, 490, 571

PROTECTION AGAINST IMPUDENCE FOR RESPECT OF HUMANKIND

كرامة النفس . احتفاظ الشرف

تحفظ عزت نفس واحترام آدمیت

Detail Consult : 4:24 5:3 80:21- 81:8,9
Page 519/521, 501, 776, 457

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ٢٤- ٥ المائدة: ٣- ٨٠ عبس: ٢١- ٨١ التکویر: ٩٠

تفصيل کیلئے دیکھئے 4:24 5:3 80:21- 81:8,9
صفحہ 457, 776, 915, 521/519

CONCEPT OF PAROLE AND PROBATION RELEASE OF PRISONERS AND CAPTIVES

قوانين تحرير رقبة

اسلام کا قانون مکاتبہ غلاموں اور قیدیوں کی پیروں پر رہائی کا ضابطہ

-----And such of your eyes as seek a writing (of mancipation), write it for them, if you recognize anything worthwhile for them, and bestow upon them of the wealth of Allah which He has bestowed upon you.-----
(4:33) PART

.....وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴿٢٤﴾
جزء

..... اور تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اور اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو
(33:24) جزو

FREEING CAPTIVES RELEASE OF BONDAGE - SETTING FREE SLAVE

فك الرقاب

غلام آزاد کرادینا

Detail Consult : 2:177 5:89 58:3,4
Page 473 264 525
13
1

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٧٧- ٥ المائدة: ٨٩- ٥٨- المجادلة: ٤٠٣- ٩٠ البلد: ١٣- الصفحة ٢٧١, ٥٢٥, ٤٩٠, ٢٦٤, ٤٧٣

تفصيل کے لئے دیکھئے 2:177 3:58 5:89 13:90
صفحہ 473 264 525
13:90
271

ISLAM BANNED WHITE SLAVE TRAFFIC (FORCED PROSTITUTION)

لايجوز اكره الاماء على البغاء

اسلام میں لونڈیوں سے جسم فروشی (قنبہ گیری) کی ممانعت

Detail Consult : 4:25 24:33 60:10 to 12
Page 519, 520/540, 714, 715

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ٢٥- ٢٤ النور: ٣٣- ٦٠ الممتحنة: ١٠ الى ١٢- الصفحة ٥١٩, ٥٤٠/٥٢٠, ٧١٤, ٧١٥

تفصيل کے لئے دیکھئے 4:25 10:60 24:33 25:4
صفحہ 715, 714, 540/520, 519

MITIGATION FOR SLAVE (CAPTIVE) GIRLS

تحفيف في عقوبة الاماء

لونڈیوں کو ان کی محکوم حیثیت کے باعث سزا میں کمی

Detail Consult : 4:25 Page 519

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ٢٥- الصفحة ٥١٩

تفصيل کے لئے دیکھئے 4:25
صفحہ 519

PROVISION OF WEDLOCK FOR SLAVE AND MAIDS

اجازة انكاح الاماء

غلام یا لونڈی کو حق نکاح

Detail Consult : 4:3,24,25 24:32
Page 520, 519

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ٣- ٢٥٠, ٢٤٠- ٢٤ النور: ٢٢- الصفحة ٥١٩, ٥٢٠

تفصيل کے لئے دیکھئے 4:3,24,25 24:32
صفحہ 519, 520

ISLAM - A COMMITMENT TO LIVE IN PEACE
ISLAM - A PROTAGONIST OF
UNIVERSAL PEACE AND HARMONY

الاسلام داع للسلام العالمي
وادين الصلح والاحياء

اسلام - امن عالم کا علمبردار
صلح جهانی چارہ اذرا امن و آسختی کا دین

ISLAM TEACHES TO SHOW KINDNESS
AND BEHAVE WITH EQUITY
TOWARDS UNBELIEVERS EVEN

الإسلام يأمر بحسن المعاملة
لغير المحاربين من المشركين

دین اسلام غیر محارب منکرین (مشرکین) سے
بھی اخلاق (انصاف اور بھلائی) کا حکم دیتا ہے

Allah does not forbid you to act
considerately towards those who
have not fought against you on
account of religion and drove you
not out from your homes, that you
should show them kindness and deal
justly with them. Allah loves the
fair-minded. (60:8)

لَا يَنْهَى كُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾
﴿٦٠ الممتحنة ٨﴾

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں
کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان کے
ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ
تمہیں منع نہیں کرتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو
دوست رکھتا ہے (8:60)

More Reference : 4:90 Page 665

وللمزيد راجع ٤ النساء: ٩٠: الصفحة ٦٦٥

مزید حوالہ 90:4 صفحہ 665

ISLAM GIVES PERMISSION
TO GIVE ASYLUM TO POLYTHEISTS EVEN

الإسلام يأمر بحفظ نفس
المشرك أيضا

اسلام مشرک کی جان کی بھی
حفاظت کا حکم دیتا ہے

And if anyone of the idolaters seeks
your protection (O Muhammad),
then grant him the asylum until he
may hear the Word of Allah; and
afterward escort him to his place of
safety. That is because they are a
people who know not. (9:6)

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾
﴿٩ التوبة ٦﴾

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا طلب گار ہو تو اس کو
پناہ دو یہاں تک کہ کلام اللہ سننے لگے۔ پھر اس کو امن
کی جگہ واپس پہنچا دو۔ اس لئے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں
(6:9)

ISLAM DOES NOT PERMIT TRANSGRESSION
EVEN IN THE BATTLE FIELD

الإسلام ينهى عن الاعتداء
حتى في ساحة القتال

اسلام میدان کارزار میں بھی زیادتی
سے روکتا ہے

Fight in the way of Allah against
those who fight against you, but do
not initiate hostilities. Allah loves
not, aggressors. (2:190)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾
﴿٢ البقرة ١٩٠﴾

اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان
سے لڑو۔ مگر زیادتی نہ کرنا۔ کہ اللہ زیادتی کرنے والوں
کو دوست نہیں رکھتا (190:2)

Reference : 2:193 Page 643/667

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٩٣: الصفحة ٦٦٧/٦٤٣

مزید حوالہ 193:2 صفحہ 667/643

ISLAM ALLOWS TO ENTER INTO
TREATIES - PACTS WITH THE ENEMIES EVEN

الإسلام يفضل السلم على القتال
إذا كان العدو يرجح إليه

دین سے بھی صلح کے معاہدے کی اجازت

And if they incline to peace, incline
you also to it, and trust in Allah.
Surely He is the Alert, the Aware.
(8:61)

وَإِنْ جَاءَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاجْتَنِبْهُمْ
وَأَقْرِبُوا إِلَيْهِمْ بِالْحَسَنِ وَأَقْرِبُوا إِلَيْهِمْ
بِالْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾
﴿٨ الانفال ٦١﴾

اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی
طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک
نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے (61:8)

More Reference : 4:90 9:3,4,7
Page 665, 291

وللمزيد راجع ٤ النساء: ٩٠: ٩ التوبة: ٣، ٤، ٧: الصفحة ٦٦٥، ٢٩١

مزید حوالہ 90:4 9:3,4,7
صفحہ 291, 665

**ISLAM PROCLAIMS
UNIVERSAL RAPPROCHEMENT
AND CONDEMNS JUNGLE LAWS**

الاسلام هو مؤسس قانون الصلح
الدولی ویلغی قوانین الظلم

اسلام بین الاقوامی صلح کے قانون کا مانی ہے اور
جنگل کے قوانین کا خاتمہ کرتا ہے

**ISLAM REPROBATES ETHNIC CLEANSING
OR ANNIHILATION
THROUGH ARMS AND ATOMIC RACE**

الاسلام ینہی عن إهلاك الحرث
والنسل وكذلك ینہی عن التدمير
بالأسلحة النووية

اسلام کھیتی اور نسل کی ہلاکت
(ایٹمی تباہ کاریوں) کو پسند نہیں کرتا

Whenever he holds the upper hand,
he rushes around the earth ruining
He destroys (People's) crops and
breeding stock, even though Allah
does not like ruination. (2:205)

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾
﴿٢ البقرة ٢٠٥﴾

جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی
ساری دوڑو دھوپ اس لئے ہوتی ہے کہ فساد پھیلانے
اور کھیتی کو (برباد) اور (انسانوں اور حیوانوں کی)
نسل کو نابود کر دے اور اللہ فتنہ کو پسند نہیں کرتا
(205:2)

and when it is said to him: Be
careful of your duty to Allah, (and
near Allah) pride takes him to sin.
Allah will settle his account, an evil
lasting place. (2:206)

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْيَهُودَ وَالنَّسْرَةَ
﴿٢ البقرة ٢٠٦﴾

اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو
غرور اس کو گناہ میں پھنساتا ہے ایسے کے لئے جہنم
ہی ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے (206:2)

Reference : 2:204 7:74 Page 858, 436

والله اعلم بالصواب ٢ البقرة: ٢٠٤ ٧ الأعراف: ٧٤

مزیلہ حوالہ 204:2 74:7 صفحہ 436, 858

**ISLAM - A PROPONENT FOR RESCUE
OF WEAK - ILLTREATED - HELPLESS
MEN WOMEN AND CHILDREN
FROM OPPRESSORS**

الاسلام یضمن الاحتفاظ
بحقوق المستضعفين

اسلام بوڑھے، مجبور بے بس عورتوں
اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے

How should you not fight for the
cause of Allah and of the feeble
among men and of the women and
the children who are crying: Our
Lord! Bring us out from this town of
which the people are oppressors!
Oh, give us from Your presence
some protecting friend! Oh, give us
from Your presence some defender!
(75)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾
﴿٤ النساء ٧٥﴾

اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس
مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو
دعا میں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اس شہر
سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور
لے جا۔ اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا۔ اور اپنی
ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما (75:4)

**ISLAM - A RELIGION OF
FORGIVENESS - TOLERANCE - AND PARDON**

الاسلام دین العفو والتسامح والتأني

اسلام کا نظام عفو و درگزر معافی کے بے پناہ راستے
اور مغفرت کے کئی ذریعے

For detail Consult :
Center of asking forgiveness from Allah (SWT)
Page : 312,314

والله اعلم بالصواب باب الاستغفار
الصفحة ٣١٢، ٣١٤

تفصیل کیلئے دیکھئے باب استغفار
صفحہ 314,312

**DEALINGS WITH
THE PEOPLE OF SCRIPTURES**

العلاقات باهل الكتاب

اہل کتاب سے تعلقات

TAKING CHASTE WOMEN OF THE PEOPLE OF SCRIPTURES (CHRISTIANS AND JEWS) IN WEDLOCK IS PERMITTED PROVIDED THE INTERESTS OF FAITH ARE SAFEGUARDED

**إجازة الزواج للمؤمنين
بالمحصنات من أهل الكتاب**

**اہل کتاب کی (پاک دامن) خواتین سے
شادی کی اجازت
بشرطیکہ دین کے تحفظات ملحوظ خاطر رہیں**

------(Lawful to you in marriages) Are (not only) chaste women who are believers but the virtuous of those who received the book before you when you give them their marriage portions (dowers) and take them in wedlock respectably not seeking fornication, nor taking them as secret concubines. Whoso denies the faith, his actions are fruitless and he will be among the losers in the Hereafter. (5:5) PART

.....وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَحُصْنَيْنِ غَيْرِ مُسَافِحِينَ
وَلَا تُتَّخِذْنَ أَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾
﴿٥ المائدة ٥﴾ جزء

----- اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی (حلال ہیں) جب کہ ان کا مہر دے دو۔ اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہونہ گھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہو اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا (5:5) جزو

**SOCIAL INTERCOURSE - DINING TOGETHER
(TAKING WHOLESOME EATABLES)
WITH PEOPLE OF BOOK IS ALLOWED**

**الإذن بالعلاقات الاجتماعية
وجواز أكل الطيبات عندهم**

**اہل کتاب کے ساتھ معاشرتی تعلق کی اجازت
ان کی پاکیزہ چیزیں کھانے کی باہم اجازت**

This day (all) wholesome things are made lawful for you. So is the food of those who have received the Scripture lawful for you, while your food is lawful for them-----
(5:5) PART

.....أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ
..... ﴿٥ المائدة ٥﴾ جزء

آج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے۔----- (5:5) جزو

**MUSLIMS SHOULD DEAL
KINDLY AND EQUITABLY TOWARDS
ACQUIESCENT PEOPLE OF SCRIPTURES**

**المعاملة الحسنة لأهل الكتاب
غير المحاربين**

غير محاربين اهل کتاب

Allah does not forbid you to act considerately towards those who have never fought against you on account of religion and have not evicted you out from your homes, nor (forbids you) that you should show them kindness and deal justly with them. Allah loves the fair-minded. (60:8)

لَا يَنْهَى كُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾
﴿٦٠ الممتحنة ٨﴾

(دین اسلام کے خلاف جنگ نہ کرنے والوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا معاملہ کرنے کی ہدایت) جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (8:60)

NORMS FOR INTER-RELIGIOUS DIALOGNS

**مبادی الجدل بشأن اهل کتاب
ادعو اهل کتاب على الاساس المشترك**

اہل کتاب سے بین المذہبی مباحثہ کے اصول

More Reference : 3:64 29:46 Page 634

والتفصیل راجع ٣ آل عمران ٦٤ ٢٩ العنکبوت ٤٦

تفصیل کیلئے دیکھئے 634 ص 46:29 64:3

**MUTUAL REGARD - AND SECURITY
FOR THE PLACES OF WORSHIP
OF ALL RELIGIONS
MOSQUES, CHURCHES, AND SYNAGOGUES**

**احترام معابد الأديان الأخرى
والاحتفاظ بها**

**دوسرے مذاہب کے
عبادت خانوں کا احترام اور حفاظت**

For Detail Consult : 22:40 Page 580

والتفصیل راجع ٢٢ الحج ٤٠: الصلوة ٥٨٠

تفصیل کیلئے دیکھئے 580 ص 40:22

**CIVILITY WITH NON-MUSLIMS
(TREATMENT WITH DISBELIEVERS)
IN ISLAM**

السلوک بتیور المسلمین فی الاسلام

اسلام میں غیر مسلموں سے سلوک

**GIVING ASYLUM TO IDOLATERS
(WHO SEEK PROTECTION)**

الأمر يا جارة المشركين
وابلاغهم ما منهم

مشرکوں کو جان کی امان اور
جائے پناہ تک پہنچانے کا حکم

And if anyone of the idolaters seeks your protection then grant him asylum until he may hear the Word of Allah; and afterward escort him to his place of safety. That is because they are a folk who do not know anything. (9:6)

وَأِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩﴾
﴿٩ التوبة ٦﴾

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام اللہ سننے لگے۔ پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دو۔ اس لئے کہ یہ بے علم لوگ ہیں (6:9)

**FREING OF CAPTIVES OF WAR
ON PAYMENT OF RANSOM (FIDYAH)**

الإذن بإطلاق الأسارى الكفار
بعد أخذ الفدية منهم

جنگی قیدیوں کو تادان ادا کر کے
رہا کرنے کی اجازت

When you have subdued them, then making fast of bonds; (seize them) and afterward either release them or ask ransom till the war lays down its burdens. That (is the ordinance). (47:4) PART

حَتَّى إِذَا أَخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَمَا مَنَّا
بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
ذَلِكَ ﴿٤٧﴾ محمد ٤ ﴿جزء

یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو (جو زندہ پکڑے جائیں ان کو) مضبوطی سے قید کر لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر۔ یہاں تک کہ (فریق مقابل) لڑائی (کے) ہتھیار (ہاتھ سے) رکھ دے یہ (حکم یاد رکھو)۔ (4:47) جزو

**LIVING OF NON BELIEVERS
UNDER PROTECTION OF AN ISLAMIC STATE**

الضمان للذميين من توفير الأمن
لهم في الدولة الاسلامية

غیر مسلموں کے اسلامی مملکت میں
پر امن رہنے پر حفاظت کی یقین دہانی

for Detail Consult : 9:29 Page 490

وللتفصيل راجع ٩ التوبة: ٢٩ الصفحة ٤٩٠

تفصیل کے لئے دیکھئے 29:9 صفحہ 490

**EVIDENCE (TESTIMONY)
OF A NON MUSLIM ACCEPTABLE IN ISLAM**

قبول شهادة غير المسلم

غیر مسلم کی گواہی قابل قبول

for Detail Consult : 5:106 Page 508/570

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ١٠٦ الصفحة ٥٧٠/٥٠٨

تفصیل کے لئے دیکھئے 106:5 صفحہ 570/508

**PERMISSION TO MARRY VIRTUOUS WOMEN
FROM PEOPLE OF SCRIPTURES**

الاذن لنكاح نساء أهل الكتاب

اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت

Detail Consult : 5:5 Page 503/518

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٥٠٣ الصفحة ٥١٨/٥٠٣

تفصیل کے لئے دیکھئے 5:5 صفحہ 518/503

**PERMISSION TO TAKE LAWFUL FOOD
OF PEOPLE OF SCRIPTURES**

الاذن لأكل طعام أهل الكتاب
إذا كان حلالاً طيباً

اہل کتاب کی حلال اشیاء کے
خور و نوش کی اجازت

Detail Consult : 5:5 Page 503/518

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٥٠٣ الصفحة ٥١٨/٥٠٣

تفصیل کے لئے دیکھئے 5:5 صفحہ 518/503

**MUTUAL REGARD - AND SECURITY
FOR THE PLACES OF WORSHIP
OF ALL RELIGIONS
MESQUES, CHURCHES, AND SYNAGOGUES**

احترام معابد الأديان الأخرى
والاحتفاظ بها

دوسرے مذاہب کے
عبادت خانوں کا احترام اور حفاظت

Detail Consult : 22:40 Page 580

وللتفصيل راجع ٢٢ الحج: ٤٠ الصفحة ٥٨٠

تفصیل کے لئے دیکھئے 40:22 صفحہ 580

ISLAM AND OTHER RELIGIONS
ARTICLES OF FAITH - DOCTRINES
BELIEFS - AND DOGMAS

الادیان والعبادۃ الاخری

دیگر مذاہب اور عقائد
اسلام کی نظریات

THE MAGIANS - (GABRS - PARSIS)
A SECT OF ANCIENT PHILOSOPHERS WHO WORSHIP
THE DEITY UNDER THE EMBLEM OF FIRE

Those who believe (this Quran), and those who are Jews, and the Sabians and the Christians and the Magians and the Polytheists-- Allah will judge between them on the Day of Resurrection. No doubt Allah is Witness over all things. (22:17)

SABEANS
WHO WORSHIP THE HOSTS OF HEAVENS

For Detail Consult: 2:62 5:69 22:17
Page 640, 472, 539

**BAPTISM - CUSTOM OF DIPPING THEIR
OFFSPRINGS IN YELLOW WATER -
A FALSE BELIEF TO PURIFY AND
CONFIRM THE CHILD AS CHRISTIAN**

Say: Our life takes it hue from Allah, and who is better than Allah at colouring. We are His worshippers. (2:138)

**BELIEF IN TRANSMIGRATION OF SOUL
A FALSE DOCTRINE OF
ANCIENT GREEK PHILOSOPHERS**

**METEMPSYCHOSIS - (BELIEF IN PASSING
OF SOUL AT DEATH INTO ANOTHER BODY
EITHER HUMAN OR ANIMAL)
A FALSE BELIEF OF HINDUS AND BUDDHISTS**

**DESIRE OF DISBELIEVERS FOR
RETURNING OF THEIR SOUL ONCE AGAIN
TO THIS TRANSITORY WORLD
WILL NEVER BE FULFILLED**

Until, when death comes to one of them, he will say My Lord! Send me back, (23:99)

Yet a ban has been placed on any town, We have wiped out; they shall not return (21:95)

More Reference : 6:27,28 7:53 14:16,44 23:99
Page 828,829 829 891,829 589
25:11,12,13,14 26:102,103 32:12 33:64,65
822,898,899 829 829 900
35:36 42:44 43:74,75,76,77,78,79 87:12,13
899 830 900,901,899 899

المجوس

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالتَّصَوِّفِ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾
﴿٢٢ الحج ١٧﴾

الصائبون

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٦٢ ٥ المائدة: ٦٩
٢٢ الحج: ١٧ الصفحة ٥٨٩، ٤٧٢، ٦٤٠

إبطال الاصطباغ

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَحْنُؤُنَّ لِلَّهِ غَيْرُ مُبْدُونَ ﴿١٣٨﴾
﴿٢ البقرة ١٣٨﴾

إبطال نظرية التناسخ

**إبطال نظرية (آوا كون)
الهندوس و البوذيين**

**حسرة الكفار للزّدة إلى الدنيا
مرة أخرى**

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٩٩﴾

وَحَرَّمَ عَلَی قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَن تُمْ لَّا يُرْجَعُونَ ﴿٩٥﴾
﴿٢١ الانبياء ٩٥﴾

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ٢٨، ٢٧ ٧ الأعراف: ٥٣
١٤ إبراهيم: ٤٤، ١٧، ١٦ ٢٣ المؤمنون: ٩٩ ٢٥ الفرقان: ١١، ١٢
١٤، ١٣ ٢٦ الشعراء: ١٠٢، ٢٦، ١٠٢ ٣٢ السجدة: ١٢
٣٣ الأحزاب: ٦٤، ٦٥ ٣٥ فاطر: ٣٦ ٤٢ الشورى: ٤٤
٤٣ الزخرف: ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩ ١٨٧ الأعلى: ١٢، ١٣

مجوس

جو لوگ مومن (یعنی مسلمان) ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک اللہ ان (سب) میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بیگ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے (17:22)

صابئین - ستارہ پرست - کواکب پرست

تفصیل کیلئے دیکھئے 2: 62 5: 69 22: 17
صفحہ 589, 472, 640

رسم پتسمہ (اصطباغ) کی نفی

(کہہ دو کہ ہم نے) اللہ کا رنگ (اختیار کر لیا ہے) اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں (2:138)

یونانی نظریہ تناسخ کی نفی

**ہندو ازم اور بدھ مت کا
نظریہ آواگون کی نفی**

**کفار کی دنیا میں واپس آنے کی آرزو
کبھی پوری نہ ہوگی**

(یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے) یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آجائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے (99:23)

اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے (21:95)

مزید حوالہ 6 28,27: 53: 7 14 44,17,16: 99:23
صفحہ 828,829 829 891,829 589
14,13,12,11: 25 65,64: 33 12: 32 103,102: 26 822,898,899
900 829 829
13,12: 87 79,78,77,76,75,74: 43 44: 42 36: 35
899 900,901,899 830 899

**IDOLATRY - WORSHIP OF PHYSICAL OBJECTS
(REFUTATION OF)**

إبطال الوثنية

بت پرستی کی نفی

Have you seen Al Lat and Al Uzza
(53:19)

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾
﴿٥٣ النجم ١٩﴾

بھلا تم لوگوں نے لات اور عزی کو دیکھا (19:53)

And Manat, the third, the other?
(53:20)

وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخَرَىٰ ﴿٢٠﴾
﴿٥٣ النجم ٢٠﴾

اور تیسرے منات کو (کہ یہ بت کہیں اللہ ہو سکتے ہیں) (20:53)

And they have said: Forsake not
your gods. Forsake not Wadd, nor
Suwa, nor Yaghuth and Ya'uq and
Yasr. (71:23)

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا
وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾
﴿٧١ نوح ٢٣﴾

اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور واد اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو کبھی نہ چھوڑنا (23:71)

For Reference : 5:103 7:195 13:33
Page 150 149 149
5:20,21 22:30 23:90
149 149/293 149

والمزيد راجع ٥ المائدة: ١٠٣ ٧ الأعراف: ١٩٥
١٣ الرعد: ٣٣ ١٦ النحل: ٢١، ٢٠ ٢٢ الحج: ٣٠
٢٣ المؤمنون: ٩٠

مزید حوالہ 33:13 195:7 103:5
149 149 150
90:23 30:22 21,20:16
149 149/293 149

**WORSHIP OF COW IN HINDUISM AND
OLDEN CALF BY ISRAELITES (REFUTATION OF)**

إبطال عبادة العجل

گاؤ سالہ پرستی کی نفی

And when We did appoint for
Moses forty nights (of solitude),
and then you chose the calf (for
worship), when he had gone from
you, and you were wrongdoers.
(2:51)

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾
﴿٢ البقرة ٥١﴾

اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بگھڑے کو (معبود) مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے (51:2)

And when Moses said to his people:
My people! You have wronged
yourselves by your choosing of the
calf (for worship) so turn in
penitence to your Creator, and kill
the guilty yourselves. That will be
better for you with your Creator and
He will relent towards you. He is the
 relenting, the Merciful. (2:54)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ
أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ
فَاتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾
﴿٢ البقرة ٥٤﴾

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم تم نے بگھڑے کو (معبود) ٹھیرانے میں (بڑا) ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا وہ بے شک معاف کرنے والا (اور) بہت رحم دل ہے (54:2)

For Reference : 2:92 4:153 7:148 20:90
Page 150, 196, 1046

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٩٢ ٤ النساء: ١٣٥
٧ الأعراف: ١٤٨ ٢٠ طه: ٩٠

مزید حوالہ 148:7 135:4 92:2
صفحة 90:20 1046, 196, 150

**RACE AND COLOUR DIFFERENTIATION
OF THE WESTERN SOCIETY
FEUDAL SYSTEM IN SOCIAL STRUCTURE
OF HINDUISM - FEUDALISM
SOCIAL GROUPING ON THE BASIS OF
ECONOMIC VALUES**

**إبطال نظام أوربا من التفرقة العنصرية
والنظام الطبقي الهندوكي
والتفرقة السلالية والإقطاعية**

**مغرب کارنگ و نسل کا امتیاز،
ہندوازم میں ذات پات،
جاگیرداری نظام میں سماجی اونچ نیچ**

For Mail Consult :
Chapter of Islam against discrimination of colour race
Page 582

والتفصیل راجع باب
المذمة الفوارق العنصرية في الاسلام
الصفحة ٥٨٢
والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٣٨ ١٤ إبراهيم: ١٣، ١١
٤٩ الحجرات: ١١، ١٣

تفصیل کیلئے دیکھئے باب
مذہب میں رنگ و نسل اور طبقاتی اونچ نیچ کی نفی
صفحة 582
مزید حوالہ 13,11:49 13,11:14 138:2
صفحة 582, 205, 195, 105

For Reference : 2:138 14:11,13 49:11,13
Page 105, 195, 205, 582

CORRUPTING THE ORIGINAL TEXT OF TAURAT / DELIBERATE FALSE INTERPRETATIONS OF THE COMMANDMENTS / TWISTING AND DISTORTING THE MESSAGE ACCORDING TO THEIR OWN FANCIES / **تحریف الیہود فی التوراة علی علم و عقل** / **یہود کی تورات میں دانستہ تحریف**

CONCEALORS OF TRUTH-SUPPRESSORS OF FACTS

کتمان الحق

کتمان حق (حق کو چھپانے والے)

(O you, men of faith) Have you any hope that they will believe in you seeing that when a good many of them used to listen to the Word of Allah, then they temper with it once they have studied it and they realize it. (2:75)

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحْرِفُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

(مومنو) کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے (دین کے) قائل ہو جائیں گے (حالانکہ) ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ (یعنی تورات) کو سنتے۔ پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد (عقل و علم والے ہوئے) اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے (تحریف لفظی و معنوی کرتے) رہے ہیں (75:2)

Ask of the Children of Israel how many a clear revelations (signs) We sent them! He who alters the grace of Allah) substitutes something else) after it has come to him. Allah is severe in punishment. (2:211)

سَلُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا بِبَيِّنَاتٍ لَّئِي لِيُدَبِّرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

(اے محمد) بنی اسرائیل سے پوچھیے کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں عطا کیں اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس پیچھے جانے کے بعد بدل ڈالے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے (211:2)

And there is a group of them who distort the Scripture with their tongues, that you may think that what they say is from the Scripture, but it is not from (the part of) the Scripture. And they say: It is from Allah, when it is not from Allah; and they speak a lie concerning Allah knowingly. (3:78)

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ السُّبْحَانَ كَذِبًا لِّيُتَحَسَّبَ مِنْهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

اور ان (اہل کتاب) میں یقیناً ایسا گروہ بھی ہے جو اپنی کتاب (تورات) کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے (نازل ہوا) ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور یہ تو اللہ پر دانستہ جھوٹ بولتے ہیں۔ (78:3)

When Allah made an agreement with those who were given the Book (saying): 'You shall explain it to mankind and not conceal it, they tossed it away behind their backs and sold it for a paltry price. How wretched was what they bought (instead)! (3:187)

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ (187:3)

Some of those who are Jews change words from their context and say: "We hear and disobey; hear you as one who hears not" and "Listen to us!" distorting with their tongues and slandering religion. If they had said: "We hear and we obey; hear you, and look at us" it had been better for them, and more upright. But Allah has cursed them for their disbelief, so they believe not, except a few. (4:46)

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعَيْنَا لِبَيِّنَاتٍ لِّسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٦﴾

بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ "ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر" (لیکن اس کہتے میں) اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ "ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے" تو یہ ان کے لیے بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے جس پر بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں (46:4)

And because of their breaking their covenant, We have cursed them and planted a hard shell over their hearts. They change words out of their context and forget a portion of that what they should have memorized you will always catch except some of them committing some acts of treachery, yet pardon them and overlook it. Allah loves those who act kindly. (5:13)

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾
﴿٥ المائدة ١٣﴾

تو ان لوگوں کی عہد شکنی کے سبب ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ آپ ان کی (ایک نہ ایک) خیانت کی خبر پاتے رہتے ہیں۔ تو ان کی خطائیں معاف کر دیں اور (ان سے) درگزر کریں کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (13:5)

They do not value Allah, the way He should be valued, when they say: Allah has revealed nothing to a human being. Say (to the Jews who speak thus): Who revealed the Book which Moses brought, a light and guidance for mankind, which you have put on parchments which you show it around, but you hide great deal of it. (Thereof), and by which you were taught that which you knew not yourselves nor (did) your forefathers (ever knew it)? Say: Allah. Then leave them toying away with their speculations. (6:91)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسٍ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ قَالِمًا تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾
﴿٦ الانعام ٩١﴾

اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہیں کی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر (وحی اور کتاب وغیرہ) کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ آپ کہیے کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ جو لوگوں کے لئے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے متفرق اوراق (پر نقل) کر رکھا ہے ان (کے کچھ حصے) کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ اور تم کو ایسی باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہہ دیجئے (اس کتاب کو) اللہ ہی نے (نازل کیا تھا) پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں (6:91)

We wrote down a bit of everything for them on tablets for instruction and as an analysis of everything then made him): Hold it fast; and command your people (saying): Take the better (course made clear) therein. I shall show you the abode of the evil-livers. (7:145)

وَكُنْتُمْ أَكْثَرًا فِي الْأَلْوَامِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدُّوْا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾
﴿٧ الاعراف ١٤٥﴾

اور ہم نے (تورات کی) چند تختیوں میں ان کے لئے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی پھر (ارشاد فرمایا کہ) اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی حکم دو کہ ان باتوں کو جو اس میں (درج ہیں اور) ان کے احکام پر عمل کریں۔ میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا مقام دکھاؤں گا (145:7)

Reference : 2:78,101 3:187 5: 66,68,87
Page 215, 591, 601, 374, 496, 850

المزيد راجع ٢ البقرة: ١٠١، ٧٨، ٣ آل عمران: ١٨٧
٥ المائدة: ٦٦، ٦٨، ٨٧، ٧ الاعراف: ٤١

المزيد حوالہ 2: 78، 101، 3: 187، 5: 66، 68، 87
41: 7 صفحہ 215، 591، 601، 374، 496، 850

**CORRUPTING THE TEXT OF TORAH
ARBITRARILY BY JEWS
FIGHTING AND SLAYING EACH OTHER -
FINISHING THEIR ENEMIES AND DEMANDING
RANSOM CONTRARY TO PROVISIONS OF
THEIR COMMANDMENTS**

عمل اليهود بالتحريف في أحكا التورة
وإثارة القتال بين قبائلهم
وأخذ الفدية منهم خلافا لأمر الله

یہود مدینہ کا شریعت تورات میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرنا
اور احکام تورات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
اپنے قبائل میں کشت خون کرنا اور ان کو جلاوطن کر دینا
اور قیدیوں سے فدیہ لینا

And when We made with you a covenant (saying): Shed not the blood of your people nor turn (a Party of) your people out of their dwellings. Then you ratified (Our covenant) and you were witnesses (to it). (2:84)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ ﴿٨٤﴾
﴿٢ البقرة ٨٤﴾

اور جب ہم نے (بنی اسرائیل) تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنے لوگوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم (اس بات کے) گواہ ہو (84:2)

Yet you it is who slay each other and drive out a party of your people from their homes, supporting one another against them by sin and transgression, and if they come to you as captives you would ransom them, whereas their expulsion was itself unlawful for you. Believe you in part of the Scripture and disbelieve you in part thereof? And what is the reward of those who do so save ignominy in the life of the world, and on the Day of Resurrection they will be consigned to the most grievous doom. For Allah is not unaware of what you do. (2:85)

ثُمَّ أَنْتُمْ هَلْؤَلَا تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرْيَاقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدَاةِ وَإِن يَأْتُواكُم أُسْرَى تَقْدُوا لَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَلَا تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتُكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥ البقرة ٨٥﴾

پھر تم وہی ہو کہ اپنیوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنیوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا (یہ) کیا (بات ہے کہ) تم کتاب (اللہ) کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کئے دیتے ہو تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیئے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں (85:2)

REFUTATION OF BLASPHEMY OF JUDAISM ASCRIBING EZRA AS A SON OF ALLAH (SWT)

And the Jews call: Ezra is the son of Allah, and the Christians call: The Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved of old. Allah may destroy them. How are they deluded? (9:30)

إبطال معتقد اليهود الكاذب (أن عزيرا ابن الله)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠ التوبة ٣٠﴾

یہود کے غلط عقیدہ کا ابطال (کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے)

اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے یہ بھی انہیں کی نقل کرنے لگے ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یہ کہاں بے پھرتے ہیں۔ (30:9)

For Detail Consult : Page 1081

والمزيد راجع الصفحة 1081

مزيد حوالہ صفحہ 1081

RETRIBUTION FOR INJURY WAS ORDAINED IN TORAH

And We prescribed for them therein: The life for the life, and the eye for the eye, and the nose for the nose, and the ear for the ear, and the tooth for the tooth, and for wounds retaliation. But whoso foregoes it (in the way of charity) it shall be expiation for him. Whoso judges not by that which Allah has revealed: such are wrongdoers. (5:45)

كان قصاص الجروح مكتوبا في شريعة بني اسرائيل

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴿٤٥ المائدة ٤٥﴾

شریعت بنی اسرائیل میں زخم رسائی کی صورت میں قصاص کا حکم دیا گیا تھا

اور ہم نے ان لوگوں کے لئے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لئے کفارہ ہوگا اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں (45:5)

ASSASSINATION WAS STRONGLY CONDEMNED IN THE JURISPRUDENCE OF CHILDREN OF ISRAEL

For Detail Consult : 5:32 Page 561

كان قتل النفس مذموما شديدا في شريعة بني اسرائيل

للتفصيل راجع ٥ المائدة: ٣٢ الصفحة ٥٦١

شریعت بنی اسرائیل میں قتل کی سخت مذمت کی گئی (اک رسائی جان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا تھا)

تفصیل کیلئے دیکھئے 32:5 صفحہ 561

PUNISHMENT OF STONING TO DEATH FOR THE OFFENCE OF ADULTERY WAS ALSO ORDAINED IN THE JURISPRUDENCE OF CHILDREN OF ISRAEL

For Detail Consult : 5:42,43,44 Page 744

كانت عقوبة الرجم للزاني والزانية مكتوبة في شريعة بني اسرائيل

للتفصيل راجع ٥ المائدة: ٤٢،٤٣،٤٤ الصفحة ٧٤٤

شریعت بنی اسرائیل میں بھی (شادی شدہ مرد اور عورت کے زنا) بدکاری کی سزا رجم دی گئی تھی

تفصیل کیلئے دیکھئے 44,43,42:5 صفحہ 744

JEWISH SOLEMN LAWS FOR LAWFUL AND UNLAWFUL EATABLE

CERTAIN WHOLESOME THINGS WERE FORBIDDEN TO JEWS BECAUSE OF THEIR WRONGDOINGS

Because of the wrongdoings of the Jews We forbade them good things, which were (before) made lawful to them, and because of their much hindering from Allah's way; (4:160)

To those who are Jews We forbade every animal with claws. And We forbade the oxen and the sheep to them the fat thereof except that upon the backs or the entrails, or that which is mixed with the bone. That We awarded them for their rebellion. And We are Truthful, (146:146)

And to those who are Jews, We have forbidden that which We have already related to you and We wronged them not, but they were inclined to wrong themselves. (16:118)

الحلۃ والحرمة عند الیہود

حرمت علی الیہود طبیات کانت حلالا من قبل بظلم منهم جزاء ببعیہم

فَظَلِمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٤﴾ النساء ١٦٠

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبِعْثِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦﴾ الانعام ١٤٦

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ النحل ١١٨

یہود کے مذہب میں حلت و حرمت

یہود پر بعض پاکیزہ اور حلال چیزیں بطور سزا حرام کر دی گئیں

تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب (بہت سی) پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں۔ اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے (لوگوں کو) روکتے تھے (4:160)

اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی۔ سوا اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو اور جھڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم سچ کہنے والے ہیں (146:6)

اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں۔ اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے (118:16)

HOLY JESUS (PBUH) PERMITTED SOME OF THE THINGS TO JEWS IN CONFIRMATION TO TORAH WHICH WERE FORBIDDEN (FOR THEIR INIQUITY)

And (I come) confirming that which was before me of the Torah, and to make lawful some of that which was forbidden to you. I come to you with a sign from your Lord, so keep your duty to Allah and obey me. (3:50)

EVERY KIND OF FOOD WAS PERMITTED TO THE CHILDREN OF ISRAEL, EXCEPT WHAT ISRAEL (JACOB PBUH) HAD BANNED HIMSELF BEFORE REVELATION OF TORAH

Every kind of food was lawful to the children of Israel, but that which Israel forbade himself, (in days) before the Torah was revealed. Say: Produce the Torah and read it (to us) if you are truthful. (3:93)

أحل عیسی بعض الذی حرم علی الیہود من قبل بظلمهم توثیقا للتوراة

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٥٠﴾ آل عمران ٥٠

كل الطعام كان حلالا لبني اسرائيل وكان يعقوب حرم على نفسه بعض الطعام من قبل ان تنزل التوراة

لَنْ تَنَالُوا الدِّرْحَاشِي تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ هُوَ وَمَا كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَلَ التَّوْرَةُ فَقُلْ قَاتِلُوا بِالتَّوْرَةِ قَاتِلُومًا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ آل عمران ٩٣

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق کے بعد یہود پر بطور سزا حرام کی گئی غذاؤں کو دوبارہ حلال قرار دیا

اور مجھ سے پہلے جو تورات (نازل ہوئی) تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور (میں) اس لئے بھی (آیا ہوں) کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لئے حلال کر دوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو (50:3)

بنی اسرائیل پر تمام کھانے حلال تھے ماسوائے ان چیزوں کے جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نزول سے پہلے حرام قرار دیا تھا

بنی اسرائیل کے لئے (تورات کے نازل ہونے سے پہلے سے) کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں۔ جزان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو (یعنی دلیل پیش کرو) (93:3)

And whoever shall invent a falsehood after that concerning Allah, such will be wrongdoers. (3:94)

فَمَنْ افترى على الله الكذب من بعد ذلك
فأولئك هم الظالمون ﴿٩٤﴾
﴿٣ آل عمران ٩٤﴾

جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھے تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں (94:3)

**RABBIS - PRIESTS - ANCHORITES SAINTS
MONKS - ASCETICS**

الأخبار والرهبان

احبار اور رهبان

**RABBIS AND PRIESTS ARE NEGLECTFUL
IN REFRAINING THEIR PEOPLE
FROM EVILNESS, LIVING ON GRAFT
AND TAKING UNLAWFUL EATABLE**

غفلة الربايين والاحبار عن نهى اليهود
عن قولهم الاثم واكلهم السحت

یہود و نصاریٰ کے مشائخ کی ان کو گناہ کی باتوں اور حرام خوری سے روکنے میں غفلت

Why do not the rabbis and the priests forbid their evil speaking and their devouring of illicit gain? Evil is their handiwork. (5:63)

لولا ينههم الربانيون والاحبار عن قولهم
الاثم واكلهم السحت ليش ما كانوا يصنعون ﴿٦٣﴾
﴿٥ المائدة ٦٣﴾

بھلا ان کے عابد اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلاشبہ وہ بھی برا کرتے ہیں (63:5)

**DOCTRINE OF PAPAL INFALLIBILITY,
PRIESTS WORSHIP AND BELIEVING
IN THEIR AUTHORITY OF INDULGENCES
AND DISPENSATIONS**

اتخاذ اليهود و النصارى
احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله
من حيث التحريم والتحليل

یہود و نصاریٰ کا اپنے مذہبی علماء (پیشواؤں) کو تحلیل و تحریم کا منصب دینا

They have taken as lords besides Allah their rabbis and their monks (priests and anchorites) and the Messiah son of Mary, when they were commanded to worship only One Allah. There is no god except Him. Be He glorified from all that they ascribe as partner (to Him)! (9:31)

اتخذوا الاحبارهم ورهبانهم اربابا من
دون الله والسيمة ابن مريم وما امروا
الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو
سبحانه عتيا يشركون ﴿٣١﴾
﴿٩ التوبة ٣١﴾

ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو (احبار اور رهبان) کو رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ ان کو ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی (معبود) مستحق عبادت نہیں پاک ہے وہ ان شرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں (9:31)

O you, who believe! There are indeed many of the (Jewish) rabbis and the (Christian) monks (priests and anchorites) devour the wealth of mankind wantonly and debar (men) from the way of Allah. They who hoard up gold and silver and spend it not in the way of Allah, to them give tidings (O Muhammad) of a most grievous chastisement.. (9:34)

يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار
والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل
ويصدون عن سبيل الله والذين
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعتاب اليموم ﴿٣٤﴾
﴿٩ التوبة ٣٤﴾

اے ایمان والو ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں (احبار اور رهبان) کا یہ حال ہے کہ یہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے (34:9)

**SIMILITUDE OF
IMPRACTICAL RABBIS**

مثل اليهود غير العاملين على التوراة

بے عمل عالم یہود کی مثال

The similitude of those who are entrusted with the Law of Moses, (obligation of Taurat) yet apply it not, is as the likeness of the donkey carrying books (huge tomes) but understands them not. Wretched is the likeness of folk who deny the revelations of Allah. And Allah guides not wrongdoing folk. (62:5)

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها
كمثل الحمار يحمل أسفارا يش مثل القوم
الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم
الظالمين ﴿٥﴾
﴿٦٢ الجمعة ٥﴾

جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا پھر انہوں نے اس (کے بار تعمیل) کو نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی اس سے بھی زیادہ مری مثال ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (5:62)

**DIVINE FAVOURS
ON CHILDREN OF ISRAEL AND THEIR
TURNING AWAY FROM THE COVENANT**

نعمة الله على بني إسرائيل
ونقص بني إسرائيل بميثاق

اللہ تعالیٰ کے قوم بنی اسرائیل
پراחסانات اور بنی اسرائیل کی نافرمانیاں

O Children of Israel! Remember My favours which I have graced you, and fulfill your (part of the) covenant, I shall fulfill My (part of the) covenant and fear Me. (2:40)

يَذَكِّرْ بِنِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾
﴿٢ البقرة ٤٠﴾

اے آل یعقوب میرے! وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کئے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھ سے ڈرتے رہو (40:2)

Children of Israel! Remember My blessings by means of which I favoured you and how I preferred you to (all) creatures. (2:47) (2:122)

يَذَكِّرْ بِنِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ ﴿٢ البقرة ١٢٢﴾

اے یعقوب کی اولاد! میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھیں اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی (47:2) (122:2)

And (remember) when Moses said to his people: O my people! Remember Allah's favours to you, how He placed among you prophets, and He made you Kings, and gave you that (which) He gave not to any (other) among the people. (5:20)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقْرَأُ زَكْرًا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾
﴿٥ المائدة ٢٠﴾

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کئے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ عنایت کیا کہ اہل دنیا میں سے کسی کو نہیں دیا (20:5)

And We settled the Children of Israel in an honourable dwelling place and did provide them with the best sustenance and they fell into schisms after knowledge came to them. Your Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ. (10:93)

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَآئِدَ صَدَقَاتٍ وَزَرَقْنَا لَهُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾
﴿١٠ يونس ٩٣﴾

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کی عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں۔ لیکن وہ باوجود علم رکھنے کے اختلاف کرتے رہے۔ بیشک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا (93:10)

Children of Israel! We delivered you from your enemy, and We made a covenant with you on the holy mountain's right side, and sent down on you the Manna and the quails, (20:80)

يَذَكِّرْ بِنِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٨٠﴾
﴿٢٠ طه ٨٠﴾

اے آل یعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لئے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلویٰ نازل کیا (80:20)

(Saying): Eat of the good things which We have provided you for your sustenance and transgress not respect thereof lest My wrath comes upon you; and he on whom My wrath comes, he is perished indeed. (20:81)

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَقَدْ هَوَىٰ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾
﴿٢٠ طه ٨١﴾

اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ۔ اور اس میں حد سے نہ نکلتا۔ ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ اور جس پر میرا عذاب نازل ہو وہ یقیناً تباہ ہوگا۔ (81:20)

Thus We drove them away from their gardens and water springs, (26:57)

فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾
﴿٢٦ الشعراء ٥٧﴾

اس طرح ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا (57:26)

And treasures and a fair estate. (honourable positions). (26:58)

وَكَوْنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾
﴿٢٦ الشعراء ٥٨﴾

اور خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں سے (نکال دیا) (58:26)

Thus (were those things taken from them) and We caused the Children of Israel to inherit them. (26:59)

كذالك واورثنا بني اسرائيل ﴿٥٩﴾ الشعراء ٢٦

ان کے ساتھ ہم نے) اس طرح (کیا) اور ان بچوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا (59:26)

And We delivered the Children of Israel from the shameful doom (44:30)

ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين ﴿٣٠﴾ الدخان ٤٤

اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی (30:44)

And We chose them, purposely, above (all) creatures. (44:32)

ولقد اخترناهم على علم على العالمين ﴿٣٢﴾ الدخان ٤٤

اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل علم سے دانستہ منتخب کیا (32:44)

And We granted them signs in which there was a clear trial. (44:33)

وايتهم من الايات ما فيه بلاء مبين ﴿٣٣﴾ الدخان ٤٤

اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی (33:44)

And We gave the Children of Israel the Scripture and the power of Command and the Prophethood, and provided them with good things and favoured them above (all) nations. (45:16)

ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ﴿١٦﴾ الجاثية ٤٥

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب (ہدایت) اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں دنیا جہاں والوں پر فضیلت دی (16:45)

More Reference: 2:57,60 5:12,20,21,22 7:137,160 26:66 Page 1044,1043,1045,596,1079,1038

والعزیز راجع ٢ البقرة: ٥٧، ٦٠، المائدة: ١٢، ٢١، ٢٢، ٧ الاعراف: ١٣٧، ١٦٠، الشعراء: ٦٦

مزید حوالہ 2:57,60 5:12,20,21,22 7:137,160 26:66 صفحہ 1038,1079,596,1045,1043,1044

TURNING AWAY OF ISRAELITES FROM THE COVENANT OF OBSERVING SOCIAL AND MORAL INJUNCTIONS, KEEPING UP PRAYER AND SPENDING IN CHARITY

And (remember) when We took a covenant from the Children of Israel, (saying): Worship none except Allah (only), and treat with kindness your parents and to kindred and to orphans and the needy, and speak kindly to mankind; and establish worship and pay the poor due (zakat). Then, after that, you slid back, except a few among you, being averse. (2:83)

نقض بنی اسرائیل میثاق العبادۃ للہ وحدہ، والإحسان بالوالدین ویدی القربی وإقامة الصلوة وإيتاء الزکوة

بنی اسرائیل کا سماجی و اخلاقی اقدار کی پابندی یا انکار اور عبادات و انفاق فی سبیل اللہ کے عہد کی نافرمانی

RUINATION OF JEWS TWICE DUE TO THEIR MISCHIEF AND HAUGHTINESS ONCE DESTRUCTION OF TEMPLE BY THE BABYLONIAN EMPEROR (NEBUCHDNEZZAR) IN 586 YEAR B.C. AND SECONDLY COMPLETE DESTRUCTION OF JERUSALEM BY THE ROMAN EMPEROR TITUS IN THE YEAR 70 - AD

And We made (this) known to the Children of Israel in the Scripture: You indeed will spread corruption in the earth twice, and you will become great tyrants (grossly overbearing). (17:4)

وقضینا لى بنی اسرائیل فی الکتب لتفسدن فی الارض مرتین وتعلن علوا کثیرا ﴿٤﴾ ١٧ بنی اسرائیل ٤

اور ہم نے بنی اسرائیل سے ان کی کتاب (تورات) میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد برپا کرو گے اور تم زبردست زیادتیاں کرو گے۔ (4:17)

ہو ان الیہود مرتین عقابا لہم اولاً فی عہد بخت نصر بالعام ٥٨٦ ق م ثم بالعام (٧٠) م فی عہد ملک الروم تیتاس

یہود کو نافرمانی کے باعث دو مرتبہ ذلت کا سامنا ایک مرتبہ فرماں روا بابل بخت نصر کے ذریعے 586 سال قبل مسیح دوسری مرتبہ رومی بادشاہ ٹیٹس کے حملہ سے یروشلم کی تباہی سن 70 عیسوی

So when the first of the warning came to pass We roused against you slaves of Ours of great might who ravaged (your) country, (they entered the very in most parts of your homes) and it was a warning fulfilled. (17:5)

Then We gave you once again your turn against them, and We aided you with wealth and children and made you more in soldiery, (17:6)

(Saying): If you do good, you do good for your own souls, and if you do evil, it is for you (in like manner). So, when the time for the second (of the judgements) came (We roused against you others of Our slaves) to ravage you, and to enter the Mosque even as they entered it the first time, and to lay waste all that they conquered with another wasting. (17:7)

It may be that your Lord will have mercy on you, but if you repeat (the crime) We shall repeat (the punishment), and We have appointed hell a dungeon for the disbelievers. (17:8)

DIVINE WARNING TO JEWS FOR TORMENT, PERSECUTION AND DISPERSAL UNTIL RESURRECTION AS A PENALTY OF THEIR EVIL EARNINGS

And (remember) when your Lord proclaimed that He would raise against them till the Day of resurrection those who would lay on them a cruel torment. Indeed your Lord is Swift in prosecution and He is Forgiving, Merciful. (7:167)

And We broke them up into sections of this earth. Some among them are righteous, and some are opposite from them. And We have tried them with both prosperity and adversity that perhaps they might return (to Us). (7:168)

And when a (evil) generation has succeeded them who inherited the Scripture. They chase the vanities of the world (for themselves) and saying (for excuse) everything will be forgiven to us. And if the offer came to them (again) the offer of the Scripture, they would accept it (and would say) again. Had not the covenant of the Scripture been taken on their behalf that they should not speak anything concerning Allah except the truth? And they have studied that which is therein (in the Book). And the abode of the Hereafter is better, for those who ward off (evil). Have you then no sense? (7:169)

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾

﴿١٧ بنی اسرائیل ٥﴾

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾

﴿١٧ بنی اسرائیل ٦﴾

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

﴿١٧ بنی اسرائیل ٧﴾

عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يَسْحَبَكُم وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْتَدُونَ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾

﴿١٧ بنی اسرائیل ٨﴾

وعيد من الله تعالى لليهود ان يكونوا اذلة عبيدا مضطهدين الى يوم القيامة

وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُوءُهُمْ سَاءً وَيُعَذِّبُهُمُ الْعَذَابَ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ﴿١٦٧﴾ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٨﴾

﴿١٧ الاعراف ١٦٧﴾

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

﴿١٧ الاعراف ١٦٨﴾

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾

﴿١٧ الاعراف ١٦٩﴾

پس جب پہلے (وعدے) کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑاکے بندے تم پر مسلط کر دیئے اور وہ شہروں کے اندر (تمہارے گھروں تک) پھیل گئے۔ اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا (5:17)

پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا تمہارے دن پھیر دیئے۔ اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی۔ اور تم کو بڑی جماعت بنا دیا (6:17)

اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے فائدے کے لئے کرو گے۔ اور اگر اعمال بد کرو گے تو (انکا) وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا پھر جب دوسرے (وعدے) کا وقت آیا (تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے) تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں۔ اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد (بیت المقدس) میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں (7:17)

امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر وہی (حزکتیں) کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی (پہلا سلوک) کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنا رکھا ہے (8:17)

قوم یہود کی بد اعمالیوں کے سبب ان کو تا قیامت ذلت، غلامی اور منتشر رہنے کی وعید

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تمہارے پروردگار نے (یہود کو) آگاہ کر دیا تھا وہ ان (یہود) پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو شدید تکلیفیں دیتا رہے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے (167:7)

اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں۔ بعض ان میں سے نیک ہیں اور بعض اور طرح کے (یعنی بدکار) اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں (دونوں) سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ (ہماری طرف) رجوع کریں (168:7)

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یہ (بے تامل) اس دنیا کے فانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیئے جائیں گے (ہماری مغفرت ہو جائے گی) اور (لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں) اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آجاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر حق بات کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے۔ اور جو کچھ اس (کتاب) میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے۔ اور آخرت کا گھر پر ہیزگاروں کے لئے بہتر ہے پھر کیا تم سمجھتے نہیں۔ (169:7)

PRESUMPTUOUS BLASPHEMY OF JUDAISM TO BE EXEMPTED FROM PUNISHMENT FOR BREACHES OF COVENANTS - BEING SPECIAL VEHICLES OF DIVINE MESSAGE AND BESTOWED WITH WORLDLY GAINS (HIGH FINANCES)

زعم اليهود أن يتخلصوا من العذاب
بكونهم أحياء الله

تو کہ یہودیوں کی اہل کتاب ہونے اور دولت سرمایہ کے بل بوتے پر عذاب الہیہ سے بچ نکلنے کی غلط فہمی

VAINLY HOPE OF REMAINING UNQUESTIONED FOR THEIR WRONGDOINGS AND ESCAPING TERROR OF HELL BY JEWS AND CHRISTIANS

أمنيه اليهود النصارى بنجاتهم
من عذاب النار على سوء أعمالهم

یہود و نصاریٰ کی اپنی بد اعمالیوں کے باوجود عذاب دوزخ سے نجات کی خوش فہمی

They say: "the fire will only touch us for several days." Say: "Have you taken it as promise from Allah? Allah never breaks His Word. Or are you saying something about Allah which you really do not know (2:80)

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَمَّا عِدَّتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠ البقرة﴾

اور کہتے ہیں کہ (دوزخ کی) آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا (نہیں) بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں (80:2)

That is because they say: The Fire will not touch us save for a certain number of days. That which they used to invent has deceived them regarding their religion. (3:24)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَغَرَّبَهُمْ فِي دِينِهِمْ فَأَكَانُوا يُفْتَرُونَ ﴿٢٤ آل عمران﴾

یہ اس لئے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ (دوزخ کی) آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے (24:3)

The Jews and Christians say: We are sons of Allah and His loved ones. Say: Why then does He chastise you for your sins? No you are but mortals of His creations. He forgives whom He wills, and chastises whom He wills. Allah's is the Sovereignty of the heavens and the earth and all that is between them, and to Him is the journeying. (5:18)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨ المائدة﴾

اور یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے (نہیں) بلکہ تم اس کی مخلوقات میں (دوسروں کی طرح کے) انسان ہو۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ کی حکومت ہے اور (ان کو) اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے (18:5)

More Reference : 2:80,82,96 62: 6,7
Page 599, 862, 422, 600

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٨٠، ٨٢، ٩٦ الجمعة ٦٢
الصفحة ٥٩٩، ٨٦٢، ٤٢٢، ٦٠٠

مزید حوالہ 2: 80, 82, 96; 62: 6, 7
صفحہ 599, 862, 422, 600

JEWS CLING TO WORLDLY LIFE MORE EAGERLY THAN ANY OTHER PEOPLE

اليهود أحرص الناس على حياة الدنيا

یہودیوں کی دنیا کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ خواہش مند

And you will find them greediest of mankind for life even greedier than the idolaters. (Each) one of them would like to be allowed to live a thousand year. And to live (a thousand years) would by no means save him from the (due) chastisement, for Allah is observant of what they do. (2:96)

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْتَرَفُ لْفَسَّنَا وَمَا هُوَ بِمُنْجِرٍ مِنْهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعْتَرَفَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦ البقرة﴾

بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص آپ انہیں (یہود) کو پائیں گے یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر ان کو مل بھی جائے تو انہیں عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو بخوبی دیکھ رہا ہے (96:2)

Say O you of Jews! if you claim that you are friends of Allah apart from (all) mankind, then express your desire for death if you are truthful. (62:6)

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٢ الجمعة﴾

کہہ دیجئے کہ اے یہود اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو (ذرا) موت کی آرزو تو کرو (62:6)

But they will never long (desire) for it because of all that (deeds) their own hands have sent before, and Allah is Aware of evildoers. (62:7)

وَلَا يَتَمَنَّوْنَ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٧﴾
﴿٦٢ الجمعة ٧﴾

اور یہ ان (اعمال) کے سبب جو کر چکے ہیں کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے (7:62)

More Reference : 2:94,95 Page 773

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٩٥،٩٤: الصفحة ٧٧٣

مزید حوالہ 2:95,94:94:773

**RICTIONS AMONG JEWS AND CHRISTIANS
DIFFERENT SECTS
HOLDING DIVERGENT VIEWS**

خلافات اليهود و النصرى
وتفرقتهم الفكرية

یہود و نصری کے باہمی اختلافات
اور ان کی نظریاتی فرقہ بندی

But the factions among them differed. Then woe to those who do wrong from the doom of a painful day. (43:65)

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اَلْيَوْمِ ﴿٦٥﴾
﴿٤٣ الزخرف ٦٥﴾

پھر (بنی اسرائیل) کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ دینے والے دن کے عذاب سے۔ (65:43)

Wait they nothing except the Hour, that it shall come upon them suddenly, when they know not? (43:66)

هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاتِيَهُمْ بَغْتَةً
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾
﴿٤٣ الزخرف ٦٦﴾

یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ (66:43)

Page Reference : Page : 607

وللمزيد راجع الصفحة ٦٠٧

مزید حوالہ 607

**DISPUTE AMONG JEWS AND CHRISTIANS
ON OBSERVANCE OF A SPIRITUAL DAY
AS SATURDAY OR SUNDAY
FOR PERFORMING (WORSHIP) RITUALS**

اختلاف اليهود و النصرى
فى تعيين يوم حرام

یہود و نصری کا تعظیم و عبادت کے لئے دن
کے انتخاب (ہفتہ یا اتوار) پر اختلاف

The Sabbath was only made (strict) for those who disagreed (as to its observance). But your Lord will judge between them on the Day of resurrection concerning that wherein they used to differ. (6:124)

اِذْ مَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا
فِيهِ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَكْمُلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾
﴿١٦ النحل ١٢٤﴾

ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس (کی پابندی) میں اختلاف کیا۔ اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے (124:16)

**DISPUTE AMONG JEWS AND CHRISTIANS
ON OBSERVANCE OF "QIBLA"
(FACING DIRECTION WHILE WORSHIP)
IN THEIR CHURCHES AND SYNAGOGUES**

اختلاف اليهود و النصرى
فى تعيين القبلة

یہود و نصری کے قبلہ کے
رہن پر اختلافات

And each one has a goal towards which he turns so vie with one another in good deeds. Wheresoever you may be, Allah will bring you all together. Certainly Allah is Able to do all things. (2:148)

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
اِنَّ مَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾
﴿٢ البقرة ١٤٨﴾

اور ہر ایک (فرقے) کے لئے ایک سمت (مقرر) ہے جدھر وہ (عبادت کے وقت) منہ کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں ہو اللہ تم سب کو جمع کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (148:2)

**TERRORISM OF THE
JEWS FUNDAMENTALISTS**

قہر اليهود و اربابيتهم

یہود بنیاد پرستوں کا جبر و تشدد ہشت گردی

For detail Consult Chapter People of the Ditch
Page 1113

وللمزيد راجع باب : أصحاب الأخدود
الصفحة ١١١٣

مزید حوالہ باب : أصحاب اخدوق
صفحة 1113

CORRUPTING THE ORIGINAL TEXT OF INJIL AND DELIBERATE FALSE INTERPRETATION TWISTING AND DISTORTING THE GOSPEL ACCORDING TO THEIR OWN FANCIES

عملِ انجیل کی تحریف اور انجیل کی اصلاح کے علم

نصاری کی انجیل میں دانستہ تحریف

And with those who say: "We are Christians," We did take a covenant, but they forgot a good part of that message whereof they were admonished. Therefore We have stirred up enmity and hatred among them till the Day of Resurrection, when Allah will inform them what they have done. (5:14)

If they had observed the Torah and the Gospel and that which was revealed to them from their Lord, they would surely have been nourished from above them and from below their feet. Among them there are people who are moderate, but many of them are of evil conduct. (5:66)

Say: O People of the Scripture! Exceed not in your religion other than the bounds of truth, and follow not the vain desires of folk who erred in times gone by and led many astray, and strayed (themselves) from a plain road. (5:77)

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

اور جو لوگ (اپنے آپ کو) کہتے ہیں کہ ہم نصاری ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک بڑا حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے بھی ان کے باہم قیامت تک کے لئے دشمنی اور کینہ ڈال دیا۔ اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ تقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا (5:14)

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو (اور کتابیں) ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کے پابند رہتے تو ان پر رزق مینہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر اور اؤں کے نیچے سے کھاتے ان میں کچھ لوگ میانہ روی اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں (66:5)

آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین (کی بات) میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو (خود بھی) پہلے گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں (77:5)

More Reference : 2:85 3:23,187 57:27 Page 593, 743, 591, 434

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٨٥، ٣ آل عمران: ٢٣، ٥٧ الحديد: ٢٧، الصفحة ٥٩٣، ٧٤٣، ٥٩١، ٤٣٤

المزيد حوالہ 2:85 3:23,187 57:27 صفحه 434, 591, 743, 593

MONASTICISM - SELF STYLED LIFE PATRON OF MONKS AND NUNS WAS NEVER PRESCRIBED BY ALLAH (SWT)

الرهبانية مخترعة النصارى لم يكتبها الله عليهم

نصاری کا از خود نظریہ رهبانیت ایجاد کر لینا اللہ تعالیٰ نے ترک دنیا کا حکم نہیں دیا

Then We caused Our messengers to follow in their footsteps; and We sent after them Jesus, son of Mary, to follow, and bestowed upon him the Gospel, and placed compassion and mercy in the hearts of those who followed him. But monasticism they invented for themselves, We ordained it not for them. Only for seeking Allah's pleasure, and they observed it not with right observance. So We bestowed those of them who believed in their reward, but many of them are rebellious transgressors. (57:27)

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٢٧﴾

پھر ان کے پیچھے انہی کے نشانات پر (اور) پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ اور رهبانیت دنیاوی معمولات سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے پھر جیسا اس کو نباہنا چاہئے تھا نباہ بھی نہ سکے پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے انہیں ہم نے ان کا اجر دیا۔ اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں (27:57)

More Reference : 9:31 Page 595

والمزيد راجع ٩ التوبة: ٣١، الصفحة ٥٩٥

المزيد حوالہ 9:31 صفحه 595

ESTABLISHING SALAT AND PAYING ZAKAT WAS ALSO ORDAINED IN THE GOSPEL (THE SCRIPTURE OF JESUS)

الأمر بإقامة لصلوة وإيتاء الزكاة في شريعة عيسى

شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پابندی صلوة (نماز قائم کرنے) اور ادا کی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا

For Detail Consult : 2:83 3:43 19:31 Page 251, 255, 1097

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٨٣، ١٩ مريم: ٣١، ٣ آل عمران: ٤٣، الصفحة ٢٥١، ٢٥٥، ١٠٩٧

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:83 3:43 19:31 صفحه 1097, 255, 251

TERRORISM OF THE ROMAN FUNDAMENTALISTS IN EARLY ERA OF CHRISTIANITY

عصر المسيحية الابتدای وقهر المتطرفین الطائفین وارهائیتهم

مسیحیت کے ابتدائی دور میں بنیاد پرستوں کا جبروتشدد (دہشت گردی)

For Detail Consult Page 1105

والمزيد راجع الصفحة ١١٠٥

المزيد حوالہ صفحه 1105

REFUTATION OF DOGMA OF ATTRIBUTING SONSHIP TO JESUS AS A PHYSICAL SON OF ALLAH (SWT) OR RAISING STATUS OF JESUS TO AN EQUALITY WITH ALLAH (SWT)

إبطال عقيدة الرهبنة المسيح
أنه ثالث ناراد

عقيدة تثليث مسيح - عيسى ابن الله
(ثالث ناراد) كاردو ابطال

For Detail Consult : Page : 1102

وللمزيد راجع الصفحة 1102

مزيد سے دیکھو صفحہ 1102

DOGMA OF TRINITY AND ITS REFUTATION

It is not (possible) for any human being to whom Allah had given the scripture and Wisdom and the prophethood that he should afterwards have said to mankind: Be slaves of me instead of Allah; but what he would say): Be you faithful servants of the Lord by virtue of your earnest teaching of the scripture and of your constant study hereof. (3:79)

And he commanded you not that you should take the Angels and the prophets for Lord. Would he command you to disbelieve after you had surrendered (to Allah)? (80)

They indeed have disbelieved who say: Allah is the Messiah, (Christ)son of Mary. Say : Who can do anything against Allah, He had willed to destroy the (Christ) son of Mary, and his mother and everyone on earth? Allah's is the Sovereignty of the heavens and the earth and all that is between them. He creates what He wills. And Allah is Able to do all things. (5:17)

They surely disbelieve who say: Allah is the third of three; when there is no god save the One Allah. They desist not from so saying a painful doom will fall on those of them who disbelieve. (5:73)

Your Lord brings to pass what He wills and chooses. They have never any choice. Glorified be Allah and Exalted above all that they associate (with Him)! (28:68)

Glorified be your Lord, the Lord of Majesty, from that which they attribute (to Him) (37:180)

إبطال التثليث

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَنْ مِنْ آلِهَةٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَنِ الشِّرْكَوْنَ ﴿٢٨﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَنَّا يَصِفُونَ ﴿٣٧﴾

عقیدہ تثلیث کا ابطال

کسی آدمی کو شایاں نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ (اے اہل کتاب) تم رب کے ہو جاؤ کیوں کہ تم کتاب (اللہ) پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو (79:3)

اور یہ نہیں (ہو سکتا) کہ وہ تمہیں فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنالینے کا حکم دے۔ بھلا جب مسلمان ہو چکے ہو تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے (80:3)

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (17:5)

وہ لوگ (بھی) کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال (و عقائد) سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے (73:5)

اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) برگزیدہ کر لیتا ہے۔ ان کو (اس کا) اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک وبالتر ہے (68:28)

یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے (اس سے پاک ہے) (180:37)

And praise be to Allah, Lord of the Worlds! (37:182)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾
﴿٣٧﴾ الصنفت ١٨٢

اور سب طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے جو سارے جہان کا مالک ہے (182:37)

**FALSE ACCUSATION
OF JEWS AND CHRISTIANS
"THAT ALLAH(SWT) HAS ADOPTED A SON"**

افتراء اليهود النصارى على الله
بدعواهم اتخاذه ولدا

یہود و نصاریٰ کا اللہ تعالیٰ پر
کسی کو بیٹا بنانے کا جھوٹ

And they say: Allah has taken to Himself a Son. Be He Glorified! No, but whatsoever is in the heavens and in the earth belongs to Him. All are subservient to Him. (2:116)

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهٗ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾
﴿٢﴾ البقرة ١١٦

اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے (نہیں) وہ پاک ہے۔ بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرمانبردار ہیں (116:2)

And the Jews say: Ezra is the son of Allah, and the Christians say: The Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved of old. Allah (Himself) fights against them. How perverse are they? (9:30)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ
يٰۤاَفْوَٰهَهُمْ يُضٰهَوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِّنْ قَبْلُ قٰتِلْهُمْ اِنَّهُمْ اٰتٰى يُّوْفٰكُوْنَ ﴿٣٠﴾
﴿٩﴾ التوبة ٣٠

اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے یہ بھی انہی کی نقل کرنے لگے ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یہ کہاں پیچھے پھرتے ہیں (30:9)

They say: Allah has taken (to Him) a son. Glorified be He! He has no needs! He holds all that is in the heavens and all that is in the earth. You have no warrant for this. Are you saying concerning Allah that which you know not? (10:68)

قَالُوْا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهٗ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ
بِهٰذَا اَتَقُوْلُوْنَ عَلَىٰ اَللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾
﴿١٠﴾ يونس ٦٨

(بعض لوگ) کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے (اس کی) ذات (اولاد سے) پاک ہے (اور) وہ بے نیاز ہے (جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے) (اے) بہتان باندھنے والو! تمہارے پاس اس (قول باطل) کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ (68:10)

And warn those who say: Allah has chosen a son, (18:4)

وَيُنذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾
﴿١٨﴾ الكهف ٤

اور ان لوگوں کو بھی ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے (کسی کو) بیٹا بنا لیا ہے (4:18)

(A thing) whereof they have no knowledge, nor (had) their fathers. Dreadful is the word that comes out of their mouths. They speak nothing but a lie. (18:5)

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ
كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُوْلُوْنَ اِلَّا
كِبٰٓرًا ﴿٥﴾
﴿١٨﴾ الكهف ٥

ان کو اس بات کا کچھ علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ (یہ) بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے (اور کچھ شک نہیں کہ) یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے (5:18)

And they say: The Beneficent has taken to Himself a son. (19:88)

وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾
﴿١٩﴾ مريم ٨٨

اور کہتے ہیں رحمن (اللہ) بیٹا رکھتا ہے (88:19)

Assuredly you utter a disastrous thing, (19:89)

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذًا ﴿٨٩﴾
﴿١٩﴾ مريم ٨٩

(ایسا کہنے والو یہ تو) تم بری بات (زبان پر) لاتے ہو (89:19)

Whereby almost the heavens are torn, and the earth is split asunder and the mountains fall in ruins, (19:90)

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ﴿٩٠﴾
﴿١٩﴾ مريم ٩٠

قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارہ پارہ ہو کر گر پڑیں (90:19)

That they ascribe to the (Only One) Beneficent a son, (19:91)

أَنْ دَعَوْا الرَّحْمَنَ وَلَدًا ﴿١٩﴾
﴿١٩ مریم ٩١﴾

کہ انہوں نے اللہ رحمن کے لئے بیٹا تجویز کیا (91:19)

When it is not meet for (the Majesty of) the Beneficent that He should choose a son. (19:92)

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿١٩﴾
﴿١٩ مریم ٩٢﴾

اور اللہ رحمن کو شایاں نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے (92:19)

And they say: The Beneficent has taken to Himself a son. Be He glorified! No, but (those whom they call sons) are honored slaves; (26:26)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الأنبیاء ٢٦﴾

اور کہتے ہیں کہ اللہ رحمن پیٹا رکھتا ہے وہ پاک ہے (اس کا نہ کوئی لڑکا ہے نہ لڑکی) بلکہ (جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں) وہ اس کے عزت والے بندے ہیں (26:26)

They speak not until He has spoken, and they act by His command. (27:27)

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٢٧ الأنبیاء ٢٧﴾

اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے۔ اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں (27:27)

JESUS (PBUH) WAS JUST A MAN SON OF MARY AND ONLY A MESSENGER OF ALLAH (SWT)

كان المسيح عيسى بن مريم بشرا عبد الله ورسوله

حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض ایک انسان مریم کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے

People of the Book! Do not exaggerate in your religion nor utter anything concerning Allah except the truth. The Christ, Jesus son of Mary, was only a messenger of Allah, and His word which, He conveyed to Mary, and a spirit from Him. So believe in Allah and His messengers, and say not "Three". Resist! (it is) better for you! Allah is Only One (unique) Glory to Him (for exalted is He) that He should have a son. His is all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allah is a disposer of the affairs. (171:4)

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلَوْا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلٌ مِّنْ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۖ قَامُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ إِنَّهُمْ خَيْرٌ ۗ إِنَّمَا اللَّهُ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۖ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لِمَ تَقُولُوْنَ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفِيَ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾
﴿١٧١ النساء ١٧١﴾

اے اہل کتاب اپنے دین (کی بات) میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح (یعنی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے بلکہ) اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ (کن سے پیدا شدہ) ہیں جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور (یہ) نہ کہو کہ اللہ تین (ہیں اس اعتقاد سے) باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے۔ اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو جو کچھ آسمانوں میں اور جو پچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اور اللہ ہی کارساز کافی ہے (171:4)

And when the (Jesus) son of Mary is quoted as an example, your folk laughed out, (43:57)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾
﴿٥٧ الزخرف ٥٧﴾

اور جب مریم کے بیٹے (عیسیٰ) کی مثال بیان کی گئی تو تمہاری قوم کے لوگوں نے غل (شور) مچا دیا (57:43)

And they say: Are our gods better, or is he? They raise not the objection except for argument. But they are a contentious folk. (43:58)

وَقَالُوا لَوْلَا إلهتنا خيرٌ أم هو وما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ الزخرف ٥٨﴾

اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ (عیسیٰ)؟ آپ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو (58:43)

How was no more but a mortal on whom We bestowed favour, and We made him a pattern for the Children of Israel. (43:59)

إِنَّهُ هُوَ الْاَعْبَدُ ۗ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرٰٓءِيْلَ ﴿٥٩﴾
﴿٥٩ الزخرف ٥٩﴾

عیسیٰ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لئے ان کو (اپنی قدرت کا) نمونہ بنا دیا (59:43)

And had We willed We could have set among you angels to be viceroys in the earth. (43:60)

وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾
﴿٦٠ الزخرف ٦٠﴾

اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے (69:43)

THE PARABLE OF JESUS'S (PBUH) BIRTH HAS LIKENESS OF CREATION OF ADAM (PBUH)

The case of Jesus with Allah is the same as of Adam. He created him of dust, then He said to him: Be! And he was. (3:59)

(This is) the truth from your Lord (O Muhammad), so be not you of those who waver. (3:60)

More Reference : 15:29 38:72 Page 907

خلق عيسى عليه السلام عند الله تعالى
كخلق آدم عليه السلام

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ
مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾
﴿٣ آل عمران ٥٩﴾

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾
﴿٣ آل عمران ٦٠﴾

والمزيد راجع ١٥ الحجر: ٢٩ ص ٣٨ ٧٢:

عيسى عليه السلام کی پیدائش
حضرت آدم علیہ السلام کی طرح

عسی کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے
پہلے (مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ
ساں ہو گیا (59:3)

یہ بات آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو
آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں (60:3)

مزید حوالہ 29:15 38:72 صفحہ 907

JESUS (PBUH) PROCLAIMED HIMSELF A SERVANT (SLAVE) OF ALLAH (SWT)

The Messiah will never disdain to be a slave of Allah, nor will the closest angels. Whoever disdains His worship and is proud, all such be gathered by Him; (4:172)

They surely disbelieve who say : Allah is the Messiah, son of Mary. The Messiah (himself) said : O Children of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord. Whoso ascribes partners to Allah, for him Allah has forbidden Paradise. His abode is the Fire. For evildoers there will be no supporters. (5:72)

Those of the Children of Israel who went astray were cursed by the tongue of David and of Jesus, son of Mary. That was because they rebelled and used to transgress. (5:78)

He said: I am the servant of Allah. He has given me the Scripture and has appointed me a Prophet, (19:30)

قال عيسى عليه اسلام
في ذاته اني عبد الله

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ
عَنْ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾
﴿٤ النساء ١٧٢﴾

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ
مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عَبْدًا
لِلَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ
النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾
﴿٥ المائدة ٧٢﴾

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ
دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ
كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾
﴿٥ المائدة ٧٨﴾

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي
نَبِيًّا ﴿٣٠﴾
﴿١٩ مريم ٣٠﴾

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہا

سچ کو اس بات سے کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور
مقرب فرشتے (عار رکھتے ہیں) اور جو شخص اللہ کا بندہ
ہونے کو موجب عار سمجھے اور تکبر اور سرکشی کرے تو اللہ
سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا (172:4)

وہ لوگ بلاشبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے
(عیسیٰ) مسیح اللہ ہیں۔ حالانکہ خود مسیح یہود سے یہ کہا
کرتے تھے کہ اے نبی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو
جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی (اور جان رکھو
کہ) جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ اس
پر بہشت حرام کر دے گا۔ اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور
ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (72:5)

جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ
ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ اس لئے کہ
نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے
(78:5)

(بچے نے) کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے
کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے (30:19)

More Reference : 2:116 5:116,117,118 10:68
Page 134 606 603
18:5,6 19:88,92 21:26,27
603,733 603,604 604

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١١٦ ٥ المائدة: ١١٦، ١١٧، ١١٨
١٠ يونس: ٦٨ ١٨ الكهف: ٦٥ ١٩ مريم: ٢٨، ٢٩
٢١ الانبياء: ٢٦، ٢٧

مزید حوالہ 2:116 5:116,117,118 10:68
صفحہ 134 606 603
6,5:18 27,26:21 92,88:19 6,5:18
604 604,603 733,603

JESUS (PBUH) HIMSELF WILL DISCLAIM ALL FALSE AND WILL ACKNOWLEDGE HIMSELF AS MORTAL ON THE JUDGEMENT DAY

سوف يعترف عيسى بتوحيد الله يوم القيامة. ويبطل عقيدة التثليث

روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود توحید کا اقرار کریں گے اور عقیدہ تثلیث کو جھٹلائیں گے

And when Allah will say: O Jesus, son of Mary! Did you say to mankind: Take me and my mother for two gods besides Allah? He says: Be You Glorified! It was not mine to utter that to which I had no right. If I used to say it, then You knew it. You know what is in my mind, and I know not what is in Your mind. Indeed You, only You are the Knower of hidden things. (5:116)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيْ وَآٰلِيَّ الْهَيْمِيْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالِ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾

اور (اس وقت کو بھی یاد رکھو) جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے مجھے کب شایاں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا (کیوں کہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا۔ اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے (116:5))

told to them only that which You commanded me, (saying) : Worship Allah, my Lord and your Lord. I was a witness of them while I dwelt among them, and when You took me You were the Watcher over them. You are Witness over all things. (5:117)

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهٖ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان (کے حالات) کی خبر رکھتا رہا جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھالیا تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے (117:5)

You punish them, they are Your slaves, and if You forgive them (No doubt they are Your slaves). Surely You, only You are the Mighty, the Wise. (5:118)

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾

اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اور اگر بخش دے تو (تیری مربانی ہے) بے شک تو غالب (اور) حکمت والا ہے (118:5)

CONDEMNATION OF TENET OF WORSHIPPING MARY

ال الوهية مريم

حضرت مريم کے حالات ثلاثہ کے نظریہ مريم پرستی کا رد و ماطال

The Messiah, son of Mary, was only messenger, messengers (the like of him) had passed away before him. And his mother was a saintly man. And they both used to eat (earthly) food. See how We make revelations clear for them, and (plain) see how they are turned away! (5:75)

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهٖ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَاٰنَا يَأْكُلِنَ الطَّعَامَ اَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآٰيٰتِ ثُمَّ اَنْظُرْ اَتٰى يُوْفَوْنَ ﴿٧٥﴾

مسیح ابن مریم تو صرف (اللہ کے) پیغمبر تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ (مریم) ایک راست باز عورت تھیں۔ دونوں ماں بیٹا (انسان تھے اور) کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لئے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پھر (یہ) دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں (75:5)

PROPHET MUHAMMAD'S (SAAS) INVITATION TO A CHRISTIANS EMBASSY FOR SOLEMN MEETING FOR MUTUAL IMPRECATION TO PROVE POINT OF TRUTH REGARDING DOGMA OF TRINITY (EXAGGERATION IN JESUS STATUS)

دعوة الرسول محمد ﷺ وفد النصراني إلى المباحلة بشأن غلوهم في المسيح عليه السلام

نبی کریم حضرت محمد ﷺ کی عیسائی وفد کو دعوت مباحلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو آمیز عقائد پر اختلاف و نزاع کو ختم کرنے کیلئے

And anyone who disputes with you concerning him, after the (full) knowledge, which has come to you, say (to him): Let us gather together! We will summon our sons and your sons, and our women, and our selves and your selves, then Let us earnestly pray (to our Lord) and (solemnly) invoke the curse of Allah upon those who lie. (3:61)

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾
﴿٣ آل عمران ٦١﴾

پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں اور آپ کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانوں کو بلا لیں۔ پھر دونوں فریق (اللہ سے) عاجزی کے ساتھ التجا کریں (اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں) (61:3)

This is surely the truth of matter the true narrative. There is no god except Allah, and No doubt Allah is the Mighty, the Wise. (3:62)

إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾
﴿٣ آل عمران ٦٢﴾

یقیناً یہی سچا بیان ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے (62:3)

And if they turn away, then Allah is Aware of those who do mischief. (3:63)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾
﴿٣ آل عمران ٦٣﴾

پھر بھی اگر یہ قبول نہ کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے (63:3)

More Reference : 3:79,80 5:73 28:68
Page 602 602 375
37:180,181,182
602,580,603

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ٧٩، ٨٠، ٧٩ المائدة: ٧٣
٢٨ القصص: ٦٨ ٣٧ الصفات: ١٨٠، ١٨١، ١٨٢
الصفحة ٦٠٢، ٣٧٥، ٦٠٢، ٥٨٠، ٦٠٣

المزيد حوالہ 3:79، 80 5:73 28:68
صفحة 602 602 375
182,181,180: 37
603,580,602

VARIANCE OF SECTS AMONG THE FOLLOWERS OF BIBLE (CATHOLICS - PROTESTANTS - ORTHODOX)

تفرقة أهل الانجيل

نصرانی (اہل انجیل) کی آپس میں فرقہ بندی کیتھولک - پروٹیسٹینٹ - آرتھوڈوکس (بنیاد پرست - قدامت پسند)

And yet, the sects (that follow the Bible) are at variance among themselves (about the nature of Jesus!). Woe, then to all who deny the truth when that awesome Day will appear! (19:37)

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾
﴿١٩ مريم ٣٧﴾

پھر (اہل کتاب نصرانی) فرقوں نے باہم (عیسیٰ کی حقیقت کے بارے میں) اختلاف کیا۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے (37:19)

More Reference : 5:14 Page 601

والمزيد راجع ٥ المائدة: ١٤ الصفحة ٦٠١

المزيد حوالہ 5:14 صفحه 601

FACTIONS AMONG JEWS AND CHRISTIANS DIFFERENT SECTS HOLDING DIVERGENT VIEWS

خلافات اليهود و النصراني وتفرقتهم الفكرية

یہود و نصرانی کے باہمی اختلافات اور ان کی نظریاتی فرقہ بندی

For Detail Consult : 2:148 16:124 43:65,66
Page 468, 600

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٤٨ ١٦ النحل: ١٢٤
٤٣ الزخرف: ٦٥، ٦٦ الصفحة ٤٦٨، ٦٠٠

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:148 16:124 43:65,66
صفحة 600, 468

COMPARATIVE STUDY OF OTHER RELIGIONS

درائستہ مقارنہ للادیان

تقابل الدیان - مذاہب کا تقابلی جائزہ

EVERY PRECAUTION IS NECESSARY AGAINST GRAFTING OR TEMPERING WITH THE CODE OF ISLAMIC RELIGION DURING THE COURSE OF COMPARATIVE STUDY OF OTHER SECTS AND RELIGIONS

BE STEADFAST IN ISLAM AND DO NOT TEMPT TO ANY OTHER SECT

and believe not except in one who follows your religion--Say (O Muhammad): the guidance is Allah's guidance--that anyone is given the like of that which is given to you or that they may argue with you in the presence of your Lord. Say (O Muhammad): Surely the bounty is in Allah's hand. He bestows it on whom He wills. Allah All Embracing, All Knowing. (73)

Say: I fear, if I rebel against my Lord, the retribution of an Awful Day. (6:15)

Say: I am forbidden to worship those on whom you call instead of Allah. Say: I will not follow your desires, for then should I go astray and I should not be of the rightly guided. (6:56)

and (He commands you, saying): This is My Straight path, so follow it. Follow not other ways, lest you be turned from His way. This He has ordained for you, that you may ward off (evil). (6:153)

Say: As for me, my Lord has guided me to a straight path, a right religion, the community of Abraham, the upright, who was not among the idolaters. (6:161)

And be not you of those who deny the revelations of Allah, for then you will (turn out to) be the loser. (95)

لا یحتاج الإسلام إلى الترفیع بالأدیان الأخری

لا یمكن عقد التفاهم بین الإیمان و الکفر

وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾
﴿٣ آل عمران ٧٣﴾

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾
﴿٦ الانعام ١٥﴾

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَأَتَّبِعُهُمْ أَهْوَاءَهُمْ قَدْ ضَلَّتْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْهَادِيْنَ ﴿٥٦﴾
﴿٦ الانعام ٥٦﴾

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَعْنَةً تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾
﴿٦ الانعام ١٥٣﴾

قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾
﴿٦ الانعام ١٦١﴾

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾
﴿١٠ يونس ٩٥﴾

دیگر مذاہب کے تقابلی جائزہ کے دوران دین اسلام کو ہر قسم کی پیوند کاری سے محفوظ رکھنے کے لئے انتہائی احتیاط کی ضرورت

دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم اور دوسرے عقائد سے رغبت کی ممانعت

اور اپنے دین پر چلنے والوں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا (اے پیغمبر) کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے (وہ بھی کہتے ہیں) یہ بات بھی (نہ ماننا) کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا یہ کہ وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے یہ بھی کہہ دیجئے کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ وسعت والا (اور علم والا ہے) (73:3)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے (15:6)

آپ (کفار سے) کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا ایسا کروں تو بے راہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں (56:6)

اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور راستوں پر نہ چلنا کہ (ان پر چل کر) اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پر ہیزگار بنو (153:6)

آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھادیا ہے (یعنی دین صحیح) مذہب ابراہیم کا جو ایک (اللہ) ہی کی طرف کے تھے۔ اور مشرکوں میں سے نہ تھے (161:6)

اور نہ ان لوگوں میں ہوں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں نہ ہو جائیں (95:10)

Say (O Muhammad): O mankind! If you are in doubt of my religion, then (know that) I worship not those whom you worship instead of Allah, but I worship Allah Who causes you to die, and I have been commanded to be of the believers. (10:104)

And, (O Muhammad) set your purpose resolutely for religion, as a man by nature upright, and be not of those who ascribe partners (to Allah). (10:105)

Say: This is my Way; I call on Allah with sure knowledge, I and whosoever follows me Glory be to Allah! and I am not of the idolaters. (12:108)

Thus We have revealed it, a decisive utterance in Arabic and if you should follow their desires after that which has come to you of knowledge, then truly you would have no protecting friend nor defender against Allah. (13:37)

Set not up with Allah any other god (O man) lest you sit back reproved, forsaken. (17:22)

This is (part) of that wisdom which your Lord has inspired you (O Muhammad). And set not up with Allah any other god, lest you be cast into hell, reproved, abandoned. (17:39)

And they indeed strove hard to beguile you (Muhammad) away from that which We have inspired you, that you should invent other than it against Us; and then they would have accepted you as a friend. (17:73)

And if We had not made you wholly firm you might almost have inclined to them a little. (17:74)

Then had We made you taste a double (punishment) of living and a double (punishment) of dying, then had you found no helper against Us. (17:75)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿١٣٣﴾

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَكْنُوزًا وَلَا تَخْذُولًا ﴿٢٢﴾

ذَلِكَ بِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَكْثُومًا مَدْحُورًا ﴿٣٩﴾

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا تَخْذُولُ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

إِذَا لَدَقْنَاكَ خِفَاةَ الْحَيَاةِ وَخِفَاةَ الْمَمَاتِ تَلْمِزًا لَمْ نَجِدْ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

(اے پیغمبر) آپ کہہ دیجئے کہ لوگو! اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو (سن رکھو کہ) جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں (104:10)

اور یہ کہ (اے محمدؐ سب سے) آپ یسوی ہو کر دین (اسلام) کی پیروی کئے جائیں اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہوں (105:10)

آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے۔ میں اور میری اتباع کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں (108:12)

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے۔ اور اگر آپ علم (ودانش) آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلیں گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی چانے والا (37:13)

اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے (22:17)

(اے پیغمبر) یہ ان (ہدایتوں) میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں آپ کی طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ (ایسا کرنے سے) ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیئے جاؤ (39:17)

اور اے پیغمبر جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے یہ (کافر) لوگ آپ کو اس سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہمارے بارے میں بنا لو۔ اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے (73:17)

اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے (74:17)

پھر تو ہم بھی آپ کی زندگی (دنیا) میں بھی دوہرا عذاب اور مرنے پر بھی دوہرا عذاب کرتے۔ پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے (75:17)

And let them not divert you from the revelations of Allah after they have been sent down to you but invite (mankind) to your Lord and be not of those who ascribe partners (to Him). (28:87)

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ
أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾
﴿٢٨ القصص ٨٧﴾

اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں (کی تبلیغ) سے روک نہ دیں بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف بلا تے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں (87:28)

So have patience (O Prophet)! Allah's promise is true, and let not those who have no certainty make you impatient. (30:60)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ
﴿٣٠ الروم ٦٠﴾

پس آپ صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور (دیکھو) جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو بے صبر نہ بنا دیں (60:30)

O Prophet! Keep your duty to Allah and obey not the disbelievers and the hypocrites. Indeed Allah is powerful, Wise: (33:1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾
﴿٣٣ الاحزاب ١﴾

اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہانہ ماننا۔ بے شک اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (1:33)

And follow that which is inspired in you from your Lord. Indeed Allah is aware of what you do: (33:2)

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٢﴾

اور جو (کتاب) آپ کو آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کریں بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے (2:33)

And incline not to the disbelievers and the hypocrites. Disregard their anxious talk, and put your trust in Allah. Allah is sufficient as Trustee. (33:48)

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٤٨﴾

اور کافروں اور منافقوں کا کہانہ ماننے اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اور اللہ ہی کارساز کا کافی ہے (48:33)

Say (O Muhammad): I am commanded to worship Allah, making religion pure for Him only). (39:11)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾
﴿٣٩ الزمر ١١﴾

آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں (11:39)

And I am commanded to be the first of those who surrender (to Him). (39:12)

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾
﴿٣٩ الزمر ١٢﴾

اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول (فرماں بردار) مسلمان بنوں (12:39)

Say: If I should disobey my Lord, I fear the doom of a tremendous Day. (39:13)

قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾
﴿٣٩ الزمر ١٣﴾

آپ فرمادیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے (13:39)

Say: I worship Allah, making my religion pure for Him (only). (39:14)

قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾
﴿٣٩ الزمر ١٤﴾

آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے دین کو (شرک سے) خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں (14:39)

Say (O Muhammad): I am forbidden to worship those to whom you cry besides Allah since there have come to me clear proofs from my Lord, and I am commanded to surrender to the Lord of the Worlds. (39:66)

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ
رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾
﴿٤٠ المؤمن ٦٦﴾

(اے محمد ان سے) کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پوجا کروں (اور میں ان کی کیوں کر پوجا کروں) جب کہ میرے پاس میرے پروردگار (کی طرف) سے کھلی دلیلیں آچکی ہیں اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کا تابع فرمان ہو جاؤں (66:40)

And now We have set you (O Muhammad) on a clear road of (our) commandment; so follow it, and follow not the whims of those you know not. (45:18)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾
﴿٤٥ الجاثية ١٨﴾

پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے پر (قائم) کر دیا تو اسی (راستے) پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں (18:45)

They can avail you nothing against Allah. And as for the wrongdoers, some of them are friends of others; and Allah is the Friend of those who ward off (evil). (45:19)

إِنَّكُمْ لَنْ يُّغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾
﴿٤٥ الجاثية ١٩﴾

یہ اللہ کے سامنے آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اور اللہ پر ہیزگاروں کا دوست ہے (19:45)

And when the slave of Allah stood up in prayer to Him, they crowd on him, almost stifling. (72:19)

وَإِنَّكَ لَمِنَ الْقَامِرِينَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ
عَلَيْهِ لِبَدًا ۗ ﴿١٩﴾
﴿٧٢ الجن ١٩﴾

اور جب اللہ کے بندے (محمدؐ) اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافران کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے (19:72)

Say (to them, O Muhammad): I pray to Allah only, and ascribe to Him no partner. (72:20)

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾
﴿٧٢ الجن ٢٠﴾

کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا (20:72)

Say: I do not control hurt or benefit for you. (72:21)

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾
﴿٧٢ الجن ٢١﴾

یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا (21:72)

Say: None can protect me from Allah, nor can I find any refuge besides Him. (72:22)

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ
أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَجِدًا ۗ ﴿٢٢﴾
﴿٧٢ الجن ٢٢﴾

یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ سے مجھے کوئی چاہ نہیں سکتا۔ اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ بھی نہیں پاسکتا ہوں (22:72)

NO COMPROMISE BETWEEN
THE IDOLATER (DISBELIEVER)
AND THE MONOTHEIST

الإسلام والنبات على الإسلام
واللهي من الرعية الى العائد الناطق

ایمان اور کفر میں کوئی
سمجھوتہ نہیں ہو سکتا

THE HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
REJECTED THE PROPOSAL OF DISBELIEVERS
TO GRAFT OR TEMPER ANY CODE OF
THE RELIGION OF ISLAM IN LIEU OF
THEIR TEMPTATIONS TO JOIN

إبَاء رسول الله محمد ﷺ
بعقد التفاهم بين الكفار على تحريف
في دين الله

دین اسلام میں تحریف کے کسی سمجھوتے سے
رسول کریم حضرت محمد ﷺ کا صاف اور واضح انکار

Say: O disbelievers! (109:1)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾
﴿١٠٩ الكافرون ١﴾

(اے پیغمبر منکران اسلام سے) کہہ دیجئے اے کافرو! (1:109)

I worship not that which you worship; (109:2)

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾
﴿١٠٩ الكافرون ٢﴾

جن (بتوں) کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا (2:109)

Nor you worship what I worship. (109:3)

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾
﴿١٠٩ الكافرون ٣﴾

اور جس اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے (3:109)

And I will not worship what you worship. (109:4)

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مِمَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾
﴿١٠٩ الكافرون ٤﴾

اور (میں) پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں پوجا کرنے والا نہیں ہوں (4:109)

Nor will you worship what I worship. (109:5)

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾
﴿١٠٩ الكافرون ٥﴾

اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے (معلوم ہوتے) ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں (5:109)

To you your religion, and to me my religion. (109:6)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾
﴿١٠٩ الكافرون ٦﴾

تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے۔ (6:109)

**DEALINGS WITH - IDOLATERS
DISBELIEVERS NON BELIEVERS
MIS BELIEVERS AND UNBELIEVERS**

العلاقات بالكفار

کفار سے تعلقات

**BELIEVERS SHOULD NOT ENLIST
UNBELIEVERS AS PATRON UNLESS
SECURITY DEMANDS**

لايجوز توطيد العلاقات بالكفار
إلا وقاية من شرورهم

کفار کے ساتھ نظریہ
حفاظت کی حد تک تعلق کی اجازت

Let not the believers take disbelievers for their friends in preference to believers. Whoever does that, has nothing to do with Allah unless (it be) that you should take precautions against them, taking (as it were) security. Allah warns you (only) of Himself. To Allah is the final goal. (3:28)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَكَيْسَ مِنَ اللَّهِ
فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً مَوْجِبَةً لَكُمْ
اللَّهُ نَفْسًا طُورًا إِلَى اللَّهِ الْمَصِيدُ ﴿٢٨﴾
﴿٣ آل عمران ٢٨﴾

مومنوں کو چاہئے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست (رفیق۔ مددگار) نہ بنائیں۔ اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں۔ ہاں اگر اس طریق سے تم ان (کے شر اور ظلم) سے بچنے کے لئے ایسا طرز عمل اختیار کر لو (تو مضائقہ نہیں) اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اور اللہ ہی کی طرف (تم کو) لوٹ کر جانا ہے (28:3)

And they observe towards a believer neither pact nor honour. These are they who are transgressors. (9:10)

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَايَةَ اللَّهِ
وَأُولِيكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾
﴿٩ التوبه ١٠﴾

یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں (10:9)

**AVOID INTIMATE ASSOCIATION WITH
UNBELIEVERS AND NEITHER PATRONIZE NOR
ACCEPT THEM AS SPONSOR**

النهي عن مد يد الصداقة و الولاء
الى الكافرين

کفار سے دوستی کی ممانعت

you who believe! Choose not disbelievers as (your) friends in face of believers. Would you give Allah a clear warrant against you? (144)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَسَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾
﴿٤ النساء ١٤٤﴾

اے اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح صحبت دے دو؟ (144:4)

you who believe! Choose not as friends such of those who received the Scripture before you, and of the disbelievers, as make a jest and sport of your religion. But heed Allah if you are true believers. (57)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ آمَنُوا
دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَا عِبًا مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾
﴿٥ المائدة ٥٧﴾

اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں انہیں اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو (57:5)

you see many of them making friends with those who disbelieve. rely ill for them is that which they themselves send on before them : that Allah will be angry with them and in the torment they will abide. (80)

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَبْسُ
مَأْقَدًا مِمَّا لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾
﴿٥ المائدة ٨٠﴾

آپ ان میں بہت سے آدمی دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں جو کام انہوں نے آگے کے لئے کیا ہے وہ بے شک برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناخوش ہوا اور یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے (80:5)

If they believed in Allah and the Prophet and that which is revealed to him, they would not choose them as their friends. But many of them are of evil conduct. (5:81)

Have you not seen those who take as friends a folk with whom Allah is angry? They are neither of you nor of them, and they swear a false oath knowingly. (58:14)

Allah has prepared for them a dreadful doom. Evil indeed is that which they are accustomed to do. (58:15)

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾

الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ مِمَّنْ كَرِهَ اللَّهُ لِيُخَالِفُوا بِمَا كَرِهَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُعْتَقِدِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٥٨﴾

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

اور اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور پیغمبر پر اور اس کتاب پر جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی تو کفار کو کبھی دوست نہ بناتے لیکن ان میں زیادہ لوگ ایمان سے خارج ہی ہیں۔ (81:5)

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہو۔ وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں۔ اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں (14:58)

اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے (15:58)

More Reference : 4:140 6:68 60:13
Page 217, 776

واللہ اعلم بالصواب
الممتحنة: ١٣ الصفحة ٢١٧، ٧٧٦

مزید حوالہ 4:140 6:68 60:13
صفحہ 217, 776

BELIEVERS SHOULD NOT BE ON TERMS OF SECRET INTIMACY WITH THE ENEMIES OF FAITH

O you who believe! Choose not My enemy and your enemy as friends. Do you offer them affection when they disbelieve in that truth which has come to you, they exile the messenger and you because you believe in Allah, your Lord? If you have come forth to strive in My way and seeking My good pleasure, (show them not friendship). Do you show affection to them in secret, when I am best Aware of what you hide and what you proclaim? And whosoever does it among you, he has strayed from the right way. (60:1)

If they overcome you, they will be your enemies and will their hands and their tongues towards you with evil (intent), and they long desire for you to disbelieve. (60:2)

لا يؤسس مؤمن بناء الصداقة والوداد مع كافر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا أَعْدَاءً وَيَسْطُورُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْنَنَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ يَكْفُرُوا ﴿٦٠﴾

کوئی مومن کسی کافر سے (تعلق مودت) رازدارانہ اور خفیہ تعلق قائم نہ کرے

مومنو! اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لئے (کے سے) نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ (دین) حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں اور اس کے باعث کہ تم اپنے پروردگار رب تعالیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علی الاعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا (1:60)

اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لئے تم پر دست درازی بھی کریں اور زبان درازی بھی اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ (2:60)

DO NOT TAKE DISBELIEVER AS YOUR FRIEND - EVEN IF HE IS YOUR NEAREST KITH AND KIN OR PARENTS EVEN

O you who believe! Choose not your fathers and your brothers as friends if they take pleasure in disbelief rather than faith. Whoso of you takes them as friends, such are wrong doers. (9:23)

لا توثقوا عری الصداقة بالكفار ولو كانوا من ذوی القربی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّخِذْهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

کافر چاہے جس قدر بھی عزیز رشتہ دار ہو اس سے دوستی نہ رکھو (خواہ والدین ہی کیوں نہ ہوں)

اے اہل ایمان! اگر تمہارے (ماں) باپ اور (بہن) بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو۔ اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں (23:9)

You will not find folk who believe in Allah and the Last Day loving those who oppose Allah and His messenger: even though they be their fathers or, their sons or their brothers or their clan. As for such, He has engraved faith upon their hearts and has assisted them with a spirit from Him, and He will bring them into Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide. Allah is well pleased with them, and they are well pleased with Him. They are Allah's party. Is it not Allah's party who are the successful? (58:22)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٨﴾

جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان (پتھر پر لکیر کی طرح) تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے۔ اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے (اور) سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے (22:58)

DO NOT PREFER THE COMPANY OF DISBELIEVERS FOR THE SAKE OF HONOUR OR TO GAIN PRESTIGE

Those who enlist disbelievers as their sponsors instead of believers! Seek (to gain) prestige through them? All the honour appertains to Allah. (4:139)

لا تبتغوا العزة عند الكفار باكتساب صداقتهم

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ يُبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

کفار کی مجالس (محفل) میں چاہے جتنی بھی عزت ملے۔ نہ جاؤ

جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے (4:139)

DO NOT MAKE ANY NON BELIEVER AS YOUR INTIMATE FELLOW

you who believe! Take not for intimates others than your own fellows, who would spare no pains to ruin you; they love to hamper you. Hatred is revealed by (the tolerance of) their mouths, but that which their hearts hide is greater. We have made plain for you the verses if you will understand. (And use your reason). (3:118)

لا يجعلوا الكفار أصحاب أسراركم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

کافر کو رازدار نہ بناؤ

مومنو! کسی غیر (مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا یہ لوگ تمہاری خرابی (اور فتنہ انگیزی کرنے) میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ (جس طرح ہو سکے) تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور جو (کینے) ان کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنادی ہیں۔ (3:118)

IDOLATERS AND JEWS ARE STRONGEST AMONG MANKIND IN ENMITY TO BELIEVERS

you will find the most violently hostile people towards those who believe are the Jews and those who associate (others) with Allah. (5:82) PART

أشد الناس عداوة للمسلمين هم المشركون واليهود

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴿٥٨﴾

مشرک اور یہود مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں

تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے آپ ان یہود اور مشرکین کو پائیں گے۔ (5:82) جزو

DELIGHT AND HAPPINESS OF BELIEVERS, ANNOY THE IDOLATERS AND PEOPLE OF SCRIPTURE

Neither those who disbelieve along the People of the Scripture nor the idolaters love that there should be sent down to you any good thing from your Lord. But Allah chooses for His mercy whom He wills, and Allah is of Infinite bounty. (2:105)

رفاهة المسلمين تسوء الكفار وأهل الكتاب

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

مسلمانوں کی آسودگی کفار اور اہل کتاب کو بری لگتی ہے

جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر (برکت) نازل ہو اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے (2:105)

Whenever something good happens to you, it annoys them, while if any evil happens to you they delight in it. If you patiently do your duty their plotting will not harm you in any way. Allah is Surrounding what they do. (3:120)

إِنْ تَسِسْكُمْ حَسَنَةً تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يُضْرِكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر تم تکلیفوں کو برداشت اور (ان) سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کئے ہوئے ہے (120:3)

JEWES AND CHRISTIANS ACT AS FRIENDS AND SPONSORS TO EACH OTHER

اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض

یہود و نصاریٰ ایک دوسرے کے دوست ہیں

O you who believe! Take not the Jews and Christians as friends. They are friends one to another. He among you who takes them as friends is (one) of them. Indeed Allah guides not the wrongdoing folk. (5:51)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہیں میں سے ہو گا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (51:5)

DEALINGS WITH PEOPLE OF SCRIPTURE

العلاقات بأهل الكتاب

اہل کتاب سے تعلقات

Allah does not forbid you to act considerately towards those who have never fought against you on account of religion and have not drove you out from your homes, nor (forbids you) that you should show them kindness and deal justly with them. Allah loves the fair-minded. (60:8)

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا معاملہ کرنے کی ہدایت جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (8:60)

For Detail Consult : 5:5 Page 503/518 Chapter of dealings with people of Scripture Page 587,580

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٥ الصفحة ٥٠٣/٥١٨ باب العلاقات بأهل الكتاب الصفحة ٥٨٠، ٥٨٧

تفصیل کیلئے دیکھئے 5:5 صفحہ 518/503 باب اہل کتاب سے تعلقات صفحہ 587,580

PROPHET MUHAMMAD'S (SAAS) INVITATION TO A CHRISTIANS EMBASSY FOR SOLEMN MEETING FOR MUTUAL IMPRECATION TO PROVE POINT OF TRUTH REGARDING DOGMA OF TRINITY (EXAGGERATION IN JESUS STATUS)

دعوة الرسول محمد ﷺ وفد النصارى إلى المباحلة بشأن غلوهم في المسيح عليه السلام

نبی کریم حضرت محمد ﷺ کی عیسائی وفد کو دعوت مباحلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو آمیز عقائد پر اختلاف و نزاع کو ختم کرنے کیلئے

More Reference : 3:79,80 5:73 28:68 Page 602 602 375 37:180,181,182 602,580,603

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ٨٠، ٧٩، ٥ المائدة: ٧٣، ٢٨ القصص: ٦٨، ٣٧ الصافات: ١٨٠، ١٨١، ١٨٢ الصفحة ٦٠٢، ٣٧٥، ٦٠٢، ٥٨٠، ٦٠٣

مزید حوالہ صفحہ 68:28 73:5 80,79:3 375 602 602 182,181,180:37 603,580,602

ذہبی فرقہ داریت

الشرفۃ فی الدین

DISSENSION IN RELIGION

ذہبی پیشوائیت (اجارہ داری)
کے جنون کا پس منظر

خلفیہ جنون السیطرة الدينية

لوگوں میں مذہبی اختلافات کی ابتدا
کتب سماویہ کے معنی اور تفاسیر میں اختلاف
اور ان کے متن میں تحریف کی وجہ سے ہوئی

بدأ الاختلاف فی الدین بسبب التحریف
اللفظی والمعنوی فی کتب السماویة

(پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا (لیکن وہ آپس
میں اختلاف کرنے لگے) تو اللہ نے (ان کی طرف)
بشارت دینے والے اور ڈرسانے والے پیغمبر بھیجے اور ان
پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ
اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے (اور اس
میں اختلاف بھی ان ہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی
تھی باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آچکے تھے
(اور اختلاف انہوں نے صرف) آپس کی ضد سے
(کیا) تو جس امر (حق) میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ
نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھادی اور اللہ
جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے (213:2)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ
النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكُتُبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا
اختلفوا فيه من الحقِّ بإذنه والله يهدي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾
البقرة ٢١٣

اور (سب) لوگ (پہلے) ایک ہی امت (یعنی
ایک ہی ملت پر) تھے پھر جدا جدا ہو گئے۔ اور اگر ایک
بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے طے ہو
چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے
ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا (19:10)

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾
يونس ١٩

اور یہ تمہاری جماعت (حقیقت میں) ایک ہی
جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے
ڈرو (52:23)

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاتَّقُونِ ﴿٥٧﴾
المؤمنون ٥٢

اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم (حق)
آچکنے کے بعد آپس کی ضد سے (ہوئے ہیں) اور اگر
تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک
کے لئے بات قرار نہ پاچکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا
جاتا۔ اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث
ہوئے وہ اس (کی طرف) سے شبہ کی الجھن میں
(پھنسے ہوئے) ہیں (14:42)

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ
مُريبٍ ﴿٤٢﴾
الشورى ٤٢

And gave them plain commandments. And they differed not until after the knowledge came to them, through rivalry among themselves. Your Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ. (45:17)

وَاتَيْنَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾
﴿٤٥ الجاثية ١٧﴾

اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد سے کیا بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا (17:45)

More Reference : 42:13 11:110 Page 93,756

وللمزيد راجع ٤٢ الشورى: ١٣ ١١ هود: ١١٠

مزید حوالہ 13:42 110:11 صفحہ 756,93

CONDEMNATION OF SECTARIANISM - DISPUTATION IN RELIGION OF ISLAM

And be you not as those who separated and disputed after the clear proofs had come to them. For such there is an awful doom, (3:105)

شناعۃ التفرقة او الجدال فی الدین

دین اسلام میں فرقہ بندی کی مذمت

As for those who sunder their religion and become schismatic, you have no concern with them at all. Their case will go to Allah, Who then will tell them what they used to do. (6:159)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾
﴿٣ آل عمران ١٠٥﴾

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو روشن دلیلیں آجانے کے بعد بھی تفرقہ کرنے لگے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو (قیامت کے دن) بڑا عذاب ہوگا (105:3)

And they have broken their religion (into fragments) among them, (yet) all are returning to Us. (21:93)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ تَمَرٌ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾
﴿٦ الانعام ١٥٩﴾

جن لوگوں نے اپنے دین میں (بہت سے) راستے نکالے اور کئی کئی فرقتے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام (تعلق) نہیں ان کا کام اللہ کے سپرد ہے پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو (سب) بتائے گا (159:6)

Or He causes them to perish on account of that which they have earned And He forgives much-- (42:34)

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلَّ إِلَهٍ جَعَلُوا لِنَفْسِهِمْ ﴿٩٣﴾
﴿٢١ الانبياء ٩٣﴾

مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں (مگر) سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں (93:21)

And those who argue concerning Our revelations may know they have no refuge. (42:35)

أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٤٢﴾
﴿٤٢ الشورى ٣٤﴾

یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے۔ اور بہت سے قصور معاف کر دے (34:42)

PEOPLE HAVE CARVED UP THEIR FAITH INTO CARTELS AMONG THEMSELVES

تقطیع الدین إلى المذاهب المختلفة

دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مختلف مذاہب میں بانٹ لیا گیا

EACH FACTION REJOICES IN ITS FRAGMENT OF BELIEF

كل حزب يزعمون أنهم على صواب

ہر فرقہ اپنے اعتقاد پر خوش فہمی میں مبتلا ہے

And if your Lord willed, He surely would have made mankind one nation, yet they cease not differing. (11:118)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾
﴿١١ هود ١١٨﴾

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے (118:11)

But they (mankind) have carved up their religion among them into sects, each sect rejoicing in its tenets. (23:53)

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٥٣﴾

پھر انہوں نے آپس میں اپنے دین کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو کچھ جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے (53:23)

So leave them in their error till a time. (23:54)

Of those who split up their religion and became schismatic, each sect exulting in its tenets. (30:32)

Core Reference : Page 599,859

ALLAH (SWT) WILL JUDGE BETWEEN THE PEOPLE ON THE RESURRECTION DAY CONCERNING ANYTHING THEY MAY HAVE BEEN DIFFERING OVER

ALLAH (SWT) WILL CERTAINLY MAKE CLEAR (THE TRUTH OF) CONFLICTS WHEREIN THE PEOPLE USE TO DIFFER

And they say: None enters Paradise unless he be a Jew or a Christian. These are their own false desires. Say: Bring your proof (of what you say) if you are truthful. (2:111)

And the Jews say the Christians follow nothing (true), and the Christians say the Jews follow nothing (true); yet both are readers of the Scripture. Even thus speak like those who know not. Allah will judge between them on the Day of resurrection concerning that wherein they differ. (2:113)

Those who believe (this revelation), and those who are Jews, and the Sabaeans and the Christians and the Magians and the idolaters-- Allah will decide between them on the Day of resurrection. Allah is Witness over all things. (22:17)

Our Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ. (32:25)

O Allah! Creator of the heavens and the earth! Knower of the invisible and the visible! You will judge between Your slaves concerning that wherein they used to differ. (39:46)

Reference : 6:136,165 16:92 22:67,68,69 32:25,39,40 Page 284, 373, 374, 734, 737

فَذَرَّهُمْ فِي غَيْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾
﴿٢٣ المومنون ٥٤﴾

مِنَ الَّذِينَ فَزَعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۗ كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونَ ﴿٣٢﴾
﴿٣٠ الروم ٣٢﴾

والمزيد راجع الصفحة ٨٥٩،٥٩٩

اللہ یحکم بین الناس یوم القيامة
فیما كانوا فیہ یختلفون

یبین اللہ حقیقة الاختلاف یوم القيامة

وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصْرًا ۗ تِلْكَ اٰمَاتُهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾
﴿٢ البقرة ١١١﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيْ عَلَى شَيْءٍ وَّوَقَالَتِ النَّصْرِيْ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتٰبَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ فَاَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِیْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾
﴿٢ البقرة ١١٣﴾

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِیْنَ وَالنّٰصْرِيْ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شٰهِيْدٌ ﴿١٧﴾
﴿٢٢ الحج ١٧﴾

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِیْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾
﴿٣٢ السجدة ٢٥﴾

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشّٰهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِیْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾
﴿٣٩ الزمر ٤٦﴾

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ١٦٥، ١٣٦ ١٦ النحل: ٩٢ ٢٢ الحج: ٦٧، ٦٨، ٦٩ ٣٩ الزمر: ٤٠، ٣٩

توان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو (54:23)

(اور نہ) ان لوگوں میں (ہونا) جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور (خود) فرتے فرتے ہو گئے۔ سب فرتے اسی سے خوش ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے (32:30)

المزيد حوالہ صفحہ 859,599

دین میں فرقہ بندی اور اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت خود کرے گا

روز قیامت اختلافات کی حقیقت واضح کر دی جائے گی

اور (یہودی اور عیسائی) کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں (اے پیغمبر ان سے) کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو (2:111)

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی راستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی راستے پر نہیں۔ حالانکہ وہ کتاب (الہی) پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو (کچھ) نہیں جانتے (یعنی) مشرک تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا (2:113)

جو لوگ مومن (یعنی مسلمان) ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک اللہ ان (سب) میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بیشک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے (22:17)

بلاشبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا (25:32)

کہہ دیجئے کہ اے اللہ (اے) آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے (اور) پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا (39:46)

المزيد حوالہ 6:136,165 16:92 22:67,68,69 32:25,39,40 Page 284, 373, 374, 734, 737

**TROOPS OF REJECTORS FROM EVERY NATION
WILL BE PARADED FORTH (KEPT IN RANK)**

And (remind them of) the Day when We shall gather out of every nation a host of those who denied Our revelations, and they will be set in array; (27:83)

Till, when they come (before their Lord), He will say: Did you deny My revelations when you could not compass them in knowledge, or what was it that you did? (27:84)

And the Word will be fulfilled concerning them because they have done wrong, and they will be unable to speak. (27:85)

**SECTARIANS ARE LIFELESS
LIKE DEAF, DUMB AND BLIND**

You cannot make the dead to hear, nor can you make the deaf to hear the call when they have turned to flee; (27:80)

Nor can you lead the blind out of their error. You can make anyone to hear, except those who believe Our revelations and who have surrendered. (27:81)

**MISLEADING NATIONS
AND THEIR ACCOMPLICES WILL TASTE THE
CHASTISEMENT, BECAUSE OF THEIR EARNINGS**

He will say: Enter into the Fire among nations of the jinns and humankind who passed away before you. Every time a nation enters, it curses its sister (nation) till they have all been made to follow one another the last of them will say to the first of them: Our Lord! These led us astray, so give them double torment of the Fire. He will say for each one there is double (torment), but you know not. (7:38)

سيحشر فوج من كل أمة
من المكذبين بآيات الله

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾
﴿٢٧ النمل ٨٣﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَقَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ
تَحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آذًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾
﴿٢٧ النمل ٨٤﴾

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا
يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾
﴿٢٧ النمل ٨٥﴾

المتفرقون كالموتى والصم والعمى

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ
إِذَا وَلَوْ أَمْدُ بِرِينَ ﴿٨٠﴾
﴿٢٧ النمل ٨٠﴾

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَّتِّهِمْ إِنْ
تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾
﴿٢٧ النمل ٨١﴾

مصير الأمم الضالة يوم القيامة

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ
لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَ كُوفِيهَا جَمِيعًا
قَالَتْ أَخْرِبْهُمْ وَلَا يُولَهُمْ رَبَّنَا هؤُلَاءِ أَضَلُّونَا
فَأْتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ
ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
﴿٧ الاعراف ٣٨﴾

قیامت کے دن ہر امت کے منکرین کی
جماعت بندی کی جائے گی

اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں
گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے تو سب کے
سب الگ کر دیئے جائیں گے (83:27)

یہاں تک کہ جب (سب) آجائیں گے تو (اللہ)
فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو کیوں جھٹلایا تھا جب
کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا تم کیا کرتے تھے؟
(84:27)

اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ
(عذاب) پورا ہو کر رہے گا وہ بول بھی نہ سکیں گے
(85:27)

دین میں فرقہ بندی کرنے والے مردوں کو گنوں
بہروں اور اندھوں کی مانند ہیں

کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو (بات) نہیں سنا سکتے
ہو اور نہ بہروں کو جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں
آواز سنا سکتے ہیں (80:27)

اور نہ اندھوں کو گمراہی سے (نکال کر) راستہ دکھا
سکتے ہو تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان
لائے ہیں اور وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں (81:27)

گمراہ عقائد گروہوں کا حشر روز قیامت

تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم
سے پہلے ہو گزری ہیں ان ہی کے ساتھ تم بھی داخل
جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت (وہاں جا داخل
ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت) پر لعنت کرے
گی یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں
گے تو پچھلی جماعت پہلی کے بارے میں کہے گی کہ
اسے پروردگار ان ہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو ان
کو دوزخ کی آگ کا دگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا کہ تم
سب کو دو گنا (عذاب دیا جائے گا) مگر تم نہیں جانتے
(38:7)

and the first of them say to the last of them : You were no whit better than us, so taste the doom for what you used to earn. (7:39)

وَقَالَتْ أُولَٰهُمُ لِأَخْرَأَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾
﴿١٧ الاعراف ٣٩﴾

اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت (فوقیت) نہ ہوئی۔ توجو (عمل) تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو (39:7)

Core Reference : 43:65,66 Page 600

وللمزيد راجع ٤٣ الزخرف: ٦٦،٦٥: الصفحة ٦٠٠

مزید حوالہ 66,65:43 صفحہ 600

SECTARIANISM (DISSENSION IN RELIGION) CAN INVITE CALAMITY FROM ALLAH (SWT)

He is able to send punishment on you from above, or beneath your feet, or to bewilder you with dissension and make you taste the ganny one of another. See how We play the revelations so that they understand. (6:65)

التفرقة والشفاق عذاب من الله

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُزَيِّقَ بَعْضَكُمْ بِأَسْ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾
﴿٦ الانعام ٦٥﴾

فرقہ بندی اللہ کا عذاب ہے

کہہ دو کہ وہ (اس پر بھی) قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے (سے لڑا کر آپس) کی لڑائی کا مزا چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں (65:6)

USING MOSQUES FOR WISHFUL BELIEFS IS WICKEDNESS

Who does greater wrong than who forbids the approach to the sanctuaries of Allah lest His name should be mentioned therein and gives for their ruin? As for such, it is never meant that they should enter them except in fear. Theirs in this world is ignominy and theirs in hereafter is an awful doom. (114)

استعمال المساجد للتفرقة ظلم

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُ لَّهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾
﴿٢ البقرة ١١٤﴾

مساجد کا فرقہ واریت کی بنیاد پر استعمال ظلم ہے

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کئے جانے سے منع کرے اور انکی ویرانی کی کوشش کرے (کا باعث بنے) ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب (114:2)

MUSLIM BROTHERHOOD ISLAMIC COMMUNITY FORMS ONE NATION

الإخوة بين المسلمين

الإخوة بين المسلمين

FRATERNITY IN ISLAM

As, your community forms one nation and I am your Lord, so worship Me. (21:92)

اقتضاء الأخوة الإيمانية

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾
﴿٢١ الانبياء ٩٢﴾

مسلمانوں میں باہم الفت محبت و اخوت

یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو (92:21)

As this community of yours (forms) one and I am your Lord, so keep your duty to Me. (23:52)

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾
﴿٢٣ المشونون ٥٢﴾

اور یہ تمہاری جماعت (حقیقت میں) ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو (52:23)

The believers are nothing else than brothers. Therefore make peace between your brothers and observe your duty to Allah that haply you may obtain mercy. (49:10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾
﴿٤٩ الحجرات ١٠﴾

مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرادیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے (10:49)

Core Reference : 3:103 Page 118/621

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٠٣: الصفحة ١١٨/١١٧

مزید حوالہ 103:3 صفحہ 621/118

CLING FIRMLY TOGETHER BY MEANS OF ALLAH'S (SWT) ROPE AND DO NOT SEPARATE

How can you disbelieve, when it is you to whom Allah's revelations are recited and His messenger is in your midst? He who holds fast to Allah, he indeed is guided to a right path. (3:101)

And hold fast, all of you together, to the cable of Allah, and do not separate. ----- (3:103) PART

As for those who believe in Allah, and hold fast to Him, He will cause them to enter into His mercy and grace, and will guide them to Him by a straight road. (4:175)

-----So establish worship, pay the poor-due, and hold fast to Allah. He is your Protecting Friend. A blessed Patron and a blessed Helper! (22:78) PART

FALLING INTO DISPUTE WITH ONE ANOTHER, WILL LOOSE YOUR STRENGTH AND COURAGE

And obey Allah and His Messenger, and dispute not one with another lest you falter and your strength departs from you; but be steadfast! Allah is with the steadfast. (8:46)

MAKE RECONCILIATION BETWEEN YOUR TWO CONTENDING BELIEVERS

And if two parties of believers fall to fighting, then make peace between them. And if one party of them does wrong to the other, fight you that which does wrong till it returns to the ordinance of Allah; then, if it returns, make peace between them justly, and act equitably. Surely Allah loves the equitable. (49:9)

الأمر بالاعتصام بالله

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾
﴿٣ آل عمران ١٠١﴾

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا... ﴿١٠٣ آل عمران ١٠٣﴾ جزء

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ أَمْتًا بِاللَّهِ وَأَعْتَصِمُوا بِهِ فَنَسِيدُ جَنَّتِهِمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِي إِلَيْهِمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾
﴿٤ النساء ١٧٥﴾

فَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨ الحج ٧٨﴾ جزء

النزاع يجلب الفشل ويذهب الريح

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾
﴿٨ الانفال ٤٦﴾

القيام بالمصالحة بين الطائفتين

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
﴿٤٩ الحجرات ٩﴾

اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم

اور تم کیوں کر کفر کرو گے جب کہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں۔ اور جس نے اللہ (کی ہدایت کی رسی) کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے لگ گیا (101:3)

اور سب مل کر اللہ کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔----- (103:3) جزو

پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس (کے دین کی رسی) کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل (کی بہشتوں) میں داخل کرے گا اور اپنی طرف (پہنچنے کا) سیدھا راستہ دکھائے گا (175:4)

----- تو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ (کے دین کی رسی) کو پکڑے رہو۔ وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے (78:22) جزو

باہم جھگڑے سے قوت اور عزت جاتی رہے گی

اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑانہ کرنا کہ (ایسا کرو گے تو) تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کو مددگار ہے (46:8)

فریقین میں صلح کرانے کا حکم

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرادو۔ اور اگر ایک فریق دوسرے سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے پس جب وہ رجوع کرے۔ تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے (9:49)

**MOSQUES- SANCTUARIES
PLACES OF WORSHIP OF ALLAH(SWT)**

بيوت الله الأقداس المساجد

اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد

**THE BELIEVERS SHALL
MAINTAIN THE MOSQUES**

المؤمنون هم العامرون مساجد الله

اہل ایمان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں

He only shall tend Allah's sanctuaries (mosques) who believes in Allah and the Last Day and observes proper worship and pays the poor due and fears none except Allah. For such (only) is if possible that they can be of the rightly guided. (9:18)

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ
يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾
﴿٩ التوبة ١٨﴾

اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں (داخل) ہوں (18:9)

**ONLY RIGHTEOUS AND HEEDFUL ARE
THE GUARDIANS OF MOSQUES**

المتقون هم الاولياء بيت الله

صرف متقی ہی اللہ تعالیٰ کے گھر کے متولی ہیں

-----Its fitting guardians. Only those only who are heedful and keep their duty to Allah. But most of them know not. (8:34) PART

إِنَّا أَوْلِيَاءُ
إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾
﴿٨ الانفال ٣٤﴾ جزء

----- اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے (34:8) جزو

**MOSQUES ARE FOR WORSHIP
OF ALLAH(SWT) (EXCLUSIVE)**

بناء المساجد ليس إلا لعبادة الله

مساجد کی غرض و غایت صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت

and the places of worship are only for Allah, so pray not to anyone along with Allah. (72:18)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾
﴿٧٢ الجن ١٨﴾

اور یہ کہ مسجدیں (خاص) اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو (18;72)

**MATERIAL SERVICES TO A MOSQUE
FOR MERE PRETENCE, WITHOUT TOUCH
OF SOUL ARE NOT PREFERRED**

عمارة المسجد تتوقف على الإيمان و الجهاد

مسجد میں ظاہری چہل پہل کے بجائے عمل کی فوقیت

count you the slaking of a pilgrim's thirst and maintenance of the inviolable Place of Worship as equal to the worth of him) who believes in Allah and the Last Day, and strives in the way of Allah? They are not equal in the sight of Allah. Allah guides not wrongdoing folk. (9:19)

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾
﴿٩ التوبة ١٩﴾

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام (یعنی خانہ کعبہ) کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (19:9)

**POLYTHEISTS, IDOLATERS, AND DISBELIEVERS
MUST NOT BE FREQUENT TO THE MOSQUES
AND NOT MAINTAIN**

لم يكن المشركون أن يعمروا مساجد الله

مشرکوں کو مساجد آباد کرنے کی ممانعت

is not for the idolaters to tend Allah's sanctuaries, bearing witness against themselves of disbelief. As for such, their works are vain and in the Fire they will abide. (9:17)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ
شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾
﴿٩ التوبة ١٧﴾

مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جب کہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں ان لوگوں کے سب اعمال بے کار ہیں۔ اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے (17:9)

TAKE OFF YOUR SANDALS, WHILE ENTERING MOSQUES

And when he reached it, he was called by name: O Moses! (20:11)

I, even I, am your Lord. So take off your shoes. For no doubt You are in the holy valley of Tuwa. (20:12)

OFFERING OF SALAT (PRAYERS) BY LADIES IN MOSQUES

O Mary! Be obedient to your Lord, Prostrate yourself, and bow with those who bow (in worship). (3:43)

ADORN YOURSELF (BE CLEAN BODILY AND PURIFY INNERSELF) WHILE ENTERING MOSQUES

O children of Adam! Beautify yourselves for every act of worship ----- (7:31) PART

TO PURIFY AND KEEPING CLEAN OF THE MOSQUES

For Detail Consult : 2:125 Page 287

LABELLING ANY MOSQUE FOR A PARTICULAR FACTION TO PROMOTE SPECIFIC FRAGMENT OF BELIEF (OTHER THAN WORSHIP OF ALLAH (SWT))

And who does greater wrong than he who forbids the approach to the sanctuaries of Allah lest His name should be mentioned therein and strives for their ruin? As for such, it was never meant that they should enter them except in fear. Theirs in the world is ignominy and theirs in the hereafter is an awful doom. (2:114)

FIRST SANCTUARY - OLDEST HOUSE OF WORSHIP SET UP FOR MANKIND WAS THAT "KAABA" AT MAKKAH

Certainly the very first Sanctuary appointed for mankind was that at Bakkah (Makkah), a blessed place, a guidance to the people; (3:96)

More Reference : 2:125,126 5:97 14:35,37 90:1,2 Page 287, 959, 624, 959, 955, 624

من آداب المسجد خلع النعلين عند الدخول فيه

قَلْبًا أَتَاهَا نُودِيَ يُمُوسَى ﴿١١﴾
﴿٢٠ طه ١١﴾

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾
﴿٢٠ طه ١٢﴾

جواز ذهاب النساء إلى المساجد

يَهْرِيْمًا اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾
﴿٣ آل عمران ٤٣﴾

أخذ الزينة (التطهر) عند كل مسجد

يُذِيْبِيْ أَدْمَ خُذْ وَأَزِيْبْتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴿٧﴾
﴿٧ الاعراف ٣١﴾ جزء

الأمر بتنظيف و تطهير المساجد

و للتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٢٥: الصفحة ٢٨٧

لا تختصوا المساجد للفرقة

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسُئِلَ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِيْنَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾
﴿٢ البقرة ١١٤﴾

أول بيت وضع للناس المسجد الحرام ببكة (الكعبة)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ ﴿٩٦﴾
﴿٣ آل عمران ٩٦﴾

مسجد میں جو تا اتار کر جانے کی ہدایت

جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ (11:20)

میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو تم (یہاں) پاک میدان (یعنی) طوی میں ہو (12:20)

عورتوں کا مساجد میں نماز ادا کرنا

اے مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا (43:3)

مساجد میں جسمانی طہارت پاک صاف لباس اور قلبی پاکیزگی کے ساتھ داخلے کی ہدایت

اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنے آپ کو (صاف ستھرے لباس سے) مزین کیا کرو (31:7) جزو

مساجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:125 صفحہ 287

مساجد کو فرقہ واریت کی بنیاد پر مخصوص کرنا

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کئے جانے سے منع کرے اور انکی ویرانی کی کوشش کرے (کا باعث بنے) ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب (114:2)

لوگوں کی عبادت کے لئے پہلا گھر مکہ معظمہ میں مسجد حرام (کعبہ)

پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کیلئے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو کے میں ہے۔ بابرکت اور جہان کے لئے موجب ہدایت (96:3)

مزید حوالہ 2:125,126 97:5 37,35:14 2,1:90 صفحہ 624,955,959,624,959,287

**RAISING FOUNDATIONS OF
(SACRED HOUSE) KA'BA BY ABRAHAM (PBUH)
AND (HIS SON) ISHMAEL (PBUH)**

And when Abraham and Ishmael were raising the foundations of the House, (Abraham prayed): Our Lord! Accept from us (this duty). You, only You, are the Hearer, the Knower. (2:127)

**HARAM MAKKAH
A PLACE OF SECURITY AND SAFETY**

Allah has appointed the Ka'bah, the Sacred House, a standard for mankind, and the Sacred Month and the offerings with the garlands. That is so that you may know that Allah knows whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and that Allah is Knower of all things. (5:97)

And they say: If we were to follow the Guidance with you we should be worn out of our land. Have We not established for them a sure sanctuary, whereto the produce of all things is brought (in trade), a provision from Our presence? But most of them do not know. (28:57)

Have they not seen that We have appointed a sanctuary immune from violence), While mankind are ravaged all around them? Do they then believe in falsehood and disbelieve in the bounty of Allah? (29:67)

swear by (this) countryside, (90:1)

You are a native settled on this land (90:2)

and by this land made safe; (95:3)

**إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
بِنَاءُ الْكَعْبَةِ**

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾
﴿٢ البقرة ١٢٧﴾

الحرم مأمّن

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾
﴿٥ المائدة ٩٧﴾

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَّخِظَنَّ مِنْ
أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَى
إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾
﴿٢٨ القصص ٥٧﴾

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَّخِظَنَّ
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٦٧﴾

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٩٠﴾
﴿٩٠ البلد ١﴾

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٩٠﴾
﴿٩٠ البلد ٢﴾

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٩٥﴾
﴿٩٥ التين ٣﴾

**حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل (علیہما السلام)
کی تعمیر خانہ کعبہ**

اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اور دیواریں اونچی کر رہے تھے (تو دعائے جاتے تھے کہ) اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا (اور) جاننے والا ہے (127:2)

خانہ کعبہ۔ حرم مکہ معظمہ مقام امن

اللہ نے عزت کے گھر (یعنی) کعبے کو لوگوں کے لئے موجب امن مقرر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے پٹے بندھے ہوں یہ اس لئے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے (97:5)

اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری ہدایت کے تابع بن جائیں تو اپنے ملک سے باہر نکال دیئے جائیں۔ کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں (اور یہ) رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے (57:28)

کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لئے جاتے ہیں کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ (67:29)

میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ (1:90)

اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ (2:90)

اور اس امن والے شہر کی (3:95)

Core Reference : Page 663

والمزید راجع الصفحة ٦٦٣

مزید حوالہ صفحہ 663

**HARAM MAKKAH (KA'BA)
A MOST HALLOWED PLACE**

and their worship at the (holy) House is nothing but whistling and clapping. Therefore (it is said of them): Taste of the doom because you disbelieve. (8:35)

بیت اللہ الحرام یقتضی الأدب

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا
مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾
﴿٨ الانفال ٣٥﴾

خانہ کعبہ۔ حرم مکہ معظمہ۔ مقام ادب

اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں جانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب (کا مزہ) چکھو (35:8)

(Say): I (Muhammad) am commanded only to serve the Lord of this land, which He has hallowed, and to Whom all things belong. And I am commanded to be of those who surrender (to Him), (27:91)

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ
الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾
﴿٢٧ النمل ٩١﴾

(کہہ دیجئے) مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم (اور مقام ادب) بنایا ہے اور سب چیز اسی کی ہے اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا فرمان بردار ہوں (91:27)

AL-MASJID AL-HARAM
(KABA) SACRED MOSQUE

And when We made the House (at Makkah) a resort for mankind and sanctuary----- And We imposed a duty upon Abraham and Ishmael, (saying): Purify My House for those who go around and those who meditate therein and those who bow down and prostrate themselves (in worship.) (2:125) PART

المسجد الحرام. الكعبة
وَأَذْجَعْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا
وَعَهَدْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾
﴿٢ البقرة ١٢٥﴾ جزء

مسجد حرام - خانہ کعبہ
اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا۔
اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو (125:2)

More Reference :

2:144,149,150,191	3:96
Page	694,695,663 623
5:2,97 8:35 9:7,19,28 14:35 17:1	
233,624 624 665,622,625 959 688	
22:25,29,33 27:19 28:57 48:25,27	
627,293,291 1074 624 716,717	
90:1,2 95:3	
624 624	

والمزيد راجع

٢ البقرة: ١٤٤، ١٤٩، ١٥٠، ١٩١	٢ التوبة: ٢٨، ١٩، ٧
٣ آل عمران: ٩٦، ٥ المائدة: ٩٧، ٢، ٨ الأنفال: ٣٥	٩ التوبة: ٢٨، ١٩، ٧
١٧ الإسراء	١٤ إبراهيم: ٣٥
١٩ النمل: ٢٧	٢٢ الحج: ٢٥، ٢٩، ٣٢
٢٨ القصص: ٥٧	٤٨ الفتح: ٢٥، ٢٧
٩٠ البلد: ٢٠، ١	٩٥ التين: ٣

مزيد حوالہ

96:3 191,150,149,144:2	663,695,694
623	623
1:17 35:14 28,19,7:9 35:8 97,2:5	
688 959 625,622,665 624 624,289	
27,25:48 57:28 19:27 33,29,25:22	
716,717 624 1074 291,293,627	
3:95 2:1:90	624 624

DISBELIEVERS ARE BANNED TO ENTER
INTO THE LIMITS OF HARAM
TO APPROACH HOLY KAABA

O you who believe! The idolaters only are unclean. So let them not come near the Inviolable Place of Worship after this year. If you fear poverty (from the loss of your merchandise) Allah shall preserve you of His bounty if He wills. Allah is Knower, Wise. (9:28)

حظر المشركين على دخول
المسجد الحرام
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا
يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ مَا مَهَّمْهُمْ هَذَا
وَأِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾
﴿٩ التوبة ٢٨﴾

مشرکوں کی مسجد حرام (خانہ کعبہ) میں داخلہ پر پابندی
مومنو! مشرک تو ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ (مسجد حرام) کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو (کہ تجارت کم ہو جائے گی) تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے دولت مند کر دے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا (اور) حکمت والا ہے (28:9)

More Reference : Page 663

والمزيد راجع الصفحة ٦٦٣

مزيد حوالہ صفحہ 663

MASJID-I-NABWI
PROPHET'S (SAAS) MOSQUE AT MADINAH
THE FIRST ISLAMIC UNIVERSITY

(Alms are) for the poor who are straitened for the cause of Allah, who cannot travel in the land (for trade). The unthinking man accounts them wealthy because of their restraint. You shall know them by their mark: They do not beg of men with importunity. And whatsoever good thing you spend, Allah knows it. (2:273)

المسجد النبوي (ﷺ) بالمدينة المنورة
الجامعة الإسلامية الأولى
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَطُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِحْفَاقًا وَوَمَا تَنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾
﴿٢ البقرة ٢٧٣﴾

پہلی اسلامی یونیورسٹی
مسجد نبوی مدینہ المنورہ
صدقات کے مستحق صرف وہ غریب ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دینے گئے اور ملک میں چل پھر نہیں سکتے (اور مانگنے سے عار کرتے ہیں) یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو مالدار خیال کرتا ہے اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو (کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے سوال نہیں کرتے) لپٹ کر نہیں مانگ سکتے اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے (273:2)

**MOSQUE OF PIETY
AL-MASJID AL-QUBA**

مسجد قباء

مسجد قباء

-----A Place of worship which was founded upon duty (to Allah) from the first day is more worthy that you should stand (to pray) therein,----- (9:108) PART

لَسَيِّدُ اسَّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ
أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
﴿٩ التوبة ١٠٨﴾ جزء

----- البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا (اور نماز پڑھایا) کرو۔----- (108:9) جزو

AQSA MOSQUE

المسجد الأقصى

مسجد اقصیٰ

glorified be He (Allah) Who carried His servant for a journey by night from the Inviolable Place of Worship (Sacred Mosque) Holy Kaaba to the Far Distant Place of Worship (Mosque Al - Aqsa) the neighborhood whereof We have blessed. In order that We might show Our tokens! Surely! He, only He, the Hearer, the Seer. (17:1)

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِيمَانِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
﴿١٧ بنی اسرائیل ١﴾

وہ اللہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گرداگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے (1:17)

**MOSQUE OF JERUSALEM
FORMER QIBLA WHICH WAS ABROGATED
AFTER NEW QIBLA (SACRED MOSQUE
IN MAKKAH WAS ORDAINED)**

بیت المقدس

بیت المقدس - قبلہ اول

(Saying): If you do good, you do good for your own souls, and if you do evil, it is for you (in like manner). So, when the time for the second (of the judgements) came We roused against you others of our slaves) to ravage you, and to enter the Mosque (worship place) when as they entered it the first time, had to lay waste all that they conquered with an utter wasting. (7:7)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا
﴿١٧ بنی اسرائیل ٧﴾

اگر تم نیک عمل کرو گے تو اپنے فائدے کے لئے کرو گے اور اگر اعمال بد کرو گے تو (انکا) وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہو گا پھر جب دوسرے (وعدے) کا وقت آیا (تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے) تاکہ تمہارے چروں کو بگاڑ دیں۔ اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد (بیت المقدس) میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں (7:17)

THE MOSQUE OF TWO QIBLAHS

المسجد القبلتين

مسجد قبلتین

Reference 2:144 to 150 17:1
Page 694, 696, 181, 695, 600

المزید حوالہ ۲ البقرة: ۱۴۴ الی ۱۵۰ ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل):
الصفحة ۶۹۴، ۶۹۵، ۱۸۱، ۶۹۶، ۶۹۷

مزید حوالہ 2: 144 تا 150 17: 1
صفحة 600, 695, 181, 696, 694

**ALLAH (SWT) IS THE PROTECTOR
OF HIS SANCTUARIES**

اللہ یحمی بیوتہ

اللہ تعالیٰ ہی اپنے گھروں کا محافظ ہے

Those who have been driven from their homes unjustly only because they say: Our Lord is Allah--For had it not been for Allah's repelling the men by means of others, monasteries and churches and synagogues (oratories) and mosques, wherein the name of Allah is often mentioned, would assuredly have been pulled down. Allah helps one who helps Him. Indeed Allah is Strong, Almighty. (40:40)

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَدَفَعَهُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَيَعْرُوقُ صَلَواتٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
﴿٢٢ الحج ٤٠﴾

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیئے گئے (انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا) ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو (راہبوں کے) صومع اور (عیسائیوں کے) گرجے اور (یہودیوں کے) عبادت خانے اور (مسلمانوں کی) مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں۔ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ بے شک اللہ توانا (اور) غالب ہے (40:22)

RESTRAINING FROM THE WAY OR CAUSE OF ALLAH (SWT)

صد عن سبیل اللہ

اللہ کی راہ سے روکنا - پھیر دینا

Those who disbelieve and hinder (others) from the way of Allah, they have wandered far astray. (4:167)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾
﴿٤ النساء ١٦٧﴾

جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے (167:4)

They try to refute it and remain aloof from it; yet they only destroy their own souls while they do not even notice it. (6:26)

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٦ الانعام ٢٦﴾

اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہی (خود) کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے (26:6)

Those who disbelieve spend their wealth in order that they may debar (men) from the way of Allah. They will spend it, then it will become an anguish for them, then they will be conquered. And those who disbelieve will be gathered to hell, (8:36)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٨ الانفال ٣٦﴾

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکیں سوا بھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ (خرچ کرنا) ان کے لئے (موجب) افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے (36:8)

They have purchased with the revelations of Allah a little gain, so they debar (men) from His way. Evil is that which they are used to do. (9:9)

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾
﴿٩ التوبة ٩﴾

یہ اللہ کی آیتوں کی عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں (9:9)

Who debar (men) from the way of Allah and would have it crooked, and who are disbelievers in the Hereafter. (11:19)

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾
﴿١١ هود ١٩﴾

جو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں۔ اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں (19:11)

For those who disbelieve and debar (men) from the way of Allah, We add torment upon torment because how abusive they have acted (used to spread mischief). (16:88)

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا آثَرَ عَذَابِ مَا كَانُوا يَفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾
﴿١٦ النحل ٨٨﴾

جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لئے کہ شرارت کیا کرتے تھے (88:16)

Those who disbelieve and obstruct Allah's way and (block) the Hallowed mosque which We have granted to mankind on the same footing -whether the one devoted to its (care) or the nomad-yet We shall let anyone who wants to misuse it wrongfully, taste some painful torment. (22:25)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمْ تُذَقُّهُ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿٢٥﴾
﴿٢٢ الحج ٢٥﴾

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لئے مساوی کر دیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ (25:22)

Those who disbelieve and turn (men) from the way of Allah, He renders their actions vain. (47:1)

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾
﴿٤٧ محمد ١﴾

جن لوگوں نے کفر کیا اور (اوروں کو) اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیئے (1:47)

Those who disbelieve and turn from the way of Allah and then die disbelievers, Allah surely will not pardon them. (47:34)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾
﴿٤٧ محمد ٣٤﴾

جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مرے۔ تو اللہ ان کو ہر گز نہیں بخشے گا (34:47)

More Reference :	16:94	22:27	27:24
Page	571	287	1076
29:38	47:1,32,34	58:16	63:2
935	627,161,627	572	572

والمزید راجع -	١٦ النحل: ٩٤	٢٢ الحج: ٢٧
٢٧ النمل: ٢٤-٢٩	العنکبوت: ٢٨	٤٧ محمد: ٢٤، ٢٦، ٢٧
٥٨ المجادلة: ١٦	٦٣ المنافقون: ٢	

مزید حوالہ	94:16	27:22	24:27
صفحہ	571	287	1076
38:29	34,32,1:47	16:58	2:63
935	627,161,627	572	572

PUNISHMENT FOR THOSE WHO HINDER OR TURN AWAY HUMANKIND FROM THE WAY OF ALLAH (SWT)

عقاب الصدع سبيل الله

اللہ کی راہ سے روکنے اور گمراہ کرنے کی سزا

Or lest you should say: If the Scripture had been revealed to us, we surely had been better guided than are they. Now has come to you a clear proof from your Lord, a guidance and a mercy; and who does greater wrong than him who denies the revelations of Allah, and turns away from them? We award to those who turn away from Our revelations an evil doom because of their aversion. (6:157)

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمِنَ أَظْلَمِ مِمَّنْ كَذَبَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سََجْزَى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾
﴿٦ الانعام ١٥٧﴾

یا (یہ نہ) کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے راستے پر ہوتے۔ سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آگئی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ کی آیتوں کی کو جھٹلائے اور ان سے (لوگوں کو) پھیرے جو لوگ ہماری آیتوں سے پھرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے (157:6)

Have you seen him who dissuades (96:9)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿٩﴾
﴿٩٦ العلق ٩﴾

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے (9:96)

A slave when he prays? (96:10)

عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿١٠﴾
﴿٩٦ العلق ١٠﴾

(یعنی) ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے (10:96)

Have you seen if he (relies) on the guidance (of Allah) (96:11)

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١١﴾
﴿٩٦ العلق ١١﴾

بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو (11:96)

Or enjoins piety? (96:12)

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٢﴾
﴿٩٦ العلق ١٢﴾

یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ (12:96)

Have you seen if he denies (Allah's guidance) and is froward? (96:13)

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٣﴾
﴿٩٦ العلق ١٣﴾

بھلا دیکھو تو، اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو! (13:96)

Is he then unaware that Allah sees? (96:14)

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾
﴿٩٦ العلق ١٤﴾

کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے (14:96)

No but if he ceases not, We will seize him by the forelock (96:15)

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾
﴿٩٦ العلق ١٥﴾

دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم (اس کی) پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے (15:96)

The lying, sinful forelock of (96:16)

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾
﴿٩٦ العلق ١٦﴾

یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال (16:96)

When let him call upon his enchantmen! (96:17)

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾
﴿٩٦ العلق ١٧﴾

تو وہ اپنے پیاروں کی مجلس کو بلا لے (17:96)

We will call the guards of hell. (96:18)

سَنَدْعُ الرِّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾
﴿٩٦ العلق ١٨﴾

ہم بھی اپنے دوزخ کے سپاہیوں کو بلائیں گے (18:96)

Do obey you not him (Satan.) But prostrate yourself, and draw near to Allah). (96:19)

كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾
﴿٩٦ العلق ١٩﴾

دیکھو اس کا کمانہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب اللہ حاصل کرتے رہنا (19:96)

TEMPTATION OF JEWS AND CHRISTIANS TO SEDUCE THE BELIEVERS MISLEADING TO (APOSTASY) THE MISSIONS OF PEOPLE OF SCRIPTURES TO TURN MUSLIMS TO INFIDELITY

دعوات اليهود والنصارى الضالة
وحرركاتهم ضد الإسلام

یہود نصاریٰ کی گمراہ کن دعوتیں
اور دین اسلام کے خلاف تحریکیں

And the Jews will not be pleased with you, nor will the Christians, till you follow their creed. Say: Surely the guidance of Allah (Himself) is Guidance. And if you should follow their desires after the knowledge which has come to you, then you would not have any protecting friend nor helper against Allah. (2:120)

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾
﴿٢ البقرة ١٢٠﴾

اور آپ سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی (اتباع) اختیار کر لیں (ان سے) کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت (یعنی دین اسلام) ہی ہدایت ہے اور (اے پیغمبر) اگر آپ اپنے پاس علم (یعنی وحی اللہ) کے آجانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلیں گے آپ کا اللہ کے پاس نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار (120:2)

And they say: Be Jews or Christians, then you will be rightly guided. Say (to them, O Muhammad): No, but (we follow) the religion of Abraham, the upright, and he was not of the idolaters. (2:135)

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾
﴿٢ البقرة ١٣٥﴾

اور (یہودی اور عیسائی) کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ (اے پیغمبر ان سے) کہہ دو (ہمیں) بلکہ (ہم) دین ابراہیم (اختیار کئے ہوئے ہیں) جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے (135:2)

A party of the people of the Scripture long to make you go astray; and they make none to go astray except themselves, but they perceive not. (3:69)

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَو يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾
﴿٣ آل عمران ٦٩﴾

(اے اہل اسلام) بعض اہل کتاب اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں۔ مگر یہ (تم کو کیا گمراہ کریں گے) اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے (69:3)

Seek they other than the religion of Allah, when to Him submits whosoever is in the heavens and in the earth, willingly, or unwillingly, and to Him they will be returned. (3:83)

أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾
﴿٣ آل عمران ٨٣﴾

کیا یہ (کافر) اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں (83:3)

O you who believe! If you obey a party of those who have received the Scripture they will make you disbelievers after your belief. (3:100)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿١٠٠﴾
﴿٣ آل عمران ١٠٠﴾

مومنو! اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہاں لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد حالت کفر میں پھیر دیں گے (100:3)

O you who believe! If you obey those who disbelieve, they will make you turn back on your heels, and you will turn back to your own loss (of faith). (3:149)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِسِرِينَ ﴿١٤٩﴾
﴿٣ آل عمران ١٤٩﴾

مومنو! اگر تم کافروں کا کہاں لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے (149:3)

But Allah is your Protector, and He is the best of helpers. (3:150)

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾
﴿٣ آل عمران ١٥٠﴾

(یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں) بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور سب سے بہتر مددگار ہے (150:3)

See you not those to whom a portion of the Scripture was given, how they purchase error, and seek to make you (Muslims) astray from the right way? (4:44)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالََةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

﴿٤٤ النساء﴾

Allah knows best (who are) your enemies. Allah is sufficient as a Friend, and Allah is sufficient as a Helper. (4:45)

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

﴿٤٥ النساء﴾

And those who argue concerning Allah after He has been acknowledged, their argument has no weight with their Lord, and wrath is upon them and theirs will be an awful doom. (42:16)

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ جَحِشُهُمْ دَاخِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾

﴿١٦ الشورى﴾

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ (44:4)

اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ اور اللہ ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے (45:4)

اور جو لوگ اللہ (کے بارے) میں بعد اس کے کہ اسے (مومنوں نے) مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا باطل ہے۔ اور ان پر (اللہ کا) غضب اور ان کے لئے سخت عذاب ہے (16:42)

Reference : 2:109 Page 583

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٠٩ الصفحة ٥٨٣

المزيد حوالہ 109:2 صفحہ 583

SECRET INTRIGUES AND PLOTS OF IDOLATERS OF MAKKAH, HYPOCRITES AND JEWS OF MADINAH

شور و قريش و المنافقين و اليهود و مكايدهم

قريش مكه - منافقين اور يهود مدينه كى شرارتين اور منصوبے

Consult Chapter Secret Intrigues and plots of Idolaters of Makkah, Hypocrites and jews of Madinah Page : 742

وللتفصيل راجع شور و قريش و المنافقين و اليهود و مكايدهم الصفحة ٧٤٢

تفصيل كيلئے ديكھئے مطالعہ باب قريش مكه - منافقين اور يهود مدينه كى شرارتين اور منصوبے صفحه 742

PREACHING (DAWAH ILALLAH) INVITING TO ENTER INTO THE FOLD OF ALLAH(SWT) **الدعوة والارشاد** **دعوت دین تبلیغ دین**

"DAWAH" IS OBLIGATORY FOR ALL MUSLIMS

Let there be a community among you who will invite to goodness, and command right conduct and forbid indecency. Such are they who are successful. (3:104)

And who is better in speech than him who prays to his Lord and does right, and says, I am of those who surrender (to Him). (41:33)

And We shall make it easy for you (to follow) the simple way. (87:8)

Therefore remind others of the truth, regardless of whether this reminding (would seem to) be of use (or not). (87:9)

By the declining day, (103:1)

Man is in a state of loss, (103:2)

Except those who believe and do good deeds, and exhort one another to truth and exhort one another to endurance. (103:3)

More Reference :

2:83	3:20,110,114
Page	251 89,90,98
4:63,84	5:67,99 7:157,199 9:67,71,112
743,125	730 181,465 749,764
11:13	12:108 13:40 16:125 22:41,67
232	609 732 633 370,374
24:54	31:17 33:27 42:15 51:55 72:23
734	1071 716 738 740 741

WARNING TO MUSLIMS NEGLECTING "DAWAH"

And guard yourselves against a chastisement, which cannot fall exclusively on those of you who are wrongdoers, and know that Allah is severe in punishment. (8:25)

And those who disbelieve are allies of one another, If you do not do so, there will be confusion in the land, and (cause) great havoc. (8:73)

الدعوة إلى الله فريضة على كل مسلم

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾
﴿٣ آل عمران ١٠٤﴾

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٤١﴾
﴿٤١ خم السجدة ٣٣﴾
وَيُسِّرْكَ لِلْيُسْرَى ﴿٨٧﴾
﴿٨٧ الاعلى ٨﴾

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴿٩﴾
﴿٩ الاعلى ٩﴾

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾

﴿١٠٣ العصر ١﴾

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

﴿١٠٣ العصر ٢﴾

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾
﴿١٠٣ العصر ٣﴾

المعزید راجع

١١٤، ١١٠، ٢٠٠	٣ آل عمران	٨٣ البقرة	٢
١٩٩، ١٥٧	٧ الأعراف	٩٩، ٦٧	٥ المائدة
١٠٨	١٢ يوسف	١١ هود	١١٢، ٧١، ٦٧
٦٧، ٤١	٢٢ الحج	١٦ النحل	٤٠
٢٧	٣٣ الأحزاب	٣١ لقمان	١٧
٢٤	١٧	٥٤	النور
٢٣	٧٢ الجن	١٥	٥١ الذاریات

تنبيه للغافلین بأن الإهمال فی تبلیغ الدین یستوجب فتنه

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الانفال ٢٥﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾
﴿٧٣ الانفال ٧٣﴾

تبلیغ دین ہر مسلمان پر فرض ہے

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں (104:3)

اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں (33:41)
ہم آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے (8:87)

جو جہاں تک نصیحت (کے) فائدہ مند (ہونے کی امید) ہو نصیحت کرتے رہو (9:87)

عصر کی قسم (1:103)

کہ انسان نقصان میں ہے (2:103)

مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق (بات) کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے (3:103)

مزید حوالہ

84,63:4	114,110,20:3	83:2
125,743	98,90,89	251
13:11	112,71,67:9	199,157:7
232	764,749	465,181
54:24	67,41:22	125:16
734	374,370	633
23:72	55:51	15:42
741	740	738
		716
		1071

تبلیغ سے غافل مسلمانوں کو انتباہ

اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں گنہگار ہیں اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (25:8)

اور جو لوگ کافر ہیں (وہ بھی) ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو (مومنو) اگر تم یہ (کام) نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد پھیلے گا (73:8)

START "DAWAH" FROM YOUR HOME (FAMILY) FIRST, ON INDIVIDUAL LEVEL

He used to enjoin on his people to Prayer and Zakat (Poor due), and he was most acceptable in the sight of his Lord. (19:55)

And enjoin upon your people worship, and be constant therein. (20:132) PART

And (remember) when Luqman said to his son, when he was exhorting him: O my dear son! Ascribe no partners to Allah. To ascribe partners (to Him) is tremendous wrong-- (31:13)

O you who believe! Shield yourselves and your families from a fire, whereof the fuel is men and stones, over which are set stern and severe, Angels who resist not Allah that which He commands them, do that which they are ordered (66:6)

ADDUCE YOURSELF AS A MODEL WHILE INVITING OTHERS TO "DAWAH"

In the messenger of Allah (Muhammad) you have a fine model for someone who looks forward (to meet) Allah and the Last Day, and remembers Allah much. (33:21)

O you who believe! Why do you preach something that you do not practice? (61:2)

is most hateful in the sight of Allah that you preach that which you do not practice. (61:3)

Reference: 2:44 11:88 Page 473,998

ORGANIZED "DAWAH" PROGRAM BY EDUCATION AND TRAINING

DAWAH REQUIRES PROPER CONTEMPLATION TRAINING AND DISCIPLINE

And the believers should not all go to fight of every troop of them, a contingent from every expedition should march forth, that they (who are left behind) may gain sound knowledge in religion, and that they may warn their folk when they return to them, so that they may take precautions. (9:122)

ابدأ والدعوة إلى الله بأهل بيتكم

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ ﴿٢٠ طه ١٣٢﴾ جزء

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٣١ لُقْمَان ١٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦ التحريم ٦﴾

لتكن أعمالكم قدوة حسنة لمنحاطبيكم في الدعوة إلى الله

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٦١ الصف ٢﴾

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٦١ الصف ٣﴾

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٤٤ ١١ هود: ٨٨

لتكن الدعوة منظمة مرتبة

التفقه في الدين من مقتضيات الدعوة إلى الله

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نُقِرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿٩ التوبة ١٢٢﴾

تبليغ دين انفرادي طور پر اپنے گھر سے شروع کرو

اور (حضرت اسمعیل) اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور مقبول بھی تھے (55:19)

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو (132:20) جزو

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک تو بڑا (بھاری) ظلم ہے (13:31)

مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے (مقرر) ہیں جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں (6:66)

تبليغ دين کے لئے اپنے عمل کو بطور نمونہ پیش کرو

یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ (محمد) میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے (یعنی) اس شخص کو جسے اللہ (سے ملنے) اور روز قیامت (کے آنے) کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو (21:33)

مومنو! تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے (2:61)

اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کو جو کر نہیں (3:61)

مزید حوالہ 44:2 88:11 صفحہ 998,473

منظم تبلیغی پروگرام ابذر لعیلم و تربیت

دعوت دين کے لئے تفقه في الدين (دين کی گہری سمجھ رکھنے) کی ضرورت

اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہئے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر جماعت میں سے چند اشخاص (ایک چھوٹی جماعت) نکل جائیں تاکہ دین (کا علم سیکھیں اور اس) میں سمجھ پیدا کریں۔ اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کو ڈر سنائیں تاکہ وہ (غیر مسلمانہ روش سے) پرہیز کریں۔ (122:9)

PROPAGATION OF FAITH THROUGH COMMUNICATION

Go with this my letter and deliver it to them; then turn back and see what (answer) they return, (27:28)

الدعوة والإرشاد عن طريق وسائل الاتصال

إِذْ هَبَّتْ بِيَكْتَبِي هَذَا فَالْقُرْآنُ الْيَوْمَ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُمْ
فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٢٧ النمل ٢٨﴾

تبلیغ دین بذریعہ مواصلاتی ذرائع

یہ میرا خط لے جا اور انہیں جا کر دے پھر ان کے پاس سے واپس آ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں (28:27)

INVITE TO "DAWAH" WITH WISDOM, IN BEST POSSIBLE MANNER

الدعوة إلى الله تقتضى حكمة وأسلوباً جميلاً

حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں تبلیغ کرنے کا حکم

DOCTRINE FOR RELIGIOUS DEBATES AND DISPUTATIONS

مبادئ الجدال في مجال الدعوة والإرشاد

تبلیغ دین میں مناظرہ و مباحثہ کے اصول

Invite people to the way of your Lord with discretion and kind instruction and discuss with them in a polite manner. Your Lord is quite aware of him who strays from His path, and He is Best Aware of those who go aright. (16:125)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾
﴿١٢٥ النحل ١٢٥﴾

لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا۔ تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے (125:16)

For Detail Consult : 3:64 29:46 42:15
Page 634, 738

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ٦٤ ٢٩ العنكبوت: ٤٦
٤٢ الشورى: ١٥ الصفحة ٦٣٤, ٧٣٨

مزيد حوالہ 3:64 29:46 42:15
صفحہ 738, 634

"DAWAH" ACTIVITIES SHALL BE MODERATE, FREE FROM AGGRESSION AND ANY TORTURE

لايجوز الاعتداء والإكراه في مجال الدعوة

تبلیغ میں کسی تشدد اور زیادتی کی گنجائش نہیں

-----Allah loves not, aggressors. (2:190) PART

-----إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾
﴿٢ البقرة ١٩٠﴾ جزء

-----اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا (2:190) جزو

More Reference : 17:53 Page 383

وللمزيد راجع ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٥٣

مزيد حوالہ 17:53 صفحہ 383

PREACH IN SOFT WORDS

ادع إلى الله بقول لين

نرم بات سے دعوت حق کی ہدایت

Go, both of you, to Pharaoh. He has transgressed (the bounds). (20:43)

إِذْ هَبَّا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٤٣﴾
﴿٢٠ طه ٤٣﴾

دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے (43:20)

And speak to him a gentle word, so that he may be reminded or even feel afraid.. (20:44)

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿٤٤﴾
﴿٢٠ طه ٤٤﴾

اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے (44:20)

Repel evil with that which is better. We are best Aware of that which they describe. (23:96)

إِذْفَعْنَا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٩٦﴾

اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے (96:23)

ARGUE WITH THE PEOPLE OF BOOK IN THE POLITEST MANNER WITH SOUND REASONING MERE DISPUTATION IS FUTILE

And argue not with the People of the Scripture unless it be in (a way) that is better, save with such of them as do wrong; and say: We believe in that which has been revealed to us and revealed to you; our God and your God is One, and we are committed to observe peace before Him.. (29:46)

مبادی الجدل بشأن اهل الكتاب

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾
العنكبوت ٤٦

اہل کتاب سے (مجادلہ) بحث بطریق احسن کرو اور ان سے مت الجھو

اور اہل کتاب سے جھگڑانہ کرو مگر ایسے طریق سے بحث و مباحثہ کرو جو کہ نہایت اچھا ہو۔ ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں تو صاف اعلان کر دو کہ جو (کتاب) ہم پر اتری اور جو (کتابیں) تم پر اتریں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں (46:29)

Detail Consult : 16:125 Page 633

وللمعزید راجع ١٦ النحل ١٢٥: الصفحة ٦٣٣

المعزید ہوالہ 125:16 صفحه 633

DO NOT IGNORE PREACHING THE SIMPLE AND POOR MUSLIMS BESIDES YOUR EFFORTS OF INVITING NON - MUSLIMS TO EMBRACE ISLAM

(the Prophet) frowned and turned away (80:1)

because the blind man came to him. (interrupting). (80:2)

That will make you realize that he might grow (in purity). (80:3)

من واجب الداعية إلقاء العناية إلى تربية المسلمين الساذجين وتركيتهم مع تبليغ الإسلام لغير المسلمين

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾
٨٠ عبس ١
أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾
٨٠ عبس ٢
وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّكَ يَتَرَى ﴿٣﴾
٨٠ عبس ٣

غیر مسلموں کو تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ سادہ لوح مسلمانوں کی تعلیم اور اصلاح پر توجہ دینے کا حکم

(عجز مصطفیٰ) ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے (1:80)

کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا (2:80)

اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سدھر جائے (3:80)

Detail Consult : 80:4 to 10 Page 690, 689

وللمعزید راجع ٨٠ عبس : ٤ الى ١٠ الصفحة ٦٨٩, ٦٩٠

المعزید ہوالہ 10:4:80 صفحه 689, 690

INVITE PEOPLE OF SCRIPTURE TO ISLAM BY CONVINCING THEM ON MONOTHEISM - WITH QURANIC TEACHINGS

O People of the Scripture. (Let us) rally to a common formula to be binding on both of us that we shall worship none but Allah, and that we shall ascribe no partners to Him, and that none of us shall take others as lords besides Allah. And if they turn away, then say: Bear witness that we are (Muslims) who have surrendered (to Him). (3:64)

O People of the Scripture! Why will you argue about Abraham, when the Torah and the Gospel were revealed after him? Have you then no sense? (65)

أدعوا أهل الكتاب على الأساس المشترك وهو اختيار التوحيد وترك الشرك

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾
٣ آل عمران ٦٤

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُمَاجِدُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾
٣ آل عمران ٦٥

اہل کتاب کو تبلیغ اسلام کے لئے قرآنی تعلیمات (توحید) کے ٹھوس دلائل کو بنیاد بناؤ

کہہ دو کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں (تسلیم کی گئی) ہے اس کی طرف آؤ وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کار ساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ (اس بات کو) نہ مانیں تو (ان سے) کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم (اللہ کے) فرمانبردار ہیں (64:3)

اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں (اور وہ پہلے ہو چکے) تو کیا تم عقل نہیں رکھتے (65:3)

**DAWAH SHALL NOT BE COERCIVE
AS THERE IS NO COMPULSION FOR
NON-BELIEVERS**

There is no compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error. And he who rejects false deities and believes in Allah has grasped a firm handhold, which will never break. Allah is Alert and Aware. (2:256)

And if your Lord has so wished, all who are in the earth would have believed together. Would you compel mankind to become believers? (10:99)

Say: (It is) the truth from the Lord of you (all). Then whosoever wishes to believe, let him believe, and let anyone who wishes to disbelieve ----- (18:29) PART

More Reference : 3:176,177 5:108 10:100
24:46 39:41 47:32
Page 730,131,509,90,118,208,161

**DAWAH IS NOT THE JOB OF EXTREMISTS
IT IS DELICATE FUNCTION
SHORT TEMPERED AND EMOTIONAL
PEOPLE ARE NOT SUITABLE**

However since by the mercy of Allah you have been lenient with them (O Muhammad), for if you had been stern and cruel hearted they would have dispersed from round about. So pardon them and ask forgiveness for them and consult with them upon the conduct of affairs (of moment). And once you have reached a decision, then put your trust in Allah. Allah loves those who are reliant (in Him). (3:159)

The good deed and the evil deed are not alike. Repel the evil deed with one, which is better, than he, between whom and you there was enmity (will become) as though he was a bosom friend. (41:34)

But none is granted it except those who are steadfast, and none will achieve it except the very luckiest. (41:35)

More Reference : 17:53 20:43,44
Page 383, 633

لا يكره الناس للدخول في دين الله

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انفصال لها والله سميعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾
﴿٢ البقرة ٢٥٦﴾

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ
جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾
﴿١٠ يونس ٩٩﴾

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ
مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ -----
﴿١٨ الكهف ٢٩﴾ جزء

والمعزید راجع ٣ آل عمران: ١٧٦، ١٧٧، ٥ المائدة: ١٠٨
١٠ یونس: ١٠٠، ٢٤ النور: ٤٦، ٣٩ الزمر: ٤١، ٤٧ محمد: ٢٢

الدعوة إلى الله عمل "لطيف" لذلك
المتطرفون المتغيظون غير أهل لها

فَمَا رَحِمَتِمْ مِنْ اللَّهِ لِنْت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾
﴿٣ آل عمران ١٥٩﴾

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمَا
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾
﴿٤١ خم السجدة ٣٤﴾

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾
﴿٤١ خم السجدة ٣٥﴾

والمعزید راجع ١٧ الإسراء: (بمصر اسرائيل) ٥٢، ٢٠ طه: ٤٤، ٤٣
الصلوة ٢٨٢، ٢٢٣

غیر مسلموں کے لئے دین میں
کوئی جبر یا زبردستی نہیں

دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت (صاف طور پر ظاہر اور) گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ (سب کچھ) سنتا (اور سب کچھ) جانتا ہے (256:2)

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ (99:10)

اور کہہ دو کہ (لوگو) یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ (29:18) جزو

مزید حوالہ 3:176,177 5:108 10:100
32:47 41:39 46:24
صفحہ 730,131,509,90,118,208,161

دعوت دین انتہا پسندوں کا کام نہیں، تبلیغ دین
ایک نازک عمل ہے، اس کے لئے جذبات اور
غصہ پر قابو نہ رکھنے والے لوگ نامناسب ہیں

(اے محمد) اللہ کی مہربانی سے آپ کی افتاد مزاج ان لوگوں کے لئے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر آپ بدخوا اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دیں اور ان کے لئے (اللہ سے) مغفرت مانگیں اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت لیا کریں۔ اور جب (کسی کام کا) پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے (159:3)

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو (سخت کلامی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے (34:41)

اور یہ بات ان ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں۔ اور ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں (35:41)

مزید حوالہ 17:53 20:43,44
صفحہ 383, 633

DAWAH IS A TASK, WHICH REQUIRES FORBEARING SPIRIT AND DETERMINATION

Or think you that you will enter Paradise while yet there has not come to you the like of (that which came to) those who passed away before you? Affliction and adversity befell them, they were so shaken till the messenger (of Allah) and those who believed along with him said: When comes Allah's help? Now surely Allah's help is near. (214)

تبلیغ الدین امر "صعب" یقتضی الصبر والثبات والعزم

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ الْآلِ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾
﴿٢١٤ البقرة﴾

تبلیغ دین ایک مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے جو عزم اور حوصلہ کا متقاضی

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ (یوں ہی) بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی (مشکلیں) تو پیش آئی ہی نہیں۔ ان کو (بڑی بڑی) سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ (صعوبتوں میں) ہلا ہلا دیئے گئے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو اللہ کی مدد عنقریب (آیا چاہتی) ہے (214:2)

"DAWAH" IS PROPHETIC TRADITION

Messengers of good cheer and of warning, in order that mankind might have no argument against Allah after the messengers. Allah is ever Mighty, Wise. (4:165)

الدعوة إلى الله من أسوة الأنبياء

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾
﴿١٦٥ النساء﴾

دعوة (تبلیغ دین) اسوۃ پیغمبران

(سب) پیغمبروں کو (اللہ نے) خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے (بنا کر بھیجا تھا) تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (165:4)

And We made them chiefs who guide by Our command, and We inspired in them the performance of good deeds and keeping up prayer, and the giving of alms (Zakat) and they were worshippers of Us alone). (21:73)

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَمًا يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾
﴿٢١ الانبياء﴾

اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے (73:21)

"DAWN" A UNIVERSAL DIVINE MESSAGE

Thus We have appointed you a moderate nation, that you may be witnesses against mankind, and that the messenger may be a witness against you. And We appointed the dawah, which you formerly observed only that We might know from him who follows the messenger, from him who turns on his heels. In truth it was a hard (test) except for those whom Allah guided. But it is not Allah's purpose that your dawah should be in vain, for Allah is full of pity, Merciful towards mankind. (2:143)

الدعوة إلى الله رسالة "عالمية"

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَانِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾
﴿٢ البقرة﴾

دعوة (تبلیغ دین) ایک آفاقی پیغام

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور پیغمبر (آخر الزماں) تم پر گواہ بنیں۔ اور جس قبلے پر تم (پہلے) تھے اس کو ہم نے اس لئے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون (ہمارے) پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون اس لئے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے (وہ اسے گراں نہیں سمجھتے) اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یونہی ضائع کر دے اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان (اور) صاحب رحمت ہے (143:2)

SCOPE OF PREACHING THE PEOPLE OF SCRIPTURES AND HOPE OF PROMOTION OF ISLAMIC TEACHINGS AMONG THEM

**سَبَّاحُ الرَّجَاءِ فِي تَأْوِيلِ الدُّعْوَةِ
الاسلامية على اهل الكتاب**

امت اجابت (مسلمانوں) کی تبلیغ دین کی کاوشوں سے
امت دعوت (اہل کتاب) کے شرف - اسلام
ہونے کی امید کی کرن

THERE ARE SOME AMONG THE PEOPLE OF TORAH AND GOSPEL WHO FOLLOW RIGHT COURSE (LIKE ABDULLAH BIN SALAM) BUT MOST OF THEM ARE OF EVIL CONDUCT

من اهل الكتاب امة مقتصدة
(كمثله عبدالله بن سلام)
ولكن الكثير فاسقون

اہل تورات وانجیل کے کچھ لوگ میانہ رو ہیں
(جیسے عبداللہ بن سلام) مگر زیادہ تر بد اعمال

If only the People of the Scripture would believe and ward off (evil), surely We should remit their sins from them and surely We should bring them into Gardens of Delight. (5:65)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٦٥﴾

اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ معاف کر دیتے اور انہیں نعمت کے باغوں میں داخل کرتے (65:5)

If they had observed the Torah and the Gospel and (all the revelations) that which were revealed to them from their Lord, they would surely partake of all the blessings of heaven and earth. Among them there are people who are moderate, but most of them are of evil conduct. (5:66)

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو (اور دوسری کتابیں) ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو (ان کے لئے رزق اوپر سے برستا اور نیچے سے ابلتا) ان میں کچھ لوگ راست رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں (66:5)

Then We gave the Scripture as inheritance to those whom We singled out of Our bondmen. But of them are some who harm themselves and of them are some who follow a middle course and of them are some who outstrip (others) through good deeds, by Allah's leave. That is the great favour! (35:32)

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٥﴾

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور کچھ میانہ رو ہیں۔ اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے والے ہیں۔ یہی بڑا فضل ہے (32:35)

SOME PEOPLE OF SCRIPTURE ACCEPTED GUIDANCE WHILE MOST OF THEM HAVE BEEN IMMORAL

المهتدون من اهل الكتاب قليلون

بعض اہل کتاب نے راہ ہدایت اختیار کی
مگر اکثر خارج از اطاعت رہے

And We sent Noah and Abraham and established the prophethood in their line and the Scripture among their descendants and among them some were on right guidance but many of them became evil-livers. (57:26)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾

اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب (کے سلسلے) کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا تو کچھ تو ان میں سے راہ ہدایت پر ہوئے اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت رہے (26:57)

AMONG THE PEOPLE OF SCRIPTURES, THERE ARE SOME JEWS AND CHRISTIANS WHO HAVE FAITH BUT MOST OF THEM ARE DISOBEDIENT TO ALLAH (SWT)

المؤمنون من اهل الكتاب قليلون
وأما الأَكثَرُونَ، فإنهم فاسقون

اہل کتاب میں بہت تھوڑے ایمان والے بھی
ہیں مگر اکثر نافرمان ہیں

-----And if the People of the Scripture had believed it had been better for them. Among them are some who have faith . But most of them are perverted transgressors. (3:110) PART

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣﴾

----- اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں کچھ لوگ ایمان لانے والے بھی ہیں (لیکن تھوڑے) اور اکثر نافرمان ہیں (110:3) جزو

CHRISTIANS ARE NEAREST IN LOVE TO THE BELIEVERS

(LIKE ABYSSINIANS TO WHOM MUSLIM REFUGEES WENT TWICE DURING PERSECUTION IN MAKKAH)

-----And you will find the nearest of them in affection to those who believe (to be) those who say: We are Christians.-----
(5:82) PART

THERE ARE SOME CHRISTIANS WHO ARE DEVOTED TO LEARNING AND HAVE RENOUNCED THE WORLD AND ARE NOT ARROGANT

-----Those who say: We are Christians. That is because there are among them priests (men devoted to learning) and monks, (men who have renounced the world) and because they are not proud. (5:82) PART

AMONG PEOPLE OF MOSES (PBUH) THERE IS A COMMUNITY WHO LEAD WITH TRUTH AND ESTABLISH JUSTICE

-----And of the people of Moses' there is a community who leads with truth and establishes justice therewith. (7:159)

THERE ARE SOME PEOPLE AMONG THE OFFSPRING OF ABRAHAM (PBUH) AND ISAAC (PBUH) THOSE ARE RIGHTEOUS WHILE SOME OBVIOUSLY DO WRONG

-----And We blessed him (Abraham) and Isaac. And of their progeny are some who do right, and some who obviously wrong themselves. (3:113)

THE PEOPLE OF SCRIPTURES ARE NOT ALL ALIKE

-----They are not all alike. Of the People of Scripture there is a Staunch community who recite the revelations (hearse the signs) of Allah all the night long, falling prostrate (before Him). (3:113)

النصارى أقرب المسلمين مودة
كما كان النجاشي ملك حبشه
الذي هاجر المسلمون عليه مرتين

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ الَّذِينَ
أَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ
﴿٥ المائدة ٨٢﴾ جزء

من النصارى فسيسون
غير مستكبرين

الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ ذَلِكَ يَا قَوْمِ قَسِيصِينَ
وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥
﴿٥ المائدة ٨٢﴾ جزء

من قوم موسى صالحون
يهدون بالحق

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ
يَعْدِلُونَ ﴿٧ الاعراف ١٥٩﴾

من ذرية إبراهيم (عليه السلام)
واسحاق (عليه السلام)
محسن وظالم لنفسه

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا
مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَبِينٌ ﴿٣٧
﴿٣٧ الصافات ١١٣﴾

مسلمانوں سے دوستی رکھنے کے قریب تر لوگ عیسائی
(نصاری) ہیں (جس طرح حبشہ کے نجاشی حکمران
جہاں مسلمانوں نے دو مرتبہ ہجرت کی

اور ان میں مسلمانوں سے دوستی رکھنے کے قریب تر ان
لوگوں کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصاری کہتے ہیں
----- (82:5) جزو

نصاری (عیسائیوں) میں کچھ اصحاب علم
گوشہ نشین اور تکبر نہ کرنے والے بھی ہیں

----- جو اپنے آپ کو نصاری کہتے ہیں یہ اس سبب سے ہے کہ ان
میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور عبادت کے لئے
گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں اور اس سبب سے ہے
کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے (82:5)

قوم موسیٰ (علیہ السلام) میں ایک جماعت (کچھ لوگ)
حق کے مطابق ہدایت اور انصاف بھی کرتی ہے

اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا
راستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں
(159:7)

اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسحاق علیہ السلام میں کچھ نیک سخت لوگ
ہیں اور کچھ صریح گنہگار

اور ہم نے ان پر (ابراہیم) اور اسحاق پر برکتیں نازل
کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں نیک اعمال کرنے
والے بھی ہیں اور اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والے
(یعنی گنہگار) بھی ہیں (113:37)

Reference : 26:197 28:53 29:47 61:14
Page 240, 218, 240, 1101

وللمزيد راجع ٢٦ الشعراء: ١٩٧: ٢٨ القصص: ٥٣
٢٩ العنكبوت: ٤٧: ٦١ الصف: ١٤

المزيد حوالہ 26:197 28:53 29:47 61:14
صفحة 1101, 240, 218, 240

ليس جميع أهل الكتاب سواء

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ
يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿٣
﴿٣ آل عمران ١١٣﴾

سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں

یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان اہل کتاب میں کچھ لوگ
(حکم اللہ پر) قائم بھی ہیں۔ جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں
پڑھتے اور (اس کے آگے) سجدے کرتے ہیں (113:3)

Reference : 7:168 19:58 Page 598,640

وللمزيد راجع ٧ الاعراف: ١٦٨: ١٩ مريم: ٥٨

المزيد حوالہ 7:168 19:58 598,640

MULTITUDE FROM THE OLD GENERATIONS
(BEFORE THE ENUNCIATION OF PROPHET
MUHAMMAD(SAW) WHO WERE ADHERENTS (DISCIPLES)
OF THE PROPHETS (OF THEIR AGES) AND WERE
FOREMOST IN OBEYING THE TEACHINGS OF
REVEALED SCRIPTURES WITHOUT ITS TEMPERING
WILL ALSO BE NEAREST TO ALLAH(SWT)

أفراد الأمم الماضية المقربون
الذين آمنوا بالرسول و آمنوا بالكتب من
غير تحريف قبل بعث محمد رسول ﷺ

رسول کریم حضرت محمد ﷺ کی بعثت سے قبل پچھلی
امتوں کے کچھ لوگ (سابقین) جو اپنے پیغمبروں اور
کتب سادہ کو بلا تحریف ماننے والے تھے بھی مقررین
میں شامل ہوں گے

And you will be sorted out into three
classes: (56:7)

اور تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ
گے (7:56)

And the foremost in the faith will be
foremost in the hereafter: (56:10)

اور جو آگے (پہلے آگے بڑھنے) والے ہیں (ان کا کیا
کہنا) وہ آگے (پہلے آگے بڑھنے) ہی والے ہیں
(10:56)

Those are they who will be brought
near (56:11)

وہی اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں (11:56)

In gardens of delight; (56:12)

نعت بھری بہشتوں میں رہیں گے (12:56)

A multitude of people from those of
old (56:13)

وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے
(13:56)

And a few from those of later times
(56:14)

اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے (14:56)

For those on the right hand; (56:38)

(یعنی) داہنے ہاتھ والوں کے لئے (38:56)

A (goodly) number from those of
old (56:39)

(یہ) بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہونگے
(39:56)

And a (goodly) number from those
of later times. (56:40)

اور بہت سے پچھلوں میں سے (40:56)

Thus if he is of those brought nearer
to Allah, (56:88)

پھر اگر وہ بارگاہ الہی کا قرب حاصل کرنے والوں میں
سے ہے (88:56)

Then (There is for him) Rest, and
satisfaction and a Garden of delight.
(56:89)

تو (اس کے لئے) راحت اور عمدہ رزق اور نعمت کے
باغ ہیں (89:56)

ALL THE RIGHTEOUS PEOPLE OF LATER AGES WHO BELIEVED IN THE REVEALED SCRIPTURES (WITHOUT TEMPERING) AND OBEYED THE PROPHETS OF THEIR TIMES WILL BE BLESSED IN HEREAFTER (BUT THE ENUNCIATION OF PROPHET MUHAMMAD AND REVELATION OF HOLY QURAN HAVE SUPERCEDED ALL THE PREVIOUS PROVISIONS)

Those who believe (in that which is revealed to you, Muhammad), and those who follow the Jewish (scripture) and Christians, and Sabaeans whoever believes in Allah and the Last Day and does right surely their reward is with their Lord, and there shall no fear come upon them neither shall they grieve. (2:62)

And of the People of the Scripture there are certainly some who believe in Allah and that which is revealed to you and that which was revealed to them, humbling themselves before Allah. They purchase not a trifling gain at the price of the revelations of Allah. Their reward is with their Lord, and Allah is swift to take account. (3:199)

Those who believe, and those who are Jews, and Sabaeans, and Christians whosoever believes in Allah and the Last Day and does right there shall no fear come upon them neither shall they grieve. (5:69)

These are they on whom Allah bestowed favour from among the Prophets, of the posterity of Adam and of those whom We carried (in the ship) with Noah, and of the progeny of Abraham and Israel, and from among those whom We guided and chose. When the revelations of the Beneficent were recited to them, they fell down, adoring (drop down on their knees) and weeping. (9:58)

أفراد الأمم الماضية الذين آمنوا بالكتب المنزلة من غير تحريف، وأطاعوا رسلهم سيفوزون ولكن الذي عاشوا امنهم في عهد النبي العربي محمد ﷺ يجب عليهم إطاعته

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِغِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ البقرة

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ آل عمران

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِغِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ المائدة

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ اتَّخَذُوا آيَاتِ الرَّحْمَنِ خُرُوجًا وَسُجُودًا وَبُكْيًا ﴿٥٨﴾ مريم

گذشتہ اقوام کے وہ سب صالح اعمال لوگ جنہوں نے اپنے اپنے وقت کی کتب سماویہ پر (بلا تحریف) ایمان رکھا اور اپنے رسولوں کی اطاعت کی وہ سب نجات اخروی سے ہم کنار ہو گئے (مگر حضرت محمد ﷺ کی بعثت اور نزول قرآن کے بعد سب اہل کتاب پر ان کی اطاعت ایمان کی لازمی شرط ٹھہری)

جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست (یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو) جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے اور عمل نیک کرے تو ایسے لوگوں کو ان (کے اعمال) کا صلہ اللہ کے پاس ہے اور (قیامت کے دن) ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہو گا اور نہ وہ اداس ہوں گے (62:2)

اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں (تیار) ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے (199:3)

جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی ان کو (قیامت کے دن) نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ اداس ہوں گے (69:5)

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا (یعنی) اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے (58:19)

IT IS INCUMBENT UPON ALL THE PEOPLE OF SCRIPTURES TO ACCEPT THE PROPHETHOOD OF MUHAMMAD (SAAS) AND HOLY QURAN TO QUALIFY AS BELIEVER

الإيمان بالرسول محمد ﷺ وبالقرآن الكريم فرض على أهل الكتاب

تمام اہل کتاب کیلئے بھی رسول کریم حضرت محمد ﷺ اور قرآن پاک پر ایمان لانا فرض ہے

FUNDAMENTALS OF ISLAM - PRE - REQUISITES OF ENTERING INTO FAITH (BECOMING A BELIEVER) BELIEF IN ALLAH (SWT) -PROPHET MUHAMMAD (SAAS) AND HOLY QURAN

الشروط اللازمة للإيمان .. ايمان بالله و بالنبي محمد و بالقرآن الكريم

ایمان لانے کے لئے بنیادی شرائط اللہ تعالیٰ - نبی کریم محمد ﷺ اور قرآن پاک پر ایمان

And those who believe and do righteous deeds and believe in that which is revealed to Muhammad - - for it is the truth from their Lord-- He rids them of their ill deeds and improves their attitude. (47:2)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٤٧﴾ محمد ٢

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو (کتاب) محمد پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا (دین) بھی وہی ہے۔ اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیئے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ (2:47)

That is because those who disbelieve follow falsehood and because those who believe follow the truth from their Lord. Thus Allah coins their similitudes for mankind. (47:3)

ذَٰلِكَ يَأْتِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَّبِعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿٤٧﴾ محمد ٣

یہ اس لئے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے (دین) حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے (3:47)

More Reference : 4:79,170 5:15 7:157,158 Page 179/675 181 181,180 18:105,108 34:27,28 50:15,16 62:2,3 181,985 736,180 780,111 165,180

والمزید راجع ٤ النساء: ١١٧٠, ٧٩ ٥ المائدة: ١٥ الاعراف: ١٨٥, ١٨٧ ١٨ الكهف: ١٠٥, ١٠٨ ٣٤ سباء: ٢٨, ٢٧ ٥٠ ق: ١٦, ١٥ ٦٢ الجمعة: ٢, ٣

مزيد حوالہ 4:79,170 5:15 7:157,158 صفحہ 180,181 181 675/179 3,2:62 16,15:50 28,27:34 108,105:18 180,165 111,780 180,736 865,181

THE DEEDS OF NONBELIEVERS ARE LIKE A ROOTLESS TREE WITH NO FOOTHOLD - WHOSO ACTS WITHOUT FAITH DO NOT QUALIFY ANY REWARD BEFORE ALLAH (SWT)

مثل أعمال المشركين كشجرة خبيثة لن يتقبلها الله

کفار کے اعمال کی مثال تجر خبیثہ کی سی ہے جن کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی شرف قبولیت حاصل نہیں

And the similitude of a bad saying is as a bad tree, uprooted from the face of the earth, possessing no stability. (14:26)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثِّتَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ ابراهيم ٢٦

اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے (نہ جز مضبوط نہ شاخیں بلند) زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اس کو ذرا بھی قرار (وثبات) نہیں (26:14)

Allah braces those who believe by a firm speech in the life of the world and in the Hereafter, and Allah lets wrongdoers astray. And Allah does what He wishes. (14:27)

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾ ابراهيم ٢٧

اللہ مومنوں (کے دلوں) کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی (رکھے گا) اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے (27:14)

VAINLY HOPE OF JEWS AND CHRISTIANS OF REMAINING UNQUESTIONED FOR THEIR WRONGDOINGS AND ESCAPING TERROR OF HELL

أمنية اليهود والنصارى نجاتهم من عذاب النار على سوء أعمالهم

یہود و نصاریٰ کی اپنی بد اعمالیوں کے باوجود عذاب دوزخ سے نجات کی خوش فہمی

For Detail Consult : 2:80 3:24 5:18 Page 599

والمزید راجع ٢ البقرة: ٨٠ ٣ آل عمران: ٢٤ ٥ المائدة: ١٨ الضلعة: ٥٩٩

مزيد حوالہ 2:80 3:24 5:18 صفحہ 599

جہاد

(اللہ کی راہ میں لڑنا اور جہاد کرنا)

الجہاد فی سبیل اللہ

"JIHAD" HOLY WAR

STRUGGLE FOR THE CAUSE OF ALLAH (SWT)

JIHAD IS OBLIGATORY

Warfare is ordained for you, though it is hateful to you; but it may happen that you hate a thing, which is good for you, (2:216) PART

Fight in the way of Allah, and know that Allah is Hearer, Knower. (2:244)

الجہاد فرض

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴿٢١٦﴾ البقرة ٢١٦ جزء ٢

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ البقرة ٢٤٤

جہاد فرض ہے

(مسلمانوں) تم پر (اللہ کے راستے میں) لڑنا فرض کر دیا گیا ہے وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجیب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو (216:2) جزو

اور (مسلمانوں) اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ (سب کچھ) سنتا (اور سب کچھ) جانتا ہے (244:2)

More Reference : 4:9 4:74 9:19 16:110 73:20 Page 508, 643, 522, 658, 768

والمزيد راجع ٤ النساء: ٩: ٧٤ ٩ التوبة: ١٩ ١٦ النحل: ١١٠ ٧٣ المزمّل: ٢٠

مزيد حوالہ 4:9 4:74 9:19 16:110 73:20 صفحہ 508, 643, 522, 658, 768 20:73

"JIHAD" IN WHOSE FAVOUR AND AGAINST WHOM?

الجہاد لمن و علی من؟

جہاد کس کے حق میں اور کس کے خلاف؟

PROMULGATION OF "JIHAD"

إذن الجہاد أول مرة

جہاد کا پہلا حکم

JIHAD IN SELF DEFENCE

Sanction is given to those who fight because they have been wronged; and Allah is indeed Able to give them victory; (22:39)

الجہاد ضد الظلم

ظلم کے خلاف جہاد

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنِ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الحج ٣٩

جن مسلمانوں سے (خواہ مخواہ) لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے (کہ وہ بھی لڑیں) کیوں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ (ان کی مدد کرے گا وہ) یقیناً انکی مدد پر قادر ہے (39:22)

WHY TO STRIVE FOR JIHAD OR PARTICIPATE IN JIHAD?

لماذا الجہاد؟

جہاد۔ کیوں؟

JIHAD - FOR RESCUE OF WEAK, MAL-TREATED AND HELPLESS MEN, WOMEN AND CHILDREN FROM OPPRESSORS

الجہاد ضد الظالمين لحماية المستضعفين

بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کو ظالموں کے چنگل سے چھڑانے کے لئے جہاد

Why should you not fight for the cause of Allah and of the feeble among men and of the women and the children who are crying: Our Lord! Rescue us from this town of which the people are oppressors! Oh, Raise for us from Your Presence some protecting friend! Oh, give us from Your Presence some defender! (4:75)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَوْلَاهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ النساء ٧٥

اور تم کو کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان ظالموں (کے گاؤں) سے ہمیں نجات دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما (75:4)

DEAL HARSHLY AND BE STERN WITH DISBELIEVERS AND HYPOCRITES DURING JIHAD

O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites! Be harsh with them. Their ultimate abode is hell, a hapless journey's end. (9:73) (66:9)

اغظوا على الكفار والمنافقين
اثناء الجهاد

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

﴿٩ التوبة ٧٣﴾ ﴿٦٦ التحريم ٩﴾

کافروں اور منافقین سے
جہاد کے دوران سختی کرو

اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھیں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے (9:66) (73:9)

More Reference : 9:29 25:52 Page 490,649

وللمزيد راجع ٩ التوبة: ٢٩ ٢٥ الفرقان: ٥٢

مزيد حوالہ 9:29 25:52 صفحہ 490,649

JIHAD AGAINST SATAN AND HIS PATRONS

BELIEVERS ALWAYS FIGHT ONLY FOR THE CAUSE OF ALLAH (SWT)

Those who believe do battle for the cause of Allah; and those who disbelieve do battle for the cause of idols. So fight the minions of the devil. Indeed the devil's strategy is ever weak. (4:76)

الجهاد ضد الشيطان و ذريته

المؤمنون يقاتلون في سبيل الله فقط

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ
كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

﴿٤ النساء ٧٦﴾

شیطان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جہاد

اہل ایمان صرف اللہ تعالیٰ کے
لئے لڑتے ہیں

جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لئے جہاد کرتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں سو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو (اور ڈرو مت) کیوں کہ شیطان کا داؤ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے (76:4)

HOW LONG JIHAD SHALL CONTINUE?

And fight them until persecution is no more, and religion is for Allah. ----- (2:193) PART

إلى متى يستمر الجهاد؟

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
الدِّينُ لِلَّهِ -----

﴿٢ البقرة ١٩٣﴾ جزء

جہاد کب تک جاری رہے؟

اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب آجائے ----- (193:2) جزو

And fight them until persecution is no more, and religion is all for Allah. But if they cease, then surely Allah is Seer of what they do. (8:39)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ
بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

﴿٨ الانفال ٣٩﴾

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ (یعنی کفر کا فساد) باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اور اگر باز آجائیں تو اللہ انکے کاموں کو دیکھ رہا ہے (39:8)

JIHAD-IS A GOOS DEAL (A BARTER OF WORLDLY LIFE FOR THE HEREAFTER)

Let those fight in the way of Allah who sell the life of this world for the other. Whoever fights in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward. (4:74)

الجهاد في سبيل الله بيع رابح

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

﴿٤ النساء ٧٤﴾

جہاد ایک اچھا سودا ہے

تو جو لوگ آخرت (کو خریدتے اور اس) کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں انکو چاہئے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے پھر شہید ہو جائے یا غالب آجائے ہم یقیناً اس کو بڑا ثواب دیں گے (74:4)

JIHAD - A SOURCE TO EARN PLEASURE OF ALLAH (SWT)

And of mankind is he who would sell himself, seeking the pleasure of Allah; and Allah has compassion on (His) bondmen. (2:207)

الجهاد يوجب مرضات الله

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾
﴿٢ البقرة ٢٠٧﴾

جہاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے

اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے (2:207)

ALLAH (SWT) TAKES, SOUL AND WEALTH OF BELIEVERS AND REWARDS EVERLASTING FELICITY

بيع المؤمنین أنفسهم وأموالهم بالجنة

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال بہشت کے بدلے خرید لئے ہیں

JIHAD WAS ALSO ORDAINED IN THE TORAH AND GOSPEL (WHICH HAS SINCE BEEN TEMPERED)

كان الامر بالجهاد موجودا في التورة والانجيل ثم حرفه اهل الكتاب

اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا حکم تورات اور انجیل میں بھی دیا گیا تھا جس میں تحریف کر دی گئی ہے

No doubt Allah has bought from the believers their lives and their wealth because the Garden will be theirs: they shall fight in the way of Allah and shall slay and be slain. It is a promise, which is binding on Him in the Torah and the Gospel and the Quran. Who fulfills his covenant better than Allah? Rejoice then in your bargain that you have made, for that is the Supreme triumph. (9:111)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩ التوبة ١١١﴾

بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں (اور اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا سے ضرور ہے۔ اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سو داتم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے (9:111)

JIHAD - A BARGAIN THAT WILL SAVE FROM PAINFUL TORMENT

الجهاد تجاره منجية من عذاب اليم

جہاد۔ عذاب الیم سے نجات دلانے والی تجارت

you who believe! Shall I show you commerce that will save you from painful doom? (61:10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ ﴿١٠ الصَّف ١٠﴾

مومنو! میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں گا جو تمہیں دردناک عذاب سے بچالے (10:61)

you should believe in Allah and His messenger, and should strive for the use of Allah with your wealth and your lives. That is better for you, if you did but know. (61:11)

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١ الصَّف ١١﴾

(اور یہ کہ) اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے (11:61)

JIHAD - A WAY OF SEEKING FORGIVENESS FROM ALLAH (SWT)

الجهاد كفارة للذنوب

جہاد۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ

Allah will forgive you your sins and put you into Gardens underneath which rivers flow and pleasant dwellings in Gardens of Eden. That is the Supreme triumph. (61:12)

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢ الصَّف ١٢﴾

وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغات جنت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو کہ ہمیشہ رہنے والی بہشت میں (تیار) ہیں داخل کرے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے (12:61)

STEADFASTNESS IS KEY TO SUCCESS

الاستقامة والثبات مفتاح للنصر

کامیابی کے لئے ثابت قدمی شرط ہے

NEVER LOOSE HEART - NOR FALTER

لا تضعوا بل تكونو متجلدين

نہ ہمت ہارو اور نہ بزدلی دکھاؤ

MANY OF THE PROPHETS FOUGHT IN THE WAY OF ALLAH (SWT) ALONG WITH THEIR DEVOUT PEOPLE

کم من بنی قاتل معہ ربیون کثیر

بہت سے پیغمبروں نے اہل اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا

And with how many a Prophets have there been a number of devoted men who fought (beside them). They quailed not for anything that befell them in the way of Allah, nor did they weaken, nor were they brought Low. Allah loves the steadfast. (3:146)

وَكَأَيِّن مِّن تَبِي قَاتِل مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

اور بہت سے نبی ہوئے جن کے ساتھ مل کر انہیں اللہ جہاد کر چکے ہیں تو تکلیفیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ (کافروں سے) ڈبے اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے (146:3)

So Allah gave them the reward of the world and the 'good reward of the Hereafter. Allah loves those whose deeds are good. (3:148)

فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ (دے گا) اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (3:148)

More Reference : 3:122 8:45
Page 698, 652

والمزید راجع 3 آل عمران: 122 8 الأنفال: 45
الصفحة 652, 698

مزید حوالہ 3:122 8:45
صفحہ 652, 698

WHO CAN BE EXEMPTED FROM PARTICIPATION IN JIHAD

المستثنون من المشاركة في الجهاد

جہاد میں شرکت سے کس کو رعایت مل سکتی ہے جائز عذر کے باعث (مستثنیٰ لوگ)

There is no blame for the blind, nor is there blame for the lame, nor is there blame for the sick (that they go not forth to war). And whoever obeys Allah and His messenger, He will make him enter Gardens underneath which rivers flow and whoever turns back, He will punish him with a painful doom. (48:17)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعدِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٤٨﴾

نہ تو اندھے پر کوئی حرج ہے (کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے) اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جو منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا (17:48)

BELIEVERS ARE EAGER TO PARTICIPATE IN JIHAD, ON CALL

لا يزال المؤمنون على استعداد للجهاد

اہل ایمان جہاد میں شرکت کے لئے ہر وقت مستعد (تیار) رہتے ہیں

And those who believe say: If only a surah were revealed! (For striving in the way of Allah)----- (47:20)PART

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ----- ﴿٤٧﴾ محمد 20 جزء

اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ (جہاد کی) کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ ----- (20:47) جزو

LIFE AND DEATH OF BELIEVER BELONG TO ALLAH (SWT)

المؤمن محيا و مماته لله تعالى

مومن کا اللہ تعالیٰ کے لئے جینا اور مرنا

Say: Truly my worship and my sacrifice and my living and my dying are for Allah, Lord of the Worlds: (6:162)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

(یہ بھی) کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب (صرف) اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے (162:6)

MOTIVATE THE BELIEVERS FOR JIHAD

So fight in the way of Allah you are not taxed (with the responsibility for anyone) except for yourself and urge on the believers. Perhaps Allah will restrain the might (fury) of those who disbelieve.

(4:84) PART

تحريض المومنين على الجهاد

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ الْإِنْسَانَ
وَحَرْصِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا

﴿٤ النساء ٨٤﴾ جزء

اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم

تم اللہ کی راہ میں لڑو۔ تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اور مومنوں کو بھی ترغیب دو کہ قریب ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے۔

(84:4) جزو

MAINTAIN DETERRENCE TO THE DISBELIEVERS WHO HEM

O you who believe! Fight those of the disbelievers who are near to you, and let them find how tough you are. And know that Allah is with those who keep their duty (to Him). (9:123)

إظهار القوة والفظاظة على الكفار المجاورين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ
مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

﴿٩ التوبة ١٢٣﴾

نزدیک کے کافر دشمن پر دباؤ ڈالے رکھو

اے اہل ایمان! اپنے نزدیک کے (رہنے والے) کافروں سے جنگ کرو۔ اور چاہئے کہ وہ تم میں سختی (یعنی محنت و قوت جنگ) پائیں اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے (123:9)

More Reference : 8:60 Page 440

وللمزيد راجع ٨ الأنفال: ٦٠ الصفحة ٤٤٠

مزید حوالہ 60:8 صفحہ 440

MODUS OPERANDI OF PARTICIPATION IN JIHAD

And the believers should not all go out to fight. Of every troop of them, a Squardon from each division of them should march forth, that they who are left behind) may gain sound knowledge in religion, and that they may warn their folk when they return to them, so that they may take precautions. (9:122)

أسلوب المشاركة في الجهاد

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا
نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

﴿٩ التوبة ١٢٢﴾

جہاد میں شرکت کا طریقہ

اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہئے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سوا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ اس کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط کریں (122:9)

GUARD YOUR TERRITORY WITH ENDURANCE

O you who believe! Act patient discipline yourselves and hold yourselves ready and observe your duty to Allah, in order that you may succeed. (3:200)

حراسة ثغور الوطن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاطِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿٣ آل عمران ٢٠٠﴾

وطن کی سرحدوں کی حفاظت کیلئے مورچہ بندی

اے اہل ایمان (کفار کے مقابلے میں) ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور (مورچوں پر) جمے رہو۔ اور اللہ سے ڈرو۔ تاکہ مراد حاصل کرو (200:3)

More Reference : 16:81 Page 333/339

وللمزيد راجع ١٦ النحل: ٨١ الصفحة ٣٣٩/٣٣٣

مزید حوالہ 81:16 صفحہ 339/333

ORDER OF MARCH FOR JIHAD

انفروا للقتال شاکی السلاح جميعا

مسلح دستوں کے کوچ کا حکم

PRECAUTIONARY MEASURES IN JIHAD

O you who believe! Take your precautions, and march off in detachments, or advance all together. (4:71)

الخطوات التحذيرية للخطر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذوا حذرکم فانفروا اثباتاً
أو انفروا جميعاً

﴿٤ النساء ٧١﴾

خطرے کی پیش بندی

مومنو (جہاد کے لئے) ہتھیار لے لیا کرو پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے نکل کھڑے ہو (71:4)

SINEWS OF WAR AND PEACE

صنع الأسلحة بالحديد
وكذلك أدوات أخرى
للاستخدام في الحرب والأمن

سامان حرب وسامان تحفظ
(برائے جہاد وامن)

-----He made you garments to protect you from heat, and coats of mail to protect you from your (mutual) violence. -----
(16:81) PART

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَائِيلَ
تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ
﴿١٦ النحل ٨١﴾ جزء

----- اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے چائیں اور (ایسے) کرتے بھی جو تم کو (اسلحہ) جگ (کے ضرر) سے محفوظ رکھیں -----
(81:16) جزو

-----And We sent iron, (down laden with grim violence) wherein is mighty power and (many) uses for mankind, and that Allah may know them who help Him and His messengers, though unseen. Indeed Allah is Strong, Almighty. (57:25) PART

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧ الحديد ٢٥﴾ جزء

----- اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے اور لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں اور اس لئے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں ان کو اللہ جان لے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔
(25:57) جزو

More Reference : 21:79,80 34:11
Page 333/339, 1068, 1069

واللغزير راجع ٢١ الانبياء: ٨٠، ٧٩: ٣٤ سبأ: ١١
الصفحة ٣٣٣/٣٣٩، ١٠٦٨، ١٠٦٩

مزید حوالہ 21:79,80 34:11
صفحہ 333/339, 1068, 1069

TIT FOR TAT ACTION AGAINST ENEMY IN JIHAD

لقاء العدو بالإعداد
الحربی علی السواء

دشمن سے برابر کی ٹکر لینے کا حکم

-----And one who attacks you, attack him like manner as he attacked you. Observe your duty to Allah, and know that Allah is with those who ward off (evil). (2:194) PART

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤ البقرة ١٩٤﴾ جزء

----- اور اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے (2:194) جزو

DAWN ATTACK BY CAVALRY

منظر غزو المجاہدین علی الکافرین صباحاً

مجاہدین کی صبح کے وقت منکرین پر لشکر کشی کا منظر

By the snorting chargers (war - horses) (100:1)

وَالْعُدَيِّبِ صَبَاحًا ﴿١٠٠ الغدیت ١﴾

ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں (1:100)

Striking sparks of fire (with their hooves) (100:2)

فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ﴿١٠٠ الغدیت ٢﴾

پھر پتھروں پر (نعل) مار کر آگ نکالتے ہیں (2:100)

And scouring to the raid at dawn, (100:3)

فَالْبُعْدِيِّتِ صَبَاحًا ﴿١٠٠ الغدیت ٣﴾

پھر صبح کو دھاوا بولتے ہیں (3:100)

Then, therewith, with their trail of dust, (100:4)

فَأَثَرُنَّ بِهَا نَقْعًا ﴿١٠٠ الغدیت ٤﴾

پھر اس میں گرد و غبار اڑاتے ہیں (4:100)

فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

﴿١٠٠ العنكبوت﴾

پھر اس وقت (دشمن کی) فوج میں جاگتے ہیں
(5:100)

DEVIATING FROM THE INSTRUCTIONS
OF COMMANDER CAN TURN
VICTORY INTO DEFEAT

For Detail Consult : 3:155,165 Page 705
Consult Chapter "The Battle of Uhud"

مخالفة وصية الأمير تستلزم الهزيمة

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٥٥، ١٦٥
راجع باب: غزوة أحد

کمانڈر (سپہ سالار) کے حکم کی خلاف ورزی
فتح کو شکست میں بدل سکتی ہے

مطالعہ ہوابہ 3: 165, 155 صفحہ 705
مطالعہ باب: غزوة أحد

COMBAT READINESS TO STRIKE

Prepare any (military) strength you
can muster against them and any
cavalry posts that thereby you may
dismay the enemy of Allah and your
enemy, and others besides them
whom you know not. Allah knows
them. Whatsoever you spend in the
way of Allah it will be repaid to you
in full, and you will not be wronged.
(3:60)

وسائل النقل الحربية السريعة

تیز رفتار جنگی وسائل نقل و حمل
دشمن کو خوف زدہ رکھو

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ
رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾
﴿٨ الانفال﴾

اور جہاں تک ہو سکے (فوج کی قوت سے) اپنی بھر
پور قوت سے اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے ان کے
(مقابلے کے) لئے (تیار) رہو کہ اس سے تم اللہ کے
دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو
بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہا
ہے۔ اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا
ثواب تم کو پورا پورا دیا جائیگا اور تمہارا حق بھی نہیں مارا
جائے گا (60:8)

TAKE EVERY PRECAUTION
OF YOUR ARMOUR AND INSTALLATIONS

PROCEDURE FOR KEEPING UP SALAT
IN THE BATTLEFIELD

لا تغفلوا عن الأسلحة والمتاع

كيفية الصلوة في ساحة الحرب

And when you are among them and
arrange (their) worship for them,
stand to lead them in prayer) let
only a party of them stand with you
(to worship) and let them take their
arms. Then when they have
performed their prostrations let
them fall to the rear and let another
party come that has not worshipped
and let them worship with you, and
let them take their precaution and
their arms. Those who disbelieve
are longing for you to neglect your arms
and your baggage that they may
attack you once for all. It is no sin
on you to lay aside your arms, if
it impedes you or you are sick.
So take your precaution. No doubt
Allah prepares for the disbelievers
a shameful punishment. (4:102)

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ
طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُوا فَأَنْقِضُوا مِنْ ورائكم وَاذَاتِ طَائِفَةٌ
أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
حُدُودَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ
فَيَبْسِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ
مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حُدُودَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾
﴿٤ النساء﴾

دشمن سے کسی وقت غافل نہ رہو سامان حرب
اور دفاعی تنصیبات کی ہمہ وقت نگرانی

میدان جنگ میں نماز کا طریقہ کار

اور جب تم ان (مجاہدین کے لشکر) میں ہو اور ان کو
نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت
تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے۔ جب وہ سجدہ
کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آجائیں پھر
دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی (ان کی
جگہ) آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ
نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے
ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یکبارگی
حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا
بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو مگر
ہوشیار ضرور رہنا اللہ نے کافروں کے لئے ذلت کا
عذاب تیار کر رکھا ہے (102:4)

**FIGHT WHOLE HEARTEDLY
STRIVE TRULY AND SELFLESSLY**

And strive for Allah with the endeavor which is His right. (With sincerity and under discipline) ----- (22:78) PART

جاهدوا حق الجهاد

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿٢٢﴾ الْحَجَّ ٧٨ ﴿جزء﴾

ایسے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے

اور اللہ (کی راہ) میں جہاد کرو۔ جیسا جہاد کرنے کا حق ہے ----- (78:22) جزو

**STRIVE WITH UTMOST
STRENUOUSNESS**

So obey not the disbelievers, but strive against them herewith with a great endeavor. (25:52)

قاتلوا بعنف و صرامة

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِمْ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٢٥﴾ الْفُرْقَانَ ٥٢ ﴿﴾

شدومد (بھر پور طاقت) سے لڑو

تو تم کافروں کا کہانہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق پوری طاقت سے بڑا جہاد کرو (52:25)

**HOLD TOGETHER AGAINST ASSAULT
AS A SOLID
CEMENTED STRUCTURE**

Indeed Allah Loves those who fight for His cause in ranks, as if they were a solid structure. (61:4)

قاتلوا العدو صفا
كالبنیان المرصوص

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بِنِيَانٍ مُّرْصُوصٍ ﴿٤﴾ الْصَّفِّ ٤ ﴿﴾

دشمن کے مقابلہ میں صف بستہ ہو کر
سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ

بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں (ایسے طور پر) صف بستہ جہاد کرتے ہیں کہ گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں (4:61)

**FIGHT IDOLATERS COLLECTIVELY
TO A FINISH JUST AS THEY FIGHT YOU**

----- And (fight) wage war on all the idolaters as they are (fighting) waging war on all of you. And know that Allah is with those who keep their duty (to Him). (9:36) PART

قاتلوا المشركين كافة
كما يقاتلونكم كافة

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ التَّوْبَةِ ٣٦ ﴿جزء﴾

تم بھی سب مشرکوں سے لڑو

اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ (36:9) جزو

**DOCILE TOWARDS BELIEVERS AND STERN
AGAINST REJECTORS**

O you who believe! Whoso of you becomes a renegade from his religion, (know that in his stead) Allah will bring a people whom He loves and who loves Him, humble towards believers, stern towards disbelievers, striving in the way of Allah and fearing not the blame of any blamer. Such is the grace of Allah which He gives to whom He wills Allah is All Embracing, All Knowing. (5:54)

المؤمن رحيم للمؤمنين
وشديد على الكفار

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ الْمَائِدَةِ ٥٤ ﴿﴾

ہو حلقہ یاران بریشم کی طرح نرم
رزماً حق و باطل ہو تو نولا دہے مومن

اے ایمان والو! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اللہ بڑی وسعت والا (اور) جاننے والا ہے (54:5)

STRIVE WITH YOUR WEALTH (BELONGINGS) AND PERSONS (LIVES)

The (true) believers are those only who believe in Allah and His messenger and afterward doubt not, but strive with their wealth and their lives for the cause of Allah. Such are the sincere. (49:15)

More Reference : 4:74,95 9:20,24 61:10,11 Page 643, 651, 657, 644

ALL BELIEVERS ARE ORDAINED TO JOIN HOLY WAR WITH THEIR AVAILABLE RESOURCES

For Detail Consult : 9:41 Ch: "Tabuk" Page 720

MAKING A SHOW CONTRIBUTION FOR THE CAUSE (HOLY WAR) BY HYPOCRITES IS IN ORDER TO KEEP UP THERE PRETENCE

For Detail Consult : 9:53 Ch: "Tabuk" Page 721

MOST GENEROUS REWARD FOR THE SUPPORTERS OF WARRIORS IN DEFENCE OF FAITH

No doubt those who believed and left their homes and strove with their wealth and their lives for the cause of Allah, and those who took them in and helped them; these are protecting friends of each other. And those who believed but did not leave their homes, you have no duty to protect them till they leave their homes; but if they seek help from you in the matter of religion then it is your duty to help (them) except against a folk between whom and you there is a treaty. Allah is Seer of what you do. (8:72)

More Reference : 8:74 Page 671

NO HEART CLINGS (KITH AND KIN WEALTH-COMMERCE AND DWELLINGS) SHOULD HINDER YOU IN PARTICIPATION IN JIHAD

ay: If your fathers, and your sons, and your brothers, and your wives, and your tribe, and the wealth you have acquired, and merchandise for which you fear that there will be no sale, and dwellings you desire are dearer to you than Allah and His

الجهاد يكون بالأموال وبالأنفس

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٤٩ الحجرات ١٥﴾

والمزيد راجع ٤ النساء: ٩٥، ٧٤: ٩ التوبة: ٢٤، ٢٠: ٦١ الصف: ١١٠: ١١

الاشتراك في القتال واجب عند النفير العام مهما كانت الظروف والوسائل

والمزيد راجع ٩ التوبة: ٤١ راجع باب: غزوة تبوك

عرض المنافقين المساعدة المالية بدلاً من اشتراكهم بأنفسهم في القتال غير مقبول

والمزيد راجع ٩ التوبة: ٥٣ راجع باب: غزوة تبوك

نصرة المجاهدين وأجرها

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾
﴿٨٠ الانفال ٧٢﴾

والمزيد راجع ٨ الانفال: ٧٤ الصفحة ٦٧١

لا يكن حب الأقارب والأموال عرقلة في الجهاد

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ
مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ

جهاد میں جان اور مال دونوں سے لڑنے کا حکم

مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑے۔ یہی لوگ (ایمان کے) سچے ہیں (15:49)

مزید حوالہ 11,10:61 24,20:9 95,74:4 صفحہ 644, 657, 651, 643

تمام مسلمانوں کو حسب حال اپنے وسائل اور اسباب کے ساتھ جہاد میں بہر صورت شمولیت کا حکم

مزید حوالہ 41:9 مطالعہ باب غزوة تبوک صفحہ 720

منافقین کی جہاد میں شمولیت کے بدلے مال و دولت کے ذریعے امداد کی پیشکش ناقابل قبول

مزید حوالہ 53:9 مطالعہ باب غزوة تبوک صفحہ 721

مجاہدین کی مدد اور اس کا اجر

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال جان سے لڑے۔ وہ اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تولے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ اور اگر وہ تم سے دین (کے معاملات) میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے۔ مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں (صلح کا) عہد ہو (مدد نہیں کرنی چاہیے) اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے (72:8)

مزید حوالہ 74:8 صفحہ 671

رشتہ داروں اور جائیداد کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد میں رکاوٹ نہ بنے

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کھاتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے

messenger and striving in His way: then wait till Allah brings His command to pass. Allah guides not wrongdoing folk. (9:24)

وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَأَلَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٩﴾

رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم (یعنی عذاب) بھیجے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (24:9)

﴿٩ التوبة ٢٤﴾

More Reference :

9:42,43,44,45,46,49,50,52,83,86,87,90
Page 721,722,723

وللمزيد راجع ٩ التوبة: ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٩، ٥٠، ٥٢، ٨٣، ٨٦، ٨٧، ٩٠
الصفحة ٧٢١، ٧٢٢، ٧٢٣

مزید حوالہ 9:42,43,44,45,46,49,50,52,83,86,87,90
صفحہ 721,722,723 90,87,86

PREFERENCE TO THOSE WHO STRIVE OVER SEDENTARY

المجاهدون أعظم درجة من القاعدين

جہاد میں شریک ہونے والے گھروں میں بیٹھے رہنے والوں سے درجہ میں بڑے ہیں

PREFERENCE IN GRADES TO THOSE WHO STRIVE WITH THEIR PROPERTY AND LIVES

درجات المجاہدين بالأموال والأنفس

مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے درجات

Those of the believers who sit still, other than those who have a (disabling) hurt, are not on equality with those who strive in the way of Allah with their wealth and lives. Allah has conferred on those who strive with their wealth and lives a rank above the sedentary. To each Allah has promised good, but He has bestowed on those who strive a great reward above the sedentary; (who stay at home). (4:95)

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں (اور لڑنے سے جی چراتے) ہیں اور کوئی (جائز) عذر نہیں رکھتے وہ اور جو اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے۔ اور (گو) نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے (95:4)

Such as (higher) ranks, bestowed by Him, and forgiveness and mercy. Allah is ever Forgiving, Merciful. (4:96)

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾

ان کے لئے اللہ کے ہاں بڑے درجے بھی ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا (اور) مہربان ہے (96:4)

THE PEOPLE SLUGGISH TO RESPOND THE CALL OF HOLY WAR FOR CLINGING TO WORLDLY GAINS WERE DETERRED

إنذار للقاعدين الطالبين الدنيا والكسالى إلى نداء القتال

جہاد میں دنیاوی نعمتوں کی خاطر شمولیت سے گریز کرنے والوں کو تنبیہ

For Detail Consult : 9:38,39,41,81 Page 720
Consult Chapter: "Tabuk"

وللتفصيل راجع ٩ التوبة: ٣٨، ٣٩، ٤١، ٨١
راجع باب: غزوة تبوك

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:38,39,41,81 صفحہ 720
مطالعہ باب غزوة تبوك

THE FIRE OF HELL IS FIERCE THAN THE HARSHNESS OF TRAVEL FOR HOLY WAR A MESSAGE FOR THOSE WHO WERE LEFT BEHIND IN TABUK EXPEDITION AND WERE REJOICED IN SITTING BACK

نار جهنم أشد حراً فلاتكا سلوا في السفر في حر الصيف

محض تن آسانی کے لیے جہاد سے گریز کی ممانعت سفر کی صعوبتوں اور موسم کی شدت کو جہاد میں شمولیت کے لیے خاطر میں نہ لانے کا حکم

DO NOT SLACK IN FOLLOWING THE ENEMY

لا تهنو في مطاردة العدو في ساحة القتال

دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو

Relent not in pursuit of the enemy. If you are suffering, No doubt they suffer even as you suffer and you hope from Allah that for which they cannot hope. Allah is ever Knower, Wise. (4:104)

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمِنُونَ كَمَا تَأْمِنُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں اور تم اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے اور اللہ سب کچھ جانتا (اور) بڑی حکمت والا ہے (104:4)

**FEAR OF MEETING DEATH
SHOULD NOT REFRAIN YOU
FROM PARTICIPATION IN JIHAD**

لا تَكُنْ خَشْيَةَ الْمَوْتِ مَانِعًا فِي الْجِهَادِ

**موت کا خوف جہاد میں
شرکت سے رکاوٹ نہ بنے**

O you who believe! Be not as those who disbelieved and said to their brothers who went abroad in the land (travelled on the earth) or were fighting in the field: If they had been (here) with us they would not have died or been killed; that Allah may make it anguish in their hearts. Allah gives life and causes death; and Allah is Seer of what you do. (3:156)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾
﴿٣ آل عمران ١٥٦﴾

مومنو! ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ جو کفر کرتے ہیں اور ان کے (مسلمان) بھائی جب (اللہ کی راہ میں) سفر کریں (اور مرجائیں) یا جہاد کو نکلیں (اور مارے جائیں) تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے۔ اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے (156:3)

Core Reference: 4:78 Page 98/369
Consult Chapter Expedition of Tabuk
Page: 720

والمزيد راجع ٤ النساء: ٧٨ الصفحة ٩٨/٣٦٩
انظر باب غزوة تبوك
الصفحة ٧٢٠

والمزيد راجع ٤ النساء: ٧٨ الصفحة ٩٨/٣٦٩
انظر باب غزوة تبوك
الصفحة ٧٢٠

**REWARD FROM ALLAH (SWT) FOR
ONE WHO IS KILLED OR DIES DURING JIHAD
IS FAR BETTER THAN WORLDLY GAINS**

القتل في سبيل الله خير من متاع الدنيا

**اللہ کی راہ میں موت دنیا کے
مال و متاع سے بہتر ہے**

And what though you be slain in Allah's way or die therein? Surely pardon from Allah and mercy is better than all that they amass. (3:157)

وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾
﴿٣ آل عمران ١٥٧﴾

اور اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ یا اپنی موت مرد تو جو (مال و اسباب) لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش (اور رحمت) کہیں بہتر ہے (157:3)

Let if you be slain or die, still to Allah you will be gathered? (3:158)

وَلَيْنَ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾
﴿٣ آل عمران ١٥٨﴾

اور اگر تم مرجاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کئے جاؤ گے (158:3)

NO ONE CAN ESCAPE DEATH

لا مَنَاصَ مِنَ الْمَوْتِ

موت سے فرار کی کوئی راہ نہیں

Wheresoever you may be, death will overtake you, even though you are well-built towers. (78) PART

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ رَبَّكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ
﴿٤ النساء ٧٨﴾ جزء

(اے جہاد سے ڈرنے والو) تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی خواہ بڑے بڑے (قلعوں) میں رہو (78:4)

Core Reference : 3:145,185 7:34,185 21:35
Page 433/771 771,772 419/771
26,27 57:29 62:8
04 390 772

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٤٥، ١٨٥، ٢١٤ الأعراف: ٧٧١، ٧٧٢ الأنبياء: ٣٥
٢٩:٢٦:٢٧ ٥٧ الحديد: ٢٩
الجمعة: ٨

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٤٥، ١٨٥، ٢١٤ الأعراف: ٧٧١، ٧٧٢ الأنبياء: ٣٥
٢٩:٢٦:٢٧ ٥٧ الحديد: ٢٩
الجمعة: ٨

**PRAY FERVENTLY TO ALLAH (SWT)
DURING JIHAD**

كثرة ذكر الله عند لقاء العدو

دوران جہاد اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو

O you who believe! When you meet army, hold firm and remember Allah often that you may be successful. (8:45)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾
﴿٨ انفال ٤٥﴾

مومنو! جب (کفار کی) کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو (45:8)

PRAY TO STAND FIRM DURING JIHAD

Their statement was only that they said: Our Lord! Forgive us for our sins and wasted efforts, make our foothold sure, and give us victory over the disbelieving folk. (3:147)

الدعاء خلال الجهاد لتثبيت الأقدام

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾
﴿٣ آل عمران ١٤٧﴾

جہاد کے دوران ثابت قدمی کے لئے دعا

اور (اس حالت میں) ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادیتاں جو ہم نے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما۔ اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت فرما (147:3)

RELY ON ALLAH (SWT) WHILE ENCOUNTER WITH ENEMY

If Allah is your helper none can overcome you, and if He withdraws His help from you, who is there who can help you? In Allah let believers put their trust. (3:160)

التوكل على الله عند لقاء العدو

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾
﴿٣ آل عمران ١٦٠﴾

دشمن سے مدد بھڑ (آمناسامنا) ہونے پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا

اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں (160:3)

WITHDRAWAL (RETREAT) IS ONLY ALLOWED IN JIHAD AS A WAR STRATAGEM TO MANEUVER OR TO JOIN OWN DETACHMENT

For Detail Consult : 8:16 Page 700

جواز التفهیر خلال القتال فی سبیل اللہ متحرفا للقتال أو لالتحاق فئ

وللمزيد راجع ٨ الأنفال: ١٦: الصفحة ٧٠٠

دوران جہاد جنگی حکمت عملی کے تحت یا اپنی سپاہ کے کسی حصے سے جانے کے لئے پیش قدمی قدمی کی اجازت

مزيد حوالہ 16:8 صفحہ 700

DISCIPLINED BELIEVERS ARE PROMISED TO VANQUISH NUMEROUS DISBELIEVERS

CONFIDENT ENTHUSIASM AND PATIENCE IS KEY TO VICTORY

O Prophet! Exhort the believers to fight. If there be of you twenty steadfast they shall overcome two hundred, and if there be of you a hundred steadfast they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they (the disbelievers) are a folk without intelligence. (8:65)

Now Allah has lightened your burden, for He knows that there is weakness among you. So if there be of you a steadfast hundred they shall overcome two hundred, and if there be of you a thousand (steadfast) they shall overcome two thousand by permission of Allah. Allah is with the steadfast. (8:66)

وعد الله بغلبة فئة قليلة من المؤمنين على فئة كثيرة من الكفار

الفتح يتوقف على الإيمان والصبر

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾
﴿٨ الأنفال ٦٥﴾

إِنَّ اللَّهَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾
﴿٨ الأنفال ٦٦﴾

اہل ایمان کی قلیل تعداد کا کفار کی کثیر تعداد پر غلبہ کا وعدہ

فتح کا انحصار ثابت قدمی اور استقامت قوت ایمان پر ہے

اے نبی! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ اگر آپ میں بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسو کافروں پر غالب رہیں گے۔ اور اگر سو (ایسے) ہوں گے تو ہزار پر غالب رہیں گے۔ اس لئے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے (8:65)

اب اللہ نے تمہارے اندر تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ (ابھی) تم میں کسی قدر توانائی ہے۔ پس اگر تم میں ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسو پر غالب رہیں گے اور اگر ایک ہزار ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے (8:66)

More Reference : 3:200 16:81 Page 646 Consult : Chapter Battle of Badar Page: 698

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ٢٠٠: ١٦ النحل: ٨١: النظر باب غزوة بدر الصفحة ٦٩٨

مزيد حوالہ 200:3 81:16 صفحہ 646 دیکھئے فزود بدر صفحہ 698

NUMERICAL STRENGTH OF TROOPS AND MARTIAL ADVANTAGE CAN NOT BE A CRITERIA OF VICTORY

Allah has given you victory on many fields and on the day of Uhayn, when you exulted in your multitude but it availed you nothing and the earth, vast as it is, was fattened for you; then you turned back in retreat. (9:25)

بہت کثیر العدد والأسلحة معياراً للانتصار في الحرب

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَجْبَثْتُمْ كَثْرَتِكُمْ فَلََمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّ ضَاقَتْ عَلَیْكُمْ اَلْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ ﴿۲۵﴾

محض ظاہری اسباب اور تعداد کی کثرت کامیابی کا معیار نہیں

اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو غلبہ دیا ہے اور (جنگ) حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی (جماعت کی) کثرت پر ناز تھا تو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود (اتنی بڑی) کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے (9:25)

Reference : 2:249 3:173 8:19 26:54 24: Page 1064, 706, 700, 1035, 782

المزید راجع ۲ البقرة: ۲۴۹ ۳ آل عمران: ۱۷۳ ۸ الأنفال: ۱۹ ۲۶ الشعراء: ۵۴ ۷۲ الجن: ۲۴

المزید حوالہ 2: 249 3: 173 8: 19 26: 54 24: 72 صفحہ 782, 1035, 700, 706, 1064

VARYING FORTUNES ARE TEST OF FAITH

Detail Consult : 3:140,165 Page 705
Consult Chapter "The Battle of Uhud"

الانتصار في الحرب والفشل ابتلاء من الله للمؤمنين

والمزید راجع ۳ آل عمران: ۱۶۵، ۱۴۰ الصفحہ ۷۰۵ راجع باب: غزوة أحد

جہاد میں شکست و فتح۔ ذریعہ آزمائش ایمان

المزید حوالہ 3: 165, 140 صفحہ 705 مطالعہ باب: غزوة أحد

BELIEVERS ARE IN DREAD OF BELIEVERS

FAVOUR OF ALLAH (SWT) IS PROMISED TO BELIEVERS IN JIHAD

All if they turn away, then know the Allah is your protector, a transcendent Patron, a best Helper! (8:0)

O you who believe! If you help Allah, He will help you and will make your foothold firm. (47:7)

He is the One Who sent down serenity into the hearts of the believers that they might add faith to the faith. Allah's are the hosts of the heavens and the earth, and Allah is the Knower, Wise-- (48:4)

You are more awful as a fear in their hearts than Allah. That is because they are a folk who do not comprehend (anything). (59:13)

Or no is he that will be an army for you to help you instead of the Beneficent? The disbelievers are in nothing but illusion. (67:20)

رهبة المؤمنين في صدور الكفار

وعد الله بنصره للمؤمنين المجاهدين

وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۸﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يٰثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿۷﴾

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ السَّكِيْنََةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزِدُّوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ وَاِلٰهٌ جَبُوْدٌ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۴﴾

لَا تَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّكُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۳﴾

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ ﴿۲۰﴾

کفار کے دلوں میں اہل ایمان کی ہیبت

جہاد میں مومنوں کی مدد کا وعدہ

اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا کارساز ہے (اور) خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے (40:8)

اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور تم کو ثابت قدم رکھے گا (7:47)

وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہو۔ اور آسمان اور زمین کے لشکر (سب) اللہ ہی کے ہیں۔ اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (4:48)

(مسلمانوں) تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اس لئے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے (13:59)

بھلا ایسا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے۔ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ (20:67)

More reference : 8:60,65,66 22:39 Page 440, 653, 642

المزید راجع ۸ الأنفال: ۶۰، ۶۵، ۲۲ الحج: ۲۹ الصفحہ ۴۴۰، ۶۵۳، ۶۴۲

المزید حوالہ 8: 66,65,60 22: 39 صفحہ 642, 653, 440

DISBELIEVERS ALWAYS REFRAIN FROM COMBAT

They will not fight against you in a body save in fortified villages or from behind walls. Their adversity among themselves is very great. You think of them as a whole whereas their hearts are diverse. That is because they are a folk who have no sense. (59:14)

ALLAH (SWT) HAS ASSURED THE SAFETY OF BELIEVERS

Then We shall save Our messengers and the believers, in like manner (as of old). It is incumbent upon Us to save believers. (10:103)

من فطرة الكفار الفزع من مواجهة المسلمين في ساحة القتال

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٥٩ الحشر ١٤﴾

وعدده الله المؤكد بنجاة المؤمنين من الكفار

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾
﴿١٠٣ يونس ١٠٣﴾

کفار کی فطرت سائنسے مقابلہ کرنے سے گریز

سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر قلعوں کے قلعوں میں (پناہ لے کر) یاد یواروں کی لڑائی آپس میں ہی بہت سخت ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں مگر ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لئے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں (14:59)

مومنین کو کفار سے نجات ملنے کا وعدہ

اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں (103:10)

More Reference	7:156	10:103	11:66,94
Page	1051	655	943,1003
18:58	21:76,88	23:28	26:65
123	927,1086	925	1038
,119,170	27:53	31:32	36:43
929,970	943	407	340
37:76,115	41:18	44:30	54:34
927,1056	943	597	970

واللہ بیدراجع	٧ الأعراف: ١٥٦	١٠ يونس: ١٠٣
١١ هو: ٩٤, ٦٦	٢١ الأنبياء: ٨٨, ٧٦	٢٣ المؤمنون: ٢٨
٢٦ الشعراء: ١٧٠, ١١٩, ٦٥	٢٧ النمل: ٥٣	
٣١ لقمان: ٣٢	٣٦ يس: ٤٣	٣٧ الصافات: ١١٥, ٧٦
٤١ حم السجدة (صلت): ١٨	٤٤ الدخان: ٣٠	٥٤ القمر: ٢٤
٦٦ التحريم: ١١	٧٠ المعارج: ١٤	

94,66:11	103:10	156:7	میزان حوالہ
1003,943	655	1051	صفحہ
65:26	28:23	88,76:21	58:18
1038	925	1086,927	123
43:36	32:31	53:27	170,119
340	407	943	970,928
34:54	30:44	18:41	115,76:37
970	597	943	1056,927

ALLAH (SWT) SHALL CAST TERROR OF BELIEVERS IN HEARTS OF DISBELIEVERS

We shall cast terror into the hearts of those who disbelieve because they ascribe to Allah partners, for which no warrant has been revealed. Their habitation is the Fire, and hapless the abode of the wrongdoers. (3:151)

ARMY OF ALLAH (SWT) WILL SURELY BE VICTORIOUS

And Our word went forth of old to Our bondmen sent (to warn) (37:171)

That they Surely would be helped, (37:172)

And that Our host, they No doubt would be the victors. (37:173)

So turn aside from them. (O Muhammad) awhile, (37:174)

And watch, for they will (soon) see. (37:175)

تبشیر المؤمنین بالقاء الرعب في قلوب الكفار

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾
﴿٣ آل عمران ١٥١﴾

جند الله هم الغالبون

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الرُّسُلِينَ ﴿١٧١﴾
﴿٣٧ الصفت ١٧١﴾
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧٢﴾
﴿٣٧ الصفت ١٧٢﴾
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾
﴿٣٧ الصفت ١٧٣﴾
قَتُولَ عَدُوِّكُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾
﴿٣٧ الصفت ١٧٤﴾
وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٧٥﴾
﴿٣٧ الصفت ١٧٥﴾

کفار کے دلوں میں مومنوں کا رعب بیٹھ جانے کی خوش خبری

ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھا دیں گے کیوں کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی۔ اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے (151:3)

اللہ کا لشکر ہی غالب رہے گا

اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے (171:37)

کہ وہی کامیاب و کامران ہیں (172:37)

اور ہمارا لشکر غالب رہے گا (173:37)

آپ کچھ دنوں کے لئے ان سے منہ پھیر لیجئے (174:37)

اور انہیں دیکھتے رہئے۔ یہ بھی عنقریب (کفر کا انجام) دیکھ لیں گے (175:37)

**ALLAH (SWT) DELIVERS THE BELIEVERS
EVEN IN UNFAVOURABLE CIRCUMSTANCES**

And remember, when you were few and reckoned feeble in the land, and were in fear lest men should extirpate you, how He gave you refuge, and strengthened you with His help, and made provision of good things for you, that haply you might be thankful. (8:26)

إِنَّ اللَّهَ مُؤَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ظُرُوفٍ
قَاسِيَةٍ وَفِي بَيْئَةٍ غَيْرِ مُلَائِمَةٍ

وَإِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فِي الْأَرْضِ وَأَنْتُمْ تُؤْتَوْنَ
الْأَرْضَ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
فَأَوْسَكُمُ وَيَدَّكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٨ الانفال ٢٦﴾

ناموافق حالات میں بھی اللہ تعالیٰ
اہل ایمان کا کارساز ہے

اور (اس وقت کو) یاد کرو جب تم زمین (مکہ) میں
قلیل اور کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ
لوگ تمہیں کوچ کھسوٹ نہ لے جائیں (یعنی بے خانماں
نہ کر دیں) تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے
تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ
اس کا شکر کرو (26:8)

**CLOSE AT HAND VICTORY
PROCLAIMED TO BELIEVERS**

And (He will give you) another blessing which you will love to have help from Allah and speedy victory. Give good tidings to the believers. (13:13)

بَشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِ مِنَ اللَّهِ
وَبَفَتْحٍ قَرِيبٍ

وَأُخْرَى تَحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ
قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾
﴿٦١ الصف ١٣﴾

مومنوں کو فتح اور نصرت کی خوش خبری

اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو (یعنی تمہیں)
اللہ کی طرف سے مدد (نصیب ہوگی) اور فتح
عنقریب (ہوگی) اور مومنوں کو (اس کی) خوش
خبری سنادو (13:61)

**HELP OF ALLAH (SWT)
THROUGH INVISIBLE FORCES OF NATURE**

you who believe! Remember Allah's favour to you when there came against you hosts, and We sent against them a great wind and hosts you could not see. And Allah is ever peer of what you do. (33:9)

نصر الله يحنود مرئية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُنتُمْ رَاغِبِينَ
إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا لِقَوْمِكُمُ
الْأُولَىٰ لِيَنصُرَنَّهُمْ فَجَاءَكُمُ الْغَيْبُ
الَّذِي كُنتُمْ تُكْفِرُونَ ﴿٩﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٩﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے غائبانہ مدد

مومنوں اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو (اس نے) تم پر
(اس وقت) کی جب فوجیں تم پر (حملہ کرنے کو)
آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر (نازل کئے
جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ
ان کو دیکھ رہا ہے (9:33)

and when the true believers saw the signs, they said: This is that which Allah and His messenger promised. And Allah and His messenger are true. It did but confirmed them in their faith and submission. (33:22)

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا
مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٢٢﴾

اور جب مومنوں نے (کافروں کے) لشکر کو دیکھا تو
کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم
سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا
اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی
(22:33)

Reference : 8:65,66
Page 653

وللمزيد راجع ٨ الأنفال: ٦٥، ٦٦
الصفحة ٦٥٣

مزيد حوالہ 8:65,66
صفحہ 653

DISBELIEVERS ARE ALWAYS COWARD

They will not harm you save a slight hurt, and if they fight against you they will turn and flee. And afterward they will not be helped. (3:111)

الكفار جنباء

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى طَوِيلٌ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ
يُؤَلُّوْكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصُرُونَ ﴿١١١﴾
﴿٣ آل عمران ١١١﴾

کفار بزدل ہوتے ہیں

اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں
پہنچا سکیں گے اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر
بھاگ جائیں گے پھر ان کو مدد بھی (کہیں سے)
نہیں ملے گی (111:3)

**THE DISBELIEVERS
WOULD VANQUISH ULTIMATELY**

Say (O Muhammad) to those who disbelieve: You shall be overcome and gathered to Hell, an evil resting place. (3:12)

لا بد للكفار من الانهزام أخيراً

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سِتْغَابُونَ وَتُحْشَرُونَ
إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾
﴿٣ آل عمران ١٢﴾

کفار کو بالآخر مغلوب ہونا ہے

(اے پیغمبر) کافروں سے کہہ دیجئے کہ (تم دنیا میں بھی) عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور (آخرت میں) جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بری جگہ ہے (12:3)

**REWARDS OF JIHAD
IN WORLDLY LIFE AND HEREAFTER**

Surely those who believe, and those who emigrate (to escape the persecution) and strive in the way of Allah, these have hope of Allah's mercy. Allah is Forgiving, Merciful. (2:218)

O you who believe; obey Allah, and the messenger when he invites you to that which will make you live, and know that Allah comes in between the man and his own heart, and that He it is to Whom you will be gathered. (8:24)

Those who believe, and have left their homes and strived with their wealth and their lives in Allah's way are of much greater worth in Allah's sight. These are they who are triumphant. (9:20)

Their Lord gives them good tidings of mercy from Him, and acceptance, and Gardens where enduring pleasure will be theirs; (9:21)

There they will abide forever. Indeed with Allah there is an immense reward. (9:22)

But the messenger and those who believe with him strive with their wealth and their lives. Such are they for whom are the good things. Such are they who are the successful. (9:88)

أجر الجهاد في الدنيا والآخرة

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾
﴿٢ البقرة ٢١٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَأَقْرَبِهِ وَ أَنَّ إِلَيْه تَحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾
﴿٨ الانفال ٢٤﴾

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾
﴿٩ التوبة ٢٠﴾

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ
وَرِضْوَانٍ وَجَدَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾
﴿٩ التوبة ٢١﴾

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾
﴿٩ التوبة ٢٢﴾

لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾
﴿٩ التوبة ٨٨﴾

جہاد کے دنیوی اور آخروی انعامات

جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لئے وطن چھوڑ گئے اور (کفار سے) جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخش دینے والا (اور) رحم کرنے والا ہے (218:2)

ہو مومنو! اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ جبکہ رسول اللہ تمہیں ایسے کام کے لئے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی (جاوداں) بخشتا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم سب اسکے روبرو جمع کئے جاؤ گے (24:8)

جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں۔ اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں (20:9)

ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہمیشہ کے لئے ہے (21:9)

(اور وہ) ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ (تیار) ہے (22:9)

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے انہی لوگوں کے لئے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں (88:9)

Allah has made ready for them Gardens underneath which rivers flow wherein they will abide. That is the Supreme triumph. (9:89)

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾
﴿٩ التوبة ٨٩﴾

اللہ نے ان کے لئے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے (89:9)

Then No doubt your Lord--for those who become fugitives after they had been persecuted, and then fought and were steadfast-- your Lord afterward is (for them) indeed Forgiving, Merciful, (16:110)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾
﴿١٦ النحل ١١٠﴾

پھر جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا۔ پھر جہاد کئے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان (آزمائشوں) کے بعد بخشنے والا (اور ان پر) رحم کرنے والا ہے (110:16)

More Reference : 4:74 9:111 41:30
Page 643, 644, 865

والصبر راجع ٤ النساء ٧٤: ٩ التوبة ١١١: ٤١ حم السجدة (فصلت): ٣٠: الصفحة ٦٤٣, ٦٤٤, ٨٦٥

مفہوم حوالہ 30:41 111:9 74:4
صفحہ 865, 644, 643

**SHAHEED (MARTYR)
IS BLESSED WITH ETERNAL LIFE**

الشهداء لا يموتون

شہید زندہ ہوتا ہے

**ALLAH (SWT) BESTOWS
GOODLY PROVISIONS UPON SHAHEED**

الشهداء يرزقون من عند ربهم

شہداء کو رزق ملتا ہے

And call not those who are slain in the way of Allah "dead." No they are living, only you perceive not. (2:154)

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾
﴿٢ البقرة ١٥٤﴾

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں (وہ مردہ نہیں) بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے (154:2)

Think not of those, who are slain in the way of Allah, as dead. No they are living. With their Lord they have provision. (3:169)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾
﴿٣ آل عمران ١٦٩﴾

جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا (وہ مرے ہوئے نہیں ہیں) بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے (169:3)

Those who fled their homes for the cause of Allah and then were slain or died, Allah will provide for them good provision. Surely Allah is best of all who make provision. (2:58)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿٥٨﴾
﴿٢٢ الحج ٥٨﴾

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے۔ ان کو اللہ اچھی روزی دے گا۔ اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (58:22)

**SHAHEED AS WELL AS CONQUEROR
BOTH REJOICE THE
GRACES AND BOUNTIES OF ALLAH (SWT)**

الشهداء والغزاة مستبشرون بنعمة الله

اللہ کی نعمتوں پر شہید اور غازیوں کا خوشیاں منانا

Rejoice (are they) because of that which Allah has bestowed upon them of His bounty, rejoicing for the sake of those who have not joined them but are left behind: That there shall be no fear come upon them neither shall they grieve. (3:170)

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾
﴿٣ آل عمران ١٧٠﴾

جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور (شہید ہو کر) ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ (قیامت کے دن) ان کو نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے (170:3)

They rejoice because of favours and kindness from Allah, and that Allah wastes not the wage of the believers. (3:171)

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾
﴿٣ آل عمران ١٧١﴾

اور اللہ کے انعامات اور فضل پر خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا (171:3)

REWARD OF SHAHEED (MARTYR) WITH ALLAH (SWT)

أجر الشهيد آء عند الله

شہید کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر

-----And those who are slain in the way of Allah, He renders not their actions vain. (47:4) PART

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤٧﴾
﴿٤٧ محمد ٤﴾ جزء

----- اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کریگا (4:47) جزو

He will guide them and improve their state, (47:5)

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٤٧﴾
﴿٤٧ محمد ٥﴾

(بلکہ) ان کو سیدھے راستے پر چلائیگا اور انکی حالت درست کر دیگا (5:47)

And bring them into the Gardens, which He has made known to them. (47:6)

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ ﴿٤٧﴾
﴿٤٧ محمد ٦﴾

اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کریگا (6:47)

JIHAD IS A TEST OF FAITH

الجهاد محك للإيمان

جہاد۔ ایمان کی کسوٹی ہے

Do you think that you would be left (alone) when Allah yet knows not those of you who strive with might and main, and take none as friends or protectors except Allah and His messenger and the community of believers? Allah is Informed of what you do. (9:16)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾
﴿٩ التوبة ١٦﴾

کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ (بے آزمائش) چھوڑ دیئے جاؤ گے اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے انہیں پرکھا اور جانچا ہی نہیں (تم میں سے ابھی انہیں ممتاز نہیں کیا) جنہوں نے تم میں سے جہاد کئے اور اللہ اور اسکے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے (16:9)

-----And if Allah willed He could have punished them (without you) but (thus it is ordained) that He may try some of you by means of others. (47:4) PART

ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴿٤٧﴾
﴿٤٧ محمد ٤﴾ جزء

----- اور اگر اللہ چاہتا تو (اور طرح) ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک دوسرے سے کرے۔ (4:47) جزو

NUMERICAL SUPERIORITY AND PLENTY OF RESOURCES ARE ALSO A BLESSING OF ALLAH (SWT)

كثرة العدد من الأموال والنفير
نعمة من الله

کثرت تعداد اور وسائل بھی انعام الہی ہیں

Then We gave you once again your turn against them, and We reinforced you with wealth and children and made you more in soldiery, (17:6)

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٦﴾

پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی۔ اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا (6:17)

ALL INFORMATION DURING JIHAD SHOULD BE ANALYSED PROPERLY BEFORE REACTING TO AVOID PANIC

تمحيص انبیا ثم الاستنباط منها
لازم خلال أيام الجهاد

دوران جہاد خبروں کی تحقیق کرنے اور غلط افواہوں کی روک تھام کرنے کی ضرورت

And if any tidings, whether of safety or fear, comes to them, they noise it abroad, whereas if they had referred it to the messenger and such of them as are in authority, those among them who are able to think out the matter would have known it. If it had not been for the Grace of Allah upon and His mercy you would have followed Satan, save a few (of you). (4:83)

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے (83:4)

﴿٤ النساء ٨٣﴾

O you who believe! When you go forth to fight in the way of Allah, be careful to discriminate, and say not to one who offers you peace: "You are not a believer;" seeking the chance profits of his life (so that you may despoil him). With Allah are plenteous spoils. Even thus (as he now is) were you before; but Allah has since then been gracious to you. Therefore take care to discriminate. Allah is ever Informed of what you do. (4:94)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

مومنو! جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ سو اللہ کے نزدیک بہت سی نعمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو (آئندہ) تحقیق کر لیا کرو۔ اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے (94:4)

﴿٤ النساء ٩٤﴾

INSTRUCTIONS TO REMAIN WATCHFUL FROM THE INTRIGUES OF HYPOCRITES DURING HOLY WAR

لیکن المسلمون متيقظین
من شرور المنافقین خلال القتال

دوران جہاد مسلمانوں کو منافقین کی شرارت اور جاسوسی سے محتاط رہنے کی ہدایت

For Detail Consult : 9:47,48 Page 721

وللمزيد راجع ٩ التوبة: ٤٨، ٤٧: الصفحة 721

مزيد حوالہ 9:47،48 صفحہ 721

HYPOCRITES WHO STIR UP SEDITION SHALL BE SEIZED AND SLAIN

عقوبة الوشاة المنافقين:
الأخذ والتقتيل

مخبری کرنے والے
منافقین کی سزا عبرت ناک قتل

accursed, they will be seized wherever found and slain with a fierce slaughter. (33:61)

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخِذُوا وَقْتِكُلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾

ان پر پھونکار برسائی گئی۔ جہاں پائے گئے پکڑے گئے۔ اور جان سے مار ڈالے گئے (61:33)

﴿٣٣ الاحزاب ٦١﴾

That was the way of Allah in the case of those who passed away of old; you will not find any change in Allah's practice. (33:62)

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کا یہی دستور ہے اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے (62:33)

﴿٣٣ الاحزاب ٦٢﴾

HYPOCRITES WERE EAGER TO FIGHT BEFORE JIHAD WAS ORDAINED BUT BECAME RELUCTANT WHEN PROMULGATED

التمنى للقتال ولكن لما كتب القتال جعلوا يخشون الناس

جہاد کے حکم کی خواہش
اور حکم کے نزول پر پست ہمتی کا اظہار

Have you not seen those to whom it is said: Withhold your hands, establish worship and pay the poor tax, but when fighting was

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو (پہلے یہ) حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو (جنگ سے) روکے

prescribed for them a party of them fear mankind even as their fear of Allah or with greater fear, and say: Our Lord! Why had You ordained fighting for us? If only You would give us respite yet a while! Say (to them, O Muhammad): The comfort of this world is scant; the Hereafter will be better for him who wards off (evil); and you will not be wronged the down upon a date stone. (4:77)

عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ
النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا
رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاءُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ
فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

﴿٤ النساء ٧٧﴾

رہو اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جہاد (جہاد) کیوں فرض کر دیا۔ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی (اے پیغمبر ان سے) کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ اور بہت اچھی چیز تو یہ ہیزگار کے لئے (نجات) آخرت ہے اور تم بردھاکے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا (77:4)

LAME EXCUSES OF HYPOCRITES
TO AVOID PARTICIPATION IN JIHAD

And that He might know the hypocrites, to whom it was said: Come, fight in the way of Allah, or defend yourselves. They answered: If we knew anything of fighting we would follow you. On that day they were nearer disbelief than faith. They utter with their mouths a thing, which is not in their hearts. Allah is best aware of what they hide. (3:167)

اعتذار المنافقین
من المشاركة فی الجهاد

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
فَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ
قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ
أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ يَا فَوَاهِهِمْ
مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

﴿٣ آل عمران ١٦٧﴾

منافقین کے جہاد میں شمولیت سے
بچنے کے لئے حیلے بہانے

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے اور (جب) ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا (کافروں کے) حملوں کو روکو۔ تو کہنے لگے کہ اگر ہم کولائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں۔ اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے (167:3)

They swear by Allah solemnly that, if you order them, they will go forth. Say: Swear not; known obedience (is better). Surely Allah is Informed of what you do. (24:53)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ
لَيَخْرُجْنَ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ
إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى ﴿٥٣﴾

﴿٢٤ النور ٥٣﴾

اور (یہ) اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو (سب گھروں سے) نکل کھڑے ہوں کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ پسندیدہ فرمانبرداری (درکار ہے) بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے (53:24)

And those who believe say: If only a surah were revealed! But when a decisive surah is revealed and war is mentioned therein, you see those in whose hearts is a disease looking at you with the Look of men fainting to death. Therefore woe to them! (47:20)

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا
أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَحُكْمَةٌ وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَى
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ
الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ
﴿٤٧﴾ مُحَمَّد ٢٠ ﴿﴾

﴿٤٧ محمد ٢٠﴾

اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ (جہاد کی) کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ لیکن جب کوئی صاف معنوں کی سورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق کا) مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی (طاری) ہو رہی ہو سوائے لئے خرابی ہے (20:47)

Obedience and a civil word. Then, when the matter is determined, if they are Loyal to Allah it will be well for them. (47:21)

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَاصْبِرُوا
اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

﴿٤٧ محمد ٢١﴾

(خوب کام تو) فرمانبرداری اور پسندیدہ بات کہنا (ہے) پھر جب (جہاد کی) بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لئے بہت اچھا ہوتا (21:47)

Such are they whom Allah cursed so that He made them deaf and made blind their eyes. (47:23)

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾
﴿٤٧ محمد ٢٣﴾

یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان (کے کانوں) کو بہرا اور (ان کی) آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے (23:47)

More Reference : 2:246 5:24,25,26
Page 1063 1043
78,39,41,43,45
720,722

والمزید راجع ٢ البقرة: ٢٤٦ ٥ المائدة: ٢٤, ٢٥, ٢٦
٩ التوبة: ٣٨, ٣٩, ٤١, ٤٣, ٤٥
الصفحة ٧٢٣, ١٠٤٣, ٧٢٠, ٧٢٢

26,25,24:5 246:2
1043 1063
مزیلہ حوالہ صفحہ
9 45,43,41,39,38:
722,720

PROCRASTINATION IN PARTICIPATING JIHAD IS A HYPOCRISY

الإبطاء في الحضور إلى الجهاد
دليل على النفاق

جہاد میں شمولیت میں تاخیر۔ علامت نفاق

Among you there is he who loiters and if disaster overtakes you, he would say: Allah has been gracious to me since I was not present with them! (4:72)

وَأَنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾
﴿٤ النساء ٧٢﴾

اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عدا دیر لگاتا ہے پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ (72:4)

And if a bounty from Allah befell you, he would surely cry, as if there had been no love between you and him: Oh, would that I had been with them, then should I have achieved a great success! (4:73)

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾
﴿٤ النساء ٧٣﴾

اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں (افسوس کرتا اور) کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا (73:4)

HYPOCRITICAL CLAIMS OF LOYALTY OF THE OPPORTUNISTS AFTER THE VICTORY OF BELIEVERS

رد فعل المتربصين
إذا كان الفتح للمومنين

جہاد میں فتح نصیب ہونے پر موقع پرستوں کا رد عمل

Those who wait upon occasion in regard to you and, if a victory comes to you from Allah, say: Are not we with you? And if the disbelievers meet with a success say: Had we not the mastery of you, would we not protect you from the disbelievers? Allah will judge between you at the Day of Resurrection, and Allah will not give the disbelievers a way (of success) against the believers. (4:141)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُمْ يَحْنُوكُمْ وَإِنْ كَانُوا لَكُمْ فَتَنًا مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانُوا لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ قِيَامًا ﴿١٤١﴾
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾
﴿٤ النساء ١٤١﴾

جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں اور اگر کافروں کو فتح حاصل ہو۔ تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے۔ اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھایا نہیں۔ تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا (141:4)

Of mankind is he who says: We believe in Allah, but, if he be made to suffer for the sake of Allah, he mistakes the persecution of mankind for Allah's punishment; and then, if victory comes from your Lord will say: Surely we were with you (all the while). Is not Allah aware of what is in the bosoms of His creatures? (29:10)

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾
﴿٢٩ النعكوت ١٠﴾

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی ایذا پہنچتی ہے۔ تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں۔ جیسے اللہ کا عذاب اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں (10:29)

No doubt Allah does recognize those who believe, and He also recognizes the hypocrites. (29:11)

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾
﴿٢٩ العنكبوت ١١﴾

اور اللہ ان کو ضرور ظاہر کر کے رہے گا جو (سچے) مومن ہیں اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا (11:29)

HYPOCRITES ARE RECOGNIZED BY THEIR, SPEECH AND BEHAVIOUR

معرفة المنافقين بسيماهم
وفي لحن القول

منافقین اپنے چروں اور انداز گفتگو سے ہی
پہچان لیے جاتے ہیں

Or do those in whose hearts is a disease deem that Allah will not bring to light their (secret) hates? (47:29)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾
﴿٤٧ محمد ٢٩﴾

کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا (29:47)

And if We would, We could show them to you (Muhammad) so that you should know them surely by their marks. And you should know them by the burden of their talk. And Allah knows your deeds. (47:30)

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَتَعْرِفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾
﴿٤٧ محمد ٣٠﴾

اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ آپ کو دکھا بھی دیتے اور ان کو ان کے چروں ہی سے پہچان لیتے۔ اور آپ انہیں (ان کے) انداز گفتگو ہی سے پہچان لیں گے۔ اور اللہ آپ کے اعمال سے واقف ہے۔ (30:47)

And surely We shall try you till We know those of you who strive hard (for the cause of Allah) and the steadfast, and till We test your record. (47:31)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾
﴿٤٧ محمد ٣١﴾

اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں۔ اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ (31:47)

Consult Chapter Hypocrites Page 748

وللمزيد راجع باب: المنافقين الصفحة ٧٤٨

المزيد حوالہ باب "منافقین" صفحہ 748

PEACE AND RECONCILIATION

الأمن والصلح

امن ومصالحت

ISLAM DOES NOT PERMIT TO INITIATE OFFENSIVE WAR OR HOSTILITIES

لامباداة بالشر في الإسلام

اسلام (کسی سے زیادتی) جارحیت میں پہل
کرنے کی اجازت نہیں دیتا

Fight in the way of Allah against those who fight against you, but begin not hostilities. Indeed Allah loves not, aggressors. (2:190)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾
﴿٢ البقرة ١٩٠﴾

اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو۔ مگر زیادتی نہ کرنا۔ کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا (190:2)

More Reference : 2:194 4:90 8:61 9:4,7 60:8 Page 647/664, 665, 667

وللمزيد راجع ٢ البقرة ١٩٤: ٤ النساء: ٩٠: الأنفال: ٦١: ٩ التوبة: ٧٤: ٦٠ الممتحنة: ٨:

المزيد حوالہ 2: 194 4: 90 8: 61 9: 4,7 60: 8 صفحہ 647/664, 665, 667

WARFARE IS PROHIBITED IN HARAM (SACRED MOSQUE) UNLESS ENEMIES OF ISLAM BREAK ITS LIMIT

ممانعة القتال في حدود الحرم
كلما يراعى الكفار حرمة

حدود حرام میں قتال منع ہے (جب تک کفار
اس کی حرمت کا پاس (خیال) رکھیں

-----And fight not with them at the Inviolable Place of Worship (Holy Ka'bah) until they first attack you there, but if they attack you (there) then slay them. Such is the reward of disbelievers. (2:191) PART

وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾
﴿٢ البقرة ١٩١﴾ جزاء

اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم (خانہ کعبہ) کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو۔ کافروں کی یہی سزا ہے (191:2) جزو

But if they desist, then No doubt Allah is Forgiving, Merciful. (2:192)

فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾
٢ البقرة ١٩٢

اور اگر وہ باز آجائیں تو اللہ بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے (192:2)

HALLOWED MONTHS OF LUNAR CALENDAR

The forbidden month for (matches) the forbidden month, and forbidden things in retaliation. (2:194) PART

الأشهر الحرم من العام الهجري

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴿١٩٤﴾
٢ البقرة ١٩٤ جزء ١

ہجری سال کے قابل احترام مہینے

ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ (194:2) جزو

In fact the number of the months with Allah is twelve months by Allah's ordinance in the day that He created the heavens and the earth. Four of them are sacred: That is the right religion. So wrong not yourselves in them. (2:36) PART

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴿٣٦﴾
٩ التوبه ٣٦ جزء ١

اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں (بارہ ہیں یعنی) اس روز (سے) کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں (برس کے) بارہ مہینے (لکھے ہوئے) ہیں ان میں سے چار مہینے ادب کے ہیں یہی دین (کا) سیدھا (راستہ) ہے تو ان (مہینوں) میں (قتال) ناحق سے (اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ (36:9) جزو

THE MUSLIMS ARE FREE TO ACT RECIPROCALLY IF THE ENEMIES MAKE WAR IN SACRED MONTHS

إذا اعتدى العدو عليكم في الأشهر الحرم فاعتدوا عليه

اگر دشمن ادب کے مہینوں کی حرمت نہ کرے تو برابر کا مقابلہ کرو

For Detail Consult : 2:194 Page 647/664

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٩٤ الصفحة ٦٤٧/٦٤٤

مزيد حوالہ 194:2 صفحه 647/664

TAKE THEM AND SUCCUMB IF THE ENEMIES NEITHER HOLD BACK THEIR HANDS NOR PROPOSE PEACE

جواز قتل المفتنين من الكفار

دشمن کا لڑنے سے کنارہ کشی نہ کرنے اور مائل بہ صلح نہ ہونے پر مقابلہ (اسے کیفر کردار تک پہنچانے) کا حکم

You will find others who desire that they should have security from you, and security from their own folk. So often as they are returned to hostility they are plunged therein. If they keep not Aloof from you nor offer you peace nor hold their hands, then take them and kill them wherever you find them. Against which We have given you clear warrant. (4:91)

سَتَجِدُونَ إِخْرَيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا رَدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْبُرُوا لَكُمْ وَيُقْبُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فخذوهم واقتلوهم حيث تقفؤمؤهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً ﴿٩١﴾
٤ النساء ٩١

تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں تو ایسے لوگ اگر تم سے (لڑنے سے) کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف (باہمی بات چیت کا پیغام) صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لئے سند واضح مقرر کر دی ہے (91:4)

DO NOT WAVE AND APPEAL FOR PEACE WHILE YOU HOLD UPPER HAND (ANTICIPATE VICTORY)

النهي عن الوهن وعن دعوة العدو إلى السلم إذا كان الفتح لكم

دشمن سے صلح کے لئے درخواست نہ کرو جب تمہارا پہلہ بھاری ہو تو

Do not falter and appeal for peace when you (will be) the uppermost, and Allah is with you, and He will not grudge (the reward of) your actions. (47:35)

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾
٤٧ محمد ٣٥

تو تم ہمت نہ ہارو اور (دشمنوں کو) صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ اور تم تو غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا (35:47)

AVOID FIGHT IF THE ENEMY IS INCLINED TO PEACE

And if they incline to peace, incline you also to it, and trust in Allah. No doubt He is the Hearer, the Knower. (8:61)

And if they would deceive you, then surely! Allah is sufficient for you. He it is Who supports you with His help and with the believers, (8:62)

لا يناسب القتال إذا جنح العدو للسلام

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾
﴿٨ الانفال ٦١﴾

وَأِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾
﴿٨ الانفال ٦٢﴾

دشمن کے مائل بہ صلح ہونے پر جنگ سے گریز کرو

اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک میں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے (61:8)

اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کافی ہے اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تمہاری تائید کی ہے۔ (62:8)

More Reference : 4:90 9:4,7 Page 665

والمزید راجع ٤ النساء : ٩٠ ٩ التوبة : ٤,٧

زید حوالہ 90:4 7,4:9 صفحہ 665

TREATIES - COVENANTS - ALLIANCES - PACTS

FULFIL ANY TREATY WITH ENEMIES UNTIL THEIR PERIOD EXPIRES OR THEY BETRAY

Except those who seek refuge with a people between whom and you there is a covenant, or (those who) come to you because their hearts forbid them to make war on you or make war on their own folk. Had Allah willed He could have given them power over you so that assuredly they would have fought you. So, if they hold Aloof from you and wage not war against you and offer you peace, Allah allows you no way against them. (4:90)

Excepting those of the idolaters with whom you (Muslims) have a treaty, and who have since abated nothing of your right nor have supported anyone against you. (As for these), fulfill their treaty to them till their term. No doubt Allah loves those who keep their duty (to Him). (9:4)

How can there be a treaty with Allah and with His messenger for the idolaters except those with whom you made a treaty at the Inviolable Place of Worship (Holy Ka'ba)? So long as they are true to you, be true to them. Allah loves those Who keep their duty. (9:7)

المعاهدات بين الفريقين

التمسك بميثاق الصلح

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَالِيبُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾
﴿٤ النساء ٩٠﴾

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فَأَتُوا إِلَيْكُمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتْ تَعَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٩﴾
﴿٩ التوبة ٩﴾

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾
﴿٩ التوبة ٧﴾

باہمی معاہدے

دشمن سے صلح کے معاہدے کے احترام کا حکم

مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہوں جن میں اور تم میں (صلح کا) عہد ہو چکا یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں (یعنی نہ تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کریں اور نہ مخالفت میں) تمہارے پاس آجائیں (تو احترام ضرور نہیں) اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے (جنگ کرنے سے) کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح (کا پیغام) بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر (زبردستی کرنے کی) کوئی سبیل مقرر نہیں کی (90:4)

البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو (کہ) اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے (4:9)

بہلا مشرکوں کے لئے (جنہوں نے عہد توڑ ڈالا) اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر (قائم) رہ سکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ (اپنے عہد پر) قائم رہیں تو تم بھی (اپنے قول و قرار پر) قائم رہو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ (7:9)

More Reference : 8:61,62,72 Page 553,650

والمزید راجع ٨ الانفال : ٦١,٦٢,٧٢

زید حوالہ 8:61,62,72 صفحہ 553, 650

PERMISSION TO SLAY THE ENEMY WHO DOES NOT STICK TO THE TREATY

جواز قتل العدو الغشاش

صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے دشمن کو قتل کر دینے کی اجازت

And slay them wherever you find them, and drive them out of the places where from they drove you out, for persecution is worse than slaughter.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے (یعنی مکے سے) وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ اور (دین سے گمراہ کرنے کا) فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے۔

(2:191) PART

﴿٢ البقرة ١٩١﴾ جزء ٦

(191:2) جزو

THROW BACK THEIR COVENANT IF YOU FEAR TREACHERY FROM ANY GROUP

نبد عهد العدو الخائن إليهم

بدعهد (غدار) دشمنوں کا عہد ان کے منہ پر دے مارو

And if you fear treachery from any group, then throw back to them (their treaty) fairly. Surely! Allah loves not the treacherous. (8:58)

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو (ان کا عہد) انہیں کی طرف پھینک دو (اور برابر کا جواب دو) کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا (58:8)

How (can there be any treaty for the others) when, if they have the upper hand of you, they regard neither pact nor honour in respect of you? They satisfy you with their mouths while their hearts refuse. And most of them are wrongdoers. (9:8)

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وِلاَئِمَّةً يُرِضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ

(بھلا ان سے عہد) کیوں کر (پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے) کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کے دل (ان باتوں کو) قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں (8:9)

Reference : 2:91,94 8:71 Page 241,773,493

والله اعلم بالصواب ٢ البقرة ٩٤، ٩١، ٨ الأنفال ٧١

مزید حوالہ 2:91,94 8:71 صفحہ 241,773,493

DO NOT BE FRIENDLY WITH THEM WHO HAVE FOUGHT YOU OVER YOUR RELIGION

النهي عن ولاء المحاربين

جنگجو (محارب) دشمنوں سے دوستی نہ کرو

Allah forbids you only those who warred against you on account of religion and have driven you out from your homes and helped to drive you out, that you make friends with them. Whosoever makes friends with them--(All) such are wrongdoers. (60:9)

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی تو جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں (9:60)

﴿٦٠ الممتحنة ٩﴾

NEVER RELY ON HYPOCRITES IN TREATIES OF WAR

المنافقون غير جديرين بالثقة في الحرب

جنگی معاہدوں میں منافقین ناقابل اعتماد ہیں

Have you not observed those who are hypocrites, (how) they tell their brothers who disbelieve among the people of the Scripture: If you are given out, we surely will go out with you, and we will never obey anyone against you, and if you are attacked we will help you. And Allah bears witness that they are liars. (59:11)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کئے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہنا نہ مانیں گے۔ اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے۔ مگر اللہ ظاہر کئے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں (11:59)

﴿٥٩ الحشر ١١﴾

(For) indeed if they are driven out they go not out with them, and indeed if they are attacked they help not, and indeed if they had helped them they would have turned and fled, and then they would not have been victorious. (59:12)

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا
لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَنَّ الْأَ
ذْيَارْتَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿٥٩﴾
الحشر ١٢

اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو (کسی سے بھی) مدد نہ ملے گی (12:59)

DEALINGS WITH NON-MUSLIMS AND WITH NON-FIGHTING DISBELIEVERS DOMICILED IN ISLAMIC STATE

المعاملة بالذميين وبغير المحاربين

اسلامی ریاست میں غیر مسلم باشندوں یا غیر جنگجو کفار سے سلوک

-----But if they desist, then let there be no hostility except against wrongdoers. (2:193) PART

فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾
البقرة ١٩٣ جزء

اگر وہ (فساد سے) باز آجائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں (کرنی چاہئے) (2:193) جزو

Allah forbids you not those who warred not against you on account of religion and drove you not out from your homes, that you should show them kindness and deal justly with them. ! Allah loves the just dealers. (60:8)

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾
الممتحنة ٨

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (8:60)

More Reference : 2:191 4:90 8:61 9:4,7
Page 663/666, 267, 665

والمزيد راجع ٢ البقرة: ١٩١ ٤ النساء: ٩٠
٨ الأنفال: ٦١ ٩ التوبة: ٧٤

مزید حوالہ 2:191 4:90 8:61 9:4,7
صفحہ 665, 267, 666/663

DEALINGS WITH (POW'S) PRISONERS OF WAR

المعاملة بأسارى الحرب

جنگی قیدیوں سے سلوک

Now when you encounter in battle those who disbelieve, then seize them by their necks until, when you have subdued them, then tie them up as prisoners and afterward either grace (release them) or ask ransom till the war lay down its burdens. That (is the ordinance).----- (47:4) PART

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَخْتَضْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مِمَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴿٤٧﴾
محمد ٤ جزء

جب کافروں سے تمہارا آمناسامنا ہو تو ان کی گردنوں پر وار کرو۔ یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح چل ڈالو تو (جو زندہ پکڑے جائیں ان کو) مضبوطی سے قید کر لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہئے یا کچھ فدیہ لیکر۔ یہاں تک کہ یہ (فریق مقابل) لڑائی (کے) ہتھیار ڈال (ہاتھ سے رکھ) دے یہ (حکم یاد رکھو)۔----- (4:47) جزو

More Reference : 8:70,71 76:8
Page 701, 282

والمزيد راجع ٨ الأنفال: ٧٠, ٧١ ٧٦ الدهر (الإنسان): ٨
الصفحة ٢٨٢, ٧٠١

مزید حوالہ 8:76 71,70:8
صفحہ 282, 701

PERMISSION TO GIVE ASYLUM TO POLYTHEISTS EVEN ON THEIR OWN REQUEST AND ESCORT THEM WHERE THEY CAN FIND SAFETY

إجارة المشرك وإبلاغه مأمنه

مشرك کو پناہ دینے کی اجازت اور جائے امن تک باحفاظت پہنچانے کی ہدایت

And if anyone of the idolaters seeks your protection, then protect him so that he may hear the word of Allah; and afterward convey him to his place of safety. That is because they are a folk who know not. (9:6)

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩﴾
التوبة ٩

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام اللہ سننے لگے۔ پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو۔ اس لئے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں (6:9)

"FIDYAH" RANSOM MONEY FOR FREEING CAPTIVES OF WAR

It is not for any Prophet to have captives until he has made slaughter in the land. You desire the lure of this world and Allah desires (for you) the Hereafter, and Allah is Mighty, Wise. (8:67)

Had it not been for an ordinance of Allah, which had gone before, an awful doom had come upon you on account of what you took. (8:68)

أخذ الفدية على إطلاق أسارى الحرب

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُبْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾
﴿٨ الانفال ٦٧﴾

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾
﴿٨ الانفال ٦٨﴾

جنگی قیدیوں کو چھوڑنے پر ٹیکس

پیغمبر کو شایاں نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون (نہ) بہا دے تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے (67:8)

اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو (فدیہ) تم نے لیا ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی (68:8)

More Reference : 47:4 Page 588/659

وللمزید راجع ٤٧ محمد: ٤ الصفحة ٥٨٨/٦٥٩

المزید حوالہ 4:47 صفحہ 659/588

JIZYA (SOCIAL SECURITY TAX) POLL TAX IMPOSED ON NONBELIEVERS IN TOKEN OF THEIR WILLING SUBMISSION FOR LIVING UNDER PROTECTION OF ISLAMIC STATE (ORDAINED IN THE YEAR 9 AH)

Fight against such of those who have been given the Scripture but they believe not in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah has forbidden by His messenger, and Follow not the religion of truth, until they pay the poll tax readily, and act submissive. (9:29)

أخذ الجزية من الذميين عوضاً من توفير الأمن لهم في دولة إسلامية (بالعام ٩ هج)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾
﴿٩ التوبة ٢٩﴾

جزیہ (سوشل سیکورٹی ٹیکس) غیر مسلموں کے اسلامی مملکت میں پرامن اور محافظت رہنے پر ٹیکس (سن 9 ہجری)

جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر (یقین رکھتے ہیں) اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں (29:9)

BOOTY OF WAR SPOILS TAKEN AFTER ACTUAL WAR

الأنفال والغنائم

مال غنیمت (انفال)

They ask you (O Muhammad) of the spoils of war. Say: The spoils of war belong to Allah and the messenger, keep your duty to Allah, and adjust the matter of your difference, and obey Allah and His messenger, you are (true) believers. (8:1)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾
﴿٨ الانفال ١﴾

(اے محمد ﷺ) مجاہد لوگ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ کیا حکم ہے) کہہ دیجئے کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو (1:8)

DISTRIBUTION OF SPOILS OF WAR

توزيع أموال الغنائم

مال غنیمت کی تقسیم

And know that whatever you take as spoils of war, a fifth thereof is for Allah, and for the messenger and the kinsmen (who have need) and orphans and the needy and the wayfarer; if you believe in Allah and that which We revealed to Our slave on the Day of Discrimination, The Day when the two armies met. And Allah is Able to do all things. (8:41)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أُمَّتٌ مِّنْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّمَيِّزِ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾
﴿٨ الانفال ٤١﴾

اور جان رکھو کہ جو چیز تم (کفار سے) لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قربت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس (نصرت) پر ایمان رکھتے ہو جو دن حق باطل میں امتیاز کا تھا (یعنی جنگ بدر) جس دن دونوں فوجوں میں آمناسامنا ہو گیا۔ اپنے بندے (محمد) پر نازل فرمائی۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (41:8)

Now enjoy what you have won, as lawful and good, and keep your duty to Allah. Surely Allah is Forgiving, Merciful. (8:69)

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾
﴿٨ الانفال﴾

تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ (کہ وہ تمہارے لئے) حلال پاک (ہے) اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (69:8)

More Reference : Page 715,702

والمزيد راجع الصفحة 715,702

مزید حوالہ صفحہ 715,702

USE OF "FAI" LAND AND PROPERTY ABANDONED BY THE ENEMY OR TAKEN WITHOUT FORMAL WAR

توزیع اموال الفی

(مال نے کا مصرف) جو اراضی یا مال دشمن چھوڑ کر بھاگ جائے یا جنگ کے بغیر ہاتھ آئے

And that which Allah gave as spoil to His messenger from them, since none of you spurred along any horse and riding camel for the sake thereof, but Allah gives His messenger Lordship over whom He wills. Allah is Able to do all things. (59:6)

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٩﴾
﴿٥٩ الحشر﴾

اور جو (مال) اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے (لڑائی بھڑائی کے بغیر) دلویا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں کیوں کہ اس کے لئے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (6:59)

That which Allah gives as spoil to His messenger from the people of the townships, it is for Allah and His messenger and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, that it becomes not a commodity between the rich among you. And whatsoever the messenger gives you, take it. And whatsoever he forbids, abstain (from it). And keep your duty to Allah. Indeed! Allah is stern in reprisal. (59:7)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾
﴿٥٩ الحشر﴾

جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلویا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور (پیغمبر کے) قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے جو چیز تم کو پیغمبروں سے ملے لو اور جس سے منع کریں (اس سے) باز رہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (7:59)

And (it is) for the poor fugitives who have been driven out from their homes and their belongings, who seek bounty from Allah and help Allah and His messenger. They are the loyal. (59:8)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾
﴿٥٩ الحشر﴾

اور ان مہاجر مسکینوں کے لئے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج (اور جدا) کر دیئے گئے ہیں۔ (اور) اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب گار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں۔ یہی لوگ سچے (ایماندار) ہیں (8:59)

SLAVISHNESS DURING WAR FORBIDDEN SPECIAL INSTRUCTIONS REGARDING ADJUSTMENTS OF BELIEVING WOMEN AS WELL AS FOR THOSE NEWLY JOINING ISLAM

الأحكام في المؤمنات اللواتي دخلن في دين الله في أثناء الجهاد و بعد انتهاء القتال

دوران جہاد اور جنگ کے خاتمہ پر مومن اور نئی مسلم خواتین کے متعلق خصوصی احکامات

For Detail Consult : 60:10,11,12 Page 714, 715

والمزيد راجع 60 الممتحنة: 10, 11, 12 الصفحة 714, 715

مزید حوالہ 60: 10, 11, 12 صفحہ 714, 715

MIGRATION (HIJRAT)

FORSAKING HOME IN THE WAY OF ALLAH (SWT)

الهجرة

ہجرت

WHEN TO MIGRATE

Surely as for those whom the angels take (in death) while they wrong themselves, (the angels) will ask: In what were you engaged? They will say: We were oppressed in the land. (The angels) will say: Was not Allah's earth spacious that you could have migrated therein? As for each, their habitation will be Hell, an evil journey's end; (4:97)

WHO ARE EXEMPTED FROM MIGRATION

Except the feeble among men, and the women, and the children, who are unable to devise a plan and are not shown a way. (4:98)

As for such, it may be that Allah will pardon them. Allah is ever Clement, Forgiving. (4:99)

HIJRAT IS TEST OF FAITH

They long that you should disbelieve even as they disbelieve, that you may be upon a level (with them). So choose not friends from among them till they forsake their homes in the way of Allah; if they turn back (in enmity) then take them and kill them wherever you find them, and choose neither friend nor helper among them, (4:89)

HIJRAT WAY OF SEEKING MERCY OF ALLAH (SWT)

REWARD OF HIJRAT

And those who became fugitives for the cause of Allah after they had been oppressed, We shall give them worldly lodging in the world, and surely the reward of the Hereafter is greater, if they but knew; (16:41)

متی تستلزم الهجرة

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ لَمَلَكَ ظَالِمٍ أَنفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

﴿٤ النساء ٩٧﴾

الذين لهم عذر في الهجرة

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَيْسْتَ بِمُطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

﴿٤ النساء ٩٨﴾

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا خَفِيرًا ﴿٩٩﴾

﴿٤ النساء ٩٩﴾

الهجرة في سبيل الله محك للإيمان

وَدُّوا الْوَتَانَ كَفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَنَحْنُ وَهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلْيَاءَ وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

﴿٤ النساء ٨٩﴾

الهجرة تستوجب المغفرة

أجر الهجرة

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَاجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

﴿١٦ النحل ٤١﴾

ہجرت کا حکم - ہجرت کب کی جائے

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے (97:4)

ہجرت سے مستثنیٰ لوگ

ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ راستہ جانتے ہیں (98:4)

قریب ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے۔ اور اللہ معاف کرنے والا (اور) بخشنے والا ہے (99:4)

ہجرت ایمان کی کسوٹی

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں (اسی طرح) تم بھی کافر ہو کر (سب) برابر ہو جاؤ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا۔ اگر (ترک وطن کو) قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ (89:4)

ہجرت موجب مغفرت الہی

ہجرت کا اجر

اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لئے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ (ایسا) جانتے (41:16)

Such as are steadfast and put their trust in Allah. (16:42)

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾
﴿١٦ النحل ٤٢﴾

جتنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر ہر دوسہ رکھتے ہیں (42:16)

More Reference : 2:218 9:20,100,117 16:41,110 59:8 Page 657,860,725,670,658,669

والمزید راجع ۲ البقرة: ۲۱۸ ۹ التوبة: ۱۱۷، ۱۰۰، ۲۰۰ ۱۶ النحل: ۱۱۰، ۴۱ ۵۹ الحشر: ۸

مزید حوالہ 2:218 9:20,100,117 16:41,110 59:8 صفحہ 657,860,725,670,658,669

MUTUAL RELATIONS BETWEEN REFUGEES AND SUPPORTERS

المواخاة بين المهاجرين والأنصار

مہاجرین اور انصار میں رشتہ اخوت (بھائی چارہ)

And those who afterwards believed and left their homes and strove along with you, they are of you; and those who are akin are nearer one to another in the ordinance of Allah. Surely Allah is Knower of all things. (8:75)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾
﴿٨ الانفال ٧٥﴾

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی سے ہیں اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے (75:8)

PROVIDING ASYLUM TO EMIGRANTS

إعطاء المهاجرين المأوى

مہاجرین کو پناہ دینے (فراہم کرنے) کا حکم

GUERDON OF SUPPORT TO EMIGRANTS

نصرة المهاجرين وأجرها

مہاجرین کی مدد اور اس کا اجر

Those who believed and left their homes and strove for the cause of Allah, and those who took them in and helped them--these are the believers in truth. For them is pardon, and a bountiful provision. (8:74)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾
﴿٨ الانفال ٧٤﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے۔ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو (جو) جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ سچے مسلمان ہیں ان کے لئے (اللہ کے ہاں) بخشش اور عزت کی روزی ہے (74:8)

More Reference : 8:72,73 9:100 24:22 Page 650,631 860 459 33:6 58:22 59:8,9 168/188 187 669,273

والمزید راجع ۸ الانفال: ۷۲، ۷۳ ۹ التوبة: ۱۰۰، ۲۲۴ النور: ۲۲ ۳۳ الأحزاب: ۶ ۵۸ المجادلة: ۲۲ ۵۹ الحشر: ۹، ۸

مزید حوالہ 8:72,73 9:100 24:22 صفحہ 650,631 860 459 33:6 58:22 59:8,9 168/188 187 669,273

REFUGEES DESERVE FINANCIAL HELP

المهاجرون يسحقون للمساعدة المالية

مہاجرین مالی امداد کے مستحق

-----And the owners of kinship are closer one to another in the ordinance of Allah than (other) believers and the fugitives (who fled from Makkah) except that you should do kindness to your friends. This is written in the Book. (33:6) PART

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾
﴿٣٣ الأحزاب ٦﴾ جزء

----- اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی رو سے مسلمان اور مہاجروں سے ایک دوسرے (کے ترکے) کے زیادہ حقدار ہیں۔ مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب (یعنی قرآن) میں لکھ دیا گیا ہے (6:33) جزو

More Reference : 59:7,8 Page 669, 273

والمزید راجع ۵۹ الحشر: ۷، ۸ الصلوة: ۲۷۳، ۲۶۹

مزید حوالہ 59:7,8 صفحہ 669, 273

REWARD OF THOSE WHOM DEATH OVERTAKES DURING HIJRAT

أَجْرٌ مِّنْ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ
فِي سَفَرِ الْهَجْرَةِ

دوران ہجرت وفات کا اجر

REFUGEES ARE EXPECTANT TO QUALIFY FOR MERCY OF ALLAH (SWT)

المہاجرون يرجون رحمة الله

مہاجرین رحمت الہی کے امیدوار

-----So those who fled and were driven forth from their homes and suffered damage for My cause, and fought and were slain, I shall remit their evil deeds from them and I shall bring them into Gardens underneath which rivers flow. A reward from Allah. And with Allah is the fairest of rewards. (3:195) PART

.....فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿٣٠﴾
﴿٣٠﴾ آل عمران ١٩٥ ﴿جزء﴾

----- جو لوگ میرے لئے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کئے گئے میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ (یہ) اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے (3:195) جزو

Any one who migrates for the cause of Allah will find much refuge and abundance in the earth, and whoever forsakes his home, a fugitive to Allah and His messenger, and death overtakes him, his reward is then incumbent on Allah. Allah is ever forgiving, Merciful. (4:100)

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾
﴿١٠٠﴾ النساء

اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا۔ اور جو شخص اللہ اور ان کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آپکڑے۔ تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا۔ اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے (100:4)

Assuredly He will cause them to enter by an entry that they will love. Surely Allah is Knower, Indulgent. (2:59)

لَيَدْخِلْنَّهُمْ مِنْ دُخَانٍ يُرِضُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾
﴿٥٩﴾ الحج

وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور اللہ تو جاننے والا ہے (اور) بردبار ہے (59:22)

Reference : 8:72 to 75 Page 650, 631, 671

والمعزیز راجع ٨ الأنفال: ٧٢ الى ٧٥

مزیذ حوالہ 8:72:75 صفحہ 650,631,671

REFUGEES ARE AMONG THE BENEFICIARIES OF "FAI" (PROPERTY TAKEN FROM ENEMY)

المہاجرون يستحقون لأخذ نصيب من الفياء

مہاجرین مال نے میں حصہ پانے کے مستحق ہیں

Detail Consult : 59:7,8 Page 669

وللتفصیل راجع ٥٩ الحشر: ٨٠٧ الصفحة ٦٦٩

تفصیل کیلئے دیکھئے 59:7,8 صفحہ 669

REFUGEES CAN BE OBLIGED TO MAKE BEQUEST PROVIDED IF THE RIGHTS OF INHERITANCE ARE FULFILLED

يجوز أن يوصي للمهاجرين بالمساعدة المالية باشتراط إيفاء حقوق الميراث للورثة

مہاجرین کے لئے بطور احسان (وراثت کے حقوق پورے کرنے کے بعد) امداد کی وصیت کی جاسکتی ہے

Detail Consult : 60:10,11,12 Page 714,715

وللتفصیل راجع ٦٠ الممتحنة: ١٠١ الى ١٢٠

تفصیل کیلئے دیکھئے 60:10,11,12 صفحہ 714,715

Result Chapter The Treaty of Hudaibia

مطالعه باب صلح حدیبیہ

مطالعه باب صلح حدیبیہ

MIGRATION A TRADITION OF THE PROPHETS

الهجرة من سنة الأنبياء

ہجرت سنت پیغمبران و انبیاء علیہم السلام

Consult Chapter :

Migration of Moses(PBUH) 5:21 28:70
Page 1042 133

Migration of Jacob(PBUH) 7:137
Page 1079

Migration of Abraham(PBUH) 10:87 29:26
Page 261 954

وللتفصیل راجع

الهجرة اموسى ٥ المائدة: ٢١ ٢٨ القصص: ٧٠
الصفحة ١٠٤٢, ١٣٣

الهجرة يعقوب ٧ الأعراف: ١٣٧
الصفحة ١٠٧٩

الهجرة ابراهيم ١٠ يونس: ٨٧ ٢٩ العنكبوت: ٢٦
الصفحة ٩٥٤, ٢٦١

تفصیل کیلئے دیکھئے

ہجرت موسیٰ تفصیل کیلئے دیکھئے 5:21 28:70
صفحہ 1042 133

ہجرت یعقوب تفصیل کیلئے دیکھئے 7:137
صفحہ 1079

ہجرت ابراہیم تفصیل کیلئے دیکھئے 10:87 29:26
صفحہ 261 954

INSTRUCTIONS REGARDING EMIGRANT WOMEN

الاحكام فى المومنات المهاجرات

مہاجر خواتین کے بارے میں احکامات

Detail Consult : 60:10,11,12 Page 714, 715

وللتفصیل راجع ٦٠ الممتحنة: ١٠٠ الى ١٢

تفصیل کیلئے دیکھئے 60:10:12 صفحہ 715, 714

RISE AND FALL OF INDIVIDUALS AND NATIONS عروج افراد و الامم انحطاطهم اقوام اور افراد کا عروج و زوال

HOW NATIONS CAN RISE (IMPROVE) THEIR STATE AND CIRCUMSTANCES

کیف تسمو الأمم
إلى أوج الكمال

(قوموں کی ترقی کاراز)
قومیں کس طرح بام عروج پر پہنچ سکتی ہیں

That is because Allah never changes the grace He has bestowed on any people until they first change that which is in their hearts, and (that is) because Allah is Hearer, Knower. (8:53)

ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ لِمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِهِ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾
﴿٨ الانفال ٥٣﴾

یہ اس لئے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا اور اس لئے کہ اللہ سنتا جانتا ہے (53:8)

For him are angels ranged before him and behind him who guard him by Allah's command. Allah changes not the condition of a folk until they (first) change that which is in their hearts; and if Allah wills misfortune for a folk there is none that can repel it, nor have they a defender besides Him. (13:11)

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا
أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْئَالٍ مَّرَدَّةٍ وَمَا لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾
﴿١٣ الرعد ١١﴾

اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے پیرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس (نعمت) کو جو کسی قوم کو (حاصل) ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اور جب اللہ کسی قوم کی سزا کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی۔ اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا (11:13)

EVERYONE STRIVES FOR ONE'S OWNSELF

مكافحة الانسان تنفعه

انسان اپنے ہی فائدے
کے لئے محنت کرتا ہے

And whosoever strives, strives only for himself, for Allah is altogether Independent of (His) creatures. (29:6)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ
اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٦﴾

اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے محنت کرتا ہے اور اللہ تو سارے جہان سے بے پروا ہے (6:29)

WHO ACT RIGHTEOUS, BENEFIT THEMSELVES WHO COMMIT EVIL WILL FACE ITS CONSEQUENCES

العمل الصالح نافع
والعمل السيئ ضار

نیک عمل کا نفع عمل کرنے والے کو پہنچے گا
اور بد اعمال کا وبال اس کے کرنے والے پر پڑے گا

Whoever disbelieves must (then) bear the consequences of his disbelief, while those who do right make provision for themselves. (30:44)

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلَا تُفْسِدْهُمْ أَسْمَاءُ مَا كَانُوا عَمِلُوا
﴿٤٤﴾
﴿٣٠ الروم ٤٤﴾

جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کئے تو ایسے لوگ اپنے ہی لئے آرام گاہ درست کرتے ہیں (44:30)

Anyone who does right it is for his own soul, and whoso does wrong it is against it. And your Lord is not at all a tyrant to His slaves. (41:46)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾
﴿٤١ خم السجدة ٤٦﴾

جو نیک کام کرے گا تو اپنے لئے۔ اور برے کرے گا تو ان کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں (46:41)

whoever does right, it is for his own soul, and whoso does wrong, it is against it. And afterward to your Lord you will be brought back. (45:15)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾
﴿٤٥ الجاثية ١٥﴾

جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے لئے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا نقصان اسی کو ہوگا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ (15:45)

More Reference :	2:139	4:79	6:165	والمزيد راجع	165:6	79:4	139:2	مزید حوالہ
Page	729	179	373	٤ النساء: ٧٩	373	179	729	ص ٧٢٩
10:41,108	26:216	34:25,50	42:6	٦ الأنعام: ١٦٥	6:42	50,25:34	216:26	108,41:10
731,732	931	736	738	٢٦ الشعراء: ٢١٦	738	736	931	731,732
				٣٤ سباء: ٥٠٠,٢٥٠				
				٤٢ الشورى: ٦				

**EVERYONE RECEIVES
IN PROPORTION TO HIS EFFORTS**

ليس للإنسان الا ما سعى

انسان کو وہی کچھ ملتا ہے
جس قدر اس نے کوشش کی

And that man has only that for
which he makes effort, (53:39)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾
﴿٥٣ النجم ٣٩﴾

اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا
ہے (39:53)

And that his effort will be seen,
(53:40)

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾
﴿٥٣ النجم ٤٠﴾

اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی (40:53)

And afterward he will be repaid for
with fullest payment; (53:41)

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجِزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾
﴿٥٣ النجم ٤١﴾

پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا (41:53)

And that your Lord, He is the goal;
(53:42)

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴿٤٢﴾
﴿٥٣ النجم ٤٢﴾

اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچتا ہے
(42:53)

**ALLAH (SWT) DOES NOT BURDEN (TAX)
ANYONE BEYOND HIS SCOPE
HE ASSIGNS A SOUL SOMETHING THAT IT CAN COPE WITH**

**إنما الإنسان مكلف
بما يستطيع**

استطاعت کے مطابق ذمہ داری
(اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا)

Allah tasks not a soul beyond its
scope. For it (is only) that which it
has earned, and against it (only) that
which it has deserved.-----
(2:286) PART

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ
﴿٢ البقرة ٢٨٦﴾ جزء

اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں
دیتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے
کرے تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔-----
(286:2) جزو

-----We do not
assign any person to do more than
he can cope with-----
(6:152) PART

-----لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا-----
﴿٦ الانعام ١٥٢﴾ جزء

-----ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ
تکلیف نہیں دیتے----- (6:152) جزو

But (as for) those who believe and
do good works We tax not any soul
beyond its scope. Such are rightful
owners of the Garden. They will
abide therein forever. (7:42)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾
﴿٧ الاعراف ٤٢﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے (اور)
ہم (عملوں کے لئے) کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ
تو تکلیف دیتے ہی نہیں ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں
(کہ) اس میں ہمیشہ رہیں گے (42:7)

And We task not any soul beyond its
scope, and with Us is a Record,
which speaks the truth, and they
shall not be wronged. (23:62)

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ
يُتْلَقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٦٢﴾

اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں
دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ کہہ دیتی ہے اور
ان (لوگوں) پر ظلم نہیں کیا جائے گا (62:23)

**ALLAH (SWT) IS NOT INTENT UPON
PUNISHMENT AND NEVER DEALS UNJUSTLY**

لا يظلم الله الناس

اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا

Allah does not harm mankind in
any way but mankind do harm
themselves. (10:44)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾
﴿١٠ يونس ٤٤﴾

بے شک اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ
ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں (44:10)

EVERY MISFORTUNE IS AN OUTCOME OF ONE'S OWN ILL DOINGS TO BLAME ALLAH (SWT) FOR ONE'S MISFORTUNE IS UNJUST

This is on account of that which your own hands have sent before (You to the judgement). Allah is not oppressor of (His) bondmen. (3:182)

Whatever of good befalls you (O man) it is from Allah, and whatever of ill befalls you it is from yourself. ----- (4:79) PART

كل بلية تأتي بما قدمت أيدي الناس

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾
﴿٣ آل عمران ١٨٢﴾

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴿٤ النساء ٧٩﴾ جزء

اپنی بدستی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو مت ٹھہراؤ ہر مصیبت انسان کے اپنے شامت اعمال کے باعث آتی ہے

یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں اور اللہ تو بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا (182:3)

(اے آدم زاد) تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی (شامت اعمال کی) وجہ سے ہے۔ ----- (79:4) جزو

More Reference : 42:30 Page 121

THE PUNISHMENT BECOMES INEVITABLE WHEN WICKEDNESS OF HIGHLY GIFTED PEOPLE GETS SO RAMPANT

If only there had been among the generations before you men possessing a remnant (of good sense) to warn (their people) from corruption in the earth, as did a few of those whom We saved from them! The wrongdoers followed that by which they were made sapless (luxuriate) and persisted in Sin. (11:116)

And when We would destroy a township We send commandment to its folk who live at ease, and afterward they commit abomination therein, and so the Word (of doom) has effect for it, and We annihilate it with complete annihilation. (17:16)

No, but their hearts are in ignorance of this (Qur'an), and they have other works, besides, which they are doing; (23:63)

Till when We grasp their luxurious ones with the punishment, they supplicate. (23:64)

وللمزيد راجع 42 الشوری: 30 الصفحة 121

فسوق المترفين في مجتمع أماره للوبوق

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾
﴿١١ هود ١١٦﴾

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ١٦﴾

بَلْ قَالُوا بِهِمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَبَّاءُ عَالُونَ ﴿٦٣﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٦٣﴾

حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْرُونَ ﴿٦٤﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٦٤﴾

مزيد حوالہ 30:42 صفحہ 121

معاشرہ کے خوش حال لوگوں صاحب اقتدار امراکا فسق و فحور میں مبتلا ہو جانا عذاب الہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے

تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے ہاں (ایسے) تھوڑے سے (تھے) جن کو ہم نے ان میں سے مخلص بخشی۔ اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے (116:11)

اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ (خوش حال) لوگوں کو (فواحش پر) مامور کر دیا تھا وہ نافرمانیاں کرتے رہے پھر اس پر (عذاب کا) حکم ثابت ہو گیا۔ اور ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا (16:17)

مگر ان کے دل ان (باتوں) کی طرف سے غفلت میں (پڑے ہوئے) ہیں اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں (63:23)

یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے خوش حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت بلبلا نے لگے (چلا اٹھے)۔ (64:23)

More Reference : 7:102 9:69 28:58,78 40:21 Page 474,752,428,1031,428

وللمزيد راجع 7 الأعراف: 102 9 التوبة: 69 28 القصص: 58, 78 40 المؤمنون (عبر): 21

مزيد حوالہ 7:102 9:69 28:58,78 40:21 صفحہ 474,752,428,1031,428

ALLAH (SWT) WOULD NEVER DESTROY ANY TOWN WHILE THEIR PEOPLE WERE TRYING TO REFORM

In truth your Lord destroyed not the townships tyrannously while their folk were doing right. (11:117)

لا يهلك الله القرى وأهلها مصلحون

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾
﴿١١ هود ١١٧﴾

اللہ تعالیٰ نیک باشندوں کی بستیاں تباہ نہیں کرتا

اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے نیک کرنے والے ہوں اور ظلم سے تباہ کر دے (117:11)

ALLAH (SWT) LETS SOME WRONGDOERS MANAGE OTHERS ALIKE BECAUSE OF THEIR MISDEEDS

Thus We let some of the wrongdoers have power over others because of what they are accustomed to earn. (129:6)

Would you then, if you were given the command, work corruption in the land and sever your ties of kinship? (47:22)

يَسْلُطُ اللَّهُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ عَلَى بَعْضٍ

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾
﴿٦ الانعام ١٢٩﴾

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٤٧﴾
﴿٤٧ محمد ٢٢﴾

اللہ ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے

اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں (129:6)

(اے منافقو) تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو (22:47)

DISPUTES AMONG NATIONS (MISCHIEF ON LAND AND SEA) IS THE MEED, THAT THE PEOPLE HAVE EARNED

Corruption does appear on land and sea because of (the evil) which men's hands have done, that He may make them taste a part of that which they have done, in order that they may return. (30:41)

ظهور الفساد في الكون عقاب للأعمال الشنيعة

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيذُوقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾
﴿٣٠ الروم ٤١﴾

کائنات میں فساد کا ظہور تنازعات اقوام عالم (بری اور بھری جنگیں) لوگوں کے کرتوتوں (برے اعمال) کی سزا ہے

خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو بعض اعمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آجائیں (41:30)

ALLAH (SWT) NEVER WIPES OUT ANY TOWN UNLESS IT HAS ITS WARNERS

This is because your Lord destroys not the townships arbitrarily while their people are unconscious (of the wrong they do). (6:131)

It was never Allah's (part) that He could send a folk astray after He had guided them until He had made clear to them what they should avoid. Allah is Aware of all things. (115:9)

Whosoever goes right, it is only for (the good of) his own soul that he goes right, and whosoever errs, errs only to its hurt. No laden soul can carry another's load. We never punish until We have sent a messenger. (17:15)

And We destroyed no township but had its warners (26:208)

سنة الله في الهدى والإضلال لا يهلك قرية حتى يبعث رسولا

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿١٣١﴾
﴿٦ الانعام ١٣١﴾

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩﴾
﴿٩ التوبة ١١٥﴾

مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ وَآوَلَاتِزْرُؤِ زُرَّ آخِرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ١٥﴾

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾
﴿٢٠٨ الشعراء ٢٠٨﴾

اللہ تعالیٰ سزا دینے سے پہلے ہر قوم کو ہدایت کرتا ہے

یہ (جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو) اس لئے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو (کچھ بھی) خبر نہ ہو (131:6)

اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے۔ جس سے وہ پرہیز کریں۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے (115:9)

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لئے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے (15:17)

اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لئے نصیحت کرنے والے (پہلے بھیج دیتے) تھے (208:26)

For reminder, and We are never oppressors (unjust). (26:209)

ذِكْرِي وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٠٩﴾

تاکہ (نہایت) اور ہم ظالم نہیں ہیں (209:26)

And never did your Lord destroy the townships, till He had raised up in their mother town a messenger reciting to them Our revelations. And never did We destroy the townships unless the folk thereof were evildoers. (28:59)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٢٨ القصص ٥٩﴾

اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں (59:28)

And most of the men of old went astray before them, (37:71)

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينَ ﴿٧١﴾
﴿٣٧ الصنفت ٧١﴾

اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے (71:37)

And We sent among them warners. (37:72)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ﴿٧٢﴾
﴿٣٧ الصنفت ٧٢﴾

اور ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے (72:37)

Then see the nature of the consequence for those who were warned, (37:73)

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾
﴿٣٧ الصنفت ٧٣﴾

تو دیکھ لو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا (73:37)

More Reference : 14:4 20:128 22:45
Page 374, 438

واللذی راجع ١٤ ابراہیم: ٤ طہ: ١٢٨: ٢٢ الحج: ٤٥
الصفحة ٤٣٨, ٣٧٤

مزید حوالہ 4:14 128:20 45:22
صفحہ 438, 374

IF ALLAH (swt) HAD PUNISHED ANY NATION WITHOUT PRIOR WARNING THE PEOPLE COULD HAVE REASONS TO ARGUE

لو عذب الله قرية من قبل بعث نذير اليهم لكان قابلا للاعتراض

اگر کسی بستی یا قوم پر ہدایات پہنچنے سے پہلے عذاب آجاتا تو انہیں اعتراض کا موقع مل جاتا

And if We had destroyed them with some punishment before it, they would assuredly have said: Our Lord! If only You had sent to us a messenger, so that we might have followed Your revelations before we were (thus) humbled and disgraced! (20:134)

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذَلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾
﴿٢٠ طہ ١٣٤﴾

اور اگر ہم ان کو پیغمبر (کے بھیجنے) سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام (وا حکام) کی پیروی کرتے (134:20)

A DEFINITE TERM IS ASSIGNED FOR EVERYONE TO MEET ULTIMATE FATE OF WRONGDOINGS

كان إهلاك كل قرية بمؤجب كتاب معلوم

اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کو یوں ہی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لئے مقررہ نوشتہ تھا

And We destroyed no township but there was a known decree for it. (15:4)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤﴾
﴿١٥ الحجر ٤﴾

اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا اور مقرر تھا (4:15)

No nation can outstrip its term nor can they lag behind. (15:5)

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٥﴾
﴿١٥ الحجر ٥﴾

کوئی جماعت اپنی مدت (وفات) سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے (5:15)

**EXAMPLES OF THOSE PUNISHED EARLIER
HAVE SET THE PRECEDENT
(AS A WARNING)**

Tell those who disbelieve that if they cease that which is past will be forgiven them; but if they return (thereto) then the example of the men of old has already been set before them, for a warning). (8:38)

عاقبة الأمم المعذبین فیہا تنبیہ للناس

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتُوهَا يُغْفَرْ
لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ
مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾
﴿٨ الانفال ٣٨﴾

پچھلی گمراہ اقوام کا انجام
لوگوں کے لئے ایک انتباہ ہے

(اے پیغمبر) کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آجائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور پھر (وہی حرکات) کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا (جو) طریق جاری ہو چکا ہے (وہی ان کے حق میں برتا جائے گا) (38:8)

**MAN Y TOWNS WERE SUDDENLY DESTROYED
FOR THEIR SINS**

How many a townships have We destroyed! As a raid by night, or while they slept at noon, Our terror came to them. (7:4)

جاء عذاب الله بغتة على قري كثيرة

وكم من قرية اهلكناها فجاءها باسنا
بيانا او هم قائلون ﴿٤﴾
﴿٧ الاعراف ٤﴾

پہلی منکر اقوام پر اچانک عذاب آئے

اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالیں جن پر ہمارا عذاب (یارات کو) آتا تھا جب کہ وہ سوتے تھے یا (دن کو) جب وہ قیلولہ (یعنی دوپہر کو آرام) کرتے تھے (4:7)

So plea had they, when Our terror came to them, save that they said: We were wrongdoers. (7:5)

فما كان دعوتهم اذ جاءهم باسنا الا ان
قالوا اننا كنا ظالمين ﴿٥﴾
﴿٧ الاعراف ٥﴾

تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ (ہائے) ہم (اپنے اوپر) ظلم کرتے رہے (5:7)

**AT LAST EVIL DEEDS ASSAILED
AND WHAT THEY HAD BEEN SNEERING AT,
HEMED THEM IN**

So that the evil of what they did note them, and that which they used to mock surrounded them. (16:34)

احاطت بالمستهزئين سيئات اعمالهم

فاصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم
ما كانوا يستهزءون ﴿٤﴾
﴿١٦ النحل ٣٤﴾

برے اعمال (کا بدلہ)
جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا

تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو (ہر طرف سے) گھیر لیا (34:16)

**NEITHER HEAVEN NOR EARTH
SHED A TEAR OVER THE RUIN
OF TRANSGRESSORS**

Detail Consult : 44:28 to 31 Page 1041,597

لا يبكى احد على هلاك القوم الفاسقين
في الارض ولا في السماء

سرکش اور نافرمان لوگوں کی تباہی پر
آسمان اور زمین میں کوئی رونے والا نہیں ہوتا

تفصیل کیلئے دیکھئے 31: 28: 44 صفحہ 597,1041

**ALLAH (SWT)'S MERCY AFFORDS
EVERY CHANCE TO THE WICKED TO REPENT**

Detail Consult : 6:131,42,43 9:115 17:15
28:59 37:71,72,73 676 676
677 677

رحمة الله تعالى تمهل الضالين
حتى يتوبوا الى الله

وللتفصیل راجع ١٦ الانعام: ٤٢، ٤٣، ٤٤ ٩ التوبة: ١١٥
١٧ الاسراء (بنی اسرائیل): ١٥ ٢٦ الشعراء: ٢٠٨
٢٨ القصص: ٥٩ ٣٧ الصافات: ٧١، ٧٢، ٧٣

اللہ تعالیٰ کی رحمت گمراہ لوگوں
کو راہ راست پر آجانے (توبہ اور عاجزی کر لینے)
کا موقع ضرور فراہم کرتی ہے

تفصیل کیلئے دیکھئے 6: 131,42,43 9: 115 17: 15
28: 59 37: 71,72,73 676 676 676
73,72,71: 37 59: 28 208: 26
677 677 676

**THE COURSE OF ALLAH (SWT)
(RULES AND WAYS)
REMAINS UNCHANGED**

Detail Consult : 5:59 6:34, 115 10:64
242 730,370 769
30:30 33:62 35:43 41:43
402 660 475 122
48:23 50:29
713 371

لا تبدل في سنة الله

وللتفصیل راجع ٥ المائدة: ٥٩ ١٦ الانعام: ٣٤، ٣٥
١٠ يونس: ٦٤ ١٧ الاسراء (بنی اسرائیل): ٧٧ ٣٠ الروم:
٣٣ الأحزاب: ١٢ ٣٥ فاطر: ٤٣، ٤٤ ٤١ حم السجدة (فصلت): ٤٣
٤٢ الشورى: ٣ ٤٨ الفتح: ٢٣ ٥٠ ق: ٢٩

اللہ تعالیٰ کے نظام (طریقہ) میں کبھی تبدیلی
واقع نہیں ہوتی

تفصیل کیلئے دیکھئے 5: 59 6: 34, 115 10: 64
242 730,370 769
30: 30 33: 62 35: 43 41: 43
402 660 475 122
48: 23 50: 29
713 371

**ULTIMATE FATE OF WICKED PEOPLE
IN HISTORICAL PERSPECTIVE**

عاقبۃ الاقوام المکذبین الناصین
فی ضوء التاریخ

مکذبات اقوام کا انجام
تاریخ کے آئینے میں

Like Pharaoh's folk and those who were before them, they disbelieved Our revelations and so Allah seized them for their sins. And Allah is strong and severe in punishment. (3:11)

كَذَّابٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾
﴿٣ آل عمران ١١﴾

ان کا حال بھی آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب (عذاب میں) پکڑ لیا تھا اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے (11:3)

(Their way is) as the way of Pharaoh's folk those before them; they disbelieved the revelations of Allah, and Allah took them in their sins, Allah is Strong, and severe in punishment. (8:52)

كَذَّابٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾
﴿٨ الانفال ٥٢﴾

جیسا حال فرعونوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ زبردست (اور) سخت عذاب دینے والا ہے (52:8)

Has not the fame of those before them reached them the folk of Noah, Aad, Thamud, the folk of Abraham, the dwellers of Midian and the disasters (which befell them)? Their messengers (from Allah) came to them with proofs (of Allah's Sovereignty). So Allah surely wronged them not, but they did wrong themselves. (9:70)

أَلَمْ يَأْتِهِمُ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ
نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ
مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾
﴿٩ التوبة ٧٠﴾

کیا ان کو ان لوگوں (کے حالات) کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے (یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے۔ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے (70:9)

We destroyed the generations before you when they did wrong; and their messengers (from Allah) came to them with clear proofs (of His Sovereignty) but they would not believe. Thus We do reward the guilty folk: (10:13)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا لَكَ تَجَزَى الْقَوْمُ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾
﴿١٠ يونس ١٣﴾

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ہم گنہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں (13:10)

We wronged them not, but they did wrong themselves; and their gods on whom they invoked other than Allah availed them nothing, then there came your Lord's command; they added to them nothing except ruin. (11:101)

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا
أَعَدْتُمْ لَهُمْ إِلَهَاتِهِمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا
زَادَهُمْ غَيْرَ تَتَابَعٍ ﴿١٠١﴾
﴿١١ هود ١٠١﴾

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے لوہے پر ظلم کیا غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آپنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے (101:11)

And (have you not) dwelt in the dwellings of those who wronged themselves and it was made obvious to you how We dealt with them, and made examples for you? (14:45)

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
وَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ
الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾
﴿١٤ ابراہیم ٤٥﴾

اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں سبتے سبتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح (کا معاملہ) کیا تھا۔ اور تمہارے (سمجھانے کے) لئے مثالیں بیان کر دی تھیں (45:14)

Those before them plotted, so Allah struck at the foundations of their building, and then the roof fell down upon them and the doom came on them from where they knew not; (16:26)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ
مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ
فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

﴿١٦ النحل ٢٦﴾

ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی (ایسی ہی) مکاریاں کی تھیں تو اللہ (کا حکم) ان کی عمارت کے ستونوں پر آپہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی۔ اور (ایسی طرف سے) ان پر عذاب آواغ ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا (26:16)

Then some of them (there were) whom Allah guided, and some of them (there were) upon whom error had just held. Do but travel in the land and see the nature of the consequence for the deniers! (of truth)(16:36)PART

فِيهِمْ مَن هَدَى
اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

﴿١٦ النحل ٣٦﴾ جزء

ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا (36:16) جزو

There is only a man who has invented a lie about Allah. We are not going to put faith in him. (23:38)

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

﴿٢٣ المومنون ٣٨﴾

یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افتراء کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں (38:23)

He said: My Lord! Help me because they deny me, (23:39)

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٣٩﴾

﴿٢٣ المومنون ٣٩﴾

(پیغمبر نے) کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر (39:23)

He said: In a little while they surely will become repentant. (23:40)

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

﴿٢٣ المومنون ٤٠﴾

فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے (40:23)

So the (Awful) Cry overtook them mightfully, and We made them like wreckage (that a torrent hurls). A far removal for wrongdoing folk! (23:41)

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَابًا
مَبْعُودًا إِلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

﴿٢٣ المومنون ٤١﴾

تو ان کو عدل کے تقاضے کے مطابق زور کی آواز نے آپکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے (41:23)

Then after them We brought forth other generations. (23:42)

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾

﴿٢٣ المومنون ٤٢﴾

پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کیں (42:23)

No nation can outstrip its term, nor can it postpone it. (23:43)

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٣﴾

﴿٢٣ المومنون ٤٣﴾

کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جاسکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے (43:23)

When We sent Our messengers one after another. Whenever its messenger came to a nation they denied him; so We caused them to follow one another in disaster (and We made them by-words. A far removal for folk who believe not! (23:44)

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا جَاءَ أُمَّةً رُسُلُهُمْ
كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ
أَحَادِيثًا فَبُعَدَ الْقَوْمِ لَيُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

﴿٢٣ المومنون ٤٤﴾

پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے۔ تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے (ہلاک کرتے اور ان پر عذاب) لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت (44:23)

Though We had mercy on them and relieved them of the harm afflicting them, they still would wander blindly in their contumacy. (23:75)

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَدَجُّوا فِي
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

﴿٢٣ المومنون ٧٥﴾

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں (اور) بھٹکتے (پھریں) (75:23)

Already We have grasped them with punishment, but they humble not themselves to their Lord, nor do they pray, (23:76)

وَلَقَدْ أَخَذْنَا لَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا
لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

﴿٢٣ المومنون ٧٦﴾

اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں (76:23)

Until, when We opened for them the gate of extreme punishment, they were aghast thereat. (23:77)

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ
إِذْ هُمْ فِيهِ مُبْتَلُونَ ﴿٧٧﴾
﴿٢٣ المومنون ٧٧﴾

یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں ناامید ہو گئے (77:23)

We gave Moses the Scripture and placed with him his brother Aaron as minister. (25:35)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ٣٥﴾

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا (35:25)

Then We said: Go together to the folk who have denied Our revelations. Then We destroyed them, a complete destruction. (25:36)

فَقُلْنَا أَذْهَبًا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾
﴿٢٥ الفرقان ٣٦﴾

اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی (جب تکذیب پر اڑے رہے) تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا (36:25)

And Noah's folk, when they denied the messengers, We drowned them and made them a portent for mankind. We have prepared a painful doom for evildoers. (25:37)

وَقَوْمِ نُوحٍ الَّذِينَ كَذَّبُوا الرَّسُلَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾
﴿٢٥ الفرقان ٣٧﴾

اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لئے نشانی بنا دیا۔ اور ظالموں کے لئے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے (37:25)

And they denied Hud; therefore We destroyed them. Herein is indeed a portent, yet most of them are not believers. (26:139)

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٣٩﴾

تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے۔ اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے (139:26)

And your Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful. (26:140)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٤٠﴾

اور بیشک تمہارا پروردگار تو غالب (اور) مہربان ہے (140:26)

Say (to them, O Muhammad): Travel in the land and see the nature of the sequel for the guilty! (27:69)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾
﴿٢٧ النمل ٦٩﴾

کہہ دیجئے کہ ملک میں چل پھر کر دیکھو کہ گنہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے (69:27)

So We seized each one for his crime; some of them We sent a hurricane, and on some of them were overtaken by the (Awful) Cry, and some of them We caused the earth to swallow, and some of them We drowned. It was not for Allah to wrong them, but they wronged themselves. (29:40)

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّبَاةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٤٠﴾

تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا سینہ برسایا اور کچھ تو ایسے تھے جن کو چٹکھانے آ پکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے (40:29)

Say (O Muhammad, to the disbelievers): Travel in the land, and see the nature of the consequence for those who were before you! Most of them were idolaters. (30:42)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾
﴿٣٠ الروم ٤٢﴾

کہہ دیجئے کہ ملک میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ (تم سے) پہلے ہوئے ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے (42:30)

Is it not a guidance for them (to observe) how many generations We destroyed before them, among whose dwelling places they do walk? Indeed, therein are portents! Will they not then heed? (32:26)

أَوَلَمْ يَحْذَرُوا لِمَ كَذَّبُوا مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٣٢﴾
﴿٣٢ السجدة ٢٦﴾

کیا ان کو اس (امر) سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ (26:32)

But those who strive against Our revelations, challenging (Us), theirs will be a painful doom of wrath. (34:5)

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ الْيَوْمِ ﴿٥﴾
﴿٥ سبا ٣٤﴾

اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہر ادیں ان کے لئے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے (5:34)

Those before them denied, and these have not attained a tenth of that which We bestowed on them (of gold); yet they denied My messengers. How intense then was My abhorrence (of them)! (34:45)

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِثْرًا مَّا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رَسُولِيَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾
﴿٤٥ سبا ٣٤﴾

اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ (45:34)

And (the tribe of) Thamud; and the folk of Lot, and the dwellers in the wood: these were the factions. (38:13)

وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾
﴿١٣ ص ٣٨﴾

اور ثمود اور لوط کی قوم اور ایکہ کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں (13:38)

Not one of them but did deny the messengers, therefore My doom was justified, (38:14)

إِن كُنتُمْ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُولَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾
﴿١٤ ص ٣٨﴾

(ان) سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب (ان) پر آواقع ہوا (14:38)

The folk of Noah and the factions after them denied (their messengers) before these, and every nation purposed to seize their messenger and argued falsely, (sinking) thereby to refute the truth. Then I seized them, and how awful was My punishment! (40:5)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾
﴿٥ المؤمن ٤٠﴾

ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی (پیغمبروں کو) جھٹلایا تھا اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور وہ قتل کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ لیا سو (دیکھ لو) میرا عذاب کیسا ہوا (5:40)

But if they turn away, then say: I warn you of a thunderbolt like the thunderbolt (which fell of old upon the tribes) of Aad and Thamud; (38:13)

فَإِن أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾
﴿١٣ ص ٤١﴾

پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو (ایسی) چنگھاڑ (کے عذاب) سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور ثمود پر چنگھاڑ (کا عذاب آیا تھا) (13:41)

We requited them. Then see the nature of the consequence for the rejecters! (43:25)

فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الزخرف ٤٣﴾

تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا (25:43)

And We have destroyed townships and about you, and displayed (for them) Our revelations, that haply they might return. (46:27)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٢٧ الاحقاف ٤٦﴾

اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور بار بار (اپنی) نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں (27:46)

Then why did those whom they had chosen for gods as a way of approach (to Allah) not help them? No, but they did fail them utterly. And (all) that was their lie, and what they used to invent. (46:28)

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلَّ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكُمْ إِفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَعْتَرُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨ الاحقاف ٤٦﴾

تو جن کو ان لوگوں نے تقرب (اللہ) کے لئے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی؟ بلکہ وہ ان (کے سامنے) سے گم ہو گئے۔ اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افتراء کیا کرتے تھے (28:46)

And the folk of Noah aforesaid. Indeed they were licentious folk. (51:46)

وَقَوْمِ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ٤٦﴾

اور اس سے پہلے (ہم) نوح کی قوم کو (ہلاک کر چکے تھے) بے شک وہ نافرمان لوگ تھے (46:51)

And that He destroyed the former (tribe of) Aad, (53:50)

وَإِنَّ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾
﴿٥٣ النجم ٥٠﴾

اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا (50:53)

And (the tribe of) Thamud He spared not; (53:51)

وَتَمُودَ أَفْبَاءَ بَعْلَىٰ ﴿٥١﴾
﴿٥٣ النجم ٥١﴾

اور تمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا (51:53)

And the folk of Noah aforesaid, no doubt they were more unjust and more rebellious; (53:52)

وَقَوْمِ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَىٰ ﴿٥٢﴾
﴿٥٣ النجم ٥٢﴾

اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے (52:53)

And Al Mutafikah He destroyed the (over thrown) cities. (53:53)

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾
﴿٥٣ النجم ٥٣﴾

اور اسی نے (موتھہ شہر) بستیوں کو ٹپ (الٹ) دیا (53:53)

So that there covered them that which did cover. (53:54)

فَغَشَّاهَا مَا عَشَىٰ ﴿٥٤﴾
﴿٥٣ النجم ٥٤﴾

پھر ان پر چھا گیا جو چھا گیا (54:53)

And warnings came in truth to the house of Pharaoh. (54:41)

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ ﴿٤١﴾
﴿٥٤ القمر ٤١﴾

اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے (41:54)

Who denied Our all revelations, Therefore We grasped them with the grasp of the Mighty the Powerful. (54:42)

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا فَخَذَّ يَدِيهِمْ فَخَذَّ يَدِيهِمْ مُّقْتَدِرٌ ﴿٤٢﴾
﴿٥٤ القمر ٤٢﴾

انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے (42:54)

Has not the story reached you of those who disbelieved of old and so did taste the ill effects of their conduct, and theirs will be a painful doom! (64:5)

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ﴿٥﴾
فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٤﴾
﴿٦٤ التغابن ٥﴾

کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور (ابھی) دکھ دینے والا عذاب (اور) ہونا ہے (5:64)

And how many a communities revolted against the ordinance of their Lord and His messenger, and We called them to a stern account and punished them with dire punishment. (65:8)

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾
﴿٦٥ الطلاق ٨﴾

اور بہت سی بستیوں (کے رہنے والوں) نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر (ایسا) عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا (8:65)

So that they tasted the ill effects of their conduct, and the consequence of their conduct was loss. (65:9)

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾
﴿٦٥ الطلاق ٩﴾

سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا (9:65)

Allah has prepared for them stern punishment; so keep your duty to Allah, O men of understanding! O you who believe! Now Allah has sent down to you a reminder. (65:10)

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾
﴿٦٥ الطلاق ١٠﴾

اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہارے پاس نصیحت (کی کتاب) بھیجی ہے (10:65)

And Pharaoh and those before him, and the communities that were destroyed, brought error, (69:9)

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ
بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾

﴿٦٩ الحاقة ٩﴾

And they disobeyed the messenger of their Lord, therefore He did grip them with a tightening grip. (69:10)

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ﴿١٠﴾

﴿٦٩ الحاقة ١٠﴾

Because of their sins they were drowned, then made to enter a Fire. And they found they had no helpers in place of Allah. (71:25)

مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُعْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا
فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾

﴿٧١ نوح ٢٥﴾

But Pharaoh rebelled against the messenger, whereupon We seized him with no gentle grip. (73:16)

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا
وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦﴾

﴿٧٣ المزمل ١٦﴾

Has there come to you the story of the hosts (85:17)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾

﴿٨٥ البروج ١٧﴾

Of Pharaoh and (the tribe of) Hamud? (85:18)

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾

﴿٨٥ البروج ١٨﴾

Rather but those who disbelieve live in denial (85:19)

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

﴿٨٥ البروج ١٩﴾

And Allah, (All Unseen,) surrounds them. (85:20)

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾

﴿٨٥ البروج ٢٠﴾

And with Pharaoh, firm of might, (89:10)

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾

﴿٨٩ الفجر ١٠﴾

Who (all) were rebellious (to Allah) in these lands, (89:11)

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾

﴿٨٩ الفجر ١١﴾

اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے (9:69)

انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا (10:69)

(آخر) وہ اپنے گناہوں کے سبب (پہلے) غرقاب کر دیئے گئے پھر آگ میں ڈال دیئے گئے۔ تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا (25:71)

سو فرعون نے (ہمارے) پیغمبر کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا (16:73)

بھلا تم کو لشکروں کا خال معلوم ہوا ہے (17:85)

(یعنی) فرعون اور ثمود کا (18:85)

لیکن کافر (جان بوجھ کر) جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں (19:85)

اور اللہ (بھی) ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے (20:85)

اور فرعون کے ساتھ (کیا کیا) جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا (10:89)

یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے (11:89)

More Reference : 7:100 9:69 28:58,78
Page 309 752 428,1031
0:21 47:13 50:36
128 429 429

والمزيد راجع ٧ الأعراف: ١٠٠ ٩ التوبة: ٦٩
٢٨ القصص: ٧٨٠٥٨ ٤٠ المنومن رضى: ٢١ ٤٧ محمد: ١٣
٥٠ ق: ٣٦

مزيد حوالہ 78,58: 28 69: 9 100: 7
صفحة 1031,428 752 309
36: 50 13: 47 21: 40
429 429 428

HERE HAVE BEEN WICKED AND CRIMINAL LEADERS AMONG EVERY TOWN FOLK

كان في كل أمة من الأمم الماضية
أكابر مجرميها

ہر قوم میں رؤساء (بڑے لوگوں) ہی کو جرائم کا مرتکب پایا گیا

And thus We have made in every city great ones of its wicked ones, that they should plot therein. They do not but plot against themselves, though they perceive not. (6:123)

وَكذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا جُرْمِهَا
لِيَسْكَرُوا فِيهَا وَيَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

﴿٦ الانعام ١٢٣﴾

اور اسی طرح ہم نے ہر گاؤں (علاقہ) میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب پایا تاکہ وہ لوگ وہاں مکاریاں کریں اور وہ لوگ اپنے ساتھ ہی فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں (123:6)

STAINING NATURE OF DISBELIEVERS TAKING THE DIVINE TRUTH AS ILLUSION AND THE REAL TORMENT AS MERE WITCHERY

من خصائل الكفار تأويل عذاب الله
طبقا بالفكر الإلحادي

عذاب الہی کو توجہات (دلائل) پیش کرنا تاکہ مشیت الہی کا دخل تسلیم نہ کرنا پڑے۔ خصلت کفار

Detail Consult : 15:14,15 46:24,25 52:44
Page 328, 933, 310
Detail Consult People of A'ad Page 932

والتفصيل راجع ٤٦ الأحقاف: ٢٥٠٢٤ ٥٢ الطور: ٤٤
١٥ الحجر: ١٥٠٤١ الصفحة ٣١٠, ٩٣٣, ٣٢٨
والتفصيل راجع عاد اولی ٩٣٢

تفصيل کیلئے دیکھئے 15,14:15 25,24:46 44:52
صفحة 310, 933, 328
تفصيل کیلئے دیکھئے قوم عاد صفحه 932

CRYING OF UNBELIEVERS FOR MERCY WHILE FACING DESTRUCTION HAS EVER GONE VAIN

Rather but those who disbelieve are in false pride and schism. (38:2)

How many a generations We destroyed before them, and they cried out when it was no longer the time for escape! (38:3)

Turn to your Lord repentant, and surrender to Him, before there comes to you the doom, when you cannot be helped. (39:54)

كل استغاثة الكافرين عند ما يأتي العذاب
يكون بدون جدوى دائما

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ شِقَاقٌ ﴿٢﴾
﴿٣٨ ص ٢﴾

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآوَلَاتِ
حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾ ﴿٣٨ ص ٣﴾

وَإِنِّيَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾
﴿٣٩ الزمر ٥٤﴾

عذاب آجانے پر منکرین کی ہر قسم کی
فریاد ہمیشہ بے کار گئی

مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے
ہوئے ہیں (2:38)

ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ
(عذاب کے وقت) فریاد کرنے لگے اور وہ رہائی کا وقت
نہیں تھا (3:38)

اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آواغ ہو۔ اپنے
پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرماں بردار
ہو جاؤ پھر تم کو مدد نہیں ملے گی (54:39)

For Detail Consult 7:75 10:92 18:34
28:78 34:16 Page 938,1040,1111,1031,1115

وللتفصیل راجع ۱۷ الأعراف: ۷۵ ۱۰ یونس: ۹۲
۱۸ الکہف: ۲۴ ۲۸ القصص: ۷۸ ۳۴ سبأ: ۱۶

تفصیل کیلئے دیکھئے 75:7 10:92 18:34
صفحة 16:34 78:28 1115,1031,1111,1040,938

ULTIMATE FATE OF ARROGANT PEOPLE RELYING UPON THEIR POSSESSIONS AND POWER

For Detail Consult People of A'ad People of Thamud
Page 932 941
Korah Pharaoh People of Sheba Haman
1031 1040 1115 1030

For Detail Consult : 9:69 14:28 28:58,78
Page 752 302 428,1031
40:21 41:15 43:8 46:26
428 929 202 929
47:13 50:36
429 429

WHOSOEVER TURN HEEDLESS TO ALLAH (SWT) WHILE REJOICING PROSPERITY ARE CONFOUNDED IN THE MIDST OF THEIR IMPIOUS TOMFOOLERY

Then, when they forgot that whereof they had been reminded, We opened to them the gates of all things till, even as they were rejoicing in that which they were given, We seized them unaware, and they were dumbfounded. (6:44)

So of the people who did wrong the last remnant was cut off. Praise be to Allah, Lord of the Worlds! (6:45)

Then We changed the evil plight for good till they grew affluent and said: Tribulation and distress did touch our ancestors. Then We seized them unaware, when they perceived not. (7:95)

عاقبة الكافرين المعجبين
بقوتهم وأموالهم

وللتفصیل راجع عاد اولی قوم ثمود قارون
الصفحة ۱۰۳۱ ۹۴۱ ۹۳۲
فرعون قوم سبا هامان
۱۰۴۰ ۱۱۱۵ ۱۰۳۰

وللتفصیل راجع ۹ التوبة: ۶۹ ۱۴ ابراهيم: ۲۸
۲۸ القصص: ۷۸ ۵۸:۷۸ ۴۰ المئومن (غافر): ۲۱
۴۱ حم السجدة (الفلک): ۱۵ ۴۳ الزخرف: ۸ ۴۶ الأحقاف: ۲۶
۴۷ محمد: ۱۳ ۵۰ ق: ۳۶

منکر افراد و اقوام کا
دولت اور طاقت پر گھمنڈ کا انجام

تفصیل کیلئے دیکھئے قوم عاد قوم ثمود قارون
صفحة 932 941 1031
فرعون قوم سبا هامان
1030 1115 1040

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:69 14:28 28:58,78
صفحة 752 302 428,1031
26:46 8:43 15:41 21:40
929 202 929 428
36:50 13:47
429 429

ربما يكون الترف استد راجاً
لبطش الله

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ
كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ
بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾
﴿٦ الانعام ٤٤﴾

فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ ﴿٦ الانعام ٤٥﴾

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا
وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾
﴿٧ الاعراف ٩٥﴾

جو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں
ناگہاں عذاب کے حق دار ٹھہرتے ہیں

پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی
فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے
کھول دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو
دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں
پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے (44:6)

غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف
اللہ رب العالمین ہی کو (لا ائق) ہے (45:6)

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ
(مال و اولاد میں) زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح
کارنخ و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا تو ہم نے ان
کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ (اپنے حال میں) بے خبر تھے
(95:7)

ULTIMATE FATE OF DISBELIEVERS OF PROPHETS

For Detail Consult Chapters
of Narrations of Holy Prophets (PWT)
Page 206,675,684,685,1045

عاقبة المنكرين الرسل

وللتفصیل راجع ابواب قصص الانبياء عليهم السلام
الصفحة ۱۰۴۵،۶۸۵،۶۸۴،۶۷۵،۲۰۶

منکرین انبیاء کرام کا انجام

تفصیل کیلئے دیکھئے ابواب قصص الانبياء عليهم السلام
صفحة 1045,685,684,675,206

**EVENTS DURING THE LIFE OF
PROPHET MUHAMMAD (SAAS)**

الحِوَالِثُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ

حیات طیبہ (سزائے نبی کریم کی روایتیں)
پس منہج اے دلتے راہنما

**PEOPLE OF THE ELEPHANT
30th AUG. YEAR 571 AD OR 570 AD**

أَصْحَابُ الْفِيلِ
بعض اہل بیت کے نام ۵۷۱ م یا ۵۷۰ م

ہاشمی دالتے
۱۳۶ھ ۳۰ اگست ۵۷۱ م یا ۵۷۰ م

**EXPEDITION OF ABRAHA ASHRAM
AN ABYSSINIAN GOVERNOR OF YEMEN
INTENDING TO DESTROY KA'BA
(THE SACRED HOUSE) BUT PERISHED BY A MIRACLE**

إهجام الملك القسيحي أبرهة الأشرم
على الكعبة وهزيمته عن طريق الإعجاز

عیسائی گورنر یمن ابرہہ الاشرم کا خانہ کعبہ پر حملہ
کی نیت سے آنا اور اس کی معجزانہ شکست

**INCIDENT IN THE VERY YEAR OF BIRTH OF
HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS)**

حادث وقع في نفس العام الذي ولد فيه
الرسول الكريم النبي العربي محمد ﷺ

سال ولادت رسول کریم
حضرت محمد ﷺ کا واقعہ

Have you not seen how your Lord dealt with the owners of the elephant? (105:1)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝
﴿۱۰۵ الفیل ۱﴾

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاشمی والوں
کے ساتھ کیا کیا؟ (1:105)

Did He not bring their stratagem to nothing? (105:2)

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ۝
﴿۱۰۵ الفیل ۲﴾

کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟
(2:105)

And sent against them swarms of flying creatures, (105:3)

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝
﴿۱۰۵ الفیل ۳﴾

اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے (3:105)

Which pelted them with stones of baked clay (105:4)

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝
﴿۱۰۵ الفیل ۴﴾

جو ان پر کنگر کی پھریاں پھینکتے تھے (4:105)

And made them like green crops devoured (by cattle)? (105:5)

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝
﴿۱۰۵ الفیل ۵﴾

تو ان کو ایسا کر دیا جیسے (جانوروں کا) کھایا ہوا بھوسہ
(5:105)

**FORECAST OF
THE VICTORY OF THE ROMANS**

**الإخبار بالنسبة للرومانيين
الرومانيين بقادتنا**

الانذار بالفتح الروماني

**BECOMING TRUE OF THE PREDICTION OF
ONCE AGAIN BECOMING VICTORIOUS
OF BYZANTINES AFTER THEIR DEFEAT
AUTHENTICATES THE REALITY OF QURAN
AS DIVINE REVELATION**

الإخبار المقدم بغلبة الروم بعد
انهزامهم في بضع سنين دليل على
صدق القرآن الكريم

اہل روم کی شکست کے بعد
دوبارہ غالب آجانے کی پیش گوئی کا ثابت ہونا
صداقت قرآن کی بڑی دلیل ہے

Alif. Lam. Mim. (30:1)

الْم ۝

الم (1:30)

The Byzantines (Romans) have been defeated (30:2)

﴿۳۰ الروم ۱﴾

اہل روم مغلوب ہو گئے (2:30)

the nearer land, and they, after their defeat will be victorious (30:3)

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّن بَعْدِ غَلِبِهِمْ
سَيَغْلِبُونَ ۝
﴿۳۰ الروم ۲﴾

نزدیک کے ملک میں۔ اور وہ مغلوب ہونے کے بعد
عنقریب غالب آجائیں گے (3:30)

few years later. With Allah's command, both before and later. On that day believers will be aided. (30:4)

فِي بضع سنين لله الامر من قبل ومن
بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ۝
﴿۳۰ الروم ۳﴾

چند سالوں میں، پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے
اور اس روز مؤمن (اللہ کی عٹھی ہوئی فتح پر) خوش ہو
جائیں گے (4:30)

With the help of Allah He helps to victory whom He wills. He is the Mighty, the Merciful. (30:5)

بِنصْر اللّٰهِ يَنْصُرْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ۝
﴿۳۰ الروم ۴﴾

(یعنی) اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ
غالب (اور) مہربان ہے (5:30)

It is a promise of Allah. Allah fails not His promise, but most of mankind do not realise. (30:6)

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾
﴿٣٠ الروم﴾

(یہ) اللہ کا وعدہ (ہے) اللہ اپنے وعدے کے خلاف میں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (6:30)

FIRST OCCASION OF GABRIEL (PBUH) APPEARANCE IN STately FORM BEFORE THE HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

رسول کریم حضرت محمد ﷺ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مرتبہ اسی شکل میں قرب سے دکھانا
روزہ محرم ۱۱ھ میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی صبرونہ الجنتہ اول منہ

By the Star when it sets, (53:1)

اورے کی قسم جب غروب ہونے لگے (1:53)

Your comrade errs not, nor is deceived; (53:2)

کہ تمہارے ساتھی (محمد) نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں (2:53)

Nor does he speak of (his own) desire. (53:3)

اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ (3:53)

It is nothing except an inspiration that is sent down to him. (53:4)

یہ (قرآن) تو وحی جو (ان کی طرف) اتاری جاتی ہے۔ (4:53)

Which one of mighty power has taught him, (53:5)

ان کو نہایت قوت والے فرشتے نے سکھایا (5:53)

One vigorous; and he grew clear to view (appeared in stately form). (53:6)

(یعنی جبرائیل) طاقتور نے پھر وہ سامنے آکھڑا ہوا۔ (6:53)

And when he was on the uppermost part of the horizon. (53:7)

اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔ (7:53)

Then he drew near and came down (53:8)

پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ (8:53)

Till he was (distant) two bows' length or even nearer, (53:9)

تو وہ دو کمان کے فاصلے پر رہ گیا یا اس سے بھی کم (9:53)

So did Allah conveyed the inspiration to His slave what he (meant) to convey. (53:10)

(پس اس) اللہ نے اپنے بندے کو وحی پہنچائی جو اسے پہنچانی تھی (10:53)

The (Prophet's) heart lied not (in seeing) what he saw. (53:11)

جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا (11:53)

Will you then dispute with him concerning what he saw? (53:12)

کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ (12:53)

He saw him on the clear horizon; (81:23)

اس نے اس (فرشتے) کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے۔ (23:81)

Nor was he grudging about the Unseen. (81:24)

اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں (24:81)

START OF REVELATION OF THE HOLY QURAN

ابتداء نزول قرآن کریم

REVELATION OF FIRST VERSE AT CAVE HIRA (MAKKAH) 18th RAMDHAN - 7th AUG 610 AD

الوحي الأول (فی جبل نور) ۱۸ رمضان المبارک العام ۴۱ م الموافق ۷ اغسطس ۶۱۰ م

پہلی وحی - غار حراء (مکہ معظمہ) ۱۸ رمضان المبارک سال ۴۱ میلادی بمطابق ۷ اگست ۶۱۰ م

Read: In the name of your Lord Who created. (96:1)

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾
﴿۹۶ العلق﴾

(اے محمد) اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے (عالم کو) پیدا کیا (1:96)

Created man from a clot. (96:2)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
﴿٩٦ العلق ٢﴾

جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے بنایا
(2:96)

Read: And your Lord is the Most Bounteous, (96:3)

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾
﴿٩٦ العلق ٣﴾

پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے (3:96)

Who taught by the pen, (96:4)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾
﴿٩٦ العلق ٤﴾

جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا (4:96)

Taught man that which he knew not. (96:5)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾
﴿٩٦ العلق ٥﴾

اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا
(5:96)

MIGRATION (HIJRAT) OF MUSLIM TO ABYSSINIA DURING PROPHETIC YEAR 5 (615 AD)

هجرة المسلمين الى الحبشة في العام النبوي الثالث 615

مہاجرین کی جانب ہجرت اور نبی کریم ﷺ کی جانب ہجرت 615

And those who became fugitives for the cause of Allah after they had been oppressed, We surely shall give them goodly lodging in the world, and surely the reward of the Hereafter is greater, if they but knew; (16:41)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ لَاجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾
﴿١٦ النحل ٤١﴾

اور جن لوگوں نے ظلم سننے کے بعد اللہ کے لئے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ (اسے) جانتے (41:16)

Such as are steadfast and put their trust in Allah. (16:42)

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾
﴿١٦ النحل ٤٢﴾

یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں (42:16)

When your Lord--for those who became fugitives after they had been persecuted, and then fought and were steadfast-- your Lord afterward is (for them) indeed forgiving, Merciful, (16:110)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾
﴿١٦ النحل ١١٠﴾

پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا۔ پھر جہاد کئے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار بے شک ان کو ان (آزمائشوں) کے بعد بخشنے والا (اور ان پر) رحمت کرنے والا ہے (110:16)

TRACILE OF APPEARING OF MOON CLEFT ASUNDER ON INSTANCE OF DISBELIEVERS OF MAKKAH SEVEN YEARS EARLIER TO MIGRATION TO MADINAH

هجرة شق القمر بمصرح طلب اول مكة (حسب اهل العلم 717)

مصرح شق القمر 610 قبل ہجرت سے سات سال قبل (717)

The Hour (of judgement) draws near and the moon was rent in vain. (54:1)

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾
﴿٥٤ القمر ١﴾

قیامت قریب آچنی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا (1:54)

And if they see a portent they turn away and say: Prolonged illusion. (54:2)

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾
﴿٥٤ القمر ٢﴾

اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے (2:54)

ARRIVAL OF A COMPANY OF JINNS FROM THE NASIBAIN

الجن من النسيب (حزب) الى مكة

النسيب (حزب) سے مقام مکہ کی جات کی آرزو

Consult Page 690

راجع الصفحة 690

دیکھئے صفحہ 690

THE NIGHT JOURNEY - (MIRAJ)

ASCENSION OF THE PROPHET MUHAMMAD (SAAS) HEAVENS AND RETURN DURING 27th NIGHT OF RAJAB 620-21AD (ONE YEAR BEFORE MIGRATION)

معراج النبی ﷺ

المراد - معراج النبی ﷺ

17 رجب النبوي 620 - قبل الهجرة بسنة واحدة

17 رجب 620-21 (ہجرت سے ایک سال قبل)

Corried be He (Allah) Who carried His servant for a journey by night from the Noble Place of Worship (Sacred Mosque) Holy Kaaba to the Far Distant Place of Worship (Mosque Al - Aqsa) the neighborhood whereof We have blessed. In order that We might show him Our signs! Surely! He, only He, is the Seer, the Seer. (17:1)

سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيْكَ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١﴾
﴿١٧ بني اسرائيل ١﴾

وہ اللہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گرداگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے (1:17)

MEETING OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS) WITH OTHER MESSENGERS DURING THE NIGHT JOURNEY

لقاء النبي الكريم محمد ﷺ بالرسول
في الإسراء والمعراج

دوسرے پیغمبران سے نبی کریم حضرت محمد ﷺ کی
اسراء و معراج کے موقع پر ملاقات

And ask those of Our messengers whom We sent before you: Did We ever appoint gods to be worshipped besides the Beneficent? (43:45)

وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾
﴿٤٣ الزخرف ٤٥﴾

اور (اے محمدؐ) جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ کیا ہم نے (اللہ) رحمن کے سوا اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ (45:43)

ATTAINING THE HEIGHTS BY HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS) DURING ASCENSION WHICH ARE INCONCEIVABLE TO HUMAN PRUDENCE

بلوغ الرسول الكريم ﷺ
سدرۃ المنتہی (مقاما عظیما
يفوق التصور، لا یدرکہ العقل)

انسانی انتہائے حیرت کے مقام (سدرۃ المنتہی)
تک نبی کریم حضرت محمد ﷺ کی
سفر معراج کے دوران رسائی

PROPHET MUHAMMAD (SAAS) SAW ANGEL GABRIEL (PBUH) ONCE AGAIN WHILE ASCENSION

رؤية النبي محمد ﷺ جبریل علیہ السلام
لیلة المعراج مرة اخرى

شب معراج حضرت محمد ﷺ کا
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا

And he indeed saw him, a second time (53:13)

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿١٣﴾
﴿٥٣ النجم ١٣﴾

اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے
(13:53)

Along side the Garden of Repose (at the utmost boundary), (53:14)

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٤﴾
﴿٥٣ النجم ١٤﴾

سدرۃ المنتہی (بیری کے درخت) کے پاس اس کو اترتے دیکھا
(14:53)

Near to which is the Garden of Abode. (53:15)

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿١٥﴾
﴿٥٣ النجم ١٥﴾

جہاں پاس ہی جنت الماویٰ ہے (15:53)

When that which shrouds did enshroud the lote tree, (53:16)

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿١٦﴾
﴿٥٣ النجم ١٦﴾

اس وقت سدرۃ (بیری کے درخت) پر چھارہا تھا جو چھارہا تھا
(16:53)

The eye turned not aside nor yet was overbold. (53:17)

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿١٧﴾
﴿٥٣ النجم ١٧﴾

ان کی آنکھ نہ تو بھکی یا چندھیائی اور نہ (حد سے) آگے
بڑھی (17:53)

He saw some of the most profound symbols of his Lord. (53:18)

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿١٨﴾
﴿٥٣ النجم ١٨﴾

انہوں نے اپنے رب (کی قدرت) کی کئی ہی بڑی
بڑی نشانیاں دیکھیں (18:53)

More Reference : 81 :23,24 Page 687

والمزيد راجع ٨١ التكویر: ٢٤، ٢٣ الصفحة ٦٨٧

مزید حوالہ 81 :23,24 صفحہ 687

APPROACHING OF PAGAN QURAISH LEADERS TO THE HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS) AND HIS PREACHING (TO GET THEM INTO THE FOLD OF ISLAM)

تقریباً المشرك قريش
إلى الرسول الكريم محمد ﷺ
واعتروا النبي إلى الإسلام

رسول کریم ﷺ کے پاس رومساکے مشرکین کی
آوارا تک پہنچنے کا نہیں دعوت
قبول اسلام کرنا

As for him who thinks himself independent, (80:5)

أَمْ أَمِنَ اسْتَعْنَى ﴿٥﴾
﴿٨٠ عبس ٥﴾

جو شخص بے پروا ہی کرتا ہے (5:80)

To him you pay your whole attention. (80:6)

فَأَنْتَ لَهَا تَصَدَّقٰى ﴿٦﴾
﴿٨٠ عبس ٦﴾

اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں (6:80)

Although you are not accountable for his failure to attain to purity. (80:7)

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي ۗ ﴿٧﴾
﴿٨٠ عيس ٧﴾

حالانکہ اگر وہ نہ بھی سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ (7:80)

**INTERRUPTION OF
ABDULLAH-IBN-UMM-I-MAKTUM
A BLIND COMPANION
OF THE PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
BEING IGNORANT TO THE SITUATION**

تدخل عبد الله بن أم مكتوم
(الصحابي الأعمى) في مكالمة النبي
الكريم ﷺ من غير علم

عبد اللہ بن ام مکتوم (نابینا صحابی)
کی لاعلمی اور مداخلت کلام

Because the blind man came to him. (Interrupting). (80:2)

أَنَّ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۗ ﴿٢﴾
﴿٨٠ عيس ٢﴾

کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا (2:80)

But as to him who came to you with earnest purpose (80:8)

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۗ ﴿٨﴾
﴿٨٠ عيس ٨﴾

اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا (8:80)

And with fear, (in his heart). (80:9)

وَهُوَ يَخْشَى ۗ ﴿٩﴾
﴿٨٠ عيس ٩﴾

اور (اللہ سے) ڈرتا ہے (9:80)

**THE HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
DISLIKED INTERRUPTION**

آثار تكدير الخاطر على وجه
النبي الكريم محمد ﷺ

رسول کریم ﷺ کے چہرہ اقدس پر
(مداخلت کلام کی بنا پر) ناگواری کے
اثرات کا نمایاں ہونا

He (the Prophet) frowned and turned away (80:1)

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۗ ﴿١﴾
﴿٨٠ عيس ١﴾

(مجھ مصطفیٰ) ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے
(1:80)

**DIVINE INSTRUCTIONS FOR NOT IGNORING
TEACHING & GUIDANCE OF SIMPLE AND
POOR FOLK, BESIDES EFFORTS TO TURN
THE UNBELIEVERS INTO THE FOLD OF ISLAM**

من واجب الداعية إلقاء العناية
إلى تربية المسلمين الساذجين وتزكيتهم
مع تبليغ الإسلام لغير المسلمين

غیر مسلموں کو تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ
سادہ لوح مسلمانوں کی تعلیم اور اصلاح پر
توجہ دینے کا حکم الہی

What will make you realize that he might grow (in purity). (80:3)

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهِ يَزْكِي ۗ ﴿٣﴾
﴿٨٠ عيس ٣﴾

اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سدھر جائے (3:80)

Or that he may take heed and so the reminder might avail him? (80:4)

أَوَيْدًا كَرَفْتُنَّفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۗ ﴿٤﴾
﴿٨٠ عيس ٤﴾

یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے
نافع ہو۔ (4:80)

From him you are distracted. (80:10)

فَأَنْتَ عَنْهُ تُلَهَّى ۗ ﴿١٠﴾
﴿٨٠ عيس ١٠﴾

اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں (10:80)

**LISTENING TO THE RECITATION
OF HOLY QURAN OF HOLY PROPHET
MUHAMMAD (SAAS) BY A COMPANY OF JINNS
FROM THE NASIBAIN**

استماع الجن من النصيب (جنوں) الی
تلاوة القرآن بالنسبة للنبي الكريم ﷺ

النصیبین (جنوں) کے جماعت کے (تلاوت قرآن پاک)

And when We inclined towards you (Muhammad) a company of the Jinns, who wished to hear the Qur'an and, when they were in its presence, said: Listen quietly and, when it (reading) was finished, they returned to their people, to warn them. (46:29)

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ
الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ
وَلَوَّا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٢٩﴾

اور (باد کرو) جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو
آپ کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنیں تو جب وہ نبی
کے پاس آئے تو (آپس میں) کہنے لگے کہ خاموش
رہو۔ جب (تلاوت قرآن) پڑھنا تمام ہوا تو اپنی
برادری کے لوگوں میں واپس لوٹ گئے کہ (ان کو)
نصیحت کریں (29:46)

**JINNS WERE IMPRESSED
AND BELIEVED IN
THE MESSAGE OF HOLY QURAN**

They said: O our people! we have heard a Scripture, which has been revealed after Moses, confirming that which was before it, guiding to the truth and to a right path. (46:30)

O our people! Respond to one who invites you to Allah and believe in Him. He will forgive some of your sins and guard you from a painful doom. (46:31)

And when we heard the guidance, we believed therein, and whoso believes in his Lord, he fears neither loss nor oppression. (72:13)

**RECOGNITION OF MONOTHEISM
BY JINNS**

Say (O Muhammad): It is revealed to me that a company of the Jinn listened (to the Quran) and they said: we have heard a marvelous recital. (72:1)

Which guides to righteousness, so we believe in it and we ascribe to our Lord no partner. (72:2)

And (we believe) that - exalted is the Majesty of our Lord!--has taken neither a wife nor a son, (72:3)

And that some foolish among us tell concerning Allah an atrocious lie. (72:4)

And we had supposed that humankind and jinn would not speak a lie concerning Allah-- (72:5)

ایمان الجن بالقرآن الکریم

قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ
مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ وَالْإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٣٠﴾

يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ
مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٣١﴾

وَإِنَّا لَنَسْمِعُ مَا هَدَىٰ أُمَّتَابَهُ فَمَنْ يُؤْمِنُ
بِرَبِّهِ فَلَا يَخَفُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾
﴿٧٢ الجن ١٣﴾

إقرار الجن بالتوحيد

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْمَعُ لِقَوْمٍ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا
إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾
﴿٧٢ الجن ١﴾

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا
أَحَدًا ﴿٢﴾
﴿٧٢ الجن ٢﴾

وَإِنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾
﴿٧٢ الجن ٣﴾

وَإِنَّكَ كَانْتَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾
﴿٧٢ الجن ٤﴾

وَإِنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾
﴿٧٢ الجن ٥﴾

جنات کا قرآن پاک پر ایمان لانا

کے لگے کہ اے قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو
موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو (کتابیں) اس سے
پہلے (نازل ہوئی) ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے (اور)
سچا (دین) اور سیدھا راستہ بتاتی ہے (30:46)

اے قوم! اللہ کی طرف بلائے والے کی مات کو قبول
کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا
اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا
(31:46)

اور جب ہم نے ہدایت (کی کتاب) سنی اس پر ایمان
لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے
اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا (13:72)

جنات کا اقرار توحید

(اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی
آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے (اس کتاب کو)
سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا
(1:72)

جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے
ہیں اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک
نہیں بنائیں گے (2:72)

اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت (شان) بہت
بڑی ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد (3:72)

اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے
میں جھوٹ بولتے ہیں (4:72)

اور ہمارا (یہ) خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت
جھوٹ نہیں بولتے (5:72)

**FRANK CONFESSION OF JINNS
OF THEIR BEING MISTAKEN ABOUT
THE OMNIPOTENCE OF ALLAH (SWT)**

اعتراف الجن في أنفسهم
بالظن الكاذب في قدرة الله تعالى

جنات کا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں اپنی
غلط فہمیوں کو تسلیم کرنا

And indeed (O Muhammad) individuals of humankind used to invoke the protection of individuals of the jinn so that they increased in them the revolt (against Allah); (72:6)

وَإِنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ
مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾
﴿٧٢ الجن ٦﴾

بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے (اس سے) جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی (6:72)

And indeed they supposed, even as you suppose, that Allah would not raise anyone (from the dead) (72:7)

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ
أَحَدًا ﴿٧﴾
﴿٧٢ الجن ٧﴾

اور (انسانوں) نے بھی جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا (یا کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا) (7:72)

And (the Jinn who had listened to the Qur'an said): We pried into the secrets of the heaven but had found it filled with strong warders and flaming fires and meteors. (72:8)

وَإِنَّا لَنَسْنَأُ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلَأَةً حَرَاسًا
شَدِيدًا وَأَوْشُهَابًا ﴿٨﴾
﴿٧٢ الجن ٨﴾

(جنات کی جس جماعت نے قرآن کی تلاوت سنی تھی) بولے کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط پیرے داروں اور سخت شعلوں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا۔ (8:72)

And we used to sit on places (high) wherein to listen. But he who listens now finds a flame watching him; in ambush. (72:9)

وَإِنَّا لَكُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن
يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾
﴿٧٢ الجن ٩﴾

اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں (خبریں) سننے کے لئے بیٹھا کرتے تھے اب کوئی کان لگاتا ہے تو اپنے لئے ایک شعلہ کو تاک میں پاتا ہے۔ (9:72)

And we understand not whether harm is intended to all who are in the earth, or whether their Lord intends guidance for them; (72:10)

وَإِنَّا لَنَدْرِي أَسْرُرُ الَّذِينَ يَمُنُّ فِي الْأَرْضِ
أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾
﴿٧٢ الجن ١٠﴾

اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے (10:72)

**CONFESSION OF JINNS THAT BY NO MEANS,
CAN THEY FRUSTRATE ALLAH (SWT)**

اعتراف الجن يعجزهم أمام الله

جنات کا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ
میں اظہار عاجزی

And we confess that we cannot escape from Allah in the earth, nor can we escape by flight (By no means can frustrate Allah). (72:12)

وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّنْ نَّعْزِلَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن
نَّعْزِلُهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾
﴿٧٢ الجن ١٢﴾

اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں (خواہ کھیں ہوں) اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں (12:72)

INCIDENT OF HIDING
OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS) ALONG WITH
HIS COMPANION ABU-BAKR (RAA) IN THE CAVE OF
THAUR (SA'UR) (A MOUNTAIN IN
SUBURB OF MAKKAH) FOR THREE NIGHTS
13-RABI-AL-AWAL-SEPTEMBER 16-622 AD

حادث غار ثور
 اہل النبی الکریم ﷺ کے ساتھ صحابہ ابی بکر صدیق
 کے ساتھ غار ثور (سا'ور) (مکہ کے قریب ایک پہاڑ)
 میں چھپنے کے لیے 13 ربیع الاول 622ء

واقعہ غار ثور
 نبی کریم ﷺ کے ساتھ صحابہ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 ساتھ غار ثور (مکہ کے قریب ایک پہاڑ) میں چھپنے کے لیے
 13 ربیع الاول 622ء

PAGANS OF MAKKAH PLOTTED FOR
THE LIFE OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
MIGRATION OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
TO YATHRIB AND CHASE BY UNBELIEVERS

And when those who disbelieve plotted against you (O Muhammad) to keep you in bounds or to kill you or to drive you forth; they planned but Allah (also) planned; and Allah is the best of planners. (8:30)

مکایدة الکفار وھجرته الی یثرب
و تعاقب الکفار له

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ
 أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾
 ﴿٨ الانفال ٣٠﴾

کفار مکہ کی نبی کریم ﷺ کو قتل کرنے کی سازش
آپ کی یثرب کی جانب ہجرت اور کفار کا تعاقب

اور (اے محمدؐ اس وقت کو یاد کرو) جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چال رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا (وطن سے) نکال دیں تو (ادھر تو) وہ چال چال رہے تھے اور (ادھر) اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے (30:8)

ENEMY PROWLED AROUND THE CAVE
BUT FAILED TO SEARCH THEM -
ALLAH (SWT) SAVED BOTH
PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
AND HIS COMPANION ABUBAKR (RAA) AND
SENT DOWN HIS PEACE AND TRANQUILITY

If you help not the Prophet (It is no matter), still Allah indeed helped him when those who disbelieve drove him forth, the second of two; when they two were in the cave, when he said to his comrade: Grieve not. Allah is with us. Then Allah caused His peace of reassurance to descend upon him and supported him with hosts you cannot see, and made the word of those who disbelieved the lowest, while Allah's word remained supreme. Allah is Mighty, Wise. (9:40)

نصر من اللہ للنبی الکریم ﷺ
ومصاحبة ابی بکر الصدیق فی الغار
وفشل الکفار من ادرا کھما
مع بلوغھم الغار
وانزال اللہ تعالیٰ سکینتہ علیہ

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
 إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا
 مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ
 بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾
 ﴿٩ التوبة ٤٠﴾

دشمن کو غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود تلاش میں
ناکامی اللہ تعالیٰ کا رسول کریم حضرت محمد ﷺ اور ان
کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
محفوظ رکھنا۔ اور غار میں تکلیف کے دوران اللہ تعالیٰ
کی جانب سے تسکین کا نزول

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو (کوئی فرق نہیں پڑتا) اللہ ان کا مددگار ہے۔ (وہ وقت تم کو یاد ہوگا) جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا (اس وقت) دو (ہی شخص تھے جن میں ایک ابوبکر تھے) دوسرے (خود رسول اللہ) جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات اللہ ہی کی بلند ہے۔ اور اللہ زبردست (اور) حکمت والا ہے (40:9)

MIGRATION TO MADINAH
27-RABI-SABAT-20th SEPTEMBER 622 AD

الھجرۃ الی المدینۃ
 27 ربیع الثانی 622ء

مدینہ کی جانب ہجرت
 27 ربیع الثانی 20 ستمبر 622ء

And remember, when you were few and deemed feeble in the land, and were in fear lest men should extirpate you, how He gave you refuge, and strengthened you with His help, and made provision of good things for you, that haply you might be thankful. (8:26)

وَإِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا وَأَنتُمْ فِي الْأَرْضِ
 تُخَافُونَ أَنْ يَنْخَطِفَكُمْ الْبَاسُ
 فَأَوَّكُمُ وَأَيَّدَكُمْ بِبَنَصِرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ
 الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾
 ﴿٨ الانفال ٢٦﴾

اور (اس وقت کو) یاد کرو جب تم زمین (مکہ) میں قلیل اور کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں لوٹ کھسوٹ نہ لیں تو اس نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور اپنی نصرت سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ (اس کا شکر کرو) (26:8)

MOSQUE OF PIETY (QUBA)

-----A Place of worship which was founded upon duty (to Allah) from the first day is more worthy that you should stand (to pray) therein,----- (9: 108) PART

المسجد ائس علی التقویٰ

.....كسجد ائس علی التقویٰ من
أول یوم احق ان تقوم فیہ.....
 ﴿٩ التوبة ١٠٨﴾ جزء

مسجد قبا کی تعمیر

..... البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا (اور نماز پڑھایا) کرو۔----- (108:9) جزو

**CHANGE IN DIRECTION OF QIBLA
(TO WHICH MUSLIMS TURN IN PRAYER)
15-SHAABAN YEAR 2 HIJRA 624 AD**

تحویل القبلة
المكان الذي يستقبل المسلمون الله في الصلاة
في 15 شعبان العام 2 هـ الموافق 12 يونيو 624 م

تبدیلی رخ قبلا
(پہلے سے رخ کعبہ کی طرف سے رخ کی طرف)

**CHANGE IN DIRECTION OF QIBLA
WAS ORDAINED ON THE SINCERE DESIRE
OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
(AN INCIDENT AT MADINAH)**

الأمر بتحويل القبلة وفقا لدعاء النبي
الكريم محمد ﷺ ورضاه

نبی کریم ﷺ کی دعا اور خواہش پر
تبدیلی قبلا کا حکم (واقعہ مدینہ)

**KA'BAH WAS SPECIFIED AS QIBLA
INSTEAD MOSQUE OF JERUSALEM**

تعيين الكعبة (المسجد الحرام)
قبلة للمسلمين بدلا من بيت المقدس

بيت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ
(مسجد الحرام) کا قبلا مقرر ہونا

We have seen the turning of your face to heaven (for guidance, O Muhammad). And now We shall make you turn (in prayer) towards a Qiblah that shall please you. So turn your face towards the Inviolable Place of Worship (Sacred Mosque), and you (O Muslims), wheresoever you may be, turn your faces when you pray towards it. And surely those who have received the Scripture know that (this revelation) is the Truth from their Lord. And Allah is not unaware of what they do. (2:144)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾
البقرة ١٤٤

(اے محمد!) ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے تو آپ اپنا منہ مسجد حرام (یعنی خانہ کعبہ) کی طرف پھیر لیں۔ اور تم لوگ جہاں ہوا کرو (نماز پڑھنے کے وقت) اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ (نیا قبلہ) ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں (144:2)

This is the Truth from your Lord (O Muhammad), so be not you of those who waver. (2:147)

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٢﴾
البقرة ١٤٧

(اے پیغمبر یہ نیا قبلہ) آپ کے پروردگار کی طرف سے سراسر حق ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا (147:2)

And whenever you start forth (for prayer, O Muhammad) turn your face towards the Inviolable Place of Worship (Sacred Mosque). No doubt this is the Truth from your Lord. Allah is not unaware of what you do (2:149)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢﴾
البقرة ١٤٩

اور آپ جہاں سے نکلیں (نماز میں) اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ بے شبہ وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں (149:2)

Whenever you come forth turn your face towards the Inviolable Place of Worship; and wheresoever you may be (O Muslims) turn your faces towards it (when you pray) so that no man may have no argument against you. (2:150)PART

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ
لَعَلَّ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
..... ﴿٢﴾ البقرة ١٥٠ جزء

اور آپ جہاں سے نکلیں مسجد حرام (خانہ کعبہ) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی (مسجد) کی طرف رخ کیا کرو (یہ تاکید) اس لئے (کی گئی ہے) کہ لوگوں کی کوئی بھت تم پر باقی نہ رہے۔ (150:2)PART

**ENTANGLING ON CHANGE OF QIBLA
BEHIND JEWS AND HYPOCRITES IN THEIR TALK**

غوغاء اليهود و المنافقين
عند تحويل القبلة

تحويل قبلا پر یہود اور منافقین کا
شور اور واویلا

The foolish among the people will say: What has turned them from the Qiblah, which they formerly observed? Say: To Allah belong the East and the West. He guides whom He will to a straight path. (2:142)

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن
قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ يُهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢﴾
البقرة ١٤٢

عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر (پہلے سے چلے آتے) تھے (اب) اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے (142:2)

THE PRAYERS OFFERED FACING JERUSALEM BEFORE THE ENACTMENT OF CHANGE OF QIBLA WERE DECLARED AS VALID

Thus We have made you a justly balanced nation, that you may be witnesses against mankind, and that the messenger may be a witness against you. And We appointed the Qiblah, which you formerly observed only to test you that We might know him who follows the messenger, from him who turns on his heels. In truth it was a hard (test) except for those whom Allah guided. But it was not Allah's purpose that your faith should be in vain, for Allah is full of Pity, Merciful towards mankind. (2:143)

يكون أجر الصلوات التي صليت قبل الأمر بتحويل القبلة باقيا

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾ البقرة ١٤٣

تحويل قبلہ کے حکم سے قبل پڑھی گئی نمازوں کا اجر بدستور ملے گا

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخر الزماں) تم پر گواہ بنیں۔ اور جس قبلے پر تم (پہلے) تھے اس کو ہم نے اس لئے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون (ہمارے) پیغمبر کے تابع رہتا ہے اور کون اٹنے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات (یعنی تحويل قبلہ لوگوں کو) مشکل معلوم ہوئی مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے (وہ اسے مشکل نہیں سمجھتے) اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یونہی ضائع کر دے اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان (اور) صاحب رحمت ہے (143:2)

CONFLICT BETWEEN JEWS AND CHRISTIANS ON DIRECTION OF QIBLA JEWS FACING SYNAGOGUES TO JERUSALEM WHILE CHRISTIANS ORIENTED THEIR CHURCHES TO THE EAST

And even if you were to bring to those who have received the Scripture all kinds of portents, they would not follow your Qiblah, nor can you be a follower of their Qiblah; nor are some of them followers of the Qiblah of others. And if you should follow their desires after the knowledge, which has come to you, then surely were you among the evildoers. (2:145)

صخرة بيت المقدس قبله اليهود وشرق بيت المقدس قبله النصارى

وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢﴾ البقرة ١٤٥

یہود کا قبلہ صخرہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا قبلہ شرق بیت المقدس

اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آئیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں۔ اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس دانش (یعنی وحی اللہ آچکی ہے) ان کی خواہشوں کے پیچھے چلیں گے تو یقیناً آپ بھی ظالموں میں (داخل) ہو جائیں گے۔ (145:2)

MUSLIMS MAY NOT HEED TO THE CONFLICTS BETWEEN PEOPLE OF SCRIPTURES ON THE DIRECTION OF QIBLA

-----Except such of them that are bent on wickedness so fear them not, but fear Me and so that I may complete My favours upon you, and that you may be guided. (2:150) PART

الأمر بعدم الاعتناء إلى عناد أهل الكتاب عند تحويل القبلة

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّوْا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَلَيْكُمْ وَعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٢﴾ البقرة ١٥٠ جزء

تحويل قبلہ پر اہل کتاب کے عناد کی پرواہ نہ کرنے کا حکم

-----مگر ان میں سے جو ظالم ہیں (وہ الزام دیں تو دیں) سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ اور بھی مقصود ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو (150:2) جزو

THE UNIT OF ABDULLAH IBN JASH SENT TO BATN - NAKHLAH

سیرتہ عبد اللہ بن جاش

سیرتہ عبد اللہ بن جاش

INCIDENT OF VALLEY "NAKHALAH" (A PLACE BETWEEN MAKKAH AND TAIF) RAJAB 2-AH

حادیۃ النخلۃ
(وہی مکہ بین مکہ والطائف)
فی رجب العظیم ۲ھ

والنخلۃ والوادی بحال
(دو گونہ اور وقت کے درمیان ایک مقام)

They ask you (O Muhammad) with regard to warfare in the sacred month. Say: Fighting therein is a grave offence. But greater is it in the sight of Allah to prevent access to the path of Allah. To deny Him, to prevent access to the Inviolable Place of Worship, and to expel His people from there, is greater with Allah; for persecution is worse than killing. And they will not cease from fighting against you till they have made you renegades from your religion, if they can. And whoso becomes a renegade and dies in his disbelief: such are they whose works will bear no fruit both in the world and the Hereafter. Such are rightful owners of the Fire: they will abide therein. (2:217)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

(اے محمدؐ) لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بڑا (گناہ) ہے۔ اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام (یعنی خانہ کعبہ میں جانے) سے روکنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا (جو یہ کفار کرتے ہیں) اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ (گناہ) ہے۔ اور فتنہ انگیزی خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر (کر کافر ہو) جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزخ (میں جانے) والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (217:2)

More Reference: Page 690

وللمزيد راجع الصفحة ٦٩٠

مزيد حوالہ: صفحہ نمبر 690

THE BATTLE OF BADAR

150 KILOMETERS SOUTH WEST OF MADINAH ON THE ROAD TOWARDS MAKKAH FRIDAY 17-RAMADHAN 2-AH (624 AD)

غزوة بدر الكبرى

بیت المقدس، مکان فی الجہت العربیۃ فی الطریق
۱۵۰ کلومیٹر جنوب مغرب من المدینۃ المنورۃ الی مکہ
یوم الجمعیۃ ۱۷ رمضان العظیم ۲ھ

غزوة بدر الكبرى

۱۵۰ کلومیٹر جنوب مغرب من المدینۃ المنورۃ الی مکہ
یوم الجمعیۃ ۱۷ رمضان العظیم ۲ھ

FIRST ENCOUNTER TO ESTABLISH TRUTH AND TO REPROBATE FALSE

أول القتال
للتمييز بين الحق والباطل

حق و باطل کا پہلا معرکہ

And (remember) when Allah promised you one of the two parties (of the enemy) that it would be yours, and you longed (wished) that other than the armed one might be yours. And Allah willed that He should cause the truth to triumph by His words, and cut the root of the disbelievers; (8:7)

وَأذِيعِدْكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَذَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٨﴾

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ (بوسفیان اور ابو جہل کے) دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے قابو میں آجائے گا۔ اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے (شان) و شوکت (یعنی بے ہتھیار) ہے وہ تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ (کر پھینک) دے (7:8)

That He might cause the Truth to triumph and bring vanity to nothing, however much the criminals might oppose; (8:8)

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾
﴿٨ الانفال ٨﴾

تاکہ حق کو سچ اور باطل کو جھوٹ ثابت کر دے۔ گو یہ مجرم لوگ ناخوش ہی ہوں (8:8)

POSITIONS IN THE BATTLEFIELD

Remember when you were on the near bank (of the valley) and they were on the farther bank, and the caravan was below you (on the coast plain). And had previous mutual appointment to meet one another you surely would have failed to keep the tryst, but (it happened), so that Allah might conclude a thing that had already been determined; that he who perished (on that day) might perish by a 'clear sign (of His Sovereignty) and he who survived might survive by a clear sign (of His Sovereignty). Indeed Allah in truth is Hearer, Knower. (8:42)

وضع الفريقين في ساحة القتال

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ
الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ اسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ
لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ
اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ
عَنْ بَيْتِنَا وَيُنَجِّي مَنْ خَشِيَ عَنْ بَيْتِنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾
﴿٨ الانفال ٤٢﴾

ميدان جنگ کا نقشہ

یاد کرو جس وقت (تم وادی کے اس کنارے تھے اور کافر دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا) اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ (جنگ) کی قرارداد طے ہو چکی ہوتی تو وہ ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے۔ لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا اللہ فیصلہ کر چکا تھا وہ ظہور پذیر ہو کر رہے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل پر (یعنی یقین جان کر) ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل پر (حق پہچان کر) زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ (42:8)

PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

COMMANDED THE BATTLE PERSONALLY

Just as your Lord caused you (Muhammad) to go forth from your home with the Truth, and a party of the believers were averse (to it), (8:5)

كان النبي الكريم محمد ﷺ
قائدا للجيش الإسلامي نفسه

نبی کریم حضرت محمد ﷺ خود قائد لشکر

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ
فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ ﴿٥﴾
﴿٨ الانفال ٥﴾

جس طرح آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے روانہ کیا اور (اس وقت) مومنوں کی ایک جماعت اس بات پر ناخوش تھی (5:8)

Disputing with you of the Truth after it had been made manifest, as if they were being driven to death visible. (8:6)

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّهُمْ
يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾
﴿٨ الانفال ٦﴾

وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے باوجود آپ سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں (6:8)

ALLAH (SWT) SENT DOWN HIS TRANQUILITY
(PEACE - CALM AND SENSE OF SECURITY)
AND ENDOWED
FAVOURABLE CLIMATIC CONDITIONS

Remember, when He made the slumber fall upon you to give you calm and reassurance from Him and sent down water from the sky upon you, that thereby He might purify you, and remove from you the blight of Satan, and strengthen your hearts and firm (your) feet thereby. (8:11)

إنزال السكينة من الله
وملائمة الطقس

اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین کا نزول
اور موسم کی سازگاری

إِذْ يُغَشِّيكُمُ التُّعَاسُ أَمِنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُفْرًا بِهِ
وَيُرِيْذَ هَبَّ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ
عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾
﴿٨ الانفال ١١﴾

اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے (نبہلا کر) پاک کر دے اور شیطانی وسوسہ کی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمادے۔ (11:8)

BELIEVERS WERE CONFIDANT OF THEIR SPIRIT TO FIGHT THE EVIL, WITHOUT CONSIDERING NUMERICAL STRENGTH OF THE ENEMY

There was a token for you in two hosts which met: one army fighting in the way of Allah, and another disbelieving, whom they saw as twice their number, clearly, with their very eyes. Thus Allah strengthens with His succor whom He wills. Indeed herein is a lesson for the persons with insight. (3:13)

اعتماد المؤمنین علی قوت ایمان
وعدم مبالاۃہم بکثرة عدد العدو

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

﴿ ۳ آل عمران ۱۳ ﴾

اہل ایمان کا اپنی قوت ایمانی پر اعتماد اور دشمن کی کثرت تعداد کو خاطر میں نہ لانا

تمہارے لئے دو گروہوں میں جو (جنگ بدر کے دن) آپس میں معرکہ آرا ہوئے میں اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی تھی ایک گروہ (مسلمانوں کا تھا) اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ (کافروں کا تھا) وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے جو اہل بصیرت ہیں ان کے لئے اس (واقعے) میں بڑی عبرت ہے (13:3)

SATAN (RING LEADER OF THE PAGANS OF MAKKAH) FLED ON HIS HEELS

And remember when Satan made their deeds seem alluring to them and said: No one of mankind can overcome you this day, for I am your protector. But when both detachments came in sight of one another, he took flight, saying: I am innocent of you. I see that which you see not. I fear Allah. And Allah is severe in punishment. (8:48)

زعیم الکفار الشریب نکص علی عقبیہ

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

﴿ ۸ الانفال ۴۸ ﴾

کفار کے شریر سرغنہ شیطان کا خود ہی بھاگ کھڑا ہونا

(ذرا خیال کرو اس وقت) جب شیطانوں نے ان کے کرتوت ان کو خوشنما کر دکھائے اور کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ اور میں تمہارے ساتھ ہوں (لیکن) جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل (صف آراء) ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا۔ اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے (48:8)

ALLAH (SWT) SENT DOWN ANGELS TO ASSIST BELIEVERS (THROUGH INVISIBLE FORCES OF NATURE)

Remember when two parties among you meditated cowardice and Allah was their Protecting Friend. In Allah should believers put their trust. (3:122)

إمداد اللہ تعالیٰ بالملائکة

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِّنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

﴿ ۳ آل عمران ۱۲۲ ﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد فرشتوں کا نازل کیا جانا

اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے ہمت ہار دینا چاہی۔ حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ (122:3)

Allah had already given you the victory at Badr, when you were helpless. So fear Allah in order that you may be thankful. (3:123)

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

﴿ ۳ آل عمران ۱۲۳ ﴾

آخر اس سے پہلے اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہیں کامیابی دی تھی حالانکہ اس وقت بھی تم بہت کمزور تھے۔ پس اللہ سے ڈرو (اور ان احسانوں کو یاد کرو) تاکہ تم شکر کرو (123:3)

Remember when you did say to the believers: Is it not sufficient for you that your Lord should support you with three thousand angels sent down (to your help)? (3:124)

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ مُنْزِلِينَ ﴿١٢٤﴾

﴿ ۳ آل عمران ۱۲۴ ﴾

یاد کرو جب تم مومنوں سے یہ کہہ (کر انکے دل بڑھا) رہے تھے کہ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ پروردگار تین ہزار فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے (124:3)

Of course if you persevere, and keep from evil, and (the enemy) attack you suddenly, your Lord will help you with five thousand angels clearly marked. (3:125)

بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿٣﴾ آل عمران ١٢٥

بے شک اگر تم صبر کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ اچانک حملہ کر دیں گے تو پروردگار پانچ ہزار فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا (125:3)

Allah ordained this only as a message of good cheers for you, and that thereby your hearts might be at rest--Victory comes only from Allah, the Mighty, the Wise. (3:126)

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٣﴾ آل عمران ١٢٦

اور اس بات کو اللہ نے تمہارے لئے (ذریعہ) بشارت بنایا یعنی اس لئے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو ورنہ فتح و نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جو غالب (اور) حکمت والا ہے (126:3)

When you sought help of your Lord and He answered you (saying): I will help you with a thousand of the angels, rank on rank. (8:9)

إِذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ﴿٩﴾ الانفال ٩

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی (اور فرمایا) کہ (تسلی رکھو) میں ایک ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کروں گا (9:8)

Allah appointed it only as message of hope, and an assurance to your hearts. Victory comes only by the help of Allah. Allah is exalted in power, Wise. (8:10)

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ الانفال ١٠

اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں اور مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے (10:8)

Remember when your Lord inspired the angels, (saying:) I am with you. So make those who believe stand firm. I will instal fear into the hearts of those who disbelieve. Then smite the necks and smite of them each finger. (8:12)

إِذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا أَعْنَاقَ الَّذِينَ كَفَرُوا كُلَّ بَنٍ ﴿١٢﴾ الانفال ١٢

(یاد کرو) جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کی گردنیں اڑادو۔ اور ان کا جوڑ جوڑ ضرب لگا کر توڑ دو۔ (12:8)

SPLENDID VICTORY OF FEW ILL - ARMED BELIEVERS AT BADAR, AGAINST WELL-ARMED AND MANIFOLD MAKKAN QURAISH WAS BUT A DIVINE FAVOUR

انتصار المؤمنین الباهر فی غزوة بدر مع قلة عددہم و اسلحتہم علی العدو ذی العدد الكثير لم یکن إلا بتأیید اللہ

جنگ بدر میں مٹھی بھرے سروسامان مسلمانوں کا کثیر التعداد دشمن پر فتح حاصل کر لینا نصرت الہی سے ہی ممکن ہوا

O you who believe, when you meet those who disbelieve in battle, turn not your backs to them. (8:15)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ الانفال ١٥

اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا (15:8)

Any one who turns his back on them on such a day, except while maneuvering for battle or wheeling towards some detachment, will incur wrath form Allah; his lodging will be Hell and how awful is such a goal! (8:16)

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَرِّفًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾ الانفال ١٦

جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھری۔ مگر ہاں جنگی چال کے طور پر (دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لئے) یا (میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ) اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کر سکے۔ (وہ مستثنیٰ ہے باقی جو بھی ایسا کرے گا) وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے (16:8)

hat (is the case); and (know) that Allah (It is) Who makes feeble the man and stratagems of disbelievers. (8:18)

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾
﴿٨ الانفال ١٨﴾

(بات) یہ (ہے) کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے (18:8)

(O unbelievers) If you sought a judgement, now has the judgement come to you. And if you cease (from persecuting the believers) it will be better for you, but if you return (to the attack) We also shall return. And your host will avail you nothing however numerous it be, and (know) that Allah is indeed with the believers. (8:19)

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَاتَةُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾
﴿٨ الانفال ١٩﴾

(کافرو) اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آچکا (دیکھو) اگر تم (اپنے افعال سے) باز آ جاؤ۔ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر (حماقت کا اعادہ) کرو گے تو ہم بھی پھر (تمہیں عذاب) کریں گے۔ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے (19:8)

When Allah showed them to you (O Muhammad) in your dream as few in number, and if He had shown them to you as many, you (Muslims) would have been discouraged and would have disputed over the decision. But Allah has decided (you). Indeed He knows the secrets of the hearts. (8:43)

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفِشَلْتُمْ وَتَنَّازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾
﴿٨ الانفال ٤٣﴾

اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور (جو) کام (درپیش تھا اس) میں اختلاف کرنے لگتے لیکن اللہ نے (تمہیں اس سے) بچا لیا بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے (43:8)

And remember when He made you (Muslims), when you met (them), show them with your eyes as few, and He lessened you in their eyes, (it was) that Allah might accomplish a matter already decided and to Allah all matters returned. (8:44)

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقِيْتُمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَالْوَالِي إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾
﴿٨ الانفال ٤٤﴾

اور اس وقت (کو یاد کرو) جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے۔ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے (44:8)

MIRACLE OF THROWING A HANDFUL OF DUST AT THE ENEMY STUCKING THEIR EYES HAD A GREAT PSYCHOLOGICAL EFFECT OVER THEM

معجزة الرسول الكريم ﷺ الرمي بحفنة من الحصى الى الكفار فتأثروا نفسيا من زيغ البصر

نبی کریم محمد ﷺ کا کافروں کی طرف نکلریوں کی مٹھی بھر کر پھینکنے کا معجزہ اور دشمنوں کی آنکھیں چندھیا نے کے باعث نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جانا

It is not you (Muslims) who slew them, but Allah slew them. And you (Muhammad) threw not when you did throw, (a handful of dust) but Allah threw, that He might test the believers by a fair test to confer glorious benefits from Him. Surely Allah is Hearer, Knower. (8:17)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾
﴿٨ الانفال ١٧﴾

پس حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں نے ان (کفار) کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور (اے محمد) جس وقت آپ نے نکلریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے بے شک اللہ سنتا جانتا ہے (17:8)

MAKKAN PAGANS SUFFERED A CRUSHING DEFEAT

هزيمة الكفار القاطعة

کفار مکہ کو شکست فاش

That He may cut off a part of those who disbelieve, or overwhelm them so that they retire, frustrated. (3:7)

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿٣﴾
﴿٣ آل عمران ١٢٧﴾

(اس امداد کا مقصد یہ تھا) کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ (جیسے آئے تھے ویسے ہی) ناکام واپس جائیں (127:3)

That is because they opposed Allah and His messenger. Whoso opposes Allah and His messenger, (for him) Allah is Severe in punishment. (8:13)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُۥٓ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُۥٓ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ الْعِقَابِ ﴿٨﴾ الانفال ١٣

یہ (سزا) اس لئے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے (13:8)

That (is the award), so taste it (this punishment), and (know) that for disbelievers is the torment of the Fire. (8:14)

ذٰلِكُمْ فَذُوقُوْهُ وَاِنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿٨﴾ الانفال ١٤

یہ (مزدہ تو یہاں) چکھو اور یہ (تمہیں معلوم ہو) کہ کافروں کے لئے (آخرت میں) دوزخ کا عذاب (بھی تیار) ہے (14:8)

MUSLIMS ARE FORBIDDEN FROM BEHAVING INSOLENTLY LIKE MAKKAN PAGANS

نہی المسلمون عن اختيار خصال المشركين من الاختيال والرياء

مسلمانوں کو مشرکین مکہ جیسا تفاخرانہ انداز اپنانے سے منع کیا گیا

Be not as those who came forth from their dwellings boastfully and to be seen of men, and debar (men) from the way of Allah, while Allah is Surrounding all they do. (8:47)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَّ رِيْءًا النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٨﴾ الانفال ٤٧

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اترتے ہوئے (یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لئے) اور لوگوں کو دکھانے کے لئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کئے ہوئے ہے (47:8)

DECISION ABOUT POW'S OF BADAR (EITHER SLAYING OR FREEING ON RANSOM)

أسارى غزوة بدر هل يقتلون أم يطلقون بأخذ الفدية

جنگ بدر کے قیدیوں کے قتل کر دیئے جانے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیئے جانے کا معاملہ

It is not fitting for any Prophet to have captives until he has thoroughly subdued the land. You desire the lure of this world and Allah desires (for you) the Hereafter, and Allah is Powerful and Wise. (8:67)

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يَشُوْخَ فِي الْاَرْضِ وَرِيْدٌ وَّنَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاِنَّ اللّٰهَ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٨﴾ الانفال ٦٧

کسی پیغمبر کو شایاں نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے (67:8)

Had it not been for an ordinance of Allah, which had gone before, an awful doom had come upon you on account of (Ransom) what you took. (8:68)

لَوْ اَنَّ كِتٰبَ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِیْهَا اَخَذْتُمْ عَذَابَ عَظِيْمٍ ﴿٨﴾ الانفال ٦٨

اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو (فدیہ) تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ (68:8)

O Prophet, Say to those captives who are in your hands: If Allah knows any good in your hearts He will give you better than that which has been taken from you, and will forgive you. Allah is Forgiving, Merciful. (8:70)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِيْ اَيْدِيكُمْ مِنَ الْاَسْرٰى اِنَّ يَّعْلَمُ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا تُوْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨﴾ الانفال ٧٠

اے پیغمبر جو قیدی تم لوگوں کے قبضہ میں (گرفتار) ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو (مال) تم سے چھین گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (70:8)

And if they would betray you, they betrayed Allah before; and He gave (you) power over them. Allah has full Knowledge and Wisdom. (8:71)

وَ اِنْ يُرِيْدُوْا خِيٰنَتَكَ فَقَدْ خٰنُوْا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٨﴾ الانفال ٧١

اور اگر یہ لوگ آپ سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں (چنانچہ اللہ نے ان کو سزا دی) تو اس نے ان کو (آپ کے) قبضے میں کر دیا۔ اور اللہ دانا حکمت والا ہے (71:8)

**BOOTY OF WAR OF BADAR
(AFTER ONE MONTH OF BADAR BATTLE)**

And know that whatever you take as spoils of war, a fifth thereof is for Allah, and for messenger and for the kinsmen (who have need) and orphans and the needy and the wayfarer, if you believe in Allah and that which We revealed to Our slave on the Day of Discrimination, the day when the two armies met. And Allah is Able to do all things. (8:41)

غنائم غزوة بدر

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أُمْنَتُْمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾
﴿٨ الانفال ٤١﴾

جنگ بدر کا مال غنیمت

جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس (نصرت) پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن (یعنی میدان بدر) میں اتارا جو دن حق و باطل میں جدائی (تمیز) کا تھا جس دن دونوں جیس بھڑگئی تھیں۔ (41:8)

Reference : 8:69 Page 669

والصحرى براجع ٨ الأنفال ٦٩: الصفحة ٦٦٩

القرآن الكريم 69:8 الصفحة 669

BATTLE OF BANI QAINUQA BANISHMENT OF QISH TRIBE OF QAINUQA FROM THE SUBURB OF MADINAH AS A PUNISHMENT OF THEIR TREACHERY ONE MONTH AFTER BADAR BATTLE SHAWWAL 2 AH / FEBRUARY 624 AH

In the likeness of those (who suffered) a short time before them, they taste the ill-effects of their own conduct, and their is the painful punishment. (59:15)

غزوة بني قينقاع
طرد قبيلة القينقاع من راحي المدينة (بني قينقاع من غزوة بدر)
في الشهر الثاني من الهجرة النبوية ١٥

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٩ الحشر ١٥﴾

غزوة بني قينقاع
طرد قبيلة القينقاع من راحي المدينة (بني قينقاع من غزوة بدر)
في الشهر الثاني من الهجرة النبوية ١٥

ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور (ابھی) ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب (تیار) ہے (59:15)

**THE BATTLE OF UHUD
(IN SUBURB OF MADINAH)
A PLAN OF MAKKAN PAGANS TO WIPE OFF THEIR DISGRACE OF DEFEAT AT BADAR
7-Shawwal 3 AH-January 625 AD**

**PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
MADE HIS DISPOSITIONS FOR BATTLE EARLY IN THE MORNING**

And remember when you set forth at daybreak from your housefolk to sign to the believers their dispositions for the battle, Allah is all hearing, all Knowing. (3:121)

غزوة احد
(بصر راحي المدينة المنورة)
كيد الكفار للاشراك من المسلمين لهزيمتهم
في الايام الثلاثة من الهجرة النبوية ١٥

**تبوء النبي محمد (ﷺ) المؤمنين
مقاعد للقتال صباحا**

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾
﴿٣ آل عمران ١٢١﴾

غزوة احد
(بصر راحي المدينة المنورة)
كيد الكفار للاشراك من المسلمين لهزيمتهم
في الايام الثلاثة من الهجرة النبوية ١٥

**نبی کریم حضرت محمد ﷺ کا علی الصبح
مسلمانوں کو مورچوں میں بٹھانا**

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو جنگ کیلئے مورچوں پر (موقع بموقع) مقرر کرنے لگے اور اللہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے (121:3)

**DISOBEDIENCE OF THE COMMAND OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
SLIM ARCHERS, LEFT THE HILL POST, WHICH TURNED THE VICTORY OF MUSLIMS INTO DEFEAT**

And Allah indeed fulfilled His promise to you when you were out to annihilate your enemy by His permission until (the

**تبدل فتح المسلمين في الهزيمة
بسبب ترك الرماة مكانهم
خلاف أمر النبي ﷺ**

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ

**پہاڑی پر متعین دستہ کا نبی کریم ﷺ کی واضح
ہدایات کے باوجود مورچہ کو چھوڑنا مسلمانوں کی فتح کو
شکست میں بدل جانے کا باعث ہوا**

اور اللہ نے (تائید و نصرت کا) جو وعدہ آپ سے کیا تھا وہ سچا کر دکھایا (یعنی) جب آپ کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی

moment) when your courage failed you, and you disagreed about the order and you disobeyed, after He had shown you that for which you covet. Some of you hankered this world, and some of you desired the Hereafter. Therefore He made you flee from them, that He might try you. But now He has forgiven you. For Allah is a Lord of Kindness to believers. (3:152)

(Remember) when you climbed (the hill) and paid no heed to anyone, while the messenger, in your rear, was calling you (to fight). Therefore He requited you one distress after another that (He might teach) you not to sorrow either for that which you missed or for that which befell you. Allah is well Informed of what you do. (3:153)

RUMOR ABOUT THE SHAHADAT OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

Muhammad is but a messenger, messengers (the like of whom) have passed away before him. Will it be that, when he dies or is slain, you will turn back on your heels? He who turns back does no hurt to Allah, and (on the other hand) Allah will reward grateful ones. (3:144)

BATTLE OF UHUD - A LESSON OF PATIENCE AND STEADFASTNESS TO BELIEVERS

No for you (but for Allah) is the decision, whether He relents towards them or punishes them; for they are evildoers. (3:128)

Allah's object is to purge those who are true in faith and to deprive of blessing those who resist faith. (3:141)

Or deemed you that you would enter Paradise while yet Allah knows not those of you who really strive in His way, nor knows those (of you) who are steadfast? (3:142)

مَنْ بَعْدَ مَا آتَاكُمْ فَأَتَابُوا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ آل عمران ١٥٢

إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلْوَنَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَنَابَكُمْ غَنَابًا يَغْمِرُ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣﴾ آل عمران ١٥٣

نشر العدو خبر قتل النبی محمد (ﷺ) الکاذب

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ كَانَتْ آيَاتُ الْكُتُبِ عَلَى عِزَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿٣﴾ آل عمران ١٤٤

غزوة أحد. كان فيها درس الصبر و الثبات للمسلمين

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٣﴾ آل عمران ١٢٨

وَلِيُخَيِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَحَقَّقَ الْكُفْرِينَ ﴿٣﴾ آل عمران ١٤١

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الظَّالِمِينَ ﴿٣﴾ آل عمران ١٤٢

اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو نبی تمہاری چاہت کی چیز اللہ نے تمہیں دکھائی (یعنی مال غنیمت) تو تم (اپنے سردار کے حکم کی) نافرمانی کر بیٹھے۔ اس لئے کہ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب تھے۔ تو پھر اس وقت اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا (تم کو کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا) تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے پھر بھی تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا۔ کیونکہ اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ (152:3)

(وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب تم لوگ چڑھے چلے (دور بھاگے) جا رہے تھے۔ اور کسی کو پیچھے پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہیں تھا۔ اور رسول اللہ ﷺ تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے (آوازیں دے رہے) تھے تو اللہ نے تم کو (اس روش کے بدلہ میں) غم پر غم پہنچایا تاکہ تمہیں آئندہ کے لئے سبق مل جائے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا جو مصیبت تم پر واقع ہو اس سے تم غم زدہ نہ ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ (153:3)

غزوة احد کے موقع پر دشمنوں کا حضرت محمد ﷺ کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑا دینا

اور محمد (ﷺ) تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یا مرتد ہو جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور اللہ شکر گزاروں کو (بڑا) ثواب دے گا (144:3)

غزوة احد مسلمانوں کو ثابت قدمی اور صبر کے سبق کا باعث بنی

(اے پیغمبر) فیصلہ کے اختیارات میں آپ کا کچھ حصہ نہیں۔ اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کر دے۔ ان کے حال پر مہربانی یا انہیں سزا دے کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں (128:3)

اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص (مومن) بنادے اور کافروں کو ناپسند کر دے (141:3)

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ (بے آزمائش) یونہی بہشت میں جا داخل ہو گے (حالانکہ) ابھی اللہ نے اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں کہ تم میں وہ کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ (142:3)

And you used to wish for death before you met it (in the field). Now you have seen it with your own eyes! (3:143)

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾
﴿٣ آل عمران ١٤٣﴾

اور تم موت (شہادت) کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے (مگر اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی) لو اب تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا (143:3)

TREACHERY OF HYPOCRITES WAS UNVEILED IN UHUD AND ALLAH(SWT) PURGED OFF HYPOCRITES FROM THE RANKS OF MUSLIMS

انكشفت مكايده المنافقين في غزوة أحد؛ فطهر الله صفوف المسلمين بالتخلص من المنافقين

غزوة احد میں منافقین کی چالیں بے نقاب ہوئیں اور مسلمانوں کی صفوں کو اللہ تعالیٰ نے منافقین سے پاک کیا

While (the other) party, who were anxious on their own account, thought wrongly of Allah, suspicious due to ignorance. They said: Have we any part in the affair? Say (O Muhammad): The affair belongs wholly to Allah. They hide within themselves (a thought) which they reveal not to you, saying: Had we any part in the affair we should not have been slain here. Say: Even though you had been in your houses, those decreed to be slain would have gone forth to the places where they were to die. (All this has been) in order that Allah might try what is in your hearts and purge what is in your hearts. Allah is Aware of the secrets of your hearts. (3:154) PART

طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَاتَلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُبَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾
﴿٣ آل عمران ١٥٤﴾ جزء

..... اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے آپ کہہ دیجئے کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر قیادت ہمارے ہاتھ ہوتی تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اور اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اس کو خالص اور صاف کر دے اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے (154:3) جزو

that which befell you, on the day when the two armies met, was by permission of Allah; that He might show the true believers; (3:166)

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ فِإِذِنَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾
﴿٣ آل عمران ١٦٦﴾

جو نقصان تمہیں دو جماعتوں کی لڑائی کے دن پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا اور (اس سے) یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے (166:3)

and that He might know the hypocrites, to whom it was said: Come, fight in the way of Allah, or at least defend yourselves. They answered: If we knew anything of fighting we would follow you. On that day they were nearer to disbelief than faith. They utter with their mouths a thing, which is not in their hearts. Allah is best aware of what they conceal. (3:167)

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾
﴿٣ آل عمران ١٦٧﴾

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے اور (جب) ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کم از کم (کافروں کے) حملوں کو روکو۔ تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جلتے یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتیں۔ اور جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے (167:3)

Those who, while they sat at home, spoke of their brethren (who were fighting for the cause of Allah): If they had listened to us they would not have been slain. Say (to them, O Muhammad): Then avert death from yourselves if you are truthful. (3:168)

الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانِنَا وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا قُلْ فَادْرَأُوْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾
﴿٣ آل عمران ١٦٨﴾

یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو (جنگ سے بچ کر) بیٹھ ہی رہے تھے کہ مگر ان کے جو بھائی جنہوں نے راہ اللہ میں جانیں قربان کر دیں ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ ہوتے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ (168:3)

**SOLACE TO BELIEVERS
VARYING FORTUNES ARE MATTER OF TIME**

If you have received a blow, the (disbelieving) people have received a blow the like thereof: These are (only) the vicissitudes (varying fortunes) which We cause to follow one another for mankind, to the end that Allah may know those who believe and may choose witnesses from among you; and Allah loves not wrong-doers. (3:140)

And was it so, when a single disaster smote you, though you had smitten (them with a disaster) twice (as great), that you said: How is this? Say (to them, O Muhammad): It is from yourselves. Surely Allah is Able to do all things. (3:165)

**MUSLIMS WHO ERRED
(THOUGHTLESSLY DISOBEYED) IN UHUD WERE
FORGIVEN BY ALLAH (SWT)
ON THEIR TURNING TO HIM IN REPENTANCE**

Those of you who turned back on the day when the two hosts met, Satan alone it was who caused them to backslide, because of some evil that which they had earned. But now Allah has blotted out their fault. Indeed Allah is Forgiving, and most forbearing. (3:155)

**SENDING DOWN OF CALM BY ALLAH ON (SWT)
THE BAND OF BELIEVERS TO OVERCOME
DISTRESS WITH SLUMBER**

Then following (your) worry, Allah sent down confidence upon you, a drowsiness overcame one squadron of yours ----- (3:154) PART

تسلیة المؤمنین
فی تداول الأيام بین الناس

إِنْ يَسْسِكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٣﴾ آل عمران ١٤٠

أَوَلَمْ يَأْتِ آبَاءَكُمْ مِصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣﴾ آل عمران ١٦٥

عفى الله عن المسلمين الذين
استزلهم الشيطان فتابوا إلى الله تعالى

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣﴾ آل عمران ١٥٥

أنزل الله تعالى على المؤمنين
نعاسا تسلية لهم

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ﴿٣﴾ آل عمران ١٥٤ جزء

مؤمنوں کو تسلی
فتح و شکست کے ایام بدلتے رہتے ہیں

اس وقت اگر تمہیں شکست کی چوٹ لگی ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے۔ اور یہ زمانہ کے نشیب و فراز ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس شکست احد سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ دیکھے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں۔ اور تم میں سے گواہ بنائے اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا (140:3)

(بھلائیہ) کیا (بات ہے کہ) جب (احد کے دن کفار کے ہاتھ سے) تم پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ (جنگ بدر میں) اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے تو تم چلا گئے کہ (ہائے) آفت (ہم پر) کہاں سے آ پڑی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے (کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا) بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (165:3)

جن مسلمانوں سے لغزش سرزد ہوئی
ان کے فوراً معافی طلب کر لینے پر اللہ تعالیٰ نے
ان کو معاف کر دیا

جو لوگ تم میں سے (احد کے دن مقابلے میں) پیٹھے پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا (اور) بردبار ہے (155:3)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو رنج و غم
بھول جانے کے لئے اونگھ طاری کر دینا

پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگھنے لگے ----- (154:3) جزو

THE BATTLE OF HAMRA - AL - ASSAD

MARCHING OF A TROOP OF BELIEVERS IN CHASE OF MAKKAN PAGANS UP TO "HAMMRA-AL-ASSAD" (AS PRECAUTIONARY MEASURES) IN COMPLIANCE OF INSTRUCTIONS OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS) (SHA'BAN 4 AH)

غزوة حمراء الاسد

بعثت المسلمین کفار الی حمراء الاسد امثالاً لامر الرسول ومخبراً للقتال (سبحان ۴ ہج)

غزوة حمراء الاسد

نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی سے مکه کے لوگوں نے آپ کو دشمنی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ نے ان کو اپنا دشمن قرار دیا۔ (سبحان ۴ ہج)

As for those who answered the call of Allah and His messenger after the harm befell them (in the fight); for such of them as do right and refrain from wrong, there is great reward, (3:172)

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا
اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ الَّذِي نَحْنُ اَحْسَنُ وَاَمَنَّا
اَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾
﴿٣ آل عمران ١٧٢﴾

(ایسے مومنوں کے اجر کو) جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول (کے حکم) کو قبول کیا۔ جو لوگ ان میں نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لئے بڑا ثواب ہے (172:3)

Those to whom men said: The people have gathered against you, therefore fear them. (The threat of danger) but increased the faith of them and they cried: Allah is sufficient for us! Most Excellent is He in Whom we trust! (3:173)

الَّذِينَ قَالَتْ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا
لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾
﴿٣ آل عمران ١٧٣﴾

(جب) ان سے لوگوں نے آکر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے (مقابلے کے) لئے (شکر کثیر) جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے (173:3)

When they returned with grace and favour from Allah, and no harm touched them. They followed the good pleasure of Allah, and Allah is Infinite bounty. (3:174)

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَّهُمْ
سُوءٌ وَاَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾
﴿٣ آل عمران ١٧٤﴾

پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ (خوش و خرم) واپس آئے ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے تابع رہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے؟ (174:3)

PACT OF MADINAH - A COVENANT BETWEEN MUSLIMS AND JEWISH TRIBES

ميثاق المدينة بين قبايل اليهود والمسلمين

ميثاق المدينة بين قبايل اليهود والمسلمين

INTRIGUES AND TREACHERY OF JEWS AGAINST MUSLIMS IN VIOLATION OF THE PACT

نقض اليهود ميثاق المدينة و مؤامرتهم ضد المسلمين

یہود کی ميثاق مدینہ کی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں

Those of them with whom you have made a treaty; and then at every opportunity they break their treaty, and they do not fear Allah. (8:56)

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ
فِي كُلِّ مَرْجَةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٨ الانفال ٥٦﴾

جن لوگوں سے آپ نے (صلح کا) عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑے ڈالتے ہیں اور (اللہ سے) نہیں ڈرتے (56:8)

Reference : 9:12 to 15 Page 719, 720

وللمزيد راجع التوبة: ١٢ الى ١٥ الصفحة ٧١٩، ٧٢٠

مزید حوالہ 9:12 تا 15 صفحہ 720، 719

THE BATTLE WITH THE FOLK OF NADHIR (BANU NAZIR)
 (A JEWISH TRIBE IN SUBURB OF MADINAH)
 RABI-AL-AWAL 4-AH (JUNE 625 AD)
 (FOUR MONTHS AFTER UHUD BATTLE)

غزوة بنی نضیر
 فی رجب الاول العام ۴ھ مع النزاع الشہرہ نذیر (بنو نذیر) (بنو نذیر) (بنو نذیر)

غزوة بنی نضیر
 (ربیع الاول ۴ھ مطابق جون ۶۲۵ء) (غزوة بنی نذیر)

CUTTING DOWN OF PALM TREES BY BELIEVERS AS A STRATEGY OF WAR

Whatever palm trees you cut down or left standing on their roots, it was by Allah's permission, in order that He may disgrace the immoral people. (59:5)

قطع الأشجار من اللينة كان سياسة و تحرفا للقتال

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥٩﴾ الحشر ٥٩

جنگی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کا کھجور کے درختوں کو کاٹ دینا

(مومنوں) کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے ما جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس حکم سے مقصود یہ تھا کہ وہ فاسق لوگوں کو ذلیل اور سوا کرے (5:59)

TREACHEROUS JEWS WERE EXPELLED FROM THE NEIGHBOURHOOD OF MADINAH

And if Allah had not decreed banishment for them, He would certainly have punished them in this world, and theirs in the Hereafter is surely a punishment of the Fire. (59:3)

That is because they opposed Allah and His messenger; and whoso oppose Allah, (for him) indeed Allah is Stern in reprisal. (59:4)

أضطرت اليهود الماكرون للجلاء من نواحي المدينة

وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَأُولَئِكَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٥٩﴾ الحشر ٥٩

سازشی یہودیوں کو مضافات مدینہ سے جلا وطنی پر مجبور کر دیا جانا

اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطن کرنا نہ لکھ دیا ہوتا تو ان کو دنیا میں ہی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لئے آگ کا عذاب (تیار) ہے ہی۔ (3:59)

یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (4:59)

JEWS DEMOLISHED THEIR OWN HOUSES AND LAID WASTE THEIR PROPERTY BEFORE BANISHMENT

He It is Who has caused those of the People of the Scripture who disbelieved to go forth from their homes to the first exile. You deemed not that they would go forth, while they deemed that their strongholds would protect them from Allah. But Allah reached them from a place whereof they reckoned not, and cast terror in their hearts so that they ruined their houses with their own hands and the hands of the believers. So learn a lesson, O you who have any insight. (59:2)

تخریب اليهود بیوتهم بأیدیہم عندما أخرجو من دیارہم

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَأْنَعُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٥٩﴾ الحشر ٥٩

یہود کا جلا وطنی کے وقت اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا

وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا تمہارے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ (کے عذاب) سے بچالیں گے مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آلیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے تو اے (بصیرت کی) آنکھیں رکھنے والو! عبرت پکڑو (2:59)

BADAR-I-SUGRA **بدر الصغرى** **بدر صغرى**

LEAVING OF ABU-SUFYAN WITH A CHALLENGE TO MEET AT THE FAIR OF "BADAR SUGRA" NEXT YEAR 8-SHAWWAL 3-AH

For Detail Consult: 3:172,173,174 Page 706

تحدی ابی سفیان للقتال بدر الصغرى فی العام القادم عند المغادرة (8 شوال العام 3ھج)

وللتفصیل راجع 3 آل عمران: 172، 173، 174

ابو سفیان کا جاتے جاتے اگلے سال جشن بدر صغرى میں مقابلہ کا چیلنج دینا (8 شوال 3 ہجری)

تفصیل کیلئے کیجئے 3: 172، 173، 174 صفحہ 706

EXPEDITION AGAINST
THE TRIBE OF MUSTALIQ
SHA'BAN 5AH- DEC:624-AD

عزوة بنی المصطلق عزوة مریح
سبعان ۵ھ منج سلطان المبرک کانون الاول (دیسین ۶۲۴)

عزوة بنی المصطلق عزوة مریح
سبعان ۵ھ منج سلطان المبرک کانون الاول (دیسین ۶۲۴)

Consult : 69 :12 Page 926

راجع ۶۹ الحاقہ ۱۲: الصفحة 926

دیکھئے 12: 69 صفحہ 926

INCIDENT OF AL-IFK
OCCURED ON PROPHET'S (SAAS) RETURN FROM OF EXPEDITION
BANI - MUSTALIQ (ON WAY TO MADINAH)

حادثة الإفك
عند العودة من عزوة بنی المصطلق

الحادثة الإفك
عند العودة من عزوة بنی المصطلق

**SPREADING
OF SLANDERS BY HYPOCRITES**

اتهام المنافقين

منافقین کا جھوٹا الزام (بہتان)

They who spread the slander are a body among you. Deem it not a bad thing for you; say, it is good for you. To every man of them (will be paid that which he has earned of the sin; and as for him among them who (took lead) had the greater share therein, his will be an awful doom. (24:11)

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا
تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ
مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى
كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾
﴿٢٤ النور ١١﴾

جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے اس واقعہ کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا۔ بلکہ وہ آپ کے لئے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے اس گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لئے اتنا گناہ سمیٹا۔ اور جس شخص نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کو بڑا عذاب ہوگا (11:24)

When you welcomed it with your tongues, and uttered with your mouths that whereof you had no knowledge, you counted it a trifle. In the sight of Allah it was very serious. (24:15)

إِذْ تَقُولُونَ بِالسِّنِّةِ وَتَقُولُونَ يَأْفُواكُم
مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا
وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾
﴿٢٤ النور ١٥﴾

(ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے) جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی (بھاری) بات تھی (15:24)

**THE BELIEVERS WERE DIRECTED
TO PRESUME GOOD FOR ONE ANOTHER**

نوصية المؤمنين بظن الخير

مومنوں کو نیک گمان رکھنے کی ہدایت

Why did not the believers, men and women, when you heard it, think good of their own folk; and say: this charge is an obvious lie. (24:12)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾
﴿٢٤ النور ١٢﴾

جب تم لوگوں نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا۔ اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے (12:24)

**DIVINE REPROBATION
FOR THOSE WHO GIVE CURRENCY
TO THE FALSE SLANDERS OR SCANDALS**

سخط الله تعالى بإشاعة
الفاحشة في المؤمنين

بہتان پھیلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا
اظہار ناراضگی

And why did you not say when you heard it, "it is not right for us to talk about this. Glory be to You (O Allah); This is a serious slander". (24:16)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ
نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾
﴿٢٤ النور ١٦﴾

اور تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہا کہ ہمیں شایاں نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں۔ یا اللہ تو پاک ہے یہ تو (بہت) بڑا بہتان ہے (16:24)

Allah admonishes you that may never you repeat such conduct ever, if you are (in truth) believers. (24:17)

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾
﴿٢٤ النور ١٧﴾

اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا (17:24)

And Allah expounds to you His revelations. Allah is Knower, Wise. (24:18)

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾
﴿٢٤ النور ١٨﴾

اور اللہ تمہارے (سمجھانے کے) لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (18:24)

Those who love (to see) that scandal should circulate concerning those who believe, theirs will be a painful punishment in the world and the Hereafter. Allah knows you know not. (24:19)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾
﴿٢٤ نور ١٩﴾

جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی (یعنی تہمت بدکاری کی خبر) پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہو گا اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے (19:24)

THE SLANDERERS FAILED TO PRODUCE EVIDENCE IN SUPPORT OF THEIR ALLEGATIONS

Why did they not produce four witnesses? Since they produce not witnesses, they are liars in the sight of Allah. (24:13)

أَذْلَمَ يَأْتِ الْقَاضِفَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَهوَ عِنْدَ اللَّهِ كَاذِبٌ

بہتان کی تصدیق کے لئے منافقین کا چار گواہ نہ لاسکتے پر جھوٹ ثابت ہو جانا

لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾
﴿٢٤ نور ١٣﴾

(وہ لوگ) بہتان لگانے والے اپنی بات (کی تصدیق) کے لئے (چار) گواہ کیوں نہ لائے۔ تو جب یہ گواہ نہیں لاسکتے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں (13:24)

Had it not been for the grace of Allah and His mercy to you in the world and the Hereafter an awful doom had overtaken you for that whereof you murmured. (24:14)

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾
﴿٢٤ نور ١٤﴾

اور اگر دنیا اور آخرت میں تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تم پر بڑا (سخت) عذاب نازل ہوتا (14:24)

Had it not been for the grace of Allah and His mercy to you (you had been ruined indeed), and that Allah is full of Kindness and Merciful. (24:20)

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾
﴿٢٤ نور ٢٠﴾

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی (تو کیا کچھ نہ ہوتا) (تو تم پر عذاب اتر جاتا) مگر وہ کریم ہے اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان (اور) رحیم ہے (20:24)

**THE BATTLE OF THE TRENCH (KHANDAQ)
THE CONFEDERATES (AHZAB)
SHAUWAL ZULQADA 5-AH (FEB. 627-AD)**

غزوة الخندق

غزوة الخندق (الاحزاب)

(بی شکران، بی القلہ، اللہ مع البراۃ، اشہر لبرائتہ، ۱۱ھ)

(شمال، رجب، ۱۱ھ)

**INTRIGUES AND TAUNTING OF
HYPOCRITES TO INDULGE THE BELIEVERS
IN DELUSIVE HOPES**

And remember when the hypocrites, and those in whose hearts is a disease, were saying: Allah and His messenger promised us nothing but delusion. (33:12)

And when a party of them said: O folk of Yathrib! There is no stand (The attack possible) for you, therefore turn back. And a band of them (even) sought permission of the Prophet, saying: Our homes are exposed (to the enemy). And they may not open. They but wished to flee. (33:13)

If the enemy had entered from all sides of city and they had been exhorted to treachery, they would have committed it, and would have hesitated thereupon but little. (33:14)

And they had already covenanted with Allah that they would not turn their backs (to the foe). And a covenant to Allah must be answered for. (33:15)

ay: Flight will not avail you if you flee from death or killing, and (even if you do escape) then you dwell in comfort but a little while. (33:16)

ay: Who is he who can preserve you from Allah if He intends to punish you, or intends mercy for you. They will not find that they have any friend or helper other than Allah. (33:17)

Allah already knows those of you who hinder, and those who say to their brethren: "Come you here to us" and they come not to the stress of battle except a little, (33:18)

مؤامرات المنافقین و أقاویلہم المؤذیة
لتضعیف عزائم المؤمنین و تخویفہم

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾
﴿۳۳ الاحزاب ۱۲﴾

وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا
مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ
بِعَوْرَةٍ أَوْ لَا تَرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾
﴿۳۳ الاحزاب ۱۳﴾

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا
الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾
﴿۳۳ الاحزاب ۱۴﴾

وَلَقَدْ كَفَرْنَا بِعَآهِدِ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَآ
يُؤْتُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مُسَوَّلًا ﴿١٥﴾
﴿۳۳ الاحزاب ۱۵﴾

قُلْ لَّن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِّنَ
الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تُمْسَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾
﴿۳۳ الاحزاب ۱۶﴾

قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْجَلُكَ مِّنَ اللَّهِ إِن
أَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً
وَلَا يَجِدُ وَنَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾
﴿۳۳ الاحزاب ۱۷﴾

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤَقِّينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ
إِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَآسَ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾
﴿۳۳ الاحزاب ۱۸﴾

مسلمانوں کو کم ہمت اور خوف زدہ کرنے کے لئے
منافقین کی سازشیں اور طعنہ زنی

اور (یاد کرو وہ وقت) جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں
میں روگ تھا کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو
وعدے ہم سے کیے تھے وہ محض دھوکا فریب تھے۔ (12:33)

اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب
کے لوگوں (یہاں) تمہارے (ٹھہرنے کا) مقام
نہیں تو لوٹ چلو اور جبکہ ان کا ایک گروہ پیغمبر سے
رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے
میں ہیں حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے۔ وہ تو صرف
(محاذ جنگ سے) بھاگنا چاہتے تھے (13:33)

اور اگر اطراف مدینہ سے لشکر گھس آئے ہوتے پھر ان
سے فتنہ (خانہ جنگی) کے لئے کہا جاتا تو یہ (نورا) اسے
ضرور برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت (14:33)

حالانکہ یہ لوگ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ
نہیں پھیریں گے۔ اور اللہ سے (جو) اقرار (کیا
جاتا ہے اس) کی ضرور پرش ہوگی (15:33)

کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا مارے جانے سے بھاگتے
ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم
بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے (16:33)

کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہیں سزا دینے کا ارادہ کرے تو کون
ہے جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہے۔ یا اگر تم پر مہربانی کرنی
چاہے (تو کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے) اور یہ لوگ
اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار
(17:33)

اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو (لوگوں
کو جہاد سے) منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے
کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ اور لڑائی میں حصہ
لیتے بھی ہیں تو بس نام گنوانے کو (18:33)

Being covetous over you. But when the fear comes, then you (Muhammad) see them regarding you with rolling eyes like one who faints to death. Then, when the fear departs, they scald you with sharp tongues in their greed for wealth (from the spoil). Such have not believed. Therefore Allah makes their deeds fruitless And that is easy for Allah. (33:19)

They reckon the Coalition (confederates) will not go away (retire for good). If the Coalition should come (again), they would like to be wandering around far away among the (desert) Arabs, asking for news about you. Yet even if they were among you, they would only fight a little. (33:20)

STEADFASTNESS OF BELIEVERS IN ADVERSE CIRCUMSTANCES AND HUNGER DURING PROLONGED SIEGE OF MADINAH BY HUGE FORCE OF CONFEDERATES

And when the true believers saw the coalition, they said: This is that which Allah and His messenger promised us. Allah and His messenger are true. It did but confirmed them in their faith and their seal of obedience. (33:22)

Of the believers are men who are true to that which they covenanted with Allah. Some of them have paid their vow by death (in battle), and some of them still are waiting; and they have not altered (their determination) in the least; (33:23)

SAND STORM LOWERED THE MORALE OF THE DISBELIEVERS AND INVISIBLE FORCES OF NATURE (ANGELS) ASSISTED THE MUSLIMS

O you who believe Remember Allah's favour to you when there came against you hosts (to overwhelm you), and We sent against them a great wind and hosts you could not see. And Allah is ever Observant of what you do. (33:9)

أَشْحَاءَ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورًا أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَبَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشْحَاءَ عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوِ اتَّخَذَهُمُ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

حصار المدينة الطويل
ثبات المؤمنين و العزيمة الجبارة
بالرغم من الظروف القاسية و الجوع

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

التضايق والتحير في جنود العدو من الرياح العاصف ومن إرسال الله تعالى جنودا غير مرئية نصر من الله تعالى للمؤمنين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

(یہ اس لئے کہ) تمہارا ساتھ دینے میں بخل کرتے ہیں۔ پھر جب خطرے (کا وقت) آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح آنکھیں پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں کسی کو موت سے غشی طاری ہو رہی ہو پھر جب خوف جاتا رہے تو یہ لوگ فائدوں کے حریص بن کر قہقہے کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آجاتے ہیں یہ لوگ (حقیقت میں) ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیئے۔ اور ایسا کرنا اللہ کو آسان تھا (19:33)

(خوف کے سبب) خیال کرتے ہیں کہ حملہ آور فوجیں ابھی نہیں گئیں اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کسی صحرا میں (بدوؤں کے درمیان) جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ تاہم اگر تمہارے درمیان بھی موجود ہوں تو لڑائی میں برائے نام ہی حصہ لیں گے (20:33)

دشمن اتحادی فوجوں کا طویل محاصرہ مدینہ دشمن کی قوت اور حالات کی سنگینی اور بھوک کے باوجود مسلمانوں کا ثابت قدم رہنا

اور جب مومنوں نے (کافروں کے) لشکر کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے بالکل سچ کہا تھا اور اس واقعہ سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی (22:33)

مومنوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا تو ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا اور بعض ایسے ہیں کہ (وقت کا) انتظار کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ (23:33)

دشمن کے لشکر میں طوفان اور آندھی سے سزا سننے اور غیب سے فرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد

اے ایمان والو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو (اس نے ابھی ابھی) تم پر کی جب فوجیں تم پر (حملہ کرنے کو) آئیں تو ہم نے ان پر سخت آندھی بھیجی اور ایسے لشکر (نازل کئے) جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے (9:33)

When they came upon you from above you and from below you, and when eyes grew wild and hearts gaped up to the throats, and you were imagining various vain thoughts about Allah. (33:10)

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۝
﴿ ۳۳ الاحزاب ۱۰ ﴾

جب دشمن تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں خوف کے مارے پتھر لگیں اور کلیجے (مارے دہشت کے) منہ کو آگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے (10:33)

In that situation the believers were tried, and shaken with a mighty shock. (33:11)

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَلًا شَدِيدًا ۝
﴿ ۳۳ الاحزاب ۱۱ ﴾

وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے (11:33)

BELIEVERS WILL BE REWARDED FOR RIGHTEOUSNESS WHILE HYPOCRITES WILL BE PUNISHED FOR THEIR MISCHIEF

سَيَحْزَى اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصَدَقِهِمْ
وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سچائی کا اور منافقوں کو نفاق کا بدلہ دے گا

That Allah may reward the true men for their truth, and punish the hypocrites if He wills, or relent towards them (if He wills). Indeed Allah is Forgiving, Merciful. (33:24)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝
﴿ ۳۳ الاحزاب ۲۴ ﴾

تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا (چاہے) تو ان کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (24:33)

AT LAST CONFEDERATES FLED IN HASTE AND BELIEVERS WERE SAVED FROM DIRECT COMBAT

أَضْطَرَّ الْعَدُوُّ الْمُتَحَالِفُونَ
عَلَى الْفِرَارِ بَدُونِ الْقِتَالِ

آخر کار اسلام دشمن اتحادی فوجوں نے بھاگنے میں عافیت سمجھی اور مسلمانوں سے لڑنے کی نوبت ہی نہ آئی

And Allah repulsed the disbelievers in their wrath; they gained no good. And Allah is enough for the believers in their fight. Allah is Strong, Mighty. (33:25)

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمَّا بَيْنَا لَوْا خَيْرًا ۝ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۝ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝
﴿ ۳۳ الاحزاب ۲۵ ﴾

اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے (نامراد) لوٹا دیا وہ اپنے غصے میں (بھرے ہوئے تھے) کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا اور اللہ بڑی قوت والا (اور) زبردست ہے (25:33)

BATTLE WITH THE FOLK OF QURAIZA (IN SUBURB OF MADINAH) YEAR 5 - AH (APRIL 627 AD)

غزوة بنی قریظہ
ہجرت پنجمین سال (اپریل) فی العام ۶۲۷ م

غزوة بنی قریظہ
سال ۵ھ (اپریل) ۶۲۷ م

BANU-QURAIZA SURRENDERED TO MUSLIMS AFTER SUSTAINING A PROLONGED SIEGE

خضوع اليهود من بنی قریظہ
للمسلمین بعد الإحصار الطویل بهم

قبیلہ یہود بنی قریظہ کا طویل محاصرہ کے بعد مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دینا

PUNISHMENT TO BANU - QURAIZA FOR THEIR INTRIGUE WITH ENEMIES OF MUSLIMS AND TREACHERY TO THE COVENANT DURING BATTLE OF TRENCH

عقوبة بنی قریظہ بعونهم العدو
فی المکید ضد المسلمین وبخیانتهم
ونقضهم الميثاق خلال غزوة الأحزاب

غزوة خندق کے دوران قبیلہ یہود بنی قریظہ کو کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے اور معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے کی سزا

you come on them in the war, deal with them as to strike fear in those who are behind them, that haply they may remember. (8:57)

فَأَمَّا تَتَّقَفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ ۝
﴿ ۸ الانفال ۵۷ ﴾

اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں عجب نہیں کہ ان کو (اس سے) عبرت ہو (57:8)

and He brought those of the People of the Scripture who supported them down from their strongholds, and cast panic into their hearts so that. Some you slew, and some you made captive. (33:26)

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ صِيَابِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝
﴿ ۳۳ الاحزاب ۲۶ ﴾

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ تم آج ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو (26:33)

THE BATTLE OF HUDAIBIYA
ZUQUAD 6AH (YEAR 628 AD)

غزوة الحديبية
بیت المقدس الحرام ۶۲۸

غزوة حديبية
بیت المقدس الحرام ۶۲۸

THE PROPHET MUHAMMAD (SAAS) HAD A DREAM THAT HE HAD ENTERED THE SACRED MOSQUE AT MAKKAH

رؤیا النبی الکریم أنه دخل المسجد الحرام

رسول کریم ﷺ کا مسجد الحرام میں داخل ہونے کا خواب دیکھنا

For Detail Consult : 48:27 Page 717

وللتفصیل راجع ۴۸ الفتح: ۲۷: الصفحة ۷۱۷

تفصیل کے لئے دیکھئے 27:48 صفحه 717

BAIT-UR-RIZWAN
COVENANT FOR PEACE OF ALLAH (SWO) UNDER A TREE AT HUDAIBIYA

بیعت الرضوان
معاہدہ العزمین تحت الشجرۃ الطیال لیسئل اللہ العتقۃ من ربنا

بیعت رضوان
رسول کریم کے برائے درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بیعت

Allah was well pleased with the believers when they swore allegiance to you beneath the tree, and He knew what was in their hearts, and He sent down peace of reassurance on them, and He rewarded them with a speedy victory; (48:18)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٤٨﴾ الفتح ۱۸

(اے پیغمبر) جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا اور جو (صدق و خلوص) ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ تو ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں انعام میں قریبی فتح عنایت کی (18:48)

For Detail Consult : 48:10 Page 170,760

وللتفصیل راجع ۴۸ الفتح: ۲۰: الصفحة ۷۶۰، ۱۷۰

تفصیل کے لئے دیکھئے 10:48 صفحه 760,170

DIVINE PROMISE OF SPEEDY VICTORY AND MANY GAINS TO MUSLIMS AS A REWARD ON OATH OF ALLEGIANCE

وعد الله المؤمنين بنصر منه وفتح قريب وبنعمة كثيرة

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو بیعت رضوان کے صلہ میں فوری کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ

Allah promises you much booty that you will capture, and has given you this in advance, and has withheld men's hands from you, that it may be a token for the believers, and that He may guide you on a right path. (48:20)

وَعَدَكُمْ اللَّهُ مغانم كثيرة تأخذونها فجعل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وليتكون آية للمؤمنين ويهدى لكم صراطا مستقيما ﴿٢٠﴾ الفتح ۲۰

اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے تم جنہیں حاصل کرو گے سو اس نے فوری طور پر تو یہ فتح تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے غرض یہ بھی کہ یہ مومنوں کے لئے (اللہ) کی قدرت کی نشانی بن جائے اور وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے (20:48)

And if those who disbelieve fight you they will certainly take to flight, and afterward they will find no protecting friend or helper. (48:22)

وَلَوْ قَاتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُجَدُّونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ الفتح ۲۲

اور اگر اس وقت تم سے کافر لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے پھر کسی کو حامی نہ پاتے اور نہ مددگار (22:48)

Such has been practice of Allah already in the past. You will not find any change in the law (practice) of Allah. (48:23)

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ الفتح ۲۳

(یہی) اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے۔ اور تم اللہ کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے (23:48)

More Reference : Page 760

وللتفصیل راجع الصفحة ۷۶۰

تفصیل کے لئے دیکھئے صفحه 760

THE TREATY OF HUDAIBIYA
FEBRUARY 628 AD (ZULQADA 6-AH)

معاہدہ الحديبية
بیت المقدس الحرام ۶۲۸

صلح حديبية
بیت المقدس الحرام ۶۲۸

A MANIFEST VICTORY

الفتح المبين

فتح مبين

We have granted you (O Muhammad) a manifest victory, (48:1)

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿١﴾ الفتح ۱

(اے محمد) ہم نے آپ کو فتح عطا کی فتح بھی روشن و صاف (1:48)

That Allah may forgive you of your faults that of past and that to come, and may perfect His favour to you, and may guide you on a right path, (48:2)

And so Allah may support you in a mighty success! (48:3)

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾
﴿٤٨ الفتح ٢﴾

وَيُبَصِّرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ﴿٣﴾
﴿٤٨ الفتح ٣﴾

تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے (2:48)

اور اللہ آپ کو زبردست نصرت بخشے۔ (3:48)

OBJECTION OF UNBELIEVERS ON MENTIONING OF ALLAH'S (SWT) ATTRIBUTE AL-REHMAN (MOST GRACIOUS) AS PREAMBLE OF THE TREATY

And when it is said to them: Adore the Beneficent! They say: And what is the Beneficent? Are we to adore whatever you (Muhammad) command us? And it increases aversion in them. (25:60)

اعتراض کفار مکہ علی کتابہ لفظ (الرحمن) علی ورق المعاهدة

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾
﴿٢٥ الفرقان ٦٠﴾

کفار مکہ کا تحریر معاہدہ حدیبیہ میں ”رحمن“ کے لفظ سے تمہید (ابتدا) پر اعتراض کرنا

اور جب ان (کفار) سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمن کیا ہوتا ہے؟ کیا جس کے لئے تم ہم سے کہہ دو ہم اس کے آگے سجدہ کرتے پھر میں اور یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ (60:25)

More Reference : 13:30 17:110 Page 170,255

والمزيد راجع ١٣ الرعد: ٢٠ ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ١١٠

مزیں حوالہ 13:30 17:110 صفحہ 255,170

GIVING ASYLUM TO THE BELIEVING WOMEN FLEEING MAKKAH TO MADINAH AND RETURNING THE UNBELIEVER WOMEN TO THE PAGANS WAS ORDAINED

O you who believe! When believing women come to you as fugitives, examine them. Allah is the best Aware of their faith. Then, if you ascertain them for true believers, send them not back to the disbelievers. They are not lawful (wives) for the disbelievers, nor are the disbelievers lawful (husbands) for them. And pay the disbelievers that which they have spent (upon them). And it is no blame on you to marry such women when you have paid them their dower. And hold not to the ties of believing women; and ask for (the return of) that which you have spent; on their dowers and let the disbelievers ask for that which they have spent on the dowers of women who come over to you. That is the command of Allah. He judges between you. Allah is Knower, Wise. (60:10)

الأمر بإيواء المؤمنات المهاجرات وبرد الكوافر إلى الكافرين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ بِمَا أَنْفَقُوا عَلَيْكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾
﴿٦٠ الممتحنة ١٠﴾

مومن مہاجر عورتوں کو پناہ دینے کا اور کافر عورتوں کو کافروں کے حوالے کر دینے کا حکم

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ کر لو۔ (اور) اللہ تو ان کے ایمان کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ پھر جب تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کفار کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لئے حلال اور جو کچھ ان کے کافر شوہروں نے (ان پر) خرچ کیا ہو وہ ان کو واپس دے دو اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو۔ اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح (قبضے) میں نہ رکھو (یعنی کفار کو واپس دے دو) اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر خرچ کیا ہو تم ان سے واپس طلب کر لو اور جو کچھ کافروں نے (اپنی مسلمان عورتوں پر) خرچ کیا ہو وہ تم سے واپس طلب کر لیں یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کئے دیتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے (10:60)

And if any of your wives has gone from you to the disbelievers and afterward you have your turn (of triumph), then pay to those whose wives have deserted the equivalent that which they have spent, and pay Allah in Whom you are believers. (60:11)

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَابِقْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾
﴿٦٠ الممتحنة ١١﴾

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے (اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو) پھر تم ان سے جنگ کرو (اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے) تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو (اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ڈرتے رہو) (11:60)

Reference : 60:12 Page 176

والمزيد راجع ٦٠ الممتحنة ١٢ الصفحة ١٧٦

مزیں حوالہ 60:12 صفحہ 176

**ALLAH (SWT) SENT DOWN HIS TRANQUILITY
(PEACE CALM AND SENSE OF SECURITY)
AND CONFIDENCE ON THE BELIEVERS**

When those who disbelieve had set up in their hearts zealotry, the zealotry of the Age of Ignorance, then Allah sent down His peace of reassurance upon His messenger and upon the believers and imposed on them the word of self restraint, for they were worthy of it and meet for it. And Allah is Aware of all things. (48:26)

إنزال السكينة من الله تعالى
على المؤمنين

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ
بِهَا وَأَهْلِهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾
﴿٤٨ الفتح ٢٦﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے دلوں
میں تسکین کا نزول

جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ ضد بٹھالی۔ تو
اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے
طمینان اور تسلی نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات
پر قائم رکھا اور وہ اسی کے حق دار اور اہل تھے۔ اور اللہ
ہر چیز سے خبردار ہے (26:48)

BATTLE OF KHAIBAR

AT 10 MILES NORTH TO MADINAH AT TABUK ROAD
MUBARRAM ZAH (YEAR 628 AD)

غزوة خیبر

على طريق مكة من مكة الى المدينة
في شهر ربيع الثاني سنة 628
م

غزوة خیبر

در مسرتوں سے ایک سال 90 میل مسافت تک دور
مکہ اور مدینہ کے درمیان 628

**GLAD TIDINGS OF VICTORY AND GAINS
OF BOOTY OF WAR AT KHAIBAR
TO THE BELIEVERS**

Those who lagged behind will say, when you set forth to capture booty: Let us go with you. They want to change the verdict of Allah. Say (to them, O Muhammad): you shall not go with us. Thus Allah has declared beforehand. Then they will say: you are envious of us. No, but little do they understand such things. (48:15)

بشرى متقدمة من الله
للمؤمنين بفتح خیبر

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ
لِنَأْخِذُ وَهَذَا زُرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا
كَلِمَةَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ
مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُونَ عَلَيْنَا يَا
كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾
﴿٤٨ الفتح ١٥﴾

فتح خیبر اور خیبر کے مال غنیمت کے بارے میں
مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری

جب تم لوگ مال غنیمت حاصل کرنے کیلئے جانے لگو گے تو
جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ ضرور کہیں گے ہمیں بھی
اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں
کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صرف یہ کہہ دیجئے
کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح اللہ
نے پہلے سے فرما دیا ہے پھر کہیں گے (نہیں) تم لوگ تو
ہم سے حسد کرتے ہو۔ (اس میں حسد کی کوئی بات نہیں)
بات یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح بات کو سمجھتے ہی نہیں مگر بہت
کم (15:48)

And much booty that they will capture. Allah is ever Mighty, Wise. (48:19)

وَمَغَائِمَ كَثِيرَةٌ يُأْخِذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾
﴿٤٨ الفتح ١٩﴾

اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے اور اللہ
غالب حکمت والا ہے (19:48)

And other (gains) there are, which you have not been able to achieve, But Allah will compass it. Allah is Able to do all things. (48:21)

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾
﴿٤٨ الفتح ٢١﴾

اور تمہیں اور (غنیمتیں بھی دیں) جن پر تم قدرت
نہیں رکھتے تھے اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں تھیں۔ اور
اللہ ہر چیز پر قادر ہے (21:48)

Say to those of the desert Arabs who were left behind: you will be summoned against a folk of mighty prowess, to fight them until they surrender; and if you obey, Allah will grant you a fair reward; but if you turn away as you did turn away before, He will punish you with a grievous chastisement. (48:16)

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى
قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ
فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا
كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابَ أَلِيمًا ﴿١٦﴾
﴿٤٨ الفتح ١٦﴾

ان پیچھے چھوڑے جانے والے بددی عربوں سے کہہ دو کہ
تم عنقریب ایک سخت جنگجو قوم کے (ساتھ لڑائی کے) لئے
بلائے جاؤ گے ان سے تم کو (یا تو) جنگ کرنی ہوگی یا وہ
اسلام لے آئیں گے۔ اگر تم حکم جہاد کی اطاعت کرو گے تو
اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا اور اگر منہ اسی طرح پھیر لو گے جیسے
پہلے دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو دردناک سزا دے گا (16:48)

**INCIDENT OF TEHREEM
DURING THE YEAR ZAH**

واقعة تحریم

واقعة تحریم سال زہ

CONQUEST OF KHAIBAR FORTRESS

7 AH - AUG 628 AD

فتح حصن خیبر

العام ۷ھ من البحر والبر السورات العام ۶۲۸ م

فتح خیبر

۱۷ سورتاں الکریم (۶۲۸)

And He caused you to inherit their land and their houses and their wealth, and land you have not frequented. Allah is Able to do all things. (33:27)

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
أَرْضًا لَمْ تَطُؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرًا ﴿۳۳﴾
۳۳ الاحزاب ۲۷

اور اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا وہ علاقہ دیا جہاں تم نے کبھی پاؤں بھی نہیں رکھا تھا وارث بنا دیا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (27:33)

BATTLE OF MAKKAH
CONQUEST OF MAKKAH

DURING RAMADHAN YEAR - 8AH - 629 AD

غزوة مکہ فتح مکہ

الشمس ۸ھ من البحر والبر العام ۶۲۹ م

فتح مکہ

۱۷ سورتاں الکریم (۶۲۹)

HYPOCRITES THOUGHT
THE MESSENGER(SAAS) AND THE BELIEVERS
WOULD NEVER RETURN

No, but you deemed that the messenger and the believers would never return to their families and that was made fair seeming in your hearts, and you conceived an evil thought, and you are the people doomed to perish. (48:12)

ظن المنافقين الزائف بأن الرسول (ﷺ)
والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهلهم أبداً

منافقین کی خوش فہمی کہ اب پیغمبر ﷺ واپس
کبھی نہیں آئیں گے

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ
إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ
وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْئًا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿۴۸﴾
۴۸ الفتح ۱۲

بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں۔ اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی۔ اور (اسی وجہ سے) تم نے برے برے گمان کئے اور دراصل تم ہلاکت میں پڑنے والے لوگ ہو۔ (12:48)

STRATEGY OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
IN RETURNING TO MADINAH INSTEAD OF
INSISTING FOR PERFORMANCE
OF LESSER PILGRIMAGE (UMRA)

They are the One who disbelieved and debarred you from the Inviolable Place of Worship, and debarred the offering (sacrificial animals) from reaching their place of sacrifice. And if it had not been for believing men and believing women, whom you know not--lest you should tread them under foot and thus incur guilt for them unknowingly; that Allah might bring into His mercy whom He will--If (the believers and the disbelievers) had been clearly separated We certainly had punished those of them who disbelieved with painful punishment. (48:25)

الحكمة في عودة النبي الكريم
محمد (ﷺ) إلى المدينة المنورة
بدلاً من الاعتمار

نبی کریم حضرت محمد ﷺ کا عمرہ کی ادائیگی کی
جائے واپسی مدینہ المنورہ میں حکمت

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ هِجْلَةَ وَاُولَٰئِكَ
رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَبُوهُمْ
أَنْ تَطُؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعْرَةٌ يُغَيِّرُ
عِلْمَ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ
تَزَيَّتُ لَوَالِدُ بَنِي الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمًا ﴿۴۸﴾
۴۸ الفتح ۲۵

یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کے جانوروں کو بھی ان کی قربان گاہ پر نہ پہنچنے دیا۔ اور اگر (مکہ میں) ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں موجود نہ ہوتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں نقصان پہنچاؤ گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے اور اگر (دونوں فریق) الگ الگ ہو جاتے تو جوان میں کافر تھے ان کو ہم ضرور دکھ دینے والا عذاب دیتے (25:48)

More Reference 22:25 Page 627

وللمزيد راجع ۲۲ الحج: ۲۵ الصفحة ۶۲۷

مزید حوالہ 25:22 صفحہ 627

DIVINE PROMISE OF BETTER REWARD
FOR BOTH WHO ASSISTED IN MOST NEEDS
AND WHO FOUGHT AND STRUGGLED
FOR THE CONQUEST OF MAKKAH

What ails you that you believe not in Allah, when the messenger invites you to believe in your Lord, and He has already taken a covenant from you, if you are believers? (57:8)

وعد الله الحسنى بكلا الفريقين
المنفقين المال والمقاتلين بأنفسهم

فتح مکہ کے لئے خرچ کرنے (انفاق) اور شرکت کرنے
(جہاد) والوں (دونوں) کے لئے بہتر اجر کا وعدہ

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ
لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾
۵۷ الحديد ۸

اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ (اس کے) پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور اگر تم واقعی ماننے والے ہو تو وہ تم سے (اس کا) عہد بھی لے چکا ہے (8:57)

And what ails you that you spend not in the way of Allah, when to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth? Those who spent and fought before the victory are not upon a level (with the rest of you). Such are higher in rank than those who spent and fought afterwards. To each Allah has promised goodly reward. And Allah is well acquainted with all that what you do. (57:10)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مَنكُمْ مَن أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٧﴾
﴿٥٧ الحديد ١٠﴾

کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے بلکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے جس نے تم میں سے فتح (مکہ) سے پہلے خرچ کیا اور جہاد۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے میں خرچ (اموال) اور (کفار سے) جہاد و قتال کیا۔ اور نے سب سے (ثواب) نیک (کا) وعدہ تو کیا ہے۔ جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے (10:57)

UMRA - TUL - QADHA
THE COMPENSATORY UMRAH

الحجرة القضاء

عمرة القضاء

THE DREAM OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS) OF ENTERING THE SACRED MOSQUE, BECAME TRUE WHICH HE HAD WHILE PROCEEDING FOR TREATY OF HUDAIBIYA

تحقیق رؤیا الرسول ﷺ بدخوله والمؤمنين المسجد الحرام واداء العمرة

مخصوصاً ﷺ کا مسجد الحرام میں داخل ہونے کا خواب و انہوں نے صلح حدیبیہ کے لئے روانہ ہوتے وقت دیکھا تھا سچا ثابت ہوا

And it is He Who has restrained men's hands from you, and has withheld your hands from them, in the valley of Makkah, after He had made you victors over them. Allah is Observant of what you do. (48:24)

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٤٨﴾
﴿٤٨ الفتح ٢٤﴾

روہی تو ہے جس نے تم کو ان (کافروں) پر فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور مارے ہاتھ ان سے روک دیئے۔ حالانکہ وہ ان پر میں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ ل کو دیکھ رہا تھا (24:48)

Allah has fulfilled the vision for His messenger in very truth. You shall indeed enter the Inviolable Place of Worship, if Allah wills, with minds secure. Heads shaved, Hair cut short, with no fear. For He knows that which you know not, and has given you a speedy victory beforehand. (48:27)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ يَا الْحَقِّقُ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٤٨﴾
﴿٤٨ الفتح ٢٧﴾

بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا (اور) صحیح خواب لکھایا کہ ان شاء اللہ تم تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کترا کر امن و امان سے داخل ہو گے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح عطا فرمائی (27:48)

PEOPLE EMBRACED ALLAH'S (SWT) RELIGION IN GREAT NUMBERS AS A RESULT OF DIVINE HELP AND VICTORY

مجئی نصر الله تعالى والفتح ودخول الناس في الإسلام أفواجا

اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت اور لوگوں کا اسلام میں جوق در جوق داخل ہونا

And say: Truth has come and falsehood has vanished away. Falsehood is ever bound to vanish. (17:81)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٨١﴾

اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹ جانے والا ہے (81:17)

When Allah's support comes as well as victory. (110:1)

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾
﴿١١٠ النصر ١﴾

جب اللہ کی مدد آئی اور فتح (حاصل ہو گئی) (1:110)

And you do see mankind entering the religion of Allah in crowds. (110:2)

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾
﴿١١٠ النصر ٢﴾

اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں (2:110)

Then hymn the praises of your Lord, and seek forgiveness of Him. Indeed He is ever ready to show mercy. (110:3)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّكَ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾
﴿١١٠ النصر ٣﴾

تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے (3:110)

MUTA EXPEDITION (ARMY OF LEADERS)
JAMADI-UL-AWAL 8 AH

عزروہ ہونہ (جیش الامراء)
جمادی الاول ۸ ہجری

عزروہ ہونہ (جیش الامراء)
جمادی الاول ۸ ہجری

No doubt Allah has bought from the believers their lives and their wealth because the Garden will be theirs: they shall fight in the way of Allah and shall slay and be slain. It is a promise, which is binding on Him in the Torah and the Gospel and the Quran. Who fulfills his covenant better than Allah? Rejoice then in your bargain that you have made, for that is the Supreme triumph. (9:111)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩ التوبة ١١١﴾

بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں (اور اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا سے ضرور ہے۔ اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ توجو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے (111:9)

BATTLE OF HUNAIN "AU' TAS"
(ON A ROAD TO TAIF FROM MAKKAH)
SHAWWAL 8 AH - 629 AD

عزروہ حنین عزروہ اوطاس
مکان جنگ الطریق بین مکہ و تائف
شعبان ۸ ہجری

عزروہ حنین عزروہ اوطاس
مکان جنگ الطریق بین مکہ و تائف
شعبان ۸ ہجری

THE VANGUARD OF MUSLIMS WAS TRAPED IN AN AMBUSH OF PAGAN IDOLATERS WHO CAUSED HAVOC WITH ARROWS RESULTING IN TEMPORARY SET BACK

تفہقر الجیش الاسلامی
الموقت بسبب إهجام الرماة بغتة

مسلمانوں کے ہر اول دستہ پر مشرکین کے چھپے ہوئے تیر اندازوں کے اچانک حملہ سے وقتی طور پر پسپائی

Certainly Allah has given you victory on many battlefields and on the day of Huneyn, when you exulted in your multitude but it prevailed you nothing, and the land, vast as it is, was straitened for you; when you turned back in flight; (9:25)

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٩ التوبة ٢٥﴾

اللہ نے اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تم کو فتح دی ہے اور (جنگ) حنین کے دن (اس کی دستگیری کی شان تم دکھ چکے ہو) جب کہ تم کو اپنی (جماعت کی) کثرت پر گھمنڈ تھا وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود (اتنی بڑی) فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ (25:9)

ALLAH (SWT) SENT DOWN HIS TRANQUILITY (PEACE-CALM AND SENSE OF CONFIDENCE) ON BELIEVERS AND ASSISTED THEM WITH INVISIBLE FORCES OF NATURE (ANGELS) RESULTING IN THEIR VICTORY

إنزال السكينة من الله تعالى وإمداده بالملائكة وحصول المسلمين على الفوز

اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین کا نزول فرشتوں کے ذریعے مدد اور کامیابی

Those of them with whom you did make a treaty, and, then at every opportunity they break their treaty, and they never fear (Allah). (8:56)

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْجَةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٨ الانفال ٥٦﴾

جن لوگوں سے تم نے (صلح کا) عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑے ڈالتے ہیں اور (اللہ سے) ڈرا نہیں ڈرتے (56:8)

When Allah did pour His calm (peace and tranquillity) upon His messenger and upon the believers, and sent down forces you could not see, and punished those who disbelieved. Such is the recompense of disbelievers. (9:26)

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٩ التوبة ٢٦﴾

پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور (تمہاری مدد کو فرشتوں کے) لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے (آسمان سے) اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے (26:9)

When afterward Allah will relent towards whom He wills; for Allah is forgiving, Merciful. (9:27)

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩ التوبة ٢٧﴾

پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (27:9)

DENOUNCING OF HUDABIYA TREATY OBLIGATIONS TO ZUL-HAJAH YEAR 9AH

Freedom from obligation (is proclaimed) from Allah and His messenger towards those of the idolaters with whom you made a treaty: (9:1)

GRACE PERIOD OF FOUR MONTHS FOR THE IDOLATERS AND DISBELIEVERS EITHER TO ENSURE FAITHFULNESS OR TO QUIT THE TERRITORY

Travel freely in the land for four months, and know that you cannot frustrate Allah by your falsehood and that Allah will cover with shame those who reject Him. (9:2)

AFTER EXPIRY OF GRACE PERIOD THE BELIEVERS WERE ALLOWED TO FIGHT IDOLATERS AND CONFEDERATES BY KILLING - CAPTURE, SIEGE, AMBUSH AND ADOPTING OTHER STRATAGEMS

Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever you find them, and take them (captive), and besiege them, and prepare for them each ambush. But if they repent and establish worship (Salat) and pay the poor due (Zakat) then leave their way free. Indeed Allah is Forgiving, Merciful. (9:5)

And if they violate their pledges after their treaty (has been made with you) and assail your religion, then fight you the chiefs of disbelief they have no binding oaths in order that they may desist. (9:12)

Will you not fight the people who violated their solemn pledges, and purposed to drive out the messenger and did attack you first? What! Fears you them? Now Allah has more right that you should fear Him, if you are believers. (9:13)

Fight them! Allah will chastise them at your hands, and He will lay them low and help you victory over them, and He will heal the breasts of folk who are believers. (9:14)

الغاء معاهدة الحديبية

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ①
﴿٩ التوبة ١﴾

إمهال المشركين حتى انسلاخ الأشهر الحرم

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين ②
﴿٩ التوبة ٢﴾

الإذن بالقتال عند نكث المشركين أيماهم من بعد عهدهم

فإذا انسلكم الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ③
﴿٩ التوبة ٥﴾

وإن تكفروا أيما أنتم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعاهدكم ينتهون ④
﴿٩ التوبة ١٢﴾

الأتقاتلون قوما نكثوا أيما أنهم وهتوا يا خراجه الرسول وهم بدءوكم أول مرة أخشونهم قال الله أحمق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ⑤
﴿٩ التوبة ١٣﴾

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ⑥
﴿٩ التوبة ١٤﴾

صلح حديبية کی منسوخی

(اے اہل اسلام اب) اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد و پیمانہ کر رکھا تھا بے زاری اور (جنگ کا اعلان) ہے (9:1)

مشرکین و منکرین کو چار ماہ کی مہلت یا وفاداری کو یقینی بنائیں ورنہ جزیرہ عرب خالی کر دیں

تو (مشرکوں تم) زمین میں چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے (2:9)

مہلت کی مدت گزرنے کے بعد معاہدہ کی خلاف ورزی پر کافروں سے ہر طریقہ سے جنگ (قتل، گرفتاری، محاصرہ گھات وغیرہ) کی اجازت

جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اور پکڑ لو۔ اور گھیر لو۔ اور ہر گھات کی جگہ ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (5:9)

اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو (یہ بے ایمان لوگ ہیں اور) کیونکہ ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں عجب نہیں کہ تلوار کے ہی زور سے وہ اپنی حرکات سے باز آجائیں (12:9)

بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور (اللہ کے) پیغمبر جلا وطن کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور انہوں نے تم سے (عہد شکنی کی) ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بھڑکیے ایمان رکھتے ہو (13:9)

ان سے (خوب) لڑو اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشنے کا (دل ٹھنڈے کرے گا) (14:9)

And He will remove the anger of their hearts. Allah relents towards whom He wills. Allah is Knower, Wise. (9:15)

وَيَذُوبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩ التوبة ١٥﴾

اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا۔ (توبہ کی توفیق دے گا) اور اللہ سب کچھ جانتا (اور) حکمت والا ہے (15:9)

More Reference : 8:57 Page 712

والمعزيب راجع ٨ الأنفال: ٥٧ الصفحة ٧١٢

تفسير قوله 57:8 صفحه 712

<p>EXPEDITION OF TABUK AT FRONTIER OF SAUDI ARABIA 350 MILES AT NORTH WEST OF MADINAH ON HIJAZ RAILWAY TRACK RAJAB 9 AH - OCTOBER 630 AD</p>	<p>غزوة تبوك الانذار بالتبوك في السنة السادسة للهجرة على خط المسلك الحجازي من مكة الى تبوك بمسافة ٣٥٠ ميلاً الى الشمال الغربي من المدينة المنورة في شهر رجب من العام ٦٣٠ الموافق لـ ٩ من رجب العام ٦٣٠</p>	<p>غزوة تبوك الانذار بالتبوك في السنة السادسة للهجرة على خط المسلك الحجازي من مكة الى تبوك بمسافة ٣٥٠ ميلاً الى الشمال الغربي من المدينة المنورة في شهر رجب من العام ٦٣٠ الموافق لـ ٩ من رجب العام ٦٣٠</p>
---	---	---

THE PEOPLE SLUGGISH TO RESPOND THE CALL OF TABUK EXPEDITION FOR CLINGING TO WORLDLY GAINS WERE ADMONISHED

O you who believe! What ails you that when it is said to you: Go forth in the way of Allah, you bow down to the ground with heaviness. Do you prefer the pleasure of life of the world rather than in the Hereafter? The comfort of the life of the world is but little in the Hereafter. (9:38)

Unless you go forth He will afflict you with a painful doom, and will choose a folk other than you. But you cannot harm Him at all. Allah is Able to do all things. (9:39)

Go you forth, whether light armed or heavy equipped, and strive with your wealth and your lives in the way of Allah! That is best for you if you but knew. (9:41)

التوبيخ للمخلفين من غزوة تبوك ابتغاء لعرض الحياة الدنيا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨ التوبة ٣٨﴾

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩ التوبة ٣٩﴾

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١ التوبة ٤١﴾

غزوة تبوك میں دنیاوی نعمتوں کی خاطر شمولیت سے تساہل کرنے والوں کو تنبیہ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں (جہاد کے لئے) نکلو تو تم (کاہلی کے سبب سے) زمین پر گرے جاتے ہو (یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے) کیا تم آخرت (کی نعمتوں) کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو۔ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں (38:9)

اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی دردناک سزا دے گا۔ اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا (جو اللہ کے پورے فرماں بردار ہوں گے) اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (39:9)

تم ہلکے پھلکے ہو یا بھاری بھر کم (یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت گھروں سے) نکل آؤ اور اللہ کے راستے میں مال اور جان سے لڑو۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطیکہ سمجھو (41:9)

THE FIRE OF HELL IS MORE FIERCE THAN THE HARSHNESS OF TABUK TRAVEL A MESSAGE FOR THOSE (PEOPLE) WHO WERE LEFT BEHIND IN TABUK EXPEDITION AND WERE REJOICED IN THEIR SITTING BACK

Those who were left behind rejoiced at sitting still behind the messenger of Allah, and were averse of striving with their wealth and their lives in Allah's way. And they said: Go not forth in the heat! Say: The fire of hell is more intense of heat, if they but understood. (9:81)

نار جہنم اشد حرا من فصل القيظ وذلك درس لمن كان يفرح على عدم اشتراكه في غزوة تبوك

قَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١ التوبة ٨١﴾

دوزخ کی آگ تبوک کے سفر کی گرمی سے بہت زیادہ گرم ہے ان لوگوں کے لئے پیغام جو غزوة تبوک میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے خوش تھے

جو لوگ (غزوة تبوک میں) پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے پیغمبر (کی مرضی) کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں۔ اور (اوروں سے بھی) کہنے لگے کہ سخت گرمی میں مت نکلنا (ان سے) کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش یہ (اس بات کو) سمجھتے (81:9)

INSTRUCTIONS TO REMAIN WATCHFUL FROM THE INTRIGUES OF HYPOCRITES DURING HOLY WAR

Had they gone forth among you they had added to you nothing except trouble and had hurried to and for among you, seeking to cause sedition among you; and among you there are some who would have listened to them. Allah is well Aware of evildoers. (9:47)

Aforetime they sought to cause sedition and raised difficulties for you till the Truth came and the decree of Allah was made manifest, much to their disgust. (9:48)

MAKING A SHOW OFF CONTRIBUTION FOR THE CAUSE (HOLYWAR) BY HYPOCRITES IS IN ORDER TO KEEP UP THEIR PRETENCE, WHICH SHALL NOT BE ACCEPTED

Say: Pay (your contribution), willingly or unwillingly, it will not be accepted from you. You are indeed rebellions and wicked people. (9:53)

And among them are some who defame you in the matter of the alms. If they are given part thereof they are pleased, and if they are not given part thereof, they are enraged. (9:58)

(How much more seemly) had they been content with that which Allah and His messenger had given them and had said: Allah suffices us. Allah will give us of His bounty, and (also) His messenger. To Allah we return our hopes. (9:59)

FALSE OATHS AND LAME EXCUSES OF THE HYPOCRITES FOR SEEKING EXEMPTIONS FROM JOINING TABUK EXPEDITION

Had it been immediate gain in sight and an easy journey they all had followed you without doubt, but the distance seemed too far for them. Yet they will swear by Allah (saying): If we had been able we would surely have set out with you. They destroy their souls, and Allah knows that they are liars. (9:42)

الأوامر للمؤمنين بالحذر من مكائد المنافقين و تجسسهم للعدو

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾
﴿٩ التوبة ٤٧﴾

لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٤٨﴾
﴿٩ التوبة ٤٨﴾

عرض المنافقين المساعدة المالية بدلاً من اشتراكهم بأنفسهم في القتال

قُلْ أَنْفَعُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِتَاكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾
﴿٩ التوبة ٥٣﴾

وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴿٥٨﴾
﴿٩ التوبة ٥٨﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٩ التوبة ٥٩﴾

معاذير المنافقين الزائفة لعدم اشتراكهم في سفر تبوك

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَبِعُوا لَكَ وَلَكِنْ لَمَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةَ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾
﴿٩ التوبة ٤٢﴾

دوران جہاد مسلمانوں کو منافقین کی شرارت اور جاسوسی سے محتاط رہنے کی ہدایات

گروہ تم میں (شامل ہو کر) نکل بھی کھڑے ہوتے تو ہمارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں ساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے۔ اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے (47:9)

اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ طالب فساد رہے ہیں اور ہمیں ناکام کرنے کے لیے بہت سی باتوں میں ہمارے لئے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آپہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا؟ (48:9)

منافقین کی خود جہاد میں شمولیت کی بجائے مال و دولت کے ذریعے امداد کی پیشکش ناقابل قبول

کہہ دیجئے کہ تم (مال) خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ تم نا فرمان (فاسق) لوگ ہو (53:9)

اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ (تقسیم) صدقات میں تم پر طعنہ زنی (اعتراض) کرتے ہیں۔ اگر ان کو اس مال میں سے کچھ مل جائے تو خوش رہیں اور اگر کچھ نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں (58:9)

اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ عطا فرمائے گا اور اس کا پیغمبر بھی ہم پر عنایت فرمائے گا اور ہمیں تو اللہ ہی کی ذات سے توقع ہے (تو ان کے حق میں بہتر ہوتا) (59:9)

غزوہ تبوک میں شرکت سے معافی کے لئے منافقین کی جھوٹی قسمیں اور بناوٹی عذر

اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہولیتے لیکن ان پر تو دوری اور درازی کی مشکل پڑ گئی۔ اب (تو عذر کریں گے) اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے یہ (یہ ایسے عذروں سے) اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں (42:9)

Allah give you Grace (O Muhammad) why! did you grant them leave before the truth were manifest to you and you did recognize the liars? (9:43)

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾
﴿٩ التوبة ٤٣﴾

(اے نبی!) اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی (آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو رخصت نہ دیتے) جب تک آپ پر وہ لوگ بھی ظاہر نہ ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی آپ کو معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں۔ (43:9)

Those who believe in Allah and the Last Day ask no exemption of you lest they should strive with their wealth and their lives. Allah is Aware of those who keep their duty (to Him). (9:44)

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾
﴿٩ التوبة ٤٤﴾

جو لوگ اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو آپ سے اجازت نہیں مانگتے کہ (پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ) اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ پر ہیزگاروں سے واقف ہے (44:9)

They alone ask exemption of you who believe not in Allah and the Last Day, and whose hearts are in doubt, so in their doubt they waver. (9:45)

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَمُومٌ فِي
رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾
﴿٩ التوبة ٤٥﴾

ایسی اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سو وہ اپنے شک میں ڈانواں ڈول ہو رہے ہیں (45:9)

And if they had intended to go forth they would certainly have made some preparation, but Allah was adverse to their being sent forth and held them back and (it was said to them) : Sit you with the sedentary! (9:46)

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لَكِن
كَرِهَ اللَّهُ ابْتِغَاءَهُمْ فَبَطَّوهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ
مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾
﴿٩ التوبة ٤٦﴾

اور اگر واقعی وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لئے کچھ سامان تیار کرتے لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا (اور نکلنا) پسند ہی نہ کیا تو ان کو ست کر دیا اور (ان سے) کہہ دیا گیا کہ جہاں (معذور) بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو (46:9)

Of them is he who says: Grant me exemption (to stay at home) and draw me not into trial have they not fallen into trial already. Indeed hell surrounds the disbelievers. (9:49)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذِنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي
إِنِّي فِي الْفِتْنَةِ سَقَطٌ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾
﴿٩ التوبة ٤٩﴾

اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالئے دیکھو یہ لوگ آفت میں تو پڑے ہوئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے (49:9)

good befalls you (O Muhammad) grieves them, and if misfortune befalls you, they say: We took precaution, and they turn away rejoicing. (9:50)

إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ
يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَتَوَلَّوْا
وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾
﴿٩ التوبة ٥٠﴾

(اے پیغمبر) اگر آپ کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے۔ اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی (درست) کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں (50:9)

Can you expect for us any fate other than one of two glorious things (martyrdom or victory in Allah's way)? While we expect for you that Allah will afflict you with a calamity from Him or at our hands. Wait then! We are waiting with you. (9:52)

قُلْ هَلْ تَرْتَبِّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدًا يَ الْحَسَنِيِّينَ
وَنَحْنُ نَتَرْتَبِّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ
مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِيَدِنَا أَفَرْتَبِّصُونَ إِنَّا مَعَكُمْ
مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾
﴿٩ التوبة ٥٢﴾

کہہ دیجئے کہ تم ہمارے معاملے میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے معاملہ میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ (یا تو) اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے (عذاب دلوائے) تو تم بھی انتظار کرو۔ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں (52:9)

If then Allah brings you back (from the campaign) to a party of them and they ask of you permission to go out (to fight), then say to them: you shall never more go out with me nor fight with me against a foe. You were content with sitting still the first time. So sit still, with those who stay. (9:83)

فَإِن تَرَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ
فَأَسْتَأْذِنُوكَ لِخُرُوجٍ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ
أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ
رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ
الْمُخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾

﴿٩ التوبة ٨٣﴾

And when a "Sura" is revealed (enjoining them to): Believe in Allah and strive (fight) along with His messenger, the men of wealth and influence among them still ask you for exemption and say: spare us to be with those who sit (at home). (9:86)

وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنِ امْنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا
مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ
وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾

﴿٩ التوبة ٨٦﴾

They prefer that they should be with the women who remained behind at home and their hearts are sealed, so that they apprehend not. (9:87)

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

﴿٩ التوبة ٨٧﴾

And those among the desert Arabs who made excuses came to claim exemption. And those who lied to Allah and His messenger sat at home. A painful doom will fall on those of them soon, who disbelieve. (9:90)

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ
وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

﴿٩ التوبة ٩٠﴾

AVOIDANCE OF RICH HYPOCRITES FROM JOINING TABUK EXPEDITION

The ground (of blame) is only against those who claim exemption from you (to stay at home) when they are rich. They prefer to be with the useless. Allah has sealed their hearts so that they know not. (9:93)

استيذان المنافقين للتخلف
عن القتال وهم أغنياء

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ
أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ
اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

﴿٩ التوبة ٩٣﴾

RENDERING FALSE EXPLANATIONS OF HYPOCRITES AND THEIR DECEPTIVE REGRETS BEFORE HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS) ON HIS RETURN FROM TABUK EXPEDITION TO JUSTIFY THEIR ABSENCE IN HOLY WAR

They will make excuse to you (Muslims) when you return to them. Say: Make no excuse, for we shall not believe you. Allah has already told us the true state of matter

اعتذار المنافقين الزائف إلى
المؤمنين عند عودتهم من القتال

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ
لَا تَعْتَذِرُونَ لَنَا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ لَكُمْ لَبِئْسَ مَا كُنَّا
لِللَّهِ لَاقِدِينَ ﴿٩٤﴾

پھر اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کے درمیان لے جائے اور آپ سے آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کرے تو صاف کہہ دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ (مددگار ہو کر) کسی دشمن سے لڑائی کرو گے۔ تم نے پہلی دفعہ بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو (83:9)

اور جب کبھی کوئی سورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو آپ نے دیکھا کہ جو ان میں دولت مند لوگ ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے تاکہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں (86:9)

یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں (گھروں میں بیٹھے) رہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اس لیے کہ یہ سمجھتے ہی نہیں (87:9)

اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے (آپ کے پاس) آئے کہ ان کو بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ (گھر میں) بیٹھ رہے۔ سو جو لوگ ان میں سے کفر کا طریقہ اختیار کئے ہوئے ہیں ان کو عنقریب دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا (90:9)

وسائل کے باوجود جہاد تبوک میں شرکت سے
بچنے کے لئے منافقین کا اجازت طلب کرنا

البتہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور (پھر بھی) آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے (یعنی) اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں (گھروں میں بیٹھے) رہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ پس وہ سمجھتے ہی نہیں (93:9)

حضرت محمد ﷺ کے جہاد کے سفر سے واپسی
پر منافقین کی معذرت طلبی اور تاویلات

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے آپ کہہ دیجئے کہ عذر مت کرو ہم ہرگز تمہاری کوئی بات نہیں مانتے گے اللہ

concerning you. Allah and His messenger will observe your conduct, and then you will be brought back to Him Who knows the invisible as well as the visible, and He will show you what you used to do. (9:94)

مَنْ أَخْبَارَكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾
﴿٩ التوبة ٩٤﴾

نے ہم کو تمہارے سب حالات بتادیئے ہیں اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو (اور) دیکھیں گے پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے (اللہ واحد) کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا (94:9)

They will swear by Allah to you, when you return to them, that you may leave them be. So let them be, for they are unclean, and their abode is hell as the fitting recompense for what they used to earn. (9:95)

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَعْنُهُمْ فَاَعْرَضُوا عَنْهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ رِجْسًا وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ جزاءً بِنِيبَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾
﴿٩ التوبة ٩٥﴾

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کو معاف کر دو ان کی طرف توجہ نہ کرنا یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانا دوزخ ہے (95:9)

They swear to you, that you may be pleased with them. Though you please with them, Allah is not pleased with those who disbelieve. (9:96)

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾
﴿٩ التوبة ٩٦﴾

یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ لیکن اگر تم ان سے خوش ہو بھی جاؤ گے اللہ تو نافرمان لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا (96:9)

STAUNCH BELIEVERS WERE EAGER TO SERVE FOR THE CAUSE OF ALLAH (SWT) INSPITE OF THEIR BEING EXEMPTED TO JOIN THE EXPEDITION

المؤمنون المخلصون الذين لم ينفروا في غزوة تبوك بعدرهم الشرعي، تأسفوا ولهوا على ذلك

جائز عذر کے باوجود مخلص مسلمان شرکت جہاد تبوک سے محرومی پر غم ناک ہوئے

Nor to those whom, when they came to you (asking) that you should mount them, and when you said I cannot find whereon to mount you. They turned back with eyes flowing with tears, for sorrow that they could not find the means to spend. (9:92)

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتُمْ لِيَحْمِلَهُمْ قُلْتُمْ لَا آجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾
﴿٩ التوبة ٩٢﴾

اور نہ اس طرح ان (بے سرد سامان) لوگوں پر (الزام) ہے کہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کو سواری بہم پہنچائی جائے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تم کو سوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شرکت کی قدرت نہیں رکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے (92:9)

THREE COMPANIONS WHO FAILED TO JOIN EXPEDITION NOT FROM CONTUMACY CONFERRED THEIR SLACKNESS INSTEAD OF OFFERING FALSE PRETEXTS TO THE HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS) AND WERE EXONERATED BY ALLAH'S (SWT) GRACE

تاب الله على الأصدقاء الثلاثة الذين خلفوا واعترفوا بما همالهم بدلا من الاعتذار الكاذب، وعفى عنهم

تین مخلص صحابی جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے سامنے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے پر جھوٹے عذر پیش کرنے کی بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا

And to the three also (He did turn in mercy) who were left behind: they felt guilty to such a degree when the earth, vast as it is, was straitened for them, and their own souls were straitened for them till they perceived that there is no refuge from Allah except towards Him. Then He turned to them in mercy that they (too) might turn (repentant to Him). Surely Allah! He is the relenting, the Merciful. (9:118)

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلْفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾
﴿٩ التوبة ١١٨﴾

اور ان تینوں کو بھی معاف کیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لئے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے (118:9)

**TABUK EXPEDITION
A JOURNEY OF DISTRESS**

Allah has turned in mercy to the Prophet and to the Muhajirin and the Ansar who followed him in the hour of hardship. After the hearts of a party of them had almost swerved aside, then He turned to them in mercy. Surely He is full of Pity and Merciful for them. (9:117)

**EVERY HARDSHIP AND SPENDING
FOR THE CAUSE OF ALLAH (SWT)
RESERVES FAR GREATER REWARD**

It was not for the townsfolk of Al-Madinah and for those around them of the Bedouin Arabs to stay behind the messenger of Allah and prefer their lives to his life. That is because neither thirst nor toil nor hunger afflicts them in the way of Allah, nor step they any step that angers the disbelievers, nor gain they from the enemy a gain, but a good deed is recorded for them therefore. Allah loses not the wages of the good. (9:120)

Nor could they spend anything small or great, nor do they cross a valley, but it is recorded for them, that Allah may repay them the best of what they used to do. (9:121)

**EXEMPTION FOR NOT JOINING EXPEDITION
DUE TO GENUINE REASONS
AND EFFACEMENT OF MINOR FAULTS**

Not to the weak nor to the sick nor to those who can find nothing to spend is any blame to be imputed though they stay at home if they are sincere to Allah and His messenger. No ground of complaint can be against such as do right. Allah is Forgiving, Merciful. (9:91)

غزوة تبوك. جيش العسرة

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى التَّيِّبِ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ
تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

الذين كابدوا الصعوبات والآلام
من الظمأ والجوع أو المال
في الجهاد في سبيل الله، ابتغاء
مرضات الله، فلهم اجرهم عند الله

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ
الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَفَتُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا
مَخَصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُونُ مَوْطِئًا
يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَتَالَوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا
كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
وَلَا يَقْطَعُونَ وادياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ
اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

التسامح للمحسنين الذين لديهم اعدار
شرعية و العفو عن الزلات الصغيرة

لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا
عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا
نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾

غزوة تبوك ایک مشکل سفر کھٹن مہم (الجيش العسرة)

بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے مگر انہوں نے اس کا اتباع نہ کیا۔ اور مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا (اور) مہربان ہے (117:9)

راہ جہاد میں اٹھائی جانے والی ہر تکلیف بھوک پیاس اور اس راہ میں کئے جانے والے تھوڑے یا بہت خرچ کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی بدور رہتے ہیں ان کو شایاں نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی جانوں کی فکر میں لگ جاتے۔ یہ اس لئے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی یا وہ ایسی راہ چلتے جو منکرین حق کو ناگوار گزرے یا دشمنوں سے کوئی انتقام لیتے تو ہر بات پر ان کے لئے عمل نیک لکھا جاتا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نیک اعمال کا اجر ضائع نہیں کرتا (120:9)

اور (اسی طرح) وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا سخی جہاد میں کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لئے (اعمال صالحہ میں) لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے (121:9)

مومنین کو جائز عذر میں شرکت جہاد میں معافی اور چھوٹی لغزشوں پر درگزر

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس زادراہ (اخراجات سفر) موجود نہیں (کہ شریک جہاد ہوں یعنی) جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلوص دل کے ساتھ وفادار ہوں۔ ایسے نیک لوگوں (محسنین) پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا مہربان ہے (91:9)

**MOSQUE OF PIETY
AL-MASJID AL-QUBA**

مسجد قبلہ

سجراتنا

Which then is the best? He who lays his foundation on piety to Allah and His good pleasure.....
(9:109) PART

أَقْمَنَّ أَنَسَّسَ بِنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ.....
(۹ التوبة ۱۰۹)

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی وہ اچھا ہے.....
(109:9)

MOSQUE OF MISCHIEF (DHIRAR)

المسجد الضرار

مسجد ضرار

INCIDENT DURING MONTH OF RAJAB YEAR 9AH (631-AD)

حادثۃ المسجرتنا فی النار المحرمات (۱۰۸ھ)

حادثۃ سال ۹ھ (مہینہ ربیع الثانی ۱۰۸ھ)

CONSTRUCTION OF A SEPARATE MOSQUE BY HYPOCRITES IN SUBURB OF MADINAH IN OPPOSITION OF THE MOSQUE OF QUBA TO DISUNITE THE BELIEVERS

And as for those who chose a place of worship by way of mischief and infidelity, and in order to cause dissent among the believers, and as an outpost for those who warred against Allah and His messenger aforetime, they will surely swear: We purposed nothing but good. But certainly Allah does declare that they are certainly liars. (9:107)

قیام المنافقین علی بناء مسجد منفصل
ضراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین

منافقین کی مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کیلئے مسجد قباء کے مقابلہ میں ایک علیحدہ مسجد کی تعمیر

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا
وَتَفَرُّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْتِدَادًا لِلْإِسْلَامِ
حَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَخْلِفُونَ إِنْ
أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
(۹ التوبة ۱۰۷)

اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں اور ان کے لئے گھات کی جگہ بنائیں۔ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں (107:9)

TO REFRAIN FROM OFFERING PRAYER IN THE MOSQUE OF MISCHIEF BUILT BY THE HYPOCRITES WAS REVEALED TO PROPHET MUHAMMAD (SAAS) DURING TABUK JOURNEY

أنزل الله الوحي على النبي محمد (ﷺ)
خلال سفر تبوك، ونهى النبي محمد (ﷺ)
عن القيام في المسجد الضرار

سفر تبوک کے دوران وحی کا نزول محمد ﷺ کو مسجد ضرار میں نماز نہ پڑھانے کا حکم

Never stand you forth-therein. ----
(9:108) PART

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا
(۹ التوبة ۱۰۸ جزء)

آپ ہرگز اس عمارت (مسجد ضرار) میں کھڑے نہ ہوں -----
(108:9) جزو

Which then is the best? He who lays his foundation on piety to Allah and His good pleasure; or he who founded his building on an undermine sand cliff the brink of a rumbling, so that it toppled with him into the fire of hell? Allah guides not wrongdoing folk. (9:109)

أَقْمَنَّ أَنَسَّسَ بِنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَنَسَّسَ بِنْيَانَهُ عَلَى
شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
(۹ التوبة ۱۰۹)

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرجانے والی گھاٹی کے کنارے پر رکھی جو گرنے کو ہو کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (109:9)

The building, which they built will never cease to be a misgiving in their hearts unless their hearts be torn to pieces. Allah is Aware, Wise. (9:110)

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ
إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(۹ التوبة ۱۱۰)

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی اور اس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں اور اللہ نہایت باخبر اور حکم والا ہے۔ (110:9)

**INCIDENT OF TEHREEM YEAR 7AH
FEELING ENVOIOUS OF THE WIVES
OF PROPHET (SAAS) WITH EACH OTHER**

**واقعة التحريم في العام السابع
تحاسد أزواج النبي محمد ﷺ**

**واقعة تحريم سال 7ھ
ازواج مطہرات کا ایک دوسرے پر رشک کرنا**

**INSTRUCTIONS TO THE WIVES OF PROPHET
MUHAMMAD (SAAS) TO RESPECT EACH OTHER'S
CONFIDENCE FOR MUTUAL HARMONY**

When the Prophet disclosed a matter in confidence to one of his wives and when she afterward divulged it and Allah apprised him thereof, he made known (to her) part thereof and passed over part. And when he told it her she said: Who has told you? He said: The Knower, the Aware has told me. (66:3)

الأمر لأزواج النبي بإحداث بيئة
التوافق والثقة بينهن

ازواج مطہرات کو باہمی اعتماد اور ہم آہنگی کی
فضا قائم رکھنے کی ہدایات

**DIVINE REPROBATION AND WARNING
TO THE HOUSEHOLD OF PROPHET (SAAS) AND
INSTRUCTIONS FOR TURNING INTO REPENTANCE**

O Prophet! Why you forbid that which Allah has made lawful for you, seeking to please your consorts? And Allah is Forgiving, Merciful. (66:1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي
مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①
التحریم ۱

ازواج مطہرات کے باہمی رشک پر اللہ تعالیٰ کا
اظہار ناپسندیدگی اور ان کو توبہ کرنے کی ہدایت

اے پیغمبر جو چیز اللہ نے آپ کے لئے جائز قرار دی ہے
آپ اسے اپنے لیے کیوں حرام قرار دیتے ہیں (کیا اس
سے) اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے
والا مہربان ہے (1:66)

If you both turn to Allah repentant, (you have cause to do so) for your hearts inclined (the ban); and if you backup one another against him (Muhammad) then truly Allah, even He, is his protecting Friend, and Gabriel and every righteous among the believers; and furthermore the angels will back him up. (66:4)

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ
بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ②
التحریم ۴

اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو (تو تمہارے لیے
بہتر ہے کیوں کہ) تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ
گئے ہیں۔ اور اگر پیغمبر (کے مقابلہ) میں باہم اعانت
کرو گی تو جان رکھو کہ اللہ اور جبریل اور نیک کردار
مسلمان اس کے حامی (اور دوست دار ہیں) اور ان
کے علاوہ (اور) فرشتے بھی مددگار ہیں (4:66)

It may happen that his Lord, if he divorces you (all), will give him in your exchange wives better than you, (who are) submissive (to Allah), believing, pious, penitent, inclined to fasting, previously married or virgins. (66:5)

عَلَىٰ رَبِّهِ إِنْ طَلَقتُ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَمْوَاجًا
خَيْرًا مِنْكُمْ مَسْلَمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنِتَاتٍ تَيَبَّتْ
عِيْدَاتُهُنَّ لَمْ يَكُنَّ فِيهِنَّ مَرْغُوبَاتٌ ③
التحریم ۵

اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا
پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما
دے۔ سچی مسلمان صاحب ایمان فرمانبردار توبہ کرنے
والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں بیوہ اور کنواریاں
(5:66)

**PERMISSION OF BREAKING AND EXPIATION
OF OATH UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES**

Allah has already ordained for you (Muslims) absolution from your oaths (in some cases); and Allah is your Protector. He is full of Knowledge and Wisdom. (66:2)

الإذن بحنث القسم
في الظروف الخاصة ثم أداء كفارته
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ
مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ④
التحریم ۲

خصوصی حالات میں کھائی گئی قسم توڑ کر
کفارہ ادا کرنے کی اجازت

اللہ نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر
کر دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ اور وہ دانہ (اور)
حکمت والا ہے (2:66)

**HAJJ-I-AKBAR TO-AH
THE GREAT PILGRIMAGE** **یوم حج اکبر 10 جمادی الثانی** **یوم حج اکبر 10 جمادی الثانی**

**NOMADS - BEDOUINS
DESERT ARABS**

الاعراب (البدوین)

حزبانہ بدوین (بنو اسد) (بنو اسد)

**STUBBORNNESS OF DESERT ARABS
TAKING OBLIGATORY ALMS (SOCIAL SECURITY TAX)
AS A FINE OR BURDEN**

المنافقون من الاعراب
الذين يتخذون الانفاق مغرمًا

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھنے
والے منافقین مدینہ (بادیہ نشین عرب)

The Bedouin Arabs are more hard in disbelief and hypocrisy, and more likely to be ignorant of the limits, which Allah has revealed to His messenger. And Allah is Knower, Wise. (9:97)

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَتِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا
حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾
﴿٩ التوبة ٩٧﴾

دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ جو احکام (شریعت) اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف (ہی) نہ ہوں۔ اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (97:9)

And some among the Bedouin Arabs take that which they expend (for the cause of Allah), as a loss (fine), and await (evil) turn of fortune for you (that they may be rid of it). The evil turn of fortune will be theirs. Allah is Hearer, Knower. (9:98)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا
وَيَتْرِكُكُمْ بِالذِّمَّةِ وَيَرْجِعُ إِلَيْكُمْ بِرِثَةِ السُّوءِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾
﴿٩ التوبة ٩٨﴾

اور ان میں سے بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان (جرمانہ) سمجھتے ہیں اور تم مسلمانوں کے لیے برے وقت کے منتظر ہیں۔ انہی پر بری مصیبت (واقع) ہونے والی ہے۔ اور اللہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے (98:9)

And among those around you of the desert Arabs there are hypocrites, and among the townspeople of Al-Madinah (there are some who) persist in hypocrisy, whom you (O Muhammad) know not. We, know them, and We shall chastise them twice; then they will be relegated to a painful doom. (9:101)

وَمِنَ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ
وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى التَّفَاقِ
لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَتَعْلَمُهُمْ مَرَّتَيْنِ
ثُمَّ يَرْدُونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾
﴿٩ التوبة ١٠١﴾

اور آپ کے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں آپ انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم ان کو دوہری سزا دیں گے۔ پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے (101:9)

**PROFESSING OF ISLAM BY BIDOUINS (BANU ASAD)
JUST TO AVAIL CHARITY DURING FAMINE
AND TO ESCAPE FROM PROSECUTION**

إعلان المنافقين (بنو اسد) بإيمانهم للحصول
على الصدقات في عام الجذب أو وقاية
من القتل أو الأسر

بدو منافقین (بنو اسد) کا قحط سالی کی وجہ سے
محض صدقات کی وصولی کی خاطر یا قتل ہونے یا
قیدی ہونے سے بچنے کے لئے اظہار ایمان

**DESERT ARABS NEWLY ENTERED INTO ISLAM
(DURING THE PROCESS OF FIRMNESS
OF BELIEF IN THEIR HEARTS AND MINDS)
WERE SOMEWHAT SHAKY IN THEIR FAITH**

الاعراب الذين أسلموا حالا
ولم يكونوا راسخين في الإيمان

بادیہ نشین جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے
اندر ابھی ایمان پوری طرح راسخ نہ ہو پایا تھا

The desert Arabs say: We believe. Say (to them, O Muhammad): You believe not, but rather say "We submit," for the faith has not yet entered into your hearts. Yet, if you obey Allah and His messenger, Allah will not withhold from you anything of (the reward of) your deeds. Indeed Allah is Forgiving, Merciful. (49:14)

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ
قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَلَنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَكْتُبُكُمْ مِنْ
أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾
﴿٤٩ الحجرات ١٤﴾

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے (بلکہ یوں) کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (14:49)

HANGING BACK AND MAKING EXCUSES OF THE DESERT TRIBES (OF MADINAH VICINITY) TO JOIN PROPHET MUHAMMAD (SAAS) FOR MINOR PILGRIMAGE TO MAKKAH

Those of the desert Arabs who were left behind will tell you: Our possessions and our households occupied us, so ask forgiveness for us! They speak with their tongues that which is not in their hearts. Say: Who can avail you anything against Allah, if He intends you hurt or intends you profit? No, but Allah is ever Aware of what you do. (48:11)

إعلان الرسول ﷺ بالرحيل الى مكة لأداء العمرة - واعتذار المخلفين من الأعراب

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا يَقُولُونَ بِالسِّنِينَ وَمَا كَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نِعْمًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٤٨﴾ الفتح ١١

نبی کریم حضرت محمد ﷺ کا مکہ معظمہ برائے ادا کی عمرہ جانے کا اعلان اور مدینہ کے اطراف کے قبائل کا عذر

دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا آپ ہمارے لئے (اللہ سے) بخش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تم (لوگوں) کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے (کوئی نہیں) بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے (11:48)

CONSOATION BY ALLAH (SW) TO THE HOLY PROPHET MUHAMMAD (SA) ON HIS GRIEF FOR NON-PROFESSING OF ISLAM BY ADOLTERS

Those are the people who have passed away. Theirs is that which they earned, and yours is that which you earn. And you will not be asked of what they used to do. (2:134) (2:141)

And if they believe in the like of that which you believe, then they are rightly guided. But if they turn away, then they are in schism, and Allah will suffice you (for defence) against them. He is the Hearer, the Knower. (2:137)

Say (to the People of the Scripture): You dispute with us concerning Allah when He is our Lord and your Lord as well? We have our actions while you have your actions, and we are loyal to Him. (2:139)

And if they argue with you, (O Muhammad), say: I have surrendered my purpose to Allah and (so have) those who follow me. And say to those who have received the Scripture and those who read not: Have you (too) surrendered? If they surrender, then truly they are rightly guided, and if they turn away, then it is your duty only to convey the message (to them). Allah is Seer of (His) bondmen. (3:20)

قل رسول ﷺ علی عدم ایمان الکفار و تسلية له من عند الله

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ البقرة ١٣٤ ﴿٢﴾ البقرة ١٤١

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢﴾ البقرة ١٣٧

قُلْ أُمَّا جُؤننَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿٢﴾ البقرة ١٣٩

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَقْبَانِ ءَاسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِدْقِ الْعِبَادِ ﴿٣﴾ آل عمران ٢٠

کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی کریم ﷺ کو تعلق اور انہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو تسلی و شفای

یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے اعمال (کا بدلہ ملے گا) اور آپ کو آپ کے اعمال (کا) اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پوچھ پگچھ آپ سے نہیں ہوگی (134:2) (141:2)

تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح آپ ایمان لے آئے ہیں تو ہدایت یاب ہو جائیں۔ اور اگر منہ پھیر لیں (اور نہ مانیں) تو وہ (آپ کے) مخالف ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے (137:2)

(ان سے) کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے اور ہم کو ہمارے اعمال (کا بدلہ ملے گا) اور تم کو تمہارے اعمال (کا) اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں (139:2)

(اے پیغمبر) اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگیں تو کہہ دیں کہ میں اور میرے پیروکار تو اللہ کے فرماں بردار ہو چکے۔ اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی (اللہ کے فرماں بردار بننے اور) اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں اور اگر (آپ کا کہا) نہ مانیں تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ (اپنے) بندوں کو دیکھ رہا ہے (20:3)

Let not their conduct grieve you, who run easily to disbelief, for they injure Allah not at all. It is Allah's will to assign them no portion in the Hereafter, and theirs will be an awful doom. (3:176)

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ الْأَجْعَل لَهُمْ حَقًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان (کی وجہ) سے غم زدہ نہ ہوں۔ یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لئے بڑا عذاب (تیار) ہے (3:176)

O Messenger! Make known that which has been revealed to you from your Lord, for if you do it not, you will not have conveyed His message. Allah will protect you from mankind. Allah guides not the disbelieving folk. (5:67)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

اے پیغمبر جو ارشادات اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ جو آپ پر آپ کے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں (کے شر) سے بچالے گا۔ (67:5)

The duty of the messenger is only to convey (the message). Allah knows what you proclaim and what you hide. (5:99)

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

پیغمبر کے ذمے تو صرف (پیغام اللہ کا) پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے (99:5)

We know well how their talk grieves you, though in truth they deny not you (Muhammad) but evildoers blot out the revelations of Allah. (6:33)

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ لَيَحْزُنُّكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُوبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

ہم کو معلوم ہے کہ ان (کافروں) کی باتیں آپ کو رنج پہنچاتی ہیں (مگر) یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں (33:6)

Messengers indeed have been denied before you, and they were patient under the denial and the persecution till Our succor reached them. There is none to alter the decisions of Allah. Already there has reached you (somewhat) of the signs of the messengers (We sent before). (6:34)

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

اور آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے۔ تو وہ جھٹلائے جانے اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی۔ اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں۔ اور آپ کو پیغمبروں (کے احوال) کی خبریں پہنچ چکی ہیں (تو آپ بھی صبر سے کام لیں) (34:6)

And if their aversion is grievous to you, then, if you can (able to), seek way down into the earth or a ladder to the sky that you may bring them a portent (to convince them)! If Allah had willed, He could have brought them all together to give guidance, so be not you among the ignorant ones (and impatient). (6:35)

وَإِنْ كَانَ كِبْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَاتِّبِعْهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ نَشَاءُ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٥﴾

اور اگر ان کی روگردانی آپ پر گراں گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیں یا آسمان میں سیڑھی (تلاش کریں) پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لائیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا بس آپ ہرگز نادانوں میں نہ ہو جائیے (35:6)

Our people (O Muhammad) have denied it, though it is the Truth. I am not put in charge of you. (6:66)

وَكَذَّبَ بِقَوْمِكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾

اور اس (قرآن) کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں (66:6)

Know that which is inspired in you from your Lord; there is no god except Him; and turn away from the idolaters. (6:106)

إِذْ بَعَثْنَا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾

اور جو حکم آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس آتا ہے اس کی پیروی کریں اس (پروردگار) کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور مشرکوں سے کنارہ کر لیں (106:6)

Had Allah willed, they had not been idolaters. We have not set you as a keeper over them, nor are you responsible for them. (6:107)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا وَمَا أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾
﴿٦ الانعام ١٠٧﴾

اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اور (اے پیغمبر) ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا۔ اور نہ آپ ان کے جوابدہ ہو (6:107)

Say (O Muhammad): O my people! Work according to your power. I (too) am working. Thus you will come to know for which of us will be the happy sequel. Surely the wrongdoers will not be successful (6:135)

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ
إِنَّهُ لَا يُعْلِمُهُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾
﴿٦ الانعام ١٣٥﴾

آپ کہہ دیجئے کہ لوگو! تم اپنی جگہ عمل کے جاؤ میں (اپنی جگہ) عمل کے جاتا ہوں۔ عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں (بہشت) کس کا گھر ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پائیں گے (6:135)

Say: Shall I seek another than Allah for Lord when He is Lord of all things? Each soul earns only on its own account nor does any laden bear another's load. Then to your Lord is your return and He will tell you that wherein you differed. (6:164)

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ ابْنِعُوا رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ
شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا
وَلَا تَنزِرُوا وِزْرَ رَبِّكُمْ وَلَا تَحْمِلُوا
وِزْرَ رَبِّكُمْ مَرَّجِعُكُمْ فَيَتَبَّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾
﴿٦ الانعام ١٦٤﴾

آپ کہہ دیجئے میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں۔ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی (برا) کام کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم (سب) کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا (6:164)

And if you call them to the Guidance, they follow you not. Whether you call them or silent is all one to them. (7:193)

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ
عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾
﴿٧ الاعراف ١٩٣﴾

اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو آپ کا کہنا نہ مانیں آپ کے لئے برابر ہے کہ آپ ان کو بلائیں یا خاموش رہیں (7:193)

My Patron is Allah (alone), who has sent down the Book. He be friends the honourable (7:196)

إِنَّ وَلِيََّ اللَّهَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ
يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾
﴿٧ الاعراف ١٩٦﴾

میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب (برحق) نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست کافی ہے (7:196)

Now, if they turn away (O Muhammad) say: Allah suffices me. There is no god save Him. In Him I have put my trust, and He is Lord of the Tremendous Throne. (9:129)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾
﴿٩ التوبة ١٢٩﴾

پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں (اور نہ مانیں) تو کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے (9:129)

Thus your Lord's Word proves itself to be true with those who act immorally. They do not believe. (10:33)

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ
فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾
﴿١٠ يونس ٣٣﴾

اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے (33:10)

And if they deny you, say: To me is my work, and to you is your work. You are innocent of what I do, and I am innocent of what you do. (10:41)

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلِكُمْ
أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾
﴿١٠ يونس ٤١﴾

اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ مجھے میرے اعمال (کا بدلہ ملے گا) اور تم کو تمہارے اعمال (کا) تم میرے عملوں کے جوابدہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جوابدہ نہیں ہوں (41:10)

And let not their speech grieves you (O Muhammad). Surely power belongs wholly to Allah. He is the Hearer, the Knower. (10:65)

وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾
﴿١٠ يونس ٦٥﴾

اور (اے پیغمبر) ان لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہونا۔ (کیونکہ) عزت سب اللہ ہی کی ہے وہ (سب کچھ) سنتا (اور) جانتا ہے (65:10)

Say: O mankind! Now the Truth from your Lord has come to you. So whosoever is guided, is guided only for (the good of) his soul, and whosoever errs, errs only against himself. And I am not a warden over you. (10:108)

And (O Muhammad) follow that which is inspired in you, and forbear until Allah gives judgement. And He is the Best of Judges. (10:109)

-----My welfare is only in Allah. In Him I trust and to Him I turn (repentant). (11:88) PART

So tread you the straight path as you are commanded, and those who turn (to Allah) with you, and transgress not. He is Seer of what you do. (11:112)

And incline not towards those who do wrong lest the fire touches you. And you have no protecting friends against Allah, and afterward you would not be helped. (11:113)

And say to those who believe not: act according to your power. We (too) are acting. (11:121)

And wait! We (too) are waiting. (11:122)

Whether We let you see something that which We have promised them, or make you die (before its happening), yours is job but conveyance (of the message), Ours the reckoning. (13:40)

Who set some other god along with Allah. But they will come to know. (15:96)

Know that your bosom is at times oppressed by what they say, (15:97)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

﴿١٠٨ یونس﴾

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

﴿١٠٩ یونس﴾

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

﴿٨٨ هود﴾ جزء

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

﴿١١٢ هود﴾

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

﴿١١٣ هود﴾

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ أَعْمَالًا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿١٢١﴾

﴿١٢١ هود﴾

وَأَنْتُمْ رَوَّادُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾

﴿١٢٢ هود﴾

وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

﴿٤٠ الرعد﴾

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

﴿٩٦ الحجر﴾

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

﴿٩٧ الحجر﴾

آپ کہہ دیجئے کہ لوگو! تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آچکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور میں تمہارا جوابدہ نہیں ہوں (108:10)

اور (اے پیغمبر) آپ کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کئے جائیں اور (تکلیفوں پر) صبر کریں۔ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (109:10)

-----اور (اس بارے میں) مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی (کے فضل) سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں (88:11) جزو

سو (اے پیغمبر) جیسا آپ کو حکم ہوتا ہے (اس پر) آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہیں۔ اور حد سے تجاوز نہ کرنا وہ آپ کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے (112:11)

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا۔ نہیں تو تمہیں (دوزخ کی) آگ آ لپیٹے گی اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں اگر تم ظالموں کے طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو (کہیں سے) مدد نہ مل سکے گی (113:11)

اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کئے جاؤ ہم (اپنی جگہ) عمل کئے جاتے ہیں (121:11)

اور (نتیجہ اعمال کا) تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں (122:11)

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں آپ کو دکھائیں (یعنی آپ کے روبرو ان پر نازل کریں) یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں (یعنی آپ کے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں) تو آپ کا کام (ہمارے احکام کا) پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے (40:13)

جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو (ان باتوں کا انجام) معلوم ہو جائے گا (96:15)

اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے (97:15)

Even if you (O Muhammad) desire their right guidance, still Allah assuredly will not guide him who misleads. Such have no helpers. (16:37)

Then, if they turn away, your duty (O Muhammad) is but plain conveyance (of the message). (16:82)

Your Lord is best aware of you. If He wills, He will have mercy on you, or if He wills, He will punish you. We have not sent you (O Muhammad) as a warden over them. (17:54)

And if We willed We could withdraw that which We have revealed to you, then you would find no guardian for you against Us in respect thereof. (17:86)

(It is nothing) except mercy from your Lord. No doubt, His kindness to you is ever great. (17:87)

Say: Allah suffices for a witness between me and you. He is Knower, Seer of His slaves. (17:96)

Yet it may be, if they believe not in this statement, that you (Muhammad) will torment your soul with grief over their footsteps. (18:6)

And recite that which has been revealed to you of the Scripture of your Lord. There is none who can change His Words, and you will find no refuge besides Him. (18:27)

Ta Ha (20:1)

We have not revealed to you (Muhammad) this Qur'an that you should be distressed, (20:2)

But as a reminder to him who fears, (20:3)

Say: Each is awaiting; so await you! You will come to know who are the owners of the path of equity, and who is right. (20:135)

إِنْ تَحْرَضْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾
﴿١٦ النحل ٣٧﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾
﴿١٦ النحل ٨٢﴾

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ رَحْمَتُكُمْ أَوْ أَنْ يَشَاءُ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴿٥٤﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٥٤﴾

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً ﴿٨٦﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٨٦﴾

إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَیْرًا ﴿٨٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٨٧﴾

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٩٦﴾

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾
﴿١٨ الکہف ٦﴾

وَاقْلُ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾
﴿١٨ الکہف ٢٧﴾

اگر آپ ان (کفار) کی ہدایت کے لئے خواہش مند ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا (37:16)

اور اگر یہ لوگ منہ موڑے رہیں تو (اے پیغمبر) آپ کا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے (82:16)

آپ کا پروردگار آپ سے خوب واقف ہے۔ اگر چاہے تو آپ پر رحم کرے یا اگر چاہے تو آپ کو عذاب دے۔ اور ہم نے آپ کو ان کا جوابدہ (بنا کر) نہیں بھیجا۔ (54:17)

اور اگر ہم چاہیں تو جو (کتاب) ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں اسے (دلوں سے) محو کر دیں (بھلا دیں)۔ پھر آپ اس کے لئے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے (86:17)

مگر (اس کا قائم رہنا) آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کچھ شک نہیں کہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے (87:17)

آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ وہی اپنے بندوں سے خبردار (اور ان کو) دیکھنے والا ہے (96:17)

(اے پیغمبر) اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے (6:18)

اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کریں۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور اس کے سوا آپ کہیں پناہ بھی نہیں پائیں گے (27:18)

طه ﴿١﴾

﴿٢٠ طه ١﴾

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿٢﴾
﴿٢٠ طه ٢﴾

(اے محمد) ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ (2:20)

إِلَّا تَذَكَّرَ لَعَلَّكَ تَخْشَىٰ ﴿٣﴾
﴿٢٠ طه ٣﴾

بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لئے (نازل کیا ہے) جو خوف رکھتا ہے (3:20)

قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرْتَبِصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾
﴿٢٠ طه ١٣٥﴾

آپ کہہ دیجئے کہ سب (نتائج اعمال کے) منتظر ہیں سو تم بھی منتظر رہو۔ عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ (دین کے) سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں اور (جنت کی طرف) راہ پانے والے کون ہیں (ہم یا تم) (135:20)

We appointed immortality for no mortal before you. What! If you die, can they be immortal? (21:34)

وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ٣٤﴾

اور (اے پیغمبر) ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی۔ بھلا اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے (34:21)

That He may make that which the devil proposes a temptation for those in whose hearts is a disease, and those whose hearts are hardened, the evildoers are in open schism (22:53)

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾
﴿٢٢ الحج ٥٣﴾

غرض (اس سے) یہ ہے کہ جو (وسوسہ) شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے بے شک ظالم پر لے درجے کی مخالفت میں ہیں (53:22)

And those who have been given knowledge may know that it is the truth from your Lord, so that they may believe therein and their hearts may submit humbly to Him. Allah is guiding those who believe to a right path. (22:54)

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾
﴿٢٢ الحج ٥٤﴾

اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ (یعنی وحی) آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے (54:22)

And if they wrangle with you, say: Allah is best aware of what you do. (22:68)

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾
﴿٢٢ الحج ٦٨﴾

اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل آپ کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے (68:22)

Allah will judge between you on the Day of Resurrection concerning that wherein you used to differ. (22:69)

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾
﴿٢٢ الحج ٦٩﴾

جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ قیامت کے روز ان (سب اختلافات) کا فیصلہ کر دے گا۔ (69:22)

Or do you ask them (O Muhammad) why tribute? But! The bounty of your Lord is better, for He is the best of all who make provision. (23:72)

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَدْ خَيْرٌ بِرَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ﴿٧٢﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٧٢﴾

کیا آپ ان سے (تبلیغ کے صلے میں) کچھ اجرت مانگتے ہیں۔ تو آپ کے پروردگار کی عطا بہت اچھی ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (72:23)

And you summon them indeed to a right path. (23:73)

وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٧٣﴾

اور آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا تے ہیں (73:23)

And those who believe not in the hereafter are indeed astray from the right path. (23:74)

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاكِبُونَ ﴿٧٤﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٧٤﴾

اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے راستے سے الگ ہو رہے ہیں (74:23)

Obey Allah and obey the messenger. But if you turn away, then (it is) for him (to do) only that wherewith he has been charged, and for you (to do) only that wherewith you have been charged. If you obey the messenger, you will go aright. But the messenger has no other charge than to convey (the message), plainly. (24:54)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَآ حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَآ حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾
﴿٢٤ النور ٥٤﴾

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول (اللہ) کے حکم پر چلو۔ اگر منہ موڑو گے تو رسول پر (اس چیز کا ادا کرنا) ہے جو ان کے ذمے ہے اور آپ پر (اس چیز کا ادا کرنا) ہے جو آپ کے ذمے ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے اور رسول کے ذمے تو صاف صاف (احکام اللہ کا) پہنچا دینا ہے (54:24)

I ask you no reward for this, except that whoso will may choose a way to his Lord. (25:57)

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾
﴿٢٥ الفرقان ٥٧﴾

آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس (کام) کی اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف (جانے کا) راستہ اختیار کر لے (57:25)

It may be that you torment yourself (O Muhammad) because they believe not. (26:3)

And lower your wing (in kindness) to those believers who follow you. (26:215)

And if they (your kinsfolk) disobey you, say: I am free (of responsibility) of what you do. (26:216)

And grieve you not for them, nor be in distress because of what they plot (against you). (27:70)

Your Lord will judge between them of His wisdom, and He is the Mighty, the Wise. (27:78)

Therefore (O Muhammad) put your trust in Allah, for you (stand) on the plain Truth. (27:79)

Who will show you His portents so that you shall know them. And your Lord is not unaware of (your morals) what you do. (27:93)

You (O Muhammad) will not be able to guide everyone whom you love, but indeed Allah guides whom He wills. And He is the best Aware of those who walk aright. (28:56)

And let them not divert you from the revelations of Allah after they have been sent down you but call (mankind) to your Lord, and be not of those who ascribe partners (to Him). (28:87)

Say (to them, O Muhammad): Allah suffices for witness between me and you. He knows whatsoever is in the heavens and the earth. And those who believe in vanity and disbelieve in Allah, they it is who are the losers. (29:52)

And whosoever disbelieves, let not his disbelief afflict you (O Muhammad). To Us is their return, and We shall tell them what they did. Allah is Aware of what is in the breasts (of men). (31:23)

لَعَلَّكَ بِاِخْتِافِ نَفْسِكَ اَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٦﴾ الشعراء ٣

وَ اَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ الشعراء ٢١٥

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ الشعراء ٢١٦

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ النمل ٧٠

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ النمل ٧٨

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ النمل ٧٩

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ النمل ٩٣

اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ القصص ٥٦

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ نَزَلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ القصص ٨٧

قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٥٢﴾ العنكبوت ٥٢

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ ۗ اَلَيْسَا مَرْجِعُهُمْ فِندَيْنَا ۗ وَمَا عِندَنَا اِلَّا اللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾ لقمان ٢٣

(اے پیغمبر) شاید آپ اس (رنج) سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنی جان کھودیں گے (3:26)

اور جو مومن آپ کے فرمانبردار ہو گئے ہیں ان سے تواضع کے ساتھ پیش آئیں (215:26)

پھر اگر لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق (بیزار) ہوں (216:26)

اور ان (کے حال) پر غم نہ کریں اور ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل نہ ہوں (70:27)

آپ کا پروردگار (قیامت کے روز) ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب (اور) علم والا ہے (78:27)

تو اللہ پر بھروسہ رکھیں آپ صاف حق پر ہیں (79:27)

اور کہہ دیجئے کہ اللہ کا شکر ہے۔ وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے۔ اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے (93:27)

(اے محمد) آپ جسے چاہیں (ان سب کو) ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے (56:28)

اور وہ آپ کو اللہ کی آیتوں (کی تبلیغ) سے بعد اس کے کہ وہ آپ پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں اور اپنے پروردگار کی طرف بلا تے رہیں اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہوں (87:28)

کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں (52:29)

اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمناک نہ کر دے۔ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتادیں گے بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے (23:31)

We give them comfort for a little, and then We drive them to a heavy doom. (31:24)

نَمَتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَّزَّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظًا ﴿٣١﴾
﴿٣١ لقمان ٢٤﴾

ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے (24:31)

Say: You will not be asked of what we committed, nor shall we be asked of what you do. (34:25)

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُكُمْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾
﴿٣٤ سبأ ٢٥﴾

آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے گناہوں کی تم سے پوچھ گچھ ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی (25:34)

Say: Our Lord will bring us all together, then He will judge between us with truth. He is the all-knowing Judge. (34:26)

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾
﴿٣٤ سبأ ٢٦﴾

آپ کہہ دیجئے ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا (اور) صاحب علم ہے (26:34)

Say: Show me those whom you have joined to Him as partners. No (you dare not)! For He is Allah, the Mighty, the Wise. (34:27)

قُلْ ارُونِي الَّذِينَ ادَّعَيْتُمْ مَعِيَ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٤﴾
﴿٣٤ سبأ ٢٧﴾

آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو ذرا وہ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے ہرگز نہیں بلکہ وہی ہے اللہ زبردست حکمت والا ہے (27:34)

Say: Whatever reward I might have asked you is yours. My reward is the affair of Allah only. He is Witness over all things. (34:47)

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾
﴿٤٧ سبأ ٤٧﴾

آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہے میرا صلہ اللہ ہی کی ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے (47:34)

Say: The Truth has come, and falsehood shows not its face and will not return. (34:49)

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَكَانَ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾
﴿٤٩ سبأ ٤٩﴾

آپ کہہ دیجئے کہ حق آچکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کچھ کر سکے گا (49:34)

Say: If I err, I err only to my own loss, and if I am rightly guided it is because of that which my Lord has revealed to me. He is Hearer, Ever near. (34:50)

قُلْ إِنْ ضَلَّكُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ سبأ ٥٠﴾

آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بچنے (کا وبال) مجھ پر ہی ہے اور اگر ہدایت پر ہوں۔ تو یہ اس کا سبب ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا (اور) نزدیک ہے (50:34)

Those who disbelieve, theirs will be an awful doom; and those who believe and do good works, theirs will be forgiveness and a great reward. (35:7)

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾
﴿٣٥ فاطر ٧﴾

جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے (7:35)

Is he, the evil of whose deeds is made fair seeming to him so that he seems it good, (other than Satan's ruse)? Allah sends whom He wills stray, and guides whom He wills, so let not yourself go around pitying them. Allah is Aware of what they do! (35:8)

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِن يَدْعُنِي لِيُضِلَّنِي فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾
﴿٣٥ فاطر ٨﴾

تو کیا ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھلایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا۔ سو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے تو ان پر افسوس کر کے کہیں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اللہ تعالیٰ کو ان کے سب کاموں کی خبر ہے (8:35)

And if they deny you: Those before whom we have also denied. Their messengers came to them with clear proofs (of Allah's Sovereignty), and with the Qur'an and the Scriptures giving guidance. (35:25)

وَإِنْ يَكْفُرْ بِكَ فَكُفِّرْ بَدَلِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾
﴿٣٥ فاطر ٢٥﴾

اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے (25:35)

Then I seized those who disbelieved, and how intense was My abhorrence! (35:26)

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٣٥﴾
﴿٣٥ فاطر ٢٦﴾

پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا سو (دیکھ لو کہ) میرا عذاب کیسا ہوا (26:35)

Already the word has proved true to most of them, for they believe not. (36:7)

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾
﴿٣٦ یسین ٧﴾

ان میں سے اکثر پر (اللہ کی) بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے (7:36)

And We have set a bar before them and a bar behind them, and (thus) have covered them so that they see not. (36:9)

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾
﴿٣٦ یسین ٩﴾

اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے (9:36)

Whether you warn them or you warn them not, it is alike for them, for they believe not. (36:10)

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾
﴿٣٦ یسین ١٠﴾

اور آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لئے برابر ہے۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے (10:36)

You warned only him who follows the Reminder and fears the Beneficent in secret. To him bear tidings of forgiveness and a rich reward. (36:11)

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾
﴿٣٦ یسین ١١﴾

آپ تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دیں (11:36)

So let not their speech grieve you (O Muhammad). We know what they conceal and what proclaim. (36:76)

فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسْتُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾
﴿٣٦ یسین ٧٦﴾

تو ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کر دیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں (سب) معلوم ہیں (76:36)

Is he on whom the word of doom is fulfilled, (O Muhammad) will you rescue him who is (already) in the Fire? (39:19)

أَقِمْنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾
﴿٣٩ الزمر ١٩﴾

بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا۔ تو کیا آپ اُسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ (19:39)

You are mortal; and they too will die; (39:30)

إِنَّكَ بَشَرٌ مِثْلِهِمْ وَإِنَّهُمْ يَمُوتُونَ ﴿٣٠﴾
﴿٣٩ الزمر ٣٠﴾

(اے پیغمبر) آپ کو بھی موت آئی ہے اور یہ سب بھی مرجائیں گے (30:39)

Then (too) on the Day of Resurrection, before your Lord you will dispute. (39:31)

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾
﴿٣٩ الزمر ٣١﴾

پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے (اور جھگڑے کا فیصلہ کر دیا جائے گا) (31:39)

Say: O my people! Act in your manner. I (too) am acting. Thus you will come to know. (39:39)

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٣٩﴾

آپ کہہ دیجئے کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کئے جاؤ میں (اپنی جگہ) عمل کئے جاتا ہوں۔ عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا (39:39)

Who it is to whom comes a doom that will abase him, and on whom there falls everlasting doom. (39:40)

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾
﴿٣٩ الزمر ٤٠﴾

کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا۔ اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے (40:39)

Then have patience (O Muhammad). The promise of Allah is true. And whether We let you see a part of that which We promise them, or (whether) We cause you to die, still to Us they will be brought back. (40:77)

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَمَّا يُرِيدُكَ
بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّا
مُوجِبُونَ ﴿٧٧﴾
﴿٤٠ المومن ٧٧﴾

تو (اے پیغمبر) آپ صبر کریں اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم آپ کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں (یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں) یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے (77:40)

And as for those who choose protecting friends besides Him, Allah is Warden over them, and you are in no wise a guardian over them. (42:6)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ
عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾
﴿٤٢ الشورى ٦﴾

اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب آگاہ ہے آپ ان کے جواب دہ نہیں ہیں (6:42)

And in whatsoever you differ, the verdict therein belongs to Allah. Such is my Lord, in Whom I put my trust, and to Whom I turn. (42:10)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى
اللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
أُنِيبُ ﴿١٠﴾
﴿٤٢ الشورى ١٠﴾

اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف (سے ہوگا) یہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں (10:42)

To this, then, summon (O Muhammad). And be you upright as you are commanded, and follow not their lusts, but say: I believe in whatever Scripture Allah has sent down, and I am commanded to be just among you. Allah is our Lord and your Lord. To us our works and to you your works; no argument between us and you. Allah will bring us together, and to Him is our final goal. (42:15)

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا
أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾
﴿٤٢ الشورى ١٥﴾

تو (اے محمد) اسی (دین کی) طرف (لوگوں کو) بلا تے رہیں اور جیسا آپ کو حکم ہوا ہے (اسی پر) قائم رہیں۔ اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ اور کہہ دیں کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے اعمال (کا بدلہ ملے گا) اور تم کو تمہارے اعمال (کا) ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں اللہ ہم (سب) کو اکٹھا کرے گا۔ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (15:42)

Or say they: He has invented a lie concerning Allah? If Allah willed, He could have sealed your heart against them). And Allah will wipe out the lie and will vindicate the truth by His words. He is Aware of what is hidden in the breasts (of mankind). (42:24)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن
يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَكْفُرُ اللَّهُ
الْبَاطِلَ وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ يَكَلِّمُ مَن يَشَاءُ
مِمَّن يَشَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٤﴾
﴿٤٢ الشورى ٢٤﴾

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو (اے محمد) آپ کے دل پر (ان کے لئے) مہر لگا دیتا۔ اور اللہ باطل کو مٹاتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے (24:42)

Can you (Muhammad) make the deaf to hear, or cannot you guide the blind or him who is in error manifest? (43:40)

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ
كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾
﴿٤٣ الزخرف ٤٠﴾

کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں اور جو صاف گمراہی میں ہو اسے (راہ پر لاسکتے ہیں) (40:43)

And if We take you away, We surely shall take vengeance on them; (43:41)

فَأَمَّا نَذْرٌ هَبْنِ بِكَ فَإِنَّا مَنَّهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾
﴿٤٣ الزخرف ٤١﴾

اگر ہم آپ کو (یہاں سے لے جائیں) اٹھالیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے (41:43)

(if) We show you that wherewith We threaten them; for We have complete command of them. (43:42)

أَوْ تُرِيدُكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ
مُقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾
﴿٤٣ الزخرف ٤٢﴾

یا آپ کو وہ دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں (42:43)

So hold you fast to that which is inspired in you. You are on a right path. (43:43)

فَأَسْمِكُ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ٤٣﴾

پس آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہیں بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں (43:43)

And it is in truth a Reminder for you and for your folk; and you (mankind) will be questioned. (43:44)

وَإِنَّكَ لَنذَكُورٌ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾
﴿٤٣ الزخرف ٤٤﴾

اور یہ (قرآن) آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے نصیحت ہے اور (لوگو) تم سے عنقریب پرش ہوگی (44:43)

And he says: O my Lord! Those are a folk who believe not. (43:88)

وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾
﴿٤٣ الزخرف ٨٨﴾

اور (بسا اوقات) پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے (88:43)

Then bear with them (O Muhammad) and say: Peace. But they will soon come to know. (43:89)

فَاصْفِرْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾
﴿٤٣ الزخرف ٨٩﴾

پس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں (بھائی) سلام۔ ان کو عنقریب (انجام) معلوم ہو جائے گا (89:43)

Wait then (O Muhammad). They (too) are waiting. (44:59)

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٤٤ الدخان ٥٩﴾

پس آپ بھی انتظار کریں یہ بھی انتظار کر رہے ہیں (59:44)

Say: I am no new thing among the messengers (of Allah), nor know I what will be done with me or with you. I do but follow that which is inspired in me, and I am but a plain warner. (46:9)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعِمِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٩﴾

آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا۔ اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا (کیا جائے گا) میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے (9:46)

Then have patience (O Muhammad) even as the stout of heart among the messengers (of old) had patience, and seek not to hasten on the doom for them. On the day when they see that which they are promised (it will seem to them) as though they had tarried but an hour of daylight. A clear message. Shall any be destroyed save evil living folk? (46:35)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يُومَرُ بِرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُتُوا إِلَّا السَّاعَةَ مِنْ نَحَارِ بَلْعَةٍ فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٣٥﴾

پس (اے محمدؐ) جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح آپ بھی صبر کریں اور ان کے لئے (عذاب) جلدی نہ مانگیں۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو (خیال کریں گے کہ) گویا (دنیا میں) رہے ہی نہ تھے مگر ایک گھڑی (یہ قرآن) پیغام ہے۔ سو (اب) وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے (35:46)

We are best Aware of what they say, and you (O Muhammad) are in no way a compeller over them. But warn by the Qur'an him who fears My threat. (50:45)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾
﴿٥٠ ق ٤٥﴾

یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں۔ پس جو میرے (عذاب کی) وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہیں (45:50)

And set not any other god along with Allah; I am a plain warner to you from Him. (51:51)

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ٥١﴾

اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ میں اس کی طرف سے تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں (51:51)

Have they handed down (the saying) as an heirloom to one another? But they are froward folk. (51:53)

أَتَوْا صَوَابَهُمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٥١ الذریت ٥٣﴾

کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں (53:51)

So withdraw from them (O Muhammad), for you are in no way blameworthy, (51:54)

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾
﴿٥١ الذریت ٥٤﴾

تو آپ ان سے منہ پھریں آپ کو (ہماری طرف سے) کوئی ملامت نہیں (54:51)

And warn, for warning profits believers. (51:55)

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾
﴿٥١ الذریت ٥٥﴾

اور نصیحت کرتے رہیں کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے (55:51)

Say (to them): Expect (your fill)! For I am with you among the expectant. (52:31)

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمْتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾
﴿٥٢ الطور ٣١﴾

آپ کہہ دیجئے کہ انتظار کئے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں (31:52)

Do their minds command them to do this, or are they an outrageous folk? (52:32)

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَائِفُونَ ﴿٣٢﴾
﴿٥٢ الطور ٣٢﴾

کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر (32:52)

And surely there has come to them news whereof the purport should deter, (54:4)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾
﴿٥٤ القمر ٤﴾

اور ان کو ایسے حالات (ساقین) پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے (4:54)

Effective wisdom; but warnings avail not, (54:5)

حِكْمَةٌ بِالْغَيْثِ فَمَا تُغْنِ التُّدْرُؤُ ﴿٥﴾
﴿٥٤ القمر ٥﴾

اور کامل دانائی (کی کتاب بھی) لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا (5:54)

So withdraw from them (O Muhammad) on the Day when the summoner summons to a painful thing. (54:6)

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ مُّشْكِرٌ ﴿٦﴾
﴿٥٤ القمر ٦﴾

تو آپ بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کریں جس دن بلائے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا (6:54)

Say (O Muhammad): Have you thought: Whether Allah causes me to perish or has mercy on us, still, who will protect the disbelievers from a painful doom? (67:28)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿٢٨﴾
﴿٦٧ الملك ٢٨﴾

آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے۔ تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ (28:67)

Say: He is the Beneficent. In Him we believe and in Him we put our trust. And you will soon know who is that is in error manifest. (67:29)

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾
﴿٦٧ الملك ٢٩﴾

آپ کہہ دیجئے کہ وہ (جو اللہ) رحمن (ہے) ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑ رہا تھا (29:67)

Therefore obey not you the rejecters (68:8)

فَلَا تَطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾
﴿٦٨ القلم ٨﴾

تو آپ جھٹلانے والوں کا کمانہ مانیں (8:68)

Who would have had you unpromise, that they may unpromise. (68:9)

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾
﴿٦٨ القلم ٩﴾

یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو یہ بھی نرم ہو جائیں (9:68)

Do you (Muhammad) ask a fee from them so that they are heavily laden? (68:46)

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾
﴿٦٨ القلم ٤٦﴾

کیا آپ ان سے کچھ اجر مانگتے ہیں کہ ان پر تادان کا بوجھ پڑ رہا ہے (46:68)

Is the Unseen theirs that they can date (thereof)? (68:47)

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾
﴿٦٨ القلم ٤٧﴾

یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ (اسے) لکھتے جاتے ہیں (47:68)

Be patient (O Muhammad) with patience fair to see. (70:5)

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾
﴿٧٠ المعارج ٥﴾

(تو آپ کافروں کی باتوں کو) حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہیں (5:70)

So let them chat and play until they meet their Day which they are promised, (70:42)

فَذَرَهُمْ خَوْضًا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾
﴿٧٠ المعارج ٤٢﴾

تو (اے پیغمبر) ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دیں یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو (42:70)

(Mine is) but conveyance (of the truth) from Allah, and His messages; and whoso disobeys Allah and His messenger, his is fire of hell, wherein such dwell forever- (72:23)

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾
﴿٧٢ الجن ٢٣﴾

ہاں اللہ کی طرف سے (احکام کا) اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا (ہی میرے ذمے ہے) اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسے لوگوں کے لئے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے (23:72)

And bear with patience what they utter, and part from them with a fair leave-taking. (73:10)

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾
﴿٧٣ المزمل ١٠﴾

اور جو جو (دل آزار) باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہیں اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہیں (10:73)

Remind them, for you are but a remembrancer, (88:21)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
﴿٨٨ الغاشية ٢١﴾

تو آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں (21:88)

You are not at all a warden over them. (not one to manage (their) affairs) (88:22)

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾
﴿٨٨ الغاشية ٢٢﴾

آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں (22:88)

By the morning hours (93:1)

وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾

آفتاب کی روشنی کی قسم (1:93)

And by the night when it is stillest. (93:2)

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾
﴿٩٣ الضحى ٢﴾

اور رات (کی تاریکی) کی جب چھا جائے (2:93)

Your Lord has not forsaken you nor does He hate you, (93:3)

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾
﴿٩٣ الضحى ٣﴾

(اے محمدؐ) آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ (آپ سے) ناراض ہوا (3:93)

And the latter portion will be better for you than the former, (93:4)

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾
﴿٩٣ الضحى ٤﴾

پور آخرت آپ کے لئے پہلی (حالت یعنی دنیا) سے کہیں بہتر ہے (4:93)

And your Lord will give to you so that you will be content. (93:5)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾
﴿٩٣ الضحى ٥﴾

اور آپ پر پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے (5:93)

Did He not find you an orphan and given you shelter (protected you)? (93:6)

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾
﴿٩٣ الضحى ٦﴾

بھلا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی (بیشک دی) (6:93)

And He found you lost on the way and guided (you)? (93:7)

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾
﴿٩٣ الضحى ٧﴾

اور راستے سے بے خبر دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا (7:93)

And He found you destitute (in need) and enriched (you)? (Made you independent - Given you sufficiency) (93:8)

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾
﴿٩٣ الضحى ٨﴾

اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا (8:93)

More Reference :	2:5,119	4:80,81	5:92
Page	275,168	173,745	171
8:64	10:33	16:127	25:31
303	731	557	203
39:41	41:6,7	42:48	48:1 to 3
208	133,270	408	713
79:45	94:1 to 5	108:3	
783	165,371	186	

والمزید راجع	٢ البقرة: ١١٩، ٥	٤ النساء: ٨١، ٨٠
٥ المائدة: ٩٢	٨ الأنفال: ٦٤	١٠ یونس: ٣٣
١٦ النحل: ١٢٧	٢٥ الفرقان: ٣١	٣٣ الأحزاب: ١٠
٣٩ الزمر: ٤١	٤١ حم السجدة (صلت): ٧، ٦	٤٢ الشوری: ٤٨
٤٨ الفتح: ٣٥١	٦٤ التغابن: ١٢	٧٩ النازعات: ٤٥
٩٤ الشرح: ٥٥١	١٠٨ الكوثر: ٣	

مزید حوالہ	92: 5	81,80: 4	119.5: 2
صفحہ	171	173,745	275,168
10: 33	31: 25	127: 16	33: 10
712	203	557	731
12: 64	3: 1: 48	48: 42	7,6: 41
172	713	408	133,270
	3: 108	5: 1: 94	45: 79
	186	165,371	783

SECRET INTRIGUES AND PLOTS OF IDOLATERS OF MAKKAH, HYPOCRITES AND JEWS OF MADINAH

شُرور قریش و المنافقین فی المکہ و اليهود فی المدینہ و مکائدہم

قریش مکہ و منافقین اور یہود مدینہ کی شرارتیں اور مشورے

ALLAH (SWT) HAS EVER PROTECTED PROPHET MUHAMMAD (SAAS) AGAINST THE INTRIGUES OF CONSPIRATORS

O you who believe! Remember Allah's favour to you, how people were minded to stretch out their hands against you but He withheld their hands from you; and keep your duty to Allah. In Allah let believers put their trust. (5:11)

اطلاع اللہ تعالیٰ نبیۃ علی کید الکافرین مقدماً

اللہ تعالیٰ کا آنحضرت محمد ﷺ کو پیش از وقت کفار کی سازش سے آگاہ کرنا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾
﴿٥ المائدة ١١﴾

اے ایمان والو! اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ آپ پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیئے اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے (11:5)

MALICIOUS PROPOSAL OF DISBELIEVERS TO PROPHET MUHAMMAD (SAAS) TO CHANGE THE QURANIC MESSAGE ACCORDING TO THEIR FANCIES

And when Our clear revelations are recited to them they who do not expect to meet Us say: Bring some other reading than this, or change it. Say (O Muhammad): It is not for me to change it of my own accord. I only follow that which is inspired in me. If I disobey my Lord I fear the retribution of an awful Day. (10:15)

اقتراح المشركين للنبي الكريم بتعديل القرآن بموجب أهوائهم

مشکین کا رسول کریم ﷺ کو قرآن کریم میں (ان کی حسب خواہش) ترمیم کا مشورہ دینے کی چال

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انَّمَا يَنْتَهِزُونَ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ أَفَلَا يَتَّقُونَ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقَّأِي نَفْسِي إِنْ أَكْبِرُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾
﴿١٠ يونس ١٥﴾

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ (یا تو) اس کے سوا کوئی اور قرآن (بنا) لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے (سخت) دن کے عذاب سے خوف آتا ہے (15:10)

PLOT OF ENEMIES TO BANISH THE HOLY PROPHET (SAAS) FROM MAKKAH

And they indeed wished to scare you from the land that they might drive you forth from there, and then they would have stayed (there) but a while after you. (17:76)

کید قریش لإخراج النبی ﷺ من مکة

قریش مکہ کی نبی کریم حضرت محمد ﷺ کو مکہ سے نکالنے کی سازش

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذْ لَا يَلْبِتُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٧٦﴾

یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین (مکہ) سے اکھاڑنے ہی لگے تھے تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیں۔ پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہرتے (76:17)

MEDITATION OF HYPOCRITES DURING NIGHTS

And they say: (It is) obedience; but when they have gone forth from you a party of them spend the night in plotting other than what you say. Allah records what they plan by night. So oppose them and put your trust in Allah. Allah is sufficient as a Trustee. (4:81)

مؤامرات المنافقین السریة لیلاً

منافقین کے راتوں کو خفیہ مشورے

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾
﴿٤ النساء ٨١﴾

اور یہ لوگ منہ سے کہتے ہیں کہ (آپ کی) فرمانبرداری (دل سے منظور) ہے لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے۔ تو ان کا کچھ خیال نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور خدا ہی کافی کارساز ہے (81:4)

BACKBITING OF HYPOCRITES ABOUT PROPHET MUHAMMAD (SAAS)

إساءة المنافقين قولاً للنبي الكريم ﷺ وانحرافهم عن قولهم عند المحاسبة

منافقین کا آپ ﷺ کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کرنا اور استفسار پر مکر جانا

ALLAH (SWT) SAFEGUARDED THE PROPHET MUHAMMAD (SAAS) FROM THE ENEMIES PLOT OF ATTACKING ON HIS RETURN JOURNEY FROM TABUK EXPEDITION

تعاقب المنافقين للرسول ﷺ في شعب عند عودته من سفر تبوك وحفظه من الله بانزال الوحي

تبوک سے واپسی کے سفر میں منافقین کا ایک گھائی میں نبی کریم محمد ﷺ کا تعاقب کرنا اور وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا آپ کی حفاظت کرنا

MOCKING AT BELIEVERS BY ARROGANT HYPOCRITES AFTER BECOMING WELLOFF DUE TO SOCIAL UPLIFT OF MADINAH (CONSEQUENT OF HIJRAT)

أقاول المنافقين غرورا بشأن المسلمين عند ما صلح اقتصاد المجتمع بعد الهجرة

حجرت مدینہ کے بعد معاشی خوش حالی سے مغرور ہو کر منافقین کا مسلمانوں پر باتیں بنانا

They swear by Allah that they said nothing (wrong), yet they did say the word of disbelief, and did disbelieve after their Surrender (to Allah). And they purposed that which they could not attain, and they sought revenge only that Allah by His messenger should enrich them of His bounty. If they repent it will be better for them; and if they turn away, Allah will afflict them with a painful doom in the world and the Hereafter, and they have neither protecting friend nor helper in the earth. (9:74)

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے (تو کچھ) نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ان کی زبان سے نکل چکا ہے جس کو پورا نہیں کر سکے۔ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے (اپنی مربانی سے) دولت مند کر دیا۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ ان کو دنیا میں آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا (9:74)

ANNOYING THE HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS) BY HYPOCRITES WITH PETTY PROVOCATIONS

ثرثرة المنافقين بشأن ذات النبي الكريم ﷺ

منافقین کی نبی کریم حضرت محمد ﷺ کی شان میں ہرزہ سرائی

And of them are those who vex the Prophet and say: He is all hearing. Say: he listens to what is best for you, who believes in Allah and is true to the believers, and a mercy for such of you as believe. Those who vex the messenger of Allah, for them there is a grievous chastisement. (9:61)

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أذُنٌ قُلٌّ أذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يَا اللَّهُ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کان کا کچا ہے (ان سے) کہہ دو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لئے ایسا ہے وہ اللہ کا اور مومنوں (کی بات) کا یقین رکھتا ہے۔ اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لئے رحمت ہے اور جو لوگ رسول اللہ کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لئے عذاب الیم (تیار) ہے (9:61)

THE ROLE OF ABDULLAH IBN UBAI (THE LEADER OF HYPOCRITES OF MADINAH) DURING THE COURSE OF THE EXPEDITION AGAINST BANU AL MUSTALIQ TRIBE

موقف عبدالله بن أبي رئيس المنافقين عند غزوة المريسيع

غزوة مریسيع میں منافق عبد اللہ بن ابی کا کردار

They it is who say: Spend not on behalf of those (who dwell) with Allah's messenger that they may disperse (and go away from you); when Allah's are the treasures of the heavens and the earth; but the hypocrites comprehend not. (63:7)

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَيَلَّوْا وَكَرَّوْا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾

یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس (رہتے) ہیں ان پر (کچھ) خرچ نہ کرو۔ یہاں تک کہ یہ (خود خود) بھاگ جائیں۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق نہیں سمجھتے (7:63)

**ATTENDING OF ASSEMBLIES OF MUSLIMS
BY HYPOCRITES PRETENDING TO CARP
THE THINGS TO CREATE FURTHER DOUBTS**

Among them are some who give ear to you (Muhammad) till, when they go forth from your presence, they say to those who have been given knowledge: What was that he said just now? Those are they whose hearts Allah has sealed, and they follow their own lusts. (47:16)

مکاید المنافقین المتجسّسة

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿٤٧﴾
﴿٤٧ محمد ١٦﴾

منافقین کی جاسوسانہ چالیں دین اسلام کی عیب جوئی کے لیے مسلمانوں سے میل جول رکھا

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ (سب کچھ سنتے ہیں لیکن) جب آپ کے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم (دین) دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ (بھلا) انہوں نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں (16:47)

**JEWS TRIED TO KEEP BACK ANY KNOWLEDGE
OF TORAH FROM MUSLIMS, LEST THEY
SHOULD BE BEATEN BY THEIR ARGUMENTS
(REGARDING MUHAMMAD)(SAAS)**

And when they fall in with those who believe, they say: We believe. But when they go apart one with another they say: Will you report something to them of that which Allah has disclosed to you so that they may dispute with you before your Lord concerning it? Have you then no sense? (2:76)

**کتمان اليهود آیات التوراة
التي كانت تدل على رسالة محمد ﷺ**

وَإِذَا لقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَنُحَدِّثُوكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾
﴿٢ البقرة ٧٦﴾

یہود کا ایسے احکامات تورات کو مسلمانوں سے چھپانا جن سے رسالت حضرت محمد ﷺ کی صداقت ثابت ہو جائے

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمان داری ظاہر کرتے ہیں۔ اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان مسلمانوں کو کس لئے بتائے دیتے ہو کہ (قیامت کے دن) اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم سے ان کی حجت ہو جائیگی۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ (76:2)

Are they then unaware that Allah knows that which they keep hidden and that which they proclaim? (2:77)

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَكَانَ يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾
﴿٢ البقرة ٧٧﴾

کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ کو (سب) معلوم ہے (77:2)

**USING AMBIGUOUS WORDS BY JEWS
BY A LITTLE TWIST TO SUGGEST
SOME INSULTING MEANING TO
THE HOLY PROPHET MUHAMMAD (SAAS)**

You who believe, say not (to the prophet): "Listen to us" but say "look upon us," and be you listeners. For disbelievers is a painful doom. (2:104)

**إظهار اليهود عنادهم للنبي الكريم
محمد ﷺ بتغير الألفاظ**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾
﴿٢ البقرة ١٠٤﴾

یہود کا الفاظ کے ہیر پھیر کے ذریعہ نبی کریم حضرت محمد ﷺ سے اپنے عناد کا اظہار

اے اہل ایمان (گفتگو کے وقت نبی اللہ سے) راعنا نہ کہا کرو۔ بلکہ انظرنا کہا کرو یعنی ہماری طرف دیکھئے اور خوب سن رکھو اور کافروں کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے (104:2)

**PUTTING IMPERTINENT
AND DISINGENUOUS QUESTIONS
BY JEWS TO THEIR PROPHETS**

Would you question your messenger, as Moses was questioned aforetime? He who disbelieves instead of faith, he has gone astray from a plain road. (108)

**سؤال اليهود رسولهم تمرداً
من غير حاجة**

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلُوا مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾
﴿٢ البقرة ١٠٨﴾

یہود کا اپنے پیغمبروں سے ازراہ سرکشی غیر ضروری سوالات کرنا

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کئے گئے تھے۔ اور جس شخص نے ایمان (چھوڑ کر اس) کے بدلے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا (108:2)

ABOMINABLE PLOTS OF JEWS OF MADINAH

Have you not seen how those who have received the Scripture invoke the Scripture of Allah (in their disputes) that it may judge between them; then a faction of them turn away, being opposed (to it)? (3:23)

مؤامرات یہود المدینۃ القدرۃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾
﴿٣ آل عمران ٢٣﴾

یہود مدینہ کی مکروہ سازشیں

جسلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب اللہ سے ایک حصہ آیا گیا اور وہ (اس) کتاب اللہ (یعنی تورات) کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ (ان کے تنازعات کا) ان میں فیصلہ کر دے تو پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھرتی ہے (23:3)

JEWS SCHEME OF ASKING THEIR ACCOMPLICE TO JOIN ISLAM TEMPORARILY AND THEN TO REPUDIATE

And a party of the People of the Scripture say: Believe in that which has been revealed, to those who believe at the opening of the day, and disbelieve at the end thereof, in order that they may turn back; (3:72)

مکر الیہود نحو الإسلام لتنفیر الناس منه

وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَّهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا أَخْرَجَهُمُ لَعْنَهُمْ يُرْجَعُونَ ﴿٧٢﴾
﴿٣ آل عمران ٧٢﴾

لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لئے یہود کا مکر

وہ اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو (کتاب) مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ (اسلام سے دور) برگشتہ ہو جائیں (72:3)

ESCHEWING OF ISLAMIC JURISPRUDENCE BY HYPOCRITES AND APPROACHING THE RABBIS FOR THEIR DECISIONS

Have you not seen those who pretend that they believe in that which is revealed to you and that which was revealed before you, how they would go for judgement (in their disputes) to false deities when they have been ordered to abjure them? Satan would mislead them far astray. (4:60)

إعراض المنافقين عن القرآن و السنة وتحاكمهم إلى الطاغوت

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾
﴿٤ النساء ٦٠﴾

منافقین مدینہ کا قرآن و سنت نبوی سے اعراض اور سرداران یہود سے فیصلے کرانا

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو (کتاب) تم پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک غیر اللہ کے پاس جا کر فیصلہ کرائیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں اور شیطان (تو یہ) چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا کر راستے سے دور کر دے (60:4)

And when it is said to them: Come to that which Allah has revealed and to the messenger, you see the hypocrites turn from you with aversion. (4:61)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾
﴿٤ النساء ٦١﴾

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف (رجوع کرو) اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ آپ سے منہ پھیر کر اور ر کے جاتے ہیں (61:4)

How would it be if a misfortune smites them because of that which their own hands have sent before (them)? Then they come to you, swearing by Allah that they were seeking nothing but harmony and kindness. (4:62)

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِن أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾
﴿٤ النساء ٦٢﴾

تو کیسی (ندامت کی) بات ہے کہ جب ان کے اعمال (کی شامت) سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ملاپ (بھائی چارہ) تھا (62:4)

Those are they, the secret of whose hearts Allah knows. So oppose them and admonish them, and address them in plain terms about their souls. (4:63)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾
﴿٤ النساء ٦٣﴾

ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو (خوب) جانتا ہے۔ آپ ان کی (باتوں) کا کچھ خیال نہ کریں۔ اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی باتیں کہیں جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں (63:4)

BRINGING THE CASE FOR DECISION BEFORE PROPHET MUHAMMAD (SAAS) REGARDING ONE JEWISH COUPLE CONVICTED OF ADULTERY WITH A PLOT OF SNATCHING FAVOURABLE DECISION

تحریف الیہود فی حکم التوراة
برجم الزانی و مؤامرتهم باستبدالہ
من جلد المجرم

شادی شدہ یہودی زانیوں (مرد اور عورت) کا
مقدمہ نبی کریم ﷺ کے پاس (اپنی مرضی کا فیصلہ
حاصل کرنے کی سازش کے تحت) لانا

PLOTTING TO REDUCE THE PUNISHMENT OF ADULTERY TO WHIPPING (LASHING) INSTEAD OF STONING TO DEATH AGAINST THE COMMANDMENTS OF TORAH

مؤامرة الیہود فی تبدیل عقوبة
الرجم الی جلد الزانی و لزانیة
خلافًا لحکم التوراة

یہود کی کتاب تورات میں رجم زانی کے حکم میں تحریف
اور اس کے بدلے کوڑے مارنے تک محدود
کرنے کی سازش

APPROACHING OF JEWISH TRIBES TO PROPHET MUHAMMAD (SAAS) FOR THEIR DECISION ON A CONFLICT OF RETRIBUTION

قضية الیہود بشأن دية المقتول
بمائة وسق

یہود کا مقتول کی دیت سو (100)
وسق کا معاملہ نبی کریم ﷺ کے پاس لانا

O Messenger! Let not them grieve you who vie one with another in the race to disbelief, of such as say with their mouths: "We believe," but their hearts believe not, and of the Jews: listeners for the sake of falsehood, listeners on behalf of other folk who come not to you, changing words from their context and saying: If this be given to you, we receive it but if this be not given to you, then beware! He whom Allah blooms to sin, you (by your efforts) will avail him nothing against Allah. Those are they for whom the will of Allah is that He cleans not their hearts. Theirs in the world will be ignominy, and in the Hereafter an awful doom; (5:41)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِمَا آمَنَّا بِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَ سَمِعُوا لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهَا يَقُولُونَ إِنِ أُوْتِينَا هَذَا فَخَدُّهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذُرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ أَلَيْهِ شَيْءٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں (کچھ تو) ان میں سے وہ (ہیں) جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں اور (کچھ) ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں یہ غلط باتیں بنانے کے لئے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں (کے بہکانے) کے لئے جاسوس بنتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے (صحیح) باتوں کو ان کے مقامات (میں ثابت ہونے) کے بعد بدل دیتے ہیں اور (لوگوں سے) کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی (حکم) ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو (اس سے) پرہیز کرنا اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لئے آپ کچھ بھی اللہ سے (ہدایت کا) اختیار نہیں رکھتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا ان کے لئے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے (41:5)

How come they to you for judgement when they have the Torah, wherein Allah has delivered judgement (for them)? Yet even after that they turn away. Such (folk) are not believers. (5:43)

وَ كَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

اور یہ آپ سے (اپنے مقدمات) کیوں کر فیصلہ کرائیں گے۔ جب کہ خود ان کے پاس تورات (موجود) ہے جس میں اللہ کا حکم (لکھا ہوا) ہے (یہ اسے جانتے ہیں) پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے (43:5)

No doubt We did reveal the Torah, wherein is guidance and a light, by which the Prophets who surrendered (to Allah) judged the Jews, and the rabbis and the priests (judged) by such of Allah's scripture as they were bidden to serve, and thereto were they witnesses----- (5:44)

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرِّبَايُونُ وَ الْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْكُمْ شُهَدَاءً ﴿٤٤﴾

بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اسی کے مطابق انبیاء جو (اللہ کے) فرمانبردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں۔ اور مشائخ اور علماء بھی کیوں کہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کئے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے (یعنی حکم الہی پر یقین رکھتے تھے)۔----- (44:5)

**BLASPHEMOUS TAUNT OF JEWS
ON ORDAINMENT OF CHARITY
(MANDATORY ALMS)**

The Jews say: Allah's hand is fettered. Their hands are fettered and they are accursed for saying so. No, but both His hands are spread out wide in bounty. He bestows as He wills. That which has been revealed to you from your Lord is certain to increase the contumacy and disbelief of many of them, and We have cast among them enmity and hatred till the Day of Resurrection. As often as they light a fire for war, Allah extinguishes it. Their effort is for corruption in the land, and Allah loves not corrupters. (5:64)

استهزاء اليهود بأمر الإنفاق
في سبيل الله

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ
وُلِعُوا بِمَآقِلِهِمْ وَإِلَىٰ أَيْدِيهِمْ مَبْسُوتَاتٌ يُنْفِقُونَ
كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَيْدَهُمْ مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَاءِ بَيْنَهُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا
أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعُونَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُبْسِدِينَ ﴿٥٤﴾
﴿٥٤ المائدة ٦٤﴾

حکم خیرات (انفاق فی سبیل اللہ)
کے نزول پر یہود کا استہزاء

اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ (گردن سے) بندھا ہوا ہے (یعنی اللہ علیل ہے) انہیں کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور (اے محمدؐ) یہ (کتاب) جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور کفر اور بڑھے گا۔ اور ہم نے ان کے باہم دشمنی اور بغض قیامت تک کے لئے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لئے آگ جلاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہ ملک میں فساد کے لئے دوڑتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا (64:5)

More Reference : 3:181 Page 273

**SCHEME OF JEWS AND HYPOCRITES
OF MADINAH TO CREATE DISRUPTION
IN MUSLIM BROTHERHOOD**

Have you not observed those who were forbidden conspiracy and afterward returned to that which they had been forbidden, and (now) conspire together for crime and wrongdoing and disobedience towards the messenger? And when they come to you they greet you with a greeting wherewith Allah greets you not, and say within themselves: Why does not Allah punish us for what we say? Hell will suffice them; they will feel the heat thereof. A hapless journey's end! (58:8)

والمزید راجع ٣ آل عمران: ١٨١ الصفحة ٢٧٣

نجوی یہود المدینہ و المنافقین
لإحداث سوء التفاهم

الْمَرْتَرِ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِاللَّيْلِ
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ
حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ
فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ
حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَنْسُ الْبَصِيرُ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ المجادلة ٨﴾

مزید حوالہ 181:3 صفحہ 273

مدینہ کے یہودی اور منافقین کی غلط فہمی
پیدا کرنے کے لئے سرگوشیاں

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر جس (کام) سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے اور یہ تو گناہ اور ظلم اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جس (کلمے) سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی اس سے آپ کو سلام کرتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ (اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو) جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا۔ (اے پیغمبر) ان کو دوزخ (ہی کی سزا) کافی ہے۔ یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے (8:58)

HYPOCRITES

المنافقون

منافقین

And of mankind are some who say: We believe in Allah and the Last Day, when they believe not. (2:8)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٨﴾

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور
روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں
رکھتے (8:2)

In their hearts is a disease, and Allah increases their disease. A painful doom is theirs because they lie. (2:10)

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾

ان کے دلوں میں (کفر کا) مرض تھا اللہ نے ان کا
مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے
سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا (10:2)

And when it is said to them: Make not mischief in the earth, they say: We are peacemakers only. (2:11)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا
إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو
کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں (11:2)

Are not they indeed the mischief-makers? But they perceive not. (2:12)

أَلَا أَنَّهُمْ هُمُ الْفٰسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

دیکھو یہ بلاشبہ فساد ڈالنے والے ہیں لیکن خبر نہیں
رکھتے (12:2)

And when it is said to them: Believe as the people believe, they say: Shall we believe as the foolish believe? Are not they indeed the foolish? But they know not. (2:13)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا
أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ
ایمان لے آئے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو
کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے
ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں سن لو کہ یہی بے
وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے (13:2)

And when they fall in with those who believe, they say: We believe; but when they go apart to their evils they declare: we are with you; we did but mock. (2:14)

وَإِذَا الْغَوَاةُ زَلَّتْ وَوَالُوا إِلَىٰ مَن ظَلَمُوا
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٤﴾

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے کہ ہم ایمان
لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطان (اپنے لوگوں) کے
پاس جاتے ہیں تو (ان سے) کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ
ہیں اور ہم تو ان سے صرف مذاق کیا کرتے ہیں (14:2)

Allah (Himself) does mock them, leaving them to wander blindly on in their contumacy. (2:15)

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

ان (منافقوں) سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دینے
جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں (15:2)

These are they who purchase error at the price of guidance, so their commerce does not prosper, neither are they guided. (2:16)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى
فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی
خریدی تو نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ
ہدایت پانے والے ہوئے (16:2)

You will see those in whose hearts there lurks malice dashing in among them saying: "We dread lest a turn of fortune strike us!" Perhaps Allah will bring some victory or command from Himself, so some morning they will awaken regretful about what they have concealed within themselves. (5:52)

فَتَرَىٰ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ
فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تَصِيبَنَا آيَةٌ فَنَخْشَى
اللَّهَ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ
فَيُصِيبُنَا أَوْ يَنْزِلُ مِنَّا آيَةٌ ﴿٥٢﴾

آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ
دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ
ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے بہت ممکن ہے
کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے۔ یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز
لائے پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر (بے
طرح) نادام ہونے لگیں گے۔ (52:5)

Those who believe will say: "Are these the ones who swore by Allah with their most solemn oaths that they stood alongside you?" Their works have failed and they have ended out to be losers. (5:53)

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهٰؤُلَاءِ الَّذِينَ
أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ
حٰبِطَاتٌ أَعْمَالُهُمْ وَأَصْبَحُوا خٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾

اور ایمان دار کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے
مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے
ساتھ ہیں۔ ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو
گئے۔ (53:5)

When they come to you (Muslims), they say: We believe; but they came in unbelief and they went out in the same; and Allah knows best what they hide. (5:61)

وَإِذَا جَاءُوكُم قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ
قَدْ حَرَجُوا بِهٖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾

اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ
ہم ایمان لے آئے حالانکہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے
اور اسی کفر کو لے کر گئے بھی۔ اور جن باتوں کو یہ چھپا
رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے (61:5)

When the hypocrites and those in whose hearts is a disease said: Their religion has deluded them. Whoso puts his trust in Allah (will find that) Allah is Mighty, Wise. (8:49)

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهُوا إِدْرِيَهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾
﴿٨ الانفال ٤٩﴾

And they swear by Allah that they are in truth of you, when they are not of you, but they are folk who are afraid. (9:56)

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لِبَنِيكُمْ وَمَا هُمْ بِبَنِيكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٩ التوبة ٥٦﴾

Had they but found a refuge, or caverns, or a place to enter, they surely had resorted these swift as runaways. (9:57)

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ﴿٥٧﴾
﴿٩ التوبة ٥٧﴾

They swear by Allah to you (Muslims) to please you, but Allah, with His messenger, has more right that they should please Him if they are believers. (9:62)

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾
﴿٩ التوبة ٦٢﴾

The hypocrites, both men and women, proceed one from another. They enjoin the wrong, and they forbid the right, and they withhold their hands (from spending for the cause of Allah). They forget Allah, so He has forgotten them. The hypocrites, they are the transgressors. (9:67)

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾
﴿٩ التوبة ٦٧﴾

When the hypocrites come to you (O Muhammad), they say: We bear witness that you are indeed Allah's messenger. And Allah knows that you are indeed His messenger, and Allah bears witness that the hypocrites are speaking falsely. (63:1)

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكٰذِبُونَ ﴿١﴾
﴿٦٣ المنفقون ١﴾

And when it is said to them: Come! The messenger of Allah will ask forgiveness for you! They avert their faces and you see them turning away, disdainful. (63:5)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾
﴿٦٣ المنفقون ٥﴾

اس وقت منافق اور (کافر) جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے (49:8)

اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں (56:9)

اگر ان کو کوئی پھاؤ کی جگہ (جیسے قلعہ) یا غار و مفاک یا (زمین کے اندر) گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں تڑاتے ہوئے بھاگ جائیں (57:9)

مومنو! یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں۔ اگر یہ (دل سے) مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر کو خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں (62:9)

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس (یعنی ایک ہی طرح کے) ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور (خرچ کرنے سے) ہاتھ بند کئے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ بیشک منافق نافرمان ہیں (67:9)

(اے محمد ﷺ) جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو (ازراہ نفاق) کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بیشک اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ درحقیقت آپ اس کے پیغمبر ہیں لیکن اللہ ظاہر کئے دیتا ہے کہ منافق (دل سے) یقین نہ رکھنے کے لحاظ سے قطعاً) جھوٹے ہیں (1:63)

اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لئے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں (5:63)

More Reference : 9:75,76,77
Page 285, 286

وللمزيد راجع ٩ التوبة: ٧٥، ٧٦، ٧٧
الصفحة ٢٨٥، ٢٨٦

مزید حوالہ 9:75,76,77
صفحہ 285, 286

ALLAH (swt) SEPARATES THROUGH TRIALS HYPOCRITES AND THE RIGHTEOUS

يمحص الله المومنين
من المنافقين بالا بتلاء

اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے منافقین کو
مومنوں سے الگ کر دیتا ہے

It is not (the purpose) of Allah to leave you in your present state till He shall separate the wicked from the good. And it is not (the purpose of) Allah to let you know

مَا كَانَ لِلَّهِ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ

(لوگو) جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا۔ اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع

the unseen. But Allah chooses of His messengers whom He wills, (to receive knowledge thereof.) So believe in Allah and His messengers. If you believe and ward off (evil), yours will be a vast reward. (3:179)

HYPOCRITES HAVE ALIENNESS OF THE DEVIL

And the hypocrites are) on the alienness of the devil when he tells man to disbelieve, then, when he disbelieves says: I am innocent of you. I fear Allah, the Lord of the worlds. (59:16)

And the consequence for both will be that they are in the Fire, therein enduring. Such is the reward of evildoers. (59:17)

HYPOCRITES RESEMBLE UNBELIEVERS

That is because they believed, then disbelieved, therefore their hearts were sealed so that they understand not. (63:3)

HYPOCRITES HAVE RESEMBLANCE OF APOSTATE

Take no excuse you have disbelieved after your (confession of) belief. If We forgive a party of you, a party of you We shall punish because they have been guilty. (66)

DO NOT RELY ON HYPOCRITES

If the hypocrites, and those in whose hearts is a disease, and the disbelievers in the city do not cease, We shall urge you on against them, though they will be your neighbors in it but a little while. (33:60)

DO NOT LET THE BELONGINGS OF HYPOCRITES AMAZE YOU

Let not their wealth nor their children please you! Allah purposes only to punish them thereby in the world, and that their souls shall pass away while they are disbelievers. (9:)

اللَّهُ لِيُطَّلِعَ عَلَيْكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ يُرِيدُ مَنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

مثل المنافقين كمثل الشيطان

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرُوا فَلَمَّا كَفَرُوا قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٩﴾

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

المنافقون كالكفار

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٣﴾

المنافقون يكفرون بعد إيمانهم

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُغْنِي عَنْهُمْ بَأْسَهُمْ كَانُوا فَجْرًا مِّنَ ۙ ﴿٩﴾

المنافقون غير جدירים بالثقة

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٣﴾

لا يعجبكم أموال المنافقين وأولادهم

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٩﴾

نہیں کرے گا۔ البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا (179:3)

منافق مثل شیطان

(منافقوں) کی مثال شیطان جیسی ہے کہ انسان سے کتنا رہا کہ کافر ہو جا جب کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں۔ مجھ کو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے (16:59)

تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں (داخل ہوئے) ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے (17:59)

منافق مثل کافر

یہ اس لئے کہ یہ (پہلے تو) ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو انکے دلوں پر مہر لگادی گئی سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں (3:63)

منافق مثل مرتد

یہاں مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیوں کہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں (66:9)

منافقین کی باتوں پر اعتبار نہ کرو

اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے (کے شہر) میں غلط افواہیں اڑایا کرتے ہیں (اپنے کردار سے) باز نہ آئیں گے تو ہم آپ کو ان (کی) تباہی پر مسلط کر دیں گے پھر وہاں آپ کے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن (60:33)

منافقین کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرو

اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا۔ ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے۔ اور (جب) ان کی جان نکلے تو (اس وقت بھی) یہ کافر ہی ہوں (85:9)

BEWARE OF THE HYPOCRITES

**WATCH OUT
THE APPARENT DEEDS OF HYPOCRITES**

And when you see them their figures please you; and if they speak, you give ear to their speech. (They are) as though they were blocks of wood in striped cloaks. They deem every shout to be against them. They are the enemy, so beware of them. Allah confound them! How they are perverted! (63:4)

More Reference : 2:204 Page 858

**OFFERING FUNERAL PRAYERS
FOR THE HYPOCRITES
ARE FORBIDDEN**

And never (O Muhammad) pray for one of them who dies, nor stand by his grave. They disbelieved in Allah and His messenger, and they died while they were evildoers. (9:84)

**ALLAH(SWT) WILL NOT ACCEPT SUPPLICATION
OF FORGIVENESS FOR THE HYPOCRITE**

Ask forgiveness for them (O Muhammad), or ask not forgiveness for them; though you ask forgiveness for them seventy times Allah will not forgive them. That is because they disbelieved in Allah and His messenger, and Allah guides not wrongdoing folk. (9:80)

Whether you ask forgiveness for them or ask not forgiveness for them, Allah will not forgive them. Allah guides not the evil-living folk. (63:6)

ULTIMATE FATE OF HYPOCRITES

Bear to the hypocrites the tidings that for them there is a painful doom; (4:138)

The hypocrites (will be) in the lowest deep of the fire, and you will find no helper for them: (4:145)

احذروا المنافقين

كونوا مراقبين على تصرفات
المنافقين

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُجَبِّكُ أَجْسَامَهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خَشَبٌ مُّسْتَدَدٌ يُحْسِبُونَ أَنَّ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرَهُمْ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ يُوَفِّكُونُ ﴿٦٣﴾

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٠٤ الصفحة ٨٥٨

النهي عن صلوة الجنائز لمنافق

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٩﴾

النهي عن الاستغفار للمنافقين

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٣﴾

مصير المنافقين

بَشِيرَ الْمُنَافِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿٤﴾

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿٤﴾

منافق سے محتاط رہو

منافقین کے ظاہری اعمال پر نگاہ رکھو تاکہ دھوکہ نہ دے سکیں

اور جب تم ان (کے خوش نما جسم) کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم نہیں (کیا ہی) اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی ہیں (بزدل ایسے کہ) ہر سخت آواز کو سمجھیں (کہ) ان پر (آفت آئی) یہ (تمہارے) دشمن ہیں ان سے بے خوف نہ رہنا۔ اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بچے جاتے ہیں (4:63)

مزید حوالہ 204:2 صفحہ 858

منافق (جس کی موت کفر اور نفاق پر ہوئی ہو) کی نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت

اور (اے پیغمبر) ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی آپ اس کے نماز (جنازہ) نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر (جا کر) کھڑے ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان (ہی) مرے (84:9)

منافق (جسے کفر اور نفاق کی حالت میں موت آئی ہو) کے حق میں مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا

آپ ان کے لئے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں (بات ایک ہے) اگر ان کے لئے ستر دفعہ بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (80:9)

آپ ان کے لئے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں ان کے حق میں برابر ہے اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (6:63)

منافقین کا انجام

(اے پیغمبر) منافقوں (یعنی دورخ لوگوں) کو بشارت سنا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب (تیار) ہے (138:4) کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے (145:4)

Allah promises the hypocrites, both men and women, and the disbelievers fire of hell for their abode. It will suffice them. Allah curses them, and theirs is lasting torment. (9:68)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾
﴿٩ التوبة ٦٨﴾

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ (جلتے) رہیں گے وہی ان کے لائق ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب (تیار) ہے (68:9)

Even as those before you were mightier than you in strength, and more affluent than you in wealth and children. They enjoyed their lot awhile, so you enjoy your lot awhile even as those before you did enjoy their lot awhile. And you prate even as they prated. Such are they whose works have perished in the world and the Hereafter. Such are they who are the losers. (9:69)

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثُرَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾
﴿٩ التوبة ٦٩﴾

(تم منافق لوگ) ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں۔ وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے حصے سے فیض یاب ہو چکے سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھالیا۔ اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اس طرح تم باطل میں ڈوبے رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں (69:9)

Allah punishes hypocritical men and hypocritical women, and idolatrous men and idolatrous women. But Allah pardons believing men and believing women, and Allah is Forgiving, Merciful. (33:73)

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٧٣﴾

تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے۔ اور اللہ تو بخش دینے والا مہربان ہے (73:33)

And may punish the hypocritical men and the hypocritical women, and the idolatrous men and the idolatrous women, who think an evil thought concerning Allah. For them is the evil turn of fortune, and Allah is angry with them and has cursed them, and has made ready for them hell, a hapless journey's end. (48:6)

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٤٨﴾
﴿٤٨ الفتح ٤٨﴾

اور (اس لئے کہ) منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے۔ انہی پر برے حادثے واقع ہوں۔ اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لئے دوزخ تیار کی۔ اور وہ بری جگہ ہے (6:48)

In the likeness of those (who suffered) a short time before them, they taste the ill effects of their conduct, and theirs is painful punishment. (59:15)

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٩﴾
﴿٥٩ الحشر ٥٩﴾

ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور (ابھی) ان کے لئے دردناک عذاب (تیار) ہے (15:59)

Core Reference :	3:119	4:140	5:52
Page	753	217	748
8,73,126	33:48	66:9	
5,643,317	610	643	

والمزید راجع	آل عمران 119	٤ النساء ١٤٠
٥ المائدة ٥٢	٩ التوبة ١٢٦، ٧٣، ٨	٣٣ الاحزاب ٤٨
٦٦ التحريم ٩		

مزید حوالہ	119:3	140:4	52:5
صفحہ	753	217	748
126,73,8:9	48:33	9:66	
666,643,317	610	643	

PARABLE FOR EXPOSING THE HYPOCRITES

Their likeness is as the likeness of one who kindles fire, and when it sheds its light around him Allah takes away their light (sight) and leaves them in darkness, where they cannot see, (2:17)

بیان سیرۃ المنافقین بالامثال

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ نُورَهُمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَةٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾
﴿٢ البقرة ١٧﴾

منافقین کے کردار کی امثال کے ذریعے وضاحت

ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے (شب تاریک میں) آگ جلائی۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی (بینائی) زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے (17:2)

Deaf, dumb and blind; and they return not. (2:18)

صُمُّوا بكم عَمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾
﴿٢ البقرة ١٨﴾

(یہ) بہرے ہیں گو نگے ہیں اندھے ہیں کہ (کسی طرح سیدھے راستے کی طرف) لوٹ ہی نہیں سکتے (18:2)

Or like a rainstorm from the sky, wherein is darkness, thunder and the flash of lightning. They thrust their fingers in their ears by reason of the thunder-claps, for fear of death. Allah encompasses the disbelievers (in His guidance). (2:19)

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾
﴿٢ البقرة ١٩﴾

یا ان کی مثال بارش جیسی ہے کہ آسمان سے (برس رہی ہو اور) اس میں اندھیرا پر اندھیرا (چھا رہا) اور (بادل) گرج (رہا) ہو اور بجلی (چمک رہی) ہو تو یہ گرج سے (ڈر کر) موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اللہ کافروں کو (ہر طرف سے) گھیرے ہوئے ہے۔ (19:2)

The lightning almost snatches away their sight from them. As often as it flashes forth for them they walk therein, and when it darkens against them they stand still. If Allah willed, He could destroy their hearing and their sight. Allah is Able to do all things. (2:20)

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾
﴿٢ البقرة ٢٠﴾

قریب ہے کہ بجلی (کی چمک) ان کی آنکھوں (کی بصارت) کو چھین لے جائے جب بجلی (چمکتی اور) ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں (کی سماعت) اور آنکھوں (کی بینائی دونوں) بے کار کر دیتا۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے (20:2)

ALL HYPOCRITES ARE ONE AND THE SAME

كل المنافقين سواء

سب منافق ایک جیسے ہیں

What ails, you that you stand divided two parties regarding the hypocrites, when Allah cast them back (to disbelief) because of what they earned? Seek you to guide him whom Allah has sent astray? He whom Allah sends astray, for him you cannot find a road. (4:88)

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾
﴿٤ النساء ٨٨﴾

تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اونڈھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو راستے پر لے آؤ۔ اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لئے کبھی بھی راستہ نہیں پاؤ گے (88:4)

BEWARE OF THE DUPLICITY OF HYPOCRITES

لا يغرنكم قولهم بالإيمان

منافقین کے جھوٹے اظہار ایمان سے دھوکہ نہ کھائیں

Indeed you are those who love them though they love you not, and you believe in all the scriptures. When they fall in with you they say: We believe; but when they go apart they bite their fingertips at you, for rage. Say: Perish in your rage surely Allah is Aware of what is hidden in (your) breasts. (3:119)

هَآنَتُمْ أَوْلَآئِهِمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقَوْمُ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْتُوا بَعِيثَكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾
﴿٣ آل عمران ١١٩﴾

دیکھو تم ایسے (صاف دل) لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو (اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے) اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کھاتے (چباتے) ہیں (ان سے کہہ دو کہ (بد مخلص) غصے میں مر جاؤ۔ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے (119:3)

IMPATIENCE OF DISBELIEVERS FOR THE PUNISHMENT - HASTENING FOR THE OUTCOME OF THEIR EVIL DOINGS

استعجال الکفار بعذاب اللہ

مشکوکین کی عذاب الہی کی طلب میں جلالی

Say: I am (relying) on clear proof from my Lord, while you deny Him. I have not that for which you are impatient. The decision is for Allah only. He tells the truth and He is the Best Decider. (6:57)

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾
﴿٦ الانعام ٥٧﴾

کہہ دیجئے میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو جس چیز (یعنی عذاب) کے لئے تم جلدی کر رہے ہو۔ وہ میرے پاس نہیں ہے (ایسا) حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (57:6)

Say: If I had that for which you are impatient, then would the case (before this) have been decided between me and you. Allah is best Aware of the wrong doers. (6:58)

قُلْ لَوْ أَنِّي عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِّلَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾
﴿٦ الانعام ٥٨﴾

کہہ دیجئے جس چیز کے لئے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے (58:6)

And they say: When will this promise be fulfilled, if you are truthful?

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ ﴿٢١ الانبياء ٣٨﴾
﴿٢٧ النمل ٧١﴾ ﴿٣٤ سبأ ٢٩﴾
﴿٣٦ يسين ٤٨﴾ ﴿٦٧ الملك ٢٥﴾

اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو (جس عذاب کا) وعدہ ہے وہ کب آئے گا (48:10) (38:21) (71:27) (29:34) (48:36) (25:67)

(10:48) (21:38) (27:71) (34:29) (36:48) (67:25)

Say: Have you thought: When His doom comes to you as a raid by night, or in the (busy) day; what is thereof it that the guilty ones desire to haste? (10:50)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْجُرْمُونَ ﴿٥٠﴾
﴿١٠ يونس ٥٠﴾

کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر عذاب تم پر (ناگہاں) رات کو یا دن کو آجائے پھر گنہگار کس بات کی جلدی کریں گے (50:10)

Is it (only) then, when it has befallen you, that you will believe? What! (Believe) now, when (until now) you have been hastening it on (through disbelief)? (10:51)

أَلَمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمْنْتُمْ بِهِ آلَيْنِ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾
﴿١٠ يونس ٥١﴾

کیا جب وہ آواچ ہو گا تب اس پر ایمان لاؤ گے۔ (اس وقت کہا جائے گا) اور اب (ایمان لائے؟) اسی کے لئے تو تم جلدی کیا کرتے تھے (51:10)

What expect they except the like of the days of those who passed away before them? Say: Expect then! I am with you among the expectant. (10:102)

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾
﴿١٠ يونس ١٠٢﴾

سو جیسے (برے) دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اس طرح کے (دنوں کے) یہ منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں (102:10)

And they bid you hasten on the evil rather than (to perform) good, when exemplary punishments have indeed occurred before them. But your Lord is rich in pardon for mankind despite their wrong, and your Lord is strong in punishment. (13:6)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾
﴿١٣ الرعد ٦﴾

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار (یعنی طالب عذاب) ہیں حالانکہ ان سے پہلے عذاب (واقع) ہو چکے ہیں۔ تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے۔ اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے (6:13)

The commandment of Allah will come to pass, so seek not you to hasten it. Glorified and Exalted be He above all that they associate with Him). (16:1)

إِنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾
﴿١٦ النحل ١﴾

اللہ کا حکم (یعنی عذاب گویا) آ ہی پہنچا تو (کافرو) اس کے لئے جلدی مت کرو۔ یہ لوگ جو (اللہ کا) شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے (1:16)

and but for a decree that had already gone forth from your Lord, and a term already fixed, the judgement would (have) been inevitable (in this world). (20:129)

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِرَأْسِهَا أَجَلٌ مُّسْمًى ﴿٢٠﴾
﴿٢٠ طه ١٢٩﴾

اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور (جزائے اعمال کے لئے) ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو (نزل) عذاب لازم ہو جاتا (129:20)

And they will bid you hasten on the doom, and Allah fails not His promise, but a Day with Allah is as a thousand years of what you reckon. (22:47)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾
﴿٢٢ الحج ٤٧﴾

اور (یہ لوگ) تم سے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے رو سے ہزار برس کے برابر ہے۔ (47:22)

Say: It may be that a part of that which you would hasten on is close behind you. (27:72)

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾
﴿٢٧ النمل ٧٢﴾

کہہ دیجئے کہ جس (عذاب) کے لئے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آپہنچا ہو۔ (72:27)

And they bid you hasten on the doom (of Allah). And if a term had not been appointed, the doom would assuredly have come to them (before now). And it will come upon them suddenly when they perceive not. (29:53)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا آجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٥٣﴾

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ (ہو چکا) ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا۔ اور وہ (کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا) (53:29)

And they say: When comes this victory (of yours) if you are truthful? (32:28)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾
﴿٣٢ السجده ٢٨﴾

اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو (بتاؤ کہ) یہ فیصلہ (کامیابی) کب ہوگا (28:32)

Would they hasten on Our doom? (37:176)

أَفِعِذَابِنَا يُسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾
﴿٣٧ الصفت ١٧٦﴾

کیا یہ ہمارے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہیں (176:37)

But when it descends upon their courtyards then it will be a hapless morn for those who were warned. (37:177)

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٧﴾
﴿٣٧ الصفت ١٧٧﴾

مگر وہ ان کے میدان میں اترے گا تو اس وقت جن کو ڈر سنا یا گیا تھا ان کے لئے برا دن ہوگا (177:37)

Withdraw from them a while. (37:178)

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾
﴿٣٧ الصفت ١٧٨﴾

آپ اس وقت تک ان سے منہ پھیرے رہیں (178:37)

And watch, for they will (soon) see. (37:179)

وَأَبْصُرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾
﴿٣٧ الصفت ١٧٩﴾

اور دیکھتے رہیں یہ بھی عنقریب (نتیجہ) دیکھ لیں گے (179:37)

They say: Our Lord! Hasten on for us our fate before the Day of Reckoning. (38:16)

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾
﴿٣٨ ص ١٦﴾

اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے (16:38)

And for those who (now) do wrong there is an evil day like to the evil day (which came for) their likes (of old); so let them not ask Me to hasten on (that day). (51:59)

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٥١ الذریت ٥٩﴾

کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لئے بھی (عذاب کی) نوعیت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوعیت تھی تو ان کو مجھ سے (عذاب) جلدی نہیں طلب کرنا چاہئے (59:51)

Say: The knowledge is with Allah only, and I am but a plain warner: (67:26)

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾
﴿٦٧ الملك ٢٦﴾

کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں (26:67)

But when they see it near, the faces of those who disbelieve will be awry, and it will be said (to them): This is that for which you used to call. (67:27)

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٦٧ الملك ٢٧﴾

سو وہ جب دیکھ لیں گے کہ وہ (وعدہ) قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے۔ اور (ان سے) کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلب کرتے تھے (27:67)

More Reference :	7:70	10:48	11:32	21:38
Page	932	754	921	754
27:71	34:29	36:48	67:25	
754	754	754	754	

والمزید راجع	٧ الأعراف: ٧٠	١٠ یونس: ٤٨
١١ ہود: ٣٢	٢١ الانبیاء: ٢٨	٢٧ النمل: ٧١
٣٤ سباء: ٢٩	٣٦ یس: ٤٨	٦٧ الملك: ٢٥

مزید حوالہ	70: 7	48: 10	32: 11
صفحہ	932	754	921
38: 21	71: 27	29: 34	25: 67
754	754	754	754

GRANT OF RESPITE TO DISBELIEVERS
BY ALLAH (SWT)

تاجل الكافرين من الله استراهم

کفران کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمانش
کے لئے جزویہ مہلت کا عطا کیا جانا

And let not those who disbelieve imagine that the rein We give them is good to their souls. We only give them rein that they may grow in sinfulness. And theirs will be shameful doom. (3:178)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا أُنزِلَ لَهُمْ
خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُنزِلُ لَهُمُ لِيُزِدُوا
وَالْإِيمَاءَ
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾
﴿٣ آل عمران- ١٧٨﴾

اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیئے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے (نہیں بلکہ) ہم ان کو اس لئے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا (178:3)

And of those whom We created there is a nation who guide with the Truth and establish justice therewith. (7:181)

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾
﴿٧ الاعراف- ١٨١﴾

اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں (181:7)

And those who deny Our revelations step by step We lead them on from where they know not. (7:182)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ
حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾
﴿٧ الاعراف- ١٨٢﴾

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا (182:7)

And We give them rein (for) My scheme is strong. (7:183)

وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾
﴿٧ الاعراف- ١٨٣﴾

اور میں ان کو مہلت دیئے جاتا ہوں میری تدبیر (بڑی) مضبوط ہے (183:7)

And those whom Allah sends astray, there is no guide for them He leaves them to wander blindly on in their contumacy. (7:186)

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾
﴿٧ الاعراف- ١٨٦﴾

جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور وہ ان (گمراہوں) کو چھوڑے رکھتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں (186:7)

And if Allah were to haste on for men the evil (that they have earned) as they would haste on the good, their respite would already have expired. We suffer those who look not for the meeting with Us to wander blindly on in their contumacy. (10:11)

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَجَالَهَمْ بِالْخَيْرِ
لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾
﴿١٠ يونس- ١١﴾

اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی (عمر کی) میعاد پوری ہو چکی ہوتی سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں (11:10)

And We defer it only as term already reckoned. (11:104)

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدٍّ وَذُرِّيَّةٌ
﴿١١ هود- ١٠٤﴾

اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں (104:11)

And We gave to Moses the scripture, and there was strife thereupon, and had it not been for a word that had already gone forth from your Lord, the case would have been judged between them and they are in grave doubt concerning (11:110)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَنْهَىٰ
لِقَائِهِمْ وَمِنْهُ مَرِيبٌ ﴿١١٠﴾
﴿١١ هود- ١١٠﴾

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور وہ تو اس سے قوی شے میں (پڑے ہوئے) ہیں (110:11)

And messengers (of Allah) were checked before you, but long I bore with those who disbelieved, At length I seized them, and how (awful) was My punishment! (13:32)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ
كَانَ عِقَابِي ﴿٣٢﴾
﴿١٣ الرعد- ٣٢﴾

اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا سو (دیکھ لو کہ) ہمارا عذاب کیسا تھا (32:13)

And (all) those townships! We destroyed them when they did wrong, and We appointed a fixed time for their destruction. (18:59)

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
لِمْهَلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾
﴿١٨ الكهف- ٥٩﴾

اور یہ بستیاں (جو ویران پڑی ہیں) جب انہوں نے (کفر) ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور ان کی تباہی کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا تھا (59:18)

And I know not but that this may be a trial for you, and enjoyment for a while, (21:111)

وَأَنْ أَدْرِي لَعَلَّاهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾
﴿٢١ الانبياء ١١١﴾

اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لئے آزمائش ہو اور ایک مدت تک (تم اس سے) فائدہ (اٹھاتے رہو) (111:21)

He says: My Lord! Judge You with truth. Our Lord is the Beneficent, Whose help is to be implored against that which you ascribe (to Him). (21:112)

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾
﴿٢١ الانبياء ١١٢﴾

(پیغمبر نے) کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جانی ہے (112:21)

And how many a townships did I suffer a long though it was sinful! Then I grasped it. To Me is the return. (22:48)

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾
﴿٢٢ الحج ٤٨﴾

اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں۔ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے (48:22)

Tell those who believe I forgive those who hope not for the days of Allah, in order that He may requite folk what they used to earn. (45:14)

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾
﴿٤٥ الجاثية ١٤﴾

مومنوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی (جو اعمال کے بدلے کے لئے مقرر ہیں) توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے (14:45)

Then let them be (O Muhammad). Till they meet their day, in which they will be thunder-stricken, (52:45)

فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾
﴿٥٢ الطور ٤٥﴾

پس ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آجائے (45:52)

Leave Me (to deal) with those who give the lie to this pronouncement. We shall lead them on step by step from (degrees) where they know not. (68:44)

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَدِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾
﴿٦٨ القلم ٤٤﴾

تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو۔ ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی (44:68)

Yet I bear with them, for My scheme is firm, (68:45)

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾
﴿٦٨ القلم ٤٥﴾

اور میں ان کو مہلت دیتے جاتا ہوں میری تدبیر قوی ہے (45:68)

Let Me deal with the deniers, who are enjoying their leisure, put up with them for a while: (73:11)

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾
﴿٧٣ المزمل ١١﴾

اور مجھے جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور انکو تھوڑی سی مہلت دے دو (11:73)

They plot a plot (against you, O Muhammad) (86:15)

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾
﴿٨٦ الطارق ١٥﴾

یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں (15:86)

And I too am planning a scheme. (To make their plot nothing) (86:16)

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾
﴿٨٦ الطارق ١٦﴾

اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں (16:86)

So give a respite to the disbelievers. Deal you gently with them for a while. (86:17)

فَهَيِّلِ الْكٰفِرِينَ اَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾
﴿٨٦ الطارق ١٧﴾

تو تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز ہی مہلت دو (17:86)

More Reference : 14:42 16:61 19:75
Page 796, 123, 428

والمزيد راجع ١٤ ابراهيم: ٤٢ ١٦ النحل: ٦١
١٩ مريم: ٧٥ الصلوة: ٧٩٦، ١٢٣، ٤٢٨

مزيد حوالہ 42:14 61:16 75:19
صفحہ 428, 123, 796

COMPANIONS OF THE HOLY PROPHET (RAA)
MAY ALLAH (SWT) BE PLEASED WITH THEM
(SAID WHENEVER A "SAHABI" (COMPANION)
IS MENTIONED)

اصحاب الرسول ﷺ

اصحاب رسول

(رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

(صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

Then those who believe in him, and honour him and help him, and follow the light, which is sent down with him: they are the successful. (7:157) PART

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٧﴾
﴿٧٧﴾ الاعراف ١٥٧ ﴿جزء

تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی اور انہیں مدد دی۔ اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں (157:7) جزو

Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard against the disbelievers and merciful among themselves. You (O Muhammad) see them bowing and falling prostrate (in worship), seeking bounty from Allah and (His) acceptance. The mark of them is on their foreheads from the traces of prostration. Such is their likeness in the Torah and their likeness in the Gospel----- (48:29) PART

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ﴿٤٨﴾ الفتح ٢٩ ﴿جزء

محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ (اللہ کے آگے) جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں (کثرت) سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں ان کے یہی اوصاف تورات میں (مرفوم) ہیں۔ اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ (29:48) جزو

More Reference : 8:5 to 9,12,17,43 9:26,40, 88, 99,111,112 48:18,19 Page 697,696,699,700, 698,718,759,657,658,644,437,713,715

والمزید راجع ٨ الأنفال: ٥، ١٧، ١٢، ٩ التوبة: ٢٦، ٤٠، ٨٩، ١١٢، ٤٨ الفتح: ١٩، ٤٠، ٦٥٧، ٦٥٩، ٧١٨، ٦٩٨، ٧٠٠، ٦٩٩، ٦٩٦، ٩٦٧، ٧١٥، ٧١٣، ٤٣٧، ٦٤٤، ٦٥٨

مزیذ حوالہ 40,26: 9 43,17,12,9 5: 8 696,967 19,18: 48 112,111,89,88, 715,713,437,644,658,657,659,718,698,700,699,

ASSOCIATES OF THE PROPHET (RAA) ARE RIGHTLY GUIDED ONES

اصحاب الرسول ﷺ هم الراشدون (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے راشدوں کا لقب

For Detail Consult : 49:7 Page 167

والمزید راجع ٤٩ الحجرات: ٧، الصفحة ١٦٧

مزیذ حوالہ 7: 49 صفحه 167

GLAD TIDINGS OF ALLAH'S (SWT) PLEASURE ON THE COMPANIONS OF PROPHET

بشرى لأصحاب الرسول ﷺ برضا الله (رضی اللہ عنہم)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جانے کی بشارت

For Detail Consult : 48:18 Page 713

والمزید راجع ٤٨ الفتح: ١٨، الصفحة ٧١٣

مزیذ حوالہ 18: 48 صفحه 713

THE CHARACTERISTICS OF THE PROPHET'S ASSOCIATES (RAA) ARE TRACEABLE IN TORAT, GOSPEL AND QURAN

ذكر صحابة (رضی اللہ عنہم) الرسول ﷺ في التوراة والإنجيل والقرآن

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کا ذکر تورات انجیل اور قرآن میں ملتا ہے

Detail Consult : 48:29 Page 163/247

والمزید راجع ٤٨ الفتح: ٢٩، الصفحة ١٦٣/٢٤٧

مزیذ حوالہ 29: 48 صفحه 247/163

COMPANIONS OF THE PROPHET ENJOY THE STATUS OF LOVERS OF TRUTH AND MARTYRS IN THE EYE OF ALLAH (SWT)

الصحابة هم الصديقون والصالحون والشهداء

اصحاب رسول کا درجہ۔ صدیقین صالحین اور شہدا

And those who believe in Allah and His messengers, they the loyal; and those who are martyrs are with their Lord; they have their reward and their light; while as for those who disbelieve and deny Our relations, they are owners of hell. (57:19)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥٧﴾ الحديد ١٩ ﴿جزء

اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لئے ان (کے اعمال) کا صلہ ہوگا اور ان (کے ایمان) کی روشنی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں (19:57)

Reference : 4:69 Page 878

والمزید راجع ٤ النساء: ٦٩، الصفحة ٨٧٨

مزیذ حوالہ 69: 4 صفحه 878

ALLAH(SWT) WILL NOT PERMIT THE HUMILIATION OF THE COMPANIONS OF THE PROPHET(RAA) ON THE DAY

لا یخزی اللہ تعالیٰ
أصحاب الرسول ﷺ يوم القيامة

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسوا نہیں کرے گا

For Detail Consult : 66:8 Page 317

وللمزيد راجع ٦٦ التحريم: ٨: الصفحة ٣١٧

مزید حوالہ 8:66 صفحہ 317

INSTRUCTIONS FOR REVERENCE OF PROPHET'S ASSOCIATES IRRESPECTIVE OF THEIR STATUS IN WORLDLY POSSESSIONS

تکریم أصحاب الرسول الفقراء

دنیاوی وسائل میں کمزور صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اکرام کے احکامات

Repel not those who call upon their Lord at morning and evening, seeking His countenance. You are not accountable for them in anything, nor are they accountable for you in at all, that you should repel them and be of the wrongdoers. (6:52)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾
٦ الانعام ٥٢

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں (اور) اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو (اپنے پاس سے) مت نکالو۔ ان کے حساب (اعمال) کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں۔ (پس ایسا نہ کرنا) اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے (52:6)

Keep yourself content with those who appeal to their Lord at morning and evening, seeking His countenance; and let not your eyes overlook them, desiring the pomp of the life of the world; and obey not him whose heart We have made heedless of Our remembrance, who follows his own lust and whose case has been abandoned. (18:28)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرَهُ فُرْقَانًا ﴿٢٨﴾
١٨ الكهف ٢٨

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔ اور تمہاری نگاہیں ان میں سے (گزر کر اور طرف) نہ دوڑیں۔ کہ تم آرائش زندگی دنیا کے خواست گار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہنا نہ ماننا (28:18)

EXCELLENCE OF
HADHRAT ABU-BAKAR SIDIQUE (RAA)
(WHILE IN CAVE OF SAUR)

فضیلت حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
(انحوائز)

If you help him not, still Allah helped him when those who disbelieve drove him forth, the second of two; when they two were in the cave, when he said to his comrade: Grieve not. Allah is with us. Then Allah caused His peace of reassurance to descend upon him and supported him with hosts you cannot see, and made the word of those who disbelieved the nethermost, while Allah's word it was that became the uppermost. Allah is Mighty, Wise. (9:40)

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾
٩ التوبة ٤٠

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ (وہ وقت تم کو یاد ہوگا) جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا (اس وقت) دو (ہی شخص تھے جن) میں (ایک ابوبکرؓ تھے) دوسرے (خود رسول اللہ) جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے۔ اور اللہ زبردست (اور) حکمت والا ہے (40:9)

More Reference : of excellence of Abu-Bakar (RAA)
92:5,6 Page 768

وللمزيد راجع منقبة ابی بکر الصديق
٩٢ الليل ٦٥: الصفحة ٧٦٨

مزید حوالہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق
6,5:92 صفحہ 768

EXCELLENCE OF
HADHARAT UMAR FAROOQ
IBN - KHATAB (RAA)

إشارة إلى أصالة رأي عمر الفاروق
رضي الله تعالى عنه

نصائح حضرت عمر فاروق ابن الخطاب
رضي الله تعالى عنه

EXPLICATION OF REVEALED VERSE AS
MADE BY UMAR FAROOQ (RAA) IBN-KHATAB
WAS APPROVED BY THE HOLY PROPHET(SAAS)

It is not proper for any Prophet to have captives until he has subdued (every one) on earth and You all desire the lure of this world and Allah desires (for you) the Hereafter, and Allah is Mighty, Wise. (8:67)

That which Allah gives as spoil to His messenger from the people of the townships, it is for Allah and His messenger and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, that it become not a commodity between the rich among you. And whatsoever the messenger gives you, take it. And whatsoever he forbids, abstain (from it). And keep your duty to Allah. Allah is Stern in reprisal. (59:7)

إشارة إلى فقه عمر
رضي الله تعالى عنه

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ
فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾
﴿٨ الانفال﴾

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولٍ فَخُذُوا وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهَوُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾
﴿٥٩ الحشر﴾

حضرت عمرؓ کا جنگی قیدیوں اور مال فی کی تقسیم
کے بارے میں استدلال جو نبی کریمؐ نے منظور فرمایا

پیغمبر کو شایاں نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین (میدان جنگ) میں کثرت سے خون (نہ) بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے (67:8)

جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو بستیوں والوں سے دلویا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے جو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں (اس سے) باز رہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (7:59)

More Reference : 58:22 33:22
Page 187, 656

وللمزيد راجع ٥٨ المجادلة ٢٢: ٣٣ الأحزاب ٢٢:
الصفحة ١٨٧، ٦٥٦

مزید حوالہ 22: 33 22: 58
صفحة 656, 187

EXCELLENCE OF
USMAN GHANI IBN-AFFAN (RAA)
WHILE PLEDGE OF FAITH
AND ALLEGIANCE "BAY-AT-AR-RIZWAN"

نصائح عثمان غنی ابن عفان
رضي الله تعالى عنه
بمناسبة بيعة الرضوان

نصائح حضرت عثمان غنی ابن عفان
رضي الله تعالى عنه
بمناسبة بيعة الرضوان

Those who swear allegiance to you (Muhammad), swear allegiance only to Allah. The Hand of Allah is above their hands. So whosoever breaks his oath, breaks it only to his soul's hurt; while whosoever keeps his covenant with Allah, on him He will bestow an immense reward. (48:10)

Allah was well pleased with the believers when they swore allegiance to you beneath the tree, and He knew what was in their hearts, and He sent down peace of reassurance on them, and has rewarded them with a near story; (48:18)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ
عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾
﴿٤٨ الفتح﴾

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ
السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾
﴿٤٨ الفتح﴾

جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے۔ اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا (10:48)

(اے پیغمبر) جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا اور جو (صدق و خلوص) ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی (18:48)

More Reference : CHAPTER BAIT - UR - RIZWAN
Page 713

وللمزيد راجع مطالعة باب بيت الرضوان
الصفحة ٧١٣

مزید حوالہ مطالعة باب بيت الرضوان
صفحة 713

EXCELLENCE OF ALI/ALMURTAZA (IBN ABI TALIB) (RAA)
(WHILE MIGRATION OF PROPHET (SAAS) FROM MAKKAH TO MADINAH)

فضیلت علی
بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بمناسبت ہجرت النبی ﷺ الی المَدینۃ

فضیلت حضرت علی
بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
(حضرت بی الزکوة برائے درویش)

And when those who disbelieve plot against you (O Muhammad) to wound you fatally, or to kill you or to drive you forth; they plot, but Allah (also) plots; and Allah is the best of plotters. (8:30)

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ
أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُجْعَلُوا كَيْدًا وَيَمْكُرُونَ
وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ ﴿٨﴾
(الانفال 30)

اور (اے محمد اس وقت کو یاد کریں) جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا (وطن سے) نکال دیں تو (ادھر تو) وہ چال چل رہے تھے اور (ادھر) اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے (30:8)

More Reference : 25:60 33:27 48:2,3
Page 714, 716

والمزید راجع ۲۵ الفرقان: ۶۰ ۳۳ الأحزاب: ۲۷
۴۸ الفتح: ۴۸ الصفحة ۷۱۴، ۷۱۶

مزید حوالہ 25:60 33:27 48:2,3
صفحة 716, 714

INTERPRETATION OF REVEALED VERSES BY ALI - ALMURTAZA (RAA) REGARDING REGULATION WHILE CIVIL WAR

أسوة علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بشأن القتال بین المسلمین

اسوہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بلسلہ خانہ جنگی

And if two parties of believers fall to fighting, then make peace between them. And if one party of them does wrong to the other, fight you that which does wrong till it returns to the ordinance of Allah; then, if it returns make peace between them justly, and act equitably. Allah loves the equitable. (49:9)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَعُودَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
قَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
(الحجرات 9)

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو۔ اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے پس جب وہ رجوع کر لے۔ تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے (9:49)

FELLOWS OF FIRST ISLAMIC UNIVERSITY (CAPTIONED IN PROPHET'S MOSQUE IN MADINAH)

اصحاب الصفة
اصحاب الجنت (الاسلام الاولی)
بالسجدة النبویة

اصحاب صفة
پہلی اسلامی ریفرنری کے ارکان
سجدة نبویہ مدینہ منورہ جہاں خلیفہ کرام
الکرام نے ہوا کرتے تھے

(Alms are) for the poor who are straitened for the cause of Allah, who cannot travel in the land (for trade). The unthinking man accounts them wealthy because of their restraint. You shall know them by their mark: They do not beg of men with importunity. And whatsoever good thing you spend, Allah knows it indeed. (2:273)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَأَنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾
(البقرة 273)

صدقات کے مستحق صرف وہ غریب ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے اور ملک میں چل پھر نہیں سکتے (اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں) یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو مالدار خیال کرتا ہے اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو (کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے سوال نہیں کرتے اور) لپٹ کر نہیں مانگ سکتے اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے (273:2)

PIONEERS OF FAITH WHO ENTERED INTO THE FOLD OF ISLAM AND BECAME ADHERENTS TO PROPHET MUHAMMAD (SAAS) WILL BE NEAREST TO ALLAH ON THE FINAL DAY

السابقون الاولون
من اصحاب محمد رسول اللہ ﷺ

سابق اور مقدم
رسول کریم حضرت محمد ﷺ کی دعوت اسلام
سے پہلے ایمان قبول کرنے والے

Those are they who will be brought near (56:11)

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾

وہی (اللہ کے) مقرب ہیں (11:56)

In gardens of delight; (56:12)

فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾

نعت کی بہشتوں میں (12:56)

A multitude of those of old (56:13)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُولَئِينَ ﴿١٣﴾

وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے (13:56)

And a few of those of later time (56:14)

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾

اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے (14:56)

For those on the right hand; (56:38)

لَا صَعِيبَ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾

(یعنی) داہنے ہاتھ والوں کے لئے (38:56)

A multitude of those of old (56:39)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُولِيْنَ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٣٩﴾

(یہ) بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں
(39:56)

And a multitude of those of later time. (56:40)

وَّثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٤٠﴾

اور بہت سے پچھلوں میں سے (40:56)

Thus if he is one of those who are brought near to Allah. (56:88)

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٨٨﴾

پھر اگر وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں میں سے ہے
(88:56)

**THE FOLLOWERS OF THE FOLLOWERS
(WHO CONVERSED WITH THE COMPANIONS OF
THE PROPHET (SAAS))**

**التابعون
والذين اتبعوا**

**تالبعین
اور جو اللہ کے پیروں کے پیروں**

Reference : 9:100 59:10 Page 860, 1124

والمزید راجع ۹ التوبة: ۱۰۰ ۵۹ الحشر: ۱۰

۱۱۲۴، ۸۶۰ صفحہ ۱۰:۵۹ ۱۰۰:۹

**ALL BELIEVING PEOPLE TILL
THE LAST DAY**

ياحسان من المؤمنين إلى يوم الدين

قیامت تک ہونے والے
اہل ایمان و تقویٰ

**ADHERENTS (DISCIPLES) OF THE PROPHETS
(OF THEIR AGES) AND WERE
FOREMOST IN OBEYING THEIR TEACHINGS**

**المتابعون المقربون
الفراد الأمم الماضية المقربون**

**سابقین المقربین
انہیں امتوں کے سابقین**

MULTITUDE FROM THE OLD GENERATIONS
BEFORE THE ENUNCIATION OF PROPHET MUHAMMAD(SAAS)
WHO WERE ADHERENTS (DISCIPLES) OF THE
PROPHETS (OF THEIR AGES)
AND WERE FOREMOST IN OBEYING THE TEACHINGS OF
REVEALED SCRIPTURES WITHOUT ITS TEMPERING WILL
ALSO BE NEAREST TO ALLAH (SWT)

أفراد الأمم الماضية المقربون الذين
آمنوا بالرسول و آمنوا بالكتب من
غير تحريف قبل بعث محمد رسول الله ﷺ

رسول کریم حضرت محمد ﷺ کی بعثت سے قبل پچھلی
امتوں کے کچھ لوگ (سابقین) جو اپنے پیغمبروں اور
کتب سماویہ کو بلا تحریف ماننے والے تھے بھی مقربین
میں شامل ہوں گے

Detail Consult : 56:7,10,11,12,13,14,38,39
Page 639

والمزید راجع ۵۶ الواقعة: ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۳۸، ۳۹
۸۹، ۸۸، ۴۰، ۳۹، ۶۳۹ الصفحہ

مزیّد حوالہ 56:7,10,11,12,13,14,38,39
89,88 صفحہ 639

ALL THE RIGHTEOUS PEOPLE OF LATER AGES WHO BELIEVED IN
THE REVEALED SCRIPTURES (WITHOUT TEMPERING)
AND OBEYED THE PROPHET OF THEIR TIMES WILL BE BLESSED
HEREAFTER (BUT THE ENUNCIATION OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
AND REVELATION OF HOLY QURAN
HAVE SUPER SEDED ALL THE PREVIOUS PROVISIONS)

أفراد الأمم الماضية الذين آمنوا بالكتب
المنزلة من غير تحريف، و أطاعوا رسلهم
سيفوزون ولكن الذي عاشوا منهم في عهد
النبي العربي محمد ﷺ يجب عليهم إطاعته

گذشتہ اقوام کے وہ سب صالح اعمال لوگ جنہوں نے اپنے اپنے
وقت کی کتب سماویہ پر (بلا تحریف) ایمان رکھا اور اپنے رسولوں
کی اطاعت کی وہ سب نجات اخروی سے ہم کنار ہوں گے
(مگر حضرت محمد ﷺ کی بعثت اور نزول قرآن کے بعد سب اہل
کتاب پر ان کی اطاعت ایمان کی لازمی شرط ٹھہری)

Detail Consult : 2:62 3:119 5:69 19:58
Page 640, 753, 472, 640, 970

والمزید راجع ۲ البقرة: ۶۲ ۳ آل عمران: ۱۱۹
۵ المائدة: ۶۹ ۱۹ مریم: ۵۸ ۵۱ الذاریات: ۳۵

مزیّد حوالہ 2:62 3:119 5:69 19:58
35,36 صفحہ 640, 472, 753, 640, 970

**ADHERENTS, FAVOURITES (DISCIPLES)
OF ALLAH (SWT)**

أولياء الله

أولياء اللہ

Our friends can be only Allah; and
His messenger and those who
believe, who establish worship and
pay the poor due, and bow down (in
prayer). (5:55)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
الَّذِينَ يَتَّقُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن
لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور (اللہ
کے آگے) جھکتے ہیں (55:5)

The friends of Allah are (those) on
whom fear (comes) not, nor do they
grieve. (10:62)

الَّذِينَ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ لَمْ يَخَفُوا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

ان رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف
ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے (62:10)

Those who believe and keep their
deeds (to Allah), (10:63)

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

(یعنی) وہ جو ایمان لائے اور پرہیز گار رہے
(63:10)

HATRED AGAINST THE CHOSEN ONES OF ALLAH(SWT) IS LIKE ENMITY OF ALLAH(SWT)

Who is an enemy to Allah, and His angels and His messengers, and Gabriel and Michael! Then, Allah (Himself) is an enemy to the disbelievers. (2:98)

DO NOT EXCEED REVERENCE TO WORSHIP

For Detail Consult : Chapters of MONOTHEISM AND POLYTHEISM
More Reference : 7:206 13:15 16:48 22:18
Page 113, 114

من أبعض أحدا من أولياء الله
فببغض الله

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾
(البقرة ٩٨)

يجب التمييز بين المحبة والعبادة

وللتفصيل راجع باب التوحيد والشرك
والمزيد راجع ٧ الأعراف: ٢٠٦ ١٣ الرعد: ١٥
١٦ النحل: ٤٨ ٢٢ الحج: ١٨ الصفحة ١١٣، ١١٤

اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی،
اللہ تعالیٰ سے دشمنی کے مترادف ہے

جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے
پیغمبروں کا اور جبرئیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے
کافروں کا اللہ دشمن ہے (98:2)

محبت اور عبادت میں فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے

تفصیل کیلئے دیکھئے ابواب توحید وشرک
مزیں حوالہ 7:206 13:15 16:48 22:18
صفحہ 114, 113

SINCERE SERVANTS OF ALLAH(SWT)

عباد الرحمن

عباد الرحمن

The (faithful) slaves of the Beneficent are they who walk upon the earth modestly, and when the foolish ones address them answer: Peace; (25:63)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾
(الفرقان ٦٣)

اور اللہ کے بندے تو وہی ہیں جو زمین پر آہستگی سے
چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو
کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں (63:25)

More Reference : 33:44 43:19 Page 865,137

والمزيد راجع ٣٣ الأحزاب: ٤٤ ٤٣ الزخرف: ١٩

مزیں حوالہ 33:44 43:19 صفحہ 865,137

CHOSEN SLAVES OF ALLAH(SWT)

عباد الله

عباد الله

But single-minded slaves of Allah; (37:40)

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾
(الصفت ٤٠)

مگر جو اللہ کے بندگان خاص ہیں (40:37)

For them there is a known provision, (37:41)

أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾
(الصفت ٤١)

یہی لوگ ہیں جن کے لئے روزی مقرر ہے
(41:37)

Fruits. And they will be honoured (37:42)

فَوَاكِهَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾
(الصفت ٤٢)

(یعنی) میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا
(42:37)

More Reference : 37:73,128,160,169 39:11,16,17
43:68 Page 677,1066,848,238,610,897,150,882

والمزيد راجع ٣٧ الصافات: ١٦٠، ١٦٠، ١٢٨، ٧٣: ٣٩ الزمر: ١١، ١٦، ١٧: ٤٣ الزخرف: ٦٨

مزیں حوالہ 37:73,128,160,169 39:11,16,17
صفحہ 677,1066,848,238,610,897,150,882

PARTISANS OF ALLAH(SWT)

حزب الله

حزب الله

You will not find any folk who believe in Allah and the Last Day loving those who oppose Allah and His messenger: even though they be their fathers or, their sons or their brothers or their clan. As for such, He has written faith upon their hearts and has strengthened them with a Spirit from Him, and He will bring them into Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide. Allah is well pleased with them, and they are well pleased with Him. They are Allah's party. Allah's party are those who shall be successful? (58:22)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
وَآتَاهُمُ بُرُودًا مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾
(المجادلة ٢٢)

جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان
کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے
ہوئے نہ دیکھو گے۔ خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا
خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے
دلوں میں اللہ نے ایمان (پتھر پر لکیر کی طرح)
تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے۔ اور
وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں
داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے
خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے
(اور) سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے
والا ہے (22:58)

More Reference : 5:56 Page 770

والمزيد راجع ٥ المائدة: ٥٦ الصفحة ٧٧٠

مزیں حوالہ 5:56 صفحہ 770

Marfat.com

**VIRTUES OF "MUMIN" BELIEVERS
(WHO HAVE ATTAINED FAITH)**

صفات المؤمنین والصلوات

مؤمنین کی صفات اور ان کے فضائل

Who believe in the Unseen, and establish worship, and spend of that We have bestowed upon them; (2:3)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾
﴿٢ البقرة ٣﴾

جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (3:2)

and who believe in that which is revealed to you (Muhammad) and that which was revealed before you and are certain of the Hereafter.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾
﴿٢ البقرة ٤﴾

اور جو کتاب (اے محمد) تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے (پیغمبروں پر) نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں (4:2)

the steadfast, and the truthful, and obedient, those who spend (and guard not), those who pray for pardon in the watches of the night.

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ
وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾
﴿٣ آل عمران ١٧﴾

یہ وہ لوگ ہیں جو (مشکلات میں) صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور (راہ اللہ میں) خرچ کرتے اور پچھلی رات کو گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں (17:3)

And as for those who believe and do good works, He will pay them their wages in full. Allah loves not wrongdoers. (3:57)

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أَجْرَهُمْ وَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾
﴿٣ آل عمران ٥٧﴾

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا۔ اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا (57:3)

And whatever good they do, they will not be denied the meed thereof. Allah is Aware of those who ward off (evil). (3:115)

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾
﴿٣ آل عمران ١١٥﴾

اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے (115:3)

Those who believe and obscure not their belief by wrong doing, theirs is safety; and they are rightly guided. (6:2)

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢﴾
﴿٦ الانعام ٢﴾

جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شرک کے) ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں (82:6)

All the believers, men and women, are protecting friends of one another; they enjoin the right and forbid the wrong, and they establish worship and they pay the poor-due, and they obey Allah and His messenger. As for these, Allah will have mercy on them. Allah is Mighty, Wise. (9:71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾
﴿٩ التوبة ٧١﴾

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے (71:9)

(Triumphant) are those who turn repentant (to Allah), those who serve (Him), those who praise (Him), those who fast, those who bow down, those who fall prostrate (in worship), those who enjoin the right and who forbid the wrong and those who keep the limits (ordained) of Allah And give glad tidings to believers!. (9:112)

الْمُتَابِعُونَ الْعِدَدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ
الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ
اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾
﴿٩ التوبة ١١٢﴾

توبہ کرنے والے۔ عبادت کرنے والے۔ حمد کرنے والے۔ روزہ رکھنے والے۔ رکوع کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے۔ نیک کاموں کا حکم دینے والے۔ بری باتوں سے منع کرنے والے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ (یہی مومن لوگ ہیں) اور اے پیغمبر مومنوں کو (بہشت کی) خوشخبری سنا دیں (112:9)

Such as persevere in seeking their Lord's countenance and are regular in prayer and spend of that which We bestow upon them secretly and openly, and overcome evil with good. Theirs will be the sequel of the (heavenly) Home, (13:22)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿١٣ الرعد ٢٢﴾

اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے (مصائب پر) صبر کرتے ہیں۔ اور نماز پڑھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے عاقبت کا گھر ہے (22:13)

Whose hearts fear when Allah is mentioned, and the patient of whatever may befall them, and those who establish worship and who spend of that We have bestowed on them. (22:35)

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٢ الحج ٣٥﴾

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور (جب) ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے (قائم کرتے) پڑھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں (35:22)

Successful indeed are the believers (23:1)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ﴿٢٣ المؤمنون ١﴾

بے شک ایمان والے فلاح پاگئے (1:23)

Who are humble in their prayers, (23:2)

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ ﴿٢٣ المؤمنون ٢﴾

جو نماز میں عاجز و نیاز کرتے ہیں (2:23)

And who shun vain conversation, (23:3)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ ﴿٢٣ المؤمنون ٣﴾

اور جو بے ہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں (3:23)

And who are payers of the poor due; (23:4)

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ ﴿٢٣ المؤمنون ٤﴾

اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں (4:23)

And who guard their modesty (23:5)(70:29)

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ ﴿٢٣ المؤمنون ٥﴾ (٧٠ المعارج ٢٩)

اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں (29:70)(5:23)

Save from their wives or the (slaves) that their right hands possess, for then they are not blameworthy, (23:6)(70:30)

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ ﴿٧٠ المعارج ٣٠﴾ ﴿٣٤ المؤمنون ٦﴾

مگر اپنی بیویوں سے یا (کنیزوں سے) جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ (ان سے مباشرت کرنے سے) انہیں ملامت نہیں (6:23)(30:70)

But whoso craves beyond that, such are transgressors, (23:7)(70:31)

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ ﴿٧٠ المعارج ٣١﴾ ﴿٣٤ المؤمنون ٧﴾

اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ (اللہ کی مقرر کی ہوئی) حد سے نکل جانے والے ہیں (31:70)(7:23)

And who are shepherds of their pledges and their covenants, (23:8)(70:32)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ ﴿٧٠ المعارج ٣٢﴾ ﴿٣٤ المؤمنون ٨﴾

اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں (8:23)(32:70)

And who pay heed to their prayers. (23:9)(70:34)

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ ﴿٧٠ المعارج ٣٤﴾ ﴿٣٤ المؤمنون ٩﴾

اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں (9:23)(34:70)

These are the heirs (23:10)

یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں
(10:23)

﴿۲۳ المؤمنون ۱۰﴾

Who will inherit Paradise: There they will abide. (23:11)

(یعنی) جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے
(اور) اس میں ہمیشہ رہیں گے (11:23)

﴿۲۳ المؤمنون ۱۱﴾

Those who go in awe for fear of their Lord, (23:57)

جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں
(57:23)

﴿۲۳ المؤمنون ۵۷﴾

And those who believe in the revelations of their Lord, (23:58)

اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں
(58:23)

﴿۲۳ المؤمنون ۵۸﴾

And those who ascribe not partners to their Lord, (23:59)

اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے
(59:23)

﴿۲۳ المؤمنون ۵۹﴾

And those who dispense that which they give with hearts full of fear because they are about to return to their Lord, (23:60)

اور جو لوگ دے سکتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے (60:23)

﴿۲۳ المؤمنون ۶۰﴾

These race for the good things, and they shall win them in the race. (23:61)

یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان سے آگے نکل جاتے ہیں (61:23)

﴿۲۳ المؤمنون ۶۱﴾

The saying of (all true) believers when they appeal to Allah and His messenger to judge between them is only that they say: We hear and we obey. And such are the successful. (24:51)

مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے (حکم) سن لیا اور مان لیا۔ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں (51:24)

﴿۲۴ النور ۵۱﴾

Who obeys Allah and His messenger, and fears Allah, and does duty (to Him): such indeed are the victorious. (24:52)

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں (52:24)

﴿۲۴ النور ۵۲﴾

And who spend the night before their Lord, prostrate and standing, (24:64)

اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور (عجز و ادب سے) کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں
(64:25)

﴿۲۵ الفرقان ۶۴﴾

Only those believe in Our revelations who, when they are reminded of them, fall down prostrate and hymn the praise of their Lord, and they are not scornful, (32:15)

ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے (15:32)

﴿۳۲ السجدة ۱۵﴾

Who forsake their beds to appeal to their Lord in fear and hope, and spend of what We have bestowed on them. (32:16)

تَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾
﴿٣٢ السجدة ١٦﴾

ان کے پہلو سے بستر الگ رہتے ہیں (اور) وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو (مال) ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (16:32)

No doubt men who surrender to Allah, and women who surrender, and men who believe and women who believe, and men who obey and women who obey, and men who speak the truth and women who speak the truth, and men who persevere (in righteousness) and women who persevere, and men who are humble and women who are humble, and men who give alms and women who give alms, and men who fast and women who fast, and men who guard their modesty and women who guard (their modesty), and men who remember Allah much and women who remember Allah has prepared for them forgiveness and a vast reward. (33:35)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

(جو لوگ اللہ کے آگے سراطاعت خم کرنے (جھکانے) والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عورتیں اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں (کچھ شک نہیں) کہ ان کے لئے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے (35:33)

Except worshippers (70:22)

﴿٣٣ الاحزاب ٣٥﴾

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾

مگر نماز گزار (22:70)

Who are constant at their worship (70:23)

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾

جو نماز کو ہمیشہ قائم رکھتے (اور بلا ناغہ پڑھتے) ہیں (23:70)

And in whose wealth there is a right acknowledged (70:24)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے (24:70)

For the beggar and the destitute; (extremely poor due to loss of property and wealth) (70:25)

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

(یعنی) مانگنے والے کا۔ اور نہ مانگنے والے کا (25:70)

And those who believe in the Day of Judgement, (70:26)

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾

اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں (26:70)

And those who are fearful of their Lord's doom (70:27)

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں (27:70)

The doom of their Lord is that before which none can feel secure (70:28)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُنُّوا ﴿٢٨﴾

بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہو جائے (28:70)

And those who stand by their testimony (70:33)

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾

اور جو اپنی شہادتوں (گواہی) پر قائم رہتے ہیں (33:70)

These will dwell in Gardens, honoured. (70:35)

أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

یہی لوگ باغبانے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے (35:70)

Your Lord knows how you keep vigil sometimes nearly two third of the night, or (sometimes) half or a third thereof, as do a party of those with you. Allah measures the night and

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ

بیشک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت (کبھی) دو تہائی رات کے قریب اور (کبھی) آدھی رات اور (کبھی) تہائی رات قیام کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا

the day. He knows that you count it not, and turns to you in mercy. Recite, then, of the Qur'an that which is easy for you. He knows that there are sick folk among you, while others travel in the land in search of Allah's bounty, and others (still) are fighting for the cause of Allah. So recite of it that which is easy (for you), and establish worship and pay the poor due and (so) lend to Allah a goodly loan. Whatsoever good you lend before you for your souls, you will surely find it with Allah, better and greater in the recompense. And seek forgiveness of Allah. Allah is forgiving, Merciful. (73:20)

اَنْ لَّنْ تُحْصَوُهٗ فَتَابَ عَلَیْكُمْ فَاَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ اَنْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضٰی وَاٰخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْاَرْضِ یَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُونَ یُقَاتِلُوْنَ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَاَقْرءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا وَاٰ مَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَیْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا وَاَسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۷۳﴾

ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے (اتنا) قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل (یعنی معاش) کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو خلوص نیت سے اچھا قرض دیتے رہو۔ اور جو عمل نیک تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں عظیم تر پاؤ گے۔ اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ بے شک اللہ بخش دینے والا مہربان ہے (20:73)

﴿۷۳﴾ المزمّل ۲۰ ﴿﴾

اِنَّ سَعِیَكُمْ لَشٰثِی ﴿۹۲﴾

یقیناً تم لوگوں کی کوشش مختلف قسم کی ہے (4:92)

﴿۹۲﴾ اللیل ۴ ﴿﴾

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاَتَقٰی ﴿۹۲﴾

تو جس نے (اللہ کے راستے میں اپنا مال) دیا اور پرہیزگاری کی۔ (5:92)

﴿۹۲﴾ اللیل ۵ ﴿﴾

وَصَدَقَ بِالْحَسَنٰی ﴿۹۲﴾

اور نیک بات کو سچ جانا (6:92)

﴿۹۲﴾ اللیل ۶ ﴿﴾

فَسَنِّسِرُهٗ لِّیَسْرٰی ﴿۹۲﴾

اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے (7:92)

﴿۹۲﴾ اللیل ۷ ﴿﴾

وَمَا اٰمُرُوْا اِلَّا لَیْعَبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ۗ حُنَفَآءَ وَّیَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَّیُوْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِیْنُ الْقِیَمَةِ ﴿۹۸﴾

اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں (اور ایک سو ہو کر) اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور یہی سچا دین ہے (5:98)

﴿۹۸﴾ البینة ۵ ﴿﴾

Reference : 2:5 3:114 8:2 23:6,7
275 98 295 540
29 56:11,12 70:30,31 90:17
247 639 540 282

والمزید راجع ۲ البقرة: ۵ ۳ آل عمران: ۱۱۴
۸ الأنفال: ۲ ۲۳ المؤمنون: ۷۰ ۴۸ الفتح: ۲۹
۵۶ الواقعة: ۱۱ ۷۰ المعارج: ۳۰ ۹۰ البلد: ۱۷

مزید حوالہ 2:8 114:3 5:2
7,6:23 295 98 275
163/247 540
17:90 31,30:70 12,11:56
282 540 639

**WORLDLY REWARDS OF ALLAH(SWT)
FOR THE RIGHTEOUS ONES**

أنعم الله للمؤمنين في الحياة الدنيا

**مومنین کے لئے دنیا کی زندگی میں
اللہ تعالیٰ کے انعامات**

Allah has promised such of you as believe and do good works that He will surely make them to succeed (the present rulers) in the earth even as He caused those who were before them to succeed others; and that He will surely establish for them their religion which He has approved for them, and will give them in exchange safety after their fear. They serve Me. They ascribe nothing as partner to Me. Those who disbelieve henceforth, they are the miscreants. (24:55)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَاَلْبِیْضُ لَیَسْتَحْلِفُنَّ لَهُمْ دِیْنَهُمُ الَّذِی ارْتَضٰی لَهُمْ وَاَلْبِیْضُ لَیَسْتَحْلِفُنَّ لَهُمْ دِیْنَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا ۗ یَعْبُدُوْنَیْ لَا یُشْرِكُوْنَ بِیْ شَیْءًا وَاَمَنْ کَفَرٌۢ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۵﴾

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحکم وپائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکردار ہیں (55:24)

He It is Who blesses you, and His angels (bless you), that He may bring you forth from darkness to light; and He is Merciful to the believers. (33:43)

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾

﴿ ۳۳ الاحزاب ۴۳ ﴾

ALLAH (SWT) ATTUNES LOVE AND AFFECTION IN THE HEARTS OF FELLOW CREATURES FOR THE BELIEVERS

Certainly, those who believe and do good works, the Beneficent will appoint for them love. (19:96)

يَجْعَلُ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَدًا فِي قُلُوبِ النَّاسِ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

﴿ ۱۹ مریم ۹۶ ﴾

اللہ تعالیٰ مومنین کے لئے مخلوق کے دلوں میں الفت پیدا کر دیتا ہے

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے اللہ ان کی محبت (مخلوقات کے دل میں) پیدا کر دے گا (96:19)

More Reference : 3:103 8:63 60:7
Page 118/621, 118

والمزید راجع ۳ آل عمران: ۱۰۳ ۸ الأنفال: ۶۳
۶۰ الممتحنة: ۷ الصفحة ۱۱۸، ۲۲۱/۱۱۸

مزید حوالہ 3:103 8:63 60:7
صفحة 118, 621/118

DIVINE PROMISE OF BLISS FOR BELIEVERS IN THE HEREAFTER

But as for those who believe and do good works, We shall bring them into gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide forever. It is a promise from Allah in truth; and who can be more truthful than Allah in utterance? (4:122)

المكافاة للمؤمنين من الله في الآخرة

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

﴿ ۴ النساء ۱۲۲ ﴾

مومنین کے لئے آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے انعامات

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے (4:122)

And they who believe and whose seed follow them in faith, We cause their seed to join them (there), and We deprive them of nothing of their (life's) work. Every man is a pledge for that which he has earned. (52:21)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنًا ﴿٢١﴾

﴿ ۵۲ الطور ۲۱ ﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی (راہ) ایمان میں ان کے پیچھے چلی۔ ہم ان کی اولاد کو بھی ان (کے درجے) تک پہنچادیں گے اور ان کے اعمال سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے (21:52)

GLAD TIDINGS OF HAPPINESS FOR BELIEVERS IN THIS WORLDLY LIFE AS WELL AS IN THE HEREAFTER

Theirs are good tidings in the life of the world and in the Hereafter. There is no changing in the Words of Allah that is the Supreme Triumph. (10:64)

المؤمنين فائز في الدنيا و الآخرة

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

﴿ ۱۰ یونس ۶۴ ﴾

مومنین کی دنیا و آخرت میں کامیابی

ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی تو بڑی کامیابی ہے (64:10)

More Reference : 45:30 Page 471

والمزید راجع ۴۵ الجاثیة: ۳۰ الصفحة ۴۷۱

مزید حوالہ 45:30 صفحه 471

SATAN (EVIL) PREVAILS NO AUTHORITY OVER THE BELIEVERS

As for My (faithful) bondmen you have no power over them and your Lord suffices as (their) guardian. (17:65)

لاسيطرة للشيطان على عباد الله

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

﴿ ۱۷ بنی اسرائیل ۶۵ ﴾

مومنین پر شیطان قابو نہیں پاسکتا

جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور (اے پیغمبر) آپ کا پروردگار کار ساز کافی ہے (65:17)

More Reference : 15:40,42 16:99 38:83
Page 914, 384

والمزید راجع ۱۵ الحجر: ۴۰، ۴۲ ۱۶ النحل: ۹۹
۳۸ ص ۸۳ الصفحة ۳۸۴، ۹۱۴

مزید حوالہ 15:40,42 16:99 38:83
صفحة 384, 914

**BELIEVER AND UNBELIEVER
ARE INCOMPATIBLE**

The similitude of the two parties is as the blind and the deaf and the other seer and the hearer. Are they equal in similitude? Will you not then be admonished? (11:24)

And the blind man and the seer are not equal, neither are those who believe and do good works (equal with) the evildoer. Little do you reflect! (40:58)

**DEEDS OF THE RIGHTEOUS ARE LIKE
A GOODLY TREE**

See you not how Allah coins a similitude: A goodly saying, as a goodly tree, its root set firm, its branches reaching into heaven, giving its fruit at every season by permission of its Lord? Allah coins the similitudes for mankind in order that they may reflect. (14:25)

giving its fruit at every season by permission of its Lord? Allah coins the similitudes for mankind in order that they may reflect. (14:25)

**REWARD OF ALLIANCE WITH
THE BELIEVERS**

And anyone who takes Allah and His Messenger and those who believe as friend (will know that), the party of Allah, they are the victorious. (5:56)

**ALLAH (SWT) IS THE PATRON
OF BELIEVERS**

Allah is the Protecting Friend of those who believe. He brings them out of darkness into light (2:257) PART

**BELIEVERS ARE THE BEST
OF ALL CREATURES**

And those who believe and do good works are the best of created beings. (98:7)

لا یستوی المؤمن والکافر

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾
﴿١١ ہود ٢٤﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾
﴿٤٠ المؤمن ٥٨﴾

مثل أعمال المؤمن كشجرة طيبة

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾
﴿١٤ ابراهيم ٢٤﴾

تَوَوَّعَى أَكْهَأَكْلٍ حِينَ يَأْذُنُ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾
﴿١٤ ابراهيم ٢٥﴾

أجر ولاية المؤمن

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٥ المائدة ٥٦﴾

الله ولي المؤمنين

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿٢٥٧﴾
﴿٢ البقرة ٢٥٧﴾ جزء

المؤمنون خير البرية

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٩٨﴾
﴿٩٨ البينة ٩٨﴾

مومن اور کافر کبھی یکساں نہیں ہو سکتے

دونوں فرقوں (یعنی کافر و مومن) کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور (دوسرا) ایک دیکھتا سنتا۔ بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں (24:11)

اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں۔ اور نہ ایمان لانے والے نیکو کار اور نہ بدکار برابر ہیں (حقیقت یہ ہے کہ) تم بہت کم غور کرتے ہو (58:40)

مومن کے اعمال کی مثال۔ (پاکیزہ درخت)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے (وہ ایسی ہے) جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط (یعنی زمین کو پکڑے ہوئے) اور شاخیں آسمان میں ہیں (24:14)

اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں (25:14)

مومن سے دوستی کا اجر

اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا اور وہ (اللہ کی جماعت) ہی غلبہ پانے والی ہے (56:5)

اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے (257:2) جزو

مومن تمام مخلوق سے بہتر (اشرف المخلوقات)

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں (7:98)

DEATH THE EXPIRY OF PROBATIONARY PERIOD **الموت** **موت**

EVERY SOUL IS BOUND TO TASTE DEATH
 Every soul will taste of death -----
 ----- (3:185)(21:35) PART
 Every soul will taste of death. Then to Us you will be returned. (29:57)

کل حی سیدوق الموت
 كَلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
 ﴿۳﴾ آل عمران ۱۸۵ ﴿۳۵﴾ الانبیاء ۲۱ ﴿۳۵﴾ جزء
 كَلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَتَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَالَّذِنَّا تُرْجَعُونَ
 ﴿۲۹﴾ العنکبوت ۵۷

ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے
 ہر جان دار کو موت کا مزا چکھنا ہے
 ----- (185:3) جزو (35:21) جزو
 ہر جان دار موت کا مزہ چکھنے والا ہے پھر تم ہماری ہی
 طرف واپس آؤ گے (57:29)

More Reference : 7:185 55:26,27 62:8
 Page 772, 104

والمزید راجع ۷ الأعراف: ۱۸۵ ۵۵ الرحمن: ۲۶، ۲۷
 ۶۲ الجمعة: ۸ الصفحة ۷۷۲، ۱۰۴

مزید حوالہ 7: 62 27,26: 55 185: 7
 صفحه 104, 772

NO ONE CAN ESCAPE DEATH
 Wheresoever you may be, death will overtake you, even though you are in lofty towers.-----
 ----- (4:78) PART

لا مفر من الموت
 أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي
 بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ
 ﴿۷۸﴾ النساء جزء

موت سے فرار ممکن نہیں
 تم کہیں رہو موت تو تمہیں آکر رہے گی خواہ بڑے بڑے
 علوں میں رہو۔----- (78:4) جزو

More Reference : 3:154,168 62:8 63:11
 Page 704/705, 772

والمزید راجع ۳ آل عمران: ۱۵۴، ۱۶۸ ۶۲ الجمعة: ۸
 ۶۳ المنافقون: ۱۱ الصفحة ۷۰۴/۷۰۵، ۷۷۲

مزید حوالہ 3: 168، 154 62: 8 63: 11
 صفحه 704/705، 772

NO ONE KNOWS WHERE ONE WILL DIE
 -----And no soul knows in which land it will die. Allah is Knower, Aware. (31:34) PART

لا يعلم أحد أين يموت
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 ﴿۳۱﴾ لقمان ۳۴ ﴿۳۴﴾ جزء

کوئی جاندار اپنی موت کی جگہ اور مقام نہیں جانتا
 اور کوئی جان دار نہیں جانتا کہ کس سر زمین میں اسے موت آئے گی بے شک اللہ ہی
 جاننے والا (اور) صحیح خبروں والا ہے (34:31) جزو

TIME FOR DEATH IS SETTLED
 No soul can ever die except by Allah's leave and at a term appointed.-----
 ----- (3:145) PART
 And every nation has its term, and when its term comes, they cannot put it off an hour nor yet advance (it). (7:34)

الموت مؤجل
 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبَ
 مُّوَجَّلَاتِهِمْ
 ﴿۳﴾ آل عمران ۱۴۵ ﴿۱۴۵﴾ جزء
 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
 سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
 ﴿۷﴾ الأعراف ۳۴

موت کا ایک وقت مقرر ہے
 اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر
 مر جائے (اس نے موت کا) وقت مقرر کر کے لکھ رکھا
 ہے۔----- (145:3) جزو
 اور ہر ایک گروہ (امت) کے لئے (موت کا) ایک
 وقت مقرر ہے۔ جب وہ آجاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر
 کر سکتے ہیں نہ جلدی (34:7)

-----For every nation there is an appointed time. When their time comes, then they cannot put it off an hour, nor hasten (it). (10:49) PART

لیکل امتة اجل اذا جاء اجلهم فلا
 يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
 ﴿۱۰﴾ یونس ۴۹ ﴿۴۹﴾ جزء

ہر ایک امت کے لئے (موت کا) ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آجاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں (49:10)

More Reference : 6:2 7:185 16:61 34:30
 Page 115 772 123 836
 35:11 39:42 40:67 63:11
 399 117 397 772

والمزید راجع ۶ الأنعام: ۲ ۷ الأعراف: ۱۸۵
 ۱۶ النحل: ۶۱ ۲۴ ساء: ۲۰ ۲۵ فاطر: ۱۱ ۲۹ الزمر: ۴۲
 ۴۰ المؤمنون (غافر): ۶۷ ۶۳ المنافقون: ۱۱

مزید حوالہ 6: 2 7: 185 16: 61 34: 30
 صفحہ 115 772 123 836
 11: 35 39: 42 40: 67 63: 11
 399 117 397 772

DEATH IS INEVITABLE

Have they not considered the dominion of the heavens and the earth, and what things Allah has created, and that it may be that their own term draws near? In what fact after this will they believe? (7:185)

Say (to them, O` Muhammad): The death from which you shrink will surely meet you, and afterward you will be returned to the Knower of the invisible and the visible, and He will tell you what you used to do. (2:8)

But Allah reprieves no soul when its term comes, and Allah is Aware of what you do. (63:11)

Reference 3:168 4:78 21:34 39:30
Page 704, 98/369, 734, 737

الموت محتوم

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ
يَكُونُ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾
﴿٧ الاعراف ١٨٥﴾

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ
ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾
﴿٦٢ الجمعة ٨﴾

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾
﴿٦٣ المنفقون ١١﴾

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ١٦٨ ٤ النساء: ٧٨
٢١ الأنبياء: ٣٤ ٣٩ الزمر: ٣٠

موت اٹل ہے

کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی۔ اور اس بات پر (خیال نہیں کیا) کہ عجب نہیں ان (کی موت) کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ (185:7)

کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آکر رہے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف واپس جاؤ گے پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا (8:62)

اور جب کسی کی موت آجاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے (11:63)

المزيد حوالہ 3:168 4:78 21:34 39:30
صفحة 704, 98/369, 734, 737

**THE WAY OF FACING DEATH OF THE
RIGHTEOUS AND WICKED
(BELIEVER AND ATHEIST) IS NOT LIKEWISE**

Is someone who is a believer like to someone who is an evil-liver? They are not on the same footing. (32:18)

Do those who commit ill-deeds suppose that We shall make them as those who believe and do good works, the same in life and death? And is their judgement! (45:21)

Reference : 79:1,2,3 Page 377

لا يكون موت المؤمن والكافر سواء

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿٣٢﴾
﴿٣٢ السجدة ١٨﴾

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً قَبْلَهُمْ
وَمِمَّا نُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤٥﴾
﴿٤٥ الجاثية ٢١﴾

والمزيد راجع ٧٩ النازعات: ٣٠٢،١ الصفحة ٣٧٧

مؤمن اور کافر کی موت یکساں نہیں

بھلا جو مؤمن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے (18:32)

جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے (اور) ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ (21:45)

المزيد حوالہ 3,2,1:79 صفحه 377

**PHYSICAL DEATH OF RIGHTEOUS (BELIEVERS)
WILL BRING THEM INTO ETERNAL LIVES**

Those whom the angels cause to die (when they are) good persons. They shall have Peace be to you! Enter the Garden because of what you used to do. (16:32)

Reference : 21:103 79:2 Page 865,377

**موت المؤمن
موجب للراحة الأبدية له**

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾
﴿١٦ النحل ٣٢﴾

والمزيد راجع ٢١ الأنبياء: ١٠٣ ٧٩ النازعات: ٢

**مؤمن کی طبعی موت
اس کی ابدی راحت لاتی ہے**

(ان کی کیفیت یہ ہے کہ) جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ (کفر و شرک سے) پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے بہشت میں داخل ہو جاؤ (32:16)

المزيد حوالہ 21:103 79:2 Page 865,377
صفحة 377,865 2:79 103:21

WRONGDOERS ARE FEARFUL OF DEATH BECAUSE OF THEIR EARNING

Say (to them): If the abode of the Hereafter in the providence of Allah is indeed for you alone and not for others of mankind (as you pretend), then long (wish) for death (for you must long for death) if you are truthful. (2:94)

But they will never long (desire) for it, because of that which their own hands have sent before them. Allah is Aware of evildoers. (2:95)

More Reference : 2:96 62:6,7
Page 422, 599, 600

TERRIBLE DEATH OF POLYTHEISTS AND ATHEISTS

-----If you could see, when the wrongdoers reach the pangs of death and the angels stretch their hands out, saying: Deliver up your souls. This Day you are awarded doom of degradation for that you spoke concerning Allah other than the truth, and scorn His portents. (6:93) PART

Who does greater wrong than he who invents a lie concerning Allah or denies His tokens. (For such) their appointed portion of the Book (of destiny) reaches them till, when Our messengers (of death) come to gather them, they say: Where (now) is that to which you cried besides Allah? They say: They have departed from us. And they testify against themselves that they were disbelievers. (7:37)

If you could see how the angels receive those who disbelieve, smiting their faces and their backs and (saying): Taste the punishment of burning! (8:50)

This is for that which your own hands have sent before (to the Judgement), and (know) that Allah is not a tyrant to His slaves. (8:51)

المدنوں یخافون الموت بسوء اعمالهم

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾
﴿٢ البقرة ٩٤﴾

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾
﴿٢ البقرة ٩٥﴾

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٩٦ ٦٢ الجمعة: ٧٠٦
الصفحة ٤٢٢، ٥٩٩، ٦٠٠

كيفية موت المشركين والكافرين

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ فَاخْرَجُوا أَنفُسَهُمْ أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾
﴿٦ الانعام ٩٣﴾ جزء

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُخَبِّرُهُمْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا نَقُولُ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٧ الاعراف ٣٧﴾

وَلَوْ تَرَى إِذِ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَصْرَبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ وَاذْذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾
﴿٨ الانفال ٥٠﴾

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾
﴿٨ الانفال ٥١﴾

گنہگاروں کا اپنے اعمال کے سبب موت سے خوف

کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں (یعنی مسلمانوں) کے لئے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لئے مخصوص ہے تم اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو (94:2)

لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے (خوب) واقف ہے (95:2)

مزیں حوالہ 7,6:62 96:2
صفحة 600, 599, 422

مشركين اور كفار کی موت کی کیفیت

اور کاش تم ان ظالم (یعنی مشرک) لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں (بتلا) ہوں اور فرشتے (ان کی طرف عذاب کے لئے) ہاتھ بڑھا رہے ہوں۔ کہ نکالو اپنی جانیں۔ آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائیگی اس لئے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے (93:6) جزو

تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا۔ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) جان نکالنے آئیں گے۔ تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ وہ (اب) کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے (معلوم نہیں) کہ وہ ہم سے (کہاں) غائب ہو گئے اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے (37:7)

اور کاش تم اس وقت (کی کیفیت) دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں ان کے مونہوں اور پیٹھوں پر (کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ) مارتے (ہیں) اور کہتے ہیں کہ (اب) عذاب آتش (کامزہ) چکھو (50:8)

یہ ان (اعمال) کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اور یہ (جان رکھو) کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا (51:8)

Whom the angels cause to die while they are wronging themselves. Then they will make full submission (saying): We used not to do any wrong. No! Surely Allah is Knower of what you used to do. (16:28)

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ
فَالْقَوْلُ السَّامِعُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾
﴿١٦ النحل ٢٨﴾

(ان کا حال یہ ہے کہ) جب فرشتے ان کی رو میں قبض کرنے لگتے ہیں (اور یہ) اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے (ہوتے ہیں) تو اس وقت عاجزی کرنے لگتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ سے خوب جانتا ہے (28:16)

Then how (will it be with them) when the angels gather them, smiting their faces and their backs! (47:27)

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾
﴿٤٧ محمد ٢٧﴾

تو اس وقت (ان کا) کیسا (حال) ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے (اور) ان کے مونہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے (27:47)

That will be because they followed that which angers Allah, and hated that which pleases Him. Therefore He has made their actions vain. (47:28)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا كَسَبَتْ أَلْسِنُوهُمْ
وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾
﴿٤٧ محمد ٢٨﴾

یہ اس لئے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش (ناراض) ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی رضامندی کو اچھا نہ سمجھا تو اللہ نے بھی ان کے عملوں کو ضائع کر دیا (28:47)

More Reference : 79:1 Page 377

والمزيد راجع ٧٩ النزاعات: ١ الصفحة ٣٧٧

مزيد حوالہ 1:79 صفحہ 377

AGONY AND STUPOR OF DEATH LAST GASP OF WORLDLY LIFE

And the agony of death comes in this was the state you were escaping from truth. (And it is said to him): This is that which you were escaping from. (50:19)

سکرات الموت (وقت النزاع)

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ
مِنْهُ تَحِيدٌ ﴿١٩﴾
﴿٥٠ ق ١٩﴾

سکرات موت (وقت نزاع)

اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کے لئے طاری ہو گئی۔ (اے انسان) یہی (وہ حالت ہے) جس سے تو بھاگتا تھا (19:50)

Why, then, when (the soul) comes up to the throat (of the dying) (56:83)

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾
﴿٥٦ الواقعة ٨٣﴾

بھلا جب روح گلے میں (نرخرے تک) آپہنچتی ہے (83:56)

And you are at that moment looking (56:84)

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾
﴿٥٦ الواقعة ٨٤﴾

اور تم اس وقت (کی حالت) کو آنکھوں سے دیکھا کرتے ہو (84:56)

And We are nearer to him than you are, but you see not (56:85)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾
﴿٥٦ الواقعة ٨٥﴾

اور ہم اس (مرنے والے) سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے (85:56)

Why then, if you are not in bondage to Us, (56:86)

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٨٦﴾

پس اگر تم کسی کے زیر فرماں نہیں ہو (86:56)

Do you not force it back, if you are truthful? (56:87)

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾
﴿٥٦ الواقعة ٨٧﴾

تو اگر سچے ہو تو روح کو لوٹا کیوں نہیں لیتے (87:56)

Do, but when the life comes up to the throat (75:26)

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الرَّاقِيَ ﴿٢٦﴾
﴿٧٥ القيامة ٢٦﴾

دیکھو جب جان گلے ہنلی (گردن کے قریب ایک ہڈی) تک پہنچ جائے (26:75)

And men say: Where is the wizard who can save him now? (75:27)

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾
﴿٧٥ القيامة ٢٧﴾

اور لوگ کہنے لگیں (اس وقت) کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے (27:75)

And he knows that it is the parting. (75:28)

وَذُنُوبُهُ أَلْوَنُ مِنَ الْقِرَاقِ ﴿٢٨﴾
﴿٧٥ القيامة ٢٨﴾

اور اس (قریب المرگ) نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی کا وقت ہے (28:75)

More Reference : 75:29 Page -797

والمزيد راجع ٧٥ القيامة: ٢٩ الصفحة ٧٩٧

مزيد حوالہ 29:75 صفحہ 797

THE ANGEL OF DEATH WHO COMES TO TAKE SOUL AT APPOINTED TIME AND MANNER

He is the Omnipotent over His slaves. He sends guardians over you until, when death comes to one of you, Our messengers receive him, and they neglect not. (6:61)

Are they merely waiting for the angels to come to them or your Lord's command should come to pass? Even so did those before them. Allah wronged them not, but they did wrong themselves, (16:33)

Say: The angel of death, who has charge concerning you, will gather you, and afterward to your Lord you will be returned. (32:11)

More Reference : 6:94 7:37 8:50 16:28,32 47:27 Page 814, 773, 774, 772

REALITY OF THE SPIRIT "RUH"

They ask you concerning the Spirit. Say: The Spirit is by command of my Lord, and of knowledge you have been vouchsafed but little. (17:85)

For Detail Consult :	12:87	15:29	19:17
Page	992	907	1093
32:9	38:22	40:15	42:52
1093	1069	375	164
66:12	70:4	78:38	97:4
1093	328	815	264

"GABRIEL" THE FAITHFUL ANGEL THE SPIRIT OF ALLAH (SWT)

For Detail Consult : Page 208, 380, 687

PURIFIED SPIRIT

And inspired it (with conscience of) what is wrong for it and (what is) right for it. (91:8)

He is indeed successful who causes it to grow, (91:9)

And he is indeed a failure who stunts it. (91:10)

More Reference: 87:14 Page 258

BURYING OF CORPSE (DEPOSITING OF DEAD BODY IN THE GRAVE) A TOKEN OF RESPECT TOWARDS HUMANITY

Then causes him to die, and puts him in his Grave.; (80:21)

ملك الموت

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ﴿٦١﴾

﴿٦١ الانعام﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦﴾

﴿١٦ النحل﴾

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

﴿١١ السجدة﴾

والمزيد راجع ٦ الانعام: ٩٤ ٧ الأعراف: ٣٧ ٨ الأنفال: ٥٠ ١٦ النحل: ٢٢، ٢٨، ٤٧ محمد: ٢٧

حقيقة الروح

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

﴿٨٥ بنى اسرائيل﴾

والمزيد راجع	١٢ يوسف: ٨٧	١٥ الحجر: ٢٩
١٩ مريم: ١٧	٣٢ السجدة: ٩	٣٨ ص: ٢٢
٤٠ المؤمنون راعى: ١٥	٤٢ الشورى: ٥٢	٥٨ المجادلة: ٢٢
٦٦ التحريم: ١٢	٧٠ المعارج: ٤	٧٨ النبأ: ٢٨
٩٧ القدر: ٤		

روح القدس، روح الامين (جبرئيل عليه السلام) روح الله

والمزيد راجع الصفحة ٢٠٨، ٣٨٠، ٦٨٧

النفس الزكية

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨١﴾

﴿٨١ الشمس﴾

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

﴿٩ الشمس﴾

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

﴿١٠ الشمس﴾

والمزيد راجع: ٨٧ الأعلى: ١٤ الصفحة ٢٥٨

تدفين الموتى إكرام الانسان بعد موته

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٨٠﴾ عيس ٢١ ﴿٢١﴾

موت کا فرشتہ (ملك الموت)

وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کئے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کوتاہی نہیں کرتے (61:6)

کیا یہ (کافر) اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس (جان نکالنے) آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم (عذاب) آئیے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے (33:16)

کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے (11:32)

مزيد حوالہ 6:94 7:37 8:50 16:28,32 47:27 27:47 صفحہ 772, 774, 773, 814

روح کی حقیقت

اور یہ لوگ آپ سے سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے (وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے) اور تم لوگوں کو (بہت ہی) کم علم دیا گیا ہے (85:17)

مزيد حوالہ	12:87	15:29	19:17
صفحہ	992	907	1093
32:9	38:22	40:15	42:52
1093	1069	375	164
66:12	70:4	78:38	97:4
1093	328	815	264

روح القدس روح الامين (جبرئيل عليه السلام) روح الله

مزيد حوالہ صفحہ 208, 380, 687

(روحانی پاکیزگی) پاکیزہ روح

پھر اس کو بدکاری (سے بچنے) اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی (8:91)

کہ جس نے (اپنے) نفس (یعنی روح) کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا (9:91)

اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ ناکام رہا (10:91)

مزيد حوالہ: 87:14 صفحہ 258

احترام انسانیت بعد از موت دفن کرنا

پھر اس کو موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا (21:80)

Then, when He will, He brings him again to life. (80:22)

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشُرْهُ ۗ ﴿٢٢﴾
﴿٢٢ عیس ٨٠﴾

پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا (22:80)

No but (man) has not done what He commanded him. (80:23)

كَلَّا لَيَأْقِضُ مَا أَمَرَهُ ۗ ﴿٢٣﴾
﴿٢٣ عیس ٨٠﴾

کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا (23:80)

FIRST EVER INSTANCE OF BURIAL OF CORPSE ON THE EARTH

بداية دفن الميت

میت دفن کرنے کی ابتداء

Detail Consult : 5:31 Page 915

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٣١ - الصفحة ٩١٥
راجع باب هابيل وقابيل

تفصیل کے لئے دیکھیے 31:5 صفحہ 915
باب ہابیل وقابیل

PURGATORY - A PLACE OR STATE OF TEMPORARY PUNISHMENT IN THE GRAVE

عذاب القبر

عذاب قبر

the Fire; they are exposed to it morning and evening; and on the day when the Hour up rises (it is said): Cause Pharaoh's folk to enter the most awful doom. (40:46)

الَّتَارِيْعُرْضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَ
يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ
أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾
﴿٤٦ المؤمن ٤٠﴾

(یعنی) آتش (جنم) کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی (حکم ہوگا کہ) فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو (46:40)

and for those who do wrong, there is a punishment beyond that. But most of them know not. (52:47)

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾
﴿٥٢ الطور ٤٧﴾

اور ظالموں کے لئے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے (47:52)

you who believe! Be not friendly with a folk with whom Allah is angry, (a folk) who have despaired of the Hereafter as the disbelievers despair of those who are in the graves. (60:13)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسُؤُ
الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾
﴿٦٠ الممتحنه ١٣﴾

مومنو! ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو (کیونکہ) جس طرح کافروں کو مردوں (کے جی اٹھنے) کی امید نہیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت (کے آنے) کی امید نہیں (13:60)

Reference : 6:36 22:7 Page 786

وللمزيد راجع ٦ الأنعام: ٣٦ - الحج: ٢٢

مزید حوالہ 36:6 7:22 صفحہ 786

"ARZAKH"-PARTITION-INTERMEDIATE PERIOD (DIESSENT STATE) BETWEEN PHYSICAL DEATH AND RESURRECTION FOR JUDGEMENT

عالم البرزخ

عالم برزخ

-----And behind them is a barrier until the Day when they are raised. (23:100) PART

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ
إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١٠٠﴾ جزء

----- اور ان کے پیچھے برزخ ہے (جہاں وہ) اس دن تک کہ (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے (رہیں گے) (100:23) جزو

Reference : 6:36 22:7 Page 786

وللمزيد راجع ٦ الأنعام: ٣٦ - الحج: ٢٢

مزید حوالہ 36:6 7:22 صفحہ 786

ASKING FORGIVENESS FOR ANOTHER BELIEVER (CONVEYING REWARD BY ALIEN(S) ON THE DAY OF JUDGEMENT) THROUGH ACTS OF CONTINUAL AND INCESSANT EFFECTS

إيصال الثواب

کسی دوسرے مسلمان کو ایصال ثواب پہنچانا

Surely We shall bring the dead to life. We record that which they send before (them), and their footprints. (Which they leave behind) and all things We have kept in a clear Register. (36:12)

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا
وَإِنَّا لَهُمْ حَافِظُونَ ﴿١٢﴾
﴿٣٦ يس ١٢﴾

بیشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور (جو) ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کرتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن (یعنی لوح محفوظ) میں لکھ رکھا ہے (12:36)

**RESURRECTION
RAISING TO LIFE OF ALL DEAD HUMAN
FOR FINAL JUDGEMENT**

النشور

حیات بعد الموت

**DOUBT OF ATHEISTS ABOUT
RESURRECTION
AND THEIR FALSE ARGUING**

And they say: There is nothing except our life of the world, and we shall not be raised (again). (6:29)

And if you should feel astonished, then how wondrous is their saying: When we are dust, are we then forsooth (to be raised) in a new creation? Such are they who disbelieve in their Lord; such will have fetters around their necks; such will be rightful owners of the Fire, they will abide therein. (13:5)

And they swear by Allah their most binding oaths (that) Allah will not raise him up who dies. No, but it is a promise (binding) upon Him in truth, but most of mankind know not, (16:38)

That He may explain to them that wherein they differ, and that those who disbelieved may know that they were liars. (16:39)

And they say: When we are bones and fragments, shall we, forsooth, be raised up as a new creation? (17:49)

Say: Be you stones or iron (17:50)

Or some created thing that is yet greater in your thoughts! Then they will say: Who shall bring us back (to life)? Say: He Who created you at the first. Then they will shake their heads at you, and say: When will it be? Say: It will perhaps be soon. (17:51)

And he whom Allah guides, he is led aright; while, whom He sends astray, for them you will find no protecting friends besides Him, and We shall assemble them on the Day of Resurrection on their faces, blind, dumb and deaf; their habitation will be Hell; whenever it abates, We increase the flame for them. (17:97)

شكوك الكافرين في البعث
بعد الموت واستدلالهم الزائف

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ
بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾
﴿٦ الانعام ٢٩﴾

وَأَن تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُرَابًا
إِنَّا لَنفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ؕ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَإِنَّهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ﴿٥﴾
﴿١٣ الرعد ٥﴾

وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ
اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدَّآ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِن
أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾
﴿١٦ النحل ٣٨﴾

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾
﴿١٦ النحل ٣٩﴾

وَقَالُوا ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرِقَاقًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾
﴿١٧ بني اسرنيل ٤٩﴾

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾
﴿١٧ بني اسرنيل ٥٠﴾

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ
مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى
هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾
﴿١٧ بني اسرنيل ٥١﴾

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ
تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآءٌ وَبُكْمًا
وَصُمًّا ﴿٩٧﴾
﴿١٧ بني اسرنيل ٩٧﴾

منكرين کے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر
شکوک اور ان کے باطل استدلال

اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی
(زندگی) ہے اور ہم (مرنے کے بعد) پھر زندہ نہیں
کئے جائیں گے (29:6)

اگر تم عجیب بات سنی جاہو۔ تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے
کہ جب ہم (مر کر) مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے
سرے سے (دوبارہ) پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو
اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں۔ اور یہی ہیں جن کی
گردنوں میں طوق ہوں گے۔ اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ
ہمیشہ اس میں (جلتے رہیں گے) (5:13)

اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں جو مرنے والے اللہ
سے (قیامت کے دن قبر سے) نہیں اٹھائے گا۔ ہرگز نہیں۔
یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے لیکن اکثر
لوگ نہیں جانتے (38:16)

تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر
کر دیا جائے اور اس لئے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے
تھے (39:16)

اور کہتے ہیں کہ جب ہم (مر کر بے سیدہ) ہڈیاں اور چور
چور ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے (دوبارہ) پیدا
ہو کر اٹھیں گے؟ (49:17)

کہہ دیجئے کہ (خواہ تم) پتھر ہو جاؤ یا لوہا (50:17)

یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک (پتھر اور لوہے سے
بھی) بڑی (سخت) ہو۔ جھٹھٹ کہیں گے کہ (بھلا)
ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے کہ وہی جس
نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ تو (تعجب سے) تمہارے
آنکے سر ہلانے لگے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا۔
کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ جلد ہوگا (51:17)

اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ
ہے۔ اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوال ان کے مدد
گار نہیں پاؤ گے۔ اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے
منہ اندھے گونگے اور بہرے (ہنا کر) اٹھائیں گے اور
ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ جب (اس کی آگ) جھنسنے کو
ہوگی تو ہم ان پر عذاب دینے کے لئے (اور بھڑکادیں
گے) (97:17)

That is their reward because they disbelieved Our revelations and said: When we are bones and fragments shall we, forsooth, be raised up as a new creation? (17:98)

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوْا
اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا اِنَّا لَبَعُوْثُوْنَ خَلْقًا
جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

﴿١٧ بنی اسرائیل ۹۸﴾

یہ ان کی سزا ہے اس لئے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم (مگر بوسیدہ) ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کئے جائیں گے؟ (98:17)

Have they not seen that Allah Who created the heavens and the earth is Able to create the like of them, and has appointed for them an end whereof there is no doubt? But the refusal of wrongdoers is nothing except disbelief. (17:99)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا
لَّا رَيْبَ فِيْهِ فَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَلْاَكْفُوْرٰٓءِ ﴿٩٩﴾

﴿١٧ بنی اسرائیل ۹۹﴾

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے (لوگ) پیدا کر دے۔ اور اس نے ان کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں۔ تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا (اسے) قبول نہ کیا (99:17)

And man says: When I am dead, shall I forsooth be brought forth alive? (19:66)

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ اِذَا اَمَاتٌ لَّسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

﴿١٩ مریم ۶۶﴾

اور (کافر) انسان کہتا ہے کہ جب مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ (66:19)

Does not man remember that We created him before, when he was nothing? (19:67)

اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اِنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ
يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾

﴿١٩ مریم ۶۷﴾

کیا (ایسا) انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا (67:19)

Then after that you surely die. (23:15)

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَكٰيْتُوْنَ ﴿١٥﴾

﴿٢٣ المؤمنون ۱۵﴾

پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو (15:23)

Then on the Day of Resurrection you are raised (again). (23:16)

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾

﴿٢٣ المؤمنون ۱۶﴾

پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کئے جاؤ گے (16:23)

Does he promise you that you, when you are dead and have become dust and bones, will (again) be brought forth? (23:35)

اَيَعِدُكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا
اِنَّكُمْ تُخْرَجُوْنَ ﴿٣٥﴾

﴿٢٣ المؤمنون ۳۵﴾

کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں (کے سوا کچھ نہ رہے گا) تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ (35:23)

begone, begone, with that which you are promised! (23:36)

هَيِّاتَ هَيِّاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٦﴾

﴿٢٣ المؤمنون ۳۶﴾

جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے دور بہت دور ہے (36:23)

There is nothing but our life of the world; we die and we live, and we shall not be raised (again). (23:37)

اِنَّ هِيَ اِلَّا حَيٰتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيٰ وَّمَا
نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٣٧﴾

﴿٢٣ المؤمنون ۳۷﴾

زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ (اسی میں) ہم مرتے اور جیتتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے (37:23)

But they say the like of that which said the men of old; (23:81)

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالِ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾

﴿٢٣ المؤمنون ۸۱﴾

بات یہ ہے کہ جو بات اگلے (کافر) کہتے تھے اسی طرح کی (بات) یہ کہتے ہیں (81:23)

They say: When we are dead and we become (mere) dust and bones, shall we then, forsooth, be raised again? (23:82)

قَالُوْا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اِنَّا
لَبَعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾

﴿٢٣ المؤمنون ۸۲﴾

کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں (بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا) تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ (82:23)

We were already promised this, we and our forefathers. This is nothing but fables of the men of old. (23:83)

لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤَنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ
إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾
﴿٢٣ المنون ٨٣﴾

یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے (اجی) یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں (83:23)

No, But their knowledge does not reach to the Hereafter? for they are in doubt concerning it. Indeed they cannot see it. (27:66)

بَلْ أَدْرَاكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ تَبَلُّهُمْ
فِي شَكِّكَ مِنْهَا تَبَلُّهُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾
﴿٢٧ النمل ٦٦﴾

بلکہ آخرت (کے بارے) میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں (66:27)

Yet those who disbelieve say: When we have become dust like our fathers, shall we be brought forth (again)? (27:67)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا
وَأَبَاؤُنَا آيَاتًا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾
﴿٢٧ النمل ٦٧﴾

اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر (قبروں سے) نکالے جائیں گے؟ (67:27)

We were promised this, forsooth, we and our fathers. (All) this is nothing but fables of the men of old. (27:68)

لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤَنَا مِنْ قَبْلُ
إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾
﴿٢٧ النمل ٦٨﴾

یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے (کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت) یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں (68:27)

See they not how Allah produces creation, then reproduces it? Indeed for Allah that is easy. (29:19)

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾
﴿٢٩ العنكبوت ١٩﴾

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا پھر (کس طرح) اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے یہ اللہ کو آسان ہے (19:29)

Say (O Muhammad): Travel in the land and see how He originated creation, then Allah brings forth the later growth. Surely Allah is Able to do all things. (29:20)

قُلْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ
الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٢٠﴾

کہہ دیجئے کہ ملک میں چل پھر کر دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (20:29)

Those who disbelieve say: Shall we show you a man who will tell you (that) when you have become dispersed in dust with most complete dispersal, still, even then, you will be created anew? (34:7)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُوكُمْ عَلَى
رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ
إِنكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾
﴿٣٤ سبا ٧﴾

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم (مر کر) بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہو گے (7:34)

When we are dead and have become dust and bones, shall we then, forsooth, be raised (again)? (37:16)

وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَ الْمُبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾
﴿٣٧ الصفت ١٦﴾

بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ (16:37)

And our forefathers? (37:17)

أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾
﴿٣٧ الصفت ١٧﴾

اور کیا ہمارے باپ دادا بھی (جو) پہلے ہو گزرے ہیں (17:37)

Say Yes, in truth; and you will be brought low. (37:18)

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾
﴿٣٧ الصفت ١٨﴾

کہہ دیجئے کہ ہاں۔ اور تم ذلیل ہو گے (18:37)

Yet the latter kept as saying: (44:34)

إِنَّ هُوَ إِلَّا لَيْقُولُونَ ﴿٣٤﴾
﴿٤٤ الدخان ٣٤﴾

یہ لوگ یہ کہتے ہیں (34:44)

There is nothing but our first death, and we shall not be raised again. (44:35)

إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾
﴿٤٤ الدخان ٣٥﴾

کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ (یعنی ایک بار) مرنا ہے (اور پھر) اٹھنا نہیں (35:44)

Bring back our fathers, if you speak the truth! (44:36)

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾
﴿٤٤ الدخان ٣٦﴾

ہاں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو (زندہ کر) لاؤ (36:44)

And when Our clear revelations are recited to them their only argument is that they say: Bring (back) our fathers then, if you are truthful. (45:25)

وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابًا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾
﴿٤٥ الجاثية ٢٥﴾

اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی قیاس ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو (زندہ کر) لاؤ (25:45)

Indeed they are astonished that a Warner of their own has come to them; and the disbelievers say: This is a strange thing: (50:2)

بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾
﴿٥٠ ق ٢﴾

لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو (بڑی) عجیب ہے (2:50)

When we are dead and have become dust (shall we be brought back again)? That would be a far return! (50:3)

عِٰذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾
﴿٥٠ ق ٣﴾

بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے (تو پھر زندہ ہوں گے؟) یہ زندہ ہونا (عقل سے) بعید ہے (ممکن نہیں) (3:50)

Do you know that which the earth takes from them, and with Us is a recording book. (50:4)

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتٰبٌ حٰفِیظٌ ﴿٤﴾
﴿٥٠ ق ٤﴾

انکے جسموں کو زمین جتنا (کھا کھا کر) کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے۔ اور ہمارے پاس یادداشت والی کتاب ہے (4:50)

When they have denied the truth when it came to them, therefore they are now in troubled case. (50:5)

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِيْ اَمْرٍ مَّرِیْجٍ ﴿٥﴾
﴿٥٠ ق ٥﴾

بلکہ (عجیب بات یہ ہے کہ) جب ان کے پاس (دین) حق آپہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں (پڑے) ہیں (5:50)

Where We then worn out by the first creation? Yet they are in doubt about a new creation. (50:15)

اَفَعِیْبُنَا بِاِخْلَاقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ ﴿١٥﴾
﴿٥٠ ق ١٥﴾

کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ (نہیں) بلکہ یہ دوبارہ پیدا کرنے میں شک میں (پڑے ہوئے) ہیں (15:50)

And that He has ordained the second bringing forth; (53:47)

وَإِنَّ عَلَیْهِ الْاِشْرَآةَ الْاٰخِرٰی ﴿١٦﴾
﴿٥٣ النجم ٤٧﴾

اور یہ کہ (قیامت کو) اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے (47:53)

Up to this time they were indulged in sinful luxury (56:45)

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِیْنَ ﴿١٧﴾
﴿٥٦ الواقعة ٤٥﴾

یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں سے پلے ہوئے تھے (45:56)

And used to persist in the awful sin. (56:46)

وَكَانُوْا یُصِرُّوْنَ عَلٰی الْجَنۡثِ الْعَظِیْمِ ﴿١٨﴾
﴿٥٦ الواقعة ٤٦﴾

اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے (46:56)

And they used to say: When we are dead and have become dust and bones, shall we then, forsooth, be raised again, (56:47)

وَكَانُوْا یَقُوْلُوْنَ هٰ اِیۡدَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا مَّا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿١٩﴾
﴿٥٦ الواقعة ٤٧﴾

اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے۔ اور ہڈیاں (ہی ہڈیاں رہ گئے) تو کیا ہمیں پھر اٹھانا ہوگا؟ (47:56)

And also our forefathers? (56:48)

اَو اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٢٠﴾
﴿٥٦ الواقعة ٤٨﴾

اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ (48:56)

Say (to them, O Muhammad): Surely those of early and those of late time (56:49)

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ ﴿٢١﴾
﴿٥٦ الواقعة ٤٩﴾

کہہ دیجئے کہ بے شک پہلے اور پچھلے (49:56)

We all be brought together to the trial of an appointed Day. (56:50)

لَمَجْمُوْعُوْنَ هٰ اِلٰی مِیۡقَاتٍ یُّوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾
﴿٥٦ الواقعة ٥٠﴾

(سب) ایک روز مقرر کیے وقت پر جمع کئے جائیں گے (50:56)

We created you. Will you then admit the truth?. (56:57)

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾
﴿٥٦ الواقعة ٥٧﴾

ہم نے تم کو (پہلی بار بھی تو) پیدا کیا ہے تو تم (دوبارہ اٹھنے کو) کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ (57:56)

Those who disbelieve assert that they will not be raised again. Say (to them, O Muhammad): Yes, indeed, by my Lord! You will be raised again and then you will be informed of what you did; and that is easy for Allah. (64:7)

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾
﴿٦٤ التغابن ٧﴾

جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ (دوبارہ) ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو جو کام تم کرتے رہے وہ وہ تمہیں بتائے جائیں گے۔ اور یہ (بات) اللہ کو آسان ہے (7:64)

I swear by the Day of Resurrection; (75:1)

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ ﴿١﴾
﴿٧٥ القيامة ١﴾

مجھے روز قیامت کی قسم (1:75)

Does mankind think that We can not assemble their bones? (75:3)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ تَجْمَعَهُ عِظَامَهُ ۗ ﴿٣﴾
﴿٧٥ القيامة ٣﴾

کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی (بھری ہوئی) ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ (3:75)

Yes indeed We are able to restore the very tips of his fingers! (75:4)

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۗ ﴿٤﴾
﴿٧٥ القيامة ٤﴾

ضرور کریں گے (اور) ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے باریک سے باریک حصے جوڑ دیں گے (4:75)

Is not He (Who does so) able to bring the dead to life? (75:40)

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۗ ﴿٤٠﴾
﴿٧٥ القيامة ٤٠﴾

کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ اٹھائے (40:75)

(Now) they are saying: Shall we really be restored to our first state (79:10)

يَقُولُونَ ءَأِنَّا الْمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۗ ﴿١٠﴾
﴿٧٩ النزعت ١٠﴾

(کافر) کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت کو لوٹیں گے؟ (10:79)

Even after we are crumbled bones? (79:11)

عَٰذَا كُنَّا عِظَامًا تَافِرَةً ۗ ﴿١١﴾
﴿٧٩ النزعت ١١﴾

بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے (تو پھر زندہ کئے جائیں گے) (11:79)

They say: Then that would be a vain proceeding. (79:12)

فَالْوَاتِلُكَ إِذْ أَكْرَهُتَ خَاسِرَةً ۗ ﴿١٢﴾
﴿٧٩ النزعت ١٢﴾

کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو نقصان دہ ہے (12:79)

Certainly to your Lord is the return (96:8)

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِيُّ ۗ ﴿٨﴾
﴿٩٦ العلق ٨﴾

بیشک تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (8:96)

More Reference :

2:28,260	3:158	5:18,48,105
Page	115,953	652 599,577,468
6:36,60	7:35	8:24 9:94,105 10:4,34,
786,117	306	657 724,819 786,143
45,46	11:7	13:2 18:48 20:55
812,175	403	330 833 1018
21:93	22:6,66	23:9,115 24:42 28:70
617	786,408	116,403 366 133
29:8	30:11,19,25,27,40	32:10 35:9
453	116,786,387	834 349
36:53,78,79,81,83	37:53	41:21,54 42:9,15
789,411,321,366	838	809,834 143,738
43:11,14,85	45:24	46:17 50:43 56:41,57
346,1126,782	551	452 116 800,780
58:6,18	60:13	62:8 64:3 67:15,24
110,278	776	772 372 389,834
80:22	83:4	84:6 85:13 100:9
776	486	835 116 792

والمزین راجع	٢ البقرة	٢٦٠،٢٨٠	٣ آل عمران	١٥٨
٥ المائدة	١٨،١٨٠،٤٨٠	١٠٥،٩٤	٦ الأنعام	٦٠٠،٣٦٠
٨ الأنفال	٢٤	٩ التوبة	١٠٥،٩٤	١٠ یونس
١١ هود	٧	١٣ الرعد	٢	١٨ الکہف
٢١ الأنبياء	٩٣	٢٢ الحج	٦٦،٦٠	٢٣ المؤمنون
٢٤ النور	٤٢	٢٨ القصص	٧٠	٢٩ العنکبوت
٣٠ الروم	١١،١٩،٢٥،٢٧،٤٠	٣٢ السجدة	١٠	
٣٥ فاطر	٩	٣٦ یس	٥٣،٧٨،٧٩،٨١،٨٢	٣٧ الصافات
٤١ حم السجدة (فصلت)	٢١،٥٤	٤٢ الشوری	١٥،٩	
٤٣ الزخرف	١١،٤٠،٨٥	٤٥ الجاثیة	٢٤	٤٦ الأحقاف
٥٠ ق	٤٣	٥٦ الواقعة	٥٧،٤١	٥٨ المجادلة
٦٠ الممتحنة	١٣	٦٢ الجمعة	٨	٦٤ التغابن
٦٧ الملك	١٥،٢٤	٨٠ عبس	٢٢	٨٣ المطففين
٨٤ الانشقاق	٦	٨٥ البروج	١٣	١٠٠ العاديات

105,48,18:5	158:3	260:2
468,577,599	652	953,115
34,4:10	105,94:9	24:8 35:7 60,36:6
143,786	819,724	657 306 117,786
55:20	48:18	2:13 7:11 46,45
1018	833	330 403 175,812
42:24	115,9:23	66,6:22 93:21
366	403,116	408,786 617
10:32	40,27,25,19,11:30	8:29 70:28
834	387,786,116	453 133
54,21:41	53:37	53,78,79,81,83:36 9:35
834,809	838	789,411,321,366 349
43:50	17:46	24:45 85,14,11:43 15,9:42
116	452	551 782,1126,246 738,143
3:64	8:62	13:60 18,6:58 57,41:56
372	772	776 278,110 780,800
9:100	13:85	6:84 4:83 22:80 24,15:67
792	116	835 486 776 834,389

NO REQUEST FOR RETRIEVAL TO PROBATIONARY LIFE WILL BE ACCDED NO MORE CHANCE WILL BE AFFORDED TO MEND
For Detail Consult Page : 828

الکافرون يطلبون من الله
کرة فلا يستجاب لهم
التفصیل راجع الصلحة ٨٢٨

کفرین کو اصلاح احوال کے لئے دوبارہ دنیا میں
آنے کی مہلت نہیں ملے گی
تفصیل کے لئے دیکھئے صلحة 828

DAY OF RESURRECTION

يوم القيامة

قیامت

WHEN WILL BE ITS APPOINTED TIME

متی تاتی الساعة

قیامت کب آئے گی

They ask you of the (destined) Hour, when will it come to port. Say: Knowledge thereof is with my Lord only. He alone will manifest it at its proper time. It is heavy in the heavens and the earth. It comes not to you except unawares. They question you as if you could be well informed thereof. Say: Knowledge thereof is with Allah only, but most mankind know not. (7:187)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾
﴿٧٧ الاعراف ١٨٧﴾

(یہ لوگ) آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی۔ اور اچانک آپ پر آجائے گی۔ یہ آپ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے (7:187)

And to Allah belongs the Unseen of the heavens and the earth, and the matter of the Hour (of Doom) is but a twinkling of the eye, or it is farther still. For Allah is Able to do all things. (16:77)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾
﴿٧٧ النحل ٧٧﴾

اور آسمانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے اور (اللہ کے نزدیک) قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ (اس سے بھی) جلد تر کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے (77:16)

But if they are averse, then say: I have warned you all alike, although you know not whether near or far is that at which you are promised. (1:109)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾
﴿١٠٩ الأنبياء ١٠٩﴾

اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے آپ سب کو یکساں (احکام الہی سے) آگاہ کر دیا ہے۔ اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ (عن) قریب (آنے والی) ہے یا (اس کا وقت) دور ہے (109:21)

Allah! With Him is knowledge of the Hour. (34:31) PART

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
﴿٣١ لقمان ٣٤﴾ جزء

اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ (34:31) جزو

When ask you of the Hour. Say: The knowledge of it is with Allah only. What can convey (the knowledge) to you? It may be that the Hour is near. (63:63)

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾
﴿٦٣ الاحزاب ٦٣﴾

لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ کب آئے گی) کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو (63:33)

Allah! With Him is referred (all) knowledge of the Hour. (41:47) PART

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ
﴿٤١ حم سجدة ٤٧﴾ جزء

قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے (یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے)۔ (41:47) جزو

And blessed be He to Whom belongs the Sovereignty of the heavens and the earth and all that is between them, and with Whom is knowledge of the Hour, and to Whom you will be returned. (4:85)

وَتَبَرُّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾
﴿٨٥ الزخرف ٨٥﴾

اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے۔ اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف آپ واپس لوٹ کر جاؤ گے (85:43)

They (the Day) when they shall behold the Day which they are promised (they may doubt); but then they will know for certain who is weaker in allies and less in multitude. (72:24)

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَكَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾
﴿٢٤ الجن ٢٤﴾

یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ (دن) دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا ٹھوڑا ہے (24:72)

Say (O Muhammad, to the disbelievers): I know not whether that which you are promised is near, or if my Lord has set a distant term for it. (72:25)

They ask you of the Hour: when will it come to port? (79:42)

Why (ask they)? What have you to tell thereof? (79:43)

To your Lord belongs (knowledge of) the term thereof. (79:44)

You are but a warner to him who fears it. (79:45)

قُلْ إِن أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ
لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾
﴿٧٢ الجن ٢٥﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا ﴿٤٢﴾
﴿٧٩ النزعت ٤٢﴾

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٣﴾
﴿٧٩ النزعت ٤٣﴾

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰهَا ﴿٤٤﴾
﴿٧٩ النزعت ٤٤﴾

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا ﴿٤٥﴾
﴿٧٩ النزعت ٤٥﴾

کہہ دیجئے کہ جس (دن) کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ (عن) قریب (آنے والا) ہے یا میرے پروردگار نے اس کا لمبا عرصہ کر دیا ہے (25:72)

(اے پیغمبر لوگ) آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ (42:79)

آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ (43:79)

اس کا انتہا (یعنی واقع ہونے کا وقت) آپ کے پروردگار (ہی کو معلوم ہے) (44:79)

جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے آپ تو اسی کو ڈر سنانے والے ہیں (45:79)

More Reference : 32:28,29 78:1 to 5
Page 755, 830, 785

المعزیز راجع ٢٢ السجدة: ٢٨، ٢٩، ٧٨ النبأ: ١، الی ٥
الصفحة ٧٨٥، ٨٣٠، ٧٥٥

مزید حوالہ 32:28,29 78:1 to 5
صفحہ 785, 830, 755

DOOMSDAY WILL HAPPEN, ALL OF A SUDDEN WHILE PEOPLE LEAST SUSPECT

Deem they themselves secure from the coming on them of a pall of Allah's punishment, or the coming of the Hour suddenly while they are unaware? (12:107)

No, but it will come upon them unawares so that it will stupefy them, and they will be unable to repel it, neither will they be reprieved. (21:40)

And the True Promise draws near; then behold them, staring wide (in terror), the eyes of those who disbelieve! (They say): Alas for us! We (lived) in forgetfulness of this. Ah, but we were wrongdoers! (21:97)

And those who disbelieve will not cease to be in doubt thereof until the Hour comes upon them unawares, or there comes to them the doom of a disastrous Day. (22:55)

So that it will come upon them suddenly, when they perceive not. (26:202)

Crying: Woe upon us! Who has raised us from our place of sleep? This is that which the Beneficent did promise, and the messengers spoke the truth, (36:52)

تاتی الساعة بغتة

أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ
اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾
﴿١٢ يوسف ١٠٧﴾

بَلْ تَأْتِيَهُمُ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾
﴿٢١ الأنبياء ٤٠﴾

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاذْهَبِي شَاخِصَةً
أَبْصَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْيَلِنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ
مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾
﴿٢١ الأنبياء ٩٧﴾

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ
حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ
يَوْمٍ عَقِيبٍ ﴿٥٥﴾
﴿٢٢ الحج ٥٥﴾

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٠٢﴾

قَالُوا يُؤْيَلِنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا
وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾
﴿٣٦ يسين ٥٢﴾

قیامت اچانک واقع ہوگی

کیا یہ اس (بات) سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر اچانک قیامت آجائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو (107:12)

بلکہ قیامت ان پر اچانک واقع ہوگی۔ اور ان کے ہوش کھو دے گی۔ پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی (40:21)

اور (قیامت کا) سچا وعدہ قریب آجائے۔ تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں (اور کہنے لگیں کہ) ہائے شامت ہم اس (حال) سے غفلت میں رہے بلکہ ہم (اپنے حق میں) ظالم تھے (97:21)

اور کافر لوگ ہمیشہ اسی شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آجائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آجائے ہو (55:22)

وہ ان پر اچانک واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی (202:26)

کہیں گے (اے ہائے) ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے (جگا) اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا (52:36)

Have you taken security from Him Who is in the heaven that He will not cause the earth to swallow you when it is convulsed? (67:16)

ءَاْمَنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ
فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ ﴿١٦﴾
﴿٦٧ الملك ١٦﴾

کیا آپ اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ آپ کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت لرزے لگے (16:67)

More Reference : 7:187 16:77 29:53
32:29 56:1 75:6 Page 782,755,830,796,787

والمزید راجع ٧ الأعراف: ١٨٧ ١٦ النحل: ٧٧ ٢٩ العنكبوت: ٥٣
٣٢ السجدة: ٢٩ ٥٦ الواقعة: ١ ٧٥ القيامة: ٦

مزید حوالہ 7:187 16:77 29:53
32:29 56:1 75:6 صفحہ 782,755,830,796,787 6:75 1:56

COUNT DOWN OF DESTINED HOUR HAS STARTED

للسَّاعَةِ مَوْعِدٌ مَّحْدَدٌ عِنْدَ اللَّهِ

قیامت کے لئے دن شمار کئے جا رہے ہیں

THREATENED HOUR IS APPROACHING FAST

السَّاعَةُ مُقْتَرِبَةٌ

قیامت قریب آرہی ہے

Do not make no haste against them. We do not but number to them a sum (of days). (19:84)

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿١٩﴾
﴿١٩ مريم ٨٤﴾

تو آپ ان پر (عذاب کے لئے) جلدی نہ کریں۔ اور ہم تو ان کے لئے (دن) شمار کر رہے ہیں (84:19)

Their reckoning draws near for mankind, while they turn away in heedlessness. (21:1)

إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الأنبياء ١﴾

لوگوں کا حساب (اعمال کا وقت) نزدیک آپہنچا ہے اور وہ غفلت میں (پڑے اس سے) منہ پھیر رہے ہیں (1:21)

Certainly, the Hour is surely coming, there is no doubt thereof; yet most of mankind believe not. (40:59)

إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٤٠ المؤمن ٥٩﴾

بے شک قیامت تو آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے (59:40)

Allah it is Who has revealed the scripture with truth, and the balance. How can you know? It may be that the Hour is near. (42:17)

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾
﴿٤٢ الشورى ١٧﴾

بیسک اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور (عدل و انصاف کی) ترازو۔ اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آپہنچی ہو (17:42)

The threatened Hour is near. (53:57)

أَرَفَتِ الْأَرْضُ زَكَّاتَ رَبِّهَا وَرَبُّهَا لَئِن سَأَلْتَهُنَّ لَيَقْنُنَنَّ لِلرَّبِّ زَكَاةً وَسُقُوتًا وَرَبُّهُنَّ يَعْلَمُ ﴿٥٧﴾
﴿٥٣ النجم ٥٧﴾

آنے والی (یعنی قیامت) قریب آپہنچی (57:53)

They behold it afar off (70:6)

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦٠﴾
﴿٧٠ المعارج ٦﴾

وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے (6:70)

While We behold it near: (70:7)

وَنُرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧٠﴾
﴿٧٠ المعارج ٧﴾

اور ہماری نظر میں قریب (7:70)

More Reference : 16:61 21:109 22:7
4:1 72:25 78:4,5
Page 123,782,786,688,783,785

والمزید راجع ١٦ النحل: ٦١ ٢١ الأنبياء: ١٠٩ ٢٢ الحج: ٧ ٥٤ القمر: ١ ٧٢ الجن: ٢٥ ٧٨ النبأ: ٥٤
الصفحة ٧٨٥, ٧٨٣, ٦٨٨, ٧٨٦, ٧٨٢, ١٢٣

مزید حوالہ 16:61 21:109 22:7
4:1 72:25 78:4,5 صفحہ 123,782,786,688,783,785

WHATSOEVER IS ON EARTH WILL PERISH

لكل مخلوق فناء

سب کو فنا ہونا ہے

Everyone that is thereon will pass away; (55:26)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾
﴿٥٥ الرحمن ٢٦﴾

جو (مخلوق) زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے (26:55)

There remains but the countenance of your Lord of Might and Glory. (55:27)

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾
﴿٥٥ الرحمن ٢٧﴾

اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات (بابرکت) جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی (27:55)

More Reference : 3:154,185 4:78 7:185
96 62:8
Page 704/705,98,772,299

والمزید راجع ٣ آل عمران: ١٨٥, ١٥٤ ٤ النساء: ٧٨ ٧ الأعراف: ١٨٥ ١٦ النحل: ٩٦ ٦٢ الجمعة: ٨
الصفحة ٧٠٤/٧٠٥, ٩٨, ٧٧٢, ٢٩٩

مزید حوالہ 3:154,185 4:78 7:185
96 62:8 صفحہ 704/705,98,772,299

FATEFUL MESSAGE TERRIFYING TIDINGS

النباء العظيم

عظیم (ہولناک) خبر

Say: It is tremendous tidings (38:67)

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾
﴿٦٧ ص ٣٨﴾

کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی (ہولناک چیز کی) خبر ہے (67:38)

From which you turn away! (38:68)

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾
﴿٦٨ ص ٣٨﴾

جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے (68:38)

Whereof do they question one another? (78:1)

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾
﴿٧٨ النبأ ١﴾

(یہ) لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ (1:78)

(It is) of the awful tidings, (78:2)

عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾
﴿٧٨ النبأ ٢﴾

(کیا) بڑی خبر کی نسبت؟ (2:78)

Concerning which they are in disagreement. (78:3)

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُتْتَلِفُونَ ﴿٣﴾
﴿٧٨ النبأ ٣﴾

جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں (3:78)

No but they will come to know soon! (78:4)

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾
﴿٧٨ النبأ ٤﴾

دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے (4:78)

No again, but they will come to know very soon. (78:5)

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾
﴿٧٨ النبأ ٥﴾

پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے (5:78)

More Reference : 6:31 74:36
Page 833, 899

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ٣١ ٧٤ المدثر: ٣٦
الصفحة ٨٩٩, ٨٣٣

مزيد حوالہ 31:6 36:74
صفحہ 899, 833

THE SURE TRUTH (REALITY)

الحاقة

بہر صورت ثابت ہونے والی

The Reality! (69:1)

الْحَاقَّةُ ﴿١﴾
﴿٦٩ الحاقه ١﴾

سچ ہونے والی (1:69)

What is the Reality? (69:2)

مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾
﴿٦٩ الحاقه ٢﴾

وہ سچ ہونے والی کیا ہے؟ (2:69)

Ah, what will convey to you what the reality is! (69:3)

وَمَا آذُرُكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾
﴿٦٩ الحاقه ٣﴾

اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ ہونے والی کیا ہے (3:69)

(The tribes of) Thamud and Aad disbelieved in the judgement to come. (69:4)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾
﴿٦٩ الحاقه ٤﴾

(وہی) کھڑکھڑانیوالی (جس) کو ثمود اور عاد (دونوں نے) جھٹلایا (4:69)

STRIKING HOUR - CLAMOUR (CALAMITY - STUNNING BLOW)

القارعة

ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار کرنے والی

The Calamity! (101:1)

الْقَارِعَةُ ﴿١﴾
﴿١٠١ القارعة ١﴾

کھڑکھڑانے والی (1:101)

What is the Calamity? (101:2)

مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾
﴿١٠١ القارعة ٢﴾

کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ (2:101)

Ah, what will convey to you what the calamity is! (101:3)

وَمَا آذُرُكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾
﴿١٠١ القارعة ٣﴾

اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ (3:101)

A Day wherein mankind will be as thickly scattered moths (101:4)

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾
﴿١٠١ القارعة ٤﴾

(وہ قیامت ہے) جس دن لوگ ایسے ہونگے جیسے بکھرے ہوئے پتے (4:101)

روز جزا اٹل ہے

اللہ (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ (87:4)

بات یہ ہے کہ (حق کو) قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں۔ ان مردوں کو تو اللہ (قیامت ہی کو) اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے (36:6)

پھر (قیامت کے دن تمام) لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے (62:6)

کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ (دفعہ میں) آنے والا ہے۔ اور تم (اللہ کو) مغلوب نہیں کر سکتے (134:6)

اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ اور جو کافر ہیں انکے لئے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ (اللہ سے) انکار کرتے تھے (4:10)

اور اگر ایک مدت مقرر تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کونسی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا (پھر) ٹلے گا نہیں۔ اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی (8:11)

ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی (قادر مطلق ہے جو) برحق ہے۔ اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (6:22)

اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا (7:22)

اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں (95:23)

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تم کو زمین میں سے (نکلنے کیلئے) آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے (25:30)

الساعة آتية

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٤﴾

﴿٤ النساء ٨٧﴾

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٦﴾

﴿٦ الانعام ٣٦﴾

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾

﴿٦٢ الانعام ٦٢﴾

إِن مَّا تَوْعَدُونَ لَأْتِيَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾

﴿١٣٤ الانعام ١٣٤﴾

الْبَيْتِ مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

﴿٤ يونس ٤﴾

وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْسِبُونَ الْآيَاتِ يَوْمَ يُأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾

﴿٨ هود ٨﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٢﴾

﴿٢٢ الحج ٢٢﴾

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾

﴿٧ الحج ٧﴾

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُثْرِكَ مَا نَعِدُكُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿٩٥﴾

﴿٩٥ المؤمنون ٩٥﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٣٠﴾

﴿٣٠ الروم ٣٠﴾

JUDGEMENT DAY IS INEVITABLE

ah! There is no god except Him. He gathers you all to a Day of resurrection whereof there is no doubt. Who is more true in statement than Allah? (4:87)

Only those can accept who hear. As for the dead, Allah will raise them up, then to Him they will be returned. (6:36)

And are they restored to Allah, their Lord, the Just. Surely His is the judgement. And He is the most accurate of reckoners. (6:62)

And which you are promised will surely come to pass, and you cannot be deceived. (6:134)

And the return of all of you; it is the promise of Allah in truth. He reproduces creation, then reproduces it, that He may reward those who believe and do good works with equity; while, as for those who disbelieve, theirs will be a boiling drink and painful doom because they disbelieved. (10:4)

And if We delay for them the doom until a reckoned time, they will surely say: What withholds it? On the day when it comes to them, it cannot be averted from them, and that which they derided will surround them. (11:8)

That is because Allah, He is the True. He quickens the dead, and He is Able to do all things; (22:6)

And because the Hour will come, there is no doubt thereof; and because Allah will raise those who are in the graves. (22:7)

And we are Able to show you that which we have promised them. (23:95)

And of His signs is this: The heavens and the earth stand fast by His command, and afterward, when He calls you, indeed from the earth you will emerge. (30:25)

So set your purpose resolutely for the right religion, before the inevitable Day comes from Allah. On that Day mankind will be sundered-- (30:43)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا مَرَدٍّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّقُ عُنُقَ
﴿٣٠ الروم ٤٣﴾

اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آکر رہے گا اور
دن نہیں سکے گا۔ اپنا رخ سچے اور سیدھے دین کی
طرف کر لو اس روز (سب) لوگ بکھر جائیں گے۔
(43:30)

Those who disbelieve say: The Hour will never come to us. Say: No, by my Lord, but it is coming to you surely. (He is) the Knower of the Unseen. Not an atom's weight, or less than that or greater, escapes Him in the heavens or in the earth, but it is in a clear Record, (34:3)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا
السَّاعَةُ طُفْلًا بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ
الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغُرُ
مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٣٤﴾
﴿٣٤ سبا ٣﴾

اور کافر کہتے ہیں کہ (قیامت کی) گھڑی ہم پر نہیں
آئے گی۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں (آئے گی) میرے
پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آکر رہے گی (وہ پروردگار)
غیب کا جاننے والا (ہے) ذرہ بھر چیز بھی اس سے
پوشیدہ نہیں (نہ) آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی
چیز چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں (لکھی
ہوئی) ہے (3:34)

Those who believe not therein seek to hasten it, while those who believe are fearful of it and know that it is the Truth. Are, not they who dispute, in doubt concerning the Hour, far astray? (42:18)

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ
أَنَّهَا الْحَقُّ الْآتِي الْآتِي الَّذِينَ يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ
لَعْنُ ضَلِيلٍ بَعِيدٍ ﴿٤٢﴾
﴿٤٢ الشورى ١٨﴾

جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لئے جلدی
کر رہے ہیں۔ اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور
جاتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت کے
بارے میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں
ہیں (18:42)

When the event befalls. (56:1)

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ١﴾

جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے (1:56)

There is no denying that it will befall (56:2)

لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٢﴾

اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں (2:56)

A skeptic was asking concerning the doom about that is bound to happen. (70:1)

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿٧٠﴾
﴿٧٠ المعارج ١﴾

ایک سوال کرنے والے (مکر) نے عذاب طلب کیا جو
نازل ہو کر رہے گا (1:70)

Upon the disbelievers, which none can repel, (70:2)

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٧٠﴾
﴿٧٠ المعارج ٢﴾

(یعنی) کافروں پر (اور) کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا
(2:70)

From Allah, Lord of the Ascending Stairways (70:3)

مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٧٠﴾
﴿٧٠ المعارج ٣﴾

(اور وہ) اللہ) صاحب درجات کی طرف سے (نازل
ہوگا) (3:70)

Surely that which you are promised will befall. (77:7)

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿٧٧﴾
﴿٧٧ المرسلات ٧﴾

کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا
(7:77)

Surely the Day of Decision is a fixed time, (78:17)

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨ النبأ ١٧﴾

بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے (17:78)

That is the True Day. So anyone who wills should seek recourse to his Lord. (78:39)

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ
مَأْتَابًا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨ النبأ ٣٩﴾

یہ دن برحق ہے۔ پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے
پاس ٹھکانا بنالے (39:78)

More Reference :	2:46	3:25	9:18,19	15:85
Page	833	821	622	371
27:3	31:4	40:59	52:7,8	70:26
250	250	784	795	767

والمزید راجع	٢ البقرة: ٤٦	٣ آل عمران: ٢٥
٩ التوبة: ١٨، ١٩، ١٥	١٥ الحجر: ٨٥	٢٧ النمل: ٣
٢٢ لقمان: ٤	٤٠ المؤمن (غافر): ٥٩	٥٢ الطور: ٨٧
٧٠ المعارج: ٢٦		

مزید حوالہ	2:46	3:25	9:18,19	15:85
صفحہ	833	821	622	371
3:27	4:31	59:40	8:7,52	26:70
250	250	784	795	767

PROGNOSTICATIONS
FORESHADOWS (PORTENTS AND PREDICTIONS)
OF APPROACHING JUDGEMENT DAY

امارات الساعة

قیامت کی نشانیاں

PROGNOSTICATIONS HAVE SINCE STARTED

Are they just waiting for the Hour, that it should come upon them unawares? And the beginnings thereof have already come. But how, when it has come upon them, can they take their warning? (47:18)

قد جاء أشرار الساعة

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً
فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا قَالِي لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ
ذِكْرُهُمْ ﴿٤٧﴾
﴿٤٧ محمد ١٨﴾

قیامت کی نشانیاں تو آچکی ہیں

اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ اچانک ان پر
آوایع ہو سواس کی نشانیاں (وقوع میں) آچکی ہیں۔ پھر
جب وہ ان پر آنازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں
(منفید ہو سکے گی؟) (18:47)

BREAKING OF FORTIFIED BARRIERS
BY GOG AND MAGOG

And on that Day We shall let some of them surge against others, and the Trumpet will be blown. Then We shall gather them together in one gathering. (18:99)

انطلاق یاجوج و ماجوج

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَمَجَّعْنَهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾
﴿١٨ الكهف ٩٩﴾

یاجوج ماجوج کا سد سکندری عبور کرنا

(اس روز) ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ (روئے زمین پر
پھیل کر) ایک دوسرے میں گھس (گڈمڈ ہو) جائیں
گے اور صور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے
(99:18)

Until, when Gog and Magog are let loose, and they hasten out of every mound. (21:96)

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِمَّنْ
كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ٩٦﴾

یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیئے جائیں اور وہ
بلندی سے دوڑ رہے ہیں (96:21)

BRINGING FORTH A MONSTER (BEAST)
FROM THE EARTH WHO WILL CONVERSE
WITH PEOPLE

And when the word is fulfilled concerning them, We shall bring forth a beast of the earth to speak to them because mankind had not faith in Our revelations. (27:82)

خروج دابة الأرض التي تكلم الناس

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ
دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا
بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾
﴿٢٧ النمل ٨٢﴾

عجیب و غریب جانور (دابتہ الارض)
کا ظاہر ہونا جو لوگوں سے باتیں کرے گا

اور جب ان کے بارے میں (عذاب کا) وعدہ پورا ہوگا
تو ہم ان کے لئے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو
ان سے بیان کر دے گا۔ اس لئے کہ لوگ ہماری آیتوں
پر ایمان نہیں لاتے تھے (82:27)

More Reference : 81:5 Page 790

وللمزيد راجع ٨١ التكویر : ٥ الصفحة ٧٩٠

مزید حوالہ 5:81 صفحہ 790

BLOWING OF TRUMPET
TWICE WITH INTERVALS

And the trumpet will be blown, and all who are in the heavens and on the earth will swoon away, except such whom Allah wills (to exempt). Then it will be sounded second time, and behold they will be standing and looking on! (39:68)

النفختان : مرحلتا القيامة

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنَ فِي السَّمَوَاتِ
وَمَنَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ
فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾
﴿٣٩ الزمر ٦٨﴾

وقفہ کے ساتھ صور کا دوم مرتبہ پھونکا جانا
(قیامت کے دوم مرحلے)

اور جب صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور
جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ
جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری دفعہ صور پھونکا جائے گا تو
نوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے (68:39)

**FIRST TRUMPET OF THE RESURRECTION
WILL SWOON THE WHOLE WORLD**

النفخة الأولى

پہلا صور پھونکا جانا - پہلا بگل بجنے سے
تمام دنیا بے ہوش ہو جائے گی

They await but one Shout, which will surprise them while they are disputing. (36:49)

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٣٦﴾ يس ٤٩

یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آپڑے گی (49:36)

Then they cannot make bequest, nor can they return to their own folk. (36:50)

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾
﴿٣٦﴾ يس ٥٠

پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے (50:36)

It is but one Shout, and behold them brought together before Us! (36:53)

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٣٦﴾ يس ٥٣

صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہو گا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے (53:36)

There is but one Shout, and they behold (37:19)

فَأَتَاهُمُ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ١٩

وہ تو ایک زور کی آواز ہو گی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے (19:37)

And say: Ah, woe for us! This is the Day of judgement. (37:20)

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٢٠

اور کہیں گے۔ ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے (20:37)

This is the Day of Separation, which you used to deny. (37:21)

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٢١

(کہا جائے گا کہ ہاں) فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے (21:37)

(And it is said to the angels): Assemble those who did wrong, together with their spouses and what they used to worship (37:22)

أَحْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٢٢

جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہمراہیوں (رفیق حیات) کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے (سب کو) جمع کر لو (22:37)

These wait for but one Shout, there will be no second thereto. (38:15)

وَمَا يَنْظُرُهُمْ إِلَّا الصَّيْحَةُ وَاحِدَةً مِّنَ لَّهَامِنِ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾
﴿٣٨﴾ ص ١٥

اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں کچھ وقفہ نہیں ہو گا انتظار کرتے ہیں (15:38)

And listen on the Day when the crier calls from a near place, (50:41)

وَاسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾
﴿٥٠﴾ ق ٤١

اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا (41:50)

The Day when they will hear the (Awful) Cry in truth. That is the Day of coming forth (from the graves). (50:42)

يَوْمَ لِيَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾
﴿٥٠﴾ ق ٤٢

جس دن لوگ سچ یقیناً سن لیں گے۔ وہی نکل پڑنے کا دن ہے (42:50)

Surely it will need but one Shout, (79:13)

فَأَتَاهُمُ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
﴿٧٩﴾ النزعت ١٣

وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہو گی (13:79)

And they will be awakened. (79:14)

فَأِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾
﴿٧٩﴾ النزعت ١٤

اس وقت وہ (سب) میدان (حشر) میں آجے ہوں گے (14:79)

**PRECIOUS PROPERTY
AND PETS WOULD BE NEGLECTED**

And when the camels big with young are abandoned, (81:4)

And when the wild beasts are herded together, (81:5)

لا يعبثن أحدًا بالمتاع والبهائم

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④

﴿ ۸۱ التکویر ۴ ﴾

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ⑤

﴿ ۸۱ التکویر ۵ ﴾

پیش ہر اناٹوں اور قیمتی جانوروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا

اور جب دس ماہ کی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی (4:81)

اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں گے (5:81)

**NURSING MOTHERS WILL FORGET SUCKLING
BABIES AND EVERY PREGNANT WILL
MISCARRY**

On the Day when you behold it, every nursing mother will forget her suckling and every pregnant one will be delivered of her burden, and you will see mankind as drunk, yet they will not be drunken but the Doom of Allah will be strong (upon them). (22:2)

تذهل كل مرضعة عما أرضعت
وتضع كل ذات حمل حملها

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهَٰؤُلَاءِ سَيَّئِرَىٰ

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ①

﴿ ۲۲ الحج ۲ ﴾

سائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے

(اے مخاطب) جس دن تو اس کو دیکھے گا (اس دن یہ حال ہوگا کہ) تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی۔ اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ (عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے) بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے (2:22)

**ON SOUNDING OF SECOND TRUMPET,
ALL DEAD WILL RISE FROM SEPULCHRES
AS STUPORS**

His word is the ruth, and His will be the Sovereignty on the Day when the Trumpet is blown. Knower of the invisible and the visible, He is the Wise, the Aware. (6:73) PART

The Day when the Trumpet is blown. On that Day We assemble the criminal bleary eyed (with error), (20:102)

And when the Trumpet is blown there will be no kinship among them that Day, nor will they ask of one another. (23:101)

And (remind them of) the Day when the Trumpet will be blown, and all who are in the heavens and the earth will start in fear, but him whom Allah wills. And all shall come to him, humbled. (27:87)

And the Trumpet is sounded and from the graves they will hasten to their Lord, (36:51)

النفخ في الصور مرة ثانية
وبعث الناس من الأجداد أفواجاً

قَوْلُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمَلَكُ

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ①

﴿ ۶ الانعام ۷۳ ﴾ جزء

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ

يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ②

﴿ ۲۰ طہ ۱۰۲ ﴾

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ③

﴿ ۲۳ المؤمنون ۱۰۱ ﴾

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ

أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ④

﴿ ۲۷ النمل ۸۷ ﴾

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ

رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ⑤

﴿ ۳۶ يس ۵۱ ﴾

دوسرے صور کا پھونکا جانا اور لوگوں کا دیوانہ وار قبروں سے اٹھ کھڑے ہونا

----- اس کا ارشاد برحق ہے اور جس دن صور پھونکا جائے گا۔ (اس دن) اسی کی بادشاہت ہوگی۔ وہی پوشیدہ اور ظاہر (سب) کا جاننے والا ہے اور وہی دانا (اور) خبردار ہے (6:73) جزو

جس روز صور پھونکا جائے گا اور ہم گنہگاروں کو آگھیر لائیں گے اور ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی (102:20)

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے (101:23)

اور جس روز صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے (87:27)

اور (جس وقت) صور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے (نکل کر) اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے (51:36)

Assuredly the Day of Decision is the term of all of them: (44:40)

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾
﴿٤٤ الدخان ٤٠﴾

کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب (کے اٹھنے) کا وقت ہے (40:44)

And the Trumpet shall be blown. This is the threatened Day. (50:20)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾
﴿٥٠ ق ٢٠﴾

اور صور پھونکا جائے گا۔ یہی (عذاب کی) وعید کا دن ہے (20:50)

And when the Trumpet shall sound one blast (69:13)

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْثَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
﴿٦٩ الحاقة ١٣﴾

تو جب صور میں ایک (بار) پھونک مار دی جائے گی (13:69)

For when the Trumpet shall sound, (74:8)

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾
﴿٧٤ المدثر ٨﴾

جب صور پھونکا جائے گا (8:74)

A Day when the Trumpet shall be blown, and you come in multitudes, (78:18)

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾
﴿٧٨ النبأ ١٨﴾

جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آہموجود ہو گے (18:78)

More Reference : 18:99 Page 788

والمزيد راجع ١٨ الكهف: ٩٩ الصفحة ٧٨٨

مزيد حوالہ 99:18 صفحہ 788

OCURRENCE OF DOOMS DAY

ظہور یوم الحشر

ظہور قیامت

ALLAH (SWT) WILL SAY BE! AND IT SHALL RESURRECTION DAY BECOME HAPPEN

یاتی یوم الحشر بمشيئة الله
وبقوله کن

حشر کا دن اللہ تعالیٰ کے "کن" کہنے سے
برپا ہو جائے گا

He it is Who created the heavens and the earth in truth. In that Day when He says Be! And it is.-----
----- (6:73) PART

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٣﴾
﴿٦ الانعام ٧٣﴾ جزء

اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو (حشر برپا) ہو جائے گا۔----- (73:6)

THE EARTH WILL BE ROCKED WITH A JOLT SHAKEN TO ITS DEPTH DUE TO CONVULSION

زلزال الارض

زمین پر زلزلہ

O mankind! Fear your Lord, the earthquake of the Hour (of Doom) is a tremendous thing. (22:1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا أَنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾
﴿٢٢ الحج ١﴾

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑا حادثہ عظیم ہے (1:22)

On the Day when the earth splits as under from them, hastening forth (they come). That is a gathering easy for Us (to make). (50:44)

يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ يِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾
﴿٥٠ ق ٤٤﴾

اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے (44:50)

Abasing (some), exalting (others);(56:3)

خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٣﴾
﴿٥٦ الواقعة ٣﴾

کسی کو پست کرے کسی کو بلند (3:56)

When the earth is shaken with a shock (56:4)

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾
﴿٥٦ الواقعة ٤﴾

جب زمین بھونچال سے لرزے لگے (4:56)

And the earth with the mountains shall be lifted up and crushed with one crash, (69:14)

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾
﴿٦٩ الحاقة ١٤﴾

اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھائے جائیں گے۔ پھر ایک ہی چوٹ سے توڑ پھوڑ کر برابر کر دیئے جائیں گے (14:69)

On the Day when violent commotion (rumbling) will be felt. (79:6)

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾
﴿٧٩ النزعت ٦﴾

(جس دن کانپنے والی کانپے گی) جس دن زمین کو بھونچال آئے گا (6:79)

And the second follows it, (79:7)

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾
﴿٧٩ النزعت ٧﴾

پھر اس کے پیچھے اور (بھونچال) آئے گا (7:79)

EARTH WILL BE EMPTIED BY EJECTING ALL WHATEVER IT CONTAINS AND WILL BE FLATTEN OUT

On the Day when the earth will be changed to other earth, and the heavens (also will be changed) and they will come forth to Allah, the One, the Almighty. (14:48)

And will leave it as a smooth and level plains, (20:106)

Wherein you see neither curve nor ruggedness. (20:107)

And when the earth is spread out (84:3)

And has cast out all that was in it, and is empty (84:4)

And attentive to her Lord in fear! (84:5)

الأرض تستلقى ما فيها وتخت

يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ

وَبُرُوزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٤﴾

﴿١٤ ابراهيم ٤٨﴾

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿٢٠﴾

﴿٢٠ طه ١٠٦﴾

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿٢٠﴾

﴿٢٠ طه ١٠٧﴾

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٨٤﴾

﴿٨٤ الانشقاق ٣﴾

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٨٤﴾

﴿٨٤ الانشقاق ٤﴾

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٨٤﴾

﴿٨٤ الانشقاق ٥﴾

زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اگل دے گی اور بالکل ہموار میدان کر دی جائے گی

جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی (بدل دیے جائیں گے) اور سب لوگ واحد غلبے والے اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے (48:14)

اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا (106:20)

جس میں نہ تم کچی (اور پستی) دیکھو گے نہ ٹیلا (اور بلندی) (107:20)

اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی (3:84)

اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور (بالکل) خالی ہو جائے گی (4:84)

اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے۔ (5:84)

More Reference : 18:47 73:14 89:21 9:1 100:9,10,11 Page 794, 834, 808, 792, 807

والمزید راجع ١٨ الكهف: ٤٧ ٧٣ المزمّل: ١٤ ٨٩ الفجر: ٢١ ٩٩ الزلزلة: ١ ١٠٠ العاديات: ١٠٩، ١١٠

المزید ١٨: ٤٧ ٧٣: ١٤ ٨٩: ٢١ ٩٩: ١ ١٠٠: ١٠٩، ١١٠ 21:89 14:73 47:18 807, 792, 808, 834, 794 11,10,9:100 1:99

GRAVES WILL BE OVERTURNED

And the sepulchres are overturned. (82:4)

Every soul will know what it had sent before (it) and what left behind. (82:5)

Does he not realize that when whatever (lies) in graves is tumbled out: (100:9)

يومئذ بعثت القبور

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ ﴿٨٢﴾

﴿٨٢ الانفطار ٤﴾

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٨٢﴾

﴿٨٢ الانفطار ٥﴾

أَفَلَا يَعْلَمُونَ إِذَا بُعِثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿١٠٠﴾

﴿١٠٠ الغدیت ٩﴾

قبریں اکھیڑ دی جائیں گی

اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی (4:82)

تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا (5:82)

کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو (کچھ) ہے نکال لیا جائے گا (9:100)

SKY WILL BURST APART SPLIT OPEN-CLEFT ASUNDER

On the Day when the heaven will heave with (awful) heaving, (52:9)

And when the sky splits asunder and it becomes rosy like red pigment. (55:37)

Which then of your Sustainer's powers will you deny (55:38)

Then, on that Day will the Event fall. (69:15)

And the heaven will split asunder, and that Day it will be frail. (69:16)

يومئذ تشقق السماء

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مُمْرُورًا ﴿٥٢﴾

﴿٥٢ الطور ٩﴾

وَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ﴿٥٥﴾

﴿٥٥ الرحمن ٣٧﴾

فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ يَكْفُرُونَ ﴿٥٥﴾

﴿٥٥ الرحمن ٣٨﴾

فِيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿٦٩﴾

﴿٦٩ الحاقة ١٥﴾

وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿٦٩﴾

﴿٦٩ الحاقة ١٦﴾

آسمان پھٹ جائے گا

جس دن آسمان لرزنے لگے کپکپا کر (9:52)

پھر جب آسمان پھٹ کر (تیل کی تچھٹ کی طرح) گلائی ہو جائے گا (تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا) (37:55)

تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ (38:55)

تو اس روز ہو پڑنے والی (یعنی قیامت) ہو پڑے گی (15:69)

اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا (16:69)

The Day when the sky will become as molten copper, (70:8)

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالنَّهْلِ ۝
﴿۷۰ المعارج ۸﴾

جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا
(8:70)

The Sky will Crack open from it. His promise is to be fulfilled. (73:18)

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝
﴿۷۳ المزمل ۱۸﴾

(اور) جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ اس کا وعدہ
(پورا) ہو کر رہنے والا ہے گا (18:73)

And when the sky is riven (shatter) asunder, (77:9)

وَإِذَا السَّمَاءُ فَرُجِبَتْ ۝
﴿۷۷ المرسلات ۹﴾

اور جب آسمان پھٹ جائے (9:77)

And the Sky will open up as if it had gates. (78:19)

وَفَتَحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝
﴿۷۸ التین ۱۹﴾

اور آسمان کھول دیا جائے گا تو (اس میں) دروازے ہو
جائیں گے (19:78)

And when the sky is stripped bar. (81:11)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝
﴿۸۱ التکویر ۱۱﴾

اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی (11:81)

When the heaven bursts apart. (82:1)

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝
﴿۸۲ الانفطار ۱﴾

جب آسمان پھٹ جائے گا (1:82)

When the heaven will split open (84:1)

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝
﴿۸۴ الانشقاق ۱﴾

جب آسمان پھٹ جائے گا (1:84)

And attentive to her Lord in fear, (84:2)

وَإِذْ نَتَّيْنَا لِرَبِّهَا وَحَقَّ ۝
﴿۸۴ الانشقاق ۲﴾

اور اپنے پروردگار کا فرمان بجالائے گا اور اسے واجب بھی
مکمل ہے (2:84)

More Reference : 21:104 25:25 44:10,11
Page 733, 806

واللزم يراجع ۲۱ الأنبياء: ۱۰۴، ۲۵ الفرقان: ۲۵
۴۴ الدخان: ۱۱، ۱۰، الصفحة ۷۹۳، ۸۰۶

مزيد حواله 21:104 25:25 44:10,11
صفحة 806, 793

SKY SHALL BE ROLLED UP

يوم تَطْوَى السَّمَاءُ

آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا

The Day when We shall roll up the heavens as a recorder rolls up a written scroll. As We began the first creation, We shall repeat it. (It is) a promise (binding) upon Us. We are to perform it. (21:104)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۝
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۝
إِنَّا لَنَافِعِلِينَ ۝
﴿۲۱ الأنبياء ۱۰۴﴾

جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کاتب لکھنے
کے بعد لوراق لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ جس طرح ہم نے
(کائنات کو) پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے
(یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا) لازم ہے۔ ہم (ایسا)
مضروور کرنے والے ہیں (104:21)

More Reference : 39:67 Page 832

واللزم يراجع ۳۹ الزمر: ۶۷، الصفحة ۸۳۲

مزيد حواله 39:67 صفحه 832

SKY WILL BRING OBVIOUS SMOKE AND MIST

سَيُخْرِج الدِّخَان من السَّمَاءِ

آسمان سے دھواں نکلے گا

No, but they play in doubt. (44:9)

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۝
﴿۴۴ الدخان ۹﴾

لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں (9:44)

But watch you for the Day when the sky will produce visible smoke (44:10)

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝
﴿۴۴ الدخان ۱۰﴾

تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے کھلا دھواں نکلے گا
(10:44)

That will envelop the people. This will be a painful torment (44:11)

يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
﴿۴۴ الدخان ۱۱﴾

جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ درد دینے والا عذاب ہے
(11:44)

MOUNTAINS WILL BE CRUMPLED TO PIECES (PULVERIZED) AND BECOME SCATTERED TO THE WIND AS DUST

And (bethink you of) the Day when we shall remove the mountains and you will see the earth emerging, and we gather them together so as to leave one of them behind. (18:47)

They ask you of the mountains (on that Day): Say: My Lord will break them into scattered dust. (20:105)

And you see the hills you deem solid along with the flight of clouds: the decree of Allah Who perfects all things, He is Informed of what you say. (27:88)

And the mountains move away with (aerial) movement, (52:10)

All the hills are ground to powder (55:5)

So that they become a scattered dust, (56:6)

All the hills become as flakes of wool, (70:9)

On the Day when the earth and the hills are like a hill of rock, and the hills become a heap of running sand. (73:14)

And when the mountains are blown away, (77:10)

And the hills are set in motion and become as a mirage. (78:20)

And when the hills are moved, (81:5)

And the mountains will become as curls of wool. (101:5)

یومئذ تنسف الجبال نسفا

وَيَوْمَ نُسِفُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً
وَحَشْرًا لَهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿١٨﴾
﴿١٨﴾ الكهف ٤٧

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا
﴿٢٠﴾ طه ١٠٥

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَاوِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرًّا
السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْتَقْنَ كُلَّ شَيْءٍ
إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٢٧﴾ النمل ٨٨

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا ﴿٥٢﴾
﴿٥٢﴾ الطور ١٠

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥٦﴾
﴿٥٦﴾ الواقعة ٥

فَكَانَتْ هَبَاءً مُتَّبَثًا ﴿٥٦﴾
﴿٥٦﴾ الواقعة ٦

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٧٠﴾
﴿٧٠﴾ المعارج ٩

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ
كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿٧٣﴾
﴿٧٣﴾ المزمل ١٤

وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ﴿٧٧﴾
﴿٧٧﴾ المرسلات ١٠

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨﴾ النبأ ٢٠

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٨١﴾
﴿٨١﴾ التکویر ٣

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿١٠١﴾
﴿١٠١﴾ القارعة ٥

پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے
(غباریاری کی طرح اڑتے پھریں گے)

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان (لوگوں) کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے (47:18)

اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا (105:20)

اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ (اپنی جگہ پر) کھڑے ہیں مگر وہ (اس روز) اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ (یہ) اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے (88:27)

اور پہاڑ اڑنے لگیں اور ہو کر (10:52)

اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں (5:56)

پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں (6:56)

اور پہاڑ (ایسے) جیسے (دھنکی ہوئی) رنگین اون (9:70)

جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ (ایسے) بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں (14:73)

اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں (10:77)

اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے (20:78)

اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے (3:81)

اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون (5:101)

More reference : 69:14 Page 791

وللمزيد راجع ٦٩ الحاقة : ١٤ الصفحة ٧٩١

مزيد حوالہ 14:69 صفحہ 791

THE MOON WILL BE ECLIPSED AND BROUGHT TOGETHER WITH SUN

یومئذ یخسف القمر
ویجمع الشمس والقمر

چاند گرہن لگے گا اور سورج
کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا

And the Moon is eclipsed (75:8)

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٧٥﴾
﴿٧٥﴾ القيامة ٨

اور چاند گمنا جائے (8:75)

And Sun and Moon are united,
(75:9)

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾
(٧٥ القیامۃ ٩)

اور سورج اور چاند جمع کر دیئے جائیں گے (9:75)

**SUN (LIGHT-HEAT AND ENERGY SOURCE)
WILL BE EXTINGUISHED**

یومئذ تکور الشمس

سورج لپیٹ لیا جائے گا

When the Sun is overthrown, (81:1)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾
(٨١ التکویر ١)

جب سورج لپیٹ لیا جائے گا (1:81)

STARS WILL FADE

یومئذ تنکدر النجوم

ستارے بے نور ہو جائیں گے

So when the stars are put out, (77:8)

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾
(٧٧ المرسلت ٨)

جب تاروں کی چمک جاتی رہے (8:77)

And when the stars fall, (81:2)

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾
(٨١ التکویر ٢)

اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے (2:81)

**CONSTELLATION WILL BE STREWED
PLANETS WILL BE SCATTERED**

تنثر الكواكب

سیارے جھڑپڑیں گے

When the planets are dispersed,
(82:2)

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾
(٨٢ الانفطار ٢)

اور جب تارے (سیارے) جھڑپڑیں گے (2:82)

OCEANS WILL BOIL OVER AND SPILL FORTH

یومئذ تکون البحار مسجورة

دریا ابل پڑیں گے

By the Mount, (52:1)

وَالطُّورِ ﴿١﴾ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴿١﴾

(کوہ) طور کی قسم (1:52) اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے (2:52)

And a Scripture inscribed (52:2)

﴿٢ الطور ٢﴾

On unrolled parchment. (52:3)

فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ﴿٣﴾

کشاہہ لوراق میں (3:52)

And the House frequented, (52:4)

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿٤﴾

اور آباد گھر کی (4:52)

And the roof exalted, (52:5)

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿٥﴾

اور اونچی چھت کی (5:52)

And the sea kept filled, (52:6)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾

اور ابلتے ہوئے سمندر کی (6:52)

The doom of your Lord will surely
come to pass; (52:7)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾

کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا (7:52)

There is none that can ward it off.
(52:8)

مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾

(اور) اس کو کوئی روک نہیں سکے گا (8:52)

And when the seas overflow. (81:6)

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾

اور جب دریا آگ ہو جائیں (ابلیس) گے (6:81)

When the seas spill forth, (82:3)

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾

اور جب دریا بہہ (کراہیک دوسرے سے مل) جائیں گے (3:82)

A PICTURE OF HORROR ON THE DAY OF RESURRECTION

مناظر يوم النشور من الدعر والفضاعة

قیامت کے دن قبروں سے نکلنے کے بعد وحشت ناک مناظر

Deem not that Allah is unaware of what the wicked do. He but gives them a respite till a Day when eyes will gaze (in terror). (14:42)

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾
﴿١٤ ابراہیم ٤٢﴾

اور (مومنو) مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب کہ (دہشت کے سبب) آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی (42:14)

As they come hurrying on in fear, their heads upraised, their gaze returning not to them, and their hearts as air. (14:43)

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾
﴿١٤ ابراہیم ٤٣﴾

(اور لوگ) سر اٹھائے ہوئے (میدان قیامت کی طرف) دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی۔ اور ان کے دل (مارے خوف کے) ہوا ہورہے ہوں گے (43:14)

Your Lord will gather them together. He is Wise, Aware. (25:25)

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾
﴿١٥ الحجر ٢٥﴾

اور تمہارا پروردگار (قیامت کے دن) ان سب کو جمع کرے گا۔ وہ بڑا دانہ (اور) خبردار ہے (25:15)

With downcast eyes, they come forth from the graves as they were scusts spread abroad, (54:7)

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿٧﴾
﴿٥٤ القمر ٧﴾

تو آنکھیں نیچی کئے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں (7:54)

Fastening towards the Summoner; the disbelievers say: This is a hard day. (54:8)

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾
﴿٥٤ القمر ٨﴾

اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے (8:54)

On the Day when they come forth from the graves in haste, as racing to a goal, (70:43)

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾
﴿٧٠ المعارج ٤٣﴾

اس دن یہ قبروں سے نکل کر (اس طرح) دوڑیں گے جیسے (شکاری) شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں (43:70)

With eyes aghast, abasement deepening them such is the Day, which they are promised. (70:44)

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾
﴿٧٠ المعارج ٤٤﴾

ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (44:70)

But if a man wishes to do wrong (even) at the time in front of him. (75:5)

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٥﴾
﴿٧٥ القيامة ٥﴾

مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے نافرمانیاں کرتا جائے (5:75)

He asks: When will be this Day of Resurrection? (75:6)

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿٦﴾
﴿٧٥ القيامة ٦﴾

پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ (6:75)

But when sight is confounded (75:7)

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾
﴿٧٥ القيامة ٧﴾

جب آنکھیں چندھیا جائیں (7:75)

And agony is heaped on agony;
(75:29)

اور (جب سختی اور مصیبت کی وجہ سے) پٹلی سے پٹلی
جڑ جائے (29:75)

To your Lord that Day will be the
driving. (75:30)

اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے
(30:75)

For he neither trusted, nor prayed
(75:31)

تو اس (عاقبت ناندیش) نے نہ تو (کلام اللہ کی)
تصدیق کی نہ نماز پڑھی (31:75)

But he denied and flouted. (75:32)

بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا (32:75)

Then he went to his folk with glee.
(75:33)

پھر اپنے گھر والوں کے پاس اڑتا ہوا چل دیا
(33:75)

Woe to you (O man) surely woe
(75:34)

افسوس ہے تجھ پر پھر حسرت ہے تجھ پر (34:75)

Again woe to you (o man) Surely
woe. (75:35)

پھر افسوس ہے تجھ پر پھر خرابی ہے تیرے لئے
(35:75)

On that Day hearts beat painfully
(79:8)

اس دن (لوگوں کے) دل خائف ہو رہے ہوں گے
(8:79)

While eyes are downcast (79:9)

(اور) آنکھیں جھکی ہوئی (9:79)

More Reference : 20:102,108 27:87 30:25
Page 790,833 790 786
36:51 50:42,44 68:42,43 75:10
790 789,791 806 797
81:7 99:2,3
457 808

والعزیز راجع ۲۰ طہ ۱۰۸:۱۰۲ ۲۷ النمل: ۸۷
۳۰ الروم: ۲۵ ۳۶ یس: ۵۱ ۵۰ ق: ۴۲، ۴۴
۶۸ القلم: ۴۲، ۴۳ ۷۵ القیامة: ۱۰ ۸۱ التکویر: ۷
۹۹ الزلزلة: ۲، ۳

مزید حوالہ 20:102,108 27:87 30:25
صفحہ 790,833 790 786
36:51 50:42,44 68:42,43 75:10
790 789,791 806 797
81:7 99:2,3
457 808

**REFUGE WILL BE ONLY
WITH ALLAH (SWT) ON THAT DAY**

لامجیر یومئذ سوی اللہ

اس روز اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ نہ دے گا

Or have they gods who can shield
them from Us? They cannot help
themselves nor can they be
defended from Us. (21:43)

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا
لَا يَسْتَتِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا
يُصْعَبُونَ ﴿٤٣﴾
(۲۱ الانبیاء ۴۳)

کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو (مصائب
سے) بچا سکیں۔ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے
اور نہ ہم سے پناہ میں دیئے جائیں گے (43:21)

On that Day man will cry: Where to
flee! (75:10)

یَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْزُؤُ ﴿١٠﴾
(۷۵ القیامة ۱۰)

اس دن انسان کہے گا کہ (اب) کہاں بھاگ جاؤں
(10:75)

Alas! No refuge! (75:11)

كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾
(۷۵ القیامة ۱۱)

بے شک کہیں پناہ نہیں (11:75)

To your Lord is the recourse that
Day. (75:12)

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾
(۷۵ القیامة ۱۲)

اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانا ہے (12:75)

THE DAY OF JUDGEMENT

یوم الدین

یوم حساب - یوم جزا

THAT DAY WILL MAKE
THE CHILDREN, HOARY HEADED

Then how, if you disbelieve, will you protect yourselves upon the Day, which will turn children gray, (73:17)

یوم القیامۃ طویل جداً یشیب الصغار

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ
الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾
﴿٧٣ المزل ١٧﴾

قیامت کے دن کی طوالت
بچوں کو بوڑھا کر دے گی

اگر تم بھی (ان پیغمبروں کو) نہ مانو گے تو اس دن سے
کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا (17:73)

More Reference : 22:47 32:5 Page 755,328

وللمزيد راجع ٢٢ الحج :٧٠ ٣٢ السجدة :٥٠

مزيد من الآيات 22:47 32:5 Page 755,328

THAT DAY WILL RANGE FIFTY THOUSAND
YEARS OR (VERY LONG PERIODS - AGES)

Whereby) the angels and the Spirit ascend to Him in a Day whereof the span is fifty thousand years. (70:4)

مقدار یوم القیامۃ خمسين ألف سنة

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾
﴿٧٠ المعارج ٤﴾

قیامت کا ایک دن پچاس ہزار برس کا ہوگا

جس کی طرف روح (الائین) اور فرشتے چڑھتے ہیں
(اور) اس روز (نازل ہوگا) جس کا اندازہ پچاس ہزار
برس کا ہوگا (4:70)

But be patient (O Muhammad) with patience fair to see. (70:5)

فاصبر صبراً جميلاً ﴿٥﴾
﴿٧٠ المعارج ٥﴾

(تو آپ کافروں کی باتوں کو) حوصلے کے ساتھ
برداشت کرتے رہیں (5:70)

RECORD OF DOINGS
OF EVERY HUMANKIND
WILL BE TIED AROUND THEIR NECK

And every man's augury We have fastened to his own neck, and We shall bring forth for him on the Day of Resurrection a Book which he will find wide open. (17:13)

یومئذ یخرج لكل إنسان
كتاب " فيه تفصيل أعماله

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلِقَةً فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ
لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ١٣﴾

اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو (بصورت کتاب) اس
کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ اور قیامت کے روز (وہ)
کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا
(13:17)

And it will be said to him): Read your book. Your soul suffices as reckoner against you this Day. (17:14)

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ١٤﴾

(کہا جائے گا کہ) اپنی کتاب پڑھ لے۔ تو آج اپنا آپ ہی
پڑتال کرنے والا کافی ہے (14:17)

BOOK OF PERFECT RECORD
OF DEEDS WILL BE LAID OPEN

Who is blind here will be blind in the Hereafter, and yet farther from the road. (17:72)

یوضع کتاب الأعمال

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٧٢﴾

اعمال کی کتاب کھول دی جائے گی

اور جو شخص اس (دنیا) میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی
اندھا ہوگا اور (نجات کے) راستے سے بہت دور
(72:17)

And the Book is placed, and you see the guilty fearful of that which is therein, and they say: What Kind of a book is this that leaves not a small thing or a great thing but has counted it. And they find all that they did confronting them, and your Lord wrongs no one. (18:49)

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا
فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا
يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا
مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾
﴿١٨ الكهف ٤٩﴾

اور (عملوں کی) کتاب (کھول کر) رکھی جائے گی تو
تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں (لکھا) ہوگا
اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ اور کہیں گے۔ ہائے شامت
یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی
کو (کوئی بات بھی نہیں) مگر اسے لکھ رکھا ہے۔ اور جو
عمل کئے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے۔ اور تمہارا
پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا (49:18)

To Allah belongs whatsoever is in the heavens and on the earth. He knows your condition. And (He knows) the Day when they are returned to Him so that He may inform them of what they did. Allah is Knower of all things. (24:64)

الَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ
مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا عَمِلُوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾
﴿٢٤ النور ٦٤﴾

دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے جس طریقہ پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے۔ اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا۔ اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے (64:24)

And the earth shines with the light of her Lord, and the Book is set up, and the Prophets and the witnesses are brought, and it is judged between them with truth, and they are not wronged. (39:69)

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ
وَجِئَتْ بِرَبِّئِيْنٍ وَالشُّهَدٰٓءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٦٩﴾

اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور (اعمال کی) کتاب (کھول کر) رکھ دی جائے گی۔ اور پیغمبر اور (اور) گواہ حاضر کئے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی (69:39)

And each soul is paid in full for what it did. And He is best aware of what they do. (39:70)

وَوُضِعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ
بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾
﴿٣٩ الزمر ٧٠﴾

اور جس شخص نے جو عمل کیا ہو گا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے (70:39)

And you will see each nation crouching, each nation summoned to its Record. (And it will be said to them): This Day you are requited what you used to do. (45:28)

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جٰثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى
اِلٰى كِتٰبِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾
﴿٤٥ الجاثية ٢٨﴾

اور تم ہر ایک امت کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔ (اور) ہر ایک جماعت اپنی کتاب (اعمال) کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا (28:45)

This Our Book pronounces against you with truth. We have caused (all) that you did to be recorded. (45:29)

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطٰقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا
نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾
﴿٤٥ الجاثية ٢٩﴾

یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ بیان کر دے گی۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے (29:45)

RIGHTEOUS ONES WILL BE PROVIDED RECORD OF DEEDS IN THEIR RIGHT HANDS

المؤمن يتلقى كتابه بيمينه

ایمان والوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا

On the Day when We shall summon all men with their record, whoso is given his book in his right hand such will read their book and they will not be wronged a shred. (17:71)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اِنْسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ
اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ
كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فِتْيٰلًا ﴿٧١﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٧١﴾

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جن (کے اعمال) کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی۔ وہ اپنی کتاب کو (خوش ہو کر) پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا (71:17)

(First) those on the right hand; what of those on the right hand? (56:8)

فَاَصْحَابُ الْيَمِيْنَةِ مَا اَصْحَابُ الْيَمِيْنَةِ ﴿٨﴾
﴿٥٦ الواقعة ٨﴾

تو داہنے ہاتھ والے (سبحان اللہ) داہنے ہاتھ والے کیا (ای چچین میں) ہیں (8:56)

Then, as for him who is given his record in his right hand, he will say: Take, read my book! (69:19)

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هٰٓؤُمْ
اِقْرَءْ وَاَكْتٰبِيْهٖ ﴿١٩﴾
﴿٦٩ الحاقة ١٩﴾

تو جس کا (اعمال) نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ (دوسروں سے) کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ (اعمال) پڑھیے (19:69)

Surely I knew that I should have to meet my reckoning. (69:20)

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلِقٌ حِسَابِيهِ ۝
﴿٦٩ الحاقه ٢٠﴾

مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب (کتاب) ضرور ملے گا (20:69)

Then he will be in blissful state (69:21)

فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝
﴿٦٩ الحاقه ٢١﴾

پس وہ (شخص) من مانے عیش میں ہوگا (21:69)

Then whoever is given his account on his right hand (84:7)

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝
﴿٨٤ الانشقاق ٧﴾

تو جس کا نامہ (اعمال) اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا (7:84)

He truly will receive an easy reckoning (84:8)

فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝
﴿٨٤ الانشقاق ٨﴾

اس سے حساب آسان لیا جائے گا (8:84)

And will return to his folk in joy. (84:9)

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝
﴿٨٤ الانشقاق ٩﴾

اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا (9:84)

More Reference : 56:27,38,90 90:18
Page: 873,639,881,282

والمزيد راجع ٥٦ الواقعة: ٢٧، ٣٨، ٩٠ البلد: ١٨
الصفحة ٨٧٣، ٦٣٩، ٨٨١، ٢٨٢

عزیدہ سوالہ 18: 90 90,38,27: 56
صفحة 282, 881, 639, 873

RECORD OF THE VIRTUOUS ONES PRESERVED IN "ILLIYIN" HIGH PLACES

كتاب الأبرار في عليين

نیک لوگوں کا ذخیرہ اعمالِ علیین میں ہے

Of course! the record of the righteous is in "illiyen" Highest Heavens) (83:18)

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِيَيْنَ ۝
﴿٨٣ المطففين ١٨﴾

(یہ بھی) سن رکھو کہ نیک لوگوں کے اعمالِ علیین میں ہیں (18:83)

And what will make you realize what the "illiyun" Highest Heavens) are? (83:19)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ ۝
﴿٨٣ المطففين ١٩﴾

اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے (19:83)

A written record, (83:20)

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝
﴿٨٣ المطففين ٢٠﴾

ایک دفتر ہے لکھا ہوا (20:83)

Attested by those who are brought near (to their Lord). (83:21)

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝
﴿٨٣ المطففين ٢١﴾

جس کے پاس قرب رکھنے والے (فرشتے) حاضر رہتے ہیں (21:83)

The righteous are in delight, (83:22)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝
﴿٨٣ المطففين ٢٢﴾

بے شک نیک لوگ چین (خوشی) میں ہوں گے (22:83)

WICKED PERSONS WILL BE PROVIDED WITH RECORD OF BLACK DEEDS IN THEIR LEFT HANDS

يتلقى الفجار كتبهم بشمالهم

بدکاروں کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں

And (then) those on the left hand; what of those on the left hand? (56:9)

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝
﴿٥٦ الواقعة ٩﴾

اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) بائیں ہاتھ والے کیا (گر فجار عذاب) ہیں (9:56)

And those on the left hand: What of those on the left hand? (56:41)

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝
﴿٥٦ الواقعة ٤١﴾

اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) بائیں ہاتھ والے کیا (ہی عذاب میں) ہیں (41:56)

scorching wind and scalding water (56:42)

فِي سَمُومٍ وَجَمِيمٍ ۝
﴿٥٦ الواقعة ٤٢﴾

(یعنی دوزخ کی) لپیٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں (42:56)

and shadow of black smoke, (56:43)

وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ ۝
﴿٥٦ الواقعة ٤٣﴾

اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں (43:56)

Neither cool nor refreshing.
(56:44)

لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ﴿٤٤﴾
﴿٥٦ الواقعة ٤٤﴾

(جو) نہ ٹھنڈا (ہے) نہ خوشنما (44:56)

But as for him who is given his record in his left hand, he will say: Oh, would that I had not been given my book (69:25)

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ شِمَالِيَّةً ۖ فَيَقُولُ
يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً ﴿٢٥﴾
﴿٦٩ الحاقة ٢٥﴾

اور جس کا نامہ (اعمال) اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا (اعمال) نامہ نہ دیا جاتا (25:69)

And I would have not known my reckoning! (69:26)

وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَّةً ﴿٢٦﴾
﴿٦٩ الحاقة ٢٦﴾

اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے (26:69)

Oh, would that it had been death! (69:27)

يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾
﴿٦٩ الحاقة ٢٧﴾

اے کاش موت (ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میرا کام) تمام کر چکی ہوتی (27:69)

My wealth has not availed me, (69:28)

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةً ﴿٢٨﴾
﴿٦٩ الحاقة ٢٨﴾

(آج) میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا (28:69)

My power has gone from me. (69:29)

هَكَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةً ﴿٢٩﴾
﴿٦٩ الحاقة ٢٩﴾

(ہائے) میری سلطنت خاک میں مل گئی (29:69)

DISBELIEVERS WILL RECEIVE THEIR RECORDS TIED BEHIND THEIR BACK

يتلقى المكذبون كتبهم
وراء ظهورهم

جھٹلانے والوں کو
نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا

And it will be said (to them): it is that which you used to deny. (83:17)

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾
﴿٨٣ المطففين ١٧﴾

پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے (17:83)

But whoever is given his account behind his back, (84:10)

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾
﴿٨٤ الانشقاق ١٠﴾

اور جس کا نامہ (اعمال) اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا (10:84)

He surely will invoke destruction (84:11)

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾
﴿٨٤ الانشقاق ١١﴾

وہ موت کو پکارے گا (11:84)

And be thrown to scorching fire. (84:12)

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾
﴿٨٤ الانشقاق ١٢﴾

اور دوزخ میں داخل ہوگا (12:84)

RECORD OF WICKED IS PRESERVED IN "SIJJIN"

سجین

سجین

No but the record of the vile is in Sijjin (83:7)

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ﴿٧﴾
﴿٨٣ المطففين ٧﴾

نہیں رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں (7:83)

Ah! What will convey to you what Sijjin is! (83:8)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ ﴿٨﴾
﴿٨٣ المطففين ٨﴾

اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے (8:83)

A written record. (83:9)

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾
﴿٨٣ المطففين ٩﴾

ایک دفتر ہے لکھا ہوا (9:83)

Woe to the repudiators on that Day! (83:10)

وَيْلٌ لِّمُؤْمِنِيٍّ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾
﴿٨٣ المطففين ١٠﴾

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے (10:83)

FACES WILL BE INDEXES OF DEEDS

On the Day when (some) faces will be whitened and (some) faces will be blackened; and as for those whose faces have been blackened, it will be said to them: Disbelieved you after your (profession of) belief? Then taste the punishment for that you disbelieved. (3:106)

As for those whose faces have been whitened, in the mercy of Allah they will dwell forever. (3:107)

These are revelations of Allah. We recite them to you in truth. Allah wills no injustice to (His) creatures. (3:108)

For those who do good is the best reward) and more (thereto). Neither dust nor ignominy comes near their faces. Such are rightful owners of the Garden; they will abide therein. (10:26)

And those who earn ill deeds, (for them) requital of each ill deed by the like thereof; and ignominy overtakes them. They have no protector from Allah. As if their faces had been covered with a cloak of darkest night. Such are rightful owners of the Fire; they will abide therein. (10:27)

On that Day neither man nor jinn will be questioned of his sin. (5:39)

The guilty will be known by their marks, and will be taken by the necks and the feet. (55:41)

Which then of your Sustainer's powers can you disavow? (55:42)

On that Day many faces will be radiant, (75:22)

**يومئذ تكون الوجوه
دليلاً على الأعمال**

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

﴿٣ آل عمران ١٠٦﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

﴿٣ آل عمران ١٠٧﴾

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

﴿٣ آل عمران ١٠٨﴾

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٩﴾

﴿١٠٩ يونس ٢٦﴾

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ لَّيْسَ لَهُمْ شِفَاءٌ لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا يَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ خَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٠﴾

﴿١١٠ يونس ٢٧﴾

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٥﴾

﴿٥٥ الرحمن ٣٩﴾

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

﴿٤١ الرحمن ٤١﴾

فِي آيِ الْآرِ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٤٢﴾

﴿٤٢ الرحمن ٤٢﴾

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٧٥﴾

﴿٧٥ القيامة ٢٢﴾

چہرے اعمال کے آئینہ دار ہوں گے

جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ۔ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے (ان سے اللہ فرمائے گا) کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو (اب) اس کفر کے بدلے عذاب (کے مزے) چکھو (106:3)

اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت (کے باغوں) میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے (107:3)

یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا (108:3)

جن لوگوں نے نیک اعمال کئے ان کے لئے بھلائی ہے اور (مزید برآں) بھی۔ اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی۔ یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (26:10)

اور جنہوں نے برے کام کئے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں (کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان) پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھا دیئے گئے ہیں۔ یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے (27:10)

اس روز (اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے کے لئے) نہ تو کسی انسان سے (اتمام حجت کے بعد) اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھ بچھ کی جائے گی اور نہ کسی جن سے (اس کے جرم کے متعلق پوچھا جائے گا) (39:55)

گنہگار اپنے چہرے (جلیہ) ہی سے پہچان لئے جائیں گے تو (ان کو) پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لئے جائیں گے (41:55)

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ (42:55)

اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے (22:75)

Looking towards their Lord;
(75:23)

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾
﴿٧٥ القامة ٢٣﴾ (23:75)

And that Day other faces will be
despondent, (75:24)

وَوُجُوهُ يُؤْمِنِينَ بِأَسْرَةٍ ﴿٢٤﴾
﴿٧٥ القامة ٢٤﴾ (24:75)

Thinking that some back-breaking
calamity was about to be inflicted
on them. (75:25)

نَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾
﴿٧٥ القامة ٢٥﴾ (25:75)

On that Day faces will be bright as
dawn, (80:38)

وَوُجُوهُ يُؤْمِنِينَ مُسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾
﴿٨٠ عبس ٣٨﴾ (38:80)

Laughing, rejoicing at good news;
(80:39)

ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾
﴿٨٠ عبس ٣٩﴾ (39:80)

And other faces, on that Day, with
dust upon them, (80:40)

وَوُجُوهُ يُؤْمِنِينَ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
﴿٨٠ عبس ٤٠﴾ (40:80)

Veiled in darkness, (80:41)

تَرَهَقَهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾
﴿٨٠ عبس ٤١﴾ (41:80)

Those are the disbelievers, the
wicked. (80:42)

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿٤٢﴾
﴿٨٠ عبس ٤٢﴾ (42:80)

Has there come to you tidings of the
Overwhelming? (88:1)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَٰشِيَةِ ﴿١﴾
﴿٨٨ الغاشية ١﴾ (1:88)

On that Day (many) faces will be
downcast, (88:2)

وَوُجُوهُ يُؤْمِنِينَ خَٰشِعَةٌ ﴿٢﴾
﴿٨٨ الغاشية ٢﴾ (2:88)

Toiling, weary, (88:3)

عَٰمِلَةٌ تَٰصِبَةٌ ﴿٣﴾
﴿٨٨ الغاشية ٣﴾ (3:88)

Scorched by burning fire, (88:4)

تَصَلَّىٰ نَارًا حَٰمِيَةً ﴿٤﴾
﴿٨٨ الغاشية ٤﴾ (4:88)

**NO FEAR SHALL COME UPON BELIEVERS NOR
WILL THEY BE SADENED**

يومئذ لا يكون للمؤمنين
خوف "ولا حزن"

ایمان والوں کو نہ کچھ غم ہوگا نہ خوف

No but whosoever surrenders his
purpose to Allah while doing good,
his reward is with his Lord; and
there shall no fear come upon them
neither shall they grieve. (2:112)

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾
﴿٢ البقرة ١١٢﴾

ہاں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے (یعنی ایمان
لے آئے) اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو اس کا
صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو
(قیامت کے دن) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم
زدہ ہوں گے (112:2)

We send not the messengers but as
bearers of good news and warners.
Whoso believes and does right,
there shall no fear come upon them
neither shall they grieve. (6:48)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾
﴿٦ الانعام ٤٨﴾

اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور
ڈرانے کو پھر جو شخص ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے
والا ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم
سے بھرے ہوئے ہوں گے (48:6)

And he who has done some good works, being a believer, he will have no fear of injustice or begrudging (of his wage). (20:112)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا (112:20)

Anyone who brings a good deed will have better than its worth; and such are safe from fear on that Day. (37:89)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا يَخْتَفَى ﴿٨٩﴾

جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا تو اس کے لئے اس سے بہتر (بدلہ تیار) ملے گا اور ایسے لوگ (اس روز) گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے (89:27)

And Allah delivers those who ward off (evil) because of their deserts. Evil touches them not, nor do they grieve. (39:61)

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْلِ مَا كَانُوا يَلْعَنُونَ ﴿٦١﴾

اور جو پرہیزگار ہیں ان کی (سعادت اور) کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی۔ اور نہ غم ناک ہوں گے (61:39)

Core Reference :	2:62,274,277	4:30
Page	280,279,258	556
69	7:35,49	30:15
72	306,839	881
77	43:68	46:13
77	882	304

المزید راجع	٢ البقرة: ٢٧٧، ٢٧٤، ٢٢٢	٤ النساء: ٣٠
٥ المائدة: ٦٩	٧ الأعراف: ٤٩، ٣٥	٣٠ الروم: ١٥
٣٥ فاطر: ٣٥	٣٦ يس: ٥٥	٤٣ الزخرف: ٦٨
٤٦ الأحقاف: ١٣		

٢٧٧، ٢٧٤، ٢٢٢	277,274,62:2	30:4	69:5
280,279,258	280,279,258	556	472
306,839	306,839	881	68:43
43:68	43:68	46:13	55:36
882	882	304	35:35
			15:30
			49:35:7
			13:46
			304

PARADISE SHALL BE BROUGHT NEAR

The Garden will be brought near for those who did their duty (fear Allah's annoyance) (26:90)

And when the garden is brought near (81:13)

(Then) every soul will know what it has made ready. (81:14)

تجعل الجنة بالقرب

وَأَزَلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾

عَلِمَتْ نَفْسٌ مِمَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

جنت قریب لائی جائے گی

اور پرہیزگاروں (اللہ سے ڈرنے والوں) کیلئے جنت بالکل نزدیک کر دی جائیگی (90:26)

اور بہشت جب قریب لائی جائے گی (13:81)

تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے (14:81)

Core Reference : 50:31,32,33 Page 804, 884

المزید راجع ٥٠ ق: ٢٣، ٢٢، ٢١، الصفحة ٨٠٤، ٨٨٤

المزید حوالہ 33,32,31:50 صفحہ 884, 804

ALL WILL BE SPREAD OUT ON DISPLAY FOR DISBELIEVERS

On that Day We shall present Hell to the disbelievers, plain to view, (100:100)

Those whose eyes were hoodwinked from My remembrance, and who could not bear to hear. (18:101)

تعرض جہنم للکافرین

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

جہنم مجرموں کے سامنے لائی جائے گی

اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے (100:18)

جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے (101:18)

Core Reference : 26:91 Page 843

المزید راجع ٢٦ الشعراء: ٩١، الصفحة ٨٤٣

المزید حوالہ 91:26 صفحہ 843

FORTUNATE (BLESSED ONE) AND UNFORTUNATE (MISERABLE) PEOPLE

On the Day when it comes no soul will sneak except by His permission; some among them will be wretched, (others) glad. (11:105)

السعداء و الاشقياء

يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾

نیک بخت اور بد بخت لوگ

جس روز وہ آجائے گا تو کوئی جان دار اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔ پھر ان میں سے کچھ بد بخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت (105:11)

As for those who will be wretched (on that Day) they will be in the Fire; sighing and wailing will be their portion therein. (11:106)

فَأَمَّا الَّذِينَ سَقَوْا فَعَلَى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ
وَشَهيقٌ ﴿١٠٦﴾
﴿١١ ہود ۱۰۶﴾

جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں (ڈال دیئے جائیں گے) اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا (106:11)

Abiding there so long as the heavens and the earth endure except for that which your Lord wills. Your Lord is Doer of what He wills. (11:107)

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾
﴿١١ ہود ۱۰۷﴾

(اور) جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے۔ مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے (107:11)

And as for those who will be glad (that Day) they will be in the Garden, abiding there so long as the heavens and the earth endure except for that which your Lord wills a gift unfailing. (11:108)

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَعَلَى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُودٍ ﴿١٠٨﴾
﴿١١ ہود ۱۰۸﴾

جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں (داخل کئے جائیں گے اور) جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے یہ (خدا کی) بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی (108:11)

More Reference : 92:15 Page 887

واللہ عز وجل ۹۲ اللیل: ۱۵ الصفحة 887

زیند حوالہ 92: 15 صفحہ 887

CRIMINALS WILL BE STEPPED ASIDE

سحقاً للمجرمین یوم القیامۃ

مجرم الگ کر دیئے جائیں گے

In order that Allah may separate the wicked from the good. He will place wicked one on another, and heap them all together, and consign them to Hell. Such are the losers. (8:37)

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَةً عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَبُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾
﴿٨ الانفال ۳۷﴾

تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں (37:8)

But avaunt (step aside) you, O you guilty, this Day! (36:59)

وَأَمَّا تَارُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٣٦ یسین ۵۹﴾

اور گنہگارو تم آج الگ ہو جاؤ (59:36)

ANYONE WHO TURNS AWAY FROM ALLAH'S MESSAGE, SHALL BE SUMMONED AS BLIND

المعرض عن ذکر اللہ
یحشر یوم القیامۃ أعمی

اللہ کی یاد اور احکامات سے منہ پھیرنے والے
اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے

But he who turns away from remembrance of Me, his will be a narrow life, and We shall bring him blind to the assembly on the Day of Resurrection. (20:124)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾
﴿٢٠ طہ ۱۲۴﴾

اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے (124:20)

He will say: My Lord! Wherefore have you gathered me (here) blind, while I had sight before? (20:125)

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾
﴿٢٠ طہ ۱۲۵﴾

وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو (دنیا کی زندگی میں) دیکھتا بھالتا تھا (125:20)

He will say: So (it must be). Our revelations came to you but you did forget them. In like manner you are forgotten this Day. (20:126)

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾
﴿٢٠ طہ ۱۲۶﴾

اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی (چاہئے تھا) تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا۔ اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے (126:20)

DISBELIEVERS SHALL BE SUMMONED TO BOWDOWN BUT THEY WILL NOT BE ABLE TO MANAGE

On the Day when it befalls in earnest, and they are ordered to prostrate themselves but are not able, (68:42)

With eyes downcast, abasement befaling them. And they had been summoned to prostrate themselves while they were yet unhurt. (68:43)

When it is said to them: Bow down, they bow not down! (77:48)

As to the repudiators on that Day! (77:49)

يَوْمَئِذٍ لَا يَسْتَطِيعُ الْكُفَّارُ أَنْ يَسْجُدُوا وَاللَّهُ حِينَ يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾
﴿٦٨ القلم ٤٢﴾

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾
﴿٦٨ القلم ٤٣﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٤﴾
﴿٧٧ المرسلات ٤٨﴾

وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾
﴿٧٧ المرسلات ٤٩﴾

اس روز کفار اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود سجدہ ریز ہونے سے معذور ہونگے

جب ساق کی تجلی فرمائی جائے گی (سخت وقت آن پڑے گا) اور کفار سجدے کے لئے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے (42:68)

ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہو گی حالانکہ پہلے (اس وقت) سجدے کے لئے بلائے جاتے تھے۔ جب کہ صحیح و سالم تھے (43:68)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ (اللہ کے آگے) جھکو تو جھکتے نہیں (48:77)

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے (49:77)

THE ANGELS WILL BE SENT RIGHT DOWN

On the Day when the heaven with the clouds will be rent asunder and the angels will be sent down, a grand descent. (25:25)

يَوْمَئِذٍ يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ نَزِيلاً

وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلاً ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ٢٥﴾

فرشتے لگا تار نازل کئے جائیں گے

اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کئے جائیں گے (25:25)

ANGELS SHALL DRIVE THE RECORD INDIVIDUALS AND BEAR WITNESS

As every soul comes, along with it a cover and a witness (50:21)

يَقْدُمُ الْمَلَائِكَةُ الْكُتُبَ إِلَى الْإِنْسَانِ وَيَكُونُوا شُهَدَاءَ

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾
﴿٥٠ ق ٢١﴾

فرشتے انسانوں کا نامہ اعمال کھول کر سامنے رکھ دیں گے اور گواہی دیں گے

اور ہر شخص (ہمارے سامنے) آئے گا۔ ایک (فرشتہ) اس کے ساتھ لانے والا ہوگا اور ایک (اس کے عملوں کی) گواہی دینے والا (21:50)

And (to the evildoer it is said): You were in heedlessness of this. Now We have removed from you your covering, and piercing is your sight this Day. (50:22)

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾
﴿٥٠ ق ٢٢﴾

(یہ وہ دن ہے کہ) اس سے تو غافل ہو رہا تھا۔ اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے (22:50)

And (to the evildoer) his comrade will say, this is that which I have read (as testimony). (50:23)

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿٢٣﴾
﴿٥٠ ق ٢٣﴾

اور اس کا ہم نشین (فرشتہ) کے گا کہ یہ (اعمال نامہ) میرے پاس حاضر ہے۔ (23:50)

**GOOD OR EVIL DOING OF HUMANKIND
(EVEN EQUAL TO THE WEIGHT OF AN ATOM)
SHALL BE SORTED OUT**

یومئذ لا یكون ائی عمل
مخفیا للإنسان

ذره برابر نیکی اور برائی سامنے لائی جائے گی

On the Day when every soul will find itself confronted with all that it has done of good and all that it has done of evil (every soul) will long that there might be a mighty space of distance between it and that (evil). Allah bids you beware of Him. And Allah is full of pity for (His) bondmen. (3:30)

یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا ۗ وَ مَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَ يَجِدُ اللَّهُ كَمَا نَفْسُهُ ۗ وَ اللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾
﴿٣ آل عمران ٣٠﴾

جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی (دیکھ لے گا) تو آرزو کرے گا کہ اسے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی دوری ہو جاتی۔ اور اللہ تم کو اپنے (غضب) سے ڈراتا ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے (30:3)

On that Day you will be exposed; not a secret of you will be hidden. (69:18)

یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾
﴿٦٩ الحاقة ١٨﴾

اس روز تم (سب لوگوں کے سامنے) پیش کئے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات چھپی نہ رہے گی (18:69)

That Day mankind will issue forth in scattered groups to be shown their deeds. (99:6)

یَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيُرَوُّا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾
﴿٩٩ الزلزال ٦﴾

اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائیے جائیں (6:99)

And whoever does good an atom's weight will see it then, (99:7)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾
﴿٩٩ الزلزال ٧﴾

تو جس نے ذره بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا (7:99)

And anyone who does ill an atom's weight will see it then. (99:8)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾
﴿٩٩ الزلزال ٨﴾

اور جس نے ذره بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا (8:99)

Their Lord will be informed about them on that Day. (100:11)

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾
﴿١٠٠ الغدیت ١١﴾

بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا (11:100)

More Reference :

6:60	16:93	21:47
Page	117	819
24:64	29:8	31:16
799	453	110
58:6	75:13	
110	809	

والمزید راجع	٦ الأنعام: ٦٠	١٦ النحل: ٩٣
٢١ الأنبياء: ٤٧	٢٤ النور: ٦٤	٢٩ العنكبوت: ٨
٣١ لقمان: ١٦	٣٩ الزمر: ٧	٤٥ الجاثية: ٢٢
٥٨ المجادلة: ٦	٧٥ القيامة: ١٣	

مزيد حوالہ	60:6	93:16	47:21	64:24
صفحہ	117	819	808	799
8:29	16:31	7:39	32:45	6:58
453	110	301	823	110
13:75				
809				

**SECRET THOUGHTS WILL
ALSO BE EXAMINED**

یوم تبلی السرائر

دلوں کے بھید جانچے جائیں گے

On the Day when hidden thoughts shall be searched out. (86:9)

یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾
﴿٨٦ الطارق ٩﴾

جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے (9:86)

Then he will have no might or any helper. (86:10)

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾
﴿٨٦ الطارق ١٠﴾

تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا (10:86)

And whatever is on in (human's) breasts is made manifest. (100:10)

وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾
﴿١٠٠ الغدیت ١٠﴾

اور سینوں (دلوں) کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی (10:100)

More Reference : 100:9,11 Page 792,807

والمزید راجع ١٠٠ الغدیت: ١١، ٩: ١٠٧، ٧٩٢ الصفحة

مزيد حوالہ 100:9,11 صفحہ 807,792

DEEDS WILL BE NICELY WEIGHTED

توزن الأعمال

اعمال کا وزن ہوگا

The weighing on that Day is the true (weighing). As for those whose scale is heavy, they are the successful. (7:8)

وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۗ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾
﴿٧ الاعراف ٨﴾

اور اس روز (اعمال کا) تلسا برحق ہے۔ تو جن لوگوں کے (عملوں کے) وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں (8:7)

And as for those whose scale will be light: those will find their souls in perdition because they disbelieved Our revelations. (7:9)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِنَاكَ وَأَيَّتِنَا يَحْكُمُونَ ﴿٩﴾
﴿٧ الاعراف ٩﴾

اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لئے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے (9:7)

And We set a just balance for the Day of Resurrection so that no soul will be dealt unjustly. Though it be of the weight of a grain of mustard seed, We will bring it. And We suffice for reckoners. (21:47)

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾
﴿٢١ الأنبياء ٤٧﴾

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کسی کا عمل) ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں (47:21)

Then those whose scales are heavy, they are the successful. (23:102)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاحِشُونَ ﴿١٠٢﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١٠٢﴾

تو جن کے (عملوں کے) بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاں جانے والے ہیں (102:23)

And those whose scales are light are those who lose their souls, in Hell abiding. (23:103)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١٠٣﴾

اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے (103:23)

Then, as for him whose scales are heavy (with good works), (101:6)

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾
﴿١٠١ القارعة ٦﴾

تو جس کے (اعمال کے) وزن بھاری نکلیں گے (6:101)

He will live a pleasant life. (101:7)

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾
﴿١٠١ القارعة ٧﴾

وہ دل پسند عیش میں ہوگا (7:101)

But as for him whose scales are light, (101:8)

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾
﴿١٠١ القارعة ٨﴾

اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے (8:101)

He will have his home in the bottomless) pit. (101:9)

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾
﴿١٠١ القارعة ٩﴾

اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے (9:101)

EARTH WILL UNVEIL THE WHOLE SECRETS DONE THEREIN

تحدت الارض اخبارها

زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی (گو ابھی دے گی)

When Earth is shaken with her (final) earthquake (99:1)

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾
﴿٩٩ الزلزال ١﴾

جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی (1:99)

And Earth yields up her burdens, (99:2)

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾
﴿٩٩ الزلزال ٢﴾

اور زمین اپنے (اندر کے) بوجھ نکال ڈالے گی (2:99)

And man says: What ails her? (99:3)

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾
﴿٩٩ الزلزال ٣﴾

اور انسان کے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ (3:99)

That Day she will relate her chronicles, (99:4)

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾
﴿٩٩ الزلزال ٤﴾

اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی (4:99)

Because your Lord inspires her. (99:5)

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴿٥﴾
﴿٩٩ الزلال ٥﴾

کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا (ہوگا) (5:99)

ALL INSTRUMENTS OF ACTION BESTOWED IN PROBATIONARY LIFE WILL BEAR WITNESS AGAINST THEIR MISUSE

On a Day when their tongues, their hands, and their feet will testify against them concerning whatever they have been doing. (24:24)

This Day We seal up mouths, and hands speak out and feet bear witness as to what they used to earn. (36:65)

And (make mention of) the Day when the enemies of Allah are gathered to the Fire, they are driven on (41:19)

Till, when they reach it, their ears and their eyes and their skins testify against them as to what they used to do. (41:20)

And they say to their skins: Why testify you against us? They say: Allah has given us speech Who gives speech to all things, and Who created you at the first, and to Whom you are returned. (41:21)

You did not hide yourselves lest your ears and your eyes and your skins should testify against you, but you deemed that Allah knew not much of what you did. (41:22)

That, your thought which you did think about your Lord, has ruined you; and you find yourselves (this Day) among the lost. (41:23)

HUMANKIND WILL BECOME APPROVER (WITNESS AGAINST OWNSELF)

On that Day man will be told the tale of that which he has sent before and left behind. (75:13)

Oh, but man is a telling witness against himself, (75:14)

Although he tender his excuses. (75:15)

يشهد أعضاء الجسم على المجرمين

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾
﴿٢٤﴾ النور ٢٤

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٣٦﴾ يس ٣٦

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٤١﴾
﴿٤١﴾ خم سجدة ١٩

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾
﴿٤١﴾ خم سجدة ٢٠

وَقَالُوا الْجُلُودُ دِهْمٌ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤١﴾
﴿٤١﴾ خم سجدة ٢١

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾
﴿٢٢﴾ خم سجدة ٢٢

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾
﴿٢٣﴾ خم السجدة ٢٣

يومئذ يجد الإنسان ما عمل حاضراً

يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿٧٥﴾
﴿٧٥﴾ القيامة ١٣

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿٧٥﴾
﴿٧٥﴾ القيامة ١٤

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿٧٥﴾
﴿٧٥﴾ القيامة ١٥

انسان کے جسمانی اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے

جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور انکے ہاتھ، پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے (24:24)

آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں (اس کی) گواہی دیں گے (65:36)

اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لئے جائیں گے (19:41)

یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چہرے (یعنی دوسرے اعضاء) ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے (20:41)

اور وہ اپنے چیزوں (یعنی اعضاء) سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو زبان بخشی اسی نے ہم کو بھی گویائی دی۔ اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے (21:41)

اور تم اس (بات کے خوف) سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چہرے تمہارے خلاف شہادت دیں گے بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں (22:41)

اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے (23:41)

انسان اپنے اعمال کا خود گواہ بن جائے گا

اس دن انسان کو جو (عمل) اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیئے جائیں گے (13:75)

بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے (14:75)

اگرچہ عذرو معذرت کرتا ہے (15:75)

THERE WILL BE NO ROOM FOR DENIAL OF SINS FOR ANYONE

Answer the call of your Lord before there comes to you from Allah a Day which there is no averting. You have no refuge on that Day, nor have you any (power of) refusal. (42:47)

EACH PROPHET WILL BE A WITNESS FOR HIS PEOPLE

But how (will it be with them) when We bring of every people a witness, and We bring you (O Muhammad) a witness against these? (4:41)

Then We shall narrate to them (the event) with knowledge, for We were not absent, (when it came to pass). (7:7)

And (bethink you of) the Day when We raise up of every nation a witness, then there is no leave for disbelievers, nor are they allowed to make amends. (16:84)

And (bethink you of) the Day when We raise in every nation a witness against them of their own folk, and We bring you (Muhammad) as a witness against these. And We reveal the Scripture to you as an exposition of all things, and a guidance and a mercy and good tidings for those who have surrendered (to Allah). (16:89)

And We shall take out from every nation a witness and We shall say: Bring your proof. Then they will know that Allah has the Truth, and all that they invented will have failed them. (28:75)

And when the messengers are brought to their time appointed (77:11)

for which Day is the time appointed? (77:12)

for the Day of Decision. (77:13)

يَوْمَئِذٍ لَا نَكِيرَ لِلْمَجْرِمِينَ

اَسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّ كَمَا مَنَّ قَبْلَ اَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَّالٍ اَيُّوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّكَيرٍ ﴿٤٧﴾
﴿٤٢ الشورى ٤٧﴾

يَكُونُ كُلُّ رَسُوْلٍ شَهِيدًا عَلٰى اُمَّتِهِ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدٌ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾
﴿٤ النساء ٤١﴾

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾
﴿٧ الاعراف ٧﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاُولٰٓئِهٖمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٤﴾
﴿١٦ النحل ٨٤﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰى هٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ تَبْيٰٓنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٨٩﴾
﴿١٦ النحل ٨٩﴾

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهٰنَكُمْ فَعَلِمُوْا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾
﴿٢٨ القصص ٧٥﴾

وَ اِذَا الرُّسُلُ اُقْتَتَتْ ﴿١١﴾
﴿٧٧ المرسلت ١١﴾

لَا اِیُّ یَوْمٍ اُجِلَّتْ ﴿١٧﴾
﴿٧٧ المرسلت ١٢﴾

لِیَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾
﴿٧٧ المرسلت ١٣﴾

کسی کو قیامت کے روز انکار جرم کی جرأت نہ ہوگی

(ان سے کہہ دو کہ) قبل اس کے کہ وہ دن جوٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے موجود ہوا اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو۔ اس دن تمہارے لئے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا (47:42)

ہر امت پر ان کا پیغمبر گواہ ہوگا

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور آپ کو ان لوگوں کا (حال بتانے کو) گواہ طلب کریں گے (41:4)

پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے (7:7)

اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ (یعنی پیغمبر) کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو (بولنے کی) اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کئے جائیں گے (84:16)

اور (اس دن کو یاد کرو) جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے۔ اور (اے پیغمبر) آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اور ہم نے آپ پر (ایسی) کتاب نازل کی ہے کہ (اس میں) ہر چیز کا بیان (مفصل) ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت خوش خبری ہے (89:16)

اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا (75:28)

اور جب پیغمبر فراہم کئے جائیں (11:77)

کس دن کیلئے (ان سب کو) مؤخر کیا گیا ہے (12:77)

فیصلے کے دن کے لئے (13:77)

DISBELIEVERS WHO DEFIED ALLAH (SWT) AND THEIR MESSENGER WILL REFRAIN TO FACE AND LIKE TO HIDE

On that Day those who disbelieved and disobeyed the messenger will wish that they were level with the ground, and they will hide no fact from Allah. (4:42)

سيجزع الكفار من الحضور أمام الله
والرسول من الخجل

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ
لَوْ كَانُوا يَسْمعونَ بِهَمَّ الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ
حَدِيثًا ۝
﴿٤٢ النساء ٤٢﴾

منكرين اللہ تعالیٰ اور اپنے پیغمبر کا سامنا
کرنے سے گھبرائیں گے
(ندامت سے ڈوبے جائیں گے)

اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش
ان کو زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی۔ اور اللہ
سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے (4:42)

THE MESSENGERS FOR THE DELIVERANCE OF TEACHING AND THE PEOPLE FOR ITS ACKNOWLEDGEMENT WILL BE INTERROGATED

Then We shall question those to whom (Our Message) has been sent, and We shall question the messengers too. (7:6)

That He may ask the men of truth of as to (what response) their truthfulness (had received on earth). And He has prepared a painful doom for all who deny the truth. (33:8)

يسئَلنَّ الله تعالى الذين أرسل إليهم
وليسئَلنَّ المرسلين

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ
الْمُرْسَلِينَ ۝
﴿٧ الاعراف ٦﴾

لَيَسْئَلَنَّ الصّٰدِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا أَلِيمًا ۝
﴿٣٣ الاحزاب ٨﴾

پیغمبر اور قوم دونوں سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے
بارے میں سوال کرے گا

تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی
ضرور پوچھیں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے
(6:7)

تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں
دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لئے دکھ دینے
والا عذاب تیار کر رکھا ہے (8:33)

MESSENGERS WILL BE ASKED ABOUT THE RESPONSE OF THEIR TEACHING FROM THEIR PEOPLE

In the Day when Allah gathers together the messengers, and will say What was your response (from mankind)? They say: We have no knowledge. You, only You are the Knower of Hidden things. (5:109)

يجمع الله الرسول فيقول
ماذا أجبتهم

يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ
قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِئِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝
﴿٥ المائدة ١٠٩﴾

اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے پوچھیں گے
کہ قوم نے تبلیغ کا کیا جواب دیا

(وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے) جس دن اللہ پیغمبروں
کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا
تھا وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ تو ہی
غیب کی باتوں سے واقف ہے (109:5)

THE PROPHET (SAAS) WILL SAY THAT MY PEOPLE ASSUMED THIS QURAN READING OUTDATED (NEITHER THEY COGITATED INTO ITS MESSAGE NOR ACTED UPON ITS TEACHINGS)

And the messenger will say O my Lord! Mine own folk made this Qur'an of no account. (25:30)

يقول الرسول ﷺ يا رب إن قومي
اتخذوا هذا القرآن مهجورا

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا
الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝
﴿٢٥ الفرقان ٣٠﴾

رسول اللہ ﷺ امت کے ترک قرآن
(کلام الہی پر غور و فکر اور عمل نہ کرنے)
کا بتائیں گے

اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس
قرآن کو چھوڑ رکھا تھا (30:25)

DISBELIEVERS WILL BE ASKED THAT HOW THEY RESPONDED THE MESSENGER

Have they not pondered the Word, or has that come to them which came not to their fathers of old? (23:68)

يسأل الكفار ماذا
أجابوا الرسول

أَفَلَمْ يَكْتُمِبُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ
آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝
﴿٢٣ المؤمنون ٦٨﴾

منكرين سے پوچھا جائے گا کہ پیغمبر کو
انہوں نے کیا جواب دیا تھا

کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس
کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس
نہیں آئی تھی (68:23)

Or know they not their messenger, and so reject him? (23:69)

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٢٣﴾
﴿٢٣ المومنون ٦٩﴾

یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟ (69:23)

And on the Day when He will call to them and say: What answer gave you to the messengers? (28:65)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨ القصص ٦٥﴾

اور جس روز (اللہ) ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا (65:28)

On that Day (all) tidings will be dimmed for them, nor will they ask one of another, (28:66)

فَعَبَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨ القصص ٦٦﴾

تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے (66:28)

HUMANKIND WILL THINK THAT HE SOJOURNED WORLDLY LIFE FOR A LITTLE WHILE

يظنّ الناس كأنهم لبثوا في الدنيا يوماً أو بعض يوم

انسانوں کو اس دنیا کی زندگی کے قیام کی مدت ایک روز یا اس سے بھی کم محسوس ہوگی

And on the Day when He shall gather them together, (when it will seem) as though they had tarried but an hour of the day, recognizing one another, those will have perished who denied the meeting with Allah and were not guided. (10:45)

وَيَوْمَ يحْشُرُهُمْ كَان لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٠﴾
﴿١٠ يونس ٤٥﴾

اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا (تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ) گویا (وہاں) سارے دن کی ایک آدھ گھڑی بھر سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور ہدایت یاب نہ ہوئے (45:10)

A Day when He will call you and you will answer with His praise, and you will think that you have tarried but a little while. (17:52)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٥٢﴾

جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم (دنیا میں) بہت کم (مدت) رہے (52:17)

Murmuring among themselves: You have tarried but ten (days). (20:103)

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿٢٠﴾
﴿٢٠ طہ ١٠٣﴾

(تو) وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم (دنیا میں) صرف دس ہی دن رہے ہو (103:20)

We are best aware of what they utter when their best in conduct say: You have tarried but a day. (20:104)

مَنْ أَحْسَنُ عِلْمًا بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿٢٠﴾
﴿٢٠ طہ ١٠٤﴾

جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا (یعنی عاقل و ہوش مند) کہے گا کہ (نہیں بلکہ) صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو (104:20)

They will say: How long tarried you in the earth, counting by years? (23:112)

قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿٢٣﴾
﴿٢٣ المومنون ١١٢﴾

(اللہ) پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ (112:23)

They will say: We tarried but a day part of a day. Ask of those who keep count! (23:113)

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿٢٣﴾
﴿٢٣ المومنون ١١٣﴾

وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے (113:23)

He will say: You tarried but a little if you only knew. (23:114)

قُلْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١١٤﴾

اللہ فرمائے گا کہ (وہاں) تم (بہت ہی) کم رہے کاش تم جانتے ہوتے (114:23)

And on the Day when the Hour rises the guilty will vow that they did tarry but an hour. thus they were ever deceived. (30:55)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْجُرْمُونَ مَالَيْتُوا
غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾
﴿٣٠ الروم ٥٥﴾

اور جس روز قیامت برپا ہوگی گنہگار قسمیں اٹھائیں گے۔ کہ وہ (دنیا میں) ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ اسی طرح وہ (راستے سے) بھٹکے جاتے تھے (55:30)

On the Day when they behold it, it will be as if they had but tarried for an evening or the morn thereof. (79:46)

كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً
أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾
﴿٧٩ النزعت ٤٦﴾

جب وہ اس کو دیکھیں گے (تو ایسا خیال کریں گے) کہ گویا (دنیا میں صرف) ایک شام یا صبح رہے تھے (46:79)

NOTHING ON THE EARTH WOULD BE
ACCEPTED AS RANSOM AGAINST THE
TORMENT OF DOOM

لا تقبل من الكافرين فدية
من سوء العذاب يوم القيامة

کافروں سے عذاب میں کمی کے بدلے میں،
روئے زمین کے تمام خزانے اور
مال و متاع بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا

As for those who disbelieve, if all that is in the earth were theirs, and as much again therewith, to ransom them from the doom on the Day of Resurrection, it would not be accepted from them. Theirs will be a painful doom. (5:36)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوهُ وَإِنَّمَا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مَا تَقْبَلُونَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾
﴿٥ المائدة ٣٦﴾

جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین (کے تمام خزانے اور اس) کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب (سے) چھٹکارہ حاصل کرنے) کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا (36:5)

And if each soul that does wrong had all that is in the earth it would seek to ransom itself therewith; and they will feel remorse within them, when they see the doom. But it has been judged between them fairly and they are not wronged. (10:54)

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَّا فِي الْأَرْضِ
لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا التَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا
العَذَابَ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾
﴿١٠ يونس ٥٤﴾

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو (عذاب سے بچنے کے) بدلے میں (سب) دے ڈالے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو (پچھتائیں گے اور) ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور (کسی طرح) ان پر ظلم نہیں ہوگا (54:10)

For those who answered Allah's call is bliss; and for those who answered not His call, if they had all that is in the earth, and therewith the like thereof, they would prefer it as ransom. Such will have a woeful reckoning, and their habitation will be hell, a dire abode. (13:18)

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ
يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ
الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾
﴿١٣ الرعد ١٨﴾

جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی۔ اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور (نجات کے) بدلے میں صرف کر ڈالیں (مگر نجات کہاں؟) ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانا بھی دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے (18:13)

And though those who do wrong possess all that is in the earth, and therewith as much again, they will seek to ransom themselves therewith on the Day of Resurrection from the awful doom; And there will appear to them, from their Lord, that wherewith they never reckoned. (39:47)

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَمِثْلَهُ مَعًا لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُمْ
يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٤٧﴾

اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب (مال و متاع) ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب (سے چھٹکارہ پانے) کے بدلے میں دے دیں۔ اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا (47:39)

Core Reference : 2:48 3:10,91,116
Page 814 815,161,816
5:88,100 57:15 58:17
16:838 842 816

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٤٨ ٣ آل عمران: ١٠٠، ٩١، ١١٦
٢٦ الشعراء: ٨٨، ١٠٠، ٥٧ الحديد: ١٥ ٥٨ المجادلة: ١٧
الصفحة ٨١٤، ٨١٥، ١٦١، ١٦٦، ٨٢٨، ٨٤٢، ٨١٦

مزيد راجع ٢ البقرة: ٤٨ ٣ آل عمران: ١٠٠، ٩١، ١١٦
٢٦ الشعراء: ٨٨، ١٠٠، ٥٧ الحديد: ١٥ ٥٨ المجادلة: ١٧
الصفحة ٨١٤، ٨١٥، ١٦١، ١٦٦، ٨٢٨، ٨٤٢، ٨١٦

**NO INTERCESSION
WILL BENEFIT**

يومئذ لا تنفع المجرمين
شفاعة الشافعين

کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی

and guard yourselves against a Day when no soul will avail anything to another, nor will intercession be accepted from it, nor will compensation be received from it, nor will they be helped. (2:48)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾
﴿٢ البقرة ٤٨﴾

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ (کسی اور طرح) مدد حاصل کر سکیں (48:2)

and guard (yourselves) against a Day when no soul will avail anything to another, nor will compensation be accepted from it, nor will intercession be of use to it; nor will they be helped. (2:123)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا
هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾
﴿٢ البقرة ١٢٣﴾

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو (کسی اور طرح کی) مدد مل سکے (123:2)

-----It has besides Allah no friend nor intercessor, and though it offers every compensation it will not be accepted from it. Those are they who perish by their own deserts. For them is drink of boiling water and a painful doom, because they disbelieved. (6:70) PART

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ
مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾
﴿٦ الانعام ٧٠﴾ جزء

----- دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا اور اگر وہ ہر (چیز جو روئے زمین پر ہے بطور) معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے ان کے لئے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے اس لئے کہ کفر کرتے تھے (70:6) جزو

How have you come to Us solitary We did create you at the first, and you have left behind all that We bestowed upon you, and We behold you with you those intercessors, of whom you claimed that they possessed a share in you. Now is the end between you severed, and that which you presumed has failed you. (94)

وَلَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَوَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ
مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ
شُرَكَاءُ لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ قَالَتْكُمْ
تَزَعَّبُونَ ﴿٩٤﴾
﴿٦ الانعام ٩٤﴾

اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے۔ اور جو (مال و متاع) ہم نے تم کو عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشچیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے (شفیع اور ہمارے) شریک ہیں (آج) تمہارے آپس کے سب تعلقات کٹ گئے اور جو دعویٰ تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے (94:6)

And in the Day when the Hour rises the unrighteous will despair. (12:30)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْسِلُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾
﴿٣٠ الروم ١٢﴾

اور جس دن قیامت قائم ہوگی گنہگار ناامید ہو جائیں گے (12:30)

There will be none to intercede for them of those whom they made equal with Allah. And they will reject their partners (whom they attributed to Him). (30:13)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا
بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾
﴿٣٠ الروم ١٣﴾

اور ان کے (بنائے ہوئے) شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارش نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے (13:30)

Warn them (O Muhammad) of the Day of the approaching (doom), when the hearts will be choking the throats, (when) there will be no friend for the wrong-doers, nor any intercessor who will be heard. (40:18)

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَصْفَادِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ هَذَا مَا لَظَلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿٤٠﴾
﴿٤٠ المنوم ١٨﴾

اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جب کہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آرہے ہوں گے (اور) ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے (18:40)

The mediation of no mediators will avail them then. (74:48)

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٧٤﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٨﴾

تو (اس حال میں) سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی (48:74)

More Reference : 6:51 7:53 20:109 34:23,42
Page 222, 829, 176, 176, 886

والمزید راجع ٦ الأنعام: ٥١ ٧ الأعراف: ٥٣
٢٠ طه: ١٠٩ ٣٤ سباء: ٢٣، ٢٢

مزید حوالہ 109:20 53:7 51:6
صفحہ 886, 176, 829, 222 42,23:34

NO ONE WILL HAVE THE RIGHT OR POWER TO ARGUE WITH ALLAH (SWT)

لا يملك أحد أن يخاطب الله يوم القيامة

کسی کو اللہ تعالیٰ سے بحث و تھمیس کی جرات نہ ہوگی

Lord of the heavens and the earth and (all) that is between them, the Beneficent, with Whom none can converse. (78:37)

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ لَا يَمْلِكُ لَكَ مِنْهُ خُطَابًا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨ النبأ ٣٧﴾

وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی (37:78)

NO ONE WILL POSSESS POWER OF INTERCESSION EXCEPT SOMEONE WHO HAS ALREADY BEEN PROMISED FROM ALLAH (SWT)

لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا

کسی کی سفارش سودمند نہ ہوگی باسوائے جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے

NO ONE WILL DARE TO CONVERSE WITH ALLAH (SWT) UNTIL PERMITTED

لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن

اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو لب کشائی (بات کرنے) کی جرات نہ ہوگی

They will have no power of intercession, except him who has made a covenant with his Lord. (19:87)

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿١٩﴾
﴿١٩ مريم ٨٧﴾

(تو لوگ) کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو (87:19)

On the Day when the angels and the Spirit stand arrayed, they speak not, except him whom the Beneficent allows and who speaks right. (78:38)

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨ النبأ ٣٨﴾

جس دن روح (الائین) اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا۔ مگر جس کو (اللہ) رحمن اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کی ہو (38:78)

More Reference : 2:255 10:3 20:109
Page 1127 127/322 176
21:28 34:23 43:86 53:26
176 176 177 177

والمزید راجع ١٠ یونس: ٣ ٢٥٥ الأنعام: ٦
٢٠ طه: ١٠٩ ٢١ الأنبياء: ٢٨ ٣٤ سباء: ٢٣
٤٣ الزخرف: ٨٦ ٥٣ النجم: ٢٦

مزید حوالہ 109:20 3:10 255:2
صفحہ 176 127/322 1127
26:53 86:43 23:34 28:21
177 177 176 176

STATE OF SELF-CENTEREDNESS ON THE DAY OF JUDGEMENT

لكل نفس يوم القيامة شأن يغنيه عن الآخرين

روز حشر نفسی خود غرضی کا عالم

NO RELATION OR WEALTH WOULD SAVE FROM THE CONSEQUENCES

لا يغني ذو قرابة

کوئی نسبتی تعلق (رشتہ ناطہ) کام نہیں آئے گا

(On that Day) neither the riches nor the progeny of those who disbelieve will avail them anything with Allah. They will be fuel for fire. (3:10)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾
﴿٣ آل عمران ١٠﴾

جو لوگ کافر ہوئے (اس دن) نہ تو ان کا مال ہی اللہ (کے عذاب) سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی (کچھ کام آئے گی) اور یہ لوگ آگ (جہنم) کا ایندھن ہوں گے (10:3)

The riches and the progeny of those who disbelieve will not avail them anything against Allah; and such are rightful owners of the Fire. They will abide therein. (3:116)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ
وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے۔ اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے (116:3)

﴿ ۳ آل عمران ۱۱۶ ﴾

The Day when wealth and sons avail not (any man) (26:88)

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾
﴿ ۲۶ الشعراء ۸۸ ﴾

جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے (88:26)

A Day when friend can avail nothing to friend, nor can they be helped, (44:41)

يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾
﴿ ۴۴ الدخان ۴۱ ﴾

جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی (41:44)

Their wealth and their children will avail them nothing against Allah. Such are rightful owners of the Fire; they will abide therein. (58:17)

لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾
﴿ ۵۸ المجادلة ۱۷ ﴾

اللہ کے (عذاب کے) سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی (کچھ فائدہ دے گی)۔ یہ لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اس میں ہمیشہ (جلتے) رہیں گے (17:58)

Your ties of kindred and your children will avail you nothing upon the Day of Resurrection. He will part you. Allah is Seer of what you do. (60:3)

لَنْ تَنْفَعَكَ أَرْحَامُكَ وَلَا أَوْلَادُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾
﴿ ۶۰ الممتحنة ۳ ﴾

قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناٹے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے (3:60)

And no familiar friend will question of his friend (70:10)

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾
﴿ ۷۰ المعارج ۱۰ ﴾

اور کوئی دوست کسی دوست کا پوچھنے والا نہ ہوگا (10:70)

Though they will be given sight of them. The guilty man will long be able to ransom himself from the punishment of that Day at the price of his children (70:11)

يُبْصِرُونَهُمْ يَوْمَ يُكَفِّرُ بَنِيهِ ﴿١١﴾
﴿ ۷۰ المعارج ۱۱ ﴾

(حالانکہ) ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے (اس روز) گنہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں (سب کچھ) دیدے (یعنی) اپنے بیٹے (11:70)

And his spouse and his brother (70:12)

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾
﴿ ۷۰ المعارج ۱۲ ﴾

اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی (12:70)

And his kin that harbored him (70:13)

وَقَصِيْبَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾
﴿ ۷۰ المعارج ۱۳ ﴾

اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا (13:70)

And all that are in the earth, if then might deliver him. (70:14)

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾
﴿ ۷۰ المعارج ۱۴ ﴾

اور جتنے آدمی زمین پر ہیں (غرض) سب (کچھ) دیدے اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑائے (14:70)

at when the Shout comes (80:33)

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ﴿٣٣﴾
﴿ ۸۰ عبس ۳۳ ﴾

تو جب (قیامت کا) شور مچے گا (33:80)

in the Day when a man will flee from his brother (80:34)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾
﴿ ۸۰ عبس ۳۴ ﴾

اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا (34:80)

And his mother and his father (80:35)

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝

اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے (35:80)

﴿ ۸۰ عیس ۳۵ ﴾

And his wife and his children, (80:36)

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝

اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے (36:80)

﴿ ۸۰ عیس ۳۶ ﴾

Every man that Day will have concern enough to make him heedless (of others). (80:37)

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا۔ جو اسے (مصرفیت کے لئے) کافی ہوگی (37:80)

﴿ ۸۰ عیس ۳۷ ﴾

More Reference : 2:123,254 6:70 14:31
Page 814,269 430/814 255
26:101 31:33 34:42 40:18 52:46
838 418 886 815 902
86:9,10
807

واللغزید راجع ۲ البقرة: ۲۵۴، ۱۲۳، ۶ الأنعام: ۷۰، ۱۴ ابراهيم: ۳۱، ۲۶ الشعراء: ۱۰۱، ۳۱ لقمان: ۳۳، ۳۴ سباء: ۴۲، ۴۰ المنومن (غافر): ۱۸، ۵۲ الطور: ۴۶، ۸۶ الطارق: ۱۰۰۹

مزید حوالہ 2:123,254 6:70 14:31
صفحہ 814,269 430/814 255
26:101 31:33 34:42 40:18 52:46
838 418 886 815 902
10:9:86
807

EVERYONE HAS TO FACE THE CONSEQUENCES OF HIS OWN SINS

من يكسب اثماً إنما يكسب على نفسه

ہر شخص اپنے گناہ کے وبال میں مبتلا ہوگا

Whoso Commits sin commits it only against himself. Allah is ever Knower, Wise. (4:111)

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ ۝

اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (111:4)

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

﴿ ۴ النساء ۱۱۱ ﴾

It will not be in accordance with your desires, nor the desires of the People of the Scripture. He who does wrong will have the recompense thereof, and will not find against Allah any protecting friend or helper. (4:123)

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوًّا يُجْزَىٰ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

(نجات) نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے۔ اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی (طرح) کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوانہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار (123:4)

﴿ ۴ النساء ۱۲۳ ﴾

More Reference : 2:134,139,141 4:79
Page 729 179/675
10:41,108 26:216 34:25 42:6
731,732 735 736 738

واللغزید راجع ۲ البقرة: ۱۴۱، ۱۳۹، ۱۳۴، ۴ النساء: ۷۹، ۱۰ یونس: ۱۰۸، ۴۱: ۲۶ الشعراء: ۲۱۶، ۳۴ سباء: ۲۵، ۴۲ الشوری: ۶

مزید حوالہ 2:134,139,141 4:79
صفحہ 729 179/675
10:41,108 26:216 34:25 42:6
731,732 735 736 738

THERE WILL BE NEITHER ANY SPONSOR NOR ANY SUPPORTER BESIDES ALLAH (SWT)

یومئذ لا یكون ولی ولا نصیر من دون الله

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا

-----And they will not find for them, against Allah, any protecting friend or helper. (4:173) PART

وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

----- اور وہ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے (173:4) جزو

﴿ ۴ النساء ۱۷۳ ﴾ جزء

And they will have no protecting friends to help them instead of Allah. He whom Allah sends astray, for him there is no road. (42:46)

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۝

اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں۔ اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لئے (ہدایت کا) کوئی راستہ نہیں (46:42)

﴿ ۴۲ الشوری ۴۶ ﴾

The threatened Hour is near. (53:57)

أَزْفَتِ الْأَرْفَةُ ۝

آنے والی (یعنی قیامت) قریب آچکی (57:53)

﴿ ۵۳ النجم ۵۷ ﴾

None besides Allah can remove it. (53:58)

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝

اس (دن کی تکلیفوں) کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا (58:53)

﴿ ۵۳ النجم ۵۸ ﴾

**NO VICARIOUS ATONEMENT
(NO ONE WILL SHARE ANOTHER'S BURDEN)**

And no burdened soul can bear another's burden, and if one heavily-laden cries for (help with) his load, nothing of it will be lifted even though he (to whom he cries) be of skin. You warn only those who fear their Lord in secret, and have established worship. He who grows (in goodness), grows only for himself, (he cannot by his merit redeem others). To Allah is the journeying. (35:18)

That no laden one shall bear another's load, (53:38)

يَوْمَئِذٍ لَنْ تَحْمِلَ نَفْسٌ وِزْرَ أُخْرَى

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾
﴿٣٥ فاطر ١٨﴾

الَّذِي تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿٣٨﴾
﴿٥٣ النجم ٣٨﴾

اس روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ (اے پیغمبر) تم ان ہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں۔ اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لئے پاک ہوتا ہے اور (سب کو) اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (18:35)

(وہ) یہ کہ کوئی شخص دوسرے (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا (38:53)

More Reference : 29:12 Page 818

والمزيد راجع ٢٩ العنكبوت ١٢: الصفحة ٨١٨

تفسير قوله 12:29 الصفحة 818

**NO PERSON SHALL HAVE ANY POWER
TO DO ANY FAVOUR FOR ANOTHER**

Ah, what will convey to you what the Day of Judgement is! (82:17)

Again, what will convey to you what the Day of Judgement is! (82:18)

A Day on which no soul will have power at all for any (other) soul. The (absolute) command on that Day is Allah's. (82:19)

يَوْمَئِذٍ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٧﴾
﴿٨٢ الانفطار ١٧﴾
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٨﴾
﴿٨٢ الانفطار ١٨﴾
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ
يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾
﴿٨٢ الانفطار ١٩﴾

اس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا

اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے (17:82)

پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے (18:82)

اس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا۔ اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا (19:82)

**TWOFOLD RESPONSIBILITY OF MIS-LEADERS
THEY WILL SHARE THE PENALTY
OF EVILS OF THEIR FOLLOWERS BESIDES
CARRYING THEIR OWN BURDEN**

That they may bear their burdens undiminished on the Day of resurrection, with somewhat of the burdens of those whom they mislead without knowledge. Ah! Evil is that which they bear! (16:25)

Those who disbelieve say to those who believe: Follow our way (of religion) and we will bear your sins (for you). They cannot bear any of their sins. They are liars. (29:12)

**يَوْمَئِذٍ يَحْمِلُ الْقَادَةُ الْكَافِرُونَ
أَوْزَارَ مَتَابِعِهِمْ مَعَ أَوْزَارِهِمْ**

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ
أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلِيسَ مَا
يَزُرُّونَ ﴿٢٥﴾
﴿١٦ النحل ٢٥﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا
سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَاهُمْ
بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾
﴿٢٩ العنكبوت ١٢﴾

**اس روز کافر لیڈروں پر ان کے پیروکاروں
کا بوجھ بھی لا دیا جائے گا**

(اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ) یہ قیامت کے دن اپنے (اعمال کے) پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی (اٹھائیں گے) سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں (25:16)

اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے۔ حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں کچھ شک نہیں یہ جھوٹے ہیں (12:29)

But they will bear their own loads and other loads besides their own, and they will be questioned on the Day of Resurrection concerning that which they invented. (29:13)

وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَ
لَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٩﴾
﴿العنكبوت ١٣﴾

اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور (لوگوں کے) بوجھ بھی اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی (13:29)

THE DAY OF RECOMPENSE OF THE DEEDS

And say (to them): Act! Allah will behold your actions, and (so will) His messenger and the believers, and you will be brought back to the Knower of the invisible and the visible, and He will tell you what you used to do. (9:105)

يوم جزاء الأعمال

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَيُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾
﴿التوبة ١٠٥﴾

اعمال کے بدلے کا دن

اور ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کئے جاؤ۔ اللہ اور اس کا رسول اور مومن (سب) تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے۔ اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے (اللہ واحد) کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتادے گا (105:9)

And to each your Lord will repay his works in full. He is Informed of what they do. (11:111)

وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لِيُوقِيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾
﴿هود ١١١﴾

اور تمہارا پروردگار ان سب کو (قیامت کے دن) ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے (111:11)

That Allah may repay each soul what it has earned. Allah is Swift at reckoning. (14:51)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ تَمَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿٥١﴾
﴿ابراهيم ٥١﴾

یہ اس لئے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے (51:14)

Had Allah willed He could have made you (all) one nation, but He sends whom He wills astray and guides whom He wills, and you will indeed be asked of what you used to do. (16:93)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾
﴿النحل ٩٣﴾

اور اگر اللہ چاہتا تو تم (سب) کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو عمل تم کرتے ہو (اس دن) ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا (93:16)

On the Day when every soul will come pleading for itself, and every soul will be repaid what it did, and they will not be wronged. (16:111)

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَ
تُوقِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾
﴿النحل ١١١﴾

جس دن ہر جان دار اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا۔ اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا (111:16)

One that Day Allah will repay them with their rightful due, they will realize that Allah means obvious Truth. (24:25)

يَوْمَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ
أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾
﴿النور ٢٥﴾

اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے (اور وہی) ظاہر کرنے والا ہے (25:24)

But those who believe and do good works, and remember Allah much, and vindicate themselves after they have been wronged. Those who do wrong will come to know by what a (great) reverse they will be overturned! (26:227)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا وَأَتَتْهُمُ الرُّؤْيَا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾
﴿الشعراء ٢٢٧﴾

مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں (227:26)

And the evils that they earned will appear to them, and that where at they used to scoff will surround them. (39:48)

وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَوَحَّىٰ إِلَيْهِمْ
بِمَا كَانُوا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٨﴾
﴿الزمر ٤٨﴾

اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس (عذاب) کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو اگھیرے گا (48:39)

You will see the wrongdoers fearful of that, which they have earned, and it will surely befall them; while those who believe and do good works (will be) in flowering meadows of the Gardens, having what they wish from their Lord. This is the great preferment. (42:22)

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ
وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾
﴿٤٢ الشورى ٢٢﴾

تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال (کے وبال) سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس (موجود) ہو گا یہی بڑا فضل ہے (22:42)

And for all there will be ranks from what they do, that He may pay them for their deeds! And they will not be wronged. (46:19)

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾
﴿٤٦ الاحقاف ١٩﴾

اور لوگوں نے جیسے کام کئے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے (غرض یہ ہے) کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے (19:46)

The Day when He shall gather you to the Day of Assembling, that will be a Day of mutual disillusion. And whoso believes in Allah and does right, He will remit from him his evil deeds and will bring him into Gardens underneath which rivers flow, therein to abide forever. That is the Supreme triumph. (64:9)

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ
وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾
﴿٦٤ التغابن ٩﴾

جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے (یعنی قیامت) کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور باغہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے (9:64)

(Then it will be said): O you who disbelieve! Make no excuses for yourselves this Day. You are only being paid for what you used to-do. (66:7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ
تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾
﴿٦٦ التحريم ٧﴾

کافرو! آج بہانے مت بناؤ۔ جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا (7:66)

More Reference : 2:281 3:161 30:15 57:19
Page 821, 167/492, 881, 758

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٨١ ٣ آل عمران: ١٦١
٣٠ الروم: ١٥ ٥٧ الحديد: ١٩
الصفحة ٧٥٨, ٨٨١, ٤٩٢/١٦٧, ٨٢١

مزيد حوالہ 19:57 15:30 161:3 281:2
صفحہ 758, 881, 492/167, 821

VAINLY HOPE OF REMAINING UNQUESTIONED FOR THEIR WRONGDOINGS AND ESCAPING TERROR OF HELL BY JEWS AND CHRISTIANS

أمنية اليهود والنصارى بنجاتهم
من عذاب النار على سوء اعمالهم

یہود و نصاریٰ کی اپنی بد اعمالیوں کے باوجود
عذاب دوزخ سے نجات کی خوش فہمی

For Detail Consult : 2:80 3:24 5:18
Page 599

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٨٠ ٣ آل عمران: ٢٤
٥ المائدة: ١٨ الصفحة ٥٩٩

تفصيل کیلئے دیکھئے 18:5 24:3 80:2
صفحہ 599

MISCONCEPTION OF DISBELIEVERS REMAINING UNPUNISHED FOR THEIR SINS

نظرية الكفار الزائفة بجناتهم
من عذاب الآخرة على سوء اعمالهم

کفار کو بد اعمالیوں کی سزا سے بچ نکلنے کی غلط فہمی

Are you disbelievers better than those, or have you some immunity in the scriptures? (54:43)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقْنَا مِنْ أَوْلَادِكُمْ بُرَاءَةً فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾
﴿٥٤ القمر ٤٣﴾

(اے اہل عرب) کیا تمہارے کافران لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لئے (پہلی) کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ (43:54)

Or they say: We are a host victorious? (54:44)

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرُونَ ﴿٤٤﴾
﴿٥٤ القمر ٤٤﴾

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ (44:54)

The hosts will all be routed and will turn and flee. (54:45)

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾
﴿٥٤ القمر ٤٥﴾

عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے (45:54)

More Reference : 68:35,36,37,38,39
Page 859

وللمزيد راجع ٦٨ القلم: ٣٥, ٣٦, ٣٧, ٣٨, ٣٩
الصفحة ٨٥٩

مزيد حوالہ 39,38,37,36,35:68
صفحہ 859

NO INJUSTICE ON THAT DAY

یومئذ لا تظلم نفس شیاً

اس روز کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی

And guard yourselves against a Day in which you will be brought back to Allah. Then every soul will be paid in full that which it has earned, and they will not be wronged. (2:281)

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾
﴿٢ البقرة ٢٨١﴾

اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا (281:2)

How (will it be with them) when We will bring them all together to a Day of which there is no doubt, when every soul will be paid in full what it has earned, and they will not be wronged. (3:25)

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾
﴿٣ آل عمران ٢٥﴾

تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے (یعنی) اس روز جس (کے آنے) میں کچھ بھی شک نہیں اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (25:3)

Have you not seen those who praise themselves for purity? No, Allah purifies whom He wills, and they will not be wronged even the hair upon a date stone. (4:49)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾
﴿٤ النساء ٤٩﴾

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں (نہیں) بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا (49:4)

This Day no soul is wronged in nothing; nor are you required any thing except what you used to do. (36:54)

فَالْيَوْمَ لَا تظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾
﴿٣٦ يسين ٥٤﴾

اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے (54:36)

This Day is each soul requited that which it has earned; no wrong (is done) this Day. Allah is Swift at reckoning. (40:17)

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظْلَمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾
﴿٤٠ المؤمن ١٧﴾

آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج (کسی کے حق میں) بے انصافی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے (17:40)

And Allah has created the heavens and the earth with just (for true purpose), and that every soul may be repaid what it has earned. And they will not be wronged. (45:22)

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾
﴿٤٥ الجنائية ٢٢﴾

اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (22:45)

But whoso is averse and disbelieves, (88:23)

إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكُفِرَ ﴿٢٣﴾
﴿٨٨ الغاشية ٢٣﴾

ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا (23:88)

Allah will punish him with direst punishment. (88:24)

فِيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
﴿٨٨ الغاشية ٢٤﴾

تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا (24:88)

To Us is their return (88:25)

إِنَّا إِلَيْنَا يَا بَهُمْ ﴿٢٥﴾
﴿٨٨ الغاشية ٢٥﴾

بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے (25:88)

Then it will be for Us to call them to account. (88:26)

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾
﴿٨٨ الغاشية ٢٦﴾

پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے (26:88)

A WOEFUL DAY FOR THE DENIERS OF JUDGEMENT

See and hear them on the Day they come to Us! Yet the evildoers are today in error manifest. (19:38)

And warn them of the Day of anguish when the case has been decided. Now they are in a state of carelessness, and they believe not. (19:39)

We inherit the earth and all who are thereon, and to Us they are returned. (19:40)

No but they deny the coming of the Hour, and for those who deny (the coming of) the Hour We have prepared a flame. (25:11)

And those who look not for a meeting with Us say: Why are angels not sent down to us and (why) do we not see our Lord? Assuredly they think too highly of themselves and are scornful with great pride. (25:21)

On the Day when they behold the angels, on that Day there will be no good tidings for the guilty; and they will cry: A forbidding ban! (25:22)

As for those who believe not in the hereafter, We have made their works fair seeming to them so that they are all astray. (27:4)

Those are they for whom is the first of punishment, and in the hereafter they will be the greatest losers. (27:5)

By (to them, O Muhammad): Allah gives life to you, then causes you to die, then gathers you to the Day of Resurrection whereof there is no doubt. But most of mankind know not. (45:26)

یوم عسیر للمکذبین

اسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونََنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ
الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

﴿١٩ مريم ٣٨﴾

وَأَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْحُسْرَى إِذْ قَضَى الْأَمْرَ وَهُمْ
فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

﴿١٩ مريم ٣٩﴾

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا
يَرْجِعُونَ ﴿٤٠﴾

﴿١٩ مريم ٤٠﴾

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ
بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾

﴿٢٥ الفرقان ١١﴾

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ
عَلَيْنَا الْمَلَكُ أَوْ نُرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا
فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

﴿٢٥ الفرقان ٢١﴾

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ
وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّجْبُورًا ﴿٢٢﴾

﴿٢٥ الفرقان ٢٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ
أَعْمَالَهُمْ فَمَا يَوْمِعَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَدَامًا ﴿٤﴾

﴿٢٧ النمل ٤﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ ﴿٥﴾

﴿٢٧ النمل ٥﴾

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ مُمِيتَكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾

﴿٤٥ الجاثية ٢٦﴾

روز قیامت کو جھٹلانے والوں کے لئے مشکل دن

وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے۔ کیا خواب سننے اور دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں (38:19)

اور ان کو حسرت (و افسوس) کے دن سے ڈرا دو جب کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا وہ غفلت میں (پڑے ہوئے) ہیں اور ایمان نہیں لاتے (39:19)

ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر (بستے) ہیں ان کے وارث ہیں۔ اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا (40:19)

بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے (11:25)

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کئے گئے۔ یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے خیال میں بڑائی دیکھتے ہیں اور (اسی بنا پر) بڑے سرکش ہو رہے ہیں (21:25)

جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں کے لئے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے (اللہ کرے تم) روک لئے (اور بند کر دیئے) جاؤ (22:25)

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لئے آراستہ کر دیئے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں (4:27)

یہی لوگ ہیں جن کے لئے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں (5:27)

کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے پھر (وہی) تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو قیامت کے روز جس (کے آنے) میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے (26:45)

And as for those who disbelieved (it will be said to them): Were not Our revelations recited to you? But you were scornful and became a guilty folk. (45:31)

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٤٥﴾
﴿٤٥ الجاثية ٣١﴾

اور جنہوں نے کفر کیا (ان سے کہا جائے گا کہ) بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے (31:45)

And when it was said: Allah's promise is true, and there is no doubt of the Hour's coming, you said: We know not what the Hour is. We deem it nothing but a conjecture, and we are by no means convinced. (45:32)

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَآ نَذِيرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَيْقِنِينَ ﴿٤٥﴾
﴿٤٥ الجاثية ٣٢﴾

اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے۔ ہم اس کو قیاس و خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا (32:45)

And the evils of what they did will appear to them, and that which they used to deride will befall them: (45:33)

وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٥﴾
﴿٤٥ الجاثية ٣٣﴾

اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس (عذاب) کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آگھیرے گا (33:45)

And on the Day when those who disbelieve are exposed to the Fire (they will be asked): Is not this real? They will say: Yes, by our Lord. He will say: Then taste the doom for that you disbelieved. (46:34)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٤٦﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٣٤﴾

اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کئے جائیں گے۔ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم (حق ہے) حکم ہو گا کہ تم جو (دنیا میں) انکار کیا کرتے تھے (اب) عذاب کے مزے چکھو (34:46)

That wherewith you are threatened is indeed true, (51:5)

إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ٥﴾

کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے (5:51)

And the judgement will indeed befall. (51:6)

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ٦﴾

اور انصاف (کادن) ضرور واقع ہو گا (6:51)

By the heaven full of paths, (51:7)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ٧﴾

اور آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں (7:51)

You, forsooth, are of various opinion (concerning the truth). (51:8)

إِنكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّتخَلِفٍ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ٨﴾

کہ (اے اہل مکہ) تم ایک مختلف بات میں (پڑے ہوئے) ہو (8:51)

He is made to turn away from it who (himself) is averse. (51:9)

يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ٩﴾

اس سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے پھر گیا ہو (9:51)

Accursed be the conjecturers (51:10)

قَتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ١٠﴾

بغیر کسی دلیل کے بات کرنے والے غارت کردیے گئے (10:51)

Who are careless in an abyss! (51:11)

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ١١﴾

جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں (11:51)

They ask: When is the Day of judgement? (51:12)

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ١٢﴾

پوچھتے ہیں کہ جزا کادن کب ہو گا؟ (12:51)

(It is) the Day when they will be tormented at the Fire, (51:13)

يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَلُونَ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ١٣﴾

اس دن (ہوگا) جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا (13:51)

(And it will be said to them): Taste your torment (which you inflicted). This is what you sought to hasten. (51:14)

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ١٤﴾

اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو۔ یہ وہی ہے جس کے لئے تم جلدی کیا کرتے تھے (14:51)

Woe to the repudiators on that Day!
(52:11)

قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾
﴿٥٢ الطور ١١﴾

تو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے
(11:52)

No but the Hour (of doom) is their appointed tryst, and the Hour will be more wretched and more bitter (than their earthly failure). (54:46)

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ ﴿٤٦﴾
﴿٥٤ القمر ٤٦﴾

ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے (46:54)

The guilty are in error and madness. (54:47)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾
﴿٥٤ القمر ٤٧﴾

بے شک گنہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں (بتلا) ہیں
(47:54)

And those before them denied, then (see) the manner of My wrath (with them)! (67:18)

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾
﴿٦٧ الملك ١٨﴾

اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو (دیکھ لو کہ) میرا کیسا عذاب ہوا (18:67)

Why now turn they away from the admonishment (74:49)

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٩﴾

ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں
(49:74)

As they were frightened asses (74:50)

كَانَهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾
﴿٧٤ المدثر ٥٠﴾

گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں (50:74)

Fleeing from a lion! (74:51)

فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾
﴿٧٤ المدثر ٥١﴾

(یعنی) شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں (51:74)

No, but every one of them desires that he should be given open pages (from Allah). (74:52)

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنشَرَةً ﴿٥٢﴾
﴿٧٤ المدثر ٥٢﴾

اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے (52:74)

They fear not the Hereafter. (74:53)

كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾
﴿٧٤ المدثر ٥٣﴾

ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں (53:74)

No doubt this is an admonishment. (74:54)

كَلَّا إِنَّآ تَذْكُرَةٌ ﴿٥٤﴾
﴿٧٤ المدثر ٥٤﴾

کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے (54:74)

So whosoever will may heed. (74:55)

فَمَنْ شَاءَ ذَكُرْهُ ﴿٥٥﴾
﴿٧٤ المدثر ٥٥﴾

تو جو چاہے اسے یاد رکھے (55:74)

And they will not heed unless Allah wills (it). He is the fount of Fear. He is the fount of Mercy. (74:56)

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ ﴿٥٦﴾
﴿٧٤ المدثر ٥٦﴾

اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور بخشش کا مالک ہے (56:74)

And what will convey to you what the Day of Decision is! (77:14)

وَمَا آدْرَبُكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾
﴿٧٧ المرسلت ١٤﴾

اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے (14:77)

Woe on that Day upon those who give the lie to the truth! (77:15, 19, 24, 28, 34, 37, 40, 45, 47, 49)

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾
﴿٧٧ المرسلت ١٥﴾

اس دن حقیقت کو جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے
49, 47, 45, 40, 37, 34, 28, 24, 19, 15: 77

For they looked not for a reckoning; (78:27)

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾
﴿٧٨ النبأ ٢٧﴾

یہ لوگ حساب (آخرت) کی امید ہی نہیں رکھتے تھے
(27:78)

They called Our revelations false with strong denial. (78:28)

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨﴾ النباء ٢٨

اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے (28:78)

So taste (of that which you have earned). No increase We do give you but of torment. (78:30)

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾
﴿٧٨﴾ النباء ٣٠

سو (اب) مزہ چکھو۔ ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے (30:78)

Those who deny the Day of judgement (83:11)

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾
﴿٨٣﴾ المطففين ١١

(یعنی) جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں (11:83)

Which none denies except each criminal transgressor, (83:12)

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾
﴿٨٣﴾ المطففين ١٢

اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گنہگار ہے (12:83)

Who, when you read to him Our revelations, says (Mere) fables of the men of old (83:13)

إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾
﴿٨٣﴾ المطففين ١٣

جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں وہ کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں (13:83)

No, but that which they have earned is rust upon their hearts. (83:14)

كَلَّا بَلْ مَسَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾
﴿٨٣﴾ المطففين ١٤

دیکھو یہ جو (اعمال بد) کرتے ہیں۔ ان کا ان کے دلوں پر رنگ بیٹھ گیا ہے (14:83)

No, but surely on that Day they will be covered from (the mercy of) their Lord. (83:15)

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ ﴿١٥﴾
﴿٨٣﴾ المطففين ١٥

بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار (کے دیدار) سے اوٹ میں ہوں گے (15:83)

Then they will burn in hell, (83:16)

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾
﴿٨٣﴾ المطففين ١٦

پھر روزخ میں جا داخل ہوں گے (16:83)

So who henceforth will give the lie to you about the judgement? (95:7)

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ يَا دِينَ ﴿٧﴾
﴿٩٥﴾ التين ٧

تو (اے آدم زاد) پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ (7:95)

Is not Allah the most conclusive of all judges? (95:8)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾
﴿٩٥﴾ التين ٨

کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ (8:95)

More Reference :

16:60	17:10	32:20	34:39
Page	457	224	895 277
52:14	55:43	56:92,93	77:30,31 107:1
895	892	892	897 283

والمزید راجع	١٦ النحل: ٦٠	١٧ الإسراء (بني اسرائيل): ١٠
٣٢ السجدة: ٢٠	٣٤ سباء: ٣٩	٥٢ الطور: ١٤
٥٥ الرحمن: ٤٣	٥٦ الواقعة: ٩٢، ٩٢	٧٧ المرسلات: ٢١، ٢٠
١٠٧ الماعون: ١		

مزيد حوالہ	60:16	10:17	20:32	39:34
صفحہ	457	224	895	277
14:52	43:55	93,92:56	31,30:77	1:107
895	892	892	897	283

COMPUNCTION OF SINFUL AND WICKED ON THE DAY OF JUDGEMENT

ندامة الظالمين يوم القيامة

قیامت کے دن ظالموں کے پچھتاوے

And, when they felt Our might, behold them fleeing from it! (21:12)

فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ مِمَّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾
﴿١٢١﴾ الانبياء ١٢

جب انہوں نے ہمارے (مقدمہ) عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے (12:21)

(But it was said to them): Flee not, but return to that (existence) which emasculated you and to your dwellings, that you may be questioned. (21:13)

لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾
﴿١٢١﴾ الانبياء ١٣

مت بھاگو اور جن (نعمتوں) میں تم عیش و آرام کرتے تھے وہیں واپس جاؤ۔ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ تم سے (اس بارے میں) دریافت کیا جائے (13:21)

They cried: Alas for us! We were wrongdoers. (21:14)

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾
﴿١٢١﴾ الانبياء ١٤

کننے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے (14:21)

And this their crying ceased not till We made them as reaped corn, extinct. (21:15)

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٥﴾
﴿٢١ الأنبياء ١٥﴾

تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو (کھیتی کی طرح) کاٹ کر (اور آگ کی طرح) بجھا کر ڈھیر کر دیا (15:21)

(It will be said): Were not My revelations recited to you, and then you used to deny them? (23:105)

أَلَمْ تَكُنْ الَّتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَاكُنْتُمْ بِهَا تَكذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١٠٥﴾

کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں (نہیں) تم ان کو (سنتے تھے اور) جھٹلاتے تھے (105:23)

They will say: Our Lord! Our evil fortune conquered us, and we were erring folk. (23:106)

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١٠٦﴾

اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم راستے سے بھٹک گئے (106:23)

Our Lord! Oh, bring us forth from here! If we return (to evil) then indeed we shall be wrongdoers. (23:107)

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١٠٧﴾

اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے۔ اگر ہم پھر (ایسے کام) کریں تو ظالم ہوں گے (107:23)

He will say Sink down into it and speak not to Me. (23:108)

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١٠٨﴾

(اللہ) فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو (108:23)

On the Day when the wrongdoer gnaws his hands, he will say: Ah, would that I had chosen a way together with the messenger (of Allah)! (25:27)

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾
﴿٢٥ الفرقان ٢٧﴾

اور جس دن (ناعتقت اندیش) ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا (اور) کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا (27:25)

Alas for me! Ah, would that I had never taken such anyone as friend! (25:28)

يُؤْيَلِي لَيْتَنِي لِمَ أَخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾
﴿٢٥ الفرقان ٢٨﴾

ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا (28:25)

He led me astray from the Reminder after it had reached me. Satan is ever man's deserter in the hour of need. (25:29)

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾
﴿٢٥ الفرقان ٢٩﴾

اس نے مجھ کو (کتاب) نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بھٹکا دیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دعا دینے والا ہے (29:25)

And you will see them exposed to the Fire, made humble by disgrace, and looking with veiled eyes. And those who believe will say: the (eternal) losers are they who lose themselves and their house folk on the Day of resurrection. Are not the wrongdoers in perpetual torment? (42:45)

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الذِّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخٰسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَٰ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾
﴿٤٢ الشورى ٤٥﴾

اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی (اور پچی) نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں (پڑے) رہیں گے (45:42)

He will say: Ah, would that I had content before me (some provision- for my life! (89:24)

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾
﴿٨٩ الفجر ٢٤﴾

کہے گا کاش میں نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کیلئے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا (24:89)

Whoever punishes as He will punish on that Day! (89:25)

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾
﴿٨٩ الفجر ٢٥﴾

تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا (کسی) کو عذاب دے گا (25:89)

And His bounds will be such a none (other) can bind. (89:26)

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾
﴿٨٩ الفجر ٢٦﴾

اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا (26:89)

DISBELIEVERS WOULD LIKE TO BECOME MUSLIMS ON THAT DAY

يَتَمَنَّى الْكُفَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

قیامت کے روز کفار بھی مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے

It may be that those who disbelieve wish ardently that they were Muslims. (15:2)

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر ٢﴾

کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے (2:15)

THE DAY OF DIRE DIFFICULTY FOR THE DISBELIEVERS

يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا عَسِيرًا
عَلَى الْكَافِرِينَ

قیامت کا دن کفار کے لئے سخت دن ہوگا

Supplicate not this Day! Assuredly you will not be helped by Us. (23:65)

لَا تَجْعُرُوا وَالْيَوْمَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٦٥﴾

آج مت بے چین ہو تمہیں ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی (65:23)

And woe to those who disbelieve, from (that) their Day which they are promised. (51:60)

قَوْلِيلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾
﴿٥١ الذریت ٦٠﴾

جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لئے خرابی ہے (60:51)

Surely that Day will be a Day of anguish, (74:9)

فَذَلِكَ يَوْمٍ مَيِّدٍ يَوْمَ عَسِيرٍ ﴿٩﴾
﴿٧٤ المدثر ٩﴾

وہ دن مشکل کا دن ہوگا (9:74)

Not of ease, for disbelievers. (74:10)

عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾
﴿٧٤ المدثر ١٠﴾

(یعنی) کافروں پر آسان نہ ہوگا (10:74)

PROFESSION OF FAITH ON THE DAY OF JUDGEMENT WILL NOT BENEFIT THE DISBELIEVERS AT ALL

يَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الْكُفَّارَ إِيمَانُهُمْ

روز قیامت کفار اور منکرین کا ایمان لانا بے سود ہوگا

Are they waiting, indeed, for nothing less than that the angels should come to them, or your Lord should come, or there should come one of the portents from your Lord? In the Day when one of the portents from your Lord comes, its belief avails nothing to a soul which theretofore believed not, nor in its belief earned good (by works). Say: Wait you we (too) are waiting. (6:158)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انظُرُوا إِلَيْنَا مُنظِرُونَ ﴿١٥٨﴾
﴿٦ الانعام ١٥٨﴾

یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آجائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا یا اسے ایمان (کی حالت) میں نیک عمل نہیں کئے ہوں گے (تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا اے پیغمبران سے) کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں (158:6)

Could you but see when they are terrified with no escape, and are seized from near at hand. (34:51)

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾
﴿٣٤ سبأ ٥١﴾

اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو (عذاب سے) بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لئے جائیں گے (51:34)

And say: We (now) believe therein. But how can they reach (faith) from afar off, (34:52)

وَقَالُوا امْكُافِرِينَ وَآتَى لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾
﴿٣٤ سبأ ٥٢﴾

اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور (اب) اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ (52:34)

And when they disbelieved in it of yore. They aim at the unseen from afar off. (34:53)

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ
بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے (قیاس سے) تیر چلاتے رہے (53:34)

And a gulf (barrier) is set between them and that which they desire, as was done for people of their kind of old. They were in hopeless doubt. (34:54)

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا
فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي
شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٤﴾

اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے (54:34)

Then, when they saw Our doom, they said: We believe in Allah only and reject (all) that we used to associate (with Him). (40:84)

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَاهُ
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعہد ہوئے (84:40)

Then they will say): Our Lord believe of the torment. We are believers: (44:12)

رَبَّنَا اكشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں (12:44)

How can there be reminder for them, when a messenger making plain (the truth) had already come to them, (44:13)

أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾

(اس وقت) ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جب کہ ان کے پاس پیغمبر آچکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے (13:44)

More Reference : 25:26 40:85 Page 831,317

والمزید راجع ۲۵ الفرقان ۲۶: ۴۰ المومن (غافر) ۸۵

مزیذ حوالہ 26: 25 85:40 صفحہ 317,831

DISBELIEVERS WILL NOT BE GRANTED ANY GRACE

يَوْمئذٍ لَا تَقْبَلُ تَوْبَةَ الْكَافِرِينَ

روز قیامت منکرین کی کوئی توبہ قبول نہ ہوگی

And though they are resigned, yet the Fire is still their home; and if they ask for favour, yet they are not of those to whom favour can be shown. (41:24)

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ
يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانا دوزخ ہی ہے اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی (24:41)

More Reference : 30:57 40:52 45:35 Page 830, 901

والمزید راجع ۳۰ الروم: ۵۷ ۴۰ المومن (غافر): ۵۲ ۴۵ الجاثیة: ۳۵ الصفحة ۹۰۱، ۸۳۰

مزیذ حوالہ 57: 30 52:40 35: 45 صفحہ 901, 830

APPEAL OF DISBELIEVERS WILL GO ASTRAY ON THE DAY OF JUDGEMENT

يَكُونُ دَعَاءُ الْكَافِرُونَ
يَوْمئذٍ فِي ضَلَالٍ

روز قیامت منکرین کی دعا قبول نہیں ہوگی

They say: Came not your messengers to you with clear proofs? They say: Yes. They say: When do you pray, although the prayer of disbelievers is in vain. (40:50)

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دَعْوُ الْكَافِرِينَ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو۔ اور کافروں کی دعا (اس روز) بے کار ہوگی (50:40)

NO REQUEST FOR RETRIEVAL PROBATIONARY LIFE WILL BE ACCDED NO MORE CHANCE WILL BE AFFORDED TO MEND

الكَافِرُونَ يَطْلُبُونَ مِنَ اللَّهِ
كِرَةً فَلَا يَسْتَجَابُ لَهُمْ

منکرین کو اصلاح احوال کے لئے دوبارہ دنیا میں آنے کی مہلت نہیں ملے گی

you could see when they are set before the Fire and say: Oh, would that we might return! Then we could not deny the revelations of our Lord but we would be of the disbelievers! (6:27)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا لَئِنَّا نُرَدُّ
وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

کاش تم (ان کو اس وقت) دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کئے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر (دنیا میں) لوٹا دیئے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور مومن ہو جائیں (27:6)

No, but that has become clear to them which before they used to hide. And if they were sent back they would return to that which they are forbidden. They are liars. (6:28)

بَلْ بَدَّ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا
لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٦ الانعام ٢٨﴾

ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے (آج) ان پر ظاہر ہو گیا ہے اور اگر یہ (دنیا میں) لوٹائے بھی جائیں تو جن (کاموں) سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں (28:6)

Await they anything but the fulfillment thereof? On the Day when the fulfillment thereof comes those who were before forgetful thereof will say: The messengers of our Lord did bring the Truth! Have we any intercessors, that they may intercede for us? Or can we be returned (to life on earth), that we may act otherwise than we used to act? They have lost their souls, and that which they devised has failed them. (7:53)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ
يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ
رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ
فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا
نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٧ الاعراف ٥٣﴾

کیا یہ لوگ آخری نتیجے کے منتظر ہیں جس دن وہ پیش آجائے گا۔ تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے بھلا (آج) ہمارے کوئی سفارش ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم (دنیا میں) پھر لوٹا دیئے جائیں کہ جو عمل (بد) ہم (پہلے) کرتے تھے۔ (وہ نہ کریں بلکہ) ان کے سوا اور (نیک) عمل کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ بہتان کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا (53:7)

And warn mankind of a Day when the doom will come upon them, and those who did wrong will say: Our Lord! Reprieve us for a little while. We will obey Your call and will follow the messengers. (It will be answered): Did you not swear before that there would be no end for you? (14:44)

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
مُجِبِّ دَعْوَتِكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوَّلَمَّا كُنَّا
أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾
﴿١٤ ابراهيم ٤٤﴾

اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دیجئے جب ان پر عذاب آجائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کرتا کہ ہم تیری دعوت (توحید) قبول کریں اور (تیرے) پیغمبروں کے پیچھے چلیں (تو جواب ملے گا) کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو (اس حال سے جس میں تم ہو) زوال (اور قیامت کو حساب اعمال) نہیں ہوگا (44:14)

Yet a ban has been placed on any town We have wiped out; They shall not return (21:95)

وَحَرَّمْنَا عَلَىٰ قَرِيْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَن تُمْ لَّا يُرْجَعُونَ ﴿٩٥﴾
﴿٢١ الانبياء ٩٥﴾

اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے (95:21)

Oh, that we had another chance to return (on earth), that we might be of the believers! (26:102)

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٠٢﴾

کاش ہمیں (دنیا میں) جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں (102:26)

Herein is indeed a portent, yet most of them are not believers! (26:103)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٠٣﴾

بے شک اس میں نشانی ہے۔ اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ (103:26)

Could you but see when the guilty hang their heads before their Lord, (and say): Our Lord! We have now seen and heard, so send us back; we will do right, now we are sure. (32:12)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾
﴿٣٢ السجدة ١٢﴾

لو (تم تعجب کرو) جب دیکھو کہ گنہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے (اور کہیں گے کہ) اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا۔ تو ہم کو (دنیا میں) واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں (12:32)

He whom Allah sends astray, for him there is no protecting friend after Him. And you (Muhammad) will see the evil doers when they see the doom, (how) they say: Is there anyway of return? (42:44)

وَمَنْ يُضَلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾
﴿٤٢ الشوریٰ ٤٤﴾

اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ (دوزخ کا) عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا (دنیا میں) واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ (44:42)

More Reference : 2:167 39:58
Page 835, 220

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٦٧ ٣٩ الزمر: ٥٨
الصفحة ٨٣٥، ٢٢٠

مزید حوالہ 167:2 58:39
صفحہ 220, 835

**NO EXCUSE OF DISBELIEVERS
WILL BENEFIT THEM ON THAT DAY**

یومئذ لا یفیع الظالمین معذرتهم

کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا

But those to whom knowledge and faith are given will say: The truth is, you have tarried, by Allah's decree, until the Day of Resurrection. This is the Day of Resurrection, but you used not to know. (30:56)

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّمَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٣٠ الروم ٥٦﴾

اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو۔ اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا (56:30)

In that Day their excuses will not profit them who did injustice, nor will they be allowed to make amends. (30:57)

فِيَوْمِئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾
﴿٣٠ الروم ٥٧﴾

تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ انکی توبہ قبول کی جائے گی (57:30)

The Day when their excuse avails not the evil doers, and theirs is the curse, and theirs the ill abode. (40:52)

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾
﴿٤٠ المؤمن ٥٢﴾

جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لئے لعنت اور برا گھر ہے (52:40)

(Then it will be said): O you who disbelieve! Make no excuses for yourselves this Day. You are only being paid for what you used to do. (66:7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾
﴿٦٦ التحريم ٧﴾

کافرو! آج بہانے مت بناؤ۔ جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا (7:66)

This is a Day wherein they speak not, (77:35)

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾
﴿٧٧ المرسلات ٣٥﴾

یہ وہ دن ہے کہ (لوگ) لب تک نہ ہلا سکیں گے (35:77)

Nor are they suffered to put forth excuses. (77:36)

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٧٧ المرسلات ٣٦﴾

اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں (36:77)

More Reference : 16:84 52:46 77:38,39
Page 810, 902

وللمزيد راجع ١٦ النحل: ٨٤ ٥٢ الطور: ٤٦
٧٧ المرسلات: ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١

مزید حوالہ 16:84 52:46 77:38,39
صفحہ 902, 810

**NO RESPITE TO DISBELIEVERS
ON THAT DAY**

یومئذ لا نظرة تسمع للكافرين

کافروں کو کوئی مہلت نہیں ملے گی

When they will say: Are we to be reprieved? (26:203)

فَيَقُولُوا أَهْلًا مَنَعُوا مِنْظُرُونَ ﴿٢٠٣﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٠٣﴾

اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ (203:26)

Would they (now) hasten on Our doom? (26:204)

أَفِعِدَّ إِنَّا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٠٤﴾

تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں (204:26)

say (to them): On the Day of the story the faith of those who disbelieve (and who then will believe) will not avail them, neither will they be reprieved. (32:29)

قُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾
﴿٣٢ السجدة ٢٩﴾

کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی (29:32)

So withdraw from them (O Muhammad), and await (the event). They also are awaiting (it) (32:30)

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿٣٢﴾ السجدة ٣٠

تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں (30:32)

**THE BRIDGE OVER HELL
"SIRAT" EVERY PERSON MUST PASS
THROUGH IT, FOR FINAL DESTINY**

الجسرفوق جہنم
اجتيازہ لابلدمنہ لكل انسان

پل صراط سے گزرنا لازمی ہوگا

Then We shall pluck out from every sect whichever of them was most stern in rebellion to the Most Beneficent (Allah). (19:69)

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ مريم ٦٩

پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو الگ نکال کھڑا کریں گے جو نہایت مہربان (اللہ) کے سامنے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے (69:19)

And surely We are well aware of those most worthy to be burned therein. (19:70)

ثُمَّ لَنَعْلَمَنَّ الَّذِينَ هُمْ أَوَّلَىٰ بِهَا صَلِيًّا ﴿٧٠﴾ مريم ٧٠

اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں (70:19)

There is not one of you but shall approach it. That is a fixed ordinance of your Lord. (19:71)

وَأَنَّ مِنْكُمْ آلًا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ مريم ٧١

اور تم میں کوئی (شخص) نہیں مگر اسے (پل صراط سے) گزرنا ہوگا۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے لازم اور مقرر ہے (71:19)

Then We shall rescue those who kept away from evil, and leave the evil-doers crouching there. (19:72)

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِّيًّا ﴿٧٢﴾ مريم ٧٢

پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے۔ اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے (72:19)

-----On the Day when Allah will not abase the Prophet and those who believe with him. Their light will run before them and on their right hands: They will say: Our Lord! Perfect our light for us, and forgive us! You are Capable of everything!.. (66:8) PART

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ التحريم ٨ جزء

-----اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ (بلکہ) ان کا نور (ایمان) ان کے آگے اور داہنی طرف (روشنی کرتا ہوا) چل رہا ہوگا۔ اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر لو اور ہمیں معاف فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے (8:66) جزو

ON THAT DAY THE DOMINION WILL BE ONLY OF ALLAH (SWT) - THE WHOLE EARTH WILL BE NO MORE TO ALLAH (SWT) THAN A THING THAT A HUMAN MIGHT HOLD WITHIN GRASP NOR WILL THE HEAVENS MORE THAN A SCROLL WHICH A HUMAN CAN FOLD UP IN RIGHT HAND

يكون الملك يومئذ لله الواحد القهار
والأرض جميعا قبضته والسموات مطويت بيمينه

قیامت کے روز صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی زمین اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت سے یوں ہوگی جیسے کوئی چیز انسانی مٹھی میں ہو اور آسمان جیسے لپٹی ہوئی کوئی چیز انسانی دائیں ہاتھ میں

The Sovereignty on that Day will be Allah's. He will judge between them. Then those who believed and did good works will be in Gardens of Delight, (22:56)

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ الحج ٥٦

اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی۔ (اور) وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے (56:22)

The Sovereignty on that Day will be of the Beneficent One, and it will be a hard Day for disbelievers. (25:26)

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٥﴾ الفرقان ٢٦

اس دن بھی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی۔ اور وہ دن کافروں پر (سخت) مشکل ہوگا (26:25)

And they esteem not Allah as He has the right to be esteemed, when the whole earth is His handful on the Day of Resurrection, and the heavens are rolled in His right hand. Glorified is He and High Exalted from all that they ascribe as associate (to Him). (39:67)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا
قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ
بِيمِينِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٦٧﴾

اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی ویسی نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے (اور) وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے (67:39)

The Day when they come forth, nothing of them being hidden from Allah. Whose is the Sovereignty on this Day? It is Allah's, the One, the Almighty. (40:16)

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ
لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٠﴾
﴿٤٠ المومن ١٦﴾

جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی جو اکیلا (اور) غالب ہے (16:40)

And to Allah belongs the sovereignty of the Heavens and the earth; and on the Day when the Hour rises, on that Day those who follow falsehood will be lost. (45:27)

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ يُومِضُ يُخَسِّرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٥﴾
﴿٤٥ الجاثية ٢٧﴾

اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی اور اس روز جھوٹے نقصان میں پڑ جائیں گے (27:45)

**THE THRONE OF ALLAH (SWT)
WILL BE BORNE BY ANGELS ON
THE DAY OF JUSTICE**

عرش اللہ يتحملة الملائكة
يوم القيامة

اللہ تعالیٰ کا عرش فرشتے
اٹھائے ہوئے ہونگے

And the angels will be on the sides thereof, and eight will uphold the Throne of your Lord that Day, above them. (69:17)

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ
رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴿٦٩﴾
﴿٦٩ الحاقة ١٧﴾

اور فرشتے اس کے کناروں پر (اتر آئیں گے) اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے (اپنے اوپر) اٹھائے ہوں گے (17:69)

**NO ONE WILL GET AHEAD
OF ALLAH (SWT) OR REMAIN UNTESTED**

يومئذ لا يفلت أحد من بطش الله

اس روز اللہ تعالیٰ کے قابو سے
کوئی نہیں نکل سکے گا

Or do those who do ill deeds imagine that they can outstrip Us: How bad is that which they judge. (29:4)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن
يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٩﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٤﴾

کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے۔ جو یہ خیال کرتے ہیں برا ہے (4:29)

MEETINGS AND DIALOGUES ON THE DAY OF JUDGEMENT المکالمہ واللقاءات يوم القيامة قیامت کے روز سوال و جواب اور ملاقاتیں

SPLENDID APPEARANCE OF ALLAH (SWT)

Who assume that they will have to meet their Lord, and that to Him they are returning. (2:46)

If you could see when they are set before their Lord! He will say: Is not this real? They will say: Yes, indeed by our Lord! He will say: Taste now the retribution for that you used to disbelieve. (6:30)

They indeed are losers who deny their meeting with Allah until, when the Hour comes on them suddenly, they cry: Alas for us, that we neglected it! They bear upon their backs their burdens. Ah, evil is that which they bear! (6:31)

-----He details the revelations, that haply you may be certain of the meeting with your Lord. (13:2) PART

And they are marshalled before your Lord in ranks (and it will be said to them): Now have you come to Us as We created you at the first. But you thought that We had set no trust for you. (18:48)

There is none in the heavens and the earth but must come to the Beneficent as a slave. (19:93)

On that Day they follow the summoner who deceives not, and voices are hushed to the Beneficent, and you will hear but a faint murmur. (20:108)

ظہور اللہ عیاناً يوم القيامة

الَّذِينَ يَخْتُونُ أَنَّهُمْ فَتَقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ
الْبِئْسَ رِجْعُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٢ البقرة ٤٦﴾

وَلَوْ تَرَى إِذُ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ الْيَسُّ هَذَا
بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾
﴿٦ الانعام ٣٠﴾

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا
جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بُغْتًا قَالُوا إِنَّا نَحْنُ بِالْحَقِّ
فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ
ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾
﴿٦ الانعام ٣١﴾

يُذَكِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿١٣﴾
﴿١٣ الرعد ٢﴾ جزء

وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا
خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ
لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾
﴿١٨ الكهف ٤٨﴾

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي
الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾
﴿١٩ مريم ٩٣﴾

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ
الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾
﴿٢٠ طه ١٠٨﴾

اللہ تعالیٰ کی جلوہ نمائی

جو یقین کئے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں (46:2)

اور کاش تم (ان کو اس وقت) دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ (دوبارہ زندہ ہونا) برحق نہیں۔ تو کہیں گے کیوں نہیں پروردگار کی قسم (بالکل برحق ہے) اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے (جو دنیا میں کرتے تھے) عذاب کے مزے چکھو (30:6)

جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھائے میں آگے۔ یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ (ہائے) اس کو تباہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی۔ اور وہ اپنے (اعمال کے) بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے (31:6)

----- (اس طرح) وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو (2:13) جزو

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے (تو ہم ان سے کہیں گے کہ) جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا (اسی طرح آج) تم ہمارے سامنے آئے۔ لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے (قیامت کا) کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا (48:18)

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو اس کے غلام ہو کر آئیں گے (93:19)

اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے۔ اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم نجیف اور پوشیدہ آواز کے سوا کوئی اور آواز نہ سنو گے (108:20)

And faces humble themselves before the Living, the Eternal. And he who bears (a burden of) wrongdoing is indeed a failure (on that Day). (20:111)

وَعَدَّتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ
مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾
﴿٢٠ طہ ١١١﴾

اور اس زندہ و قائم ذات کے روبرو تمام چہرے جھک جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ ناکام رہا (111:20)

Whoever looks forward to the meeting with Allah (let him know that) Allah's reckoning is surely near and He is the Hearer, the Knower. (29:5)

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٥﴾

جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا (مقرر کیا ہوا) وقت ضرور آنے والا ہے۔ اور وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے (5:29)

And they say: When we are lost in the earth, how can we then be recreated? No but they are disbelievers in the meeting with their Lord. (32:10)

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴿١٠﴾
﴿٣٢ السجدة ١٠﴾

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے کے ہی قائل نہیں (10:32)

How! Are they still in doubt about the meeting with their Lord? Is not He surrounding all things? (41:54)

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيضَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾
﴿٤١ خم السجدة ٥٤﴾

دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں۔ سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے (54:41)

Say, He it is Who multiplies you in the earth, and to Whom you will be gathered. (67:24)

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾
﴿٦٧ الملك ٢٤﴾

کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا یا اور اسی کے روبرو تم جمع کئے جاؤ گے (24:67)

No but when the earth is ground to atoms, grinding, (Pounded to powder) (89:21)

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾
﴿٨٩ الفجر ٢١﴾

تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی (21:89)

And your Lord shall come with angels, rank on rank, (89:22)

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
﴿٨٩ الفجر ٢٢﴾

اور تمہارا پروردگار (جلوہ فرما ہوگا) اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے (22:89)

More Reference : 6:154 10:7,11,15,45
Page 505 420,745,233,812
1:29 14:21 25:21 30:8,16 32:14,17
18 836 822 366,853 901,861
4:31 39:71 40:15 45:34 75:23
836 896 375 901 803

المعزین راجع ٦ الأنعام: ١٥٤ ١٠ یونس: ١٠، ١١، ١٥، ٤٥
١١ هود: ٢٩ ١٤ إبراهيم: ٢١ ٢٥ الفرقان: ٢١
٣٠ الروم: ١٦، ٨ ٣٢ السجدة: ١٧، ١٤ ٣٤ سباء: ٣١
٣٩ الزمر: ٧١ ٤٠ المؤمنون (غافر): ١٥ ٤٥ الجاثية: ٣٤
٧٥ القيامة: ٢٣

مزید حوالہ 6:154 10:7,11,15,45 29:11 45,15,11,7:10 154:6
صفحہ 918 420,745,233,812 505
17,14:32 16,8:30 21:25 21:14
901,861 366,853 822 836
23:75 34:45 15:40 71:39 31:34
803 901 375 896 836

PEACE WILL BE A SALUTATION FROM ALLAH (SWT)
FOR THE RIGHTEOUS ONES

سلام علی عباد الرحمن من عنده
بوساطة الملائكة

عباد الرحمن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
فرشتوں کے ذریعہ سلام

Detail Consult : 33:44 36:58 Page 865

والتضمیل راجع ٣٣ الأحزاب: ٤٤ ٣٦ یس: ٥٨

تضمیل کیلئے دیکھئے 33:44 36:58 صفحہ 865

EVERYONE WILL APPEAR BEFORE ALLAH (SWT)
AS AN INDIVIDUAL WITHOUT
ANY ATTORNEY

ایتیان کل واحد أمامه فرد

اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے حاضر

And each one of them will come to
him on the Day of Resurrection,
one. (19:95)

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾
﴿١٩ مريم ٩٥﴾

اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے
حاضر ہوں گے (95:19)

JINNS AND HUMANKIND BOTH WILL ACKNOWLEDGE THEIR SHORTCOMINGS BEFORE ALLAH (swt) WHILE INTERROGATION

In the Day when He will gather them together (He will say): O you assembly of the jinn! Many of humankind did you seduce. And their adherents among humankind will say: Our Lord! We enjoyed one another, but now we have arrived at the appointed term, which You appointed for us. He will say: Fire is your home. Abide therein forever, but him whom Allah wills (to deliver). Your Lord is Wise, Aware. (6:128)

O you assembly of the jinn and humankind! Came there not to you messengers of, your own who recounted to you My tokens and warned you of the meeting of this Day? They will say: We testify against ourselves. And the life of the world beguiled them. And they testify against themselves that they were disbelievers. (6:130)

HUMANKIND WILL FACE THE EARNINGS OF DOINGS WHILE APPEARING BEFORE ALLAH (swt)

You, O man, are ever toiling on towards your Lord, painfully toiling but you will meet (in His presence). (84:6)

ENCOUNTER OF MISGUIDING LEADERS WITH THEIR FOLLOWERS AND THEIR CONFLICTS

(On the Day) when those who were followed disown those who followed (them), and they behold the doom, and all their aims collapse with them. (2:166)

And those who were but followers will say: If a return were possible for us, we would disown them even as they have disowned us. Thus Allah will show them their own deeds as anguish for them, and they will not emerge from the Fire. (2:167)

اعتراف الجن والانس بذنوبهم عند الاستجواب يوم القيامة

وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنُّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

يَمْعَشَرُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾

حضورا الانسان الى الله للاستجواب ووجود ماعمل محضرا

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْئِقِيهِ ﴿٨٤﴾

براءة السادة المضلين من متبعيهم عند رؤيه العذاب وانقطاع الأسباب بهم

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٢﴾

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿٢﴾

اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال اور جواب پر انسانوں اور جنوں کا اعتراف جرم

اور جس دن وہ سب (جن و انس) کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات تم نے انسانوں سے بہت (فائدے) حاصل کئے۔ تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ اور (آخر) اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا (اب) تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے ہمیشہ اس میں (جلتے) رہو گے مگر جو اللہ چاہے بے شک تمہارا پروردگار دانا (اور) خبردار ہے (128:6)

اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنا تے اور اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کہ (پروردگار) ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اور (اب) خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے (130:6)

انسان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور اعمال کو سامنے پانا

اے انسان تو اپنے پروردگار سے ملنے تک یہ کوششیں اور تمام کام اور محنتیں کر کے تو اس سے جا ملے گا (6:84)

قیامت کے روز گمراہ کن سرداروں کا اپنے پیروکاروں سے اظہار بیزاری اور ان دونوں کے باہمی تعلقات کا انقطاع (ٹوٹ جانا)

اس دن (کفر کے) پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور (دونوں) عذاب (الہی) دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات کٹ جائیں گے (166:2)

(یہ حال دیکھ کر) پیروی کرنے والے (حسرت سے) کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا۔ کہ جس طرح یہ لوگ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے (167:2)

They all come forth to their Lord. Then those who were despised say to those who were scornful: We were your followers, can you then avert from us anything of Allah's doom? They say: Had Allah guided us, we should have guided you. Whether we rage or patiently endure is (now) all one for us: we have no place of refuge. (14:21)

On the Day when their faces are turned over in the fire, they say: Oh, would that we had obeyed Allah and had obeyed His messenger! (33:66)

And they say: Our Lord! We obeyed our princes and great men, and they misled us from the Way. (33:67)

Our Lord! Oh, give them double torment and curse them with a mighty curse. (33:68)

Say (O Muhammad): Yours is the promise of a Day which you cannot postpone nor hasten by an hour. (34:30)

And those who disbelieve say: We believe not in this Qur'an nor in that which was before it; but oh, if you could see, when the wrongdoers are brought up before their Lord, how they cast the blame one to another; how those who were despised (in the earth) say to those who were proud: But for you, we should have been believers. (34:31)

And those who were proud say to those who were despised: Did we give you away from the guidance after it had come to you? No but you were guilty. (34:32)

Those who were despised say to those who were proud: No but (it was your) scheming night and day, when you commanded us to disbelieve in Allah and set up rivals for Him. And they are filled with remorse when they behold the doom; and We place yokes on the necks of those who disbelieved. Are they requited anything other than what they did? (34:33)

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعْفُورُ الَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا قُمْنَا
عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا
اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبْرُنَا
مَا لَنَا مِنْ مَحْصِينٍ ﴿١٤﴾
﴿١٤ ابراهيم ٢١﴾

يَوْمَ تَقْلَبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ
يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٣٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٦٦﴾

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا
فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾
﴿٦٧ الاحزاب ٦٧﴾

رَبَّنَا اتِّهَمُوا ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾
﴿٦٨ الاحزاب ٦٨﴾

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنَّا
سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾
﴿٣٠ سبا ٣٠﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ
وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَوْتَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ
مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾
﴿٣١ سبا ٣١﴾

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا
أَنَحْنُ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ
بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾
﴿٣٢ سبا ٣٢﴾

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ
وَنَجْعَلَ لَكَ آدَادًا وَأَسْرُوا التَّدَامَةَ لَمَّا
سَأَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَىٰ فِي آعْنَاقِ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلٌ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾
﴿٣٣ سبا ٣٣﴾

اور (قیامت کے دن) سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقول (تابعدار) اپنے سرداروں (متکبرین) سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے۔ کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے رفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے۔ اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے۔ اب کوئی جگہ (چھٹکارا اور) رہائی کی ہمارے لئے نہیں ہے (21:14)

جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرمانبرداری کرتے اور رسول (اللہ کا) حکم مانتے (66:33)

اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا۔ تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا (67:33)

اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر (68:33)

کہہ دیجئے کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھو گے (30:34)

اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان (کتابوں) کو جو ان سے پہلے کی ہیں۔ اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے (31:34)

بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آچکی تھی روکا تھا؟ (نہیں) بلکہ تم ہی گناہ گار تھے (32:34)

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں (متکبرین) سے کہیں گے (نہیں) بلکہ (تمہاری) رات دن کی چالیں (ہماری) بے ایمانی کا باعث بنیں (جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں۔ اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے۔ اور کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے۔ بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا (33:34)

Here is an army rushing blindly with you. (Those who are already in the Fire say): No word of welcome for them. They will roast at the Fire. (38:59)

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَدِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِذْ هُمْ
صَالُوا النَّارَ ﴿٥٩﴾
﴿٣٨ ص ٥٩﴾

یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ (آگ میں) داخل ہوگی جن کے لئے کوئی خوش آمدید نہیں ہے یہ دوزخ میں جانے والے ہیں (59:38)

They say: No but you (misleaders), for you there is no word of welcome. You prepared this for us (by your misleading). Now hapless is the plight. (38:60)

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْرُجِبَاءٌ بِنَاكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَّوْنَاكُمْ
فِي سُنَنِ الْقَرَارِ ﴿٦٠﴾
﴿٣٨ ص ٦٠﴾

کہیں گے بلکہ تم ہی تو ہو جن کے لئے کوئی خوش آمدید نہیں۔ تم ہی تو یہ (بلا) ہمارے سامنے لائے ہو۔ سو (یہ) برا ٹھکانا ہے (60:38)

They say: Our Lord! Whoever did prepare this for us, oh, give him double portion of the Fire! (38:61)

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا
ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾
﴿٣٨ ص ٦١﴾

وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دو گنا عذاب دے (61:38)

And when they wrangle in the Fire, the weak say to those who were proud: We were following to you: Will you therefore rid us of a portion of the Fire? (40:47)

وَإِذْ يَتَحَايَجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا أَهَلَّ
أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَلَيْنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾
﴿٤٠ المنون ٤٧﴾

اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنیٰ درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے تو کیا تم دوزخ (کے عذاب) کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ (47:40)

Those who were proud say: We are all (together) herein. Allah has judged between (His) slaves. (40:48)

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ
قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾
﴿٤٠ المنون ٤٨﴾

بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے (48:40)

ENCOUNTER OF SATAN AND HIS DISCIPLES, AND THEIR COLLIDE

الشیطان و متبعوه و اختصامهم یوم القيامة

شیطان اور اس کے پیروکاروں کا قیامت کے دن آپس میں جھگڑنا

And Satan will say, once the matter has been settled: Allah gave you promise of truth; while I promised you, but I failed. And I had no power over you except that I called to you and you obeyed me. So blame me not, but blame yourselves. I cannot help you, nor can you help me. I disown how you have associated me (with Allah) up till now. For wrongdoers will be a painful doom. (14:22)

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَبَّاقِضِي الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ
وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ
لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ
فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلْمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا
أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ
بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾
﴿١٤ ابراهيم ٢٢﴾

جب (حساب کتاب کا) کام مکمل کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا (جو) وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا (وہ تو) سچا تھا اور (جو) وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو (گمراہی کی طرف) بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا تو (آج) مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریادری کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریادری کر سکتے ہو میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے بے شک جو ظالم ہیں ان کے لئے درد دینے والا عذاب ہے۔ (22:14)

And all of the hosts of Iblis, together. (26:95)

وَجُنُودُ إبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾
﴿٢٦ الشعراء ٩٥﴾

اور شیطان کے لشکر سب کے سب (داخل جہنم ہوں گے) (95:26)

And they will say, when they quarrel therein: (26:96)

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٩٦﴾

وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے (96:26)

By Allah, we were in obvious error. (26:97)

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾
﴿٢٦ الشعراء ٩٧﴾

کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے (97:26)

When we made you equal with the Lord of the Worlds. (26:98)

إِذْ نَسَوْنَا كُفْرَ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾
﴿٢٦ الشعراء ٩٨﴾

جب کہ تمہیں (اللہ) رب العالمین کے برابر ٹھہراتے (98:26)

It was but the guilty who misled us. (26:99)

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾
﴿٢٦ الشعراء ٩٩﴾

اور ہم کو ان گنہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا (99:26)

Now we have no intercessors (26:100)

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٠٠﴾

تو (آج) نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے (100:26)

Nor any loving friend. (26:101)

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٠١﴾

اور نہ گرم جوش دوست (101:26)

His comrade will say Our Lord! I did not cause him to rebel, but he (himself) was far gone in error. (50:27)

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾
﴿٥٠ ق ٢٧﴾

اس کا ساتھی (شیطان) کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی راستے سے دور بھٹکا ہوا تھا (27:50)

He will say contend not in My presence, when I had already proffered to you the warning. (50:28)

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾
﴿٥٠ ق ٢٨﴾

(اللہ) کہے گا ہمارے حضور میں بحث مباحثہ نہ کرو۔ ہم تمہارے پاس پہلے ہی (عذاب کا) وعدہ بھیج چکے تھے (28:50)

OBSERVING THE FATE OF DOOMED ONES BY THE BLESSED ONES

اطلاع اہل الجنة اهل النار

اہل جنت کا اہل دوزخ کو دیکھنا

A speaker of them says: I had a comrade (37:51)

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾
﴿٣٧ الصفت ٥١﴾

ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا (51:37)

Who used to say: Are you in truth of those who put faith (in his words)? (37:52)

يَقُولُ أَتَيْتَكَ لِيَوِّدَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾
﴿٣٧ الصفت ٥٢﴾

(جو) کہتا تھا کہ بھلا تم بھی (ایسی باتوں کے) یقین کرنے والوں میں ہو (52:37)

Can we, when we are dead and have become mere dust and bones, can we (then) indeed be brought to look? (37:53)

عَرَأَيْتُمْ أَصْفًا مَّا تَدْعُونَ إِتْرَابًا وَعِظَاءً إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٣٧ الصفت ٥٣﴾

بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ (53:37)

He Says: Will you look? (37:54)

قَالَ هَلْ أُنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾
﴿٣٧ الصفت ٥٤﴾

(پھر) کہے گا کہ بھلا تم (اسے) جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو (54:37)

When he looks and sees him in the depth of hell. (37:55)

فَاطَّلَعَ قَرَآءَهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾
﴿٣٧ الصفت ٥٥﴾

(اتنے میں) وہ (خود) جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا (55:37)

He will say By Allah you did all but use my ruin. (37:56)

قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِتُردِّينَ ﴿٥٦﴾
﴿٣٧ الصفت ٥٦﴾

کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا (56:37)

And had it not been for the favour of my Lord I too had been of those led forth (to doom). (37:57)

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿٥٧﴾
﴿٣٧ الصفت ٥٧﴾

اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو (عذاب میں) حاضر کئے گئے ہیں (57:37)

He we then not to die. (37:58)

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾
﴿٣٧ الصفت ٥٨﴾

کیا (یہ صحیح نہیں کہ) ہم (آئندہ کبھی) نہیں مریں گے (58:37)

Except for our former death and are not to be punished? (37:59)

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾
﴿٣٧ الصفت ٥٩﴾

ہاں (جو) پہلی بار مرنا (تھا سو مر چکے) اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ (59:37)

This is the Super triumph. (37:60)

إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾

بیشک یہ بڑی کامیابی ہے (60:37)

For the like of this then let the workers work. (37:61)

لِيُثَلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

ایسی ہی (نعمتوں) کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہئیں (61:37)

Is this better as a welcome or the tree of Zaqum? (37:62)

أَذَلِكْ خَيْرٌ تَنْزِيلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾

بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت (62:37)

DIALOGUES OF DWELLERS OF HEIGHTS WITH THE BLESSED PEOPLE AND COMPANIONS OF THE FIRE

حوارات اصحاب الاعراف من أهل الجنة و كذلك من أهل النار

دیوار اعراف پر بیٹھے لوگوں کے اہل جنت اور اہل دوزخ کے ساتھ مکالمے

And the dwellers of the Garden cry to the dwellers of the Fire: We have found that which our Lord promised us (to be) the Truth. Have you (too) found that which your Lord promised the Truth? They say: Yes indeed. And a crier in between them cries "The curse of Allah is on evildoers." (7:44)

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پایا۔ بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو (اس وقت) ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت (44:7)

Who debar (men) from the path of Allah and would have it crooked, and who are disbelievers in the Last Day. (7:45)

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿٤٥﴾

جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے (45:7)

Between them is a veil (barrier). And on the Heights are men who know them all by their marks. And they call to the dwellers of the Garden: Peace be to you! They enter it not although they hope (to enter). (7:46)

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمَّا دَخَلُواهَا وَهُمْ يُطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

ان دونوں (یعنی بہشت اور دوزخ) کے درمیان (اعراف نام کی) ایک دیوار ہوگی اور اعراف پر کچھ آدمی ہونگے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو یہ لوگ (ابھی) بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے (46:7)

And when their eyes are turned towards the dwellers of the Fire, they say: Our Lord! Place us not with the wrongdoing folk. (7:47)

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ (شامل) نہ کرنا (47:7)

And the dwellers on the Heights call to men whom they know by their marks, (saying): What did your multitude and that in which you took your pride avail you? (7:48)

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

اور اہل اعراف (کافر) لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے (کہ آج) نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر (ہی سود مند ہوا) (48:7)

Are these they of whom you swore that Allah would not show them mercy? (To them it had been said): Enter the Garden. No fear shall come upon you nor is it you who will grieve. (7:49)

أَهْلَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا يَخُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾

(پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے) کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ (اللہ) اپنی رحمت سے ان کی مدد نہیں کرے گا (تو مومنوں) تم بہشت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و غم ہوگا (49:7)

**DIALOGUES BETWEEN
THE RIGHTEOUS AND SINFUL PEOPLE**

But these who will stand on the right hand. (74:39)

In gardens they will ask one another (74:40)

Concerning the guilty: (74:41)

What has brought you to this burning? (74:42)

They will answer: We were not of those who prayed (74:43)

Nor did we feed the wretched. (74:44)

We used to talk vanities (in vain dispute) with (all) speculators, (74:45)

And we used to deny the Day of judgement, (74:46)

Until the inevitable came to us. (74:47)

**المكالمة بين أصحاب اليمين
وبين المجرمين**

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾
﴿٧٤ المدثر ٣٩﴾

فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٤٠﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٠﴾

عَنِ الْمَجْرِمِينَ ﴿٤١﴾
﴿٧٤ المدثر ٤١﴾

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٢﴾

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٣﴾

وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٤﴾

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٥﴾

وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٦﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٦﴾

حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿٤٧﴾
﴿٧٤ المدثر ٤٧﴾

نیک اور گنہگار لوگوں میں گفتگو

مگر وہ اپنی طرف والے (نیک لوگ) (39:74)

(کہ) وہ باغ ہائے بہشت میں (ہوں گے اور) پوچھتے ہوں گے (40:74)

(یعنی آگ میں جلنے والے) گناہ گاروں سے (41:74)

کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ (42:74)

وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے (43:74)

اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے (44:74)

اور ہم اہل باطل کے ساتھ مل کر (حق سے) انکار (بحث و مباحثہ میں مشغول رہا) کرتے تھے (45:74)

اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے (46:74)

یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی (47:74)

**ULTIMATE RESULT OF SCOFFING
OF DISBELIEVERS AT THE PEOPLE
OF FAITH IN WORLDLY LIFE**

There was a party of My slaves who said: Our Lord! We believe, therefore forgive us and have mercy on us for You are the best of all who show mercy; (23:109)

But you chose them from a laughing stock until this caused you to forget your remembrance, while you laughed at them. (23:110)

We have rewarded them this Day for as much as they were steadfast; and they are the triumphant. (23:111)

مصیر المتخذین المؤمنین سخریاً

إِنَّكَ كَانَ قَرِينًا مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا
آمِنًا فَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٠٩﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١٠٩﴾

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُمُ ذِكْرِي
وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١١٠﴾

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا وَأَلَّيْتُ بِهِمُ
الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾
﴿٢٣ المؤمنون ١١١﴾

ایمان والوں کا مذاق اڑانے کا نتیجہ

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے (109:23)

تو تم ان سے ہنسی مذاق کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے۔ اور تم (ہمیشہ) ان سے ہنسی کیا کرتے تھے (110:23)

آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے (111:23)

ON THAT DAY BELIEVERS WILL LAUGH AT DISBELIEVERS AS THEY USED TO LAUGH AT THEM IN TEMPORARY WORLD

The guilty used to laugh at those who believed, (83:29)

And wink one to another when they passed them; (83:30)

And when they returned to their own folk, they returned jesting; (83:31)

And when they saw them they said: These have gone astray. (83:32)

Yet they were not sent as guardians over them. (83:33)

This Day it is those who believe who have the laugh at disbelievers, (83:34)

On high couches, gazing. (83:35)

Are not the disbelievers paid for what they used to do? (83:36)

ضحك المؤمنین فی الجنة من الكفار
كما كانوا یضحكون منهم فی الحیاة الدنیا

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾

﴿٨٣ المطففين ٢٩﴾

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾

﴿٨٣ المطففين ٣٠﴾

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾

﴿٨٣ المطففين ٣١﴾

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾

﴿٨٣ المطففين ٣٢﴾

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَٰفِظِينَ ﴿٣٣﴾

﴿٨٣ المطففين ٣٣﴾

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾

﴿٨٣ المطففين ٣٤﴾

عَلَىٰ الْأَرَآئِلِ يُنظَرُونَ ﴿٣٥﴾

﴿٨٣ المطففين ٣٥﴾

هَلْ تُؤْتَوْنَ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

﴿٨٣ المطففين ٣٦﴾

جیسے کفار دنیا کی زندگی میں مومنوں پر ہنستے تھے
اسی طرح مومن آخرت میں کفار پر ہنسی کریں گے

جو گنہگار (یعنی کفار) ہیں وہ (دنیا میں) مومنوں سے ہنسی
کیا کرتے تھے (29:83)

اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے
اشارے کرتے (30:83)

اور جب اپنے گھر کو لوٹے تو اترتے ہوئے لوٹے
(31:83)

اور جب ان (مومنوں) کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ
ہیں (32:83)

حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے
(33:83)

تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے (34:83)

(اور) تختوں پر (بیٹھے ہوئے ان کا حال) دیکھ رہے ہوں
گے (35:83)

تو کافروں کو ان کے عملوں کا (پورا پورا) بدلہ مل گیا
(36:83)

More Reference : 11:38 Page 924

HYPOCRITES WILL REQUEST TO BORROW REFLECTION OF DIVINE'S LIGHT FROM BELIEVERS

On the Day when the hypocritical men and the hypocritical women will say to those who believe: Look on us that we may borrow from your light! It will be said: Go back and seek for light! Then a wall will separate them wherein is a gate, the inner side whereof contains mercy, while the outer side thereof is towards the doom. (57:13)

They will cry to them (saying): Were we not with you? They will say: Yes surely, but you tempted one another, and hesitated, and doubted, and vain desires beguiled you till the ordinance of Allah came to pass; and the deceiver deceived you concerning Allah; (57:14)

والتفصیل راجع ۱۱: حود: ۳۸: الصفحة ۹۲۴

التماس المنافقين للاقتباس
من نور المؤمنین يوم القيامة

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا
انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ
فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ
بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ
قَبْلِ الْعَذَابِ ﴿٥٧﴾

﴿٥٧ الحديد ١٣﴾

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ
فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ
الْأَمْثَالُ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّتْكُمْ بِاللَّهِ
الْغُرُورُ ﴿٥٧﴾

﴿٥٧ الحديد ١٤﴾

تفصیل کیلئے دیکھئے 11: 38 صفحہ 924

قیامت کے روز منافقین کی مومنین سے
ان کے نور سے اقتباس لینے کی درخواست کرنا

اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں
گے کہ ہماری طرف نظر (شفقت) کیجئے کہ ہم بھی
تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں تو ان سے کہا جائے
گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور (وہاں) نور تلاش کرو۔ پھر ان
کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں
ایک دروازہ ہوگا۔ جو اس کی اندرونی جانب ہے اس میں
تو رحمت ہے اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب
(واذیت) (13:57)

تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم (دنیا میں)
تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے لیکن تم
نے خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا اور (ہمارے حق
میں جو اٹھ کے) منتظر رہے اور (اسلام میں) شک کیا
اور (فضول) آرزوؤں نے تم کو دھوکا دیا یہاں تک کہ
اللہ کا حکم آپہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو (شیطان)
دھوکہ باز دغا دیتا رہا (14:57)

So this Day no ransom can be taken from you nor from those who disbelieved. Your home is the Fire; that is your patron, and a hapless journey's end. (57:15)

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أَوْكَمْنَا نَارًا هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾
﴿٥٧ الحديد ١٥﴾

تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ (وہ) کافروں ہی سے (قبول کیا جائے گا) تم سب کا ٹھکانا دوزخ ہے (کہ) وہ تمہارے لائق ہے۔ اور وہ بری جگہ ہے (15:57)

ALL WHO ASCRIBE PARTNERS TO ALLAH (SWT) WILL REALIZE THE VANITY OF THEIR FALSE GODS

And on the Day We gather them together We shall say to those who ascribed partners (to Allah): Where are (now) those partners whom you (invented) talked about. (6:22)

Then they will have no contention except that they will say: By Allah, our Lord, we never were idolaters. (6:23)

See how they lie against themselves, and (how) the thing which, they devised, has failed them! (6:24)

On the Day when We gather them all together, then We say to those who ascribed partners (to Us): Stand back, you and your (pretended) partners (of Allah)! And We separate them, the one from the other, and their (pretended) partners say: It was not us you worshipped. (10:28)

Allah suffices as a witness between us and you, that we were unaware of your worship. (10:29)

There does every soul experience that which it did aforetime, and they are returned to Allah, their rightful Lord, and that which they used to invent has failed them. (10:30)

When on the Day of Resurrection He will disgrace them and will say: Where are My partners, for whose sake you opposed (My Guidance)? Those endowed with knowledge will say: Disgrace this day and evil are upon the disbelievers, (16:27)

**إِعْتِرَافُ الْمُشْرِكِينَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِتَفَاهَةِ آلِهَتِهِمْ**

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾
﴿٦٢ الانعام ٢٢﴾

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٦٣﴾
﴿٦٣ الانعام ٢٣﴾

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٦٤﴾
﴿٦٤ الانعام ٢٤﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فَرَيْدًا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائِهِمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَاتِعِدُونَ ﴿١٠٠﴾
﴿١٠٠ يونس ٢٨﴾

فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفُلِينَ ﴿١٠١﴾
﴿١٠١ يونس ٢٩﴾

هَذَا لِكَيْ تَبْلُغُوا كُلَّ نَفْسٍ مِمَّا اسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٠٢﴾
﴿١٠٢ يونس ٣٠﴾

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِبُهُمْ وَيَقُولُ آيِنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١١٦﴾
﴿١١٦ النحل ٢٧﴾

مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کے بے وقعت ہونے کو خود تسلیم کریں گے

اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ (آج) وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا؟ (22:6)

تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا (اور) بجز اس کے (کچھ چارہ نہ ہوگا) کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے (23:6)

دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو کچھ یہ جھوٹ تراشا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا (24:6)

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک (ان سے) کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے (28:10)

ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے (29:10)

وہاں ہر شخص (اپنے اعمال کی) جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا (30:10)

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے (27:16)

And when those who ascribed partners to Allah behold those partners of theirs, they will say: Our Lord! These are our partners to whom we used to cry instead of You. But they will fling to them saying: You surely are liars! (16:86)

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُم لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾
﴿١٦ النحل ٨٦﴾

اور جب مشرک اپنے (بنائے ہوئے) شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ تو وہ (ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور) ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو (86:16)

And they proffer to Allah submission on that Day, and all that they used to invent has failed them. (16:87)

وَالْقَوْلَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾
﴿١٦ النحل ٨٧﴾

اور اس دن اللہ کے سامنے اطاعت سے جھک جائیں گے اور جو بہتان بازی کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا (87:16)

And (be mindful of) the Day when He will say: Call those partners of Mine whom you pretended. Then they will cry to them, but they will not hear their prayer, and We shall set a gulf of doom between them. (18:52)

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾
﴿١٨ الكهف ٥٢﴾

اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ (اب) میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان (خدائی) رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے (52:18)

And on the Day when He will assemble them and that which they worship instead of Allah and will say: Was it you who misled these My slaves or did they (themselves) wander from the way? (25:17)

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قِيْلُ ءَا نْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِيَ هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾
﴿٢٥ الفرقان ١٧﴾

اور جس دن (اللہ) ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے (17:25)

They will say: Be You glorified! It was not for us to choose any protecting friends besides You; but You did give them and their fathers ease till they forgot the warning and became lost folk. (25:18)

قَالُوا اسْبِحْنَا مَا كَانِ يَتَّبِعُنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾
﴿٢٥ الفرقان ١٨﴾

وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمیں یہ بات شایاں نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے۔ لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دیں۔ یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے (18:25)

And hell will appear plainly to the erring. (26:91)

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَوِيْنَ ﴿٩١﴾
﴿٢٦ الشعراء ٩١﴾

اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی (91:26)

And it will be said to them: Where is (all) that you used to worship (26:92)

وَقِيْلَ لَهُمْ اٰيْمًا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾
﴿٢٦ الشعراء ٩٢﴾

اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ (92:26)

Instead of Allah? Can they help you or help themselves? (26:93)

مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾
﴿٢٦ الشعراء ٩٣﴾

(یعنی جن کو) اللہ کے سوا (پوجتے تھے) کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ (93:26)

Then they will be hurled therein, they and the seducers (26:94)

فَكَيِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُنَ ﴿٩٤﴾
﴿٢٦ الشعراء ٩٤﴾

تو وہ گمراہ (یعنی بت اور بت پرست) اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے (94:26)

On the Day when He will call to them and say: Where are My partners whom you imagined? (28:62) (28:74)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾
﴿٢٨ القصص ٦٢﴾ ﴿٢٨ القصص ٧٤﴾

اور جس روز (اللہ) ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا (62:28) (74:28)

Those concerning whom the Word will have come true will say: Our Lord! These are they whom we led astray. We led them astray even as we ourselves were astray. We declare our innocence before You: They never worshipped us (28:63)

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هُوَ الَّذِي
الَّذِينَ اغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا
إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا نَاعِبُدُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨﴾ القصص ٦٣

(تو) جن لوگوں پر (عذاب کا) حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا (اب) ہم تیری طرف (متوجہ ہو کر) ان سے بے زار ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے (63:28)

And it will be said: Cry to your (so-called) partners (of Allah). And they will cry to them, and they will give no answer to them, and they will see the Doom. Ah, if they had but been guided! (28:64)

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ
يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ
كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾
﴿٢٨﴾ القصص ٦٤

اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ۔ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے اور (جب) عذاب کو دیکھ لیں گے (تو تمنا کریں گے کہ) کاش وہ ہدایت یاب ہوتے (64:28)

On the Day when the Hour comes, that Day they will be sundered. (30:14)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذِّتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾
﴿٣٠﴾ الروم ١٤

اور جس دن قیامت برپا ہوگی۔ اس روز وہ الگ الگ فرقتے برہو جائیں گے۔ (14:30)

Instead of Allah, and lead them to the path to hell; (37:23)

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٢٣

(یعنی جن کو) اللہ کے سوا (پوجا کرتے تھے) پھر ان کو جہنم کے راستے پر چلا دو (23:37)

And stop them, for they must be questioned. (37:24)

وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٢٤

اور ان کو ٹھیرائے رکھو کہ ان سے (کچھ) پوچھنا ہے (24:37)

What ails you that you help not one another? (37:25)

مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ﴿٢٥﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٢٥

تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے (25:37)

No, but this Day they make full submission. (37:26)

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَلِيمُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٢٦

بلکہ آج تو وہ فرمانبردار ہیں (26:37)

And some of them draw near to others, mutually questioning. (37:27)

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٢٧

اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال (و جواب) کریں گے (27:37)

They say: You used to come to us, supposing, (swearing that you spoke the truth). (37:28)

قَالُوا إِنَّا كُنَّا ناتُونَا عَنْ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٢٨

کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں (اور بائیں) سے آتے تھے (28:37)

They answer: No, but you yourselves were not believers. (37:29)

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٢٩

وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے (29:37)

We had no power over you, but you were wayward folk. (37:30)

وَمَا كَانُوا لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ
قَوْمًا طٰغِينَ ﴿٣٠﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٣٠

اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا۔ بلکہ تم سرکش لوگ تھے (30:37)

Now the Word of our Lord has been fulfilled concerning us. We are about to taste (the doom). (37:31)

فَحَقَّ عَلَيْكُمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا إِنَّكَ لَن آتِئُونَ ﴿٣١﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٣١

سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہوگئی اب ہم مزے چکھیں گے (31:37)

Thus we misled you. We (ourselves) were astray. (37:32)

فَاغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غٰوِينَ ﴿٣٢﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ٣٢

ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا (اور) ہم خود بھی گمراہ تھے (32:37)

Then it will be said to them: Where are (all) those you used to make partners (in the Sovereignty) (40:73)

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾
﴿٤٠﴾ المؤمن ٧٣

پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم (اللہ کے) شریک بناتے تھے (73:40)

Besides Allah? They say: They have failed us: But we used not to pray to anything before. Thus Allah does send astray the disbelievers (in His guidance). (40:74)

مَنْ دُونَ اللَّهِ قَالَ الْوَاضِلُوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ
نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

(یعنی) غیر اللہ۔ کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے (74:40)

﴿٤٠ المومن ٧٤﴾

ALL WHO ASSOCIATE ANYONE WITH ALLAH (swt) WILL BE ASKED TO BRING THOSE PARTNERS

الأمر بإحضار الشركاء

جھوٹے معبودوں کو سامنے لانے کا حکم

-----And on the Day when He calls to them: Where are now My partners? They will say: We confess to You, not one of us is a witness (for them). (41:47) PART

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِيْنُ
شُرَكَائِهِمْ قَالُوا أذْكَرُ مَا مَتَّامُنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾
﴿٤١ حم السجدة ٤٧﴾ جزء

----- اور جس دن وہ ان کو پکارے گا (اور کہے گا) کہ میرے شریک کہاں ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو (ان کی) خبر ہی نہیں (47:41) جزو

And those to whom they used to cry of old have failed them, and they perceive they have no place of refuge. (41:48)

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا
مَا لَهُمْ مِنْ قَٰحِصٍ ﴿٤٨﴾
﴿٤١ حم السجدة ٤٨﴾

اور جن کو پہلے وہ (اللہ کے سوا) پکارا کرتے تھے (سب) ان سے غائب ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لئے مخلص نہیں (48:41)

Ask them which of them will vouch for that! (68:40)

سَأَلَهُمْ لِيَهْمُ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾
﴿٦٨ القلم ٤٠﴾

ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے (40:68)

Or have they other gods? Then let them bring their other gods if they are truthful (68:41)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَمَا فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ
كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾
﴿٦٨ القلم ٤١﴾

کیا (اس قول میں) ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لاسانے کریں (41:68)

DISBELIEVERS WILL WISH TO TRAMPLE BOTH HUMANS AND SPIRITS WHO MISLED THEM IN TRANSITORY WORLD

اغتيال أصحاب النار من قادتهم الكفار في الحياة الدنيا الذين أضلوهم من الجن والإنس

دوزخیوں کا گمراہ کرنے والے انسانوں اور جنات کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرنا

And those who disbelieve will say: Our Lord! Show us those who beguiled us of the jinn and humankind. We will place them underneath our feet that they may be among the nethermost. (41:29)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ
أَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُم تَحْتِ
أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾
﴿٤١ حم السجدة ٢٩﴾

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے (روند) ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں (29:41)

WICKED FRIENDS OF PROBATIONARY WORLD WILL BECOME ENEMIES OF EACH OTHER WHILE RIGHTEOUS ONES WILL REMAIN BLOSSOM

يو مثل يصبح الأصدقاء أعداء سوى المتقين

گنہگار باہمی دشمنی پر آئیں گے مگر متقی باہم دوست ہوں گے

Friends on that Day will be foes one to another, but those who kept their duty (to Allah). (43:67)

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾
﴿٤٣ الزخرف ٦٧﴾

(جو آپس میں) دوست (ہیں) اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ مگر پرہیزگار (کہ باہم دوست ہی رہیں گے) (67:43)

And when mankind are gathered (to the Judgement) will become enemies for them, and will become deniers of having been worshipped. (46:6)

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا
يَعْبُدُهُمْ كُفْرِينَ ﴿٦﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٦﴾

اور جب لوگ جمع کئے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے (6:46)

ULTIMATE FATE OF
POLYTHEISTS AND IDOLATERS

مصیر المشرکین

مشرکین کا انجام

See, how they invent lies about Allah! That of itself is flagrant sin. (4:50)

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى
بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ۝

﴿٤ النساء ٥٠﴾

دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ (طوفان) باندھتے ہیں اور یہی گناہ صریح کافی ہے (50:4)

Who does greater wrong than he who invents a lie concerning Allah and denies His revelations? The guilty never are successful. (10:17)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأُو
كَّابَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُغْنِيهِ الْجُرْمُونَ ۝

﴿١٠ يونس ١٧﴾

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہ گار کامیابی نہیں پائیں گے (17:10)

Say: those who invent a lie concerning Allah will not succeed. (10:69)

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُغْلِبُونَ ۝

﴿١٠ يونس ٦٩﴾

کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے (69:10)

his world's portion (will be theirs), then to Us is their return. When We shall make them taste a dreadful doom because they used to disbelieve. (10:70)

مَتَاعًا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ
العَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

﴿١٠ يونس ٧٠﴾

(ان کے لئے) جو فائدے ہیں دنیا میں (ہیں) پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس وقت ہم ان کو عذاب شدید (کے مزے) چکھائیں گے کیونکہ کفر (کی باتیں) کیا کرتے تھے (70:10)

Who does greater wrong than he who invents a lie concerning Allah? Much will be brought before their Lord, and the witnesses will say: these are they who lied concerning their Lord. Now the curse of Allah upon wrongdoers, (11:18)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ
يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ آلَا لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ ۝

﴿١١ هود ١٨﴾

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کئے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے (18:11)

For them is torment in the life of the world, and the doom of the hereafter is more painful, and they have no defender from Allah. (13:34)

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ۝

﴿١٣ الرعد ٣٤﴾

ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو خدا (کے عذاب) سے کوئی بچانے والا نہیں (34:13)

And they set up rivals to Allah that they may mislead (men) from His way. Say: Enjoy life (while you live) for your journey's end will be the Fire. (14:30)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ
تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۝

﴿١٤ ابراهيم ٣٠﴾

اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کئے کہ (لوگوں کو) اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دیجئے کہ (چند روز) فائدے اٹھا لو آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے (30:14)

Glorified is He, and High Exalted above what they say! (17:43)

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

﴿١٧ بنی اسرائیل ٤٣﴾

وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے (اس کا رتبہ) بہت عالی ہے (43:17)

And they have chosen (other) gods besides Allah that they may be a power for them. (19:81)

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝

﴿١٩ مریم ٨١﴾

اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے کہیں تاکہ وہ ان کے لئے موجب عزت و مدد ہوں (81:19)

No, but they will deny their worship of them, and become opponents to them. (19:82)

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝
﴿١٩ مريم ٨٢﴾

ہرگز نہیں۔ وہ (معبودان باطل) ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن (ومخالف) ہوں گے (82:19)

See you not that We have set the devils on the disbelievers to confound them with confusion? (19:83)

الْمَرْتَابَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَهُّمًا آرَاءَ ۝
﴿١٩ مريم ٨٣﴾

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم شیطانوں کو کافروں پر بھیجتے ہیں کہ وہ ان کو خوب اکساتے رہتے ہیں (83:19)

Or have they chosen gods from the earth who raise the dead? (21:21)

أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۝
﴿٢١ الانبياء ٢١﴾

بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے (بعض کو) معبود بنا لیا ہے (تو کیا) وہ ان کو (مرنے کے بعد) زندہ کر دیں گے؟ (21:21)

And one of them who should say: I am a god besides Him, that one We should repay with hell. Thus We repay wrongdoers. (21:29)

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ قَدْ لِكُ تَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ تَجْزَى الظَّالِمِينَ ۝
﴿٢١ الانبياء ٢٩﴾

اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں (29:21)

Thus they will give you the lie regarding what you say, then you can neither avert (the doom) nor obtain help. And whoso among you does wrong, We shall make him taste great torment. (25:19)

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝
﴿٢٥ الفرقان ١٩﴾

(کافرو) انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلادیا پس (اب) تم (عذاب کو) نہ پھیر سکتے ہو نہ (کسی سے) مدد لے سکتے ہو۔ اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے (19:25)

He would have led us far away from our gods if we had not been staunch to them. They will know, when they behold the doom, who is more astray as to the road. (25:42)

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝
﴿٢٥ الفرقان ٤٢﴾

اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بھٹکا دیتا (اور) ان سے (پھیر دیتا) اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے (42:25)

Who does greater wrong than he who invents a lie concerning Allah, or denies the truth when it comes to him? Is not there a home in Hell for disbelievers? (29:68)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَشْوَى لِّلْكَافِرِينَ ۝
﴿٢٩ العنكبوت ٦٨﴾

اور اس سے ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو جو اس کو جھٹلائے۔ کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے؟ (68:29)

This is Hell, which you were threatened with. (36:63)

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝
﴿٣٦ يسين ٦٣﴾

یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا (63:36)

Roast in it today because you have disbelieved. (36:64)

اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝
﴿٣٦ يسين ٦٤﴾

اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ (64:36)

And had We willed, We could have quenched their eyesight so that they should struggle for the way. Then how could they have seen? (36:66)

وَلَوْ شَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۝
﴿٣٦ يسين ٦٦﴾

اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا (کر اندھا کر) دیں پھر یہ راستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے (66:36)

And had We willed, We could have fixed them in their place, making them powerless to go forward or turn back. (36:67)

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾
﴿٣٦ یسین ٦٧﴾

اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جاسکیں اور نہ (پہچھے) لوٹ سکیں (67:36)

Then this Day they (both) are sharers in the doom. (37:33)

فَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾
﴿٣٧ الصفت ٣٣﴾

پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہونگے (33:37)

Thus We deal with the guilty. (37:34)

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْجَارِمِينَ ﴿٣٤﴾
﴿٣٧ الصفت ٣٤﴾

ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں (34:37)

For when it was said to them, There is no god save Allah, they were scornful (37:35)

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾
﴿٣٧ الصفت ٣٥﴾

ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے (35:37)

Now you taste the painful doom (37:38)

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾
﴿٣٧ الصفت ٣٨﴾

بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو (38:37)

You are requited nothing except what you did (37:39)

وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٧ الصفت ٣٩﴾

اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے (39:37)

Have single-minded slaves of Allah. (37:160)

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٠﴾
﴿٣٧ الصفت ١٦٠﴾

مگر اللہ کے مخلص بندے (بتلائے عذاب نہیں ہوں گے) (160:37)

You and that which you worship, (37:161)

فَأَنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾
﴿٣٧ الصفت ١٦١﴾

سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو (161:37)

You cannot excite (anyone) against him. (37:162)

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ ﴿١٦٢﴾
﴿٣٧ الصفت ١٦٢﴾

اللہ کے خلاف بھٹکانا نہیں سکتے (162:37)

Have him who is to burn in Hell. (37:163)

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾
﴿٣٧ الصفت ١٦٣﴾

مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے (163:37)

When worship what you will besides him. Say: The losers will be those who lose themselves and their house-folk on the Day of resurrection. Ah, that will be the manifest loss! (39:15)

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾
﴿٣٩ الزمر ١٥﴾

تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو۔ کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو یہی صریح نقصان ہے (15:39)

And who does greater wrong than he who tells a lie against Allah, and denies the truth when it reaches him? Will not the home of disbelievers be in Hell? (39:32)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾
﴿٣٩ الزمر ٣٢﴾

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانا نہیں ہے؟ (32:39)

Or have they partners (of Allah) who have made lawful for them in religion that which Allah allowed not? And but for a decisive word (gone forth already), it would have been judged between them. For wrongdoers is a painful doom. (42:21)

So let them flounder (in their talk) and play until they meet the Day, which they are promised. (43:83)

Beyond them there is Hell, and that which they have earned will nothing avail them, nor those whom they have chosen for protecting friends besides Allah. Theirs will be an awful doom. (45:10)

(And it will be said): Do you twain hurl to hell each rebel ingrate, (50:24)

Hinderer of good transgressor, doubter, (50:25)

Someone who has set up some other deity (god) alongside Allah! Toss him into severe torment. (50:26)

And who does greater wrong than he who invents a lie against Allah when he is summoned to Al-Islam. And Allah guides not wrongdoing folk. (61:7)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِّى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾
﴿٤٢ الشورى ٢١﴾

فَذَرْهُمْ يُخَوْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ٨٣﴾

مِنْ دُونِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ تَأْكُسُوبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾
﴿٤٥ الجاثية ١٠﴾

الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَقَارِعِينٍ ﴿٢٤﴾
﴿٥٠ ق ٢٤﴾

مَنَاءٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾
﴿٥٠ ق ٢٥﴾

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ أَقْبِيهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾
﴿٥٠ ق ٢٦﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾
﴿٦١ الصف ٧﴾

کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسے احکام دین مقرر کر رکھے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اور اگر فیصلے (کے دن) کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور جو ظالم ہیں ان کے لئے درد دینے والا عذاب ہے (21:42)

تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو۔ یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں (83:43)

ان کے سامنے دوزخ ہے۔ اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے۔ اور نہ وہی (کام آئیں گے) جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا تھا۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے (10:45)

(حکم ہوگا کہ) ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو (24:50)

جو مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھنے والا شے نکالنے والا تھا (25:50)

جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو (26:50)

اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (7:61)

• ULTIMATE FATE OF THE
DISBELIEVERS OF REVEALED SCRIPTURES

الکافرون بالکتاب المنزلة
ووصیرہم یوم الحساب

بکفرین کتاب ہمارے اور ایمان حساب
(آسان محسوس کے ساتھ وہ ان کا انجام)

But they who disbelieve, and deny Our revelations, such are rightful owners of the Fire. They will abide therein. (2:39)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٢ البقرة ٣٩﴾

اور جنہوں نے (اس کو) قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں (اور) وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے (39:2)

Evil is that for which they sell their souls: That they should disbelieve in that which Allah has revealed, grudging that Allah should reveal of His bounty to whom He wills of His bondmen. They have incurred anger upon anger. For disbelievers is a shameful doom. (2:90)

بِشْمَا اشْتَرَوْنَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾
﴿٢ البقرة ٩٠﴾

جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے یعنی اس بات سے جل کر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ (اس کے) غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے (90:2)

Is it ever so that when they make a covenant, a party of them set it aside? The truth is, that most of them believe not. (2:100)

أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَاهِدًا ابْتَدَأَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾
﴿٢ البقرة ١٠٠﴾

ان لوگوں نے جب جب (اللہ سے) عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو (کسی چیز کی طرح) پھینک دیا حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں (100:2)

And of them were (some) who believed therein and of them were (some) who disbelieved therein. Hell is sufficient for (their) burning. (4:55)

فِيَنَّهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكُفِيَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾
﴿٤ النساء ٥٥﴾

پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے روکا (اور ہٹا) رہا تو ان نہ ماننے والوں (کے جلانے) کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے (55:4)

And they who disbelieve and deny Our revelations, such are rightful owners of Hell. (5:10)(5:86)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾
﴿٥ المائدة ٨٦﴾

اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں (10:5) (86:5)

Who does greater wrong than he who invents a lie against Allah and denies His revelations? The wrong doers will not be successful. (6:21)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُقَدِّرُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾
﴿٦ الانعام ٢١﴾

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے (21:6)

Those who deny Our revelations are deaf and dumb in darkness. Whom Allah wills, He sends astray, and whom He wills, He places on a straight path. (6:39)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوْا وَبُكِمُوْا فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلِّهُ وَمَن يَشَاءُ يُصِّرْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾
﴿٦ الانعام ٣٩﴾

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں (اس کے علاوہ) اندھیرے میں (پڑے ہوئے) اور جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے (39:6)

But as for those who reject Our revelations, torment will afflict them for that they ceased not transgressing. (6:49)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُسْأَلُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٦ الانعام ٤٩﴾

اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا (49:6)

But they who deny Our revelations and scorn them such are rightful owners of the Fire; they will abide therein. (7:36)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٧ الاعراف ٣٦﴾

اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں (جلتے) رہیں گے (36:7)

For them there is hell, as a couch below) and folds and folds of covering above: such is Our requital of those who do wrong (7:41)

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ يُجْزَى الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾
﴿٧ الاعراف ٤١﴾

ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر (اسی کا) اوڑھنا ہوگا اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ (41:7)

I shall turn away from My revelations those who magnify themselves wrongfully in the earth, and if they see each token believe it not, and if they see the way of righteousness choose it not for (their) way, and if they see the way of error choose it for (their) way. That is because they deny Our revelations and are used to disregard them. (7:146)

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُنُوزًا أُتِرَةً لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الرَّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الضَّلَالَةِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾

﴿٧ الاعراف ١٤٦﴾

Those who deny Our revelations and the meeting of the Hereafter, their works are fruitless. Are they required nothing except what they used to do? (7:147)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ الْإِمَّاكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهَا ﴿١٤٧﴾

﴿٧ الاعراف ١٤٧﴾

And whenever a surah is revealed there are some of them who say: Which one of you has thus increased in faith? As for those who believe, it has increased them in faith and they rejoice (therefore). (9:124)

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

﴿٩ التوبة ١٢٤﴾

But as for those in whose hearts is disease, it only adds wickedness to their wickedness, and they die while they are disbelievers. (9:125)

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

﴿٩ التوبة ١٢٥﴾

And whenever a surah is revealed, they look at another (as who should say): Does anybody see you? Then they turn away. Allah turns away their hearts because they are a folk who understand not. (9:127)

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً تَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

﴿٩ التوبة ١٢٧﴾

Is he (to be counted equal with them) who relies on a Clear Proof from his Lord, and a witness from Him recites it, and before it was the Book of Moses, an example and a mercy? Such believe therein, and whoso disbelieves therein of the clans, the Fire is his appointed place. So be not you in doubt concerning it. It is the Truth from your Lord; but most of mankind believe not. (11:17)

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

﴿١١ هود ١٧﴾

Such will not escape in the earth, nor have they any protectin friend besides Allah. For them the torment will be double. They could not bear to hear, and they used not to see. (11:20)

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعِينٌ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ لَمَّا كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَبْصُرُونَ ﴿٢٠﴾

﴿١١ هود ٢٠﴾

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے (اپنا) راستہ نہ بنائیں۔ اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنالیں۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے (7:146)

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا (7:147)

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق (مذاق کرتے اور) پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا۔ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان اور بڑھ گیا اور وہ خوش ہوتے ہیں (9:124)

اور جن کے دلوں میں مرض ہے اس سورت نے ان میں ان کی نجاست کے ساتھ اور نجاست بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں مر گئے (9:125)

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں (اور پوچھتے ہیں کہ) بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے (9:127)

بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل (روشن) رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک (آسمانی) گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے (تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟) یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانا آگ ہے تو تم اس (قرآن) سے شک میں نہ ہونا۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (11:17)

یہ لوگ زمین میں (کہیں بھاگ کر اللہ کو) ہر نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ (اے پیغمبر) ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں کہ یہ (شدت کفر سے آپ کی بات) نہیں سن سکتے تھے اور نہ (آپ کو) دیکھ سکتے تھے (20:11)

Such are they who have lost their souls, and that which they used to invent has failed them. (11:21)

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾
﴿١١ هود ٢١﴾

یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے جاتا رہا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا (21:11)

Assuredly in the Hereafter they will be the greatest losers. (11:22)

لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ﴿٢٢﴾
﴿١١ هود ٢٢﴾

بلاشبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں (22:11)

Such as We send down for those who make division, (15:90)

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾
﴿١٥ الحجر ٩٠﴾

(اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے) جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا (90:15)

Those who break the Quran into parts: (15:91)

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾
﴿١٥ الحجر ٩١﴾

یعنی قرآن کو (کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے) ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا (91:15)

Surely those who disbelieve the revelations of Allah, Allah guides them not and theirs will be a painful doom. (16:104)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾
﴿١٦ النحل ١٠٤﴾

یہ لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے (104:16)

Whoever turns away from it, he will bear a burden on the Day of Resurrection, (20:100)

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾
﴿٢٠ طه ١٠٠﴾

جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن (گناہ کا) بوجھ اٹھائے گا (100:20)

Abiding under it an evil burden for them on the Day of Resurrection. (20:101)

خَالِدِينَ فِيهَا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾
﴿٢٠ طه ١٠١﴾

(ایسے لوگ) ہمیشہ اس (عذاب) میں (بتلا) رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لئے برا ہوگا (101:20)

Thus We do reward him who is prodigal and believes not the revelations of his Lord; and the doom of the Hereafter will be sterner and more lasting. (20:127)

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾
﴿٢٠ طه ١٢٧﴾

اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے (127:20)

Never comes there to them a new reminder from their Lord but they listen to it while they play, (21:2)

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾
﴿٢١ الأنبياء ٢﴾

ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں (2:21)

While those who strive to thwart our revelations, such are rightful owners of the Fire. (22:51)

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾
﴿٢٢ الحج ٥١﴾

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کے لئے کوشش کی وہ اہل دوزخ ہیں (51:22)

While those who disbelieved and denied Our revelations, for them will be a shameful doom. (22:57)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾
﴿٢٢ الحج ٥٧﴾

اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا (57:22)

And We have repeated it among them that they may remember, but most of mankind begrudge nothing (refuse to do) but ingratitude. (disbelieve in it) (25:50)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾
﴿٢٥ الفرقان ٥٠﴾

اور ہم نے اس (قرآن کی آیتوں) کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں مگر بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا قبول نہ کیا (50:25)

Thus We do make it traverse in the hearts of the guilty. (26:200)

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٠٠﴾

اسی طرح ہم نے انکار کو گنہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا (200:26)

They will not believe in it till they behold the painful doom, (26:201)

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٠١﴾

وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے (201:26)

But as for those who disbelieved and denied Our revelations, and denied the meeting of the Hereafter, such will be brought to doom. (30:16)

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفَعَلُوا الْآخِرَةَ قَالُوا لَيْكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ ﴿١٦﴾
﴿٣٠ الروم ١٦﴾

اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا۔ وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے (16:30)

And when Our revelations are recited to him, he turns away in his pride as if he heard them not, as if there were a deafness in his ears. So give him tidings of a painful doom. (31:7)

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَوَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بِعَذَابِ الْيَوْمِ ﴿٧﴾
﴿٣١ لقمان ٧﴾

اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکر کر منہ پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنا ہی نہیں جیسے ان کے کان بہرے ہیں تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنادو (7:31)

And who does greater wrong than he who is reminded of the revelations of his Lord, then turns from them. We shall requite the guilty. (32:22)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾
﴿٣٢ السجدة ٢٢﴾

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے ہم گنہگاروں سے بدلہ ضرور لینے والے ہیں (22:32)

But those who strive against Our revelations, and challenge (Us). Theirs will be a painful doom of wrath. (34:5)

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ الْيَوْمِ ﴿٥﴾
﴿٣٤ سبأ ٥﴾

اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں ان کے لئے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے (5:34)

And as for those who strive against Our revelations, challenging, they will be brought to the doom. (34:38)

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ ﴿٣٨﴾
﴿٣٤ سبأ ٣٨﴾

جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے (38:34)

His are the keys of the heavens and the earth, and they who disbelieve the revelations of Allah such are they who are the losers. (39:63)

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾
﴿٣٩ الزمر ٦٣﴾

اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں (63:39)

Thus are they perverted who deny the revelations (signs) of Allah. (40:63)

كَذٰلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
﴿٤٠ المؤمن ٦٣﴾

اسی طرح وہ لوگ بھٹکتے رہے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے (63:40)

That is the reward of Allah's enemies: The Fire. Therein is their immortal home; payment for as much as they denied Our revelations. (41:28)

ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخٰلِدِۙ جَزَاءُۙ لِّمَا كَانُوْا بِآيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾
﴿٤١ حم السجدة ٢٨﴾

یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے (یعنی) دوزخ۔ ان کے لئے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے (28:41)

Surely those who distort Our revelations are not hidden from Us. Is he who is hurled into the Fire better, or he who comes secure on the Day of Resurrection? Do what you will. He is Seer of what you do. (41:40)

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ①

جو لوگ ہماری آیتوں کے لئے معنی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ (تو خیر) جو چاہو سو کر لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے (40:41)

﴿٤١ حم سجدة ٤٠﴾

And We gave Moses the Scripture, but there has been dispute concerning it; and but for a Word that had already gone forth from your Lord, it would (before now) have been judged between them; but they are in hopeless doubt concerning it. (41:45)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ②

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ مقرر ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ اس (قرآن) سے شک میں الجھ رہے ہیں (45:41)

﴿٤١ حم السجدة ٤٥﴾

Shall We utterly ignore you because you are a wanton folk? (43:5)

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ③

بھلا اس لئے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم سے یہ نصیحت ہٹالیں گے (5:43)

﴿٤٣ الزخرف ٥﴾

These are the portents of Allah, which We recite to you (Muhammad) with truth. Then in what fact, after Allah and His portents, will they believe? (45:6)

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزَلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَيَأْتِي حَدِيثًا بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ④

یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے (6:45)

﴿٤٥ الجاثية ٦﴾

Voe to each sinful liar! (45:7)

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ⑤

ہر جھوٹے گنہگار پر افسوس ہے (7:45)

﴿٤٥ الجاثية ٧﴾

Who hears Allah's signs recited to him, then proudly persists as if he had never heard them. Then announce some painful torment to him! (45:8)

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنزَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑥

(کہ) اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے (مگر) پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سننا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو (8:45)

﴿٤٥ الجاثية ٨﴾

And those who disbelieve, perdition for them, and He will make their actions vain. (47:8)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ⑦

اور جو کافر ہیں ان کے لئے ہلاکت ہے۔ اور وہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا (8:47)

﴿٤٧ محمد ٨﴾

That is because they have hated a thing which Allah has sent down, and so their actions have miscarried. (47:9)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ⑧

یہ اس لئے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے (9:47)

﴿٤٧ محمد ٩﴾

Will they then not meditate on the Qur'an, or are there locks on the hearts? (47:24)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ⑨

بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا (ان کے) دلوں پر تالے لگ چکے ہیں (24:47)

﴿٤٧ محمد ٢٤﴾

And those who disbelieve and deny Our revelations, such are owners of the Fire; they will abide therein and a hopeless journey's end! (64:10)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑩

اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے (10:64)

﴿٦٤ التغابن ١٠﴾

That, when Our revelations are recited to him, he says: Mere fables of the men of old! (68:15)

إِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾
﴿٦٨ القلم ١٥﴾

جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں (15:68)

We shall brand him on the nose. (68:16)

سَنَسِمْهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾
﴿٦٨ القلم ١٦﴾

ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے (16:68)

For he did consider; then he planned (74:18)

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾
﴿٧٤ المدثر ١٨﴾

اس نے فکر کیا اور تجویز کی (18:74)

(Self) destroyed is he, how he planned! (74:19)

فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾
﴿٧٤ المدثر ١٩﴾

یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی (19:74)

Again (self) destroyed is he, how he planned! (74:20)

ثُمَّ قَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾
﴿٧٤ المدثر ٢٠﴾

پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی (20:74)

Then looked he, (74:21)

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾

اس نے پھر دیکھا (21:74)

Then frowned he and showed displeasure. (74:22)

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾
﴿٧٤ المدثر ٢٢﴾

پھر پیشانی سیٹھری اور منہ بگاڑ لیا (22:74)

Then turned he away in pride (74:23)

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾
﴿٧٤ المدثر ٢٣﴾

پھر پشت پھیر کر چلا اور (قبول حق سے) غرور کیا (23:74)

And said: This is nothing else than magic from of old; (74:24)

فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَرٌ ﴿٢٤﴾
﴿٧٤ المدثر ٢٤﴾

پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے (24:74)

This is nothing else than speech of a mortal man. (74:25)

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾
﴿٧٤ المدثر ٢٥﴾

(پھر بولا) یہ (اللہ کا کلام نہیں بلکہ) بشر کا کلام ہے (25:74)

Soon We shall cast him into Hell-fire. (74:26)

سَأَصْلِيهٖ سَقْرًا ﴿٢٦﴾
﴿٧٤ المدثر ٢٦﴾

ہم عنقریب اس کو ستر (دوزخ) میں داخل کریں گے (26:74)

Ah, what will convey to you what that burning is! (74:27)

وَمَا أَدْرِيكَ مَا سَقْرٌ ﴿٢٧﴾
﴿٧٤ المدثر ٢٧﴾

اور تم کیا سمجھے کہ ستر کیا ہے؟ (27:74)

More Reference : 7:41 78:27 Page 850, 824

وللمزيد راجع ٧ الأعراف: ٤١ ٧٨ النبأ: ٢٧

مزید حوالہ 7:41 78:27 صفحہ 824,850

**SIMILITUDE
OF THE UNBELIEVERS OF HOLY QURAN**

**مثل الكافرين الذين يكذبون
القرآن الكريم**

منکرین قرآن کریم کی مثال

Say (O Muhammad, to the disbelievers): I say not to you (that) I possess the treasures of Allah, nor that I have knowledge of the Unseen; and I say not to you: I am an angel. I follow only that which is inspired in me. Say: Are the blind men and the seer equal? Will you not then take thought? (6:50)

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّمَا أَنبِئُكُمْ
بِأُيُوتِي إِلَىٰ قَلْبِي هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾
﴿٦ الانعام ٥٠﴾

کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ (یہ کہ) میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے (اللہ کی طرف سے) آتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور (کیوں) نہیں کرتے؟ (50:6)

Is he who knows that what is revealed to you from your Lord is the truth like him who is blind? But only men of understanding heed; (13:19)

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ
كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾
﴿١٣ الرعد ١٩﴾

بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقلمند ہیں (19:13)

More Reference : 3:44 7:101 11:49,100,120 12:102 20:99 Page 1091,904,905,977

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ٤٤ ٧ الأعراف: ١١ ١١ هود: ٤٩ ١٢ يوسف: ١٠٢ ٢٠ طه: ٩٩

مزید حوالہ 3:44 7:101 11:49,100,120 12:102 20:99 صفحہ 977,905,904,1091

ULTIMATE FATE OF DISBELIEVERS

تفسیر الیکثار و سورہ الحساب

کنار کا انجام (کنار اور روز حساب)

As for those who disbelieve I shall chastise them with a heavy chastisement in the world and the Hereafter; and they will have no helpers. (3:56)

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ
مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت (دونوں) میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا (56:3)

﴿ ۳ آل عمران ۵۶ ﴾

Those who disbelieve and deal in wrong, Allah will never forgive them, neither will He guide them to a road, (4:168)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ
لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں راستہ ہی دکھائے گا (168:4)

﴿ ۴ النساء ۱۶۸ ﴾

Except the road of Hell, wherein they will abide forever. And that is ever easy for Allah. (4:169)

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

ہاں دوزخ کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ (جلتے) رہیں گے اور یہ (بات) اللہ کو آسان ہے (169:4)

﴿ ۴ النساء ۱۶۹ ﴾

Allah, to Whom belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. And woe to the disbelievers from an awful doom; (14:2)

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿١٤﴾

وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لئے عذاب سخت (کی وجہ) سے خرابی ہے (2:14)

﴿ ۱۴ ابراہیم ۲ ﴾

There is not a township but We shall destroy it before the Day of Resurrection, or punish it with dire punishment. That is set forth in the book (of Our decrees). (17:58)

وَإِنْ مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّ
ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

اور (کفر کرنے والوں کا) کوئی گاؤں نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے سزا دیں گے۔ یہ کتاب (یعنی تقدیر) میں لکھا جا چکا ہے (58:17)

﴿ ۱۷ بنی اسرائیل ۵۸ ﴾

That He may ask the loyal of their loyalty. And He has prepared a painful doom for the unfaithful. (33:8)

لِيَسْأَلَ الصَّٰدِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٣﴾

تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لئے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے (8:33)

﴿ ۳۳ الاحزاب ۸ ﴾

Thus Allah made them taste humiliation in the life of the world, and the doom of the Hereafter will be greater if they did but know. (9:26)

فَإِذْ أَقْبَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزا چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ سمجھ رکھتے (26:39)

﴿ ۳۹ الزمر ۲۶ ﴾

and We assigned them comrades (in the world), who made their present and their past fair seeming to them. and the Word concerning nations of the jinn and humankind who passed away before them has effect for them. Indeed they are the losers. (25:25)

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ خٰبِئِينَ
أَيْدِيهِمْ وَخَلَقْنَاهُمْ وَحَقَّقْنَا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ
فِي أَمْسٍ قَدِ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ
وَالِإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خٰسِرِينَ ﴿٢٥﴾

اور ہم نے (شیطانوں کو) ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ (کے عذاب کا) وعدہ پورا ہو گیا۔ بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں (25:41)

﴿ ۴۱ خم السجدة ۲۵ ﴾

and We have destroyed your towns; but is there any that remembers? (54:51)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ تَدَكِّرٍ ﴿٥١﴾

اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے (51:54)

﴿ ۵۴ القمر ۵۱ ﴾

A skeptic was asking concerning the doom about to fall. (70:1)

Upon the disbelievers, which none can repel, (70:2)

THE DISBELIEVERS ARE THE WORST OF THE LIVING CREATURES IN THE SIGHT OF ALLAH(SWT)

The worst of beasts in Allah's sight are those who disbelieve and do not even want to believe. (8:55)

Those who disbelieve, among the people of the Scripture and the idolaters, will abide in fire of Hell. They are the worst of created beings. (98:6)

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾
﴿٧٠ المعارج ١﴾

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾
﴿٧٠ المعارج ٢﴾

الكفار هم شر البرية عند الله

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾
﴿٨ الانفال ٥٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾
﴿٩٨ البينة ٦﴾

ایک سوال کرنے والے منکر قیامت نے عذاب کا سوال کیا جو نازل ہو کر رہے گا۔ (1:70)

(یعنی) کافروں پر (اور) کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا (2:70)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق میں سے بدترین، کافر لوگ ہیں

جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں (ایمان بھی نہ لانا چاہیں) (55:8)

جو لوگ کافر ہیں (یعنی) اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں (پڑیں گے اور) ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ سب مخلوق سے بدتر ہیں (6:98)

More Reference : 7:179 Page 344

THE DEEDS OF DISBELIEVERS ARE MIRAGE

The likeness of those who disbelieve (in relation to the messenger) is as the likeness of one who calls to that which hears nothing except a shout and cry. Deaf, dumb, blind, therefore they have no sense. (2:171)

A similitude of those who disbelieve in their Lord: Their works are as ashes, which the wind blows hard upon a stormy day. They have no control of anything that they have earned. That is the extreme failure. (14:18)

As for those who disbelieve, their deeds are as a mirage in a desert. The thirsty one supposes it to be water till he comes to it and finds it nothing, and finds, in the place thereof, Allah, Who pays him his due; and Allah is Swift at reckoning. (24:39)

Or as darkness on a vast, abysmal sea. There covers him a wave, above which is a wave, above which is a layer. Layer upon layer of darkness. When he holds out his hand he scarce can see it. And he for whom see it. And he for whom Allah has not appointed light, for him there is no light. (24:40)

والصبر ذراع ٧ الاعراف: ١٧٩: الصفحة ٣٤٤

أعمال الكفار كسراب، إنها بدون جدوى

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّوا بِكُمْ صَمًّا فَهُمْ لَا يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧١﴾
﴿٢ البقرة ١٧١﴾

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى كَسْبِ أَعْلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلُّ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾
﴿١٤ ابراهيم ١٨﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَتَّبِعُهُ الطَّمْثَانُ مَاءٌ حَلِيٌّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّهٖ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾
﴿٢٤ النور ٣٩﴾

أَوْ كظلمتٍ في بحرٍ ليجي يغشاه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه سحابٌ ظلمت بعضُها فوق بعضٍ إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نورٍ ﴿٤٠﴾
﴿٢٤ النور ٤٠﴾

مزید حوالہ 179:7 صفحہ 344

کفار کے اعمال کی مثال (ایک سراب محض دھوکہ)

جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے (بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ) کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے (171:2)

جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے (اور) اسے اڑالے جائے۔ (اسی طرح) جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے (18:14)

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال (کی مثال ایسی ہے) جیسے میدان میں ریت کا پیا سا سے پانی سمجھے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچے تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے (39:24)

یا (ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے) جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو (اور) اس کے اوپر اور لہر (آ رہی ہو اور) اس کے اوپر بادل ہو غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ ایک پر ایک (چھایا ہوا) جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے۔ اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو (کہیں بھی) روشنی نہیں (مل سکتی) (40:24)

And We shall turn to the work they did and make it scattered notes. (25:23)

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَاعِبِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ مِبَاءً مَّنْتُورًا ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ٢٣﴾

اور جو انہوں نے عمل کئے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے (23:25)

A COVERING HANGS OVER THE EYES WRAPPERS PLACED OVER THE HEARTS AND IS DULLNESS IN THE EARS OF THE DISBELIEVERS

الکفار علی ابصارهم غشاوة و علی قلوبهم اكنة و فی آذانهم وقر

کفار کی آنکھوں پر پردہ ہے دل سخت ہیں اور کانوں میں گرائی ہے

As for the disbelievers, either you warn them or you warn them not it is all one for them; they believe not. (2:6)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾
﴿٢ البقرة ٦﴾

جو لوگ کافر ہیں انہیں آپ نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لئے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے (6:2)

Allah has sealed their hearing and their hearts, and on their eyes there is a covering. Theirs will be an awful doom. (2:7)

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾
﴿٢ البقرة ٧﴾

اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ (پڑا ہوا) ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب (تیار) ہے (7:2)

And of mankind there is he whose conversation on the life of this world pleases you (Muhammad), and he calls Allah to witness as to that which is in his heart; yet he is the most rigid of opponents. (2:204)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحِبُّكَ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾
﴿٢ البقرة ٢٠٤﴾

بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے۔ حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے (204:2)

And if you (Muhammad) call them to the Guidance they hear not; and you (Muhammad) see them looking towards you, but they see not. (7:198)

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يُنظِرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾
﴿٧ الاعراف ١٩٨﴾

اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو سن نہ سکیں۔ اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ (بظاہر) آنکھیں کھولے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر (فی الواقع) کچھ نہیں دیکھتے (198:7)

And of them are some who listen to you. But you cannot make the deaf hear even though they apprehend it? (10:42)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾
﴿١٠ يونس ٤٢﴾

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ کچھ بھی (سننے) سمجھتے نہ ہوں (42:10)

And of them are some who look towards you. But you cannot guide the blind even though they see not? (10:43)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾
﴿١٠ يونس ٤٣﴾

اور بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں اگرچہ ان کو کچھ بھی بصیرت نہ ہو (43:10)

And when you recite the Qu'ran We see the face between you and those who believe not in the Hereafter a hidden barrier; (17:45)

وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٤٥﴾

اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب ڈال دیتے ہیں (45:17)

And We place upon their hearts the lest they should understand it, and in their ears a deafness; and when you make mention of your Lord alone in the Qur'an, they turn their backs in aversion. (17:46)

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتُ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٤٦﴾

اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو وہ بدک جاتے اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں (46:17)

We send not the messengers save as bearers of good news and warners. Those who disbelieve contend with falsehood in order to refute the Truth thereby. And they take Our revelations and that wherewith they are threatened as a jest. (18:56)

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا
بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِنَا وَمَا نُنذِرُهُمْ
﴿١٨ الكهف ٥٦﴾

اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ (لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی) خوشخبریاں سنائیں اور (عذاب سے) ڈرائیں۔ اور جو کافر ہیں وہ باطل کے سہارے جھگڑا کرتے ہیں۔ تاکہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا (56:18)

And who does greater wrong than he who has been reminded of the revelations of his Lord, yet turns away from them and forgets what his hands send forward (to the judgement)? On their hearts We have placed coverings so that they understand not, and in their ears a deafness. And though you call them to the guidance, in that case they can never be led aright. (18:57)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ
عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى
قُلُوبِهِمُ الْكِتَابَةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أذَانِهِمْ وَقْرًا
وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا
﴿١٨ الكهف ٥٧﴾

اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے کہ اسے سمجھ نہ سکیں۔ اور کانوں میں بوجھ (بہرہ پن) کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور تم ان کو راستے کی طرف بلاؤ تو بھی راستے پر نہ آئیں گے (57:18)

Say (O Muhammad, to mankind): I warn you only by the Inspiration. But the deaf hear not the call when they are warned. (21:45)

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّوْتِ الَّذِي
إِذَا مَا يُنذَرُونَ
﴿٢١ الأنبياء ٤٥﴾

کہہ دیجئے کہ میں تم کو حکم اللہ کے مطابق نصیحت کرتا ہوں اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں (45:21)

And if a breath of your Lord's punishment were to touch them, they assuredly would say: Alas for us! Indeed we were wrongdoers. (21:46)

وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ
يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
﴿٢١ الأنبياء ٤٦﴾

اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کم بختی ہم بے شک گناہ گار تھے (46:21)

And they say: Our hearts are protected from that to which you (O Muhammad) call us, and in our ears there is a deafness, and between us and you there is a veil. Act, then. We also shall be acting. (41:5)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي الْكِتَابَةِ مِتْمَاتٌ نَدْعُونَكَ إِلَيْهِ
وَفِي أذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ
فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ
﴿٤١ خم سجدہ ٥﴾

اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا تے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ (یعنی بہرہ پن) ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے تو تم (اپنا) کام کرو ہم (اپنا) کام کرتے ہیں (5:41)

**MISCONCEPTION OF DISBELIEVERS
REMAINING UNPUNISHED FOR THEIR SINS**

Shall We then treat those who have surrendered as We treat the guilty? (68:35)

What ails you? How foolishly you judge! (68:36)

Or have you a Scripture wherein you learn (68:37)

That you shall indeed have all that you choose? (68:38)

Or have you a covenant on oath from Us that reaches to the Day of judgement, that yours shall be all that you ordain? (68:39)

نظریۃ الکفار الزانفة بنجاتہم من عذاب
الآخرة علی سوء اعمالہم

أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
﴿٦٨ القلم ٣٥﴾

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
﴿٦٨ القلم ٣٦﴾

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
﴿٦٨ القلم ٣٧﴾

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
﴿٦٨ القلم ٣٨﴾

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ
﴿٦٨ القلم ٣٩﴾

قریش مکہ (کفار) کی قیامت کے روز اپنی بد اعمالیوں کے باوجود عذاب سے بچ نکلنے کی غلط فہمی

کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کی طرح (نعمتوں سے محروم) کر دیں گے (35:68)

تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ (36:68)

کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں (یہ) پڑھتے ہو (37:68)

کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں گی (38:68)

یا (کیا) تم نے ہم سے کچھ قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک باقی رہیں کہ تمہارے لئے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو (39:68)

THE PARADISE "AL-JANNAH" (THE GARDENS OF BLISS)

الفردوس

بہشت

A REWARD OF THE MERITORIOUS ONES

And give glad tidings (O Muhammad) to those who believe and do good works; that theirs are Gardens underneath which rivers flow; as often as they are regaled with food of the fruit thereof, they say: This is what was given us aforetime; and it is given to them in resemblance. There for them are pure companions; there forever they will abide. (2:25)

And you will be paid on the Day of Resurrection only that which you have fairly earned. Whoso is removed from the fire and is made to enter Paradise, he indeed is triumphant. The life of this world is but comfort of illusion. (3:185) PART

And as for those who believe and do good works, We shall make them enter Gardens underneath which rivers flow to dwell therein forever; there for them are pure companions and We shall make them enter a genteous shade. (4:57)

How should we not believe in Allah and that which has come to us of the truth. And (how should we not) hope that our Lord will bring us in along with righteous folk? (5:84)

Allah has rewarded them for that their saying--Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide forever. That is the reward of the good. (5:85)

And the first to lead the way, of the Muhajirin and the Ansar, and those who followed them in goodness--Allah is well pleased with them and they are well pleased with Him and Allah has made ready for them Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide forever. That is the Supreme Triumph. (9:100)

الجنة - جزاء أعمال المؤمنين

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْزَابٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

﴿٢٥ البقرة ٢٥﴾

وَأَنْتُمْ تَوْفُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمْتَعَةٌ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

﴿٣ آل عمران ١٨٥﴾ جزء

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَنْزَابٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلٌّ كَثِيرٌ ﴿٥٧﴾

﴿٤ النساء ٥٧﴾

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾

﴿٥ المائدة ٨٤﴾

فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

﴿٥ المائدة ٨٥﴾

وَالشُّقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

﴿٩ التوبة ١٠٠﴾

مؤمنین کے اعمال کا اجر

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے (نعمت کے) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیئے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے (25:2)

اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے (3:185) جزو

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے۔ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہیں۔ اور ان کو ہم کھنی چھاؤں میں داخل کریں گے (4:57)

اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ (بہشت میں) داخل کرے گا (5:84)

تو اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض (بہشت کے) باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی صلہ ہے (5:85)

جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے) پہلے (ایمان لائے) مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لئے باغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور) وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے (100:9)

Those who believe and do right: Joy is for them, and bliss(their) journey's end. (13:29)

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ
وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾
﴿١٣ الرعد ٢٩﴾

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کے لئے خوش حالی اور عمدہ ٹھکانا ہے (29:13)

But whoever comes to Him a believer, having done good works, for such are the high stations; (20:75)

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾
﴿٢٠ طه ٧٥﴾

اور جو اس کے روبرو ایمان دار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کئے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لئے اونچے اونچے درجے ہیں (75:20)

Gardens of Eden underneath which rivers flow, wherein they will abide forever. That is the reward of him who purifies himself (from evil). (20:76)

جَنَّاتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٧٦﴾
﴿٢٠ طه ٧٦﴾

(یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا (76:20)

Allah causes those who believe and do good works to enter the Gardens underneath which rivers flow. No doubt Allah does what He intends. (22:14)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾
﴿٢٢ الحج ١٤﴾

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (14:22)

Blessed is He Who, if He pleases, will assign you better than all that Gardens underneath which rivers flow and will assign you mansions. (25:10)

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِمَّا
ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ
لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾
﴿٢٥ الفرقان ١٠﴾

وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لئے اس سے بہتر (چیزیں) بنا دے (یعنی) باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیز تمہارے لئے محل بنا دے (10:25)

That He may reward out of His bounty to those who believe and do good works. He loves not the disbelievers (30:45)

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾
﴿٣٠ الروم ٤٥﴾

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اپنے فضل سے بدلہ دے گا بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا (45:30)

No soul knows what comfort is kept hidden from their eyes as a reward for what (good deeds) they had been doing. (32:17)

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَدَرٍ مِمَّا
جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾
﴿٣٢ السجدة ١٧﴾

کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ ان کے لئے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے (17:32)

Those will become inhabitant of the garden, remaining there forever as a reward for what they used to do. (46:14)

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ جَزَاءُ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾
﴿٤٦ الاحقاف ١٤﴾

یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (یہ) اس کا بدلہ (ہے) جو وہ کیا کرتے تھے (14:46)

They used to sleep but little of the night, (51:17)

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾
﴿٥١ الذریت ١٧﴾

رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے (17:51)

And in the hours of early dawn, they (were found) praying for forgiveness (51:18)

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾
﴿٥١ الذریت ١٨﴾

اور وقت سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے (18:51)

And in their wealth there is due share for the beggar and the deprived. (51:19)

And in the earth are portents for those whose faith is sure, (51:20)

And (even within) in your own selves. Will you not then notice them? (51:21)

Not equal are the owners of the Fire and the owners of the Garden. The owners of the Garden, they are the victorious. (59:20)

No doubt, the righteous will be in delight. (82:13)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾
الذريت ١٩

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٥١﴾
الذريت ٢٠

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾
الذريت ٢١

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٩﴾
الحشر ٢٠

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٨٢﴾
الانفطار ١٣

اور ان کے مال میں مانگنے والے اور سوال نہ کرنے والے (دونوں) کا حق ہوتا ہے (19:51)

اور یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں (بہت سی) نشانیاں ہیں (20:51)

اور خود تمہاری ذات میں بھی۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ (21:51)

اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں۔ اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں (20:59)

بے شک نیک لوگ نعمتوں (کی بہشت) میں ہوں گے (13:82)

More Reference :	3:198	4:124	5:119
Page	306	546	868
72	18:31	22:23	29:58
80	879	879	880
88:17	57:12	64:9	77:41
95	863	820	881

والمعزید راجع	٣ آل عمران ١٩٨	٤ النساء ١٢٤
٥ المائدة ١١٩	٩ التوبة ٧٢	١٨ الكهف ٣١
٢٢ الحج ٢٣	٢٩ العنكبوت ٥٨	٣٩ الزمر ٢٠
٤٨ الفتح ١٧	٥٧ الحديد ١٢	٦٤ التغابن ٩
٧٧ المرسلات ٤١	٩٨ البينة ٨	

٩٨ البينة ٨	١١٩: 5	١٢٤: 4	١٩٨: 3
٨٨٠	٨٦٨	٥٤٦	٣٠٦
١٧: 48	٢٠: 39	٥٨: 29	٢٣: 22
٦٤٥	٣٠٧	٨٨٠	٨٧٩
٨: 98	41: 77	9: 64	12: 57
٣٠٧	٨٨١	٨٢٠	٨٦٣

INHERITORS OF GARDENS OF PARADISE

And those who believe and do good works, such are rightful owners of the Garden. They will abide therein forever. (2:82)

Such is the Garden, which We cause the devout among Our bondmen to inherit. (19:63)

They will say: Praise be to Allah, Who has fulfilled His promise to us and has made us inherit the land, journeying in the Garden where we will! So bounteous is the wage of workers. (39:74)

This is the Garden, which you are made to inherit because of what you used to do. (43:72)

ورثة الجنة الفردوس

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾
البقرة ٨٢

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾
مریم ٦٣

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾
الزمر ٧٤

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾
الزخرف ٧٢

جنت الفردوس کے وارث

اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے (اور) ہمیشہ اس میں (عیش کرتے) رہیں گے (82:2)

یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا (63:19)

وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں تو (اچھے) عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے (74:39)

اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیئے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے (72:43)

More Reference : 7:43 Page 882

QUALIFYING FOR PARADISE A SUPREME ACHIEVEMENT

He from whom (such retribution) is averted on that Day (Allah) has in which had mercy on him. That will be the Great Success. (6:16)

والمعزید راجع ٧ الأعراف ٤٣ الصفحة ٨٨٢

دخول الجنة - الفوز العظيم

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٦﴾
الانعام ١٦

مزید حوالہ 43: 7 صفحه 882

جنت کا حصول - بڑی کامیابی

جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے (بڑی) مہربانی فرمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے (16:6)

On the Day when you (Muhammad) will see the believers, men and women, their light shining forth before them and on their right hands, (and it will be said to them): Glad news for you this Day: Gardens underneath which rivers flow, wherein you are immortal. That is the Supreme Triumph. (57:12)

He will forgive you your sins and bring you into Gardens underneath which rivers flow, and pleasant dwellings in Gardens of Eden. That is the Supreme Triumph. (61:12)

No doubt, for the righteous there will be an achievement (78:31)

Those who believe and do good works, theirs will be Gardens underneath which rivers flow. That is the Great Success. (85:11)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾
الحديد ١٢

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦١﴾
الصف ١٢

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٧٨﴾
النبا ٣١

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿٨٥﴾
البروج ١١

جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان (کے ایمان) کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہوگا (تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو (کہ آج تمہارے لئے) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے (12:57)

وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغ ہائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی (داکی) بہشتوں میں (تیار) ہیں داخل کرے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے (12:61)

بے شک پرہیزگاروں کے لئے کامیابی ہے (31:78)

(اور) جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے (11:85)

More Reference: 5:119 9:72,89,100,111 44:57
Page 868 880,658,860,132 869
45:30 48:5 64:9
471 868 820

والمزيد راجع ٩ التوبة: ٧٢، ٨٩، ١٠٠، ١١١ ٤٤ المائدة: ١١٩ ٤٥ الجاثية: ٣٠ ٤٨ الفتح: ٥ ٦٤ التغابن: ٩

مزید حوالہ 5:119 9:72,89,100,111 44:57
صفحہ 868 880,658,860,880 869
9:64 5:48 30:45
820 868 471

QUALIFYING FOR ENTRY INTO THE GARDENS OF BLISS IS NOT THAT EASY

What is the matter with those who disbelieve, that they keep staring towards you (O Muhammad), open eyed, (70:36)

On the right and on the left, in groups? (70:37)

Does every man among them hope to enter the Garden of Delight? (70:38)

By no means We created them from what they know. (70:39)

الحصول على الجنة ليس بأمر سهل

فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾
المعارج ٣٦

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾
المعارج ٣٧

أَيُّظْمِعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمًا ﴿٣٨﴾
المعارج ٣٨

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
المعارج ٣٩

جنت یوں ہی نہیں ملے گی

تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں (36:70)

(اور) دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر (جمع ہوتے) جاتے ہیں (37:70)

کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا (38:70)

ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں (39:70)

More Reference: 2:80 3:24 5:18 11:118
Page 599 599 599 924
23:53,54 30:32
617,618 618

والتفصیل راجع ٢ البقرة: ٨٠ ٣ آل عمران: ٢٤ ٥ المائدة: ١٨ ١١ هود: ١١٨ ٢٣ المؤمنون: ٥٤، ٥٣ ٣٠ الروم: ٣٢

تفصیل کیلئے دیکھئے 118:11 18:5 24:3 80:2
924 599 599 599
32:30 54,53:23
618 618,617

A MAGNIFICENT ESTATE OF GARDENS

When you see, you will see there Bliss and High Estate. (76:20)

الجنة ملك عظيم

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾
الدھر ٢٠

جنت۔ ایک عظیم الشان سلطنت

اور بہشت میں (جہاں) آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور بڑی (شان) والی حکومت دیکھو گے (20:76)

COMPETE FOR THE BOUNTY OF PARADISE

سابقوا إلى أعمال موجبة
لدخول الجنة

جنت کی طلب میں جلدی کرو

AMPLITUDE OF THE PARADISE

سعة الجنة

جنت کی وسعت

And vie one with another for forgiveness from your Lord, and for Paradise as wide as are the heavens and the earth, prepared for those who ward off (evil); (3:133)

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾
﴿٣ آل عمران ١٣٣﴾

اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو (اللہ سے) ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے (133:3)

More Reference : 57:21 Page 313

والمعزید راجع ٥٧ الحديد: ٢١: الصفحة ٣١٣

ترتیب حوالہ 21: 57 صفحه 313

THE WARDENS OF GARDEN OF DELIGHT WILL GREET THE HONOURED ONES

يرحب خزنة الجنة المتقين بسلام

بہشت کے داروغے سلام کہیں گے

And those who keep their duty to their Lord are driven to the Garden of Delight, and the gates thereof are opened, and the wardens thereof say to them: Peace be to you! You are good, so enter you (the Garden of delight), to dwell therein; (39:73)

وَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا
خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾
﴿٣٩ الزمر ٧٣﴾

اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ در گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے تو اس کے داروغے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام تم بہت اچھے رہے۔ اب اس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ (73:39)

THE ANGELS OF PARADISE WILL WELCOME THE BLESSED ONES

يسلم الملائكة على أهل الجنة

فرشتوں کی طرف سے سلام
(خوش آمدید کہیں گے)

Gardens of Eden which they enter, along with all who do right of their fathers and their helpmates and their seed. The angels enter to them from every gate. (13:23)

جَدَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ
أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾
﴿١٣ الرعد ٢٣﴾

(یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے وہ بھی (بہشت میں جائیں گے) اور فرشتے (بہشت کے) ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے (23:13)

(saying): Peace be to you because you persevered in patience. Ah, how excellent is the sequel of the heavenly Home. (13:24)

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾
﴿١٣ الرعد ٢٤﴾

(اور کہیں گے) تم پر رحمت ہو (یہ) تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے۔ اور عاقبت (آخرت) کا گھر خوب (گھر) ہے (24:13)

And those who believed and did good works are made to enter Gardens underneath which rivers flow, therein abiding by permission of their Lord, their greeting therein: Peace! (14:23)

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾
﴿١٤ ابراهيم ٢٣﴾

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کئے وہ بہشتوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا (23:14)

Those who believe and do good works, theirs are the Gardens of Paradise, for welcome, (18:107)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْفُردوسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾
﴿١٨ الكهف ١٠٧﴾

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کے لئے بہشت کے باغ کی مہمانی ہے (107:18)

Wherein they will abide, with no desire to be removed from that place. (18:108)

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾
﴿١٠٨ الكهف﴾

ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے (108:18)

The Supreme Horror will not grieve them, and the angels will welcome them, (saying): This is your Day, which you were promised; (21:103)

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾
﴿١٠٣ الأنبياء﴾

ان کو (اس دن کا) بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا۔ اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے (اور کہیں گے کہ) یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا (103:21)

They will be awarded the high place for as much as they were steadfast, and they will meet therein with welcome and the word of peace, (25:75)

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾
﴿٧٥ الفرقان﴾

ان (صفات کے) لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیئے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے (75:25)

Abiding there forever. Happy is it as abode and station! (25:76)

خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾
﴿٧٦ الفرقان﴾

اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے (76:25)

Those who say: Our Lord is Allah, and afterward, are upright, the angels descend upon them, saying: Fear not nor grieve, but hear good tidings of the Paradise, which you were promised. (41:30)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾
﴿٤١ حم سجدة﴾

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ (اس پر) قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے (اور کہیں گے) کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشخبری سنو (30:41)

ALLAH (swt) AND THE CHOSEN ONES
WOULD BE WELL PLEASD
WITH EACH OTHER

تكون النفوس المطمئنة
راضية مرضية

اللذان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی

But ah! You soul at peace! (89:27)

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾
﴿٨٩ الفجر﴾

اے اطمینان پانے والی روح! (27:89)

Return to your Lord, content in His good pleasure! (89:28)

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
﴿٨٩ الفجر﴾

اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی (28:89)

Join My bondmen! (89:29)

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾
﴿٨٩ الفجر﴾

تو میرے (ممتاز) بندوں میں شامل ہو جا (29:89)

Enter My Gardens! (89:30)

وَادْخُلِي جَنَّاتِي ﴿٣٠﴾
﴿٨٩ الفجر﴾

اور میری بہشت میں داخل ہو جا (30:89)

More Reference : 98:8 Page 307

وللمزيد راجع ٩٨ البينة: ٨: الصفحة ٣٠٧

مزید حوالہ 8:98 صفحہ 307

A WORD OF "PEACE"
WILL BE CONVEYED FROM ALLAH (swt)
AS AN EXPRESSION OF GREETING

تحية أهل الجنة من عند الله سلام

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا تحفہ ملے گا

Their salutation on the Day when they shall meet Him will be: Peace. And He has prepared for them a goodly recompense. (33:44)

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾
﴿٣٣ الاحزاب﴾

جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ (اللہ کی طرف سے) سلام ہوگا اور اس نے ان کے لئے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے (44:33)

The word from the Merciful Lord (for them) is: Peace! (36:58)

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾
﴿٣٦ يسين﴾

پروردگار مہربان کی طرف سے سلام (کہا جائے گا) (58:36)

**NEARNESS TO ALLAH (SWT)
THE HIGHEST BLISS**

The righteous will dwell among gardens and rivers, (54:54)

Firmly established in the favour of a Mighty sovereign. (54:55)

More Reference : 56:11,12,13,14,38,39,40
Page 639

THE GARDENS OF PARADISE

These are the heirs (23:10)

Who will inherit Paradise: There they will abide. (23:11)

More Reference : 18:107 Page 864

**"SHANGRI-LA"
THE GARDENS OF RETREAT**

But as for those who believe and do good works, for them are the Gardens of Retreat, a welcome (inward) for what they used to do. (32:19)

More Reference : 53:15 Page 689

THE GARDENS OF DELIGHT

Those who believe and do good works, their Lord guides them by their faith. Rivers will flow beneath them in the Gardens of Delight, (21:9)

Those who believe and do good works, for them are Gardens of Bliss. (31:8)

Herein they will abide. It is a promise of Allah in truth. He is the Mighty, the Wise. (31:9)

Those who are heedful will dwell in gardens and Bliss, (52:17)

أهل الجنة مقربون من الله

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ
﴿٥٤ القمر ٥٤﴾

فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ
﴿٥٤ القمر ٥٥﴾

والمزيد راجع ٥٦ الواقعة: ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ٣٨، ٣٩، ٤٠
الصفحة ٦٣٩

جنة الفردوس

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
﴿٢٣ المؤمنون ١٠﴾

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
﴿٢٣ المؤمنون ١١﴾

والمزيد راجع ١٨ الكهف: ١٠٧: الصفحة ٨٦٤

جنة الماوی

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَالَهُمْ جَنَّاتُ
الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
﴿٣٢ السجدة ١٩﴾

والمزيد راجع ٥٣ النجم: ١٥: الصفحة ٦٨٩

جنة النعيم

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ
رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي
جَنَّاتِ النَّعِيمِ
﴿١٠ يونس ٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ
النَّعِيمِ
﴿٣١ لقمان ٨﴾

خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ
﴿٣١ لقمان ٩﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ
﴿٥٢ الطور ١٧﴾

اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا

جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے
(54:54)

(یعنی) پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے
بادشاہ کی بارگاہ میں (55:54)

مزيد حوالہ 40,39,38,14,13,12,11:56
صفحة 639

جنت الفردوس

یہی لوگ وارث ہیں (10:23)

جو فردوس کے وارث ہونگے (اور) اس میں ہمیشہ رہیں
گے (11:23)

مزيد حوالہ 107:18 صفحه 864

جنت الماوی

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے
(رہنے کے) لئے باغ ہیں۔ یہ مہمانی ان کاموں کا اجر
ہے جو وہ کرتے تھے (19:32)

مزيد حوالہ 15:53 صفحه 689

جنت نعيم

(اور) جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان
کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے (ایسے مخلوق کی)
راہ دکھائے گا (کہ) ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں
نہریں بہ رہی ہوں گی (9:10)

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے
لئے نعمت کے باغ ہیں (8:31)

ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ غالب
حکمت والا ہے (9:31)

جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے
(17:52)

Happy because of what their Lord has given them, and (because) their Lord has warded off them from the torment of Hell Fire. (52:18)

فَالَّذِينَ يَمَّا أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهُمْ رَبُّهُمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾
﴿٥٢ الطور ١٨﴾

جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس (کی وجہ) سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچالیا (18:52)

(And it will be said to them): Eat and drink in health (as reward) for what you used to do, (52:19)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾
﴿٥٢ الطور ١٩﴾

اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو (19:52)

For those who keep from evil are Gardens of Bliss with their Lord. (68:34)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾
﴿٨٦ القلم ٣٤﴾

پرہیزگاروں کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں (34:68)

More Reference : 5:65 22:56 26:85
Page 637 831 948
37:43 56:12,89
870 639

والمزید راجع ٥ المائدة: ٦٥ ٢٢ الحج: ٥٦
٢٦ الشعراء: ٨٥ ٣٧ الصافات: ٤٣ ٥٦ الواقعة: ١٢: ٨٩
الصفحة ٨٧٠, ٦٣٩, ٨٧٠, ٩٤٨, ٨٣١, ٦٣٧

مزید حوالہ 5: 65 22: 56 26: 85
صفحہ 637 831 948
37: 43 56: 12, 89
870 639

THE LOFTY GARDENS

جنة عالية

جنت عالیہ

In that Day many faces will be calm, (88:8)

ووجوه يومئذٍ ناعية ﴿٨﴾
﴿٨٨ الغاشية ٨﴾

بہت سے چہرے اس روز تروتازہ (آسودہ حال) ہوں گے (8:88)

Glad for their effort past, (88:9)

لَسَعِيهَا راضية ﴿٩﴾
﴿٨٨ الغاشية ٩﴾

اپنے اعمال (کی جزا) سے خوش ہوں گے (9:88)

(Dwelling) in a High Garden (88:10)

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾
﴿٨٨ الغاشية ١٠﴾

بہشت بریں میں (ہونگے) (10:88)

THE GARDENS OF ETERNITY

جنة عدن

جنت عدن (بہشت جاودانی)

Gardens of Eden, which they enter, underneath which rivers flow, wherein they have what they will. Thus Allah repays those who ward off (evil), (16:31)

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ
الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾
﴿١٦ النحل ٣١﴾

(وہ ہمیشہ رہنے والی بہشت) جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہاں جو چاہیں گے ان کے لئے میسر ہوگا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے (31:16)

Gardens of Eden, which the Beneficent has promised to His slaves in the Unseen. His promise is ever sure of fulfillment (19:61)

جَنَّاتُ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴿٦١﴾
﴿١٩ مريم ٦١﴾

(وہ ہمیشہ رہنے والی بہشت) جس کا غائبانہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا ہے اور وہ اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے (61:19)

This is a reminder. And for those who ward off (evil) is a happy journey's end, (38:49)

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾
﴿٣٨ ص ٤٩﴾

یہ نصیحت ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لئے تو عمدہ مقام ہے (49:38)

Gardens of Eden, whereof the gates are opened for them. (38:50)

جَنَّاتُ عَدْنٍ مُمَفَّتَةٌ لَهُمُ الْبَابُ ﴿٥٠﴾
﴿٣٨ ص ٥٠﴾

ہمیشہ رہنے کے باغ کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے (50:38)

More Reference : 9:72 13:23 18:31
Page 880 864 879
20:76 35:33 40:8 61:12 98:8
861 879 1123 644 307

والمزید راجع ٩ التوبة: ٧٢ ١٣ الرعد: ٢٣
١٨ الكهف: ٣١ ٢٠ طه: ٧٦ ٣٥ فاطر: ٢٣
٤٠ المؤمنون (خاطر): ٨ ٦١ الصف: ١٢ ٩٨ البينة: ٨

مزید حوالہ 9: 72 13: 23 18: 31
صفحہ 880 864 879
20: 76 35: 33 40: 8 61: 12 98: 8
861 879 1123 644 307

THE GARDENS OF ABODE

Allah will say, this is a Day in which their truthfulness profits the truthful, for theirs are Gardens underneath which rivers flow, wherein they are secure forever, Allah taking pleasure in them and they in Him. That is the Great Triumph. (5:119)

That He may bring the believing men and the believing women into Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide, and may remit from them their evil deeds.--That, in the sight of Allah, is the Supreme Triumph (48:5)

A messenger reciting to you the revelations of Allah containing clear explanations, that He may bring forth those who believe and do good works from darkness to light. And whosoever believes in Allah and does right, He will admit him into Gardens underneath which rivers flow, therein to abide forever. Allah has made good provision for them. (65:11)

جَنَّةٌ أَبَدِيَّةٌ

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾
﴿٥٠- المائدة ١١٩﴾

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾
﴿٥٠ الفتح ٤٨﴾

رَسُورًا لِيَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَشِّرَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لِرِزْقِهَا ﴿٦٥﴾
﴿٦٥ الطلاق ٦٥﴾

باغات دوام

اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ان میں بستے رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں یہ بڑی کامیابی ہے (119:5)

(یہ) اس لئے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے گا۔ اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے (5:48)

(اور اپنے) پیغمبر (بھی بھیجے ہیں) جو تمہارے سامنے اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سنا تے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغہائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ان کو خوب رزق دیا ہے (11:65)

More Reference :	4:57,122	9:22,72
Page	860,132	657,880
11:108	16:31	18:108
805	867	865
57:12	98:8	
363	307	

والمزید راجع	٤ النساء: ١٢٢، ٥٧	٩ التوبة: ٢٢، ٧٢
١١ هود: ١٠٨	١٦ النحل: ٣١	١٨ الكهف: ١٠٨
٣٥ فاطر: ٣٥	٤٣ الزخرف: ٧١	٥٧ الحديد: ١٢
		٩٨ البينة: ٨

١٠٨: ١١	٧٢، ٢٢: ٩	١٢٢، ٥٧: ٤	مزید حوالہ
805	657,880	860,132	صفحہ
71:43	35:35	108:18	31:16
872	883	865	867
		81:98	12:57
		307	863

BLESSED ONES WILL NEVER BE EXPELLED

oil comes not to them there, nor will they be expelled from that place. (15:48)

Wherein they will abide (bask); (18:3)

BLESSED ONES WILL BECOME IMMORTAL (EXEMPTED FROM DEATH)

they taste not death therein, except the first death. And He will shield them from the doom of Hell, (4:56)

أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا

لَا يَسْتَمُوهُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾
﴿١٥ الحجر ٤٨﴾

مَّا كُنْتُمْ فِيهَا أَبَدًا ﴿١٨﴾
﴿١٨ الكهف ٣﴾

لا يدوقون الموت في الجنة

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾
﴿٤٤ الدخان ٥٦﴾

اہل جنت وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے

نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے (48:15)

جس میں وہ (ہمیشہ) رہیں گے (3:18)

دوبارہ موت نہیں آئے گی

(اور) پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا (کہ مر چکے تھے) موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچالے گا (56:44)

A bounty from your Lord. That is the Supreme Triumph. (44:57)

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾
﴿٤٤ الدخان ٥٧﴾

یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے (57:44)

WHOLESOME FOODS IN PARADISE

الأغذية في الجنة

جنت کی غذائیں

FRUITS AND MEAT

فاكهة ولحم

میوے اور گوشت

And We shall provide them with fruits and meat such as they will desire. (52:22)

وَأَمَّا دُنُوبُهُمْ بِفَأَكْهَتَهُمْ وَوَلَّجْنَا لَهُمُ الْغُيُوبَ ﴿٥٢﴾
﴿٥٢ الطور ٢٢﴾

اور جس طرح کے میوے اور گوشت جو ان کو پسند ہوگا ہم ان کو عطا کریں گے (22:52)

FLESH OF FOWLS

لحم طير

پرندوں کا گوشت

And flesh of fowls that they will desire (56:21)

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٢١﴾

اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کو پسند ہوگا (21:56)

PROVISIONS, WHICH WILL NEVER BE USED UP

رزق لانفاد له

کبھی نہ ختم ہونے والا رزق

A similitude of the Garden which is promised to those who keep their duty (to Allah): Underneath it rivers flow; its fruits are everlasting, and its shade; this is the reward of those who keep their duty, while the reward of disbelievers is the Fire. (13:35)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿١٣﴾
﴿١٣ الرعد ٣٥﴾

جس باغ کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس کے پھل ہمیشہ (قائم رہنے والے) ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو پرہیزگار ہیں۔ اور کافروں کا انجام دوزخ ہے (35:13)

This is that you are promised for the Day of Reckoning. (38:53)

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾
﴿٣٨ ص ٥٣﴾

یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لئے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا (53:38)

Truly such will be Our provision, which will never be used up. (38:54)

إِنَّ هَذَا الرِّزْقَ مَالٌ مِّن تَقَادٍ ﴿٥٤﴾
﴿٣٨ ص ٥٤﴾

یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا (54:38)

DIVINE BANQUET

المأدبة من عند الله رزق جاهز صباحاً ومساءً

اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے صبح شام تیار کھانا ملے گا

KNOWN PROVISION (SUSTENANCE)

رزق معلوم

مقررہ روزی

They hear therein no idle talk, but only Peace! And therein they have food for morning and evening. (19:62)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سُلْهًا وَلَا جِهَارًا وَلَهُمْ فِيهَا زُفْرٌ قَهْمٌ ﴿١٩﴾
﴿١٩ مريم ٦٢﴾

وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بے ہودہ کلام (لفو بات) نہ سنیں گے اور ان کے لئے صبح و شام کھانا تیار ہوگا (62:19)

Some Day We shall summon the heedful in a delegation before the Mercy giving (19:85)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿١٩﴾
﴿١٩ مريم ٨٥﴾

جس دن ہم پرہیزگاروں (اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والوں) کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے (85:19)

Except single-minded slaves of Allah; (37:40)

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾
﴿٣٧ الصفت ٤٠﴾

مگر جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں (40:37)

For them there is a known provision, (37:41)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾
﴿٣٧ الصفت ٤١﴾

یہی لوگ ہیں جن کے لئے روزی مقرر ہے
(41:37)

Fruits. And they will be honoured (37:42)

فَوَاكِهٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾
﴿٣٧ الصفت ٤٢﴾

(یعنی) میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا
(42:37)

In the Gardens of Delight, (37:43)

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾
﴿٣٧ الصفت ٤٣﴾

نعت کے باغوں (بہشت) میں (43:37)

Reference : 19:85 20:131 65:11
Page 869, 419, 868

واللہ اعلم ۱۹ مریم: ۸۵ ۲۰ طہ: ۱۳۱
۶۵ الطلاق: ۱۱ الصفحة ۸۶۹، ۴۱۹، ۸۶۸

مزیلہ حوالہ 11:65 131:20 85:19
صفحہ 868, 419, 869

DRINKS OF PARADISE

المشروبات في الجنة

مشروبات جنت

SPRINGS AND RIVERS OF PARADISE

عيون الجنة وأنهارها

جنت کے چشمے اور نہریں

Reference :	2:25	3:15	4:57	5:85,119
Page	860	431	860	860,868
72:100	10:9	13:35	14:23	16:31
860	866	869	864	867
5:10	29:58	48:5	54:54	57:12
81	880	868	866	863
83:27,28	108:1			
872	870			

واللہ اعلم	۲ البقرة: ۲۵	۳ آل عمران: ۱۵	۵ المائدة: ۸۵	۹ التوبة: ۷۲
۱۰ یونس: ۹	۱۳ الرعد: ۳۵	۱۴ إبراهيم: ۲۳	۲۲ الحج: ۲۳	۲۵ الفرقان: ۱۰
۲۹ العنكبوت: ۵۸	۴۸ الفتح: ۵	۵۴ القمر: ۵	۷۶ الدهر: ۱۱	۶۵ الطلاق: ۱۱
۵۷ الحديد: ۱۲	۶۵ الطلاق: ۱۱	۷۶ الدهر: ۱۱	۸۳ المطففين: ۲۷	۱۰۸ الكوثر: ۱

مزیلہ حوالہ	5:85,119	4:57	3:15	2:25
صفحہ	860,868	860	431	860
100,72:9	31:16	23:14	35:13	9:10
880,860	867	864	869	866
10:25	54:54	5:48	58:29	10:25
23:22	866	868	880	861
12:57	1:108	27,28:83	6:76	11:65
863	870	872	871	868

RIVERS OF DELICIOUS DRINKS OF MILK, PURE HONEY, WINE AND WATER

انهار ماء غيرا سن ولبن وخمر وعسل مصفى

دودھ۔ شہد۔ شراب اور مصفا پانی کی نہریں

similitude of the Garden which those who keep their duty (to Allah) are promised: Therein are rivers of water unpolluted, and rivers of milk whereof the flavour changes not, and rivers of wine delicious to the drinkers, and rivers of clear run honey; therein for them is every kind of fruits, with pardon from their Lord.

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

جنت جس کا پرہیز گاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جس میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے (سراسر) لذت ہے اور خالص شہد کی نہریں ہیں (جن میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے) اور (وہاں) ان کے لئے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ (15:47)

﴿٤٧ محمد ١٥﴾ جزء

"SAL-SABIL"-NECTAR SPRING

سلسبیل، عین في الجنة

سلسبیل چشمہ

The water of a spring therein, named Salsabil. (76:18)

عَيْنًا فِيهَا تُسْقَى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾
﴿٧٦ الدهر ١٨﴾

یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے
(18:76)

"ALKAUTHAR" LEGENDARY FOUNTAIN IN PARADISE

الكوثر

حوض کوثر

We have granted you (Our Bounty) in abundance; (108:1)

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾
﴿١٠٨ الكوثر ١﴾

(اے محمد!) ہم نے آپ کو حوض کوثر (اور بہت کچھ) عطا فرمایا ہے۔ (1:108)

DUALITY OF ABUNDANT SPRINGS

عينان في الجنة

اچتے ہوئے چشمے

Wherein are two fountains flowing. (50:50)

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ ﴿٥٠﴾
﴿٥٥ الرحمن ٥٠﴾

ان میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں (50:55)

Which is it, of the favours of your Lord, that you deny? (55:65)

وَأَيُّ الْآيَاتِ رَبِّكَ كَذَّبْتُمْ
﴿٥٥ الرحمن ٦٥﴾

تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (65:55)

Wherein are two abundant springs. (55:66)

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتِنِ
﴿٥٥ الرحمن ٦٦﴾

ان میں دو چشمے جوش سے ابل رہے ہیں (66:55)

DRINKS OF PARADISE WILL BE QUITE DIFFERENT FROM THESE WORLDLY LIQUORS THESE WILL NOT INCITE ANY EVIL-ACCOMPANIMENTS (SIN AND VANITY), BEING FREE FROM INTOXICATION EFFECTS, DRAWBACKS OF HANGOVER

كأس لا تسبب الغول ولا الجنون
ولا اللغو ولا التائم

جنت کی شراب دنیا کی شراب سے قطعی مختلف ہوگی کسی قسم کے گناہ اور بے حیائی کی طرف راغب نہیں کرے گی نشہ کے اثرات۔ سردرد۔ ہڈیاں اور دوسرے مضمرات سے پاک ہوگی

Wherein there is no headache nor will they suffer intoxication from it. (37:47)

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ
﴿٣٧ الصفت ٤٧﴾

نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس کے پینے سے بہکیں گے (47:37)

There they pass from hand to hand a cup wherein is neither vanity nor cause of sin. (52:23)

يَتَنَاوَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوَ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمُ
﴿٥٢ الطور ٢٣﴾

(خوش طبعی کے ساتھ) وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھپٹ لیا کریں گے جس (کے پینے) سے نہ بے ہودہ باتیں کریں گے نہ کوئی گناہ کی بات (23:52)

Wherefrom they get no aching of the head nor any madness, (56:19)

لَا يَصِدَّ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ
﴿٥٦ الواقعة ١٩﴾

اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا۔ (19:56)

BEVERAGE - PURE AND SEALED WITH FRAGRANCE OF MUSK

رحیق مختوم

سبز بھر خالص شراب
(مشک کی خوشبو والی)

They will be offered a sealed potion to drink. (83:25)

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ
﴿٨٣ المطففين ٢٥﴾

ان کو سبز بھر خالص شراب پلائی جائے گی (25:83)

Whose seal will be musk. For this let (all) those strive who aspire for bliss (83:26)

خَتْمُهُ وَمِزَاجُهُ مِنْ مِسْكِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
﴿٨٣ المطففين ٢٦﴾

جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ تو (نعمتوں کے) شائقین کو چاہئے کہ اسی رغبت کریں (اسے حاصل کرنے کے لئے سبقت لینے کی کوشش کریں) (26:83)

WINE WITH GINGER FLAVOUR AND MIXTURE OF ZANJABIL

كأس كان مزاجها زنجبيل

سونڈھ (زنجبیل) کی آمیزش والی شراب

And they will be given to drink a cup whereof the mixture is of Zanjabil, (76:17)

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
﴿٨٦ الدهر ١٧﴾

اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں زنجبیل کی (ملاوٹ) آمیزش ہوگی (17:76)

WINE WITH CALYX FLOWER FLAVOUR AND MIXTURE OF CAMPHOR

كأس كان مزاجها كافوراً

کافور کی آمیزش والی شراب

The righteous shall drink of a cup whereof the mixture is of Kafur: (76:5)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَشَرِبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
﴿٧٦ الدهر ٥﴾

جو نیک لوگ ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں (ہیں) گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی (5:76)

A spring where from the slaves of Allah drink, making it gush forth abundantly, (76:6)

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
﴿٧٦ الدهر ٦﴾

یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے (چھوٹی چھوٹی) نہریں (جس طرف چاہیں) نکال لیں گے (6:76)

DRINK WELL BLENDED WITH BEVERAGES

عَيْن خَمْرٍ مِنْ تَسْنِيمٍ

تسنیم کی آمیزش والی شراب

And mixed with water of Tasnim, (83:27)

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٧٧﴾
﴿٨٣ المطففين ٢٧﴾

اور اس میں تسنیم (کے پانی) کی آمیزش ہوگی (27:83)

A spring from which those brought near to Allah drink (83:28)

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٧٨﴾
﴿٨٣ المطففين ٢٨﴾

وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے (اللہ کے) مقرب پئیں گے (28:83)

CRYSTAL-WHITE DELICIOUS DRINK FROM UNSULLIED SPRING

كأس معين بيضاء لذیذة

لذیذ اور لطیف سفید شراب

On couches facing one another (37:44)

عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾
﴿٣٧ الصفت ٤٤﴾

ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر (بیٹھے ہوں گے) (44:37)

A cup from a gushing spring is brought round for them, (37:45)

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٤٥﴾
﴿٣٧ الصفت ٤٥﴾

شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا (45:37)

White, delicious to the drinkers, (37:46)

بَيْضَاءَ لَذِيذَةً لِلشَّرِيبِينَ ﴿٤٦﴾
﴿٣٧ الصفت ٤٦﴾

جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لئے (سراسر) لذیذ ہوگی (46:37)

MOST PURE DRINK

شراب طہور فی الجنة

شراب طہور۔ پاک مشروب

Wherein, reclining, they call for luscious fruit and cool drink (that is) therein. (38:51)

مُتَكِينٍ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾
﴿٣٨ ص ٥١﴾

ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور (کھانے پینے کے لئے) بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے (51:38)

More Reference : 76:21 Page 879

وللمزيد راجع ٧٦ الدهر (الإنسان) : ٢١

مزید حوالہ 21: 76 صفحہ 879

SERVICE IN GOLD, SILVER AND CRYSTAL - WARES

يستعمل أهل الجنة صحافاً وأكواباً من الذهب والفضة وقوارير

سونے۔ چاندی اور شیشے کے ظروف

Wherein are brought round for them ways of gold and goblets, and wherein is all that souls desire and they find sweet. And you are mortal therein. (43:71)

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾
﴿٤٣ الزخرف ٧١﴾

ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے (موجود ہوگا) اور (اے اہل جنت) تم اس میں ہمیشہ رہو گے (71:43)

With bowls and ewers and cups from a pure fountain. (56:18)

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ١٨﴾

یعنی آنجورے اور جگ اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر (18:56)

Goblets of silver are brought round for them, and beakers (as) of glass. (56:15)

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْيَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿٥٧﴾
﴿٧٦ الدهر ١٥﴾

(خدا) چاندی کے برتن لئے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے (نہایت شفاف) گلاس (جام) (15:76)

(Bright as) glass but (made) of silver, which they have made to measure (of their deeds). (76:16)

قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿٥٨﴾
﴿٧٦ الدهر ١٦﴾

اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں (16:76)

And a brimming cup. (78:34)

وَكَأْسًا مَّهِاقًا ﴿٣٤﴾
﴿٧٨ النبأ ٣٤﴾

And goblets set at hand (88:14)

وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾
﴿٨٨ الغاشية ١٤﴾

**VINEYARDS
LUXURIANT GARDENS AND FRUITS**

Gardens enclosed and vineyards,
(78:32)

في الجنة حدائق و أعناب

حَدَائِقُ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾
﴿٧٨ النبأ ٣٢﴾

بہشت کے باغ اور پھل
انگوروں کے باغ

(یعنی) باغات اور انگور (32:78)

DATE PALMS AND POMEGRANATES

Which is it, of the favours of your
Lord, that you deny? (55:67)

فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبْتُمْ
﴿٥٥ الرحمن ٦٧﴾

تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
(67:55)

Wherein are fruits, the date palm
and pomegranate (55:68)

فِيهِمَا قَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾
﴿٥٥ الرحمن ٦٨﴾

ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں (68:55)

More Reference : 6:99,141
Page 358, 274/357

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ١٤١، ٩٩
الصفحة ٣٥٨، ٢٧٤، ٣٥٧

مزید حوالہ 6: 99, 141
صفحہ 357/274, 358

**CLUSTERED PLANTAINS
SPREADING SHADES AND GUSHING WATERS**

And clustered plantains, (56:29)

في الجنة طلح منضود
وظل ممدود وماء مسكوب

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾
﴿٥٦ الواقعة ٢٩﴾

اور تہہ بہ تہہ کیلوں (29:56)

And spreading shade, (56:30)

وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾
﴿٥٦ الواقعة ٣٠﴾

اور لمبے لمبے سایوں۔ (30:56)

And waters gushing, (56:31)

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾
﴿٥٦ الواقعة ٣١﴾

اور پانی کے جھرنوں (31:56)

**SWEET SMELLING PLANTS WITH FRAGRANT
FLOWERS IN PARKS AND LANDSCAPES**

Then breath of life rest and
contentment, and fragrance, and a
Garden of Bliss (56:89)

يكون فيها روح وريحان

فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتٌ نَّعِيمٌ ﴿٨٩﴾
﴿٥٦ الواقعة ٨٩﴾

خوشبودار پھولوں کے باغ

تو (اس کے لئے) راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت
کے باغ ہیں (89:56)

**THORNLESS LOTE - TREES
(TRIMMED HAWTHORNS)**

And those on the right hand; what of
those on the right hand? (56:27)

يكون في الجنة سدر مخضود

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ هُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾
﴿٥٦ الواقعة ٢٧﴾

کانٹوں کے بغیر بیڑیوں کے درخت

اور داہنے ہاتھ والے (سبحان اللہ) داہنے ہاتھ والے کیا
(یہ پیش میں) ہیں (27:56)

(They will be) Among thornless lote
trees (hawthorns trimmed of their
thorns) (56:28)

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾
﴿٥٦ الواقعة ٢٨﴾

(یعنی) بغیر کانٹوں کے بیڑیوں (28:56)

**DUALITY OF GARDENS OF PARADISE
ABOUNDING IN SHRUBS AND FRUITS
(GREEN LAWNS AND MEADOWS)**

جنتان مشمرتان و جنتان مدھا متان

سایہ دار اور پھلوں سے
لدئے ہوئے دو دو باغ

But for him who fears the standing
before his Lord there are two
gardens. (55:46)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۙ
﴿٥٥ الرحمن ٤٦﴾

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے
(ہرقت) ڈرتا اس کے لئے (جنت میں) دو باغ ہیں
(46:55)

spreading branches. (55:48)

ذَوَاتَا أَفْئَانٍ ۙ
﴿٥٥ الرحمن ٤٨﴾

ان دونوں میں بہت سی شاخیں (یعنی قسم قسم کے میووں
کے درخت ہیں) (48:55)

reclining upon couches lined with
brocade, the fruits of both
gardens near to hand. (55:54)

مُتَكِّينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۙ
وَجَنَّاتٍ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۙ
﴿٥٥ الرحمن ٥٤﴾

(اہل جنت) ایسے پچھونوں پر جن کے استراٹلس (ریشم) کے
ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور دونوں باغوں کے میوے
(بالکل) قریب (جھک رہے) ہیں (54:55)

and besides them are two other
gardens, (55:62)

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ۙ
﴿٥٥ الرحمن ٦٢﴾

اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں (62:55)

dark green with foliage. (55:64)

مُدَّهَامَتَيْنِ ۙ
﴿٥٥ الرحمن ٦٤﴾

دونوں خوب گہرے سبز (سیاہی مائل) (64:55)

which is it, of the favours of your
Lord, that you deny? (55:65)

فِي أَيِّ آيَاتِنَا كَذَّبْتُمْ ۙ
﴿٥٥ الرحمن ٦٥﴾

تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ
گے؟ (65:55)

**DUALITY OF FRUITS OF EVERY VARIETY
OF UNLIMITED SEASONS IN ABUNDANCE
AND WITHOUT ANY PROHIBITION**

فی الجنة فواکہ کثیرہ
لیست مقطوعہ ولا ممنوعہ

ہر قسم اور موسم کے دو دو پھل (میوے) کبھی نہ ختم
ہونے والے اور کسی پابندی کے بغیر

herein for you is fruit in plenty to
(43:73)

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۙ
﴿٤٣ الزخرف ٧٣﴾

وہاں تمہارے لئے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ
گے (73:43)

they call therein for every fruit in
peace and security. (44:55)

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ۙ
﴿٤٤ الدخان ٥٥﴾

وہاں اطمینان کے ساتھ ہر قسم کے میوے منگائیں گے
(اور کھائیں گے) (55:44)

wherein is every kind of fruit in
plenty. (55:52)

فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجِينَ ۙ
﴿٥٥ الرحمن ٥٢﴾

ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں (52:55)

All fruit that they prefer (56:20)

وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۙ
﴿٥٦ الواقعة ٢٠﴾

اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں (20:56)

All fruit in plenary (56:32)

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۙ
﴿٥٦ الواقعة ٣٢﴾

اور بکثرت پھلوں (کے باغوں) میں (32:56)

whose season is neither limited nor
supply is forbidden, (56:33)

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۙ
﴿٥٦ الواقعة ٣٣﴾

جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے (33:56)

All fruits such as they desire.
(77:42)

وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۙ
﴿٧٧ المرسلت ٤٢﴾

اور میوؤں میں جن کی وہ خواہش کریں (42:77)

(To them it will be said:) Eat, drink
and welcome, O you blessed, in
recompense for what you did. (77:43)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۙ
﴿٧٧ المرسلت ٤٣﴾

جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے
کھاؤ اور پیو (43:77)

Thus We do reward the good. (77:44)

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾
﴿٧٧ المرسلات ٤٤﴾

ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (44:77)

More Reference : 36:57 37:42 47:15
Page 877, 763, 870/892

والمزید راجع ۳۶ یس: ۵۷ ۳۷ الصافات: ۴۲
۴۷ محمد: ۱۵ الصفحة ۸۷۷، ۷۶۳، ۸۹۲/۸۷۰

مزید حوالہ 15: 47 42:37 57:36
صفحہ 892/870, 763, 877

LOFTY GARDENS WITH LOW HANGING FRUITS
BUNCHES FOR EASY ACCESS

يكون المتقون في جنة عالية
قطوفها دانية

اونچے باغوں میں جھکے ہوئے میوے

In a high Garden (69:22)

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾
﴿٦٩ الحاقة ٢٢﴾

(یعنی) اونچے (اونچے مٹھوں کے) باغ میں (22:69)

Whereof the clusters will hang
within easy reach. (69:23)

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾
﴿٦٩ الحاقة ٢٣﴾

جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے (23:69)

(And it will be said to those
therein): Eat and drink at ease for
that which you sent on before you in
past days. (69:24)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي
الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾
﴿٦٩ الحاقة ٢٤﴾

جو (عمل) تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے
صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو (24:69)

The awning thereof will close upon
them and the clustered fruits thereof
will drop low. (76:14)

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا
تَذَلُّلًا ﴿١٤﴾
﴿٧٦ الدھر ١٤﴾

ان سے (ثمر دار شاخیں اور) ان کے سائے قریب ہوں
گے۔ اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں
گے (14:76)

More Reference : 55:54 Page 874

والمزید راجع ۵۵ الرحمن: ۵۴ الصفحة ۸۷۴

مزید حوالہ 54: 55 صفحہ 874

THEY SHALL HAVE WHATEVER
THEY MAY DESIRE

لَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنفُسُهُمْ

جس نعمت کی وہ خواہش کریں گے
وہ موجود ہوگی

Say: Is that (doom) better or the
Garden of Immortality which is
promised to those who ward off
(evil)? It will be their reward and
journey's end. (25:15)

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخَالِدِ الَّتِي وَعَدَ
الْمُتَّقُونَ ط كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ١٥﴾

ان سے پوچھیں کہ یہ بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا پرہیز
گاروں سے وعدہ ہے۔ یہ ان (کے عملوں) کا بدلہ اور
رہنے کا ٹھکانا ہوگا (15:25)

Therein abiding, they will have all
that they desire. It is for your Lord a
promise that must be fulfilled (the
Sustainer, always to be prayed for).
(25:16)

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى
رَبِّكَ وَعْدًا مَّتُوعًا ﴿١٦﴾
﴿٢٥ الفرقان ١٦﴾

وہاں جو چاہیں گے ان کے لئے موجود ہوگا ہمیشہ اس میں
رہیں گے یہ وعدہ اللہ کو (پورا کرنا) لازم ہے (اور وہ اس
لاٹن ہے کہ مانگ لیا جائے) (16:25)

They shall have what they will of
their Lord's bounty. That is the
reward of the good: (39:34)

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾
﴿٣٩ الزمر ٣٤﴾

وہ جو چاہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس
(موجود) ہے نیک اعمال کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے
(34:39)

We are your protecting friend in the
life of the world and in the
Hereafter. There you will have (all)
that your souls desire, and there you
will have (all) for which you pray.
(41:31)

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
فِي الْآخِرَةِ وَلكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنفُسُكُمْ
وَلكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾
﴿٤١ حم سجدة ٣١﴾

ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت
میں بھی (تمہارے رفیق ہیں) اور وہاں جس (نعمت) کو
تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی اور جو چیز طلب کرو گے
تمہارے لئے موجود ہوگی (31:41)

A gift of welcome from the
Forgiving, the Merciful. (41:32)

نَزَّلْنَا مِن غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾
﴿٤١ حم سجدة ٣٢﴾

(یہ) بخشنے والے مہربان کی طرف سے بطور مہمانی ہے
(32:41)

There will be all that they desire, and there is (even) more with Us. (50:35).

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ ق ٣٥﴾

وہاں جو چاہیں گے ان کے لئے حاضر اور ہمارے ہاں اور بھی (بہت کچھ) ہے (35:50)

More Reference : 16:31 36:57 42:22
Page 867 877 820
43:71 52:19
872 867

والمزید راجع ۱۶ النحل: ۳۱ ۳۶ یس: ۵۷
۴۲ الشوری: ۲۲ ۴۳ الزخرف: ۷۱ ۵۲ الطور: ۱۹
الصفحة ۸۶۷, ۸۷۲, ۸۲۰, ۸۷۷, ۸۶۷

المزید ہوالہ 31: 16 57: 36 22: 42
صفحة 867 877 820
19: 52 71: 43
867 872

WEDLOCK WITH "HOURIS" BASHFUL MAIDENS WHOM NEITHER HUMAN NOR SPIRIT HAS TEMPERED - FAIREST DAMSEL WITH WIDE LUSTROUS EYES OF MODEST GAZE

فی الجنة خیرات حسان
جور عین لم یطمثهن انسان أوجان

نیک سیرت اور خوبصورت حوروں کے ساتھ نکاح جنہیں کبھی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا موٹی آنکھوں والی اور نیچی نگاہوں والی عورتیں

And with them are those of modest gaze, with lovely eyes, (37:48)

وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ مِّنَ الطَّرْفِ عَيْنٌ ﴿٤٨﴾
﴿٣٧ الصف ٤٨﴾

ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی (48:37)

Pure) as they were hidden eggs (of the ostrich). (37:49)

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾
﴿٣٧ الصف ٤٩﴾

ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے (49:37)

And some of them draw near to others, mutually questioning. (50:37)

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾
﴿٣٧ الصف ٥٠﴾

پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال (جو اب) کریں گے (50:37)

Even so (it will be). And We shall wed them to fair ones with wide, lovely eyes. (44:54)

كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾
﴿٤٤ الدخان ٥٤﴾

(وہاں) اس طرح (کا حال ہوگا) اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی حوروں سے ان کے جوڑے بنائیں گے (یعنی نکاح کر دیں گے) (54:44)

Reclining on ranged couches. And We wed them to fair ones with wide, lovely eyes. (52:20)

مُتَكِّينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾
﴿٥٢ الطور ٢٠﴾

شاندار تختوں پر جو آمنے سامنے بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے (20:52)

Herein are those of modest gaze, whom neither man nor jinn will have touched before them, (55:56)

فِيهِنَّ قَصْرٌ مِّنَ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٥٦﴾
﴿٥٥ الرحمن ٥٦﴾

ان میں نیچی نگاہ والی (شریلی) حوریں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے گویا وہ حوریں مثل یاقوت اور مرجان ہیں (58:55)

In beauty) like the jacinth (rubies) and the coral stones. (55:58)

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾
﴿٥٥ الرحمن ٥٨﴾

بھلا (غایت اور اطاعت) نیکی کا بدلہ نیکی (احسان و غایت) کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے (60:55)

Is there any reward for good, other than good? (55:60)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾
﴿٥٥ الرحمن ٦٠﴾

ان میں نیک سیرت (اور) خوبصورت حوریں ہیں (70:55)

Herein (are found) the good and beautiful. (55:70)

فِيهِنَّ خَيْرٌ مِّنْ حَسَنٍ ﴿٧٠﴾
﴿٥٥ الرحمن ٧٠﴾

(گوری رنگت کی) حوریں جنت کے خیموں میں رہنے والی ہیں (72:55)

Like fair ones, close guarded in pavilions (55:72)

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ ﴿٧٢﴾
﴿٥٥ الرحمن ٧٢﴾

ان کو (اہل جنت سے) پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا (تصرف کیا ہوگا) اور نہ کسی جن نے (74:55)

Whom neither man nor jinn will have touched before them (55:74)

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٧٤﴾
﴿٥٥ الرحمن ٧٤﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (75:55)

Which is it, of the favours of your Lord, that you deny? (55:75)

فَأَيُّ الْآيَاتِ كُفِّرْتُمْ ﴿٧٥﴾
﴿٥٥ الرحمن ٧٥﴾

And (there are) fair ones with wide, lovely eyes, (56:22)

وَحُورٌ عِينٌ ﴿٥٦﴾

اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں (22:56)

﴿٥٦ الواقعة ٢٢﴾

Like to hidden pearls, (56:23)

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٥٦﴾

دھچھے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں (23:56)

﴿٥٦ الواقعة ٢٣﴾

Reward for what they used to do. (56:24)

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے (24:56)

﴿٥٦ الواقعة ٢٤﴾

**MATURE, VIRGIN, WELL MATCHED
CHASTE AND LOVING WIVES**

لأهل الجنة أزواج مطهرة
أبكاراً أتراب

نوجوان۔ کنواری اور ہم عمر پاکیزہ
(محبت کرنے والی) بیویاں

Say: Shall I inform you of something better than that? For those who keep from evil, with their Lord, are Gardens underneath which rivers flow, and pure companions, and contentment from Allah. Allah is Seer of His bondmen. (3:15)

قُلْ أَوُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا
عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣﴾

اے پیغمبران سے) کہہ دیجئے کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز
بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو (سنو) جو لوگ
پرہیز گار ہیں ان کے لئے اللہ کے ہاں باغات
(بہشت) ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں
وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور (سب
سے بڑھ کر) اللہ کی خوشنودی۔ اور اللہ (اپنے نیک)
بندوں کو دیکھ رہا ہے (15:3)

﴿٣ آل عمران ١٥﴾

Those who merit Paradise this Day shall have joy in all that they do, (36:55)

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكُهُونٍ ﴿٣٦﴾

اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں
گے (55:36)

﴿٣٦ يسين ٥٥﴾

They and their wives, in pleasant shade, on thrones reclining; (36:56)

هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ
مُتَّكِنُونَ ﴿٣٦﴾

وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے
لگائے بیٹھے ہوں گے (56:36)

﴿٣٦ يس ٥٦﴾

Theirs the fruit (of their good deeds) and theirs (all) that they ask; (36:57)

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٣٦﴾

وہاں ان کے لئے میوے اور جو چاہیں گے (موجود
ہوگا) (57:36)

﴿٣٦ يس ٥٧﴾

And with them are those of modest gaze, companions. (38:52)

وَعِندَهُمْ قُصُورٌ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٣٨﴾

اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی (اور) ہم عمر حوریں
ہوں گی (52:38)

﴿٣٨ ص ٥٢﴾

We have created them a (new) creation (56:35)

إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿٥٦﴾

ہم نے ان (حوروں) اور ہم نے ان (کی بیویوں کو)
خاص طور پر بنایا ہے (35:56)

﴿٥٦ الواقعة ٣٥﴾

And made them virgins (56:36)

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٥٦﴾

تو ان کو کنواریاں بنایا (36:56)

﴿٥٦ الواقعة ٣٦﴾

Lovers, friends, (well- matched). (56:37)

عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٥٦﴾

(اور شوہروں کی) پیاریاں اور ہم عمر (37:56)

﴿٥٦ الواقعة ٣٧﴾

And maidens for companions, (78:33)

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٧٨﴾

اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں (33:78)

﴿٧٨ النبأ ٣٣﴾

**CHASTE BOY SERVANTS OF PARADISE
OF EVERLASTING YOUTH AND PERPETUAL
FRESHNESS - HANDSOME AS PEARLS**

Round about them will serve (devoted) to them, youths (handsome) as pearls - well guarded. (52:24)

On lined couches, (56:15)

Reclining therein face-to-face. (56:16)

There wait on them immortal youths (56:17)

There serve them youths of everlasting youth, whom, when you see, you would take for scattered pearls. (76:19)

خدام أهل الجنة غلمان مخلدون

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾
﴿٥٢ الطور ٢٤﴾

عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾
﴿٥٦ الواقعة ١٥﴾

مُتَّكِلِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِيبِينَ ﴿١٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ١٦﴾

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾
﴿٥٦ الواقعة ١٧﴾

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا دَأَبْتَهُمْ
حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾
﴿٧٦ الدهر ١٩﴾

غلمان۔ نو عمر۔ سدا جوان خدمت گزار لڑکے
جنت کے خدام بچے۔ موتیوں کی طرح خوبصورت

اور نو جوان خدمت گزار (جو ایسے ہوں گے) جیسے
چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے
(24:52)

(لعل و یاقوت وغیرہ سے) جڑے ہوئے تختوں پر
(15:56)

آنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے (16:56)

نو جوان خدمت گزار جو ہمیشہ (ایک ہی حالت میں)
رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے (17:56)

اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے۔ جو ہمیشہ
لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو
کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں (19:76)

**GLORIOUS COMPANY OF
THE RIGHTEOUS PEOPLE**

Whoso obeys Allah and His Messenger, they are with those to whom Allah has shown favour, of the Prophets and the saints and the martyrs and the righteous. The best of company are they! (4:69)

Such is the bounty of Allah, and Allah suffices as Knower. (4:70)

**PARENTS AND PROGENY WILL BE JOINED
TOGETHER IN PARADISE AND THEIR RANKS WILL
BE UPGRADED DUE TO RIGHTEOUSNESS**

and they who believe and whose offspring follow them in faith, We cause their children to join them (here), and We deprive them of nothing of their (life's) work. Every man is a pledge for that which has earned learned. (52:21)

تكون مصاحبة الأبرار في الجنة

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾
﴿٤ النساء ٦٩﴾

ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾
﴿٤ النساء ٧٠﴾

**الحاق ذرية مؤمنين بالوالدين
في الجنة ورفع درجات الجميع**

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾
﴿٥٢ الطور ٢١﴾

بہشت میں نیک لوگوں کی رفاقت

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے (69:4)

یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ جاننے والا کافی ہے (70:4)

**جنت میں نیک والدین اور اولاد کی باہمی ملاقات اور
ایک دوسرے کے اعمال صالح کے باعث درجات کی بلندی**

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی (راہ) ایمان میں ان کے پیچھے چلی۔ ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے (درجے) تک پہنچادیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے (21:52)

MOST BEAUTIFUL AND COSTLY GARMENTS OF SILK AND BROCADE - ADORNMENTS OF GOLD AND PEARLS

As for such, theirs will be Gardens of Eden, wherein rivers flow beneath them; therein they will be given armlets of gold and will wear green robes of finest silk and gold embroidery, reclining upon thrones therein. Blest the reward, and fair the resting place! (18:31)

Allah will cause those who believe and do good works to enter Gardens underneath which rivers flow, wherein they will be allowed armlets of gold, and pearls, and their raiment therein will be silk. (22:23)

Gardens of Eden! They enter them wearing armlets of gold and pearls and their raiment therein is silk. (35:33)

No doubt those who kept their duty will be in a place secure (44:51)

Amid gardens and water springs, (44:52)

Attired in fine and rich silk embroidery, facing one another. (44:53)

And has awarded them for all that they endured, a Garden and silk attire; (76:12)

Their raiment will be fine green silk and gold embroidery. Bracelets of silver will they wear. Their Lord will slake their thirst with a pure drink. (76:21)

(And it will be said to them): This is a reward for you. Your endeavor (upon earth) has found acceptance. (76:22)

ملابس أهل الجنة وزخارفهم

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خضراءَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مَرَقَاتُهُمْ ﴿١٨ الكهف ٣١﴾

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٢ الحج ٢٣﴾

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٥ فاطر ٣٣﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنٍ ﴿٥١ الدخان ٥١﴾

إِنَّ فِي جَنَّةٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢ الدخان ٥٢﴾

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِلِينَ ﴿٥٣ الدخان ٥٣﴾

وَجَزَاءُ لَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ ﴿٧٦ الدهر ١٢﴾

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُندُسٍ خضراءَ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٧٦ الدهر ٢١﴾

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿٧٦ الدهر ٢٢﴾

اہل جنت کا لباس اور سامان زیبائش

یہ لوگوں کے لئے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں جن کے (مخلوں کے) نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنا کریں گے۔ (اور) تختوں پر بیٹھے لگا کر بیٹھا کریں گے (کیا) وہ بدلے اور (کیا) خوب آرام گاہ ہے (31:18)

و لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا (23:22)

ان لوگوں کے لئے ہمیشہ کے باغات بہشت (ہیں) جن میں وہ داخل ہوں گے۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی (33:35)

بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے (51:44)

(یعنی) باغوں اور چشموں میں (52:44)

ریشم کا باریک اور مضبوط (گف) لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے (53:44)

اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت (کے باغات) اور ریشم (کے بلبوسات) عطا کرے گا (12:76)

ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے۔ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا (21:76)

یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش (اللہ کے ہاں) مقبول ہوگی (22:76)

LOFTY MANSIONS TO ABODE

Allah promises to the believers, men and women, Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide--blessed dwellings in Gardens of Eden. And greater (far)!--acceptance from Allah. That is the Supreme Triumph. (9:72)

Those who believe and do good works, We shall house them in lofty dwellings of the Garden underneath which rivers flow. There they will be well secure. How sweet the verdon of the toilers,. (29:58)

Who persevere, and put their trust in their Lord! (29:59)

Reference : 25:75 34:37 39:20 69:22
Page 865, 423, 307, 875

COUCHES ENCRUSTED WITH PRECIOUS STONES

in lined couches, (56:15)

wherein are couches raised (88:13)

RECLINED ON SOFAS UPHOLSTERED IN BROCADE

Reclining upon couches lined with silk brocade, the fruits of both Gardens near to hand. (55:54)

Which is it, of the favours of your Lord, that you deny? (55:55)

And raised couches, (56:34)

READ OUT CARPETS AND MATTRESSES SKILFULLY WORKED WITH CUSHIONS (PILLOWS) SET IN ROW TO RECLINE

Which is it, of the favours of your Lord, that you deny? (55:75)

Reclining on green cushions and fair carpets. (55:76)

العُرف في الجنة

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾
﴿٩ التوبة ٧٢﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ عُرْفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٥٨﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٥٩﴾

وللمزيد راجع ٢٥ الفرقان: ٧٥ ٣٤ سباء: ٣٧ ٣٩ الرمز: ٢٠ ٦٩ الحاقة: ٢٢

سرر: موضونة

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ١٥﴾

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٧﴾
﴿٨٨ الغاشية ١٣﴾

يكون أهل الجنة منكبين على فرش بطائنها من استبرق

مُتَّكِبِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتٍ جُنتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥ الرحمن ٥٤﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ أَتَكْفُرُونَ ﴿٥٥﴾
﴿٥٥ الرحمن ٥٥﴾
وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٣٤﴾

رفرف و نمارق مصفوفة

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ أَتَكْفُرُونَ ﴿٧٥﴾
﴿٥٥ الرحمن ٧٥﴾
مُتَّكِبِينَ عَلَىٰ رُفُوفٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾
﴿٥٥ الرحمن ٧٦﴾

اونچے اونچے محل

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (وہ) ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ رہنے والی جنت میں نفیس مکانات کا (وعدہ کیا ہے) اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہی بڑی کامیابی ہے (9:72)

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے۔ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ (نیک) عمل کرنے والوں کا (یہ) خوب بدلہ ہے (58:29)

جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں (59:29)

مزیلہ حوالہ 20:39 37:34 75:25
صفحہ 875, 307, 423, 865 22:69

لعل اور یا قوت سے جڑے ہوئے تخت

(لعل و یا قوت وغیرہ سے) جڑے ہوئے تختوں پر (15:56)

وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے (13:88)

اطلس کے پچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے

(اہل جنت) ایسے پچھونوں پر جن کے استراطلس (ریشم) کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور دونوں باغوں کے میوے قریب (جھک رہے) ہیں (54:55)

تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ (55:55)

اور بلند پچھونے میں (رہیں گے) (34:56)

نفیس قالین اور گاہتیکے

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (75:55)

سبز قالینوں اور نفیس (مخملی) مسدوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے (76:55)

And cushions ranged (88:15)

وَمَنَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿٥٥﴾
﴿٨٨ العاشية ١٥﴾

اور گاؤں کی قطار کی قطار لگے ہوئے (15:88)

And silken carpets spread (88:16)

وَزَرَائِبٍ مَّبْتُونَةٍ ﴿٥٦﴾
﴿٨٨ العاشية ١٦﴾

اور نفیس مسدیں بچھی ہوئیں (16:88)

More Reference : 18:31 52:20 56:16
Page 879, 876, 878

والمزيد راجع ١٨ الكهف: ٣١ ٥٢ الطور: ٢٠
٥٦ الواقعة: ١٦ الصفحة ٨٧٨, ٨٧٦, ٨٧٩

مزيد حوالہ 16: 56 20: 52 31: 18
صفحہ 878, 876, 879

DESTINED OF PARADISE WILL ENJOY ENDLESS LUXURIOUS LIFE

Those who have earned the Garden on that Day will be better in their home and happier in their Fairest of places for repose; (25:24)

اصحاب الجنة يجبرون

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ٢٤﴾

اہل جنت عیش و نشاط میں رہیں گے

اس دن اہل جنت کا ٹھکانا بھی بہتر ہوگا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہوگی (24:25)

As for those who believed and did good works, they will be made happy in a Garden. (30:15)

فَأَمْثَلْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَوْمًا فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾
﴿٣٠ الروم ١٥﴾

تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ (بہشت کے) باغ میں خوش حال ہوں گے (15:30)

No doubt those who keep away from evil will dwell amid Gardens and water Springs. (51:15)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾
﴿٥١ الذریت ١٥﴾

بیشک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں (عیش کر رہے) ہوں گے (15:51)

Taking that which their Lord gives them; for indeed aforetime they were doers of good; (51:16)

أَخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾
﴿٥١ الذریت ١٦﴾

(اور) جو جو (نعمتیں) ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے (16:51)

Those who kept their duty are amid shade and fountains, (77:41)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾
﴿٧٧ المرسلات ٤١﴾

بے شک متقی سایوں اور چشموں میں ہوں گے (41:77)

More Reference : 36:55 Page 877

والمزيد راجع ٣٦ يس: ٥٥ الصفحة 877

مزيد حوالہ 55: 36 صفحه 877

SALUTATION OF "PEACE" TO EACH OTHER

And if he is of those on the right hand, (56:90)

تبادل السلام في الجنة

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾
﴿٥٦ الواقعة ٩٠﴾

ایک دوسرے کو سلام بھیجیں گے

اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے (90:56)

Then (the greeting) "Peace be to you from those on the right hand (56:91)

فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾
﴿٥٦ الواقعة ٩١﴾

تو (کہا جائے گا کہ) تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام (91:56)

More Reference : 10:10 Page 882

والمزيد راجع ١٠ يونس: ١٠ الصفحة ٨٨٢

مزيد حوالہ 10: 10 صفحه 882

THEY WILL SHARE MUTUAL CONVERSE

Attired in thin and silk embroidery, facing one another. (44:53)

كيفية حوار أهل الجنة

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾
﴿٤٤ الدخان ٥٣﴾

ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے جو گفتگو ہونگے

حریر و ریشم کا باریک اور مضبوط (گف) لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے (53:44)

And some of them draw near to each other, engaging in mutual enquiry, (52:25)

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾
﴿٥٢ الطور ٢٥﴾

اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے (25:52)

Saying: of old, when we were with our families, we were ever full of fear (at the thought of Allah's displeasure) (52:26)

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٥٢ الطور ٢٦﴾

کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں (اللہ سے) ڈرتے رہتے تھے (26:52)

More Reference : 36:56 37:44,50 56:16
Page 877, 872, 876, 878

وللمزيد راجع ٣٦ يس: ٥٦ ٣٧ الصافات: ٥٠، ٤٤
٥٦ الواقعة: ١٦ الصفحة ٨٧٨، ٨٧٦، ٨٧٢، ٨٧٧

مزید حوالہ 36:56 37:44,50 56:16
صفحہ 877, 876, 872, 877

**THEIR HEARTS AND MINDS
WILL BE OBLITERATED FROM ALL PAST
RANCOR AND JEALOUSY**

تكون صدور أهل الجنة
خالية عن الغل

دلوں سے کدورت اور کینے
نکال دیئے جائیں گے

And We remove whatever rancor may be in their hearts. Rivers flow beneath them. And they say: The praise to Allah, Who has guided us to this. We could not truly have been led aright if Allah had not guided us. The messengers of our Lord did bring the Truth. And it is cried to them: This is the Garden. You inherit it for what you used to do. (43)

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجَرَّوْا
مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي هَدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا
أَنَّ هَدانا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾
﴿٧ الاعراف ٤٣﴾

اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم سب نکال ڈالیں گے ان کے (مخلوں کے) نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا اور اگر اللہ ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے۔ بیشک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ اور (اس روز) اعلان کر دیا جائے گا کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو (دنیا میں) کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیئے گئے ہو (43:7)

And We remove whatever rancor may be in their breasts. As brother, face-to-face, (they rest) in couches raised. (15:47)

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا
عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾
﴿١٥ الحجر ٤٧﴾

اور ان کے دلوں میں جو کدورت (رنجش و ناراضگی) ہوگی ان کو ہم نکال (کر صاف کر) دیں گے (گویا) بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں (47:15)

**THEY WILL HYMN (SHOUT WITH JOY)
THE GLORY OF ALLAH (SWT)**

يسبح أهل الجنة بحمد الله

وہ بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی
حمد و ثنا کریں گے

Their prayer therein will be: Glory to You, O Allah! And their meeting therein will be: Peace. And the conclusion of their prayer will be: Praise be to Allah, Lord of the worlds! (10:10)

دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ
فِيهَا سَلَامٌ وَأُخْرٌ دَعْوُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾
﴿١٠ يونس ١٠﴾

(جب وہ) ان میں (ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ) کہیں گے سبحان اللہ۔ اور آپس میں ان کی دعا سلام ہوگی۔ اور ان کا آخری قول یہ (ہوگا) کہ اللہ رب العالمین کی حمد (اور اس کا شکر) ہے (10:10)

**AN ATMOSPHERE OF
COMPLETE EASE AND COMFORT**

البيئة الهادئة المطمئنة في الجنة

پر سکون ماحول

And they say: Praise be to Allah who has put grief away from us. No Doubt Our Lord is Forgiving, Beautiful, (35:34)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ
إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٥﴾
﴿٣٥ فاطر ٣٥﴾

وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدر دان ہے (34:35)

My slaves! For you there is no fear this Day, nor is it you who grieve; (43:68)

يُعْبَادُونَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْ تَمُوتُمْ تَمُوتُونَ ﴿٦٨﴾
﴿٤٣ الزخرف ٦٨﴾

میرے بندو! آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غم زدہ ہو گے (68:43)

Reference : 15:48 Page 868

وللمزيد راجع ١٥ الحجر: ٤٨ الصفحة ٨٦٨

مزید حوالہ 15:48 صفحہ 868

**NO TOUCH OF TOIL
NOR EFFECT OF WEARINESS**

لا نصب ولا لغوب في الجنة

نہ تکان ہوگی نہ رنج پہنچے گا

Who, of His grace, has installed us in the mansion of eternity, where toil touches us not nor can weariness affect us. (35:35)

الَّذِي أَحْكَنَّا ذَاتَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ
لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾
﴿٣٥ فاطر﴾

جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا۔ یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان (تھکاوٹ) ہوگی (35:35)

On couches, gazing, (83:23)

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾
﴿٨٣ المطففين﴾

تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے (23:83)

You will know in their faces the radiance of delight (83:24)

تَعْرِفُونَ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾
﴿٨٣ المطففين﴾

تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے (24:83)

More Reference : 15:48 Page 868

وللمزيد راجع ١٥ الحجر : ٤٨ : الصفحة ٨٦٨

مزید حوالہ 48:15 صفحہ 868

**THERE WILL BE NO VAIN DISCOURSE
NOR ANY MISCHIEF OR FALSEHOOD**

لا لغو من القول ولا كذب في الجنة

کوئی بے ہودہ بات۔ جھوٹ
(خرافات گالی گلوچ) نہ سنیں گے

There hear they no vain speaking nor recrimination (56:25)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا الْغَوَاؤَ وَلَا تَأْتِيهِمُ
﴿٥٦ الواقعة﴾

وہاں نہ بے ہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ (25:56)

(Nothing) but the saying: Peace, (and again) Peace. (56:26)

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾
﴿٥٦ الواقعة﴾

ہاں ان کا کلام سلام سلام (ہوگا) (26:56)

There hear they never vain discourse, nor lying (78:35)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا الْغَوَاؤَ وَلَا كَذِبًا ﴿٣٥﴾
﴿٧٨ النبأ﴾

وہاں نہ بے ہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ (خرافات) (35:78)

Requital from your Lord a gift in payment (78:36)

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾
﴿٧٨ النبأ﴾

یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے اور انعام مقعین (36:78)

Where they hear no idle speech, (88:11)

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾
﴿٨٨ الغاشية﴾

وہاں کسی طرح کی بیہودہ بات نہیں سنیں گے (11:88)

Wherein will be gushing spring, (88:12)

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾
﴿٨٨ الغاشية﴾

جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا (12:88)

More Reference : 19:62 Page 869

وللمزيد راجع ١٩ مريم : ٦٢ : الصفحة ٨٦٩

مزید حوالہ 62:19 صفحہ 869

**NO HARSHNESS OF CLIMATE
SAVED FROM SCORCHING HEAT AND FROST
AIR CONDITIONED ATMOSPHERE**

لا شدة الحر ولا زمهرير في الجنة

دھوپ کی حدت
اور نہ سردی کی شدت

Reclining therein upon couches, they will find there neither (heat of) a sun nor bitter cold. (76:13)

مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا
شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾
﴿٧٦ الدهر﴾

ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ دھوپ (کی حدت) دیکھیں گے نہ سردی کی شدت (13:76)

PEACE AND SAFETY (SECURITY)

Those who ward off (evil) are among Gardens and Water Springs. (15:45)

(And it will be said to them): Enter them in peace, secure. (15:46)

And the Garden will be brought near for those righteous, no longer distant. (50:31)

(And it will be said): This is that which you were promised. (It is) for every penitent and heedful one, (50:32)

Who fears the Beneficent in secret and comes with a contrite heart. (50:33)

Enter it in peace. This is the Day of immortality. (50:34)

السلام والأمن في الجنة

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾
﴿١٥ الحجر ٤٥﴾

أَدْخُلُوهَا سَلَامًا آمِنِينَ ﴿٤٦﴾
﴿١٥ الحجر ٤٦﴾

وَأَزَلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ ق ٣١﴾

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ ق ٣٢﴾

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ ق ٣٣﴾

أَدْخُلُوهَا سَلَامًا ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٥٠﴾
﴿٥٠ ق ٣٤﴾

امن اور سلامتی

جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے (45:15)

(ان سے کہا جائے گا کہ) ان میں سلامتی (اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ (46:15)

اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی (کہ ہرگز) دور نہ ہوگی (31:50)

یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا (یعنی) ہر اس شخص کیلئے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو (32:50)

جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور توجہ کرنے والا دل لے کر آیا (33:50)

اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے (34:50)

More Reference : 6:127 21:103 44:51
Page 118, 865, 879

وللمزيد راجع ٦ الأنعام: ١٢٧ ٢١ الأنبياء: ١٠٣
٤٤ الدخان: ٥١ الصفحة ١١٨، ٨٦٥، ٨٧٩

مزید حوالہ 6: 127 21: 103 44: 51
صفحہ 118, 865, 879

NO NOISE POLLUTION
THEY WILL BE SHIELDED
FROM SCORCHING BREATH
AND RUSTLE OF HELL

Those to whom kindness has gone forth before from Us, they will be far removed from that place. (21:101)

They will not hear the slightest sound thereof, while they abide in that which their souls desire. (21:102)

But Allah has been gracious to us and has preserved us from the torment of the breath of Fire. (52:27)

We used to pray to Him of old. Surely He is the Benign, the Merciful. (52:28)

أهل الجنة آمنون من ضجيج جهنم
ومن عذاب السموم

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾
﴿٢١ الأنبياء ١٠١﴾

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ
أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾
﴿٢١ الأنبياء ١٠٢﴾

فَمَنْ لَّهُ عَلَيْنَا وَعُقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٥٢﴾
﴿٥٢ الطور ٢٧﴾

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾
﴿٥٢ الطور ٢٨﴾

دوزخ کی گرمی
اور شور سے محفوظ

جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے (101:21)

(یہاں تک کہ) اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں (یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں) ہمیشہ رہیں گے (102:21)

تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں گرم ہواؤں کے عذاب سے بچالیا (27:52)

اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے (28:52)

More Reference : 52:18 Page 867

وللمزيد راجع ٥٢ الطور: ١٨ الصفحة ٨٦٧

مزید حوالہ 52: 18 صفحہ 867

THE HELL - LAKE OF FIRE

جہنم

دوزخ - جہنم

ULTIMATE RECOMPENCE OF THE LIFE OF DISOBEDIENCE AND SIN A PLACE OR STATE OF TORMENT

جزاء أعمال المجرمين

مکرمین کے اعمال کی سزا

But whosoever has done evil and his sin surrounds him; such are rightful owners of the Fire; they will abide therein. (2:81)

Already We have urged to hell many of the jinn and humankind, having hearts wherewith they understand not, and having eyes wherewith they see not, and having ears wherewith they hear not. These are as the cattle, But they are worse! These are the neglectful. (7:179)

Save him on whom your Lord has mercy; and for that He did create them. And the Word of your Lord has been fulfilled: I shall fill Hell with the jinn and mankind together. (11:119)

And that My doom is the dolorous doom. (15:50)

And the guilty behold the Fire and know that they are about to fall therein, and they find no way of escape from that place. (18:53)

It is wretched as abode and station; (25:66)

They bid you hasten on the doom, when Hell will encompass the disbelievers. (29:54)

On the Day when the doom will overwhelm them from above them and from underneath their feet, and He will say: Taste what you used to do! (29:55)

And if We had so willed, We could have given every soul its guidance, but the word from Me concerning evildoers took effect: that I will fill Hell with the jinn and mankind together. (32:13)

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهَا خَطِيئَتُهُ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾
﴿٢ البقرة ٨١﴾

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضْلُ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٧﴾
﴿٧ الاعراف ١٧٩﴾

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾
﴿١١ هود ١١٩﴾

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾
﴿١٥ الحجر ٥٠﴾

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا
وَلَمْ يَجِدُوهَا مَصْرُفًا ﴿٥٣﴾
﴿١٨ الكهف ٥٣﴾

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾
﴿٢٥ الفرقان ٦٦﴾

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
بِآلِ الْكٰفِرِينَ ﴿٥٤﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٥٤﴾

يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٥٥﴾

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلٰكِنْ
حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾
﴿٣٢ السجدة ١٣﴾

ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ (ہر طرف سے) اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ (میں جانے) والے ہیں (اور) وہ ہمیشہ اس میں (جلتے) رہیں گے (81:2)

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں۔ اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ (بالکل) جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں (179:7)

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لئے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا (119:11)

اور یہ کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے (50:15)

اور گنہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں۔ (اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے) (53:18)

اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے (66:25)

یہ تم سے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہیں۔ اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے (54:29)

جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانپ لے گا اور (اللہ) فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے (اب) ان کا مزہ چکھو (55:29)

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا (13:32)

Some day when some of them will not control any advantage nor harm for others, We will tell those who have done wrong: Taste the torment of fire which you have been denying!" (34:42)

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾
﴿٣٤ سبأ ٤٢﴾

پس آج تم میں سے کوئی (بھی) کسی کے لیے (بھی) کسی قسم کے (نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا۔ اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ (42:34)

Thus was the word of your Lord concerning those who disbelieve fulfilled: that they are owners of the fire. (40:6)

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٠﴾
﴿٤٠ المؤمن ٦﴾

اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں (6:40)

Hell lurks in ambush, (78:21)

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨ النبأ ٢١﴾

بے شک دوزخ گھات میں ہے (21:78)

Home for the rebellious. (78:22)

لِلظَّالِمِينَ مَا بِهَا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨ النبأ ٢٢﴾

(یعنی) سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے (22:78)

They will abide therein for ages. (78:23)

لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٧٨﴾
﴿٧٨ النبأ ٢٣﴾

اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے (23:78)

But when the great disaster comes, (79:34)

وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴿٧٩﴾
﴿٧٩ الذریت ٣٤﴾

تو جب بڑی آفت آئے گی (34:79)

The Day when man will call to mind his (whole) endeavor, (79:35)

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴿٧٩﴾
﴿٧٩ الذریت ٣٥﴾

اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا (35:79)

And hell will stand forth visible to him who sees, (79:36)

وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ﴿٧٩﴾
﴿٧٩ الذریت ٣٦﴾

اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی (36:79)

And when hell is lighted (81:12)

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿٨١﴾
﴿٨١ التکویر ١٢﴾

اور جب دوزخ (کی آگ) بھڑکائی جائے گی (12:81)

And the wicked will be in Hell; (82:14)

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿٨٢﴾
﴿٨٢ الانفطار ١٤﴾

اور بد کردار دوزخ میں ڈالے جائیں گے (14:82)

They will burn therein on the Day of judgement, (82:15)

يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾
﴿٨٢ الانفطار ١٥﴾

(یعنی) جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے (15:82)

And will not be absent from that place. (82:16)

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿٨٢﴾
﴿٨٢ الانفطار ١٦﴾

اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے (16:82)

Reference : 7:179 46:20 74:39 to 47:39
344,421,840,899,422

والمزيد راجع ٧ الأعراف: ١٧٩، ٤٦ الأحقاف: ٢٠، ٧٤ المدثر: ٤٧٥٣٩، ٧٩ النازعات: ٣٩، الصفحة ٤٢٢، ٨٩٩، ٨٤٠، ٤٢١، ٣٤٤

مزید حوالہ 7:179 46:20 74:39 to 47:39
صفحة 422,899,840,421,344

WARNING OF HELL

O you who believe! Ward off from yourselves and your families a Fire whereof fuel is men and stones, over which are set angels strong, severe, who resist not Allah in that which He commands them, but do that which they are commanded. (66:6)

الإندار من جهنم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾
﴿٦٦ التحريم ٦﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی تنبیہ

مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر مضبوط سخت دل فرشتے (مقرر) ہیں جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں (6:66)

We warn you of a doom at hand, a Day whereon a man will look on that which his own hands have sent before, and the disbeliever will cry: "Would that I were dust!" (78:40)

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِيَتَنَّى كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

﴿٧٨ النبأ ٤٠﴾

ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے۔ جس دن ہر شخص (اعمال) کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا (40:78)

And hell is brought near that Day; on that Day man will remember, but how will the remembrance (then avail him)? (89:23)

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ يَوْمِئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٣﴾

﴿٨٩ الفجر ٢٣﴾

اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اس کے سمجھنے کا (فائدہ) کہاں (مل سکے گا)؟ (23:89)

Therefore I have warned you of the flaming Fire (92:14)

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾

﴿٩٢ الليل ١٤﴾

سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے (14:92)

Which only the most wretched must endure, (92:15)

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾

﴿٩٢ الليل ١٥﴾

اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بد بخت ہے (15:92)

He who denies and turns away. (92:16)

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾

﴿٩٢ الليل ١٦﴾

جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا (16:92)

While the most heedful. Will be kept away from it. (92:17)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾

﴿٩٢ الليل ١٧﴾

اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ (اس سے) بچا لیا جائے گا (17:92)

More Reference :

2:24	3:131	4:97	7:38,39
Page	232	489	670 619,620
9:35	10:8	11:106	18:29 20:74 46:34
270	420	805	635/891 899 823
47:12	56:41,42,95	66:6	102:6
449	800,892	886	424

والمزید راجع	٢ البقرة: ٢٤	٣ آل عمران: ١٣١
٤ النساء: ٩٧	٧ الأعراف: ٣٩,٣٨	٩ التوبة: ٣٥
١٠ یونس: ٨	١١ هود: ١٠٦	١٨ الكهف: ٢٩
٢٠ طه: ٧٤	٢٤ الأحقاف: ٢٤	٤٧ محمد: ١٢
٥٦ الواقعة: ٩٥,٩٢,٩١	١٠٢ التكاثر: ٦	

مزید حوالہ	24:2	131:3	97:4	39,38:7
صفحہ	232	489	670	619,620
35:9	8:10	106:11	29:18	74:20
270	420	805	635/891	899
34:46	12:47	95,42,41:56	6:66	6:102
823	449	800,892	886	424

ONE THOUSAND YEARS MAY BE NOTHING MORE THAN A DAY TO ALLAH (SWT)

قدار یوم العذاب الف سنة

And they try you to hasten on the Doom, and Allah fails not His promise, but surely a Day with Allah is as a thousand years of what you reckon. (22:47)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

﴿٢٢ الحج ٤٧﴾

عذاب کا ایک دن بھی ایک ہزار سال کے برابر ہوگا

اور (یہ لوگ) تم سے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک (روز) تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار برس کے برابر ہے (47:22)

CAPACIOUS TO ABSORB MORE AND MORE SINNERS

السعة المتزايدة بجہنم

On the Day when We say to Hell: Are you filled? And it says can there be more to come? (50:30)

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٣٠﴾

﴿٥٠ ق ٣٠﴾

گنہ گاروں کے لئے جہنم کی زیادہ سے زیادہ وسعت

اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے؟ (30:50)

SEVEN GATES FOR ENTRY INTO HELL

سبعة أبواب لجہنم

It has seven gates, and each gate has an appointed portion. (15:44)

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

﴿١٥ الحجر ٤٤﴾

جہنم کے سات دروازے

اس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لئے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں (15:44)

SOME CLASSIFIED SECTIONS OF HELL

درجات معینہ لجہنم

جہنم کے چند مخصوص حصے (طبقات)

"HAWIYAH" BOTTOMLESS PIT

ہاویہ

ہاویہ

One will have home in the (bottomless) pit. (101:9)

اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے (9:101)

Ah, what will convey to you what she is! (101:10)

اور تم کیا سمجھو کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ (10:101)

It is a Raging Fire. (101:11)

(وہ) دہکتی ہوئی آگ ہے (11:101)

VALLEY OF DESTRUCTION

غوی - غی

غیا - ہلاکت کی وادی

For Datel Consult : 19:59 Page 259

والمزید راجع ۱۹ مریم: ۵۹ الصفحة ۲۵۹

مزیید حوالہ 59:19 صفحہ 259

"AL-HUTAMA" THE INTENSE FIRE

الحطمة

حطمہ

Ah, what will convey to you what the Consuming One is! (104:5)

اور تم کیا سمجھو کہ حطمہ کیا ہے (5:104)

(It is) the Fire of Allah, kindled, (104:6)

وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے (6:104)

Which leaps up over the hearts (of men). (104:7)

جو دلوں پر جا لپٹے گی (7:104)

It shall be made into a vault over them. (104:8)

(اور) وہ اس میں بند کر دیئے جائیں گے (8:104)

In outstretched columns. (104:9)

یعنی (آگ کے) لمبے لمبے ستونوں میں (9:104)

"SAQAR" SCORCHING FIRE

لسقر

سقر

shall fling him (sinner) to the burning. (74:26)

میں عنقریب اس کو سقر میں ڈالوں گا (26:74)

Ah, what will convey to you what that burning is! (74:27)

اور تم کیا سمجھو کہ سقر کیا ہے؟ (27:74)

It leaves nothing; it spares nothing (74:28)

(وہ آگ ہے کہ) نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی (28:74)

It shrivels the man. (74:29)

اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی (29:74)

Above it are nineteen. (Wardens) (74:30)

اس پر انیس (فرشتے) داروغے ہیں (30:74)

For Reference : 74:42 Page 840

والمزید راجع ۷۴ المدثر: ۴۲ الصفحة ۸۴۰

مزیید حوالہ 42:74 صفحہ 840

"LAZA" BLAZING FIRE

Therefor I have warned you of the Flaming Fire (92:14)

For Detail Consult : 70:15 92:14
Page 486, 887

لظی

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿٩٢﴾
﴿٩٢ اللیل ١٤﴾

وللفصل رابع ٧٠ المearج: ١٥: ٩٢ اللیل: ١٤
الصفحة ٤٨٦، ٨٨٧

لظی۔ بھڑکتی ہوئی آگ

میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے (14:92)

صفحہ 887, 486
14:92 15:70

"SAIR" - FLAMING FIRE

Allah has cursed the disbelievers, and has prepared for them a flaming fire, (33:64)

For Detail Consult 4:10,55 17:97 22:4
Page 461,850 777 386
25:11 31:21 33:64 34:12 35:6 42:7
822 155 889 1073 383 231
48:13 54:48 67:5,10 76:4 84:12
170 894 331,897 894 801

السعیر

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٣٣﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٦٤﴾

وللفصل رابع ٤ النساء: ١٠، ٥٥: ١٧ الإسراء: (بنی اسرائیل): ٩٧
٢٢ الحج: ٤: ٢٥ الفرقان: ١١: ٣١ لقمان: ٢١
٣٣ الاحزاب: ٦٤: ٣٤ سباء: ١٢: ٣٥ فاطر: ٦
٤٢ الشوری: ٧: ٤٨ الفتح: ١٣: ٥٤ القمر: ٤٨
٦٧ الملك: ١٠٠: ٧٦ الدهر: (الإنسان): ٤
٨٤ الانشقاق: ١٢

سعیر

نے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے (جہنم کی) آگ تیار کر رکھی ہے (64:33)

صفحہ 822, 155, 889, 1073, 383, 231
4:22 97:17 55,10:4
386 777 461,850
6:35 12:34 64:33 21:31 11:2
383 1073 889 155 822
12:84 4:76 10,5:67 48:54 13:48 7:4
801 894 331,897 894 170 231

"SAUD" - SLIPPERY MOUNTAIN IN THE HELL - FIRE

For he has been stubborn to Our revelations. (74:16)

On him I shall impose a fearful doom. (74:17)

صعود

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿٧٤﴾
﴿٧٤ المدثر ١٦﴾

سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿٧٤﴾
﴿٧٤ المدثر ١٧﴾

صعود

یسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے (16:74)

میں اسے صعود (ایک سخت چڑھائی) چڑھاؤں گا (17:74)

ENTERTAINMENT FOR INFERNALS LOATHSOME FOOD

"ZAQQUM" A DAMNED TREE OF HELL

Is this better as a welcome, or the infernal tree of Zaqqum? (37:62)

The Hellish tree of Zaqqum, (44:43)

The food of the sinner! (44:44)

Then you the erring, the deniers, (56:51)

Will eat of a Fiend tree called Zaqqum (56:52)

And will fill your bellies therewith; (56:53)

طعام الاثیم

شجرة الزقوم

أَذَلِكْ خَيْرٌ تَرْزُقْنَا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧ الصفت ٦٢﴾

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ﴿٤٤﴾
﴿٤٤ الدخان ٤٣﴾

طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾
﴿٤٤ الدخان ٤٤﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٥١﴾

لَأَكْلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٥٢﴾

فَمَا لَبُّونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٥٣﴾

روز خیلوں کی خوراک

تھوہر کا درخت

بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت (62:37)

بلاشبہ تھوہر کا درخت (43:44)

گنہگار کا کھانا ہے (44:44)

پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو! (51:56)

تھوہر کے درخت کھاؤ گے (52:56)

اور اس سے پیٹ بھرو گے (53:56)

A TREE SPRUNG OUT OF THE BOTTOM OF HELL

We have appointed it a torment for wrongdoers. (37:63)

شجرة تخرج فی اصل الجحیم

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧ الصفت ٦٣﴾

جہنم کے اسفل سے اگا ہوا درخت

ہم نے اس کو ظالموں کے لئے عذاب بنا رکھا ہے (63:37)

It is a tree that springs in the heart of Hell (37:64)

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾
﴿٣٧ الصفت ٦٤﴾

وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی جڑ میں سے اگے گا (64:37)

Its crop is as it were the heads of devils (37:65)

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾
﴿٣٧ الصفت ٦٥﴾

اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر (65:37)

And they must eat thereof, and fill (their) bellies therewith. (37:66)

وَأَنَّهُمْ لَأَكَلُونَ مِنْهَا فَأَمَّا لَبُؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونِ ﴿٦٦﴾
﴿٣٧ الصفت ٦٦﴾

سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے (66:37)

And afterward, thereupon they have drink of boiling water (37:67)

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾
﴿٣٧ الصفت ٦٧﴾

پھر اس (کھانے) کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا (67:37)

And afterward, their return is surely Hell. (37:68)

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾
﴿٣٧ الصفت ٦٨﴾

پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا (68:37)

FOOD OF THORN PLANT - WHICH WILL NOT SATISFY THE BURNING PANGS OF HUNGER AT ALL

الطعام من ضريع

خاردار جھاڑ کا کھانا جو بھوک کے مٹانے میں ہرگز مدد نہ دے گا

And food, which chokes (the eater), and a painful doom (37:13)

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾
﴿٧٣ المنزل ١٣﴾

اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے (13:73)

No food for them save bitter thorn fruit (88:6)

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦﴾
﴿٨٨ العاشية ٦﴾

اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لئے کوئی کھانا نہیں (ہوگا) (6:88)

Which does not nourish nor release from hunger. (88:7)

لَا يُسِيمُنَ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾
﴿٨٨ العاشية ٧﴾

جو نہ فریبی لائے (نہ تقویت بخشنے) نہ بھوک میں کچھ کام آئے (7:88)

ACCURSED TREE

الشجرة ملعونة

شجر ملعونہ (درخت جس پر لعنت کی گئی)

And (it was a warning) when We told you: Your Lord encompasses mankind, and We appointed the Tree, which We showed you as an example for mankind, and (likewise) the Accursed Tree in the Qur'an. We forbade them, but it increases them in sinning except gross impiety. (60:60)

وَلَاذُقْنَاكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ ۚ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طَعْيًا نَّكَارًا ﴿٦٠﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٦٠﴾

جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ (گھیرے) کے ہوئے ہے۔ اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لئے آزمائش کیا اور اسی طرح (تھوہر کے) درخت کو جس پر قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے۔ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت (سرکشی پیدا ہوتی ہے) (60:17)

DRINKS OF THE HELL

الأشربة في جهنم

دوزخ کے مشروب

THIRST QUENCHING DRINK SHALL THEY TASTE

تحريم شراب الجنة على اصحاب الجحيم

دوزخ میں پیاس بجھانے کیلئے کوئی مشروب نہ ہوگا

And the dwellers of the Fire cry out to the dwellers of the Garden; Pour on us some water or some of that with which Allah has provided you. They say: Allah has forbidden both to us and to the disbelievers (in His guidance), (7:50)

وَتَأْتِي أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾
﴿٧ الاعراف ٥٠﴾

اور دوزخی بہشت والوں سے (گڑگڑا کر) کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے (کچھ ہمیں بھی دو) وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے (50:7)

And drive criminals in a drove towards Hell (19:86)

وَتَسُوْقُ الْجَائِرِيْنَ اِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝۱۹ ﴿۱۹﴾
﴿۱۹ مریم ۸۶﴾

اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف بانگ کر لے جائیں گے (86:19)

CONJUNCTION OF BOILING FLUID AND FOUL PUS (GARBAGE) FROM WASHING OF WOUNDS

حمیم و غساق

سخت گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ

Hell is before him, and he is made to drink a festering water, (14:16)

مِنْ وَّرَآءِ جَهَنَّمَ وُلِيْقَىٰ مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۝۱۴ ﴿۱۴﴾
﴿۱۴ ابراہیم ۱۶﴾

اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا (16:14)

Here is a boiling and an ice-cold draught, so let them taste it, (38:57)

هٰذَا فَلَیْدٌ وَقُوَّةٌ حَمِيْمٌ وَغَسَاقٌ ۝۳۸ ﴿۳۸﴾
﴿۳۸ ص ۵۷﴾

یہ بدبودار پانی اور شدید ٹھنڈ ہے اب اس کے مزے چکھیں (57:38)

And other (torment) of the kind in pairs (the two extremes)! (38:58)

وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ ۝۳۸ ﴿۳۸﴾
﴿۳۸ ص ۵۸﴾

اور اسی طرح کے اور بہت سے (عذاب ہوں گے) (58:38)

Nor any food except filth (69:36)

وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غَسَلِيْنٍ ۝۳۶ ﴿۳۶﴾
﴿۳۶ الحاقہ ۳۶﴾

اور نہ پیپ کے سوا (اس کے لئے) کھانا ہے (36:69)

Which none but sinners eat. (69:37)

لَا يَأْكُلُهَآ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝۳۷ ﴿۳۷﴾
﴿۳۷ الحاقہ ۳۷﴾

جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا (37:69)

Therein taste they neither coolness nor (any) drink (78:24)

لَا يَذُوقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝۲۴ ﴿۲۴﴾
﴿۲۴ النبأ ۲۴﴾

وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ (کچھ) پینا (نسیب ہوگا) (24:78)

Except boiling water and slopes and a paralyzing cold. (78:25)

اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَاقًا ۝۲۵ ﴿۲۵﴾
﴿۲۵ النبأ ۲۵﴾

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ (بدبودار پانی اور کڑا کے کی مرزی) (25:78)

Reward proportioned (to their evil deeds). (78:26)

جَزَاءٌ وَّفَاقًا ۝۲۶ ﴿۲۶﴾
﴿۲۶ النبأ ۲۶﴾

(یہ) بدلہ ہے پورا پورا (26:78)

More Reference : 6:70 10:4
Page 430/814, 786

والمزيد راجع ۶ الأنعام : ۷۰ ۱۰ یونس : ۴
الصفحة ۷۸۶, ۸۱۴/۴۳۰

مزيد حوالہ 6:70 10:4
صفحة 786, 814/430

SCALDING WATER LIKE MOLTEN BRASS

يسقون بماء كالمهل

پچھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا ہوا پانی

-----We have prepared for disbelievers Fire. Its tent encloses them. If they ask for showers, they will be showered with water like to molten brass, which burns the faces. Calamitous the drink and ill the resting place! (18:29) PART

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ

نَارًا اَحَاطَ بِهَمَّ نُّرَادِ قُبُورِهِمْ اِنْ يَسْتَعْجِلُوْا يَغَاثُوْا

بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَا

سَاءَتْ مَّرْتَفِقًا ۝۱۸ ﴿۱۸﴾

﴿۱۸ الکہف ۲۹﴾ جزء

Like molten brass, it seethes in their bellies (44:45)

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُوْنِ ۝۴۴ ﴿۴۴﴾

As the seething of boiling water. (44:46)

كَغَلِي الْحَمِيْمِ ۝۴۶ ﴿۴۶﴾

CHASTISEMENT OF BOILING WATER

الماء الحميم

کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب

Through boiling water; then they are thrust into the Fire. (40:72)

فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۝۴۰ ﴿۴۰﴾

(یعنی) کھولتے ہوئے پانی میں۔ پھر آگ میں جھونک دیئے جائیں گے (72:40)

But We shall cause those who disbelieve to taste an awful doom, and We shall requite them the worst of what they used to do. (41:27)

فَلَنْذِيْقَنَّ الدِّينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٤١ حم السجدة ٢٧﴾

سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے اعمالوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے (27:41)

(And it will be said): Take him and drag him to the midst of Hell, (44:47)

خُذُوهُ فَاعْتَلُوْهُ اِلَى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾
﴿٤٤ الدخان ٤٧﴾

(حکم دیا جائے گا کہ) اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے (درمیان میں) لے جاؤ (47:44)

Then pour upon his head the torment of boiling water. (44:48)

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَاسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾
﴿٤٤ الدخان ٤٨﴾

پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو (کہ عذاب پر) عذاب (ہو) (48:44)

(Saying): Taste! You were forsooth the mighty, the noble! (44:49)

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾
﴿٤٤ الدخان ٤٩﴾

(اب) مزہ چکھ تو بڑی عزت والا (اور) بڑے اکرام والا تھا (49:44)

This is that whereof you used to boast. (44:50)

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾
﴿٤٤ الدخان ٥٠﴾

یہ وہی (دوزخ) ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے (50:44)

----- (Are those who enjoy all this) like those who are immortal in the Fire and are given boiling water to drink so that it tears their bowels? (47:15) PART

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ
وَسُقُوا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾
﴿٤٧ محمد ١٥﴾ جزء

----- (کیا یہ پرہیز گار) ان کی طرح (ہو سکتے) ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا (15:47) جزو

This is Hell, which the Sinners deny. (55:43)

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾
﴿٥٥ الرحمن ٤٣﴾

یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے (43:55)

They go circling round between it and fierce, boiling water. (55:44)

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اِنَّا ﴿٤٤﴾
﴿٥٥ الرحمن ٤٤﴾

وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے (44:55)

Which is it, of the powers of your Lord, that you deny? (55:45)

فَإَيُّ الْاِيْمَانِ كَذَّبْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَوَدُّونَ ﴿٤٥﴾
﴿٥٥ الرحمن ٤٥﴾

تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے (45:55)

And thereon you will drink boiling water. (56:54)

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾
﴿٥٦ الواقعة ٥٤﴾

اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے (54:56)

Drinking even as the camel raging with thirst. (56:55)

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿٥٥﴾
﴿٥٦ الواقعة ٥٥﴾

اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں (55:56)

This will be their welcome on the Day of judgement (56:56)

هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾
﴿٥٦ الواقعة ٥٦﴾

قیامت کے دن ان کی مہمانی ہوگی (56:56)

But if he is of the rejecters, the reward, (56:92)

وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِيْنَ الضَّالِّيْنَ ﴿٩٢﴾
﴿٥٦ الواقعة ٩٢﴾

اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے (92:56)

Then the welcome will be boiling water (56:93)

فَنَزْلُ مِنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾
﴿٥٦ الواقعة ٩٣﴾

تو (اس کے لئے) کھولتے پانی کی مہمانی ہے (93:56)

And roasting at Hell fire. (56:94)

وَتَصْلِيَةٌ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾
﴿٥٦ الواقعة ٩٤﴾

اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے (94:56)

This is certain truth. (56:95)

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِيْنُ ﴿٩٥﴾
﴿٥٦ الواقعة ٩٥﴾

یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے (95:56)

Drinking from a boiling spring,
(88:5)

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ ۝
﴿ ۸۸ الغاشية ۵ ﴾

ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا
(5:88)

More Reference : 22:19 37:67 38:57
44:45,46 Page 893, 890, 891

والمزید راجع ۲۲ الحج ۱۹: ۳۷ الصافات: ۶۷
ص: ۵۷ ۴۴ الدخان: ۴۵: ۴۶

مزید حوالہ 57:38 67:37 19:22
صفحہ 891, 890, 893 46,45:44

**GARMENTS OF FIRE
THE WEAR OF HELLISH DWELLERS**

These twain (the believers and the disbelievers) are two opponents who contend concerning their Lord. But as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them; boiling fluid will be poured down on their heads. (22:19)

Whereby that which is in their bellies, and their skins too, will be melted; (22:20)

More Reference : 7:41 14:50 Page 850,893

**FIRE WILL BURN THE FACES
AND ROAST THE SKINS OF THE SINNERS**

Those who disbelieve Our revelations, We shall expose them to the Fire. As often as their skins are consumed We shall exchange them for fresh skins that they may taste the torment. Indeed Allah is ever Mighty, Wise. (4:56)

Their raiment of liquid pitch, and the Fire covering their faces. (14:50)

If those who disbelieved but knew the time when they will not be able to drive off the fire from their faces and from their backs, and they will not be helped! (21:39)

The fire will burn their faces, and they are glum therein. (23:104)

Is he then, who will strike his face against the awful doom upon the Day of Resurrection (as he who does right)? And it will be said to the wrongdoers: Taste what you used to earn. (39:24)

More Reference : 22:19,20 33:64 35:36
Page 893 889 899
74:28,29 76:4 87:12
888 894 899

ثياب من نار

هَذَا خِطْمُ الَّذِينَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝
﴿ ۲۲ الحج ۱۹ ﴾

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝
﴿ ۲۲ الحج ۲۰ ﴾

والمزید راجع ۷ الأعراف: ۴۱ ۱۴ ابراهيم: ۵۰

سوف تنضج الجلود من نار جهنم

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلْبًا نَظِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝
﴿ ۴ النساء ۵۶ ﴾

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرِ النَّارِ وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۝
﴿ ۱۴ ابراهيم ۵۰ ﴾

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝
﴿ ۲۱ الأنبياء ۳۹ ﴾

تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝
﴿ ۲۳ المنون ۱۰۴ ﴾

أَفَمَنْ يَتَّقِ بُرُوجَهُ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝
﴿ ۳۹ الزمر ۲۴ ﴾

والمزید راجع ۲۲ الحج: ۱۹، ۲۰ ۳۳ الأحزاب: ۶۴
۳۵ فاطر: ۳۶ ۷۴ المدثر: ۲۸، ۲۹ ۷۶ الدهر (الإنسان): ۴
۸۷ الأعلى: ۱۲

آگ کے کپڑے جہنمیوں کا لباس

یہ دو (فریق) ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار (کے بارے) میں جھگڑتے ہیں۔ تو جو کافر ہیں ان کے لئے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ (اور) ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا (19:22)

اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی (20:22)

مزید حوالہ 7:41 14:50 41:7 50:14 صفحہ 893,850

آگ کا عذاب

منہ جھلس جائیں گے اور کھالیں گل جائیں گی جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں گل (اور جل) جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ (ہمیشہ) عذاب (کا مزہ) چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے (56:4)

ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور ان کے مونہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی (50:14)

اے کاش کافر اس وقت کو جانیں جب وہ اپنے مونہوں پر سے (دوزخ کی) آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا (39:21)

آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے (104:23)

بھلا جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو (24:39)

مزید حوالہ 36:35 64:33 20,19:22
صفحہ 899 889 893
12:87 4:76 29,28:74
899 894 888

**YOKES ROUNDED THEIR NECKS
BOUNDED TOGETHER IN FETTERS**

You will see the guilty on that Day linked together in chains. (14:49)

We have put on their necks fetters (yokes) reaching to the chins, so that they are made stiff necked. (36:8)

When yokes (Carcans) are about their necks and chains. They are dragged (40:71)

will be commanded): Take him and fetter him (69:30)

and then expose him to Hell fire (31)

and then insert him in a chain thereof the length is seventy cubits. (32)

No doubt with Us are heavy fetters and a raging fire, (73:12)

We have prepared for disbelievers chains and shackles and a blaze of fire. (76:4)

يَكُونُ الْمَجْرُمُونَ مُقْرَنِينَ
فِي الْأَصْفَادِ وَالْأَغْلَالِ

وَتَرَى الْمَجْرُمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿١٤﴾
﴿١٤ ابراهيم ٤٩﴾

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٣٦﴾
﴿٣٦ يس ٨﴾

إِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٤٠﴾
﴿٤٠ المؤمن ٧١﴾

خُذُوهُ وَغُلُوهُ ﴿٣٠﴾
﴿٣٠ الحاقة ٦٩﴾

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوهُ ﴿٣١﴾
﴿٣١ الحاقة ٦٩﴾

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾
﴿٣٢ الحاقة ٦٩﴾

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾
﴿١٢ المزمل ٧٣﴾

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾
﴿٤ الدهر ٧٦﴾

وللمزيد راجع الفرقان ٢٥ الفرقان ١٣ ٣٤ سباء ٢٣
الصفحة ٨٩٩، ٨٣٦

گردنوں میں طوق اور پاؤں میں بیڑیاں

اور اس دن تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں (49:14)

ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک (پھنسے ہوئے) ہیں جن سے ان کے سر اوپر کوالٹ گئے ہیں (8:36)

جب کہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی (اور) گھیٹے جائیں گے (71:40)

(حکم ہوگا کہ) اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو (30:69)

پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو (31:69)

پھر زنجیر سے جکڑ دو جس کی ناپ ستر ذراع (ہاتھ) ہے (32:69)

کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے (12:73)

ہم نے کافروں کے لئے زنجیروں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے (4:76)

مزيد حوالہ 33:34 13:25
صفحة 836, 899

**THEY WILL BE DRAGGED FACE DOWNED
THROUGH THE FIRE**

Those who will be gathered on their faces to Hell: Such are worse in plight and further from the right road. (25:34)

And whoso brings an ill deed, such will be flung down on their faces in the fire. You are rewarded nothing but what you did? (27:90)

On the Day when they are dragged into the Fire upon their faces (it will be led to them): Feel the touch of Hell (54:48)

يسحب أصحاب الجحيم
على وجوههم في النار

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سُوءُ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾
﴿٣٤ الفرقان ٢٥﴾

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَلَبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾
﴿٩٠ النمل ٢٧﴾

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ ﴿٥٤﴾
﴿٥٤ القمر ٤٨﴾

منہ کے بل دوزخ میں گھیٹے جائیں گے

جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کئے جائیں گے ان کا ٹھکانا بھی برا ہے اور وہ راستے سے بھی ہٹے ہوئے ہیں (34:25)

اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ تم کو ان ہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو (90:27)

اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھیٹے جائیں گے۔ اب آگ کا مزہ چکھو (48:54)

THEY WILL BE THRUSTED DOWN TO THE FIRE OF HELL IRRESISTIBLY

المجرمون يدعون إلى نار جهنم

سختی کے ساتھ آتش جہنم میں دھکیلے جائیں گے

Who play in talk of grave matters; (52:12)

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾
﴿٥٢ الطور ١٢﴾

جو اپنی بے ہودگی میں اچھل کود رہے ہیں (12:52)

The Day when they are thrust with a (disdainful) thrust, into the fire of Hell. (52:13)

يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دُخَانًا ﴿١٣﴾
﴿٥٢ الطور ١٣﴾

جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جایا جائے گا (13:52)

(And it will be said to them): This is the Fire, which you were wont to deny. (52:14)

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾
﴿٥٢ الطور ١٤﴾

یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے (14:52)

Is this magic, or do not you see? (52:15)

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾
﴿٥٢ الطور ١٥﴾

(اب بتاؤ) تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا (15:52)

Endure the heat thereof, and whether you are patient of it or impatient of it is all one for you. You are only being paid for what you used to do. (52:16)

إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ؕ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾
﴿٥٢ الطور ١٦﴾

اس (دوزخ) میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے یکساں ہے جو کام تم کیا کرتے تھے (یہ) ان ہی پر تم کو بدلہ مل رہا ہے (16:52)

More Reference : 38:59 Page 837

وللمزيد راجع ٣٨ ص ٥٩ الصفحة ٨٣٧

مزید حوالہ 38:59 صفحہ 837

NO ESCAPE FROM THE CHASTISEMENT WHEN THEY WISH TO GET AWAY THEREFROM THEY WILL BE FORCED INTO IT AGAIN

الفاسقون لا يزالون ما كثر في جهنم ولا يقدر على الخروج منها

دوزخ سے فرار ناممکن ہوگا جب چاہیں کہ اس سے نکل جائیں تو دوبارہ لوٹا دیئے جائیں گے

And for them are hooked rods of iron. (22:21)

وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾
﴿٢٢ الحج ٢١﴾

اور ان (کے مارنے ٹھوکنے) کیلئے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے (21:22)

Whenever, in their anguish, they would go forth therefrom they are driven back therein and (it will be said to them): Taste the doom of burning. (22:22)

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾
﴿٢٢ الحج ٢٢﴾

جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج (وتکلیف کی وجہ) سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے اور (کہا جائے گا کہ) جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو (22:22)

And as for those who do evil, their retreat is the Fire. Whenever they desire to issue forth therefrom, they are brought back there. To them it will be said: Taste the torment of the Fire, which you used to deny. (32:20)

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾
﴿٣٢ السجدة ٢٠﴾

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے (رہنے کے) لئے دوزخ ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیئے جائیں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو (20:32)

And Surely We make them taste the lower punishment before the greater, that haply they may return. (32:21)

وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾
﴿٣٢ السجدة ٢١﴾

اور ہم ان کو (قیامت کے) بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں شاید (ہماری طرف) لوٹ آئیں (21:32)

More Reference : 2:167 Page 835

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٦٧ الصفحة ٨٣٥

مزید حوالہ 2:167 صفحہ 835

ANGELS AS WARDENS OF HELL

حراس جہنم

دوزخ کی نگرانی کے لئے فرشتے

Above it are nineteen. (74:30)

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

اس پر انیس داروغہ ہیں (30:74)

﴿٧٤ المدثر ٣٠﴾

More Reference : 40:49 43:77 67:8 74:31

والمعزید راجع ٤٠ المنومن (غافر) ٤٩: ٤٣ الزخرف: ٧٧
٦٧ الملك: ٨ ٧٤ المدثر: ٣١ ٩٦ العلق: ١٨

مزید حوالہ 40:49 43:77 67:8 74:31
صفحہ 18:96 628, 896, 899, 900

Page 900, 899, 896, 628

SCOFFING OF DISBELIEVERS

REVELATION OF SMALL NUMERICAL STRENGTH REGARDING APPOINTMENT OF NINETEEN ANGELS AS GUARDIANS OF HELL

عدد الزبانية واستهزاء الكفار منه

دوزخ کے فرشتوں کی تعداد پر

اہل کتاب کا (استہزاء) ہنسی اڑانا

We have appointed only angels to be wardens of the Fire, and their number We have made to be a stumbling block for those who disbelieve; that those to whom the Scripture has been given may have certainty, and that believers may increase in faith; and that those to whom the Scripture has been given do not doubt; and that those in whose hearts there is disease, and disbelievers, may say: What means Allah by this similitude? Thus Allah sends astray whom He wills, while He guides whomever He wishes. None knows the hosts of your Lord except Him. This is nothing else than a Reminder to mortals. (74:31)

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۗ هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾
﴿٧٤ المدثر ٣١﴾

اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں۔ اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لئے مقرر کیا ہے (اور) اس لئے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں۔ اور اس لئے کہ جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق کا) مرض ہے اور (جو) کافر (ہیں) کہیں کہ اس مثال (کے بیان کرنے) سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ تو نبی آدم کے لئے نصیحت ہے (31:74)

SINNERS WILL FREELY CONFESS ON QUESTIONING OF THE ANGEL

اعتراف أصحاب النار بذنوبهم عند خزنة جهنم

داروغہ جہنم کے سامنے اقرار جرم

And those who disbelieve are driven to hell in troops till, when they reach it and the gates thereof are opened, and the wardens thereof say to them: Came there not to you messengers of your own, reciting to you the revelations of your Lord and warning you of the meeting of this your Day? They say; yes! Indeed. But the word of doom for disbelievers has proved true. (39:71)

وَسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾
﴿٣٩ الزمر ٧١﴾

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے۔ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو گیا (71:39)

It will be said (to them): Enter you the gates of Hell to dwell therein. Thus hapless is the journey's end of the sinners. (39:72)

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾
﴿٣٩ الزمر ٧٢﴾

کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہمیشہ اس میں رہو گے سرکشی کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے (72:39)

As would burst with rage. Whenever a (fresh) host is flung there the wardens thereof ask them: Came there to you no warner? (67:8)

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾
﴿٦٧ الملك ٨﴾

گو یا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ (8:67)

They will say: Yes! Indeed, a warner came to us; but we denied and said: Allah has not sent down any message; you are in nothing but a great error. (67:9)

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾

﴿٩﴾ ٦٧ الملك

And they say: Had we been wont to listen or have sense, we had not been among the dwellers in the flames. (67:10)

وَقَالُوا لَوْلَا أَن سَمِعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

﴿١٠﴾ ٦٧ الملك

So they acknowledge their sins; but far removed (from mercy) are the dwellers in the flames. (67:11)

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

﴿١١﴾ ٦٧ الملك

وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا۔ لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور کہا اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ تم تو بڑی غلطی میں (پڑے ہوئے) ہو (9:67)

اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے (10:67)

پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ سو دوزخیوں کے لئے (اللہ کی رحمت) سے دوری ہے (11:67)

More Reference : 43:77 67:8 Page 899, 869

واللہ اعلم: ٤٣ الزخرف: ٧٧ ٦٧ الملك: ٨

مزید حوالہ: 43:77 67:8 صفحہ 869, 899

ENVIRONMENT OF HELL

بیٹہ جہنم

دوزخ کا ماحول

HELL - A WRETCHED PLACE TO DWELL

جہنم بس المہاد

جہنم۔ برا ٹھکانہ

It is wretched as abode and station; (25:66)

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

﴿٦٦﴾ ٢٥ الفرقان

اور دوزخ ٹھیرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے (66:25)

This (is for the righteous). And for the transgressors there will be an evil journey's end. (38:55)

هَذَا وَرَآءَ لِلطَّغْيِينِ لَشَرِّ مَا بُدِئَ بِهٖ ﴿٥٥﴾

﴿٥٥﴾ ص ٣٨

یہ نعمتیں تو فرمانبرداروں کے لئے ہیں اور سرکشوں کے لئے سو برا ٹھکانا ہے (55:38)

Hell, where they have to endure, an evil resting place. (38:56)

جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَمِنْ شَرِّ الْمَهَادِ ﴿٥٦﴾

﴿٥٦﴾ ص ٣٨

(یعنی) دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اور وہ بری آرام گاہ ہے (56:38)

NO COOLNESS SHALL THEY TASTE THEREIN

یحرم أصحاب النار من برد

دوزخ میں ٹھنڈک میسر نہ ہوگی

Therein taste they neither coolness nor (any) drink (78:24)

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

﴿٢٤﴾ ٧٨ النبأ

وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ (کچھ) پینا (نصیب ہوگا) (24:78)

NO SHELTER OR ANY SHADE OF COOLNESS

لا يوجد ظل

کوئی سایہ نہیں ملے گا

(It will be said to them:) Depart to that (doom) which you used to deny; (77:29)

إِنطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِ تكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾

﴿٢٩﴾ ٧٧ المرسلات

جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے (اب) اس کی طرف چلو (29:77)

Depart the shadow falling threefold. (77:30)

إِنطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي شُلِّثِ شُعَيْبٍ ﴿٣٠﴾

﴿٣٠﴾ ٧٧ المرسلات

(یعنی) اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں (30:77)

(Which yet is) no relief nor shelter from the flame. (77:31)

لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ النَّارِ ﴿٣١﴾

﴿٣١﴾ ٧٧ المرسلات

نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ شعلے سے بچاؤ (31:77)

SPARKS OF HELL CLOUDS OF FIRE - FLAME, SMOKE

ظل عن النار. شواظ ونحاس

آگ کے ساہبان شعلے اور دھواں اور چنگاریاں

They have an awning of fire above them and beneath them a dais (of fire). With this Allah does appall (frightens) His bondmen. O My bondmen, therefore fear Me! (39:16)

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يُعْبَادُونَ فَاتَّقُونَ ﴿١٦﴾

﴿١٦﴾ ٣٩ الزمر

ان کے اوپر تو آگ کے ساہبان ہوں گے اور نیچے (اس کے) فرش ہوں گے۔ یہ وہ (عذاب) ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو (16:39)

There will be sent, against you
both, heat of fire and smoke, and
you will not escape. (55:35)

throws up sparks like the castles,
(77:32)

as it might be camels of bright
yellow hue. (77:33)

GLOWING FIRE

torched by burning fire, (88:4)

Detail Consult : 101:11 Page 888

THE FIRE WHICH ALLAH (SWT) HAS KINDLED TO BLAZE

(s) the fire of Allah, kindled, (104:6)

WHIPPING FROST - PARALYZING COLD - ICE COLD DRAUGHT BITTER AND INTENSELY COLD FLUID

like it is scalding water and an ice-
cold draught, so let them taste it,
(78:57)

Except scorching water and slopes
of paralyzing cold. (78:25)

Reference : 3:117 106:2
Page 427, 438

RAGING SIGH OF HELL (WITH HUNGER AND FURY)

When it sees them from afar, they
hear the cracking and the roar
thereof. (25:12)

And for those who disbelieve in
the Lord there is the doom of Hell,
a hopeless journey's end! (67:6)

When they are flung therein they
hear its roaring as it boils up, (67:7)

HELL ONE OF THE MIGHTIEST PORTENTS

By the Moon (74:32)

And the night when it withdraws (74:33)

And the dawn when it shines forth,
(74:34)

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا
تَنْتَصِرَانِ ﴿٥٥﴾

﴿٥٥ الرحمن ٣٥﴾

إِنَّمَا تَرَوْنَهَا بِأَشْرَارِ كَالْقَصْرِ ﴿٧٧﴾

﴿٧٧ المرسلت ٣٢﴾

كَأَنَّهُ جِمَلَاتٌ صُفْرَةٌ ﴿٧٧﴾

﴿٧٧ المرسلت ٣٣﴾

نَارٌ حَامِيَةٌ

تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ ﴿٨٨ الغاشية ٤﴾

وللتفصيل راجع ١٠١ القارعة: ١١: الصفحة ٨٨٨

نار الله الموقدة

نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ﴿٦﴾ ﴿١٠٤ الهمزة ٦﴾

غَسَاقٌ

هَذَا أَفْلِيدٌ وَقُوَّةٌ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ﴿٥٧﴾

﴿٣٨ ص ٥٧﴾

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ﴿٢٥﴾

﴿٧٨ النبأ ٢٥﴾

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ١١٧: ١٠٦ قریش: ٢
الصفحة ٤٢٧، ٤٣٨

زفير جهنم

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا
وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾

﴿٢٥ الفرقان ١٢﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَيَسَّ الْمَصِيدُ ﴿٦٧﴾

﴿٦٧ الملك ٦﴾

إِذَا الْقُوفُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴿٧﴾

﴿٦٧ الملك ٧﴾

جهنم شی "مہیب"

كَلَّا وَالْقَمَرَ ﴿٣٢﴾ ﴿٧٤ المدثر ٣٢﴾

وَالْيَلِيلَ إِذَا دُبِّرَ ﴿٣٣﴾ ﴿٧٤ المدثر ٣٣﴾

وَالصُّبْحَ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ ﴿٧٤ المدثر ٣٤﴾

تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم
مقابلہ نہ کر سکو گے (35:55)

اس سے آگ کی (اتنی اتنی بڑی) چنگاریاں اڑتی ہیں
جیسے نکل (32:77)

گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں (33:77)

دہکتی ہوئی آگ

دہکتی آگ میں داخل ہوں گے (4:88)

تفصیل کیلئے دیکھئے 11:101 صفحہ 888

اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ

وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے (6:104)

سخت سردی کا عذاب

یہ بدبودار پانی اور شدید ٹھنڈ ہے اب اس کے مزے
چکھیں (57:38)

بدبودار پانی اور کڑا کے کی سردی (25:78)

مزید حوالہ 117:3 2:106
صفحہ 438, 427

دوزخ کا شور - غیض و غضب سے چیننا اور چلانا

جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو (غضبناک ہو رہی
ہوگی اور یہ) اس کے جوش (غضب) اور چیننے چلانے کو
سنیں گے (12:25)

اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے
لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے (6:67)

جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیننا چلانا
سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی (7:67)

دوزخ - بہت بڑی آفت

ہاں (ہاں ہمیں) چاند کی قسم (32:74)
اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے (33:74)
اور صبح کی جب روشن ہو (34:74)

This is one of the greatest (portents) (74:35)

إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبْرَى ﴿٧٤﴾
﴿٧٤ المدثر ٣٥﴾

کہ وہ (آگ) ایک بہت بڑی (آفت) ہے (35:74)

As a warning to humanity, (74:36)

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٧٤﴾
﴿٧٤ المدثر ٣٦﴾

(اور) نبی آدم کے لئے موجب خوف (36:74)

THEY WILL BECOME IMMORTAL
(NEITHER TO LIVE NOR TO DIE)

أصحاب النار لا يموتون

طلب کرنے کے باوجود موت کبھی نہیں آئے گی
(نہ جی سکیں گے اور نہ مر سکیں گے)

Which he sips but can hardly swallow, and death comes to him from every side while yet he cannot die, and before him is a harsh doom. (14:17)

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پئے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا (17:14)

Anyone who comes guilty to his Lord, for him is Hell. There he will neither die nor live. (20:74)

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿٧٤﴾
﴿٢٠ طه ٧٤﴾

جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جنے گا (74:20)

And when they are flung into a narrow place thereof, chained together, they pray for destruction there. (25:13)

وَإِذَا الْقَوَاصِمُ مَكَانًا ضَيِّقًا مُمْقِرِينَ دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿٢٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ١٣﴾

اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں (زنجیروں میں) جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے (13:25)

Pray not this day for one destruction, but pray for many destructions! (25:14)

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاذْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾
﴿٢٥ الفرقان ١٤﴾

آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو (14:25)

But as for those who disbelieve, for them is fire of Hell; it takes not complete effect upon them so that they can die, nor is its torment lightened for them. Thus We punish every ingrate. (35:36)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مَرَّةً عَذَابُهَا كَذَلِكَ نُجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾
﴿٣٥ فاطر ٣٦﴾

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (36:35)

And they cry: O master! Let your Lord make an end of us. He will say here you must remain. (43:77)

وَنَادُوا رَبَّهُمْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنتُمْ ﴿٧٧﴾
﴿٤٣ الزخرف ٧٧﴾

اور پکاریں گے کہ اے مالک (فرشتہ) تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ (اسی حالت میں) رہو گے (77:43)

We brought the Truth to you, but you were, most of you, averse to the Truth. (43:78)

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونٌ ﴿٧٨﴾
﴿٤٣ الزخرف ٧٨﴾

ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے رہے (78:43)

Or do they determine anything (against the Prophet)? We (also) are determining. (43:79)

أَمْ أَمْرًا مَرًّا قَالُوا لَا نَبْرُمُونَ ﴿٧٩﴾
﴿٤٣ الزخرف ٧٩﴾

کیا تمہارے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ ارادہ کرنے والے ہیں (79:43)

He who will be flung to the great fire (87:12)

الَّذِي يَصَلَّى النَّارَ الْكُبْرَى ﴿١٢﴾
﴿٨٧ الاعلى ١٢﴾

جو (قیامت کو) بڑی (تیز) آگ میں داخل ہوگا (12:87)

Wherein he will neither die nor live. (87:13)

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿١٣﴾
﴿٨٧ الاعلى ١٣﴾

پھر وہاں نہ مرے گا نہ جنے گا (13:87)

EVERLASTING ABODE FOR SINNERS

عذاب جہنم ابدی

جہنم کا عذاب دائمی ہوگا

They will wish to come forth from the Fire, but they will not come forth from it. Theirs will be a lasting doom. (5:37)

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ
مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾
﴿٥ المائدة ٣٧﴾

(ہر چند) چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب ہے (37:5)

Then it will be said to those who dealt unjustly: Taste the torment of eternity. Are you requited other than what you used to earn? (10:52)

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ
هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾
﴿١٠ يونس ٥٢﴾

پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو (اب تم انہی (اعمال) کا بدلہ پاؤ گے جو (دنیا میں) کرتے رہے ہو (52:10))

Allah has cursed the disbelievers, and has prepared for them a flaming fire, (33:64)

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٦٤﴾

بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے (جہنم کی) آگ تیار کر رکھی ہے (64:33)

Wherein they will abide forever. They will find (then) no protecting friend or helper. (33:65)

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا ﴿٦٥﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٦٥﴾

اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار (65:33)

THE SUFFERINGS WILL NOT BE LIGHTENED

لا تخفيف عن العذاب في جهنم

عذاب کی شدت کم نہ ہوگی

Those who disbelieve, and die while they are disbelievers; on them is the curse of Allah and of angels and of men combined. (2:161)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ
عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾
﴿٢ البقرة ١٦١﴾

جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسے لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت (2:161)

They will ever dwell therein the torment will not be lightened for them, neither will they be grieved. (2:162)

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾
﴿٢ البقرة ١٦٢﴾

وہ ہمیشہ اسی (لعنت) میں (گرفتار) رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں (کچھ) مہلت ملے گی (162:2)

And when those who did wrong behold the doom, it will not be made light for them, nor will they be grieved. (16:85)

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٥﴾
﴿١٦ النحل ٨٥﴾

اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی (85:16)

And those in the Fire say to the guards of Hell: Entreat your Lord that He relieve us the torment, for a day (at least) (40:49)

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا
رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾
﴿٤٠ المومن ٤٩﴾

اور جو لوگ آگ میں (جل رہے) ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو (کم سے کم) ہم سے عذاب ہلکا کر دے (49:40)

The guilty are immortal in Hell's torment. (43:74)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّجْتَمِعٍ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾
﴿٤٣ الزخرف ٧٤﴾

(اور کفار) گنہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے (74:43)

It is not relaxed for them, and they despair therein. (43:75)

لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾
﴿٤٣ الزخرف ٧٥﴾

جو ان سے ہلکانہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناامید ہو کر پڑے رہیں گے (75:43)

We wronged them not, but it was they who did the wrong. (43:76)

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾
﴿٤٣ الزخرف ٧٦﴾

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ بلکہ وہی (اپنے آپ پر) ظلم کرتے تھے (76:43)

So taste (of that which you have earned). No increase do We give you except of torment. (78:30)

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾
﴿٧٨ النبأ ٣٠﴾

سو (اب اپنے کئے کا) مزہ چکھو۔ ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے (30:78)

More Reference : 40:47 Page 837

والمزيد راجع ٤٠ المومن (غافر): ٤٧ الصفحة ٨٣٧

مزيد حوالہ 40:47 صفحہ 837

THE SINNERS WILL DELIBERATELY BE IGNORED IN THE HELL AS THEY USED TO IGNORE ALLAH (SW) IN WORLDLY LIFE

ينسى أصحاب النار
كما نسوا الله في الحياة الدنيا
فيدوقون عذاب الخلد

گنہگاروں کو دوزخ میں ڈال کر
اسی طرح بھلا دیا جائے گا جس طرح
وہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بھولے رہے

Who took their religion for a sport and pastime, and whom the life of the world beguiled. So this Day We have forgotten them even as they forgot the meeting of this Day and as they used to deny Our tokens. (7:51)

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّبَهُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسُوهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ
يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾
﴿٧ الاعراف ٥١﴾

جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے (51:7)

So taste (the evil of your deeds). For as much as you forgot the meeting of this your Day, We forget you. Taste the doom of immortality because of what you used to do. (32:14)

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنْكَارًا
سَيِّئًا كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنْكَارًا
تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾
﴿٣٢ السجدة ١٤﴾

سو (اب آگ کے) مزے چکھو اس لئے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو (14:32)

And it will be said: This Day We forget you, even as you forgot the meeting of this your Day; and your habitation is the Fire, and there is none to help you. (45:34)

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسُوكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾
﴿٤٥ الجاثية ٣٤﴾

اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں (34:45)

This, for as much as you made the revelations of Allah a jest, and the life of the world beguiled you. Therefore this Day they come not forth from there, nor can they make amends (45:35)

ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّبَكُمْ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا
هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾
﴿٤٥ الجاثية ٣٥﴾

یہ اس لئے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی (35:45)

More Reference : 20:126 40:49
Page 805, 900

والمزيد راجع ٢٠ طه ١٢٦: ٤٠ المومن (غافر): ٤٩
الصفحة ٩٠٠, ٨٠٥

مزيد حوالہ 20:126 40:49
صفحة 900, 805

AVERSION OF DISBELIEVERS WITH THEMSELVES IN THE HELL WILL NOT BE GREATER THAN AVERSION OF ALLAH (SWT) TO THEM IN THEIR WORLDLY LIFE

And they cry for help there, (saying): Our Lord! Release us; we will do right, not (the wrong) that we used to do. Did not We grant you a life long enough for who reflected to reflect therein? And the warner came to you. Now taste (the flavor of your deeds), for evildoers have no helper. (35:37)

(On that Day) those who disbelieve will be informed that Allah's abhorrence was more terrible than your abhorrence, when you were called to the faith but you used to refuse. (40:10)

They will say: Our Lord! Twice have You made us to die, and twice have You made us to revive. Now we confess our sins. Is there any way to go out? (40:11)

It is said to them): This is (your plight) because, when Allah only was invoked, you disbelieved, but when some partner was ascribed to Him you were believing. But the command belongs only to Allah, the Sublime, the Majestic. (40:12)

PLOTTING OF DISBELIEVERS WILL NOT HELP THEM OUT

A Day in which their guile will avail them nothing nor will they be helped. (52:46)

This is the Day of Decision, We have brought you and the men of old together. (77:38)

Now you have any wit, outwit Me. (77:39)

كان مقت الله أكبر
من مقت الكافرين أنفسهم

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَمَا تَصِيرُ ﴿٣٥﴾
(فاطر ٣٧)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿٤٠﴾
(المؤمن ١٠)

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اثْنَتَيْنِ وَأُحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٠﴾
(المؤمن ١١)

ذَلِكُمْ يَا آدَمُ إِذْ دَعَى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تَأْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿٤٠﴾
(المؤمن ١٢)

لا یعنی عن الكافرين كيدهم شيئا

يَوْمَ لَا يَغْنَى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾
(الطور ٤٦)

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَىٰ نَ ﴿٧٧﴾
(المرسلات ٣٨)

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿٧٧﴾
(المرسلات ٣٩)

جس قدر کافر دوزخ میں اپنے آپ سے بیزار ہوں گے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے اس سے بھی بڑھ کر بیزار تھا

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے (اب) ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو (پہلے) کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ تو اب مزے چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (37:35)

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے بے شک کہہ دیا جائے گا کہ جب تم (دنیا میں) ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بے زار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بے زار ہو رہے ہو (10:40)

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی۔ ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ (11:40)

یہ اس لئے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے تو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو (سب سے) اوپر (اور سب سے) بڑا ہے (12:40)

کوئی داؤ۔ مکر و فریب کامیاب نہ ہوگا

جس دن ان کا کوئی مکر کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو (کہیں سے) مدد ہی ملے (46:52)

یہی فیصلے کا دن ہے (جس میں) ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے (38:77)

اگر تم کو کوئی داؤ آتا ہو تو مجھ سے کر چلو (39:77)

Reference : 30:57 40:52 66:7 77:36
Page 830

ولمزيد راجع ٣٠ الروم ٥٧: ٤٠ المؤمن (غافر) ٥٢
٣٦ التحريم ٧: ٧٧ المرسلات ٣٦

مزید حوالہ 36:77 7:66 52:40 57:30
صفحہ 830

YEARS LONG ENJOYMENT OF WORLDLY LIFE WILL NOT BENEFIT THEM

Have you then seen, We content them for (long) years, (26:205)

لا یعنی عن المجرمين ما كانوا يمتعون

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾
(الشعراء ٢٠٥)

برسوں کے دنیاوی فائدے کسی کام نہ آئیں گے

بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں (205:26)

And then comes that which they were promised, (26:206)

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾
﴿٢٠٦ الشعراء﴾

(How) that wherewith they were contented avails them nothing? (26:207)

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ تَوَكُّرُهُمْ تَاكُنُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾
﴿٢٠٧ الشعراء﴾

THE REJECTORS OF TRUTH WILL NOT FIND THOSE PEOPLE AS THEIR HELLISH COMPANIONS WHOM THEY USED TO NUMBER AMONG BAD ONES

And they shall say: What ails us that we behold not men whom we used to count among the wicked? (38:62)

لَا يَجِدُونَ أَهْلَ النَّارِ أَناسًا كَانُوا يَعُدُّونَهُمْ أَشْرَارًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٦٢﴾
﴿٣٨ ص ٦٢﴾

Did we take them (wrongly) for a laughing-stock, or have our eyes missed them? (38:63)

أَلَمْ نَتَّخِذْ لَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾
﴿٣٨ ص ٦٣﴾

Surely this is the truth: The wrangling of the dwellers in the Fire. (38:64)

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾
﴿٣٨ ص ٦٤﴾

THE DAY OF JUDGEMENT

For Detail Consult: chapter of The day of judgement
Page : 782,798

يوم الدين

وللتفصيل راجع باب يوم الدين
الصفحة ٧٩٨،٧٨٢

MEETINGS AND DIALOGUES ON THE DAY OF JUDGEMENT

For Detail Consult : chapter of Meetings and dialogues on the Day of judgement
Page : 833

المكالية واللقاءات يوم القيامة

وللتفصيل راجع باب المكالية واللقاءات يوم القيامة
الصفحة ٨٣٣

ULTIMATE FATE OF POLYTHEISTS AND IDOLATERS

For Detail Consult : Chapter of Ultimate fate of polytheists and idolaters
Page : 846

مصير المشركين

وللتفصيل راجع باب مصير المشركين
الصفحة ٨٤٦

ULTIMATE FATE OF THE DISBELIEVERS OF REVEALED SCRIPTURES

For Detail Consult : Chapter of Ultimate fate of the disbelievers of revealed Scriptures
Page : 850

الكافرون بالكتب المنزلة ومصيرهم يوم الحساب

وللتفصيل راجع باب الكافرون بالكتب المنزلة ومصيرهم يوم الحساب
الصفحة ٨٥٠

پھر ان پر وہ (عذاب) آواقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (206:26)

تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے (207:26)

منکرین ان لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں نہ دیکھیں گے جنہیں وہ دنیا کی زندگی میں برا شمار کرتے تھے

اور کہیں گے۔ کیا سبب ہے کہ (یہاں) ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ (62:38)

کیا ہم نے ان سے مذاق کیا تھا یا (ہاری) آنکھیں ان (کی طرف) سے پھر گئی ہیں؟ (63:38)

بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے (64:38)

يوم حساب - يوم جزا

تفصیل کیلئے دیکھئے باب يوم حساب - يوم جزا
صفحة 798,782

قیامت کے روز سوال و جواب اور ملاقاتیں

تفصیل کیلئے دیکھئے باب قیامت کے روز سوال و جواب اور ملاقاتیں
صفحة 833

مشركين کا انجام

تفصیل کیلئے دیکھئے باب مشركين کا انجام
صفحة 846

منكرين كتب سماوية اور يوم حساب (آسمانی صحیفوں کے نہ ماننے والوں کا انجام)

تفصیل کیلئے دیکھئے باب منكرين كتب سماوية اور يوم حساب (آسمانی صحیفوں کے نہ ماننے والوں کا انجام)
صفحة 850

نقص انبیاء کرام علیہم السلام
اور کہیں ان کے حالات

قصص الانبياء عليهم السلام
والامم الماضية

NARRATIONS OF HOLY PROPHETS (PBUH)
BYGONE FOLKS AND TOWNSHIPS

نقص قرآنی کے بیان کا مقصد

الغرض من القصص
فی القرآن الحکیم

OBJECT OF NARRATION
OF BYGONE EVENTS

آپ سے اللہ چاہتا ہے کہ (اپنی آیتیں) کھول کھول کر بیان فرمائے اور آپ کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے۔ اور آپ پر مہربانی کرے اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (26:4)

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣٦﴾
﴿٤ النساء ٢٦﴾

Allah would explain to you and guide you by the examples (customs) of those who were before you, and would turn to you in mercy. Allah is Knower, Wise. (4:26)

یہ بستیاں جن کے حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے۔ مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے (101:7)

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾
﴿٧ الاعراف ١٠١﴾

Such were the townships. We relate the news of them to you. Their messengers came to them with clear proofs (of Allah's sovereignty), but they were not in good to believe because they had before denied. Thus Allah seals up the hearts of disbelievers. (7:101)

یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں اور اس سے پہلے نہ آپ ہی ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم (ہی ان سے واقف تھی) تو صبر کریں کہ انجام پر ہیزگاروں ہی کا (اچھا) ہے (49:11)

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾
﴿١١ هود ٤٩﴾

Such are some of the stories of the unseen, which We reveal to you (Muhammad). You yourself know it not, nor did your folk (know it) before this. So be patient. The sequel is for those who ward off (evil). (11:49)

ان (قصوں) میں ان لوگوں کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈریں عبرت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کئے جائیں گے اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب (اللہ کے روبرو) حاضر کئے جائیں گے (103:11)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجُوعُ لَدَاهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾
﴿١١ هود ١٠٣﴾

Herein there is a portent for those who do fear the doom of the Hereafter. That is a Day to which mankind will be gathered, and that is a Day that will be witnessed. (11:103)

(اے محمد) اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ اور ان (قصص) میں آپ کے پاس حق پہنچ گیا اور (یہ) مومنوں کے لئے نصیحت اور عبرت ہے (120:11)

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنشِئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾
﴿١١ هود ١٢٠﴾

And all that We relate to you of the story of the messengers is in order that thereby We may make firm your heart. And herein has come to you the Truth as well as a lesson and a reminder for believers. (11:120)

اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا بھلا آپ ان میں سے کسی ایک کی آہٹ پاتے ہیں یا ان کی آواز کی بھنگ بھی آپ کے کان میں پڑتی ہے (98:19)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَتَمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ﴿١٩﴾
﴿١٩ مريم ٩٨﴾

And how many generation before them have We destroyed? Can you (Muhammad) see a single man of them, or hear from them the slightest sound? (19:98)

اس طرح ہم آپ سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے نصیحت (کی کتاب) عطا فرمائی ہے (99:20)

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٢٠﴾
﴿٢٠ طه ٩٩﴾

Thus We relate to you (Muhammad) some tidings of that which happened previously, and We have given you from Our presence a Reminder. (20:99)

Or has he not had news of what is in the scrolls of Moses (53:36)

And Abraham who always kept his word: (53:37)

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ فِي صُحُفٍ مُّوسَىٰ ﴿٥٣﴾
النجم ٣٦ ﴿﴾
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٥٣﴾
النجم ٣٧ ﴿﴾

کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی (36:53)
اور ابراہیم کی جنہوں نے (حق اطاعت و رسالت) پورا کیا (37:53)

More Reference: 7:74 10:71 19:41 29:15,38 46:21 Page 436, 918, 944, 928, 935, 930

والتفصیل راجع ٧ الأعراف: ٧٤ ١٠ یونس: ٧١ ١٩ مریم: ٤١ ٢٩ العنکبوت: ٢٨، ١٥ ٤٦ الأحقاف: ٢١

تفصیل کیلئے دیکھئے 7:74 10:71 19:41 29:15,38 46:21 صفحہ 436, 918, 944, 928, 935, 930

THE STORY OF ALL THE MESSENGERS HAS NOT BEEN NARRATED IN HOLY QURAN

And messengers We have mentioned to you previously and other messengers We have not yet told to you and Allah spoke directly to Moses; (4:164)

That is (something) of the account of the townships' (which were destroyed of old). We convey it to you (Muhammad). Some of them are still remaining and some (already) mown down. (11:100)

We sent messengers before your time, among them those of whom We have mentioned you, and some of whom We have not told to you; and it was not given to any messenger that he should bring a miracle other than by Allah's leave, but when Allah's commandment comes (the cause) is judged aright, and the followers of vanity will then be lost. (40:78)

ALLAH (SWT) HAS ENDOWED SOME OF THE PROPHETS TO EXCEL OVER THE OTHERS

Of those messengers, some of whom We have caused to excel others, and of whom there are some to whom Allah spoke while some of them He exalted (above others) in degrees and We gave Jesus son of Mary clear proofs (of Allah's Sovereignty) and We supported him with the Holy Spirit.-- (2:253) PART

لم يقصص جميع الرسل في القرآن الحكيم

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿٤﴾
النساء ١٦٤ ﴿﴾

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْقُرَىٰ نَقِصَةٌ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١١﴾
هود ١٠٠ ﴿﴾

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا جَاءَ اَمْرٌ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٠﴾
المنومن ٧٨ ﴿﴾

پہلے تمام پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا گیا

اور آپ سے پہلے کے بہت سے پیغمبروں کے حالات ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات بیان نہیں کئے اور موسیٰ سے تو اللہ نے صاف طور پر کلام کیا (4:164)

یہ (پرانی) بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کا ہمیں نہیں ہو گیا (11:100)

اور ہم نے آپ سے پہلے (بہت سے) پیغمبر بھیجے۔ ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات آپ سے بیان کر دیئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کئے۔ اور کسی پیغمبر کا مقدر نہ تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لائے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے (40:78)

فضل الله بعض الرسل على بعض

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَاتَّبَعْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبِكْرَتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴿٢٥٣﴾
البقرة ٢٥٣ ﴿﴾ جزء

اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت عطا کی

یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کئے اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے ان کو مدد دی۔ (253:2) جزو

More Reference: 17:55 27:15 Page 248, 971

والمزید راجع ١٧ بنی اسرائیل ٥٥ ٢٧ النمل ١٥ الصفحة ٢٤٨، ٩٧١

مزید حوالہ 17:55 27:15 صفحہ 248, 971

THE DESCRIPTIVE NARRATION OF BYGONE GENERATIONS IS A CRYSTAL PROOF OF QURAN BEING A DIVINE WRIT

More Reference: 3:44 7:101 11:49,100,120 12:102 20:99 28:44,45,46 32:23 1091 904 904,905 977 904 1004 1004

بیان تاریخ الأمم السابقة فی القرآن دلیل علی کونه من عند اللہ

والمزید راجع ٣ آل عمران: ٤٤ ١٧ الأعراف: ١٠١ ١١ هود: ١٢٠، ١١٠، ٤٩ ١٢ یوسف: ١٠٢ ٢٠ طه: ٩٩ ٢٨ القصص: ٤٤، ٤٥، ٤٦ ٣٢ السجدة: ٢٢

تمام پچھلی اقوام کے تفصیلی حالات کا بیان بھی قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے

مزید حوالہ 3:44 7:101 11:49,100,120 12:102 20:99 28:44,45,46 32:23 1091 904 904,905 977 904 1004 1004

ADAM (PBUH)
THE FIRST HUMAN BEING

الدم عليه السلام
أول البشر

حضرت آدم علیہ السلام
انسان اول

CREATION OF ADAM (PBUH)

خلق آدم عليه السلام

تخلیق آدم علیہ السلام

DECLARED AS VICEROY OF ALLAH (SWT) ON EARTH

إعلان خلافة آدم خليفة الله على الأرض

خلافت آدم کا اعلان (زمین پر اللہ کا نائب)

And when your Lord told the angels: I am about to place a viceroy on the earth, they said: will You place therein one who will make mischief therein and will shed blood, while we, we hymn Your praise and sanctify You? He said: surely I know that which you know not. (2:30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَمَنۡحُنۡ لُّسِيْمًا بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

اور وہ (وقت یاد کرنے کے قابل ہے) جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں (اپنا) نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب (خليفة) بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ حمد و ثناء بیان کرتے رہتے ہیں (اللہ نے) فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے (2:30)

had no knowledge of the Exalted chiefs when they discuss (matters) among themselves; (38:69)

مَا كَانَ لِيۤ مِنْ عِلْمٍۢ بِالْمَلٰٓئِكَةِ الْاَعْلٰى اِذۡ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣٨﴾ ص ٦٩

مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی (بات چیت کا) کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے (69:38)

ADAM (PBUH) CREATED FROM CLAY

خلق الله آدم عليه السلام من طين

حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا

He created man out of potter's clay of black mud altered, (15:26)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنۡ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنَ ﴿١٥﴾ الحجر ٢٦

اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے (26:15)

And (remember) when your Lord said to the angels: I am creating a mortal out of potter's clay of black mud altered. (15:28)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنۡ صَلْصَالٍ مِّنۡ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنَ ﴿١٥﴾ الحجر ٢٨

اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑتے ہوئے گارے (مٹی) سے ایک بشر بنانے والا ہوں (28:15)

He created man from an extract of clay; (23:12)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنۡ طِيْنٍ ﴿٢٣﴾ المؤمنون ١٢

اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے (12:23)

Who made all things so fine which He created, and He began the creation of human being from clay; (2:7)

الَّذِيۡۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾ السجدة ٧

جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا (یعنی) اس کو پیدا کیا۔ اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا (7:32)

When your Lord said to the angels: I am about to create a mortal out of fire, (38:71)

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنۡ طِيْنٍ ﴿٧١﴾ ص ٧١

جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں (71:38)

He said: I am better than he. You created me of fire, while him I create of clay. (38:76)

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنۡ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِّنۡ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾ ص ٧٦

(ابلیس) بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں (کہ) تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا (76:38)

He created man of ringing clay like potter's, (55:14)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ الرحمن ١٤

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھاتی مٹی سے بنایا (14:55)

Reference :	7:11,12	15:26,28,33	المزید راجع ٧ الأعراف ١٢:١١	٣٢:٢٨	61:17	33,28,26:15	12,11: 7	مزید حوالہ
	400,382	396,908	١٧ الإسراء (بمصر اسرائیل): ٦١	١٨ الكهف ٣٧	908	908,396	382,400	ص ٧٦
1:1	18:37	22:5	٢٢ الحج ٥	٢٣ المؤمنون ١٢	7:32	12:23	5:22	37:18
3:1	1112	397/402	٣٥ فاطر: ١١	٣٢ السجدة ٧	394	394	402/397	1112
3:1	37:11	40:67	٥٥ الرحمن ١٤	٤٠ المؤمنون (غافر): ١٧		14:55	67:40	11:37
3:1	394	397				395	397	11:35
							394	399

**EXCELLENCE OF ADAM (PBUH) OVER ANGELS
DUE TO ALLAH'S (SWT) INSPIRED
KNOWLEDGE AND WISDOM**

And Allah taught Adam all the names, then placed them before the angels, saying: Tell me the names of these, if you are so truthful. (2:31)

They said: Be glorified! We have no knowledge except that which You have taught us. You, only You, are the Knower, the Wise. (2:32)

He said: O Adam! Tell them of their names, and when he had informed them their names, He said: Did I not tell you that I know the secrets of the heavens and the earth? And I know that which you disclose and which you hide. (2:33)

And when We said to the angels: prostrate yourselves before Adam, they knelt down, all except Iblis. He refused and acted proudly, and so became a disbeliever. (2:34)

**ALLAH (SWT) ORDERED THE ANGELS
TO BOW DOWN TO ADAM (PBUH)**

And when I have fashioned him and breathed into him of My spirit, they drop down on you knees together before him. (15:29) (38:72)

So all the angels fell prostrate, together (15:30)(38:73)

And when We said to the angels: Fall prostrate before Adam, they fell prostrate (all) except Iblis; he refused. (20:116)

تفوق آدم عليه السلام على الملائكة
بسبب إلهامه العلم والحكمة من الله

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾
﴿٢ البقرة ٣١﴾

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾
﴿٢ البقرة ٣٢﴾

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾
﴿٢ البقرة ٣٣﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُْوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
إِبْلِيسَ ابْنَ الْكُفْرَيْنِ ﴿٣٤﴾
﴿٢ البقرة ٣٤﴾

أمر الله بسجود الملائكة لآدم (عليه السلام)
تعظيماً له

فَإِذْ اسْوَأْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
فَقَعُوا عَلَيْهِ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾
﴿١٥ الحجر ٢٩﴾ ﴿٣٨ ص ٧٢﴾

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾
﴿١٥ الحجر ٣٠﴾ ﴿٣٨ ص ٧٣﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُْوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنَ الْكُفْرَيْنِ ﴿١١٦﴾
﴿٢٠ طه ١١٦﴾

الله تعالى کے عطا کردہ علم سے
حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری

اور اس (اللہ) نے آدم کو سب (چیزوں کے) نام
سکھائے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا
کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ (2:31)

ان فرشتوں نے کہا تو یاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا
ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے شک تو دانا
(اور) حکمت والا ہے (2:32)

(تب) اللہ نے (آدم کو) حکم دیا کہ آدم! تم ان کو
ان (چیزوں) کے نام بتاؤ جب انہوں نے ان کو ان
چیزوں کے نام بتائے تو (فرشتوں سے) فرمایا کیوں
میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین
کی (سب) پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے
ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو (سب) مجھ کو معلوم ہے (2:33)

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ
کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار
کیا اور غرور میں آکر کافر بن گیا (2:34)

تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو
سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم

جب اس کو (صورت انسانیہ میں) درست کر لوں اور اس
میں اپنی (بے بہا چیز یعنی) روح پھونک دوں تو اس کے
آگے سجدے میں گر پڑنا (15:29)(38:72)

پھر فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے
(15:30)(38:73)

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ
کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا
(20:116)

More Reference: 2:34 7:11,12 15:31,32
Page 907 908 907,908
17:61 18:50 38:74,75,76
908 908 908,906

والمعزید راجع ٢ البقرة: ٣٤ ٧ الأعراف: ١٢، ١١
١٥ الحجر: ٣١، ٣٢ ١٧ الإسراء: (بنی اسرائیل): ٦١
١٨ الكهف: ٥٠، ٣٨ ص: ٧٤، ٧٥، ٧٦

32,31:15 12,11:7 34:2
908,907 908 907
76,75,74:38 50:18 61:17
906, 908 908 908

**REFUSAL OF IBLIS (DIABOLIC)
TO BOW DOWN BEFORE ADAM (PBUH)
AND HIS ARGUING**

إِبَاءِ إِبْلِيسَ لِسُجُودِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَاسْتِدْلَالَهُ لَذَلِكَ

آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس کا انکار
اور اس کا استدلال

And We created you, then fashioned you, then told the angels: Fall you prostrate before Adam! And they fell prostrate, all except Iblis, so he was not of those who prostrate. (11)

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾
﴿٧ الاعراف ١١﴾

اور ہم ہی نے تم کو (ابتدا میں مٹی سے) پیدا کیا پھر تمہاری شکل صورت بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو (سب نے) سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس۔ کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں (شامل) نہ ہوا (11:7)

Allah said: What prevented you that you did not fall prostrate when I commanded you? (Iblis) said: I am better than he. You created me of fire while him You did create of mud. (7:12)

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾
﴿٧ الاعراف ١٢﴾

(اللہ نے) فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس (آدم) سے افضل ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے (12:7)

Except Iblis. He refused to be among the prostrate. (15:31)

إِلَّا إِبْلِيسَ ابْتَدَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾
﴿١٥ الحجر ٣١﴾

مگر شیطان نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت سے انکار کیا۔ (31:15)

He said: O Iblis! What ails you that you are not among those who prostrated themselves? (15:32)

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾
﴿١٥ الحجر ٣٢﴾

(اللہ نے) فرمایا کہ ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا (15:32)

He said: Why should I prostrate myself to a human whom You have created out of potter's clay of black mud altered? (15:33)

قَالَ لِمَ أكون لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾
﴿١٥ الحجر ٣٣﴾

(ابلیس نے) کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے (مٹی) سے بنایا ہے سجدہ کروں (15:33)

And when We said to the angels: Fall down prostrate before Adam and they all prostrate all except Iblis, he said: Shall I fall prostrate before that which you have created of clay? (17:61)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٦١﴾

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے (61:17)

And (remember) when We said to the angels: Fall prostrate before Adam, and they fell prostrate, all except Iblis. He was of the Jinns, so he rebelled against his Lord's command. Will you choose him and his progeny for your protecting friends instead of Me, when they are an enemy to you? Calamitous is the change for evildoers! (18:50)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾
﴿١٨ الكهف ٥٠﴾

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس (نے نہ کیا) وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا تم پھر بھی اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے اور (شیطان کی دوستی) ظالموں کے لئے (اللہ کی دوستی کا) برا بدل ہے (50:18)

Except Iblis; he was too proud and became one of the disbelievers. (18:74)

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾
﴿٣٨ ص ٧٤﴾

مگر شیطان۔ (نے تکبر کیا) اگر بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا (74:38)

Allah said: O Iblis! What hinder you from falling prostrate before Me which I have created with My own hands? Are you too proud or are you of the high exalted? (38:75)

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾
﴿٣٨ ص ٧٥﴾

(اللہ نے) فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تو غرور میں آگیا یا اونچے درجے والوں میں تھا (38:75)

CREATION OF HAWWA (EVE)
(WIFE OF ADAM)

O mankind! Heed your Lord Who created you from a single soul and from it created its mate and from them twain has spread (like seed countless) men and women. -----
----- (4:1) PART

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
﴿٤ النساء ١﴾ جزء

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا (یعنی اول) اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلا دیئے۔ -----
----- (1:4) جزو

More Reference : 30:21 39:6 49:13 92:3
Page 548 397 1114 359

والله اعلم بالصواب
٣٩ الزمر: ٦
٣٠ الروم: ٢١
٤٩ الحجرات: ١٣
٩٢ الليل: ٣

مزید حوالہ
3:92 13:49 6:39 21:30
صفحہ 359 1114 397 548

HAWWA (PUH) - BROUGHT FORTH
FROM THE LOINS OF ADAM (PUH)

And (remember) when your Lord brought forth from the Children of Adam, from their (loins) reins, their descendants, and made them testify of themselves, (saying): Am I not your Lord? They said: Of course. We testify. (That was) lest you might say on the Day of Resurrection: this we were unaware; (7:172)

خلق حواء من ظهر آدم عليه السلام

حضرت حوا علیہا السلام کا آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا جانا

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٧﴾
﴿٧ الاعراف ١٧٢﴾

اور جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود انہی کے متعلق اقرار کرایا (یعنی ان سے پوچھا کہ) کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں (کہ تو ہمارا پروردگار ہے) (یہ اقرار اس لئے کرایا تھا) کہ قیامت کے دن (کہیں یوں نہ) کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی (7:172)

ADAM AND HAWWA (PUH) WERE ALLOWED TO
DWELL IN THE GARDENS OF EDEN BUT WERE
FORBIDDEN TO APPROACH THE TREE

And We said: O Adam! Dwell you and your wife in the Garden, and eat freely bountiful things when and where you wish; but come not near this tree lest you become wrongdoers. (2:35)

استعھاد اللہ من آدم و حواء علیہما السلام
للتجنب عن الشجرة الممنوعة والإذن
بسكنهما الجنة بمراعاة هذا العهد

اللہ تعالیٰ کی حضرت آدم و حوا علیہما السلام پر
شجر ممنوعہ کے پاس جانے پر پابندی کی شرط
اور بہشت میں رہنے کی اجازت

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا
مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾
﴿٢ البقرة ٣٥﴾

اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ (پھو) لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں (داخل) ہو جاؤ گے (2:35)

And : O Adam! Dwell you and your wife in the Garden and eat from where you wish, but approach not near this tree lest you become unjust. (7:19)

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾
﴿٧ الاعراف ١٩﴾

اور (ہم نے) آدم (سے فرمایا کہ) تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو (اور جو چاہو) کھانا مگر اس درخت کے پاس نہ جانا۔ ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے (7:19)

ASSURANCE FOR ENOUGH PROVISIONS FOR ADAM AND HAWWA (PBUT) (FOR THEY NOT GO HUNGRY NOR NAKED NEITHER SUFFER SUN STROKE)

It is (enough provision) to you that you hunger not therein nor are naked, (20:118)

And you will neither be thirsty therein nor exposed to the Sun's heat. (20:119)

ADAM AND HAWA (PBUT) WERE CLEARLY FOREWARNED AGAINST THE MALICE AND ENMITY OF SATAN

Therefore We said: O Adam! He (Satan) is an enemy to you and to your wife, so let him not drive you both out of the Garden so that you come to toil. (20:117)

Reference: 36:59,60,61 Page 805,383,141

ADAM AND EVE (PBUT) BOTH TEMPTED TO SATAN'S DELUSION

ADAM AND EVE (PBUT), BOTH MISLED AND WRONGED BY TASTING THE FORBIDDEN TREE

But Satan caused them to deflect therefrom and expelled them from the (happy) state in which they were; and We said: Get you down, one of you a foe to the other! There shall be for you on earth a habitation and provision for a time. (2:36)

Then Satan whispered to them to show them both their private parts (their shame) which were hidden from them both and he said: Your Lord forbade you from this tree only lest you should become angels or become of the immortals. (7:20)

And he swore to them (saying): I am sincere adviser to you. (7:21)

Thus by deceit he brought about their fall. And when they tasted the tree their shameful parts were manifest to them and they began to heave (by heaping) over their bodies some of the leaves of the Garden. And their Lord called them, (saying): Did I not forbid you from that tree and tell you: Satan is an open enemy to you? (7:22)

زود آدم و حواء علیہما السلام
بالحوائج الأساسية للحياة

إِنَّ لَكَ الْآجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾

وَإِنَّكَ لَا تَطْمَؤُنُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

إشعار آدم وزوجه من الله
عن سوء نية الشيطان وعداوته لهما

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا
يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾

وللتفصيل راجع ٣٦ يس: ٥٩، ٦٠، ٦١

اغترار آدم و حواء عليهما السلام
من الشيطان في الجنة

خطاء آدم و حواء عليهما السلام
بشأن اقترابهما الشجرة الممنوعة

فَازْلَمْنَا الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا مَا كَانَ فِيهِمْ
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢﴾

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا
وَرَىٰ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا
رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً
أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٧﴾

وَقَالَ سَهْمًا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الصَّٰحِينَ ﴿٢١﴾

فَدَلَّهِمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ
لَهُمَا سَوَاتِحُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا
عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ
لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم و حوا علیہما السلام سے
جنت میں زندگی کی بنیادی ضروریات
(روٹی کپڑا اور مکان) کی فراہمی کا وعدہ

یہاں تم کو یہ (آسائش) ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے
(118:20)

اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ (119:20)

اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو
شیطان کی بد نیتی اور انسان دشمنی سے متنبہ
(پیش از وقت آگاہ کرنا) کرنا۔

ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو
یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوانا دے۔ پھر تم تکلیف
میں پڑ جاؤ (117:20)

تفصیل کے لیے دیکھئے 36:59,60,61 صفحہ 805,383,141

حضرت آدم اور حوا علیہما السلام (دونوں کا)
بہشت میں شیطان کے بھٹکاوے میں آجانا

حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کی
بہشت میں شجر ممنوعہ کے نزدیک جانے کی بھول

پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس
(عیش و نشاط) میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم
نے حکم دیا کہ (بہشت بریں سے) (اتر) نکل جاؤ تم
ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے زمین میں
ایک وقت تک ٹھکانا اور روزی مقرر کر دی ہے (2:36)

تو شیطان دونوں کو بھٹکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں
(شرمگاہیں) جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ
کر دیں اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس
درخت سے صرف اس لئے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن
جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ (7:20)

اور ان سے (شیطان نے) قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا
خیر خواہ ہوں (7:21)

غرض (مردود نے) دھوکا دے کر ان کو (معصیت کی
طرف) کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت (کے
پھل) کو کھا لیا تو ان کے ستر کی جگہیں (دونوں کی
شرمگاہیں) ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں اور وہ
بہشت کے (درختوں کے) پتے (توڑ توڑ کر) اپنے اوپر
چپکانے (اور ستر چھپانے) لگے تب ان کے پروردگار نے
ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت (کے پاس
جانے) سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان
تمہارا کھلا دشمن ہے؟ (7:22)

And We already made a covenant with Adam, but he forgot, and We found no constancy (determination) in him. (20:115)

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَسَىٰ وَ
لَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

But the Devil whispered to him, saying: O Adam! Shall I lead you to the tree of eternity and power that never decay? (20:120)

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ
عَلَىٰ شَجَرَةٍ الْغُلَّةِ وَمَلِكٍ لَا يَأْكُلُ
﴿٢٠ طه ١٢٠﴾

Then they both ate thereof, so that their nakedness became apparent to them, and they began to cover themselves with some of the leaves of the Garden. And Adam disobeyed his Lord, so went astray. (20:121)

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا
يَخْضِفْنَ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى
آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢١﴾

اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ (اسے) بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا (115:20)

تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اور کہا کہ آدم کیا میں تم کو (ایسا) درخت بتاؤں (جو) ہمیشہ کی زندگی کا (ثمرہ دے) اور (ایسی) بادشاہت کہ کبھی دور نہ ہو (120:20)

تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے (بدنوں) پر بہشت کے (درختوں کے) پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کے (حکم کے) خلاف کیا تو (وہ اپنے مطلوب سے) بے راہ ہو گئے (121:20)

More Reference : 7:26,27 Page 544, 382

ADAM AND EVE (PBUT) WERE BESTOWED RAIMENT TO SCREEN THEIR PRIVATE PARTS

For Detail Consult : 7:26 20:121 Page 544, 911

EXPULSION OF ADAM AND HAWWA (PBUT) FROM THE GARDENS OF BLISS AND GETTING DOWN ON EARTH TO DWELL

He (Allah) said get down! you will become one another's enemy. Yet there will be for you on earth a habitation and means of livelihood for a while. (7:24)

He said: There shall you live, and there shall you die, and there from shall you be brought forth. (7:25)

He (Allah) said: Go down from here, all of you, one of you a foe to the other. But if there comes to you from Me a guidance, then whoso follows My guidance, he will not go astray nor shall be distressed. (20:123)

والمزيد راجع : ٧ الأعراف : ٢٧، ٢٦ الصفحة ٣٨٢، ٥٤٤

منح آدم و حواء عليهما السلام لباسا
عند هبوطهما من الجنة

والتفصيل راجع ٧ الأعراف : ٢٦ طه ١٢١ :
الصفحة ٩١١، ٥٤٤

إخراج آدم و حواء عليهما السلام من الجنة
وهبوطهما الأرض للاستقرار فيها

قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ
فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا
تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

قَالَ أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
فَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ
فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾

المزيد حوالہ 27,26:7 صفحہ 382,544

حضرت آدم اور حواء علیہما السلام کو بہشت سے
نکالتے وقت ستر پوشی کیلئے پوشاک کا عطا کیا جانا

تفصیل کے لئے دیکھئے 7:26 20:121
صفحہ 911,544

حضرت آدم اور حواء علیہما السلام کا بہشت سے نکالا جانا
اور زمین پر رہائش اختیار کرنے کیلئے اترنا

(اللہ نے) فرمایا (تم دونوں بہشت سے) اتر جاؤ (اب سے) تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے ایک وقت (خاص) تک زمین پر ٹھکانا اور (زندگی کا) سامان (کر دیا گیا) ہے (24:7)

(یعنی) فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے (قیامت کو زندہ کر کے) نکالے جاؤ گے (25:7)

اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ تم میں بعض، بعض کے دشمن (ہوں گے) پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا (123:20)

More Reference : 2:36 Page 910

REPENTANCE OF ADAM AND EVE (PBUT) AND ASKING FOR PARDON AND RELENTING OF ALLAH (SWT)

Then Adam received from his Lord words (of inspiration), and He relented towards them. He is the Relenting, the Merciful. (2:37)

والمزيد راجع ٢ البقرة : ٣٦ الصفحة ٩١٠

استغفار آدم و حواء عليهما السلام
وتوبة الله عليهما

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

المزيد حوالہ 36:2 صفحہ 910

حضرت آدم اور حواء علیہما السلام کا معافی طلب کرنا
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے (اور معافی مانگی) تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا (اور) صاحب رحم ہے۔ (37:2)

We said: Go down, all of you, from here; but there comes to you from Me a guidance; and whoso follows My guidance, there shall no fear come upon them neither shall they grieve. (2:38)

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨ البقرة﴾

ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں (بہشت) سے چلے جاؤ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو (اس کی پیروی کرنا کہ) جنہوں نے میری تابعداری کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے (38:2)

They said: Our Lord! We have sinned ourselves. If You forgive us not and have not mercy on us, certainly we are of the lost! (7:23)

قَالُوا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾
﴿٢٣ الاعراف﴾

دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے (23:7)

When his Lord chose him, and turned towards him, and guided him. (20:122)

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ ﴿٢٠ طه﴾
﴿٢٠ طه ١٢٢﴾

پھر اُس کے پروردگار نے اُسے نوازا تو اُس پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی (20:122)

CONDEMNATION OF SATAN AS ACCURSED AND OUTCAST, AND HIS EXPULSION FROM THE PARADISE

إخراج الشيطان من الجنة ملعونا مدحورا رجیما

شیطان کو ملعون (لعنت زدہ) اور مردود قرار دیا جانا بہشت سے نکال دیا جانا

We said: Then go down from here! It is not for you to show pride here, so get forth! You are of those who are degraded. (7:13)

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿١٣﴾
﴿١٣ الاعراف﴾

(اللہ نے) فرمایا تو (بہشت سے) اتر جا تجھے شایاں نہیں کہ یہاں غرور کرے پس نکل جا۔ تو ذلیل ہے (13:7)

We said: Then go you out from here, for you are outcast. (15:34)(38:77)

قَالَ فَاحْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٨ ص ٧٧﴾

(اللہ نے) فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے (34:15)(77:38)

And the curse shall be upon you till the Day of Judgement. (15:35)

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾
﴿٣٥ الحجر﴾

اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت (بر سے گی) (35:15)

And My curse shall be on you till the Day of Judgement. (38:78)

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾
﴿٣٨ ص ٧٨﴾

اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت (پڑتی) رہے گی (78:38)

ASKING OF SATAN FOR RESPITE TILL THE DAY OF RESURRECTION AND HIS REPRIVING

استمهال إبليس من الله إلى يوم القيامة لإغواء بني آدم فأمهل

ابلیس کا قیامت تک مہلت مانگنا اور اللہ تعالیٰ کا اسے مہلت دے دینا

We said: Grant me respite till the Day when they are raised (from the dead). (7:14)

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾
﴿١٤ الاعراف﴾

اس (شیطان) نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ (قبروں سے) اٹھائے جائیں گے (7:14)

Allah replied: You are of those who are reprieved. (7:15)

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الاعراف﴾

اللہ نے فرمایا (اچھا) تجھ کو مہلت دی جاتی ہے (15:7)

We said: My Lord! Reprieve me till the Day when they are raised. (from the dead) (15:36)(38:79)

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٨ ص ٧٩﴾

(اس شیطان نے) کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ (مرنے کے بعد) زندہ کئے جائیں گے (36:15)(79:38)

Allah replied: Then You are of those who are reprieved (15:37)(38:80)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨ ص ٨٠﴾

اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے (37:15)(80:38)

Then appointed time. (15:38)

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ الحجر﴾

وقت مقرر (یعنی قیامت) کے دن تک (38:15)

CHALLENGE OF SATAN TO LEAD THE CHILDREN OF ADAM ASTRAY BY EVIL ALLUREMENTS AND SNARES

He said : Now, because You have accursed me I shall lurk in ambush for them on Your Right Path. (7:16)

Then I shall come upon them from front of them and from behind of them and from their right and from their left, and You will not find most of them grateful (to You). (7:17)

He said: Go out of here, degraded, banished. As with all of those who follow you, surely I will fill the hell. (7:18)

He said: See You this (creature) whom You have honoured above me, if You give me grace until the Day of Resurrection I shall bring all of his offspring under my mastery save but a few. (17:62)

He said: Go, and whosoever of them follow you, Hell will be your reward and such is an, ample recompense (17:63)

And excite any of them whom you can with your voice, and set upon them with your cavalry and manpower and share their wealth and children, and promise them. Yet Satan promises them only to deceive. (17:64)

You have no power over My (faithful) bondmen, and your Lord suffices as (their) guardian. (17:65)

استمھال الشیطان من اللہ تعالیٰ
لإغواء عباده

قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ
الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾
﴿٧ الاعراف ١٦﴾

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾
﴿٧ الاعراف ١٧﴾

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ
تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾
﴿٧ الاعراف ١٨﴾

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ فِي
الْأَقْبَلِ ﴿١٦﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٦٢﴾

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ
جَزَاؤُهُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٦٣﴾

وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٧﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٦٤﴾

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى
بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿١٥﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٦٥﴾

شیطان کا نبی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کی
راہ سے گمراہ کرنے کا چیلنج

(پھر) شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے۔
میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان (کو گمراہ کرنے)
کے لئے بیٹھوں گا (16:7)

پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور
بائیں سے (غرض ہر طرف سے) حملہ کروں گا (ان کی
راہ ماروں گا) اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا
(17:7)

(اللہ نے) فرمایا نکل جا یہاں سے رذیل۔ مردود۔ جو
لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں (ان کو اور
تجھ کو جہنم میں ڈال کر) تم سب سے جہنم کو بھردوں گا
(18:7)

(اور ازراہ طنز شیطان) کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے
تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تو مجھ کو قیامت کے دن
تک کی مہلت دے تو میں ٹھوڑے سے شخصوں کے سوا
انگی اور انکی (تمام اولاد کی جڑ کاٹا رہوں گا) (62:17)

اللہ نے فرمایا (یہاں سے) چلا جا جو شخص ان میں سے
تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے (اور
وہ) پوری سزا ہے (63:17)

اور ان میں سے جس کو بھٹکا سکے اپنی آواز سے بھٹکا تا
رہ۔ اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہ
اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہ اور ان سے
وعدے کرتا رہ۔ اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے
سب دھوکا ہے (64:17)

جو میرے مخلص (سچے) بندے ہیں ان پر تیرا (تجھ
شیطان کا) کچھ زور نہیں اور آپ کا پروردگار (ان کے
لئے) کارساز کافی ہے۔ (65:17)

SATAN'S CONFESSION OF HIS INABILITY TO EXERCISE HIS AUTHORITY OVER THE CHOSEN SERVANTS OF ALLAH (SWT)

He said: My Lord, because You have sent me astray, I shall adorn the path of error for them in the earth, and shall mislead them everyone. (15:39)

Except such of them as are Your perfectly devoted slaves. (15:40) (38:83)

He said This is a right course leading up to Me: (15:41)

As for My slaves, you have no power over any of them except such of the crowd who follow you, (15:42)

And for all such, hell will be the promised place. (15:43)

Until the Day of the time appointed. (38:81)

He said: Then, by Your might, I surely will beguile them every one, (38:82)

He said: The Truth is, and the Truth I speak, (38:84)

That I shall fill Hell with you and with such of them as follow you, together. (38:85)

COVENANT

TESTIFYING OMNIPOTENCE OF ALLAH (SWT) TAKEN FROM THE CHILDREN OF ADAM (PBHU) (ALL HUMANITY BORN OR UNBORN)

And (remember) when your Lord brought forth from the Children of Adam, from their reins, (loins) their seed, and made them testify of themselves, (saying): Am I not your Lord? They said: Of course We testify. (That was) lest you might say at the Day of Resurrection: Of this we were unaware; (7:172)

Core Reference : 36:60, 61,62
Page 383, 141

CHILDREN OF ADAM (PBHU)

For Detail Consult : 5:27,31 7:27,35,172
7:70 19:58 Page 915, 306, 404, 640
Consult Chapter : Habil(Abel) Qabil(Cain)

اعتراف ابلیس بعجزه عن إغواء عباد الله المخلصين

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾
(الحجر ٣٩)

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾ ﴿٣٨ ص ٨٣﴾
(الحجر ٤٠) ﴿٣٨ ص ٨٣﴾

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾
(الحجر ٤١)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِينَ ﴿٤٢﴾
(الحجر ٤٢)

وَأِنَّ جَهَنَّمَ لَبُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾
(الحجر ٤٣)

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٤٤﴾
(ص ٨١)

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٥﴾
(ص ٨٢)

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٤٦﴾
(ص ٨٤)

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٧﴾
(ص ٨٥)

أخذ الله الميثاق من بني آدم في ربوبيته

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٧٢﴾
(الأعراف ١٧٢)

والمزيد راجع ٣٦ يس: ٦٠، ٦١، ٦٢
الصفحة ٣٨٣، ١٤١

ذرية آدم (عليه السلام)

والتفصيل راجع ٥ المائدة: ٢٧، ٣١ ٧ الأعراف: ٢٧، ٣٥، ٣٧، ١٧٢
١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٧٠، ١٩ مريم: ٥٨
راجع باب: هابيل وقابيل

شیطان (ابلیس) کا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر داؤ چلانے میں بے بسی کا اعتراف

(اس نے) کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لئے (گناہوں کو) آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بھٹکاؤں گا (39:15)

ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں (ان پر قابو پانا مشکل ہے) (40:15) (83:38)

(اللہ نے) فرمایا کہ مجھ تک (پہنچنے کا) یہی سیدھا راستہ ہے (41:15)

جو میرے (مخلص) بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں (کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے) ہاں مگر گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں (42:15)

اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے (43:15)

اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے (81:38)

(شیطان) کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کرتا رہوں گا (82:38)

اللہ نے فرمایا سچ (ہے) اور میں سچ ہی کہتا ہوں (84:38)

کہ میں تجھ سے اور جوان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا (85:38)

ميثاق بني آدم

اور جب آپ کے پروردگار نے نبی آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود انہی کے متعلق اقرار کرایا (یعنی ان سے پوچھا کہ) کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں (کہ تو ہمارا پروردگار ہے) (یہ اقرار اس لئے کرایا تھا) کہ قیامت کے دن (کہیں یوں نہ) کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی (172:7)

مزید حوالہ 62,61,60:36
صفحہ 141, 383

اولاد آدم علیہ السلام

تفصیل کے لئے دیکھئے 31,27:5 172,35,27:7
70:19 58:19 صفحہ 915, 306, 404, 640
مطالعہ باب : ہابیل وقابیل

**HABIL (ABEL) QABIL (CAIN)
TWO SONS OF ADAM (PBUH)**

ہابیل و قابیل (ابناء آدم)

ہابیل اور قابیل (ابناء آدم)

**OFFERING SACRIFICE TO ALLAH (SWT)
BY BOTH BROTHERS TO DECIDE MUTUAL CONTEST**

تقريب هابيل و قابيل قربانا لله
للحکم فی نزاعهما

ہابیل اور قابیل کا باہمی جھگڑے کے فیصلہ کیلئے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرنا

**QABIL (CAIN) ELDER SON
WAS PUFFED UP WITH JEALOUSY
DUE TO NOT ACCEPTANCE OF HIS SACRIFICE**

كان الإبن الأكبر قابيل ملاً
بالحسد الشديد من عدم تقبل قربانه

بڑے بیٹے قابیل کا قربانی قبول نہ ہونے پر
حسد کا شکار ہو جانا

But recite (for information) to them with truth the tale of the two sons of Adam, how they offered each a sacrifice, and it was accepted from the one of them and it was not accepted from the other. (The one) said: I will surely kill you. (The other) answered: Allah accepts only from those who ward off (evil): (5:27)

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا
قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَمْ يُتَقَبَّلُ
مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَا قُتْلُكَ قَالَ إِنَّمَا
يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾
﴿٥ المائدة ٢٧﴾

اور (اے محمد) ان کو آدم کے دو بیٹوں (ہابیل اور قابیل) کے حالات (جو بالکل) سچے (ہیں) پڑھ کر سنا دیں کہ جب ان دونوں نے (اللہ کی جناب میں) ایک نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی (تب قابیل ہابیل سے) کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ اللہ پر ہیزگاروں ہی کا عمل قبول کرتا ہے (27:5)

**HABIL (ABEL) INNOCENT AND RIGHTEOUS
YOUNGER SON REPLIED
ELDER BROTHER'S THREAT QUITE POLITELY**

كان الابن الأصغر هابيل خاليا
من سوء النية و كان صالحا فأجاب
تهديد أخيه الأكبر بالتواضع

چھوٹے بیٹے ہابیل کی معصومیت اور
پرہیزگاری بڑے بھائی کی دھمکی کا عاجزانہ جواب

Even if you stretch out your hand against me to kill, I shall not stretch out my hand against you to kill you, I fear Allah, the Lord of the Worlds. (5:28)

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدِي يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا
بِأَسِطِي يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾
﴿٥ المائدة ٢٨﴾

اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لئے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے (28:5)

I would rather want that you should bear the punishment of the sin against me and your own sin and become one of the owners of the Fire. That is the reward of evildoers. (5:29)

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ
مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾
﴿٥ المائدة ٢٩﴾

میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کی یہی سزا ہے (29:5)

**FIRST DELIBERATE (UNJUST) MURDER
IN HUMAN HISTORY**

اول قتل بغير الحق
في التاريخ الانساني

تاریخ انسانیت کا پہلا قتل ناحق

But his own self urged him the killing of his brother, so he slew him and became one of the losers. (5:30)

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ
مِنَ الخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾
﴿٥ المائدة ٣٠﴾

پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا (30:5)

**FIRST DELIBERATE (UNJUST) MURDER
IN HUMAN HISTORY**

بداية دفن الميت

مردہ کو دفن کرنے کی ابتدا

Then Allah sent a raven scratching up the ground, in order to show him how to dispose his brother's naked corpse. He said: Woe to me! Am I not able to be as this raven and so hide my brother's naked corpse? And he became full of regrets. (5:31)

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ
كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتِهِ قَالَ يَوَيْلَ لِي
أَعْبَزْتُ أَنْ أَكُونَ وَمِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي
سَوْآتِهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِيمِينَ ﴿٣١﴾
﴿٥ المائدة ٣١﴾

پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا افسوس! کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی طرح ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیمان (شرمندہ) ہوا (31:5)

IDRIS (ENOCH)

ایدریس (پبویہ السلام)

حضرت ادریس (پبویہ السلام)

And (mention) Ishmael, and Idris, and Dhul-Kifl. (Ezekiel) All were of the steadfast. (21:85)

وَأِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾
﴿٢١ الأنبياء ٨٥﴾

اور اسمعیل اور ادریس اور ذوالکفل (کو بھی یاد کرو) یہ سب صبر کرنے والے تھے (85:21)

And We brought them in to Our mercy. They were among the righteous ones. (21:86)

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾
﴿٢١ الأنبياء ٨٦﴾

اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بلاشبہ وہ نیک تھے (86:21)

ALLAH (SWT) EXALTED IDRIS (PBUH) (RAISED HIM TO HIGH STATION)

رفع الله ادریس علیہ السلام
مکانا علیا

اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھالیا

And mention in the Scripture of Idris. He was a saint, a truthful prophet; (19:56)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِذْ كَانَ صَادِقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾
﴿١٩ مريم ٥٦﴾

اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو۔ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے (56:19)

And We raised him to high station. (19:57)

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾
﴿١٩ مريم ٥٧﴾

اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھالیا تھا (57:19)

NOAH (NUH)

نوح علیہ السلام

حضرت نوح علیہ السلام

We inspire you as We inspired Noah and the prophets after him, as We inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as We imparted to David the Psalms; (4:163)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالدَّيَّانِ مِنَ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَى وَيُوسُفَ وَيُوحَنَّا وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَإِنَّا آدَامُودَ زُورًا ﴿١٦٣﴾
﴿٤ النساء ١٦٣﴾

م نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح
وح اور ان سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور
ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب
اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف
وحی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور بھی
نمائت کی تھی (163:4)

He was one of Our believing slaves. (37:81)

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾
﴿٣٧ الصافات ٨١﴾

بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے
(81:37)

And of his persuasion (Sect/Party) was Abraham (37:83)

وَأَنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾
﴿٣٧ الصافات ٨٣﴾

اور اس (نوح) کی تابعداری (گروہ یا پیروکار)
کرنیوالوں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ (83:37)

More Reference : 6:84 17:3 Page 996

والله اعلم بالصواب ٦ الأنعام: ٨٤ ١٧ الإسراء (بئس اسرائیل): ٢

مزید حوالہ 84:6 3:17 صفحہ 996

PEACE BE UPON NOAH

سلام علی نوح علیہ السلام

نوح علیہ السلام پر سلام

Peace be upon Noah among the Universe. (37:79)

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾
﴿٣٧ الصافات ٧٩﴾

نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو (79:37)

Thus do We reward those who act kindly. (37:80)

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾
﴿٣٧ الصافات ٨٠﴾

یہی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
(80:37)

PEOPLE OF NOAH ADOPTED ARABIAN PAGAN PANTHEON WORSHIPPING IDOLS AND BELIEVING IN SUPERSTITIONS

قوم نوح المشركون

قوم نوح

And they have said: Forsake not your gods. Forsake not Wadd, nor Suwa, nor Yaghuth and Ya'uq and Nasr. (71:23)

العابدون للأصنام و الموثنون بالطيرة

ایک بت پرست اور توہمات پرست قوم

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا
وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾
﴿٧١ نوح ٢٣﴾

اور (قوم نوح کے لوگ) کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز
نہ چھوڑنا اور ودا اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو بھی
ترک نہ کرنا (23:71)

PREACHING OF NOAH (NUH) FOR MONOTHEISM TO HIS WICKED PEOPLE

تبليغ نوح عليه السلام قومه للتوحيد

حضرت نوح علیہ السلام کی گمراہ قوم
کو تبلیغ توحید

We sent Noah to his people, and he said: O my people! Serve Allah. You have no other god save Him. I fear for you the torment of an Awful Day. (7:59)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾
﴿٧ الاعراف ٥٩﴾

ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے (ان
سے) کہا اے میری برادری کے لوگو اللہ کی عبادت کرو
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مجھے تمہارے بارے میں
بڑے دن کے عذاب کا (بہت ہی) ڈر ہے (59:7)

He said: O my people! There is no trace of error in me, but I am a messenger from the Lord of the Worlds. (7:61)

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ
مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾
﴿٧ الاعراف ٦١﴾

انہوں نے کہا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں
ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں (61:7)

convey to you the messages of my Lord and give sincere counsel to you, and know from Allah something that which you know not. (7:62)

Marvel you that there should come to you a Reminder from your Lord through a man among you, that he may warn you, and that you may keep from evil, and that haply you may find mercy. (7:63)

Note to them the story of Noah, when he told his people: O my people! If my sojourn (staying here) and my reminding you by Allah's relations bother you, in Allah I have put my trust, and those you have associated (with Allah) then do not let your business seem so gloomy, Next decide about me, and do not put me off. (10:71)

If you are averse I have asked for no reward. My reward comes from Allah only, and I am commanded to become a Muslim and surrender to Him). (10:72)

And We sent Noah to his folk (and he said): I am a plain warner to you. (11:25)

That you serve none, except Allah. Fear for you the retribution of a Painful Day. (11:26)

He said: O my people! Have you considered, if I rely on a clear proof from my Lord and there has come to me a mercy from His presence, and it has been made obscure to you, can I impel you to accept it when you do not like it (11:28)

Al O my people! I ask you no wealth therefore. My reward is only with Allah, and I am not going to drive away those who believe that I have to meet their Lord (anyhow) I see you a folk that are ignorant. (11:29)

Al O my people! Who will support me against Allah if I thrust them away? Will you not then reflect? (11:30)

أَبْلَغَكُمْ رَسُولِي رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ
مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾
﴿٧ الاعراف ٦٢﴾

أَوْ عَجَبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ
مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾
﴿٧ الاعراف ٦٣﴾

وَإِن لَّعَلَيْكُمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ
إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ
اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْبِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَ
كُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا
إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونَ ﴿٧١﴾
﴿١٠ يونس ٧١﴾

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي
إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾
﴿١٠ يونس ٧٢﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾
﴿١١ هود ٢٥﴾

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾
﴿١١ هود ٢٦﴾

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ
رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ
عَلَيْكُمْ أَنْزِلُكُمْ مَكُونُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿٢٨﴾
﴿١١ هود ٢٨﴾

وَيَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَكُمُ مِنَ الْآجُرِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ
مُلِقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾
﴿١١ هود ٢٩﴾

وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾
﴿١١ هود ٣٠﴾

تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو (62:7)

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پر ہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے (63:7)

آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم! اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام (جو میرے بارے میں کرنا چاہو) مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت (کو معلوم ہو جائے اور کسی) سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرا اور مجھے مہلت نہ دو (71:10)

اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو (تم جانتے ہو کہ) میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں (72:10)

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا (تو انہوں نے ان سے کہا) کہ میں تم کو صاف صاف ڈرسانے (اور یہ پیغام پہنچانے) آیا ہوں (25:11)

کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہاری نسبت عذاب الیم کا خوف ہے (26:11)

انہوں نے کہا کہ اے قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل (روشن) رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا میں اس کیلئے تمہیں زبردستی مجبور کر سکتا ہوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو (28:11)

اور اے قوم! میں اس (نصیحت) کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں میرا صلہ تو اللہ کے ہاں ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں نہ میں ان کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں۔ وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو (29:11)

اور میری قوم کے لوگو! اگر میں مومنوں کو نکال دوں تو (عذاب) اللہ سے (بچانے کے لئے) کون میری مدد کر سکتا ہے۔ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ (30:11)

I do not tell you: "I have the treasures of Allah" nor "I have knowledge of the Unseen," nor I say: I am an angel!" Nor I say to those whom you eye with contempt that Allah will not give them anything good Allah knows best what is in their hearts, then indeed I should be then a wrongdoers. (11:31)

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ
تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾
(١١ ہود ٣١)

میں نہ تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی (یعنی اعمال کی جزائے نیک) نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا (31:11)

My counsel will not benefit you if I want to advise you, if Allah's will is to keep you astray. He is your Lord and to Him you will be brought back. (11:34)

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ
إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ
وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾
(١١ ہود ٣٤)

اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (34:11)

And We sent Noah to his folk, and he said: O my people! Serve Allah. You have no other god except Him. Will you not fear Him? (23:23)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾
(٢٣ المؤمنون ٢٣)

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں؟ (23:23)

When their brother Noah said to them: Will you not be conscious of Allah? (26:106)

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾
(٢٦ الشعراء ١٠٦)

جب (ان سے) ان کے بھائی نوح نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں (106:26)

I am a messenger worthy of your trust (26:107)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾
(٢٦ الشعراء ١٠٧)

میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں (107:26)

So fear Allah, and obey me. (26:108)(26:110)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
(٢٦ الشعراء ١٠٨) ﴿١١٠﴾ (٢٦ الشعراء ١١٠)

تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو (108:26)(110:26)

And I ask you no reward therefore: My reward rests only with the Lord of the Worlds. (26:109)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا
عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾
(٢٦ الشعراء ١٠٩)

اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا میرا صلہ تو صرف اللہ رب العالمین کے ہاں ہے (109:26)

We sent Noah to his people (saying): Warn your people before the painful doom comes to them. (71:1)

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ
قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾
(٧١ نوح ١)

ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس سے پہلے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ڈراؤ (1:71)

He said: O my people! I am a plain warner to you (71:2)

قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾
(٧١ نوح ٢)

انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو واضح طور پر نصیحت کرتا ہوں (2:71)

(Bidding you): Worship Allah alone and fear Him and do pay heed to me, (71:3)

إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
وَإَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ ﴿٣﴾
(٧١ نوح ٣)

کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو (3:71)

That He may forgive you somewhat of your sins and respite you to an appointed term. The deadline of Allah, when it comes, cannot be postponed, if you but realize. (71:4)

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُونَ ﴿٤﴾
(٧١ نوح ٤)

وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور (موت کے) وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آجاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے (4:71)

NOAH (PBUH) INVITED HIS PEOPLE TO PONDER IN SIGNS OF UNIVERSE AND TO REALIZE THE OMNIPOTENCE OF ALLAH (SWT)

And I have made public proclamation to them, and I have appealed to them in private. (71:9)

And I have said: Seek pardon of your Lord He is ever Forgiving. (71:10)

He will cause the sky to shower plentiful rain for you, (71:11)

And will help you with wealth and children, and will assign to you gardens and will assign to you rivers. (71:12)

What ails you that you expect not towards Allah for dignity (71:13)

When He created you in successive (diverse) stages? (71:14)

See you not how Allah has created seven heavens in harmony (above one another), (71:15)

And has made the Moon a light therein, and made the Sun a lamp? (71:16)

And Allah has caused you to grow as a growth from the earth, (71:17)

And in the end He will return you thereto (in the earth), and He will raise you forth once more, (again on the Resurrection). (71:18)

And Allah has laid the earth as a carpet for you (71:19)

So you may travel around on highways (71:20)

دعوة نوح عليه السلام قومه إلى التفكير في آيات الله في الآفاق والآنفس ليشعروا عظمة الله

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٧١ نوح ٩﴾

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿٧١ نوح ١٠﴾

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ قِدْرَارًا ﴿٧١ نوح ١١﴾

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنَاءٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٧١ نوح ١٢﴾

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿٧١ نوح ١٣﴾

وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا ﴿٧١ نوح ١٤﴾

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿٧١ نوح ١٥﴾

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿٧١ نوح ١٦﴾

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿٧١ نوح ١٧﴾

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿٧١ نوح ١٨﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿٧١ نوح ١٩﴾

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٧١ نوح ٢٠﴾

حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اعتقاد کے لئے مظاہر فطرت پر غور کی دعوت دینا

اور اعلانیہ اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا (مختلف انداز اور طریقوں سے دعوت حق دی) (9:71)

اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے (10:71)

وہ تم پر آسمان سے مینہ (بارش) برسائے گا (11:71)

اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور (ان میں) تمہارے لئے نہریں بہا دے گا (12:71)

تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا یقین نہیں رکھتے (13:71)

حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں سے پیدا کیا ہے (14:71)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر نیچے بنائے ہیں (15:71)

اور چاند کو ان میں (زمین کا) نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے (16:71)

اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے (17:71)

پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور (اسی سے) تم کو نکال کھڑا کرے گا (18:71)

اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا (19:71)

تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو (20:71)

SCOFFING AND FALSE ARGUING OF CHIEFS OF THE UNBELIEVERS AT NOAH(PBUH)

The chieftains of his people said: We see you surely in obvious error. (60)

استہزاء ملا قوم نوح بہ واستدلالہم علی شرکهم

قَالَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾

﴿٧٠ الاعراف ٦٠﴾

سر داران قوم کا حضرت نوح علیہ السلام سے استہزاء اور اپنے شرک پر استدلال

ان کی قوم کے بڑے لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں (بتلا) دیکھتے ہیں (60:7)

The notables of his folk, who disbelieved, said: We regard you mortal like us, and we see not that anyone follow you except those who are the meanest among us, without reflection. We do not see in you any merit above us, rather we consider you liar. (11:27)

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِإِدْبَارِ الْأُمُورِ وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُكُمْ كَذِبِينَ ﴿٢٧﴾
﴿١١ هود ٢٧﴾

ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک انسان ہی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے تابع دار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنیٰ درجے کے (بچ) ہیں۔ اور وہ بھی بے سوچے سمجھے (تمہاری پیروی کر رہے ہیں) اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی برتری نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں (27:11)

They said: O Noah! You have disputed with us and multiplied disputation with us; now bring upon us that wherewith you threaten us, if you are of the truthful. (11:32)

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٣٢﴾
﴿١١ هود ٣٢﴾

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر (لے آؤ) لانا نازل کرو (32:11)

He said: Only Allah will bring it upon you if He so wishes, and you can by no means escape. (11:33)

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾
﴿١١ هود ٣٣﴾

نوح نے جواب دیا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم (اس کو کسی طرح) ہرا نہیں سکتے (33:11)

But the chiefs of the unbelievers, said: This is only a mortal like you who wants to attain some superiority over you. Had Allah wished, He surely could have sent down angels. We heard not of this in the case of our forefathers. (23:24)

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مِّنْ سَمَوَاتِنَا هَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ ﴿٢٤﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٢٤﴾

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے۔ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں (24:23)

He is only a man in whom is a madness, so watch him for a while. (23:25)

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَاذْبُرْهُ يَوْمَ حَشَىٰ حِينَ ﴿٢٥﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٢٥﴾

یقیناً اس آدمی کو تو دیوانگی (کا عارضہ) ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو (25:23)

Noah's folk denied the messengers (of Allah), (26:105)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٠٥﴾

تو نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا (105:26)

They said: Shall we put faith in you, when the lowest (of the people) follow you? (26:111)

قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنَّا وَأَنْتُمْ كَذِبُونَ ﴿١١١﴾
﴿٢٦ الشعراء ١١١﴾

وہ بولے کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہوئے ہیں (111:26)

He said: And what knowledge have I of what they may have been doing (in the past)? (26:112)

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾
﴿٢٦ الشعراء ١١٢﴾

(نوح نے) کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے (112:26)

Their reckoning is my Lord's concern, if you only notice; (26:113)

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾
﴿٢٦ الشعراء ١١٣﴾

ان کا حساب (اعمال) میرے پروردگار کے ذمے ہے کاش تم سمجھو (113:26)

And I am not (here) to repulse believers. (26:114)

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾
﴿٢٦ الشعراء ١١٤﴾

اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں (114:26)

I am only a plain warner. (26:115)

إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾
﴿٢٦ الشعراء ١١٥﴾

میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں (115:26)

The folk of Noah denied before them, indeed, they denied Our slave and said: A madman; and he was repulsed. (54:9)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا
مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ ۝
﴿٥٤ القمر ٩﴾

ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں جھڑک بھی دیا (9:54)

For Detail Consult : 9:70 14:9 22:42
Page 679, 201, 202

والتفصيل راجع ٩ التوبة : ٧٠ ١٤ ابراهيم : ٩
٢٢ الحج : ٤٢ الصفحة ٢٧٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٢

التفصيل کیلئے دیکھئے 9:70 14:9 22:42
صفحة 202, 201, 679

NOAH (PBUH) WAS THREATENED WITH STONING TO DEATH

تہدید قوم نوح علیہ السلام
لہ بالرحم

قوم کی حضرت نوح علیہ السلام کو
سنگسار کرنے کی دھمکی

They said: If you do not stop, O Noah, you will surely be among those stoned (to death). (26:116)

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ
الْمَرْجُومِينَ ۝
﴿٢٦ الشعراء ١١٦﴾

انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے (116:26)

ON WILFUL DENIAL OF MESSAGE BY HIS WICKED PEOPLE, NOAH (PBUH) COMPLAINED AND INVOKED ALLAH (SWT) FOR HELP

شکوی نوح علیہ السلام إلى الله في قومه
لما أبوا أن يجيبوا دعوته

قوم کے صریح انکار پر حضرت نوح علیہ السلام کی
اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا اور مدد کیلئے دعا

He said: My Lord! Help me because they deny me. (23:26)(23:39)

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونُ ۝
﴿٢٣ المومنون ٢٦﴾ ﴿٢٣ المومنون ٣٩﴾

(نوح نے) کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر (26:23)(39:23)

He said: My Lord! My own folk have rejected me. (26:117)

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونُ ۝
﴿٢٦ الشعراء ١١٧﴾

(نوح نے) کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلایا (117:26)

Therefore decide You between us, a (conclusive) Judgement and save me and those believers who are with me. (26:118)

فَاغْتَبِ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَا وَنَجِّنِي وَمَنْ
مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
﴿٢٦ الشعراء ١١٨﴾

پس تو میرے اور ان کے درمیان ایک قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے (118:26)

So he appealed to his Lord, saying: I am overpowered, so You help (me). (54:10)

فَدَعَا رَبِّي أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝
﴿٥٤ القمر ١٠﴾

آخر کار انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں (ان کے مقابلے میں) بے بس ہوں تو میری مدد فرما (10:54)

He said: My Lord! I have called to my people night and day (71:5)

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝
﴿٧١ نوح ٥﴾

تو (نوح نے) اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلاتا رہا (5:71)

But all my appeal added to their repugnance; fleeing away farther (71:6)

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝
﴿٧١ نوح ٦﴾

لیکن میرے بلانے سے ہی لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے (6:71)

And whenever I called them to ask you to pardon them they thrust their fingers in their ears and tried to wrap themselves with their garments and persist (in their refusal) and magnify themselves in pride. (71:7)

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ
فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا
وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ۝
﴿٧١ نوح ٧﴾

اور جب میں نے ان کو تیری بخشش کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لئے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے (7:71)

And I have appealed to them publicly, (71:8)

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ۝
﴿٧١ نوح ٨﴾

پھر میں ان کو با آواز بلند بلاتا رہا (8:71)

Noah said: My Lord! They have defied me and followed someone whose wealth and children will only increase (their chance of) living. (71:21)

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ
لَمْ يَزِدْكَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝
﴿٧١ نوح ٢١﴾

نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار! یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا (21:71)

And they have devised a mighty plot, (71:22)

وَمَكْرُوهمَا مَكْرًا كَبِيرًا ۝
﴿٧١ نوح ٢٢﴾

اور ان لوگوں نے بڑے فریب کئے (22:71)

**NOAH (PUBH) TARRIED
AMONG HIS CONTEMPORARIES
FOR 950 YEARS**

And We sent Noah (as Our messenger) to his folk, and he continued with them for nine hundred and fifty years; and then deluge engulfed them, for they were wrongdoers. (29:14)

مدتہ تبلیغ نوح علیہ السلام قومہ
تسعمائة و خمسون سنة

عرصہ تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام
950 سال (نوسو پچاس برس)

وَلَقَدْ ارْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَلَيِّثَ فَيُرِمُّ
الْعَنَ سِتَّةً اِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ
الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝
﴿٢٩ العنكبوت ١٤﴾

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں
ساتھ نو سو برس رہے۔ پھر ان کو طوفان (کے
عذاب) نے آ پکڑا۔ اور وہ ظالم تھے (14:29)

**NONE AMONG THE UNBELIEVERS WILL ENTER
INTO THE FOLD OF FAITH ANY MORE
WAS REVEALED TO NOAH (PBUH)**

And it was inspired in Noah, (saying) : No one of the folk will believe except him who has believed already. So grieve no longer over their evil deeds. (11:36)

أوحى إلى نوح عليه السلام بأنه لن يؤمن
أحد من الكافرين فيما بعد

حضرت نوح علیہ السلام کو وحی
اب مزید کوئی منکر ایمان نہیں لائے گا

وَأَوْحَى اِلَى نُوحٍ اِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ
اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
﴿١١ هود ٣٦﴾

اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ
ایمان لائے ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا
تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کریں
(36:11)

**NOAH'S (PUBH) CURSING
FOR THE DISBELIEVERS AND
PRAYING FOR FORGIVENESS OF THE BELIEVERS**

And they have led many astray, and just let wrongdoers go even farther astray. (71:24)

دعاء نوح علیہ السلام علی الکافرين
واستغفاره للمؤمنين

حضرت نوح علیہ السلام کی منکرین کے لئے بددعا اور
مؤمنین کے لئے دعا مغفرت

And Noah said: My Lord! Leave not of the disbelievers a single one on the earth. (71:26)

وَقَدْ اَضَلُّوا كَثِيْرًا وَّلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ
اِلَّا ضَلٰلًا ۝
﴿٧١ نوح ٢٤﴾

(پروردگار) انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تو
ان ظالموں کو اور گمراہ کر دے (24:71)

If You should leave them, they will mislead Your slaves and will breed none but lewd ingrates. (71:27)

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ اِلَى الْاَرْضِ مِنْ
الْكٰفِرِيْنَ دِيَّارًا ۝
﴿٧١ نوح ٢٦﴾

اور (پھر) نوح نے (یہ) دعا کی میرے پروردگار کسی کا
فرکو روئے زمین پر بستانہ رہنے دے (26:71)

My Lord! Forgive me and my parents and him who enters my house believing, and believing men and believing women, and do not increase the wrongdoers in anything except destruction. (71:28)

اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا
اِلَّا فٰجِرًا كَفّٰرًا ۝
﴿٧١ نوح ٢٧﴾

اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے
اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی
(27:71)

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِيْ وَلِمَنْ دَخَلَ
بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا تَبٰرًا ۝
﴿٧١ نوح ٢٨﴾

اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو
ایمان لا کر میرے گھر میں آئے ان سب کو اور تمام ایمان
والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما۔ اور
ظالم لوگوں کے لئے اور زیادہ تباہی بڑھا (28:71)

**CONSTRUCTION OF ARK BY NOAH (PUBH)
UNDER THE SPECIAL DIVINE INSTRUCTIONS
AND RIDICULE OF THE SINNERS**

Construct the ship under Our Eyes and by Our inspiration, and speak not to Me on behalf of those who do wrong. They will be drowned. (11:37)

And he was building the ship, and every time that chiefs of his people passed by him, they made mock of him. He said: Though you make mock of us, we in our term can mock you likewise; (11:38)

And you soon shall know to whom a punishment that will confound him comes, and upon whom a lasting doom will fall. (11:39)

إعداد نوح لصنع الفلك
وسخرية القوم منه

وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي
فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ
سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ
مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

سفینہ نوح علیہ السلام کی تیاری
اور قوم کا تسخیر

اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے سامنے بناؤ۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیوں کہ وہ ضرور غرق کر دیئے جائیں گے (37:11)

تو نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اور جب ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے۔ وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو اسی طرح (ایک دن) ہم بھی تم پر ہنسیں گے (38:11)

اور تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ عذاب نازل ہو تا ہے؟ (39:11)

**ARK OF NOAH (PUBH)
A MARVEL OF SHIP INDUSTRY**

And We bore him upon a thing (ark) made of broad planks and nails, caulking) (54:13)

**COMMAND FOR EMBARKING NOAH'S (PBUH)
SHIP PAIRS OF EACH SPECIES
(MALE & FEMALE) AND THE BELIEVERS**

Thus it was) till, when Our commandment came to pass and the ten gushed forth water, We said: Had therein two of every kind, a pair (the male and female), and your family except him against whom the word has already been pronounced, as well as anyone who believe. And but a few were they who shared his faith. (11:40)

And he said: Embark therein! In the time of Allah be its course and its flowing. My Lord is Forgiving, Merciful. (11:41)

(They were) the offsprings of those whom We carried (in the ship) along with Noah. Indeed he was a grateful slave. (17:3)

فلك نوح أعجوبة في صنعة السفن

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَدُسُرٍ ﴿٥٤﴾

أمر الله نوحا بحمل الزوجين اثنين
من كل وبحمل المؤمنين في الفلك

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التُّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن
سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ
مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ فَجَرِّهَا وَمُرْسَاهَا
إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا
شَاكِرًا ﴿١٧﴾

سفینہ نوح
جہاز اور کشتی سازی کے حسن کا شاہکار

اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیاری کی گئی سوار کر لیا (13:54)

کشتی میں سب قسم کے حیوانات کے جوڑے
(نر اور مادہ) اور اطاعت گزار بندوں کو سوار کرنے کا حکم

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور جوش مارنے لگا۔ تو ہم نے (نوح کو) حکم دیا کہ ہر قسم (کے جانداروں) میں سے جوڑا جوڑا (یعنی دو) ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ (سوار کر لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے) کہ ہلاک ہو جائے گا) اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اسی کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ تھے (40:11)

(نوح نے) کہا کہ اللہ کا نام لے کر (کہ اسی کے ہاتھ میں) اس کا چلنا اور ٹھہرنا (ہے) اس میں سوار ہو جاؤ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے (41:11)

اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا بے شک نوح (ہمارے) شکر گزار بندے تھے (3:17)

Then We inspired in him, saying: Make the ship within Our sight and under Our guidance. Then, when Our command comes and the oven gushes forth, introduce therein of every (kind) two spouses, and your household except him thereof against whom the Word has already gone forth. And plead not with Me on behalf of those who have done wrong: They will be drowned in flood. (23:27)

And when you are on board the ship, you and whoso is with you, then say: Praise be to Allah Who has saved us from the wicked folk! (23:28)

And say: My Lord! Cause me to land at a blessed landing place, for You are the best of all Harbormasters. (23:29)

فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا
وَحِينًا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا
مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي
فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِ
فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنْزَلًا مُبْرَكًا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾

پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آئیے اور تنور (پانی سے بھر کر) جوش مارنے لگے تو سب (قسم کے حیوانات) میں سے جوڑا (یعنی نر اور مادہ) کشتی میں بٹھا لو اپنے گھر والوں کو بھی۔ ان کے جن کی نسبت ان میں سے (ہلاک ہونے کا) حکم پہلے (صادر) ہو چکا ہے ان ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا۔ وہ سرور ڈبو دیئے جائیں گے (27:23)

اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو (اللہ کا شکر ادا کرنا اور) کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشا اور (یہ بھی) دعا کرنا کہ اے پروردگار مجھے کو بابرکت جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ (29:23)

More Reference : 19:58 Page 640

والمزید راجع ۱۹ مریم : ۵۸ الصفحة ۶۴۰

مزید حوالہ 58:19 صفحہ 640

**THE FLOOD - THE DELUGE
A SIGN OF ADMONITION FOR ALL THE TIMES**

In this (story) indeed are portents, (for mankind to understand) for We are ever putting (mankind) to the test. (23:30)

Herein is indeed a portent, yet most of them were not believers. (26:121)

Then We opened the gates of Heavens with pouring water (54:11)

And caused the earth to gush forth springs, so that the waters met for a predestined purpose. (54:12)

That floated in Our sight (and care), as a reward for him who was rejected. (54:14)

And We left it as a token for all times; but is there any that remembers? (54:15)

Then see how (dreadful) was My punishment after My warnings! (54:16)

طوفان نوح عبرة لأولى الأبصار

إِن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

إِن فِي ذَلِكَ لآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿٥٤﴾

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى
أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿٥٤﴾

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿١٥﴾

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ ﴿١٦﴾

طوفان نوح - قصہ عبرت

بے شک اس (قصے) میں نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں (30:23)

بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے (121:26)

پس ہم نے زور کے مینہ سے آسمان کے دہانے کھول دیئے (11:54)

اور زمین میں چشمے جاری کر دیئے تو پانی ایک کام کے لئے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا (12:54)

وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی (یہ سب کچھ) اس شخص کے انتقام کے لئے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے (14:54)

اور ہم نے اس واقعہ کو ایک عبرت بنا کر چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے (15:54)

سو (دیکھ لو کہ) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا (16:54)

When the waters of the Noah's flood overflowed, We carried you upon the ship (69:11)

إِنَّا لَنَاطِقُهَا الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾
﴿٦٩ الحاقه ١١﴾

جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم (لوگوں) کو کشتی میں سوار کر لیا (11:69)

That We might make it a memorial for you, and that attentive ears (that heard the story) might retain it (as lesson). (69:12)

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿١٢﴾
﴿٦٩ الحاقه ١٢﴾

تاکہ اس واقعے کو تمہارے لئے سبق آموز یادگار بنا سکیں اور یاد رکھنے والے کان اس یاد کو محفوظ رکھیں (12:69)

More Reference : 23:41 29:40 40:5 53:52
Page 680, 681, 682, 683

والمعزید راجع ۲۳ المؤمنون: ۴۱، ۲۹ العنکبوت: ۴۰،
۴۰ المؤمنون (غافر): ۵۰، ۵۳ النجم: ۵۲

تقریباً ہوالہ 41:23 40:29 5:40 52:53
صفحہ 683, 682, 681, 680

DROWNING OF NOAH'S (PBUH) DISOBEDIENT SON

غرق الابن العاصی فی الطوفان

حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا طوفان میں غرق ہو جانا

And Ark sailed with them on the waves like mountains, and Noah cried to his son who had separated himself from the rest. O my son! Come and embark with us, and be not with the disbelievers. (11:42)

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾
﴿١١ هود ٤٢﴾

اور وہ کشتی ان کو لے کر (طوفان کی) لہروں میں چلنے لگی (لہریں کیا تھیں) گویا پہاڑ (تھے) اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کہ (کشتی سے) الگ کنارے پر تھا پکارا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کافروں میں شامل نہ ہو (42:11)

He replied: I shall betake (take refuge) myself to some mountains that will save me from the water. (Noah) said: This day there is none that save from the Commandment of Allah except him on whom He has mercy. And then a wave came in between them, and the son was among the drowned. (11:43)

قَالَ سَأُوۡبَىٰٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَّعِصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۗ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرُوقِينَ ﴿٤٣﴾
﴿١١ هود ٤٣﴾

اس (بیٹے) نے جواب دیا میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچالے گا نوح نے کہا آج اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اتنے میں دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ (43:11)

For Detail Consult : 29:40 40:5 53:52
Page 681, 682, 683

والتفصیل راجع ۲۹ العنکبوت: ۴۰، ۴۰ المؤمنون (غافر): ۵۰،
۵۳ النجم: ۵۲، الصفحہ ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:14 70:9 42:22
صفحہ 683, 682, 681

SUBSIDING OF FLOOD AND RESTING OF NOAH (PBUH) 'S ARK ON MOUNT "JUDI"

انتهاء الطوفان واستواء الفلك على الجودی

طوفان کا ختم جانا اور کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہر جانا

And it was said: O earth! Swallow your water and, O sky! Be cleared of clouds! (Withhold rain) and the water was made to subside. And the commandment was fulfilled. And it (the ship) came to rest upon (the mount) Al-Judi and it was said: Away with wrongdoing folk! (11:44)

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ أَقْلَعِي ۖ وَغِيضَ الْمَآءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعِدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾
﴿١١ هود ٤٤﴾

اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان ختم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت (44:11)

It was said (to him): O Noah! Come you down (from the mountain) with peace from Us and blessings upon you and some nations (that will spring) from those with you. (There will be other) nations to whom We shall grant enjoyment a long while and then painful doom from Us will overtake them. (11:48)

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ أُمَّةٍ قَدِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِمَتَاعِنَا لَمَّاتٍ ثُمَّ يَلُوقُ سَاءَ عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿٤٨﴾
﴿١١ هود ٤٨﴾

فرما دیا گیا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ (جو) تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر (نازل کی گئی ہیں) اتر آؤ اور کچھ اور امتیں ہوں گی جن کو ہم (دنیا کے) فوائد تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا (48:11)

AN ENDEAVOUR ON THE PART OF NOAH (PBUH) TO SEEK MERCY FOR HIS RECALCITRANT SON IN THE HEREAFTER

And Noah called to his Lord and said: My Lord! My son is of my family while Your promise is the Truth and You are the Most just of judges. (11:45)

He said: Oh Noah! No doubt! He is not of your family: He is evil conduct, so ask not Me that whereof you have no knowledge. I admonish you lest you become one of the ignorants. (11:46)

He said; My Lord! In You do I seek refuge, that I should ask You that whereof I have no knowledge. Unless You forgive me and have mercy on me I shall be among the lost. (11:47)

WIFE OF NOAH SUFFERED THE FATE OF UNBELIEVERS ON THE OFFENCE OF BETRAYING

Allah cites an example for those who disbelieve: The wife of Noah and the wife of Lot, who were under two of Our righteous slaves yet betrayed them so that they (the husbands) availed them nothing against Allah and it was told (to them): Enter the Fire along with those who enter. (66:10)

ACCEPTANCE OF NOAH'S SUPPLICATION FOR SAVING HIS(BELIEVING) POSTERITY FROM AWESOME CALAMITY

And remember Noah, when he appealed to Us aforetime, We listened his prayer and saved him and his family from the great affliction. (21:76)

And Noah prayed to Us, and We are the best Hearer of his prayer (37:75)

And We saved him and his household from the great distress, (37:76)

And made his progeny, the survivors, (37:77)

شفاعة نوح عليه السلام لابنه الشقى شفقة

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿٤٥﴾

قَالَ يٰ نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٤٧﴾

كانت عاقبة امرأة نوح الخائنة مثل عاقبة المجرمين

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَامْرَأَتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿٦٦﴾

استجابة دعاء نوح عليه السلام

وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمَجِيبُونَ ﴿٧٥﴾

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾

حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے نافرمان بیٹے کے لئے مغفرت طلب کرنے کی کوشش

اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے (تو اس کو بھی نجات دے) یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے (45:11)

اللہ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے اسکے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں تو جس چیز کی تمہیں حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نہ بنو (46:11)

نوح نے عرض کی پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا (47:11)

حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا خیانت کے جرم میں منکرین جیسا انجام

اللہ نے کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے (ان کو عذاب سے نہ بچا سکے)۔ اور ان کو حکم دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ (10:66)

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور اہل ایمان کی نجات

اور نوح (کا قصہ بھی یاد کرو) جب (اس سے) پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی (76:21)

اور ہم کو نوح نے پکارا سو (دیکھ لو کہ) ہم (دعا کو کیسے) اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں (75:37)

اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی (76:37)

اور ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا (77:37)

And left mentions of him among the later generations: (37:78)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾
﴿٣٧ الصفت ٧٨﴾

اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا (78:37)

THE BELIEVERS ON THE DECK OF NOAH'S (PBUH) SHIP SURVIVED BY ALLAH'S (SWT) GRACE WHILE THE REJECTORS OF DIVINE MESSAGE WERE DROWNED

نجاة ركاب الفلك المؤمنين بفضل الله وإغراق الكافرين

اصحاب سفینہ (ایمان والوں) کا بچ جانا اور منکرین کا غرق آب ہو جانا

But they denied him, so We saved him and those with him in the ship, and We drowned those who denied Our tokens. They were blind folk. (64)

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾
﴿٧ الاعراف ٦٤﴾

سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے (64:7)

But they denied him, so We saved him and those with him in the ship, and made them viceroys (in the earth), while We drowned those who denied Our revelations. See then the nature of the consequence for those who had been warned. (10:73)

فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٣﴾
﴿١٠ يونس ٧٣﴾

لیکن ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو (طوفان سے) بچا لیا اور انہیں (زمین میں) خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا تو دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا (73:10)

And delivered him from the people who denied Our revelations. They were folk of evil, therefore We drowned them all. (21:77)

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾
﴿٢١ الانبياء ٧٧﴾

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے انہیں (نوح کو) ان کے مقابلے میں نصرت بخشی۔ وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا (77:21)

And We saved him and those with him in the laden ship. (26:119)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾
﴿٢٦ الشعراء ١١٩﴾

پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں (سوار) تھے ان کو بچالیا (119:26)

Then afterward We drowned the others. (26:120)

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٢٠﴾

پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا (120:26)

And your Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful. (26:122)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٢٢﴾

اور بلاشبہ تمہارا پروردگار تو غالب (اور) مہربان ہے۔ (122:26)

And We rescued him and those with him in the ship, and made it a portent for the peoples. (29:15)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾
﴿٢٩ العنكبوت ١٥﴾

پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی۔ اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا (15:29)

They were single-minded slaves of Allah. (74:74)

الْعِبَادَ لِلَّهِ الْمُتَّخِصِينَ ﴿٧٤﴾
﴿٣٧ الصفت ٧٤﴾

ہاں اللہ کے خالص بندوں (کا انجام بہت اچھا ہوا) (74:37)

Then We let the others drowned. (74:82)

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾
﴿٣٧ الصفت ٨٢﴾

پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا (82:37)

Because of their sins they were drowned, then made to enter a Fire. And they found that they had no helpers in place of Allah. (71:25)

مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا أَكْثَمًا مِمَّا نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾
﴿٧١ نوح ٢٥﴾

(آخر) وہ اپنے گناہوں کے سبب (پہلے) ڈبو دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے۔ تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ (25:71)

Reference : 9:70 10:74 25:37 75:76 51:46 53:52 679, 197, 681, 927, 683

والمعزني راجع ٩ التوبة: ٧٠ ١٠ يونس: ٧٤ ٢٥ الفرقان: ٣٧ ٣٧ الصافات: ٧١ ٧٥: ٧٦ ٥١ الذاريات: ٤٦ ٥٣ النجم: ٥٢ الصفحة: ٦٧٩, ١٩٧, ٦٨١, ٩٢٧, ٦٨٣

مزيد حوالہ 70:9 74:10 37:25 52:53 46:51 76,75:37 683, 927, 681, 197, 679

HUD (HEBER)
WITH MISSION TO GUIDE THE PEOPLE OF AAD

ہود علیہ السلام
بیت الہدایۃ عاد

حضرت ہود علیہ السلام
قوم عاد کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے

A'AD MATERIALIST AND POWERFUL PEOPLE

As for Aad, they were arrogant in the land without right, and they said: Who is mightier than us in power? Could they not see that Allah Who created them, is Mightier than them in power? And they continued on denying Our revelations. (41:15)

And We had firmly established them in (prosperity and) power them with that wherewith We have not empowered you, and had endowed them with (faculties of) hearing, sight and heart and intellect but their ears and eyes and hearts availed them nothing since they denied the revelations of Allah; and what they used to mock befell them. (46:26)

عاد۔ قوم مادیوں جباروں

فَأَقْأَعَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَكَانُوا بِالآيَاتِ كَجَدُّونَ ﴿١٥﴾
﴿٤١﴾ حم السجدة ١٥

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِي مَأْتِنٍ إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَ
جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَ أَبْصَارًا وَ أَفْئِدَةً فَمَا
أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا
أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا كَجَدُّونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٤٦﴾ الاحقاف ٢٦

قوم عاد۔ مادہ پرست اور طاقتور قوم

اب عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے۔ اور وہ ہماری آیتوں سے (آخر تک) انکار کرتے رہے (15:41)

اور ہم نے قوم عاد کو ایسی استطاعت اور طاقتیں دی تھیں جو تم لوگوں کو نہیں دیں اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ تو جب وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آسکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آگیرا (26:46)

IRAM WITH COLUMNS

ارم ذات العماد

ستونوں والے ارام

And if you seize others by force, seize you as tyrants?(cruelly with out any restraint) (26:130)

Do you not consider how your Lord dealt with (the tribe of) Aad, (89:6)

(The people of) Iram, possessing columns. (89:7)

The like of which was not created in all the lands; (89:8)

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾
﴿٢٦﴾ الشعراء ١٣٠

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾
﴿٨٩﴾ الفجر ٦

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾
﴿٨٩﴾ الفجر ٧

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾
﴿٨٩﴾ الفجر ٨

اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی سے اور ظلم سے پکڑتے ہو (130:26)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ (6:89)

(جو) ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد (7:89)

جس طرح کی کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی (8:89)

FOLK OF AAD BUILDERS OF LANDMARKS

عاد قوم بناؤون متقنون

قوم عاد فن تعمیر کے ماہر

ALLAH (SWT) RICHLY ENDOWED AAD WITH EXPERIMENTAL FACULTIES (INTELLECT) ART-SCIENCE AND CULTURE AND RATIONAL FACULTIES

كان الله منح عاد مواهب كثيرة من العلوم والآداب والثقافة والملكات العقلية والتجريبية

Do you build on every high place a monument to amuse yourselves? (26:128)

And make for yourselves mighty castles, hoping that you may last forever?(became immortal) (26:129)

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾
﴿٢٦﴾ الشعراء ١٢٨

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴿١٢٩﴾
﴿٢٦﴾ الشعراء ١٢٩

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سائنس اور ثقافت کے عملی فنون اور ذہنی صلاحیتوں سے بطور خاص نوازا تھا

بھلا تم ہر اونچے مقام پر لاکھوں ایک یادگار (عمارت) بناتے ہو (128:26)

اور بڑے محل بناتے ہو گویا تم ہمیشہ رہو گے (129:26)

**AAD INHABITANTS OF AHQAF
(COUNTRY OF WINDING CROOKED TRACTS)**

And make mention of Hud one of the brothers of Aad when he warned his folk among the wind curved sand hills and warners came and went before and after him saying: Worship none but Allah. I fear for you the doom of a tremendous Day. (46:21)

الأحقاف - مسکن عاد

وَأذْكُرْ أَهْلَ عَادٍ إِذْ أَنْذَرْنَاهُمْ بِالْأَحْقَافِ
وَقَدْ خَلَّتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
خَلْفِهِ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٤٦﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٢١﴾

احقاف - قوم عاد کا مسکن

اور (قوم) عاد کے بھائی (ہود) کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے (21:46)

**PREACHING OF HUD (PBUH)
FOR MONOTHEISM TO PEOPLE OF AAD**

And to (the tribe of) Aad (We sent) one of their brothers, Hud. He said: O my people! Serve Allah. You have no other god save Him. Will you not fear Allah? (7:65)

**تبلیغ ہود علیہ السلام
قومه عاداً للتوحيد**

وَالِى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾
﴿٧ الاعراف ٦٥﴾

ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو تبلیغ توحید

اور (اسی طرح) قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں؟ (65:7)

I convey to you the messages of my Lord and am to you a sincere and trustworthy adviser. (7:68)

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾
﴿٧ الاعراف ٦٨﴾

میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں (68:7)

Marvel you that there should come to you a message from your Lord through a man among you, that he may warn you? Remember how He made you viceroys after Noah's folk, and gave you a stature tall among the nations. Remember (all) the bounties of your Lord, that haply you may prosper. (7:69)

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى
رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا
إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ
وَإِذْ كُنْتُمْ فِي الْخَلْقِ بَصِطَةً فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾
﴿٧ الاعراف ٦٩﴾

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ (69:7)

And to (the tribe of) Aad (We sent) their brother, Hud. He said: O my people! Worship Allah! alone you have no other deity except Him. You are but the forgers! (11:50)

وَالِى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾
﴿١١ ہود ٥٠﴾

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم (شُرک کر کے اللہ پر) محض بہتان باندھتے ہو (50:11)

O my people! I ask you no reward for it. My reward is only with Him Who created me. Have you then no sense? (11:51)

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى
الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾
﴿١١ ہود ٥١﴾

میری قوم! میں اس (وعظ و نصیحت) کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ (51:11)

besides Him. So (try to) circumvent me, all of you; and give me no respite. (11:55)

مِنْ دُونِهِ فَكَيْدٌ وَنِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ ﴿٥٥﴾
﴿١١ ہود ٥٥﴾

(یعنی جن کی) اللہ کے سوا (عبادت کرتے ہو) تو تم سب مل کر میرے خلاف (جو) تدبیر (کرنی چاہو) کر لو اور مجھے مہلت نہ دو (55:11)

I have put my trust in Allah, my Lord and your Lord. Not an animal but He does grasp it by the forelock! My Lord is on a straight path. (11:56)

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾
﴿١١ هود ٥٦﴾

میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا (سب کا) پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں (زمین پر) جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو دوٹی (پیشانی) سے پکڑے ہوئے ہے بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے (56:11)

And if you turn away, still I have conveyed to you that wherewith I was sent to you, and my Lord will replace you with some other folk. You cannot harm Him at all. My Lord is Guardian over all things. (11:57)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾
﴿١١ هود ٥٧﴾

میں اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لاسائے گا۔ اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے (57:11)

When their brother Hud said to them: Will you not fear Allah? (26:124)

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٢٤﴾

جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ (26:124)

I am a faithful and trustworthy messenger to you, (26:125)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٢٥﴾

میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں (26:125)

So fear Allah and obey me. (26:126) (26:131)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
﴿٢٦ الشعراء ١٢٦﴾ (٢٦ الشعراء ١٣١)

تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو (26:126) (26:131)

And I ask you no reward therefore; my reward is only with the Lord of the Worlds. (26:127)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٢٧﴾

اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ (اللہ) رب العالمین کے ذمے ہے (26:127)

Heed Him Who has furnished you with (the good things) that you know, (26:132)

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٣٢﴾

اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو (26:132)

He furnished you with livestock and sons. (26:133)

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٣٣﴾

اس نے تمہیں چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی (26:133)

And gardens and water springs. (26:134)

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٣٤﴾

اور باغوں اور چشموں سے (26:134)

I fear for you the retribution of an awful day. (26:135)

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٣٥﴾

مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے (سخت) دن کے عذاب کا خوف ہے (26:135)

More Reference : 46:21 Page 930

والمزيد راجع ٤٦ الأحقاف: ٢١ الصفحة ٩٣٠

مزيد حوالہ 21:46 صفحہ 930

SCOFFING AND FALSE ARGUING OF CHIEFS OF AAD WITH HUD (PBUH)

The chieftains of his people, who were disbelieving, said: We surely see you in foolishness, and we deem you among the liars. (7:66)

He said : O my people; There is no foolishness in me, but I am a messenger from the Lord of the Worlds. (7:67)

جواب قومہ للدعوة إلى الحق بالاستهزاء والاستدلال الزائف

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾
﴿٧ الاعراف ٦٦﴾

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾
﴿٧ الاعراف ٦٧﴾

دعوت حق کے جواب میں قوم عاد اور ان کے سرداروں کا استہزاء اور جھوٹا استدلال

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں (66:7)

انہوں نے کہا کہ اے میری قوم! مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں (67:7)

They said: O Hud! You have brought us no clear proof and we are not going to forsake our gods on your (mere) saying, and we are not believers in you. (11:53)

We say nothing except that one of our gods has possessed you in an evil way. He said: I call Allah to witness, and do you (too) bear witness, that I am innocent of (all) that you ascribe as partners (to Allah) (11:54)

The tribe of) Aad denied the messengers (of Allah), (26:123)

When their messengers came to them from before them and behind them, teaching: Worship none but Allah! They said: If our Lord had wished, He surely would have sent down angels (to us), so we are disbelievers in that wherewith you have been sent. (41:14)

قَالُوا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي
الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾

إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ
قَالَ إِنِّي أَنْشِئُهُ اللَّهُ وَالشَّهَدُ وَالْأَنَّىٰ بَرِيءٌ مِّمَّا
تَشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٢٣﴾

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ
رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأَنبَأْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ ﴿٤١﴾
﴿٤١ حم السجدة ١٤﴾

وہ بولے ہو تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے۔ اور ہم (صرف) تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں (53:11)

ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسب پہنچا (کردیوانہ کر) دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم (اللہ کا) شریک بناتے ہو۔ میں اس سے بیزار ہوں (54:11)

عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا (123:26)

جب ان کے پاس پیغمبران کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ تم اللہ کے سوا (کسی کی) عبادت نہ کرو۔ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے (14:41)

Reference: 9:70 14:9 22:42 26:129
Page 679, 201, 202, 929, 934

والمعز براجع ٩ التوبة: ٧٠ ١٤ إبراهيم: ٩٠ ٢٢ الحج: ٤٢
٢٦ الشعراء: ١٢٣ ٤١ حم السجدة (فصلت): ١٥ ٥٣ النجم: ٥٠

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:70 14:9 22:42 26:129
صفحہ 679, 201, 202, 929, 934 50:53 15:41

**AD'S FOLK CHALLENGE TO THEIR PROPHET
TO BRING ON THEM
THE THREATENED PUNISHMENT**

They said: Have you come to us that we should worship Allah alone, and forsake what our fathers worshipped? Then bring upon us that wherewith you threaten us if you are of the truthful. (7:70)

He said: Terror and wrath from your Lord have already fallen on you. Would you dispute with me over names, which you have devised, you and your fathers, for which no authority from Allah has been revealed? Then await (the consequence), I (also) am of those awaiting (it). (7:71)

They said: It is all the same for us whether you preach or not; (26:136)

This is only a fabrication (of a primary device) of the primitive man (ancients). (26:137)

استدعاء عاد عذاب الله

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ
مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعَدُّنَا إِنْ
كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾
﴿٧٠ الاعراف ٧٠﴾

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَ
غَضَبٌ أَتَجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَكَّيْتُمُوهَا
أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ
فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾
﴿٧١ الاعراف ٧١﴾

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ
الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٣٦﴾

إِنَّ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٣٧﴾

قوم عاد کا عذاب الہی کو چیلنج

وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ (70:7)

ہو نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب (کا نازل ہونا) مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے (اپنی طرف سے) رکھ لئے ہیں۔ جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں (71:7)

وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کر دیا نہ کرو ہمارے لئے کیساں ہے (136:26)

یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے (137:26)

And we shall not be punished. (26:138)

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٣٨﴾

They said; Have you come to turn us away from our gods? Then bring upon us that wherewith you threaten if you are of the truthful. (46:22)

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهِتَانِ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُّنَا إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٢٢﴾

He said: The knowledge rests with Allah only. I convey to you that wherewith I have been sent, but I see you are a folk that know not. (46:23)

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَا ارْسَلْتُ بِهٖ وَلَكِيْنِ اِرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٢٣﴾

ASKING OF HUD (PBUH) TO HIS PEOPLE FOR TURNING TO ALLAH (SWT) IN FAITH AND SEEK REPENTANCE TO RECEIVE GREAT BLESSINGS

تلقین ہود قومہ علیہ السلام للاستغفار والتوبة إلى الله ليستحقوا انعم الله

And, O my people! Ask forgiveness of your Lord, then turn to Him repentant; He will cause the sky to rain in abundance on you and will add strength to your strength. Turn not away, like criminals! (11:52)

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا لِيَرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾
﴿١١ هود ٥٢﴾

NOT APPREHENDING THE SUDDEN SIGNS OF PUNISHMENT AND REJOICING ON SEEING THE CLOUDS

عدم إدراك عاد لآثار العذاب المفاجيء وابتهاجهم على رؤية السحاب

Then when they saw it a dense cloud coming towards their valleys, they said; Here is a cloud bringing us rain. No, but it is that which you did seek to hasten, a wind wherein is painful torment, (46:24)

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقِيْلًا اُوْدِيْتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ اَسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٢٤﴾

Destroying all things by commandment of its Lord. And morning found them so that nothing could be seen except their dwellings. Thus do We reward the criminal folk. (46:25)

تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ وَّيَبْقَىٰ رِيْهَآ فَاَصْبَحُوْا اِلٰٓءَ اِيَّآئِهِمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾
﴿٤٦ الاحقاف ٢٥﴾

CHASTISEMENT OF TREMENDOUS HURRICANE DREADFUL TORNADO - FURIOUS WIND DESTROYED FORMER TRIBE OF AAD

إهلاك عاد الاولى بريح صرصر عاتية

Therefore We sent on them a howling gale in disastrous days, that We might let them taste the torment of disgrace in the life of the world. And surely the doom of the Hereafter will be more shameful, and they will never be helped. (41:16)

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَّرْصَرًا فِىْ اَيَّامٍ نَّحْسٰتٍ لِّنُنْزِقَهُمْ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ اِذْ هُمْ لَا يَنْصُرُوْنَ ﴿١٦﴾
﴿٤١ حم السجدة ١٦﴾

اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا (138:26)

وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو۔ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ (22:46)

انہوں نے کہا کہ (اس کا) علم تو اللہ ہی کو ہے۔ اور میں تو جو (احکام) دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو (23:46)

ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو انعامات الہیہ کے حصول کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کی تلقین

اور اے قوم! اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا۔ اور (دیکھو) گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو (52:11)

عذاب کے آثار بادل کی شکل میں دیکھ کر قوم عاد کا خوش فہمی میں مبتلا رہنا

پھر جب انہوں نے اس (عذاب) کو دیکھا کہ بادل (کی صورت میں) ان کے میدانوں کی طرف آرہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ (نہیں) بلکہ (یہ) وہ چیز ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے۔ یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے (24:46)

ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کئے دیتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں (25:46)

باد صرصر۔ تیز و تند مسلسل چلنے والی آندھی کے عذاب سے عاد اولیٰ کا ستیاناس ہو جانا

تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں تیز و تند آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھادیں۔ اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے اور (اس روز) ان کو مدد بھی نہ ملے گی (16:41)

And in (the tribe of) Aad (there is a portent) when We sent the devastating wind against them. (51:41)

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ٤١﴾

اور عاد (کی قوم کے حال) میں بھی (نشانی اور تنبیہ ہے) جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی (41:51)

It spared nothing that it reached, but made it (all) as dust. (51:42)

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٥٢﴾
﴿٥١ الذریت ٤٢﴾

وہ جس چیز پر چلتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی (42:51)

And that He destroyed the (powerful) ancient (tribe of) Aad, (50:53)

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى ﴿٥٣﴾
﴿٥٣ النجم ٥٠﴾

اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا (50:53)

The (tribe of) Aad rejected (My) warnings. Then see how (dreadful) was My punishment after My (warnings). (54:18)

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٥٤﴾
﴿٥٤ القمر ١٨﴾

قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا سو (دیکھ لو کہ) میرا عذاب اور ڈرانے والی باتیں کیسی ہیں (18:54)

We let loose on them a raging wind (on) a day of bitter ill luck (plucking) (54:19)

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿٥٤﴾
﴿٥٤ القمر ١٩﴾

ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں تیز و تند آندھی چلائی (19:54)

Plucking out (Sweeping) men away as though they were uprooted trunks of (palm) trees. (54:20)

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٥٤﴾
﴿٥٤ القمر ٢٠﴾

وہ لوگوں کو (اس طرح) اٹھا اٹھا کر دے پٹختی تھی گویا جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں (20:54)

Men (see) how (dreadful) was My (punishment) after My (warnings)! (54:21)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٥٤﴾
﴿٥٤ القمر ٢١﴾

سو (دیکھ لو کہ) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا (21:54)

And as for Aad, they were destroyed (by) a furious exceedingly violent (wind), (69:6)

وَأَمَّا عَادُ فَاهْتَدَوْا بِرِيحٍ صَرْصَرًا عَاتِيَةٍ ﴿٦٩﴾
﴿٦٩ الحاقة ٦﴾

اور عاد کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کرا دیا گیا (6:69)

Which He imposed on them for (seven) long nights and eight long (days) so that you might have seen (them) lying overthrown, as they were (like) low trunks of palm trees. (69:7)

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ لُّهُوسًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٦٩﴾
﴿٦٩ الحاقة ٧﴾

اللہ نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر لگاتار چلائے رکھا تو تم دیکھتے کہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں (7:69)

Can you (O Muhammad) see any of (them) left surviving? (69:8)

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿٦٩﴾
﴿٦٩ الحاقة ٨﴾

بھلا آپ ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتے ہیں؟ (8:69)

Do you not consider how your Lord (dealt) with (the tribe of) Aad, (89:6)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٨٩﴾
﴿٨٩ الفجر ٦﴾

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ (6:89)

**PEOPLE OF AAD PURSUED BY
DEVINE'S CURSE
IN THE LIFE AND IN THE HEREAFTER**

لعنة الله على عاد في الدنيا والآخرة

**قوم عاد پر دنیا اور آخرت میں
اللہ تعالیٰ کی لعنت**

All such were Aad. They denied the signs of their Lord and flouted His messengers and followed the command of every froward potentate. (11:59)

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾
﴿١١ هود ٥٩﴾

یہ (وہی) عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا نا (59:11)

And a curse was made to follow them in the world and on the Day of Resurrection. Aad disbelieved in their Lord. Away with Aad, the folk of Hud! (11:60)

وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآيَاتِ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدُ الْعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾
﴿١١ ہود ٦٠﴾

تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی (لگی رہے گی) دیکھو عادی نے اپنے پروردگار سے کفر کیا (اور) سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار (دوری) ہے (60:11)

ALLAH (SWT) WITH HIS GRACE SAVED AND THOSE WHO BELIEVED HUD (PBUH) FROM SEVERE SUFFERING

نجات ہود علیہ السلام
والمؤمنین من العذاب

ہود علیہ السلام
اور اہل ایمان کی نجات

And We saved him and those with him by a mercy from Us, and We cut the root of those who denied Our revelations and they were not believers. (7:72)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾
﴿٧ الاعراف ٧٢﴾

پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی۔ اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں (72:7)

And when Our commandment came to pass We saved Hud and those who believed with him by a mercy from Us; We saved them from a harsh doom. (11:58)

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾
﴿١١ ہود ٥٨﴾

اور جب ہمارا حکم (عذاب) آپہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچالیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی (58:11)

ARCHAEOLOGICAL REMAINS - LANDMARKS OF AAD ARE SIGNS OF ADMONITION FOR PEOPLE OF KNOWLEDGE

أطلال بيوت عاد الخاوية
تدعو إلى العبرة

قوم عاد کی تباہ شدہ بستیاں۔ نشانات عبرت

And (the tribes of) 'Aad and Thamud! (Their fate) is manifest to you from their (ruined and deserted) dwellings. Satan made their deeds seem fair to them and so debarred them from way, though they were keen observers. (29:38)

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٣٨﴾

اور عاد اور ثمود کو بھی (ہم نے ہلاک کر دیا) چنانچہ ان کے (دوران) گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو (سیدھے) راستے سے روک دیا۔ حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے (38:29)

SALIH PBUH (METHUSALEH)

صالح عليه السلام

حضرت صالح علیہ السلام

APPOINTED TO GUIDE
THE PEOPLE OF THAMUD

بعث لہدایۃ ثمود

قوم ثمود کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے

THAMUD - SUCCESSORS TO
THE CULTURE AND CIVILISATION OF AAD
(MASTERY IN ROCK CUT BUILDINGS)

ثمود قوم ماہرون فی فن البناء
ورثۃ عاد فی فنونہم وثقافتہم

قوم ثمود۔ عملی فنون وثقافت اور فن تعمیر کے
ماہرین۔ قوم عاد کے وارث

And remember how He made you
viceroys after 'Aad and gave you
station in the earth. You choose
castles in the plains and hew the
mountains into dwellings. So
remember (all) the bounties of
Allah and refrain from evil, and
nischief in the earth. (7:74)

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ
وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا
قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا
آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾
(٧ الاعراف ٧٤)

اور یاد کرو جب اللہ نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشین بنایا
اور زمین پر آباد کیا۔ کہ نرم زمین سے محل تعمیر کرتے ہو اور
پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ پس اللہ کی
نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو
(74:7)

and they used to hew out edifices
from the hills, (wherein they dwelt)
secure. (15:82)

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾
(١٥ الحجر ٨٢)

اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے
تھے (کہ) امن (واطمینان) سے رہیں گے
(82:15)

though you carve houses out of
rocky mountains, with great skill?
(26:149)

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾
(٢٦ الشعراء ١٤٩)

اور پہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف گھر بناتے ہو
(149:26)

and with (the tribe of) Thamud,
who clove the rocks in the valley;
(39:9)

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾
(٨٩ الفجر ٩)

اور قوم ثمود کے ساتھ (کیا کیا) جو وادی (قراء) میں
پتھر تراشتے (اور گھر بناتے) تھے (9:89)

INHABITANTS OF ROCKY COUNTRY (HIJR)
FERTILE VALLEY AND PLAINS OF QURA

واد الحجر، واد القراء، مسکن ثمود

قوم ثمود کا مسکن وادی حجر۔ وادی قراء

and the dwellers in Al-Hijr indeed
denied (Our) messengers. (15:80)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾
(١٥ الحجر ٨٠)

اور (وادی) حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو
جھٹلایا (80:15)

PREACHING OF SALIH (PBUH)
FOR MONOTHEISM
TO THE PEOPLE OF THAMUD

تبلیغ صالح علیہ السلام
قومہ ثمود للتوحید

حضرت صالح علیہ السلام
کی قوم ثمود کو تبلیغ توحید

and to (the tribe of) Thamud (We
sent) their own brethren Salih. He
said: O my people! Worship Allah,
you have no other god except Him.
He brought you forth from the earth
and has settled you therein. So ask
for forgiveness of Him and turn to Him
repentant. Surely, my Lord is Near,
Responsive. (11:61)

وَالِیْ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَاسْتَعْرَضَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ
ثُمَّ تَوْبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی قَرِیْبٌ مُجِیْبٌ ﴿٦١﴾
(١١ هود ٦١)

اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو (بھیجا) تو
انہوں نے کہا کہ اے قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس
کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا
کیا۔ اور اس میں آباد کیا۔ تو اس سے مغفرت مانگو۔
اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک
(بھی ہے اور دعا کا) قبول کرنے والا (بھی) ہے (61:11)

He said: O my people! Bethink you: If I am (acting) on clear proof from my Lord and there has come to me a mercy from Him, who will save me from Allah if I disobey Him? You would add to me nothing except perdition. (11:63)

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿١١﴾ هود ٦٣

(صالح نے) کہا کہ اے میری قوم! بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے (نبوت) رحمت بخشی ہے تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے کون میری مدد کرے گا؟ تم (تو) (کفر کی باتوں سے) میرا نقصان کرتے ہو (63:11)

When their brother Salih said to them: Will you not fear Allah? (26:142)

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ الشعراء ١٤٢

جب ان سے ان کے بھائی (صالح) نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ (142:26)

I am a messenger to you, worthy of all trust. (26:143)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ الشعراء ١٤٣

میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں (143:26)

So fear Allah and obey me. (26:144) (26:150)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٤٤﴾ الشعراء ١٤٤

تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو (144:26) (150:26)

And I ask you/no reward therefore; my reward is only with the Lord of the Worlds. (26:145)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ الشعراء ١٤٥

اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ (اللہ) رب العالمین کے ذمے ہے (145:26)

Will you be left secure in that all you have here, (26:146)

أَتُرْكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ الشعراء ١٤٦

کیا جو چیزیں (تمہیں) یہاں (میرے) ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ (146:26)

In gardens and water springs (26:147)

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ الشعراء ١٤٧

(یعنی) باغ اور چشمے (147:26)

And corn fields and heavy sheathed palm trees, (26:148)

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ الشعراء ١٤٨

اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے شگوفے نرم و نازک ہوتے ہیں (148:26)

And obey not the command of the prodigals, (26:151)

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الشعراء ١٥١

اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو (151:26)

Who spread corruption in the earth, and reform not. (26:152)

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ الشعراء ١٥٢

جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے (152:26)

And We sent to Thamud their brother Salih, saying: Worship Allah. And they (then) became two parties quarrelling. (27:45)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ النمل ٤٥

اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے (45:27)

He said: O my people! Why do you hasten towards the evil rather than the good? Why do you not ask pardon of Allah, that you may receive mercy. (27:46)

قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ النمل ٤٦

(صالح نے) کہا اے میری قوم! تم بھلائی سے پہلے برائی کے لئے کیوں جلدی کرتے ہو (اور) اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے (46:27)

**SCOFFING AND FALSE ARGUING
OF CHIEFS OF THAMUD**

استهزاء قوم صالح به
واستدلالهم الزائف

قوم ثمود کے سرداروں کے استهزاء
اور جھوٹے استدلال

The leaders of the arrogant party among their people, said to those whom they despised, to such of them as believed: Know you that which is sent from his Lord? They said: In that wherewith he has been sent we are believers. (7:75)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا مِنَ امْنٍ مِنْهُمْ
اتَعْلَمُونَ اِنَّ صَاحِبًا مُرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ قَالُوا
اِنَّا بِمَا ارْسَلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾
﴿٧ الاعراف ٧٥﴾

تو ان کی قوم میں مغرور سردار نے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلاشبہ ایمان رکھتے ہیں (75:7)

Those who were arrogant said; In that which you believe; we reject it. (76)

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ
بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧٦﴾
﴿٧ الاعراف ٧٦﴾

تو (سرداران) مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے (76:7)

They said: O Salih! You have been among us until now as a source of expectations. Do you ask us not to worship what our fathers worshipped? We Surely are in grave doubt about that to which you invite us. (11:62)

قَالُوا اِيضًا قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا
اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا وَاِنَّا لَفِي
شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾
﴿١١ هود ٦٢﴾

انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم سے (کئی طرح کی) امیدیں رکھتے تھے (اب وہ منقطع ہو گئیں) کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ (ماپ دادا) پوجتے آئے ہیں اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے (62:11)

The tribe of) Thamud denied the messengers (of Allah) (26:141)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٤١﴾

(قوم) ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا (141:26)

They said: We augur evil of you and associate with you. He said: Your evil augury is with Allah. No but you are folk that are being tested. (27:47)

قَالُوا الظُّمَيْرُ نَابِكِ وَبَيْنَ مَعَكَ قَالِ ظَيْرُكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾
﴿٢٧ النمل ٤٧﴾

وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لئے شگون بد ہیں (صالح نے) کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو (47:27)

The tribe of) Thamud rejected the warnings (54:23)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾
﴿٥٤ القمر ٢٣﴾

قوم ثمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا (23:54)

Or they said: Is it a mortal man, one among us, that we are to follow? Then indeed we should fall into error and madness. (54:24)

فَقَالُوا اَبَشْرًا مِّمَّا وَاٰحِدًا اتَّبَعْنَا اِنَّا اِذَا لَغِي
ضَلَّلِمْ وَ سَعُرِ ﴿٢٤﴾
﴿٥٤ القمر ٢٤﴾

اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے (24:54)

Has the message been revealed to him alone among us? No but he is a liar. (54:25)

اَلْقَى الَّذِي كُوْنُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشْرٌ ﴿٢٥﴾
﴿٥٤ القمر ٢٥﴾

کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ (نہیں) بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے (25:54)

Then see how (dreadful) was My Punishment after My warnings! (30)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾
﴿٥٤ القمر ٣٠﴾

سو (دیکھو لو کہ) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا (30:54)

(The tribe of) Thamud denied (the truth) in their rebellious pride. (91:11)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾
(٩١ الشمس ١١)

قوم (ثمود) نے اپنی سرکشی کے سبب (پینہیر کو) جھٹلایا (11:91)

More Reference : 11:62 14:9 22:42
Page 938, 201, 202

والمزید راجع ١١ هود: ٦٢ ١٤ ابراهيم: ٩
٢٢ الحج: ٤٢ الصفحة ٩٣٨، ٢٠١، ٢٠٢

زيد حوالہ 62:11 9:14 42:22
صفحہ 202, 201, 938

ASKING OF FOLK OF SALIH
FOR A SIGN

They said: You are but one of the bewitched; (26:153)

You are but a mortal like us. So bring some token if you are of the truthful. (26:154)

طلب قوم صالح منہ آیہ

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَكَّرِينَ ﴿١٥٣﴾
(٢٦ الشعراء ١٥٣)

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بَيِّنَاتٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾
(٢٦ الشعراء ١٥٤)

قوم صالح کا معجزہ لانے کا مطالبہ

وہ کہنے لگے کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے (153:26)

تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو۔ اگرچہ ہو تو کوئی (نشانی) لاؤ (154:26)

SHE - CAMEL

A CLEAR SIGN FROM ALLAH (SWT)
A TEST CASE FOR THAMUD PEOPLE

And to (the tribe of) Thamud (We sent) their brother Salih. He said: O my people! Worship Allah. You have no other god except Him. A wonder (clear sign) from your Lord has come to you. This is the she camel of Allah, a token to you; so let her graze in Allah's earth, and touch her not let her not come to any harm lest painful torment seizes you. (7:73)

O my people! This is the she camel of Allah, a token to you, so let her pasture in Allah's earth, and do not hurt her lest some torment should overtake you from near at hand. (11:64)

He said: This is she-camel. She has the right to drink (at the well), and you have the right to drink, (each) on an appointed day. (26:155)

And touch her not that you hurt her, lest there comes on you the retribution of an awful day. (26:156)

ناقة الله آية بينة من الله
ابتلاء ثمود

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ
بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ
فَذُرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا
بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ ﴿٧٣﴾
(٧ الاعراف ٧٣)

وَلِى قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُوهَا تَأْكُلْ
فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾
(١١ هود ٦٤)

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ
مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾
(٢٦ الشعراء ١٥٥)

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾
(٢٦ الشعراء ١٥٦)

اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کا معجزہ (ناقتہ اللہ)
قوم ثمود کی آزمائش

اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ (تو) صالح نے کہا کہ اے قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آچکا ہے (یعنی) یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے معجزہ ہے۔ تو اسے (آزاد) چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرنی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا (73:7)

اور (یہ بھی کہا کہ) اے قوم! یہ اللہ کی اونٹنی تمہاری لئے ایک نشانی (یعنی معجزہ) ہے۔ تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں (جہاں چاہے) چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا (64:11)

(صالح نے) کہا (دیکھو) یہ اونٹنی ہے (ایک دن) اس کیلئے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہاری باری (155:26)

اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا (نہیں تو) تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا (156:26)

More Reference : 7:77 26:158 91:13,14
Page 940

والمزید راجع ٧ الاعراف: ٧٧ ٢٦ الشعراء: ١٥٨
٩١ الشمس: ١٤١٣ الصفحة ٩٤٠

زيد حوالہ 77:7 158:26 14,13:91
صفحہ 940

SOCIAL EVILS OF THAMUD PEOPLE
RICH OPPRESSING THE POORS
MONOPOLIZING OF RESOURCES BY
PRIVILEGED CLASS TO PREVENT OTHER'S ACCESS

(To their warner it was said): Tomorrow they will know who is the rash liar. (54:26)

سیات ثمود الاجتماعية
استيلاء المترفين على المستضعفين
ومنعهن من الاستمتاع بنزائن الأرض

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْآثِرُ ﴿٥٤﴾
(٥٤ القمر ٢٦)

قوم ثمود کی معاشرتی برائیاں
امرا طبقہ کی اجارہ داری۔ غریب طبقہ کو
اللہ کی زمین کے قدرتی وسائل سے محروم رکھنا

ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ (26:54)

We are sending the she camel as a test for them; so watch them and have patience; (54:27)

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَبِعُوهَا
وَاصْطَبِرُوا ﴿٧﴾
﴿٥٤ القمر ٢٧﴾

(اے صالح) ہم ان کی آزمائش کے لئے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرتے رہو (27:54)

And inform them that the water is to be shared between (her and) them. Each will have his own specific time to drink. (54:28)

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾
﴿٥٤ القمر ٢٨﴾

اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر (باری والے کو) اپنی باری پر آنا چاہئے (28:54)

HAMSTRUNG THE SHE CAMEL BY THAMUD INSTEAD COMPLYING THE INSTRUCTIONS OF TAKING CARE OF DIVINE'S SYMBOL

عقر ثمود ناقة الله بدلا من احترامها
بالرغم من أمر الله

ہدایات کے برعکس (اللہ کی قدرت کی نشانی کا خیال رکھنے کی بجائے) قوم ثمود کا اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالنا

And We gave them Our signs, but they were averse to them. (15:81)

وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾
﴿١٥ الحجر ٨١﴾

اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ اس سے منہ پھیرتے رہے (81:15)

But they hamstrung her, and then were penitent. (26:157)

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٥٧﴾

تو انہوں نے اس (اونٹنی) کے پاؤں کاٹ دیئے پھر شرمندہ ہوئے (157:26)

So the retribution came on them. wherein is indeed a portent, yet most of them are not believers. (26:158)

فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّوَمَا كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٥٨﴾

سوان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں (158:26)

And your Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful. (26:159)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٥٩﴾

اور تمہارا پروردگار تو غالب (اور مہربان ہے) (159:26)

But they called their comrade and he took courage and hamstrung her. (54:29)

فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾
﴿٥٤ القمر ٢٩﴾

تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس نے (اونٹنی کو) پکڑ کر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے (29:54)

The most wicked man among them was deputed (for impiety) (91:12)

إِذِ اتَّبَعَتْ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾
﴿٩١ الشمس ١٢﴾

جب ان میں سے ایک نہایت بد بخت اٹھ کھڑا ہوا (12:91)

And the messenger of Allah said: It is the she-camel of Allah, so let her drink! (91:13)

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾
﴿٩١ الشمس ١٣﴾

تو اللہ کے پیغمبر (صالح) نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو (13:91)

But they denied him, and they hamstrung her, so Allah doomed them for their sin and razed (their dwellings). (91:14)

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾
﴿٩١ الشمس ١٤﴾

مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیئے تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو (ہلاک کر کے) بستی کو برابر کر دیا (14:91)

He dreads not the sequel (of events). (91:15)

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾
﴿٩١ الشمس ١٥﴾

اور اس (اللہ) کو ان کے تباہ کن انجام کا کچھ بھی ڈر نہیں (15:91)

Reference : 17:59 Page 195

وللمزيد راجع ١٧ الإسراء (بئسرايل) : ٥٩ الصفحة ١٩٥

مزید حوالہ 59:17 صفحہ 195

THAMUD'S CHALLENGE TO THEIR PROPHET TO BRING ON THEM THE THREATENED PUNISHMENT

عتو ثمود عن أمر ربهم

قوم ثمود کا عذاب الہی کو چیلنج

They cruelly slaughtered the she-camel, and they flouted the commandment of their Lord, and they said: O Salih! Bring upon us that where with you threaten us if you are indeed of those sent (from Allah). (7:77)

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَلِّهِ أَتَّيَّبَاتٍ نَعْدُ نَأْنِ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾

آخر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم (اللہ کے) پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ (77:7)

And Salih left on them and said : O my people! I delivered my Lord's message to you and gave you good advice, but you love not good counsellors. (7:79)

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَّيْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ
التَّصْحِيحِينَ ﴿٧٩﴾
﴿٧ الاعراف ٧٩﴾

پھر صالح ان سے (نا امید ہو کر) منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ
اے میری قوم! میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری
خیر خواہی کی مگر تم (ایسے ہو کہ) خیر خواہوں کو پسند نہیں
کرتے (79:7)

**RESPITE OF THREE DAYS TO THE THAMUD
FOR TURNING TO ALLAH (SWT)
AND SEEK REPENTANCE TO AVOID TORMENT**

But they cruelly slaughtered her, and then he said: Enjoy life in your dwelling places three days! (then will be your ruin) This is a threat that will not be belied. (11:65)

إمهال ثمود لثلاثة أيام ليتوبوا
إلى الله وقاية من عذاب الله

قوم ثمود کو عذاب سے بچنے کیلئے
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع
(توبہ) کیلئے تین دن مہلت

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْدُونٍ ﴿٦٥﴾
﴿١١ هود ٦٥﴾

پھر ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو
(صالح نے) کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن (اور)
رہ سہہ لو۔ یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا (65:11)

**A MOST DASTARDLY PLOT
OF NINE MISCHIEVOUS CLANS OF THAMUD
TO SLAY THE PROPHET SALIH (PBUH)
IN A SECRET NIGHT ATTACK**

And there were in the city nine persons who made mischief in the land and reformed not. (27:48)

تسعة رهط مفسدين
وموا مرتهم لقتل صالح مكرًا

قوم ثمود کے نو مفسدین کی حضرت صالح کو قتل
کرنے کی مکروہ سازش (منصوبہ شب خون)

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾
﴿٢٧ النمل ٤٨﴾

اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور
اصلاح نہیں کرتے تھے (48:27)

They said: Swear a mutual oath by Allah that we will attack him and his household by night, and afterward we will surely say to his heir:(when he seeks vengeance) We witnessed not the slaughter of his household. And we are truth tellers. (27:49)

قَالُوا اتَّقِ اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لِنَبِيِّكُمْ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
لَنُقُولَنَّ لَوْلِيَّيْنَا مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٢٧ النمل ٤٩﴾

انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ ہم
رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں
گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے
گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور
ہم سچ کہتے ہیں (49:27)

So they plotted a plot: and We too plotted a plot, while they perceived not. (27:50)

وَكُفَرُوا بِمَا كُفَرُوا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾
﴿٢٧ النمل ٥٠﴾

اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو
کچھ خبر نہ ہوئی (50:27)

**CALAMITY OF TERRIBLE EARTHQUAKE SINGLE -
MIGHTY VOLCANIC BLAST - WITH RUMBLING
NOISE AND THUNDER BOLT
AS PUNISHMENT OF THEIR
INEQUITY AND REBELLIOUS PRIDE**

So the earthquake seized them, and morning found them cowering in their dwelling places. (7:78)

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جُثَّةٍ ﴿٧٨﴾
﴿٧ الاعراف ٧٨﴾

قوم ثمود پر خوفناک کڑک اور زلزلہ کا عذاب
(سرکشی اور نا انصافی کی سزا)

تو ان کو زلزلہ نے آپکڑا اور وہ صبح کو اپنے گھروں میں
اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ (78:7)

And the (awful) mighty blast overtook those who did wrong, so that morning found them lying lifeless in their homes, (11:67)

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي
دِيَارِهِمْ جُثَّةٍ ﴿٦٧﴾
﴿١١ هود ٦٧﴾

اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چٹکھاڑ (جج کی صورت
میں عذاب) نے آپکڑا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں
اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ (67:11)

As though they had never dwelt there. Thamud disbelieved in their Lord. A far removal for Thamud! (11:68)

كَانَ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ شُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدَ الشُّودِ ﴿١٨﴾
﴿١١ ہود ٦٨﴾

گویا کبھی ان میں آباد ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ قوم ثمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور آگاہ رہو کہ قوم ثمود پر پھنکار ہے (68:11)

But the (awful) Cry overtook them at the morning hour, (15:83)

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾
﴿١٥ الحجر ٨٣﴾

تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہی آپکڑا (83:15)

And that which they were used to count as gain (their art and craft)availed them nothing. (15:84)

فَمَا آغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾
﴿١٥ الحجر ٨٤﴾

اور ان کی تدبیر اور عمل وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے (84:15)

And as for Thamud, We gave them guidance, but they preferred blindness (of heart) to the guidance, so, the thunderbolt of the doom of humiliation overtook them because of what they used to earn. (41:17)

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَاخَذَتْهُمْ سُعِقَةٌ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾
﴿٤١ حم السجدة ١٧﴾

اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ترجیح دی۔ تو ان کے کرتوتوں کے باعث کڑک نے ان کو آپکڑا۔ اور وہ (سراپا) ذلت کا عذاب تھا (17:41)

And in (the tribe of) Thamud (there was) another portent) when it was told them: Take your ease awhile. (51:43)

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾
﴿٥١ الذریت ٤٣﴾

اور (قوم) ثمود (کے قصبے) میں بھی (عبرت ہے) جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو (43:51)

But they insolently defied their Lord's command, and so the thunderbolt overtook them even while they were looking on; (51:44)

فَعْتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَذَتْهُمْ السُّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾
﴿٥١ الذریت ٤٤﴾

تو انہوں نے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی سوان کو دیکھتے دیکھتے (تیز و تند) کڑک نے ہلاک کر دیا (44:51)

And they were unable to rise up, nor could they help themselves. (51:45)

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾
﴿٥١ الذریت ٤٥﴾

پھر وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ مقابلہ کر سکے (45:51)

And (The tribe of) Thamud was left with no trace of them; (53:51)

وَتَمُودَ أَقْبًا أَبْعَىٰ ﴿٥١﴾
﴿٥٣ النجم ٥١﴾

اور ثمود کو بھی (جن میں سے) کسی ایک کو باقی نہ چھوڑا (51:53)

We sent upon them a single Shout, and they became as the dry twigs (rejected by) the builder of a cattle fold. (54:31)

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ﴿٣١﴾
﴿٥٤ القمر ٣١﴾

ہم نے ان پر (عذاب کے لئے) ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی روندی ہوئی گھاس (31:54)

The tribes of) Thamud and Aad disbelieved the day of noise and clamour. (69:4)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾
﴿٦٩ الحاقہ ٤﴾

(وہی) کھڑکھڑانے والی (جس) کو ثمود اور عاد (دونوں نے) جھٹلایا (4:69)

As for Thamud, they were destroyed by the terrible storm of thunder and lightning. (69:5)

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾
﴿٦٩ الحاقہ ٥﴾

سو ثمود تو کڑک (خونفاک اونچی آواز) سے ہلاک کر دیئے گئے (5:69)

ALLAH(SWT) SAVED BY HIS SPECIAL GRACE SALIH(PBUH) AND HIS ADHERENTS

So, when Our commandment came to pass, We saved Salih, and those who believed with him, by a mercy from Us, from the ignominy of that Day. Your Lord! He is the Strong, the Mighty. (11:66)

And We saved those who believed and practised righteousness. (27:53)

And We delivered those who believed and used to keep their duty to Allah. (41:18)

ALLAH(SWT) SAVED BY HIS SPECIAL GRACE SALIH(PBUH) AND HIS ADHERENTS

Then see the nature of the consequence of their plotting, for We destroyed them and their people, everyone. (27:51)

Now such are their dwellings empty and in ruins because they practised wrong. Herein is indeed a portent for people who have knowledge. (27:52)

And (the tribes of) Aad and Thamud! (Their fate) is manifest to you from traces of their (ruined and deserted) dwellings. Satan made their deeds seem alluring to them and so debarred them from the Way, though they were keen observers. (29:38)

وقاية صالح والمؤمنين
معه من العذاب

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾
﴿١١ هود ٦٦﴾

وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٢٧ النمل ٥٣﴾

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾
﴿٤١ حم السجدة ١٨﴾

وقاية صالح و المؤمنين
معه من العذاب

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِمِهِمْ أَنَاذَرْتَهُمْ وَقَوْمَهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾
﴿٢٧ النمل ٥١﴾

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾
﴿٢٧ النمل ٥٢﴾

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَّيَّنَ لَكُمْ مِّنْ
مَّسْكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَالَهُمْ
فَصَدَّكُمُ عَنْ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٣٨﴾

حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں
(اہل ایمان) کا عذاب سے محفوظ رہنا

جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے
ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچالیا اور اس
دن کی رسوائی سے (محفوظ رکھا) بے شک تمہارا پروردگار
طاقت ور (اور) زبردست ہے (66: 11)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے
نجات دی (53:27)

اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم
نے بچالیا (18:41)

قوم ثمود کی تباہ شدہ بستیوں
کے نشانات عبرت

تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور
ان کی سب قوم کو ہلاک کر ڈالا (51:27)

اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب اجڑے پڑے
ہیں۔ جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لئے اس میں بڑی
نشانی ہے (52:27)

اور عاد اور ثمود کو بھی (ہم نے ہلاک کر دیا) جن کے
(دیران) گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور
شیطان نے ان کے بد اعمال کو آراستہ کر دکھایا اور
ان کو (سیدھے) راستے سے روک دیا حالانکہ وہ
آنکھوں والے اور ہوشیار (لوگ) تھے (38:29)

IBRAHIM (PBUH) ABRAHAM

ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام

ANCESTOR OF THE LINE OF SEMITIC PROPHECY

Abraham was mild, imploring, penitent. (11:75)

Abraham was a man who combined within himself all virtues (of a nation) obedient to Allah, by nature bright, and he was not of the idolaters; (16:120)

He showed gratitude for the favours of Allah. Who chose him and guided him to a straight path. (6:121)

And We gave him good in this world, and in the Hereafter he will be among the righteous. (16:122)

And make mention (O Muhammad) in the Scripture the story of Abraham. He was a man of truth, a prophet. (19:41)

And We bestowed aforetime on Abraham his rectitude of conduct, and We were well Acquainted with him, (21:51)

الجد الأعلى للرسول الساميين

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾
﴿١١ هود ٧٥﴾

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾
﴿١٦ النحل ١٢٠﴾

شَاكِرًا لِلْأَنْعَامِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾
﴿١٦ النحل ١٢١﴾

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآتَاهُ فِي الْآخِرَةِ لَيِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾
﴿١٦ النحل ١٢٢﴾

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾
﴿١٩ مريم ٤١﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿٥١﴾
﴿٢١ الانبياء ٥١﴾

سامی سلسلہ پیغمبران کے جد امجد

بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے (75:11)

بے شک ابراہیم (لوگوں کے پیشوا) اور اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے اور اللہ کے فرمانبردار تھے۔ جو بالکل ایک اللہ کے ہوزے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے (120:16)

اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ اور (اپنی) سیدھی راہ پر چلایا تھا (121:16)

اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بہتری دی تھی۔ اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے (122:16)

اور کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو۔ بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے (41:19)

اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس (کے حال) سے بخوبی واقف تھے (51:21)

Reference : 2:136 3:84 4:163
78 37:83 38:45,46,47
Page 580,94,246,621/649,917,975

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ١٣٦ ٣ آل عمران: ٨٤
٤ النساء: ١٦٣ ٢٢ الحج: ٧٨ ٣٧ الصافات: ٨٢
ص ٣٨ ٤٧، ٤٦، ٤٥

مزيد حوالہ 136:2 84:3 163:4
78:22 83:37 47,46,45:38
صفحہ 975,917,649/621,246,94,580

ABRAHAM (PBUH) BELONG TO NOAH'S PERSUASION (PARTY)

Reference : 37:83 Page 917

ابراہیم من شيعته نوح

وللمزيد راجع ٣٧ الصافات: ٨٢ الصفحة ٩١٧

حضرت ابراہیمؑ بھی نوح کے گروہ (پیروکاروں) میں سے تھے

مزيد حوالہ 83:37 صفحه 917

ALLAH (SWT) GRANTED ABRAHAM (PBUH) A TRUTHFUL MENTION OF EMINENCE

when he had withdrawn from them and that which they were worshipping besides Allah. We bestowed him Isaac and to Isaac Jacob. Each of them We made a prophet. (19:49)

And We bestowed upon them Our mercy, and assigned to them a high and true renown. (Sublime tongue telling the truth). (19:50)

وہب اللہ ابراہیم سمعة حميدة

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾
﴿١٩ مريم ٤٩﴾

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾
﴿١٩ مريم ٥٠﴾

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل بلند کیا

اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور (اسحاق کو) یعقوب بخشے۔ اور سب کو پیغمبر بنایا (49:19)

اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے (بہت سی چیزیں) عنایت کیں۔ اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا (50:19)

ABRAHAM - NEITHER A JEW NOR A CHRISTIAN BUT (HANIF) UPRIGHT SURRENDERED TO THE WILL OF ALLAH (SWT)

لم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانياً. ولكن كان حنيفاً مسلماً

حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف سچے مسلمان تھے (نہ یہودی نہ عیسائی)

O People of the Scripture! Why do you argue about Abraham, when the Torah and the Gospel were not revealed till him? Have you then no sense? (3:65)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾
﴿٣ آل عمران ٦٥﴾

یہ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں (اور وہ پہلے ہو چکے) تو کیا تم عقل نہیں رکھتے (65:3)

You are those who argued about that whereof you had some knowledge: Why then argue you concerning that whereof you have no knowledge? Allah knows. You know not. (3:66)

هَآأَنْتُمْ هُوَ لَآ حَآجَّتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾
﴿٣ آل عمران ٦٦﴾

دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی۔ مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (66:3)

Abraham was neither a Jew, nor yet a Christian; but he was an upright Muslim (who had surrendered to Allah), and he was not of the idolaters. (3:67)

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾
﴿٣ آل عمران ٦٧﴾

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی (نصرانی) بلکہ خالص مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے (67:3)

More Reference : 2:140 Page 971

والتفصيل راجع ٢ البقرة : ١٤٠ الصفحة ٩٧١

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:140 صفحہ 971

ABRAHAM'S (PBUH) QUEST OF TRUTH

تدبر ابراہیم علیہ السلام فی ملکوت السموات والأرض لمعرفة الله

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ نظام کائنات برائے حق شناسی

ABRAHAM'S (PBUH) REASONING WITH HIS CONTEMPORARIES AGAINST THE SUPERSTITIOUS BELIEFS AND DEMONSTRATED THE FOLLY OF WORSHIPPING STARS AND OTHER HEAVENLY BODIES

إشعار ابراہیم علیہ السلام قومہ المشرکین عن لغویة عبادة النجوم والأجرام الفلكية

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرک قوم کو (کواکب پرستی) چاند سورج اور ستاروں کی پرستش کی غلطی سے آگاہ کرنا

Thus did We show Abraham the Kingdom of the heavens and the earth that he might be of those possessing certainty: (6:75)

وَكُنَّا لَكَ نُرْيَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾
﴿٦ الانعام ٧٥﴾

اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب کامل یقین کرنے والوں میں ہو جائیں (75:6)

When the night grew dark upon him he saw a Star. He said: This is my lord. But when it set, he said: I love not things that set. (6:76)

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾
﴿٦ الانعام ٧٦﴾

(یعنی) جب رات نے ان کو (پردہ تاریکی سے) ڈھانپ لیا تو (آسمان میں) ایک ستارہ نظر پڑا کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں (76:6)

And when he saw the Moon rising in splendour, he exclaimed: This is my lord. But when it set, he said: Unless my Lord guides me, I surely shall become one of the folk who are astray. (6:77)

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّينَ ﴿٧٧﴾
﴿٦ الانعام ٧٧﴾

پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں (77:6)

and when he saw the Sun uprising, again) he said (even): This is my Lord! This is greater! And when it, yet he exclaimed: O my people! I am free from all that you associate with Him). (6:78)

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَارِزَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ
فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِرَانِي بَرِيٌّ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٦﴾
(الانعام ٧٨)

پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں (78:6)

Reference: 2:260 Page 953

والتفصیل راجع ٢ البقرة: ١٤٠: الصفحة ٩٥٣

تفصیل کیلئے دیکھیے 260:2 صفحہ 953

ABRAHAM'S (PBUH) PROCLAMATION OF MONOTHEISM

When his Lord said to him: "Surrender!" he said: I submit to the (will of) Lord of the Worlds (and become Muslim). (2:131)

I have set my face towards Him only and truly Who created the heavens and the earth, and I am not of the idolaters. (6:79)

إعلان إبراهيم عليه السلام بالتوحيد

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾
(البقرة ١٣١)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾
(الانعام ٧٩)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید

جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سراطعت خم کرتا ہوں (مسلمان ہوتا ہوں) (131:2)

میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں (79:6)

SCRIPTURES REVEALED TO ABRAHAM (PBUH)

This is in the former scrolls: (18)

The Books of Abraham and Moses, (19)

صحف ابراہیم علیہ السلام

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾
(الاعلیٰ ١٨)
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٩﴾
(الاعلیٰ ١٩)

صحف ابراہیم علیہ السلام

یہی بات پہلے صحیفوں (کتابوں) میں (مرقوم) ہے (18:87)
(یعنی) ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں (کتابوں) میں (19:87)

Reference: 2:136 3:84 4:163 Page 97, 94, 246

والتفصیل راجع ٢ البقرة: ١٣٦: ٣ آل عمران: ٨٤: ٤ النساء: ١٦٣: الصفحة ٩٧, ٩٤, ٢٤٦

تفصیل کیلئے دیکھیے 2:140 3:84 4:163 صفحہ 246, 94, 97

ABRAHAM'S (PBUH) LONG COURSE OF ARGUMENTS WITH HIS FATHER AZAR AGAINST IDOLATRY IN A GENTLE PERSUASIVE ONE AND INVITING HIM TO MONOTHEISM

(Remember) when Abraham said to his father Azar: Take you idols for gods? Surely I see you and your folk in error manifest. (6:74)

When he said to his father: O my father! Why worship you that which hears not nor can perceive, you, nor can avail you in any manner. (19:42)

O my father! There has come to me knowledge that which came not to you. So follow me, and I will lead you on a right path. (19:43)

O my father! Worship not the devil. Indeed the devil is a rebel against (Allah) Beneficent. (19:44)

دعوة إبراهيم عليه السلام أباه المشرك آذر بالرفق إلى التوحيد احتراماً له

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِسْرَارًا اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾
(الانعام ٧٤)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾
(مريم ٤٢)

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾
(مريم ٤٣)

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾
(مريم ٤٤)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے مشرک باپ (آذر) کو احترام کے پیش نظر شفقت و پیار سے دعوت توحید دینا

اور (وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو (74:6)

جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں (42:19)

ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کرونگا (43:19)

ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے (44:19)

O my father! I fear lest a punishment from the Beneficent overtakes you so that you become a comrade of the devil. (19:45)

يَا بَتِّ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾
﴿١٩ مريم ٤٥﴾

ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں (45:19)

AZAR (TERAH) CONTRASTED WITH THE BRUSQUE AND REPELLENT TONE AND TURNED ABRAHAM (PBUH) OUT THREATENING HIM WITH THE DIRE CONSEQUENCES (STONING TO DEATH)

أمر آزر إبراهيم عليه السلام بكل الفظاظه للهجران وهدده بالرحم

باپ کی طرف سے نہایت درشتی اور تلخی سے اعلانِ مقاطعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنگین نتائج (سنگسار کر دیے جانے) کی دھمکی

He said: You reject my gods, O Abraham? If you cease not, I shall surely stone you. Depart from me forthwith for a good long while. (19:46)

قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ الْهَيْتِي يَا بَرِهَيْمُ لِيْن لَمْ تَتَّعِ لَارْجَمْتِكَ وَاَهْجُرْنِي وَلِيَّا ﴿٤٦﴾
﴿١٩ مريم ٤٦﴾

اس نے جواب دیا کہ ابراہیم! کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا۔ اور تو ایک مدت دراز کے لئے مجھ سے دور ہو جا (46:19)

ABRAHAM'S (PBUH) TENDER SOLICITUDE FOR HIS FATHER, REPLYING SOFT WORDS AND PROMISE TO PRAY ALLAH (SWT) FOR HIS FORGIVENESS

احترام إبراهيم عليه السلام لوالده المشرك

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے مشرک باپ کا احترام ملحوظ رکھنا (نہایت اچھے الفاظ میں اس کیلئے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنا)

He said: Peace be to you! I shall ask forgiveness of my Lord for you. No doubt He has been so gracious to me. (19:47)

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ رِيًّا حَفِيًّا ﴿٤٧﴾
﴿١٩ مريم ٤٧﴾

(ابراہیم نے) سلام علیکم کہا (اور کہا کہ) میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے (47:19)

More Reference : 9:114 Page 949

وللمزيد راجع 9 التوبة: 114: الصفحة 949

مزيد حوالہ 9:114 صفحہ 949

DIALOGUES OF ABRAHAM (PBUH) WITH IDOLATROUS AND SINFUL PEOPLE FOR PREACHING THEM MONOTHEISM

دعوة إبراهيم عليه السلام قومه إلى التوحيد ومناقشات بهم

قوم کو تبلیغ توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے

When he said to his father and his folk: What are these images to which you pay devotion? (21:52)

اِذْ قَالَ لِاٰبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمٰثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾
﴿٢١ الانبياء ٥٢﴾

جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ صورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو (52:21)

They said: We found our fathers worshippers of them. (21:53)

قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾
﴿٢١ الانبياء ٥٣﴾

وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے دیکھا ہے (53:21)

He said: You and your fore fathers were in obvious error. (21:54)

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾
﴿٢١ الانبياء ٥٤﴾

(ابراہیم نے) کہا کہ تم بھی (گمراہ ہو) اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے (54:21)

They said: Have you brought us the truth, or you are just a trifler? (21:55)

قَالُوْا اٰجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّعِيْنِ ﴿٥٥﴾
﴿٢١ الانبياء ٥٥﴾

وہ بولے کیا تم ہمارے پاس (واقعی) حق لائے ہو یا (ہم سے) یونہی مذاق کرتے ہو (55:21)

He said: No, but your Lord is the Lord of the heavens and the earth, Who created them; and I am of those who testify to that. (21:56)

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾
﴿٢١ الانبياء ٥٦﴾

(ابراہیم نے) کہا (نہیں) درحقیقت تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس (بات) کا گواہ (اور اسی کا قائل) ہوں (56:21)

Recite to them the story of Abraham: (26:69)

وَاقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾
﴿٢٦ الشعراء ٦٩﴾

اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنادو (69:26)

When he said to his father and his folk: What are you worshipping? (26:70)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ٧٠﴾

جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ (70:26)

They said: We worship idols, and are ever devoted to them. (26:71)

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عَافِيَةً ﴿٧١﴾
﴿٢٦ الشعراء ٧١﴾

وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان (کی پوجا) پر قائم ہیں (71:26)

We said: Do they hear you when you call? (26:72)

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾
﴿٢٦ الشعراء ٧٢﴾

(ابراہیم نے) کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری (آواز) سنتے ہیں (72:26)

do they benefit or harm you? (26:73)

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾
﴿٢٦ الشعراء ٧٣﴾

یا تمہیں کچھ فائدے دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ (73:26)

They said: No, but we found our fathers doing so. (26:74)

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾
﴿٢٦ الشعراء ٧٤﴾

انہوں نے کہا (نہیں) بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے (74:26)

We said: See now that which you worship, (26:75)

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾
﴿٢٦ الشعراء ٧٥﴾

(ابراہیم نے) کہا کیا تم کو خبر نہیں کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو (75:26)

You and your forefathers! (26:76)

أَنْتُمْ وَإِبَادُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٧٦﴾

تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی (76:26)

They are (all) an enemy to me, except the Lord of the Worlds. (26:77)

فَأِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾
﴿٢٦ الشعراء ٧٧﴾

وہ سب میرے دشمن ہیں - سوائے اللہ کے جو رب العالمین ہے (میرا دوست ہے) (77:26)

Who created me, and He does guide me, (26:78)

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينُ ﴿٧٨﴾
﴿٢٦ الشعراء ٧٨﴾

جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے (78:26)

And Who feeds me and gives me to drink. (26:79)

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينُ ﴿٧٩﴾
﴿٢٦ الشعراء ٧٩﴾

اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے (79:26)

And when I fall ill, then He heals me, (26:80)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ ﴿٨٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨٠﴾

اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے (80:26)

And Who shall cause me to die, then bring me to life (again), (26:81)

وَالَّذِي يُيْتِنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨١﴾

اور وہی جو مجھے مارے گا (اور) پھر زندہ کرے گا (81:26)

The One Who, I expect, will forgive my mistakes on the Day of Judgement. (26:82)

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨٢﴾

اور وہ جو جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشنے گا (82:26)

My Lord! Bestow me wisdom and join me with the righteous. (26:83)

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨٣﴾

اے پروردگار مجھ کو علم و دانش عطا کر اور نیک لوگوں میں شامل کر (83:26)

And give to me a good reputation among later generations. (26:84)

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨٤﴾

اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک (جاری) کر (84:26)

And count me among the inheritors of the Garden of Delight, (26:85)

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨٥﴾

اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر (85:26)

Abraham! (Remember) when he said to his folk: Serve Allah, and keep your duty to Him; that is better for you if you did but know. (29:16)

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾
﴿٢٩ العنكبوت ١٦﴾

اور ابراہیم کو (یاد کرو) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے (16:29)

You serve instead of Allah only (images) idols, and you only invent a lie. Those whom you serve instead of Allah own no sustenance for you. So seek your sustenance from Allah, and serve Him, and give thanks to Him, (for) to Him will be your return. (29:17)

But if you deny, then nations have already denied before you. The messenger is only to convey (the Message) clearly. (29:18)

He said: you have chosen idols instead of Allah. The love between you is only in the life of the world. Then on the Day of Resurrection you will deny each other and curse each other, and your abode will be the Fire, and you will have no helpers. (29:25)

THE CONTEMPORARIES DISPUTED WITH ABRAHAM (PBUH) EVEN AFTER HAVING CLEAR GUIDANCE

His people argued with him. He said: Dispute you with me concerning Allah when He has guided me? I fear not at all that which you set beside Him unless my Lord wills. My Lord includes all things in His knowledge: Will you not then remember? (6:80)

How should I fear that which you set up beside Him, when you fear not to set up beside Allah that for which He has revealed to you no warrant? Which of the two factions has more right to safety?, (Answer me that) if you have knowledge. (6:81)

More Reference: 9:70 22:42,43 Page 679, 202

ABRAHAM (PBUH) PRAYED FOR HIS UNBELIEVING FATHER ONLY BECAUSE OF HIS PROMISE HE HAD MADE ONCE

The pleading of Abraham for the forgiveness of his father was only because of a promise he had promised him, but when it had become clear to him that he (his father) was an enemy to Allah he (Abraham) disowned him. Abraham was tender heart, forbearing. (9:114)

(Abraham prayed) Forgive my father. He is of those who go astray. (26:86)

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٩﴾
﴿٢٩ العنكبوت ١٧﴾

وَإِن كُنْتُمْ بَوَّابًا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ أُمَّم مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾
﴿٢٩ العنكبوت ١٨﴾

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٢٥﴾

تمرد قوم ابراهيم عليه السلام
على سمع البراهين القاطعة

وَحَاجَّة قَوْمُهُ قَالَ إِنَّمَا أَجُودِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾
﴿٦ الانعام ٨٠﴾

وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَتَى الْفِرْيَاقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾
﴿٦ الانعام ٨١﴾

والفضيل راجع ٩ التوبة: ٧٠ ٢٢ الحج: ٤٢، ٤٣

استغفار ابراهيم عليه السلام
لابيه إيفاء لوعده

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا آيَاتُهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿٩﴾
﴿٩ التوبة ١١٤﴾

وَاعْفُرْ لِأَبِي إِذْ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨٦﴾

تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں دل سے کھری لیتے ہو تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اسی کا شکر کرو اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے (17:29)

اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے (18:29)

اور (ابراہیم) نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو صرف دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لئے (مگر) پھر قیامت کے دن ایک دوسرے (کی دوستی) سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہو گا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہو گا (25:29)

واضح دلائل سننے کے باوجود قوم کا تکبر اور کج محشی

اور ان کی قوم اس سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں (کیا) بحث کرتے ہو۔ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں میرا پروردگار جو کچھ چاہے میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے کیا تم خیال نہیں کرتے؟ (80:6)

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم (اللہ کا) شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں جب کہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ پس ان دو جماعتوں میں اس سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم اسکی خبر رکھتے ہو (81:6)

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:70 22:42,43 صفحہ 679, 202

حضرت ابراهيم عليه السلام کی اپنے باپ کیلئے بخشش کی دعائے مانگنے کی وعده ایفائی

اور ابراهيم کا اپنے باپ کے لئے بخشش مانگنا تو ایک صرف وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراهيم بڑے نرم دل اور بردبار تھے (114:9)

(ابراہیم نے دعا کی) اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے (86:26)

And abase me not on the Day when they are raised, (26:87)

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨٧﴾

اور جس دن لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے مجھے رسوانہ کرنا (87:26)

----- ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ (ضرور) کہا کہ میں آپ کے لئے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں (ہمیں) لوٹ کر آنا ہے (4:60) جزو

-----Except that which Abraham promised his father (when he said): I will ask forgiveness for you, though I own nothing for you from Allah. Our Lord! In You we put our trust, and to You we turn repentant, and to You is the journeying. (60:4) PART

إِلَّا قَوْلَ
إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا
أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾
﴿٦٠ الممتحنة ٤﴾ جزء

اعتزال ابراہیم علیہ السلام عن والد
وعن كافة المشركين

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ
اور تمام مشرکین سے علیحدگی
(باطل سے کوئی تعلق نہ رکھنے کا فیصلہ)

ABRAHAM (PBUH) FORFEITED HIS FATHER'S LOVE AND RENOUNCED HIS HOME, PEOPLE AND COUNTRY, INSTEAD OF ANY COMPROMISE WITH FALSEHOOD

-----I shall withdraw from you and that which you invoke besides Allah, and I shall pray to my Lord. It may be that, in prayer to my Lord, I shall be unblessed. (19:48)

وَأَعْتَزُّ بِكُمْ وَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾
﴿١٩ مريم ٤٨﴾

اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکار کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا (48:19)

-----And when Abraham said to his father and his folk: I do indeed clear myself of what you worship (43:26)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ
مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٤٣ الزخرف ٢٦﴾

اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں (26:43)

-----I accept Him Who did create me, for He will surely guide me. (43:27)

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾
﴿٤٣ الزخرف ٢٧﴾

ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا (27:43)

-----And he made it a word enduring along his progeny, that haply they might return. (to Allah) (43:28)

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٤٣ الزخرف ٢٨﴾

اور (ابراہیم) یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ (اللہ کی طرف) رجوع کرتے رہیں (28:43)

-----Indeed I let these men and their fathers enjoy life (only) till there should come to them the Truth and a messenger making things clear. (29:29)

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ
الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾
﴿٤٣ الزخرف ٢٩﴾

بات یہ ہے کہ میں نے ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو سامان (اور اسباب) دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آپہنچا (29:43)

EXCELLENT EXAMPLE OF ABRAHAM (PBUH) TO FOLLOW - TO DEAL WITH UNBELIEVERS. RIGHTEOUS MUST DISSOCIATE FROM EVIL UNLESS THEY REPENT AND TURN TO MONOTHEISM

أسوة حسنة في ابراهيم عليه السلام
من ترك المشركين والبراءة منهم

کفار سے ترک تعلق کے اسوہ حسنہ
حضرت ابراہیم کی پیروی کی ہدایت
(مشرک سے علیحدگی اور بیزاری اختیار کی جائے
جب تک وہ توحید کا اقرار نہ کر لے)

-----There is a goodly pattern for you (to follow) in Abraham and those who followed him, when they told their folk: We are guiltless of you and all that you worship besides Allah. We have done with (rejected) you. And there has arisen between us and you enmity and hatred forever until you believe in Allah alone. (60:4) PART

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِيَّانَا
مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا
بِكُمْ وَبَدَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
أَبَدًا حَتَّىٰ تَوَفِّيُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴿٤﴾
﴿٦٠ الممتحنة ٤﴾ جزء

(مسلمانوں) تمہارے لئے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی بہترین نمونہ ہیں جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے بر ملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ (اور) تمہارے (معبودوں کے کبھی) قائل نہیں (ہو سکتے) ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں (اور) جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ (4:60) جزو

AN ABOVE BOARD PLAN OF ABRAHAM (PBUH) TO DO SOMETHING TO THEIR IDOLS

إعلان إبراهيم عليه السلام
بتدبيره الصريح لكسر الأصنام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
بتوں کے خلاف منصوبہ کا اعلان

ABRAHAM (PBUH) COULD NOT SHARE IN MUMMERIES OF IDOLATERS DUE TO GRIEF AT HEART

عدم حضور ابراہیم علیہ السلام الی عید
قومہ الکافرین بسبب کراہیۃ لہم

منکرین کے قومی تہوار (جشن یا عید) میں
حضرت ابراہیم کی دلی نفرت کی بنا پر عدم شرک

And, by Allah, I shall circumvent your idols after you have gone away and turned your backs. (21:57)

وَتَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَاصْنَامِكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوا
مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں
تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا (57:21)

When he approached to his Lord with a whole heart; (37:84)

اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾

جب وہ اپنے پروردگار کے پاس (عیب سے) پاک دل
لے کر آئے (84:37)

When he said to his father and his folk: What is it that you worship? (37:85)

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾

جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم
کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ (85:37)

Is it not a falsehood--gods besides Allah--that you desire? (37:86)

اَيُّفَكَ الْهٰٓءِذُوْنَ اَللّٰهُ تَرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾

تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو
(86:37)

What then is your opinion of the Lord of the Worlds? (37:87)

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾

یہ تو بتاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔
(87:37)

Then he took a glance at the stars (37:88)

فَنظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾

تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی
(88:37)

And said: I feel sick! (at heart) (37:89)

فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾

اور کہا میں تو بیمار ہوں (89:37)

Then they turned their backs and went away from him (37:90)

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾

تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے (90:37)

ABRAHAM'S PRACTICAL PROTEST AGAINST IDOLATRY

إقدام إبراهيم عليه السلام
إلى تكسير الأصنام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
انسان پرستی کے خلاف عملی مظاہرہ (بت شکنی)

That was Our argument. Which We gave to Abraham against his folk. We raise to degrees of wisdom whom We will. Indeed your Lord is Wise, Aware. (6:83)

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ تَرْفَعُوْهُ
دَرَجٰتٍ مِّنْ نَّشَآءِ اِنَّا رَبُّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے
مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے
بلند کر دیتے ہیں۔ بیشک آپ کا رب دانا (اور) خبردار ہے
(83:6)

Then he turned to their gods and said: Will you not eat? (37:91)

فَرَاغَ اِلَى الْهٰٓءِثِمِ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٩١﴾

پھر (ابراہیم) ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے
اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں (91:37)

What is the wrong with you, that you do not utter a word? (37:92)

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ (92:37)

Then he attacked them, striking with his right hand. (37:93)

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿٩٣﴾

پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا (اور توڑنا) شروع کیا
(93:37)

And (the worshippers) came towards him, hastening. (37:94)

He said: Worship you that which you yourselves do carve (37:95)

When Allah has created you and what you make? (37:96)

METHODOLOGY IN BREAKING ALL OTHER IDOLS INTO PIECES WHILE LEAVING THE BIGGEST ONE UNTOUCHED BY ABRAHAM (PBUH) WAS TO MAKE HIS PEOPLE REALIZE THE HELPLESSNESS OF THEIR IDOLS

That was Our argument. Which We gave to Abraham against his folk. We raise to degrees of wisdom from We will. Indeed your Lord is Wise, Aware. (6:83)

When he reduced them to fragments, except the chief of them, that apply they might have recourse to it. (21:58)

PANIC AMONG IDOLATERS ABRAHAM (PBUH) WAS ARRAIGNED HE REPLIED THE INTERROGATION PRECISELY AND TAUNTED TO THE IDOL WORSHIPPERS

They said: Who has done this to our gods? Surely it must be some wildoer. (21:59)

They said: We heard a youth make mentioning (talking) of them, who called Abraham. (21:60)

They said: Then bring him (here) before the people's eyes that they may testify. (21:61)

They said: Is it you who has done this to our gods, O Abraham? (21:62)

He said: But this, their chief has done it. So question them, if they can speak. (21:63)

When they gathered apart and said: (to themselves) you yourselves are the wrongdoers. (21:64)

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾
﴿٣٧ الصّٰفٰت ٩٤﴾

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْتُونَ ﴿٩٥﴾
﴿٣٧ الصّٰفٰت ٩٥﴾

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾
﴿٣٧ الصّٰفٰت ٩٦﴾

الحكمة في قيام إبراهيم عليه السلام بكسر كل الأصنام إلا كبيرها ليشعروا بعجزهم

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ لَّنَّاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾
﴿٦ الانعام ٨٣﴾

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾
﴿٢١ الانبياء ٥٨﴾

جزع الكفار عند حادثة تكسير الأصنام واستجوابهم إبراهيم عليه السلام وأجوبته البارة الحكيمة، وطعنه على الوثنيين

قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿٥٩﴾
﴿٢١ الانبياء ٥٩﴾

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَدُّرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾
﴿٢١ الانبياء ٦٠﴾

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾
﴿٢١ الانبياء ٦١﴾

قَالُوا أَأنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾
﴿٢١ الانبياء ٦٢﴾

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾
﴿٢١ الانبياء ٦٣﴾

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٦٤﴾
﴿٢١ الانبياء ٦٤﴾

تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے (94:37)

انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو (95:37)

حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے (96:37)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمام بتوں کو توڑ دینا اور بڑے بت کو چھوڑ دینے میں حکمت (اسلام پرست قوم کو بتوں کی بے بسی کی حقیقت سے آشنا کرنا)

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بیشک آپ کا رب دانا (اور) خبردار ہے (83:6)

پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے (بت) کو (نہ توڑا) تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں (58:21)

واقعہ بت شکنی پر کفار میں کھلبلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ گچھ کرنے پر ان کا پر حکمت جواب اور بت پرستوں پر طنز

کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے (59:21)

لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں (60:21)

وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں (61:21)

جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے (62:21)

(ابراہیم نے) کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے (بت) نے کیا (ہو گا)۔ اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو (63:21)

انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بیشک تم ہی ظالم ہو (64:21)

**IDOLATERS HUNG THEIR HEADS IN SHAME
WHEN ABRAHAM (PBUH) PROVED
THE IMPOTENCE OF THEIR IDOLS**

And they were utterly confounded, and they said: Well you know that these speak not. (21:65)

He said: Why you worship them instead of Allah that which cannot profit you at all, nor harm you? (21:66)

Fie (shame) on you and all that you worship instead of Allah! Have you then no sense?(21:67)

حجالة القوم المشركين عند اثبات
ابراهيم عليه السلام عجز آلهتهم

ثُمَّ نَكَّسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا
هُؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾
﴿٢١ الانبياء ٦٥﴾

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾
﴿٢١ الانبياء ٦٦﴾

أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾
﴿٢١ الانبياء ٦٧﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کی بے بسی کو
ثابت کر دینا اور قوم کا شرمندہ ہو جانا

پھر (شرمندہ ہو کر) سر نیچا کر لیا (اس پر بھی ابراہیم سے
کننے لگے کہ تم جانتے تو ہو کہ یہ بولتے نہیں
(65:21)

(ابراہیم نے) کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی
چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ
نقصان پہنچا سکیں؟ (66:21)

تف لعنت ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو
ان پر۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ (67:21)

**QUESTIONING OF ABRAHAM (PBUH)
ABOUT RESURRECTION
FOR GIVING AN EXPLANATION
TO HIS OWN HEART AND MIND**

And when Abraham said (to his Lord): My Lord! Show me how You give life to the dead, He said: Do you not believe? Abraham said: Yes, of course (I do)but (I ask) in order that my heart may be at ease. (His Lord) said: Take four birds and train them to follow you, then place a part of them on each hill, then call them, they will come to you in haste. And know that Allah is Mighty, Wise.(2:260)

استفسار ابراہیم علیہ السلام
من اللہ تعالیٰ عن كيفية احياء الموتى
اطمينانا للقلب

وَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ
قَالَ أَوْ لِمَ تُؤْمِنُ قَال بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ
قَلْبِي قَال فخذ أربع تمر من الطير فصرهن
إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم
ادعهن يأتينك سعيًا واعلم ان الله عزيز
حكيم ﴿٢٦٠﴾
﴿٢ البقرة ٢٦٠﴾

حضرت ابراہیم کا اپنے اطمینان قلب کے لئے
حیات بعد الموت (احیائے موتی)
کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال

اور جب ابراہیم نے (اللہ سے) کہا کہ اے پروردگار مجھے
دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ نے
فرمایا کیا تم کو اس بات کا یقین نہیں ہے انہوں نے کہا
یقین تو ہے لیکن (میں دیکھنا) اس لئے (چاہتا ہوں) کہ
میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا چار
پرندے پکڑ کر اپنے پاس منگالو پھر ان کو اپنے ساتھ سے
مانوس کر لو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو
پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس فوراً آجائیں دوڑتے چلے
آئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ غالب (اور) صاحب
حکمت ہے (260:2)

**CONFRONTATION WITH NIMROD
(OR SOME SCEPTIC RULER IN BABYLONIA)
AND ABRAHAM (PBUH) CONFOUNDED HIM
BY SOUND ARGUMENTS
FOR HIS IMPOTENCE AGAINST ALLAH (SWT)**

Bethink you of him who had argued with Abraham about his Lord, because Allah had given him the kingdom; when Abraham said: My Lord is He Who gives life and causes death, he answered: I too give life and cause death. Abraham said: Allah causes the Sun to rise in the East so do you cause it to come up from the West. Thus the disbeliever was abashed. And Allah guides not wrongdoing folk. (2:258)

ناقش ابراہیم علیہ السلام
امرا طور العصر فی توحید اللہ
فجعلہ مبہوتا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ
أَبَاهُ اللَّهُ الْمَلِكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي
يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَأنت بها من المغرب فبهت الذي كفر
والله لا يهدي القوم الظالمين ﴿٢٥٨﴾
﴿٢ البقرة ٢٥٨﴾

نمرود (منکر اور مغرور حکمران) کے ساتھ وجود
اللہ تعالیٰ پر بحث اور ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ وقت کو
لاجواب کر دینا

بجلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس (غرور کے) سبب
سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار
کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا
پروردگار تو وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔
اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔
ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ
میں مغرب سے نکال دیجئے (یہ سن کر) کافر حیران رہ گیا۔
اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (258:2)

**SECRET PLOTTING OF THROWING
ABRAHAM (PBUH) INTO
A BLAZING FURNACE**

They cried: Burn him and protect
our gods, if you do (anything at
(21:68)

They said: Build for him a pyre and
burn him in the red-hot fire. (37:97)

They designed a snare for him,
We made them the most
liated. (37:98)

تدبیر قوم ابراہیم لالقاء ہ فی النار

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
فَاعِلِينَ ﴿٢١﴾

﴿٢١ الانبياء ٦٨﴾

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٣٧﴾

﴿٣٧ الصفت ٩٧﴾

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٣٧﴾

﴿٣٧ الصفت ٩٨﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ

(تب وہ) کہنے لگے کہ اگر تمہیں (اس سے اپنے معبود کا
انتقام لینا اور) کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے
معبودوں کی مدد کرو (68:21)

وہ کہنے لگے کہ اس کے لئے ایک الاؤ تیار کرو پھر اس کو
دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں ڈال دو (97:37)

غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک مکر کرنا چاہا اور ہم
نے انہی کو نیچا دکھا دیا (98:37)

**ABRAHAM'S TRIUMPH
OVER THE PERSECUTION OF NUMRUD**

**ABRAHAM (PBUH) WAS UNHURT BY ALLAH'S
GRACE WHO MADE THE FIRE COOL
AND A MEANS OF SAFETY FOR HIM**

We said: O fire, be you cool and (a
mean of) safety for Abraham.
(21:69)

And they planned against him, but
We made them the greater losers.
(21:70)

But the answer of his folk was only
that they said: "Kill him" or "Burn
him". Then Allah saved him from
the fire. Herein are portents for folk
who believe. (29:24)

تغلب ابراہیم علیہ السلام
علی استجوابہ من نمرود

أمر الله النار أن تكون بردا وسلاما
على إبراهيم عليه السلام

قُلْنَا إِنَّا لَمُؤْتِنَاكَ بَرْدًا وَوَسْلَامًا عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ ﴿٢١﴾

﴿٢١ الانبياء ٦٩﴾

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾

﴿٧٠ الانبياء ٧٠﴾

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ
أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٩﴾

﴿٢٩ العنكبوت ٢٤﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی

اللہ تعالیٰ کا آگ کو سلامتی و حفاظت والی بن جانے کا حکم
(حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی رحمت کے سبب محفوظ رہنا)

ہم نے حکم دیا آگ سرد ہو جاوے اور ابراہیم پر (موجب)
سلامتی (بن جا) (69:21)

گو ان لوگوں نے برا تو حضرت ابراہیم کا چاہا تھا مگر ہم نے
انہی کو ناکام بنا دیا (70:21)

تو ان کی قوم کے لوگوں کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا
کہ وہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو۔ مگر اللہ نے ان کو آگ
(کی سوزش) سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان
کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں (24:29)

**MIGRATION OF ABRAHAM (PBUH)
FROM BABYLONIA TO ARAM OR SYRIA
SAVING HIS PEOPLE, AND LAND
FOR THE CAUSE OF ALLAH (SWT)**

And We rescued him and Lot (and
brought them) to the land, which
We have blessed for (all) people.
(21:71)

هجرة ابراہیم علیہ السلام فی سبیل اللہ
ذہابہ إلى الشام من بابل

وَبَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا
فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

﴿٧١ الانبياء ٧١﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عراق (بابل) سے
سرزمین ارم یا شام کو ہجرت
(اپنا گھر اور وطن اللہ کی رضا کے لئے چھوڑ دینا)

اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے
گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کیلئے برکت رکھی
تھی (71:21)

And Lot believed him, and said: I am a fugitive to my Lord. He, only He, is the Mighty, the Wise. (29:26)

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٩﴾
العنكبوت ٢٩ ﴿٢٦﴾

ان (حضرت ابراہیم) پر لوط ایمان لائے اور (ابراہیم) کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔
لے شک وہ غالب حکمت والا ہے (26:29)

And he said: I am going to my Lord Who will guide me. (37:99)

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾
الصفت ٣٧ ﴿٩٩﴾

(ابراہیم) بولے کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے راستہ دکھائے گا (99:37)

ABRAHAM (PBUH) BESEECHE
FOR ENDOWING RIGHTEOUS PROGENY
AND HIS PRAY WAS GRANTE

دعاء ابراہیم علیہ السلام لإعطاء
ذرية صالحة واستجابته

حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی نیک بخت اولاد کے لئے دعا

ACCEPTANCE OF ABRAHAM'S (PBUH) PRAYER
AND BIRTH OF FORBEARING SON ISHMAEL (PBUH)
FROM HIS SECOND WIFE HAJARA (PBUH)

استجابة دعاء ہ ولادة غلام حلیم
اسمعیل علیہ السلام من زوجة الثانية
ہاجرہ علیہا السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور ان کی
دوسری بیوی ہاجرہ علیہا السلام کے بطن سے برہ بار بچے
حضرت اسمعیل علیہ السلام کی پیدائش

Praise be to Allah Who has granted me, in my old age, Ishmael and Isaac! Surely my Lord is the Hearer of Prayer. (14:39)

أُحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿١٤﴾
ابراہیم ١٤ ﴿٣٩﴾

اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو اس بڑھاپے میں اسمعیل
اور اسحاق بخشے۔ بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا
ہے (39:14)

My Lord! Grant me a righteous (son). (37:100)

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾
الصفت ٣٧ ﴿١٠٠﴾

اے پروردگار مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما (جو سعادت
مندوں میں سے ہو) (100:37)

So We gave him a glad tidings of a forbearing son (Ismael). (37:101)

فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾
الصفت ٣٧ ﴿١٠١﴾

تو ہم نے ان کو ایک برہ بار لڑکے (حضرت اسماعیل) کی
خوش خبری دی (101:37)

ABRAHAM (PBUH) SETTLED
HIS WIFE (HAJARA) AND SON ISHMAEL (PBUH)
IN BARREN VALLEY OF MAKKAH

إسکان ابراہیم علیہ السلام زوجہ ہاجرہ
و ابنہ اسماعیل علیہ السلام بواد
غیر ذی زرع عند بیت اللہ المحرم

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی ہاجرہ اور
حضرت اسمعیل علیہ السلام کو مکہ کے قریب لا کر آباد کرنا

SUPPLICATION OF ABRAHAM (PBUH)
AND SPRINGING OUT OF
"ZAMZAM" WELL OF PURIFIED WATER

انفجار بئر زمزم لابنہ فی الارض
القاحلة الصخرية بدعاء ابراہیم

حضرت ابراہیم کی دعا سے آپکی اولاد کیلئے
چنگل و بیابان میں چاہ آب زم زم کا ظہور

Our Lord! I have settled some of my posterity in an uncultivable valley near to Your Holy House, our Lord! That they may establish proper (salat)worship; so incline some hearts of men that they may yearn towards them, and provide You them with fruits in order that they may be thankful. (14:37)

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي
زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَأَجْعَلْ أَعْيُنَهُمْ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾
ابراہیم ١٤ ﴿٣٧﴾

اے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد وادی (مکہ) میں
جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت (ادب) والے گھر کے
پاس لاسائی ہے۔ اے پروردگار یہ اس لئے کہ یہ
نماز قائم کریں تو پس کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے
کہ ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو میووں سے روزی
دے تاکہ (تیرا) شکر کریں (37:14)

TRIAL OF ABRAHAM (PBUH)

And (remember) when his Lord tried Abraham with (His) certain commands, which he fulfilled them, He said: I have appointed you a (imam) leader for mankind. (Abraham) pleaded: And of my offspring (will there be also leaders)(imams)? He said: My covenant includes not wrongdoers. (2:124)

ابتلاء ابراہیم علیہ السلام من اللہ تعالیٰ

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَا يَنْبَغُ عَلَيَّ إِلَّا مَا يَشَاءُ اللَّهُ ۗ ﴿١٢٤﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش

اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ (پروردگار) میری اولاد میں سے بھی (پیشوا بنانا) اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لئے نہیں ہوا کرتا (124:2)

ON ATTAINING OF ISMAEL (PBUH) THE AGE OF DISCRETION - ABRAHAM (PBUH) WAS COMMANDED THROUGH A VISION TO OFFER SACRIFICE OF HIS ONLY SON ISMAEL (PBUH) WHO VOLUNTARILY SUBMITTED TO ALLAH (SWT)'S WILL

And when (his son Ishmael) was young enough to walk with him, (Abraham) said: O my dear son, I have seen in a dream that I offer you sacrifice. So look, what is your view? He said: O my father! Do that which you are commanded. If Allah so wills, you will find me of the steadfast. (37:102)

أمر إبراهيم عليه السلام في المنام بذبح ابنه اسماعيل عليه السلام لما بلغ عمر الرشد فأسلم اسماعيل وعرض نفسه للذبح امتثالاً لأمر الله تعالى

اسماعیل علیہ السلام کے عمر بلوغت کے قریب پہنچنے پر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کرنے کے حکم کا خواب ابراہیم علیہ السلام کا (امتثال امر الہی) پر مشورہ اور اسماعیل علیہ السلام کی امر الہی پر رضامندی

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٢﴾

جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ (گویا) تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے (102:37)

ABRAHAM (PBUH) FULFILLED THE COMMAND OF HIS DREAM BY OFFERING SACRIFICE OF HIS ONLY AND BELOVED SON ISMAEL (PBUH) SACRIFICE WAS REDEEMED BY THE SUBSTITUTION OF A RAM UNDER ALLAH (SWT) COMMAND

And when they had both surrendered to Allah, and he had laid him prostrate on his forehead (for sacrifice), (37:103)

And he called to him: O Abraham: (37:104)

And We have already fulfilled the vision. Thus We reward those who are right. (37:105)

And that indeed was a clear trial. (37:106)

And then We ransomed him with a tremendous sacrifice. (37:107)

And We left for him among the generations to come (the salutation): (37:108)

تصدق إبراهيم عليه السلام رؤياه فتقبل الله تعالى ذبح ابنه وفداه بذبح كبش بدلا منه

ابراہیم علیہ السلام کی لاڈلے بیٹے کی قربانی کے حکم کی تعمیل اللہ تعالیٰ کا اپنے فضل سے عمل کو قبول کر لینا قربانی اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک دنبہ بطور فدیہ عطا کرنا

فَلَمَّا اسَلَّمَا وَتَكَرَّرَ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾

غرض جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا (103:37)

وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا اِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾

تو ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم (104:37)

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾

یقیناً تم نے اپنا خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں (105:37)

إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾

درحقیقت یہ ایک کھلا امتحان تھا (106:37)

وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے فدیہ میں دیا (107:37)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾

اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا (ذکر خیر باقی) چھوڑ دیا (108:37)

Peace be to Abraham! (37:109)

سَلِّمْ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۱۰۹﴾

کہ ابراہیم پر سلام ہو (109:37)

﴿۳۷ الصفت ۱۰۹﴾

Thus We do reward the good. (37:110)

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۰﴾

یہ عمل کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں

﴿۳۷ الصفت ۱۱۰﴾

(110:37)

He was one of Our believing servants. (37:111)

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۱﴾

بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے

﴿۳۷ الصفت ۱۱۱﴾

(111:37)

THE FIRST WIFE OF ABRAHAM (PBUH) "SARAH" REMAINED WAITING CHILD BIRTH FOR QUITE A LONG TIME

حرمان سارہ علیہا السلام
زوج ابراہیم علیہ السلام من المولود
حتى الى شيخوختها

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ
کا تاویل اولاد سے محروم رہنا

ANGELS DISCLOSED THE PURPOSE OF THEIR VISIT (AS ERRAND OF MERCY) TO ABRAHAM (PBUH) AND ANNOUNCED THE GLAD TIDINGS OF BIRTH OF A SON ENDOWED WITH KNOWLEDGE

ایتان الملائكة عند
ابراہیم علیہ السلام وتبشیرہم
له بغلام علیم

فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انکشاف
مقصد آمد اور صاحب علم فرزند کی
پیدائش کی بشارت دینا

And tell them of Abraham's guests, (15:51)

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ﴿۵۱﴾

اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دیجئے

(51:15)

(How) when they came in to (Abraham) him, and said: Peace. He said: We feel afraid of you. (15:52)

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالِ اِنَّا مِنْكُمْ

جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ (انہوں نے)

کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے (52:15)

وَجٰلُوْنَ ﴿۵۲﴾

﴿۱۵ الحجر ۵۲﴾

They said: Be not afraid! We bring you good news of a boy possessing wisdom. (15:53)

قَالُوْا اِلَّا تَوْجَلُ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿۵۳﴾

(مہمانوں نے) کہا کہ ڈریے نہیں ہم آپ کو ایک

دانشمند لڑکے کی خوش خبری دیتے ہیں (53:15)

﴿۱۵ الحجر ۵۳﴾

He said: Bring you me glad tidings (of a son) when old age has overtaken me? Of what then you bring good tidings? (15:54)

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ

(وہ) بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آکڑا تو تم خوش

خبری دینے لگے۔ اب کا ہے کی خوش خبری دیتے ہو

(54:15)

فَمِمَّ تَبَشِّرُوْنَ ﴿۵۴﴾

﴿۱۵ الحجر ۵۴﴾

They said: We bring you good tidings in truth. So be not you of the despairing. (15:55)

قَالُوْا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿۵۵﴾

(انہوں نے) کہا کہ ہم آپ کو سچی خوش خبری دیتے ہیں

آپ مایوس نہ ہوں (55:15)

﴿۱۵ الحجر ۵۵﴾

He said: And who despairs the mercy of his Lord except those who are astray? (15:56)

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ اِلَّا الضّٰلُّوْنَ ﴿۵۶﴾

(ابراہیم نے) کہا کہ اللہ کی رحمت سے (میں مایوس کیوں

ہونے لگا اس سے) مایوس ہونا گراہوں کا کام ہے

(56:15)

﴿۱۵ الحجر ۵۶﴾

Has the story of Abraham's honoured guests reached you (O Muhammad)? (51:24)

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمَكْرُوْبِيْنَ ﴿۲۴﴾

بھلا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی

ہے؟ (24:51)

﴿۵۱ الذریت ۲۴﴾

When they came in to him and said: Peace! He answered, Peace! (and thought these seem): Folk unknown (to me). (51:25)

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالِ سَلَامٌ قَوْمٍ

جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا۔ ابراہیم نے بھی

(جواب میں) سلام کہا (دیکھا تو کہا) کہ یہ اجنبی لوگ

میں (25:51)

مُنْكَرُوْنَ ﴿۲۵﴾

﴿۵۱ الذریت ۲۵﴾

Then he turned quickly to his household and brought a fatted calf; (51:26)

فَرَاغَ اِلٰى اٰهْلِهٖ فِجَاءً يَّعْجِلُ سَمِيْنًا ﴿۲۶﴾

تو (پھر چپ چاپ جلدی سے) اپنے گھر جا کر ایک

(بھنا ہوا) موٹا بچھڑا لائے (26:51)

﴿۵۱ الذریت ۲۶﴾

And he set it before them, saying:
Will you not eat? (51:27)

Then he conceived a fear of them.
They said: Fear not! We bring you
glad tidings of a son endowed with
knowledge.. (51:28)

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٥١ الذریت ٢٧﴾

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً طَالُوا لَا تَخَفُ وَبَشْرُوهُ
بِعِلْمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾
﴿٥١ الذریت ٢٨﴾

(اور کھانے کے لئے) ان کے آگے رکھ دیا۔ اور کہا کہ
آپ کھاتے کیوں نہیں؟ (27:51)
اور دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں
نے کہا کہ خوف نہ کیجئے اور (ان فرشتوں نے) ان
(ابراہیم) کو ایک دانشمند (علم والے) لڑکے کی بشارت
سنائی (28:51)

**SAARAH (PBUH) A BARREN OLD WIFE OF
ABRAHAM (PBUH) CAME FORWARD CLAMOURING
AS THE NEWS OF HAVING CHILD
SEEMED TO HER TOO GOOD TO BELIEVE**

استعجاب سارة عليها السلام على تبشير
الملائكة بالولادة حينما
كانت عجوزا عقيما

بڑھاپے کی (ناقابل تولد) عمر میں بچے کی پیدائش کی
بشارت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی بیوی سارہ علیہا السلام کا اظہار حیرت اور تعجب

And his wife, standing by, laughed
When We gave her good tidings (of
the birth) of Isaac, and, after Isaac,
of Jacob. (11:71)

وَأَمْرَاتِهِ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ
وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾
﴿١١ هود ٧١﴾

اور ابراہیم کی بیوی (جو پاس) کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی
تو جب ہم نے اس کو اسحق کی اور اسحق کے بعد یعقوب کی
خوش خبری دی (71:11)

She said: Oh, Alas for me! Shall I
bear a child when I am an old
woman, and this my husband is an
old man? Indeed This is a strange
thing! (11:72)

قَالَتْ يَوَيْلَ لِيَءِ آئِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي
شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾
﴿١١ هود ٧٢﴾

وہ بولی ہائے میری کم بختی کیا اب میرے ہاں اولاد
ہوگی۔ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے خاوند بھی بوڑھے
ہیں یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے (72:11)

They said: Wonder you at the
commandment of Allah? The mercy
of Allah and His blessings be upon
you. O people of the house! He is
Owner of Praise. Owner of Glory!
(11:73)

قَالُوا أَلْأَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَ
بَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٧٣﴾
﴿١١ هود ٧٣﴾

انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟
اے اہل بیت (اس گھر کے لوگو) تم پر اللہ کی رحمت اور
اس کی برکتیں ہیں وہ تعریف کے لائق اور بزرگ وار ہے
(73:11)

When his wife came forward,
clamouring, and smote her
forehead, and cried: A barren old
woman! (51:29)

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَتْ وَجَمَّهَا وَ
قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾
﴿٥١ الذریت ٢٩﴾

تو ابراہیم کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں اپنا ماتھا پیٹ
کر کہنے لگیں کہ (اے ہے ایک تو) میں بڑھیا ہوں اور
ساتھ ہی بانجھ (29:51)

They said: Even so has your Lord
spoken. He is the Wise, the
Powerful. (51:30)

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾
﴿٥١ الذریت ٣٠﴾

انہوں نے کہا (ہاں) تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا
ہے وہ بے شک صاحب حکمت (اور) خبردار ہے
(30:51)

**GOOD NEWS OF BIRTH OF ISAAC (PBUH)
FROM FIRST WIFE SAARAH (PBUH)**

تبشیرہم له بولادة اسحاق عليه السلام
من بطن زوجته الأول سارة عليها السلام

حضرت اسحق علیہ السلام کی پیدائش کی خوش خبری
(پہلی بیوی سارہ علیہا السلام کے بطن سے)

And We gave him the good news of
the birth of Isaac, a Prophet- one of
the righteous. (37:112)

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾
﴿٣٧ الطفت ١١٢﴾

اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی (کہ وہ) نبی
(اور) صالح لوگوں میں سے ہوگا (112:37)

**VISIT OF STANGER GUESTS
TO ABRAHAM (PBUH) AND HIS HOSPITALITY
BUT ON THEIR REFUSAL TO EAT ANYTHING
ABRAHAM (PBUH) FELT SOME DISTRUST**

نزول ضيوف أجنبى عند إبراهيم
وأوجس منهم خيفة
عندما لم يتناولوا الطعام

اجنبی مہمانوں کی آمد اور تواضع
ان کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے پر
حضرت ابراہیم کا خوف زدہ ہونا

Detail Consult : 11: 69 to 77
Page 944, 964, 965, 974

وللتفصيل راجع ١١ هود ٦٩ الى ٧٧
الصفحة ٩٦٥، ٩٤٤، ٩٦٤، ٩٧٤

تفصيل کیلئے دیکھئے 11: 69-77
صفحہ 974, 965, 964, 944

**PLEADING OF ABRAHAM (PBUH)
FOR LUT (PBUH)**

مجادلة إبراهيم عليه السلام بالملائكة
في لوط عليه السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں کے ساتھ
قوم حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بحث

(Abraham) said: And (afterward) what is your errand, O you sent (from Allah)? (51:31)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥١ الذریت ٣١﴾

(ابراہیم نے) کہا کہ فرشتو! تمہارا مدعا (مقصد) کیا ہے؟
(31:51)

They said: We are sent to a criminal folk, (51:32)

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥١ الذریت ٣٢﴾

آہوں نے کہا کہ ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں
(32:51)

That we may launch them stones of clay, (51:33)

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَءًا مِّنْ طِينٍ ﴿٥١ الذریت ٣٣﴾

تاکہ ان پر گھنگر برسائیں (33:51)

Marked by your Lord for (the destruction of) the dissipated. (51:34)

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٥١ الذریت ٣٤﴾

جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے
پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیئے گئے ہیں
(34:51)

More Reference : 11:74,76 29:32
Page 965

والمزيد راجع ١١ هود: ٧٤، ٧٦ ٢٩ العنكبوت: ٢٢
الصفحة ٩٦٥

مزید حوالہ 11:74,76 29:32
صفحہ 965

**SUPPLICATIONS OF ABRAHAM (PBUH)
FOR THE PROSPERITY OF
THE CITY OF MAKKAH AND ITS PEOPLE.**

تعمیر مکہ و ادعیہ
ابراہیم علیہ السلام لأهل هذا البلد

مکہ مکرمہ کی آبادی اور اہل مکہ کے لئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں

And when Abraham prayed: My Lord! Make this a region of security and feed its people with fruits, such of them as believe in Allah and the Last Day, He answered: of course! As for him who rejects faith, I shall leave him in contentment for a while, then I shall drive him to the doom of fire--a hapless destination (indeed)! (2:126)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٢ البقرة ١٢٦﴾

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اسے پروردگار اس جگہ کو
امن کا شہر بنا اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ پر اور
روز آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں کی روزی عطا
فرما۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہو گا میں اس کو بھی تھوڑا
فائدہ دوں گا (مگر) پھر اس کو (عذاب) دوزخ کے
(بھگتنے کے) لئے بے بس کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے
(126:2)

And when Abraham said: My Lord! Make safe this territory, and preserve me and my sons from worshipping idols. (14:35)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿١٤ ابراهيم ٣٥﴾

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو
(لوگوں کے لئے) امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری
اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں بچائے
رکھ (35:14)

My Lord! They have led many of mankind astray. But whoso follows me, he is of me. And whoso disobeys me, still You are Forgiving, Merciful. (14:36)

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤ ابراهيم ٣٦﴾

اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا
ہے۔ سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور جس
نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے
(36:14)

ABRAHAM (PBUH) AND HIS PROGENY, A FOUNTAIN HEAD OF PROPHETS ALLAH (SWT) BESTOWED UPON THEM WISDOM AND MIGHTY DOMINION AND PREFERRED THEM ABOVE ALL HUMANKIND

For We have already bestowed upon the house of Abraham the Scripture and Wisdom, and We conferred on them a Mighty kingdom. (4:54) PART

And We bestowed on (Abraham) him Isaac and (to Isaac) Jacob, and We ordained the Prophethood and the Scripture among his progeny, and We granted him his reward in the world, and in the Hereafter he is among the righteous. (29:27)

تکرم اللہ تعالیٰ آل ابراہیم علیہ السلام بالنبوہ والمملکۃ واعطاهم الكتاب والحکمة واصطفاهم علی العالمین

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾
﴿٤ النساء ٥٤﴾ جزء

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٢٧﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان (آل ابراہیم) کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، کتاب، حکمت اور بڑی سلطنت و بادشاہی سے نوازا اور تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا

تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی (حکمت) عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی (54:4) جزو

اور ہم نے ان کو اسحق اور (اسحق کو) یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب (مقرر) کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی (نیک صالح) لوگوں میں ہوں گے (27:29)

Reference : 2:136,140 3:33,84 4:163
2:49,58 29:27 Page 580,971,1091,94,246

وللتفصیل راجع ٢ البقرة ١٣٦، ١٤٠، ٣ آل عمران ٦٨: ٤ النساء ١٦٣، ١٩ مريم ٤٩، ٥٨، ٢٩ العنكبوت ٢٧

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:136,140 3:33,84 4:163
27:29 58,49:19 صفحہ 246,94,1091,971,580

ISLAM - THE FAITH OF ABRAHAM (PBUH)

And who forsakes the religion of Abraham except him who befools himself? We chose him in the world, and in the Hereafter he is among the righteous. (2:130)

Without doubt among the mankind closest people to Abraham are those who followed him, and this Prophet and those who believe (with him); and Allah is the Protecting Friend (Patron) of the believers. (3:68)

ay: Allah speaks truth. So follow the creed of Abraham, who turned away from all the false. He was not of those who ascribe partners to Allah. (3:95)

ملة ابراہیم علیہ السلام . الدين الإسلامی

وَمَنْ يَرْتَدَّ عَنْ قِبْلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾
﴿٢ البقرة ١٣٠﴾

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾
﴿٣ آل عمران ٦٨﴾

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾
﴿٣ آل عمران ٩٥﴾

اسلام - دین ابراہیمی (ملت ابراہیم)

اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے ماسوائے اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا۔ اور آخرت میں بھی وہ نیک (صالح) لوگوں میں سے ہوں گے (130:2)

سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر (آخر الزمان) اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اور اللہ مومنوں کا کارساز (ولی اور سہارا) ہے (68:3)

کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا پس دین ابراہیم (ابراہیم کے طریق) کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک (اللہ) کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے (95:3)

Reference : 3:68 12:38 16:123
2:78 Page 960, 984, 961, 621/649

وللتفصیل راجع ٣ آل عمران ٦٨، ١٢ يوسف ٣٨: ١٦ النحل ١٢٣، ٢٢ الحج ٧٨

تفصیل کیلئے دیکھئے 3:68 12:38 16:123
78:22 صفحہ 649/621, 961, 984, 960

ABRAHAM'S (PBUH) TITLE FRIEND OF ALLAH (SWT) (KHALIL - ULLAH)

Who is better in faith than he who surrenders his whole self to Allah while doing good (to mankind) and follows the tradition of Abraham, the upright in nature? Allah (himself) chose Abraham for friendship. (4:125)

لقب ابراہیم علیہ السلام . خليل الله

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾
﴿٤ النساء ١٢٥﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب (خلیل اللہ)

اس شخص سے کس کا طریق زندگی (دین) اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم کے طریقے کی پیروی جو خالص مسلمان تھے اور جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا (125:4)

And afterward We inspired you (Muhammad, saying): Follow the ways of Abraham, as one true in faith. He was not of the idolaters. (16:123)

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾
النحل ١٢٣

پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے۔ اور مشرکوں میں سے نہ تھے (123:16)

More Reference : 3:33-68 12:6-38
Page 1091,91 977,984
19:49-58 22:78 87:19
944,640 621/649 246

وللتفصیل راجع ۳ آل عمران: ۲۸، ۲۳، ۱۲ یوسف: ۲۸، ۶
۱۹ مریم: ۵۸، ۴۹، ۲۲ الحج: ۷۸، ۸۷ الأعلیٰ: ۱۹
الصفحة ۲۱، ۱۰، ۹۷۷، ۹۱، ۹۸۹، ۹۴۴، ۶۴۰، ۶۲۱، ۶۴۹، ۲۴۶

مزید حوالہ
صفحہ 91,1091 38,6:12 68,33:3
977,984 19:87 78:22 58,49:19
246 649/621 640,944

RAISING FOUNDATIONS OF KA'BAH BY ABRAHAM (PBUH) (WITH ISMAIL PBUH) AND PRAYING FOR ACCEPTANCE OF THEIR HANDIWORK

And when Abraham and Ishmael were raising the foundations of the House, (Abraham prayed): Our Lord! Accept from us (this duty). You, only You, are the Hearer, the Knower. (2:127)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾
البقرة ١٢٧

تعمیر خانہ کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

اور جب ابراہیم اور اسمعیل بیت اللہ کی بنیادیں اور دیواریں اونچی کر رہے تھے (تو دعا کئے جاتے تھے کہ) اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا (اور) جاننے والا ہے (127:2)

For Detail Consult : 2:126,130,133 22:26 Page 287

STATION OF ABRAHAM (PBUH) AS A PLACE OF PRAYER

-----Take as your place of worship the place where Abraham stood (to pray).----- (2:125) PART

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۱۲۶، ۱۳۰، ۱۳۳ الحج: ۲۶

جعل مقام ابراہیم علیہ السلام مصلی

تعمیر کیلئے دیکھئے 2:126,130,133 22:26 287

مقام ابراہیم علیہ السلام جائے نماز

----- اور (حکم دیا کہ) جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو (125:2)-----

For Detail Consult : 3:97 98:5
Page 290, 265

PROCLAIMING OF ABRAHAM (PBUH) FOR PILGRIMAGE

For Detail Consult : 3:97 22:27,28,29
Page 287/290, 287, 291, 293

وللتفصیل راجع ۳ آل عمران: ۹۷، ۹۸ البینة: ۵
الصفحة ۲۹۰، ۲۶۵

أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن ينادي الناس في أكناف العالم للحج

تفصیل کیلئے دیکھئے 3:97 98:5 265, 290

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اقصائے عالم میں حج کی منادی کا حکم

تفصیل کیلئے دیکھئے 97:3 29,28,27:22 293, 291, 287, 290/287

SANCTIFYING KA'BA (SERVICE OF SACRED HOUSE)

For Detail Consult : 2:125 22:26 Page 287

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۱۲۵، ۲۲ الحج: ۲۶

تطهير الكعبة وخدمتها

خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھنا (خدمت بیت اللہ)

تعمیر کیلئے دیکھئے 2:125 22:26 287

PRAYER OF ABRAHAM (PBUH) FOR MUHAMMAD'S (SAAS) MINISTRY

For Detail Consult : 2:129 Page 163

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۱۲۹، ۱۶۳ الصفحة

دعاء إبراهيم عليه السلام لبعثة محمد ﷺ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت محمد ﷺ کے لئے دعا

تعمیر کیلئے دیکھئے 2:129 163

ABRAHAM (PBUH) ENJOIN UPON HIS SONS TO DIE NOT EXCEPT AS MUSLIMS

For Detail Consult : 2:132,133 Page 90,92

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۱۳۲، ۱۳۳، ۹۰، ۹۲ الصفحة

وصية ابراهيم عليه السلام بنيہ للتمسك بالإسلام حتى الموت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کو مذہب اسلام پر مرنے کی وصیت

تعمیر کیلئے دیکھئے 2:132,133 90,92

SUPPLICATIONS OF ABRAHAM (PBUH)

For Detail Consult : Chapter of Quranic Supplications
Page : 955,959,1118,1119

وللتفصیل راجع أدعية القرآنية الصفحة ۱۱۹، ۱۱۱۸، ۹۵۹، ۹۵۵

أدعية إبراهيم عليه السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں

تعمیر کیلئے دیکھئے قرآنی دعائیں 1119,1118,959,955

LUT PBUH (LOT)

لُوطٌ (عَلَيْهِ السَّلَام)

حضرت لوطؑ علیہ السلام

FIRST PROPHET WHO ADHERED TO ABRAHAM'S (PBUH) TEACHING AND FAITH

And Lot believed him, and said: I am a fugitive to my Lord. He, only He, is the Mighty, the Wise. (29:26)

APPOINTED TO PREACH THE PEOPLE OF SODOM AND GOMORRAH WHO WERE DEEP IN THE MOST ABOMINABLE AND UNNATURAL SINS

And Ishmael and Elisha and Jonah and Lot. Each one of them did We prefer above (Our) creatures. (86)

And to Lot We gave judgement and knowledge, and We delivered him from the community that practised abominations. They were folk of evil, lewd. (21:74)

And We brought him in to Our mercy. Surely he was of the righteous. (21:75)

For Detail Consult : 6:86 37:133
Page 246, 970

SOCIAL EVILS IN SODOM PEOPLE SODOMY - LUST - LEWDNESS INFESTING - HIGHWAYS DACOITY SHAMELESSNESS - WANTONNESS

WICKED FOLK OF LOT CHALLENGED HIM TO BRING ABOUT THE PUNISHMENT, IF HE COULD

And (Remember) when Lot said to his folk: You commit lewdness such as no creature ever committed before you. (29:28)

When you approach to males, and cut the highways (for travellers), and you practise abomination even in your meetings? But the answer of his folk was only that they said: Bring Allah's doom upon us if you are a truth teller! (29:29)

Reference : 11:78 21:74 Page 966, 962

كان لوط أول رسول يتبع ملة إبراهيم

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٩﴾
العنكبوت ٢٦ ﴿٢٩﴾

بعث إلى قوم ساكنين بسدوم والغامورة وكانوا منغمسين في الفواحش والوقاحة والأفعال الشنيعة غير الطبيعية

وَأَسْمِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾
الانعام ٨٦ ﴿٦﴾

وَلُوطًا إِنِّي أَنَا حَكِيمٌ وَعَلِيمٌ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَسَاقِينَ ﴿٧٤﴾
الانبیاء ٧٤ ﴿٧٤﴾

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾
الانبیاء ٧٥ ﴿٧٥﴾

وللتفصيل راجع ٦ الانعام: ٨٦ ٣٧ الصفات: ١٣٣
الصفحة ٩٧٠, ٢٤٦

سیات قوم لوط الاجتماعیة
آبیاں الرجال شهوة، قطع الطريق
والفواحش علانیة

مناهضة قوم لوط ضد انذارهم
عذاب الله

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَفَقْتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾
العنكبوت ٢٨ ﴿٢٨﴾

إِنَّكُمْ لَكُمْ لَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۗ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ۗ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اسْتِنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾
العنكبوت ٢٩ ﴿٢٩﴾

وللمزيد راجع ١١ هود: ٧٨ ٢١ الانبياء: ٧٤

دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والے پہلے پیغمبر

پس ان (حضرت ابراہیم) پر لوط ایمان لائے اور (ابراہیم) کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ غالب حکمت والا ہے (26:29)

بے حیائی اور غیر فطری جرائم میں ملوث سدوم اور غامورہ کے لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے

اور اسمعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی۔ اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی (86:6)

اور لوط (کاقصہ یاد کرو جب ان) کو ہم نے حکم اور علم (یعنی حکمت و نبوت) بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکال لے شک وہ بدترین گناہ گار اور (بدکردار) لوگ تھے (74:21)

اور انہیں (لوط کو) اپنی رحمت میں داخل کیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ نیک (صالح) لوگوں میں سے تھے (75:21)

تفصیل کیلئے دیکھئے 86:6 133:37
صفحہ 970, 246

قوم لوط کی معاشرتی برائیاں
غیر فطری جنسی علت (شہوت پرستی) قطع طریق۔ ذہنی اور کھلے عام بے حیائی اور بے غیرتی

قوم لوط کا عذاب الہی کو چیلنج

اور لوط (کو یاد کرو) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم (عجب) بدکاری پر اتر آتے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا (28:29)

کیا تم بد فعلی کے لئے مردوں کی طرف مائل ہوتے اور (مسافروں پر) ڈاکہ ڈالتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ (29:29)

مزید حوالہ 78:11 74:21 صفحہ 962, 966

LOT (PBUH) PREACHING TO THE SODOM PEOPLE AGAINST EFFRONTERY

عظمت لوط علیہ السلام
لقومہ بترك الفواحش

لوط علیہ السلام کی قوم کو بے حیائی
کے خلاف تبلیغ

And (Remember) when Lot said to his folk: Will you commit lewdness such as no people in creation ever did before you? (7:80)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
﴿٧ الاعراف ٨٠﴾

اور (اسی طرح جب ہم نے) لوط کو (پیغمبر بنا کر بھیجا تو) اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے فحش کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے (آج تک) نہیں کئے (80:7)

You practise lust to men in preference to women. But you indeed, are wanton folk. (7:81)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾
﴿٧ الاعراف ٨١﴾

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لئے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو (81:7)

The folk of Lot denied the messengers (of Allah), (26:160)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٦٠﴾

(لوٹ) قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا (160:26)

When their brother Lot said to them: Will you not fear Allah? (26:161)

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٦١﴾

جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے (161:26)

I am a messenger to you, worthy of all trust, (26:162)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٦٢﴾

میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں (162:26)

So fear Allah and obey me. (26:163)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٣﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٦٣﴾

تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو (163:26)

And I ask you no reward therefore; my reward is the concern only of the Lord of the Worlds. (26:164)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٦٤﴾

اور میں تم سے اس (کام) کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ (اللہ تعالیٰ) کے ذمے ہے (164:26)

Do you approach males among (anyone in) the universe. (26:165)

أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٦٥﴾

کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو (165:26)

And ignore the wives, your Lord created for you? Indeed you are much defiant folk. (26:166)

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٦٦﴾

اور تمہارے پروردگار نے جو کچھ تمہارے لئے تمہاری بیویوں میں پیدا کیا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو (166:26)

He said: I am in truth of those who hate your conduct. (26:168)

قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٦٨﴾

(لوط نے) کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں (168:26)

And Lot! When he said to his people: Will you commit abomination with your eyes open (to its being against all nature)? (27:54)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾
﴿٢٧ النمل ٥٤﴾

اور لوط کو (یاد کرو) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم دیکھنے بھالنے کے باوجود بے حیائی (کے کام) کیوں کرتے ہو (54:27)

Should you approach men lustfully rather than women? No, but you are a folk without sense (awareness). (27:55)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾
﴿٢٧ النمل ٥٥﴾

کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے لئے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو (55:27)

TRANSGRESSORS THREATENED LOT (PBUH) TO DRIVE HIM AND HIS FOLLOWERS OUT OF THE CITY

And the reply of his people was only that they said (one to another): Turn them out of your township. They are folk, forsooth, who keep pure. (82:7)

They said: If you cease not, O Lot, you will soon be casted out. (26:167)

But the reply of his folk was nothing except that they said: Expel the household and followers of Lot from your city, for they are folk who want to be clean and pure. (27:56)

تہدیدات القوم العادین بلوط

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ
مَنْ قَرَّبْتُمْ إِلَيْهِمْ أَنْ نَسُ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾
﴿٧ الاعراف: ٨٢﴾

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء: ١٦٧﴾

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ
لُوطٍ مَن قَرَّبْتُمْ إِلَيْهِمْ أَنْ نَسُ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٢٧ النمل: ٥٦﴾

سرخش قوم کی لوط علیہ السلام کو جلاوطن کر دینے کی دھمکی

اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں (یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو) اپنے گاؤں سے نکال دو (کہ) یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں (82:7)

وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے (167:26)

تو ان کی قوم کے پاس اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو یہ لوگ پاکباز بننا چاہتے ہیں (56:27)

WICKED FOLK OF LOT CHALLENGED HIM TO BRING ABOUT THE PUNISHMENT, IF HE COULD

For Detail Consult : 29:29 Page 962

LOT (PBUH) INVOKED ALLAH (SWT) FOR HELP

My Lord! Save me and my household from what they do. (169:26)

He said 'O my Lord! Help me against such degenerate (wicked) folk (29:30)

مناہضة قوم لوط ضد اذارہم عذاب اللہ

وللتفصیل راجع ٢٩ العنکبوت: ٢٩ الصفحة 962

دعاء لوط علیہ السلام
من اللہ تعالیٰ للنصر

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْكَوْنُ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء: ١٦٩﴾

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾
﴿٢٩ العنکبوت: ٣٠﴾

قوم لوط کا عذاب الہی کو چیلنج

تفصیل کے لئے دیکھیے 29:29 صفحہ 962

لوط علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا

اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں (کے وبال) سے نجات دے (169:26)

(لوط نے) کہا کہ اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما (30:29)

ARRIVAL OF ANGELS WITH A MISSION TO PUNISH THE SODOMITES FOR THEIR MORAL REPROACHES

And when he saw their hands stretched not the (meal), he trusted them and conceived a fear of them. They said: Fear not! You are sent to the folk of Lot. (70:11)

He said: And afterward what is your business, O you messengers (of Allah)? (15:57)

مجی ملائکہ العذاب الی قوم لوط

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَمَخَضْ وَنَا
أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧﴾
﴿١١ هود: ٧٠﴾

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر: ٥٧﴾

قوم لوط پر عذاب کے لئے فرشتوں کی آمد

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے (یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے) تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم قوم لوط کی طرف (ان کے ہلاک کرنے کو) بھیجے گئے ہیں (70:11)

پھر کہنے لگے کہ فرشتو! تمہیں (اور) کیا کام ہے (57:15)

They said: We have been sent for some criminal folk. (15:58)

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾
﴿١٥ الحجر ٥٨﴾

(انہوں نے) کہا کہ ہم ایک گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں (کہ اس کو عذاب کریں) (58:15)

Except for Lot's house; We will rescue them all. (15:59)

إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾
﴿١٥ الحجر ٥٩﴾

مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچالیں گے (59:15)

And when Our messengers brought Abraham the good news, they said: We are about to destroy the people of that township, for its people are truly wicked. (29:31)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٣١﴾

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں (31:29)

PLEADING OF ABRAHAM (PBUH) FOR LOT (PBUH)

مجادلة ابراهيم عليه السلام
والملائكة في لوط عليه السلام

ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں کے ساتھ
لوط علیہ السلام کے بارے میں بحث

And when the fear departed from Abraham, and the glad news reached him, he (Abraham) pleaded with Us (Angels) on behalf of the folk of Lot. (11:74)

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾
﴿١١ هود ٧٤﴾

جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوش خبری بھی مل گئی تو (ابراہیم فرشتوں کے ساتھ) قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے (74:11)

(It was said) O Abraham! Forsake this! Your Lord's commandment has gone forth, and there comes to them a doom, which cannot be averted. (11:76)

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّكَ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾
﴿١١ هود ٧٦﴾

اے ابراہیم اس بات کو جانے دو۔ تمہارے پروردگار کا حکم آپہنچا ہے۔ اور ان لوگوں پر عذاب ضرور آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹل سکتا (76:11)

He said: Lot is there. They said: We are quite aware of who is there. We are to deliver him and his household, all except his wife, who is of those who stay behind. (29:32)

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٣٢﴾

(ابراہیم نے) کہا کہ اس میں لوط بھی ہیں وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں (رہتے) ہیں ہمیں سب معلوم ہیں۔ ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچالیں گے سوائے ان کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی (32:29)

ARRIVAL OF ANGELS IN SHAPE OF HANDSOME YOUNG GUYS AND LOT (PBUH) SEEMED HELPLESS TO PROTECT HIS GUESTS AGAINST THE EVIL PASSIONS OF HIS PEOPLE

مجي الملائكة في صورة الغلمان الشباب
وقلق لوط في المحافظة على ضيوفه
نظرا إلى عادات قومه الشنيعة

فرشتوں کی نوعمر خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آمد
لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کی عادات قبیحہ کے پیش نظر
مہمانوں کی حفاظت کے معاملہ پر اضطراب

And when Our messengers came to Lot, he was distressed and knew not how to protect them. (feeling himself powerless) He said: This is a distressful day. (11:77)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَامًا يَتَهَمُونَ إِيَّاهُمْ وَذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾
﴿١١ هود ٧٧﴾

اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان (کے آنے) سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے (77:11)

NEWS OF THE ADVENT OF HANDSOME YOUNG GUESTS, INFLAMED THE SODOM PEOPLE AND THEY BESIEGED LOT'S (PBUH) HOUSE

إهجام القوم الفاحشين على بيت لوط
في هيجان الشهوة لما علموا
حضور الأضياف عنده

بکر دار قوم کا مہمانوں کی آمد کی
خبر سے جذباتی ہو کر حضرت لوط علیہ السلام
کے گھر دھاوا بول دینا

For detail Consult next Page

وللتفصيل راجع الصفحة الابنة

تفصیل کے لیے دیکھئے اگلا صفحہ

LOT (PBUH) REMONSTRATED THEM AGAINST THEIR UNNATURAL CRIME AND REQUESTED FOR THE COURTESY OF THE GUESTS AND HIS PRESTIGE

He said: Would that I had strength to resist you or had some strong support (among you)! (11:80)

And the people of the city came, rejoicing at the news (of new arrivals). (15:67)

He said: They are my guests. In front (disgrace) me not! (15:68)

And fear Allah, and put me not to shame! (15:69)

They said: Have we not forbidden you from (entertaining or offering protection) everyone? (15:70)

LOT (PBUH) SUGGESTED THE MISLED FOLK TO MARRY THE YOUNG GIRLS OF THE TOWN

And his people came to him shaming, towards him and they had been long in the habit of committing abominations. He said: O my people! Here are my daughters! They are purer for you. (to marry) Beware of Allah, and degrade me not in (the presence of) my guests. Where not among you any upright man? (11:78)

They said: Well you know that we did not your daughters, and well you know what we want? (11:79)

He said: Here are my daughters, if you must be doing (whatever you intend to do). (15:71)

By your life (O Muhammad) they in their delirium (of lust) were blindly stumbling to and fro (15:72)

موا عظ لوط عليه السلام قومه
والتماسه منهم لإكرام الأضياف

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أُوَدِّعُ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾
﴿١١ هود ٨٠﴾

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾
﴿١٥ الحجر ٦٧﴾

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾
﴿١٥ الحجر ٦٨﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾
﴿١٥ الحجر ٦٩﴾

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾
﴿١٥ الحجر ٧٠﴾

عظة لوط عليه السلام قومه الفاسقين
وقتراحه لهم بنكاح الفتيات من القوم

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُمْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَتَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾
﴿١١ هود ٧٨﴾

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾
﴿١١ هود ٧٩﴾

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾
﴿١٥ الحجر ٧١﴾

لَعَمْرُكَ إِنَّكُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾
﴿١٥ الحجر ٧٢﴾

لوط عليه السلام کی قوم کو
وعظ و نصیحت اور مہمانوں کی تکریم
کے لئے منت سماجت

(لوط نے) کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی پناہ لیتا (80:11)

اور اہل شہر (لوط کے پاس) خوش خوش (دوڑے) آئے (67:15)

(لوط نے) کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں (کسی ان کے بارے میں) مجھے رسوا نہ کرنا (68:15)

اور اللہ سے ڈرو۔ اور میری رسوائی نہ کرنا (69:15)

وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان (کی حمایت و طرفداری) سے منع نہیں کیا (70:15)

لوط عليه السلام کا گمراہ افراد کو قوم کی لڑکیوں
سے نکاح کی پیشکش و ہدایت

اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ (لوط نے) کہا کہ اے قوم! یہ (جو) میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے (نکاح کیلئے) جائز اور پاک ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں (کے بارے) میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ (78:11)

وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری (قوم کی) بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور تم ہماری اصلی چاہت (غرض) سے خوب واقف ہو (79:11)

(انہوں نے) کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ (میری قوم کی) لڑکیاں ہیں (ان سے شادی کر لو) (71:15)

(اے محمد) تمہاری عمر کی قسم! وہ اپنی (شہوت کی) مستی میں بے ہوش (آپ سے باہر ہو رہے) تھے (72:15)

ANGELS DISCLOSED THEIR MISSION TO LOT (PBUH) AND GAVE HIM INSTRUCTIONS TO GO AWAY BEFORE THE MORNING TO ESCAPE DESTRUCTION

إخبار الملائكة عن مأموريتهم
و إرشادهم عن كيفية العمل
للبنی لوط علیه السلام عند نزول العذاب

فرشتوں کا صورت حال سے پردہ اٹھانا اور
لوط علیہ السلام کو عذاب سے بچنے کے لئے ہدایات دینا

(The messengers) said: O Lot! We are sent by your Lord; By no means they shall reach you. So travel with your people in a part of the night, and let not any one of you look back (all) except your wife. (will remain behind). That, which smites them, will smite her (also). Their tryst is (for) the morning. Is not the morning near? (11:81)

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿١١﴾
﴿١١ هود ٨١﴾

فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو کچھ رات رہے تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکل کھڑے ہو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے۔ مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان سب پر پڑنے والی ہے وہی تم پر بھی پڑے گی۔ ان کے (عذاب کے) وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ (81:11)

And when the messengers came to the adherents of Lot, (15:61)

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر ٦١﴾

پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس نیچے۔ (61:15)

He said: You are folk unknown (to me). (15:62)

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّتَكَبِّرُونَ ﴿١٦﴾
﴿١٥ الحجر ٦٢﴾

(تو لوط نے) کہا تم نادانف سے لوگ ہو (62:15)

They said: of course we have come to you to accomplish that of which they doubt. (15:63)

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿١٧﴾
﴿١٥ الحجر ٦٣﴾

وہ بولے کہ (نہیں) بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے (63:15)

And bring you the Truth, and we are truth tellers. (15:64)

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٨﴾
﴿١٥ الحجر ٦٤﴾

اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں (64:15)

So travel with your household in the dead of the night, and follow you their backs. Let none of you glance around, but go wherever you are commanded. (15:65)

فَأَسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿١٩﴾
﴿١٥ الحجر ٦٥﴾

تو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور جہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیے (65:15)

And We made known this decree to him, that the last remnants of those (sinners) should be that the root of them was to be cut at early morn. (15:66)

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُمْ لَوْ كَانُوا يُدْرِكُونَ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٢٠﴾
﴿١٥ الحجر ٦٦﴾

اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی (66:15)

And when Our messengers came to Lot, he was grieved on their account, (for he could not protect them); but they said: Fear not, nor grieve! We are to save you and your following, (all) except your wife, who is of those who lag behind. (29:33)

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٢١﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٣٣﴾

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجئے۔ اور نہ رنج کیجئے ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچالیں گے مگر آپ کی بیوی (عذاب کے لئے) کہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ (33:29)

We are about to bring down upon folk of this township a fury from the sky because they are wickedly rebellious. (29:34)

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٢﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٣٤﴾

ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں (34:29)

DETRACTED PEOPLE DOUBTED LOT (PBUH) AND REJECTED WARNING

The folk of Lot rejected warnings. (54:33)

And he indeed had warned them of our blow, but they did doubt the warnings. (54:36)

Reference: 22:42,43 29:40 54:33
Page 202, 681

تکذیب قوم لوط بالنذر

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُرِّ ﴿٥٤﴾
﴿٥٤ القمر ٣٣﴾

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالَّذُرِّ ﴿٥٤﴾
﴿٥٤ القمر ٣٦﴾

والنصفيل راجع ٢٢ الحج: ٤٢، ٤٣ ٢٩ العنكبوت: ٤٠
٥٤ القمر: ٣٣ الصفحة ٢٠٢، ٦٨١

گمراہ قوم کا لوط علیہ السلام کی نصیحت اور تنبیہ پر یقین نہ کرنا

لوط کی قوم نے بھی ڈرسانے والوں کو جھٹلایا تھا (33:54)

اور (لوط نے) ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا (36:54)

تفصیل کیلئے دیکھئے 22:42,43 29:40 54:33
صفحہ 202, 681

VISITATION ON SODOM'S PEOPLE BRIMSTONE (BAKED CLAY) SHOWER WITH MIGHTY BLAST, VIOLENT TORNADO COMPLETELY OVERWHELMED THE CITIES

When Our commandment came pass We overthrew (that township) and rained upon it stones of clay, one after another, (11:82)

Then the (awful) Cry overtook them at the Sunrise. (15:73)

And We turned (the cities) upside down We rained upon them stones of heated clay. (15:74)

Then afterward We destroyed the others. (26:172)

And We rained on them a shower (of brimstone). And dreadful was the power of those who had been warned (but heeded not) (26:173)

therein is indeed a portent, yet most of them did not believe. (26:174)

And your Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful. (26:175)

And We rained a rain upon them. How dreadful was the rain of those who had been warned. (27:58)

They even demanded him his guests for an ill purpose. Then We deprived them of their sight (and so): Taste now My punishment after My warnings were disregarded. (54:37)

And in truth the decreed punishment befell them early in the morning. (54:38)

امطار الحجارة وتسلط الصيحة على قوم لوط

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مِّنْ مَّنْضُودٍ ﴿١١﴾
﴿١١ هود ٨٢﴾

فَاخَذْنَا الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر ٧٣﴾

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر ٧٤﴾

ثُمَّ دَرَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٧٢﴾

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٧٣﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٧٤﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٧٥﴾

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨ النمل ٢٧﴾

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٍ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧ القمر ٥٤﴾

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ القمر ٥٤﴾

قوم لوط پر آگ برسائے ہوئے پتھروں کی بارش زوردار چیخ اور طوفان کا عذاب (سے بستیوں کا مکمل طور پر تہس نہس ہو جانا)

تو جب ہمارا حکم آیا اس (بستی) کو (الٹ کر) نیچے اوپر کر دیا۔ اور ان پر پتھر کی تہہ بہ تہہ (یعنی پے در پے) کنکریاں برسائیں (82:11)

سو سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے آپکڑا (73:15)

اور ہم نے اس (شہر) کو (الٹ کر) اوپر نیچے کر دیا۔ اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں (74:15)

پھر ہم نے سب (باقی) لوگوں کو ہلاک کر دیا (172:26)

اور ان پر ایک قسم کا مینہ برسایا سو جو مینہ ان (لوگوں) پر برسایا جو ڈرائے گئے تھے وہ بہت برا تھا (173:26)

بے شک اس (قصہ) میں عبرت ہے۔ اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے (174:26)

اور تمہارا پروردگار تو غالب (اور) مہربان ہے (175:26)

اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینہ برسایا سو (جو) مینہ ان لوگوں پر (برسا) جن کو ڈرایا گیا تھا بہت برا تھا (58:27)

اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا۔ تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں سو (اب) میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو (37:54)

اور ان پر صبح سویرے ہی مقررہ عذاب آنازل ہوا (38:54)

Now taste My suffering, which I inflict when My warnings are disregarded! (54:39)

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿٥٤﴾
﴿٥٤ القمر ٣٩﴾

تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو (39:54)

More Reference : 29:31 58:58,59 Page 965

والمزید راجع ٢٩ العنكبوت: ٣١ ٥٨ المجادلة: ٥٨، ٥٩

مزید حوالہ 31:29 59,58:58 صفحہ 965

DISLOYAL AND DISOBEDIENT WIFE OF LOT SHARED THE FATE OF WICKED INHABITANTS OF THE CITY

شارکت امرأة لوط الخائنة العاصية
في عذاب الله مع القوم الفاسقين

لو ط علیہ السلام کی بیوی خیانت اور نافرمانی کے باعث عذاب سے نہ بچ سکی

And We rescued him and his household, (followers) except his wife, who was of those who lagged behind. (7:83)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٧﴾
﴿٧ الاعراف ٨٣﴾

تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی (نہ بچی) کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی (83:7)

And We rained down upon them a shower (of brimstones). See now the nature of the consequence for those who indulged in sin and crime! (7:84)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾
﴿٧ الاعراف ٨٤﴾

اور ہم نے ان پر (پتھروں کا) مینہ برسایا سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا (84:7)

Except his wife, of whom We had decreed that she should be of those who lag behind. (15:60)

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا لَهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿١٥﴾
﴿١٥ الحجر ٦٠﴾

البتہ ان کی بیوی (کہ) اس کیلئے ہم نے ٹھہرا (مقرر کر) دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ (60:15)

Then We saved him and his household except his wife; We destined her to be of those who stayed behind. (27:57)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾
﴿٢٧ النمل ٥٧﴾

تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کے بارے میں ہم نے مقرر کر رکھا تھا (کہ وہ) پیچھے رہنے والوں میں ہوگی (57:27)

More Reference : 11:81 26:171 29:32,33 37:135 Page 967, 970, 965, 967

والمزید راجع ١١ هود: ٨١ ٢٦ الشعراء: ١٧١ ٢٩ العنكبوت: ٣٢، ٣٣ ٣٧ الصافات: ١٣٥

مزید حوالہ 11:81 26:171 29:32,33 37:135 صفحہ 967, 965, 970, 967

BRIMSTONE PLAIN OF THE TRACT STILL EXISTS, WHICH PRESENTS A SCENE OF DISMAL DESOLATION FOR WHOM WHO REALIZE

مواضع الاعتبار في هلاك قوم لوط

قوم لوط کی تباہی کے روح فرسا مقامات عبرت

Marked with fire in the providence of your Lord (for the destruction of the wicked). And they are never far from the wrongdoers. (11:83)

مُسَوِّدَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿١١﴾
﴿١١ هود ٨٣﴾

جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کئے ہوئے تھے۔ اور وہ (بستی ان) ظالموں سے کچھ دور نہیں (83:11)

Therein indeed are portents for those who read the signs. (15:75)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾
﴿١٥ الحجر ٧٥﴾

بے شک اس (قصے) میں عقل والوں کے لئے نشانی ہے (75:15)

And those (towns) stands right on the road that still exists. (15:76)

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾
﴿١٥ الحجر ٧٦﴾

لورہ (شہر) اب تک (عام گزرگاہ) جو برابر چلتی رہتی ہے (موجود) ہے (76:15)

Therein indeed lies a message for all who believe in Allah. (15:77)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾
﴿١٥ الحجر ٧٧﴾

بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لئے بڑی نشانی ہے (77:15)

And indeed they have passed by the township whereon was rained the fatal rain. Can it be that they have not seen it? No, but they hope for no Resurrection. (25:40)

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا السَّوْدَ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾
﴿٢٥ الفرقان ٤٠﴾

یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری طرح کا مینہ برسایا گیا تھا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو (مرنے کے بعد) جی اٹھنے کی امید ہی نہیں (40:25)

And of that We have left a clear sign for people who have sense. (29:35)

Then We destroyed the others. (37:136)

And you pass by (the ruins of) them in the morning (37:137)

And at night-time; have you then no sense? (37:138)

And We left behind therein a token for those who fear a painful doom. (37:51)

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٩﴾
﴿٢٩﴾ العنكبوت ٣٥

ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ١٣٦

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ١٣٧

وَبِاللَّيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ ﴿٣٨﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ١٣٨

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٥١﴾
﴿٥١﴾ الذریت ٣٧

اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لئے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ہے (35:29)
پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا (136:37)

اور تم دن کو بھی ان (بستیوں) کے پاس سے گزرتے رہتے ہو (137:37)

اور رات کو بھی تو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ (138:37)

اور جو لوگ عذاب الیم سے ڈرتے ہیں ان کے لئے وہاں (کامل علامت) نشانی چھوڑ دی (37:51)

Reference : 7:84 15:74
Page 969, 968

وللمزید حوالہ ٧ الأعراف: ٨٤ ١٥ الحجر: ٧٤
الصفحة ٩٦٨, ٩٦٩

المزید حوالہ 84:7 74:15
صفحة 968, 969

MIGRATION OF LOT (PBUH) FROM BABYLONIA TO ARAM OR SYRIA

ہجرت لوط علیہ السلام فی سبیل اللہ
ذہابہ الی الشام من بابل

حضرت لوط علیہ السلام کی عراق (بابل) سے
سرزمین ارم یا شام کو ہجرت

And We rescued him and Lot (and brought them) to the land, which We have blessed for (all) people. (21:71)

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾
﴿٢١﴾ الانبیاء ٧١

اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اُس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کیلئے برکت رکھی تھی (71:21)

LOT (PBUH) AND HIS ADHERENTS (BELIEVER COMPANIONS) WERE SAVED FROM THE CALAMITY

نجات لوط علیہ السلام
وأهله من المومنین من العذاب

لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کا
عذاب الہی سے محفوظ رہنا

We saved him and his household, everyone, (26:170)

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦﴾ الشعراء ١٧٠

سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی (170:26)

Except an old woman among those who stayed behind. (26:171)

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿٢٧﴾
﴿٢٦﴾ الشعراء ١٧١ ﴿٣٧﴾ الصفت ١٣٥

مگر ایک بوڑھیا کہ پیچھے رہ گئی (171:26)

And Lot was of those sent (to warn), (37:133)

وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ١٣٣

اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے (133:37)

Then We saved him and his household, everyone, (37:134)

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٣٨﴾
﴿٣٧﴾ الصفت ١٣٤

جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو (عذاب سے) نجات دی (134:37)

Then We brought forth such believers as were there. (51:35)

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾
﴿٥١﴾ الذریت ٣٥

تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا (35:51)

At We found there only one house (of those) who surrendered (to Allah). (51:36)

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥١﴾
﴿٥١﴾ الذریت ٣٦

اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا (36:51)

We sent a storm of stones upon them (except) the family of Lot, whom We rescued by early dawn, (54:34)

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ لِنِعْمَتِ رَبِّكَ ﴿٥٤﴾
﴿٥٤﴾ القمر ٣٤

تو ہم نے ان پر کٹکھری بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے۔ کہ ہم نے ان کو سحر کے وقت ہی سے بچا لیا (34:54)

We granted a grace from Us. Thus We reward him who gives thanks. (54:35)

نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٥٤﴾
﴿٥٤﴾ القمر ٣٥

اپنے فضل سے ہر شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (35:54)

ISMAIL (PBUH) (ISHMAEL)

اسماعیل (علیہ السلام)

حضرت اسماعیل علیہ السلام

**TENDER HEARTED AND FORBEARING
MESSENGER OF ALLAH (SWT)
AND KEEPER OF PROMISE**

We inspire you as We inspired Noah and the prophets after him, as We inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as We imparted to David the Psalms; (4:163)

And Ishmael and Elisha and Jonah and Lot. Each one of them we preferred over (every body else in) the Universe... (6:86)

And make mention in the Scripture of Ishmael. He was a keeper of his promise, and he was a messenger (of Allah) a Prophet. (19:54)

He enjoined upon his people Prayer and almsgiving, and was acceptable in the sight of his Lord. (19:55)

كان اسمعيل عليه السلام رسولا نبيا
صادق الوعد مقبولا

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِلَى إِسْمَاعِيلَ
وَإِلَى إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَإِلَى عِيسَى وَيُوسُفَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَشُعَيْبًا وَمُوسَى
وَآدَمَ كُلًّا فَاصْبِرْ إِنَّ صَبْرَكَ مَبْرُورٌ
(النساء ١٦٣)

وَأَسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ
(الانعام ٨٦)

وَإِذْ كَرَّمْنَا الْقَتِيلَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا
(مریم ٥٤)

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا
(مریم ٥٥)

نرم دل اور بردبار مقبول رسول
اور وعدہ ایفانہ

م نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح
وح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور
ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب
اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف
بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور بھی
عنایت کی تھی (163:4)

اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی۔ اور ان سب کو
جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی (86:6)

اور کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کر وہ وعدے کے
سچے اور (ہمارے) بھیجے ہوئے رسول اور نبی تھے
(54:19)

اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے
اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور مقبول تھے
(55:19)

More Reference :

2:125,133,136,140	3:84
Page 287,92,97,971	94
4:163 6:86 14:39 19:58 21:85 38:48	
246 246 420 640 916 1065	

واللہ اعلم

٢ البقرة: ١٤٠، ١٣٦، ١٣٣، ١٢٥	
٣ آل عمران: ٨٤، ٤ النساء: ١٦٣، ٦ الانعام: ٨٦	
١٤ ابراہیم: ٢٩، ١٩ مریم: ٥٨، ٢١ الانبیاء: ٨٥، ٣٨ ص: ٤٨	

مزید حوالہ

163:4 84:3 140,136,133,125,2	
94 246 971, 97, 92, 287	
48:38 85:21 58:19 39:14 86:6	
1065 916 640 420 246	

**ISMAIL (PBUH) WAS
NEITHER A JEW NOR A CHRISTIAN**

Or say you that Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and their descendants were Jews or Christians? Say: Do you know best, or does Allah? And who is more wicked than he who hides a testimony, which he has received from Allah? Allah is not unaware of what you do. (2:140)

لم یکن اسماعیل علیہ السلام
یہودی یا نصرانی

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
يَهُودًا أَوْ نَصْرًا قُلْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ اللَّهِ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ
مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
(٢ البقرة ١٤٠)

اسماعیل علیہ السلام
نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی

(اے یہود و نصاریٰ) کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ
ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد
یہودی یا عیسائی (نصرانی) تھے (اے محمد ان سے) کہہ
دیجئے کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر
ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس (کتاب میں
موجود) ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ
اس سے غافل نہیں (140:2)

**PRAYER OF ABRAHAM (PBUH)
FOR ENDOWING ISMAIL (PBUH)**

My Lord! Grant me a righteous (son). (37:100)

دعاء ابراہیم علیہ السلام
لولادۃ اسماعیل علیہ السلام

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
(٣٧ الصافات ١٠٠)

سپیدائش اسماعیل علیہ السلام

اے پروردگار مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما (جو سعادت
مندوں میں سے ہو) (100:37)

**GREW UP IN BARREN VALLEY OF MAKKAH
WITH HIS MOTHER (HAJRA) (PBUH)**

For Detail Consult : 14:37 Page 955

اسماعیل علیہ السلام
بواد غیر ذی زرع مع والدتہ

واللتفصیل راجع ١٤ ابراہیم: ٢٧، الصافات: ٩٥٥

انہی والدہ (حاجرہ علیہا السلام)
کے ہمراہ مکہ کی بجزراوی میں پروان چڑھنا

اسماعیل کے لئے دیکھئے 37:14 صفحہ 955

TRIAL OF ISMAIL (PBUH)

ابتلاء اسماعیل علیہ السلام

اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش

A MODEL OF CHEERFUL SELF SURRENDER TO THE WILL OF ALLAH (SWT) AND PROMPT OBEDIENCE OF THE PARENTS

کان اسماعیل المثل الأعلى فی امتثال لأوامر الله وفي أطاعة الوالدين

احکام الہیہ کی بجا آوری اور اطاعت والدین کی عظیم مثال

And when (his son) Ishmael was old enough to walk with him, (Abraham) said: O my dear son, I have seen in a dream that I offer you in sacrifice. So look, what is your view? He said: O my father! Do that which you are commanded, if Allah so wills. You shall find me of the steadfast. (37:102)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفْحَةُ ١٠٢

جب وہ (بچہ اسماعیل) ان کے ساتھ (چلنے پھرنے) دوڑنے (کی عمر) کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ (گویا) تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے اسے بجالائیے اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے (102:37)

Reference : 21:85 Page 916

وللمزيد راجع ٢١ الأنبياء: ٨٥: الصفحة ٩١٦

مزيد هواله 85:21 صفحه 916

ISMAIL (PBUH) (ZABIH ULLAH) CHOSEN SACRIFICE OF ALLAH (SWT)

اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ

اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ

when they had both surrendered to Allah, and he had thrown him (Ishmael) down upon his face, (37:103)

فَلَمَّا اسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفْحَةُ ١٠٣

غرض جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا (103:37)

We called to him: O Abraham: (37:104)

وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفْحَةُ ١٠٤

تو ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم (104:37)

You have already fulfilled the vision. Thus We do reward the good. (37:105)

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفْحَةُ ١٠٥

یقیناً تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (105:37)

That no doubt was a clear test. (37:106)

إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفْحَةُ ١٠٦

درحقیقت یہ کھلی آزمائش تھی (106:37)

SACRIFICE WAS REDEEMED BY SUBSTITUTION OF A RAM (IN PLACE OF ISMAEL) (PBUH) UNDER ALLAH (SWT) 'S COMMAND

تقبل الله تعالى ذبح اسماعيل عليه السلام بفضله وفداءه بذبح كبش بدلا منه

اللہ تعالیٰ کا اپنے فضل سے قربانی کے عمل کو قبول کر لینا اور اسماعیل کے بدلے ایک دنبہ بطور فدیہ عطا کرنا

When We ransomed him with a momentous sacrifice (37:107)

وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفْحَةُ ١٠٧

اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دیا (107:37)

RAISING OF FOUNDATIONS OF SACRED HOUSE KA'BAH WITH HIS FATHER ABRAHAM (PBUH)

المشاركة في بناء الكعبة بأبيه إبراهيم عليه السلام

تعمیر کعبہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ

Detail Consult : 2:127,128,129 Page 624, 92, 163

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩: الصفحة ١٦٣، ٩٢، ٦٢٤

تفصيل کے لئے دیکھئے 2:127,128,129 صفحه 624, 92, 163

SANCTIFYING KA'BAH SERVICE OF SACRED HOUSE

اسمعیل علیہ السلام وخدمة بيت الله

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھنا (خدمت بیت اللہ)

Detail Consult : 2:125 Page 287

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٢٥: الصفحة ٢٨٧

تفصيل کے لئے دیکھئے 2:125 صفحه 287

ISHAQ (PBUH) (ISAAC)

اسحق علیہ السلام

حضرت اسحاق علیہ السلام

**ONE OF THE RIGHTEOUS PROPHETS
ENDOWED WITH KNOWLEDGE
AND WISDOM**

We inspire you as We inspired Noah and the prophets after him, as We inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as We imparted to David the Psalms; (4:163)

And We bestowed upon (Abraham) him Isaac, and Jacob as a grandson. Each of them We made righteous. (21:72)

And We made them leaders (imams) who guided (others) by Our command, and We inspired in them the doing of good deeds and to be constant in prayers and dispense charity and they were worshippers of Us (alone). (21:73)

More Reference : 2:133,136 3:84 4:163
Page 92,97 161 246
12:6,38 19:49 29:27 37:112 38:45
977,984 944 960 958 975

**ISAAC (PBUH) WAS
NEITHER A JEW NOR A CHRISTIAN**

Do you claim that Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and their descendants were Jews or Christians? Say: Do you know more than Allah? And who is more wicked than he who suppresses a testimony, which he has received from Allah? Allah is not unmindful of what you do. (2:140)

**ISAAC'S (PBUH) BIRTH FORETOLD
TO HIS FATHER (ABRAHAM) (PBUH)
AND HIS MOTHER (SARAH) (PBUH)**

And We bestowed on (Abraham) him Isaac and (to Isaac) Jacob, and We established the Prophethood and the Scripture among his descendants, and We gave him his reward in the world, and in the Hereafter he is among the righteous. (29:27)

رسول صالح

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالدَّكَّانِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَى وَيُوسُفَ وَيُوحَنَّا وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٤﴾

﴿٤ النساء ١٦٣﴾

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا
جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

﴿٢١ الانبياء ٧٢﴾

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُونَ يَا مَرْيَمُ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ
فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿٧٣﴾

﴿٢١ الانبياء ٧٣﴾

والصالحين راجع ٢ البقرة: ١٣٣ ٣ آل عمران: ٨٤
٤ النساء: ١٦٣ ١٢ يوسف: ٢٨٠ ١٩ مريم: ٤٩
٢٩ العنكبوت: ٢٧ ٣٨ ص: ٤٥ ٣٧ الصافات: ١١٢

لم يكن اسحق عليه السلام
يهوديا او نصرانيا

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا يَهُودًا
أَوْ نَصْرَى قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُهُمْ اللَّهُ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ
مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

﴿٢ البقرة ١٤٠﴾

التبشير بولادة اسحق عليه السلام
لأبيه ابراهيم عليه السلام
ولأمه سارة عليها السلام

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا
فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ
أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

﴿٢٩ العنكبوت ٢٧﴾

ایک صالح صاحب علم اور دانشمند پیغمبر

ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح
اسحاق اور ان سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور
ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب
اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف
بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور بھی
منایت کی تھی (163:4)

ورہم نے (ابراہیم) کو اسحق عطا کئے اور اسکے علاوہ (اسحاق
کو) یعقوب اور سب کو نیک (صالح) بنایا (72:21)

اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے
اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ
دینے کا حکم بھیجا اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے
تھے (73:21)

مزید حوالہ 2:133,136 3:84 4:163
صفحہ 92,97 161 246
45:38 112:37 27:29 49:19 38,6:12
975 958 960 944 977,984

اسحق علیہ السلام
نہ یہودی تھے نہ عیسائی

(اے یہود و نصاریٰ) کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ
ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد
یہودی یا عیسائی (نصاری) تھے (اے محمد ان سے) کہہ
دیجئے کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر
ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس (کتاب میں
موجود) ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ
اس سے غافل نہیں (140:2)

پیدائش اسحق علیہ السلام کی ان کے والد
(ابراہیم علیہ السلام) اور والدہ (سارہ علیہا السلام) کو بشارت

اور ہم نے ان کو (ابراہیم کو) اسحق اور (اسحاق کو) یعقوب
بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب (مقرر) کردی
اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور آخرت میں
بھی نیک صالح لوگوں میں ہوں گے (27:29)

And We gave him glad tidings of Isaac, a Prophet one of the righteous. (37:112)

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾
﴿٣٧ الصفت ١١٢﴾

اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی (کہ وہ) نبی (اور) نیک لوگوں میں سے (صالحین) ہوں گے (112:37)

And We blessed him and Isaac. And of their progeny are some who do right, and some who obviously do wrong to themselves. (37:113)

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مَحْسِنٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُسِيءٌ ﴿١١٣﴾
﴿٣٧ الصفت ١١٣﴾

اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے بعض تو نیک نخت بھی ہیں اور اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والے (یعنی گنہگار) بھی ہیں (113:37)

Reference: 11:71 15:53 to 56
Page 658, 957

والمعزى راجع ١١ هود: ٧١ ١٥ الحجر: ٥٣ الى ٥٦
الصفحة ٦٥٨، ٩٥٧

56 تا 53:15 71:11
957, 658

ISAAC (PBUH) A SON OF AGED PARENTS (ABRAHAM AND SARAH) (PBUH)

کان اسحاق ذریعہ ابویہ
فی الشیخوخة

اسپین والدین (حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہا السلام) کی بڑھاپے کی اولاد

SARAH (PBUH) A BARREN OLD WIFE OF ABRAHAM (PBUH) CAME FORWARD CLAMOURING AT THE NEWS OF HAVING CHILD SEEMED TO HER TOO GOOD TO BE TRUE

استعجاب سارہ علیہا السلام علی تبشیر
الملائکة بالولادة حينما
كانت عجوزا عقيما

بڑھاپے کی (نا قابل تولد) عمر میں حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہا السلام کا اظہار حیرت اور تعجب

Our messengers came to Abraham with good news. They said "peace!"; he said "peace"! And immediately set about bringing in a roasted Calf. (11:69)

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِينٍ ﴿٦٩﴾
﴿١١ هود ٦٩﴾

اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر پہنچے اور سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچھڑا لے آئے (69:11)

And his wife, standing by, laughed when We gave her good tidings (of the birth) of Isaac, and, after Isaac, of Jacob. (11:71)

وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ﴿٧١﴾
﴿١١ هود ٧١﴾

اور ابراہیم کی بیوی (جو پاس) کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی (71:11)

He said: Oh, Alas for me! Shall I bear a child when I am an old woman, and this my husband is an old man? This is a strange thing! (11:72)

قَالَتْ يَوَيْلَ لِيَءِ آئِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾
﴿١١ هود ٧٢﴾

وہ بولی ہائے میری کم نخش کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی۔ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے خاوند بھی بوڑھے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے (72:11)

They said: Wonder you at the commandment of Allah? The mercy of Allah and His blessings be upon you. O people of the house! He is the Owner of Praise, Owner of Glory! (11:73)

قَالُوا أَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾
﴿١١ هود ٧٣﴾

انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت (اس گھر کے لوگو) تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں وہ تعریف کے لائق اور بزرگ وار ہے (73:11)

When his wife came forward, clamouring, and smote her forehead, and cried: A barren old woman! (51:29)

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَخَةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾
﴿٥١ الذریت ٢٩﴾

تو ابراہیم کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں اپنا ماتھا پیٹ کر کہنے لگیں کہ (اے ہے ایک تو) میں بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ (29:51)

They said: Even so has your Lord spoken. He is the Wise, the Knower. (30:30)

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾
﴿٥١ الذریت ٣٠﴾

انہوں نے کہا (ہاں) تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت (اور) خبردار ہے (30:51)

YAQUB (PBUH) (JACOB) Israel

يعقوب (عليه السلام) إسرائيل

حضرت یعقوب علیہ السلام (اسرائیل)

POSSESSOR OF POWER AND VISION

كان رسولا قويا ذابصيرة

بڑے قوی اور صاحب بصیرت پیغمبر

We inspire you as We inspired Noah and the prophets after him, as We inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as We imparted to David the Psalms; (4:163)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَى وَيُوسُفَ وَيُوحَنَّا وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾
﴿٤ النساء ١٦٣﴾

ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی (163:4)

And We bestowed upon (Abraham) him Isaac, and Jacob as a grandson. Each of them We made righteous. (21:72)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا
جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾
﴿٢١ الانبياء ٧٢﴾

اور ہم نے (ابراہیم) کو اسحاق اور اس کے علاوہ (اسحاق) کو یعقوب عطا کیے اور سب کو نیک کیا (72:21)

And commemorate Our bondmen, Abraham, Isaac and Jacob, possessors of power and vision. (38:45)

وَادْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي
الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾
﴿٣٨ ص ٤٥﴾

اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو قوت عمل رکھنے والے اور آنکھوں والے (صاحب نظر) تھے (45:38)

We chose them for a special purpose, the remembrance of the life to come. (38:46)

إِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِمَخْلَصٍ ذِكْرِي الدَّارِ ﴿٤٦﴾
﴿٣٨ ص ٤٦﴾

ہم نے ان کو ایک خاص (صفت) کی بنا پر برگزیدہ (ممتاز) کیا تھا کہ وہ یاد آخرت کی ہے (46:38)

In Our sight they are of the elect, the excellent. (38:47)

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخِيَارِ ﴿٤٧﴾
﴿٣٨ ص ٤٧﴾

اور ہمارے نزدیک ان کا شمار منتخب اور نیک لوگوں میں سے ہے (47:38)

More Reference : 2:132,133,136,140 3:84
Page 90,92,97,971 94
6:84 12:86 19:58 29:27
986 992 640 960

والمزید راجع ٢ البقرة: ١٣٢، ١٣٣، ١٣٦، ١٤٠
٣ آل عمران: ٨٤، ٦ الأنعام: ٨٤، ١٢ يوسف: ٨٦،
١٩ مريم: ٥٨، ٢٩ العنكبوت: ٢٧

مزید حوالہ 2: 132, 133, 136, 140 3: 84
صفحہ 90, 92, 97, 971 94
27: 29 58: 19 86: 12 84: 6
960 640 992 996

BIRTH OF JACOB (PBUH) FORETOLD

التبشير بولادة يعقوب عليه السلام

يعقوب عليه السلام کی پیدائش کی بشارت

And his (Abraham's) wife, standing by, laughed when We gave her good tidings (of the birth) of Isaac, and, after Isaac, (of his son) Jacob. (11:71)

وَأَمْرَاتِهِ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ
وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾
﴿١١ هود ٧١﴾

اور اس (ابراہیم) کی بیوی جو پاس کھڑی تھی وہ یہ سن کر ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی (71:11)

JACOB (PBUH) WAS NEITHER A JEW NOR A CHRISTIAN

لم يكن يعقوب عليه السلام يهوديا أو نصرانيا

يعقوب عليه السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی

Or say you that Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and their descendants were Jews or Christians? Say: Do you know best, or does Allah? And who is more wicked than he who suppresses a testimony, which he has received from Allah? Allah is not unmindful of what you do. (2:140)

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا
أَوْ نَصْرًا قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ
مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾
﴿٢ البقرة ١٤٠﴾

(اے یہود و نصاریٰ) کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی (نصرانی) تھے (اے محمد ان سے) کہہ دیجئے کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس (کتاب میں موجود) ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں (140:2)

TWELVE SONS OF JACOB (PBUH)

For Detail Consult : 12:4 Page 978

اثنا عشر ابنا ليعقوب عليه السلام

وللتفصيل راجع ۱۲ يوسف: ۴ الصفحة ۹۷۸

يعقوب عليه السلام کے بارہ بیٹے

تفصیل کے لئے دیکھئے 4:12 صفحہ 978

ADVICE OF JACOB (PBUH) TO HIS SON JOSEPH (PBUH)

For Detail Consult : 12:5 Page 978

عظة يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام

وللتفصيل راجع ۱۲ يوسف: ۵ الصفحة ۹۷۸

حضرت يعقوب عليه السلام کی يوسف عليه السلام کو نصیحت

تفصیل کے لئے دیکھئے 5:12 صفحہ 978

GRIEF OF JACOB (PBUH) OVER SEPARATION OF JOSEPH (PBUH) A PATERNAL AFFECTION

For Detail Consult : 12:84,87 Page 992

حزن يعقوب علي فرقة يوسف للشفقة الأبوية

وللتفصيل راجع ۱۲ يوسف: ۸۷،۸۴ الصفحة ۹۹۲

حضرت يعقوب کو يوسف کی جدائی کا غم شفقت پدری کی مثال

تفصیل کے لئے دیکھئے 87,84:12 صفحہ 992

MIGRATION TO EGYPT ON SPONSORING OF HIS SON JOSEPH (PBUH)

For Detail Consult : 12:94,95,96 Page 993,994

رحلته إلى مصر على دعوة من عند يوسف عليه السلام

وللتفصيل راجع ۱۲ يوسف: ۹۶،۹۵،۹۴ الصفحة ۹۹۴،۹۹۳

اپنے بیٹے يوسف عليه السلام کے بلاؤے پر مصر کو ہجرت

تفصیل کے لئے دیکھئے 96,95,94:12 صفحہ 994,993

CEREMONIAL RECEPTION IN EGYPT AND REUNION WITH HIS SON JOSEPH (PBUH)

For Detail Consult : 12:99,100 Page 994

قدومه بمصر و لقاء يوسف عليه السلام

وللتفصيل راجع ۱۲ يوسف: ۱۰۰،۹۹ الصفحة ۹۹۴

مصر میں مثالی استقبال اور يوسف عليه السلام سے ملاقات

تفصیل کے لئے دیکھئے 100,99:12 صفحہ 994

PREACHER OF ABSOLUTE CONFIDENCE IN ALLAH (SWT)

For Detail Consult : 12:67 Page 989

التوكل على الله

وللتفصيل راجع ۱۲ يوسف: ۶۷ الصفحة ۹۸۹

توکل علی اللہ کے داعی

تفصیل کے لئے دیکھئے 67:12 صفحہ 989

A MODEL OF PATIENCE AND CONTENTMENT

For Detail Consult : 12:18,83 Page 980, 992

كان صبورا شكورا

وللتفصيل راجع ۱۲ يوسف: ۸۳،۱۸ الصفحة ۹۹۲، ۹۸۰

صبر و شکر کا نمونہ

تفصیل کے لئے دیکھئے 83,18:12 صفحہ 980, 992

ISRAEL-THE NAME FOR JACOB (PBUH)

For Detail Consult : 3:93 19:58 Page 594,640

إسرائيل (يعقوب عليه السلام)

وللتفصيل راجع ۳ آل عمران: ۹۳ ۱۹ مریم: ۵۸

اسرائیل۔ (حضرت يعقوب عليه السلام کا نام)

تفصیل کیلئے دیکھئے 58:19 93:3 صفحہ 594,640

ADVICE OF JACOB (PBUH) TO HIS SONS AT HIS DEATH BED

Or were you witness when death appeared before Jacob, when he said to his sons: What will you worship after me? They said: We shall worship your God, the God of our fathers, Abraham and Ishmael and Isaac, One (Unique and True) Allah, and to Him we do submit and become Muslims). (2:133)

وصية يعقوب عليه السلام لبنيه عند الاحتضار

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾

وفات کے وقت يعقوب عليه السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت

بھلا جس وقت يعقوب وفات پانے لگے تو آپ اس وقت موجود تھے۔ جب انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں (133:2)

YUSUF (JOSEPH)

یوسف (12:1-13)

حضرت یوسف علیہ السلام

ENDOWED BY ALLAH(SWT) WITH KNOWLEDGE OF INTERPRETATION

Thus your Lord will choose you and will teach you the interpretation of events, (stories and dreams) and will perfect His Grace upon you and upon the family of Jacob as He perfected it upon your forefathers, Abraham and Isaac. Your Lord is full of Knowledge and Wisdom. (12:6)

MOST BEAUTIFUL OF THE STORIES WITH A MESSAGE FOR ALL WHO SEARCH AND A LESSON FOR PRUDENT PERSONS

We narrate to you (Muhammad) the best of narratives in that We have inspired in you this Quran, before this you were among those who knew it not. (12:3)

Surely in Joseph and his brethren are signs (of Allah's Sovereignty) for the seekers (of truth). (12:7)

In their story there is a lesson for men of understanding. It is not an invented story but a confirmation of what went before it and a detailed exposition of everything, and a guidance and a mercy for folk who believe. (12:111)

STORY OF JOSEPH (PROPHET) IS NEWS FROM UNSEEN REVEALED TO MUHAMMAD (SAAS) BY INSPIRATION - WHICH AUTHENTICATES THE HOLY QURAN AS A DIVINE WRIT

This is one of the stories of the Unseen, which We inspire in you (Muhammad). You were not present with them when they concocted their plan together and in the process of weaving their plot. (12:102)

Yet, however strongly you may desire it, most people will not believe (in this revelation). (12:103)

علم تاویل الأحادیث و تعبیر الروایا من عند الله

وَكُنَّا لَكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا اتَّهَمْنَا عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٢﴾ يوسف ٦

قصه یوسف احسن القصص وفيها آیات لمن يتفحص و درس لأولى الألباب

مَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾ يوسف ٣

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾ يوسف ٧

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾ يوسف ١١١

قصه یوسف من انباء الغیب يدل علی کون القرآن کلام الله

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾ يوسف ١٠٢

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ يوسف ١٠٣

الله تعالیٰ نے خوابوں اور واقعات کی تعبیر کا علم عطا فرمایا

اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ (وممتاز) کرے گا اور تمہیں خواب کی معاملہ فہمی یا تعبیر کا علم سکھائے گا۔ اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا بے شک تمہارا پروردگار بہت بڑے علم والا (اور) زبردست حکمت والا ہے۔ (6:12)

ایک بہترین قصہ۔ ڈھونڈنے والوں کے لئے نشانیاں اور عقل مندوں کے لئے سبق

(اے پیغمبر) ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کو ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں۔ اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر تھے (3:12)

یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں (کے قصے) میں دریافت کرنے والوں کیلئے (بہت سی) نشانیاں ہیں۔ (7:12)

ان کے قصے میں عقل مندوں کے لئے نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ (قرآن) ایسی بات نہیں ہے جو (اپنے دل سے) بنائی گئی ہو بلکہ جو (کتابیں) اس سے پہلے (نازل ہوئی) ہیں ان کی تصدیق (کرنے والا) ہے اور ہر چیز کی تفصیل (بیان کرنے والا) اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے (111:12)

قصہ یوسف۔ غیب کی خبروں میں سے ہے جو قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا ثبوت ہے

یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اور جب برادران یوسف نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی اور وہ فریب کر رہے تھے تو آپ ان کے پاس تو نہ تھے (102:12)

اور آپ (کتنی ہی) خواہش کریں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں (103:12)

JOSEPH (PBUH) HAD A VISION AND INFORMED HIS FATHER

When Joseph said to his father: O my father! I saw in a dream eleven Stars and the Sun and the Moon, I saw them prostrating themselves to me. (12:4)

ذکر یوسف علیہ السلام
رؤیاء عند ابيه

اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ
عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي
سَاجِدِينَ ﴿٤﴾
﴿١٢ يوسف ٤﴾

یوسف علیہ السلام کو خواب کا
نظر آنا اور اپنے والد سے اس کا تذکرہ کرنا

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے
(خواب میں) گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا
ہے۔ دیکھتا (کیا) ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں
(4:12)

FATHER WARNED JOSEPH (PBUH) NOT TO TELL HIS VISION TO HIS HALF BROTHERS

He (the father) said: O my dear son! Tell not your brothers of your vision, lest they concoct a plot against you. Because Satan is an open foe for mankind. (12:5)

نہی الوالد عن قصه على الإخوة

قَالَ يَبْنَیُّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿٥﴾
﴿١٢ يوسف ٥﴾

والد کا یوسف علیہ السلام کو خواب کا
اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنے کی ہدایت

(جو اب میں) انہوں نے کہا کہ بیٹا! اپنے خواب کا ذکر
اپنے بھائیوں سے نہ سنانا ورنہ تو وہ تمہارے خلاف میں
کوئی فریب کی چال چلیں گے کچھ شک نہیں کہ شیطان
انسان کا کھلا دشمن ہے (5:12)

JEALOUSY OF HALF BROTHERS AND THEIR PLOT AGAINST JOSEPH (PBUH)

When they said: In fact Joseph and his brother (Benjamin) are dearer to our father. Even though we are, so many. Surely our father is suffering from an aberration. (12:8)

کید إخوته بنی علات
ضده حسدا منهم

اِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى آبَائِنَا
مِمَّا كُنَّا وَمِنْ عَصِيانِهِ إِنَّ آبَاءَنَا لَغَيْرِ سَبِيلٍ ﴿٨﴾
﴿١٢ يوسف ٨﴾

سوتیلے بھائیوں کا حسد اور
یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش

جب انہوں نے (آپس میں) تذکرہ کیا کہ یوسف اور
اس کا بھائی (بنیامین) ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے
ہیں حالانکہ ہم ایک طاقت ور جماعت ہیں۔ سچی بات یہ
ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں (8:12)

(One of them said): Slay Joseph or cast him to some (far away) land, so that your father's favour may be all for you, and (that) you may afterward (you may be free to repent and) become righteous folk. (12:9)

اِقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ
أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾
﴿١٢ يوسف ٩﴾

ایک بولا یوسف کو (یا تو جان سے) مار ڈالو یا کسی دور جگہ
پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری
طرف ہو جائے اور یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن
رہنا۔ (9:12)

THEY DECIDED TO THROW DOWN JOSEPH (PBUH) INTO AN ABANDONED DEEP WELL

One among them said: Kill not Joseph but, rather if you must be doing, plunge him into the dark depth of the well; wherefrom some caravan will pick him up. (12:10)

رمی إخوة يوسف به في بئر

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي
غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارِ قَرَّانٍ كُنْتُمْ
فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾
﴿١٢ يوسف ١٠﴾

برادران کا یوسف علیہ السلام کو غیر آباد گہرے
کنویں میں پھینک دینے کا فیصلہ

اس پر ان میں سے ایک بولا کہ یوسف کو جان سے نہ
مارو۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنوئیں میں
ڈال دو کہ کوئی راہ گیر (آتا جاتا قافلہ) نکال (کر اور ملک
میں) لے جائے گا (10:12)

TO TAKE JOSEPH (PBUH) AWAY THEY DEMONSTRATED FEIGN BROTHERLY AFFECTION

On this they agreed and there upon they said: O our father! Why do you not trust us with Joseph, when we are indeed his well-wishers? (12:11)

احتج إخوة يوسف لعاطفة
الحب الاخوي الزائفة للذهاب به

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْتِنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا
لَكَ لَنَاصِحُونَ ﴿١١﴾
﴿١٢ يوسف ١١﴾

یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے جانے
کے لئے سوتیلے بھائیوں کا جھوٹا اظہار محبت

(یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے) کہنے لگے کہ ابا جان کیا
سبب ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ
نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں
(11:12)

Let him go out with us tomorrow that he may enjoy himself and play. And we shall take good care of him. (12:12)

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِيظُونَ ﴿١٢﴾
﴿١٢﴾ يوسف ١٢

کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کو دے ہم اس کے نگہبان ہیں (12:12)

JACOB (PBUH) HAD STRONG MISGIVINGS, BUT THE BROTHERS OF JOSEPH (PBUH) BLUFFED THEIR FATHER BY FALSE GUARANTEE OF HIS CARE

حزن یعقوب علیہ السلام
بشأن يوسف علیہ السلام
واقناع إخوة يوسف الكذب

یعقوب علیہ السلام کا شک اور فکر مندی برادران یوسف کی جھوٹی تسلی

He (Jacob) said: In truth it saddens me that you should take him with you, and I fear lest the wolf devours him while you are heedless of him. (12:13)

قَالَ إِنِّي لَيَحْزَنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ﴿١٣﴾
﴿١٣﴾ يوسف ١٣

والد نے کہا کہ یہ امر مجھے غم زدہ کئے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ (یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے) اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم (کھیل میں) اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے (13:12)

They said: If the wolf were to devour him when we are (so strong) being a party, then surely we should be the losers. (12:14)

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخٰسِرُونَ ﴿١٤﴾
﴿١٤﴾ يوسف ١٤

وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے ہی نکلے ہوئے (14:12)

JOSEPH (PBUH) WAS SOLACED THROUGH INSPIRATION

طيب الله تعالى
خاطر يوسف علیہ السلام بوحی من عنده

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ تسلی

So they did take him away, and were of one mind that they should cast him in the dark depths of the well, We inspired in him: You will remind them of this deed of theirs when they know not. (12:15)

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾
﴿١٥﴾ يوسف ١٥

اس طرح اصرار کر کے جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ (ایک وقت ایسا آئے گا کہ) تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتاؤ گے اور ان کو (اس وحی کی) کچھ خبر نہ ہوگی (15:12)

PLOTTER BROTHERS OF JOSEPH (PBUH) CAME TO THEIR FATHER WEeping WITH FALSE TALE OF JOSEPH (PBUH) DEVoured BY WILD WOLF

جاء إخوة يوسف علیہ السلام
الذساسون أباهم يبكون
بقصة كاذبة أن أكله الذئب

سازشی برادران کا یوسف علیہ السلام کو جنگلی بھیڑیے کے کھا جانے کی جھوٹی کہانی کے ساتھ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آنا

And they came weeping to their father in the evening. (12:16)

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾
﴿١٦﴾ يوسف ١٦

(یہ حرکت کر کے) وہ رات کے وقت والد کے پاس روتے ہوئے آئے (16:12)

Saying: O our father! We went off racing one with another, and left Joseph by our things, and the wolf devoured him, but (we know) you will never believe us even though we speak the truth. (12:17)

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِينَ ﴿١٧﴾
﴿١٧﴾ يوسف ١٧

(اور) کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے تو اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا۔ اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں (17:12)

JACOB (PBUH) THOUGH NOT SATISFIED WITH THEIR FOUL EXPLANATIONS HELD HIS HEART IN PATIENCE AND IMPLORED ALLAH'S (SWT) ASSISTANCE

And they came with false blood on his shirt. He said: No, but your minds have concocted a tale. (For me) Patience is most fitting, against that which you assert. And only Allah is the alone Whose help can be sought. (12:18)

لم یقتنع یعقوب علیہ السلام من کلام اخوة یوسف ولكن صبر صبر اجمیلاً مستعیناً باللہ تعالیٰ

وَجَاءُوا عَلَى قَبِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً أَفَصَبِرُ جَمِیلاً وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٢﴾ یوسف ۱۸ ﴿﴾

یعقوب علیہ السلام کا برادران یوسف کی بات پر عدم اطمینان کے باوجود صبر جمیل اختیار کر لینا اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنا

اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگائے تھے یعقوب نے کہا (حقیقت میں یوں نہیں ہے) بلکہ تم اپنے دل سے (یہ) بات بنا لائے ہو اچھا میں صبر کروں گا کہ میرے لئے وہی بہتر ہے اور جو بات تم بنا رہے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے (18:12)

APPROACHING OF A CARAVAN TO THE WELL IN QUEST OF WATER AND SURVIVAL OF JOSEPH (PBUH)

And there came a caravan of travellers, and they sent their water-drawer. He let down his pail (into the well). He said: Good luck! Here is a (fine) young boy. And they hid him as a treasure (with a view of selling him), and Allah was Aware of what they did. (12:19)

ورود قافلة علی بئر کنعان فی طلب الماء وإخراجهم یوسف علیہ السلام صحیحاً سالماً

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً قَالَ يَبْشَىٰ هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ یوسف ۱۹ ﴿﴾

مافی کی تلاش میں ایک تجارتی قافلہ کا چاہ کنعان پر آنا اور یوسف علیہ السلام کو کنواں سے زندہ سلامت نکال لینا

(اب اللہ کی شان دیکھئے کہ اس کنوئیں کے قریب) ایک قافلہ پہنچا اور انہوں نے (پانی کے لئے) اپنا سقہ بھیجا اس نے جب کنوئیں میں ڈول لٹکایا (یوسف اس سے لٹک گئے) وہ یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا (مبارک ہو) یہاں تو ایک (نہایت حسین) لڑکا ہے اور ان لوگوں نے اس کو قیمتی سرمایہ (مال تجارت) سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا (19:12)

JOSEPH (PBUH) SOLD IN THE OPULENT SLAVE MARKET FOR A MISERABLE PRICE

And they sold him for a paltry price, mere few silver coins; and that low bid they value him. (12:20)

شراء یوسف بسوق الرقیق بثمان بنخس

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾ یوسف ۲۰ ﴿﴾

یوسف علیہ السلام کا غلاموں کی منڈی میں معمولی داموں فروخت کر دیا جانا

اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت (یعنی) گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس (یوسف) کے بارے میں کچھ زیادہ ہی بے رغبت تھے (20:12)

JOSEPH (PBUH) WAS TAKEN BY THE MERCHANT INTO EGYPT AND WAS BOUGHT BY A GREAT EGYPTIAN COURT DIGNITARY (AZIZ)

بيع یوسف مرة أخرى فاشتراه عزیز مصر

یوسف علیہ السلام کا بازار مصر میں دوبارہ فروخت ہونا اور عزیز مصر کا خرید کر اسے اپنا لینا

JOSEPH (PBUH) WAS ADOPTED BY "AZIZ" (HIGHEST IN COURT CIRCLES) ATTAINED YOUTH THERE AND WAS BESTOWED WITH WISDOM AND KNOWLEDGE BY ALLAH (SWT)

نشأة یوسف وترعرعه فی بیت عزیز مصر وإعطاءه العلم والحكمة من عند الله

یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے گھر میں پروان چڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاء دانش و علم

And the man from Egypt who purchased him said to his wife:

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خرید اس نے اپنی بیوی سے (جس کا نام زلیخا تھا) کہا کہ اس کو عزت و اکرام (اچھی طرح)

Receive him honourably. Perchance (may be) he may prove useful to us or we may adopt him as a son. Thus We established Joseph in the land that We might teach him the interpretation of events. And Allah is ever predominant in His affairs, but most of mankind know not. (12:21)

And when he reached his prime We gave him wisdom and knowledge. Thus We reward the good doers. (12:22)

TRIAL OF JOSEPH (PBUH) BY ALLAH (SWT)

RUSE OF COURTIER'S WIFE TO ATTRACT JOSEPH (PBUH) TO THE DELIGHTS OF EARTHLY LOVE BUT FAILED TO SEDUCE HIM

And she, in whose house he was, sought to seduce him. She bolted the doors and said: Come you to me! He answered: I seek refuge in Allah! He is my lord, who has treated me honourably. Indeed wrongdoers never prosper. (12:23)

And (with passion) she desired him, and he would have desired her if it had not been that he saw the evidence of his Lord. Thus it was, that We might ward off from him all evil and indecent deeds. He was of Our chosen slaves. (12:24)

COURTIER'S WIFE BECAME FEROCIOUS AND FALSELY ALLEGED JOSEPH (PBUH) AND SUGGESTED FOR HIM TO BE EITHER CONSIGNED TO A DUNGEON OR AT LEAST SCOURGED

And they raced with one another to the door, and she tore his shirt from the back, and they met her lord at the door. She said: What shall be his punishment, for one who formed an evil design against your wife, but prison or a grievous chastisement. (12:25)

اَكْرِهِي مَثْوَاهُ عَلَيَّ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَاَوْلَادًا
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ
مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى
اَمْرِهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾
﴿١٢ يوسف ٢١﴾

وَلَمَّا بَلَغَ اَسْبَغَةَ اٰتَيْنَاهُ حِكْمًا وَّعِلْمًا وَاَوْكَلْنَاكَ
بِحُزْنِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾
﴿١٢ يوسف ٢٢﴾

ابتلاء يوسف عليه السلام من الله تعالى

مراودة امرأة العزيز عن نفسه

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ
وَعَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ
مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْ اَحْسَنُ مَثْوَاىِٕ اِنَّهُ لَا يَقْبَلُ
الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾
﴿١٢ يوسف ٢٣﴾

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ
رَبِّهٖ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ
اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٢٤﴾
﴿١٢ يوسف ٢٤﴾

اغتيال امرأة العزيز علي يوسف عليه السلام
واتهامها اياه واقتراحها
بسجنه او تعذيبه

وَاَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرِهٖ
اَلْفَيَّ سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاؤُ مَنْ
اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾
﴿١٢ يوسف ٢٥﴾

سے رکھو۔ عجب نہیں کہ یہ ہمارے لئے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین (مصر) میں قدم جمانے کی صورت نکال لی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم (خواب کی تعلیم کا علم) دینے کا انتظام کیا۔ اور اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (21:12)

اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی قوت فیصلہ اور علم بخشا اور نیک لوگوں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں (22:12)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یوسف علیہ السلام

عزیز مصر کی بیوی کا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے مکر و فریب اور ناکامی

تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور ایک روز دروازے بند کر کے کہنے لگی (یوسف) جلدی آؤ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے وہ میرا رب سے اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے (میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا) بے شک بے انصاف لوگ فلاح نہیں پاتے (23:12)

اور وہ عورت (زینجا) اُس (یوسف) کی طرف بڑھی (کا قصد کیا) اور اُس (یوسف) نے بھی اس کا قصد کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتا۔ یوں ہی ہوا اس لئے کہ ہم اس سے پرانی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بے شک وہ (یوسف) ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ (24:12)

عزیز مصر کی بیوی کا غضبناک ہو جانا
یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانا اور ان کے لئے
جیل میں بند کئے جانے یا دردناک سزا کا تجویز کرنا

اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے (آگے یوسف پیچھے زینجا) اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے (پکڑ کر جو کھینچا تو) پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس عورت کا شوہر دونوں کو بل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تمہارے بیوی کی ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا قید کیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے (25:12)

JOSEPH (PBUH)'S DEFENCE REPLY ACCEPTED AND EXONERATION FROM THE CHARGE OF ZULAIKHA (THE WIFE OF "AZIZ")

(Joseph) said: It was she who sought to make me yield myself to her (bad) wish. And a witness of her own folk suggested: If his shirt is torn from the front, then she speaks the truth and he is of the liars. (12:26)

And if his shirt (tunic) is torn from the back, then she has lied and he is of the truthful. (12:27)

So when he saw his shirt torn at the back, her husband said: this is a snare of you. No doubt the guile of you women. is very great and awesome. (12:28)

O Joseph! Turn away from this, and you, (O woman), ask forgiveness for your sin. You are truly at fault. (12:29)

براءة يوسف من التهمة

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ
مِّنْ أَهْلِهَا إِنَّ كَانَ قَبِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ
فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾
﴿١٢ يوسف ٢٦﴾

وَإِنْ كَانَ قَبِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّابَتْ وَهُوَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾
﴿١٢ يوسف ٢٧﴾

فَلَمَّا رَأَى قَبِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ
كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمًا ﴿٢٨﴾
﴿١٢ يوسف ٢٨﴾

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ
إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾
﴿١٢ يوسف ٢٩﴾

یوسف علیہ السلام کا بیان صفائی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے
زلیخا کے الزام (تہمت) سے برات (صفائی)

(یوسف نے) کہا اسی عورت نے مجھ کو اپنی طرف مائل
کرنا چاہا تھا۔ اس عورت کے قبیلے میں سے ایک شخص
نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو
یہ عورت سچی اور یوسف جھوٹا ہے (26:12)

اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ (زلیخا) جھوٹی اور وہ
سچا ہے (27:12)

جب (شوہر نے دیکھا) کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا
تھا (تب اس نے زلیخا سے کہا) کہ یہ تمہارا ہی فریب
ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے
(بھاری) ہوتے ہیں (28:12)

یوسف! اس بات سے درگزر کر۔ اور (زلیخا) تو اپنے گناہ
کی معافی مانگ۔ دراصل خطا تیری ہی ہے (29:12)

REPUTE OF WIFE OF AZIZ BEGAN TO BE PULLED TO PIECES AND ZULAIKHA'S AFFAIR BECAME TALK OF THE TOWN

And ladies in the city said: The wife of (great) Aziz is seeking to seduce her slave-boy. Indeed he has inspired her with violent love. We see her in plain aberration. (12:30)

سوء السمعة العزيز مصر وأقارب الناس في سيرة امرأة العزيز

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ
فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾
﴿١٢ يوسف ٣٠﴾

**عزیز مصر کی بدنامی اور شہر بھر میں
کردار زلیخا پرچہ میگوئیاں**

اور شہر میں عورتیں آپس میں گفتگو (چرچا) کرنے لگیں
کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف مائل کرنا
چاہتی ہے اور اس کی محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا
ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ کھلی گمراہی میں ہے
(30:12)

MRS GRUNDY'S SCHEME OF INVITING LADIES OF THE CITY TO A FASHIONABLE BANQUET, TO COUNTER THEIR MALICIOUS TALK

PARTICIPANT LADIES WERE ASTONISHED FROM THE AMAZING BEAUTY OF JOSEPH (PBUH) AND CUT THEIR FINGERS INSTEAD OF FRUITS

کید امرأة العزيز على نساء في المدينة

دهشة النساء عند رؤية
يوسف (عليه السلام) من حسنه وتقطيعهن
أيديهن بدلا من الفواكه

**شہر کی عورتوں کے الزامات کا جواب
دینے کے لئے زلیخا کی ایک شاندار دعوت کے
اہتمام کی چال**

جلوہ حسن یوسف علیہ السلام سے تمام عورتوں کا
بے ہوش و مدہوش ہو کر پھل کی بجائے
اپنی انگلیاں کاٹ لینا

For detail Consult next Page

وللتفصیل راجع الصفحة الاتية

تفصیل کے لیے دیکھئے اگلا صفحہ

**RENOWNED FOR HANDSOMENESS
AS WELL AS FOR SANCTIFIED SOUL**

And when she heard of their malicious talk, she sent to them and prepared a banquet for them (a cushioned couch) (to lie on at the feast) and gave to each of them a knife and said (to Joseph): Come out to them! And when they saw him they exalted him and (being greatly amazed at his handsomeness) cut their hands, exclaiming: Allah save us! This is not a human being. This is no other than some noble angel. (12:31)

**ZULAIKHA SNEERED AT JOSEPH (PBUH)'S
INNOCENCE AND OPENLY AVOWED HER PASSION
AND THREATENED JOSEPH (PBUH)
FOR IMPRISONMENT OR TORTURE IN CASE OF
NOT ACHIEVING HER SELFISH MOTIVES**

She said: This is he on whose account you blamed me. I did try to make him yield himself to me, but he remained chaste, but if he does not do what I bid him, he indeed shall most certainly be imprisoned, and shall be of those brought low. (12:32)

**JOSEPH (PBUH) TOOK ALLAH (SWT)'S REFUGE
AGAINST THE WILES OF WOMEN AND
PREFERRED PRISON THAN THE IMPORTUNITIES
OF ZULAIKHA OF JOINING VILE LIFE**

He said: O my Lord! Prison is more desirable to me than (compliance with) what these women invite me to, and if You fend not off their wiles from me I shall incline to their allure and become of the transgressors (ignorant). (12:33)

So his Lord responded his prayer and fended off their wiles from him. He is Hearer, Knower. (12:34)

**JOSEPH (PBUH)
WENT TO PRISON FOR A TIME**

And it seemed good to them (the men folk) after they had seen the signs (of his innocence) to imprison him for a time. (12:35)

كان يوسف شهيرا بجماله
الرجالي وبسيرة

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ
لَهُنَّ مَتَكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا
وَقَالَتْ أَخْرِجِي عَلَيَّ هُنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا
بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾
﴿١٢ يوسف ٣١﴾

تفند امراة العزيز عفة يوسف و مراودتها
عن نفسه جهارا مرة أخرى و وعيدها
بالعذاب او التسجين ان لم يطعها

قَالَتْ قَدْ لَبِئْسَ الَّذِي لُمْتُنِي فِيهِ وَ لَقَدْ
رَأَوْتُهَا عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ
يَفْعَلْ مَا أُمِرْتُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾
﴿١٢ يوسف ٣٢﴾

دعاء يوسف عليه السلام من ربه
لصرف كيد النساء
وايثاره للتسجين على مادعونه اليه

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي
إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ
وَإَكُنُّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾
﴿١٢ يوسف ٣٣﴾

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾
﴿١٢ يوسف ٣٤﴾

لبث يوسف عليه السلام
في السجن إلى حين

ثُمَّ بَدَأَ هُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنَنَّهُ
حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾
﴿١٢ يوسف ٣٥﴾

اپنے ظاہری مردانہ حسن اور باطنی
پاکیزگی کی وجہ سے مشہور

جب زلیخا نے ان عورتوں کی (گفتگو جو حقیقت میں دیدار
یوسف کے لئے ایک) چال (تھی) سنی تو ان کے پاس
(دعوت کا) پیغام بھیجا اور ان کے لئے ایک محفل مرتب کیا۔
اور ضیافت میں (پھل تراشنے کے لئے) ہر ایک کے آگے
ایک ایک چھری رکھ دی اور (پھر عین اس وقت جب وہ پھل
کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں یوسف سے کہا) کہ ان کے سامنے
باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب (حسن)
ان پر (ایسا) چھا گیا کہ (پھل تراشتے تراشتے) اپنے ہاتھ کاٹ
لے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ ماشاء اللہ یہ کوئی آدمی نہیں
کوئی بزرگ فرشتہ ہے (31:12)

زلیخا کا اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر
بر ملا اظہار اور مطلب پورا نہ ہونے کی صورت
میں یوسف علیہ السلام کو قید اور سزا کی دھمکی

تب (زلیخا نے) کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم
مجھے طعنہ دیتی تھیں اور بے شک میں نے اس کو اپنی
طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ سچ نکلا اور اگر یہ میرا کہنا نہ مانے
گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور بہت
ذلیل و خوار ہوگا (32:12)

یوسف علیہ السلام کی عورتوں کے مکرو فریب کو
رفع کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا
اور قید کو گناہ آلود زندگی پر ترجیح دینا

یونے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے
بلا رہی ہیں اس کی نسبت مجھے قید منظور ہے۔ اور اگر تو مجھ
سے ان کے فریب کو دفع نہ کرے تو میں ان کے دام
میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا
(33:12)

تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکرو
دفع کر دیا۔ بے شک وہ سب کچھ سننے (اور) جاننے والا
ہے (34:12)

یوسف علیہ السلام کا ایک عرصہ
کے لئے جیل چلا جانا

پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ صریح نشانیاں دیکھ چکے
تھے۔ ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لئے
ان (یوسف) کو قید ہی کر دیں (35:12)

**JOSEPH (PBUH) TAUGHT THE TRUTH
(PREACHED MONOTHEISM)
TO ALL OF HIS COMPANIONS IN JAIL**

And I have followed the ways of my forefathers, Abraham and Isaac and Jacob. And never could we attribute anything as partner to Allah. This is the bounty of Allah to us and to mankind; but most men are not grateful. (12:38)

O my two fellow prisoners! (I ask you) are divers lords better, or Allah the One, the (Unique), Almighty? (12:39)

Those whom you worship besides Him are nothing but names, which you and your fathers have named. Allah has revealed no sanction for them. The decision rests with Allah only, Who has commanded you to worship none except Him. This is the right religion, but most men understand not. (12:40)

**TWO PRISONERS OF ROYAL'S OFFICE
(ONE KING'S BAKER AND OTHER CUP BEARER)
ASKED JOSEPH(PBUH) TO INTERPRET THEIR DREAMS**

And two young men went to prison with him. One of them said: I dreamed that I was pressing wine. The other said: I dreamed that I was carrying upon my head bread whereof the birds were eating. Tell me the interpretation, for we see you are true in those good (at interpretation). (12:36)

He said: The food which you are given (daily) shall not come to you until I shall tell you the interpretation. This is of that which my Lord has taught me. I have forsaken the ways of folk who believe not in Allah and are disbelievers in the Hereafter. (12:37)

**تسخین یوسف البری
وتبلیغه هناك للتوحید**

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾
﴿١٢ یوسف ٣٨﴾

يُصَاحِبِي السِّجْنِ أَرَأَيْتَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾
﴿١٢ یوسف ٣٩﴾

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾
﴿١٢ یوسف ٤٠﴾

استفسار سجینین ملکین

من یوسف علیہ السلام عن تعبیر رؤیا ہما

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾
﴿١٢ یوسف ٣٦﴾

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقْنِيهِ إِلَّا نَبَأُ كُفْرًا يَتَأْوِيلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾
﴿١٢ یوسف ٣٧﴾

**یوسف علیہ السلام کی قید خانہ میں تبلیغ
(دعوت توحید)**

اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب (طریقہ) پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایاں نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور تمام انسانوں پر بھی ہے۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (38:12)

میرے قید خانے کے ساتھیو! (تم خود ہی سوچو) کیا (بہت سے متفرق) کئی رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے (39:12)

جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو وہ کچھ نہیں ہیں صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں اللہ نے ان کو کوئی دلیل نازل نہیں کی (سن رکھو کہ) اللہ کے سوا کسی کی حکومت (فرمان روائی کا اختیار) نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین (طریق زندگی) ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (40:12)

جیل خانہ میں دو شاہی قیدیوں

(ایک باورچی اور دوسرا سانی)

کا یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا

قید خانہ میں ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا کہ (میں نے خواب دیکھا ہے) کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ (میں نے بھی خواب دیکھا ہے) کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں (تو) ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں (36:12)

یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان (علوم) میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا کئے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب (طریقہ) چھوڑے ہوئے ہوں (37:12)

O my fellow prisoners! (I tell you the meanings of your dreams) as for one of you, he will pour out wine for his lord to drink; and as for the other, he will be crucified so that the birds will eat from his head. Thus is the case judged concerning, which you did inquire me. (12:41)

يُصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَآمَّا الْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطُّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿٤١﴾
۱۲ یوسف ۴۱

میرے جیل خانے کے ساتھیو! (تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ) تم میں سے ایک (جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ) تو اپنے آقا (بادشاہ مصر) کو شراب پلایا کرے گا۔ اور جو دوسرا ہے وہ سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوج نوج کر کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے (41:12)

INTERPRETATION OF JOSEPH (PBUH) ABOUT THE CUP-BEARER'S DREAM CAME TRUE AS HE WAS RELEASED AND RESTORED TO THE FAVOUR OF KING

SATAN MADE THE CUP BEARER FORGET TO MENTION JOSEPH (PBUH) TO THE KING WHICH LINGERED JOSEPH (PBUH) IN PRISON

And he said to him (of the twain) whom he knew would be released: Mention me in the presence of your lord. (When you are free) but Satan caused him to forget to mention it to his lord, so he (Joseph) stayed in prison for few (more) years. (12:42)

ثبوت تعبیر الرؤیا
حقا وإعادة أحد السجين إلى وظيفة

قال يوسف للساقى
بذكره عند العزيز ولكن نسي فلبث
يوسف عليه السلام فى السجن
بضع سنين

تعبیر یوسف علیہ السلام کا سچا ثابت ہونا
اور شاہی قیدی کی منصب ساقی پر بحالی

شیطان کا شاہی ساقی کو (جیل سے رہائی کے بعد) بادشاہ مصر سے یوسف علیہ السلام کے ذکر سے غافل کر دینا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عرصہ جیل میں رہ جانا

اور دونوں شخصوں میں سے جس کے متعلق (یوسف نے) خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا (شاہ مصر) سے میرا ذکر بھی کرنا۔ لیکن شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے آقا سے ذکر کرنا بھول گیا اور (یوسف) کئی برس جیل خانے ہی میں پڑے رہے (42:12)

ALLAH (SWT)'S PLAN DEVELOPED FOR THE SALVATION OF JOSEPH (PBUH) AND PHARAOH WAS PERTURBED BY HIS DREAM

And the king (of Egypt) said: I saw in a dream seven fat kine (cows) which seven lean were eating, and seven green ears of corn and other (Seven) dry. O notables! Expound for me my vision, if you can interpret dreams. (12:43)

حدوث أسباب من الله لإطلاق
يوسف منه السلام من السجن
قلق ملك مصر لرؤيته العجيبة فى المنام

یوسف علیہ السلام کی رہائی کا غیب سے سامان
بادشاہ مصر کا عجیب خواب دیکھ کر پریشان ہونا

ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اور اناج کے سات خوشے سبز ہیں اور دوسرے (سات) خشک اے اہل دربار اگر تم خوابوں کی تعبیر سمجھتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ (43:12)

They said Jumbled (confused medley of) dreams! And we are not skilled in the interpretation of (such) dreams. (12:44)

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعُلَمَاءِ ﴿٤٤﴾
۱۲ یوسف ۴۴

لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خواب کی باتیں ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی (44:12)

AWAKENING OF CUP-BEARER'S CONSCIENCE AND INFORMING KING ABOUT THE SKILLFULNESS OF JOSEPH (PBUH) IN INTERPRETING DREAMS

And he (of the two) who was released, and now (after a long time) recollected said: I am going to tell you the interpretation, therefore let me go (in search of him). (12:45)

تذكر الساقى للملك يوسف
فجاءه فأخبر الملك عن براعة يوسف
فى تعبیر الرؤیا

ہاشمہ قیدی (شاہی ساقی) کو اچانک یوسف کی یاد آ جانا
اور اس کا ان کی خوابوں کی تعبیر کی
سہارت کے بارے میں بادشاہ مصر سے ذکر کرنا

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْتَبِهُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾
۱۲ یوسف ۴۵

اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد وہ بات یاد آئی وہ بول اٹھا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر (لا) بتاتا ہوں مجھے (جیل خانے) میں یوسف کے پاس جانے کی اجازت دیجئے (45:12)

Marfat.com

KING'S CONFIDANT APPROACHED JOSEPH (PBUH) IN PRISON FOR EXPOUNDING THE PHARAOH'S DREAM

And when he came to Joseph in the prison, he exclaimed) : Joseph! O you truthful one! Expound for us the seven fat kine (cows) which seven years were eating and the seven green ears of corn and other (seven) things, that I may return to the people of the court, so that they may know your dignity). (12:46)

أرسل الملك ساقیه الی یوسف فی السجن للاستفسار فی رؤیاه

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُسَبِّتُ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾
﴿١٢ یوسف ٤٦﴾

بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لئے شاہی ساقی کا قید خانہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس آنا

(غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا) یوسف اے بڑے سچے (یوسف) ہمیں (اس خواب کی تعبیر) بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا (کر تعبیر بتاؤں) عجب نہیں کہ وہ (تمہاری قدر) جانیں (46:12)

JOSEPH (PBUH) HAD AN OPPORTUNITY OF EXPLAINING THE KING'S DREAM

(Joseph) said: You shall diligently sow for seven years as usual, but let all (the grain) that you harvest remain (untouched) in its ears. All except a little which you shall eat. (12:47)

Then after that will come seven hard years which will devour all that you have prepared (laid by in advance) for them, except a little of that which you have kept in stores. (12:48)

Then, after that, will come a year when the people will have plenteous crops (abundant water) and when they will press (wine and oil) as before. (12:49)

افتاء یوسف علیہ السلام فی تاویل رؤیا الملك

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾
﴿١٢ یوسف ٤٧﴾

یوسف علیہ السلام کا بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر بتانا

انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر غلہ بوتے رہنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کے لئے تھوڑی سی مقدار کے (47:12)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾
﴿١٢ یوسف ٤٨﴾

پھر اس کے بعد (خشک سالی کے) سات سخت (سال) آئیں گے کہ جو (غلہ) تم نے جمع کر رکھا ہو گا وہ اس سب ذخیرہ کو کھا جائیں گے صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے (48:12)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصَرُونَ ﴿٤٩﴾
﴿١٢ یوسف ٤٩﴾

پھر اس کی بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب بینہ بر سے گا اور لوگ اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے (49:12)

KING WANTED TO SEE JOSEPH (PBUH) AND SENT HIS MESSENGER TO FETCH HIM

JOSEPH (PBUH) INSISTED FOR HIS ACQUITTAL FROM THE SCANDALS BEFORE HIS RELEASE

And the King said: Bring him to me. And when the messenger came to him, he (Joseph) said: Return to your lord and ask him what was the matter with the ladies who cut their heads. My Lord is well aware of their snare. (12:50)

اشتیاق الملك الی لقاء یوسف علیہ السلام

إصرار یوسف علیہ السلام علی المكث فی السجن حتی تطبیق العدل علی أمره من الافتراء علیه

بادشاہ مصر کا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا شوق اور انہیں بلانا

یوسف علیہ السلام کا اپنی بے گناہی کے اعلان تک جیل میں رہ جانے پر اصرار

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي رَأَيْتُ فِي دُرِّي أَنِّي أَصْبَرُ سِنِينَ وَأَنَا وَأَهْلِي أَكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمَا يَسْتَوُونَ قُلْ إِنِّي مُسَوِّدٌ لِّوَجْهِ لِيْلَىٰ وَإِنِّي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٠﴾
﴿١٢ یوسف ٥٠﴾

(یہ تعبیر سن کر) بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب شاہی قاصد یوسف کے پاس گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے۔ بے شک میرا پروردگار ان کی مکاری سے خوب واقف ہے (50:12)

EGYPTIAN LADIES ACKNOWLEDGED JOSEPH (PSUH)'S INNOCENCE AND ZULAIKHA ALSO CONFESSED HER OWN GUILT FRANKLY

He (the king) (then sent for those ladies and) said: What happened when you did seek to seduce Joseph? They answered: Allah Save us! We know no evil of him. Said the wife of the Aziz, (exalted one) now the truth has come to light. I asked him an evil act, and he is surely of the truthful. (12:51)

(Then Joseph said: I asked for) this, that he (Aziz) may know that I betrayed him not in his absence, and that surely Allah guides not the snare of the betrayers. (12:52)

I do not absolve myself. The (human) soul enjoins to evil, except that whereon my Lord has Mercy. My Lord is Forgiving, Merciful. (12:53)

JOSEPH (PSUH) WAS ASCENDED TO EMINENCE BY THE KING AND TAKEN AS CHAMBERLAIN

And the king said: Bring him to me so that I may attach him to my person. And when he had spoken with him he said: You are from today of high standing with us, invested with all trust. (12:54)

He said: Set me over the storehouses of the land. I am a skilled custodian. (12:55)

Thus We established Joseph in the land of Egypt. He was the owner of it (where he pleased). We bestow Our mercy upon whom We will. We lose not the reward of the good. (12:56)

شهادة النسوة في استعفاف يوسف
واعتراف امرأة العزيز
بمراودتها عن نفسه

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الشَّنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾
﴿١٢ يوسف ٥١﴾

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾
﴿١٢ يوسف ٥٢﴾

وَمَا أْبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾
﴿١٢ يوسف ٥٣﴾

تمکن یوسف علیہ السلام
علی خزائن الأرض

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَسْخَايُكَ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾
﴿١٢ يوسف ٥٤﴾

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾
﴿١٢ يوسف ٥٥﴾

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ أَهْلَهُمْ
حَيْثُ يَشَاءُ نُنْصِبُ رَحْمَتَنَا مَنْ تَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾
﴿١٢ يوسف ٥٦﴾

عورتوں کا یوسف علیہ السلام کی
پاک دامنی کی گواہی دینا
اور زلیخا کا اپنے مکر کا اعتراف

اس پر (بادشاہ نے ان عورتوں سے) پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا؟ (سب) بول اٹھیں کہ حاشاء اللہ ہم نے اس میں برائی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب سچی بات ظاہر ہو ہی گئی ہے (اصل یہ ہے کہ) میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے (51:12)

(یوسف نے کہا کہ میں نے) یہ بات اس لئے (پوچھی ہے) کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی (در پردہ) پیٹھ پیچھے اس کی (لانت میں) خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیابی کی راہ میں نہیں لگاتا (دعا بازوں کے ہتھکنڈے چلنے نہیں دیتا) (52:12)

پور میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا کیوں کہ نفس (لہارہ انسان کو) برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے (53:12)

بادشاہ مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مصاحب
اور مشیر خاص برائے رموز مملکت منتخب کر لینا

بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا خاص ساتھی بناؤں گا۔ پھر جب یوسف نے ان سے گفتگو کی تو کہا کہ اب تم ہمارے ہاں صاحب منزلت (اور) صاحب اعتبار ہو (54:12)

(یوسف نے) کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیوں کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور (اس کام سے) واقف ہوں (55:12)

اس طرح ہم نے اس سرزمین (مصر) میں یوسف کے لئے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے (56:12)

HALF BROTHERS OF JOSEPH (PBUH) DRIVEN BY FAMINE IN CANAAN CAME TO EGYPT TO BUY CORN AND WERE IDENTIFIED

JOSEPH PBUH TREATED HIS HALF BROTHERS LIBERALLY AND IMPOSED THE CONDITION OF BRINGING HIS REAL YOUNGER BROTHER BENJAMIN ALONG ON THEIR NEXT TRIP AND ALSO RETURNED THEIR MONEY WITH GRAIN AS AN ADDITIONAL INCENTIVE

and Joseph's brothers came and presented themselves before him, and he knew them but they recognized him not. (12:58)

and when he provided them with their provision he said: (when you come here next) Bring to me your youngest brother (a brother from your father). See you not that I pay out full measure and I am the best of hosts? (12:59)

and if you bring him not to me, then there shall be not a single measure for you with me, nor shall you be allowed to come near me. (12:60)

They said: We will try to win him from his father: That we will surely do. (12:61)

He (Joseph) said to his servants: Place their trading capital in their saddlebags, so that they may find it there when they go back to their home, and hence be they more eager to return. (12:62)

IN RETURN TO CANAAN - NARRATION OF SITUATION TO FATHER - REQUEST TO LET BENJAMIN GO WITH THEM TO COMPLY WITH THE INSTRUCTION OF CHAMBERLAIN OF EGYPT THEY ALL FOUND THEIR STOCK-IN-TRADE RETURNED IN THEIR BAGGAGE

So when they went back to their father they said: O our father! The measure is denied to us (in future unless we bring Benjamin with us), so send with us our brother that we may obtain the measure, surely we will guard him well. (12:63)

حضور اخوة يوسف إلى مصر للحصول على الميرة ومعرفة يوسف عليه السلام لهم وهم له منكرون

معاملة يوسف ياخوته العلاتين بالاکرام واشترط عليهم أن يأتوا بأخ لهم للحصول على الميرة مرة أخرى ورد عليهم الثمن

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾
﴿١٢ يوسف ٥٨﴾

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَّا خَيْرُ الْبَائِسِينَ ﴿٥٩﴾
﴿١٢ يوسف ٥٩﴾

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾
﴿١٢ يوسف ٦٠﴾

قَالُوا سَرَّأَوْدُ عَنَّا أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾
﴿١٢ يوسف ٦١﴾

وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾
﴿١٢ يوسف ٦٢﴾

إخبار اخوة يوسف أباهم عن صورة الأمر عند عودتهم إلى كنعان وكذلك عن الاشتراط بمصاحبة الأخ الأصغر بنيامين للحصول على الميرة ثم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾
﴿١٢ يوسف ٦٣﴾

برادران يوسف کی کنعان میں قحط کے سبب غلہ خریدنے کے لئے مصر میں آمد اور یوسف علیہ السلام کا سوتیلے بھائیوں کو پہچان لینا

یوسف علیہ السلام کا اپنے سوتیلے بھائیوں سے حسن سلوک اور ان پر دوبارہ مصر آنے کی صورت میں چھوٹے حقیقی بھائی بنیامین کو ہمراہ لانے کی شرط عائد کر دینا اور ان کے سرمایہ کو بھی ان کے تھیلوں میں واپس کر دینا

اور یوسف کے بھائی (کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لئے) آئے تو یوسف کے پاس گئے تو (یوسف نے) ان کو پہچان لیا مگر وہ ان کو نہ پہچان سکے (58:12)

جب یوسف نے ان کے لئے ان کا سامان تیار کر دیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ (جب دوبارہ آؤ) تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں باپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمان داری بھی خوب کرتا ہوں (59:12)

اور اگر تم اسے (سوتیلے بھائی کو) میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آسکو گے (60:12)

انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے والد اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں۔ اور ہم (یہ کام) ضرور کریں گے (61:12)

اور (یوسف نے) اپنے خدام کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلہ کے عوض جو سرمایہ دیا ہے ان کی بوریوں میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے (مال کو) پہچان لیں (یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں) (اور) عجب نہیں کہ یہ دوبارہ یہاں آئیں (62:12)

برادران یوسف کی کنعان واپسی پر اپنے والد کو صورت حال (دوبارہ غلہ کے لئے مصر جانے کے لئے چھوٹے بھائی بنیامین کو ہمراہ لے جانے کی شرط) سے آگاہ کرنا۔ اور سرمایہ کو بھی اپنے تھیلوں میں واپس پالینا

جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جان (جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں) ہمارے لیے غلہ کی بندش کر دی گئی ہے تو لہذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں (63:12)

And when they opened their belongings they discovered that their merchandise had been returned to them. They said: O our father! What (more) we require? Here is our trading capital returned to us. We shall again get provision for our folk and guard our brother, and we shall have the extra measure of a camel (load). This (that we bring now) is a small quantity. (12:65)

JACOB (PBUH)'S FLAT REFUSAL OF ALLOWING BENJAMIN IN LIGHT OF FORMER EXPERIENCE BUT RELENTED ON SOLEMN PROMISE OF PROTECTION BY HIS SONS AND ALLOWED YOUNGEST TO ACCOMPANY THEM AND DELIVERED SPECIAL PRECAUTIONARY INSTRUCTIONS

He said: Can I entrust him to you as I entrusted his brother to you afore time? Allah is better at guarding, and He is the Most Merciful of those who show mercy. (12:64)

He said: I will not send him with you till you give me an undertaking in the name of Allah (Solemn pledge) that you will bring him back to me, unless you are surrounded. And when they gave him their undertaking he said: Allah is the Witness and Guardian over what we say. (12:66)

And he said: O my sons! Do not enter the city by one gate; go in by different gates. Yet I can be of no avail to you as against Allah. The decision rests with Allah only. In Him I do put my trust, and in Him let all the trusting put their trust. (12:67)

JOSEPH (PBUH) IDENTIFIED BENJAMIN AND HAD CHANCE OF PRIVACY WITH HIS REAL BROTHER

And when they entered in the manner which their father had enjoined, it would have availed them nothing as against Allah; it was but a need of Jacob's soul which he thus satisfied; and he was a lord of knowledge because We had endowed him with the knowledge; but most of mankind know not. (12:68)

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيرُ أَهْلِنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُكَ كَيْلًا بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿١٢﴾ يوسف ٦٥

رفض یعقوب علیہ السلام من إرسال بنیامین معهم نظرا إلى التجربة السابقة ثم لان بعد ما حلف الأولاد بالله لمحافظة ثم أذن وزودهم بتوصيات وقائية خاصة

قَالَ هَلْ أُمِنْتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أُمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَفِظْنَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٢﴾ يوسف ٦٤

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَبَكُمْ فَكُنَّا اتِّعَافًا مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ يوسف ٦٦

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَاَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَوَكُّلًا وَعَلَانِيَةً فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾ يوسف ٦٧

معرفة يوسف علیہ السلام أخاه واللقاء به في الخلو

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ يوسف ٦٨

اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے ابا جان ہمیں (اور) کیا چاہیے (دیکھئے) یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے اہل و عیال کے لئے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے (کہ) اتنے غلہ کا اضافہ آسانی سے ہو جائے گا (65:12)

یعقوب علیہ السلام کا گزشتہ تجربہ کی روشنی میں بیٹے کو ہمراہ روانہ کرنے سے انکار اور پھر بیٹوں کے حلف اٹھا کر وعدہ تحفظ پر چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ہمراہ روانہ کرنے کے لئے خصوصی ہدایات کے ساتھ اجازت سفر دینا

(یعقوب نے) کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا۔ سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے (64:12)

(یعقوب نے) کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس (صحیح و سالم) لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا مگر یہ کہ تم گھیر لئے جاؤ (یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔) جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو (یعقوب نے) کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے (66:12)

پھر یعقوب نے ہدایت کی کہ بیٹا (مصر کے دارالسلطنت میں) ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں بچا سکتا۔ (بے شک) حکم اسی کا ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے (67:12)

یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی بنیامین کو پہچان لینا اور اس سے علیحدگی میں ملاقات

اور واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب وہ اپنے والد کی ہدایت کے مطابق شہر میں داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آسکی۔ بس یعقوب کے دل میں جو ایک اندیشہ تھا اسے دور کرنے کے لئے اس نے اپنی سی کوشش کی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے کیوں کہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (68:12)

And when they went in before Joseph, he took his (real) brother to himself (to stay with him), saying: I, even I, am your brother, therefore sorrow not for what they did (in the past). (12:69)

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ
إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾
﴿١٢ يوسف ٦٩﴾

اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو (یوسف نے) اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں جو کھو گیا تھا تو جو سلوک یہ (ہمارے ساتھ) کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا (69:12)

PLAN OF JOSEPH (PBUH) TO DETAIN HIS REAL BROTHER BENJAMIN

تدبیر یوسف علیہ السلام
لاحتجاز اخیہ الشقیق

یوسف علیہ السلام کا اپنے حقیقی بھائی
بنیامین کو روک لینے کی تدبیر کرنا

And when he provided them with their provision, he put the drinking cup in his brother's saddlebag, and when a crier cried: O camel riders! You are surely thieves! (12:70)

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ إِذْنَ مُؤَدِّنُ أَيُّهَا الْعَيْرُ لَكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾
﴿١٢ يوسف ٧٠﴾

جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لداوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیلہ رکھ دیا پھر (جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو) ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو! تم لوگ تو چور ہو (70:12)

They said, turning towards them: What is it you have lost? (12:71)

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿٧١﴾
﴿١٢ يوسف ٧١﴾

انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے (71:12)

They said: We have lost the king's goblet (cup), and he who brings it shall have a camel load (as a reward), and I am surety for this promise. (12:72)

قَالُوا تَفْقَدُ صَوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾
﴿١٢ يوسف ٧٢﴾

وہ بولے کہ بادشاہ (کے پانی پینے) کا پیالہ کھو گیا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لئے ایک بارشتر (انعام) اور میں اس کا ضامن ہوں (72:12)

They said: By Allah, well you know we came not to make mischief in the land, and are no thieves. (12:73)

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ فَا جُنَّا لِنُقْصِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾
﴿١٢ يوسف ٧٣﴾

وہ بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم (اس) ملک میں اس لئے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں (73:12)

They said: And what shall be the penalty for it if you prove liars? (12:74)

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾
﴿١٢ يوسف ٧٤﴾

وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے (یعنی چوری ثابت ہوئی) تو اس کی سزا کیا ہو؟ (74:12)

They said: The penalty for it is! He whose bag (the cup) is found, he shall be enslaved as a requital thereof. Thus we requite wrongdoers. (12:75)

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾
﴿١٢ يوسف ٧٥﴾

انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے سامان میں وہ چیز دستیاب ہو وہی اس کی سزا کے بدلے رکھ لیا جائے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (75:12)

Then he (Joseph) began the search of their bags before his brother's bag, then he recovered (the cup) from his brother's bag. Thus We did contrive for Joseph. He could not have taken his brother according to the king's law unless Allah had so willed. We raise by grades (of mercy) whom We please, but above everyone who is endued with knowledge there is One Who knows all (12:76)

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾
﴿١٢ يوسف ٧٦﴾

پھر (یوسف نے) اپنے بھائی کے سامان سے پہلے انکے سامان کی تلاشی لینا شروع کی۔ پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید ایسی تدبیر سے کی (ورنہ) ملک مصر کے قانون کے مطابق (وہ) مشیت اللہ کے سوا) اپنے بھائی کو لے (پکڑ) نہیں سکتا تھا ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ایک علم والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ (76:12)

They said : If he steals, there was his brother who stole aforetime. But Joseph kept it secret in his heart and revealed it not to them. He said (within himself) : you are in worse in this respect and Allah knows the best (the truth of) that which you assert. (12:77)

HALF BROTHERS MISERABLY FAILED TO TAKE BENJAMIN BACK TO CANAAN WITH THEM

They said: O ruler of the land! He has an aged father, so take one of us instead of him. We see that you are of those who do kindness. (12:78)

He said : Allah forbid us (from this sin) that we should detain any other except him with whom we found our property; then truly we should be wrongdoers. (12:79)

So, when they got despaired of moving him, they conferred together apart. The eldest of them said: Know you not how your father took an oath from you in Allah's name and how you failed in your duty in the case of Joseph aforetime? Therefore I shall not go forth from the land until my father permits me or Allah judges for me. He is the best of all Judges. (12:80)

ON RETURN TO CANAAN BROTHERS OF JOSEPH (PBUH) TOLD THEIR FATHER JACOB (PBUH) ALL THAT HAD HAPPENED AND INFORMED ABOUT THE CHARGE OF THEFT ON BENJAMIN

Return to your father and say: O our father! Your son has committed theft. We testify only to that which we know; we are not guardians of the unseen. (12:81)

Ask the township where we have been and the caravan with which we travelled to this place. We speak the truth. (12:82)

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

فشل الإخوة العلاتيين من تخلص بنيامين و الذهاب به معهم

قَالُوا يَا أَبَانَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَكَ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا نَأْمَكَانَ إِنْ أَنْزَلْنَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا ظَالِمُونَ ﴿٧٩﴾

فَلَمَّا اسْتَأْيَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾

أخبر إخوة يوسف أباهم عند عودتهم إلى كنعان ما حدث بهم في مصر وأخبروه عن اتهام بنيامين بالسرقة

ارْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾

برادران یوسف نے) کہ کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور ان پر حقیقت کو ظاہر نہ ہونے دیا (اور) اس اتنا کہا کہ تم بڑے بڑے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اس کی حقیقت سے خوب جانتا ہے (77:12)

سو تیلے بھائیوں کی بنیامین (چھوٹے بھائی) کو واپس کنعان لے جانے کی ہر کوشش ناکام

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز مصر اس کے والد بہت بوڑھے ہیں (اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں) تو (اس کو چھوڑ دیجئے اور) اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک نفس انسان ہیں (78:12)

(یوسف نے) کہا کہ اللہ کی پناہ کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں۔ ایسا کریں تو ہم (بڑے ظالم) بے انصاف ہیں (79:12)

جب وہ یوسف کی طرف سے ناامید ہو گئے تو الگ جا کر آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں تصور کر چکے ہو وہ تم کو معلوم ہے تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں۔ میں تو اس جگہ سے ہرگز نہیں جاؤں گا یا اللہ میرے لئے کوئی تدبیر کرے۔ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (80:12)

برادران یوسف کا کنعان واپس آکر اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا سنانا اور بنیامین پر چوری کا الزام لگانا

تم سب والد کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ باجان آپ کے صاحب زادے نے (وہاں جا کر) چوری کی اور ہم نے تو اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں مگر ہم غیب کی باتوں کے (جاننے اور) یاد رکھنے والے تو نہیں (81:12)

اور جس گاؤں میں ہم (ٹھہرے) تھے وہاں سے (یعنی اللہ مصر سے) یا جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے۔ اور ہم (اس بیان میں) بالکل سچے ہیں (82:12)

JACOB (PBUH) REFUSED TO BELIEVE THE STORY AND ENDURED PATIENTLY SUCH SHOCKING NEWS WITH HIS UNSWERVING FAITH IN ALLAH (SWT)

(12:83) (And when they came to their father and had told thus to him) he said: No, but your minds have beguiled you into something. (My course is comely patience! It may be that Allah will bring them all to me. He only He, is the Knower, the Wise.) (12:83)

JACOB'S (PBUH) EYES LOST THEIR COLOUR AND BECAME DULL WHITE WITH SORROW OF FEELING ABSENCE OF HIS SON

And he turned away from them and said: How great is my grief for Joseph! And his eyes were whitened with the sorrow that he was depressing. (12:84)

They said: By Allah, you will never cease remembering Joseph till your health is ruined or until you die! (12:85)

He said: I expose my distress and grieve only to Allah, and I know from Allah that which you know not. (12:86)

JACOB (PBUH) ASKED HIS SONS TO GO AGAIN TO EGYPT IN SEARCH OF JOSEPH AND BENJAMIN (PBUH)

O my sons, and enquire about Joseph and his brother, and despair not of the Soothing mercy of Allah. None despairs of the Spirit of Allah except disbelieving folk (12:87)

And when they came (again) before him (Joseph) they said: O exalted one, hardship has visited us and our food, and we bring but scanty merchandise, so fill for us the measure and be charitable to us. Allah will requite the charitable. (12:88)

عدم اطمینان یعقوب علیہ السلام علی قولہم
ولکن صبر صبرا جمیلا متوکلا
علی اللہ تعالیٰ

قَالَ بَلْ سَأَلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبِرُوا
جَمِيلًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾
﴿١٢ یوسف ٨٣﴾

فقدان بصره یعقوب علیہ السلام
من البكاء المتواصل في فرقة ابنه

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُونُسَ
وَإَبْصُرْتُ عَيْنًا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾
﴿١٢ یوسف ٨٤﴾

قَالُوا يَا اللَّهُ تَفْتَوَاتِ ذِكْرُ يُونُسَ حَتَّىٰ تَكُونَ
حَرْصًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾
﴿١٢ یوسف ٨٥﴾

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ
أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾
﴿١٢ یوسف ٨٦﴾

إرسال یعقوب علیہ السلام بنیہ
إلى مصر مرة أخرى لتفقد
یوسف وبنیامین علیہما السلام

يَبْنَئِي أَدْبُوا فَتَحْسَبُوا مِن يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا
تَأْسُوا مِن رُّوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنَ رُّوحِ
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾
﴿١٢ یوسف ٨٧﴾

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَ
أَهْلْنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ
يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾
﴿١٢ یوسف ٨٨﴾

یعقوب علیہ السلام کا برادران یوسف کی بات پر عدم
اطمینان کے باوجود صبر جمیل اختیار کرنا اور
صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا

(جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آکر کہی تو) انہوں
نے کہا (کہ حقیقت یوں نہیں ہے) بلکہ یہ بات تم نے
اپنے دل سے بنائی ہے تو اس پر بھی صبر کروں گا صبر ہی
بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا
دے۔ بے شک وہ دانا (اور) حکمت والا ہے (83:12)

یعقوب علیہ السلام کا بیٹے کی جدائی میں
رورور کر پینائی کھودینا

پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ ہائے یوسف
(ہائے افسوس) اور رنج و الم میں انکی آنکھیں سفید پڑ گئیں
اور انکا دل غم سے بھر رہا تھا (84:12)

بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی
کرتے رہیں گے تو ہمارا ہو جائیں گے یا جان ہی دے
دیں گے (85:12)

انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ
کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اور اللہ کی طرف سے وہ
باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے (86:12)

یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو
یوسف اور بنیامین علیہما السلام کی تلاش کیلئے
دوبارہ مصر بھیجنا

بیٹا (یوں) کرو کہ ایک دفعہ پھر (جاؤ اور یوسف اور اس کے
بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ
اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی ناامید ہوا کرتے ہیں
(87:12)

جب یوسف کے پاس گئے تو عرض کی کہ اے عزیز مصر
ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور
ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں آپ ہمیں (اس حقیر پونجی
کے عوض) بھر پور غلہ دیجئے۔ اور ہمیں خیرات دیں کہ
اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے (88:12)

JOSEPH (PBUH) UNVEILED HIS IDENTITY TO HIS HALF BROTHERS AND THEY CONFESSED THEIR CRIME, AND JOSEPH (PBUH) FORGAVE THEM EVEN

He said: Do you remember what you did to Joseph and his brother in your ignorance? (12:89)

They said: Is it indeed you are Joseph? He answered: I am Joseph and this is my brother. Allah has indeed been gracious to us (all). He who is conscious of Him and patient in adversity; for Allah loses not the reward of the righteous. (12:90)

They said: By Allah, Allah has preferred you above us, and we were indeed sinful. (12:91)

He said: Have no fear this day! May Allah forgive you, and He is the most Merciful of those who show mercy. (12:92)

JOSEPH (PBUH) SENT HIS SHIRT FOR HIS FATHER AND JACOB (PBUH) REGAINED CLEAR SIGHT

FILIAL LOVE OF JACOB (PBUH) AND FEELING OF PRESENCE OF JOSEPH (PBUH) (HIS BELOVED SON) IN THE ATMOSPHERE

Go with this shirt of mine and lay it over my father's face, he will recover his sight; and come to me together with all your folk. (12:93)

When the caravan departed (Egypt) their father had said: Truly I perceive scent of (the presence of) Joseph, you might consider me a dotard. (12:94)

اعتراف إخوة يوسف بجرمتهم
وعفو يوسف عليه السلام عنهم

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾
﴿١٢ يوسف ٨٩﴾

قَالُوا وَإِنَّكَ لَأَيُّوسُفُ وَ هَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّكَ مَنْ يَتَّقُ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾
﴿١٢ يوسف ٩٠﴾

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ﴿٩١﴾
﴿١٢ يوسف ٩١﴾

قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ أَيُّومَ يُعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٩٢﴾
﴿١٢ يوسف ٩٢﴾

إرسال يوسف عليه السلام قميصه
إلى والده علامة

إدراك يعقوب عليه السلام
ريح يوسف عليه السلام
من الشفقة الأبوية

إذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾
﴿١٢ يوسف ٩٣﴾

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفِئِدُونِ ﴿٩٤﴾
﴿١٢ يوسف ٩٤﴾

يوسف عليه السلام کا بھائیوں سے انکشاف
حقیقت اور ان کا اقرار جرم اور
یوسف عليه السلام کا پھر بھی معاف کر دینا

یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے (89:12)

وہ چونک کر بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اور (بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے) یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا (90:12)

وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم خطا کار تھے (91:12)

(یوسف نے) کہا کہ آج کے دن (سے) تم پر کچھ عتاب (وگرفت) نہیں ہے۔ اللہ تم کو معاف کرے۔ اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے (92:12)

یوسف عليه السلام کا اپنے والد کو کرتا بطور نشانی روانہ کرنا
اور حضرت یعقوب عليه السلام کی بینائی کا بحال ہو جانا

یعقوب عليه السلام کا شفقت پدری سے
اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف عليه السلام
کی خوشبو محسوس کرنا

جاؤ اور یہ میرا کرتے لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو۔ اس سے ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ (93:12)

لو جب قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا۔ تو ان کے والد کہنے لگے کہ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں بہک گیا ہوں۔ مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے (94:12)

(Those around him) said: By Allah, you are in your old aberration. (wandering illusion) (12:95)

قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾
﴿١٢ يوسف ٩٥﴾

گھر کے لوگ بولے کہ واللہ آپ ابھی تک پرانے خبط میں (بتلا) ہیں (95:12)

Then, when the bearer of glad tidings came, he laid it (Joseph's shirt) on his face and he regained his sight. He said: Did I not tell you that I know from Allah that which you know not? (12:96)

فَلَمَّا اَنَّ جَاءَ الْبَشِيْرَ اَلْقَاهُ عَلٰى وَّجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا قَالِ الْمَاقِلُ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾
﴿١٢ يوسف ٩٦﴾

جب خوشخبری دینے والا آپہنچا تو یوسف کا کرتہ یعقوب کے منہ پر ڈال دیا۔ اور وہ یکایک بینا ہو گئے۔ (اور بیٹوں سے) کہنے لگے۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ (96:12)

They said: O our father! Ask forgiveness of our sins for us, for we were sinful. (12:97)

قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا لَكَاٰ خٰطِيْنَ ﴿٩٧﴾
﴿١٢ يوسف ٩٧﴾

سب بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لئے دعا کریں۔ بے شک ہم خطا کار تھے (97:12)

He said: I shall ask forgiveness for you of my Lord. He is the Forgiving, the Merciful. (12:98)

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾
﴿١٢ يوسف ٩٨﴾

انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لئے معافی کی درخواست کروں گا۔ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے (98:12)

THE FULFILMENT OF JOSEPH'S (PBUH) EARLIER DREAM

تعبیر رؤیا یوسف علیہ السلام من قبل

یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کی تکمیل

ARRIVAL OF JOSEPH'S PARENTS IN EGYPT AND THEIR CEREMONIAL RECEPTION

قدوم أبوی یوسف إلى مصر واستقبالهما المثلالی

والدین یوسف کا مصر میں آنا اور ان کا شاندار استقبال

and when they came in before Joseph, he took his parents to him, and said: Enter Egypt, if Allah so wishes you shall be secure! (12:99)

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَبُوْهُ وَ قَالَ ادْخُلُوْا مِصْرًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾
﴿١٢ يوسف ٩٩﴾

جاؤ اور یہ میرا کرتہ لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو۔ اس سے ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ (99:12)

and he placed his parents high on the throne and they fell down before him in prostrate, and he said: O my father! This is the interpretation of my dream of old. My Lord has made true, and He has shown me wisdom, since He took me out of the prison and has brought you from the desert after Satan had made enmity between me and my brothers. My Lord is Gracious in whatever He wishes. He is the Knower, the Wise. (12:100)

وَرَفَعَ اَبُوْهُ عَلٰى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سٰجِدًا وَّ قَالَ يَا اَبَتِ هٰذَا اَتَاوِيْلُ رُءْيَايْ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتَنِيْ رَئِيْ حَقًّا وَّقَدْ اَحْسَنَ بِيْ اِذْ اَخْرَجْتَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نُّزَعَنَّ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اٰخُوْتِيْ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَآ اَشَاءُ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾
﴿١٢ يوسف ١٠٠﴾

اور اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور (اس وقت یوسف نے) کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے (بچپن میں) دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر (بہت سے) احسان کئے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا۔ اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملا دیا حالانکہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا پروردگار غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ وہ دانا (اور) حکمت والا ہے (100:12)

**JOSEPH'S PRAYER TO ALLAH (SWT)
AND GRATITUDE FOR DIVINE BLESSINGS**

O my Lord! You have given me (something) of sovereignty and have taught me (something) of the interpretation of events, Creator of the heavens and the earth! You are my Protecting Friend in the world and the Hereafter. Make me to die submissive to You, (as Muslim) and unite me with the righteous. (12:101)

دعاء یوسف علیہ السلام
متشکرا لأنعم الله تعالى

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَنْتَ وَبِئْسَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَكَّلِي
مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾
(12:101)

یوسف علیہ السلام کی دعا
اور اظہار تشکر انعامات الہیہ

جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت عطا فرمائی اور (مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا) خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو دنیا اور آخرت میں میرا کار ساز ہے۔ تو میرا خاتمہ سلام پر کر اور (آخرت میں) اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ (101:12)

DEATH OF JOSEPH (PBUH)

A Day when you will turn to flee, having no preserver from Allah: and he whom Allah sends astray, for him there is no guide. (40:33)

And to you there came Joseph in times gone by with clear proofs, yet you ceased not to be in doubt concerning what he brought you till, when he died, you said: Allah will not send any messenger after him. Thus Allah leaves him stray who is a transgressor, a doubter. (40:34)

وفاة یوسف

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾
(40:33)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ
فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى
إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ
رَسُولًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
مُزْتَابٌ ﴿٣٤﴾
(40:34)

وفات یوسف علیہ السلام

جس دن تم پیٹھ پھیر کر (قیامت کے میدان سے) بھاگو گے (اس دن) تمہیں کوئی (عذاب) اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں (33:40)

اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں (دلائل اور برہان) لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے۔ یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا (اور) شک کرنے والا ہے (34:40)

AYUB (PBUH) (JOB)

ایوب علیہ السلام

حضرت ایوب علیہ السلام

-----And Noah We did guide aforetime; and of his progeny (We guided) David and Solomon and Job and Joseph and Moses and Aaron. Thus We do reward the good. (6:84) Part

..... وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ٨٤﴾ جزء

----- اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (84:6) جزو

Reference : 4:163 Page 246

والله اعلم بالصواب 4 النساء 163 الصفحة 246

منزلہ 4:163 صفحہ 246

BESEECING OF JOB (PBUH) DURING DISTRESS AND SUFFERING

دعاء ایوب علیہ السلام لکشف الضر

ایوب علیہ السلام کی دعا برائے نجات از ایذا

AN EXAMPLE OF PATIENCE-CONSTANCY AND FIDELITY

مثال للصبر والاستقامة

صبر اور استقامت کا نمونہ

And (remember) Job, when he cried to his Lord, (saying): Adversity afflicts me, and You are the Most Merciful of all who show mercy. (21:83)

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ٨٣﴾

اور ایوب (کا ذکر کرو) جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے (کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے) اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے (83:21)

And make mention (O' Muhammad) of Our bondman Job, when he cried to his Lord (saying): The devil does afflict me with distress and torment. (38:41)

وَإِذْ كَرَّعَبْدًا نَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ ص ٤١﴾

اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ (اے اللہ) شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے (41:38)

ACCEPTANCE OF JOB'S (PBUH) SUPPLICATION

استجابة دعاء ایوب علیہ السلام

ایوب علیہ السلام کی دعا کی قبولیت

Then We responded his prayer and removed that all the adversity from which he suffered, and We gave him new offsprings (that he had lost) and the like thereof along with them a mercy and doubled their numbers as a Grace. And as a reminder to all who serve Us. (21:84)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكُشِفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِيدِينَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ٨٤﴾

تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور (نئے) اور عبادت کرنے والوں کے لئے (یہ) نصیحت ہے (84:21)

BEGINNING OF RECUPERATIVE PROCESS AND RESTORATION OF PROSPERITY TO JOB (PBUH) BY ALLAH (SWT)

توفیر أسباب الشفاء من عند الله تعالى وأنعمه عليه

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب صحت یابی اور انعامات

And it was said to him): Strike the ground with your foot. This (spring) is a cool water to wash with and a refreshing drink. (38:42)

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ ص ٤٢﴾

(ہم نے حکم دیا کہ) اپنا پاؤں زمین پر مار اور (دیکھو) یہ (چشمہ نکل آیا) نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو (شیریں) (42:38)

And We bestowed on him (again) new offspring doubling their numbers as a mercy from Us, and a memoria for men of understanding. (38:43)

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ ص ٤٣﴾

اور ہم نے اُسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت اور عقل والوں کی نصیحت کے لئے (43:38)

DURING SUFFERING JOB (PBUH) SWORE TO PUNISH HIS WIFE FOR HER ARROGANCE BUT ON RECOVERY HE PERFORMED IN A SYMBOLIC MANNER JUST TO FULFILL HIS VOW UNDER DIVINE COMMAND

یمین ایوب علیہ السلام خلال مرضه لتعذيب زوجته على سوء أدبها فلما عوفي أوفى اليمين بصورة رمزية

ایام بیماری میں ایوب علیہ السلام کا اپنی بیوی کو گستاخی کی پاداش میں سزا دینے کی قسم کھالینا اور صحت یاب ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر (مخمس ایقاعے قسم کے لئے) علامتی سزا کی رعایت برتنا

And (it was said to him): Take in your hand a small bunch of grass and strike therewith, and break not your oath. We found him steadfast in adversity, how excellent a slave! He was ever turning in repentance (to his Lord). (38:44)

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا قَاصِرًا وَلَا تَمْسَسْهَا إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾
﴿٤٤ ص ٤٤﴾

ہم نے اس سے کہا کہ تھکوں کا ایک مٹھہ (جھاڑو) اپنے ہاتھ میں لو اور تم نہ توڑو۔ بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا۔ بہت خوب بندے تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے (44:38)

SHU'AB (JETHRO)

شعیب علیہ السلام

حضرت شعیب علیہ السلام

APPOINTED TO PREACH THE PEOPLE OF MIDIAN, (MIDIANITES), FOLK OF TUBBA AND THE DWELLERS OF FOREST

بعثة شعیب إلى مدین والی أصحاب الأیكة

قوم نبی مدین اور اصحاب ایکہ (جنگل کے رہنے والوں) کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے

The dwellers in the wood (of Midian) denied the messengers (of Allah), (26:176)

كذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٦﴾ الشعراء ١٧٦

رہن کے رہنے والوں (مدین کی اطراف کے باشندے) نے قوم شعیب نے پیغمبروں کو جھٹلایا (176:26)

And to Midian We sent Shuaib, their brother. He said O my people! Worship Allah, and look forward to the Last Day, and do not make mischief, in the earth. (29:36)

وَالِی مَدَیْنِ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا فَقَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا یَوْمَ الْاٰخِرِ وَلَا تَعْتَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ﴿٢٩﴾ العنکبوت ٣٦

اور مدین کی طرف انکے بھائی شعیب کو (بھیجا) تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن (کے آنے) کی امید رکھو اور زمین پر فساد نہ کرتے رہو (36:29)

The folk of Noah denied (the truth) before them, and (so did) the dwellers at Al Rass and (the tribe of) Thamud, (50:12)

كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَاَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُوذُ ﴿٥٠﴾ ق ١٢

ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنوئیں والے اور ثمود جھٹلا چکے ہیں (12:50)

And (the tribe of) Aad, and Pharaoh, and the brothers of Lot, (50:13)

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَاِخْوَانُ لُوطٍ ﴿٥٠﴾ ق ١٣

اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی (13:50)

And the dwellers in the wood, and the folk of Tubba: everyone denied their messengers, therefore My threat took effect. (50:14)

وَاَصْحَابُ الْاٰیكَةِ وَقَوْمُ ثُبَّانٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعَیْدٌ ﴿٥٠﴾ ق ١٤

اور ایکہ والے (اور بن کے رہنے والے) اور تیج کی قوم (غرض) ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا (14:50)

More References: 28:23 38:13,14
Page 1010, 682

والمزید راجع ٢٨ القصص ٢٣: ص ٣٨ ١٤:١٣
الصفحة ١٠١٠، ٦٨٢

مزید حوالہ 28:23 38:13,14
صفحہ 682, 1010

SOCIAL EVILS OF THE PEOPLE OF MIDIAN

سیات اهل مدین الاجتماعية

اہل مدین کی سماجی برائیاں

COMMERCIAL SELFISHNESS- FRAUDULENT DEALING (GIVING SHORT MEASURE OR WEIGHT) CREATING VIOLENCE-LAWLESSNESS CONFUSION IN SOCIETY- HIGHWAY ROBBERY - DACOITY BLOCKING OFF PEOPLE FROM RIGHTEOUS WAY

الخيانة التجارية والخذعة ونقص الكيل والميزان والفساد في الأرض وقطع الطريق، والصد عن سبيل الله

کاروباری بددیانتی اور دھوکہ (ناپ تول میں کمی بیشی) ملک میں شر اور فساد پھیلا نا لوٹ مار ڈکیتی چوری ڈاکہ زنی لوگوں کو حق بات سے روکنا

And to Midian people (We sent) their brother, Shuaib. He said: O my people! Worship Allah. You have no other deity than Him. No doubt! A clear evidence of truth has come to you from your Lord; so give full measure and full weight and deprive not mankind of their right, and spread not corruption on the earth after it has been set in order. That will be better for you, if you are believers. (7:85)

وَالِی مَدَیْنِ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَیْرِهِ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاقْبَلُوا النِّکَیْلَ وَالمِیْزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ ﴿٧٧﴾ الاعراف ٨٥

اور مدین کی طرف ان کی بھائی شعیب کو بھیجا (تو) انہوں نے کہا کہ قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے صاف رہنمائی آگئی ہے لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو۔ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تو سمجھ لو کہ اس بات میں تمہاری بھلائی ہے (7:85)

And do not lie in ambush by every road (that leads to the truth) threatening and trying to turn away from Allah's path all who believe in Him and try to make it appear crooked. And remember, when you were but few, how He did multiply you. And see the nature of the consequence for the corrupters! (86)

And to Midian (We sent) their brother Shuaib. He said: O my people! Worship Allah. Alone you have no other god except Him! And give not short measure and short weight (in any of your dealings with men). I see you now in a happy state, and I fear for you the doom of the setting Day. (11:84)

O my people! Give just measure and just weight. Nor withhold from the people the things that are their due. And do not commit mischief in the earth, causing corruption. (11:85)

That which Allah leaves with you is best for you if you are believers; and I am not to keep watch over you. (86)

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ
وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنَ آمَنَ بِهِ
وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا
وَكَثُرْتُمْ وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾
﴿٧٧﴾

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ الْغَيْرَةِ وَلَا تَنْقُصُوا الْبِكْيَالَ
وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾
﴿١١﴾ هود ٨٤

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْبِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾
﴿١١﴾ هود ٨٥

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ؕ
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾
﴿١١﴾ هود ٨٦

اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرو اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے پر اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ اور (اس وقت کو) یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا (86:7)

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو (بھیجا) تو انہوں نے کہا کہ اے قوم! اللہ ہی کی بندگی کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں آج تو تم کو خوش حال دیکھتا ہوں اور (اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو) مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا (84:11)

اور قوم! ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو (85:11)

اگر تم کو (میرے کہنے کا) یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لئے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں (86:11)

PREACHING OF SHUAIB (PBUH) FOR SOCIAL REJUVENATION AGAINST FRAUD-INJUSTICE AND MISCHIEF

سعی شعیب لإصلاح فساد المجتمع

شعیب علیہ السلام کی تبلیغ برائے اصلاح معاشرہ

He said: O my people! Bethink you: I am (taking my stand) on a clear sign from my Lord and He sustains me with pure and fair sustenance from Him (how can I concede anything to you)? I desire not to do anything of opposition to you that which I desire you not to do. I desire no more except reform as far as I am able. My movement of my aim is only with Allah. In Him I trust and to Him I turn (repentant). (11:88)

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ سَرِيٍّ وَرَضْتُمْ مِّنْهُ رِضًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَلَكُمُ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾
﴿١١﴾ هود ٨٨

شعیب نے کہا اے قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے بہترین روزی دی ہو تو میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک کیسے ہو سکتا ہوں۔ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے تمہیں روکتا ہوں خود ان کا ارتکاب کروں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے (تمہارے معاملات کی) اصلاح چاہتا ہوں اور (اس بارے میں) مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی (کے فضل) سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں (88:11)

And O my people! Do whatever you can, I (too) am acting (my part). You will soon know on whom there comes a doom that will abase him, and who it is that lies. And watch! I too am a watcher with you. (11:93)

وَيَقُومُوا عَمَلُوا عَلَىٰ مَا كُنْتُمْ أَنَّىٰ عَامِلٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنِ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَاذْكُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾
﴿١١﴾ هود ٩٣

اے میری قوم کے لوگو! تم اپنے طریقے پر کام کئے جاؤ میں (اپنے طریقے پر) کام کئے جاتا ہوں تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اور تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں (93:11)

The dwellers in the wood (of Midian) denied the messengers (of Allah), (26:176)

كَذَّبَ اصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾
﴿٢٦ الشعراء﴾

لو رہنے والوں (مدین کی اطراف کے باشندے بھی قوم شعیب) نے پیغمبروں کو جھٹلایا (176:26)

When Shueyb said to them: Will you not fear Allah? (26:177)

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾
﴿٢٦ الشعراء﴾

جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں (177:26)

I am a messenger to you worthy of all trust. (26:178)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾
﴿٢٦ الشعراء﴾

میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں (178:26)

So fear Allah and obey me. (26:179)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٧٩﴾
﴿٢٦ الشعراء﴾

تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو (179:26)

And I ask you no reward for it; my reward is only with the Lord of the Worlds. (26:180)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾
﴿٢٦ الشعراء﴾

لو میں اس (کام) کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو (اللہ تعالیٰ) کے ذمے ہے (180:26)

Give full measure, and be not of those who give less (than the due). (26:181)

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾
﴿٢٦ الشعراء﴾

(دیکھو) پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو (181:26)

And weigh with the true balance (true and accurate scales). (26:182)

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلْسِنَ الْمُسْتَقِيمِينَ ﴿١٨٢﴾
﴿٢٦ الشعراء﴾

اور ترازو سیدھی رکھ کر تولو کرو (182:26)

Wring not mankind in their goods (just due to them), and do not cause mischief, in the earth. (26:183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾
﴿٢٦ الشعراء﴾

لو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو (183:26)

And fear to Him Who created you and the generations of the men before you. (26:184)

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَّةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾
﴿٢٦ الشعراء﴾

لو اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا (184:26)

More Reference : 7:85,86 11:84,85,86 29:36
Page 997, 998

والعزیز راجع ۷ الأعراف: ۸۵، ۸۶ ۱۱ ہود: ۸۴، ۸۵، ۸۶
۲۹ العنکبوت: ۲۶ الصفحة ۹۹۷، ۹۹۸

مزید حوالہ 7:85,86 11:84,85,86 29:36
صفحة 997, 998

PREACHING TO SINFUL FOLK AND DIALOGUES OF SHUAIB(PBUH)

دعوة شعیب قومہ و مناقشائہ تمہم

گمراہ قوم کو تبلیغ اور حضرت شعیب کے مکالمے

(Shuaib replied:) We should have invented a lie against Allah if we return to your religion after Allah has rescued us from it. It is not for us to return to it unless Allah should (so) will. Our Lord comprehends all things in knowledge. In Allah we do put our trust. Our Lord! Decide with truth between us and our folk, for You are the best of those who make decision. (7:89)

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَرَبُّنَا افْتَرَىٰ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾
﴿٧ الاعراف﴾

(شعیب نے جواب دیا) اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے دین میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو (ہم مجبور ہیں) ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (89:7)

But the chiefs of his people, who were disbelieving, said: If you follow Shueyb, then truly you shall be the losers. (7:90)

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنَّ
الْبَعَثُ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ ﴿٩٠﴾
(۷ الاعراف ۹۰)

اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ (بھائیو) اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک بڑے خسارے میں پڑ گئے (90:7)

More Reference: 7:87 Page 1001

وللتفصیل راجع ۷ الاعراف: ۸۷

تفصیل کیلئے دیکھئے 87:7 صفحہ 1001

MIDIANITES CHIEFS GREW SARCASTIC AGAINST SHUAIB (PBUH)'S WORSHIP

استهزاء من املادین بصلاة شعيب عليه السلام

اہل مدین کے سرداروں کا حضرت شعیب کی نماز کا مذاق اڑانا

They said: O Shueyb! Does your way of prayer command you that we should forsake that which our fathers (used to) worship, or that we should leave off) doing what we wish with our own possessions. Are you the only clement and right-minded man. (11:87)

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ
مَا يَعْبُدُ آبَاؤُكَ أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا
نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿١١﴾
(۱۱ ہود ۸۷)

انہوں نے کہا کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو۔ بس تو ہی تو ایک اعلیٰ ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ (87:11)

Reference: 9:70 22:44 Page 679, 202

وللتفصیل راجع ۹ التوبة: ۷۰ ۲۲ الحج: ۴۴

تفصیل کیلئے دیکھئے 9:70 22:44 صفحہ 679, 202

SHUAIB (PBUH) WAS ASKED EITHER TO WINK AT THE INIQUITIES OF THE FOLK TO DRIVE OUT OF CITY

قيل لشعيب أن يصرف النظر
عن جرائم قومه وإلا يخرج من المدينة

شعیب علیہ السلام کو قوم کے جرائم پر پردہ پوشی کرنے کا مشورہ بصورت دیگر شہر بدر کی دھمکی

The leaders of his people, who were arrogant, said: O Shuaib! Surely we will drive you and those who believe with you out of our city, unless you turn to our religion. He said: Even though we hate it? (7:88)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ
قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا
كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾
(۷ الاعراف ۸۸)

(تو) ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے۔ کہ شعیب (یا تو) ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا خواہ ہم (تمہارے دین سے) بے زار ہی ہوں (تو بھی)؟ (88:7)

MIDIANITES CHIEFS THREATENED SHUAIB (PBUH) FOR STONING HIM TO DEATH

تهديد الملا المستكبرين
بالرجم لشعيب

اہل مدین کے سرداروں کی شعیب علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی

They said: O Shueyb! We understand not much of that you say, and infact we do see you weak among us. But were it not for your family, we should have stoned you, if you are not strong against us. (91:11)

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا
لَنَرُوكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ﴿٩١﴾
(۱۱ ہود ۹۱)

انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر (کسی طرح بھی) غالب نہیں ہو (91:11)

He said: O my people! Is my family more to be honoured by you than Allah? And you put Him behind you, neglected! Surely my Lord surrounds what you do. (11:92)

قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعْرَضْتُمْ عَنِ اللَّهِ وَإِنَّمَا تَأْمُرُونَ
بِأَهْوَاءِكُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٢﴾
(۱۱ ہود ۹۲)

انہوں نے کہا! کیا میرے قبیلے کے آدمی تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ ذی عزت ہیں؟ اور اس کو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کئے ہوئے ہے (92:11)

SCOFFING OF CHIEF'S OF UNBELIEVERS AT SHUAIB(PBUH)

استهزاء املاء قوم شعيب

سرداران قوم کا حضرت شعیب سے استهزاء

They said: You are but one of the belittled; (26:185)

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسَحَرِينَ ﴿١٨٥﴾
(۲۶ الشعراء ۱۸۵)

وہ کہنے لگے کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے (185:26)

You are but a mortal like us, and we deem you of the liars. (26:186)

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ
الْكَذِبِينَ ﴿١٨٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٨٦﴾

در تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے
کہ تم جھوٹے ہو (186:26)

**DWELLERS OF FOREST CHALLENGED
THEIR PROPHET TO BRING ON THEM
THE THREATENED PUNISHMENT**

Then make fragments of the heaven fall upon us, if you are of the truthful. (26:187)

مناهضة أصحاب الأيكة لعذاب الله
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٨٧﴾

اصحاب الايكة کا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج
اگر سچے ہو تم ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ
(187:26)

He said: My Lord is best aware of what you do. (26:188)

قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٨٨﴾

(شعیب نے) کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس
سے خوب واقف ہے (188:26)

**SHUAIB (PBUH) ADVISED PEOPLE
FOR ASKING FORGIVENESS OF ALLAH (SWT)
AND TURNING TO HIM IN REPENTANCE**

And if there are some among you who believe in that wherewith I have been sent, and there are some among you who believe not, then have patience until Allah judges between us. He is the best of all who deal in judgement. (7:87)

نصيحة شعيب قومه للتوبة إلى الله
ليغفر ذنوبهم

شعیب علیہ السلام کا قوم کو اللہ کی طرف
بخشش کے لئے رجوع کرنے
اور توبہ کرنے کی تلقین

So he turned from them and said: O my people! I indeed delivered my Lord's messages to you and gave you good advice; then how can I lament over people that rejected (truth)? (7:93)

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ
بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ
اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾
﴿٧ الاعراف ٨٧﴾

اور اگر تم میں سے کچھ لوگ میری رسالت پر ایمان لے
آئے ہیں اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تو صبر کے رہو
یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔
اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (87:7)

And, O my people! Let not the schism with me cause you to sin so that there befalls you that which befell the folk of Noah and the folk of Hud, and the folk of Salih; and the folk of Lot are not far off from you. (11:89)

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ
قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾
﴿٧ الاعراف ٩٣﴾

تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے
تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور تمہارے
ساتھ خیر خواہی کی تھی تو میں کافروں پر (عذاب نازل
ہونے سے) رنج و غم کیوں کروں (93:7)

Ask pardon of your Lord and then turn to Him (repentant). No doubt my Lord is, Merciful, Loving. (11:90)

وَيَقَوْمٌ لَا يَجْرِمُكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ
مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ
صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾
﴿١١ هود ٨٩﴾

اور اے قوم! میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرادے
کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم
پر واقع ہوئی تھی ایسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوط (کا
زمانہ تو) تم سے کچھ دور نہیں (89:11)

**WHOLESALE DESTRUCTION
OF THE MIDIANITES**

**OVERSHADOWING GLOOM-SHOWER OF
ASHES-LAVA AND CINDERS AND EARTHQUAKE
ACCOMPANYING A VOLCANIC ERUPTION**

So the earthquake seized them, and morning found them prostrate in their dwelling places. (7:91)

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيَ
رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾
﴿١١ هود ٩٠﴾

اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ
کرو۔ بیشک میرا پروردگار رحم والا (اور) محبت والا
ہے (90:11)

إتيان عذاب الله على أهل مدين

اہل مدين پر عذاب الہیہ

الظلة واللهب والجدوات والرجفة

بادلوں کی شکل کا سایہ۔ آتش فشانی
(آگ کے شعلے اور چنگاریاں) اور زلزلہ

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جِثْمِينَ ﴿٩١﴾
﴿٧ الاعراف ٩١﴾

تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں
اونڈھے پڑے رہ گئے (91:7)

Those who denied Shueyb became as though they had not dwelt there. Those who denied Shueyb, they were the losers. (7:92)

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَعْنُوا فِيهَا
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾
﴿٧ الاعراف ٩٢﴾

(یہ لوگ) جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے (غرض) جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے (92:7)

INSTEAD APPREHENDING THE SUDDEN SIGNS OF PUNISHMENT - REJOICING OF MISLED PEOPLE

عدم ادراک قوم شعیب لآثار العذاب
المفاجئ واتباعهم

قوم شعیب کا عذاب الہی کے آثار کو دیکھ کر بھی خوش فہمی میں مبتلا رہنا

But they denied him, so there came on them the retribution of the day of Doom. Indeed it was the retribution of an awful day. (26:189)

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّكَ
كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٨٩﴾

تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس سائبان کے عذاب نے ان کو آپکڑا۔ بے شک وہ بڑے (سخت) دن کا عذاب تھا (189:26)

No doubt herein is indeed a portent; most of them are not believers. (26:190)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٩٠﴾

اس میں یقیناً نشانی ہے۔ اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں (190:26)

And your Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful. (26:191)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾
﴿٢٦ الشعراء ١٩١﴾

اور تمہارا پروردگار تو غالب (اور) مہربان ہے (191:26)

But they denied him, and the dreadful earthquake took them, and morning found them lifeless in their dwelling places. (29:37)

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي
دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٣٧﴾

مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے (کے عذاب) نے آپکڑا اور وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے (37:29)

We seized each one in his crime; against some We sent a (hurricane). violent tornado (with shower of stones) and some were overtaken by (awful) Cry, and some. We caused the earth to swallow, and some. We drowned. It was not for Allah to wrong them, but they wronged themselves. (29:40)

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا
عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ
الصَّبْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ
وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٤٠﴾

تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض ایسے جن کو ایک زبردست دھماکہ (سخت آواز) نے آپکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے (40:29)

SHUAIB (PBUH) AND HIS ADHERENTS (BELIEVER COMPANIONS) WERE SAVED FROM THE DESTRUCTION

And when Our commandment came to pass We saved Shuaib and those who believed with him by a mercy from Us; and the (awful) Cry seized those who did injustice, and morning found them lifeless in their dwellings. (11:94)

إنقاذ شعیب
والذین آمنوا معه من عذاب الله

شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچالینا

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصَّبْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٩٤﴾
﴿١١ هود ٩٤﴾

اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کی ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچالیا اور جو ظالم تھے ان کو زوردار سخت آواز نے آدبوجا تو وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے (94:11)

REMAINS OF DWELLERS OF WOOD PRESENT A SCENE OF DISMAL DESOLATION FOR THOSE WHO REALIZE

Although they had not dwelt there. Their removal for Midian, even as Thمود had been removed afar! (95:11)

خرائب أصحاب الأيكة
علامة للاعتبار

اصحاب الايكة کی تباہ شدہ بستیاں
نشان عبرت

كَانَ لَمَّا يَعْنُوا فِيهَا الْآبَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا
بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾
﴿١١ هود ٩٥﴾

گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین (ویسے ہی) دور پھینک دیئے گئے جیسے ثمود دور پھینک دیئے گئے (95:11)

And the dwellers of the wood indeed were evildoers. (15:78)

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾
﴿١٥ الحجر ٧٨﴾

زمین کے رہنے والے (یعنی قوم شعیب کے لوگ) بھی
نہگار تھے (78:15)

So We took vengeance on them; and they both (sinful communities) lived on a high way plain to see (to this day). (15:79)

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾
﴿١٥ الحجر ٧٩﴾

ہم نے ان سے بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے
عام راستے پر (موجود) ہیں (79:15)

And (the tribes of) Aad and Thamud! (Their fate) is manifest to you from their (ruined and deserted) dwellings. Satan made their deeds seem fair to them and this debarred them from the Way, though they were keen observers. (29:38)

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمَّنْ
مَسَكْنَهُمْ ذُرُرُهُمْ وَاللَّهُمَّ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٣٨﴾

رعاد ثمود کو بھی (ہم نے ہلاک کر دیا) چنانچہ ان کے
دوران (گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور
شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان
کو (سیدھے) راستے سے روک دیا۔ حالانکہ وہ دیکھنے
والے (لوگ) تھے (38:29)

FATHER IN LAW OF MOSES (PBUH)

حمو موسیٰ علیہ السلام

موسیٰ علیہ السلام کے خسر

For Detail Consult : 28:22 to 28
Page 1009, 1010, 1011

وللتفصیل راجع ۲۸ القصص: ۲۲: الی ۲۸
الصفحة ۱۰۰۹, ۱۰۱۰, ۱۰۱۱

تفصیل کیلئے دیکھئے 28:22-28
صفحة 1011, 1010, 1009

THE FOLK OF TUBBA

قوم تبع

قوم تبع

For Detail Consult : 44:37 Page 1115

وللتفصیل راجع ۴۴ الدخان: ۳۷: الصفحة ۱۱۱۵

تفصیل کیلئے دیکھئے 37:44 صفحه 1115

COMPANIONS OF THE WELL

اصحاب الرس

اصحاب الرس (کنویں والے)

For Detail Consult : 25:38 50:12
Page 984, 1114

وللتفصیل راجع ۲۵ الفرقان: ۳۸: ۵۰ ق: ۱۲:
الصفحة ۹۸۴, ۱۱۱۴

تفصیل کیلئے دیکھئے 38:25 50:12
صفحة 1114, 984

THE DWELLERS OF FOREST

اصحاب الايكة

اصحاب الايكة

For Detail Consult : 15:79,80 26:176 to 180
Page 1002,936 999
38:13 50:14
682 997

وللتفصیل راجع ۱۵ الحجر: ۷۹: ۸۰، ۲۶ الشعراء: ۱۷۶: الی ۱۸۰
ص: ۳۸ ۵۰: ۱۳: ق: ۱۴: الصفحة ۹۹۷

تفصیل کیلئے دیکھئے 15:79:80 26:176:26
صفحة 936,1002 999
14:50 13:38
997 682

DAUGHTERS OF SHUAIB (PBUH)

بنات شعیب

حضرت شعیبؑ کی بیٹیاں

For detail Consult : 28:23 to 28
Page 1010, 1011

وللتفصیل راجع ۲۸ القصص: ۲۳: الی ۲۸
الصفحة ۱۰۱۱, ۱۰۱۰

تفصیل کیلئے دیکھئے 28:23-28
صفحة 1011,1010

حضرت موسیٰ علیہ السلام

موسىٰ علیہ السلام

MOSES (MUSA) PBUH

MOSES TO PREACH THE CHILDREN OF ISRAEL AND FOR THE SALVATION OF THE PEOPLE OF TORAH FROM FOLK OF PHARAOH

and make mention in the Scripture (the story) of Moses. He was chosen, and he was a messenger (of Allah), a Prophet. (19:51)

gave Moses the Scripture; so be you in doubt about (reaching or getting it) and We appointed it a guidance for the Children of Israel. (23)

بعث لهداية بني اسرائيل وأهل التوراة ولإنقاذهم من آل فرعون

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِذْ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾
﴿١٩ مريم ٥١﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَابِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾
﴿٣٢ السجدة ٢٣﴾

قوم نبی اسرائیل کی ہدایت اور اہل تورات کو آل فرعون (خاندان فرعون) سے نجات دلانے کے لئے مبعوث کیا گیا

اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو بے شک وہ (ہمارے) برگزیدہ رسول اور نبی تھے (51:19)

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پس آپ کو اس (قرآن) کے ملنے (یا حضرت موسیٰ سے ملاقات) میں ہرگز شک نہیں کرنا چاہئے اور ہم نے اس (کتاب) کو (یا موسیٰ کو) بنی اسرائیل کے لئے (ذریعہ) ہدایت بنایا (23:32)

Reference:	6:85,91	7:144	20:14,41
Page	1065,592	1047	1012,1008
Page	121,122	40:53	44:17
Page	1056	1047	1037

المعزین راجع	٦ الأنعام: ٩١,٨٥	٧ الأعراف: ١٤٤
طہ: ٤١,١٤	٣٧ الصافات: ١٢٢,١٢١	٤٠ المؤمن
(غافر): ٥٣	٤٤ الدخان: ١٧	

مزيں ہوالہ	6:85,91	7:144	20:14,41
صفحہ	1065,592	1047	1012,1008
صفحہ	121,122	40:53	44:17
صفحہ	1056	1047	1037

THE NARRATION OF MOSES (PBUH) IN HOLY QURAN AUTHENTICATES THIS SCRIPTURE AS A DIVINE WRIT

We narrate to you (somewhat) of the story of Moses and Pharaoh with truth, for folk who believe. (28:3)

And you (Muhammad) were not on the Western side (of the Mount) when We expounded to Moses the commandment, and you were not among those present; (28:44)

But We brought forth generations, and long were the ages passed over them. And you were not a dweller in Median, reciting to them Our regulations, but it is We Who send messengers. (28:45)

Not you were at the side of Mount Tu when We did call; Moses, but (the knowledge of it is) a mercy from your Lord that you may warn a folk to whom no warner came before you, that haply they may receive admonition. (28:46)

بیان بعثت موسیٰ علیہ السلام فی القرآن الکریم بالتفصیل يدل علی کون القرآن کلام اللہ

تَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾
﴿٢٨ القصص ٣﴾

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾
﴿٢٨ القصص ٤٤﴾

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُورُ وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾
﴿٢٨ القصص ٤٥﴾

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحِمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾
﴿٢٨ القصص ٤٦﴾

حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی بیان قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کا ثبوت ہے

(اے محمد) ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ واقعات مومن لوگوں (کے فائدے) کے لئے صحیح صحیح سناتے ہیں (3:28)

اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو آپ (طور کی) غرب کے جانب موجود نہیں تھے اور نہ اس واقعہ کے دیکھنے والوں میں تھے (44:28)

لیکن ہم نے (موسیٰ کے بعد) کئی امتوں کو پیدا کیا پھر ان پر مدت طویل گزر گئی۔ اور نہ آپ مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجے والے تھے (45:28)

اور نہ آپ اس وقت جب کہ ہم نے (پہلی مرتبہ موسیٰ کو) آواز دی طور کے دامن میں موجود تھے۔ بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت سے (آپ کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں) تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کریں شاید وہ ہوش میں آئیں۔ (46:28)

**THIS STORY IS INSTRUCTIVE FOR POSTERITY
AND A LESSON
FOR WHOSEVER FEARS FROM ALLAH (SWT)**

And We made it an example to their own and to succeeding generations, and an admonition to those who fear Allah. (2:66)

Herein is indeed a lesson for him who fears. (79:26)

**REGIME OF PHARAOH (FIRAUN)
AND HIS HOOLIGANISM IN EGYPT**

**CUNNING DECREE OF PHARAOH TO SLAY
ALL MALE BABIES BORN TO ISRAELITES TO
FORESTALL BIRTH OF PROPHET MOSES (PBUH)**

And (remember) when We did deliver you from Pharaoh's folk, who were afflicting you with dreadful torment, slaying your sons and sparing your women (female childs) That was a tremendous trial from your Lord. (2:49)

And (remember) when We did deliver you from Pharaoh's folk who were afflicting you with dreadful torment, slaughtering your sons and sparing your women. That was a tremendous trial from your Lord. (7:141)

Pharaoh exalted himself in the earth and made its people castes. A tribe among them he suppressed, killing their sons and sparing their women. He was indeed an evildoer.(so depraved) (28:4)

قصہ للاعتبار

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّلْبَآئِنِ يَدِّيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾
﴿٢ البقرة ٦٦﴾

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَّخْتَلِيْ ﴿٧٩﴾
﴿٧٩ النزعت ٢٦﴾

عصر حکم فرعون
والإرهابية في مصر

أمر فرعون بقتل كل مولود ذكر
من بني اسرائيل خوفا لظهور موسى

وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُمْ
سُوًءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ
نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾
﴿٢ البقرة ٤٩﴾

وَإِذْ أَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُمْ
سُوًءَ الْعَذَابِ يُقْتَلُوْنَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ
نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤١﴾
﴿٧ الاعراف ١٤١﴾

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا
شِيْعًا يَتَّصِعُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يَذُرُّ
اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ
مِنَ الْمَفْسِدِيْنَ ﴿٤٨﴾
﴿٢٨ القصص ٤٨﴾

یہ قصہ آنے والی نسلوں کے لئے عبرت
اور پرہیزگاروں کے لئے سبق

اور اس قصے کو (قوم بنی اسرائیل کے انجام کو) اس زمانے
کے لوگوں کے لئے اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کے
لئے عبرت اور پرہیزگاروں کے لئے نصیحت بنا دیا
(66:2)

جو شخص (اللہ سے) ڈر رکھتا ہے اس کے لئے اس
(قصے) میں عبرت ہے (26:79)

فرعون کا عہد حکومت اور مصر میں
اس کی دہشت گردی

فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام (بطور پیغمبر) کی
آمد کے خوف سے قوم بنی اسرائیل کے
تمام پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کر دینے کا حکم

اور (ہمارے ان احسانات کو یاد کرو) جب ہم نے تمہیں قوم
فرعون سے نجات بخشی جنہوں نے تمہیں سخت عذاب میں
جلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری
لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے
پروردگار کی طرف سے بڑی (سخت) آزمائش تھی (49:2)

اور (ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو) جب ہم نے تم کو
فرعونوں (کے ہاتھ) سے نجات بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ
دیتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری
بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے
پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی (141:7)

کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے
باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک گروہ
کو وہ ذلیل کرتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان
کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں تھا
(4:28)

More Reference : 7:127 14:6 40:25
Page 1024, 1032, 1033

وللمزید راجع ٧ الاعراف: ١٢٧ ١٤ ابراهيم: ٦
٤٠ المنومن (غافر): ٢٥ الصفحة ١٠٢٤، ١٠٣٢، ١٠٣٣

مزید حوالہ 7:127 6:14 127:7
صفحہ 1033, 1032, 1024

BIRTH OF MOSES (PBUH)

For detail Consult next Page

مولد موسیٰ علیہ السلام

وللتفصیل راجع الصفحة الاتية

ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام

لتفصیل کے لیے دیکھئے ۱۵۱ صفحہ

THE MOTHER OF MOSES (PBUH) BY ALLAH (SWT) THROUGH INSPIRATION TO PUT THE INFANT MOSES (PBUH) INTO A CHEST AND FLOAT HIM ON THE RIVER NILE TO AVOID THE RISK

and indeed, We conferred a favour on you another time before. (37)

When We sent to your mother by inspiration the message. (20:38)

Saying: Throw him into the chest and cast it into the river, then the river shall throw it on to the bank, and he will be taken up by me who is an enemy to Me and an enemy to your enemy. And I endued you with love from Me that you may be reared under My eye. (20:39)

And We inspired the mother of Moses, saying: Suckle your child when you fear about him, then throw him into the river and fear not, and do not grieve. We shall bring him back to you and shall make him (one) of our messengers. (28:7)

إلهام إلى أم موسى
من الله تعالى أن تلقي المولود
في اليم حفاظة له

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٣٧﴾
﴿٣٧ طه ٢٠﴾

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ طه ٢٠﴾

أَنْ أَقْدِرْ فِيهِ فِي الثَّابُوتِ فَأَقْدِرْ فِيهِ فِي
الْيَمِّ فَلْيُلْقِ الْيَمَّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي
وَعَدُوٌّ لَّهُ وَالْقَبِيْتُ عَلَيْكَ هَبْتَهُ مِنِّي
وَلِتُصْنَعْ عَلَيَّ عَيْنِي ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ طه ٢٠﴾

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾
﴿٢٨ القصص ٧﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدہ موسیٰ کو الہام
حفاظت کے نظریہ سے نو مولود
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا حکم

اور ہم نے تم پر ایک مرتبہ پھر بھی احسان کیا تھا
(37:20)

کہ جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جس کا ذکر
اب کیا جا رہا ہے۔ (38:20)

(وہ یہ تھا) کہ اسے (یعنی موسیٰ کو) صندوق میں رکھو پھر
اس (صندوق) کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسکو ساحل پر
پھینک دے گا (اور) میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھالے گا
اور (موسیٰ میں نے) تم پر اپنی طرف سے محبت طاری
کردی اور ایسا انتظام کیا کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ
(39:20)

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ اس کو دودھ
پلاؤ جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو
اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا
ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور (پھر)
اسے پیغمبر بنا دیں گے (7:28)

THE SISTER OF MOSES (PBUH) TOOK THE CHEST FROM THE BANK AND WATCHED WHERE AND BY WHOM IT WAS PICKED UP

At the heart of the mother of Moses became void, and she was almost going to disclose his case if she had not fortified her heart, that she might be of the believers. (28:10)

And she said to his sister: Trace him. So she observed him from a distance, and they perceived not. (28:11)

اقتضت أخت موسى عليه السلام
آثار الصندوق السابح مستطلعة لمحطته

وَأَصْبَحَ قُورَاءُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِعَاظِينَ كَادَتِ
لِتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا
لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾
﴿٢٨ القصص ١٠﴾

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ قَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ
جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾
﴿٢٨ القصص ١١﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا تیرتے ہوئے
صندوق کی منزل کا سراغ لگانے کے لئے تعاقب کرنا

اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ ہم ان کے دل کو
مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس کا راز فاش کر
دیتی۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں سے تھی (10:28)

اور اس نے بچی (موسیٰ) کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے
پیچھے چلی جا تو چنانچہ وہ اسے دور سے اس طرح دیکھتی
رہی۔ اور ان (دشمنوں) کو کچھ خبر نہ ہوئی (11:28)

THE CHEST WAS TAKEN OUT OF THE RIVER BY PHAROAH'S OWN FAMILY AND THUS MOSES (PBUH) WAS SAVED IN A WONDERFUL WAY

THE WIFE OF PHAROAH LIKED INFANT MOSES (PBUH) AND ADOPTED HIM AS SON AND ASKED PHAROAH NOT TO KILL THAT BABY

أخذ أهل بيت فرعون الصندوق من اليم
فأنقذ موسى عليه السلام بطريقة عجيبة

ثار الحنان في قلب زوجة فرعون
فمنعت فرعون أن يقتله و انخذته ابنا

فرعون کے محل کے لوگوں کا صندوق کو دریا سے نکال
لینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا خوبصورت طریقہ سے محفوظ رہنا

فرعون کی بیوی کا معصوم حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو پسند کرتے ہوئے اسے بطور بیٹا اپنا لینا
اور فرعون کو اسے قتل کرنے سے روکنا

For Detail Consult next Page

وللتفصيل راجع الصفحة الاتية

MOSES (PBUH) BROUGHT UP IN THE PHARAOH'S PALACE TO LEARN ALL THE WISDOM OF EGYPTIANS

And the family of Pharaoh picked him up (it was indeed) that he might become for them an enemy and a sorrow. Pharaoh and Haman and their hosts were ever sinning. (28:8)

And the wife of Pharaoh said: (He will be) a joy of the eyes for me and for you. Kill him not. It may be that he may be of use to us, or we may adopt him as a son. And they perceived not. (What they were doing.) (28:9)

نشأ وترعرع موسى عليه السلام في قصر فرعون كى يستطلع على جميع وجوه الحكمة والذكاء لآل فرعون

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿٢٨﴾ القصص ٨

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَرَّتْ عَيْنِي لِىَ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٩﴾ القصص ٩

فرعون کے محل میں پرورش موسیٰ علیہ السلام (آل فرعون کی تمام مہارتوں سے واقف ہونے کے لئے)

آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اس کو دریا سے نکال لیا اس لئے کہ (نتیجہ یہ ہونا تھا کہ) ان کا دشمن (ان کے لئے موجب) غم ہو۔ بے شک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر (اپنی تدبیر میں) غلط کار تھے۔ (8:28)

اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ (یہ) میری اور تمہاری (دونوں کی) آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کو قتل نہ کرنا۔ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ (انجام سے) بے خبر تھے (9:28)

More Reference : 26:18 Page 1036

والمزید راجع ٢٦ الشعراء: ١٨ الصفحة ١٠٣٦

مزید حوالہ 18:26 صفحہ 1036

SISTER OF MOSES (PBUH) OFFERED THE PHARAOH'S WIFE TO SEARCH OUT A GOOD WET NURSE FOR THE CHILD

And We ordained that he refused to suck foster-mothers (until his sister came up and) she said: Shall I point out to you a household who will nourish him and bring him up for you and take care of him? (28:12)

INFANT MOSES (PBUH) WAS FED AT HIS OWN MOTHER'S BREAST AND NURSED UNDER HER TENDER CARE, EVEN IN PHARAOH'S CASTLE WITH ALLAH'S (SWT) GRACE

When your sister went and said: Shall I show you one who will nurse him? And We restored you to your mother that her eyes might be refreshed and might not sorrow. And you did kill a man and We delivered you from great distress, and tried you in various ways. And you did tarry a number of years among the folk of Midian. Then came you (here) by (My) providence, O Moses, (20:40)

And I have attached you to Myself. (for service). (20:41)

عرضت أخت موسى خدماتها لزوجة فرعون فى تفتيش مرضع

إباء موسى الرضع من المراضع

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ القصص ١٢

نشوء موسى عليه السلام تحت اشراف أمه فى قصر فرعون

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَوَقَّاتٌ لِّنَفْسِكَ مِنَ الْعَذَابِ ۗ وَقَتْنَاكَ فُتُونًا ۗ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۗ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾ طه ٤٠

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾ طه ٤١

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کسی دایہ (نرس) کو ڈھونڈنے کی زوجہ فرعون کو پیشکش

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی دایہ (نرس) سے دودھ پینے سے انکار

اور ہم نے پہلے ہی سے اس (بچے) پر (دایوں کے) دودھ حرام کر دیئے تھے۔ (یہ حالت دیکھ کر) موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں کہ تمہارے لئے اس (بچے) کو پالیں اور اس کی خیر خواہی (سے پرورش) کریں (12:28)

فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کا دودھ پینے اور اس کی نگہداشت میں پرورش پانے کے اسباب البیہ

جب تمہاری بہن (فرعون کے ہاں) گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں بتاؤں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے۔ تو (اس طریق سے) ہم نے تم کو پھر تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ (میرے زندہ نہ ہو) اور تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تو ہم نے تم کو تم سے بچا لیا اور ہم نے تمہاری (کئی بار) آزمائش کی۔ پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے۔ پھر اے موسیٰ تم (قابلیت رسالت کے) وقت پر آ پئے (40:20)

اور (اے موسیٰ) میں نے تم کو اپنے (کام کے) لئے بنایا ہے (41:20)

He said: My Lord! For that You have favoured me, I will never be a supporter of the guilty. (28:17)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾
﴿٢٨ القصص ١٧﴾

موسیٰ نے عہد کیا کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں (آئندہ) کبھی گنہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا (17:28)

THE FACTS OF THE KILLING OF EGYPTIAN WERE UNVEILED

And morning found him in the city, fearing, and vigilant when saw the man he who had appealed to him the day before cried out to him for help (again). Moses said to him: You are indeed one erring manifestly. (28:18)

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ﴿١٨﴾
قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾
﴿٢٨ القصص ١٨﴾

توم قبضہ کے شخص کے قتل کی تفصیل کا افشا ہو جانا
الغرض دوسرے روز صبح کے وقت شہر میں خطرہ بھانپتے ہوئے اور ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں (کیا ہوتا ہے) تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ (موسیٰ نے) اس سے کہا کہ تو کھلی گمراہی میں ہے (18:28)

And when he would have fallen upon the man who was an enemy to them both, the man said: O Moses! Would you intend to kill me as you did kill a person yesterday? You would be nothing but a tyrant in the land, you would not be of the reformers. (28:19)

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾
﴿٢٨ القصص ١٩﴾

جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ (یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی) بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا (اسی طرح) چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظالم بن کر رہو اور یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں ہو (19:28)

MOSES (PBUIH) QUIT EGYPT ON VOLUNTEER EXILE AND MIGRATED TO MIDIAN FOR SAFETY AND PRAYED BEFORE ALLAH (SWT)

And a man came from the furthest end part of the city, running. He said: O Moses! The chiefs take counsel against you to slay you therefore escape. I am of those who give you sincere advice. (28:20)

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾
﴿٢٨ القصص ٢٠﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے خود ساختہ جلا وطنی اور مدین کی طرف ہجرت اور اللہ تعالیٰ سے دعا برائے نجات

اس کے بعد ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے (دوڑتا) ہوا آیا (اور) بولا کہ موسیٰ (شہر کے) رئیس تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں سو تم یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں (20:28)

So he escaped from there looking about in a state of fear. He said: My Lord! Deliver me from the wrongdoing folk. (28:21)

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾
﴿٢٨ القصص ٢١﴾

(یہ خبر سنتے ہی) موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کرنے لگے اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے (21:28)

And when he turned his face towards (the land of) Midian, he said: I do hope that my Lord will guide me in the smooth and right path.. (28:22)

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾
﴿٢٨ القصص ٢٢﴾

اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے گا (22:28)

REACHING OF MOSES (PBUH) AT AN OASIS (WATERING PLACE) IN MIDIAN AND MEETING TWO DAMSELS (DAUGHTERS OF SHUAIB) (PBUH)

And when he arrived at the watering place in Midian he found there a group of men, watering (their flocks). And he found beside them two women keeping back (their flocks). He said: What is the matter with you? They both said: We cannot give (our flocks) to drink till the shepherds return from the water; and our father is a very old man. (28:23)

APPLICATION OF MOSES (PBUH) IN DESPERATE NEED FOR ANY GOOD THAT CAME IN WAY, WHICH WAS ACCEPTED BY ALLAH (SWT) AND RECEIVED WELCOME MESSAGE FROM SHUAIB (PBUH)

He watered (their flock) for them. Then he turned aside into the shade, and said: My Lord! I am in (desperate) need of whatever good you send down for me. (28:24)

When there came to him one of the two damsels walking bashfully. She said: My father invites you, that he may reward you with a payment for what you did water (the flock) for us. Then, when he came to him and narrated him the (whole) story, he said: Fear not! You have escaped from the unjust folk. (28:25)

One of the two women said: O my father! Engage him on wages! For the best (man) that you can employ is the strong, the trustworthy. (28:26)

MARRIAGE OF MOSES (PBUH) WITH SHUAIB (PBUH)'S DAUGHTER MUTUAL AGREEMENT FOR CERTAIN TERMS OF SERVICE IN LIEU OF DOWER

He said: I intend to wed you to one of these two daughters of mine on condition that you serve me for (the term of) eight years But if you complete ten years it will be (grace) from you for I would not make it hard for you. Allah willing, you will find me of the righteous. (28:27)

ورود موسیٰ علیہ السلام ماء مدین
وملاقاتہ ابنتی شعیب علیہ السلام

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً
مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هُ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِم
أُمَّرَاتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا
لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾
﴿٢٨﴾ القصص ٢٣

دعاء موسیٰ علیہ السلام ربہ
فی أشد احتیاجہ الی اللہ تعالیٰ
لطلب خیر فتقبل اللہ تعالیٰ دعاءہ
ولقاءہ شعیب علیہ السلام

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ
إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾
﴿٢٨﴾ القصص ٢٤

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ
قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ
لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ
قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾
﴿٢٨﴾ القصص ٢٥

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ
مِنِ اسْتَأْجِرِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٨﴾ القصص ٢٦

نکاح موسیٰ علیہ السلام بنت شعیب علیہ السلام
وعقد اتفاقية للقيام بخدمات معينة
بدلا من المهر

قَالَ رَبِّي أُرِيدُ أَنْ نَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجْرًا فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ
عَلَيْكَ سِتْرًا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾
﴿٢٨﴾ القصص ٢٧

مدین کے کنویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہنچنا
اور ملاقات دختران حضرت شعیب علیہ السلام

اور جب (موسیٰ) مدین کے پانی (کے مقام) پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے (اور اپنے جانوروں کو) پانی پلا رہے ہیں۔ اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں (اپنی بکریوں کو) روکے کھڑی ہیں۔ (موسیٰ) نے (ان سے) کہا تمہیں کیا پریشانی ہے وہ بولیں کہ جب تک چرواہے (اپنے چوپایوں کو) لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے (آدمی) ہیں (23:28)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کسمپرسی
کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائے طلب
خیر اور اس کی قبولیت اور حضرت شعیب علیہ السلام
کی طرف سے دعوت ملاقات

تو موسیٰ نے ان کے لئے (بکریوں کو) پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف چلے گئے۔ اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے (24:28)

(کچھ دیر نہ گزری تھی کہ) ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کیساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی (اور) کہنے لگی کہ تمہیں میرے والد بلا تے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے (اپنا) ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو۔ اب تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو (25:28)

ایک لڑکی بولی کہ ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے کیوں کہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہی ہو سکتا ہے (جو) تو انا اور امانت دار (ہو) (26:28)

دختر شعیب علیہ السلام کے ساتھ
حضرت موسیٰ کا نکاح اور حق مہر کے بدلے ایک
عرصہ معاہدہ خدمت پر باہمی رضامندی

اس کے باپ نے (موسیٰ سے) کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کر دوں اس (معاہدہ) پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو وہ تمہاری مرضی ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا۔ تم مجھے ان شاء اللہ نیک لوگوں میں سے پاؤ گے (27:28)

He said: That (is settled) between you and me. Whichever of the two terms I fulfil, there will be no injustice to me, and Allah is Surety (a witness) to what we say. (28:28)

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

﴿٢٨ القصص ٢٨﴾

موسیٰ نے جواب دیا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ (عہد پختہ ہوا) ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی (چاہوں) پوری کر دوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو عہد کر رہے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے (28:28)

BEATING DOWN OF FODDER FOR FLOCKS BY MOSES (PBUH) WITH HIS ROD

He said: This is my rod whereon I lean, and wherewith I beat down branches for my sheep, and wherein I find other uses. (20:18)

إِسْقَاطُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أوراق الشجر للغنم بالعصا

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ طه ١٨ ﴿٢٠﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بکریوں کے لئے لاٹھی سے پتے جھاڑنا

موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے۔ اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ (18:20)

ON FULFILMENT OF THE OBLIGATION OF AGREEMENT (TERM OF SERVICES) MOSES (PBUH) LEFT MIDIAN WITH HIS FAMILY

MOSES (PBUH) SAW A FIREBAND IN THE DISTANCE AND ON APPROACHING IT, HE WAS BESTOWED WITH SPIRITUAL ILLUMINATION (GLEAM OF THE HEAVENLY LIGHT) AT MOUNT SINAI, WHERE HE HEARD A DIVINE CALL

سفر موسیٰ علیہ السلام عائداً إلى مدین مع زوجته عند تکمیل مدة الاتفاقية

معاهدہ خدمت کی تکمیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی بیوی کے ہمراہ مدین سے واپسی کا سفر

مشاهدة موسیٰ علیہ السلام تجلیا من الله تعالیٰ علی طور سیناء

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کی جانب آگ دیکھنا اور اس کی تلاش میں طور سینائی (سیناء) پر جلوہ تجلی الہیہ سے فیض یاب ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا (پکار) کا سننا

(Remember) when Moses said to his family I perceive afar off a fire; I will bring you some information from there, or bring to you a burning flame that you may warm yourselves. (27:7)

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بَخْبِرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ النمل ٧ ﴿٧﴾

جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ سی دیکھی ہے میں وہاں سے (یا تو کوئی خبر) پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارا تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپ (سینک) سکو (7:27)

But when he reached it, he was called, saying: Blessed is He Whoever is in the fire and whoever stands around it (are those in the fire and those around) or all who are within (reach of this fire and near it) And glorified be Allah, the Lord of the Worlds! (27:8)

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٨﴾ النمل ٨ ﴿٨﴾

جب موسیٰ اس کے پاس پہنچے تو آواز آئی کہ وہ جو اس آگ میں (جس کی تجلی آگ کی طرح) ہے بابرکت ہے اور وہ مبارک ہے جو اس آگ کے آس پاس ہے۔ اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔ (8:27)

Then, when Moses had fulfilled the term, and was travelling with his family, he saw in the distance a fire and said to his house folk: Bide you (here). I see in the distance a fire; I hope I shall bring you some information from there or a brand from the fire that you may warm yourselves. (28:29)

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنستُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بَخْبِرٍ أَوْ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ القصص ٢٩ ﴿٢٩﴾

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی جانب اپنے آپ آگ دکھائی دی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ (تم یہاں) ٹھہرو۔ مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے (راتے کا) کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تاپ سکو (29:28)

**CONVERSER WITH ALLAH (SWT)
THE ONE TO WHOM ALLAH (SWT)
SPOKE WITHOUT INTERVENTION OF ANGELS**

موسیٰ علیہ السلام - کلیم اللہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ

MOUNT OF SINAI

طور سیناء

جبل سینا (جبل موسیٰ - طور سینا)

And messengers We have mentioned to you before and messengers We have not mentioned to you and Allah spoke directly to Moses; (4:164)

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿٤﴾
النساء ١٦٤

اور آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات (اور واقعات) ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات آپ سے صاف طور پر سے بیان نہیں کئے اور موسیٰ سے تو اللہ نے صاف طور پر باتیں بھی کیں (4:164)

We called him from the right slope of the Mount, and brought him near to Us for converse in secret. (19:52)

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾
مريم ٥٢

اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف سے پکارا اور (راز کی) باتیں کرنے کے لئے اسے نزدیک بلایا (52:19)

Has there come to you the story of Moses? (20:9)

وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿٩﴾
طہ ٩

اور کیا تمہیں موسیٰ (کے حال) کی کچھ خبر ملی ہے (9:20)

When he saw a fire and said to his family, Wait! I see a fire afar off, perhaps I may bring you a burning brand therefrom or may find guidance at the fire. (20:10)

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْعَلُ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ إِخْدُ عَلَى الثَّارِهِدَىٰ ﴿١٠﴾
طہ ١٠

جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم (یہاں) ٹھہرو۔ میں نے آگ دیکھی ہے (میں وہاں جاتا ہوں) شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگارہ لاؤں یا آگ (کے مقام) مجھے کوئی رہنمائی مل جائے (10:20)

And when he reached it, he was called by name: O Moses! (20:11)

فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَىٰ ﴿١١﴾
طہ ١١

جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ (11:20)

even I, am your Lord. So put off your shoes, for you are in the sacred valley of Tuwa. (20:12)

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾
طہ ١٢

اے موسیٰ! میں ہی تو تمہارا پروردگار ہوں تم اپنی جوتیاں اتار دو۔ تم (یہاں) پاک وادی طویٰ میں ہو (12:20)

and I have chosen you, so listen to that which is inspired. (20:13)

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾
طہ ١٣

اور میں نے تم کو چن لیا ہے تو جو کچھ وحی کیا جائے اسے سنو (13:20)

surely, I am Allah. There is no god except Me. So serve Me only and establish regular prayer for My remembrance. (20:14)

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾
طہ ١٤

بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو۔ اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو (14:20)

the Hour is surely coming. But I have almost kept it hidden, that every soul may be rewarded for that which it strives (to achieve). (20:15)

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾
طہ ١٥

قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس (کے وقت) کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق اس کا بدلہ پائے (15:20)

therefore, let not him turn you aside from (the thought of) it who believes not therein but follows his own lusts, lest you perish. (20:16)

فَلَا يُضِدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَذَارَىٰ ﴿١٦﴾
طہ ١٦

پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بنا ہوا ہے کہیں تم کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے تو (اس صورت میں) تم ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ (16:20)

And when he reached it, he was called from the right side of the valley in the blessed field, from the tree: O Moses! I, even I, am Allah, the Lord of the Worlds; (23:36)

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ
فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّوسَىٰ
إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨﴾ الْقَمْر ٣٠

جب اس کے پاس پہنچے تو بولوی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک خطے میں ایک درخت میں سے نواز آئی کہ اے موسیٰ میں تو اللہ رب العالمین ہوں (30:28)

By Mount Sinai, (95:2)

وَكُلُّورِ سِينِينَ ﴿٩٥﴾
﴿٩٥﴾ الْقَمْر ٢

لور (حرم ہے) طور سینین کی (2:95)

12:11, 10:27 23:17-20 143:7
Page 1046, 1013, 1014, 1019

٢٣:١٧-٢٠ ١٤٣:٧ ١٢:١١، ١٠:٢٧
١٠١٩، ١٠١٤، ١٠١٣، ١٠١٤

12:11, 10:27 23:17-20 143:7
1019, 1014, 1013, 1046

AWARD OF MIRACLES BY ALLAH (SWT) TO MOSES (PBUN)

إِعْطَاءُ اللَّهِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ آيَاتٍ

معجزاتِ عزرائل کا عطا کیا جانا

THE ROD THAT BECAME SNAKE (ACTIVE IN MOTION)

العصا التي كانت تصير حية تسعى

اَعصا (اٹھی جڑیچہ جو سرپ بن گئی)

THE RADIANT HAND (WHEN TAKEN OUT OF ARMPIT)

واليد البيضاء

یدِ بیضا (بچن میں بھڑکنے پر سفید چمکتا ہوتا ہوا)

GIVING WAY BY DIVISION OF SEA (ON SMITING THE ROD)

وتسوية طريق يابس في البحر قلزم

لاٹھی سے بحر قلزم میں خشک راستہ بنانا

GUSHING OF TWELVE SPRINGS (ON STRIKING THE STAFF)

انفجار اثني عشرة عينا من الحجر عند ضربه بعصا

چٹان پر لاٹھی مارنے سے بارہ چشموں کا جاری ہونا

And what is that in your right hand, O Moses? (20:17)

وَكَأَيُّكَ بِيَمِينِكَ يُّوسَىٰ ﴿١٧﴾
﴿٢٠﴾ طه ١٧

لور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ (17:20)

He said: This is my rod whereon I lean, and wherewith I beat down branches for my sheep, and wherein I find other uses. (20:18)

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾
﴿٢٠﴾ طه ١٨

موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے۔ اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں لور اس سے میں اپنی بھریوں کے لئے پتے جھارتا ہوں اور تمہیں میت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ (18:20)

He said: Cast it down, O Moses! (20:19)

قَالَ أَلْقِهَا يُّوسَىٰ ﴿١٩﴾
﴿٢٠﴾ طه ١٩

فرمایا کہ موسیٰ اسے (نیچے) پھینک دو (19:20)

So he cast it down, and it was a serpent, gliding. (20:20)

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٢٠﴾
﴿٢٠﴾ طه ٢٠

تو انہوں نے اس کو (نیچے) ڈال دیا اور وہ ایک سانپ بن کر دوڑنے لگا (20:20)

He said: Grasp it and fear not. We shall return it to its former state. (20:21)

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾
﴿٢٠﴾ طه ٢١

اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اس کو بھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے (21:20)

And thrust your hand within your armpit, it will come forth white (shining) without harm (or stain). (That will be) another token. (20:22)

وَاضْمُرْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾
﴿٢٠﴾ طه ٢٢

لور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو وہ کسی عیب (و بیماری) کے بغیر سفید (چمکتا دھمتا) نکلے گا۔ (یہ) دوسری نشانی (ہے) (22:20)

That We may show you (some) of Our greater portents, (20:23)

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ﴿٢٣﴾
﴿٢٠﴾ طه ٢٣

اس لئے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ (23:20)

O Moses! Surely, I am, Allah, the Mighty, the Wise. (27:9)

يُّوسَىٰ إِنَّكَ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾
﴿٢٧﴾ النمل ٩

اے موسیٰ میں ہی اللہ غالب و دانا ہوں (9:27)

And throw down your staff! But when he saw it writhing as it were a demon, he turned to flee headlong; (but it was said to him): O Moses! Fear not! The emissaries fear not in My presence: (27:10)

Except him who has done wrong and afterward has changed evils for good. Truly I am Forgiving, Merciful. (27:11)

Now throw down your rod. And when he saw it moving as it had been a snake, he turned back in retreat and it was said to him): O Moses! Draw near and fear not. You are of those who are secure. (28:31)

Thrust your hand into the bosom of your robe, it will come forth white without stain (or harm) and draw you close to your side. And guard your heart from fear. Then these shall be your credentials from your Lord to Pharaoh and his chiefs: Truly they are all living folk. (28:32)

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٧﴾ النمل ١٠

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سَوْءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾ النمل ١١

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ القصص ٣١

أَسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ وَأَخْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُوبُكَ بِرُءُوسِهِمْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٢﴾ القصص ٣٢

اور اپنی لاٹھی (نیچے) ڈال دو۔ جونہی موسیٰ نے دیکھا تو (اس طرح) ہل رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ (حکم ہوا کہ) موسیٰ ڈرو مت ہمارے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے (10:27)

ہاں جس نے قصور کیا پھر برائی کے بعد اپنے فعل کو نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں (11:27)

اور حکم دیا گیا کہ اپنی لاٹھی نیچے پھینک دو۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا (ہم نے کہا کہ) موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت تم بالکل محفوظ ہو۔ (28:31)

اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکل آئیگا اور خوف دور ہونے (کیوجہ) سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو یہ دونوں تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن نشانیاں ہیں (ان کے ساتھ) فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس (جاؤ) کہ وہ نافرمان لوگ ہیں (28:32)

Core Reference : 2:60 7:107,108,117,160 20:69,77
Page 1043 1036,1026,1044 1028,1035
6:32,33,45,63 27:12 28:48 37:114
22,1028,1038 1019 195 246

وللمزيد راجع ٢ البقرة ٦٠ ٧ الأعراف ١٠٧، ١٠٨، ١١٧، ١٢٠
٢٠ طه ٧٧، ٦٩ ٢٦ الشعراء ٣٢، ٣٣، ٤٥، ٦٣ ٢٧ النمل ١٢
٢٨ القصص ٤٨ ٣٧ الصافات ١١٤

مزيد راجع 2:60 7:107,108,117,160 20:69,77
صفحة 1043 1036,1026,1044 1028,1035
6:32,33,45,63 27:12 28:48 37:114
22,1028,1038 1019 195 246

ALLEY OF TAWA (A SACRED VALLEY) WHERE MOSES (PBUH) RECEIVED TORAH

He gave to Moses the Scripture, and appointed it a guidance for the children of Israel, saying: Choose a guardian besides Me. (17:2)

Detail Consult : 6:154 20:11,12 46:12
Page 247 623 247
36 79:16 87:18,19 246
8 1015

واد طوى - أعطى موسى عليه السلام التوراة هناك

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَنْخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا ﴿٢﴾ ١٧ بنى اسرائيل

وللتفصيل راجع ٤ النساء ١٥٤ ٢٠ طه ١١، ١٢
٤٦ الأحقاف ١٢ ٥٣ النجم ٣٦ ٧٩ النازعات ١٦
٨٧ الأعلى ١٨، ١٩

وادى طوى (مقدس وادى)

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کیلئے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا (2:17)

تفصيل کیلئے دیکھئے 6:154 20:11,12 46:12
صفحة 247 623 247
36 79:16 87:18,19 246
8 1015

COMMANDMENT TO MOSES (PBUH) TO PREACH (TEACH THE TRUTH) TO THE PHARAOH AND HIS PEOPLE

I sent Moses with Our portents, saying: Bring your people forth from darkness to light. And remind them of the Days of Allah. There are tokens for each steadfast, thankful (part). (14:5)

And when your Lord called Moses, saying: Go to the people of iniquity. (2:10)

أمر الله موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وآل فرعون لدعائهم إلى الله تعالى

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾ ١٤ ابراهيم

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى إِنَّ اتِّبِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ الشعراء ١٠

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دینے (تبلیغ دین) کا حکم الہیہ

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ۔ اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلاؤ۔ اور اس میں ان لوگوں کیلئے جو صابر و شاکر ہیں (قدرت اللہ کی) نشانیاں ہیں (5:14)

اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ (10:26)

The folk of Pharaoh. Will they not fear Allah? (26:11)

قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَكَلَيْتُمْ أَصْنَاءَ
﴿٢٦ الشعراء ١١﴾

(یعنی) قوم فرعون کے پاس۔ کیا یہ ڈرتے نہیں
(11:26)

Has there come to you the story of Moses? (79:15)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
﴿٧٩ النزعت ١٥﴾

کیا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے (15:79)

When his Lord called him in the sacred valley of Tuwa, (79:16)

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
﴿٧٩ النزعت ١٦﴾

جب انکے پروردگار نے ان کو پاک وادی (یعنی) طوی
میں پکارا (16:79)

(Saying:) Go you to Pharaoh-He has indeed rebelled (transgressed the bounds) (79:17)(20:24)

إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى
﴿٧٩ النزعت ١٧﴾ ﴿٢٠ طه ٢٤﴾

اور حکم دیا) کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے
(24:20)(17:79)

And say (to him): Do you (wish) to grow in purity? (79:18)

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزْكَى
﴿٧٩ النزعت ١٨﴾

اور (اس سے) کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے
(18:79)

MOSES (PBUH) FRANKLY LAID BEFORE ALLAH (SWT) HIS INNER DOUBTS AND DIFFICULTIES (OF MIND) FOR REBUKING PHARAOH

بیان موسیٰ علیہ السلام مخاوفہ و مشاکلہ
امام اللہ تعالیٰ بشأن ذہابہ الی فرعون

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو تنبیہ کرنے سے
متعلق اپنے دلی خلفشار کا اللہ تعالیٰ سے اظہار

They (Moses and Aaron) said: Our Lord! We fear that he may haste with insolence against us or that he may play the tyrant. (20:45)

قَالَا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ
﴿٢٠ طه ٤٥﴾

دونوں (موسیٰ اور ہارون) کہنے لگے کہ ہمارے رب
میں خوف ہے کہ وہ ہم پر ظلم نہ کرنے لگے یا زیادہ
سرکش ہو جائے (45:20)

He said: Fear not. I am with you twain, Hearing and Seeing everything. (20:46)

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا
﴿٢٠ طه ٤٦﴾

(اللہ نے) فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں
(لوں) سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں (46:20)

And they have a charge of crime against me, so I fear that they will kill me. (26:14)

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ
﴿٢٦ الشعراء ١٤﴾

اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک جرم (یعنی قبطی کے خون کا
الزام) بھی ہے سو مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ مجھ کو مار ہی
ڈالیں (14:26)

He said: My Lord! I killed a man among them and I fear that they will kill me. (28:33)

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ
﴿٢٨ القصص ٣٣﴾

(موسیٰ نے) کہا اے پروردگار کہ ان کا ایک شخص میرے
ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے سو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (کہیں)
مجھ کو مار نہ ڈالیں (33:28)

MOSES (PBUH) BESEECHED ALLAH (SWT) TO APPOINT AARON (PBUH) AS MINISTER TO ASSIST HIM IN HIS MISSION

دعاء موسیٰ علیہ السلام
رہ ليجعل هارون عليه السلام وزيراً له

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی
حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا معاون بنانے کی درخواست

Appoint for me a henchman (minister) from my family, (20:29)

وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلِي
﴿٢٠ طه ٢٩﴾

اور میرے گھروالوں میں سے (ایک کو) میرا وزیر (یعنی
مددگار) مقرر فرما (29:20)

Aaron, my brother. (20:30)

هَارُونَ أَخِي
﴿٢٠ طه ٣٠﴾

(یعنی) میرے بھائی ہارون کو (30:20)

Confirm my strength with him, (20:31)

أَشِدِّ بِهِ أَمْرِي
﴿٢٠ طه ٣١﴾

اس سے میری قوت کو مضبوط کر (31:20)

And let him share my task, (20:32)

وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي
﴿٢٠ طه ٣٢﴾

اور اسے میرے کام میں شریک کر (32:20)

That we may glorify You much, (20:33)

كُنْ نَسْتَبِحُكَ كَثِيرًا ﴿٢٠ طه ٣٣﴾

تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں (33:20)

And much remember You without stint. (20:34)

وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا ﴿٢٠ طه ٣٤﴾

اور تجھے کثرت سے یاد کریں (34:20)

He said: My Lord! I fear that they will deny me, (26:12)

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٢٦ الشعراء ١٢﴾

انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے (12:26)

And I shall be embarrassed, and my tongue will not speak plainly, therefore send for Aaron (to help me). (26:13)

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿٢٦ الشعراء ١٣﴾

اور میرا دل گھٹتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو ہارون کو حکم (دئی) بھیج (کہ میرے ساتھ چلیں) (13:26)

My brother Aaron is more eloquent than I in speech. Therefore send him with me as a helper to confirm and strengthen) me. I fear that they will accuse me of falsehood. (26:34)

وَإِخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٢٨ القصص ٣٤﴾

اور ہارون (جو) میرا بھائی (ہے) اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تائید کرنے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے (34:28)

Reference : 25:35 Page 681

واللفصل راجع ٢٥ الفرقان: ٣٥ الصفحة ٦٨١

تفصیل کیلئے دیکھئے 35:25 صفحہ 681

BEFORE LEADING HIS MISSION TO PHARAOH MOSES (PBUH) PRAYED BEFORE ALLAH (SWT) FOR EASING HIS BREAST (FOR SELF CONFIDENCE AND BOLDNESS) AND GIFT OF ELOQUENCE

دعاء موسیٰ علیہ السلام
ربہ لمنحہ شرح الصدر
عند الذهاب إلى فرعون

فرعون کے پاس تبلیغ حق کے لئے جانے سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب سے شرح صدر (سینہ اور ذہن کھول دینے) اور زبان کی گرہ کھول (گنت دور فرما کر بیان میں فصاحت عطا فرما) دینے کے لئے دعا

Moses) said: My Lord! Expand my breast (breast). (20:25)

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥ طه ٢٥﴾

کہا میرے پروردگار (اس کام کے لئے) میرا سینہ (ذہن) کھول دے (25:20)

And ease my task for me; (20:26)

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦ طه ٢٦﴾

اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے (26:20)

And loose the knot from my tongue, (move the impediment from my speech). (20:27)

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ﴿٢٧ طه ٢٧﴾

اور میری زبان کی گرہ کھول دے (بیان میں فصاحت عطا فرما) (27:20)

That they may understand what I say (20:28)

يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨ طه ٢٨﴾

تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ لیں (28:20)

Reference : 26:13 28:34 Page 1016

واللمزيد راجع ٢٦ الشعراء: ١٣ القصص: ٢٤ الصفحة ١٠١٦

مزيد حوالہ 13:26 34:28 صفحہ 1016

ALLAH (SWT) GRANTED THE SUPPLICATION MOSES (PBUH) AND BOTH BROTHERS WERE ENTRUSTED THE MISSION TO INVITE THE PHARAOH TO THE TRUTH

استجابة دعاء موسیٰ علیہ السلام
والأمر بالذهاب إلى فرعون
يدعوانه إلى الله تعالى

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم

You are ever Seeing us. (20:35)

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥ طه ٣٥﴾

تو ہم کو (ہر حال میں) دیکھ رہا ہے (35:20)

Allah said: You are granted your request, O Moses. (20:36)

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٦ طه ٣٦﴾

(اللہ نے) فرمایا۔ موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی (36:20)

Go, you and your brother, with My tokens, and slacken not in remembrance of Me (you both). (20:42)

إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٢٠ طه ٤٢﴾

تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور یاد میں سستی نہ کرنا (42:20)

Go, both of you, to Pharaoh. He has transgressed (the bounds). (20:43)

إِذْ هَبَّا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٢٠ طه ٤٣﴾

دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے (43:20)

And speak to him a gentle word, that perhaps he may heed to the warnings or fear Allah. (20:44)

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿٢٠ طه ٤٤﴾

اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈرے (44:20)

So go you both to him and say: We are two messengers of your Lord. So let the Children of Israel go with us, and afflict them not. We bring you a token from your Lord. And peace will be for him who follows right guidance. (20:47)

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْذِْبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿٢٠ طه ٤٧﴾

تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پیغمبر کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں تکلیف نہ دیجئے ہم آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو (47:20)

It has been revealed to us that the chastisement will be for him who rejects and turns away. (20:48)

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٢٠ طه ٤٨﴾

ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لئے عذاب (تیار) ہے (48:20)

He said: By no means!. So go you both with Our tokens. We shall be with you, and will listen (to your call). (26:15)

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿٢٦ الشعراء ١٥﴾

فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں (15:26)

So go forth, both of you to Pharaoh and say: We bear a message of the Lord of the Worlds, (26:16)

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦ الشعراء ١٦﴾

دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں (16:26)

He said: We will certainly strengthen your arm with your brother, and We will give to you both authority so that they cannot reach you for Our portents. You both, and those who follow you, will be the winners. (28:35)

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٢٨ القصص ٣٥﴾

اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعہ تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیاں کے سبب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے (اور) تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے (35:28)

MOSES AND AARON (PBUT) INVITED PHARAOH AND HIS FOLK TO PONDER IN SIGNS OF THE UNIVERSE AND REALIZE THE OMNIPOTENCE OF ALLAH (SWT)

دعوة موسى و هارون عليهما السلام فرعون و آله إلى الله تعالى وإلى التفكير في الآفاق ليشعروا قدرة الله تعالى

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کا فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر عقائد کے لئے مظاہر فطرت پر غور کی دعوت دینا

(When the message was delivered) (Pharaoh) said: Who then is the Lord of you both O Moses? (20:49)

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ﴿٢٠ طه ٤٩﴾

(فرس موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے) اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ (49:20)

He said: Our Lord is He Who gave to each created thing its form, then guided it aright. (20:50)

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدَى ﴿٢٠ طه ٥٠﴾

کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی (50:20)

Pharaoh said : What then is the state of the generations of old? (20:51)

He replied the knowledge thereof is with my Lord in a Record. My Lord neither errs nor forgets, (20:52)

Who has made the earth spread out as a bed and has enabled you to go about therein by roads and has sent down water from the sky and thereby We have brought forth diverse pairs of vegetation, each separate, from another. (20:53)

(Saying): Eat you and feed your cattle. Herein surely are portents for men of thought. (20:54)

Whereof (the earth) We created you, and thereto We return you and there (we) bring you forth once again. (20:55)

And, O my people! How (strange) it is that I call you to deliverance when you call me to the Fire? (40:41)

You call me to blaspheme against Allah and ascribe to Him as partners that whereof I have no knowledge, while I call you to the Straight Path, the Forgiver again and again. (40:42)

Assuredly that where to you call me has no claim to be called to in the world or in the Hereafter, and our return will be to Allah, and the Pedigals will be owners of the Fire. (40:43)

And soon you will remember what I said to you (now). I confide my cause to Allah. Allah is Seer of (His) secrets. (40:44)

NINE CLEAR SIGNS AWARDED TO MOSES (PBUH) BY ALLAH (SWT)

All We gave to Moses nine clear signs (proofs) of Allah's Sovereignty. Do but ask the Children of Israel when he came to them, then Pharaoh said to him: I deem you one bewitched, O Moses. (101)

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾

﴿٢٠ طه ٥١﴾

قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

﴿٢٠ طه ٥٢﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن تَبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

﴿٢٠ طه ٥٣﴾

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّبِيِّ ﴿٥٤﴾

﴿٢٠ طه ٥٤﴾

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَفِيهَا كُنَّا نُمِطُّكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾

﴿٢٠ طه ٥٥﴾

وَيَقَوْمٍ مَّا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾

﴿٤٠ المؤمن ٤١﴾

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

﴿٤٠ المؤمن ٤٢﴾

لَأَجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

﴿٤٠ المؤمن ٤٣﴾

فَسَتَدْرِكُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

﴿٤٠ المؤمن ٤٤﴾

اوتی موسیٰ تسع آیات بینات من اللہ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُوسُفَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

﴿١٧ بنی اسرائیل ١٠١﴾

فرعون نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہوتا ہے (20:51)

کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے (جو) کتاب میں (لکھا ہوا ہے) میرا پروردگار نہ چھوکتا ہے نہ بھولتا ہے (20:52)

وہ (وہی تو ہے) جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو فرش بچھایا۔ اور اس میں تمہارے چلنے کے لئے راستے بتائے اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ (20:53)

(کہ خود بھی) کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔ بیشک ان (باتوں) میں عقل والوں کیلئے (بہت سی) نشانیاں ہیں (20:54)

اسی (زمین) سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اس میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے (20:55)

اور اے قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے (دوزخ کی) آگ کی طرف بلاتے ہو (41:40)

تم مجھے اس لئے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کرو جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں۔ اور میں تم کو اللہ غالب (اور) بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں (42:40)

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ دنیا اور آخرت میں پکارے جانے کے قابل ہی نہیں ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹا ہے اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں (43:40)

جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے (آگے چل کر) یاد کرو گے۔ اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے (44:40)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں

اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے (101:17)

And put your hand into the bosom of your robe, it will come forth (shining) white but unhurt. (These two will be) among nine tokens to Pharaoh and his people. They are ever evil living folk. (27:12)

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾
﴿٢٧ النمل ١٢﴾

اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب چمکتا نکلے گا (ان دو معجزوں کے ساتھ جو) نو معجزوں میں (داخل ہیں) فرعون اور اس کی قوم کے پاس (جاؤ) کہ وہ بد کردار لوگ ہیں (12:27)

More Reference : 2:60 7:107,108,117,160
Page 1042 1036,1026,1044
20:69,77 26:32,33
1028,1035 1022

والمعزین راجع البقرة: ٦٠ الأعراف: ١٠٨، ١٠٧
١٦٠، ١١٧، ٢٠ طه: ٧٧، ٦٩ ٢٦ الشعراء: ٣٢، ٣٣
الصفحة ١٠٤٢، ١٠٣٦، ١٠٢٦، ١٠٤٤، ١٠٢٨، ١٠٣٥، ١٠٢٢

مزيد حوالہ 2:60 7:107,108,117,160
صفحہ 1042 1036,1026,1044
33,32:26 77,69:20
1022 1035,1028

PHARAOH AND HIS CHIEFS REFUSED TO BELIEVE IN MOSES AND AARON (PBUT) THEY NOT ONLY SCOFFED AT THEM BUT FALSELY ARGUED

انکار فرعون وملائه بقبول دعوة الحق من موسى وهارون عليهما السلام واستهزاء هم بها واستدلالهم الزائف على الشرك

فرعون اور آل فرعون کے سرداروں کا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہما السلام کی بات ماننے سے انکار استہزاء اور اپنے شرک پر استدلال

Then, after them, We sent Moses and Aaron to Pharaoh and his chiefs with Our revelations, but they were arrogant and were a guilty folk. (10:75)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا فَجُورِينَ ﴿٧٥﴾
﴿١٠ يونس ٧٥﴾

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے غرور کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے (75:10)

And when the Truth came to them from Us, they said: This is mere sorcery. (10:76)

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾
﴿١٠ يونس ٧٦﴾

تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے (76:10)

Moses said: Speak you (so) of the Truth when it has come to you? Is this magic? Now magicians will not prosper. (10:77)

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا أَمْ لَا يَفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾
﴿١٠ يونس ٧٧﴾

موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ (77:10)

They said: Have you come to us to pervert us from that (faith) in which we found our fathers, and that you two may own the place of greatness in the land? We will not believe in you both, (10:78)

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَنَّكَ وَاجْعَلْنَا لَكَ آلِهَةً مِّثْلَ آبَائِنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾
﴿١٠ يونس ٧٨﴾

وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ جس (راہ) پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو۔ اور (اس) ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے؟ اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں (78:10)

To Pharaoh and his chiefs, but they behaved insolently and they were despotic folk. (23:46)

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٤٦﴾

(یعنی) فرعون اور اس کی جماعت کی طرف انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکشی لوگ تھے (46:23)

And they said: Shall we put faith in two mortals like ourselves, and whose folk are servile to us? (23:47)

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ ﴿٤٧﴾
﴿٢٣ المؤمنون ٤٧﴾

کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جن کی قوم کے لوگ ہمارے خدمت گار ہیں (47:23)

So they denied them, and became of those who were destroyed. (23:48)

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾
﴿٢٣ المومنون ٤٨﴾

تو ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا آخر ہلاک کر دیئے گئے (48:23)

(Moses) said: Lord of the heavens and the earth and all that is between them if you had but sure belief (26:24)

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٤﴾

موسیٰ نے کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا رب ہے اگر تم لوگوں کو یقین ہو (24:26)

(Pharaoh) said to those around him: Do you not listen? (What he says)? (26:25)

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٥﴾

فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے ہو؟ (25:26)

Moses said: Your Lord and the Lord of your fathers from beginning. (26:26)

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٦﴾

(موسیٰ نے) کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے (26:26)

Pharaoh) said: Your messenger who has been sent to you is a veritable madman! (26:27)

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٧﴾

(فرعون نے) کہا کہ (یہ) پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے (27:26)

Moses said: Lord of the East and the West and all that is between them, if you did but understand. (26:28)

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٨﴾

(موسیٰ نے) کہا وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اگر تمہیں سمجھ ہو (28:26)

But when Our tokens came to them, plain to see, they said: This is mere magic! (27:13)

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾
﴿٢٧ النمل ١٣﴾

جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے (13:27)

But when Moses came to them with Our clear tokens, they said: This is nothing but invented magic. We never heard of this among our forefathers (28:36)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مَقْتَرِي وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ ﴿٣٦﴾
﴿٢٨ القصص ٣٦﴾

اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور یہ (بائیں) ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو (کبھی) سنی نہیں (36:28)

And Moses said: My Lord is best aware of him who brings guidance from Him, and whose will be the sequel of the Home (of bliss). Wrongdoers will not be successful. (28:37)

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾
﴿٢٨ القصص ٣٧﴾

اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا جس کے لئے عاقبت کا گھر (یعنی بہشت) ہے۔ بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے (37:28)

And We sent Moses with Our relations to Pharaoh and his chiefs, and he said: I am a messenger of the Lord of the Worlds. (43:46)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾
﴿٤٣ الزخرف ٤٦﴾

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں (46:43)

But when he brought them Our tokens, they laughed at them. (43:47)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾
﴿٤٣ الزخرف ٤٧﴾

جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانوں سے ہنسی کرنے لگے (47:43)

And every token that We showed them was greater than its fellow (then), and We grasped them with the torment, that haply they might turn again. (43:48)

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾
﴿٤٣ الزخرف ٤٨﴾

اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے وہ دوسری سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ اپنی روش سے باز آئیں (48:43)

And Pharaoh caused a proclamation to be made among his people saying: O my people! Is not mine the sovereignty of Egypt and these rivers flowing beneath (my palaces)? Can you not then discern? (43:51)

I am surely better than this fellow, who is despicable, and can hardly express himself clearly. (43:52)

Why, then, have armlets of gold not been set upon him, or angels sent along with him? (accompanying him in procession). (43:53)

And in Moses (too, there is a portent) when We sent him to Pharaoh with clear warrant, (51:38)

But he withdrew (confiding) in his might, and said: A wizard or a madman. (51:39)

Then I will guide you to your Lord so that you shall fear (Him). (79:19)

And he showed him the great sign. (79:20)

But Pharaoh denied and disobeyed, (guidance). (79:21)

Then he turned away in haste, striving hard (against Allah). (79:22)

Then he gathered (his men) and summoned. (79:23)

And proclaimed: "I (Pharaoh) am your lord the highest." (79:24)

So Allah seized him (and made him) an example for the hereafter and in this life. (79:25)

PHARAOH THREATENED MOSES (PHUH) WITH PRISON FOR TREASON AND EITHER TO SLAY OR STONE TO DEATH WHILE MOSES (PHUH) REMAINED STEADFAST

(Pharaoh) said: If you choose a god other than me, I assuredly shall place you among the prisoners. (26:29)

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾
﴿٤٣ الزخرف ٥١﴾

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾
﴿٤٣ الزخرف ٥٢﴾

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ٥٣﴾

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٥١﴾
﴿٥١ الذریت ٣٨﴾

فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ لِسِحْرٍ أَوْ جُنُونٍ ﴿٣٩﴾
﴿٥١ الذریت ٣٩﴾

وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿١٩﴾
﴿٧٩ النزعت ١٩﴾

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴿٢٠﴾
﴿٧٩ النزعت ٢٠﴾

فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٢١﴾
﴿٧٩ النزعت ٢١﴾

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ﴿٢٢﴾
﴿٧٩ النزعت ٢٢﴾

فَجَشَعْنَا دُؤُوبَهُ ﴿٢٣﴾
﴿٧٩ النزعت ٢٣﴾

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾
﴿٧٩ النزعت ٢٤﴾

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾
﴿٧٩ النزعت ٢٥﴾

تہدید فرعون لموسى بالسجن والقتل، واستقامة موسى عليه السلام

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذَتِ الْهَآغِيرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾
﴿٢٦ الشعراء ٢٩﴾

اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یہ نہریں جو میرے (مخلوں کے) کے نیچے بہ رہی ہیں (یہ میری نہیں ہیں) کیا تم دیکھتے نہیں؟ (51:43)

بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں (52:43)

تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا (یہ ہو تاکہ) فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے (53:43)

اور موسیٰ (کے حال) میں (بھی نشانی ہے) جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا (38:51)

تو اس نے اپنی قوت (کے گھمنڈ) پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ (39:51)

اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف (پیدا) ہو (19:79)

غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی (20:79)

مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا (21:79)

پھر چال بازیاں کرنے کے لئے پلٹا۔ (22:79)

اور (لوگوں کو) اکٹھا کیا اور پکارا (23:79)

کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں (24:79)

تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت (دونوں) کے عذاب میں پکڑ لیا (25:79)

فرعون کی حضرت موسیٰ کو قید اور قتل یا سنگسار کرنے کی دھمکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ دین پر ثابت قدم رہنا

(فرعون نے) کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں قید کردوں گا (29:26)

He said: Even though I show you something clear and convincing? (26:30)

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٢٦﴾ الشعراء: ٣٠

(موسیٰ نے) کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں (یعنی معجزہ؟) (30:26)

(Pharaoh) said: Produce it then, if you are of the truthful! (26:31)

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٢٦﴾ الشعراء: ٣١

(فرعون نے) کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ (دکھاؤ) (31:26)

Then he flung down his staff and it became a serpent manifest: (26:32)

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ الشعراء: ٣٢

پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ یکایک ایک صریح اژدہا بن گئی (32:26)

And he drew forth his hand and it was white to the beholders. (26:33)

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِينَ ﴿٢٦﴾ الشعراء: ٣٣

اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید براق نظر آنے لگا (33:26)

And Pharaoh said: Suffer me to kill Moses, and let him cry to his Lord. I fear that he will alter your religion or that he will cause confusion in the land. (40:26)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٤٠﴾ المؤمن: ٢٦

اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ (کہیں) تمہارے دین کو (نہ) بدل دے یا ملک میں (بہت بڑا) فساد (نہ) پیدا کر دے (26:40)

Moses said: I seek refuge in my Lord and your Lord from every corner who believes not in a Day of account. (40:27)

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٤٠﴾ المؤمن: ٢٧

موسیٰ نے کہا کہ میں ہر تکبر (غرور) کرنے والے سے جو حساب کے دن (یعنی قیامت) پر ایمان نہیں لاتا۔ اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں (27:40)

And I have sought refuge in my Lord and your Lord lest you stone me to death. (44:20)

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٤٤﴾ الدخان: ٢٠

اور اس (بات) سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں (20:44)

And if you put no faith in me, At least keep yourself away from me. (44:21)

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِي فَأَعْتَزَلُونَ ﴿٤٤﴾ الدخان: ٢١

اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ (21:44)

SOLE BELIEVERS OF MOSES (PBUH), TEACHINGS AND THEIR SEEKING REFUGE FROM PHARAOH'S OPPRESSION

الفتيان الأولون الذين آمنوا لموسى عليه السلام ودعاءهم من الله تعالى للنجاة من ظلم فرعون

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے چند لوگ اور ان کی اللہ تعالیٰ سے فرعون کے ظلم سے نجات کے لئے دعا

But none believed Moses, except his own offspring (children) among his own folk (and they were) in fear of Pharaoh and their chiefs, that he would persecute them. Certainly Pharaoh was a tyrant on the land, and he was of the wantons. (10:83)

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِمَّنْ قَوْمِيهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٠﴾ يونس: ٨٣

تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا۔ مگر اس کی قوم سے چند آدمی (اور وہ بھی) فرعون اور اس کے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو مصیبت میں نہ پھنسا دے۔ اور فرعون ملک میں مغرور اور زور آور اور (کبر و کفر میں) حد سے بڑھا ہوا تھا (83:10)

And Moses said: O people if you have believed in Allah then put trust in Him. If you (are Muslim) have already surrendered to Him. (10:84)

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿١٠﴾ يونس: ٨٤

اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اگر دل سے فرمانبردار ہو (مسلمان ہو) تو اسی پر بھروسہ رکھو (84:10)

They said: In Allah we put trust. Our Lord! Make us not a lure for the wrongdoing folk! (10:85)

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾
﴿١٠ یونس ۸۵﴾

تو وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ آزمائش میں نہ ڈال (85:10)

And, deliver us with Your mercy from the folk who disbelieve. (10:86)

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١١﴾
﴿١١ یونس ۸۶﴾

اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش (86:10)

A MAN FROM PHARAOH'S COURT
(A BELIEVER WHO HAD SINCE ATTAINED FAITH)
CAME TO ADHERE (BOOST) THE MISSION
OF MOSES (PBUH)

مجی رجل مؤمن من آل فرعون یکتُم
ایمانہ و حمایتہ لرسالة موسى علیه السلام

قوم فرعون میں سے ایک مومن شخص کی آمد اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کی حمایت کرنا

And a believing man of Pharaoh's family, who had concealed his faith, said: Would you kill a man because he says my Lord is Allah, and has brought you clear signs from your Lord? If he is lying, then his lie is upon him; and if he is truthful then some of (the calamity) which he warns you will strike you. Allah guides not one who is a prodigal, a liar. (40:28)

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ
إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ
وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ
يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا
يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾
﴿٢٨ المنومن ۲۸﴾

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا کیا تم اس شخص کو (صرف اس لئے) قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار (کی طرف) سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سزا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا جھوٹا ہے (28:40)

O my people! Yours is the kingdom today, you being uppermost in the land. But who would save us from the wrath of Allah should it reach us? Pharaoh said: I do but point out you what I think, and I do but guide you to wise policy. (40:29)

يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ
فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا
فَقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا
أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾
﴿٢٩ المنومن ۲۹﴾

اے قوم آج تمہاری ہی بادشاہت ہے۔ اور تم ہی ملک میں غالب ہو (لیکن) اگر ہم پر اللہ کا عذاب آگیا تو (اس کے دور کرنے کیلئے) ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے (29:40)

And he who believed said: O my people! I fear for you a fate like that of the factions (of old); (40:30)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾
﴿٣٠ المنومن ۳۰﴾

تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر پہلی امتوں کی طرح کے عذاب آجائے (30:40)

A plight like that of Noah's folk, and Aad and Thamud, and those after them, and Allah never wishes injustice for (His) slaves. (40:31)

مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ
مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾
﴿٣١ المنومن ۳۱﴾

(یعنی) نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح (تمہارا حال نہ ہو جائے) اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا (31:40)

And, O my people! I fear for a Day of Summoning, (and wailing). (40:32)

وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾
﴿٣٢ المنومن ۳۲﴾

اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن (یعنی قیامت) کا خوف ہے (32:40)

A Day when you will turn to flee, having no preserver from Allah: And he whom Allah sends astray, for him there is no guide. (40:33)

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾
﴿٣٣ المنومن ۳۳﴾

جس دن تم پیٹھ پھیر کر (قیامت کے میدان سے) بھاگو گے (اس دن) تمہیں کوئی (عذاب) اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں (33:40)

and to you there came Joseph in times gone by with clear proofs, yet you ceased not to be in doubt concerning what he brought you all, when he died, you said: Allah will not send any messenger after him. Thus Allah leaves him stray who is a transgressor, a doubter. (34:40)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٤٠﴾

اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں (دلائل اور برہان) لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے۔ یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا (اور) شک کرنے والا ہے (34:40)

﴿٤٠﴾ المثنون ٣٤

and he who believed said: O my people! Follow me. I will show you the way of right conduct. (40:38)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يٰ قَوْمِ اتَّبِعُونِ اِهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾

اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میری پیروی کرو میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا (38:40)

﴿٣٨﴾ المثنون ٣٨

my people! This life of the world is but a passing comfort, and the hereafter, that is the enduring one. (40:39)

يٰ قَوْمِ اِنَّمَا هِيَ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتًا وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

بھائیو یہ دنیا کی زندگی (چند روز) فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے (39:40)

﴿٣٩﴾ المثنون ٣٩

Reference: 28:20 36:20,27
1009, 1110, 1111

واللمزيد راجع ٢٨ القصص ٢٠: ٣٦ يس ٢٧:٢٠٠
الصفحة ١٠٠٩, ١١١٠, ١١١١

مزين ذواله 27,20:36 20:28
صفحة 1111, 1110, 1009

PHARAOH'S COUNSELLORS PAINTED THE SITUATION PANICKING REGARDING MIRACLES OF MOSES (PBUH)

تخويف الملا فرعون ان يكون موسى عليه السلام مفسدا وساحرا

قوم کے سرداروں کا فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کا خوف دلانا

The chiefs of Pharaoh's people said: This is indeed a well-versed sorcerer: (7:109)

قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا السَّحِرُ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

تو قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے (109:7)

﴿٧﴾ الاعراف ١٠٩

His plan is to expel you from your land. Now what do you advise? (10:10)

يُرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ فَمَا ذَاتَا مَرُوْنَ ﴿١٠﴾

اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو (110:7)

﴿١٠﴾ الاعراف ١١٠

The chiefs of Pharaoh's people said: (O King), will you leave Moses and his people to make mischief in the land, and abandon you and your gods? He said: We will slay their sons and spare their women, for we are in irresistible power over them. (7:127)

وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسٰى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذُرُكَ وَاَلِهَتَكَ ط قَالَ سَنُقْتِلُ اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دست کش ہو جائیں۔ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں (بیٹوں) کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بلاشبہ ہم ان پر ہر طرح سے غالب ہیں (127:7)

﴿١٢٧﴾ الاعراف ١٢٧

(Pharaoh) said to the chiefs around him This is surely a knowing wizard, (26:34)

قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا السَّحِرُ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے (34:26)

﴿٣٤﴾ الشعراء ٣٤

His plan is to drive you out of your land by his magic. Now what counsel you? (26:35)

يُرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَا ذَاتَا مَرُوْنَ ﴿٣٥﴾

چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو (کے زور) سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ (35:26)

﴿٣٥﴾ الشعراء ٣٥

**CONFRONTATION OF PHARAOH
AND OPEN CHALLENGE OF MOSES (PBUH)
FOR CONTEST AT AN OPEN FAIR PLACE
ON A GREAT DAY OF TEMPLE FESTIVAL
(ANNUAL PUBLIC DECORATION DAY)**

And We did show him all Our tokens, but he denied them and refused. (20:56)

He said: Have come to drive us out from our land by your magic, O Moses? (20:57)

But we surely can produce magic the like thereof; so appoint a tryst between us and you, which neither we nor you shall fail to keep, at a place convenient (to us both). (20:58)

(Moses) said: Your tryst shall be the day of the festival, and let the people assemble when the Sun is well up. (20:59)

**PHARAOH SUMMONED
THE MOST POWERFUL WIZARDS FROM ALL OVER
THE COUNTRY TO COUNTER MIRACLES
OF MOSES (PBUH)**

They said (to Pharaoh): Put him off (a while) and his brother and send into the cities summoners: (7:111)

To bring each well versed wizard to you. (7:112)

And Pharaoh said: Bring every cunning wizard to me. (10:79)

They said: Put him off, and his brother, (for a while) and send them into the cities summoners, (heralds) (26:36)

Who shall bring to you every knowing wizard. (26:37)

So all the wizards were gathered together at a set time on a day appointed. (26:38)

And it was said to the people: Are you (also) gathering? (26:39)

مواجهة موسیٰ علیہ السلام فرعون
وتحدیہ له للمباراة بیوم الزینة

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿٢٠﴾ طه ٥٦

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ
يَمُوسَىٰ ﴿٥٧﴾ طه ٥٧

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوِيًّا ﴿٥٨﴾ طه ٥٨

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ
ضَعَىٰ ﴿٥٩﴾ طه ٥٩

استحضار فرعون كل السحرة
لمبارزة موسیٰ علیہ السلام

قَالُوا آرِجُهُ وَآخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ
حٰشِرِينَ ﴿١١١﴾ الاعراف ١١١

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ الاعراف ١١٢

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ يونس ٧٩

قَالُوا آرِجُهُ وَآخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ
حٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾ الشعراء ٣٦

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ الشعراء ٣٧

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ الشعراء ٣٨

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ الشعراء ٣٩

فرعون کا تکرار اور حضرت موسیٰ کا یوم زینت
(سالانہ جشن نوروز) کو کھلے میدان میں
مقابلہ کا چیلنج

اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا
اور انکار ہی کرتا رہا (56:20)

کننے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ
اپنے جادو (کے زور) سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو
(57:20)

تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو
ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو نہ تو ہم اس
قرار داد سے پھریں گے اور نہ تم (اور یہ مقابلہ) ایک
کھلے میدان میں (ہوگا) (58:20)

(موسیٰ نے) کہا کہ آپ کے لئے زینت اور جشن کے
دن کا طے ہوا اور یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں
(59:20)

فرعون کا ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے معجزات کا مقابلہ کرنے کے لئے بلانا

انہوں نے (فرعون سے) کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس
کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھئے اور شہروں میں
اپنی روانہ کر دیجئے (111:7)

کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں
(112:7)

اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو
ہمارے پاس لے آؤ (79:10)

انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی (کے بارے)
میں کچھ توقف کیجئے اور تمام شہروں میں (ہر کارہ) نقیب
بھیج دیجئے (36:26)

کہ سب ذی علم جادوگروں کو (جمع کر کے) آپ کے پاس
لے آئیں (37:26)

تو تمام جادوگر ایک مقررہ دن کے وعدے پر جمع ہو گئے
(38:26)

اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم (سب) کو جمع میں
حاضر ہو جانا چاہیے۔ (39:26)

So that we may follow the wizards if they are the winners. (26:40)

لَعَلَّكَ نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٢٦﴾ الشعراء: ٤٠

تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان ہی کی پیروی کریں (40:26)

PHARAOH PROMISED THE SORCERERS FOR REWARD IF THEY WIN

وعد فرعون بالأجر والتقريب للسحرة إن كانوا غالبين

فرعون کے جادوگروں کو کامیاب ہونے پر انعام و اکرام کے وعدے

And the wizards came to Pharaoh, saying: Of course there shall be a reward for us if we are victors. (7:113)

وَجَاءَ السَّحْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنْ لَنَا لَأَجْرٌ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾ الشعراء: ١١٣

(چنانچہ ایسا ہی کیا گیا) اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور (اور) کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے (113:7)

He answered: Yes (and more) you shall be of those brought near (to me). (7:114)

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿١١٤﴾ الشعراء: ١١٤

(فرعون نے) کہا ہاں (ضرور) اور (اس کے علاوہ) تم خاص درجہ میں داخل کر لئے جاؤ گے (114:7)

And when the wizards came they said to Pharaoh: Will there surely be a reward for us if we are the winners? (26:41)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا أَجْرٌ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ الشعراء: ٤١

جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا؟ (41:26)

He said: Of course and you will then surely be (raised to posts) of those brought near (to me). (26:42)

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٤٢﴾ الشعراء: ٤٢

فرعون نے کہا ہاں (بڑی خوشی سے) بلکہ اور تم مقربوں میں بھی شامل کر لئے جاؤ گے (42:26)

COMPETITION OF ENCHANTERS OF PHARAOH WITH MOSES (PBUH) AND THEIR DEFEAT

مباراة سحرة فرعون من موسى عليه السلام و فشلهم

جادوگران فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ اور ان کی شکست

They said: O Moses! Either throw first) or let us be the first throwers. (7:115)

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ الشعراء: ١١٥

(جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو) جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم (جادو کی چیز) ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں (115:7)

He said: Throw! And when they threw they cast a spell upon the people's eyes, and struck terror into them, and produced a great (feat of) magic. (7:116)

قَالَ الْقُوا فَلَمَّا الْقُوا سَعَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ الشعراء: ١١٦

(موسیٰ نے) کہا کہ تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے (جادو کی چیزیں) ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا (یعنی نظر بندی کر دی) اور (لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا کر) انہیں ڈرا دیا اور بہت جادو دکھایا (116:7)

And We inspired Moses (saying): Throw your staff! And it swallowed (their lying show) all the falsehood, which they fake! (7:117)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ الشعراء: ١١٧

اور (اسی وقت) ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو فوراً (سانپ بن کر) جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو (ایک ایک کر کے) نگل جائے گی (117:7)

Thus the Truth was vindicated and that which they were doing was made vain. (7:118)

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ الشعراء: ١١٨

(پھر) تو حق ثابت ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا باطل ہو گیا (118:7)

Thus they were defeated (vanquished) there and brought low (brought about humble). (7:119)

فَغَلَبُوا هَذَا لَكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾ الشعراء: ١١٩

اور وہ سب اس موقع پر ہار گئے (مغلوب ہو گئے) اور ذلیل ہو کر رہ گئے (119:7)

And when the wizards came, Moses said to them: Cast what you wish to cast. (10:80)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾ يونس: ٨٠

جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو (80:10)

And when they had cast, Moses said: That which you have brought is magic. Allah will surely make it of no effect. Allah upholds not the work of mischief-makers: (10:81)

فَلَمَّا الْقَوْأَ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهٖ سِحْرٌ
إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصَلِّحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾
﴿١٠ يونس ٨١﴾

ب انہوں نے (اپنی رسیوں اور لٹھیوں کو) ڈالا تو
موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم (بنا کر) لائے ہو جادو ہے
خدا اس کو ابھی نیست و نابود (درہم برہم) کر دے گا۔ یعنی
ت ہے اللہ (فسادیوں) شریروں کے کام سنوارا نہیں
رتا (81:10)

And Allah will prove and establish the Truth by His words, however much the guilty be averse (hate it). (10:82)

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْجَاحِدُونَ ﴿٨٢﴾
﴿١٠ يونس ٨٢﴾

اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گنہگار
اسی مانیں (82:10)

Then Pharaoh withdrew and gathered his strength, (concerted his plan) then came back (to the appointed tryst). (20:60)

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦٠﴾
﴿٢٠ طه ٦٠﴾

فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان (تھکنڈے) جمع
کر کے پھر آیا (60:20)

Moses said to them: Woe to you! Invent not a lie against Allah, lest He extirpate you by some punishment. He who lies fails miserably. (20:61)

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ
كَذِبًا فَيَسْحَاحَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن
أَفْتَرَىٰ ﴿٦١﴾
﴿٢٠ طه ٦١﴾

موسیٰ نے ان (جادوگروں) سے کہا کہ ہائے تمہاری کم بختی
خدا پر جھوٹ اور بہتان نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا
کر دے گا۔ یاد رکھو جس نے بہتان باندھا وہ بھی کامیاب
نہیں ہوگا (61:20)

Then they debated one with another what they must do, and they kept their counsel secret. (20:62)

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرَوْا السَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾
﴿٢٠ طه ٦٢﴾

و وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی
کرنے لگے (62:20)

They said: These are two expert magicians their object is to drive you out from your country by their magic, and destroy your most cherished traditions; (20:63)

قَالُوا إِنَّ هَٰذِهِنَّ لَسِحْرَانِ يَريدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُم
مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِكُمُ الْمُثَلَّىٰ ﴿٦٣﴾
﴿٢٠ طه ٦٣﴾

کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو
(کے زور) سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں۔ اور
تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں (63:20)

So arrange your plan, and come in serried ranks. Whoso is uppermost (wins) this day will be indeed successful. (20:64)

فَاَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَصَفَاءُ وَقَدْ أَفْلَحَ
الْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَىٰ ﴿٦٤﴾
﴿٢٠ طه ٦٤﴾

تو تم (جادو کا) سامان اکٹھا کر لو اور پھر صرف بندی کرنے
کے بعد آؤ آج جو غالب رہا وہی بازی لے گیا۔
(64:20)

They said: O Moses! Either throw first, or let us be the first to throw? (20:65)

قَالُوا يٰمُوسَىٰ اِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ
أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾
﴿٢٠ طه ٦٥﴾

بولے کہ موسیٰ یا تو تم (اپنی چیز) ڈالو یا ہم (اپنی چیزیں)
پہلے ڈالتے ہیں (65:20)

He said: No, you throw first! Then their cords and their staves, by their magic, seemed to him as though they ran (to be in lively motion). (20:66)

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ
يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾
﴿٢٠ طه ٦٦﴾

موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو (جب انہوں نے چیزیں
ڈالیں) تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لٹھیاں موسیٰ کے
خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ (میدان میں ادھر ادھر)
دوڑ رہی ہیں (66:20)

And Moses conceived a (sort of) fear in his mind. (20:67)

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾
﴿٢٠ طه ٦٧﴾

(اس وقت) موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا
(67:20)

We said: Fear not! You are indeed the upper hand. (20:68)

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾
﴿٢٠ طه ٦٨﴾

ہم نے کہا خوف نہ کرو بلاشبہ تم ہی غالب ہو (68:20)

Throw that which is in your right hand! It will eat up that which they have made. That which they have made but not by wizard's artifice, and a wizard shall not be successful to whatever point (of skill) he may attain. (20:69)

Moses said to them: Throw what you are about to throw! (26:43)

When they threw down their cords and their staves and said: By Pharaoh's might, we surely are the winners. (26:44)

When Moses threw his staff and it swallowed up what they were bragging about (the falsehoods which they fake). (26:45)

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السِّحْرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٢٠ طه ٦٩﴾

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا إِنَّمَا أَنتُمْ مُلْقُونَ ﴿٢٦ الشعراء ٤٣﴾

فَالْقَوَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤ الشعراء ٤٤﴾

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥ الشعراء ٤٥﴾

اور جو چیزیں (یعنی لٹھی) تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے جو کچھ انہوں نے بنایا ہے (یہ تو جادوگروں) کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوگا (69:20)

موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو (43:26)

تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں فوراً ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے (44:26)

پھر موسیٰ نے اپنی لٹھی میدان میں ڈالی تو وہ ان چیزوں (جھوٹ موٹ کے کرتب) کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی (45:26)

Reference : 7:107 Page 1036

وللمزيد راجع ٧ الأعراف: ١٠٧ الصفحة ١٠٣٦

مزيد حوالہ 107:7 صفحہ 1036

MAGICIANS FELL DOWN TO THE GROUND IN ADORATION OF THE LORD OF MOSES AND CONFESSED THEIR FAITH

And the wizards fell down prostrate: in adoration. (7:120)

claiming we come to believe in the Lord of the Worlds: (7:121)

the Lord of Moses and Aaron. (7:122) (26:48)

the magicians were (all) flung down prostrate, crying: We believe in the Lord of Aaron and Moses. (26:70)

And the wizards dropped down on their knees. (26:46)

سجود السحرة لرب موسى في ميدان المبارة

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِجْدِينَ ﴿١٢٠ الشعراء ٤٧﴾

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١ الشعراء ٤٧﴾

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٢ الشعراء ٤٨﴾

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠ طه ٧٠﴾

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِجْدِينَ ﴿٤٦ الشعراء ٤٦﴾

جادوگران در مار فرعون کارب حضرت موسی پر ایمان لاکر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا

اور (یہ کیفیت دیکھ کر) جادوگر سجدے میں گر پڑے (120:7)

اور پکاراٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے (121:7)

یعنی اس پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے (122:7)

(قصہ یوں ہی ہوا) تو جادوگر سجدے میں گر پڑے (اور) کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے (70:20)

تب جادوگر سجدے میں گر پڑے (46:26)

Reference : 26:29,35 Page 1021,1024

وللمزيد راجع ٢٦ الشعراء: ٢٩، ٣٥ الصفحة ١٠٢١، ١٠٢٤

مزيد حوالہ 26:29,35 صفحہ 1021,1024

PHARAOH THREATENED THE REPENTANT MAGICIANS WITH THE EXTREME PUNISHMENT BUT THEY REMAINED FIRM

Pharaoh said: You believe in him before I give you permission surely this is the trick that you have plotted in the city that you may drive its people out from here. But you shall soon come to know! (the consequences). (7:123)

Surely I shall have your hands and feet cut off upon alternate sides. Then I shall crucify you everyone. (7:124)

تخويف فرعون السحرة واستقامتهم على الحق

قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّ هَذَا الْبُكْرُ مَكْرٌ تَبَوَّأْتُمْ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣ الشعراء ١٢٣﴾

لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤ الشعراء ١٢٤﴾

فرعون کی جادوگروں کو دھمکیاں اور ان کی استقامت

فرعون نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ سازش ہے جو تم نے مل کر شہر میں کی ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو۔ سو عنقریب تم (اس کا نتیجہ) دیکھ لو گے (123:7)

میں (پہلے تو) تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا (124:7)

They said: We are about to return to our Lord! (7:125)

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٧﴾
﴿٧ الاعراف ١٢٥﴾

ہوں نے جواب دیا کہ ہم تو (مگر) اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں (125:7)

(Pharaoh) said: You put faith in him before I give you permission. Surely he must be your chief who taught you magic. But be sure! I shall cut off your hands and your feet alternately, and I shall crucify you on the trunks of palm trees, and you shall know for certain which of us is more stern and more lasting punishment. (20:71)

قَالَ امْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أذنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَيْدٌ كَرِيمٌ
الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قَطِيعَ نَأيِدِكُمْ وَ
أَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَلَا وِصْلِبَتِكُمْ فِي جُذُوعِ
النَّخْلِ وَتَعْلَمُنَّ إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧١﴾
﴿٢٠ طه ٧١﴾

فرعون) بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک وہ تمہارا بڑا (یعنی استاد) ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ سو میں تمہارے ہاتھ اور اڈوں (جانب) خلاف سے کٹا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر بولی چڑھوا دوں گا اور (اس وقت) تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے (71:20)

They said: We choose you not above the clear signs that have come to us, and above Him Who created us. So decree what you desire to decree. You can only decree for us in the life of this world. (20:72)

قَالُوا لَنْ نُؤثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ
الَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي
هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾
﴿٢٠ طه ٧٢﴾

ہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آگئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے اور آپ (جو) حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں (دے سکتے ہیں) (72:20)

(Pharaoh) said, you put your faith in him before I allow (permit) you. He doubtless is your chief who taught you magic! But you shall come to know. I will cut off your hands and your feet on opposite sides and I will crucify you everyone. (26:49)

قَالَ امْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أذنَ لَكُمْ إِنَّهُ
لَكَيْدٌ كَرِيمٌ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ ؕ لَا قَطِيعَ نَأيِدِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ
مِنْ خِلاَفٍ وَلَا وِصْلِبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾
﴿٢٦ الشعراء ٤٩﴾

فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بیشک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا۔ سو عقرب تم (اس کا انجام) معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کٹا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا (49:26)

They said: No matter, for us we shall return to our Lord. (26:50)

قَالُوا الْأَضْيَارُ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ٥٠﴾

انہوں نے کہا کچھ نقصان (کی بات) نہیں ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں (50:26)

We ardently hope that our Lord will forgive us our sins because we are the first of the believers. (26:51)

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَن كُنَّا
أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾
﴿٢٦ الشعراء ٥١﴾

ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا۔ اس لئے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں (51:26)

WIZARDS PRAYED TO ALLAH (SWT) FOR PATIENCE AND CONSTANCY

دعاء السحرة ربهم طلباً للصبر والاستقامة

ساحران مصر (جادوگران) کی اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کے لئے دعا

You are persecuting us only because we believed the tokens of our Lord when they came to us. Our Lord! Vouchsafe to us steadfastness and make us die as Muslim (who bow to Your will). (7:126)

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا
جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِقًا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾
﴿٧ الاعراف ١٢٦﴾

اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے ماسوائے اس کے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہم پر صبر و استقامت کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال (126:7)

We believe in our Lord, that He may forgive us our sins and the magic to which you did force us. Allah is better and most abiding. (20:73)

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا
عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٣﴾
﴿٢٠ طه ٧٣﴾

ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور (خاص طور پر جادوگری کے گناہ کو بھی) جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور اللہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے (73:20)

HAMAN (A PHARAOH'S MINISTER)

ہامان

ہامان

PHARAOH COMMANDED HAMAN TO BUILD LOFTY TOWER FOR ACCESS TO HEAVENS

بناء صرح لفرعون

فرعون کا ہامان کو آسمانوں تک رسائی کیلئے ایک اونچا محل تعمیر کرنے کا حکم

PHARAOH WISHED TO REACH LORD OF MOSES (PBUH)

رغبة فرعون إلى اطلاع إله موسى عليه السلام

فرعون کی رب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش

And Pharaoh said: O chiefs! I know not that you have a god other than I, so kindle for me (a fire), O Haman, to bake the mud; (a kiln to bake bricks) and build for me a lofty tower in order that I may mount up to the God of Moses; and I deem Haman (Moses) of the liars. (28:38)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٨﴾ القصص ٣٨

اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو اللہ نہیں جانتا تو ہامان میرے لئے مٹی کو آگ سے پکوا کر (اینٹیں پکا دو) ایک (اونچا) محل بنا دو شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے اللہ کو دیکھ سکوں اور میں تو اسے (موسیٰ کو) جھوٹا سمجھتا ہوں (38:28)

And Pharaoh said: O Haman! Build for me a tower that haply I may gain ways and means. (40:36)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٤٠﴾ المثنون ٣٦

اور فرعون نے کہا کہ اے ہامان میرے لئے ایک بلند محل بناؤ تاکہ میں راستوں پر (چڑھنے کے اسباب تک) پہنچ جاؤں (36:40)

The ways and means of reaching the heavens, and may look upon the God of Moses, though I think Moses) is a liar. Thus was the evil that he did make fair seeming to Pharaoh, and he was debarred from the (right) way. The plot of Pharaoh ended but in ruin. (40:37)

أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٤٠﴾ المثنون ٣٧

(یعنی) آسمانوں کے راستوں پر پھر موسیٰ کے اللہ کو جھانک کر دیکھ لوں اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ راستے سے روک دیا گیا تھا۔ اور فرعون کی ساری چال بازی (اس کی اپنی) تباہی کے راستے ہی میں صرف ہو گئی (37:40)

Reference : 29:39 Page 1032

وللمزيد راجع ٢٩ العنكبوت: ٣٩ الصفحة ١٠٣٢

مزید حوالہ 39: 29 صفحہ 1032

MOSES (PBUH) INVITED HAMAN TO FAITH BUT HE JEERED

دعوة موسى عليه السلام هامان إلى الله تعالى وإبائه هما

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہامان کو دعوت حق دینا اور اس کا انکار

Pharaoh and Haman and Korah, they called him (Moses) a lying recrer! (40:24)

إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذِبٌ ﴿٢٤﴾ المثنون ٢٤

(یعنی) فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ (موسیٰ) تو جادوگر ہے جھوٹا (24:40)

QARUN (KORAH) AN INSOLENT PERSON AMONG THE CHILDREN OF ISRAEL

قارون رجل مستطير من بني اسرائيل

قارون قوم بني اسرائيل کا ایک مستطير شخص

KORAH'S TREASURES AND BURDEN OF CHEST'S KEYS

كنوزة الوفيرة ومفاتيحها

قارون کی بے پناہ چھپی ہوئی دولت اور خزانوں کی چابیوں (کنجیوں) کا وزن

Blameless Korah belonged to Moses for, but he oppressed them and We

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَىٰ

قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا اور

bestowed upon him so much treasures that the keys thereof would have been a burden for a troop of mighty men. When his own folk said to him: Exult not; Allah loves not the exultant; (28:76)

عَلَيْهِمْ وَمَا آتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوزُ أُولِيَ الْعُصْبَةِ أُولِيَ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

م نے اس کو اس قدر خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتیں ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ غرور مت کیجئے۔ کہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (76:28)

﴿٢٨ القصص ٧٦﴾

But seek the abode of the Hereafter in that which Allah has bestowed on you and neglect not your portion of the world, and be you kind even as Allah has been kind to you, and seek not (occasions of) corruption in the earth; Allah loves not corrupters. (28:77)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

اور جو (مال) تجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس سے آخرت (کی بھلائی) طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور جیسا اللہ نے تم پر احسان کیا ہے (ویسا) تم بھی (لوگوں پر) احسان کرو۔ اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا (77:28)

﴿٢٨ القصص ٧٧﴾

QARUN BECAME ARROGANT DUE TO HIS BOUNDLESS HOARDS OF WEALTH

غرور قارون علی مالہ

قارون کا دولت پر گھمنڈ

Qarun said: I have been given it only on account of knowledge I possess. Knew he not that Allah had destroyed already of the generations before him who were mightier than him in strength and greater in respect of the amount (of riches he has collected.) The guilty are not called to account (immediately) of their sins. (28:78)

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي وَأَكْمُرُّكُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

(قارون) بولا کہ یہ (مال) مجھے میری دانش (سمجھ کے زور) سے ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں زیادہ تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں۔ اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں ایسے وقت میں پوچھا جاتا۔ (78:28)

﴿٢٨ القصص ٧٨﴾

Then he went forth before his people in his pomp (pride of his worldly glitter). Those who were desirous of the life of the world said: Oh! Would that to us had been given the like of what has been given to Korah! For truly he is lord of mighty good fortune. (28:79)

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَئِن لَّمْ يَأْتِنَا بِمَا آتَىٰ قَارُونَ لَكُنَّا مِنَ الْخَارِجِينَ ﴿٧٩﴾

تو (ایک روز) قارون (بڑی) آرائش (اور ٹھاٹھ) سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب (متوالے) تھے کہنے لگے کہ جیسا (مال و متاع) قارون کو ملا ہے کاش (ایسا ہی) ہمیں بھی ملے وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے (قسمت کا دشمنی ہے)۔ (79:28)

﴿٢٨ القصص ٧٩﴾

But those who had been granted (true) knowledge said: Alas for you! The reward of Allah for him who believes and does right is better, (in the Hereafter) and only the steadfast will obtain it. (28:80)

وَقَالَ الَّذِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُذَكَّرُونَ لَوْلَا أَلَمَتْ أَعْيُنُهُمْ لَوَافٍ أَلَمُوا بِهِمْ إِذْ أَخْرَجَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَبْغِي الدُّنْيَا وَإِنَّا كُنَّا نَكْفُرُ ﴿٨٠﴾

مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس۔ مومنوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لئے (جو) ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ) کہیں بہتر ہے۔ اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا (80:28)

﴿٢٨ القصص ٨٠﴾

Remember also Korah, Pharaoh and Haman! There came to them Moses with clear signs (of Allah's Sovereignty), but they were boastful in the land. And they could not ever reach (Us). (29:39)

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾

اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی (ہلاک کر دیا) اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں غرور ہو گئے۔ اور وہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے (39:29)

﴿٢٩ العنكبوت ٣٩﴾

**ULTIMATE FATE OF QARUN
HE WAS SWALLOWED BY THE EARTH ALONG WITH HIS
DWELLINGS (TREASURES AND POSSESSIONS)**

So We caused the earth to swallow him and his dwelling place. Then he had no host to help him against Allah, nor was he of those who can defend themselves. (28:81)

And morning found those who had coveted his position but yesterday crying: Ah, It is indeed Allah Who enlarges the provision for whom He pleases of His slaves and straitens it (for whom He wishes). If Allah had not been gracious to us He would have caused it to swallow us (also). Ah, assuredly the disbelievers never prosper. (28:82)

خسف بقارون و بداره الارض

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾
﴿٢٨ القصص ٨١﴾

وَاصْبِرْ لِّلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَرْضِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاءُ وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ﴿٨٢﴾
﴿٢٨ القصص ٨٢﴾

**قارون کا انجام دولت
اور مال و متاع سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا**

آخر کار ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی۔ اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا (81:28)

اور وہی لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی (82:28)

**أصبح فرعون أغشم لبني إسرائيل
وتوصية موسى عليه السلام قومه
للصبر والتوكل على الله تعالى**

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾
﴿٧ الاعراف ١٢٨﴾

قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾
﴿٧ الاعراف ١٢٩﴾

**نبی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا اضافہ اور
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو صبر اور توکل کی تلقین**

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو زمین تو اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے۔ اور آخر کامیابی تو ڈرنے والوں کیلئے ہے (128:7)

قوم کے لوگ بولے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے تمہارے آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے۔ پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو (129:7)

**PHARAOH BECAME MORE STERN
TO ISRAELITES AND MOSES (PBUH) PREACHED
THEM PATIENCE AND CONSISTENCY
OF FAITH IN ALLAH (SWT)**

And Moses said to his people: Seek help in Allah and endure. The earth is Allah's. He gives it for an inheritance to whom He pleases. And the sequel is for those who are conscious to Him. (7:128)

They said: We have always suffered before you came to us, and since you have come to us. He said: It may be that your Lord is going to destroy your adversary and make you viceroys in the earth, that He may see how you behave. (7:129)

Remember! Moses said to his people: Call to mind Allah's favours to you when He delivered you from Pharaoh's folk who were afflicting you with hard tasks and were slaying your sons and sparing your women; that was a tremendous trial from your Lord. (14:6)

He said: In truth you know that none went down these (portents) except the Lord of the heavens and the earth as eye opening evidence and for my () I consider you lost (one doomed), O Pharaoh. (17:102)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدُبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾
﴿١٤ ابراهيم ١٤﴾

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يٰ فِرْعَوٰنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾
﴿١٧ بني اسرائيل ١٠٢﴾

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر احسانات کیے ہیں ان کو یاد کرو جب کہ تم کو فرعون کی قوم (کے ہاتھ) سے نجات دی۔ وہ لوگ تمہیں بڑے دکھ دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور عورت ذات (یعنی) تمہاری (لڑکیوں) کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی (سخت) آزمائش تھی (6:14)

موسیٰ نے جواب دیا جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے یہ معجزے تم لوگوں کو دکھانے اور سمجھانے کے لئے نازل کئے ہیں۔ اے فرعون! میں خیال کرتا ہوں کہ تم یقیناً برباد ہو جاؤ گے (102:17)

And when he brought them the Truth from Us they said: Slay the sons of those who believe with him, and spare their women. But the plots of disbelievers (end) is in nothing but error (and delusion). (40:25)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾
﴿٤٠ المتؤمن ٢٥﴾

غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ (اللہ پر) ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو رہنے دو اور کافروں کی تدبیریں بے جا ہوتی ہیں (25:40)

PHARAOH'S RESTRICTIONS ON RITUAL PERFORMANCE OF BELIEVER ISRAELITES AND DIVINE INSTRUCTIONS TO SETUP PRAYER PLACES WITHIN THE HOUSES BEING SOJOURNERS

وضع فرعون القيود على بني اسرائيل من عبادة الله فأمرهم الله أن يجعلوا بيوتهم مساجد إلى حين

فرعون کا مذہبی آزادی سلب کر لینا۔ اور قوم نبی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عارضی طور پر اپنے گھروں کو مسجد بنانے کا حکم

And We inspired Moses and his brother, (saying): Provide dwellings for your people in Egypt and make your houses oratories, (places of worship) and establish regular worship. And give good news to the believers. (10:87)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوِّءُوا لِقَوْمِكُمْ مَا يَمْضُرُ بِيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾
﴿١٠ يونس ٨٧﴾

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لئے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ (یعنی مسجدیں) ٹھہراؤ۔ اور نماز قائم کرو۔ اور مومنوں کو خوش خبری سنا دو (87:10)

MOSES (PBUH) CURSED THE (UNBELIEVERS) PEOPLE OF PHARAOH

دعاء موسى عليه السلام على فرعون وقومه

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے لئے بددعا

And Moses prayed: Our Lord! You have indeed bestowed on Pharaoh and his chiefs splendor and wealth in the life of the world, Our Lord! That they may lead men astray from Your way. Our Lord! Destroy (deface the features of) their wealth and harden their hearts so that they believe not till they see the grievous chastisement. (10:88)

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِكَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾
﴿١٠ يونس ٨٨﴾

اور موسیٰ نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں (بہت سا) ساز و سامان اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار انکا مال اسی واسطے ہے کہ تیرے راستے سے گمراہ کر دیں اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب الیم نہ دیکھ لیں (88:10)

He said: Your prayer is accepted. (O' you Moses and Aaron) keep to the straight path, and follow not the way of those who have no knowledge. (10:89)

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ مَا فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعْنَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾
﴿١٠ يونس ٨٩﴾

(اللہ نے) فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم ثابت قدم رہنا اور بے علم اور عقل لوگوں کے راستے پر نہ چلنا (89:10)

Then he appealed to his Lord (saying): These are indeed a criminal folk. (44:22)

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾
﴿٤٤ الدخان ٢٢﴾

تب (موسیٰ نے) اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں (22:44)

CALAMITIES OVER PEOPLE OF PHARAOH

إنزال النكبات والكوارث على آل فرعون من القحط والظوفان والجراد والقمل والضفادع والقرار والدم

قوم فرعون کا آفات کی زد میں آنا قحط، ظوفان، ٹڈیاں، چمڑی، جوؤں، مینڈک اور خون کا عذاب

Then, after them, We sent Moses with Our tokens to Pharaoh and his chiefs, but they repelled them. So, see the nature of the consequence for the corrupters! (7:103)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾
﴿٧ الاعراف ١٠٣﴾

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سلطنت کے امراء کے پاس بھیجا۔ مگر انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا (103:7)

And We punished Pharaoh's folk with famine (years of draught) and the dearth of fruits (shortness of crops) that they might heed, (receive admonition) (7:130)

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾
﴿٧ الاعراف ١٣٠﴾

اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ نصیحت حاصل کریں (130:7)

So We sent against them (whole sale death) the flood and the locusts and the vermin and the frogs and the flood-- a succession of distinguished signs. Yet they still defied proudly and were criminal folk. (7:133)

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا فَجُورِينَ ﴿١٣٣﴾
﴿٧ الاعراف ١٣٣﴾

تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون یہ سب کتنی کھلی ہوئی نشانیاں تھیں مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گنہگار (133:7)

And they denied them, though their souls acknowledged them, for spite and arrogance. Then see the nature of the consequence for who acted corruptly. (27:14)

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾
﴿٢٧ النمل ١٤﴾

اور بے انصافی اور غرور سے انہوں نے انکار کیا۔ لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا (14:27)

And warnings came in truth to the people of Pharaoh too, aforetime. (41:41)

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾
﴿٥٤ القمر ٤١﴾

اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے (41:54)

They denied all Our revelations, therefore We grasped them with the grasp of the Mighty, the Powerful. (42:42)

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا لَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ
مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾
﴿٥٤ القمر ٤٢﴾

انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب پکڑ لیتا ہے (42:54)

And multiplied iniquity therein? (12:12)

فَاكْتَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿١٢﴾
﴿٨٩ الفجر ١٢﴾

اور بہت فساد بچا رکھا تھا۔ (12:89)

Therefore your Lord lashed on them the scourge of torment. (89:13)

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾
﴿٨٩ الفجر ١٣﴾

آخر تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا (13:89)

No doubt your Lord is ever on the lookout. (89:14)

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْبُرْصَادِ ﴿١٤﴾
﴿٨٩ الفجر ١٤﴾

بے شک تمہارا پروردگار تاک (گھات) میں ہے (14:89)

LAH(SWT)'S PLAN WAS TO STRENGTHEN THE WEAK (TO PROTECT ISRAELITES FROM THE OPPRESSION OF PHARAOH)

إنقاذ الله بنى اسرائيل من قسوة فرعون وعنفه ليكون المستضعفين أقوياء

اللہ تعالیٰ کو کمزور لوگوں کو قوت دینا منظور تھا (قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر و تشدد سے نجات دلانا)

And We desired to be gracious to those who were being oppressed in the land and to make them leaders (in faith) and to make them the inheritors. (28:5)

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي
الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾
﴿٢٨ القصص ٥﴾

اور ہم نے چاہا کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیئے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں (ملک کا) وارث کریں (5:28)

And to establish a firm place for them in the land and to show Pharaoh and Haman and their hosts that which they were dreading from them. (23:6)

وَنُفِخَ بِصُورٍ فِي الْأَرْضِ وَنُفِخَ بِصُورٍ فِي الْبِحْرِ
فَأَمْسَ الْيَمَانُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَفِرْعَوْنَ
(۲۸: ۲۸)

اور ملک میں ان کو قدرت اور اختیار میں اور فرعون
اور یمن اور ان کے لشکر کو وہ سیر دکھائیں جس سے وہ
دشمن تھے (۲۸: ۲۸)

**MOSES (PHI) WAS COMMANDED
(THROUGH INSPIRATION)
TO LEAVE EGYPT BY NIGHT ALONG WITH
PEOPLE OF FAITH AND WAS TOLD
HOW TO CROSS THE RED SEA DRY-SHOD**

أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ
أَنْ يَسِرَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَيَعْبُرُوا الْبِحْرَ
فَرَوَدُوا بِرِجَالٍ يَبْعَثُ بِهَذَا الصَّدَقِ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سحر سے اہل ایمان سمیت
راتوں رات ہجرت کا وحی کے ذریعہ حکم اور بحر قلزم
پار کرنے کے لئے ہدایات

And We inspired Moses, saying: Take away My slaves by night and strike for them a dry path in the sea, fearing not to be overtaken, (by Pharaoh) neither being afraid (of the sea). (20:77)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
فَأَسْرِبْ لَهُمْ سُبُلًا مِّنَ الْبَحْرِ سَائِمًا لَا تَخَفُ
فِرْعَوْنَ وَلَا تَخَفْ سَيْفَ
(۲۰: ۷۷)

اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو
راتوں رات نکال لے جاؤ پھر ان کیلئے دریائیں (لاٹھی
مار کر) خشک راستہ بناؤ۔ پھر تم کو نہ تو (فرعون کے)
آپکے کا خوف ہوگا اور نہ (غرق ہونے کا) ڈر
(20: 77)

Then (his Lord commanded) march forth with My slaves at night. For you will be pursued. (23:23)

فَأَمْرٌ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ
(۲۳: ۲۳)

(اللہ نے فرمایا کہ) میرے بندوں کو راتوں رات لے کر
ٹلے جاؤ اور (فرعون کی) ضرورت تمہارا پیچھا کریں گے
(23: 44)

And leave the sea as a furrow (divided) for they are a destined (to be drowned) host. (44:24)

وَأَسْرِبْ الْبَحْرَ هَوًّا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ
(۴۴: ۲۴)

اور یہاں کو ساکن چھوڑ کر پار کر جاؤ (تمہارے بعد) ان کا
تمام لشکر بھونچا جائے گا (۴۴: ۲۴)

**ON BECOMING AWARE OF THE PLAN OF
MIGRATION, PHARAOH SENT HIS HERALDS
TO ALL CITIES TO CAPTURE THE ISRAELITES**

أرسل فرعون جنودہ للقبض
على بنی اسرائیل الی جمیع البلدان
عندما علم ہجرتہم

منسوب ہجرت کا علم ہونے پر فرعون کی طرف سے
نبی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لئے
اپنے نقیب (جاسوس) روانہ کرنا

And We inspired Moses, saying: Go forth with My servants by night, for you will be pursued. (26:52)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
فَتَتَّبِعُونَ
(۲۶: ۵۲)

اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو
رات کو لے نکلو کہ (فرعون کی طرف سے) تمہارا پیچھا
کیا جائے گا (52: 26)

Then Pharaoh sent heralds into the cities. (26:53)

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
(۲۶: ۵۳)

تو فرعون نے شہر میں ہرکارہ (نقیب) روانہ کئے
(53: 26)

(Who said): These (Israelites) indeed are but a small band. (26:54)

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
(۲۶: ۵۴)

(اور کہا) کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں (54: 26)

And they are offenders against us. (26:55)

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
(۲۶: ۵۵)

اور یہ ہمیں سخت غصہ دلا رہے ہیں (55: 26)

And we are completely forewarned. (26:56)

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ
(۲۶: ۵۶)

اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جن کا شیوہ ہر وقت چونکا
رہتا ہے۔ (56: 26)

DIALOGUE BETWEEN MOSES (PBUH) AND PHARAOH

MOSES (PBUH) ASKED FOR RESTORATION OF ALL BELIEVERS (BOTH ISRAELITES AND EGYPTIANS) AND LET THEM TO DEPART WITH HIM

Moses said: O Pharaoh! I am a messenger from the Lord of the worlds, (7:104)

It is (only) right for me to say nothing but the truth about Allah. I come to you with a clear proof from your Lord. So let the Children of Israel go with me. (7:105)

Pharaoh) said : If you come with a sign, then produce it, if you are of those who speak the truth. (7:106)

When he flung down his staff and it was a serpent manifest; (7:107)

And he drew forth his hand (from his bosom): And it was shining white for the beholders. (7:108)

(Saying): Let the Children of Israel go with us. (26:17)

Pharaoh) said (to Moses): Did we not cherish you among us as a child? And you did dwell many years of your life among us. (26:18)

And yet you committed a deed, which you did, and you are so ungrateful. (26:19)

He said: I did it then, when I was in error (misguided). (26:20)

Then I fled from you when I feared you, and my Lord vouchsafed me a command and appointed me as one of the messengers. (26:21)

And this is the past favour with which you reproach me: That you have enslaved the Children of Israel. (26:22)

تَحَاوَرَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ فِرْعَوْنَ بِطَلْبِ تَحْرِيرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عِبَادَتِهِ

وَقَالَ مُوسَى يُفِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾

قَالَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَإِنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾

فَقَرَرْتُ مِّنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ نبی اسرائیل کے تمام اہل ایمان لوگوں کو (ان کے حوالے کرنے) ہمراہ جانے کی اجازت دینے اور غلامی سے آزاد کر دینے کا مطالبہ

اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں (104:7)

مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو نبی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے (105:7)

فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ (دکھاؤ) (106:7)

موسیٰ نے اپنی لاٹھی (زمین پر) ڈال دی تو وہ اسی وقت جیتا جاگتا اژدہا (ہو گیا) (107:7)

اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکایک دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے چمک رہا (تھا) (108:7)

(اور اس لئے آئے ہیں) کہ آپ نبی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں (17:26)

(فرعون نے موسیٰ سے) کہا کیا ہم نے تمہیں جب تم ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر (نہیں) کی؟ (18:26)

اور تم نے ایک اور کام کیا تھا۔ تم بڑے احسان فراموش معلوم ہوتے ہو (19:26)

(موسیٰ نے) کہا کہ (ہاں) وہ حرکت مجھ سے نادانستگی میں سرزد ہوئی تھی۔ (20:26)

تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں بھاگ گیا۔ پھر اللہ نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا (21:26)

اور (کیا) یہی احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو کہ تم نے نبی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے (22:26)

Pharaoh said: And what is the Lord of the Worlds? (26:23)

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾
﴿الشعراء ٢٣﴾

فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا رب کیا ہوتا ہے؟ (23:26)

And We tried before them Pharaoh's folk, when there came to them a noble messenger. (44:17)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾
﴿الدخان ١٧﴾

اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے (17:44)

Saying: Restore to me the slaves of Allah. I am a messenger worthy of all trust to you. (44:18)

أَنْ أَدْوَأَ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾
﴿الدخان ١٨﴾

(جنہوں نے) یہ (کہا) کہ اللہ کے بندوں (یعنی بنی اسرائیل) کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں (18:44)

And saying: Be not proud against Allah. I bring you a clear warrant. (44:19)

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ اللَّهُ إِنِّي إِلَيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾
﴿الدخان ١٩﴾

اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل (سند) لے کر آیا ہوں (19:44)

MOSES (PBUH) LEFT EGYPT WITH PEOPLE OF FAITH AND PHARAOH WITH HIS TROOPS CHASED THEM IN INSOLENCE AND SPITE

هجرة موسى و المؤمنین من مصر و تعاقب فرعون لیظلمهم و یقهر علیهم

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کی مصر سے ہجرت اور فرعون اور اس کے لشکر کا ظلم اور زیادتی کے ارادے سے ان کا تعاقب کرنا

MOSES (PBUH) STRIKED THE SEA WITH ROD AND ITS GIVING WAY BY DIVISION MOSES (PBUH) AND HIS PEOPLE PASSED THE SEA DRY-SHOD (SAFELY) WHILE PHARAOH WITH HIS TROOPS (PUSUERS) WAS DROWNED

لما ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر جعل البحر طريقا يابسا لموسى ولمن آمن معه فاجتازوا ولكن لما دخلته جنود فرعون طغى الماء فغرقوا جميعا

عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحر قلزم میں راستہ بن جانا اور اہل ایمان کا باعافیت خشک دریا عبور کر لینا مگر پیچھے آنے والے فرعون اور آل فرعون کا طوفان میں ڈوب جانا

And remember when We brought you through the sea and rescued you, and drowned the folk of Pharaoh within your very sight. (2:50)

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾
﴿البقرة ٥٠﴾

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے تمہارے لئے دریا کو بٹھا دیا تمہارے لیے راستہ بنایا اور اس میں سے بحیریت گزر دیا۔ اور پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا۔ (50:2)

Therefore We took retribution from them; therefore We drowned them in the sea: Because they denied Our revelations and were heedless of them. (7:136)

فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾
﴿الاعراف ١٣٦﴾

تب ہم نے ان سے انتقام لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں غرق کر دیا اس لئے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے۔ اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے (136:7)

(Their way is) as the way of Pharaoh's folk and those before them; they disbelieved the revelations of Allah, and Allah took them in their sins, Allah is Strong severe in punishment. (8:52)

كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾
﴿الانفال ٥٢﴾

جیسا حال فرعونوں اور ان سے پہلے لوگوں کا (ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا) کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ زبردست (اور) سخت عذاب دینے والا ہے۔ (52:8)

(Their way is) as the way of Pharaoh's folk and those before them; they denied the revelations of their Lord, so We destroyed them in their sins. And We drowned the folk of Pharaoh. All were evildoers. (8:54)

كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾
﴿الانفال ٥٤﴾

جیسا حال فرعونوں اور ان سے پہلے لوگوں کا (ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا) انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونوں کو غرق کر دیا۔ اور وہ سب ظالم تھے (54:8)

And he wished to scare them from the land, but We drowned him and those with him, all together. (17:103)

فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ
وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ۱۰۳﴾

تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین (مصر) سے نکال دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے۔ سب کو ڈبو دیا (103:17)

Then Pharaoh followed with his forces; but the waves completely overwhelmed them and covered them up. (20:78)

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ
الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾
﴿٢٠ طہ ٧٨﴾

پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا (کی موجوں) نے انہیں ڈھانک لیا (یعنی ڈبو دیا) (78:20)

And Pharaoh led his folk astray, instead of leading them aright. (20:79)

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهِدَى ﴿٧٩﴾
﴿٢٠ طہ ٧٩﴾

اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور کوئی صحیح رہنمائی نہ کی (79:20)

And they overtook them at sunrise. (26:60)

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ٦٠﴾

تو انہوں نے سورج نکلنے (یعنی صبح کو) ان کا تعاقب کیا (60:26)

And when the two hosts saw each other, the people of Moses said: We are surely caught. (26:61)

فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى
إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾
﴿٢٦ الشعراء ٦١﴾

جب دونوں گروہوں کا آمننا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم پکڑے گئے (61:26)

Moses said: No, not at all for my Lord is with me. He will guide me. (26:62)

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾
﴿٢٦ الشعراء ٦٢﴾

موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا (62:26)

When We inspired Moses, saying: Strike the sea with your staff. And it parted, and each part was as a mountain vast. (26:63)

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ
فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾
﴿٢٦ الشعراء ٦٣﴾

اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ (یوں) ہو گیا (کہ) گویا بڑا پہاڑ (ہے) (63:26)

When We made the other party approach to that place. (26:64)

وَأَزَلَفْنَا لِلْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾
﴿٢٦ الشعراء ٦٤﴾

اسی جگہ دوسرے گروہ کو بھی ہم نے قریب کر دیا (64:26)

And We saved Moses and those with him, everyone; (26:65)

وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾
﴿٢٦ الشعراء ٦٥﴾

اور موسیٰ اور ان کے ساتھ سب لوگوں کو (تو) بچا لیا (65:26)

When We drowned the others. (26:66)

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾
﴿٢٦ الشعراء ٦٦﴾

پھر دوسروں کو غرق دیا (66:26)

Therein is indeed a portent, yet most of them do not believe. (26:67)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾
﴿٢٦ الشعراء ٦٧﴾

بے شک اس (واقعہ) میں نشانی ہے۔ لیکن ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں (67:26)

And your Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful. (26:68)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾
﴿٢٦ الشعراء ٦٨﴾

اور تمہارا پروردگار غالب (اور) مہربان ہے (68:26)

And he and his hosts were haughty in the land beyond reason, and they deemed that they would never be brought back to Us. (28:39)

وَاسْتَكْبَرُوا هُودًا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٢٨ القصص ٣٩﴾

اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے (39:28)

Therefore We seized him and his hosts, and abandoned them to the deep sea. See the nature of the consequence for evildoers! (28:40)

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاظْمُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾
﴿٢٨ القصص ٤٠﴾

آخر کار ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں پھینک دیا۔ سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا (40:28)

And We made them patterns that invite to the Fire, and on the Day of Resurrection they will not be helped. (28:41)

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَاتٍ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾
﴿٢٨ القصص ٤١﴾

اور ہم نے ان (لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلانے والوں کا امام بنا دیا اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی (41:28)

And We made a curse to follow them in this world, and on the Day of Resurrection they will be among the hateful. (28:42)

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾
﴿٢٨ القصص ٤٢﴾

اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بد حال لوگوں میں ہوں گے (42:28)

And We gave the Scripture to Moses after We had wiped out the generations to serve as insight for mankind, and a guidance and a mercy, that haply they might reflect. (28:43)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا
أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾
﴿٢٨ القصص ٤٣﴾

اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لئے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ شاید وہ لوگ نصیحت پکڑیں (43:28)

So Allah saved him from every evil, which they plotted, while a dreadful doom encompassed Pharaoh's folk. (40:45)

فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ
فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾
﴿٤٠ المنومن ٤٥﴾

غرض اللہ نے (موسیٰ کو) ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آگھیرا (45:40)

Thus he made fools of his people, and they obeyed him. Truly they were rebellious (against Allah) folk. (43:54)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾
﴿٤٣ الزخرف ٥٤﴾

غرض اس (فرعون) نے اپنی قوم کی عقل مار دی۔ (بہلایا پھلایا) اور انہوں نے اس کی بات مان لی بے شک وہ نافرمان لوگ تھے (54:43)

So, at length when they angered Us, We punished them and drowned them everyone. (43:55)

فَلَمَّا أَسَفَوْا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾
﴿٤٣ الزخرف ٥٥﴾

جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو غرق کر دیا۔ (55:43)

And We made them a thing past, and an example for those after (them). (43:56)

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾
﴿٤٣ الزخرف ٥٦﴾

اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لئے نمونہ عبرت بنا دیا (56:43)

So We seized him and his hosts and flung them in the sea, for he was reprobate. (51:40)

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ
مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾
﴿٥١ الذریت ٤٠﴾

آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ تھا ہی قابل ملامت (40:51)

And Pharaoh and those before him, and the communities that were destroyed, brought error, (69:9)

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ
بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾
﴿٦٩ الحاقة ٩﴾

اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئیں سب گناہ کے کام کرتے تھے (9:69)

And they disobeyed the messenger of their Lord, therefore He did grip them with a tightening grip. (69:10)

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ﴿١٠﴾
﴿٦٩ الحاقة ١٠﴾

انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا (10:69)

But Pharaoh rebelled against the messenger, whereupon We seized him with no gentle grip. (73:16)

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا
وَبِيْلًا ﴿١٦﴾
﴿٧٣ المزمل ١٦﴾

سفرعون نے (ہمارے) پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ (16:73)

And with Pharaoh, firm of might,
(89:10)

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝
﴿٨٩ الفجر ١٠﴾

اور فرعون کے ساتھ (کیا کیا) جو خمیے اور میخیں رکھتا تھا
(10:89)

Who (all) were rebellious (to Allah)
in these lands. (89:11)

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝
﴿٨٩ الفجر ١١﴾

یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے۔ (11:89)

**PHARAOH TURNED TO ALLAH (SWT)
IN REPENTANCE IN GARGLING WHILE FACING
DEATH BUT IT WAS TURNED DOWN IN ITS ENTIRETY**

And We brought the Children of
Israel across the sea, and Pharaoh
with his troops pursued them in
insolence and spite, till, when the
fate of) drowning overtook him, he
exclaimed: I believe that there is no
god except Him in Whom the
children of Israel believe, and I am
among (Muslims) those who
submit to Him. (10:90)

إعلان فرعون بالإيمان بالله
عند الغرق ولكن لم يتقبل

فرعون کی غرق ہوتے (موت کے) وقت
اللہ تعالیٰ (رب موسیٰ) پر ایمان لانے کی ناکام کوشش

It was said to him) Ah, now! But (a
little while) before you were
rebellion, and you did mischief and
violence. (10:91)

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ
وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا وَالْحَاقِقُ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ
قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ
بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
﴿١٠ يونس ٩٠﴾

اور ہم نے نبی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اور اس
کے لشکر نے ظلم اور زیادتی سے ان کا تعاقب کیا۔ یہاں
تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لایا
اللہ پر جس پر نبی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا
کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کے اطاعت گزاروں
(مسلمانوں) میں ہوں (90:10)

الْآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝
﴿١٠ يونس ٩١﴾

(جواب ملا کہ) اب (ایمان لاتا ہے) حالانکہ تو (تھوڑی
دیر) پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے
تھا؟ (91:10)

**ALLAH (SWT) MADE THE DEAD BODY OF
PHARAOH A PORTENT FOR GENERATIONS
(A LESSON - AND REMINDER)**

But this day We save you in your
body so that you may be a portent
for those after you. Indeed most of
mankind are heedless of Our signs.
(10:92)

جعل الله جثمان فرعون آية وعبرة
للأجيال الآتية

نعش فرعون کو نشان عبرت
بنادئیے جانے کا حکم الہیہ

That We might make it a memorial
reminder) for you, and that
tentive ears (that heard the story)
might retain it (as lesson). (69:12)

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِيَتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۝
وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ أَيْتِنَا لَغَفُلُونَ ۝
﴿١٠ يونس ٩٢﴾

تو آج ہم تیری لاش کو (دریا سے) نکال لیں گے تاکہ تو
پچھلوں کے لئے نشان عبرت ہو اور بہت سے لوگ
ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں (92:10)

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أذُنٌ وَإِعْيَةٌ ۝
﴿٦٩ الحاقة ١٢﴾

تاکہ اس واقعہ کو تمہارے لئے سبق آموز یادگار بنائیں
اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں (12:69)

Reference : 26:67 43:56 69: 9,10
Page 1038, 1039

وللمزيد راجع ٢٦ الشعراء: ٦٧: ٤٣ الزخرف: ٥٦
٦٩ الحاقة: ١٠٠٩: الصفحة ١٠٣٨, ١٠٣٩

مزيد حوالہ 26: 67 43: 56 69: 9, 10
صفحہ 1038, 1039

**PHARAOH DIED UNWEPT,
UNHONOURED AND UNSUNG**

How many were the gardens and the
water springs that they left behind,
(44:25)

لم يتأسف أحد على غرق فرعون

فرعون کے غرق ہونے پر کسی کو
افسوس نہ ہوا

And the cornfields and the goodly
trees, (44:26)

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَدَّتٍ وَعَيْونِ ۝
﴿٤٤ الدخان ٢٥﴾

وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے (25:44)

And pleasant things wherein they
took delight! (44:27)

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝
﴿٤٤ الدخان ٢٦﴾

اور کھیتیاں اور شاندار محل (وہ چھوڑ گئے) (26:44)

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۝
﴿٤٤ الدخان ٢٧﴾

اور آرام کے سرو سامان (ان کے پیچھے دھرے رہ
گئے) جن میں عیش کیا کرتے تھے (27:44)

Even so, it was, and We made it an inheritance for other folk: (41:25)

كَلِمَاتٍ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيَاتِ ﴿٢٥﴾
 ﴿٢٥﴾ لَعْنَةُ الْحَيَاتِ

یہ کلمات (تو اللہ کی توجہ سے) میرے لیے تھیں اور تم کو میرا وارث بنانا ہے۔

And neither the heaven and the earth shed a tear over them nor were they given respite again. (41:29)

وَمَا يَشْفَعُ لَهُمْ جُنُودُهُمْ شَيْئًا وَمَا يَكْتُمُونَ لَهَا شَيْئًا مِنْ عِلْمِ رَبِّهِمْ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا هُمْ بِبَارِقِينَ ﴿٢٩﴾
 ﴿٢٩﴾ لَعْنَةُ الْحَيَاتِ

اور ان کے لشکر آسمان اور زمین کو شفا دینے کے لیے نہیں آتے اور ان کو عفو نہیں دیا گیا۔

We delivered them from Pharaoh. Indeed he was a tyrant of the wanton ones. (41:31)

مَنْ قَرَعُونَ رَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مُرْتَدِّينَ ﴿٣١﴾
 ﴿٣١﴾ لَعْنَةُ الْحَيَاتِ

(یعنی) قرعون سے شک ہو کر تم لوگ (اپنے رب سے) لوٹو۔

ULTIMATE FATE OF PHARAOH AND HIS FOLLOWERS ON THE DAY OF JUDGEMENT

عصر قرعون و آلہ یوم القیامۃ

قرعون اور اس کی بیعت کرنے والوں کا روز قیامت انجام

And We sent Moses with Our revelations and a clear warrant.

وَقَدْ رَكَنَّا كُنُوسَ آلِهِ لِيَلْمُوا رَبَّهُمْ إِثْمًا ﴿٤٦﴾
 ﴿٤٦﴾ لَعْنَةُ الْحَيَاتِ

اور ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانوں اور واضح حکم کے ساتھ بھیجا۔

To Pharaoh and his chiefs, but they did not follow the command of Pharaoh, and the command of Pharaoh was not rightly guided.

إِلَى قُرْعُونَ وَعَمَلَاءِهِمْ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ قُرْعُونَ ﴿٤٧﴾
 ﴿٤٧﴾ لَعْنَةُ الْحَيَاتِ

(یعنی) قرعون اور اس کے سربراہوں کی طرف تو میرے حکم کی بجائے قرعون کے حکم پر چلے۔

He will go before his people on the Day of Resurrection and will lead them into the Fire. How awful will be (their) arrival wherever they are led. (46:39)

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْدَدَهُمُ الشَّرَّاءُ ﴿٣٩﴾
 ﴿٣٩﴾ لَعْنَةُ الْحَيَاتِ

و قیامت کے دن اپنے قوم کے آگے آئے چلے گا اور ان کو جہنم میں لے جائے گا۔

A curse is made to follow them in the world and on the Day of Resurrection. Awful is the gift (that will be) given (them). (46:39)

وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْسَلُونَ إِلَى سَعِيرٍ ﴿٤٠﴾
 ﴿٤٠﴾ لَعْنَةُ الْحَيَاتِ

لہذا ان جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگے گی اور قیامت کے دن بھی (پیچھے لگی ہے گی) جو ان کو دنیا گیا ہے۔

In front of the Fire; they are exposed morning and evening; and on the Day when the Hour is set up (it will be said): Cast Pharaoh's folk into the most awful doom. (46:46)

إِنَّمَا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾
 ﴿٤٦﴾ لَعْنَةُ الْحَيَاتِ

(یعنی) آتش (جہنم) کے صحن و شام اس کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی (حکم ہوگا کہ) قرعون والوں کو سخت عذاب میں ڈال دو۔

More Reference: 3:11 8:52 54:41,42
 Page 679 679 683
 69:9 73:16 85:18 89:10
 624 624 624 624

والتفصیل راجع ۳ آل عمران: ۱۱ ۸ الزلزال: ۵۲ ۵۴ القمر: ۴۱، ۴۲ ۶۹ الحاقة: ۱۷ ۷۳ الزمر: ۱۷ ۸۵ البروج: ۱۸ ۸۹ الفجر: ۱۷

تفصیل کے لیے دیکھئے 42:41-54 52:8 11:3
 683 679 679
 10:89 18:85 16:73 9:69
 684 684 684 684

SAFE CROSSING OF RED SEA BY MIRACLE AND ENTERING OF MOSES (ؑ) WITH HIS PEOPLE IN SINAI PENINSULA

ورود موسیٰ واد سیناء بعد اجتياز البحر الأحمر عن طريق الإعجاز

حضرت موسیٰ مدینہ اور قوم موسیٰ کا بحر کازم کو معجزانہ طور پر پار کر کے جزیرہ سینائی میں پہنچ جانا

For Detail Consult next Page

والتفصیل راجع الصفحة الآتية

تفصیل کے لیے دیکھئے اگلی صفحہ

Marfat.com

JUST AFTER SAFE MIGRATION FROM EGYPT AND ESCAPE FROM PHARAOH'S BONDAGE ISRAELITES WANTED TO INDULGE INTO IDOLATRY BUT MOSES (PBUH) REPROACHED THEM

And We took the Children of Israel (with safety) across the sea, came to a people who were entirely devoted to the idols, which they had. They said: O Moses! Fashion for us a god even as they have gods. He said: You are a folk who know not. (138)

For these, folk the cult they are is bound to be destroyed and all that they practice is absurd. (7:139)

He said: Shall I seek for you a god (deity) other than Allah when He has preferred you a head of everyone in) the Universe?. (140)

MOSES (PBUH) ASKED THE ISRAELITES TO INVADE HOLY LAND

O my people! Go into the holy land, which Allah has assigned to you. Turn not back ignominiously for when you will be overthrown to ruin. (5:21)

TWO MEN OF FAITH AFTER APPRAISAL OF THE SITUATION TRIED TO PERSUADE ERROR STRICKEN ISRAELITES FOR ENTERING THE LAND WITH COURAGE

Then out spoke two (men) of those who feared (their Lord) to whom Allah had been gracious: Assault them at the (proper) gate for if you will enter by it, you will be victorious. So put your trust (in Allah) if you are indeed believers. (23)

ISRAELITES REFUSED TO FIGHT AGAINST THE CANAANITES

They said: O Moses! A giant people (dwell) therein, and we shall never enter it until they leave it, if (once) they leave, then we shall enter. (5:22)

رغبة بنی اسرائیل الی عبادة الأصنام
بعد التخلص من عبودية فرعون
والهجرة بالعافية وزجر موسى عليه السلام لهم

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

﴿٧ الاعراف ١٣٨﴾

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

﴿٧ الاعراف ١٣٩﴾

قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَيْكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾

﴿٧ الاعراف ١٤٠﴾

امر موسى عليه السلام بنی اسرائیل
بالدخول فی الأرض المقدسة
وبالأخراج لمن احتل فیها من قبل

يَقُولُوا ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾

﴿٥ المائدة ٢١﴾

استطلع رجلا من مؤمنان تلك الارض
وحرضا بنی اسرائیل الخائفين للقتال

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

﴿٥ المائدة ٢٣﴾

رفض بنی اسرائیل
القتال فی سبیل الله

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْتَهِزُهَا حَتَّى يُخْرِجُوا مِنْهَا أَوْ يُخْرِجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾

﴿٥ المائدة ٢٢﴾

نبی اسرائیل کی فرعون کی غلامی سے آزادی اور باعافیت ہجرت کے فوراً بعد خواہش بت پرستی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ

اور ہم نے نبی اسرائیل کو دریا گزار دیا تو وہ راستے میں ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے چند بتوں (کی عبادت) کے لئے بیٹھے رہتے تھے۔ (نبی اسرائیل) کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو (138:7)

یہ لوگ جس (شغل) میں (پھنسے ہوئے) ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بے ہودہ ہیں (139:7)

(اور یہ بھی) کہا کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام اہل عالم پر برتری بخشی ہے (140:7)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم نبی اسرائیل کو
ارض مقدسہ سے قابض قوم کو نکال باہر کرنے کا حکم

تو بھائیو تم ارض مقدس (یعنی ملک شام) میں جسے اللہ نے تمہارے نام لکھ دیا ہے داخل ہو جاؤ اور (دیکھنا مقابلے کے وقت) پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے (21:5)

دو صاحب ایمان اشخاص کا حالات کا جائزہ
لے کر آنا اور خوف زدہ قوم نبی اسرائیل کو قابض قوم
سے مقابلہ کی ترغیب دینا

دو شخص جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان پر دروازے کے راستے سے جا کر حملہ کرو۔ جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے۔ اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم صاحب ایمان ہو (23:5)

نبی اسرائیل کا ارض مقدس پر قابض
قوم عمالقہ سے جہاد کرنے سے انکار

وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ (رہتے) ہیں۔ اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں ہرگز جائیں سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم بخوشی جا داخل ہوں گے (22:5)

They said: O Moses! We will never enter (the land) as long as they are in it. So go you and your Lord and fight! We will sit here. (5:24)

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنُؤْتِيكَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾

﴿٥ المائدة ٢٤﴾

وہ بولے کہ اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے (اگر لڑنا ہی ضرور ہے) تو تم اور تمہارا پروردگار جاؤ اور لڑو۔ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے (24:5)

MOSES (PBUH) PRAYED FOR SEPARATION FROM THE DISBELIEVERS AND ISRAELITES WERE LEFT TO WANDER DISTRACTEDLY THROUGH ARABIAN DESERTS BEING DISINHERITED FROM LAND OF CANAAN FOR FORTY YEARS

دعاء موسیٰ علیہ السلام ربہ للفتح بین القوم الظالمین وإعراض بنی اسرائیل عن الجهاد فجعلهم الله یتیمون فی صحراء سیناء أربعین سنة

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے نافرمان قوم سے جدائی کے لئے دعا اور نبی اسرائیل کا جہاد سے انکار کے باعث میدان تیبہ میں چالیس سال تک بھٹکتے پھرنا اور ارض مقدسہ میں داخلہ سے محروم رہنا

He said: My Lord! I have control of none but myself and my brother, so separate us and the rebellious folk. (5:25)

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

﴿٥ المائدة ٢٥﴾

موسیٰ نے (اللہ سے) التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے (25:5)

(Their Lord) said: For that the land will surely be forbidden to them for forty years that they will in distraction wander in the land. So grieve not over such perverse people. (5:26)

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

﴿٥ المائدة ٢٦﴾

اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین ان پر چالیس برس تک کے لئے حرام کر دی گئی ہے (کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی) زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے تو ان فاسق لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو (26:5)

ENTERING INTO THE PROMISED HOLY LAND BY ISRAELITES

دخول موسیٰ علیہ السلام الارض المقدسة مع بنی اسرائیل

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم نبی اسرائیل کا داخلہ ارض مقدس

MOSES (PBUH) PRAYED ALLAH (SWT) FOR WATER FOR HIS PEOPLE AND WAS BESTOWED WITH MIRACLE OF GUSHING TWELVE SPRINGS FOR TWELVE TRIBES BY STRIKING THE ROCK WITH HIS STAFF

استسقاء موسیٰ ربہ لقومه فأمر الله موسى بضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا

حضرت موسیٰ کی قوم کے لئے پانی کے اسباب کی دعا اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا کو چٹان پر مارنے سے بارہ قبیلوں کے لئے علیحدہ علیحدہ بارہ پانی کے چشمے پھوٹ پڑنے کا معجزہ

CONCEPT OF TRIBAL ORGANIZATION CENSUS AND FIXING TERRITORIAL AREAS, DISTRIBUTION OF LANDS OF JEWS

شعور إحصاء السكان فی عهد بنی اسرائیل

بنی اسرائیل کا قبیلہ داری مردم شماری اور تقسیم اراضی کے نظام کا تصور

And remember when Moses prayed for water for his people, We said: Smite with your staff the rock. And there gushed out twelve springs (so that) each tribe knew their drinking place. So eat and drink of the sustenance that Allah has provided, and do not act corruptly, making mischief in the earth. (2:60)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنثَىٰ مَشْرَبًا مَّمًّا كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

﴿٢ البقرة ٦٠﴾

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے (اللہ سے) پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ اپنی لاشی چٹان پر مارو انہوں نے لاشی ماری تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے (پانی پی) لیا (ہم نے حکم دیا کہ) اللہ کی (عطا فرمائی ہوئی) روزی کھاؤ اور پیو گری زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا (60:2)

We divided them into twelve tribes, (nations) and We inspired Moses, when his people asked him for water, saying: Strike with your rod the rock! And gushed forth therefrom twelve springs, so that each tribe knew their drinking place. And We caused the cloud to overshadow them and sent down for them the Manna and the Quails (saying): Eat of the good things which We have provided you (but they rebelled). They wronged Us not, but they were to wrong themselves. (7:160)

And We said to the Children of Israel after him: Dwell in the land; but when the promise of the hereafter comes to pass We shall bring you as a crowd gathered out of various nations. (17:104)

وَقَطَعْنَا لَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

اور ہم نے ان کو (یعنی بنی اسرائیل کو) بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی فلاں چٹان پر مار دو۔ تو اس چٹان میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ مقرر کر لیا۔ اور ہم نے ان (کے سروں) پر بادل کا سایہ کیے رکھا اور ان پر من و سلویٰ اتارتے رہے۔ (اور ان سے کہا) جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ۔ اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا۔ بلکہ (جو) نقصان (کیا) اپنا ہی کیا (160:7)

اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو۔ پھر جب آخرت کا وعدہ آجائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے (104:17)

Core Reference : 5:12 Page 1045

والمزید راجع ٥ المائدة: ١٢: الصفحة ١٠٤٥

مزید حوالہ 12:5 صفحہ 1045

DEVINE'S FAVOURS ON CHILDREN OF ISRAEL AND THEIR TURNING AWAY FROM THE COVENANT

For Detail Consult : Page 596

نعمة الله على بنى اسرائيل ولقض بنى اسرائيل بحشان

ولتفصيل راجع الصفحة ٥٩٦

اللہ تعالیٰ کے قوم بنی اسرائیل پر احسانات اور بنی اسرائیل کی نافرمانیاں

تفصیل کے لئے دیکھئے صفحہ 596

OVERSHADOW OF CLOUDS IN DESERT AND FOOD OF MANNA AND QUAILS FROM HEAVEN

And We caused the clouds to comfort you with their shade and sent down on you the Manna and the quails, (saying): Partake the good things wherewith We have provided you, as sustenance and they did not harm to Us, but against themselves did they sin. (2:57)

ظل الغمام فى الصحراء وإنزال المن والسلوى

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

صحرائ میں ابر کا سایہ اور آسمان سے من و سلویٰ کا کھانا

اور بادل کا تم پر سایہ کئے رکھا اور (تمہارے لئے) من و سلویٰ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ (پیو مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی) اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے (57:2)

Core Reference : 2:40,47,122 5:12,20 10:93
Page 596 1045,596 596
2:80,81 26:57,58,59,66 44:32,33 45:16
596 596,597,1038 597 597

والمزید راجع ٢ البقرة: ٤٠، ٤٧، ٤٨، ٥٠ المائدة: ١٢: ٢٠٠١٢
١٠ یونس: ٩٣ ٢٠ طه: ٨١، ٨٠ ٢٦ الشعراء: ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠
٤٤ الدخان: ٣٣، ٣٢ ٤٥ الجاثية: ١٦

مزید حوالہ 2:40,47,122 5:12,20 10:93
صفحہ 596 1045,596 596
26:57,58,59,66 44:32,33 45:16
596 596,597,1038 597 597

ISRAELITES HANKERED FOR EARTH GROWN POT-HERBS AND CUCUMBERS INSTEAD OF MANNA AND QUAILS

And remember when you said: O Moses! We are weary of one kind of food; so call upon your Lord for us that He brings forth for us of that which the earth grows of its herbs and its cucumbers and its corn and lentils and its onions.

طلب البقول و الخضروات مكان المن والسلوى

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْمِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا

من و سلویٰ کے بجائے سبزیوں کا مطالبہ

اور (یاد کرو) جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک (ہی) کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ساگ اور گلثری اور گیہوں اور مسور۔ پیاز (وغیرہ) جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لئے پیدا کر دے۔ (61:2)

(61) Part

﴿٢ البقرة ٦١﴾ جزء

BREACH OF COVENANT WITH ALLAH (SWT) BY THE CHIEFTAINS OF ISRAELITES

Allah made a covenant with the children of Israel and We appointed among them twelve chieftains: And Allah said: I am with you. If you establish worship and pay the poor due (Zakat), and believe in My messengers and assist them, and lend to Allah a beautiful loan, surely I shall remit your sins, and surely I shall bring you into gardens underneath which rivers flow. Whoso among you disbelieves after this will go astray from a path of rectitude. (5:12)

نقض نقباء موسیٰ عہد اللہ

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

﴿٥ المائدة ١٢﴾

سرداران نبی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ سے بد عہدی

اور اللہ نے نبی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں سے بارہ سردار (نقیب) مقرر کئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں یقیناً تمہارے گناہ دور کروں گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا (12:5)

More Reference : 2:60,246 3:93 5:13,70 7:160 Page 1043, 1063, 594, 592, 1044

والمزید راجع ٢ البقرة: ٢٤٦، ٦٠، ٣ آل عمران: ٩٣، ٥ المائدة: ٧٠، ١٣، ٧ الأعراف: ١٦٠

مزید حوالہ 2:60,246 3:93 5:13,70 7:160 صفحہ 1044, 592, 594, 1063, 1043

IGNOMINY AND HUMILIATION OVERSHADOWED ISRAELITES DUE TO THEIR INGRATITUDE

-----He said: Would you exchange that which is better for that which is worse? Go down to any town, thus you shall get that which you demand. And humiliation and wretchedness were stamped upon them and they were visited with wrath from Allah. That was because they disbelieved in Allah's revelations and slew the prophets wrongfully. That was for their disobedience and transgression. (2:61) Part

کفران بنی اسرائیل بأنعم اللہ و عقابہم

..... قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهَبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَعْظٌ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

﴿٢ البقرة ٦١﴾ جزء

بنی اسرائیل کے کفران نعمت پر ان کو ذلت رسوائی اور محتاجی کی سزا

انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو (اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں) تو کسی شہر میں جا رہو وہاں جو مانگتے ہو وہ مل جائے گا اور (آخر کار) ذلت (ورسوائی) اور محتاجی (دبے نوائی) ان کا مقدر کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لئے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور (اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے) یعنی یہ اس لئے کہ نافرمانی کئے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ (61:2) جزو

FORTY NIGHTS EXCLUSION OF MOSES (PBUH) ON THE MOUNT SINAI

And remember when We did appoint for Moses forty nights (of solitude), and then you chose the calf for worship (in his absence), and you did grievous wrong. (2:51)

لبث موسیٰ علیہ السلام علی الطور أربعین لیلۃ

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

﴿٢ البقرة ٥١﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چالیس روز قیام کوہ طور

اور (یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے تھے (51:2)

Then, even after that, We pardoned you in order that you might give thanks. (2:52)

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّن بَعْدَ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

﴿٢ البقرة ٥٢﴾

پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو (52:2)

MOSES (PBUH) APPOINTED AARON (PBUH) AS DEPUTY TO GUIDE ISRAELITES IN HIS ABSENCE TO MOUNT SINAI

And when We appointed for Moses thirty nights (of solitude), and added to them ten, and he completed the whole time appointed by his Lord of forty nights; and Moses said to his brother Aaron: Take my place among the people, and set a good example and follow not the way of mischief makers. (7:142)

And Aaron had already told them O my people! You are but being tested herewith, for your Lord is the beneficent, so follow me and obey my command. (20:90)

They said: We shall by no means cease to be its votaries till Moses returns to us. (20:91)

استخلاف ہارون علیہ السلام
خلال غیاب موسیٰ علیہ السلام

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّيْنَاهَا
بِعَشْرٍ فَمِمَّا مَبِيَّاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ
مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ
وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ اتَّبِعُوا
مُوسَىٰ إِنَّكُمْ لَرَبُّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي
وَاطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ غُلْفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا
مُوسَىٰ ﴿٩١﴾

چلہ کے دوران حضرت ہارون علیہ السلام
کو جانشین مقرر کرنا

اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور دس (راتیں) مزید ملا کر اسے پورا (چلہ) کر دیا تو اس کے پروردگار کی چالیس رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو (ان کی) اصلاح کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں پر نہ چلنا۔ (142:7)

اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو! اس پچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ اور تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ ہے تو پس تم میری تابعداری کرو اور میرا کہا مانو (90:20)

انہوں نے جواب دیا کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس (پچھڑے) کی (پوجا) پر قائم رہیں گے (91:20)

MOSES (PBUH) WAS UP ON THE MOUNT SINAI, LEAVING BEHIND THE FOLK

And (it was said): What has made you hasten in advance of your folk, O Moses? (20:83)

He said: They are close upon my back. I hastened to You that You might be well pleased. (20:84)

تعجيل موسى في الذهاب إلى الطور
عن قومه اشتياقا للقاء الله تعالى

وَمَا أَحْجَاكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٨٣﴾

قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَكْرَمِي وَحَمَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي
لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

اللہ تعالیٰ سے شوق ملاقات میں
حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر پہنچنے میں
اپنی قوم سے سبقت لینا

اور اے موسیٰ کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ (83:20)

اس نے عرض کیا وہ میرے پیچھے (آ رہے) ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف (آنے کی) جلدی اس لئے کی کہ راضی ہو جائے (84:20)

ALLAH'S (SWT) CONVERSE WITH MOSES (PBUH) ON MOUNT SINAI AND MOSES (PBUH) APPEALED ALLAH (SWT) FOR SIGHT

And when Moses came to Our appointed tryst and his Lord addressed to him, he said: My Lord! Show me (Yourself), that I may look upon You. Allah said: You no means can see Me, (direct) at gaze upon the mountain! If it stands still in its place, then you will see Me. And when his Lord revealed (His) glory to the mountain, he made it crushing down (dust). And Moses fell down senseless. And when he woke, he said: Glory to You! I turn to You repentant, and I am the first of (true) believers. (143)

المكالمة على الطور والتماس
موسى عليه السلام من الله تعالى لرؤيته

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ
رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ
انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
نَرِيكَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لِرَبِّهِ الْجَبَلُ جَعَلَهُ دُكَّانًا
وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

کوہ طور پر باتیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست

اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر (کوہ طور) آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کر دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو۔ وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ بس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس پہاڑ کے پرچے اڑا دیئے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب (موسیٰ) ہوش میں آئے تو عرض کیا۔ بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ (143:7)

MOSES (PBUH) WAS GRANTED THE TORAH AND CRITERION

إعطاء موسى عليه السلام التوراة والشريعة

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور شریعت کا عطا کیا جانا

And when We gave to Moses the Scripture and the Criterion (of right and wrong), there was a chance for you to be guided aright. (2:53)

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾
﴿٢ البقرة ٥٣﴾

اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کے کہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پاسکو (53:2)

Allah said : O Moses ! I have preferred you above mankind by My messages and by My speaking (to you). So hold that which I have given you, and be among the thankful. (7:144)

قَالَ يٰمُوسَىٰ اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾
﴿٧ الاعراف ١٤٤﴾

اللہ نے (فرمایا) میں نے تم کو اپنی پیغمبری اور نبی ہم کلامی سے لوگوں پر ممتاز کیا ہے۔ تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے لے لو اور (میرا) شکر بجا لاؤ (144:7)

We gave to Moses the Scripture, and We appointed it a guidance for the Children of Israel, saying: Choose no guardian besides Me. (17:2)

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ اَلَا تَتَّخِذُ وَا مِن دُونِي وَكِيْلًا ﴿٢﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٢﴾

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کیلئے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا (2:17)

And We bestowed upon him of Our mercy his brother Aaron, a Prophet (likewise). (19:53)

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اٰخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾
﴿١٩ مریم ٥٣﴾

اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا (53:19)

And We gave Moses and Aaron the Criterion (for judgement of right and wrong) and a Radiance and a Reminder for the heedful. (21:48)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾
﴿٢١ الانبياء ٤٨﴾

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق بتلانے والی اور (سرتاپا) روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت (کی کتاب) عطا کی (48:21)

Those who fear their Lord even though unseen and who dread the Hour (of doom). (21:49)

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٢١ الانبياء ٤٩﴾

ان لوگوں کے لیے جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں (49:21)

This is a blessed Reminder that We have revealed: Will you then reject it? (21:50)

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ اَنْزَلْنَاهُ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُّكَرِّوْنَ ﴿٥٠﴾
﴿٢١ الانبياء ٥٠﴾

اور یہ مبارک نصیحت (بابرکت ذکر) ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟ (50:21)

Then We sent Moses and his brother Aaron with Our tokens and a clear warrant, (23:45)

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَاٰخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾
﴿٢٣ المنون ٤٥﴾

پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا (45:23)

And We gave Moses the Scripture, that haply they might be guided. (23:49)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾
﴿٢٣ المنون ٤٩﴾

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں (49:23)

And We sent Moses with Our revelations and a clear warrant. (40:23)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٣﴾
﴿٤٠ المنون ٢٣﴾

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن (نمایاں) سند دے کر بھیجا (23:40)

And We gave Moses the guidance, and We caused the Children of Israel to inherit the Scripture. (40:53)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدٰى وَاَوْثٰنًا بَنِي إِسْرٰءِيْلَ الْكِتٰبِ ﴿٥٣﴾
﴿٤٠ المنون ٥٣﴾

اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت (کی کتاب) دی۔ اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا (53:40)

A guide and a reminder for men of understanding. (40:54)

هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾
﴿٤٠ المتؤمن ٥٤﴾

عقل و دانش رکھنے والوں کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے
(54:40)

More Reference : Page : 247,1014

والمزيد راجع الصفحة ١٠١٤،٢٤٧

مزيد حوالہ صفحہ 1014,247

SHAPING (MOULDING) OF GOLDEN CALF BY SAMRI

صنع السامري عجلا من الحلي

سامري جادوگر کا سونے کا پھڑا بنا دینا

WORSHIP OF CALF BY ISRAELITES DURING THE ABSENCE (MEDITATION ON MOUNT SINAI) OF MOSES (PBUH)

اتخاذ بني اسرائيل العجل معبودا
في غياب موسى عليه السلام
لما أقام بالطور

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر قیام
اور ان کی عدم موجودگی میں
قوم کا پھڑے کی پرستش شروع کر دینا

WORSHIP OF GOLDEN CALF

عبادة (العجل)

گوسالہ پرستی

And Moses came to you with clear proofs (of Allah's Sovereignty), yet, while he was away, you chose the calf (for worship) and you were wrongdoers. (2:92)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾
﴿٢ البقرة ٩٢﴾

اور موسیٰ تمہارے پاس کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے (کوہ طور پر جانے کے) بعد پھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم (اپنے ہی حق میں) ظلم کرتے تھے (92:2)

And the folk of Moses, after (he had left them), designed a body of a calf (for worship), out of their ornaments which gave a lowing sound. Did they not see that it speaks not to them nor guides them in any way? They adopted it for worship, and became wrongdoers. (7:148)

وَإِتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهًا خَوَّارًا يُرْوَا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾
﴿٧ الاعراف ١٤٨﴾

اور قوم موسیٰ نے ان کے بعد اپنے زیور کا ایک پھڑا بنا لیا (وہ) ایک جسم (تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کی کسی معاملہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس کو انہوں نے (معبود) بنا لیا اور (اپنے حق میں) ظلم کیا (148:7)

Those who chose the calf (for worship), wrath from their Lord and humiliation will come upon them in the life of the world. Thus do requite those who invent a lie. (7:152)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾
﴿٧ الاعراف ١٥٢﴾

(اللہ نے فرمایا) کہ جن لوگوں نے پھڑے کو (معبود) بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت (نصیب ہوگی) اور ہم جھوٹی تہمت لگانے والوں (جھوٹ گھڑنے) کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں (152:7)

They said: We broke not promise with you of our own will, but we were laden with burdens of ornaments of the folk, then cast them (in the fire), for thus as Samri proposed: (20:87)

قَالُوا مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَتَذَكَّرُكَ أَتَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾
﴿٢٠ طه ٨٧﴾

وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی بلکہ معاملہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے لد گئے تھے ہم نے بس ان کو اتار پھینکا (آگ میں ڈال دیا) اور پھر اس میں سامری نے بھی کچھ ڈال دیا (87:20)

Then he produced for them a offigy of a calf (out of molten gold) which gave forth a lowing sound. And they said: This is your deity and the deity of your city of Moses, but he (Moses) has forgotten it. (20:88)

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهًا خَوَّارًا فَتَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ هَذَا فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾
﴿٢٠ طه ٨٨﴾

تو اس نے ان لوگوں کے لئے ایک پھڑا بنا دیا (یعنی اس کا) قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے۔ مگر موسیٰ اسے بھول گئے ہیں (88:20)

Could they not see that it cannot give any response to them and had no power to harm or to benefit them? (20:89)

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ إِلَهُهُمْ قَوْلَةٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾
﴿٢٠ طه ٨٩﴾

کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے (89:20)

Reference : 4:153 22:44
P: 196, 202

وللتفصيل راجع ٤ النساء: ١٥٣ ٢٢ الحج: ٤٤
الصفحة ١٩٦، ٢٠٢

تفصيل کیلئے دیکھئے 4: 153 22: 44
صفحة 196، 202

ON HIS RETURN MOSES (PBUH) REBUKED HIS PEOPLE ON WORSHIP OF GOLDEN CALF

And when Moses returned to his people, angry and grieved, he said: Evil is that (course) which you did in my absence Would you hasten on the judgement of your Lord? And he cast down the tablets, and he seized his brother by the head, dragging him towards him. He said: Son of my mother! The folk did judge me weak and almost killed me. Oh, make not mine enemies to rejoice over my misfortune and place me not among the evildoers! (7:150)

And, when the anger of Moses abated, he took up the tablets, and in their inscription there was guidance and mercy for all those who fear their Lord. (7:154)

(Allah) said "We have tested your people in your absence, the Samri has led them astray. (20:85)

Then Moses returned to his folk, angry and sad. He said: O my people! Has not your Lord promised you a handsome promise? Did the time appointed then seem too long for you, or did you wish that wrath from your Lord should come upon you, that you broke tryst with me? (20:86)

He (Moses) said: O Aaron! What held you back when you did see them gone astray, (20:92)

That you followed me not? Have you then disobeyed my order? (20:93)

He said: O son of my mother! Clutch not my beard nor my head! I feared lest you should say: You have caused division among the Children of Israel, and have not observed my word. (20:94)

اغتيال موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی پر
عند عودتہ من الطور

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا
قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْمَلْتُمْ
أَمْرًا رَبِّكُمْ وَأَلْقَيْتُمُ اللَّوَاهِ وَأَخَذْتُمْ
أَخْيَاهُ بِجُذُرِهِ النَّيُّ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ
اسْتَضَعُّونَنِي وَكَادُوا يَكْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ
بَنِي الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَىٰ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابِ
وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ
لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ
السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ
يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّ أَحْسَنَاءَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ
الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ
رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٨٦﴾

قَالَ يَهُدُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا
﴿٩٢﴾

أَلَا تَتَّبِعُنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي
خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی پر
اپنی قوم کی گوسالہ پرستی پر اظہار برہمی

ور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بری جانشینی کی۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی (یہ کہا) اور (شدت غضب سے تورات کی) تختیاں ایک طرف رکھ دیں اور اپنے بھائی کے سر کے (بالوں) کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے لوگ مجھے تو کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں۔ تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر نہیں اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے (150:7)

اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا (تورات کی) تختیاں اٹھالیں۔ جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی (154:7)

فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے (85:20)

اور موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے (اور) کہنے لگے کہ اے قوم والو کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اسکی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو۔ اور (اس لئے) تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی (86:20)

(پھر موسیٰ نے ہارون سے) کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا (92:20)

(یعنی) اس بات سے کہ تم میرے طریق پر نہ چلو۔ بھلا تم نے بھی میرے حکم کے خلاف کیا؟ (93:20)

کہنے لگے کہ بھائی (میری ماں کے بیٹے) میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ میرے سر کے بال کھینچ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے نبی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا (94:20)

SAMRI UNVEILED THE MISCHIEF OF MAKING OF GOLDEN CALF TO MOSES (PBUH) ON HIS QUERY

(Moses) said: And what have you to say, O Samri? (20:95)

Samri replied I perceived what they perceive not, so I took a handful of dust from the footsteps of the messenger (angel) and then threw it into the calf. Thus my soul commended to me. (20:96)

كشَف السامري عن حقيقة العجل

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّاتُ لِيَ نَفْسِي ﴿٩٦﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استفسار پر سامری کا گوسالہ کی حقیقت کا انکشاف

(پھر موسیٰ سامری سے) کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ (95:20)

اس نے جواب دیا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرستادہ الہی (فرشتے) کے نقش قدم سے (مٹی کی) ایک مٹھی بھر لی۔ پھر اس کو (پچھڑے کے قالب میں) ڈال دیا اور مجھے میرے نفس نے (اس کام کو) اچھا بتایا (96:20)

CURSE OF MOSES (PBUH) ON THE SAMRI AND MISERABLE END OF SAMRI (BECOMING LEPERED OUTCASTED)

(Moses) said: Then go away! And in this lifetime it is (a punishment) for you to say: Touch me not! Moreover there is for you a tryst (as a future penalty) you cannot break. Now look upon your god of whom you have become so devoted. We will turn it and scatter its dust over the sea. (20:97)

دعاء موسیٰ علیہ السلام علی السامری وعاقبتہ الألیمة ابتلاءہ بمرض الجذام المتعدی

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا

اور سامری جا دو گر کا تکلیف وہ انجام (جذام اور کوڑھ جیسے متعدی مرض میں مبتلا ہو جانا)

(موسیٰ نے) کہا اچھا جا۔ تجھ کو (دنیا کی) زندگی میں یہی (سزا) ہے کہ پکارتا رہ کہ مجھ کو نہ چھونا (ہاتھ نہ لگانا) اور تیرے لئے ایک اور بھی وعدہ ہے (یعنی عذاب کا) جو تجھ سے ہرگز ٹل نہ سکے گا۔ اور جس معبود (کی پوجا) پر تونے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس (کی راکھ) کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے (97:20)

MOSES (PBUH) ASKED HIS PEOPLE TO TURN TO ALLAH (SWT) IN REPENTANCE REALIZATION OF GUILT BY THEM AND PRAYING OF MOSES (PBUH) FOR MERCY

And remember when Moses said to his people: O my people! You have indeed wronged yourselves by choosing of the calf (for worship) so turn in repentance to your Creator, and kill (the guilty) yourselves. That will be best for you in the sight of your Creator and He will relent towards you. He is the Relenting, the Merciful. (2:54)

أمر موسیٰ قومه بالتوبة إلى الله وندم القوم فاستغفر موسیٰ لهم

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہدایت کرنا۔ قوم کا احساس ندامت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا برائے معافی قوم

اور (یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے پچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر (بڑا) ظلم کیا ہے تو اپنے خالق کے آگے توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی وہ بے شک معاف کرنے والا (اور) صاحب رحم ہے (54:2)

And when they repented and saw that they had gone astray, they said: Unless our Lord has mercy on us we shall indeed be among the losers. (7:149)

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

اور جب وہ شرمندہ ہوئے اور دیکھا کہ واقعی وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے (149:7)

Moses Prayed, - my Lord! Have mercy on me and on my brother; admit us into Your Mercy, You are the most Merciful of all who show mercy. (7:151)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٥١﴾
﴿٧ الاعراف ١٥١﴾

تب موسیٰ نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے (151:7)

ISRAELITES MADE THE BELIEVING OF COMMANDMENTS OF TORAH CONDITIONAL, UNTIL SEEING ALLAH (SWT) FACE TO FACE

بنو اسرائیل جعلوا تنفيذ أوامر التوراة مشروطا برؤية الله تعالى جهره

قوم نبی اسرائیل کا احکامات تورات کی تعمیل کو اللہ تعالیٰ کے دیدار (اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے) سے مشروط کر دینا

MOSES (PBUH) ACCOMPANIED SEVENTY ELDERS OF ISRAELITES TO THE MOUNT SINAI FOR SILENT WITNESS AND THEY WERE PUNISHED FOR CONTUMACY

ذهاب موسى عليه السلام إلى الطور بسبعين رجلا من قومه وعقاب الله عليهم بطغيانهم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے ہمراہ ستر 70 افراد نبی اسرائیل کو کوہ طور پر لے جانا اور ان افراد کا ہٹ دھرمی کی سزا پانا

And remember when you said O Moses: We will never believe in you till we see Allah manifestly and even while you gazed the thunderbolt seized you. (2:55)

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَا لَكُمْ الصُّعْقَةَ وَأَنْتُمْ تُنظَرُونَ ﴿٥٥﴾
﴿٢ البقرة ٥٥﴾

اور (اسے بھی یاد کرو) جب تم نے (موسیٰ سے) کہا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تو (جس گستاخی کی سزا میں) تم کو بجلی نے آگھیرا اور تم دیکھ رہے تھے (2:55)

Then We revived you after your extinction, that you might give thanks. (2:56)

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٢ البقرة ٥٦﴾

لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اور تمہارے بے جان ہو کر گر چکنے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا (56:2)

And Moses chose seventy of his people for Our appointed tryst of meeting and, when the trembling came on them, he prayed my Lord! If You had willed You had destroyed them long before and me with them. Will You destroy us for that which the foolish ones among us did? (7:155) PART

وَإِذْ أَخَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا أَهْلَكْنَا بِمَا فَعَلِ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۗ
﴿٧ الاعراف ١٥٥﴾ جزء

اور موسیٰ نے ہمارے وقت معین کے لیے اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب (کر کے کوہ طور پر حاضر) کئے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے عرض کی کہ اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے چند بے وقوف لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا۔ (155:7) جزو

SUPPLICATION OF MOSES (PBUH) WHILE TRIAL AT MOUNT SINAI

دعاء موسى عليه السلام على الطور عند البلاء

کوہ طور پر آزمائش کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا

-----You send astray whom you will and guide whom You will, You are our Protecting Friend, forgive us and have mercy on us, for You are the Best of all who forgive. (7:155) PART

تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿٥٥﴾
﴿٧ الاعراف ١٥٥﴾ جزء

----- تو جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے تو ہمیں (ہمارے گناہ) بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے (155:7) جزو

And ordain for us in this world that which is good, and in the Hereafter (that which is good) We have turned to You He said: I afflict My punishment on whom I will. But My mercy embraces all things, therefore I shall ordain it for those who ward off (evil) and pay the poor - due, (Zakat) and those who believe in Our revelations; (7:156)

وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهُمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٧ الاعراف ١٥٦﴾

اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع کر چکے اللہ نے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو میں جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت سے وہ ہر چیز پہ محیط ہے۔ میں وہ رحمت ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں (156:7)

TRAVELLING OF MOSES (PBUH) IN QUEST OF KNOWLEDGE TO MEET HIS MYSTERIOUS SAGE TEACHER AND REACHING TO THE JUNCTION OF TWO SEAS ALONG WITH JOSHUA TAKING A FISH ALONG AS A SOURCE OF (GOAL INDICATOR) FOR LOCATION OF THE SAGE

سفر موسیٰ علیہ السلام الطویل الی مجمع البحرین مع یوشع طلبا للعلم و لقاء ہ عبدا من عباد اللہ

حصول علم کیلئے ایک صاحب علم سے ملاقات کیلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجمع البحرین تک حضرت یوشع علیہ السلام کے ہمراہ ایک طویل سفر

MOSES (PBUH) REMAINED UNNOTICED OF ESCAPING OF FISH INTO THE SEA AND ATTENDANT FORGOT TO INFORM MOSES (PBUH) INSTANTLY THIS EVENT

وہناک تسبلت السمكة المطبوخة إلى البحر عجبا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کا دریا میں چلے جانا اور شاگرد کا بتانا بھول جانا

MEETING OF MOSES (PBUH) WITH KHIZIR (PBUH) AND CO-TRAVELLING WITH HIM

ثم لقاء ہ خضر و مصاحبته فی بعض منازل السفر

حضرت خضر کے ساتھ ملاقات اور سفر کی تین منازل

For Detail Consult : Chapter of Khizir (Khidhr) (PBUH) Page : 1058

والتفصیل راجع باب خضر علیہ السلام الصفحة ۱۰۵۸

تفصیل کیلئے دیکھیے باب حضرت خضر علیہ السلام صفحه 1058

A COVENANT TAKEN BY ISRAELITES UNDER THE THREAT TOWERING HEIGHTS OF SINAI WHEN A MOUNT WAS RAISED HIGH ABOVE THEM IN WITNESS OF THEIR SOLEMN PLEDGE

أخذ الميثاق على الطور ورفع الطور فوقهم فعاهدوا للطاعة

ميثاق کوہ طور واقعہ رفع جبل موسیٰ بنی اسرائیل کا اپنے سروں کے اوپر پہاڑ کے مطلق ہونے کے خوف سے عہد اطاعت کرنا

and (remember, O Children of Israel), when We made a covenant with you and caused the Mount (Sinai) raised above you, (saying): Hold fast that which We have given you, and remember that which is herein that you may ward off (evil). (2:63)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور کوہ طور کو تم پر لاکھڑا کیا (اور حکم دیا) کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو اس میں (لکھا) ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو (63:2)

but you turned back thereafter and it had not been for the Grace of Allah and His Mercy you had been among the losers. (2:64)

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

لیکن تم اس کے بعد (عہد سے) پھر گئے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے (64:2)

and (remember) when We took your covenant and caused the Mount (Sinai) to raise above you, (saying): Hold fast by that which We have given you, and hear (Our Word), they said: We hear and we rebel. and (worship of) the calf was made sink into their hearts because of their rejection (of the Covenant). say (to them): How wretchedly your faith commands you, if you ever have been believers. (2:93)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاَسْمِعُوا مَا نَأْمُرُكُمْ وَعَصُوا نَصْنِئُ الْكُفْرَ وَنُعْصِئُ لِمُؤْمِنِيٍّ قُلُوبَهُمْ بِنُجْحِهِمْ قُلُوبَهُمْ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

اور (یاد کرو) جب ہم نے تم (لوگوں) سے پکا وعدہ لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا (اور حکم دیا کہ) جو (کتاب) ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے تھا مو اور (جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو) سنو تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ماننے نہیں۔ اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا (گویا) ان کے دلوں میں رنج گیا تھا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے (93:2)

and We caused the Mount (Sinai) to rise above them at (the taking of) their covenant; and (on other occasion) We bade them; enter the temple, with humility and once again We commanded them: Transgress not the Sabbath, and We took from them a solemn covenant. (4:154)

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بَيْتًا قَدِيمًا وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَاخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا ﴿١٥٤﴾

اور ان سے عہد لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور لاکھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ (شہر کے) دروازے میں (داخل ہونا تو) سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن (مچھلیاں پکڑنے) میں تجاوز (یعنی حکم کے خلاف) نہ کرنا غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا (154:4)

And when We shook the Mount above them as it was a covering and they supposed that it was going to fall upon them and We said): Hold fast that which We have given you, and remember that which is therein, that you may ward off (evil). (7:171)

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٧﴾
﴿٧ الاعراف ١٧١﴾

اور جب ہم نے ان (کے سروں) کے اوپر پہاڑ معلق کر دیا گیا وہ سا تباہ تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے۔ تو (ہم نے کہا کہ) جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اور اس پر عمل کرو تا کہ نجات پاؤ (7:171)

More Reference : 2:246 3:93,198
Page 1063, 594, 306

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٢٤٦: ٣ آل عمران: ١٩٨-١٩٣
الصفحة 306, 594, 1063

مزید حوالہ 2:246:3 198,93:3
صفحہ 306, 594, 1063

SABBATH - JEWISH FISHING COMMUNITY AND THEIR PUNISHMENT FOR THEIR BREACH OF SABBATH DAY'S RESTRICTIONS TRANSGRESSION OF TORAH'S COMMANDMENTS

أصحاب السبت
عدم احترامهم للسبت و عقوبته

اصحاب السبت
يوم السبت کی تقدیس کی نافرمانی اور اس کی سزا

More Reference : 2:65 4:154 7:163 to 166
Page 1070, 1052

والمزيد راجع ٢ البقرة: ٦٥: ٤ النساء: ١٥٤
٧ الاعراف: ١٦٣ الى ١٦٦ الصفحة ١٠٥٢, ١٠٧٠

مزید حوالہ 2:65:7 163:7 154:4 65:2
صفحہ 1052, 1070

A MIRACLE OF IDENTIFYING THE MURDERER BY STRIKING FLESH OF SACRIFICED HEIFER ON THE CORPSE OF MURDERED MAN

إزاحة الستار عن القاتل
عن طريق معجز

تحقیق قاتل کے لئے معجزہ
زخ شدہ بیل کے گوشت کو مقتول کی لاش پر مارنے سے قاتل کی شناخت

And (remember) when you slew a man and disagreed concerning it and Allah brought forth that which you were hiding. (2:72)

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾
﴿٢ البقرة ٧٢﴾

اور (یاد کرو) جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے۔ لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا (2:72)

And We said: Strike the (body) with a piece of the (heifer). Thus Allah brings the dead to life and shows you His portents so that you may understand. (2:73)

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾
﴿٢ البقرة ٧٣﴾

تو ہم نے کہا اس گائے کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو (وہ جی اٹھے گا)۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو (73:2)

ISRAELITES TRIAL ORDER OF SACRIFICING A COW (HEIFER OR CALF)

أمر الله بني إسرائيل
بذبح بقرة امتحانا

قوم بنی اسرائیل کی آزمائش کے لئے
(گائے یا بیل) کی قربانی کا حکم

And remember when Moses said to his people: Allah commands you that you sacrifice a heifer they said: Do you make laughing stock of us? He answered: Allah forbid that I should be among the foolish! (2:67)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾
﴿٢ البقرة ٦٧﴾

اور (یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ (موسیٰ نے) کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل بنوں (67:2)

TRIVIAL EXCUSES OF ISRAELITES TO AVOID THE OBEYANCE OF THE COMMAND OF SACRIFICING HEIFER (COW-CALF)

احتیال بنی اسرائیل
فی امتثال أمر الله لذبح بقرة

قوم بنی اسرائیل کی گائے یا بیل کی قربانی کے حکم کی تعمیل کے لئے بہانہ سازی

They said: Beseech for us to your Lord that He make clear to us what (cow) she is. (Moses) answered: He says, she is a cow neither calf nor immature; (she is) but of middle age. So do that which you are commanded. (2:68)

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا فَارِصٌ وَلَا يَكَرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا ما تؤمرون ﴿٦٨﴾
﴿٢ البقرة ٦٨﴾

انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ (موسیٰ نے) کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوزھی ہو اور نہ چھڑا بلکہ درمیانی عمر کی ہو سو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو (68:2)

They said: Beseech for us to your Lord that He make clear to us of what colour she is. (Moses) answered: He says: She is a yellow (fawn - coloured) cow. Bright is her colour, pleasing to those who look at her. (2:69)

They said: Beseech for us to your Lord that He make clear to us what (cow) she is. Cows are much alike to us; and if Allah wills, we may be led aright. (2:70)

(Moses) answered: He says: She is a cow unyoked; she ploughs not the soil nor waters the tilth; sound and without mark (blemish). They said: Now you bring the truth. So they sacrificed her, though almost they had not. (2:71)

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعَةٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾
﴿٢ البقرة ٦٩﴾

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهتدون ﴿٧٠﴾
﴿٢ البقرة ٧٠﴾

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَّا شِيْءَ فِيهَا قَالُوا لَئِن جِئْتِ بِالنَّحْوِ فَقَدْ بَعُوَهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾
﴿٢ البقرة ٧١﴾

انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے (اس کی ماہیت بیان کر دے) کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد (چمکیلا) ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہو (2:69)

انہوں نے کہا (اب کے) پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ کس کس طرح کی ہو کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں (پھر) اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی (2:70)

موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی زمین میں بل جوتے والی اور نہ کھیتوں میں پانی پلانے والی ہو وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں واضح کر دی ہیں غرض (بڑی مشکل سے) انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے (2:71)

Reference : 2:67 Page 1053

وللمزيد راجع ٢ البقرة: ٦٧ الصفحة ١٠٥٣

بازين هواله 67:2 صفحه 1053

BLASPHEMOUS ATTITUDE AND VEXING OF ISRAELITES WITH MOSES (PBUH)

معامله بنی اسرائیل لموسى عليه السلام بالایذاء

O you who believe! Be not as those who slandered (hurt) Moses, but Allah proved his innocence of that which they alleged, and he was well esteemed in Allah's sight. (33:69)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾
﴿٣٣ الاحزاب ٦٩﴾

نبی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی۔ ایذا رسانی

اے ایمان والو! تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو (عیب لگا کر) رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا (بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرمادیا) اور وہ اللہ کے نزدیک عزت اور آبرو والے تھے (33:69)

And (remember) when Moses said to his people: O my people! Why do you vex and insult me, when you now that I am Allah's messenger to you? So when they went astray Allah sent their hearts astray, And Allah guides not the evil-living folk. (61:5)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾
﴿٦١ الصف ٥﴾

اور (وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے کج روی کی اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے۔ اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا (5:61)

ISRAELITES USED TO ASCRIBE EVERY BLESSING TO THEIR OWN PERSONAL EFFORT AND EVERY ADVERSITY TO MOSES (PBUH)

فرحہم بالحسنه و تطيرهم بموسى عليه السلام عند ما أصابتهم سيئة

نبی اسرائیل کا ہر آسائش کو اپنا حق سمجھنا اور ہر تکلیف کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوب کرنا

But whenever good (times) befell them, they said: This is due to us and whenever gripped by calamity they ascribed it to the evil omens of Moses and those with him. Surely their evil auspice was only with Allah. But most of them knew not. (131)

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَّا تَأْتِيَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾
﴿٧ الاعراف ١٣١﴾

تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی (خوشحالی آجاتی) تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں اور اگر سختی پہنچتی (بدحالی آجاتی) تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے دیکھو ان کی نحوست اللہ کے ہاں (مقدر) ہے لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے (131:7)

EACH TIME THE ISRAELITES SUFFERED AFFLICTION, THEY PROMISED AMENDMENT AND BEGGED MOSES (PBUH) TO INTERCEDE BUT ON EASING OUT, THEY WENT BACK TO EVIL ATTITUDE

تملق بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام
عند وقع الرجز علیہم ثم نکثهم

عذاب واقع ہونے پر بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کی خوشامد کرنا (اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنے کے لئے) اور اپنی اصلاح احوال کا وعدہ کرنا مگر عذاب دور ہونے پر دوبارہ وعدہ خلافی پر اتر آنا

And when the terror (plague) fell on them they cried: O Moses! Pray for us to your Lord, in virtue of His promise to you. If you remove the terror from us we will surely believe in you and will let the Children of Israel go with you. (7:134)

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ وَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾

اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے (کی اجازت) دیں گے۔ (134:7)

But when We did remove from them the terror according to a fixed term, which they must reach, they broke their word. (7:135)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِالْعُوقُوبَةِ إِذْ هُمْ يُنْكثُونَ ﴿١٣٥﴾

پھر جب ہم ایک خاص مدت کے لئے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے۔ (135:7)

And they said: O wizard; entreat your Lord for us by the pact that He has made with you we surely will walk aright. (43:49)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السِّحْرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے (49:43)

But when We eased them of the torment, behold! They broke their word. (43:50)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذْ هُمْ يُنْكثُونَ ﴿٥٠﴾

سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے (50:43)

We inspire you as We inspired Noah and the prophets after him, as We inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and as We imparted to David the Psalms;(4:163)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالذِّكْرِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَى وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾

ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اور ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی (163:4)

And We bestowed Our favours on Moses and Aaron,(37:114)

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کئے (114:37)

And saved them and their people from the great distress,(37:115)

وَنَجَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾

اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑے دکھ درد سے نجات بخشی (115:37)

And helped them so that they became the victorious.(37:116)

وَنَصَّرْنَاهُمْ فَمَا كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾

اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے (116:37)

And We gave them the Scripture which helps to make things clear.(37:117)

وَآتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾

اور ان دونوں کو واضح اور روشن کتاب دی (117:37)

And guided them to the right path.(37:118)

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا (118:37)

And We left for them, among the later generations (the salutation) (37:119)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾

اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر (خیر باقی) چھوڑا (119:37)

Peace and salutation to Moses and Aaron!(37:120)

سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾

کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام (120:37)

Indeed thus We do reward the good.(37:121)

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾

پیشک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (121:37)

They both were of Our believing slaves.(37:122)

إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے (122:37)

Reference :	6:84	7:142,150	10:75
Page	996	1046,1050	1019
20:53	20:30,70	21:48	23:45,48
24:47	1015,1028	1047	1047,1020
28:34,35			
36:56,1057			

۱۰۰،۱۴۲	۷ الأعراف	۸۴ الأنعام	۶۶
۷۰،۳۰	۲۰ طہ	۱۹ مريم	۷۵
۴۸	۲۶ الشعراء	۲۳ المؤمنون	۴۸،۴۵
۲۸	القصص	۳۴،۳۵	

75:10	150,142: 7	84:6
1019	1046,1050	996
48,45: 23	48: 21	70,30: 20
1047,1020	1047	1015,1028
	35,34: 28	48: 26
	1056,1057	1028

AARON (PBUH) WAS BESTOWED WITH ELOQUENCE AND FLUENCY IN SPEECH

كان هارون عليه السلام فصيح اللسان
قادراً على البيان بالسهولة

ہارون علیہ السلام کی زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت

Detail Consult : 28:34 Page 1015

والتفصیل راجع ۲۸ القصص: ۳۴ الصفحة ۱۰۱۵

تفصیل کیلئے دیکھیے 28: 34 صفحہ 1015

MOSES (PBUH) BESEECHED ALLAH (SWT) TO APPOINT AARON AS MINISTER TO ASSIST HIM IN HIS MISSION

دعاء موسیٰ علیہ السلام رَبِّهِ
أَنْ يَجْعَلَ لَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَزَيْرَ اللَّهِ

ہارون علیہ السلام کی معاونت کے لئے
موسیٰ علیہ السلام کی دعا

Detail Consult : 20:29to34 26:12,13 28:34
Page 1015, 1016

والتفصیل راجع ۲۰ طہ: ۲۹ الی ۳۴ الشعراء: ۱۲، ۱۳
۲۸ القصص: ۳۴ الصفحة ۱۰۱۵، ۱۰۱۶

تفصیل کیلئے دیکھیے 20: 29-34 26: 12، 13 28: 34
صفحہ 1015، 1016

ACTED AS DEPUTY OF MOSES (PBUH)

كان هارون وزير الأخيه موسى
وأمر أن يساعده في الدعوة إلى الحق

موسی علیہ السلام کے وزیر

He said: We will certainly strengthen your arm with your brother, and We will give to you both authority so that they cannot reach you for Our portents. You both, and those who follow you, will be the winners. (28:35)

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ
لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيٰتِنَا
أنتِبَا وَمِنَ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾
﴿٢٨ القصص ٣٥﴾

اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعہ تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے (اور) تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے (35:28)

More Reference : 20:29 to 34 28:34
Page 1015,1016

وللتفصیل راجع ٢٠ طہ: ٢٩ الی ٣٤
الصفحة ١٠١٦، ١٠١٥

تفصیل کیلئے دیکھئے 34:28 34:29-20
صفحة 1016,1015

ENTRUSTED THE MISSION TO INVITE PHARAOH TO THE TRUTH

أمر هارون بالذهاب إلى فرعون
يدعوه إلى الله تعالى

ہارون علیہ السلام کو دعوت حق دینے کا حکم

Then, after them, We sent Moses and Aaron to Pharaoh and his chiefs with Our revelations, but they were arrogant and were a guilty folk. (10:75)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسٰى وَهٰرُونَ إِلَى
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
قَوْمًا فَجْرٰمِينَ ﴿٧٥﴾
﴿١٠ يونس ٧٥﴾

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے غرور کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے (75:10)

For Detail Consult : 20:35,36,42,43,44 47,48 26:15,16 28:35
Page 1016,1017 1017 1017

وللتفصیل راجع ٢٠ طہ: ٣٥، ٣٦، ٤٢، ٤٣، ٤٤ الی ٤٨
٢٦ الشعراء: ١٥، ١٦، ٢٨ القصص: ٣٥
الصفحة ١٠١٦، ١٠١٧

تفصیل کیلئے دیکھئے 48,47,44,43,42,36,35:20
صفحة 1017, 1016 35:28 16,15:26

INVITING PHARAOH AND HIS FOLK TO PONDER IN SIGNS OF UNIVERSE TO REALIZE THE OMNIPOTENCE OF ALLAH (SWT)

دعوة فرعون ملاءه إلى التفكير
في الافاق

فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اعتقاد کے لئے مظاہر فطرت پر غور کی دعوت دینا

For Detail Consult : 20:49 to 55 40:41 to 44
Page 1017, 1018

وللتفصیل راجع ٢٠ طہ: ٤٩ الی ٥٥، ٤٠ المومن (غافر): ٤١ الی ٤٤
الصفحة 1017، 1018

تفصیل کیلئے دیکھئے 44: 41:40 55: 49:20
صفحة 1018، 1017

AARON (PBUH) WAS PLACED AS DEPUTY TO GUIDE ISRAELITES IN ABSENCE OF MOSES TO MOUNT SINAI (PBUH)

جعل موسى أخاه هارون خليفته
خلال ذهابه إلى الطور

موسیٰ علیہ السلام کے چلہ طور کے دوران جانشین مقرر کیا جانا ہارون علیہ السلام کی نیابت (عارضی جانشینی)

For Detail Consult : 7:142 Page 1046

وللتفصیل راجع ٧ الأعراف: ١٤٢ الصفحة ١٠٤٦

تفصیل کیلئے دیکھئے 142:7 صفحه 1046

SHAPING OF GOLDEN CALF BY SAMRI DURING AARON'S (PBUH) MINISTRY

مؤامرة السامري الساحر
لصنع عجلا من الذهب

ہارون علیہ السلام کے عرصہ جانشینی کے دوران سامری جادوگر کا سونے کا بچھڑا تیار کرنے کی سازش

More Reference : 2:92 7:148 20:87
Page 1048

وللتفصیل راجع ٢ البقرة: ٩٢ الی ٧ الأعراف: ١٤٨
٢٠ طہ: ٨٧ الصفحة ١٠٤٨

تفصیل کیلئے دیکھئے 87:20 148:7 92:2
صفحة 1048

CALLING OF EXPLANATION BY MOSES (PBUH) ON HIS RETURN FROM MEDITATION OF MOUNT SINAI

استجواب موسى هارون
عند عودته من الجبل

موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی پر ہارون علیہ السلام سے باز پرس

For Detail Consult : 7:150 20:94
Page 1049

وللتفصیل راجع ٧ الأعراف: ١٥٠ الی ٢٠ طہ: ٩٤
الصفحة ١٠٤٩

تفصیل کیلئے دیکھئے 94:20 150:7
صفحة 1049

KHIZIR

(KHIDHR) (PBUH) MYSTERIOUS SAGE

حضرت خضر علیہ السلام

حضرت خضر علیہ السلام

MOSES (PBUH) REMAINED UNNOTICED OF ESCAPING OF FISH INTO THE SEA AND ATTENDANT FORGOT TO INFORM THIS EVENT TO MOSES (PBUH) INSTANTLY

وہناک تسللت السمكة المطبوخة إلى البحر عجباً

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کا دریا میں چلے جانا اور شاگرد کا بتانا بھول جانا

LONG TRAVEL OF MOSES (PBUH) IN SEARCH OF KHIDHR (PBUH)

سافر موسیٰ سفراً طويلاً لقاء لخضر

تلاش خضر علیہ السلام کے لئے موسیٰ علیہ السلام کا طویل سفر

And when Moses said to his attendant: I will not give up my journey until I reach the point where the two rivers meet, though I march on for ages (I spend years and years in travel). (18:60)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾
﴿١٨ الكهف ٦٠﴾

اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان (شاگرد) سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے سنگم پر (ملنے کی جگہ) نہ پہنچ جاؤں میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا خواہ مجھے سالہا سال چلنا پڑے (60:18)

And when they reached the point where the two rivers met, they forgot their fish, and it took its way into the waters (as a tunnel), being free. (18:61)

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾
﴿١٨ الكهف ٦١﴾

جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے۔ تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا (61:18)

And when they had gone further, he said to his servant: Bring us our breakfast. We have suffered fatigue in this our journey. (18:62)

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَائِعٌ فَلَقَدْ آتَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾
﴿١٨ الكهف ٦٢﴾

جب یہ دونوں وہاں سے آگے چلے تو (موسیٰ نے) اپنے نوجوان (شاگرد) سے کہا کہ ہمارے لئے ناشتہ لاؤ اس سفر سے ہمیں بہت تکان ہوگئی ہے (62:18)

He replied: Did you see, when we were resting by the rock, and I forgot the fish and none but Satan caused me to forget to mention it, it took its way into the waters in a marvelous way. (18:63)

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِيتهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾
﴿١٨ الكهف ٦٣﴾

(اس نے) جواب دیا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی (وہیں بھول گیا۔ اور مجھے (آپ سے) اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اور اس نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا (63:18)

He said: This is that which we have been searching for. So they retraced their steps again. (18:64)

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْتَغِي فَأَوْتَرْنَا أَعْلَىٰ أَقْرَبِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾
﴿١٨ الكهف ٦٤﴾

(موسیٰ نے) کہا یہی تو وہ (مقام) ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تب وہ اپنے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹ گئے (64:18)

MEETING OF MOSES (PBUH) WITH KHIDHR (PBUH)

لقاء موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام

موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات

MOSES (PBUH) REQUESTED KHIDHR (PBUH) FOR IMPARTING KNOWLEDGE TO HIM AND PROMISED OBEYANCE

التماس موسیٰ من خضر علیہما السلام أن یفرضی علیہ العلم و وعد طاعته

موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے حصول علم کے لئے تابعداری کی پیشکش

When they found one of Our slaves, whom We had bestowed mercy from Us, and had taught him knowledge from Our presence. (65:65)

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَدْنَاهُ عِلْمًا ﴿٦٥﴾
﴿١٨ الكهف ٦٥﴾

(وہاں) انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت خاص (یعنی نبوت یا نعمت ولایت) عطا فرما رکھی تھی اور اپنے پاس سے علم خاص بخشا تھا (65:18)

Moses said to him: May I follow you on the understanding that you will impart to me something of that consciousness of the truth, which you have been taught (bestowed from Allah)? (18:66)

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ آتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي
مِمَّا عَلَّمْتَٰ رُشْدًا ﴿٦٦﴾
﴿١٨ الكهف ٦٦﴾

موسیٰ نے ان سے (جن کا نام خضر تھا) کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا اگر آپ اس میں سے کچھ بھلائی (کی باتیں) سکھائیں تو میں آپ کی تابعی کروں گا (66:18)

KHIDHR (PBUH) IMPOSED CONDITION ON MOSES (PBUH) TO OBSERVE THE EVENTS WITH PATIENCE

اشترط خضر عليه السلام المشاهدة بالصبر

خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے صبر کے ساتھ مشاہدہ کرنے اور استفسار سے گریز کی شرط عائد کر دینا

He said: You will not be able to have patience with me. (18:67)

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾
﴿١٨ الكهف ٦٧﴾

(خضر نے) کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے (67:18)

How can you have patience about things, which are beyond your knowledge? (18:68)

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾
﴿١٨ الكهف ٦٨﴾

اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو (68:18)

Moses said: You will find me patient and I shall not in any matter disobey you, if Allah so wishes. (18:69)

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾
﴿١٨ الكهف ٦٩﴾

موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا (69:18)

He said: Well, if you go with me, ask me not concerning any thing till I myself mention it to you. (18:70)

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾
﴿١٨ الكهف ٧٠﴾

(خضر نے) کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو (شرط یہ ہے) مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں (70:18)

THREE STAGES OF CO-TRAVELLING OF KHIDHR AND MOSES (PBUH)

أسفار موسى و خضر عليهما السلام معاً في ثلاثة منازل

موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے باہمی سفر کی تین منازل

FIRST STAGE OF CO-TRAVEL SCUTTLING OF BOAT (DURING VOYAGE) BY KHIDHR (PBUH) MOSES (PBUH) OBJECTED BUT KHIDHR (PBUH) REMINDED HIM THE PROMISE OF PATIENCE

السفر الأول معاً خرق خضر عليه السلام السفينة

پہلے سفر کی پہلی منزل خضر علیہ السلام کا کشتی میں سوراخ کر دینا موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض اور خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ صبر یاد دلانا

So the twain set out till, when they were in the boat, he made a hole therein. (Moses) said: Have you made a hole therein to drown the folk thereof? You have done a dreadful thing. (18:71)

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴿٧١﴾
قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾
﴿١٨ الكهف ٧١﴾

پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو (خضر نے) کشتی کے تختے توڑ دیئے (موسیٰ نے) کہا کیا آپ نے اس کو اس لئے توڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں۔ یہ تو آپ نے بڑی (عجیب) بات کی (71:18)

He said: Did I not tell you that you would not manage to show any patience with me? (18:72)

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾
﴿١٨ الكهف ٧٢﴾

(خضر نے) کہا۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے (72:18)

(Moses) said: Do not take me to task for that I have forgotten, not weigh me down by making my case too difficult for me? (18:73)

قَالَ لَا تَأْخُذْ بَعِثَاتِ الْإِنْسَانِ إِنَّهُ يَنْسِيٰ مَا كُنِيَ ﴿٧٣﴾
مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾
﴿١٨ الكهف ٧٣﴾

(موسیٰ نے) کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مجھے نہ بگڑیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالئے (73:18)

**SECOND STAGE OF CO-TRAVEL
KHIDHR (PBUH) SLEW A YOUNG BOY
MOSES (PBUH) OPPOSED AND KHIDHR (PBUH)
RECALLED HIM THE PROMISE OF PATIENCE**

to the twain journeyed on till, when they met a young boy, he slew him. (Moses) said: What! Have you slain an innocent soul who has slain me? You have done a horrible deed. (18:74)

He said: Did I not tell you that you would not bear with me? (18:75)

(Moses) said: If I ask you after this concerning anything, do not let me accompany with you. You have deceived an excuse from me. (18:76)

السفر الثانی معا قتل خضر علیہ السلام غلاماً
فاعترض موسیٰ علیہ السلام علی ذلك
وذكره خضر علیہ السلام وعده للصبر

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا الْيَاقِظَانَا فَمَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نَّكَرًا ﴿٧٤﴾

﴿١٨ الكهف ٧٤﴾

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

﴿١٨ الكهف ٧٥﴾

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصِْبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾

﴿١٨ الكهف ٧٦﴾

باہم سفر کی دوسری منزل خضر علیہ السلام کا ایک لڑکے کو قتل کر دینا موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض اور خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ صبر یاد دلانا

پھر دونوں چلے۔ یہاں تک (راستے میں) ایک لڑکا ملا تو (خضر نے) اسے مار ڈالا۔ (موسیٰ نے) کہا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو (ناحق) بغیر قصاص کے مار ڈالا۔ (یہ تو) آپ نے بری حرکت کی (18:74)

(خضر نے) کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ (18:75)

انہوں نے کہا اگر میں اس کے بعد (پھر) کوئی بات پوچھوں (یعنی اعتراض کروں) تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں آخری انتہا کو پہنچ گئے (18:76)

السفر الثالث معا أقام خضر علیہ السلام
جدارا يريد أن ينقض بدوئ أجرا
واستعجاب موسیٰ علیہ السلام علی ذلك

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُونَ أَنْ يَنْقُضُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا لِخْفًا عَلَيْهِمْ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

﴿١٨ الكهف ٧٧﴾

باہم سفر کی تیسری منزل خضر علیہ السلام کا ایک گری ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ درست کر دینا اور موسیٰ علیہ السلام کا تعجب

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانداری کرنے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو (جھک کر) گرنا چاہتی تھی تو (خضر نے) اس کو درست کر دیا۔ (موسیٰ نے) کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے (اس کا) معاوضہ لیتے (تاکہ کھانے کا کام چلتا) (18:77)

MOSES (PBUH) DECISION OF PARTING WITH KHIDHR (PBUH) AND INTERPRETATION OF ALL EVENTS DURING CO-TRAVEL

He said: This is the parting between you and me! I will announce to you the interpretation of that you could not bear with patience. (18:78)

قرر خضر علیہ السلام أن يفارق
موسىٰ علیہ السلام فكشف عن أسرار
أعماله خلال السفر معا

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

﴿١٨ الكهف ٧٨﴾

خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے علیحدگی کا فیصلہ اور دوران باہم سفر واقعات کے رموز کی وضاحت کرنا

(خضر نے) کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی۔ (مگر) جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکتے میں ان کی اصلیت تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ (18:78)

ENIGMA IN SCUTTLING THE BOAT

As for the boat, it belonged to poor people working on the river, and I wished to mar it, for there was a king behind them who seized on every boat by force. (18:79)

الحكمة في خرق السفينة

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

﴿١٨ الكهف ٧٩﴾

کشتی میں سوراخ کرنے میں مصلحت

(کہ وہ جو) کشتی (تھی) غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت (کر کے) یعنی کشتیاں چلا کر گزارہ کرتے تھے۔ اور ان کے سامنے (کی طرف) ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک (صحیح و سالم) کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں (تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے) (18:79)

**MYSTERY IN
SLAYING THE YOUNG BOY**

And as for the youth, his parents were true believers and we had every reason to fear that he would bring bitter grief upon them by (his) overweening wickedness and denial of truth. (18:80)

And we desired that their Lord would give them in his stead (a child) one better in purity (of conduct) and closer in affection. (18:81)

**PHILOSOPHY IN SETTING RIGHT OF WALL
ABOUT TO TUMBLE**

And as for the wall, it belonged to two orphan boys in the city, and there was beneath it a treasure belonging to them and their father had been righteous, and your Lord intended that they should come to their full strength and should bring forth their treasure as a mercy from their Lord; and I did it not upon my own command. Such is the interpretation of that wherewith you were unable to hold patience. (18:82)

الحكمة في قتل غلام

وَإِنَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿١٨﴾
الكهف ٨٠

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ﴿٨١﴾
الكهف ٨١

الحكمة في إقام جدار

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾
الكهف ٨٢

بابا لڑکے کو جان سے مار دینے میں راز

اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ ایمان والے تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے (80:18)

تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اسکے بدلے ان کو ایسی اولاد (بچہ) عطا فرمائے جو پاکیزگی (اخلاق) میں بہتر اور محبت (صلہ رحمی) میں زیادہ قریب ہو (81:18)

**گرتی ہوئی دیوار کو درست
کر دینے میں حکمت**

اور وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی (جو) شہر میں (رہتے تھے) اور اس کے نیچے ان کا خزانہ (دھن) تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے پروردگار نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کئے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔ (82:18)

**JOSHUA (PBUH) WAS ONE
OF THE FOREMOST ADHERENT
OF TEACHINGS OF MOSES (PBUH)**

**JOSHUA (PBUH) AFTER BEING APPRAISED
OF THE SITUATION, TRIED TO PERSUADE
TERROR STRICKEN ISRAELITES
FOR ENTERING THE LAND WITH COURAGE OF HOLY
WAR AGAINST OCCUPANT CANAANITES**

But (among) their God-fearing men were two on to whom Allah had bestowed His grace they said, enter in upon them (assault them) by the gate, for if once you enter by it, you will be victorious. So put your trust (in Allah) if you are indeed believers. (5:23)

**كان يوشع عليه السلام أحد الاثني عشر
الذين آمنوا بتعاليم موسى عليه السلام
قبل الجميع**

**كان يوشع عليه السلام
اللذين آمنوا بتعاليم موسى عليه السلام
قبل الجميع**

**تحرير يوشع عليه السلام
بني اسرائيل الخائفين للقتال
بعد استطلاعهم الارض المقدسة**

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتْوَكُلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ ﴿٢٣﴾
المائدة ٢٣

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام

**تعلیمات موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے
ایمان لانے والے دو اشخاص میں سے
ایک حضرت یوشع علیہ السلام تھے**

**حضرت یوشع علیہ السلام کا ارض مقدس میں
حالات کا جائزہ لے کر آنا اور خوف زدہ
بیت حوصلہ قوم بنی اسرائیل کو قابض قوم کے مقابلہ
(جماد) کی ترغیب دینا**

دو شخصوں نے جو اللہ کا خوف رکھنے والے تھے اور جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ تم ان پر دروازے کے راستے (پہنچ جاؤ) سے حملہ کر دو۔ جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو (دروازے میں قدم رکھتے ہی) فتح تمہاری ہے۔ اور اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ (23:5)

CO - TRAVELLER AND ATTENDANT OF MOSES (PBUH) DURING HIS JOURNEY IN SEARCH OF MYSTERIOUS SAGE (KHIZIR (PBUH)) TILL JUNCTION OF THE TWO SEAS

کان یوشع صاحب موسیٰ علیہ السلام فی سفرہ الطویل الی مجمع البحرین لقاء لخضر علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طویل سفر برائے تلاش حضرت خضر علیہ السلام میں مجمع البحرین تک کی منزل کے ساتھی اور شاگرد

For Detail Consult : 18:60 to 64 Page 1058

وللتفصیل راجع ۱۸ الکہف ۶۰: الی ۶۴ الصفحة ۱۰۵۸

تفصیل کیلئے دیکھیے 60:18 تا 64 صفحہ 1058

JOSHUA (PBUH) COMMANDED ISRAELITES FOR ENTERING THE TOWN WITH HUMILITY AND THEIR DISOBEDIENCE

أمر یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل بأن یدخلوا الأرض المقدسة متواضعین ولكن خالفوا الأمر

حضرت یوشع علیہ السلام کا قوم بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں باادب و تعظیم داخلہ کی ہدایات دینا اور قوم کی نافرمانی

TERRIBLE PUNISHMENT INCLUDING THE PLAGUE) ENSUED DUE TO LOSING A CHANCE OF DIVINE MERCY AND FORGIVENESS BY ISRAELITES

إرسال الرجز علی بنی اسرائیل بظلمهم عندما أضا عوا فرصة التوبة

قوم بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ سے معافی کے حصول کا ایک موقع ضائع کر دینا

And when We said: Enter into this township and eat freely of that, which is therein, and enter the gate prostrating, and say: "Forgive us" We will forgive you your faults and increase (reward) for the right-doers. (2:58)

وَإِذ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾
﴿٢ البقرة ٥٨﴾

اور جب ہم نے (ان سے) کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ (پیو) اور (دیکھنا) دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور زبان سے حطہ کہتا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ (58:2)

But those who did wrong altered the statement with something else, than what had been told them. And We sat down upon the evildoers wrath from Heavens for they infringed (our commands) repeatedly. (2:59)

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾
﴿٢ البقرة ٥٩﴾

پھر ان ظالموں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا پس ہم نے (ان) ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیوں کہ وہ نافرمانیاں کئے جاتے تھے (59:2)

And when it was said to them: Settle down in this town and eat therefrom whatever you wish, and say "forgive us" and enter the gate in a picture of humility. We shall forgive you your faults; We shall increase (reward) for the right-doers. (7:161)

وَإِذ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾
﴿٧ الاعراف ١٦١﴾

اور (یاد کرو) جب ان کو حکم دیا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا (پینا) اور (ہاں شہر میں جانا تو) "توبہ ہے" کہنا اور دروازے میں جھکے جھکے داخل ہونا۔ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے (اور) نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے (161:7)

But those of them who did wrong changed the word which had been told them for another saying, and We sent down upon them wrath from heavens for they repeatedly transgressed. (7:162)

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قَوْلِهِمْ قَوْلًا آخَرَ وَقِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾
﴿٧ الاعراف ١٦٢﴾

مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لئے کہ وہ ظلم کرتے تھے (162:7)

SAMUEL (SHAMUL) (PBUH)

شموئیل علیہ السلام

حضرت شموئیل علیہ السلام

ISRAELITES PRESSED SAMUEL (PBUH) FOR APPOINTMENT OF A KING AND HE DESIGNATED SAUL (PBUH)

طلب بنی اسرائیل
من شموئیل علیہ السلام
لجعل ملک علیہم

نبی اسرائیل کی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کسی بادشاہ کے تقرر کی درخواست اور حضرت طالوت علیہ السلام کا تقرر

Have you not turned the vision to the leaders of the Children of Israel after the times of Moses, how they said to a Prophet who was among them: appoint for us a King and we will fight in Allah's way. He said: Would you then refrain from fighting if fighting was prescribed for you? They said: Why should we not fight in Allah's way when we have been driven out from our dwellings and our children? Yet, when fighting was prescribed for them, they turned away, all except few of them. Allah is well Aware of evildoers. (2:246)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مَن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ ائْتِنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

بھلا تم نے حضرت موسیٰ کے بعد آنے والی نبی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے کنارہ کشی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے۔ جب کہ ہم اپنے گھروں سے اجاڑے گئے اور بال بچوں سے جدا کر دیئے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے۔ اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ (246:2)

Their Prophet said to them: Allah has appointed (Talut) Saul to be a king over you. They said: How can he exercise authority over us when we are more deserving of the kingdom than he is, since he has not been gifted wealth in abundance? He said: Allah has chosen him above you, and has gifted him abundantly in wisdom and stature (bodily prowess). Allah bestows His authority to whom He pleases. Allah is All Embracing, All Knowing. (2:247)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

اور پیغمبر نے ان سے (یہ بھی کہا) کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیونکر ہو سکتا ہے۔ بادشاہی کے حق دار تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر (فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لئے) منتخب فرمایا ہے اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ (کو اختیار ہے) جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کشادگی والا (اور) دانا ہے (247:2)

DEMAND FOR A TOKEN BY ISRAELITES

طلب بنی اسرائیل لجعل آية

بنی اسرائیل کی طرف سے نشانی کا مطالبہ

ARK OF COVENANT - A CHEST OF WOOD CONTAINING THE TESTIMONY OF ALLAH (SWT)

تابوت السکينة

کان یحتوی التوراة و تبرکات الانبیاء

تابوت سکینہ

(تورات مقدس اور تبرکات انبیاء کا صندوق)

And further their Prophet said to them: The token of his kingdom is that there shall come to you the ark of the covenant wherein is peace of reassurance (an assurance of Security) from your Lord, and a heritage (relics) of that which the family of Moses and the house of Aaron left behind, the angels bearing it. Herein shall be a token for you if (in truth) you are believers. (2:248)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

اور پیغمبر نے ان سے پھر کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی (بخشنے والی چیز) ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون (کا بقیہ ترکہ جو وہ) چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لئے ایک بڑی نشانی ہے (248:2)

**KING SAUL (PBUH)
VERSUS GOLIATH (JALUT)**

بَارِزَةُ الْمَلِكِ طَالُوتَ وَجُنُودَهُ لِحَالُوتَ

بَارِزَةُ الْمَلِكِ طَالُوتَ وَجُنُودَهُ لِحَالُوتَ

TEST OF FAITH FOR SAUL'S ARMY

And when Saul set out with the army, he said: Allah will try you by (the ordeal of) a stream. Whosoever drinks thereof he is not of me, and whosoever tastes it not he is of me, except him who takes mere sip (thereof) in the hollow of his hand (is excused). But they drank thereof, all except a few of them. And after he, and those who believed with him, had crossed (the stream) they said: We have no power this day against Goliath and his hosts. But those who knew that they would meet their Lord, exclaimed: How oft a little company has overcome a mighty host by Allah's permission! Allah is with the steadfast. (2:249)

ابتلاء الجنود طالوت

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّسْلِقُوا اللَّهَ لَكُمْ مِّنْ فَتْنَةٍ قَلِيلَةً غَلَبَتْ فَعَلَةٌ كَثِيرَةٌ يَأْذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

لشکر طالوت کی قوت ایمانی کے امتحان کے لئے آزمائش

پھر جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے (ان سے) کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا (اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ) وہ میرا نہیں اور جو نہ پئے گا وہ (سمجھا جائے گا کہ) میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے (تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے) تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کو پار کر گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (249:2)

SUPPLICATION OF BELIEVERS DURING ENCOUNTER WITH JALUT (GOLIATH) FORCES

And when they advanced into the field against Goliath and his forces they prayed: Our Lord! Bestow on us endurance, make our steps firm, and give us help against the unbelieving folk. (2:250)

دعاء المومنین عند لقاء جنود جالوت

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا آفِرْغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

لشکر جالوت سے مقابلہ کے وقت اہل ایمان کی دعا

اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہمیں صبر عطا فرما دے اور ہمیں (لڑائی میں) ثابت قدم رکھ اور (لشکر) کفار پر فتح یاب کر (مدد فرما) (250:2)

JALUT (GOLIATH) WAS SLAYED AND HIS TROOPS CONSTERNATED

they routed them by Allah's permission and David slew Goliath; (2:251) PART

قتل جالوت وانهزام جنوده

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴿٢٥١﴾ جزء

جالوت کا قتل۔ اور لشکر جالوت کو شکست

تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ (251:2) جزو

Detail Consult : Chapter of David (PBUH)
Page 1067

وللتفصيل راجع باب داؤد عليه السلام
الصفحة 1067

لتفصيل كيله ديكهن باب حضرت داؤد عليه السلام
صفحة 1067

حضرت ذوالکفل علیہ السلام **ذوالکفل علیہ السلام** **DHUL-KIFL (ZULKEFL) (PBUH)**

And (mention) Ishmael, and Idris, and Dhul-Kifl. All were among those who are patient in adversity. (21:85)

وَأِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ٨٥﴾

اور اسماعیل اور ادريس اور ذوالکفل (کو بھی یاد کرو) یہ سب صبر کرنے والے تھے (85:21)

And so We admitted them into Our Grace. No doubt they were among the righteous. (21:86)

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ٨٦﴾

اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بلاشبہ یہ سب نیک لوگ تھے (86:21)

And call to mind Ishmael and Elisha and Dhul Kifl. All of them were of the truly good. (chosen ones) (38:48)

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ ص ٤٨﴾

اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو۔ وہ سب منتخب لوگوں میں سے تھے (48:38)

حضرت حزقیل علیہ السلام **حزقیل علیہ السلام** **EZEKIEL (PBUH)**

(PEOPLE OF EZEKIEL) ISRAELITES ESCAPE FROM JIHAD, FORSOOK THEIR HOMELANDS FOR FEAR OF DEATH BUT ALLAH(SWT) MADE THEM REALIZE THE FACT OF NO ESCAPE FROM DEATH AND RESURRECTION

خرج قوم حزقیل علیہ السلام من بیوتهم حذر الموت، فأماهم الله ثم أحياهم لیکونوا موقنین بالموت والبعث بعد الموت

قوم حزقیل (بنی اسرائیل) کا جہاد سے فرار، موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنا اور اللہ تعالیٰ کا انہیں موت سلا کر دوبارہ زندہ کر دینا تاکہ وہ موت اور بعد الموت پر یقین کر لیں

Are you not aware of those, who were thousands (in numbers) and forsook their homelands fearing death, and Allah said to them: Die, and later on He restored them to life. Allah is a Lord of Kindness to mankind, but most of mankind are ungrateful. (2:243)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾
﴿٢ البقرة ٢٤٣﴾

بھلا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو (شمار میں) ہزاروں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (243:2)

ELIAS (ILYAS) (SWT) (ELIJAH-ILYASIN)

إلياس عليه السلام (الياسسن . ايلياء)

حضرت الیاس علیہ السلام

And (upon) Zechariah and John and Jesus and Elias. Each one (of them) was of the righteous. (6:85)

وَذَكَرْنَا وَيْحَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦﴾
﴿٦ الانعام ٨٥﴾

اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی۔ یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے (85:6)

And Elias (too) was indeed one of Our message-bearers. (37:123)

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧ الصفت ١٢٣﴾

بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے (123:37)

And him We left thus to be remembered among later generations. (37:129)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧ الصفت ١٢٩﴾

اور ہم نے ان کا ذکر (خیر) پچھلوں میں (باقی) رکھا (129:37)

ALLAH (SWT) HAS BESTOWED PEACE UPON ELIAS (PBUH)

سلام من الله على الیاس

اللہ تعالیٰ کی طرف سے الیاس علیہ السلام پر سلام

Peace be upon Elias! (37:130)

سَلِّمْ عَلَىٰ إِنْ يَاسِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧ الصفت ١٣٠﴾

کہ الیاس پر سلام (130:37)

Thus We do reward the doers of good. (37:131)

He was truly one of Our believing servants. (37:132)

PREACHING OF ELIAS (PBUH) OF MONOTHEISM TO HIS IDOLATROUS PEOPLE

When he spoke to his people, will you not remain conscious of Allah? (37:124)

Will you invoke Baal and forsake Allah the best of Artisans, (37:125)

Allah, your sustainer and Lord of your forefathers? (37:126)

But they denied him, so they surely will be haled forth (to the doom) (37:127)

Except the single-minded slaves of Allah (only true servants). (37:128)

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفَتْ ١٣١

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفَتْ ١٣٢

تبليغہ قومہ الوثیین رسالۃ التوحید

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفَتْ ١٢٤

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفَتْ ١٢٥

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفَتْ ١٢٦

فَكَذَّبُوهُ فَأَنهَمُ لَمُحْضَرُونَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفَتْ ١٢٧

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧﴾ الصَّفَتْ ١٢٨

ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں (131:37)

پیشک وہ ہمارے مومن (ایمان دار) بندوں میں سے تھے (132:37)

بت پرست
(بت بعل کی پوجا کرنے والی) قوم کو تبلیغ توحید

جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں (124:37)

کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے (اور اسے پوجتے ہو) اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے (خالق) کو چھوڑ دیتے ہو (125:37)

(یعنی) اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادا کا رب ہے (126:37)

تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ پس وہ ضرور (دوزخ میں) حاضر کئے جائیں گے (127:37)

سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے (جو مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے) (128:37)

ELISHA (AL - YASA) (PBUH)

السبع اب السبع

حضرت السبع اب السبع

And (upon) Ishmael and Elisha and Jonah and Lot. Each one of them We did prefer above (every body else) in the Universe, (6:86)

With some of their forefathers and their offspring and their brethren; and We chose them all and guided them to a straight path: (6:87)

Those were they to whom We gave the Scripture and sound judgement and prophethood. But if these disbelievers deny these truths, then indeed We shall entrust them to the people who will never refuse to acknowledge them. (6:89)

Those were they whom Allah had guided, so follow their guidance. Say (O Muhammad, to mankind): I ask you no reward for it, it is a reminder to all mankind. (6:90)

and make mention of Ishmael and Elisha and Dhul Kifl. All were of the chosen. (38:48)

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾
﴿٨٦﴾ الانعام

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾
﴿٨٧﴾ الانعام

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ۖ فَإِنْ يُكَفِّرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾
﴿٨٩﴾ الانعام

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْ لَهُمْ آتَيْنَاهُ قُلُوبًا لَا تَسْمَعُ لَكُمْ عَلَيْهَا أَجْرًا إِنَّ هُوَ الْآذِنُ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾
﴿٩٠﴾ الانعام

وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلًّا مِّنَ الْخَيْرِ ﴿٤٨﴾
﴿٤٨﴾ ص

اور اسماعیل اور ایسحاق اور یونس اور لوط کو بھی۔ اور ان سب کو ہم نے جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی (86:6)

اور ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو بھی۔ اور ان کو مقبول بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا (87:6)

اور یہ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت (شریعت) اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ سوا گریہ (کفار) ان باتوں (ان کی نبوت) سے انکار کریں تو ہم نے ان پر (ایمان لانے کے لئے) ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں (89:6)

یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو آپ ان ہی کی ہدایت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس (قرآن) کا صلہ نہیں مانگتا۔ یہ تو جہان کے لوگوں کے لئے ایک نصیحت ہے (90:6)

اور اسماعیل اور ایسحاق اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو۔ وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے (48:38)

DAVID (DAUD) (PBUH) حضرت داؤد علیہ السلام

And We bestowed knowledge to David and Solomon, and they both said: Praise be to Allah, Who has preferred us above many of His believing slaves! (27:15)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالََا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ النمل ١٥

اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم بخشا۔ اور دونوں نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی (15:27)

And We bestowed on David, Solomon (for a son). How excellent a slave! He was ever turning in repentance (towards Allah). (38:30)

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٨﴾ ص ٣٠

اور ہم نے داؤد کو سلیمان (نامی فرزند) عطا کیا۔ جو بہت اچھا بندہ (تھا اور) وہ (اللہ کی طرف) بے حد رجوع کرنے والا تھا (30:38)

APPOINTED AS VICEROY OF ALLAH ON EARTH

خليفة الله على الارض

زمین پر خلیفہ (نائب) مقرر ہوئے

(And it was said to him): O David! We have set you as a viceroy in the earth; therefore judge between mankind in truth and justice, and follow not desire (the lust of your heart) that it will beguile you from the way of Allah. Those who wander astray from the way of Allah have an awful doom, for as much as they forgot the Day of account. (38:26)

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَسْبَابُ ﴿٣٨﴾ ص ٢٦

اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف اور حق کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں اور ان کے لئے سخت عذاب (تیار) ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ (26:38)

DAVID (PBUH) WAS GIVEN (ZABUR) THE BOOK OF PSALMS (PSALTER)

إيتاء داؤد عليه السلام زبوراً

زبور کا عطا کیا جانا

And your Lord is best aware of all who are in the heavens and the earth. And We preferred some of the Prophets above others and to David We gave the Psalms. (17:55)

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾ بنی اسرائیل ٥٥

اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے۔ اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی (17:55)

More Reference 4:163 6:84 17:55 21:78 34:10 38:17 Page 248, 996, 1074

والمزيد راجع ٤ النساء: ١٦٣ ٦ الأنعام: ٨٤ ١٧ الإسراء (اسرائیل): ٥٥ ٢١ الأنبياء: ٧٨ ٣٤ سباء: ١٠ ص ٣٨ الصفحة ٢٤٨، ٩٩٦، ١٠٧٤

مزيد حوالہ 4:163 6:84 17:55 21:78 34:10 38:17 1074,996,248 صفحہ 17:38 78:21

PEOPLE OF DAVID ORDAINED TO EXERCISE THANKS TO ALMIGHTY

تلقين شكر آل داؤد

آل داؤد کو تلقين ادا نیگی شکر

For Detail Consult : 34:13 Page 1075

والتفصيل راجع ٣٤ سباء: ١٣ الصفحة ١٠٧٥

تفصيل کیلئے دیکھئے 13:34 صفحہ 1075

CURSE OF DAVID (PBUH) ON ISRAELITES WHO DISBELIEVED

لعن الذين كفرو من بنى اسرائيل على لسان داؤد

بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پر حضرت داؤد کی لعنت

For Detail Consult : 5:78 Page 605

والتفصيل راجع ٥ المائدة: ٧٨ الصفحة ٦٠٥

تفصيل کیلئے دیکھئے 78:5 صفحہ 605

DAVID (PBUH) SLEW GOLIATH AND WAS BESTOWED WITH KINGDOM

قتل داؤد عليه السلام جالوت بإذن الله تعالى، فأعطاه الملك

داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جالوت کو قتل کرنا اور بادشاہت کا عطا کیا جانا

So they routed them by Allah's will and David slew Goliath; and Allah gave him the kingdom and wisdom, and taught him of that which He willed. And if Allah had not repelled some men by others the earth would have been corrupted (full of mischief). But Allah is a Lord of Kindness to (His) creatures. (2:251)

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ البقرة ٢٥١

تو طاقت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو (شکر جالوت) شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے (پر) چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا مہربان ہے (251:2)

More Reference : 38:20 Page 1069

والمزيد راجع ٣٨ ص: ٢٠٠ الصفحة 1069

مزيد حوالہ 20:38 صفحہ 1069

DAVID (PBUH) WAS ENDOWED WITH EXCEPTIONAL STRENGTH

Have patience with what they say, and remember Our bondman David, who was endowed with (so much) strength. He was ever turning in repentance (towards Allah). (38:17)

کان داؤد علیہ السلام عبداً ذا الأید

إصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّكَ أَوَّابٌ ﴿٣٨﴾ ص ١٧ ﴿٣٨﴾

داؤد علیہ السلام بڑی جسمانی قوت والے

(اے پیغمبر) یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کریں۔ ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو صاحب قوت تھے (اور) پیشک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے (17:38)

MIRACLES BESTOWED UPON DAVID (PBUH)

MOUNTAINS ECHO BACK THE GLORY OF ALLAH (SWT) AND SO THE BIRDS IN UNISON WITH DAVID (PBUH) WHILE HE SANG THE SACRED POETRY OF PSALMS

-----It was Our power that made the hills and the birds celebrate Our praises with David, it was We Who did (all these things) (21:79) Part

We subdued the mountains to hymn the praises (of their Lord) with him at nightfall and sunrise, (38:18)

And likewise the birds were summoned; all were made attentive to him. (38:19)

معجزات داؤد علیہ السلام

كانت الجبال والطير تشارك نعمات الحمد والتسبيح لله مع تلاوة داؤد عليه السلام

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٢١﴾ الانبياء ٧٩ ﴿جزء﴾

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإشْرَاقِ ﴿٣٨﴾ ص ١٨ ﴿٣٨﴾

وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٨﴾ ص ١٩ ﴿٣٨﴾

معجزات داؤد علیہ السلام

پہاڑ اور پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے ہمراہ مناجات زبور میں شامل حمد و ثناء رب تعالیٰ ہوتے تھے (تسخیر جبال و طيور)

----- اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کریں اور یہ تسخیر ہم ہی کرنے والے تھے۔ (79:21)

ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ پاک (کا) ذکر کرتے تھے (18:38)

اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع رہتے تھے۔ سب ان کے زیر فرمان تھے (19:38)

More Reference : 34:10 Page 1068

وللمزيد راجع ٣٤ سباء ١٠: الصفحة 1068

مزید حوالہ 10:34 صفحہ 1068

ALLAH (SWT) SOFTENED ALL STEEL TO DAVID (PBUH) BESTOWING ON HIM CRAFTSMANSHIP OF MAKING HARD STUFF PLIABLE

And We taught him the art of making garments (coats of mail) to protect you in your daring (to guard you from each other's violence). Are you then thankful (for this boon)? (21:80)

And assuredly We gave David grace from Us, (saying): O you mountains, echo back his psalms of praise! You birds (also) sing with him the praises of Allah and We made the iron softened to him, (34:10)

And inspired him thus): Make you long coats of mail and balancing well the rings of chain armour. (Make suits of armour and measure out and the links in mail). And do you right. I am observant of what you do. (34:11)

سخر الله الحديد لداؤد عليه السلام فكان يصنع منه الدروع السابغات

كان داؤد عليه السلام رائداً وصانعاً بارعاً للأسلحة والدروع

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيَتَّخِذَكُم مِّنْ بَاسِكُمْ فَمَلَّ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٢١﴾ الانبياء ٨٠ ﴿٢١﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ أَوْبَى مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ ﴿٣٤﴾ ص ١٠ ﴿٣٤﴾

أَنْ أَعْمَلُ سَيْغَتٍ وَقَدَّرْتُ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٤﴾ ص ١١ ﴿٣٤﴾

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو مسخر کر دیا (سخت دھاتوں کو نرم کرنے کے فن سے نوازا)

داؤد علیہ السلام دفاعی سامان حرب (زرہ سازی لباس جنگ) کی تیاری کی ابتدا کرنے والے

اور ہم نے تمہارے لئے ان کو ایک (طرح) کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم لڑائی (کے ضرر) سے بچائے کیا تم شکر گزار بنو گے۔ (80:21)

اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا۔ اے پہاڑو! ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے اور ان کے لئے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا (10:34)

کہ کشادہ زرہ ہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازہ سے جوڑو اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو (یقین مانو) کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں (11:34)

DAVID'S (PBUH) WISDOM AND SOUND JUDGEMENT IN DECISIONS

We made his dominion strong and bestowed on him wisdom and decisive speech (sagacity in judgement) (38:20)

More Reference : 21:78 27:15 38:22,26
Page 193, 1067, 1069

TRIAL OF DAVID (PBUH)

INTRUSION OF TWO LITIGANTS INTO THE CHAMBER OF DAVID (PBUH) FOR TAKING JUDGEMENT ON THEIR DISPUTE REGARDING EWES

And has the story of the litigants come to you? How they surmounted the wall into the private chamber; (38:21)

When they came upon David, he was afraid of them! They said: Be not afraid! (We are) two litigants, one of whom has wronged the other, therefore judge aright between us; be not unjust; and show us the fair path. (38:22)

A NOVEL DEMAND OF THE GREEDY PARTNER

My this brother has ninety and nine ewes while I have only one ewe; and yet he says: Entrust it to me, and he forcibly prevailed against me in this dispute. (38:23)

DECLARING OF JUDGEMENT BY DAVID (PBUH) IN HASTE BEFORE HEARING OTHER PARTY AND THEN TURNING TO REPENTANCE OF HIS LAPSE AND ACCEPTANCE BY ALLAH (SWT)

(David) said: He has undoubtedly wronged you in demanding your ewe in addition to his ewes, and many partners (in business) oppress one another, except such as believe and do good works, and they are few. And David guessed that We had tried him, and he sought forgiveness of his Lord, and he bowed himself and fell down prostrate and repented. (38:24)

So We forgave him that (lapse); and he enjoyed, indeed a near approach to Us, and a beautiful place of (final) return. (38:25)

كان داؤد بصيراً
بالحكم فى النزاعات

وَشَدَدْنَا مَلَكُوتَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخِطَابَ
(۳۸ ص ۲۰)

والمزيد راجع ۲۱ الأنبياء: ۷۸ ۲۷ النمل: ۱۵
ص ۳۸: ۲۶، ۲۲، ۱۹۳ الصفحة ۱۰۶۷، ۱۰۶۹

ابتلاء داؤد (عليه السلام)

اقتحم رجلان عند داؤد
للتحكم فى قضية النجاس

وَهَلْ أَتَاكَ نَبُؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ
(۳۸ ص ۲۱)

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ
خَصْمَتَيْنِ إِبْغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ
(۳۸ ص ۲۲)

قضية رجل طامع قدمت إليه للتحاكم

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي
نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي
الْخِطَابِ
(۳۸ ص ۲۳)

قضاء داؤد عليه السلام فى خصومة النعاج
واستغفاره ربه فاستجيب له

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِفِينَ لَيُبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَن مَّا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
(۳۸ ص ۲۴)

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَازْفَىٰ وَ
حُسْنَ مَّآبٍ
(۳۸ ص ۲۵)

مقدمات کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور بصیرت
(معاہدہ نبی اور قوت فیصلہ)

اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت
عطا فرمائی اور (خصومت کی) بات کا فیصلہ (سکھایا)
(20:38)

مزيد حوالہ 21:78 27:15 38:22,26
صفحة 1069, 1067, 193

آزمائش داؤد علیہ السلام

(دنیوں) کے قضیہ کے لئے دو اشخاص کا
داؤد علیہ السلام کے پاس اچانک آنا

بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی
ہے۔ جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہوئے
(21:38)

جس وقت وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے
انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے۔ ہم دونوں فریق مقدمہ
ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو
آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی
نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے (22:38)

ایک لالچی فریق کا عجیب مطالبہ

(کیفیت یہ ہے کہ) یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس
نانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ یہ ایک دنبی بھی میرے حوالے کر دو اور
گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے (23:38)

دوسرے فریق کا موقف سے بغیر داؤد علیہ السلام
کا عجلت میں فیصلہ سنانا اور پھر اللہ تعالیٰ سے
معافی کے لئے رجوع اور دعا کی قبولیت

انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دنبی مانگتا ہے کہ اپنی دنیوں میں
شامل کر لے بے شک تم پر ظلم کرتا ہے۔ اور اکثر حصہ دار
ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان
لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ
بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے فوراً سمجھ لیا کہ (اس واقعہ
سے) ہم نے انہیں آزما یا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے
استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گریزے اور
اللہ کی طرف (پوری طرح) رجوع کیا (24:38)

پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا۔ اور بے شک
ان کے لئے ہمارے ہاں بڑا مرتبہ اور عمدہ مقام ہے
(25:38)

**SABBATH
JEWISH FISHING COMMUNITY**

اصحاب السبت

اصحاب سبت
ایہاں (مذکورہ کے ساتھ) یہودی مسیحیوں کی ہے

BREACH OF THE SABBATH DAY

عدم احترام السبت

یوم سبت (ہفتہ کے دن) کا احترام نہ کرنا

TRANSGRESSION OF TORAH'S COMMANDMENTS ON FISHING DURING THE PROHIBITED DAY (BREACH OF SABBATH) ISRAELITES WERE PUNISHED AND TURNED INTO DESPISED APES

عصیان بنی اسرائیل فی النهی عن صید السمک بیوم السبت. فجعلهم الله قردة

بنی اسرائیل کی ہفتہ کے روز مچھلی کے شکار سے منع کرنے کے باوجود نافرمانی پر ذلیل بندر بنا دیا جانا

And you are well aware of those of you who profaned the Sabbath, whereupon We said to them: Be as apes, despised and hated! (2:65)

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قردة خاسيين ﴿٦٥﴾ البقرة

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن (مچھلی کا شکار کرنے) میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تمہیں دھتکار اور پھٹکار پڑے۔ (65:2)

Ask them (O Muhammad) of the township that was by the sea, how they did break the Sabbath, how their big fish came to them swimming on the surface on their Sabbath day and on other day when they did not keep Sabbath it did not come to them. Thus We did test them for that they were the transgressors.. (7:163)

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يُعَدُّونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ الاعراف

اور ان سے اس گاؤں والوں کا حال تو پوچھے جو دریائے شور کے قریب آباد تھے جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے (یعنی) اس وقت کہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے (ظاہر ہو کر) پانی کے اوپر آتیں تھیں۔ اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ (مچھلیاں) آتیں اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش کرتے تھے (7:163)

And when a community among them said: Why do you preach to a folk whom Allah is about to destroy and punish with an awful doom, they said: In order to gain absolution from your Lord, and that haply they may ward off evil. (7:164)

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ الاعراف

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے کہا اس لئے کہ تمہارے پروردگار کے حضور معذرت طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں (اللہ سے ڈرجائیں)۔ (164:7)

And when they disregarded the warning that they had been reminded, We rescued those who forbade evil, and visited those who did wrong with dreadful punishment because they were evil livers. (7:165)

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ الاعراف

جب انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کئے جاتے تھے (7:165)

So when in their insolence they transgressed (all) prohibitions We said to them: Be as apes despised and loathed! (7:166)

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهَوُّا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قردة خاسيين ﴿١٦٦﴾ الاعراف

غرض جن اعمال (بد) سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان (پر اصرار اور ہمارے حکم) کی نافرمانی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ (166:7)

The Sabbath was only made (strict) for those who disagreed (as to its observance). But your Lord will judge between them on the Day of resurrection concerning that wherein they used to differ. (6:124)

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اختلفوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ النحل

ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس (کی پابندی) میں اختلاف کیا۔ اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے (124:16)

LUQMAN (PBUH)
3000 YEARS B.C.

لقمان عليه السلام
۳۰۰۰ عام قبل المسیح

حضرت لقمان علیہ السلام
3000 سال قبل مسیح

WISDOM PERSONIFIED

And surely We gave wisdom to Luqman, (31:12) PART

صاحب الحکمة

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ
﴿۳۱ لقمان ۱۲﴾ جزء

پیکر دانائی

اور ہم نے یقیناً لقمان کو دانائی بخشی
(12:31) جزو

LUQMAN'S (PBUH) ADMONISHMENT TO HIS SON

And (remember) when Luqman told his son, when he was exhorting him: O my dear son! Ascribe no partners to Allah. To ascribe partners (to Him) indeed is a tremendous wrong-- (31:13)

عظمت لقمان لابنہ

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
﴿۳۱ لقمان ۱۳﴾

لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک تو بڑا (بھاری) ظلم ہے
(13:31)

O my dear son! If there be but the weight of a grain of mustard seed, and though it be hidden in a rock, or in the heavens, or in the earth, Allah will bring it forth. Allah is Subtle, Aware. (31:16)

يُبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
﴿۳۱ لقمان ۱۶﴾

(لقمان نے یہ بھی کہا کہ) اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی عمل (بالفرض) رائی کے دانے کے برابر بھی (چھوٹا) ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں (مخفی ہو) یا زمین میں اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین (اور) خبردار ہے۔
(16:31)

O my dear son! Establish regular prayer (Salat) and enjoin what is just and forbid iniquity, and persevere whatever may befall you. For that shows determination in (handling) matters. (31:17)

يُبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصِرْ عَلَىٰ مَا آصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
﴿۳۱ لقمان ۱۷﴾

اے میرے پیارے بیٹے نماز کی پابندی رکھنا اور (لوگوں کو) اچھے کاموں کے کرنے کی نصیحت اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر آجائے اس پر صبر کرنا۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں (17:31)

Do not sneer down your cheek (for pride) at other men, nor walk brashly around the earth. Allah loves not any arrogant (swaggering) boaster. (31:18)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
﴿۳۱ لقمان ۱۸﴾

اور (ازراہ غرور) لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا (18:31)

Be modest in the way you walk and subdue your voice. In harshest of all voices without doubt is the braying of the ass. (31:19)

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ
﴿۳۱ لقمان ۱۹﴾

اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور (بولتے وقت) آواز چنی رکھنا کیوں کہ (اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ) سب سے بری آواز گدھوں کی ہے
(19:31)

SOLOMON (SULAIMAN) (PBUH)

سولیمان علیہ السلام

حضرت سلیمان علیہ السلام

SOLOMON (PBUH) INHERITED DAVID (PBUH)'S KINGDOM SPIRITUAL INSIGHT AND THE PROPHETIC OFFICE

And (in this insight) Solomon was David's heir. And he said: O mankind! We have been taught the speech of birds, and have been given (abundance) of all (good) things. This indeed is manifest favour (from Allah). (27:16)

کان سلیمان علیہ السلام
خليفة لملك داؤد و حکمتہ و نبوتہ

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ
إِن هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْبَيِّنُ ﴿٢٧﴾
﴿٢٧ النمل ١٦﴾

داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، حکمت
اور نبوت کے جانشین

اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ اور کہنے لگے کہ لوگو! ہمیں (اللہ کی طرف سے) پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے۔ بیشک یہ (اس اللہ کا) کھلا فضل ہے (16:27)

SOLOMON (PBUH) PRAYED FOR BESTOWING SUCH A KINGDOM WHICH COULD NOT BE INHERITED BY ANYONE

He (Soloman) said: O My Lord! Forgive me and bestow on me kingdom such shall not belong to any other after me. You are the Bestower. (Bountiful) (38:35)

دعاء سلیمان علیہ السلام
للحصول علی الملك العديم المثال

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي
لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ ص ٣٥﴾

سلیمان علیہ السلام کی دعا
بے مثال ملک و حکومت کے لئے

(اور سلیمان نے) دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایاں نہ ہو۔ بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے (35:38)

More Reference : 4:163 6:84
Page 246, 996

وللمزيد راجع ٤ النساء: ١٦٣ ٦ الأنعام: ٨٤
الصفحة 246, 996

المزيد حوالہ 4:163 6:84
صفحہ 246, 996

SOLOMON (PBUH) TAMED AND UTILIZED THE JINNS AND DEVILS

JINNS WERE EMPLOYED AS DIVERS FOR PEARL FISHING

And among the rebellion forces (We subdued to him) some who dived into the sea) for him and performed other works, and We kept watch over them. (21:82)

As well as all the rebellious forces (We made to work for him), every kind of builder and diver (into the sea), (38:37)

And others linked together in chains, (38:38)

Saying): This is Our gift, so bestow you (freely other), or withhold, without (having to render any account) reckoning. (38:39)

And surely nearness to Us awaits you (in thereafter) and the most cautious of all goals. (38:40)

كانت الجن تخضع لسلیمان علیہ السلام

كان سلیمان علیہ السلام يستخدم الجن
في غياصة البحر لاستخراج اللآلی

وَمِنَ الشَّيْطٰنِ مَن يَّغْوٰصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ
عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِينَ ﴿٢١﴾
﴿٢١ الانبياء ٨٢﴾

وَالشَّيْطٰنِ كُلِّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ ﴿٣٧﴾
﴿٣٧ ص ٣٨﴾

وَالْآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾
﴿٣٨ ص ٣٨﴾

هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ ص ٣٨﴾

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ ﴿٤٠﴾
﴿٤٠ ص ٣٨﴾

جنات کا سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دیا جانا

سلیمان علیہ السلام کا جنات کو سمندر سے تلاش
جوہرات کے لئے غوطہ خوری کے لئے مقرر کرنا

اور دیوؤں (شیطانوں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان) میں سے بعض ان کے فرمان سے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے۔ اور ہم ان کے نگہبان تھے (82:21)

اور طاقت ور جنات کو بھی (ان کے زیر فرمان کیا) یہ سب معمار عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خور تھے (37:38)

اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے (38:38)

(ہم نے کہا) یہ ہماری بخشش ہے چاہو تو کسی پر احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو (تم سے) کچھ حساب نہیں ہے (39:38)

اور بے شک ان کے لئے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے (40:38)

More Reference : 27:17,40 34:12,13
Page 1073, 1078

وللمزيد راجع ٢٧ النمل: ٤٠، ١٧ ٣٤ سبأ: ١٢، ١٣
الصفحة ١٠٧٨، ١٠٧٣

المزيد حوالہ 27:17,40 34:12,13
صفحہ 1078, 1073

**SOLOMON (PBUH) MARSHALLED HIS HOSTS
MEN, JINNS, BEASTS AND BIRDS**

And there were gathered together to Solomon his armies of the jinn and humankind, and of the birds, and they were led forth in orderly ranks (27:17)

كان سليمان عليه السلام
نظم جنوده من الإنس والجن
والدواب والطيور تنظيما جيدا

وَحِثْرَ لِسَالِمِينَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٢٧﴾
النمل ١٧

سليمان عليه السلام کی انسان
جنات حیوانات اور ہر چرند پرند کی لشکر بندی

اور سليمان کے سامنے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے
تمام لشکر جمع کئے گئے (ہر قسم) کی الگ الگ درجہ بندی
کردی گئی (17:27)

**JINNS WORKED ON SOLOMON (PBUH)'S
DESIRE IN MAKING SPACIOUS ARCHES
(STRUCTURAL ORNAMENTS)
IMAGES, AND HUGE BASINS**

They made for him what he desired. Arches, images and statues, basins like wells and (cooking) cauldrons built into the ground. Exercise thanks, O People of David! But few of My bondmen are truly grateful. (34:13)

كانت الجن تصنع المحاريب
والتماثيل والقصور الراسيات طبقا
بأوامر سليمان

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثيلٍ
وَجِفَانٍ كَالْجُبَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا
أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿٣٤﴾
سبا ١٣

جنات کا سليمان عليه السلام کی حسب مشا
بڑے بڑے قلعے، مجسمے اور حوض بنانا

وہ جو کچھ سليمان چاہتے یہ ان کے لئے بناتے مثلاً
قلعے اور مجسمے اور (بڑے بڑے) لگن جیسے تالاب اور اپنی
جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے داؤد کی اولاد
(میرا) شکر کرو (نیک عمل کرو) اور میرے بندوں میں سے
شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ (13:34)

**ALLAH (SWT) MADE A FOUNT OF
MOLTEN COPPER AND BRASS
TO FLOW AT SOLOMON'S (PBUH) BEHEST**

-----and We caused the fount of copper to gush forth at his behest, and (We gave him) certain of the Jinns (invisible beings) who worked before him by permission of his Lord. And such of them as deviated from Our command, We shall cause him to taste the punishment of flaming Fire. (34:12) PART

انفجار عين القطر
لسليمان عليه السلام

وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْعينَ الْقَطْرَ وَمِنَ الْجِنِّ
مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ
مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٣٤﴾
سبا ١٢ جز

تانے کی دھات کے چشمے کا
سليمان عليه السلام کیلئے جاری کر دیا جانا

اور ان کے لئے ہم نے تانے کا چشمہ بہا
دیا تھا اور بعض جنات ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے
حکم سے ان کے ماتحت کام کرتے تھے اور جو کوئی ان میں
سے ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا اس کو ہم (جہنم کی)
آگ کا مزہ چکھائیں گے (12:34) جزو

**ALLAH (SWT) SUBJECTED THE WINDS
TO SOLOMON (PBUH) TO BLOW OVER THE EARTH
AT HIS COMMAND AND CARRY HIS
FLEET WHEREVER HE DIRECTED**

And to Solomon (We subdued) the wind in its raging. It set by his command towards the land, which We had blessed. For it is We Who have knowledge of everything and We are aware. (21:81)

سخر الله الريح لسليمان عليه السلام
تحمل عرشه وتقطع مسافات شاسعة

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ
إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا طُورًا وَكُنَّا بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٢١﴾
الانبیاء ٨١

ہواؤں پر حکمرانی (تصرف) کا عطا کیا جانا
سليمان عليه السلام کے تحت شاہی کا ہواؤں کے
ذریعہ مسافتیں طے کرنا

اور ہم نے تیز ہوا سليمان کی تابع (فرمان) کردی تھی جو
ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم
نے برکت دی تھی (یعنی ملک شام) اور ہم ہر چیز سے
باخبر اور دانائے ہیں (81:21)

And to Solomon (We made subservient) the wind, whereof the morning course (covered distance) was a month's journey and the evening course a month's journey, -- (34:12) PART

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عُدُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا
شَهْرًا ﴿٣٤﴾
سبا ١٢ جز

اور سليمان کے لئے ہوا کو سخر کر دیا (ان کے تابع فرمان
کر دیا) اس کی صبح کی منزل ایک مہینے بھر کی ہوتی اور شام
کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی۔ (12:34) جزو

So We made the wind subservient to him, so that it gently sped by his command to whatever place he intended. (38:36)

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ
أَصَابَ ﴿٣٨﴾
ص ٣٦

پھر ہم نے ہوا کو ان کے فرمان بردار کر دیا کہ جہاں وہ
پہنچنا چاہتے (ان کے حکم سے) نرم نرم چلنے لگتی۔
(36:38)

SOLOMON (PBUH) INHERITED DAVID'S SPIRITUAL INSIGHT AND THE PROPHETIC OFFICE (KINGDOM)

کان سلیمان علیہ السلام خلیفۃ لملک داؤد و حکمتہ و نبوتہ

داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، حکمت اور نبوت کے جانشین

WISDOM OF SOLOMON (PBUH) CONSISTED IN UNDERSTANDING SPEECH OF BIRDS

اوتی سلیمان علیہ السلام علم منطق الطیر

سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا جانا

And (in this insight) Solomon was David's heir. And he said: O mankind! We have been taught the speech of birds, and have been given (abundance) of all (good) things. This indeed is manifest favour from Allah). (27:16)

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿٢٧﴾ النمل ١٦

اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ اور کہنے لگے کہ لوگو! ہمیں (اللہ کی طرف سے) پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے۔ بیشک یہ (اس اللہ کا) کھلا فضل ہے (16:27)

Reference : 27: 18,22,23,24,27
Page: 1074, 1075, 1076

والعزیز راجع ٢٧ النمل: ١٨، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٧
الصفحة ١٠٧٤، ١٠٧٥، ١٠٧٦

تذکرہ حوالہ 27,24,23,22,18:27
صفحہ 1076, 1075, 1074

PASSING OF SOLOMON (PBUH) THROUGH A VALLEY OF ANTS

مرور سلیمان علیہ السلام و جنودہ علی قریۃ النمل

سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں کی آبادی سے گزر

when they reached the Valley (all) of the Ants, an ant exclaimed: you ants! Get into your dwellings lest Solomon and his armies crush you, without (even) being aware (of you). (27:18)

حَتَّىٰ إِذَا تَوَاعَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾ النمل ١٨

یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو روند ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو (18:27)

SOLOMON'S (PBUH) LOVING COMPASSION FOR THE HUMBLEST OF DIVINE'S CREATURE HIS SMILE AND AMUSEMENT AT ANT'S SPEECH

حب سلیمان علیہ السلام لنسمة متواضعة و ابتسامہ عند سمع مقال نملة

سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی معمولی سی مخلوق کے لئے بھی محبت چیونٹی کی بات سن کر مسکرانا

And (Solomon) smiled, amused at her speech, and said: My Lord, cause me to be thankful for Your favours wherewith You have favoured me and my parents, and I will do what is right that shall be pleasing to You, and admit me in (the number of) Your righteous slaves. (27:19)

فَتَسَبَّحَ مُصَاحِحًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ النمل ١٩

تو چیونٹیوں کی یہ بات سن کر سلیمان مسکرا کر ہنس (پڑے) اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان (انعام) تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان نعمتوں کا شکر کروں اور ایسے نیک اعمال کرتا رہوں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے (19:27)

JUDGEMENT OF SOLOMON (PBUH) A DISPUTE OF THE SHEEP WHICH GOT INTO CULTIVATED FIELD AND DAMAGED THE CROP

حکم سلیمان علیہ السلام الصائب فی الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

بکریوں کے کھیت چر جانے کے تنازع کا فیصلہ

And (remember) David and Solomon, when they both gave judgement concerning the field, when certain people's sheep had strayed and browsed therein by night; and We were witness to their judgement. (21:78)

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِينَ ﴿٢١﴾ الانبياء ٧٨

اور داؤد اور سلیمان (کو یاد کیجئے) جب وہ ایک کھیتی کے مقدمہ کا فیصلہ کر رہے تھے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی (اور اسے روند گئی) تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے (78:21)

SOLOMON'S (PBUH) WISDOM AND SOUND JUDGEMENT IN DECISIONS

And We made Solomon to understand the case (more profoundly) and to each of them We gave judgement and knowledge ----- (21:79) PART

SOLOMON (PBUH) FOND OF HORSES FOR USE IN ALLAH'S (SWT) SERVICE

When there were brought before him at eventide light-footed coursers of the highest breeding. (38:31)

And he said: Truly I have preferred the good things (of the world) to the remembrance of my Lord; until (the Sun) was hidden in the veil (of night). (38:32)

(Then he said): Bring them back to me, then he began to pass his loving hand over their legs and necks. (38:33)

THE TRIAL OF SOLOMON (PBUH) REALIZING HIS POWERLESSNESS BEFORE ALLAH (SWT) AND TURNED TO HUMBLENESS

And then indeed We tried Solomon, by placing upon his throne a (lifeless) body and there upon he turned to Us in repentance. (38:34)

TELLING THE NEWS OF THE KINGDOM OF QUEEN BILQIS OF SHEBA (YEMEN) BY THE (ROYAL BIRD) HOPOE TO SOLOMON (PBUH)

THE TERRITORY OF YEMEN AND THE PEOPLE OF SHEBA (SABEANS)

And when he took a muster of the birds and said: How is it that I see not the hoopoe, or is he among the absentees? (27:20)

I will certainly punish him with hard punishment or I will slay him, or he shall bring me a clear excuse for absence. (27:21)

But the Hoopoe tarried not far (came up) and he said: I have found out (a thing) that you apprehend not, and I come to you from Sheba with sure tidings. (27:22)

كان سليمان عليه السلام بصيراً بالحكم في النزاعات

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۗ وَكَلَّمْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴿٢١﴾ (الأنبياء ٧٩) جزوء

كان سليمان عليه السلام مولعاً بتربية الخيل واستعمالها في سبيل الله

إِذْ عَرَضَ عَلَيْكَ بِالْعَشِيِّ الصُّفُفَاتُ الْيَمِينُ ﴿٣٨﴾ (ص ٣١)

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ۗ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۗ ﴿٣٨﴾ (ص ٣٢)

رُدُّوهُمَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٨﴾ (ص ٣٣)

ابتلاء سليمان عليه السلام واعترافه بعجزه أمام الله عز وجل

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ۖ وَالْقَيْنَةَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهَا جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ (ص ٣٤)

استخبار الهدد عن ملكة سبا بلقيس

منطقة اليمن وأهل سبا

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ ۗ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٧﴾ (النمل ٢٠)

لَأَعَذِّبَنَّكَ ۖ أَذَابًا شَدِيدًا ۚ وَالْأُولَىٰ إِذْ بِحَكْمَةِ ۗ أَوْلِيَاتِي ۖ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿٢٧﴾ (النمل ٢١)

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ ۗ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢٧﴾ (النمل ٢٢)

مقدمات کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور بصیرت (معاملہ نبی اور قوت فیصلہ)

رہم نے اس کا طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے ان کو حکم (یعنی حکمت اور نبوت) اور علم بخشا تھا ----- (79:21) جزو

سليمان عليه السلام کا گھوڑوں کو پالنے کا شوق اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کرنا

جب اس کے سامنے شام کے وقت خاص سدھائے ہوئے گھوڑے پیش کئے گئے (31:38)

سليمان کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر غافل ہو کر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی۔ یہاں تک کہ (سورج) چھپ گیا (32:38)

(بولے کہ) ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے واپس لاؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے (33:38)

سليمان عليه السلام کی آزمائش (اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کا معترف ہونا)

اور ہم نے سليمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا (34:38)

بدد کا ملک (يمن) سبا کی ملکہ بلقيس کے بارے میں سليمان عليه السلام کو خبر دینا

ملک يمن و اهل سبا (صافی عقیدے کے لوگ)

اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سب ہے کہ بدد نظر نہیں آتا کیا کہیں وہ غیر حاضر ہے (20:27)

یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے (اپنی بے قصوری کی) کھلی دلیل پیش کرے (21:27)

ابھی توڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بدد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس (شہر) سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں (22:27)

found (there) a woman ruling over them, and she has been provided with (abundance) every requisite, and she has a magnificent throne. (27:23)

found her and her people worshipping the Sun instead of Allah; and Satan makes their works seem to them, and debars them from the way (of Truth), so that they receive no guidance. (27:24)

so that they worship not Allah, Who brings forth the hidden in the heavens and the earth, and knows what you hide and what you proclaim, (27:25)

Allah; there is no god except Him, the Lord of the tremendous Throne. (27:26)

SOLOMON'S LETTER TO QUEEN BILQIS INVITING HER TO JOIN THE TRUE FAITH (MONOTHEISM)

Solomon) said: We shall see whether you speak the truth or whether you are of the liars. (27:27)

Go with this my letter and deliver it to them; then turn back and see what (answer) they return, (27:28)

READING OUT THE LETTER SOLOMON (PBUH) BY BILQIS TO HER COUNCIL FOR SEEKING THEIR ADVICE ON THE INVITATION BY SOLOMON (PBUH)

The Queen of Sheba) said (when she received the letter): O chiefs! There is delivered to me a letter worthy of respect. (27:29)

It is from Solomon, and it is: (as follows) In the name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful; (27:30)

Do not yourself against me, but come to me as (Muslim) in Submission to the True Religion. (27:31)

He said: O chieftains! Pronounce for me in my case. I decide no case if you are present with me. (27:32)

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَبَدَّلُهَا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَوَلَّاهَا عَرْشًا عَظِيمًا ﴿٢٣﴾ النمل ٢٣

وَجَدْتُهُمْ وَاقِفَةً يُسْبِحُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ النمل ٢٤

أَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ النمل ٢٥

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ النمل ٢٦

دعوة سليمان عليه السلام
الملكة بلقيس إلى التوحيد

قَالَ سَتَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ النمل ٢٧

إِذْ هَبَّ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ النمل ٢٨

قراءة الملكة كتاب سليمان عليه السلام
على ملاها واستشارتها منهم بهذه الدعوة

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُؤِنَّ الْقَىٰ إِلَىٰ كِتَابِ كَرِيمٍ ﴿٢٩﴾ النمل ٢٩

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ النمل ٣٠

أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ النمل ٣١

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُؤِنَّ افْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَشِيًّا تَشْهَدُونَ ﴿٣٢﴾ النمل ٣٢

میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز سے میسر ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے (23:27)

میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں بھلے کر دکھائے ہیں اور ان کو صحیح راستے سے روک رکھا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے (24:27)

(اور نہیں سمجھتے) کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ کیوں اسی اللہ کو سجدہ نہ کریں (25:27)

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے (26:27)

سليمان عليه السلام کی ملکہ (بلقيس)
سبأ کو دعوت توحید بذریعہ خط

(سليمان نے) کہا (اچھا) ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹا ہے (27:27)

یہ میرا خط لے جا اور انہیں جا کر دے پھر ان کے پاس سے واپس آ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں (28:27)

ملکہ سبأ کا اپنے مشیروں کو سليمان عليه السلام
کا خط سنانا اور ان کی دعوت پر مشورہ طلب کرنا

ملکہ نے کہا کہ اے دربار والو میری طرف ایک بڑا اہم خط بھیجا گیا ہے (29:27)

وہ سليمان کی طرف سے ہے اور (مضمون یہ ہے) کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے (30:27)

(بعد اس کے یہ) کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مسلمان (مطیع و فرمانبردار) ہو کر میرے پاس چلے آؤ (31:27)

(خط سنا) کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں تمہاری موجودگی اور صلاح کے بغیر کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں (32:27)

NOBLES OF QUEEN'S COURT WERE BECAME
READY TO DEFEND SOLOMON (PBUH)

استعداد الملا للمقاتلة

ملکہ کے اہل دربار کی سلیمان علیہ السلام
سے مقابلہ پر آمادگی

BUT QUEEN REALIZED THEM
THE ABUSES OF WAR

ولكن الملكة فهمتهم
عواقب الحرب

اور ملکہ بلقیس کا سمجھداری کا مظاہرہ اور
درباریوں کو جنگ کے مضمرات بتانا

They said: We are endued with strength and given to vehement war but it is for you to command; so consider what you will command. (27:33)

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو الْقُوَّةِ وَأَوْلُو أَبَائِ شَدِيدٍ
وَالْآمْرِ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٢٧﴾
النمل ٢٧

سب بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں اور
تم آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے تو
و حکم دیجئے گا (ہم حاضر ہیں) (33:27)

She said: wherever the kings enter a country, ruin it and make the noblest of its people meanest. Thus will they behave. (27:34)

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا
وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٢٧﴾
النمل ٢٧

ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں
اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو
کیل کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں
گے (34:27)

TACT OF QUEEN BILQIS
TO CONCILIATE SOLOMON (PBUH) BY SENDING GIFTS
THROUGH EMBASSY BUT SOLOMON (PBUH)
FLUNG BACK THE PRESENTS AT HER
AND STRESSED ON HIS INVITATION,
WITH A THREAT OF ARMED INVASION
IN CASE OF HER NON SUBMISSION TO TRUE FAITH

إرسال الملكة هدية بدلا من الإيمان
بالله والرسول رفض سليمان عليه السلام
هديتها وأمرها بالإطاعة والإذعان
والإيهام عليها

ملکہ سبأ کا ایمان لانے کی بجائے سلیمان علیہ السلام
کو تحائف کی پیش کش کی چال اور سلیمان علیہ السلام
کا پیشکش کو ٹھکرادینا اور دعوت حق پر اصرار کرنا
اور بصورت انکار حملہ کی دھمکی دینا

And I am going to send a present to him, and (wait) to see with what (answer) my ambassadors return. (27:35)

وَأِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ لِمَ
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٥﴾
النمل ٢٥

اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ روانہ کرتی ہوں اور دیکھتی
ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں (35:27)

So when (the envoy) came to Solomon, (He) said: What! Would you help me with wealth? But that which Allah has given me is better than that which He has given you. No it is you (and not I) who rejoice in your gift. (27:36)

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَيْدُ وَنَّ بِيَالٍ فَمَا
آتَنَ اللَّهُ خَيْرٌ فِيمَا أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ
تَفْرَحُونَ ﴿٢٦﴾
النمل ٢٦

جب (قاصد) سلیمان کے پاس پہنچا تو (سلیمان نے)
کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ اللہ نے
مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا
ہے۔ پس اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے رہو
(36:27)

Go back to them and be sure. We shall come to them with such hosts that they cannot resist, and we shall drive them out from there in disgrace, and they will be abased. (27:37)

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ
بِهَا وَنَخْرِجُهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٧﴾
النمل ٢٧

ان کے پاس واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ
کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور
ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ
ذلیل ہوں گے (37:27)

DECISION OF QUEEN SHEBA
TO VISIT SOLOMON'S (PBUH) COURT
INSTEAD OF CONFRONTING HIM

قررت الملكة الحضور
إلى سليمان عليه السلام بدلا من الحرب

ملکہ سبأ کا مقابلہ کی تیاری کرنے کی بجائے
سلیمان علیہ السلام کے پاس چل کر آنے کا فیصلہ

SOLOMON'S (PBUH) COMMAND TO DEVILS
TO TRANSPORT QUEEN'S THRONE
(OVER THE GLANCE) BEFORE HER ARRIVAL

أمر سليمان عليه السلام
الجن بإحضار عرشها قبل قدومها

سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس کو (چشم زون میں)
ملکہ کی آمد سے پہلے اٹھالانے کا حکم دینا

He said: (to his own men) O chiefs! Which of you will bring me her throne before they come to me, in submission? (27:38)

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ
أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾
النمل ٢٧

(سلیمان نے) کہا کہ اے دربار والو! کوئی تم میں سے ایسا
ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان (فرمانبردار) ہو کر
ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔ (38:27)

A stalwart of the jinn said. I will bring it before you rise from your council. I have full strength for the purpose, and trust worthy for such work. (27:39)

One with whom was knowledge of the scripture said: I will bring it you before our glance returns to you. And when Solomon saw it placed firmly before him, (Solomon) said: This is of the face of my Lord, that He may test me whether I give thanks or am ungrateful. Whosoever gives thanks he only gives thanks for (the good of) his own soul: and whosoever is ungrateful (is ungrateful only to his own soul's hurt). My Lord is Absolute in dependence, Bountiful. (27:40)

قَالَ عَفْرَيْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْكَ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٢٧﴾ النمل ٣٩

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّا نَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٢٧﴾ النمل ٤٠

جنات میں سے ایک قوی بیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت (بھی) حاصل ہے (اور) امانت دار (بھی) ہوں (39:27)

ایک شخص جس کو کتاب (الہی) کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کئے دیتا ہوں جب (سلیمان نے) تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ (اور) کرم کرنے والا ہے (40:27)

SOLOMON (PBUH) ORDERED TO DISGUISE THE QUEEN'S THRONE TO FATHOM HER PRUDENCE ON ARRIVAL AT SOLOMON(PBUH)'S COURT BILQIS RECOGNISED HER THRONE AND REALIZED THE REGAL POWER OF SOLOMON (PBUH)

He said: Disguise her throne for her that we may know whether she is guided to the truth or is one of those who are not rightly guided. (27:41)

When she arrived, it was said (to her): Is your throne like this? She said: It seems the same and knowledge was bestowed on us in advance of this and we have submitted to Allah (in Islam). (27:42)

QUEEN SHEBA WAS AMAZED ON ENTERING THE GREAT PALACE OF SOLOMON (PBUH) AND SUBMITTED HERSELF TO THE LORD OF THE WORLDS (TURNED TO TRUE FAITH)

And he diverted her as she was bent to worship instead of Allah, for she was (sprung) of the people that had no faith. (27:43)

(After a while) She was told: Enter the court. And when she saw it she deemed it a pool and bared her legs. (Solomon) said: It is a court, smoothly paved with glass. She said: My Lord! I have wronged myself, and I surrender with Solomon to Allah, the Lord of the Worlds. (27:44)

THE PEOPLE OF SHEBA

Reference: Page 1114

امر سلیمان علیہ السلام ببعض التغبیر لعرش بلقیس امتحانا لبصیرتها ولما حضرت عرفته وكذلك اعترفت بقوة سلیمان علیہ السلام

قَالَ نَذَرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ أَتَهْتَدُ مِنِّي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٧﴾ النمل ٤١

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٢٧﴾ النمل ٤٢

مجی ملکہ سبا عند سلیمان علیہ السلام ودہشتہا بمشاهدة قصره وإيمانها بالله تعالى

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ النمل ٤٣

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ مَاءً وَكشفت عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ النمل ٤٤

امتحان فراست بلقیس کے لئے سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس میں ردوبدل کرنے کا حکم ملکہ سبا کا دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضری پر تخت پہچان لینا اور سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف

(سلیمان نے) کہا کہ ملکہ کے (امتحان عقل کے) لئے اس کے تخت میں کچھ ردوبدل کر دو تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ سچ بات تک پہنچی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہِ راست نہیں پاتے (41:27)

جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو ہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی (سلیمان کی عظمت و شان کا) علم ہو گیا تھا اور ہم (مسلمان) فرمانبردار ہیں (42:27)

ملکہ سبا کا عظیم الشان محل سلیمان علیہ السلام میں داخلہ پر حیرت زدہ ہو جانا اور رب العالمین کی فرمانبرداری اور اطاعت (ایمان لانے) کا اعلان

سلیمان نے اس کو منع کیا اس سے پہلے تو وہ اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتی تھی کیونکہ وہ کافروں میں سے تھی (43:27)

(پھر) اس سے کہا گیا کہ محل میں چلئے۔ جب اس نے اس (کے فرش) کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض بھی اور اترنے کے لئے اس نے اپنے پائینچے اٹھائے (پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کیا) (سلیمان نے) کہا یہ ایسا محل ہے جس کے (نیچے بھی) شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی اور (اب) میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں (44:27)

قوم سبا

وللمزيد راجع الصفحة 1114

قوم سبا

مزيد حوالہ صفحہ 1114

DESPISED ISRAELITES WERE ESTABLISHED IN THE PROMISED LAND OF SYRIA AND PALESTINE BY ALLAH'S GARCE UNDER SOLOMON'S (PBUH) KINGDOM

أعمر الله المستضعفين من بني اسرائيل في الأرض المقدسة من الشام و فلسطين تحت ملك سليمان عليه السلام

اللہ تعالیٰ کا نبی اسرائیل کے کمزور لوگوں کو ارض مقدس شام اور فلسطین میں سلطنت سلیمان میں لا آباد کرنا

And We caused the folk who were devised to inherit the Eastern parts of the land and the Western parts thereof, which We had blessed. And the fair word of your Lord was fulfilled for the Children of Israel because of their endurance; and We annihilated (all) that Pharaoh and his folk had done and that they had contrived. (7:137)

وَأَوْزَيْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

اور ہم نے ان لوگوں کو جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے سر زمین (شام) کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا اور نبی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا اور فرعون اور قوم فرعون جو (محل) بناتے اور (انگور کے باغ) جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا (137:7)

More Reference : 17:103,104
Page 1038, 1044

واللغزیز راجع ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل) : ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۴، ۱۰۳۸، ۱۰۴۴، الصفحۃ

مزید حوالہ 104,103:17
صفحہ 1044, 1038

JINNS CONFESSED ABOUT THEIR KNOWING NOTHING OF HIDDEN SECRETS (UNSEEN) BEING IGNORANT TO THE DEATH OF THEIR KING SOLOMON (PBUH) EVEN

اعتراف الجن بعدم علم الغيب حيث لم يشعروا بموت سليمان عليه السلام

سليمان عليه السلام کی وفات سے لاعلمی پر جنات کا اپنے علم غیب سے معذوری کا اعتراف

JINNS WENT ON LABOURING AT THE TASK ASSIGNED TO THEM, FOR A LENGTH OF TIME UNTIL TERMITE ATE AWAY SOLOMON'S (PBUH) STAFF ON WHICH HIS BODY WAS LEANING

لم يشعر الجن بموت سليمان عليه السلام ولبثوا في امتثال أمره حتى أكلت دابة الأرض منسأته

عصا سلیمانی کو دیمیک کے چاٹ جانے تک جنات کا ایک عرصہ تک مشغول اطاعت (کام پر لگے) رہنا

And when We decreed death for him, nothing showed his death to them except a creeping creature of the earth, which gnawed away (slowly) his staff. And when he fell the jinns saw clearly how, if they had known the unseen, they would not have continued in despised toil. (34:14)

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۗ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِئْسَ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٤﴾

پھر جب ہم نے ان کے لئے موت کا حکم صادر کیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن (دیمیک) کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا جب (سلیمان) گر پڑے تب جنات کو معلوم ہوا (اور کہنے لگے) کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو زلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے (14:34)

HARUT AND MARUT (ANGELS)

ہاروت و ماروت (الملکین)

ہاروت اور ماروت (فرشتے)

COMING DOWN OF HARUT AND MARUT AT BABYLON FOR TRIAL OF JEWS WARNING PEOPLE NEITHER TO BELIEVE NOR PRACTICE MAGIC DECLARING IT AN ACT OF DISBELIEF

قدوم الملکین ہاروت و ماروت ببابل
فتنة لليهود، وكانا ينهان عن السحر كفر
وينهان عن العمل به

شہر بابل (موجودہ کوفہ) میں قوم یہودی آزمائش کے لئے
ہاروت اور ماروت فرشتوں کی آمد
لوگوں کو جادو پر یقین اور عمل نہ کرنے کی
واضح ہدایات دینا اور عمل سحر کو کفر قرار دینا

REFUTATION OF FALSE ACCUSATION (BLASPHEMY) OF ISRAELITES ON SOLOMON (PBUH) FOR DEALING IN OR TEACHING MAGIC (AS SOLOMON PBUH NEVER BELIEVED IN OCCULT POWER)

إبطال اتهام بنی اسرائیل
علی سلیمان علیہ السلام بالسحر و تعلیمہ

نبی اسرائیل کی سلیمان علیہ السلام پر جادوگری
اور (تعلیم سحر) کی بہتان تراشی کا ابطال

And when there came to them a messenger from Allah, confirming that which they possess, a party of those who have received the scripture flung the Scripture of Allah behind their backs as if they knew not, (2:101)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ البقرة ١٠١

اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی پیغمبر ان کی (آسمانی) کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا تو ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے پیچھے ڈال دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے (101:2)

And follow instead that which the devils one used to practice during the kingdom of Solomon. For it was not Solomon who denied truth (disbelieved); but the devils disbelieved, by teaching mankind magic (sorcery) and (they follow) that which was came down through the two angels in Babylon, Harut and Marut. Nor did they (the two angels) teach it to anyone till they had declared: We are only a temptation to evil, therefore disbelieve not (in the guidance of Allah). And from these two (angels) people learn that by which they cause discord between man and wife; but they injure thereby no one except by Allah's permission. And they learn that which harms them and profits them not. And surely they do know that he who acquires such knowledge will have no happy share in the Hereafter; and rely evil is the price for which they sell their souls, if they but knew. (2:102)

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مَلِكِ سُلَيْمَانَ
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ
بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ
أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُوا
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلْقٍ لَّو لَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ البقرة ١٠٢

اور ان فضول چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے بھی (پیچھے لگ گئے) جو شہر بابل میں دو فرشتوں (یعنی) ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں۔ اور وہ دونوں کسی کو کچھ اس وقت نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک (ذریعہ) آزمائش ہیں۔ تم کفر میں نہ پڑو۔ پھر لوگ ان سے ایسا (جادو) سیکھتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ دراصل اللہ کے حکم کے سوا وہ اس (جادو) سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اور کچھ ایسے (منتر) سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچائے اور فائدہ کچھ نہ دے۔ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں (یعنی سحر اور منتر وغیرہ) کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر ڈالا وہ بدترین چیز تھی۔ کاش وہ (اس بات کو) جانتے ہوتے (102:2)

EZRA (UZAIR) ESDRAS (PBUH)

عزیر (صلی السلام)

حضرت عزیر علیہ السلام

REFUTATION OF BLASPHEMY
OF JUDAISM ASCRIBING EZRA
AS A SON OF ALLAH (SWT)

And the Jews call: Ezra is the son of Allah, and the Christians call: The Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved of old. Allah may destroy them. How are they deluded? (9:30)

إبطال معتقد اليهود الكاذب
(أن عزيرا ابن الله)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِن قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَتَى يُؤْفَكُونَ ﴿٩﴾
التوبة ٣٠ ﴿٩﴾

یہود کے غلط عقیدہ کا ابطال
(کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے)

اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے یہ بھی انہیں کی نقل کرنے لگے ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یہ کہاں بیکے پھرتے ہیں۔ (30:9)

PASSING BY A MEMORIAL PARK (CEMETERY)
AND THINKING ABOUT THE PHENOMENON
OF RESURRECTION

ALLAH (SWT) CAUSED HIM TO DIE
FOR HUNDRED YEARS AND THEN RAISED HIM
UP AGAIN TO MAKE HIM REALIZE
THE PHENOMENA OF RESURRECTION

Or (think you of) the similitude of him who, passing by a hamlet, which had fallen into utter ruin, exclaimed: How Allah shall bring this township over to life after its death? And Allah Caused him to die for a hundred years, then brought him back to life. He said: How long have you tarried? (The man) said: I have tarried a day or part of a day. (He) said: No, but you have tarried for a hundred years. Just look at your food and drink untouched is it by the passing of years. Look at your ass! And, that We may make you a token to mankind, look at the bones (of animal), how We adjust them and then cover them with flesh! And when (the matter) became clear to him, he said: I know now that Allah is Able to do all things. (2:259)

استعجابہ فی إحياء الموتى
عند مروره على قرية خاوية

إماتته ثم بعثه بعد مائة عام
وإشعاره ظاهرة النشور

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى
عُرُوسِهَا قَالَ أَتَى بُحَى هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ
قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى
حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى
العظام كيف نُشْرُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لحبًا
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾
البقرة ٢٥٩ ﴿٢٥٩﴾

قبرستان کے قریب سے گزرنے پر
ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانا
(حیات بعد موت) کے بارے میں خیال آنا

اللہ تعالیٰ کا سو سال کے لئے موت
کی نیند سلا دینا اور پھر دوبارہ زندہ
کر کے فلسفہ حیات بعد الموت سمجھا دینا

یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزرا یہی بستی پر ہوا جو چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ اللہ اس (کے باشندوں) کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی (اور) سو برس تک (اس کو مردہ رکھا) پھر اس کو (زندہ کر کے) اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ (مرے) رہے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم اللہ نے فرمایا (نہیں) بلکہ سو برس (مرے) رہے ہو۔ اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی (خراب) نہیں ہوئیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو (جو مرا پڑا ہے) غرض (ان باتوں سے) یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لئے (اپنی قدرت) کی نشانی بنائیں اور (ہاں گدھے کی) ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر (کس طرح) گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے (259:2)

**DHUL QARNEYN
THE KING OF TWO EPOCHES (HORNS)
SYRUS OR ALEXANDER**

ذوالقرنین

ذوالقرنین
(دو سگڑاں والے) (سیریا یا اسکندریہ)

They ask you of Dhul-Qarneyn. Say: I shall rehearse to you something about him. (18:83)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا
﴿١٨ الكهف ٨٣﴾

اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں (83:18)

We established his power on earth and We gave him the ways and the means to all ends. (18:84)

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا
﴿١٨ الكهف ٨٤﴾

ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار عطا کیا تھا اور ہر طرح کے اسباب و وسائل بخشے تھے (84:18)

FIRST EPISODE OF HIS EXPEDITION REACHING THE WESTERN MOST POINT (SETTING OF SUN)

منزل رحلتہ الأول
السفر إلى أقصى المغرب

مہم کی پہلی منزل

انتہائے مغرب (غروب آفتاب کی حد تک) سفر

And he followed a certain course (18:85)

فَاتَّبَعَ سَبِيلًا ﴿١٨ الكهف ٨٥﴾

تو اس نے (سفر کا) ایک مہم کا سامان کیا (85:18)

(And he marched Westwards) till, when he reached the setting place of the Sun, he found it setting in a muddy spring (in a dark turbid sea), and found a people thereabout: (given to every wrongdoing). We said: O Dhul-Qarneyn! Either punish or show them kindness. (18:86)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿١٨ الكهف ٨٦﴾

یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک (دلدل) کچھڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس (ندی) کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین! تم ان کو خواہ کتنی تکلیف دو خواہ ان (کے بارے) میں بھلائی کی روش اختیار کرو (دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے) (86:18)

PREACHING OF DHUL - QARNAYN FOR THE RIGHTEOUSNESS

دعوة ذی القرنین إلى دین الحق

ذوالقرنین کی تبلیغ

He said: As for him who does wrong, we shall punish him, and then he will be referred to, his Lord, Who will punish him with awful punishment! (18:87)

قَالَ إِنَّمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكِرًا ﴿١٨ الكهف ٨٧﴾

(ذوالقرنین نے اس قوم سے) کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے پھر (جب) وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا جائے گا تو وہ بھی اسے زیادہ سخت عذاب دے گا (87:18)

But as for him who believes and does righteous deeds, good will be his reward, and we shall make binding on him that which is easy to fulfill. (18:88)

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ ۖ وَسَنُوقِلُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿١٨ الكهف ٨٨﴾

اور ان میں سے جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا۔ اس کے لئے بہت اچھی جزا ہے۔ اور ہم اپنے معاملے میں (اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ) اس سے نرم بات کہیں گے (88:18)

SECOND EPISODE OF HIS EXPEDITION REACHING THE EASTERN MOST POINT (RISING OF SUN)

منزل رحلتہ الثانی
السفر إلى أقصى المشرق

مہم کی دوسری منزل

انتہائے مشرق (طلوع آفتاب کی حد تک) سفر

Then he followed a certain course (once again) (18:89)

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ﴿١٨ الكهف ٨٩﴾

پھر اس نے ایک اور مہم (سفر) کی تیاری کی۔ (89:18)

Till, when he reached the rising place of the Sun, he found it rising on a people for whom We had no covering protection against Sun. (18:90)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهَا مِن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾
﴿١٨ الكهف ٩٠﴾

یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لئے ہم نے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں کیا ہے (90:18)

(He left them) as they were. We completely encompassed what was before him. (18:91)

كَذٰلِكَ وَاَقْرَبُ وَوَقَدْ احْطٰنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾
﴿١٨ الكهف ٩١﴾

(حقیقت حال) یوں تھی کہ جو کچھ ان کے پاس تھا ہم کو سب خبر تھی۔ (91:18)

THIRD EPISODE OF HIS EXPEDITION REACHING TWO MOUNTAINS BARRIER (CAUCASUS)

منزل رحلتہ الثالث
السفرین الجبلین

مہم کی تیسری منزل
(دو پہاڑوں کے درمیان تک سفر)

Then he followed another way. (18:92)

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ﴿٩٢﴾
﴿١٨ الكهف ٩٢﴾

پھر اس نے ایک اور مہم (سفر) کا سامان کیا (92:18)

Till, when he reached between the two mountains, he found beneath them a folk that scarcely could understand a word (of his speech). (18:93)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّكَنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾
﴿١٨ الكهف ٩٣﴾

یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ ان دونوں کے لئے اس نے ایک قوم پائی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھی تھی (93:18)

INHABITANTS COMPLAINED DHUL-QARNAYN OF THE INCURSIONS OF THE YAJUJ AND MAJUJ (MONGOLS AND TATARS) TRIBES AND REQUESTED FOR HELP IN PROTECTION

شکوی الناس إلى ذی القرنین
فساد الرهطین یاجوج و ماجوج
واستتصارهم
منه للوقایة من شرهم

لوگوں کا حضرت ذوالقرنین سے اقوام
یا جوج ماجوج (منگول اور تاتاری قبائل)
کی فساد انگیزیوں کی شکایت کرنا اور
ان سے بچاؤ کے لئے مدد کی درخواست

They said: O Dhul-Qarneyn! Gog and Magog are spoiling this land. So may we pay you tribute on condition that you erect a barrier between us and them? (18:94)

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾
﴿١٨ الكهف ٩٤﴾

ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین اس سرزمین میں یا جوج اور ماجوج فساد کرتے رہتے ہیں۔ بھلا ہم تمہارے لئے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دو (ایک دیوار بنا دو) (94:18)

ERECTION OF FORTIFIED BARRIER BETWEEN TWO MOUNTAINS TO PREVENT THE PEOPLE FROM INROADS OF WILD TRIBES OF YAJUJ AND MAJUJ (GOG AND MOGOG)

بناء جدار من زبر الحديد
والقطربین المنطقتین
لامساک یاجوج و ماجوج

اقوام یا جوج ماجوج کو روکنے کیلئے ذوالقرنین کا
دو پہاڑوں کے درمیان دھات کی
دیوار (سد) بنا دینا

He answered: That the power wherein my Lord has established me better (than your tribute). Do but help me with strength (of labour), I will erect between you and them a till strong barrier. (18:95)

قَالَ مَا مَكَّنِّيٰ فِيْهِ رَبِّيٰ خَيْرًا عَيْنُوْنِي بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾
﴿١٨ الكهف ٩٥﴾

(ذوالقرنین نے) کہا کہ خرچ کا جو مقدر اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت ہے۔ تم مجھے قوت (بازو) سے مدد دو۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ (بند) بنا دیتا ہوں (95:18)

Bring me ingots of iron, till when he had levelled up (the gap) between the cliffs, he said: Blow on it, untill, when he had made it glow like a fire (them)' he said Bring me molten copper to pour there upon. (18:96)

اَتُوْنِي زَبْرًا حَدِيْدًا حَتَّىٰ اِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا حَتَّىٰ اِذَا جَعَلْنَا نَارًا اَقَالَتْ اَتُوْنِي اَفْرِغْ عَلَيْنَا قَطْرًا ﴿٩٦﴾
﴿١٨ الكهف ٩٦﴾

تو تم مجھے لوہے کی بڑی بڑی چادریں لا دو (چنانچہ کام جاری کر دیا گیا) یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کے خلاء کو برابر کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دھاؤ۔ یہاں تک کہ جب (یہ آہنی دیوار) بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی گئی تو اس نے کہا کہ (اب) میرے پاس تانبہ لانا اور اس پر پھلا ہوا انڈیلوں کا (96:18)

And (Gog and Magog) were not able to surmount, nor could they pierce (it). (18:97)

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهَا تَقِيًّا ﴿٩٧﴾
﴿١٨ الكهف ٩٧﴾

پھر یا جوج ماجوج میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگاسکیں (97:18)

GOG AND MGOGS WILL BREAK THE BARRIERS OF ZUL - QARNAYN AND WILL SWARM THROUGH EARTH WHICH WILL BE ONE OF THE PROGNOSTICATIONS OF DAY APPROACHING JUDGEMENT

اجتياز يا جوج و ماجوج سد ذى القرنين يكون إشارة إلى قرب القيامة

اقوام یا جوج ماجوج کا دیوار ذوالقرنین کو پار کر جانا آثار قیامت میں سے ایک ہوگا

He said: This is a mercy from my Lord; but when the promise of my Lord will come to pass, He will lay it to dust, for the promise of my Lord is always true. (18:98)

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيْ ۗ وَاذِجَاء وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءٍ ۗ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾
﴿١٨ الكهف ٩٨﴾

ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ جب میرے پروردگار کا وعدہ آچنچے گا تو اس کو (ڈھا کر) ہموار (زمین بوس) کر دے گا۔ اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے (98:18)

And on that Day We shall let some of them surge against others, and the Trumpet will be blown. Then We shall gather them together in one gathering. (18:99)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾
﴿١٨ الكهف ٩٩﴾

(اس روز) ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ (روزے زمین پر پھیل کر) ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور صور پھونکا جائے گا تو ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے (99:18)

Until when Gog and Magog (people) are let loose, and they hasten out of every Hill. (21:96)

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾
﴿٢١ الأنبياء ٩٦﴾

یہاں تک کہ یا جوج اور ماجوج کھول دیئے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے (96:21)

**JONAH (ZUN-NUN) YUNUS (PBUH)
THE COMPANION OF THE FISH**

یونس علیہ السلام
دوران رسالت الحوت

حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی والے

And upon Ishmael and Elisha and Jonah and Lot. Each one of them We preferred above other people in the Universe. (6:86)

With some of their forefathers and their offspring and their brothers and We chose them and guided all of them to a straight path: (6:87)

And Jonah too was indeed one of Our messengers. (37:139)

But his Lord chose him and placed him among the righteous. (68:50)

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَّكُلًّا فَضَّلْنَا
عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾ (الانعام ٨٦)

وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاَجْتَبَيْنَاهُمْ
وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرٰطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿٦﴾ (الانعام ٨٧)

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾ (الصف ١٣٩)

فَاَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٦٨﴾ (القلم ٥٠)

اور اسمعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی۔ اور ہم نے ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی (86:6)

اور ان کے بعض باپ دادا کو اور کچھ اولاد اور کچھ بھائیوں کو بھی۔ اور ان کو پسندیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا (87:6)

اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے (139:37)

پھر پروردگار نے ان کو نواز اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا (50:68)

More Reference : 4:163 Page 246

والمزید راجع ٤ النساء: ١٦٣ الصفحة ٢٤٦

مزید حوالہ 163:4 صفحہ 246

**JONAH (PBUH) WAS RAISED
TO WARN THE ASSYRIANS**

بعث إلى الآشوريين بموصل
(في العراق)

عراق کے علاقہ نینوا (موصل) میں آشوری قوم
(آسیریا) کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے

And We sent him (on a mission) to a hundred thousand (folk) or more (37:147)

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ زَيْدٍ وَّوْنَ ﴿٣٧﴾ (الصف ١٤٧)

اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ (لوگوں) کی طرف (پیغمبر بنا کر) بھیجا (147:37)

**THE PEOPLE UNHEEDED THE PREACHING
OF JONAH (PBUH) BUT REPENTED BEFORE
ALLAH (SWT) FEARING WRATH
AFTER JONAH (PBUH) HAD LEFT THEM**

لم يجب قوم يونس دعوته
فلما ذهب آمنوا خائفين عذاب الله

قوم کا یونس علیہ السلام کی تبلیغ سے اثر نہ لینا
اور یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد
عذاب کے خوف سے ایمان لے آنا

If only there had been a single community (among all those that were warned) that believed and profited by its faith as did the folk of Jonah. When they believed We drew off from them the torment of disgrace in the life of the world and gave them comfort for a while. (10:98)

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا
اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَبِئْسَ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ
اِلَى حِيْنٍ ﴿١٠﴾ (يونس ٩٨)

چنانچہ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان انہیں نفع دیتا۔ سوائے یونس کی قوم کے۔ کہ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک خاص مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا (98:10)

**JONAH (PBUH) DEPARTED CITY OF NANVA
BEING DISCOURAGED AT THE APPARENT
FAILURE OF HIS MISSION AND WAS
SUBJECTED TO THE TRIAL BY ALLAH (SWT)**

مغادرة يونس عليه السلام من مدينة
موصل من فشل دعوته باديا للنظر
وقانطاً من قومه، وابتلاءه من الله تعالى

یونس علیہ السلام کا اپنے مشن کی ظاہری ناکامی پر
قوم سے مایوس ہو کر شہر نینوا سے چل پڑنا
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش

And (mention) Zun-Nun, when he departed in anger and deemed that We had no power over him, but he cried out through the depths of darkness, saying: There is no god but You. Be You glorified! I have been indeed a wrongdoer. (21:87)

وَذَا التُّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ
تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ (الانبیاء ٨٧)

اور مچھلی والے (یونس کو یاد کرو) جب وہ (اپنی قوم سے ناراض ہو کر) غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے آخر وہ اندھیروں کے اندر سے اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے (اور) بے شک میں تصور وار ہوں (87:21)

**JONAH (PBUH) BOARDED ON A FULLY LADEN
SHIP IN HASTE AND LOT FELL ON HIM AND
WAS CAST INTO THE RIVER AND SWALLOWED
BY A FISH (WHALE)**

أبق يونس من السلام إلى الفلك المشحون
ركبه مستعجلاً، ثم طرح في اليم
بسبب الاقتراع عليه فالتقمه الحوت

یونس علیہ السلام کا عجلت میں ایک بھری ہوئی کشتی میں
سوار ہو جانا اور ایک قرعہ اندازی کے نتیجے میں دریا میں
پھینک دیا جانا اور مچھلی کا انہیں نگل لینا

When he fled to the laden ship, (37:140)

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُوْنِ ﴿٣٧﴾ (الصف ١٤٠)

(یاد کرو) جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی پر پہنچے (140:37)

And then (agreed to) drew lots and was of those rebutted; (37:141)

And then a big fish swallowed him while he was blameworthy; (37:142)

JONAH (PBUH) NOT EXTOLLED ALLAH (SWT) DURING AFFLICTION HE WOULD INDEED HAVE TARRIED IN THE BELLY OF FISH THE DAY WHEN DEAD ARE RAISED

And had he not been one of those who glorify (Allah) (37:143)

He would certainly have tarried in its belly (of that fish) till the Day of Resurrection. (37:144)

ALLAH (SWT) LISTENED TO JONAH (PBUH) AND DELIVERED HIM FROM DISTRESS

Then We listened his prayer and saved him from the anguish. Thus We save the believers. (21:88)

JONAH (PBUH) WAS CAST OUT OF THE FISH BELLY ON A NAKED SHORE WHERE ALLAH (SWT) CAUSED A SHADY GOURD PLANT FOR HIS COMFORT

Then We cast him on a desert shore in the state of sickness. (37:145)

And We caused a spreading plant of gourd to grow over him; (37:146)

But wait you with patience for your Lord's command, and be not like him of the companion of the fish, who cried out in agony. (68:48)

Had it not been that favour from his Lord had reached him he surely had been cast off on a naked shore in a state of disgrace. (68:49)

But his Lord chose him and placed him among the righteous. (68:50)

JONAH (PBUH) RESUMED HIS MISSION AND JOINED THE CITY OF MORE THAN HUNDRED THOUSAND PEOPLE TO PREACH

And We sent him (on a mission) to a hundred thousand (folk) or more (37:147)

And they believed, therefore We remitted them comfort of their life a while. (37:148)

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾
﴿٣٧ الصّفت ١٤١﴾

فَالْتَقَاهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾
﴿٣٧ الصّفت ١٤٢﴾

لَوْلِمَ يَسْبِحُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لَكَانَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

فَلَوْلَا أَنَّا كَانُوا مِنَ الْمَسْتَجِبِينَ ﴿١٤٣﴾
﴿٣٧ الصّفت ١٤٣﴾

لَلَيْثِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾
﴿٣٧ الصّفت ١٤٤﴾

استجابة دعائه وبرءه من الضر

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَخَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ
نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ ﴿٢١ الانبياء ٨٨﴾

خروجه من بطن الحوت
وتزويده بالظل من الله تعالى

فَبَدَّلْنَا بِالْعُرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾
﴿٣٧ الصّفت ١٤٥﴾

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾
﴿٣٧ الصّفت ١٤٦﴾

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ
إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾
﴿٦٨ القلم ٤٨﴾

لَوْلَا أَن تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعُرَاءِ
وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ ﴿٦٨ القلم ٤٩﴾

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾
﴿٦٨ القلم ٥٠﴾

بعثه إلى أمة يكثر عددهم
من مائة ألف

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾
﴿٣٧ الصّفت ١٤٧﴾

فَأَمَّنُوا فَمَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾
﴿٣٧ الصّفت ١٤٨﴾

پھر جب انہوں نے قرعہ اندازی کی تو انہوں نے مات کھائی (141:37)

آخر کار (ایک بڑی) مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے (142:37)

اگر یونس علیہ السلام بوقت تکلیف اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے (نہ پکارتے) تو روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے

پھر اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے (143:37)

تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے (144:37)

دعا کی قبولیت اور تکلیف سے نجات تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں (88:21)

مچھلی کا یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر اگل دینا اور اللہ تعالیٰ کا ان کے آرام کیلئے سایہ دار نیل کا اگا دینا

پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ (سقیم حالت میں) بیمار تھے ایک چھیل میدان میں ڈال دیا (145:37)

اور ان پر سایہ کرنے والا ایک نیل دار (کدو کا) درخت اگا دیا (146:37)

تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کئے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے (یونس) کی طرح نہ ہونا جب اس نے غم کی حالت میں اللہ سے دعا کی (48:68)

اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کے شامل حال نہ ہوتی تو ان کو چھیل میدان میں ڈال دیا جاتا اور ان کا حال ابتر ہو جاتا (49:68)

پھر پروردگار نے ان کو نوازا اور انہیں صالح بندوں میں شامل کر لیا (50:68)

قوم کی طرف یونس علیہ السلام کی مراجعت (واپسی) ایک لاکھ سے زائد قوم کے پیغمبر

اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ (لوگوں) کی طرف (پیغمبر بنا کر) بھیجا (147:37)

تو وہ ایمان لے آئے سو ہم نے ان کو (دنیا میں) ایک خاص وقت (مقرر) تک (عیش و عشرت) زندگی کے فائدے دیئے (148:37)

ZECHARIAH (ZAKARIYA) (PBUH)

ذِكْرُ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ

حضرت زکریا علیہ السلام

**PRAYING OF ZECHARIAH (PBUH)
FOR GOODLY OFFSPRING
(BEST OF INHERITORS)**

Then Zechariah appealed to his Lord and said: My Lord! Grant me of Your bounty goodly offspring. You are the Hearer of appeals. (3:38)

Kaf. Ha. Ya. Ain. Sad. (19:1)

A mention of the mercy of your Lord to His servant Zechariah. (19:2)

When he appealed to his Lord in secrecy of his heart. (19:3)

Saying: My Lord! Feeble have become my bones. and my head is glistens with gray hair, and I have never been unblest in my appeals to You, my Lord. (19:4)

I fear what my heirs (kinsfolk) will do after me, since my wife is barren. Oh, bestow me from Your grace a successor (19:5)

(One that) Who shall be my heir and inherit (also) of the posterity of Jacob. And make him, O my Lord, one with whom You are well pleased. (19:6)

And (remember) Zechariah, when he appealed to his Lord: My Lord! Leave me not childless, You are the Best of inheritors. (21:89)

**ALLAH (SWT) LISTENED TO ZACHARIAH (PBUH)
AND ANGELS GAVE GLAD TIDINGS
OF A SON NAMED JOHN (PBUH)**

And the angels called out to him as he stood praying (in his chamber) "Allah gives you glad tidings of (a son whose name is) John, (who comes) to confirm the truth of a Word from Allah, and besides noble utterly (out standing) chaste, a Prophet of the company of righteous." (3:39)

دعاء ہ طالباً من اللہ تعالیٰ ذریعہ طیبہ

هَذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾
﴿٣ آل عمران ٣٨﴾

كَهَيْعَصَ ﴿١﴾

﴿١٩ مريم ١﴾

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكَرِيَّا ﴿٢﴾
﴿١٩ مريم ٢﴾

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾
﴿١٩ مريم ٣﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾
﴿١٩ مريم ٤﴾

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾
﴿١٩ مريم ٥﴾

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾
﴿١٩ مريم ٦﴾

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾
﴿٢١ الانبياء ٨٩﴾

دعاء زکریا علیہ السلام ربہ
لوحہ ذریعہ واستجابة دعائہ وتبشیرہ
بمولود اسمہ یحییٰ علیہ السلام

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾
﴿٣ آل عمران ٣٩﴾

ذکر یا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے
نیک اولاد (وارث) کے لئے دعائیں

اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی (اور) کہا کہ پروردگار مجھے اپنے فضل خاص سے اولاد صالح عطا فرما۔ تو بیشک دعا سننے (اور قبول کرنے) والا ہے (38:3)

کہی عَص (1:19)

یہ تمہارے پروردگار کی اس مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی (2:19)

جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا (چپکے چپکے دعا کی) (3:19)

(اور) کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں (بڑھاپے کے سبب) کمزور ہو گئی ہیں اور (بڑھاپے کی وجہ سے) سر کے بالوں میں سفیدی آگئی ہے اور میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا (4:19)

مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرما (5:19)

جو میرا وارث بھی ہو اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک بھی ہو۔ اور (اے) میرے پروردگار اس کو خوش اطوار (پسندیدہ انسان) بنا (6:19)

اور زکریا (کو یاد کرو) جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے (89:21)

ذکر یا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت
اور فرشتوں کا یحییٰ علیہ السلام
کی پیدائش کی بشارت دینا

وہ ابھی حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ (ذکریا) اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی یقینی خوش خبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک کلمہ کی تصدیق کرنے والا، بردار، اپنے نفس پر ضبط کرنے والا اور اللہ کا نبی ہے اور نیک (صالح) لوگوں میں سے ہوگا۔ (39:3)

(His prayer was responded): Zechariah! We give you tidings of a son whose name shall be John; on none by that name have We conferred distinction before. (19:7)

يُزَكِّرِيكَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعِلْمٍ ۖ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ
مَجْعَلُ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾
﴿١٩ مريم ٧﴾

اے زکریا ہم تم کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا (7:19)

SURPRISE OF ZECHARIAH (PBUH) OF HIS BEING VERY OLD AND HIS WIFE BARREN - (BOTH PAST) THE AGE OF PARENTHOOD

استعجابہ علی رزق
مولود علی کبرہ و عقارۃ امرأته

زکریا علیہ السلام کا اپنے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کی وجہ سے خوش خبری پر اظہار تعجب

He said: My Lord! How can I have a son when age has overtaken me already and my wife is barren? (The angel) answered: So (it will be). Allah does what He wills. (3:40)

قَالَ رَبِّ اِنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي
الْكِبَرُ وَامْرَاَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾
﴿٣ آل عمران ٤٠﴾

زکریا نے کہا اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا کہ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے (40:3)

He said: My Lord! How can I have a son when my wife is barren and I have reached in firm old age? (19:8)

قَالَ رَبِّ اِنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَاَتِي
عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾
﴿١٩ مريم ٨﴾

انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا۔ جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ گیا ہوں (8:19)

He said: So (it will be). Your Lord says: It is quite easy for Me, even as I created you before, when you were nothing. (19:9)

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلِيٌّ هَيِّنٌ وَقَدْ
خَلَقْتِكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾
﴿١٩ مريم ٩﴾

ارشاد ہوا کہ اسی طرح (ہوگا) تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے تو یہ بالکل آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ چیز نہ تھے (9:19)

ZECHARIAH (PBUH) REQUESTED ALLAH (SWT) FOR THE SIGN FOR HIS OWN CONVINCING

استدعی زکریا من الله
لجعل آية لا مطمئنه

زکریا علیہ السلام کا اپنی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ سے نشانی کا پوچھنا

He said: My Lord! Give for me some token. He said: you token is that you, with no bodily defect, shall not speak to mankind for three nights. (19:10)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ اِنَّكَ الْاَتَكَلِّمُ
النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾
﴿١٩ مريم ١٠﴾

زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم (تندرست) ہونے کے باوجود تین رات (دن) لوگوں سے بات نہ کر سکو گے (10:19)

ZECHARIAH (PBUH) WAS ENJOINED NOT TO SPEAK TO ANYONE FOR THREE DAYS AND NIGHTS EXCEPT THROUGH GESTURES BUT ATTENTION HIS LORD OFTEN AND GLORIFY HIM IN THE MORNING AND EVENING

اعتقال لسانه للتكلم بالناس
علامة لولادة المولود، وأمر بذكر الله
كثيراً صباحاً ومساءً

زکریا علیہ السلام کو بطور علامت تین دن مکمل دن رات تک کسی سے بات نہ کر سکنے (ماسوائے اشارہ) مگر بکثرت ذکر الہی اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرنے کی ہدایت

He said: My Lord! Appoint a token for me. (The angel) said: The token you (shall be) that you shall not speak to mankind three days except through signs. Remember your Lord often, and praise (Him) in the early hours of night and morning. (3:41)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ اِنَّكَ الْاَتَكَلِّمُ
النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْرًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ
كَثِيرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْابْكَارِ ﴿٤١﴾
﴿٣ آل عمران ٤١﴾

زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے تو (ان دنوں میں) اپنے پروردگار کا کثرت سے ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا (41:3)

So Zakriya came out to his people from the sanctuary, (his chamber) and signified to them: Glorify your Lord at morning and fall of night. (19:11)

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْسَىٰ إِلَيْهِمْ
أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾
﴿١٩ مريم﴾

پھر زکریا (عبادت کے) اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو (11:19)

ALLAH (SWT) CURED ZECHARIAH'S (PBUH) WIFE'S BARRENNESS AND BESTOWED UPON THEM A RIGHTEOUS SON - JOHN (PBUH)

Then We responded his prayer, and bestowed upon him John, and cured his wife (barrenness) for him. They used to vie one with the other in good deeds, and they used to appeal to Us in longing and in fear, and were submissive to Us. (21:90)

من الله تعالى على زكريا عليه السلام
بشفاء زوجته من العقارة و زرقهما
يحيى عليه السلام
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ
زَوْجَهُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَيَدْعُونََنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿٩٠﴾
﴿٢١ الانبياء﴾

اللہ تعالیٰ کے فضل سے
زکریا علیہ السلام کی بیوی کا اولاد کے قابل
ہو جانا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا عطا ہونا
تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو یحییٰ عطا فرمایا اور
ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ نیک کاموں
میں جلدی کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے
تھے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے (90:21)

GUARDIANSHIP OF MARY (PBUH)

For Detail Consult : 3:37 Page 1092

كفالة مريم عليها السلام
والتفصيل راجع ٣ آل عمران: ٣٧ الصفحة ١٠٩٢

مريم عليها السلام کی کفالت
تفصیل کیلئے دیکھیے 3:37 صفحہ 1092

**JOHN (YAHYA) (PBUH)
THE BARTIST JONANAN**

**يسحى (عليه السلام)
(السماني)**

**حضرت یحییٰ (علیہ السلام)
(رحمۃ اللہ علیہ)**

And (upon) Zechariah and John and Jesus and Elias. Each one (of them) was of the righteous. (6:85)

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَىٰ ۗ كُلٌّ مِّنَ
الطَّالِقِينَ ﴿٨٥﴾
﴿٦ الانعام﴾

اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور ایلیاس کو بھی۔ یہ سب نیک
لوگوں میں سے تھے (85:6)

And remember Zechariah, when he appealed to his Lord: My Lord! Leave me not childless, though You are the best of inheritors. (21:89)

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾
﴿٢١ الانبياء﴾

اور زکریا (کو بھی یاد کرو) جب انہوں نے اپنے رب
سے دعا کی کہ پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے
بہتر وارث ہے (89:21)

Then We listened his prayer, and bestowed upon him John, and cured his wife (to bear a child) for him. They used to compete one with the other in doing good deeds, and they cried to Us eagerly yet reverently and were so humble towards Us. (21:90)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ
زَوْجَهُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَيَدْعُونََنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿٩٠﴾
﴿٢١ الانبياء﴾

تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان
کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ نیک کاموں کی
طرف جلدی کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے
اور ہمارے سامنے عاجزی کیا کرتے تھے (90:21)

More Reference : 3:39 Page 1087

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ٣٩ الصفحة ١٠٨٧

مزید حوالہ 3:39 صفحہ 1087

ALLAH (SWT) HAS BESTOWED PEACE UPON JOHN (PBUH)

سلام الله رحمته على يحيى

**اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یحییٰ علیہ السلام پر سلام اور رحمت**

Peace on him the day he was born, and the day he dies and the day he shall be raised up to life again. (19:15)

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ
يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾
﴿١٩ مريم﴾

اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے
اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ان پر سلام
اور رحمت (ہے) (15:19)

BESTOWED UPON HIM WISDOM FROM YOUTH DEVOUT AND SYMPATHETIC FOR ALL CREATURES

O John! Hold the Scripture with might. And We gave him discretion even as a youth. (19:12)

And compassion from Our presence, and purity, and he was devout, (19:13)

JOHN (PBUH) WAS KIND LOVING, OBEDIENT AND HUMBLE TO HIS PARENTS

And dutiful towards his parents. And he was not arrogant, rebellious. (19:14)

JOHN (PBUH) (THE BAPTIST) WAS THE PRECURSOR OF JESUS (PBUH)

JOHN (PBUH) - THE NOBLE AND CHASTE

And the angels called out to him as he stood praying in the sanctuary: "Allah gives you glad tidings of a son" (whose name is) John, (who comes) to confirm the truth of a Word from Allah, and masterful yet circumspect, a Prophet among the righteous. (3:39)

NONE BY THAT NAME HAS ALLAH (SWT) CONFERRED DISTINCTION BEFORE

Thereupon the Angels called out to him that Allah Says): O Zechariah! We bring you tidings of a son whose name is John; We have conferred distinction on none by that name before him. (19:7)

أوتى يحيى الحكمة و الزكوة صبياً
و كان حنوناً لجميع الأنام

يُحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَ اتَيْنَاهُ الْحِكْمَ
صَبِيًّا ﴿١٢﴾

﴿١٩ مريم ١٢﴾

وَ جَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَ زَكْوَةً وَ كَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

﴿١٩ مريم ١٣﴾

كان يحيى عليه السلام برا بوالديه
و محبا و مطيعا لهما

وَ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

﴿١٩ مريم ١٤﴾

كان يحيى عليه السلام مصدقا
المسيح بن مريم عليه السلام
(بكلمة من الله تعالى)

كان يحيى عليه السلام عفيفا و حصورا

فَأَنذَرْتَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُوَ آتِمٌ مُّصَلِّيٌ فِي الْحُرَابِ
أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُّصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ
مِّنَ اللَّهِ وَ سَيِّدًا وَ حَصُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ
الصَّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

﴿٣ آل عمران ٣٩﴾

لم يكن أحد مسمى يحيى من قبل

يٰٓزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ
نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

﴿٧ مريم ٧﴾

لڑکپن سے ہی دانائی پاکیزگی
اور تمام مخلوق سے شفقت کا جذبہ عطا ہوا

اے یحییٰ (ہماری) کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور ہم
نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی (12:19)

اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی (دی تھی) اور وہ
پرہیز گارتھے (13:19)

والدین کے لئے شفقت و محبت
اور اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ رکھنے والا

اور یحییٰ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے
والے تھے اور سرکش (اور) گناہ گار نہیں تھے (14:19)

حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام
کی تصدیق کرنے والے

یحییٰ علیہ السلام نیک پارسا اور
گناہوں کے قریب بھی نہ بھٹکنے والے

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ
فرشتوں نے آواز دی کہ (زکریا) اللہ تمہیں یحییٰ کی
بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض (یعنی حضرت عیسیٰ) کی
تصدیق کرے گا سردار ہوگا اور پارسا (نفس پر ضبط رکھنے
والا) اور اللہ کے پیغمبر اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔
(39:3)

اس نام (یحییٰ) کا کوئی شخص پہلے پیدا نہ ہوا

فرشتوں نے کہا (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) اے زکریا ہم تم کو
ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے
اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ (7:19)

MARY (MARYAM) (PBUH)

مریم علیہا السلام

حضرت مریم علیہا السلام

THE DAUGHTER OF IMRAN AND THE MOTHER OF JESUS (PBUH)

بنت عمران و أم عیسیٰ علیہ السلام

دختر عمران و عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ

ALLAH (SWT) CHOSE THE FAMILY OF IMRAN AS A PREFERRED ONE

كان الله تعالى اصطفى آل عمران على العالمين

خاندان عمران اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب فرمایا گیا

No doubt, Allah preferred Adam and Noah and the Family of Abraham and the Family of 'Imran above all the people of Universe . (3:33)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا (33:3)

They are descendants of one another. Allah is Alert and Aware. (3:34)

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ اور اللہ سنے والا (اور) جاننے والا ہے (34:3)

PRAYER AND VOW OF WIFE OF IMRAN FOR KEEPING HER OFFSPRING AS CONSECRATED

نذر امرأة عمران أن تقف المولود المتوقع لخدمة الله تعالى

عمران کی بیوی کا پیدا ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ کے کاموں (عبادت) کے لئے وقف کر دینے کی منت

(Remember) when the wife of 'Imran said: My Lord I do dedicate to You that which is in my belly as a consecrated (offering). (to Your special service) so accept it from me. You, only You, are the Hearer, the Knower! (3:35)

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

(وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے) جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار جو (بچہ) میرے پیٹ میں ہے اس کو تیری نذر کرتی ہوں اسے تیرے ہی کاموں کے لئے وقف کر دوں گی تو میری اس پیش کش کو قبول فرما بے شک تو سنے والا (اور) جاننے والا ہے (35:3)

BIRTH OF MARY (PBUH)

ولادة مریم علیہا السلام

مریم علیہا السلام کی پیدائش

And when she was delivered, she said: My Lord! I am delivered of a female child Allah knew best of what she was delivered--the male is not as the female; and I have named her Mary, and I crave Your protection for her and for her offspring from Satan the outcast. (3:36)

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُ بِهَا بِكَ وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اللہ کو خوب معلوم تھا کہ کیا اولاد پیدا ہوئی۔ تو کہنے لگیں کہ پروردگار! میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور (نذر کے لئے) لڑکا (موزوں تھا کہ وہ) لڑکی کی طرح (ناتواں) نہیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں (36:3)

DISPUTE OF TAKING THE CHARGE OF MARY (PBUH) WAS DECIDED THROUGH DRAWING LOTS (CASTING REEDS)

حدوث النزاع بشأن كفالة مریم علیہا السلام والاقتراع لذلك

مریم علیہا السلام کی کفالت کے لئے جھگڑا اور قرعہ اندازی کی نوبت

STORY OF MARY (PBUH) IS A NEWS FROM UNSEEN REVEALED TO MUHAMMAD (SAAS) BY INSPIRATION - WHICH AUTHENTICATES THE HOLY QURAN AS A DIVINE WRIT

الإخبار بالمغيبات دليل على كون القرآن كتاب الله

قصہ مریم بھی غیب کی خبروں میں سے ہے جو قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا ثبوت ہیں

This is part of the tidings from unseen. We reveal it to you (Muhammad) by inspiration. You were not present with them when they threw their pens to, cast lots, (to know) which of them should be the guardian of Mary, nor were you present with them when they disputed the point. (3:44)

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعہ بتا رہے ہیں ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ مریم کا سرپرست کون ہو۔ اپنے اپنے قلم (بطور قرعہ) پھینک رہے تھے۔ اور نہ اس وقت ہی تم ان کے پاس حاضر تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے (44:3)

ZACHARIAH (PBUH) BECAME THE GUARDIAN AND MARY (PBUH) GREW UNDER ALLAH'S (SWT) SPECIAL PROTECTION AND FAVOURS

Right graciously her Lord accepted her and made her grow in purity and beauty and made Zechariah her guardian. Whenever Zechariah went into the sanctuary (her chamber) where she was, he found that she had food. He said: O Mary! Where from comes to you this food)? She answered: It is from Allah. Allah provides without stint to whom He pleases. (3:37)

كفل الله تعالى مريم عليها السلام
زكريا عليه السلام

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَوَقَّلَهَا زَكْرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُ أُنَى لَكَ هَذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

مریم علیہا السلام کا حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص اور مہربانی میں پروان چڑھنا

تو پروردگار نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ حجرے میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے (یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے) پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں اللہ کے ہاں سے (آتا ہے) بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے (37:3)

ANGELS INFORMED MARY (PBUH) ABOUT HER BEING CHOSEN, PURIFIED AND PREFERRED ABOVE ALL WOMAN BREED

And when the angels said: O Mary! Allah has chosen you and purified you, and has preferred you above (all) the women in the Universe. (3:42)

اصطفاء الله تعالى مريم عليها السلام
على نساء العالمين

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرِئُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

فرشتوں کا مریم علیہا السلام کو اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ اور پاک ہونے اور تمام جہانوں کی عورتوں میں منتخب ہونے کے بارے میں بتانا

اور جب فرشتوں نے (مریم سے) کہا کہ مریم اللہ نے تمہیں گزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے (42:3)

O Mary! Worship your Lord, devoutly prostrate yourself and bow down with those who bow down (in prayer) (before Him). (3:43)

يَمْرِئُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا (43:3)

Core Reference : 19:20 21:91 23:50 66:12
Page 1093, 112, 1096

والمعزید راجع ۱۹ مریم: ۲۰ ۲۱ الأنبياء: ۹۱
۲۳ المؤمنون: ۵۰ ۶۶ التحريم: ۱۲

مزيد حوالہ 19:20 21:91 23:50 66:12
صفحہ 1096, 112, 1093

ENUNCIATION OF CHRIST (PBUH) BY ANGELS TO MARY (PBUH)

And remember) when the angels said: O Mary! Allah gives you glad tidings of a Word from Him, whose name is the Christ (Messiah), Jesus, the son of Mary, of great honour in the world and the Hereafter, and one of those nearest (to Allah). (3:45)

تبشير الملك مريم عليها السلام
بابن زكي المسيح عيسى بن مريم

إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرِئُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

فرشتوں کا مریم علیہا السلام کو بیٹے کی پیدائش (عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننے) کی بشارت دینا

(وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب فرشتوں نے کہا "اے مریم" اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح (اور مشہور) عیسیٰ ابن مریم ہوگا (اور جو) دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا۔ (45:3)

VIRGIN MARY'S (PBUH) SURPRISE ON TIDINGS OF BIRTH TO A CHILD AND HER ARGUING WITH THE ANGELS

He said: O My Lord! How can I have a child when no man has even touched me? He said: Even so (it will be). Allah creates what He wills. If He decrees a thing, He says it only: Be! and it is. (3:47)

استعجاب مريم العذراء عليها السلام
على ولادة ابن لها
ومناقشتها بالملائكة

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

مریم علیہا السلام کا کنواری (باکرہ) ہونے کی وجہ سے بچے کی پیدائش کی خبر پر اظہار تعجب اور فرشتوں سے بحث

(یہ سن کر) مریم نے کہا۔ پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا کہ کسی شخص نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو صرف ارشاد فرمادیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے (47:3)

She said: How can I have a son when no man has even touched me, neither have I been a loose woman! (19:20)

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾
﴿١٩ مريم ٢٠﴾

مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے مجھے کسی کا ہاتھ تک نہیں لگا۔ اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں (20:19)

**SPACIAL VIRTURE OF VIRGIN MARY (PBUH)
(GIVING BIRTH TO A SON WITHOUT FATHER)**

And (remember Mary) she who guarded her chastity, therefore We breathed into her Our spirit and made her and her son a symbol (of Our Grace) for (all) people. (21:91)

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾
﴿٢١ الانبياء ٩١﴾

کنواری مریم کی پاک دامنی۔ ایک خصوصی شرف (بغیر باپ کے بچے کو جنم دینا)

مریم کو بھی یاد کرو وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور خود اسے اور اس کے بیٹے کو اہل عالم کے لئے نشانی بنا دیا۔ (91:21)

(And Allah sets forth an example of Mary, daughter of Imran, who guarded her chastity, therefore We breathed therein Our spirit. And she testified in the Words of her Lord and His Scriptures, and was of the obedient servants. (66:12)

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَنَاتِينَ ﴿١٢﴾
﴿٦٦ التحريم ١٢﴾

ور (اللہ) عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جنہوں نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی تھی۔ تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور عبادت گزار لوگوں میں سے تھی۔ (12:66)

**DIVINE INSPIRATION TO MARY (PBUH)
ABOUT BESTOWING OF MIRACLES
AND BOUNTIES ON HER SON JESUS (PBUH)**

For Detail Consult : 3:46,48,49 5:114
Page 1101, 1095, 1092

For Detail Consult : Chapter of Jesus (PBUH)
Page: 1095

تبشیر مریم علیہا السلام أن الله تعالى سيرزقها ابنا يكون نبيا ويأتي بآيات من الله ويمن الله تعالى عليه بأعمه

وللتفصيل راجع ٣ آل عمران: ٤٦، ٤٨، ٤٩، ٥ المائدة: ١١٤
الصفحة ١١٠١، ١٠٩٥، ١٠٩٢
وللتفصيل راجع باب عيسى عليه السلام
الصفحة ١٠٩٥

مریم علیہا السلام کو ان کے بیٹے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) پر معجزات اور انعامات رب تعالیٰ کے نزول کی بشارت

تفصیل کیلئے دیکھئے 3:46,48,49 5:114
صفحة 1092, 1095, 1101
تفصیل کیلئے دیکھئے باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
صفحة 1095

**AN ANGEL CAME TO MARY (PBUH)
IN THE SHAPE OF A WELL
MADE HUMAN BEING**

And call to mind, Mary through this divine writ (Qur'an), when she had withdrawn herself from her people to a chamber at an Eastern place. (19:16)

وَإِذْ كَرَّمْنَا مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِن أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾
﴿١٩ مريم ١٦﴾

اور اس کتاب (قرآن) میں مریم کا بھی حال بیان کرو۔ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف گوشہ نشین ہو گئی تھی (16:19)

And had chosen seclusion from them. Then We sent to her Our spirit (Our angel) and he appeared before her as a man in all respect. (19:17)

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾
﴿١٩ مريم ١٧﴾

تو اس (مریم) نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا (اس وقت) ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا (17:19)

She exclaimed: I seek refuge in the Beneficent One from you (approach me not) if you fear Allah. (19:18)

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾
﴿١٩ مريم ١٨﴾

مریم یکایک بولیں کہ اگر تم پر ہیزار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں (18:19)

(The angel) answered: I am only a messenger of your Lord, that I may bestow on you a gift of a son endowed with purity. (19:19)

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾
﴿١٩﴾ مريم ١٩

اس (فرشتے) نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا (یعنی فرشتہ) ہوں (اور اس لئے بھیجا گیا ہوں) کہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں (19:19)

More Reference : 3:45 Page 1092

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ٤٥: الصفحة ١٠٩٢

مزید حوالہ 45:3 صفحہ 1092

REPLYING OF ANGEL TO THE ARGUMENTS OF MARY (PBUH)

إجابة الملك لسؤال مريم عليها السلام

فرشتے کا مریم علیہا السلام کو ان کے استدلال کا جواب دینا

She said: How can I have a son when no man has ever touched me, neither have I been unchaste! (19:20)

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشْرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾
﴿١٩﴾ مريم ٢٠

(مریم نے) کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں (20:19)

The angel answered: So (it will be) your Lord says It is easy for Me. and (it will be) that We may make it a symbol for mankind and an abode of grace from Us, and it is a thing ordained. (19:21)

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾
﴿١٩﴾ مريم ٢١

(فرشتے نے) کہا یونہی (ہوگا) تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے ایسا کرنا بہت آسان ہے اور (میں اسے اسی طریقہ پر پیدا کروں گا) تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لئے اپنی طرف سے نشانی اور (ذریعہ) رحمت (ومہربانی) بناؤں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے (21:19)

More Reference : 3:47 Page 1092

وللمزيد راجع ٣ آل عمران: ٤٧: الصفحة ١٠٩٢

مزید حوالہ 47:3 صفحہ 1092

MARY (PBUH) CONCEIVED JESUS (PBUH) AND LEFT FOR BETHLEHEM TO RETIRE

حملت مريم عليها السلام و ذهبت إلى بيت اللحم

مریم علیہا السلام کا حاملہ ہو جانا اور بیت اللحم کی طرف چلے جانا

and she conceived him, and she withdrew with him to a far-off place. (19:22)

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾
﴿١٩﴾ مريم ٢٢

تو مریم اس (بچے) کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں (22:19)

More Reference : 21:91 66:12 Page 1093

وللمزيد راجع ٢١ الأنبياء: ٩١: ٦٦ التحريم: ١٢: الصفحة ١٠٩٣

مزید حوالہ 91:21 66:12 صفحہ 1093

BIRTH OF JESUS (PBUH) UNDER GOING NATURAL LABOUR PAINS BY MARY (PBUH) AND HER COMPELLING TO CLING A PALM TREE FOR SUPPORT DURING THROES OF CHILD BIRTH

تحملت مريم عليها السلام آلام المخاض عند ولادة عيسى عليه السلام فاستندت إلى جذع النخلة

پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کے وقت فطری طور پر حضرت مریم علیہا السلام کو زچگی کی تکلیف اور ان کا کھجور کے تنے کا سہارا لینا

and the pangs of childbirth drove her to the trunk of the palm tree. She claimed (in her anguish) Oh, could that I had died before this and had become a thing forgotten! (19:23)

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾
﴿١٩﴾ مريم ٢٣

پھر زچگی کی تکلیف (دردزہ) نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ اور کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مرجانی اور میرا نام و نشان نہ رہتا (23:19)

then (one) Voice called out to her from beneath the (palm tree), saying: Grieve not! Your Lord has provided a rivulet (running) beneath you, (19:24)

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾
﴿١٩﴾ مريم ٢٤

اور اس وقت ان کے نیچے (کھجور کے درخت) کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمزدہ نہ ہو۔ تمہارے پروردگار نے تمہارے پاؤں تلے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے (24:19)

Detail Consult : 19:25 23:50 Page 1096

وللتفصيل راجع ١٩ مريم: ٢٥: ٢٣ المؤمنون: ٥٠: الصفحة ١٠٩٦

تفصیل کیلئے دیکھئے 25:19 50:23 صفحہ 1096

JESUS (EISA) (PBUH) THE CHRIST
THE MESSIAH A BREATHED
SPIRIT OF ALLAH (SWT) (RUH-ULLAH)

عیسیٰ علیہ السلام
 (الروح (روح اللہ))

حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 (روح اللہ)

And (remember Mary) she who was chaste, therefore We breathed into her (something) of Our spirit and made her and her son a token for (all) people. (21:91)

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾
 ﴿٢١ الانبياء ٩١﴾

مریم کو بھی یاد کرو وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور خود اسے اور اس کے بیٹے کو اہل عالم کے لئے نشانی بنا دیا (91:21)

And Mary, daughter of Imran, whose body was chaste, therefore We breathed therein Our Spirit. And she confirmed the Words of her Lord and His Scriptures, and was of the obedient servants. (66:12)

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَنَاتِ ﴿١٢﴾
 ﴿٦٦ التحريم ١٢﴾

در (مثال بیان فرمائی) مریم بنت عمران کی جس نے اپنی مہر گاہ کی حفاظت کی تھی۔ تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور عبادت گزار لوگوں میں سے تھی (12:66)

More Reference : 17:58 19:17
 Page 856, 1093

وللتفصيل راجع ١٧ الإسراء (ص ٨٥٨) ١٩ مريم ١٧: الصفحة ٨٥٦, ١٠٩٣

تفصيل کیلئے دیکھئے 17:19 58:17
 صفحہ 1093, 856

DIVINE INSPIRATION TO MARY (PBUH) ABOUT BESTOWING OF MIRACLES AND BOUNTIES ON HER SON JESUS (PBUH)

بشرت مریم علیہا السلام أن الله سيرزقها ابنا يكون نبيا ويأتي بآيات من الله تعالى ويمن الله تعالى عليه بأنعمه

مریم علیہا السلام کو ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پر معجزات اور انعامات رب تعالیٰ کے نزول کی بشارت

He will speak to mankind in his cradle and in his manhood, (in maturity) and he shall be of the righteous. (3:46)

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿٤٦﴾
 ﴿٣ آل عمران ٤٦﴾

اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی (دونوں حالتوں میں) لوگوں سے (یکساں) گفتگو کرے گا اور ایک مرد صالح میں ہوگا (46:3)

And Allah will teach him the Book and Wisdom, and the Torah and the Gospel. (3:48)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾
 ﴿٣ آل عمران ٤٨﴾

اور اللہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا (48:3)

And Allah will appoint him a messenger to the Children of Israel, (saying): I come to you with a Sign from your Lord. I fashion for you out of clay the likeness of a bird, and I breath into it and it is a bird, by Allah's permission. I heal him who was born blind, and the leper, and I raise the dead, by Allah's permission. And I declare to you what you eat and what you store up in your houses. Herein certainly is a portent for you, if you are (true) believers. (3:49)

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنحَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾
 ﴿٣ آل عمران ٤٩﴾

اور جب (عیسیٰ) نبی اسرائیل کی طرف پیغمبر (ہو کر جائیں گے اور کہیں گے) کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ تمہارے سامنے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے (بچ بچ) پرندہ بن جاتا ہے۔ اور مادر زاد (پیدائشی) اندھے اور کوڑھ والے کو تندرست کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں۔ اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تمہیں بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لئے (قدرت اللہ کی) کافی نشانی ہے (49:3)

NATURAL LABOR BY MARY (PBUH) DURING THROES OF CHILD BIRTH (HER COMPELLING TO CLING A PALM TREE FOR SUPPORT)

تحملت مریم آلام المخاض عند ولادة عیسیٰ فاستندت إلى جذع النخلة

پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کے وقت مریم علیہا السلام کو زچگی کی تکلیف کا فطری عمل مجبور کے تھے کا سہارا لینا

For Detail Consult next Page

وللتفصيل راجع الصفحة الایة

تفصيل کے لیے دیکھئے اگلا صفحہ

ALLAH (SWT) PROVIDED MARY (PBUH) WITH UNSEEN PROVIDENCE-A RIVULET (SPRING) OF WATER FROM THE GROUND AND FRESH RIPE DATES FROM THE TREE

And the pangs of childbirth drove her to the trunk of the palm tree. She exclaimed (in her anguish) Oh, would that I had died before this and had become a thing forgotten! (19:23)

Then (one) Voice called out to from beneath the (palm tree), saying: Grieve not! Your Lord has provided a rivulet (running) beneath you, (19:24)

And shake the trunk of the palm tree towards you, It will drop fresh ripe dates upon you. (19:25)

And We made the son of Mary and his mother a sign, and We gave them a high ground of lasting restfulness and unsullied spring. (23:50)

أَجْرَى اللَّهُ تَعَالَى سَرِيًّا تَحْتَهَا
وَوَفَّرَ لَهَا رَطْبًا عَلَيَّ نَخْلَةٍ بِقَرْبِ مَنَاهَا

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ
يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿١٩﴾
﴿١٩ مريم ٢٣﴾

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِينَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ
تَحْتِكَ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾
﴿١٩ مريم ٢٤﴾

وَهَزَّيْنِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ
رَطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾
﴿١٩ مريم ٢٥﴾

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى
رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾
﴿٢٣ المومنون ٥٠﴾

اللہ تعالیٰ کا مریم علیہا السلام کے لئے (رزق) زمین سے پانی کا چشمہ اور درخت سے تازہ کھجوروں کا انتظام فرمادینا

پھر زچگی کی تکلیف (دردزہ) نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ اور کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مرجانی اور میرا نام و نشان نہ رہتا (23:19)

اور اس وقت ان کے نیچے (کھجور کے درخت) کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمزدہ نہ ہو۔ تمہارے پروردگار نے تمہارے پاؤں تلے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے (24:19)

اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی (25:19)

اور ہم نے مریم کے بیٹے (عیسیٰ) اور ان کی ماں کو (اپنی) نشانی بنایا تھا اور انہیں ایک اونچی جگہ پر جو (اطمینان سے) رہنے کے لائق تھی اور جہاں (نقرا ہوا) پانی جاری تھا پناہ دی تھی (50:23)

MARY (PBUH) UNDER VOW (KEEPING FAST OF ABSTINENCE) FROM SPEECH WITH ANY MORTAL

Do not eat and drink and let your eyes be gladdened and if you meet any mortal, convey this to him: I have vowed a fast to Allah the beneficent, and may not speak (abstain from speech) this day to any mortal. (19:26)

صيام مريم عليها السلام من الكلام

فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا قَامًا تَرِيْنَ
مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا اَفَقُولِيْ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ
صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾
﴿١٩ مريم ٢٦﴾

مریم علیہا السلام کا چپ کا روزہ

پس تم چین سے کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لئے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی (26:19)

PUBLIC APPEARANCE OF MARY (PBUH) WITH HER BABY JESUS (PBUH) AND PEOPLE'S FALSE ACCUSATIONS OF UNCHASTITY AND DISREGARDS OF THE NAME OF PROGENITORS AGAINST HER AND SHE POINTED TO THE NEWBORN BABY

And because of their disbelief and their uttering against Mary a false charge. (4:156)

بہتان القوم علی مريم عليها السلام
وإشارة مريم عليها السلام إلى المولود

وَيُكْفِّرُ هُمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾
﴿٤ النساء ١٥٦﴾

مریم علیہا السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر لوگوں کے پاس آنا اور قوم کا ان کی کردار کشی کرنا اور مریم علیہا السلام پر خاندان کی آبرو کی حفاظت نہ کرنے کے الزامات لگانا اور مریم کا نوزائیدہ بچے (عیسیٰ) کی طرف اشارہ کرنا

اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بڑا بہتان باندھنے کے سبب (156:4)

At length she brought child to her own folk, carrying him. (in her arms) They said: O Mary! You have come with an amazing thing. (19:27)

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ
شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

﴿١٩ مريم ٢٧﴾

آخر کار پھر وہ عیسیٰ کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں۔ وہ سب کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے بڑی بڑی حرکت کی ہے (27:19)

Oh sister of Aaron! Your father was not a wicked man nor was your mother a harlot (unchaste woman). (19:28)

يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا
كَانَتْ أُمُّكَ بَعْثًا ﴿٢٨﴾

﴿١٩ مريم ٢٨﴾

اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی بدخصلت آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی (28:19)

Then she pointed to the baby. They said, how can we talk to child who is in the cradle? (19:29)

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي
الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

﴿١٩ مريم ٢٩﴾

تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو سب کہنے لگے کہ بھلا ہم اس گود کے بچے سے کیسے بات کریں (29:19)

BABY JESUS (PBUH) YET PARADING IN MARY'S (PBUH) ARMS SPOKE BY MIRACLE TO DEFEND HIS MOTHER AGAINST FALSE ACCUSATIONS AND PROCLAIMED HIS (DIVINE SELECTED) PROPHETHOOD

إجابة المولود عن أمه
وتصديق نبوته على سبيل الإعجاز

مریم علیہا السلام کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کا بول اٹھنا اور قوم کے جھوٹے الزامات کی تردید اور اپنی نبوت کی خود تصدیق کر دینا

Said child: I am indeed a servant of Allah. He has given me the Scripture and has appointed me a Prophet, (19:30)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

﴿١٩ مريم ٣٠﴾

(بچے نے) کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے (30:19)

And has made me blessed wheresoever I may be, and has enjoined upon me prayer and almsgiving so long as I remain alive, (19:31)

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

﴿١٩ مريم ٣١﴾

اور میں جہاں ہوں (اور جس حال میں ہوں) مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے (31:19)

And (has made me) dutiful towards my mother, and has not made me arrogant, unblest. (19:32)

وَبَرًّا بِوَالِدَاتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

﴿١٩ مريم ٣٢﴾

اور (مجھے) اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا (بنایا ہے) اور سرکش و بد بخت نہیں بنایا (32:19)

Peace so on me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive (again)! (19:33)

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ
أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

﴿١٩ مريم ٣٣﴾

اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام (ورحمت) ہے (33:19)

JESUS (PBUH) - THE SON OF MARY (PBUH)

عیسیٰ علیہ السلام
بن مریم علیہا السلام

عیسیٰ علیہ السلام (ابن مریم علیہا السلام)

Such was Jesus, son of Mary: (this is) a statement of the truth concerning which they doubt (dispute). (19:34)

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾

﴿١٩ مريم ٣٤﴾

یہی عیسیٰ ابن مریم کا صحیح واقعہ ہے (اور یہ) سچی بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں (34:19)

It befits not (the Majesty of) Allah that He should take to Himself a son. Glory be to Him! When He determines upon some matter, He says to it only: Be! and it is. (19:35)

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰنَهُ
إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾

﴿١٩ مريم ٣٥﴾

اللہ کو زیب نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ذات ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بس یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے (35:19)

JOHN (PBUH) (THE BAPTIST) WAS CONFORMER OF JESUS (PBUH)

جان یحییٰ علیہ السلام مصلدا
بکلمة الله تعالى المسيح
بن مریم علیہا السلام

یحییٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی تعلیمات کی تصدیق کرنا

For Detail Consult : 3:39 Page 1083

والتفصیل راجع ٣ آل عمران ٣٩ الصفحة ١٠٨٣

التفصیل کیلئے دیکھئے 3:39 صفحہ 1083

For Detail Consult : Chapter of John (PBUH) Page : 1090

والتفصیل راجع باب یحییٰ علیہ السلام الصفحة ١٠٩٠

تفصیل کیلئے دیکھئے باب حضرت یحییٰ علیہ السلام صفحہ 1090

**JESUS (PBUH) CHOSEN TO PREACH
THE CHILDREN OF ISRAEL**

For Detail Consult : 3:49 61:6
Page 1095, 599

بعث عیسیٰ علیہ السلام الی
بنی اسرائیل لیرشدہم

وللتفصیل راجع ۳ آل عمران: ۴۹ ۶۱ الصف: ۶
الصفحة ۱۰۹۵، ۵۹۹

عیسیٰ علیہ السلام قوم نبی اسرائیل کی
ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے

تفصیل کیلئے دیکھئے 3:49 61:6
صفحة 599, 1095

**ALLAH (SWT) HAS BESTOWED
PEACE UPON JESUS (PBUH)**

For Detail Consult : 19:33 Page 1097

سلام ورحمة من الله تعالى
علی عیسیٰ علیہ السلام

وللتفصیل راجع ۱۹-مریم: ۳۳ الصفحة ۱۰۹۷

اللہ تعالیٰ کی طرف سے
عیسیٰ علیہ السلام پر سلام اور رحمت

تفصیل کیلئے دیکھئے 19:33 صفحه 1097

**JESUS (PBUH) WAS KIND, LOVING,
OBEDIENT AND HUMBLE TO HIS MOTHER**

And (has made me) dutiful towards
my mother, and has not made me
arrogant, unblest. (19:32)

کان عیسیٰ علیہ السلام بربا بوالدته
ومحبا لها ومطیعا وخادما

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿۱۹﴾
﴿۱۹ مریم ۳۲﴾

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے نیک سلوک
(محبت واطاعت وخدمت) کرنے والے

اور (مجھے) اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا
(بنایا ہے) اور سرکش و بد بخت نہیں بنایا (32:19)

**JESUS (PBUH) ATTESTED
THE TEACHINGS OF TORAH**

I have come to you to attest the
Torah (truth of) which was before
me and to make lawful some of that
which was (afore time) forbidden to
you. I come to you with a Message
from your Lord, so fear Allah and
obey me. (3:50)

تصدیق عیسیٰ علیہ السلام التوراة

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا
حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ
جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاطِيعُونَ ﴿۵۰﴾

﴿۳ آل عمران ۵۰﴾

عیسیٰ علیہ السلام کا تعلیمات
تورات کی تصدیق کرنا

اور مجھ سے پہلے جو تورات (نازل ہوئی) تھی اس کی بھی
تصدیق کرتا ہوں اور (میں) اس لئے بھی (آیا ہوں)
کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں انہیں تمہارے لئے
حلال کر دوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے
نشانی (پیغام) لے کر آیا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا
مانو (3:50)

It is Allah Who is my Lord and your
Lord, so worship Him only. That is
the straight way. (3:51)

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيمٌ ﴿۵۱﴾

﴿۳ آل عمران ۵۱﴾

کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی
کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے (3:51)

**ALLAH (SWT) VOUCHSAFED
GOSPEL (INJIL) TO JESUS (PBUH)**

We inspire you as We inspired Noah
and the prophets after him, as We
inspired Abraham and Ishmael and
Isaac and Jacob and the tribes, and
Jesus and Job and Jonah and Aaron
and Solomon, and as We imparted
to David the Psalms; (4:163)

أوتی عیسیٰ علیہ السلام
الإنجیل المقدس

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَى وَيُوسُفَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿۱۶۳﴾ ﴿۴ النساء ۱۶۳﴾

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَ
آتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَتُورًا وَمُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۴۶﴾ ﴿۵ المائدة ۴۶﴾

And We sent Jesus, son of Mary, to
follow in their footsteps, confirming
that which was (revealed) before him
Torah, and We bestowed on him the
Gospel wherein is guidance and a
light, confirming that which was
(revealed) before it in the old
Testament a guidance and a lesson for
those who fear Allah. (5:46)

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام
کو انجیل مقدس عطا کی

(اے محمد) ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے
جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی
تھی۔ اور ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد
یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان
کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور
بھی عنایت کی تھی (4:163)

پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد (انہی کے نقش قدم پر)
عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی
تورات کی تصدیق کرتے تھے اور انہیں انجیل عنایت کی
جس میں ہدایت اور نور تھا اور وہ تورات کی جو اس سے
پہلی (کتاب) ہے تصدیق کرتی تھی اور پارسا لوگوں
کے لئے وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ (5:46)

More Reference : 2:253 3:48,50 5:110
Page 1100 247,594 1099

وللمزيد راجع ۲ البقرة: ۲۵۳ ۳ آل عمران: ۴۸، ۵۱
۵ المائدة: ۱۱۰ ۱۹ مریم: ۳۰ ۴۳ الزخرف: ۳

110:5 50,48:3 253:2 مزید حوالہ
1099 247,594 1100 صفحہ
63:43 30:19
1100 605

MIRACLES AWARDED TO JESUS (PBUH)	معجزات عیسیٰ (علیہ السلام)	معجزات عیسیٰ علیہ السلام
GIVING LIFE TO THE SPIRITUALLY DEAD PERSONS BY ALLAH'S (SWT) WILL (RASING TH DEAD TO LIFE BY ALLAH'S PERMISSION)	إحياء ه الموتى بإذن الله تعالى	اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ روح کو زندہ کرنا
PREACHING FROM INFANCY (SPOKE TO PEOPLE FROM THE CRADLE AS GROWN-UP)	تكلم الناس فى المهد و كهلا	ماہ کی گود (زمانہ شیرخواری) میں کلام (تبلیغ) کرنا
HEALING OF BORN BLINDS, REGENERATION OF PEOPLE WHO WERE BLIND TO TRUTH	إبراء ه الأكمه بإذن الله تعالى	پیدائشی اندھے کو بینائی دینا
CURING THE LEPER BY ALLAH'S (SWT) WILL	إبراء ه الأبرص والأجذم بإذن الله تعالى	جذام اور کوڑھے کے مریض کو صحت یاب کر دینا
CREATING SHAPE OF BIRD OUT OF CLAY AND BREATHING INTO IT MAKING A FLYING BIRD, BY ALLAH'S (SWT) WILL	خلقه من الطين كهيئة الطير ونفخه فيها و تبدله طيرا بإذن الله تعالى	مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارنے سے ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جان پڑ جانا
DECLARING WHAT ONE HAS EATEN AND WHAT IS STORED	إخباره بما أكل الناس وما ادخروه فى بيوتهم	یہ بتا دینا کہ کسی انسان نے کیا کھایا کتنا کھایا اور کتنا بچا کر چھوڑ دیا

Then Allah will say O Jesus, son of Mary! Recount My favours to you and to your mother; how I strengthened you with the Holy Spirit, so that you could speak to mankind in the cradle as in maturity; and how I taught you the Book and Wisdom and the Torah and the Gospel; and how you did shape of clay as it were the likeness of a bird by My permission, and did breath into it and it was a bird by My permission, and you did heal him who was born blind and the leper by My permission; and how you did raise the dead, by My permission and how I restrained the Children of Israel from (harming) you when you came to them with clear proofs, and those of them who disbelieved exclaimed: This is nothing else than a mere magic; (5:110)

إذ قال الله يعيسى ابن مريم اذ كرت نعمتي عليك وعلى والدتك إذ آتيتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد و كهلا و اذ علمت الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل و اذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى و اذ تخريج الموتى بإذنى و اذ كففت بنى اسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ﴿١١٠﴾

تب اللہ (عیسیٰ سے) ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کئے جب میں نے روح القدس (یعنی جبرئیل) سے تمہاری تائید کی تم ماں کی گود میں اور جوان ہو کر (ایک ہی طرز پر) لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا اور مادر زاد اندھے اور کوڑھی جزام کو میرے حکم سے صحت یاب کر دیتے تھے اور مردے کو (زندہ) کر کے کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے نبی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے تو جوان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے (110:5)

More Reference : 3:49 Page 1095

والمزید راجع ۳ آل عمران: ۴۹ الصفحة ۱۰۹۵

مزید حوالہ 49:3 صفحه 1095

JESUS (PBUH) - A HERALD OF A MESSENGER NAMED AHMAD (PBUH) (PROPHET MUHAMMAD (SAAS))

تبشیر عیسیٰ بمجئى احمد المصطفى ﷺ من بعده

عیسیٰ علیہ السلام کا احمد مصطفیٰ ﷺ کی آمد کی خوش خبری دینا

For Detail Consult : 61:6 Page 164

والتفصیل راجع ۶۱ الصف ۶: الصفحة ۱۶۴

تفصیل کیلئے دیکھئے 6:61 صفحه 164

PREACHING OF JESUS (PBUH) (TO THE PEOPLE OF INJIL - GOSPEL)

دعوة عیسیٰ علیہ السلام قومه أهل الإنجيل

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم (اہل انجیل) کو تبلیغ

Of those messengers, some of whom We have caused to excel others (We endowed with gifts some

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات

یہ پیغمبر (جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں) ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن

above others) and there are some to whom Allah spoke, while some of them He exalted (above others) in degrees; and We gave Jesus, son of Mary, clear proofs (of Allah's Sovereignty) and We supported him with the Holy Spirit. And if Allah had so willed it, succeeding generations would not have fought one with another after the clear proofs had come to them. But they wrangled, some of them believing and some disbelieving. And if Allah had so willed it, they would not have fought one with another; but Allah does what He wills. (2:253)

وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾
﴿٢ البقرة ٢٥٣﴾

سے اللہ نے گفتگو کی بعض کے (دوسرے امور میں) مرتبے بلند کئے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں۔ اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے (253:2)

Let the People of the Gospel judge by that which Allah has revealed therein. Whoso judges not by that which Allah has revealed; such are rebels. (5:47)

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾
﴿٥ المائدة ٤٧﴾

اور اہل انجیل کو بھی چاہئے کہ جو احکام اللہ نے انجیل میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں۔ اور جو اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں (47:5)

And (thus it was that Jesus always said) Indeed Allah is my Lord and your Lord. So worship Him. (alone) That is the right path. (19:36)

وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿١٩﴾
﴿١٩ مريم ٣٦﴾

اور (عیسیٰ نے کہا تھا) بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی بندگی کرو یہی سیدھا راستہ ہے (36:19)

And let not Satan turn you aside. Surely he is an open enemy for you. (43:62)

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾
﴿٤٣ الزخرف ٦٢﴾

اور (کہیں) شیطان تمہیں (اس سے) روک نہ دے۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے (62:43)

When Jesus came with clear proofs (of Allah's Sovereignty), he said: I have come to you with Wisdom, in order to make you clear some of the points on which you differ. So fear Allah, and obey me. (43:63)

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٦٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ٦٣﴾

اور جب عیسیٰ معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس دانائی (کی کتاب) لے کر آیا ہوں۔ اور اس لئے آیا ہوں کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو (63:43)

More Reference : 3:51 4:172 5:72, 1098 605 605
S:115,116,117 19:30
1102,606 605

والمزيد راجع ٣ آل عمران: ٥١ ٤ النساء: ١٧٢
٥ المائدة: ٧٢-١١٥-١١٦-١١٧ ١٩ مريم: ٣٠
الصفحة ١٠٩٨, ٦٠٥, ١١٠٢, ٦٠٦

مزيد حوالہ 117,116,115,72,5 172:4 51:3
صفحہ 606,1102,605 605 1098
30:19
605

DISCIPLES OF JESUS (PBUH) SURRENDERED TO THE WILL OF ALLAH (SWT) AND BECAME BELIEVERS

ایمان الحواریین
بدعوة عیسیٰ علیہ السلام

حواریوں کے ایک گروہ کا تعلیمات
عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنا

But when Jesus became conscious of their disbelief, he said: Who will be my helpers in the cause of Allah? The disciples said: We will be Allah's helpers. We believe in Allah, and bear you witness that we have surrendered to Allah. (3:52)

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾
﴿٣ آل عمران ٥٢﴾

جب عیسیٰ نے نبی اسرائیل کی طرف سے نافرمانی (اور نیت قتل) محسوس کر لی تو کہنے لگے کہ اللہ کا طرف دار اور میرا مددگار کون کون ہے۔ حواری بولے کہ ہم اللہ کے (طرف دار اور آپ کے) مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم اللہ کے آگے سراطاعت جھکا دینے والے ہیں فرمانبردار ہیں (52:3)

Our Lord! We believe in that which You have revealed and we follow him whom You have sent. Enroll us among those who witness (to the truth). (3:53)

And when I inspired the disciples, (saying): Believe in Me and in My messenger, they said: We believe. Bear witness that we bow to Allah (surrender to You) (5: 111)

O you who believe! Be Allah's helpers, even as Jesus son of Mary said to the disciples: Who are my helpers for Allah? They said: We are Allah's helpers. And a party of the Children of Israel believed, while a party disbelieved. Then We strengthened those who believed against their 'enemies, and they became the uppermost. (61:14)

DESIRE OF DISCIPLES FOR REPAST FROM HEAVENS AS A MIRACLE FOR ASSURANCE OF ACCEPTANCE OF THEIR FAITH BY ALLAH (SWT)

When the disciples said: O Jesus, son of Mary! Is your Lord able to send down for us a table spread with food from heavens? He said: Fear Allah, if you are true believers. (5:112)

(They said:) We only wish to eat thereof, that we may satisfy our hearts and know that you have indeed spoken the truth to us, and that thereof we may be witnesses to the miracle. (5:113)

CHRIST'S (PBUH) PRAYER TO ALLAH (SWT) FOR SENDING DOWN HEAVENLY REPAST

Jesus, son of Mary, said: O Allah, Lord of us! Send down for us a table set (with viands) from heaven, that it may be an ever recurring feast for us, for the first of us and for the last of us, and a sign from You. Give us sustenance, for You are the best of Sustainers. (of all needs) (5:114)

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾
﴿٣ آل عمران ٥٣﴾

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾
﴿٥ المائدة ١١١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمْنَتْ ظَافِقَةُ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ ظَافِقَةُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿٦١﴾
﴿٦١ الصف ١٤﴾

رغبة الحواریین لنزول مائدة من السماء حتى يعلموا أن الله تعالى تقبل إيمانهم

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾
﴿٥ المائدة ١١٢﴾

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾
﴿٥ المائدة ١١٣﴾

دعاء عیسیٰ علیہ السلام لانزال مائدة من السماء

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْتُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾
﴿٥ المائدة ١١٤﴾

اے پروردگار جو (کتاب) تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور (تیرے) پیغمبر کی اتباع کی تو ہم کو گواہوں میں لکھ لے (53:3)

اور جب میں نے حواریوں کی طرف اشارہ بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ (پروردگار) ہم ایمان لائے تو گواہ رہنا کہ ہم فرمانبردار ہیں (111:5)

مومنو! تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ (بھلا) کون ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ تو نبی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر کار ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے (14:61)

حواریین عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانی دسترخوان کے نزول کے معجزہ کی درخواست تاکہ انہیں اپنے ایمان کی قبولیت کا ثبوت مل سکے

(وہ قصہ بھی یاد کرو) جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے (طعام کا) خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو (112:5)

وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم یقین کر لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس (نزول خوان کے معجزہ پر) گواہ رہیں (113:5)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا برائے نزول خوان سماوی

(تب) عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے خوشی کا موقع قرار پائے۔ اور وہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما تو بہتر رزق دینے والا ہے (114:5)

IMPOSITION OF DIVINE CONDITION OF REMAINING FAITHFUL FOR HEAVENLY REPAST WITH A WARNING OF FACING WORST PENALTY IN CASE OF REJECTING FAITH

Allah said: I will send it down for you. And whoso disbelieves of you afterward, surely I will punish him with a chastisement such as I have never punished anyone in the universe. (5:115)

أنزل الله تعالى مائدة من السماء وأندر الكافرين من بعد نزولها بعذاب شديد

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾
﴿٥ المائدة ١١٥﴾

اللہ تعالیٰ کا سماوی خوان کو حق شناسی (عقیدہ توحید) سے مشروط کرنا اور نافرمانی کرنے کی صورت میں واضح تنبیہ

اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا (5:115)

INTRICATE PLAN OF JEWS TO CRUCIFY JESUS (PBUH)

and they (the disbelievers) schemed, and Allah planned against them): and Allah is the best of planners. (3:54)

كيد اليهود المعقد لقتل عيسى المسيح عليه السلام

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾
﴿٣ آل عمران ٥٤﴾

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے (صلیب پر چڑھانے کی) سازش یہود

اور وہ (یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک) چال چلے اور اللہ نے بھی (عیسیٰ کو بچانے کیلئے) تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے (3:54)

CHRIST (PBUH) WAS NEITHER CRUCIFIED NOR KILLED BY JEWS

لم يصلب عيسى عليه السلام ولم يقتل

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ سولی پر چڑھائے گئے اور نہ قتل کئے گئے

JESUS (PBUH) WAS TAKEN UP SAFELY TO HEAVENS BY ALLAH (SWT)

and because of their saying: (in past) We slew the Christ Jesus son of Mary, Allah's messenger. They slew him not nor crucified, but it appeared so to them; and those who disagree concerning it are in doubt thereof; they have no certain knowledge thereof except pursuit of conjecture; and certainly they slew him not. (4:157)

وقاية عيسى عليه السلام بن مريم من الصلب بقدرة الله تعالى ورفعته إلى السماء

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾
﴿٤ النساء ١٥٧﴾

اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھالینا

اور یوں کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر (کہلاتے) تھے قتل کر دیا ہے حالانکہ حقیقت میں انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لئے مشکوک کر دیا گیا۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ بھی دراصل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس کا مطلق علم نہیں۔ وہ محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا (157:4)

but Allah took (raised) him up to himself. Allah is ever Mighty, Wise. (4:158)

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾
﴿٤ النساء ١٥٨﴾

بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اور اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے (158:4)

CURSE OF JESUS (PBUH) ON ISRAELITES WHO DISBELIEVED

Detail Consult : 5:78 Page 605

لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان عيسى وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٧٨ الصفحة ٦٠٥

بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پر حضرت عیسیٰ کی لعنت

تفصیل کیلئے دیکھئے 5:78 صفحہ 605

PROMISE OF ALLAH (SWT) WITH JESUS (PBUH)

وعد الله تعالى بعيسى عليه السلام

اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ

RE-APPEARING OF JESUS (PBUH) IN THE LAST DAYS BEFORE RESURRECTION

and remember) when Allah said: Jesus! I will take you and cause you to ascend to Me, and am

نزول عيسى عليه السلام إلى الدنيا قرب الساعة

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب دنیا میں نزول

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ

اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہیں واپس لینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھالوں گا اور تمہیں کافروں (کی

cleansing you of those who disbelieve and shall set those who follow you above those who disbelieve until the Day of Resurrection. Then to Me you will (all) return, and I shall judge between you as to that wherein you used to differ. (3:55)

الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ
فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾
(آل عمران ٥٥)

صحبت سے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا پھر تم سب لوٹ کر میری طرف آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا (55:3)

There is not one of the People of the Book but will believe in him before his death, and on the Day of Resurrection he will be a witness against them (4:159)

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا الْيُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾
(النساء ١٥٩)

اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے (159:4)

And (Jesus) shall be a sign for the coming of the Hour of judgement. So doubt you not concerning about the Hour but follow me. This is the right path. (43:61)

وَأَنَّكَ لَعَلَّمَهُ السَّاعَةَ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ
اتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾
(الزخرف ٦١)

اور وہ (عیسیٰ) قیامت کی نشانی ہیں۔ تو (کہہ دو کہ لوگو) اس قیامت میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو۔ یہی سیدھا راستہ ہے (61:43)

JESUS (PBUH) WILL DISCLAIM ON THE FINAL DAY
THE DOGMA OF TRINITY (DISCLAIM ANY FALSE
TITLE ATTRIBUTED TO HIM OR HIS MOTHER
MARY (PBUH) WHICH CONFRONTS MONOTHEISM
AS ADOPTED BY HIS PEOPLE - CHRISTIANS)

سوف ينكر عيسى عليه السلام تعالى
يو القيامة اتخاذه الناس و أمه إلهين
من دون الله تعالى و كذلك ينكر
كل اعتقاد يخالف توحيد الله تعالى

قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے عقیدہ تثلیث کا ابطال کریں گے اور اپنے اور اپنی والدہ مریم علیہا السلام کے بارے میں ہر ایسے نظریہ کی نفی کریں گے جو توحید کے خلاف ہو

The Messiah will never disdain to be a slave to Allah, nor will the closest angels. Whoso disdains His worship and is proud, all such will He summon to Him; (4:172)

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْمِلُهُ اللَّهُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ
﴿١٧٢﴾ (النساء ١٧٢)

سچ کو اس بات سے کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور نہ مقرب فرشتے (عار رکھتے ہیں) اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور تکبر اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا (172:4)

They surely disbelieve who say : Allah is the Messiah, son of Mary. The Messiah (himself) said: O Children of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord. Whoso ascribes partners to Allah, for him Allah has forbidden Paradise. His abode is the Fire. For evildoers there will be no supporters. (5:72)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ
مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا
اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ
النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾
(المائدة ٧٢)

وہ لوگ بلاشبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے (عیسیٰ) مسیح اللہ ہیں۔ حالانکہ خود مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی (اور جان رکھو کہ) جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ اس پر بہشت حرام کر دے گا۔ اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (72:5)

For Detail Consult : 5:115,116,117,118

والتفصيل راجع ٥ المائدة: ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨

تفصیل کیلئے دیکھئے 5: 115, 116, 117, 118

Page 1102, 606

الصفحة 606, 1102

صفحة 606, 1102

FALSE DOGMAS OF CHRISTIANITY

معتقدات النصری الباطلة

مسیحیت (در سبب بیسائمت) کے غلط عقائد

REPUDIATION OF DOCTRINE OF TRINITY IN CHRISTIANITY

ابطال نظریة الأقانیم الثلاثة

اقانیم ثلاثہ - مسیحیت کے تین خداؤں کے نظریہ کا رد و ابطال

JESUS (PBUH) WAS JUST A MAN SON OF MARY (PBUH) AND ONLY A MESSENGER OF ALLAH (SWT)

كان المسيح عيسى بن مريم بشرا عبد الله ورسوله

حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض ایک انسان مریم علیہا السلام کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے

O People of the Book! Do not exaggerate in your religion nor utter anything concerning Allah except the truth. The Christ, Jesus son of Mary, was only a messenger of Allah, and His Word, which He conveyed to Mary, and a Spirit from Him. So believe in Allah and His messengers, and say not "Three". Desist! (it is) better for you! Allah is only One (Unique) Glory to Him (for exalted is He) that He should have a son. His is all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allah is a disposer of affairs. (4:171)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۚ إِنَّهُمْ خَيْرٌ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

اے اہل کتاب اپنے دین (کی بات) میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح (یعنی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے بلکہ) اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ (کن سے پیدا شدہ) ہیں جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور (یہ) نہ کہو کہ اللہ تین (ہیں اس اعتقاد سے) باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے۔ اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اور اللہ ہی کارساز کافی ہے (4:171)

And when the son of Mary (Jesus) is quoted as an example, your folk laughed out, (43:57)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾

اور جب مریم کے بیٹے (عیسیٰ) کی مثال بیان کی گئی تو تمہاری قوم کے لوگوں نے غل (شور) مچا دیا (57:43)

And say: Are our gods better, or is he? They raise not the objection except for argument. But they are a contentious folk. (43:58)

وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدًّا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾

اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ (عیسیٰ)؟ آپ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو (58:43)

He was not more than a mortal on whom We bestowed favour, and We made him a pattern for the Children of Israel. (43:59)

إِنَّهُ هُوَ إِلَّا عِبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾

عیسیٰ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور نبی اسرائیل کے لئے ان کو (اپنی قدرت کا) نمونہ بنا دیا (59:43)

And had We willed We could have set among you angels to be viceroys in the earth. (43:60)

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ فَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾

اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے (60:43)

THE COMPANIONS OF THE CAVE
100 YEARS B.C.

اصحاب الكهف
۱۰۰ عام قبل المسیح

اصحاب كهف
100 سال قبل مسیح

**TAKING REFUGE IN A CAVE,
FEARING PERSECUTION
AND VIOLENCE OF THE HEATHENS**

Or deem you that the People of the Cave and the Inscription were a wonder among Our signs? (18:9)

We relate to you their story with truth. They were young men who believed in their Lord, and We increased them in guidance. (18:13)

**MYSTERY OF NUMBERS
OF THE SLEEPERS OF THE CAVE**

(Some) will say: They were three, their dog the fourth, and (some) say: Five, their dog the sixth, guessing at random; and (some) say: Seven, and their dog the eighth. Say (O Muhammad): My Lord is best aware of their number. None knew them except a few. So enter not therefore, into controversies concerning them, except on a matter that is clear nor consult any of them about (the affair of) the sleepers. (18:22)

**PROCLAIMING MONOTHEISM BEFORE
THEY BETOOK TO THE CAVE**

And We made firm their hearts when they stood forth and said: Our Lord is the Lord of the heavens and the earth. We cry to no god besides Him, for then should we utter an enormity. (18:14)

These, our people, have chosen for worship (other) gods besides Him though they bring no clear authority (and convincing) to them. And who does greater wrong than he who invents a falsehood concerning Allah? (18:15)

**إِوَاءَهُمْ إِلَى الْكَهْفِ
خَوْفًا مِنَ الْحُكَّامِ الْمُشْرِكِينَ**

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيعِ
كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾
﴿١٨ الكهف ٩﴾

مَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ
أَمْنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾
﴿١٨ الكهف ١٣﴾

قياس عدد اصحاب الكهف

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ
سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
وَنَامْنَاهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ
كَأَيِّكُمْ إِلَّا لِقَلِيلٍ فَمَا تُمَارِقُهُمْ إِلَّا مِرَاءً
ظَاهِرًا أَوْ لَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾
﴿١٨ الكهف ٢٢﴾

إعلان اصحاب الكهف بالتوحيد

وَرَبُّنَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالُوا فَمَا قَالُوا رَبُّنَا
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ
إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ أَشْطَطْنَا ﴿١٤﴾
﴿١٨ الكهف ١٤﴾

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَوْلَا يُاتُونَ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ مِنْ رَبِّكَ فَهُمْ لَكَاظِمٌ مِمَّنْ آفْتَرَى
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾
﴿١٨ الكهف ١٥﴾

**مشرکین حکام وقت کے ظلم کے خوف سے
(اصحاب کہف کا) غار میں پناہ گزین ہونا**

کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح (کتبے) والے
ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے (9:18)

ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں وہ چند نو
جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم
نے ان کو ہدایت میں ترقی دی تھی (13:18)

اصحاب کہف کی تعداد کا اندازہ

کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے (اور)
چوتھا ان کا کتا تھا اور (بعض) کہیں گے کہ وہ پانچ تھے
(اور) چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور بعض کہیں گے کہ وہ سات
تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ یہ سب غیب کی باتوں میں
انگل کے تیر چلاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار
ہی ان کی تعداد سے خوب واقف ہے ان کو بہت تھوڑے
ہی لوگ جانتے ہیں تو آپ ان (کے معاملے) میں
صرف سرسری سی گفتگو ہی کریں۔ اور ان کے بارے میں
ان میں سے کسی سے کچھ دریافت بھی نہ کریں (22:18)

**اصحاب کہف کا غار میں
جانے سے پہلے اعلانیہ تبلیغ توحید**

اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط (یعنی مضبوط) کر دیا تھا
جب وہ (اٹھ) کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا
پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ہم
اس کے سوا کسی کو معبود (سمجھ کر) نہ پکارتے گے (اگر ایسا
کیا) تو اس وقت ہم نے نہایت غلط بات کہی (14:18)

ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے
ہیں۔ بھلا یہ ان (کے اللہ ہونے) پر کوئی کھلی دلیل کیوں
نہیں لاتے۔ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر
جھوٹ باندھے (15:18)

And when you turn away from them and that which they worship except Allah, then seek refuge in the Cave; your Lord will shower His mercy on you and will dispose of your affair towards comfort and ease. (18:16)

وَإِذِ اعْتَرَزْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ
فَأْوَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَيُخَيِّرْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴿١٦﴾
﴿١٨ الكهف ١٦﴾

اور جب تم نے ان (مشرکوں) سے اور ان کے جھوٹے معبودوں سے کنارہ کر لیا ہے تو کسی غار میں جا بیٹھو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لئے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی (کے سامان) مہیا کرے گا (16:18)

For, if they should come to know of you, will stone you or turn you back to their religion; then you will never prosper. (18:20)

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ
فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾
﴿١٨ الكهف ٢٠﴾

اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ یا پھر تمہیں اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے (20:18)

WHILE ENTERING A CLEFT THEY PRAYED ALLAH (SWT) FOR BESTOWING HIS GRACE

دعاء ہم عند إواءهم إلى الكهف
لرحمة الله تعالى

غار میں داخلہ کے وقت اصحاب کہف کی
اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا

When the young men fled for refuge to the Cave and said: Our Lord! Bestow on us mercy from Your presence and dispose of our affair for us in the right way. (18:10)

إِذْ أَوْى الْعَتِيَّةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا
مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾
﴿١٨ الكهف ١٠﴾

جب وہ جوان غار میں جا رہے تھے تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما۔ اور ہمارے کام میں درستی (کے سامان) مہیا کر (10:18)

THEIR BEING SAFE FROM THE INTENSITY OF WEATHER

وقايتهم من شدة الحر في الغار

اللہ تعالیٰ کا اصحاب کہف کو
غار میں موسم کی شدت سے محفوظ رکھنا

And you might have seen the Sun when it rose, move away from their Cave to the right, and when it set go east them on the left, and they were in the cleft thereof. such are among the portents of Allah. (18:17) PART

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ
ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ
الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ
﴿١٨ الكهف ١٧﴾ جزء

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ (دھوپ) ان کے غار سے داہنی طرف سمت جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ غار میں کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ (17:18)

THEY WERE LULLED TO SLEEP FOR CENTURIES BY THE DIVINE GRACE

رقادهم من الله تعالى إلى وقت معين

اللہ تعالیٰ کا ایک طویل عرصہ کے لئے
ان کو گہری نیند (سوئے ہوئے رہنے) دینا

Then We sealed up their hearing in the Cave for a number of years. (18:11)

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾
﴿١٨ الكهف ١١﴾

تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر (نیند کا) پردہ ڈالے (یعنی ان کو سلائے) رکھا (11:18)

And afterward We raised them up that We might know which of the two parties would best calculate the time that they had tarried. (18:12)

ثُمَّ بَعَثْنَاَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا
لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾
﴿١٨ الكهف ١٢﴾

پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ (غار میں) رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے (12:18)

DOG(QITMIR) OF THE MEN OF THE CAVE

كلب أصحاب الكهف (قطمير)

اصحاب کہف کا کتا (قطمیر)

And you would have deemed them sleeping though they were asleep, and We caused them to turn over to the right and the left, and their dog stretching out his paws (two fore legs) on the threshold. If you had observed them closely you had assuredly turned away from them in flight, and had certainly been filled with terror of them. (18:18)

وَتَحْسَبُهُمْ آيْقَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ
ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ
ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ
لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعبًا ﴿١٨﴾
﴿١٨ الكهف ١٨﴾

اور آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلایا کرتے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ (18:18)

THEIR RISING UP (AWAKENING) AFTER REMAINING ASLEEP FOR SOME GENERATIONS

And in like manner We awakened them that they might question one another. One from among them said: How long have you tarried? They said: We have tarried a day or some part of a day, (Other) said: Your Lord knows best, how long you have tarried. Now send one of among you with this silver coin to the town, and let him see what food is purest there and bring some to you (that you may satisfy your hunger there with). And let him behave with care and courtesy and let no man know of you. (18:19)

THEY TARRIED IN THE CAVE FOR 309 LUNAR YEARS

So they tarried in their Cave three hundred years and nine more. (18:25)

Say: Allah is best Aware how long they tarried. He holds the (knowledge of) secrets of the heavens and the earth. How clear of sight is He and keen of hearing! They have no protecting friend besides Him, and He makes none to share in His government. (18:26)

PROPOSALS OF THE TOWN FOLK FOR BUILDING SOME SORT OF MEMORIAL AT THE CAVE SPOT

And in like manner We disclosed them (to the people of the city) that they might know that the promise of Allah is true, and that, as for the Hour, there is no doubt concerning it. When (the people of the city) disputed of their case among themselves, they said: Build over them a building; their Lord knows best concerning them. Those who prevailed over the affair said: We shall build a place of worship (Mosque) over them. (18:21)

استيقاظ اصحاب الكهف بعد زمن

وَكذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ ط قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ط قَالُوْا الْيَوْمَ نَآءُومًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ط فَاذْعَبُوْا اَحَدٌ كُمْ يُوْرِقُكُمْ هٰذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرُوْا اَيُّهَا اَزْكَى ط عَا مَا فَلَآئِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلِيَتَلَطَّفَ وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٨﴾ الكهف ١٩ ﴿﴾

مدة لبث اصحاب الكهف ثلاث مائة وتسع سنين

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَاَزْدًا دُوًّا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ الكهف ٢٥ ﴿﴾

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا اَلَمْ يَعْلَمِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَبْصَرُ بِهٖ وَاَسْمِعُ مَا لَمْ يَمِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلٰىءٍ وَلَا يَشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖ اَحَدًا ﴿٢٦﴾ الكهف ٢٦ ﴿﴾

اقتراح الناس لبناء مبنی تذکاري علی الكهف

وَكذٰلِكَ اَعْتَرٰنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْا اَنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَاَنْ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا اِذْ يَتَنٰزَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرُهُمْ فَعَالُوْا الْبُتُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿٢١﴾ الكهف ٢١ ﴿﴾

اصحاب كهف کا ایک زمانے کے بعد بیدار ہونا

اور اسی طرح ہم نے ان کو جگا کر اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم (یہاں) کتنی مدت رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو وہ دیکھے کہ پاکیزہ تر کھانا کونسا ہے۔ تو اس میں سے کچھ لے آئے اور بہت احتیاط اور نرمی برتتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ (19:18)

اصحاب کہف کی مدت قیام 309 سال

اور اصحاب کہف اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو سال اور زیادہ گزارے (25:18)

آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں (معلوم) ہیں۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے (26:18)

اصحاب کہف والی غار کی جگہ یادگار عمارت تعمیر کرنے کی تجاویز

اور اسی طرح ہم نے (لوگوں کو) ان (کے حال) سے آگاہ کر دیا۔ تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور یہ کہ قیامت (جس کا وعدہ کیا جاتا ہے) اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم اختلاف کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ ان (کے غار) پر عمارت بنا دو ان کا پروردگار ان (کے حال) سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان (کے غار کے آس پاس) پر مسجد (عبادت گاہ) بنائیں گے (21:18)

**THE PEOPLE OF THE GARDEN
(SANNA YEMEN)**

اصحاب الجنة

باغ والوں کی آزمائش

TEST OF THE PEOPLE OF THE GARDEN

We have tried them as We tried the owners of the garden when they resolved, they would pluck the fruit of the garden next morning. (68:17)

ابتلاء اصحاب الجنة

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾
﴿٦٨ القلم ١٧﴾

باغ والوں کی آزمائش

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کی آزمائش کی تھی۔ جب انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کے پھل توڑیں گے (17:68)

**OUT MATH OF NOT SAYING (INSHA-ALLAH)
"IF ALLAH (SWT) SO WILLS"
WHILE CHALKING OUT A PLAN**

And made no reservation (if it be the will of Allah); (68:18)

عاقبة عدم الاعتماد على الله عند إرادة لعمل (أى عدم قول ان شاء الله)

کام کی منصوبہ بندی (ارادہ) کرتے وقت ان کا ان شاء اللہ نہ کہنے کا انجام

When a visitation came upon the garden from your Lord. Which swept away all around while they slept (68:19)

وَلَا يَسْتَشْنُونَ ﴿١٨﴾
﴿٦٨ القلم ١٨﴾

اور ان شاء اللہ نہ کہا (اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے) (18:68)

So the (garden became) by the morning, like a dark and desolate spot (whose fruit had been gathered). (68:20)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾
﴿٦٨ القلم ١٩﴾

سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے (راتوں رات) اس (باغ) پر ایک آفت پھر گئی (19:68)

SCHEME OF THE OWNERS OF THE GARDEN TO CHEAT THE POOR OF THEIR JUST RIGHT AND DEFAUDING THE GLEANERS ARTISANS AND MENIALS OF THEIR SERVICE RIGHTS AND FACING DESTRUCTION

As the morning broke, they cried out one to another,, (68:21)

Saying: Run to your field early morning if you want to pluck (the fruits). (68:22)

So they went off, conversing one to another in low tones: (68:23)

Let not a single indigent person break in upon you into the (garden) this day. (68:24)

They went early morning strong in unjust purpose. (68:25)

But when they saw (the garden) they said: We have surely lost our way. (68:26)

Indeed We are desolate (deprived of the fruits of our labour). (68:27)

عاقبة اصحاب الجنة بكيدهم لعدم دفعهم حق الحصيد للسائل و المحروم

باغ کے مالکان کا زرعی پیداوار سے مساکین کو حق خیرات اور مزارع ہاریوں غریب مزدوروں کو حق خدمت سے محروم رکھنے کا انجام

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾
﴿٦٨ القلم ٢١﴾

جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے (21:68)

أَنْ اَعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾
﴿٦٨ القلم ٢٢﴾

کہ اگر تم کو پھل توڑنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو (22:68)

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٣﴾
﴿٦٨ القلم ٢٣﴾

چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے (23:68)

أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مُسْكِينٌ ﴿٢٤﴾
﴿٦٨ القلم ٢٤﴾

کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے (24:68)

وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾
﴿٦٨ القلم ٢٥﴾

(وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے تھے) صبح ہی وہاں جا پہنچے (گویا کھیتی پر قادر ہیں) (25:68)

فَلَبَّارًا وَّهُمَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٦٨ القلم ٢٦﴾

مگر جب باغ کو دیکھا کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں (26:68)

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾
﴿٦٨ القلم ٢٧﴾

نہیں بلکہ ہم (برگشتہ بخت) بے نصیب ہیں (27:68)

**THEY REALIZED THE NEGLIGENCE
IN REMEMBRANCE OF ALLAH (SWT)
AND REPENTED ON DEPRIVING THE POOR
FROM THEIR DUE OUT OF HARVEST**

The best among them said: Said I not to you: Why glorify you not (Allah)? (68:28)

They said: Glorified be our Lord! Certainly we have been doing wrong. (68:29)

Then some of them drew near to others, self-reproaching. (68:30)

They said: Alas for us! In truth we have transgressed. (68:31)

It may be that our Lord will give us better than this in exchange thereof. We turn to our Lord (in repentance). (68:32)

Such is the punishment (in this life). And the punishment of the Hereafter is greater if only they did but know. (68:33)

ندامتہم علی الغفلة من ذکر اللہ تعالیٰ
وعلی إهمالہم من أداء حق الحصيد

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾
﴿٦٨ القلم ٢٨﴾

قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾
﴿٦٨ القلم ٢٩﴾

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَٰوَمُونَ ﴿٣٠﴾
﴿٦٨ القلم ٣٠﴾

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طٰغِينَ ﴿٣١﴾
﴿٦٨ القلم ٣١﴾

عَلَىٰ رَبِّنَا أَن يُّبَدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾
﴿٦٨ القلم ٣٢﴾

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾
﴿٦٨ القلم ٣٣﴾

اللہ تعالیٰ کی مادی سے غفلت اور زرعی پیداوار میں
سے فقراء کا حق ادا نہ کرنے (ادائیگی عشر اور مزارع کا
حق خدمت ادا نہ کرنے) پر احساس ندامت

یک آدمی جو ان میں دانا تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں
کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ (28:68)

(تب) وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بیشک ہم
ہی قصور وار تھے (29:68)

پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا
(30:68)

آخر کار کہنے لگے ہائے ہماری شامت ہم ہی حد سے بڑھ
گئے تھے (31:68)

مید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس
سے بہتر باغ عنایت کرے گا ہم اپنے پروردگار کی طرف
رجوع کرتے ہیں (32:68)

(دیکھو) عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس
سے بھی کہیں بڑھ کر ہے کاش! یہ لوگ جانتے ہوتے
(33:68)

**THE PEOPLE OF THE CITY
OF ANTIOCH (IN NORTH SYRIA)**

**أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ - أَصْحَابُ بَيْتِ
(بِطَانِيَّة)**

**أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ - أَصْحَابُ بَيْتِ
(شامی شام کے شہر انطاکیہ والے)**

Coin for them a similitude: The story of the people of the city when the messengers came to them; (36:13)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ
هَٰلِكَ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾
﴿٣٦ يس ١٣﴾

اور ان سے (مثال کے طور پر) گاؤں والوں کا قصہ بیان
کر وجب ان کے پاس پیغمبر آئے (13:36)

**PREACHING BY THREE MESSENGERS AND
DENIAL OF TRUTH BY THE PEOPLE OF VILLAGE**

دعوة ثلاثة رسل إلى التوحيد
ومعاملة أصحاب القرية بالاستهزاء بهم

تین پیغمبروں کی تبلیغ توحید
اور گاؤں والوں کا ان کو جھٹلانا

When We first sent to them two, (Messengers) and they denied them both, so We reinforced them with a third, and they said; truly we all have been sent on a mission to you. (36:14)

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾
﴿٣٦ يس ١٤﴾

(یعنی) جب ہم نے ان کی طرف دو (پیغمبر) بھیجے تو
انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے
لیے بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر
آئے ہیں (14:36)

The people said: You are but mortals like us. The Beneficent has nothing revealed. You do nothing but lie! (36:15)

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ
الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِن أَنْتُمْ إِلَّا كٰذِبُونَ ﴿١٥﴾
﴿٣٦ يس ١٥﴾

(گاؤں) والے بولے کہ تم (اور کچھ) نہیں مگر ہماری
طرح کے چند آدمی (ہو) اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل
نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو (15:36)

They answered: Our Lord knows that we are indeed sent on a mission to you, (36:16)

قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّكَ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾
﴿٣٦﴾ یس ١٦

انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف (پیغام دے کر) بھیجے گئے ہیں۔ (16:36)

And our duty is only the conveyance of the message. (36:17)

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾
﴿٣٦﴾ یس ١٧

اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس (ہمارے ذمہ اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں) (17:36)

MESSENGERS WERE THREATENED WITH STONING TO DEATH

(The people of the city) said: We augur an evil omen from you. If you desist not, we shall surely stone you, and grievous torture will befall you at our hands. (36:18)

تهدیدہم للرسول بالرحم

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾
﴿٣٦﴾ یس ١٨

پینچبوروں کو سنگسار کر دینے کی دھمکی

گاؤں والے بولے کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا (18:36)

They said: Your evil augury be with you! (Deem you this an evil omen) is it because you are reminded (of the truth)? No, but you are people transgressing all bounds? (36:19)

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾
﴿٣٦﴾ یس ١٩

ان پینچبوروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی اصل بات یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے بڑھ گئے ہو (19:36)

COMING OF A BELIEVER FROM OUTSKIRTS OF THE CITY ASKING THE PEOPLE TO BELIEVE IN MONOTHEISM AND FOLLOW THE TEACHINGS OF PROPHETS

مجی رجل من أقصى المدينة
وارشاده لهم للتوحيد وإطاعة الرسل

شہر کے مضافات سے ایک شخص کا آنا اور قوم کو تبلیغ توحید اور پینچبوروں کی اطاعت کیلئے کہنا

And there came from the outermost part of the city a man running. He cried: O my people! Follow the messengers. (36:20)

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾
﴿٣٦﴾ یس ٢٠

اتنے میں شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پینچبوروں کی پیروی کرو (20:36)

Obey those who ask you no reward for themselves and who are rightly guided. (36:21)

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾
﴿٣٦﴾ یس ٢١

ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں (21:36)

For what cause should I not serve Him Who has created me, and to Whom you will be brought back? (36:22)

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾
﴿٣٦﴾ یس ٢٢

اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ہستی کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے (22:36)

Shall I take (other) gods in place of Him when, if the Beneficent should wish me any harm, their intercession will avail me nothing, or can they save me? (36:23)

أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾
﴿٣٦﴾ یس ٢٣

کیا میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے۔ اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں (23:36)

When truly I should be in error manifest. (36:24)

إِنِّي إِذًا لَكَفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾
﴿٣٦﴾ یس ٢٤

پھر تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ (24:36)

I have believed in your Lord, so listen you to me! (36:25)

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿٢٥﴾
﴿٣٦﴾ یس ٢٥

میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو تم بھی میری بات مان لو (25:36)

It was said (to him): Enter you the garden (Paradise). He said: Ah me! Would that my people knew (36:26)

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾
﴿٣٦﴾ یس ٢٦

اس کو حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو خبر ہو جاتی۔ (26:36)

With what (munificence) my Lord has pardoned me and enrolled me among the honoured ones! (36:27)

بِمَا غَفَرْتُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ ﴿٣٦﴾
یس ۲۷

کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرمائی اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا (27:36)

CALAMITY OF A SINGLE MIGHTY BLAST TURNING THEM INTO ASHES AS A PENALTY OF THEIR HESITATION IN ACCEPTING THE TRUTH

And We sent not down against his people after him any host from heaven, nor was it needful for Us to do so. (36:28)

عاقبة المکذبین :
وقع عذاب الصیحة علیهم

منکرین کا انجام - ایک زوردار چیخ سے راکھ کا ڈھیر ہو گئے

It was but one Shout, and they were quenched in silent. (36:29)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٣٦﴾
یس ۲۸

اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں (28:36)

Ah, the anguish for the bondmen! Never came there to them a messenger but they did mock him! (36:30)

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَائِدُونَ ﴿٣٦﴾
یس ۲۹

وہ تو صرف ایک زوردار چیخ تھی (آتشیں دھماکہ) سو وہ (اس سے) ناگہاں بجھ کر رہ گئے (29:36)

Have they not seen how many a generations We destroyed before them, which indeed return not to them; (36:31)

يَحْسُرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٦﴾
یس ۳۰

بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس جو پیغمبر بھی آیا۔ اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ (30:36)

But all, without exception, will be brought before Us for judgement. (36:32)

الْمَیْرُوكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٦﴾
یس ۳۱

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف پھر بھی لوٹ کر نہیں آئے۔ (31:36)

وَإِنْ كُلُّ لَمَامٍ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٦﴾
یس ۳۲

اور سب کے سب ایک روز ہمارے روبرو حاضر کئے جائیں گے (32:36)

PARABLE OF TWO MEN A MONOTHEIST AND A MATERIALIST WHO BEGAN TO COMPARE NOTES

مثل رجلین مناقشہ میں رجل مؤمن ورجل ملحد

دو اشخاص (مومن اور کافر) کی تمثیل مومن اور مادہ پرست کی باہمی بحث

Coin for them a similitude: Two men, to one of whom We had assigned two gardens of grape wines, and We had surrounded both with date palms and had put between them tillage. (18:32)

وَاصْرِفْ لَهُمْ مِّثْلًا لِّأَجْلَلِينَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿١٨﴾
الکھف ۳۲

اور ان کے سامنے دو شخصوں کا حال بیان کر دین میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ (عنایت) کئے تھے ان کے گرد اگر دکھجوروں کے درخت لگا دیئے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی (32:18)

Each of those gardens brought forth its fruit and withheld nothing thereof. And in midst of them We caused a river to gush forth therein. (18:33)

كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿١٨﴾
الکھف ۳۳

دونوں باغ (کثرت سے) پھل لاتے اور اس (کی پیداوار) میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی اور دونوں باغوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی (33:18)

MATERIALIST WAS PUFFED UP WITH HIS POSSESSIONS - GARDENS AND ITS PRODUCE, WORLDLY WEALTH AND SO DENYING THE DAY OF JUDGEMENT

Abundant was the produce, this man had. And he said to his comrade, in a course mutual arguments I am more than you in wealth, and stronger in respect of men. (18:34)

استکبار الملحد و تفاخره بالمال والوسائل المادية

مادہ پرست کا اپنے باغات اور زرعی پیداوار اور مال و دولت پر غرور کرنا اور روز جزا کو جھٹلانا

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿١٨﴾
الکھف ۳۴

اور (اس طرح) اس (شخص) کو (ان کی) پیداوار سے خوب نفع حاصل ہوا تو (ایک دن) جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال (دولت) میں بھی زیادہ ہوں اور جتنے (اور جماعت) کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں (34:18)

And he went into his garden, while he (thus) wronged himself. He said: I deem not that all this will ever perish. (18:35)

I deem not that the Hour of judgement will ever come, and even if indeed I am brought back to my Lord I surely shall find better than this as a resort. (18:36)

BELIEVER MADE REALIZE THE MATERIALIST ABOUT THE FACTS OF HIS CREATION AND PREACHED HIM MONOTHEISM

NOT SAYING "MASHA-ALLAH" (HOW WONDERFUL ARE THE WORKS OF ALLAH SWT) BY MATERIALIST WHILE WITNESSING SOME DIVINE BOUNTY

And his companion while he disputed with him, exclaimed: Disbelieve you in Him Who created you of dust, then of a drop (of seed), and then fashioned you a man? (18:37)

But He is Allah, my Lord, and I ascribe to my Lord no partner. (18:38)

When you, entered your garden, why did you not say: That which Allah wills (will come to pass)! There is no power except Allah! Though you see me as less than you in wealth and children. (18:39)

Let it may be that my Lord will give me better than your garden, and will send on your garden a thunderbolt from heaven, and some morning it will be a slippery sand. (18:40)

For some morning the water of the garden will run off underground so that you will never be able to find it. (18:41)

PENALTY ON BECOMING ARROGANT OF WEALTH AND DENYING THE FINAL JUDGEMENT DAY

And his fruit was encompassed (with destruction). Then he began twisting and turning his hands for all that he had spent upon it, when (now) it was tumbled to pieces and to say: Would that I had ascribed no partner to my Lord! (18:42)

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾
﴿١٨ الكهف ٣٥﴾

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾
﴿١٨ الكهف ٣٦﴾

عظة الموحّد للملحد

عاقبة الإعجاب بالنفس
وعدم الشكر لله تعالى وعدم قول
ما شاء الله عند مشاهدته نعمة الله

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ﴿٣٧﴾
﴿١٨ الكهف ٣٧﴾

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾
﴿١٨ الكهف ٣٨﴾

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرْتُنَّ أَنْ أَقْلَ مِنْكَ مَا لَوْ وَكَلَدًا ﴿٣٩﴾
﴿١٨ الكهف ٣٩﴾

فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنَّ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾
﴿١٨ الكهف ٤٠﴾

أَوْ يُصْبِحُ مَاءً غَورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلْبًا ﴿٤١﴾
﴿١٨ الكهف ٤١﴾

عقاب التغطرس والمادية
والتكذيب بيوم الدين

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾
﴿١٨ الكهف ٤٢﴾

مومن کا مادہ پرست کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرنا اور تبلیغ توحید

اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھنے پر
مادہ پرست کا ماشاء اللہ نہ کہنا

تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا آدمی بنایا (37:18)

مگر میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا (38:18)

اور (بھلا) جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا تو تہ الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگرچہ تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو (39:18)

تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے۔ اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان بن کر رہ جائے (40:18)

یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے تو پھر تم اسے کسی طرح نہ نکال سکو۔ (41:18)

دنیاوی اسباب پر گھمنڈ اور
روز جزا کو جھٹلانے کی سزا

اور آخر کار اس کے میوؤں کو عذاب نے آگیر اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا۔ تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا۔ اس پر (حسرت سے) ہاتھ ملنے لگا۔ اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا (42:18)

And he had no party to support him as against Allah, nor could he save himself. (18:43)

وَلَمْ تَكُنْ لَكَ فِئَةٌ يَصْرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُتَخَيِّرًا ﴿٤٣﴾
﴿١٨ الكهف ٤٣﴾

(اس وقت) اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور وہ اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا (43:18)

That is how patronage lies only with Allah, the True. He is best for reward, and best for consequence. (18:44)

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾
﴿١٨ الكهف ٤٤﴾

یہاں (سے ثابت ہوا کہ) حکومت سب اللہ برحق کی ہے انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ (44:18)

THE PEOPLE OF THE DITCH
YEAR 525 AD.

اصحاب الاخدود
العام ۵۲۵

اصحاب خندق
۵۲۵

A PARABLE OF A KING WHO BURNT HIS SUBJECTS - WHO REFUSED TO ACCEPT HIS DICTUM

حرق ملك أناس لم يؤمنوا بعقائده الباطلة

ایک بادشاہ کا اس کے غلط عقائد پر ایمان نہ لانے پر لوگوں کو زندہ جلا دینا

BURNING THE BELIEVERS FOR THEIR FAITH BY AN OPPRESSOR FOLK

قوم متشددون علی المؤمنین

اہل ایمان پر سختیاں کرنے والی قوم

By the sky, with its constellations. (85:1)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾
﴿٨٥ البروج ١﴾

آسمان کی قسم جس میں برج ہیں (1:85)

And by the Promised Day (of Judgement). (85:2)

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾
﴿٨٥ البروج ٢﴾

اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے (2:85)

And by the witness and the subject of the witness. (85:3)

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾
﴿٨٥ البروج ٣﴾

اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم (3:85)

(Self) destroyed were the owners of the ditches (85:4)

قَتِيلِ اصْحَابِ الْاُخْدُودِ ﴿٤﴾
﴿٨٥ البروج ٤﴾

کہ خندقوں (کے کھودنے) والے ہلاک کر دیئے گئے (4:85)

Of the (abundantly) fuel-fed fire, (85:5)

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿٥﴾
﴿٨٥ البروج ٥﴾

(یعنی) آگ (کی خندقیں) جس میں خوب بھڑکتی ہوئی ایندھن کی آگ تھی۔ (5:85)

When they sat by it, (85:6)

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾
﴿٨٥ البروج ٦﴾

جب کہ وہ اس خندق (کے کناروں) پر بیٹھے ہوئے تھے (6:85)

And were themselves the witnesses of what they did to the believers. (85:7)

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾
﴿٨٥ البروج ٧﴾

اور جو (سختیاں) اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو دیکھ رہے تھے (7:85)

And they ill-treated them for no other reason than that they believed in Allah, the Mighty, the Owner of Praise, (85:8)

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾
﴿٨٥ البروج ٨﴾

اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور تعریف کے لائق ہے (8:85)

Him to Whom belongs the Sovereignty of the heavens and the earth; and Allah is the Witness of all the things. (85:9)

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾
﴿٨٥ البروج ٩﴾

جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے (9:85)

They who persecute believing men and believing women and repent not, theirs will be the doom of Hell, and theirs the chastisement of burning too. (85:10)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ
عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝
﴿٨٥ البروج ١٠﴾

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور اس سے توبہ نہ کی یقیناً ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلانے جانے کی سزا بھی ہوگی۔ (10:85)

THE COMPANIONS OF THE RASS 630 YEARS B.C.

اصحاب الرس
عام قبل المسیح

اصحاب الرس
۱۰ سال قبل مسیح

And (the tribes of) Aad and Thamud, and the dwellers in Al-Rass, and many generations in between (were destroyed). (25:38)

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ
ذَلِكَ كَثِيرًا ۝
﴿٢٥ الفرقان ٣٨﴾

اسی طرح عاد اور ثمود اور کنوئیں والوں اور ان کے درمیان (صدیوں کے لوگ) اور بہت سی جماعتوں کو بھی (ہلاک کر دیا) (38:25)

Each (of them) We warned by examples, and each (of them) We brought to utter ruin (for their sins). (25:39)

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتِيْرًا ۝
﴿٢٥ الفرقان ٣٩﴾

اور ان سب کے (سمجھانے کے) لئے ہم نے (تباہ ہونے والوں کی) مثالیں بیان کیں اور ان کے (نہمانے پر) سب کو تہس نہس کر دیا (39:25)

The folk of Noah denied (the truth) before them, and (so did) the dwellers at Al Rass and (the tribe of) Thamud, (50:12)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ۝
﴿٥٠ ق ١٢﴾

ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنوئیں والے اور ثمود جھٹلا چکے ہیں (12:50)

And (the tribe of) Aad, and Pharaoh, and the brothers of Lot, (50:13)

وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝
﴿٥٠ ق ١٣﴾

اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی (13:50)

THE PEOPLE OF SHEBA (THE ARABY THE BLEST)

قوم سبا = اهل اليمن

قوم سبا = عرب شمال اهل اليمن

There was indeed a sign for Sheba in their dwelling place: Two gardens on the right hand and the left (as who should say): Eat of the provision of your Lord and render thanks to Him. A fair land and an indulgent Lord! (34:15)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَيْنِ
عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ۝
﴿٣٤ سبا ١٥﴾

قوم سبا کے لئے ان کی اپنی بستیوں میں (قدرت الہی) کی نشانی موجود تھی۔ ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے (ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ) اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو۔ (یہاں تمہارے رہنے کو یہ) پاکیزہ عمدہ ملک ہے اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ (15:34)

And We set, between them and the towns which We had blessed, towns in prominent positions and We made the stage of journey between them easy, (in due proportion) saying): Travel in them safely both by night and day. (34:18)

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا
فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ
سَيْرًا وَفِيهَا لِيَالِي وَإِيَّاكَ آمِنِينَ ۝
﴿٣٤ سبا ١٨﴾

اور ہم نے ان کے اور (شام میں) ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت عطا کی تھی (ایک دوسرے کے متصل) چند دیہات اور بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں سفر کی مسافتوں کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے پھرتے رہو (18:34)

WONDERFUL IRRIGATION ENGINEERING WORKS
CONSTRUCTION OF MA'ARIB DAM
AND BECOMING ARROGANT OF THEIR
PROSPERITY AND SCIENTIFIC SKILLS

مشاریع الری المدہشۃ و بناء سد مآرب
و إعجابهم بمہارتهم الفنیة
و بترقیتم الحضاریة

آپاشی کے عظیم منصوبے مآرب ڈیم کی تعمیر
تمدنی معاشرتی اور فنی ترقی کا دور

For Detail Consult next Page

وللتفصیل راجع الصفحة الاتیة

تفصیل کے لیے دیکھئے اگلا صفحہ

DESTRUCTION BY A MIGHTY FLOOD (A PENALTY OF THEIR UNFAITH AND WRONGDOINGS)

But they were froward, so We sent on them the flood of Arim, released from the Dams, and We converted their two gardens (rows) into two gardens bearing bitter fruit, the tamarisk and some few (stunted) lote trees. (34:16)

This was the requital We gave them because of their ingratitude. And We never punish any except the ingrates? (34:17)

But they said: Our Lord! Make the stage between our journeys longer. And they wronged themselves, therefore We made them as a tale (in the land) and scattered them in fragments a total scattering. Herein are portents for each steadfast, grateful (heart). (34:19)

And Satan indeed found his calculation true concerning them, for they followed him, all except a group of true believers. (34:20)

And he (Satan) had no authority whatsoever against them, except that We would know him who believes in the Hereafter from him who is in doubt thereof; and your Lord (O Muhammad) takes note of all things. (34:21)

إرسال سيل العرم على قوم سيا
بکفرهم وبسيا تهم

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ
مَجْتَنِبَتَيْهِمْ جَنَّاتٍ ذَوَاتِ الْأُكْلِ خَمْطٍ وَأَنْثَىٰ
مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾
﴿٣٤ سبا ١٦﴾

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي
إِلَّا الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾
﴿٣٤ سبا ١٧﴾

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ
مُمْتَرِقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾
﴿٣٤ سبا ١٩﴾

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ
إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾
﴿٣٤ سبا ٢٠﴾

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ
وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٢١﴾
﴿٣٤ سبا ٢١﴾

سيل العرم - زوردار سیلاب سے تباہی
(کفر اور بد اعمالیوں کی سزا)

انہوں نے (شکرگزاری سے) منہ پھیر لیا پس ہم نے ان پر (بند توڑ کر) زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے پیچھے دو باغوں کے بدلے دوائیے باغ دیئے جن کے بیوے بد مزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ کے درخت تھے اور تھوڑی سی بیریاں (16:34)

ہم نے ان کی ناشکری کی انہیں سزا دی اور ہم سزا شکرے ہی کو دیا کرتے ہیں (17:34)

و انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہمارے سفر کی سافتنیں لمبی کر دے اور (اس سے) انہوں نے اپنے حق میں خود ظلم کیا تو ہم نے (انہیں نابود کر کے) ان کے فسانے بنا دیئے اور انہیں (بالکل ٹکڑے ٹکڑے) تتر بتر کر دیا یقیناً اس میں صبر اور شکر کرنے والے ہر شخص کے لئے نشانیاں ہیں (19:34)

اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے (20:34)

اور ابلیس کا ان پر کچھ زور حاصل نہ تھا مگر (ہمارا) مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر یقین رکھتے ہیں ظاہر کر دیں۔ اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے (21:34)

THE PEOPLE OF TUBBA (TRIBE OF HAMDAN IN YAMEN)

Are they better, or the folk of Tubba and those before them? We destroyed them, for surely they were criminals. (44:37)

And the dwellers in the wood, and the folk of Tubba: everyone denied their messengers, therefore My threat took effect. (50:14)

PEOPLE OF INSCRIPTION

Do you think that the People of the Cave and of the Inscription were a of wonder among Our signs? (18:9)

قوم تبع قبیلہ حمیر

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾
﴿٤٤ الدخان ٣٧﴾

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ
فَحَقَّ وَعِيدُ ﴿١٤﴾
﴿٥٠ ق ١٤﴾

اصحاب الرقيم

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ
كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾
﴿١٨ الكهف ٩﴾

قوم تبع (میں کا قبیلہ حمیر)

بھلا یہ اچھے لوگ ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان (سب) کو اسی بنا پر ہلاک کر دیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے (37:44)

اور ایک والے (اور بن کے رہنے والے) اور تبع کی قوم (غرض) ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا (14:50)

اصحاب رقیم (کتبہ والے)

کیا تم اپنے خیال میں غار اور لوح (کتبہ) والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی سمجھ رہے ہو۔ (9:18)

QURANIC SUPPLICATIONS
INVOCATIONS AND PRAYERS
ADDRESSED TO ALLAH (swt)

الأدعية القرآنية

قرآنی دعائیں

PRECEPT OF SUPPLICATION

And your Lord said "appeal to Me and I will respond your prayer." Those who scorn My service, they will enter Hell, disgraced. (40:60)

الأمر بالدعاء

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٤٠﴾
﴿٤٠ المومن ٦٠﴾

دعامانگنے کا حکم

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں۔ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے (60:40)

ALLAH (swt) LISTENS TO ALL SUPPLIANTS AND RESPONDS

And when My servants ask you concerning Me, then surely I am near. I answer the prayer of the suppliant when he appeals to Me. So let them respond to Me and let them trust in Me, in order that they may be led aright. (2:186)

اللہ یسمع الدعاء

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْتُوا أَوَّلِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾
﴿٢ البقرة ١٨٦﴾

اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے۔

اور (اے پیغمبر) جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو (کہہ دیجئے کہ) میں تو (تمہارے) پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہئے کہ میرے احکام کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں (186:2)

More Reference : 6:41 13:14 27:62 35:14 42:25 Page 140, 141, 315,

والمزيد راجع ٦ الأنعام: ٤١ ١٣ الرعد: ١٤ ٢٧ النمل: ٦٢ ٣٥ فاطر: ١٤ ٤٢ الشورى: ٢٥

مزید حوالہ 41:6 14:13 62:27 25:42 14:35 315, 141, 140

ASK ONLY TO ALLAH (swt)

For Detail Consult : 3:160 6:40,41 7:194 17:67 Page 124 140 140 124 27:62 31:30 35:2,13,14 39:38 40:20 46:5 124 141 125,141 142 146 141

النهي عن الدعاء لغير الله

والتفصيل راجع ٣ آل عمران: ١٦٠ ٦ الأنعام: ٤١، ٤٠ ٧ الأعراف: ١٩٤ ١٧ الإسراء (بنی اسرائیل): ٦٧ ٢٧ النمل: ٦٢ ٣١ لقمان: ٣٠ ٣٥ فاطر: ١٤، ٢، ١٣، ١٤، ٢٧ ٣٩ الزمر: ٣٨ ٤٠ المومن (غافر): ٢٠ ٤٦ الأحقاف: ٥

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعائے مانگی جائے

تفصیل کیلئے دیکھئے 160:3 41:40 6:17 194:7 124 140 140 124 5:46 20:40 38:39 14,13,2:35 30:31 62:27 141 146 142 125,141 141 124

HOW TO PRAY (DECORUM OF INVOKING) (BESEECHING BEFORE) (ALLAH swt)

O mankind!) Call upon your Lord humbly and in secret. He loves not aggressors. (7:55)

And remember your Lord within yourself humbly and fearfully without raising your voice at morn and evening. And be you not of the neglectful. (7:205)

كيفية الدعاء

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾
﴿٧ الاعراف ٥٥﴾

وَإِذْ كُرِّرْتُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾
﴿٧ الاعراف ٢٠٥﴾

دعامانگنے کا طریقہ (آداب دعا)

(لوگو) اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا (55:7)

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور (دیکھنا) غافل نہ ہونا (205:7)

More Reference : 19:3 Page 1087

والمزيد راجع ١٩ مريم: ٣ الصفحة ١٠٨٧

مزید حوالہ 3:19 1087

SUPPLICATING ALLAH (swt) A CURE TO PSYCHOLOGICAL DISTURBANCE (STRESS - TENSION AND DEPRESSION)

For Detail Consult : 6:41 12:86 39:38 40:20 Page 140, 992, 142, 146

الدعاء علاج الجزع والخوف والقلق

والتفصيل راجع ٦ الأنعام: ٤١ ١٢ يوسف: ٨٦ ٣٩ الزمر: ٢٨ ٤٠ المومن (غافر): ٢٠ الصفحة ١٤٠، ١٤٢، ٩٩٢، ١٤٦

اللہ تعالیٰ سے دعا۔ گھبراہٹ خوف اور پریشانی کا علاج

تفصیل کیلئے دیکھئے 41:6 86:12 20:40 38:39 146, 142, 992, 140

SUPPLICATE TO ALLAH (SWT) EXPECTING APPROVAL - AND HOPING MERCY

Spread not corruption on the earth after the fair ordering (thereof), and call on Him in fear and hope. The mercy of Allah is near to those who act kindly. (7:56)

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾
(٧ الاعراف ٥٦)

اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھ کر
دعا مانگنی چاہئے

اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور خدا سے
خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔
کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے
قریب ہے (56:7)

More Reference : 3:139 Page 95
12:87 Page 992
15:56 Page 957
19:4 Page 1087
29:23 Page 304

والمزید راجع ٣ آل عمران: ١٣٩ ١٢ یوسف: ٨٧
١٥ الحجر: ٥٦ ١٩ مریم: ٤ ٢٩ العنکبوت: ٢٣
الصفحة ٩٥ ٩٩٢ ٩٥٧ ١٠٨٧ ٣٠٤

مزید حوالہ 56:15 صفحہ 957
87:12 صفحہ 992
139:3 صفحہ 95
23:29 صفحہ 304
4:19 صفحہ 1087

DO NOT SUPPLICATE WITH LONGING OF WORLDLY LIFE ALONE

-----But of mankind are they who say "Our Lord! Give to us (such and such) in the world," and they have no share in the Hereafter. (2:200) PART

لا تكن الدنيا أكبر هم للمؤمنين

فَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾
(٢ البقرة ٢٠٠) جزء

صرف دنیاوی زندگی کے فوائد
کی دعا مانگنے کی ممانعت

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو (اللہ
سے) التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو (جو دینا ہے)
دنیا ہی میں عنایت کر ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ
نہیں (200:2) جزو

SUPPLICATE WITH LONGING FOR GOOD IN THIS TRANSITORY WORLD AS WELL AS SOME IN THE HEREAFTER

-----"Our Lord! Give to us in the world that which is fine and in the Hereafter that which is fine, and shield us from the torment of Fire." (2:201) PART

ليكن صلاح الدنيا والآخرة
مطلوبا للمؤمن في الدعاء

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾
(٢ البقرة ٢٠١) جزء

دنیا اور آخرت کی بہتری کیلئے
دعا مانگنے کا حکم

پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت
عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخش اور دوزخ کے
عذاب سے محفوظ رکھنا (201:2) جزو

More Reference : 7:156 Page 1051

والمزید راجع ٧ الاعراف: ١٥٦ الصفحة ١٠٥١

مزید حوالہ 156:7 صفحہ 1051

SUPPLICATION OF ADAM AND HAWWA (PBUH) BESEECHING FORGIVENESS AFTER BEING DELUDED BY SATAN

-----Our Lord! We have harmed ourselves. If You forgive us not and have not mercy on us, surely we are the losers! (7:23) PART

دعاء آدم وحواء علیہما السلام
بعد اغترارهما من الشيطان

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾
(٧ الاعراف ٢٣) جزء

آدم وحواء علیہما السلام کی دعا برائے مغفرت
(شیطان کے بھٹکاوے میں آجانے کے بعد)

پروردگار ہم نے
اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم
نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے (23:7) جزو

INVOCATION OF NOAH (PBUH) WHILE EMBARKING THE ARK (SAID WHEN EVER BOARD A SHIP, PLANE OR ANY VEHICLE)

----- In the name of Allah be its sailing and its mooring. Indeed my Lord is Forgiving, Merciful. (11:41) PART

دعاء نوح علیہ السلام
عند الركوب في الفلك

بِسْمِ اللَّهِ هَجْرُهَا وَمُرْسَاهَا
إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾
(١١ هود ٤١) جزء

نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار
ہوتے وقت کی دعا

اللہ کا نام لے کر (کراسی کے ہاتھ
میں) اس کا چلنا اور ٹھہرنا (ہے) بے شک میرا پروردگار
بخشنے والا مہربان ہے (41:11) جزو

**SUPPLICATION OF NOAH (PBUH)
BESEECHING FORGIVENESS
(AFTER ENTREAT FOR HIS DISBELIEVER SON)**

My Lord! In You I do seek refuge (from the sin) that I should ask You that whereof I have no knowledge. Unless You forgive me and have mercy on me I shall be among the losers. (11:47) PART

اعتذار نوح علیہ السلام الی ربہ واستعاذتہ
بعد استغفاره لابنہ الکافر

رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ اَنْ اَسْءَلَکَ
مَا لَیْسَ لِیْ بِہِ عِلْمٌ وَاِلا تَغْفِرْ لِیْ وَتَرْحَمْنِیْ
اَکُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۱۷﴾
﴿۱۱ ہود ۴۷﴾ جزء

نوح علیہ السلام کی دعا برائے عفو و درگزر
(کافر بیٹے کے لئے دعائے مغفرت مانگنے کے بعد)

پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ
ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم
نہیں۔ اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا
تو میں تباہ ہو جاؤں گا (47:11) جزو

**SUPPLICATION OF NOAH (PBUH)
FOR SAFE DISEMBARKMENT OF ARK
(SUBSIDING OF FLOOD)**

My Lord! Cause us to disembark at a blessed landing place, for You are the best of all who disembark. (23:29) PART

دعاء نوح علیہ السلام
عند سکون الطوفان

رَبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبْرَکًا
وَ اَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ﴿۱۹﴾
﴿۲۳ المؤمنون ۲۹﴾ جزء

طوفان ختم جانے کے بعد نوح علیہ السلام کا
سستی سے بحفاظت اترنے کے لئے دعا

اے پروردگار ہم کو
مبارک جگہ اتاریں اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے
(29:23) جزو

**SUPPLICATION OF NOAH (PBUH)
ASKING HELP ON FEELING VANQUISHED
BY WICKED GENERATION, INSPITE
OF LONG TERM PREACHING**

(Noah invoked his Lord) I have been overpowered so (support me) give help. (54:10) PART

دعاء نوح علیہ السلام بعد الدعوة
لمدة طويلة مستنصرًا بالله

رَبِّ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانصُرْ
﴿۵۴ القمر ۱۰﴾ جزء

نوح علیہ السلام کی ایک طویل مدت تبلیغ کرنے کے
باوجود ظالم قوم کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بے بس محسوس
کرنے پر اللہ تعالیٰ سے مدد کے لئے دعا

(نوح نے اپنے رب سے) دعا کی کہ
(اے اللہ) میں (ان کے مقابلے میں) کمزور ہوں تو
(ان سے) بدلہ لے (10:54) جزو

**SUPPLICATION OF NOAH (PBUH)
FOR HIS PARENTS AND BELIEVERS**

My Lord! Forgive me and my parents as well as everyone who enters my house believing, and believing men and believing women, and increase not the wrongdoers in anything except destruction (71:28)

استغفار نوح علیہ السلام
ربہ للوالدین و للمؤمنین و المؤمنات

رَبِّ اغْفِرْ لِیْ و لِوَالِدِیْ و لِمَنْ دَخَلَ
بَیْتِیْ مُؤْمِنًا و لِّلْمُؤْمِنِیْنَ و الْمُؤْمِنٰتِ
وَ لَا تَزِدِ الظَّالِمِیْنَ اِلَّا تَبٰرًا ﴿۱۸﴾
﴿۷۱ نوح ۲۸﴾

نوح علیہ السلام کی دعا والدین
اور اہل ایمان کے لئے

اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو
ایمان لا کر میرے گھر میں آئے ان کو اور تمام ایمان
والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما۔ اور
ظالم لوگوں کے لئے اور زیادہ تباہی بڑھا (28:71)

**SUPPLICATION OF ABRAHAM
AND ISHMAEL (PBUH) WHILE RAISING
FOUNDATIONS OF SACRED HOUSE (KA'ABA)**

(Abraham prayed): Our Lord! Accept from us (this duty). You, only You, are the Alert, and the Aware. (2:127) PART

دعاء ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام
عند رفعهما قواعد البيت

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ
السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۷﴾
﴿۲ البقرة ۱۲۷﴾ جزء

ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام
کی دعا بوقت تعمیر کعبہ

اے ہمارے
پروردگار۔ یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا (اور)
جاننے والا ہے (127:2) جزو

**SUPPLICATION OF ABRAHIM (PBUH)
FOR BESTOWING SUBMISSIVENESS
TO HIM AND TO HIS PROGENY**

Our Lord! Make us submissive to you and of our offspring a nation (of Muslims) submissive to You, and show us (Your) ways of worship, and bent towards us. You, only You, are the Relenting, the Merciful. (2:128)

دعاء ابراہیم علیہ السلام لذاتہ و لذریتہ
بالتوفیق لإطاعة الله

رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمِیْنَ لَکَ و مِنْ ذُرِّیَّتِنَا
اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَکَ وَاَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا اِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ﴿۱۸﴾
﴿۲ البقرة ۱۲۸﴾

ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اور اولاد کے لئے
اطاعت گزاری کی توفیق ملنے کی دعا

اے پروردگار ہم کو اپنا فرمان بردار بنالے اور ہماری اولاد
میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور
(پروردگار) ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ اور
ہمارے حال پر (رحم کے ساتھ) توجہ فرما۔ بے شک تو
توجہ فرمانے والا مہربان ہے (128:2)

SUPPLICATION OF ABRAHAM (PBUH) FOR ENABLING HIM AND HIS OFFSPRING TO ESTABLISH "SALAT" (PRAYERS) AND BESEECHING MERCY FOR HIMSELF AND HIS PARENTS

My Lord! Make me to establish proper worship, and some of my posterity (also); my Lord! Accept my prayer. (14:40)

My Lord! Forgive me and my parents and believers on the Day when the account is cast. (14:41)

دعاء ابراہیم علیہ السلام لذاتہ ولذریئہ بالتوفیق لإقامة الصلوة و استغفاره لذاتہ وللوالدین وللمؤمنین

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾
﴿١٤ ابراہیم ٤٠﴾
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾
﴿١٤ ابراہیم ٤١﴾

ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اور اولاد کے نماز کا پابند بننے کے لئے اور اپنی اور والدین کے لئے مغفرت کی دعا

اے پروردگار مجھ کو (ایسی توفیق عنایت) کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی (یہ توفیق بخش) اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما (40:14)
اے پروردگار حساب (کتاب) کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ اور مومنوں کی مغفرت کیجئے گا (41:14)

SUPPLICATION OF ABRAHAM (PBUH) FOR BESTOWING RIGHTEOUS PROGENY

My Lord! Grant me of the righteous son. (37:100)

دعاء ابراہیم علیہ السلام طالباً من اللہ ذریۃ صالحۃ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾
﴿٣٧ الطفت ١٠٠﴾

ابراہیم علیہ السلام کی نیک (سعادت مند) اولاد کی عطا کے لئے دعا

اے پروردگار مجھے (اولاد) عطا فرما (جو) سعادت مندوں میں سے (ہو) (100:37)

ACKNOWLEDGEMENT OF ATTRIBUTE TO ALLAH (SWT) AS "THE HEALER" BY ABRAHAM (PBUH)

And when I fall ill, then He heals me, (26:80)

قال ابراہیم علیہ السلام اللہ یشفینی

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨٠﴾

ابراہیم علیہ السلام کا بسلسلہ شفا اعتراف حقیقت

اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے (80:26)

SUPPLICATION OF ABRAHAM (PBUH) FOR BESTOWING WISDOM, RIGHTEOUSNESS AND GRANTING HONOURABLE REPUTATION AMONG LATER GENERATIONS

My Lord! Bestow upon me wisdom and join me with the righteous. (26:83)

And give to me a good reputation among later generations. (26:84)

And count me among the inheritors of the Garden of Delight, (26:85)

دعاء ابراہیم علیہ السلام لإعطاء ھ الحکم

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨٣﴾
وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨٤﴾
وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾
﴿٢٦ الشعراء ٨٥﴾

ابراہیم علیہ السلام کی برائے عطا علم ودانش اور آئندہ نسلوں میں ذکر نیک جاری رہنے کے لئے دعا

اے پروردگار مجھ کو علم ودانش عطا کر اور نیک لوگوں میں شامل کر (83:26)

اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک (جاری) کر (84:26)

اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر (85:26)

SUPPLICATION OF ABRAHIM (PBUH) FOR SAFETY FROM TEMPTING BY DISBELIEVERS

Our Lord! In You we put our trust, and to You we turn repentant, and towards You lies the goal. (60:4) PART

Our Lord! Make us not a prey for those who disbelieve, and forgive us, our Lord! You, only You, are the Mighty, the Wise. (60:5)

دعاء ابراہیم علیہ السلام للوقایۃ من الوقع فی الفتنۃ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَاؤُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٦٠﴾
﴿٦٠ الممتحنة ٤﴾ جزء
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا
رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾
﴿٦٠ الممتحنة ٥﴾

ابراہیم علیہ السلام کی فتنہ کفار سے حفاظت کے لئے دعا

اے ہمارے پروردگار تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں (ہمیں) لوٹ کر آنا ہے (4:60) جزو

اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما بے شک تو غالب حکمت والا ہے (5:60)

**SUPPLICATION OF JOSEPH (PBUH)
FOR REMAINING AS MUSLIM (BELIEVER) TILL
FACING DEATH**

-----O' You
creator of the heavens and the earth!
You are my patron in the World and
the Hereafter. Make me to die (as
Muslim) submissive (to You), and
unite me to the righteous. (12:101)
PART

دعاء یوسف علیہ السلام
للتمسك بالإسلام حتى يأتيه الموت

-----فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَنْتَ وَبِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
مُسْلِمًا وَأَجْمَعْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾
﴿١٢﴾ يوسف ١٠١ ﴿جزء﴾

یوسف علیہ السلام کی حالت اسلام
پر موت آنے کے لئے دعا

-----اے آسمانوں اور
زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا
کار ساز ہے۔ تو مجھے (دنیا سے) اپنی اطاعت (کی
حالت) میں اٹھانا اور (آخرت میں) اپنے نیک بندوں
میں داخل کرنا (101:12) جزو

**SUPPLICATION OF JOB (PBUH)
(WHEN ADVERSITY HAD AFFLICTED HIM)
INVOKING FOR MERCY AND RELIEF**

-----Adversity afflicts me, and
You are the most Merciful of all who
grant mercy. (21:83) PART

دعاء ایوب علیہ السلام
مسترحمًا فی الضر

-----أَنْتَ مَسَّنِي الضَّرُّ
أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨٣﴾
﴿٢١﴾ الانبياء ٨٣ ﴿جزء﴾

ایوب علیہ السلام کا مصیبتوں میں مبتلا ہو جانے
سے بعد تکالیف سے چھٹکارا پانے کے لئے دعا

-----کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے
بڑھ کر رحم کرنے والا ہے (83:21) جزو

**SUPPLICATION OF MOSES (PBUH)
FOR MERCY AND FORGIVENESS FOR HIMSELF
AND HIS BROTHER**

دعاء موسیٰ علیہ السلام ربہ مستغفرا
ومسترحمًا لذاتہ ولأخیه

موسیٰ علیہ السلام کی اپنے اور اپنے بھائی
ہارون علیہ السلام کے لئے مغفرت و رحمت کی دعا

**SUPPLICATION OF MOSES (PBUH) WHILE
SPLENDID SIGHT AT MOUNTAIN "TUR"**

-----And You are our
patron so forgive us and have mercy
on us, You are the best of all
forgivers. (7:155) PART

استغفار موسیٰ علیہ السلام
ربہ لما کان علی الطور

دعا موسیٰ علیہ السلام بوقت جلوہ کوہ طور

-----أَنْتَ وَلِيُّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾
﴿٧﴾ الاعراف ١٥٥ ﴿جزء﴾

-----تو ہی ہمارا کار ساز ہے تو ہمیں
(ہمارے گناہ) بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے
بہتر بخشنے والا ہے (155:7) جزو

**SUPPLICATION OF MOSES (PBUH) WHILE
CONFRONTING MAGICIANS OF PHARAOH**

-----Our Lord! Make us not a
pretext for the wrongdoing folk;
(10:85) PART

دعاء موسیٰ علیہ السلام
عند مواجهة السحرة

موسیٰ علیہ السلام کی دعا بوقت
مقابلہ جادوگران فرعون

-----رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾
﴿١٠﴾ یونس ٨٥ ﴿جزء﴾
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾
﴿١٠﴾ یونس ٨٦ ﴿جزء﴾

-----اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے
ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال (85:10) جزو

-----and, of Your mercy, save us from
the folk that disbelieve. (10:86)

اور اپنی رحمت سے ہمیں قوم کفار سے نجات بخش (86:10)

**SUPPLICATION OF MOSES (PBUH)
FOR EXPANDING KNOWLEDGE, EASING TASK
AND REMOVAL OF IMPEDIMENT IN SPEECH**

-----My Lord! Relieve
my mind (ease my breast for me)
(20:25) PART

دعاء موسیٰ علیہ السلام طالبا
شرح الصدر وحل عقدة اللسان

موسیٰ علیہ السلام کی دعا برائے شرح صدر
(کام کی آسانی اور زبان کی عقدہ کشائی)

-----and ease my task for me; (make my
task easier for me.) (20:26)

-----رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾
﴿٢٠﴾ طه ٢٥ ﴿جزء﴾
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾
﴿٢٠﴾ طه ٢٦ ﴿جزء﴾

-----میرے پروردگار (اس کام کے
لئے) میرا سینہ کھول دے (25:20) جزو

اور میرا کام آسان کر دے (26:20)

And loose the knot from my tongue,
(20:27)

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾
﴿ ۲۰ طہ ۲۷ ﴾

اور میری زبان کی گرہ کھول دے (27:20)

That they may understand whatever
I say. (20:28)

يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾
﴿ ۲۰ طہ ۲۸ ﴾

تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں (28:20)

**SUPPLICATION OF MOSES (PBUH)
FOR SEEKING FORGIVENESS ON COMMITTING
WRONG UNINTENTIONAL**

-----My Lord! I have indeed
wronged my soul, so forgive me-----
(28:16) PART

استغفار موسیٰ علیہ السلام
ربہ عند الإخطاء بغیر عمدہ

-----رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ
﴿ ۲۸ القصص ۱۶ ﴾ جزء-----

موسیٰ علیہ السلام سے نادانستہ زیادتی
سرزد ہو جانے پر مغفرت طلبی
-----اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا
تو مجھے بخش دے ----- (16:28) جزو

**SUPPLICATION OF MOSES (PBUH)
WHILE IN DESPERATE NEED**

-----My Lord, I am
poor enough to accept anything You
may grant me. (28:24) PART

دعاء موسیٰ علیہ السلام
طالباً للخیر

-----رَبِّ اِنِّیْ
لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقَدِیرٌ ﴿٢٤﴾
﴿ ۲۸ القصص ۲۴ ﴾ جزء-----

موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی بے چارگی کی
حالت میں عطاء خیر کے لئے دعا
-----اے پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو
مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے (24:28) جزو

**SUPPLICATION OF ENCHANTERS
OF EGYPT ON ENTERING INTO THE FOLD
OF ALLAH (SWT) (BECOMING BELIEVER)**

-----Our Lord! Pour over us
steadfastness and gather us up (at
death) to as Muslims!. (7:126)
PART

دعاء السحرة بعد الإیمان

-----رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَیْنَا
صَبْرًا وَتَوْفِقًا مُّسْلِمِیْنَ ﴿١٢٦﴾
﴿ ۷ الاعراف ۱۲۶ ﴾ جزء-----

ساحران مصر (جادوگران دربار فرعون)
کی ایمان لانے کے بعد دعا
-----اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے
دہانے کھول دے اور ہمیں حالت اسلام پر ہی مارنا
جزو (126:7)

**SUPPLICATION OF SOLOMON (PBUH)
FOR INSPIRING THE SPIRIT OF BECOMING
GRATEFUL FOR THE FAVOURS
BESTOWED ON HIM**

-----My Lord, arrange
things for me so I shall act thankful
for Your favours wherewith You
have bestowed upon me and my
parents, and to do good that shall be
pleasing to You, and admit me in
(the number of) Your righteous
servants. (27:19) PART

دعاء سلیمان علیہ السلام
لتوفیق الشکر علی نعمته

-----رَبِّ
اَوْزِعْنِیْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ
وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَ اَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصَّالِحِیْنَ ﴿١٩﴾
﴿ ۲۷ النمل ۱۹ ﴾ جزء-----

سلیمان علیہ السلام کی دعا
برائے توفیق ادا نیگی شکر
-----اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ
جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان
کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو
جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں
داخل فرما (19:27) جزو

**SUPPLICATION OF JONAH (PBUH) WHILE
SWALLOWED BY FISH CONFESSING HIS
HELPLESSNESS AND ASKING RELIEF AND
FORGIVENESS**

-----There is no deity
except You. Be You glorified!
Indeed I have been a wrongdoer.
(21:87) PART

دعاء یونس علیہ السلام فی بطن حوت
للنجاة من الآلام والکبد

-----لَا اِلٰهَ
اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ﴿٨٧﴾
﴿ ۲۱ الانبیاء ۸۷ ﴾ جزء-----

یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں اپنی کمزوری
کا اعتراف اور رنج و تکلیف سے رہائی کیلئے دعا
-----تیرے سوا
کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے۔ (اور) بے شک میں تصور
دار ہوں (87:21) جزو

**SUPPLICATION OF ZACHARIAH (PBUH)
FOR BESTOWING GOODLY PROGENY**

-----My Lord! Bestow upon me of Your bounty goodly offspring. Indeed You are the Hearer of appeals. (3:38) PART

-----O My Lord! Leave me not childless, even though You are the best of inheritors. (21:89) PART

دعاء زکریا علیہ السلام
طالباً من اللہ ذریۃ طیبۃ

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾
﴿۳ آل عمران ۳۸﴾ جزء

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۹﴾
﴿۲۱ الانبیاء ۸۹﴾ جزء

زکریا علیہ السلام کی نیک اولاد کے
عطا ہونے کے لئے دعا

----- اے پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد نیک عطا فرما۔ تو بے شک دعا سننے (اور قبول کرنے) والا ہے (38:3) جزو

----- پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہتر وارث ہے (21:89) جزو

**SUPPLICATION OF JESUS (PBUH)
FOR BESTOWING A SET WITH VIANDS (FEAST)
FROM HEAVENS TO FULFILL
THE CHILDISH DESIRE OF HIS DISCIPLES**

-----O Allah, Lord of us! Send down for us a table spread with food from heaven, that it may be a feast for us, for the first of us and for the last of us, and a sign from You. Give us sustenance, for You are the best of Sustainers. (5:114) PART

دعاء عیسیٰ علیہ السلام
یطلب من اللہ مائدة من السماء

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا
مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا
وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱۴﴾
﴿۵ المائدة ۱۱۴﴾ جزء

عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی درخواست پر
آسمان سے رزق کے نزول کے لئے دعا

----- اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لئے (وہ دن) عید قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں (سب) کے لئے۔ اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے (5:114) جزو

**SUPPLICATION OF PROPHET MUHAMMAD (SAAS)
FOR HONOURABLE ENTRY AND EXIT
(TO AND FROM) ANY MISSION**

-----My Lord! Let me enter through a proper entrance and leave by an honest exit! Grant me supporting authority from Your presence. (17:80) PART

دعاء جامع للنبی الکریم محمد ﷺ
بمناسبة الدخول فی أمر مهم وعند
الخروج منه

رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ
وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِيْ مِنْ
لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۸۰﴾
﴿۱۷ بنی اسرائیل ۸۰﴾ جزء

نبی کریم محمد ﷺ کی کسی بھی اہم کام میں
داخل ہونے اور اس سے کامیابی کے ساتھ
نکلنے کے لئے دعا

----- اے پروردگار مجھے (مدینے میں) اچھی طرح داخل کرنا اور (مکے سے) اچھی طرح نکالنا اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنانا (80:17) جزو

**SUPPLICATION OF PROPHET
MUHAMMAD (SAAS) FOR INCREASE
OF KNOWLEDGE**

-----My Lord! Increase me in knowledge (20:114) PART

دعاء النبی الکریم محمد ﷺ
یطلب الزیادة فی العلم

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿۱۱۴﴾
﴿۲۰ طہ ۱۱۴﴾ جزء

دعا نبی کریم محمد ﷺ برائے اضافہ علم

----- اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے (20:114) جزو

SUPPLICATIONS OF RIGHTEOUS ONES

الإدعية المفضلة للمؤمنين المتقين

اہل ایمان کی پسندیدہ دعائیں

For detail Consult next Page

و للتفصیل راجع الصفحة الاتية

تفصیل کے لیے دیکھئے اگلا صفحہ

SUPPLICATION FOR ONESELF, PARENTS AND BELIEVERS

MY Lord! Forgive me and my parents and believers on the Day when the account is cast. (14:41)

-----My Lord! Have mercy on them both as they did care for me when I was little (child). (17:24) PART

-----My Lord! Arouse me that I may give thanks for the favour wherewith You have favoured me and my parents, ----- (46:15) PART

SUPPLICATION FOR ANCESTORS SPOUSES AND PROGENY

Our Lord! And make them enter the Gardens of Eden, which You have promised them, with such of their fathers and their spouses and their descendants as do right. No doubt You, only You, are the Mighty, the Wise. (40:8)

And shield them from evil deeds; and he from whom You ward off ill deeds that Day him, You have taken into mercy. That is the Supreme achievement. (40:9)

SUPPLICATION FOR FAMILY, (SPOUSES AND OFFSPRINGS)

-----Our Lord! Bestow on us comfort of our eyes in our spouses and in our offspring, and make us a model for (all) those who ward off (evil). (25:74) PART

SUPPLICATION FOR INSPIRING THE SPIRIT OF BECOMING GRATEFUL FOR DIVINE FAVOURS AND BESTOWING RIGHTEOUSNESS OF PROGENY

-----My Lord! Train me that I may give thanks for the favours wherewith You have favoured me and (to both) my parents, and that I may do right acceptable to You. And be gracious to me in the matter of my offspring. I have turned to You in repentant, and I am of those who are committed to (live in) peace with Allah and society. (46:15) PART

الدعاء للذات والوالدين وللمؤمنين

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾
﴿١٤ ابراهيم ٤١﴾

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾
﴿١٧ بنی اسرائیل ٢٤﴾ جزء

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
﴿٤٦ الاحقاف ١٥﴾ جزء

الدعاء للأباء والأزواج والذرية

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾
﴿٤٠ المنومن ٨﴾

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾
﴿٤٠ المنومن ٩﴾

الدعاء للأزواج والذرية

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾
﴿٢٥ الفرقان ٧٤﴾ جزء

دعاء التوفيق للشكر على نعمة الله للعمل الصالح وإصلاح الذرية

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٤٦﴾
﴿٤٦ الاحقاف ١٥﴾ جزء

اپنی ذات اور والدین اور اہل ایمان کے لئے دعا

اے پروردگار حساب (کتاب) کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت فرما (41:14)

اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں (شفقت سے) پرورش کیا ہے تو بھی ان (کے حال) پر رحمت فرما (24:17) جزو

اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کے لئے تیرا شکر ادا کروں (15:46) جزو

باپ دادا، جیون ساتھیوں (میاں بیوی) اور اولاد کے لئے دعا

اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کے باپ دادا اور ان کے جیون ساتھیوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی داخل فرما بیشک تو غالب حکمت والا ہے (8:40)

اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ۔ اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچالے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی اور یہی بڑی کامیابی ہے (9:40)

رفیق حیات میاں بیوی اور اولاد (اہل خانہ) کیلئے دعا

اے پروردگار ہم کو ہمارے (رفیق حیات میاں بیوی) جیون ساتھیوں کی طرف سے (دل کا چین) اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیز گاروں کا امام بنا (74:25) جزو

اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور اصلاح اولاد کیلئے دعا

اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر ادا کروں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے۔ اور میرے لئے میری اولاد میں صالح بنا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں تیرے فرماں برداروں میں ہوں (15:46) جزو

A COMPREHENSIVE SUPPLICATION FOR FORGIVENESS - MERCY AND HELP

Our Lord! Do not take us to task. If we have forgotten or slipped. Our Lord! Lay not on us any obligation as You did lay on those before us! Our Lord! Do not overburden us that which we have not the strength to bear! Pardon us, forgive us and have mercy on us, You, are our Protector, and give us victory over the disbelieving folk. (2:286) PART

Our Lord! Therefore forgive us our offences, and remove from us our evil deeds, and make us die the death of the virtuous. (3:193) PART

Our Lord! And give us that which You have promised to us by Your messengers. Humiliate us not upon the Day of Resurrection. Surely You never go back on any promise. (3:194)

My Lord! Forgive me and have mercy, for You are the best of all who show mercy. (23:118) PART

SUPPLICATION FOR FORGIVENESS OF BROTHERS WHO PRECEDED IN FAITH AND SPARING FROM ANY HEARTACHE OR RANCOUR AGAINST BELIEVERS

Our Lord! Forgive us and our brothers who have preceded us in the faith, and place not in our hearts any rancour towards those who believe. Our Lord! You are Compassionate, Merciful. (59:10) PART

SUPPLICATION FOR PARDONING OF SINS, BRACING FOOTSTEPS, AND SUPPORT AGAINST DISBELIEVERS

Our Lord! Pardon us for our offences and our excesses in business, brace our foothold sure, and support us against the disbelieving folk. (3:147) PART

الدعاء الجامع لمغفرة الذنوب والعفو والرحمة والنصر على القوم الكافرين

رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَاقَتِنَا لَبِئْسَ
عَنَّا وَاعْفُ
عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مُؤْتِنَا
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾

رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ ﴿٣﴾
آل عمران ١٩٣ ﴿جزء﴾

رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا نَخْزِنَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادَ ﴿٣﴾
آل عمران ١٩٤ ﴿جزء﴾

رَبِّ اعْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ
خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿٢٣﴾
المؤمنون ١١٨ ﴿جزء﴾

الدعاء لمغفرة ذنوب الإخوة السابقين بالإيمان

رَبَّنَا
اعْفِرْ لَنَا وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥٩﴾
الحشر ١٠ ﴿جزء﴾

الاستغفار من الذنوب والدعاء لتثبيت الأقدام والنصر على الكافرين

رَبَّنَا اعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٣﴾
آل عمران ١٤٧ ﴿جزء﴾

عفو ومغفرت اور رحمت ونصرت کیلئے جامع دعا

اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہوگئی ہو تو تم ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا۔ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دینا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا۔ اور (اے پروردگار) ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اور ہم کو کافروں پر غالب کر (286:2) جزو

اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما۔ اور ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دے اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا (193:3) جزو

اے پروردگار تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کئے ہیں وہ ہمیں عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا (194:3)

میرے پروردگار مجھے بخش دے اور (مجھ پر) رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے (118:23) جزو

ایمان میں سبقت لے جانے والے بھائیوں کے گناہوں کی مغفرت اور مومنوں کے حق میں کینہ اور حسد سے بچنے کی دعا

اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (وحسد) نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے (10:59) جزو

گناہوں کی معافی ثابت قدمی اور کافروں پر فتح کے حصول کی دعا

اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما۔ اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر (147:3) جزو

SUPPLICATIONS FOR ABSOLUTION AND SHIELDING FROM THE TORMENT OF FIRE

-----Our Lord! We believe. So forgive us our sins and shield us from the torment of Fire! (3:16) PART

Our Lord! Whom You sentence to enter the Fire: Him indeed You have confounded. For evildoers there will be no supporters. (3:192)

Our Lord! We have heard a crier calling to Faith: "Believe you in your Lord!" So we have believed. ----- (3:193) PART

-----Our Lord! Avert from us the torment of Hell; the torment thereof is anguish; (25:65) PART

SUPPLICATION FOR AVERTING FROM GETTING ASTRAY AND REMAINING STEADFAST BELIEVER

Our Lord! Cause not our hearts to stray after You have guided us, and Bestow upon us Mercy from Your Presence. Indeed You, only You are the Bountiful. (3:8)

Our Lord! It is You Who gathers mankind together to a Day of which there is no doubt. Allah fails not to keep the Promise. (3:9)

-----Our Lord! Place us not with the wrongdoing folk. (7:47) PART

-----Our Lord! Perfect our light for us, and forgive us! No doubt You are Capable to do all things. (66:8) PART

SUPPLICATION FOR EXALTING TO HONOUR AND DIGNITY IN THIS WORLDLY LIFE AND IN THE HEREAFTER

-----O Allah! Owner of Sovereignty! You give Control to whom You will, and You withdraw Power from whom You will. You exalt whom You will and You bring low (degrade) whom You will. In Your hand lies the good. Indeed You are Capable to do all things. (3:26) PART

الاستغفار من الذنوب والأدعية للوقاية من عذاب النار

رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾
﴿٣ آل عمران ١٦﴾ جزء

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾
﴿٣ آل عمران ١٩٢﴾

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ﴿١٩٣﴾
﴿٣ آل عمران ١٩٣﴾ جزء

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾
﴿٢٥ الفرقان ٦٥﴾ جزء

الدعاء للثبات على الهدى والإيمان

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾
﴿٣ آل عمران ٨﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾
﴿٣ آل عمران ٩﴾

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾
﴿٧ الاعراف ٤٧﴾ جزء

رَبَّنَا أَمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾
﴿٦٦ التحريم ٦٦﴾ جزء

الدعاء للحصول على العزة والمكانة دنیا و آخرة

اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوْتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْخِلُ مَنْ تَشَاءُ مِنْ خَيْرِ أَعْيُنِ النَّاسِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾
﴿٣ آل عمران ٢٦﴾ جزء

گناہوں سے معافی اور عذاب دوزخ سے نجات کی دعائیں

----- اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ (16:3) جزو

اے پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا۔ اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (192:3)

اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لئے پکار رہا تھا (یعنی) اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ ----- (193:3) جزو

----- اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے (65:25) جزو

گمراہی سے بچنے اور سلامتی ایمان کیلئے دعا

اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما۔ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے (8:3)

اے پروردگار تو اس روز جس (کے آنے) میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو (اپنے حضور میں) جمع کر لے گا بے شک خدا خلاف وعدہ نہیں کرتا (9:3)

----- اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ (شامل) نہ کرنا (47:7) جزو

----- اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے (8:66) جزو

دنیا اور آخرت میں عزت و مرتبہ کیلئے دعا

----- اے اللہ (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے (26:3) جزو

SUPPLICATION FOR GRANT OF AMPLE SUSTENANCE (WITHOUT STINT)

You cause the night to pass into the daylight, and You cause the daytime to pass into the night. And You bring forth the living from the dead, and You bring forth the dead from the living. And You give sustenance to whom You choose, without any reckoning. (3:27)

الدعاء للسط في الرزق

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾
﴿٣ آل عمران ٢٧﴾

کشادگی رزق کے لئے دعا

تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے (27:3)

SUPPLICATION DURING HOLY WAR "JEHAD" (STRIVE IN THE CAUSE OF ALLAH (SWT))

Our Lord! Bestow on us patience, and brace our feet and give us support against the disbelieving folk. (2:250) PART

الدعاء للثبات في ساحة الحرب

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَثَبِّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾
﴿٢ البقرة ٢٥٠﴾ جزء

جہاد فی سبیل اللہ میں صبر۔ ثابت قدمی اور کامیابی کے لئے دعا

اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں (لڑائی میں) ثابت قدم رکھ اور (لشکر) کفار پر فتح یاب کر (250:2) جزو

INVOCATION FOR JOURNEY BY ANY TRANSPORT WHICH REQUIRES A SKILL AND INGENUITY IN HUMANKIND

Glory be to Him Who has subjected these to our (use), and we were not capable (of subduing them); (43:13) PART

الدعاء عند الخروج للسفر

سُبْحَانَ الَّذِي
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿٤٣﴾
﴿٤٣ الزخرف ١٣﴾ جزء
وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿٤٤﴾
﴿٤٣ الزخرف ١٤﴾

دعا آغاز سفر (ایسے اسباب نقل و حمل (سواری) کے ذریعے جس کے چلانے کے لئے انسانی مہارت درکار ہو)

وہ (ذات) پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے (13:43) جزو

And surely, we must turn back to our Lord. (43:14)

اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں (14:43)

SUPPLICATION FOR GUIDANCE OF STRAIGHT FROM THE CROOKED PATH

الدعاء لطلب الهدى

طلب ہدایت (صراط مستقیم) کی دعا

THE OPENING CHAPTER OF HOLY QURAN WITH SEVEN VERSES

سورة الفاتحة . السبع المثاني

سورة فاتحة

Praise be to Allah, Lord of the universe, (1:2)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾
﴿١ الفاتحة ٢﴾

سب طرح کی تعریف خدا ہی کو لائق ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے (2:1)

The Beneficent, the Merciful: (1:3)

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾
﴿١ الفاتحة ٣﴾

بڑا مہربان نہایت رحم والا (3:1)

Ruler of the Day of Judgement, (1:4)

فَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾
﴿١ الفاتحة ٤﴾

انصاف کے دن کا حاکم (4:1)

You (alone) we worship; You alone we call for help. (1:5)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾
﴿١ الفاتحة ٥﴾

(اے پروردگار) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں (5:1)

Guide us the straight path, (1:6)

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾
﴿١ الفاتحة ٦﴾

ہم کو سیدھے راستے پر چلا (6:1)

The path of those whom You have favoured; . (1:6)

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾
﴿١ الفاتحة ٦﴾

ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا (6:1)

With whom You are not angry nor who are lost. (1:7)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾
﴿١ الفاتحة ٧﴾

جن (لوگوں) پر نہ تیرا غصہ ہوا اور جو نہ گمراہ ہوئے (7:1)

More Reference : 5:16 6:39 10:25
16:76 36:61 43:64
Page 223, 850, 118, 145, 141, 294
More reference : Page : 148

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ١٦ ٦ الأنعام: ٣٩
١٠ يونس: ٢٥ ١٦ النحل: ٧٦ ٣٦ يس: ٦١
٤٣ الزخرف: ٦٤
وللتفصيل راجع الصفحة ١٤٨

تفصیل کیلئے دیکھئے 5:16 6:39 10:25
16:76 36:61 43:64
صفحہ 223, 850, 118, 145, 141, 294
مزید حوالہ کے لیے دیکھئے صفحہ 148

SUPPLICATION FOR SEEKING PROTECTION - AND SAFETY

الدعاء لطلب الحفظ والأمان

دعا برائے حفظ و امان

"THE VERSE OF THE THRONE"

آية الكرسي

آیت الکرسی

Allah! There is no god except Him, the Alive, the Eternal. Neither slumber nor sleep overtakes Him. To Him belongs whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. Who is he that intercedes with Him except by His permission? He knows that which is in front of (lies before) them and that which is behind them, while they encompass nothing of His knowledge except what He wills. His throne includes (Seat extends) the heavens and the earth, and He is never weary (or burdened) of preserving them. He is the Sublime, the Tremendous. (Almighty) (2:255)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾
﴿٢ البقرة ٢٥٥﴾

اللہ (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے۔ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے (اسی قدر علم دے دیتا ہے) اس کی بادشاہی (اور علم) آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی مشکل نہیں وہ بڑا عالی رتبہ (اور) جلیل القدر ہے (255:2)

SUPPLICATION FOR ANTI-DOTE TO SUPERSTITION FEAR, AND PLOTS FROM OUTER NATURE

الاستعاذة بالله من شر الحاسد إذا حسد

بیرونی وسوسوں اور حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کی دعا

Say: I seek refuge in the Lord of (Dawn) Daybreak (113:1)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾
﴿١١٣ الفلق ١﴾

کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں (1:113)

From the mischief of evil of that whichever He created; (113:2)

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾
﴿١١٣ الفلق ٢﴾

ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی (2:113)

From the evil of the darkness (dusk) when it is intense, (settles down) (113:3)

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾
﴿١١٣ الفلق ٣﴾

اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے (3:113)

And from the evil of malignant witchcraft, those spitting on knots. (113:4)

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾
﴿١١٣ الفلق ٤﴾

اور گنڈوں میں (پڑھ پڑھ کر) پھونکنے والیوں کی برائی سے (4:113)

And from the mischief of the envier when he envies. (113:5)

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾
﴿١١٣ الفلق ٥﴾

اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے (5:113)

SUPPLICATION FOR SHIELDING AGAINST SECRET WHISPERS OF EVIL WITHIN OWN HEARTS

Say: I seek refuge in the Lord of mankind, (114:1)

The real Ruler of mankind, (114:2)

The Lord (Judge) of mankind, (114:3)

From the mischief of the sneaking (stealthy) whisperer who withdraws (after his whisper), (114:4)

Who whispers in the hearts (breasts) of mankind, (114:5)

Of the Jinns (spirits) or of mankind. (114:6)

الاستعاذۃ باللہ من شر وسواس الشیاطین

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۱﴾
﴿۱۱۴ الناس ۱﴾

مَلِكِ النَّاسِ ﴿۲﴾
﴿۱۱۴ الناس ۲﴾

اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۳﴾
﴿۱۱۴ الناس ۳﴾

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ ﴿۴﴾
﴿۱۱۴ الناس ۴﴾

الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿۵﴾
﴿۱۱۴ الناس ۵﴾

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾
﴿۱۱۴ الناس ۶﴾

اندرونی وسوسہ شیطانی سے پناہ طلب کرنے کی دعا

کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں (1:114)

(یعنی) لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی (2:114)

لوگوں کے معبود برحق کی (3:114)

وسوسہ ڈالنے والے۔ پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے (4:114)

جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے (5:114)

(خواہ وہ) جنات سے (ہو) یا انسانوں میں سے (6:114)

More Reference : 2:128

14:41

25:74

والمزید راجع ۲ البقرة: ۱۲۸ ۱۴ ابراہیم: ۴۱

74:25

41:14

128:2

مزیں ہوالہ

Page

92

453

456

۲۵ الفرقان: ۷۴ ۶ الاحقاف: ۱۵ ۵۹ الحشر: ۱۰

456

453

92

صفحہ

46:15

59:10

400/451

1124

10:59

1124

15:46

400/451

SEEKING FORGIVENESS FOR ANOTHER BELIEVER (CONVEYING REWARD BY ALLAH (SWT) ON THE DAY OF JUDGEMENT) THROUGH ACTS OF CONTINUAL AND INCESSANT EFFECTS

Surely We shall bring the dead to life. We record that which they send before (them), and their footprints. Which they leave behind) and all things We have kept in a Clear register. (36:12)

ایصال الثواب

کسی دوسرے مسلمان کو ایصال ثواب

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿۱۲﴾
﴿۳۶ یس ۱۲﴾

بیشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور (جو) ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن (یعنی لوح محفوظ) میں لکھ رکھا ہے (12:36)

for detail Consult : Page : 285

والتفصیل راجع الصفحة ۲۸۵

تفصیل کے لیے دیکھئے صفحہ 285

ALL THE MOST BEAUTIFUL (BEST AND FINEST) NAMES BELONG TO ALLAH (SWT)

And Allah has the fairest names. Invoke Him by them..... (7:180) PART

Allah! There is no god except Him. To Him belong the most beautiful names. (20:8)

REMEMBER ALLAH (SWT) OFTEN AND MAGNIFY (HYMN) HIS PRAISES

Therefore remember Me, I will remember you. Give thanks to Me, and reject not Me. (2:152)

O you who believe! Remember Allah with much remembrance. (33:41)

Magnify your Lord, (74:3)

لله الاسماء الحسنی

وَاللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا..... ﴿٧ الاعراف ١٨٠﴾ جزء

اِنَّهُ لَكَلِيْلٌ اِلٰهُوْلَهٗ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ﴿٢٠ طه ٨﴾

الامر بذكر الله تعالى كثيرا
كبروا الله بالاستمرار

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ﴿٢ البقرة ١٥٢﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٣٣ الاحزاب ٤١﴾

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٧٤ المدثر ٣﴾

اللہ تعالیٰ کے سب نام ہی اچھے

اور اللہ کے سب نام ہی اچھے ہیں تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو..... (180:7) جزء

(وہ) معبود (برحق) ہے (کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے (سب) نام اچھے ہیں (8:20)

اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو

سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا (152:2)

اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو (41:33)

اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو (3:74)

More Reference	3:41	4:103	8:45	15:98,99	17:111
Page	1088	253	652	296	367
19:65	22:77	25:58	32:15	33:21	48:29
294	258	303	766	172	163/247
73:9	93:11				
324	300				

والمزید راجع	٤ النساء: ١٠٣	٣ آل عمران: ٤١	١٧ الإسراء (بہا اسرائیل): ١١١	١٩ مريم: ٦٥	٢٢ الحج: ٧٧	٢٥ الفرقان: ٥٨	٣٢ السجدة: ١٥	٣٣ الأحزاب: ٢١	٤٨ الفتح: ٢٩	٧٣ المزمل: ٩	٩٣ الضحیٰ: ١١
--------------	---------------	----------------	-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------	----------------	--------------	--------------	---------------

مزیّد حوالہ	111:17	99,98:15	45:8	103:4	41:3
صفحہ	367	296	652	253	1088
21:33	15:32	58:25	77:22	65:19	
172	766	303	258	294	
		11:93	9:73	29:48	
		300	324	163/247	

FAIREST NAMES

ALLAH (SWT)

The Name of Allah (swt) is mentioned at 2149 places in Holy Qur'an

- NO DEITY EXCEPT ALLAH ALONE (THERE IS NONE WHO HAS THE RIGHT TO BE WORSHIPPED BUT ALLAH (SWT)) Page 1136

THE ONE - THE UNIQUE - 112:1,4 72:20 (NO PARTNER TO HIS DOMINION)

- THE UNIQUE - NO DEITY EXCEPT HIM Page 1140

THE LAST 57:3

THE MOST HIGH 92:20 87:1

THE FIRST 57:3

THE EVOLVER (SHAPER OUT OF NOTHING) 59:24

THE EXPANDER - (MAY ENLARGE PROVISIONS OF SUSTENANCE TO ANYONE) 2:245 13:26 17:30 28:82 29:62 30:37 34:29,36 39:52 42:12,19

THE INNERMOST-HIDDEN - 57:3 (AS NO INTELLECT CAN GRASP HIS ESSENCE)

THE RESURRECTOR - THE REVIVER (WHO SHALL RAISE US AGAIN ON THE DAY) 6:29 17:49,98 23:16,37,82 37:16 56:47 72:7

THE ABIDING 16:94 20:73 55:27

اسمائے حسنی

اللہ سبحانہ و تعالیٰ

اسمائے حسنی

اللہ سبحانہ و تعالیٰ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام گرامی قرآن کریم میں 2149 مرتبہ آیا ہے

- اللہ لا الہ الاہو - اللہ لا الہ الاہو الصفحہ 1136 (ہم جس کے سوا کوئی معبود نہیں) صفحہ 1136

الاحد (یک) الاحد ٧٢ الجن ٢٠ ١١٢ الإخلاص ٤٠١

الواحد (ایک اکیلا) صفحہ 1140 - الواحد الصفحہ 1140

الآخر (سب سے آخر) الآخر ٥٧ الحديد ٢

الاعلیٰ (بلند ذات) الاعلیٰ ٩٢ الليل ٢٠ ٨٧ الاعلیٰ ١

الاول (سب سے پہلے) الاول ٥٧ الحديد ٢

الباری (وجود بخشنے والا، جان ڈالنے والا) الباری ٥٩ الحشر ٢٤

الواسط (میان میں) الباسط ٢ البقرة ٢٤٥ ١٣ الرعد ٢٦ ١٧ الإسراء (بہا اسرائیل) ٣٠ ٢٨ القصص ٨٢ ٢٩ العنکبوت ١٢ ٣٠ الروم ٣٧ ٣٤ سباء ٢٩ ٣٦ ٣٩ الزمر ٥٢ ٤٢ الشوریٰ ١٢ ١٩

الباطن (ہمیں ذات سے سب پر پوشیدہ و نامی) الباطن ٥٧ الحديد ٢

الباعث (مردوں کو زندہ کرنے والا) الباعث ٦ الأنعام ٢٩ ١٧ الإسراء (بہا اسرائیل) ٤٩ ٩٨ ٢٣ المؤمنون ١٦ ٣٧ ٢٣ ١٦ ٧٢ الجن ٧

الباقی (باقی) الباقی ١٦ النحل ٩٤ ٢٠ طه ٧٣ ٥٥ الرحمن ٢٧

THE EVERLASTING - (INCOMPARABLE) 2:117 6:101	البديع (بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والا) البديع ۲ البقرة ۱۱۷، ۶ الأنعام ۱۰۱
THE BENIGN (Gentle in Disposition) 52:28	البر (اچھا سلوک کرنے والا) البر ۵۲ الطور ۲۸
THE BENIGN - THE MERCIFUL 52:28	-- البر الرحيم (احسان کرنے والا مہربان) -- البر الرحيم ۵۲ الطور ۲۸
THE OBSERVANT - THE OBSERVER - THE WATCHFUL 2:96,110,233,237,265 3:15,20,156,163 4:58,134 5:71 8:39,72 11:112 17:1,17,30,96 22:61,75 25:20 31:28 33:9 34:11 35:31,45 40:44,56,20 41:40 42:11 48:24 49:18 57:4 58:1 60:3 64:2 67:19 76:2 84:15	البصير البقرة ۲ البقرة ۱۱۰، ۹۶، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۶۵، ۳ آل عمران ۱۵، ۲۰، ۱۰۶، ۱۶۳، ۴ النساء ۵۸، ۱۳۴، ۵ المائدة ۷۱، ۸ الأنفال ۳۹، ۷۲، ۱۱ ہود ۱۱۲، ۱۷ الإسراء (بہ اسرا تیل) ۱۷، ۱۰، ۱۷، ۳۰، ۹۶، ۲۲ الحج ۶۱، ۷۵، ۲۵ الفرقان ۲۰، ۳۱ لقمان ۲۸، ۳۳ الأحزاب ۹، ۳۴ سباء ۱۱، ۳۵ فاطر ۳۱، ۴۵، ۴۰ المؤمنون (غالی) ۲۰، ۵۶، ۴۴، ۴۱ حم السجدة (ملت) ۴۰، ۴۲ الشوری ۱۱، ۴۸ الفتح ۲۴، ۴۹ الحجرات ۱۸، ۵۷ الحديد ۴، ۵۸ المجادلة ۱، ۶۰ الممتحنة ۳، ۶۴ التغابن ۲، ۶۷ الملك ۱۹، ۷۶ الدهر (الإنسان) ۲، ۸۴ الانشقاق ۱۵
LORD OF CLEAR PROOF-EVIDENCE 4:174 12:24 28:32	البرهان (قوی دلیل والا) البرهان ۴ النساء ۱۷۴، ۱۲ یوسف ۲۴، ۲۸ القصص ۳۲
THE RELENTING - THE CLEMENT - (THE ACCEPTER OF REPENTANCE) 4:16,64 5:29 9:104,106,117 34:10 40:3 49:12 110:3	التواب البقرة ۲ البقرة ۳۷، ۵۴، ۱۲۸، ۱۶۰، ۴ النساء ۱۶، ۶۴، ۵ المائدة ۲۹، ۹ التوبة ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۱۷، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱

THE MERCIFUL AND LOVING 11:90	الرَّحِيمُ الْوَدُودُ (رَحْمٌ وَأَوْ مَحَبَّةٌ وَاللَّهِ) -- الرَّحِيمُ الْوَدُودُ ١١ هُودٌ ٩٠.
THE MOST MERCIFUL OF ALL THOSE WHO SHOW MERCY 7:151 12:64,92 21:83 23:109,118	الرَّحْمَ الرَّاحِمِينَ -- الرَّحْمَ الرَّاحِمِينَ ٧ الْأَعْرَافُ ١٥١، ١٢ يُونُسُ ٦٤، ٩٢، ٢١ الْأَنْبِيَاءُ ٨٣، ٢٣ الْمُؤْمِنُونَ ١٠٩، ١١٨ (سَبَّحَ زَيْدٌ رَحْمَ كَرْنِي وَاللَّهِ)
THE OBSERVER - THE WATCHFUL 4:1 33:52	الرَّقِيبُ (بِرَأْيِهِمْ) الرَّاقِبُ ٤ النَّسَاءُ ١، ٣٣ الْأَحْزَابُ ٥٢.
THE COMPASSIONATE 2:207 3:30 9:117,128 16:7,47 22:65 24:20 57:9 59:10	الرَّؤُوفٌ (شَفِيقٌ) الرَّؤُوفُ ٢ الْبَقَرَةُ ٢٠٧، ٣ آلِ عِمْرَانَ ٣٠، ٩ التَّوْبَةُ ١١٧، ١٢٨، ١٦ النَّحْلُ ٧، ٤٧، ٢٢ الْحَجُّ ٦٥، ٢٤ النُّورُ ٢٠، ٥٧ الْحَدِيدُ ٩، ٥٩ الْحَشْرُ ١٠.
FULL OF PITY AND MOST MERCIFUL 2:143 9:117,128 16:7 22:65 24:20 57:9 59:10	الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ -- الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ٢ الْبَقَرَةُ ١٤٣، ٩ التَّوْبَةُ ١١٧، ١٢٨، ١٦ النَّحْلُ ٧، ٢٢ الْحَجُّ ٦٥ (شَفِيقٌ وَأَوْ رَحْمٌ كَرْنِي وَاللَّهِ) ٢٤ النُّورُ ٢٠، ٥٧ الْحَدِيدُ ٩، ٥٩ الْحَشْرُ ١٠.
THE MOST SWIFT OF RECKONERS 2:202 3:19,199 5:4 13:41 14:51 24:39 40:17	السَّرِيعُ الْحِسَابُ السَّرِيعُ الْحِسَابُ ٢ الْبَقَرَةُ ٢٠٢، ٣ آلِ عِمْرَانَ ١٩، ١٩٩، ٥ الْمَائِدَةُ ٤، ١٣ الرَّعْدُ ٤١، ١٤ إِبْرَاهِيمَ ٥١، ٢٤ النُّورُ ٣٩، ٤٠ الْمُتَمَوِّنُ (رِغَابٌ) ١٧.
SWIFT IN PROSECUTION 6:165	السَّرِيعُ الْعِقَابُ (بِمَتِّ جَلْدٍ سَرِيعٍ وَاللَّهِ) -- السَّرِيعُ الْعِقَابُ ٦ الْأَنْعَامُ ١٦٥.
THE SOURCE OF PEACE 59:23	السَّلَامُ (السَّلَامَاتُ) السَّلَامُ ٥٩ الْحَشْرُ ٢٣.
THE AUTHORITY 55:33	سُلْطَانٌ (قَابٌ) سُلْطَانٌ ٥٥ الرَّحْمَنُ ٣٣.
THE ALERT, THE ALL HEARING 2:127,137 181,224,227,244,256 3:35,34,38,121 4:58,134,148 5:76 6:13,15 7:200 8:53,61 9:98,103 10:65 12:34 17:1 21:4 22:61 24:21,60 26:220 29:5,60 31:28 34:50 40:20,56 41:36 42:11 44:6 49:1 58:1 76:2	السَّمِيعُ السَّمِيعُ ٢ الْبَقَرَةُ ١٢٧، ١٣٧، ١٨١، ٢٢٤، ٢٢٧، ٢٤٤، ٢٥٦، ٣ آلِ عِمْرَانَ ٣٥، ٣٤، ٣٨، ١٢١، ٤ النَّسَاءُ ٥٨، ١٣٤، ١٤٨، ٥ الْمَائِدَةُ ٧٦، ٦ الْأَنْعَامُ ١٣، ١٥، ١٧ الْأَعْرَافُ ٢٠٠، ١٨ الْأَنْفَالُ ٥٣، ٦١، ٩ التَّوْبَةُ ٩٨، ١٠٣، ١٠ يُونُسُ ٦٥، ١٢ يُونُسُ ٦٥، ١٧ الْإِسْرَاءُ (بَنِي إِسْرَائِيلَ) ١، ٢١ الْأَنْبِيَاءُ ٤، ٢٢ الْحَجُّ ٦١، ٧٥، ٢٤ النُّورُ ٢١، ٦٠، ٢٦ الشُّعْرَاءُ ٢٢٠، ٢٩ الْعَنْكَبُوتُ ٥، ٦٠، ٣١ لِقَمَانَ ٢٨، ٣٤ سَبَاءُ ٥٠، ٤٠ الْمُتَمَوِّنُ (رِغَابٌ) ٢٠، ٥٦، ٤١ حَمُّ السَّجْدَةِ (فَصَلَتْ) ٣٦، ٤٢ الشُّورَى ١١، ٤٤ الدِّخَانُ ٦، ٤٩ الْحَجَرَاتُ ١، ٥٨ الْمُجَادِلَةُ ١، ٧٦ الدَّهْرُ (الْإِنْسَانُ) ٢.
THE ALERT, AND OBSERVANT 4:58,134 17:1 22:61,75 31:28 40:20,56 42:11 58:1 76:2	السَّمِيعُ بَصِيرٌ -- السَّمِيعُ بَصِيرٌ ٤ النَّسَاءُ ٥٨، ١٣٤، ١٧ الْإِسْرَاءُ (بَنِي إِسْرَائِيلَ) ١، ٢٢ الْحَجُّ ٦١، ٧٥، ٣١ لِقَمَانَ ٢٨، ٤٠ الْمُتَمَوِّنُ (رِغَابٌ) ٢٠، ٥٦، ٤٢ الشُّورَى ١١، ٥٨ الْمُجَادِلَةُ ١، ٧٦ الدَّهْرُ (الْإِنْسَانُ) ٢.
HEARER OF APPEALS 3:38	السَّمِيعُ الدَّعَا (الْمُتَجَاوِسُ كَوْسُفْنِي وَاللَّهِ) -- السَّمِيعُ الدَّعَا ٣ آلِ عِمْرَانَ ٣٨.
THE HEARER - THE AWARE 2:127,137 181,224,227,244,256 3:35,34,121 4:148 5:76 6:13,15 7:200 8:53,61 9:98,103 10:65 12:34 21:4 24:21,60 26:220 29:5,60 41:36 44:6 49:1	السَّمِيعُ عَلِيمٌ -- السَّمِيعُ عَلِيمٌ ٢ الْبَقَرَةُ ١٢٧، ١٣٧، ١٨١، ٢٢٤، ٢٢٧، ٢٤٤، ٢٥٦، ٣ آلِ عِمْرَانَ ٣٥، ٣٤، ٣٨، ١٢١، ٤ النَّسَاءُ ١٤٨، ٥ الْمَائِدَةُ ٧٦، ٦ الْأَنْعَامُ ١٣، ١٥، ١٧ الْأَعْرَافُ ٢٠٠، ١٨ الْأَنْفَالُ ٥٣، ٦١، ٩ التَّوْبَةُ ٩٨، ١٠٣، ١٠ يُونُسُ ٦٥، ١٢ يُونُسُ ٦٥، ١٧ الْإِسْرَاءُ (بَنِي إِسْرَائِيلَ) ١، ٢١ الْأَنْبِيَاءُ ٤، ٢٢ الْحَجُّ ٦١، ٧٥، ٢٤ النُّورُ ٢١، ٦٠، ٢٦ الشُّعْرَاءُ ٢٢٠، ٢٩ الْعَنْكَبُوتُ ٥، ٦٠، ٣١ لِقَمَانَ ٢٨، ٣٤ سَبَاءُ ٥٠، ٤١ حَمُّ السَّجْدَةِ (فَصَلَتْ) ٣٦، ٤٤ الدِّخَانُ ٦، ٤٩ الْحَجَرَاتُ ١.
THE HEARER, AND EVER NEAR 34:50	السَّمِيعُ قَرِيبٌ (زَيْدٌ كَلِمَةٌ لَوْ سَمِعْتَهُ وَاللَّهِ) -- السَّمِيعُ قَرِيبٌ ٣٤ سَبَاءُ ٥٠.
THE APPRECIATIVE 2:158 4:148	شَاكِرٌ (قَدْرَشَانٌ) شَاكِرٌ ٢ الْبَقَرَةُ ١٥٨، ٤ النَّسَاءُ ١٤٨.
EVER RESPONSIVE, THE AWARE 2:158 4:148	شَاكِرٌ عَلِيمٌ (قَدْرَشَانٌ لَوْرِدَانٌ) -- شَاكِرٌ عَلِيمٌ ٢ الْبَقَرَةُ ١٥٨، ٤ النَّسَاءُ ١٤٨.
THE HEALER - THE CURER 26:80	الشَّافِي (صَحْتٌ عَطَاكَ كَرْنِي وَاللَّهِ) الشَّافِي ٢٦ الشُّعْرَاءُ ٨٠.
EVERE IN PUNISHMENT STERN IN REPRISAL 53:5	الشَّدِيدُ الشَّدِيدُ الْقَوِيُّ ٥٣ النُّجْمُ ٥.
EVERE IN PUNISHMENT STERN IN REPRISAL 2:196,211 3:11 5:2,98 8:13,25,48,52 10:3,22 59:4,7	الشَّدِيدُ الْعِقَابُ الشَّدِيدُ الْعِقَابُ ٢ الْبَقَرَةُ ١٩٦، ٢١١، ٣ آلِ عِمْرَانَ ١١، ٥ الْمَائِدَةُ ٢، ٩٨، ١٨ الْأَنْفَالُ ١٣، ٢٥، ٤٨، ٥٢، ٤٠ الْمُتَمَوِّنُ (رِغَابٌ) ٣، ٢٢، ٥٩ الْحَشْرُ ٧، ٤.
EVERE IN PUNISHMENT STERN IN REPRISAL 2:165 4:4 6:124 22:124 38:26 57:20	الشَّدِيدُ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ الْعَذَابُ ٢ الْبَقَرَةُ ١٦٥، ٣ آلِ عِمْرَانَ ٤، ٦ الْأَنْعَامُ ١٢٤، ٢٢ الْحَجُّ ٢، ٣٨ ص ٢٦، ٥٧ الْحَدِيدُ ٢٠.
THE APPRECIATIVE - THE RESPONSIVE 4:17 35:30,34 42:33	الشُّكُورُ (قَدْرَشَانٌ) الشُّكُورُ ٦٤ التَّغَابُنُ ١٧، ٣٥ فَاطِرٌ ٣٠، ٣٤، ٤٢ الشُّورَى ٣٣.
THE RESPONSIVE AND THE THE CLEMENT 64:17	الشُّكُورُ حَلِيمٌ (قَدْرَشَانٌ لَوْرِدَانٌ) -- الشُّكُورُ حَلِيمٌ ٦٤ التَّغَابُنُ ١٧.

THE WITNESS 3:98 4:44,79,159,166 5:117 6:19 10:29,46 13:43 17:96 22:17 29:52 33:55 41:53 48:28 58:6 85:9	الشہید الأنعام ۱۹، یونس ۲۹، الرعد ۴۳، الإسراء (بنی اسرائیل) ۹۶، الحج ۱۷، العنکبوت ۵۲، الأحزاب ۵۵، حم السجدة (فلت) ۵۲، الفتح ۵۸، المجادلة ۶، ۸۵ البروج ۹	الشہید (حاضر و غاظر)
THE PATIENT - BESTOWER OF ENDURANCE VOUCHSAFER OF STEADFASTNESS 2:250 16:61 18:58 35:45 42:30 68:45	الصبار ۲ البقرة ۲۵۰، النحل ۶۱، الکہف ۵۸، فاطر ۳۵، ۴۲ الشوری ۳۰، ۶۸ القلم ۴۵	الصبار (بڑے صبر اور تحمل والا)
THE ETERNAL ABSOLUTE (Source of everything) 112:2	الصمد ۱۱۲ الإخلاص ۲	الصمد (بے نیاز)
THE DISTRESSER WHO CAN TOUCH YOU WITH AFFLICTION (WHO CAN ENCOUNTER YOU WITH MISFORTUNE) 6:17	الضار ۱۶ الأنعام ۱۷	الضار (ضرر پہنچانے کی قدرت والا)
THE MANIFEST-THE OUTWARD-THE EVIDENT (with ample signs of his existence) 11:72	الظاهر ۵۷ الحديد ۳	الظاهر (ظاہر اور آشکار)
THE ASTONISHING 11:72	العجيب ۱۱ هود ۷۲	العجيب (عجب)
THE JUST - THE JUDGE 2:48,123 3:25 4:49 8:70 40:17 45:22	العدل ۲ البقرة ۴۸، آل عمران ۲۵، النساء ۴۹، الأنفال ۷۰، ۴۰ المتؤمن (ظلم) ۱۷، ۴۵ الجاثية ۲۲	العدل (مراپا انصاف)
- THE MAJESTIC, THE COMPELLER 59:23	العزیز الجبار ۵۹ الحشر ۲۳	- العزیز الجبار (سب پر غالب اور سب سے زبردست)
- THE MIGHTY, THE WISE 2:129,209 220,240,260 3:6,18,62,126 4:56,158,165 5:38,118 8:10,49,63,27 9:7,40 14:4 27:60 29:26,42 30:5,27 31:9,27 34:27 35:2 39:1 40:8 42:3 45:2,37 46:2 48:7 57:1 59:1,24 60:5 61:1 62:3 64:18	العزیز الحکیم ۲ البقرة ۱۲۹، ۲۲۰، ۲۴۰، ۲۲۰، ۲۰۹، آل عمران ۳، ۱۸، ۶، ۱۲۶، ۴ النساء ۱۰۸، ۱۰۷، المائدة ۳۸، ۱۱۸، الأنفال ۱۰، التوبة ۹، ۴۰، ۷، ۱۴ ابراهيم ۴، النمل ۲۷، العنکبوت ۲۹، الروم ۳۰، لقمان ۳۱، ۳۴ سباء ۲۷، فاطر ۲، الزمر ۱، ۴۰ المتؤمن (ظلم) ۸، ۴۲ الشوری ۳، ۴۵ الجاثية ۲، ۲۷، ۲، الفتح ۷، الحديد ۵۷، الحشر ۵۹، ۶۰ الممتحنة ۵، الصف ۶۱، الجمعة ۶۲، التغابن ۱۸	- العزیز الحکیم (غالب اور حکمت والا)
- THE MIGHTY THE OWNER OF PRAISE 14:1 34:6	العزیز الحمید ۱۴ ابراهيم ۱، ۳۴ سباء ۶، ۸۵ البروج ۸	- العزیز الحمید (غالب اور قابل تعریف)
- THE MIGHTY ABLE TO REQUITE 3:3 5:95 14:47	العزیز ذوالنقام ۳ آل عمران ۳، المائدة ۹۵، ابراهيم ۱۴، ۴۷	- العزیز ذوالنقام (زبردست اور بدلہ لینے والا)
- THE MIGHTY - THE MERCIFUL 26:9,68,104,122 140,159,178,191,217 30:5 32:6 36:5 44:42	العزیز الرحیم ۲۶ الشعراء ۹، ۶۸، ۱۰۴، ۱۰۴، ۱۲۲، ۱۰۴، ۱۰۹، ۱۴۰، ۱۷۵، ۱۹۱، ۲۱۷، ۳۰ الروم ۵، السجدة ۶، ۳۶ یس ۵، ۴۴ الدخان ۴۲	- العزیز الرحیم (غالب اور رحم کرنے والا)
- THE MIGHTY - THE AWARE 6:96 27:78 36:38 40:2 41:12 43:9	العزیز العلیم ۱۶ الأنعام ۹۶، النمل ۷۸، یس ۳۸، ۴۰ المتؤمن (ظلم) ۲، ۴۱ حم السجدة (فلت) ۱۲، ۴۳ الزخرف ۹	- العزیز العلیم (غالب اور دانیا)
- THE MIGHTY - THE PARDONING 38:66 39:5	العزیز الغفار ۳۸ ص ۶۶، الزمر ۵، ۴۰ المتؤمن (ظلم) ۴۲	- العزیز الغفار (غالب اور بخشنے والا)
- THE MIGHTY - THE FORGIVING 35:2 67:28	العزیز الغفور ۳۵ فاطر ۲، ۶۷ الملك ۲۸	- العزیز الغفور (غالب اور بخش دینے والا)
- THE MIGHTY - THE NOBLE 44:49	العزیز الکریم (بڑی عزت اور بڑے اکراؤ والا) - العزیز الکریم ۴۴ الدخان ۴۹	- العزیز الکریم (بڑی عزت اور بڑے اکراؤ والا)
THE MIGHTY - THE BESTOWER 38:9	العزیز الوہاب (غالب اور بہت عطا کرنے والا) - العزیز الوہاب ۳۸ ص ۹	- العزیز الوہاب (غالب اور بہت عطا کرنے والا)
THE GREAT ONE - THE TREMENDOUS ALMIGHTY 2:49,255 7:141 14:6 24:15 33:53 42:4 56:74,96 69:33,52	العظیم ۲ البقرة ۲۵۰، ۴۹، الأعراف ۱۴۱، ابراهيم ۶، ۱۴، النور ۱۵، الأحزاب ۵۳، الشوری ۴، الواقعة ۷۴، الحاقة ۳۳، ۵۲	العظیم (بڑا بزرگ)
THE PARDONER - THE FORGIVING - THE MILD 4:43,99,149 22:60 58:2	العفو ۴ النساء ۴۳، ۹۹، الحج ۲۲، المجادلة ۲	العفو (معاف کرنے والا)
- THE FORGIVING AND MERCIFUL 4:43,99 22:60 58:2	العفو غفور ۴ النساء ۴۳، الحج ۲۲، المجادلة ۲	- العفو غفور (معاف کرنے والا اور بخش دینے والا)
- THE FORGIVING - THE POWERFUL 4:149	العفو قدير (معاف کرنے والا اور صاحب قدرت) - العفو قدير ۴ النساء ۱۴۹	- العفو قدير (معاف کرنے والا اور صاحب قدرت)
THE KNOWER OF ALL HIDDEN THINGS 5:109,116	العلیم الغیوب (ہمیں دیکھنے والی چیزوں کی خبر دینے والا) - العلام الغیوب ۵ المائدة ۱۰۹، ۱۱۶	العلیم الغیوب (ہمیں دیکھنے والی چیزوں کی خبر دینے والا)

THE SUBLIME - THE MOST HIGH 2:255 4:34 22:62 31:30 34:23 40:12 42:4,51	۲ البقرة ۲۵۵ ۴ النساء ۳۴ ۲۲ الحج ۶۲ ۳۱ لقمان ۳۰	العلي (بندوبست)
THE SUBLIME - THE TREMENDOUS 2:255 42:4	۴ الشوری ۴۲ ۲ البقرة ۲۵۵	العلي العظیم (عالیشان عظمت والا)
THE SUBLIME - THE MAJESTIC 22:62 31:30 34:23 40:12	۳۴ سبأ ۲۳ ۳۱ لقمان ۳۰ ۲۲ الحج ۶۲ ۴۲ الشوری ۴۰	العلي الکبیر (عالیشان اور سب سے بڑا)
THE WISE, THE AWARE - ALL KNOWING 2:2,95,115,158,181,215,224,227,231,244,246,248 256,261,268,273,282,283 3:34,63,73,92,115 119,121,154 4:32,39,70,127,147,148,176 5:54,97 6:32,39,70,127 7:200 8:17,42 13,53,71,75 9:44,47,98,103,106,110,115 10:36 12:19,50 15:25 16:28 23:51 24:21,28,32,35,41,60,64 27:6 29:62 35:8 42:12 49:1,8,13,16 57:3 58:7 60:10 62:7 33:40,54 48:26	۲ البقرة ۲ ۳ آل عمران ۳ ۵ المائدة ۷ ۹ التوبة ۹ ۱۲ یوسف ۱۲ ۱۶ النحل ۱۶ ۲۴ النور ۲۴ ۳۳ الأحزاب ۳۳ ۴۲ الشوری ۴۲ ۴۸ الفتح ۴۸	العلیم (دانا جاننے والا)
AWARE OF THE SECRETS OF BREASTS 3:119,154 5:7 8:43 11:5 31:23 35:38 39:7 42:24 64:4 67:13	۸ الأنفال ۴۳ ۱۱ هود ۵ ۳۱ لقمان ۲۳ ۳۵ فاطر ۳۵ ۳۹ الزمر ۷ ۴۲ الشوری ۲۴	العلیم بذات الصدور (دانا کی باتوں سے واقف)
THE WISE AND INDULGENT 4:11,17,24 26,92,104,111,170 9:15,28,60,97 12:6 22:52 24:18,58,59 33:1 48:4 76:30	۴ النساء ۱۱ ۱۲ یوسف ۱۲ ۱۶ النحل ۱۶ ۲۴ النور ۲۴ ۳۳ الأحزاب ۳۳ ۴۸ الفتح ۴۸	العلیم الحکیم (دانا اور نیکو والا)
THE WISE AND THE LENIENT 4:12 33:51 22:59	۴۲ الحج ۵۹ ۳۳ الأحزاب ۳۳	العلیم حلیم (دانا اور بردبار)
EVER KNOWER, THE AWARE 4:35 31:34 49:13 66:3	۳۴ لقمان ۳۴ ۴۹ الحجرات ۱۳ ۶۶ التحريم ۳	العلیم الخبیر (دانا اور خبر دار)
THE WISE, THE MIGHTY 16:70 30:54 35:44 42:50	۱۶ النحل ۱۶ ۳۰ الروم ۳۰ ۳۵ فاطر ۳۵ ۴۲ الشوری ۴۰	العلیم قدير (دانا اور قدرت رکھنے والا)
THE PARDONING- THE FORGIVER 2:285 20:82 38:66 39:5 40:42 71:10	۲ البقرة ۲۸۵ ۳۸ ص ۳۸ ۳۹ الزمر ۳۹	الغفار (درگزر کرنے والا) اور معاف کرنے والا
THE FORGIVER OF SIN 40:3	۴۰ المئومن (غالی) ۳	الغافر الذنب (گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرنے والا)
THE FORGIVING 2:73,173,182,192,199,218 226,225,235 3:31,89,129,155 4:23,25,36 43,96,99,100,106,110,129,152 5:3,34,39 73,98,101 6:54,145,165 7:153,167 8:69,70 9:5,27,91,99,102 10:107 12:53,98 15:49 16:110,115,119 17:44 18:58 22:60 24:22,33,62 25:6,70 27:11 28:16 33:24,50,59,73 34:2,15 35:3,27,34,41 39:53 41:32 42:5 46:8 48:14 49:14,5 58:12,20 60:7,12 64:14 66:1 67:2 73:20 85:14	۲ البقرة ۲ ۳ آل عمران ۳ ۴ النساء ۴ ۵ المائدة ۵ ۶ الأنعام ۶ ۷ الأعراف ۷ ۸ الأنفال ۸ ۹ التوبة ۹ ۱۰ یونس ۱۰ ۱۲ یوسف ۱۲ ۱۶ النحل ۱۶ ۱۷ الإسراء (بھی اسرائیل) ۱۷ ۲۴ النور ۲۴ ۲۵ الفرقان ۲۵ ۲۷ النمل ۲۷ ۳۳ الأحزاب ۳۳ ۳۴ سبأ ۳۴ ۳۵ فاطر ۳۵ ۳۹ الزمر ۳۹ ۴۱ حم السجدة (صفت) ۴۱ ۴۲ الشوری ۴۲ ۴۶ الأحقاف ۴۶ ۴۸ الفتح ۴۸ ۶۶ التحريم ۶۶ ۷۳ المزمل ۷۳ ۸۵ البروج ۸۵	الغفور (معاف کرنے والا)
THE FORGIVING AND THE CLEMENT 2:225,235 3:155 5:101	۲ البقرة ۲۳۵ ۳ آل عمران ۳ ۵ المائدة ۵	الغفور حلیم (بخشنے والا اور بردبار)
THE FORGIVING AND THE MOST MERCIFUL 3:31,89,129 4:25 5:3,34,39,73,98 6:54,145,165 8:69,70 9:5,27,91,99,102 10:107 12:53,98 14:36 15:49 16:110,115,119 24:22,33,62 25:6,70 27:11 28:16 34:2 39:53 41:32 42:5 46:53 49:5,14 67:2	۳ آل عمران ۳ ۴ النساء ۴ ۵ المائدة ۵ ۶ الأنعام ۶ ۷ الأعراف ۷ ۸ الأنفال ۸ ۹ التوبة ۹ ۱۰ یونس ۱۰ ۱۲ یوسف ۱۲ ۱۶ النحل ۱۶ ۱۷ الإسراء (بھی اسرائیل) ۱۷ ۲۴ النور ۲۴ ۲۵ الفرقان ۲۵ ۲۷ النمل ۲۷ ۳۳ الأحزاب ۳۳ ۳۴ سبأ ۳۴ ۳۵ فاطر ۳۵ ۳۹ الزمر ۳۹ ۴۱ حم السجدة (صفت) ۴۱ ۴۲ الشوری ۴۲ ۴۶ الأحقاف ۴۶ ۴۸ الفتح ۴۸ ۶۶ التحريم ۶۶ ۷۳ المزمل ۷۳ ۸۵ البروج ۸۵	الغفور الرحیم (بخشنے والا اور مہربان)
THE FORGIVING AND THE APPRECIATIVE 35:30,34 42:5	۳۵ فاطر ۳۵ ۴۲ الشوری ۴۰	الغفور الشکور (بخشنے والا اور قدر دان)
THE FORGIVING AND THE AFFECTIONATE 85:14	۸۵ البروج ۸۵	الغفور الودود (بخشنے والا اور محبت کرنے والا)
THE FORGIVING AND FULL OF MERCY 18:58	۱۸ الکھف ۱۸	الغفور ذو الرحمة (بخشنے والا اور صاحب رحمت)

THE SELF SUFFICIENT-THE TRANSCENDENT 2:263,267 3:97 6:131,133 10:68 14:8 22:64 35:15 39:7 47:38 57:24 60:6 64:6	الغنى (بے پرواہ) الغنى البقرة ۲، البقرة ۲۶۷، آل عمران ۳، الأنعام ۱۳۱، یونس ۱۰، یونس ۶۸، ابراہیم ۸، الحج ۲۲، النمل ۴۰، العنکبوت ۶، لقمان ۱۲، فاطر ۳۵، فاطر ۱۵، الزمر ۷، محمد ۲۸، الحديد ۲۴، الممتحنة ۶، التغابن ۶
- FREE FROM ALL WANTS AND THE LORD OF MERCY 6:133	الغنى ذو الرحمة (بے پرواہ اور صاحب رحمت) -- الغنى ذو الرحمة ۶ الأنعام ۱۳۳
- THE TRANSCENDENT AND THE LENIENT 2:263	الغنى الحليم (بے پرواہ اور روبرو) -- الغنى الحليم ۲ البقرة ۲۶۳
- ABSOLUTE IN INDEPENDENCE AND THE BOUNTIFUL 27:40	الغنى الكريم (بے پرواہ اور کرم کرنے والا) -- الغنى الكريم ۲۷ النمل ۴۰
- THE SELF SUFFICIENT AND THE OWNER OF PRAISE 2:267 6:131 14:8 22:64 31:12 35:15 57:24 60:6 64:6	الغنى الحميد (بے پرواہ اور لائق حمد و ثناء) -- الغنى الحميد ۲ البقرة ۲۶۷، الأنعام ۱۳۱، ابراہیم ۸، الحج ۲۲، لقمان ۱۲، فاطر ۳۵، فاطر ۱۵، الحديد ۲۴، الممتحنة ۶، التغابن ۶
- ALTOGETHER INDEPENDENT OF (his) THE CREATURE OF UNIVERSE 3:97 29:6	غنى عن العالمين (سارے جہانوں سے بے نیاز) -- غنى عن العالمين ۳ آل عمران ۳، العنکبوت ۶
THE CREATOR OF HEAVENS AND EARTH 6:14 12:101 14:10 35:1 39:46 42:11	فاطر السموات والارض (آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا) ۱۴ ابراہیم ۱۰، فاطر ۳۵، فاطر ۱۱، الأنعام ۱۴، یوسف ۱۰۱
THE DELIVERER - THE RESCUER - THE OPENER 34:27	الفتاح (بہت بڑا مشکل کشا) الفتح ۳۴ سباء ۲۷
- ALL KNOWING JUDGE 34:27	الفتاح العليم (مشکل کشا اور وسیع علم والا) -- الفتح العليم ۳۴ سباء ۲۷
THE ACCEPTER OF REPENTANCE 40:3	قابل التوب قابل التوب ۴۰ المثنون (ظلمتوں سے) ۳
THE ABLE 6:37,65 36:81 46:33 86:8 75:40	القادر (قدرت رکھنے والا) القادر ۶ الأنعام ۳۶، یس ۸۱، الأحقاف ۲۳، الطارق ۸، الزمر ۴۶، الشوری ۴۰، القیامۃ ۴۰
THE CONSTRICTOR (MAY STRAITEN PROVISION OF SUSTENANCE TO ANYONE) 2:245 39:67	القابض (روزی تک کر دینے والا) القابض ۲ البقرة ۲۴۵، الزمر ۶۷
THE OMNIPOTENT - THE IRRESISTIBLY SUPREME - THE SUBDUER 6:18	القاهر (تائب) القاهر ۶ الأنعام ۱۸
THE HOLY ONE 59:23 62:1	القدوس (برائیوں سے پاک ذات) القدوس ۵۹ الحشر ۲۳، الجمعة ۶۲
- THE HOLY ONE - BESTOWER OF PEACE 59:23	القدوس السلام (بے عیب ذات، سلامتی اور امن دینے والا) -- القدوس السلام ۵۹ الحشر ۲۳
ABLE TO DO ALL 2:20,106,109,148,259,284 3:26,29,165,189 4:133,149 5:17,19,40,120 6:17 8:41 9:39 11:4 16:70,77 22:6 24:45 25:54 29:20 30:50,54 33:27 35:1,44 41:39 42:9,29,50 46:33 48:21 57:2 59:2 60:7 64:1 65:12 66:8 67:1	القدیر (ہر چیز پر قادر) القدير ۲ البقرة ۲۰، آل عمران ۳، البقرة ۲۶، یونس ۱۰۶، یونس ۱۰۹، یونس ۱۰۸، یونس ۱۰۹، النساء ۱۳۳، المائدة ۱۷، الأنعام ۱۷، الأنفال ۸، التوبة ۳۹، النحل ۷۰، الحج ۲۲، النور ۴۵، الفرقان ۵۴، العنکبوت ۲۰، الروم ۵۰، الأحزاب ۲۷، فاطر ۳۵، حم السجدة (سنت) ۲۹، الشوری ۴۰، الأحقاف ۲۳، الفتح ۴۸، الحديد ۲۱، الأحقاف ۲۳، الطلاق ۱۲، التحريم ۸، التغابن ۱، الجمعة ۶۲، الممتحنة ۷
THE EVER NEARER 2:186,214 7:56 11:61 34:50	القريب (نزدیک) القريب ۲ البقرة ۱۸۶، الأعراف ۵۶، هود ۱۱، سباء ۵۰
- THE NEARER AND THE RESPONSIVE 11:61	القريب المجيب (نزدیک اور دعا قبول کرنے والا) -- القريب المجيب ۱۱ هود ۶۱
THE MOST STRONG 8:52 40:22	القوى (طاقت اور قوت والا) القوى ۸ الأنفال ۵۲، المثنون (ظلمتوں سے) ۲۲
- THE STRONG AND ALMIGHTY 11:66 22:40,74 33:25 42:19 57:25 58:21	القوى العزيز (قوت والا اور زبردست) -- القوى العزيز ۱۱ هود ۶۶، الحج ۲۲، الأحزاب ۳۳، الحديد ۲۵، المجادلة ۲۱، الشوری ۴۰، الأحقاف ۲۵
THE ALMIGHTY - THE ABSOLUTE THE SUBDUER 6:61 12:40 13:16 14:48 38:65 39:4 40:16	القهار (سب کو اپنے قابض رکھنے والا) القهار ۶ الأنعام ۶۱، یوسف ۴۰، الرعد ۱۳، ابراہیم ۱۴، ص ۳۸، الزمر ۶۵، المثنون (ظلمتوں سے) ۱۶
THE ETERNAL - THE SELF SUBSISTING 2:255 3:2 20:111	القيوم (بیوقوف) القيوم ۲ البقرة ۲۵۵، آل عمران ۲، طہ ۱۱۱
THE SALVATOR - THE RELIEVER - THE DELIVERER 6:17 10:107	الكاشف (تکلیف دور کرنے والا) الكاشف ۶ الأنعام ۱۷، یونس ۱۰، الزمر ۳۹، النجم ۵۸

THE SUFFICIENT - WHO SUFFICES 13:43 16:91 17:96 25:58 29:52 33:3 39:36 46:8	الكافي (كارسان) الكافي ۱۳ الرعد ۴۳، ۱۶ النحل ۹۱، ۱۷ الإسراء (بني اسرائيل) ۹۶، ۲۵ الفرقان ۵۸، ۲۹ العنكبوت ۵۲، ۳۳ الأحزاب ۳، ۳۹ الزمر ۳۶، ۴۶ الأحقاف ۸
THE MOST GREAT 4:34 13:9 22:62 31:30 34:33 40:12	الكبير (بہت بڑا) ۴ النساء ۳۴، ۱۳ الرعد ۹، ۲۲ الحج ۶۲، ۳۱ لقمان ۳۰، ۳۴ سبأ ۲۳، ۴۰ المؤمنون (غالب) ۱۲
THE GREAT AND HIGHLY EXALTED 31:9	-- الكبير المتعال (بڑا سب سے بڑا) -- ۳۱ لقمان ۹
THE BOUNTIFUL - THE NOBLE THE GENEROUS ONE 44:49 82:6 27:40	الكريم (بڑا کرم کرنے والا) ۴۴ الدخان ۴۹، ۸۲ الانفطار ۶، ۲۷ النمل ۴۰
THE GUARANTOR - THE GUARANTEE 16:91	الكفيل (کفایت کرنے والا) ۱۶ النحل ۹۱
NO DEITY EXCEPT ALLAH ALONE (THERE IS NONE WHO HAS THE RIGHT TO BE WORSHIPPED BUT ALLAH (SWT)) 2:163,255 3:2,618 4:87 6:102,106 7:158 9:131,129 11:14 13:30 20:8,98 21:87 23:116 27:26 28:70,88 35:3 39:6 40:65 44:8 47:9 59:22,23 73:9	الذي لا اله الا الله ۲ البقرة ۱۶۳، ۲۵۵، ۳ آل عمران ۱۸، ۶۰، ۲، ۴ النساء ۸۷، ۶ الأنعام ۱۰۲، ۱۰۶، ۱۷ الأعراف ۱۵۸، ۹ التوبة ۳۱، ۱۲۹، ۱۱ هود ۱۴، ۱۳ الرعد ۳۰، ۲۰ طه ۸، ۹۸، ۲۱ الأنبياء ۸۷، ۲۳ المؤمنون ۱۱۶، ۲۷ النمل ۲۶، ۲۸ القصص ۷۰، ۸۱، ۳۵ فاطر ۳، ۳۹ الزمر ۶، ۴۰ المؤمنون (غالب) ۶۵، ۴۴ الدخان ۸، ۴۷ محمد ۹، ۵۹ الحشر ۲۲، ۲۳، ۷۳ المنزل ۹
THE SUBTILE ONE - THE GRACIOUS 12:100 6:103 22:63 31:16 33:34 42:19 67:14	الطيب (بڑا لطيف و کرم کرنے والا) ۱۲ يوسف ۱۰۰، ۱۶ الأنعام ۱۰۳، ۲۲ الحج ۶۳، ۳۱ لقمان ۱۶، ۳۳ الأحزاب ۳۴، ۴۲ الشورى ۱۹، ۶۷ الملك ۱۴
THE AWARE - THE SUBTILE 6:103 22:63 31:16 33:34 67:14	-- الطيب الخبير (باریک بخت اور خبردار) -- ۲۲ الحج ۶۳، ۱۶ الأنعام ۱۰۳، ۳۳ الأحزاب ۳۴، ۶۷ الملك ۱۴، ۳۱ لقمان ۱۶
THE MAJESTY - THE NOBLE 72:3	الماجد (بزرگی اور بڑائی والا) ۷۲ الجن ۳
THE SOVEREIGN LORD 59:23 62:1	المالك (حقیقی بادشاہ) ۵۹ الحشر ۲۳، ۶۲ الجمعة ۱
WHOM BELONGS, THE SOVEREIGNTY OF THE HEAVENS AND THE EARTH 45:27 64:1	-- المالك السموات والارض (سمانوں اور زمینوں کا مالک) -- ۶۴ التغابن ۱، ۴۵ الجاثية ۲۷
THE SOVEREIGN LORD, THE HOLY ONE 59:23 62:1	-- المالك قدوس (پاک بادشاہ) -- ۵۹ الحشر ۲۳، ۶۲ الجمعة ۱
THE SOVEREIGN LORD - THE HOLY ONE THE PEACE 59:23	-- المالك القدوس السلام (سلامت رکھنے والا، پاک بادشاہ) -- ۵۹ الحشر ۲۳
THE OWNER OF SOVEREIGNTY 3:26	-- المالك الملك (تمام سلطنتوں کا مالک بادشاہی کا مالک) -- ۳ آل عمران ۲۶
THE RULER OF THE JUDGEMENT DAY 1:3 22:56 25:26 40:16	-- المالك اليوم (قیامت دن کا بادشاہ) -- ۲۵ الفرقان ۲۶، ۴۰ المؤمنون (غالب) ۱۶، ۲۲ الحج ۵۶
THE PREVENTER - WHO REFRAINS 2:168,173,188,221,264,278 4:24,29,48,92,129 5:50,77,90,135 6:151 11:85 16:51,84 17:31 24:33 49:1,2 57:32	المانع (روکنے والا) ۲ البقرة ۱۶۸، ۱۷۳، ۱۸۸، ۲۲۱، ۲۲۴، ۲۶۴، ۲۷۸، ۴ النساء ۲۴، ۲۹، ۴۸، ۹۲، ۱۲۹، ۱۵ المائدة ۵۰، ۷۷، ۹۰، ۱۳۵، ۱۶ الأنعام ۱۵۱، ۱۱ هود ۸۵، ۱۶ النحل ۵۱، ۸۴، ۱۷ الإسراء (بني اسرائيل) ۳۱، ۲۴ النور ۳۳، ۴۹ الحجرات ۲۰، ۵۷ الحديد ۲۳
THE ORIGNATOR 6:106 30:11 85:13	المبدئ (پہلی بار پیدا کرنے والا) ۱۶ الأنعام ۱۰۶، ۳۰ الروم ۱۱، ۸۵ البروج ۱۳
THE MOST EXALTED 13:9	المتعال (سب سے بلند و برتر) ۱۳ الرعد ۹
THE FIRM ONE - THE LORD WELDING STURDY STRENGTH 51:58	المتين (شدید قوت والا) ۵۱ الذاریات ۵۸
THE SUPERB - THE MAJESTIC 59:23	المتكبر (بڑائی اور بزرگی والا) ۵۹ الحشر ۲۳
THE RESPONSIVE 2:186 4:60 11:61 27:62	المجيب (دعا قبول کرنے والا) ۲ البقرة ۱۸۶، ۴ النساء ۶۰، ۱۱ هود ۶۱، ۲۷ النمل ۶۲
THE MOST GLORIOUS ONE 11:73	المجيد (بڑا بزرگ) ۱۱ هود ۷۳
THE REWARDER 2:12	المحسن (احسان کرنے والا) ۲ البقرة ۱۲
THE ENCOMPASSER 58:6	المحصى (شمار کرنے والا) ۵۸ المجادلة ۶

THE QUICKENER - THE LIFE GIVER 2:280 3:27,156 6:60,95 7:158 9:116 10:56 15:23 22:6 23:80 30:19 40:68 41:39 44:8 50:43 53:44 57:2,17	المحيي ٢ البقرة ٢٨٠، ٣ آل عمران ٢٧، ١٥٦، ٦ الأنعام ٦٠، ٩٥، ١٧ الأعراف ١٥٨، ٩ التوبة ١١٦، ١٠ يونس ٥٦، ١٥ الحجر ٢٣، ٢٢ الحج ٦، ٢٣ المؤمنون ٨٠، ٣٠ الروم ١٩، ٤٠ المؤمنون (مغفلين) ٦٨، ٤١ حم السجدة (ممتك) ٣٩، ٤٤ الدخان ٨، ٥٠ ق ٤٣، ٥٣ النجم ٤٤، ٥٧ الحديد ١٧، ٢	المحيي (زندگی دینے والا)
WHO MAY ABASE (DISHONOUR) ANYONE 3:26	المذل ٣ آل عمران ٢٦	المذل (ذلت دینے والا)
GUIDING FRIEND 18:17	المرشد ١٨ الكهف ١٧	المرشد (راہ بتانے والا)
THE HELPER 12:18 21:112	المستعان ١٢ يوسف ١٨، ٢١ الأنبياء ١١٢	المستعان (مدد کرنے والا)
THE FASHIONER - THE SHAPER OUT OF NOTHING 3:6 59:23 82:8	المصوّر ٣ آل عمران ٦، ٥٩ الحشر ٢٣، ٨٢ الانفطار ٨	المصوّر (صورتیں بنانے والا)
THE HONOURER - WHO MAY EXALT ANYONE 3:26	المعزّز ٣ آل عمران ٢٦	المعزّز (عزت دینے والا)
THE GRANTER - WHO GIVES TO EACH CREATION THE GRANTER 20:50 92:5 108:1	المعطي ٢٠ طه ٥٠، ٩٢ الليل ٥، ١٠٨ الكوثر ١	المعطي (عطا کرنے والا)
THE RESTORER - THE REVIVER 10:4 30:11 85:13	المعيد ١٠ يونس ٤، ٣٠ الروم ١١، ٨٥ البروج ١٣	المعيد (دوبارہ پیدا کرنے والا)
THE ENRICHER (WHO FREES FROM WANT) 53:48	المغني ٥٣ النجم ٤٨	المغني (بے نیاز اور غنی بنادینے والا)
THE ABLE - THE POWERFUL 18:45 54:42	المقتدر ١٨ الكهف ٤٥، ٥٤ القمر ٤٢	المقتدر (پوری قدرت رکھنے والا)
THE EXPEDITOR - THE FOREMOST, THE FIRST 57:3	المقدم ٥٧ الحديد ٣	المقدم (سب سے پہلے اور آگے)
THE EQUITABLE - THE JUST AND FAIR 4:135 5:42	المقسط ٤ النساء ١٣٥، ٥ المائدة ٤٢	المقسط (عدل و انصاف قائم کرنے والا)
THE MAINTAINER 4:85	المقيت ٤ النساء ٨٥	المقيت (ہر چیز پر قدرت رکھنے والا)
THE CONFERROR OF FAVOUR 49:17	المنان ٤٩ الحجرات ١٧	المنان (احسان کرنے والا)
ABLE TO REQUIE - MIGHTY AVENGER 14:147 44:16	المنتقم ١٤ إبراهيم ١٤٧، ٤٤ الدخان ١٦	المنتقم (بدل لینے والا)
THE DELAYER OF PUNISHMENT - THE LATTER - THE LAST 57:3	المؤخر ٥٧ الحديد ٣	المؤخر (بچھو اور بعد)
THE PATRON 2:286 6:62 8:40 9:51 10:30 22:78 47:11	المولى ٢ البقرة ٢٨٦، ٦ الأنعام ٦٢، ٨٠ الأنفال ٤٠، ٩ التوبة ٥١، ١٠ يونس ٣٠، ٢٢ الحج ٧٨، ٤٧ محمد ١١	المولى (مالک، مددگار)
THE GUARDIAN - THE PROTECTOR 10:30	مولا ١٠ يونس ٣٠	مولا (مالک، مددگار)
THE PROTECTOR 2:286	مولانا ٢ البقرة ٢٨٦	مولانا (ہمارا مالک، کارساز)
THE KEEPER (GUARDIAN) OF FAITH 59:23	المؤمن ٥٩ الحشر ٢٣	المؤمن (امن و ایمان والا)
THE KEEPER OF FAITH AND GUARDIAN 59:23	المؤمن المہین ٥٩ الحشر ٢٣	المؤمن المہین (امن دینے والا اور تمہاری جان)
THE PROTECTOR 59:23	المہین ٥٩ الحشر ٢٣	المہین (تمہاری جان)
THE BRINGER (CREATOR) OF DEATH 2:280 6:95 9:116 10:56 15:23 23:80 30:19 40:68 50:43 53:44 57:2	يُميت ٢ البقرة ٢٨٠، ٦ الأنعام ٩٥، ٩ التوبة ١١٦، ١٠ يونس ٥٦، ١٥ الحجر ٢٣، ٢٣ المؤمنون ٨٠، ٣٠ الروم ١٩، ٤٠ المؤمنون (مغفلين) ٦٨، ٥٠ ق ٤٣، ٥٣ النجم ٤٤، ٥٧ الحديد ٢	يُميت (موت دینے والا)
THE UNIQUE - NO DEITY EXCEPT HIM 2:133,163 6:19 13:16 14:48 12:39 16:51 18:110 21:108 38:5,65 39:4 40:16	الواحد ٢ البقرة ١٣٣، ١٦٣، ٦ الأنعام ١٩، ١٣ الرعد ١٦، ١٤ إبراهيم ٤٨، ١٢ يوسف ٣٩، ١٦ النحل ٥١، ١٨ الكهف ١١٠، ٢١ الأنبياء ١٠٨، ٣٨ ص ٦٥، ٥ ٣٩ الزمر ٤، ٤٠ المؤمنون (مغفلين) ١٦	الواحد (ایک آگیا)
THE ABSOLUTE ONE 12:39 13:16 14:48 38:65 40:16	الواحد القهار ١٢ يوسف ٣٩، ١٣ الرعد ١٦، ١٤ إبراهيم ٤٨، ٣٨ ص ٦٥، ٣٩ الزمر ٤، ٤٠ المؤمنون (مغفلين) ١٦	الواحد القهار (زبردست و یکتا)

THE DISCOVERING - THE FINDER 93:7	الواجد (ہر چیز کو پالینے والا)	الواجد ۹۳ الضحیٰ ۷
THE SUPREME INHERITOR - THE HEIR 21:89 28:8	الوارث (مالک)	الوارث ۲۱ الأنبياء ۸۹، ۲۸ القصص ۵۸
ALL EMBRACING 2:115,248,261,268 3:73 4:130 5:54 24:32 53:32	الواسع (وسعت والا)	البقرة ۱۱۵، ۲۶۸، ۲۶۱، ۲۴۸، ۳ آل عمران ۷۳، ۴ النساء ۱۳۰، ۲۴ النور ۳۲، ۵ المائدة ۵۴، ۵۳ النجم ۳۲
ALL EMBRACING - ALL WISE 4:130	-- الواسع الحكيم (وسعت اور حکمت والا)	-- الواسع الحكيم ۴ النساء ۱۳۰
ALL EMBRACING, ALL KNOWING 2:115,248,261,268 3:73 5:54 24:32	-- الواسع العليم (وسعت اور علم والا)	-- الواسع العليم ۲ البقرة ۱۱۵، ۲۴۸، ۲۶۱، ۲۶۸، ۳ آل عمران ۷۳، ۵ المائدة ۵۴، ۲۴ النور ۳۲
THE LORD OF VAST MERCY 53:32	-- الواسع المغفرة (معافی اور درگزر میں وسعت والا)	-- الواسع المغفرة ۵۳ النجم ۳۲
THE LOVING - THE AFFECTIONATE 11:90 85:14	الودود (بڑا محبت کرنے والا)	الودود ۱۱ ہود ۹۰، ۸۵ البروج ۱۴
THE TRUSTEE 3:173 4:81,109,132,171 6:102 11:12 12:66 17:54,65 28:28 33:13,48 39:62 73:9	الوكيل (نگران بڑا کارساز)	۳ آل عمران ۱۷۳، ۴ النساء ۸۱، ۱۰۹، ۱۳۲، ۱۷۱، ۱۶ الأنعام ۱۰۲، ۱۱ ہود ۱۲، ۱۲ یوسف ۶۶، ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل) ۵۴، ۶۵، ۲۸ القصص ۲۸، ۳۳ الأحزاب ۱۳، ۴۸، ۳۹ الزمر ۶۲، ۷۳ المنزل ۹
THE DEFENDER - THE GOVERNOR 13:11	الوالي (متولی یا متعرف)	الوالي ۱۳ الرعد ۱۱
THE PROTECTING FRIEND 2:107,120 3:68,122 4:75,45,89,123 7:155,196 9:116 12:101 13:37 29:22 33:17 34:41 42:8,28,31 45:19 48:22	الولي (مددگار اور حمایتی)	۲ البقرة ۱۰۷، ۱۲۰، ۳ آل عمران ۶۸، ۱۲۲، ۴ النساء ۷۵، ۷۵، ۸۹، ۱۲۳، ۱۷ الأعراف ۱۰۵، ۱۹۶، ۹ التوبة ۱۱۶، ۱۲ یوسف ۱۰۱، ۱۳ الرعد ۳۷، ۲۹ العنكبوت ۲۲، ۳۳ الأحزاب ۱۷، ۳۴ سباء ۴۱، ۴۲ الشورى ۸، ۲۸، ۳۱، ۴۵ الجاثية ۱۹، ۴۸ الفتح ۲۲
THE PRAISE WORTHY - PROTECTING FRIEND 42:28	-- الولي الحميد (قابل تعریف اور مددگار)	-- الولي الحميد ۴۲ الشورى ۲۸
THE BESTOWER 3:9 38:9	الوهاب (سب کچھ عطا کرنے والا)	الوهاب ۳ آل عمران ۹، ۳۸ ص ۹
THE PROPITIOUS - POWER TO BENEFIT - CONTROL OVER ANY ADVANTAGE 7:188 22:12 48:11	النافع (نفع پہنچانے والا)	النافع ۱۷ الأعراف ۱۸، ۲۲ الحج ۱۲، ۴۸ الفتح ۱۱
THE PROTECTOR 2:107,120 3:150 4:45,52,75,89,123,145,173 8:40 9:74,116 17:80 22:71,78 25:31 29:22 33:17,65 42:8,31 48:22	المنصير (مددگار)	۲ البقرة ۱۰۷، ۱۲۰، ۳ آل عمران ۱۵۰، ۴ النساء ۵۲، ۴۵، ۷۵، ۸۹، ۱۲۳، ۱۷۳، ۱۸ الأنفال ۴۰، ۹ التوبة ۷۴، ۱۱۶، ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل) ۸۰، ۲۲ الحج ۷۱، ۷۸، ۲۵ الفرقان ۳۱، ۲۹ العنكبوت ۲۲، ۳۳ الأحزاب ۱۷، ۶۵، ۴۲ الشورى ۸، ۳۱، ۴۸ الفتح ۲۲
THE LIGHT 9:32 61:8	النور (روشنی والا)	النور ۹ التوبة ۳۲، ۶۱ الصف ۸
THE GUIDE 3:8 6:71 10:35 25:31 37:3 74:31	الهادي (ہدایت دینے والا سیدھا راستہ دکھانے والا)	۳ آل عمران ۸، ۶ الأنعام ۷۱، ۱۰ یونس ۳۵، ۲۵ الفرقان ۳۱، ۸۷ الأعلى ۳، ۷۴ المدثر ۳۱
WHO GRANTS LIFE - WHO QUICKENS 2:255 3:2 40:65	الحي (زندگی دینے والا)	۳ آل عمران ۲، ۲ البقرة ۲۵۵، ۴۰ المثلون (غالب) ۶۵

**ALLAH(SWT) DOES NOT HESITATE TO USE
SIMILITUDE OF ANYTHING TO GUIDE
HUMANKIND**

Certainly Allah disdains not to coin the similitude even of a gnat as well as anything above it. Those who believe know that it is the truth from their Lord; but those who disbelieve say, What does Allah wish (to teach) by such a similitude? He (the disbeliever) misleads, many thereby and many he leads in to the right path and He misleads thereby only miscreants; (2:26)

More Reference: 13:14 14:25 16:92 74:50,51
Page 141, 770, 569, 824

**PHILOSOPHY IN DESCRIBING THE PARABLES
AND ALLEGORIES IN HOLY QURAN**

As for these similitudes, We coin them for mankind, but none will grasp their meaning except the wise. (29:43)

And We have coined for mankind in this Qur'an all kinds of similitudes, that haply they may reflect; (39:27)

THE DUMB

For Detail Consult: 2:18,171 16:76
Page : 145,753,857

THE DEAF

For Detail Consult: 2:6,18,171 10:42,11,24
Page : 753,770,857,858

THE BLIND

For Detail Consult: 2:6,171 10:43 11:24
Page : 753,770,857,858

QUARRELING MAN

For Detail Consult: 39:29 Page : 206

A SLAVE

For Detail Consult: 39:29 Page : 206

AGED MAN WITH FEEBLE OFFSPRINGS

For Detail Consult: 2:266 Page : 281

THE WOMAN UNTWISTING THE SPUN YARN

For Detail Consult: 16:92 Page : 569

لايستحي الله أن يضرب
مثل أيّ شيء

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا
فَوْقَهَا إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ
مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا مَّا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾
﴿٢ البقرة ٢٦﴾

والمزيد راجع: ١٣ الرعد: ١٤ ١٤ إبراهيم: ٢٥
١٦ النحل: ٩٢ ٧٤ المدثر: ٥١، ٥٠

حكمة ضرب الأمثال في القرآن

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا
يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾
﴿٢٩ العنكبوت ٤٣﴾
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ
كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾
﴿٣٩ الزمر ٢٧﴾

القوم البكم

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٨، ١٧١، ١٦ النحل: ٧٦
الصفحة ١٤٥، ٧٥٣، ٨٥٧

القوم الصم

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٦، ١٨، ١٧١، ١٠ يونس: ٤٢
١١ هود: ٢٤ الصفحة ٧٥٣، ٧٧٠، ٨٥٧، ٨٥٨

القوم العمي

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٦، ١٧١، ١٠ يونس: ٤٣
١١ هود: ٢٤ الصفحة ٧٥٣، ٧٧٠، ٨٥٧، ٨٥٨

رجل متشاكس

والتفصيل راجع ٣٩ الزمر: ٢٩ الصفحة ٢٠٦

العبد و الأمة

والتفصيل راجع ٣٩ الزمر: ٢٩ الصفحة ٢٠٦

رجل "كبير السن وله ذرية" ضعفاء

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٦٦ الصفحة ٢٨١

التي لقصت غزلها من بعد قوة الكاثر

والتفصيل راجع ١٦ النحل: ٩٢ الصفحة ٥٦٩

اللہ تعالیٰ انسانوں کو راہنمائی کے لئے کسی چیز کی
مثال بیان کرنے میں عار نہیں فرماتا

یقیناً اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ چھریا اس سے
بڑھ کر کسی چیز (مثلاً مکھی مڑی وغیرہ) کی مثال بیان
فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ ان کے
پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں
کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے اس سے (اللہ)
بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے اور
گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو (26:2)

والمزيد راجع: 14:13 14:13 25:14 96:16 51,50:74
صفحة 824, 569, 770, 141

قرآن مجید میں امثال کے بیان کی حکمت

اور وہ مثالیں ہم لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے بیان
کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں
(43:29)
اور ہم نے لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اس قرآن
میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں
(27:39)

گو نکلے لوگ

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:171, 18:2 76:16
صفحہ 857, 753, 145

بہرے لوگ

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:18, 11:24 42:10 24:11
صفحہ 858, 857, 770, 753

اندھے لوگ

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:6, 171 10:43 24:11 43:10
صفحہ 858, 857, 770, 753

بدخوانسان

تفصیل کیلئے دیکھئے 29:39 صفحہ 206

غلام

تفصیل کیلئے دیکھئے 29:39 صفحہ 206

بوزخا آدمی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:266 صفحہ 281

سوت کات کرکڑے کرکڑے کر دینے والی عورت

تفصیل کیلئے دیکھئے 16:92 صفحہ 569

THE LIVING AND THE DEAD

For Detail Consult: 6:122,123 35:21,22
Page : 205,261

THE MASTER AND THE SLAVE

For Detail Consult: 16:75,76 Page: 144,145

MAN WHO WALKS GROPING ON HIS FACE

For Detail Consult: 67:22 Page :154

WIFE OF LOT

For Detail Consult: 66:10 Page :545,927

WIFE OF NOAH

For Detail Consult: 66:10 Page: 545,927

WIFE OF PHARAOH

For Detail Consult: 66:11 Page: 545,1008

DAUGHTER OF IMRAN - (MARY)

Detail Consult 66:12 Page :545,1093,1095

GRAIN OF CORN

For Detail Consult: 2:261 Page : 274

A GARDEN

For Detail Consult: 2:265 Page : 274

PALM TREES

For Detail Consult: 2:266 Page : 281

VINES GARDENS

For Detail Consult: 2:266 Page : 281

STREAMS

For Detail Consult: 2:266 Page :281

CLEAN MOWN HARVEST

Detail Consult: 10:24 18:45 48:29
Page : 163,247,249,426,427

TREE (UPROOTED WITHOUT STABILITY)

Detail Consult: 14:26 Page : 641

OLIVE (A BLESSED TREE)

Detail Consult: 24:35 Page : 368

GOODLY TREE

Detail Consult: 14:24 Page 770

RAIN STORM

Detail Consult: 2:19,264,265 10:24
17 18:45 57:20
Page : 274,281,343,426,427,753

الانسان الحي و الميت

والتفصيل راجع ٦ الأنعام ١٢٢،١٢٣ ٣٥ فاطر: ٢١،٢٢
الصفحة ٢٠٥،٢٠٦

الملك والعبد

والتفصيل راجع ١٦ النحل: ٧٥،٧٦ الصفحة ١٤٤،١٤٥

رجل مكب على وجهه ورجل يمشی سویا

والتفصيل راجع ٦٧ الملك: ٢٢ الصفحة ١٥٤

زوجة لوط

والتفصيل راجع ٦٦ التحريم: ١٠ الصفحة ٥٤٥،٩٢٧

زوجة نوح

والتفصيل راجع ٦٦ التحريم: ١٠ الصفحة ٥٤٥،٩٢٧

زوجة فرعون

والتفصيل راجع ٦٦ التحريم: ١١ الصفحة ٥٤٥،١٠٠٨

بنت عمران - مريم

والتفصيل راجع ٦٦ التحريم: ١٢ الصفحة ٥٤٥،٩٢٥،١٠٩٥

السنبلة

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٦١ الصفحة ٢٧٤

جنة

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٦٥ الصفحة ٢٧٤

نخيل

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٦٦ الصفحة ٢٨١

الأعناب

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٦٦ الصفحة ٢٨١

الأنهار

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٦٦ الصفحة ٢٨١

الزرع الأخضر القائم والحصيد

والتفصيل راجع ١٠ يونس: ٢٤، ١٨ الكهف: ٤٥، ٤٨ الفتح: ٢٩
الصفحة ١٦٣، ٢٧٠، ٤٢٩، ٢٦٦، ٤٢٧، ٤٢٧

الشجرة الخبيثة

والتفصيل راجع ١٤ إبراهيم: ٢٦ الصفحة ٦٤١

الزيتون (الشجرة المباركة)

والتفصيل راجع ٢٤ النور: ٣٥ الصفحة ٣٦٨

الشجر طيبته

والتفصيل راجع ١٤ إبراهيم: ٢٤ الصفحة ٧٧٠

المطر الصيب من السماء

والتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٩، ٢٦٤، ٢٦٥ ١٠ يونس: ٢٤،
١٣ الرعد: ١٧، ١٨ الكهف: ٤٥، ٥٧ الحديد: ٢٠
الصفحة ٢٧٤، ٢٨١، ٢٤٣، ٤٢٦، ٤٢٧، ٧٥٣

مردہ اور زندہ انسان

تفصیل کیلئے دیکھئے 6:122,123 35:21,22
صفحہ 205,261

غلام اور مالک

تفصیل کیلئے دیکھئے 16:75,76 صفحہ 144,145

منہ کے بل اور سپردھا چلنے والا انسان

تفصیل کیلئے دیکھئے 67:22 صفحہ 154

لوط علیہ السلام کی بیوی

تفصیل کیلئے دیکھئے 66:10 صفحہ 545,927

نوح علیہ السلام کی بیوی

تفصیل کیلئے دیکھئے 66:10 صفحہ 545,927

فرعون کی بیوی

تفصیل کیلئے دیکھئے 66:11 صفحہ 545,1008

خاندان عمران کی دختر - مريم

تفصیل کیلئے دیکھئے 66:12 صفحہ 545,1093,1095

دانے کی بالی

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:261 صفحہ 274

باغ

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:265 صفحہ 274

کھجور

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:266 صفحہ 281

انگور

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:266 صفحہ 281

نہریں

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:266 صفحہ 281

کھیت سرسبز اور ویران حالت میں

تفصیل کیلئے دیکھئے 10:24 18:45 48:29
صفحہ 163,247,249,426,427

درخت (جس کی جڑیں مضبوط نہ ہو)

تفصیل کیلئے دیکھئے 14:26 صفحہ 641

زیتون (مبارک درخت)

تفصیل کیلئے دیکھئے 24:35 صفحہ 368

شجر طیب (پاکیزہ درخت)

تفصیل کیلئے دیکھئے 14:24 صفحہ 770

بارش کا طوفان

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:19,264,265 10:24 17 18:45 57:20
صفحہ 274,281,343,426,427,753

**ZONES OF DARKNESS,
AND THUNDER STORMS LIGHTNING
IN THE SKY**

For Detail Consult : 2:19,20 Page : 753

CLOUDS

For Detail Consult : 24:40 Page : 858

THIRSTY CAMELS

For Detail Consult : 56:55 Page : 892

DOG WHO LOLS HIS TONGUE OUT

For Detail Consult : 7:176,177,178 Page : 416

AN ASS - DONKEY

For Detail Consult : 31:19 62:5
Page : 442,559,446,1071

GNAT (MOSQUITO)

For Detail Consult : 2:26 Page : 1129

A FLY

For Detail Consult : 22:73,74 Page : 144,149

SPIDER

For Detail Consult : 29:41 Page : 143

FIRE AND ITS LIGHT

For Detail Consult : 2:17 Page : 753

WIND WITH NIPPING FROST

For Detail Consult : 3:117 14:18
Page : 427,857

ASHES BLOWN BY WIND

For Detail Consult : 14:18 Page : 857

A CITY (TOWNSHIP)

For Detail Consult : 16:112 Page : 302,432

LIGHT

For Detail Consult : 24:35 Page : 368

MIRAGE IN THE DESERT

For Detail Consult : 24:39 Page : 857

DARKNESS IN A VAST ABYSMAL SEA

For Detail Consult : 24:40 Page : 858

A STONY SMOOTH ROCK

For Detail Consult : 2:264 Page : 281

SHADOW AND SUN'S HEAT

For Detail Consult : 35:20,21 Page : 206

THE DEVIL

For Detail Consult : 59:16,17 Page : 750

**الظلمات الحالكة والرعد
والبرق في السماء**

والتصنيف راجع ٢ البقرة: ٢٠، ١٩ الصفحة ٧٥٣

السحاب

والتصنيف راجع ٢٤ النور: ٤٠ الصفحة ٨٥٨

شرب الهيم

والتصنيف راجع ٥٦ الواقعة: ٥٥ الصفحة ٨٩٢

الكلب يلهث

والتصنيف راجع ٧ الأعراف: ١٧٧، ١٧٦ الصفحة ٤١٦

الحمار

والتصنيف راجع ٣١ لقمان: ١٩ ٦٢ الجمعة: ٥
الصفحة ١٠٧١، ٥٥٩، ٤٤٦، ٤٤٢

البعوضة

والتصنيف راجع ٢ البقرة: ٢٦ الصفحة ١١٢٩

الذباب

والتصنيف راجع ٢٢ الحج: ٧٤، ٧٣ الصفحة ١٤٩، ١٤٤

العنكبوت

والتصنيف راجع ٢٩ العنكبوت: ٤١ الصفحة ١٤٣

النار وإضاءة ماحولها

والتصنيف راجع ٢ البقرة: ١٧ الصفحة ٧٥٣

الرياح فيها صر

والتصنيف راجع ٣ آل عمران: ١١٧ ١٤ إبراهيم: ١٨
الصفحة ٨٥٧، ٤٢٧

الرماد المنبث

والتصنيف راجع ١٤ إبراهيم: ١٨ الصفحة ٨٥٧

قرية

والتصنيف راجع ١٦ النحل: ١١٢ الصفحة ٤٣٢، ٣٠٢

المصباح المنير

والتصنيف راجع ٢٤ النور: ٣٥ الصفحة ٣٦٨

السراب

والتصنيف راجع ٢٤ النور: ٣٩ الصفحة ٨٥٧

الظلمات في بحر لجي

والتصنيف راجع ٢٤ النور: ٤٠ الصفحة ٨٥٨

صفوان

والتصنيف راجع ٢ البقرة: ٢٦٤ الصفحة ٢٨١

الظل و الحرور

والتصنيف راجع ٣٥ فاطر: ٢١، ٢٠ الصفحة ٢٠٦

الشیطن

والتصنيف راجع ٥٩ الحشر: ١٧، ١٦ الصفحة ٧٥٠

آسمانی برسات میں اندھیرا۔ بجلی اور روشنی

تفصیل کیلئے دیکھئے 20,19:2 صفحہ 753

بادل

تفصیل کیلئے دیکھئے 40:24 صفحہ 858

پیا سے اونٹ

تفصیل کیلئے دیکھئے 55:56 صفحہ 895

کتا (زبان نکالے ہوئے)

تفصیل کیلئے دیکھئے 177,176:7 صفحہ 416

گدھا

تفصیل کیلئے دیکھئے 5:62 19:31
صفحہ 1071,559,446,442

مچھر وغیرہ

تفصیل کیلئے دیکھئے 26:2 صفحہ 1129

مکھی

تفصیل کیلئے دیکھئے 74,73:22 صفحہ 149,144

مکڑی

تفصیل کیلئے دیکھئے 41:29 صفحہ 143

آگ اور اس کے آس پاس روشنی

تفصیل کیلئے دیکھئے 17:2 صفحہ 753

تند آندھی جس میں گولہ (پالا) ہو

تفصیل کیلئے دیکھئے 18:14 1173 صفحہ 857,247

راکھ بکھیرتی ہوئی تیز آندھی

تفصیل کیلئے دیکھئے 18:14 صفحہ 857

(گاؤں) آبادی

تفصیل کیلئے دیکھئے 112:16 صفحہ 432,302

روشن چراغ

تفصیل کیلئے دیکھئے 35:24 صفحہ 368

(سراب) میدان جس پر پانی کا دھوکا ہو

تفصیل کیلئے دیکھئے 39:24 صفحہ 857

گہرا سمندر کا اندھیرا

تفصیل کیلئے دیکھئے 40:24 صفحہ 858

پتھر کی ہموار چٹان

تفصیل کیلئے دیکھئے 264:2 صفحہ 281

سایہ اور دھوپ

تفصیل کیلئے دیکھئے 21,20:35 صفحہ 206

شیطان

تفصیل کیلئے دیکھئے 17,16:59 صفحہ 750

Qaf: By the Glorious Quran (50:1)

Yet I swear by whatever you observe. (69:38)

And all that you see not. (69:39)

By the Dawn (89:1)

And ten nights, (89:2)

And the Even and the Odd (89:3)

And the night when it departs, (89:4)

There surely is an oath for thinking man. (89:5)

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝

﴿ ۵۰ ق ۱ ﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ۝

﴿ ۶۹ الحاقہ ۳۸ ﴾

وَمَا لَا تُبْصَرُونَ ۝

﴿ ۶۹ الحاقہ ۳۹ ﴾

وَالْفَجْرِ ۝

﴿ ۸۹ الفجر ۱ ﴾

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝

﴿ ۸۹ الفجر ۲ ﴾

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝

﴿ ۸۹ الفجر ۳ ﴾

وَالْيَلِ إِذَا يسَّرُ ۝

﴿ ۸۹ الفجر ۴ ﴾

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝

﴿ ۸۹ الفجر ۵ ﴾

ق! بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم (1:50)

پس مجھ کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں (38:69)

اور ان کی جو نظر نہیں آتیں (39:69)

فجر کی قسم (1:89)

اور دس راتوں کی (2:89)

اور شفٹ اور طاق کی (3:89)

اور رات جب جانے لگے (4:89)

(اور) بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں (کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا) (5:89)

For Detail Consult : 10:53 7:40 91:1to7 92:3
Page 127, 324, 331, 333, 323, 401, 359

وللتفصیل راجع ۱۰ یونس: ۵۳، ۷ الأعراف: ۴۰،
۹۱ الشمس: ۱:۷، ۹۲ اللیل: ۳

تفصیل کیلئے دیکھئے 10:53 7:40 91:1to7 92:3
صفحہ 359, 401, 323, 333, 331, 324, 127

SWEAR OF ALMIGHTY HIMSELF

For Detail Consult : 10:53 51:21 70:40
91:5,6 92:3 Page : 127,323,324,359

وللتفصیل راجع ۱۰ یونس: ۵۳، ۵۱ الذاریات: ۲۱،
۷۰ المعارج: ۴۰، ۹۱ الشمس: ۶:۵، ۹۲ اللیل: ۳
الصفحة ۳۵۹، ۳۲۴، ۳۲۳، ۱۲۷

اپنی ذات (پاک باری تعالیٰ) کی قسم
تفصیل کیلئے دیکھئے 10:53 51:21 70:40 91:5,6 92:3
صفحہ 359, 324, 323, 127

LIFE OF PROPHET (SAAS)

For Detail Consult : 15:72 Page : 966

وللتفصیل راجع ۱۵ الحجر: ۷۲، الصفحة ۹۶۶

نبی کریم ﷺ کی زندگی
تفصیل کیلئے دیکھئے 15:72 صفحه 966

ANGELS

For Detail Consult : 37:1 77:5,6
Page : 133,377

وللتفصیل راجع ۳۷ الصافات: ۱، ۷۷ المرسلات: ۶:۵،
الصفحة ۳۷۷، ۱۳۳

فرشتے
تفصیل کیلئے دیکھئے 37:1 77:5,6
صفحہ 377, 133

THE HOLY QURAN

For Detail Consult : 38:1 50:1 52:2, 3
Page : 207,795

وللتفصیل راجع ۳۸ ص: ۱، ۵۰ ق: ۱، ۵۲ الطور: ۲:۲،
الصفحة ۷۹۵، ۲۰۷

قرآن
تفصیل کیلئے دیکھئے 38:1 50:1 52:2, 3
صفحہ 795, 207

THE HEAVENS

For Detail Consult : 51:7 52:5 85:1 86:1
91:5 Page : 321,329,368,388

وللتفصیل راجع ۵۱ الذاریات: ۷، ۵۲ الطور: ۵،
۸۵ البروج: ۱، ۸۶ الطارق: ۱، ۹۱ الشمس: ۵،
الصفحة ۳۸۸، ۳۶۸، ۳۲۹، ۳۲۱

آسمان
تفصیل کیلئے دیکھئے 51:7 52:5 85:1 86:1 91:5
صفحہ 388, 368, 369, 321

THE EARTH

For Detail Consult : 68:12 91:5
Page : 323,326,497

وللتفصیل راجع ۶۸ القلم: ۱۲، ۹۱ الشمس: ۵،
الصفحة ۴۹۷، ۳۲۶، ۳۲۳

زمین
تفصیل کیلئے دیکھئے 68:12 91:5
صفحہ 497, 326, 323

THE SWELLING OCEAN

For Detail Consult : 52:6 Page : 795

وللتفصیل راجع ۵۲ الطور: ۶، الصفحة ۷۹۵

دریا - سمندر
تفصیل کیلئے دیکھئے 52:6 صفحه 795

THE SUN - GLORIOUS MORNING LIGHT

For Detail Consult: 91:1 93:1
Page : 331,741

THE MOON

For Detail Consult : 74:32 84:18 91:2
Page : 166,331,898

MANSIONS OF THE STARS

For Detail Consult: 85:1 Page : 1113

THE STAR OF PIERCING BRIGHTNESS

For Detail Consult: 86:2,3 Page : 329

THE STARS

For Detail Consult 53:1 56:75,76 81:15,16
Page : 173,215,332,687

THE MORN

For Detail Consult 74:34 81:18
Page : 333,898

THE (DAWN)

For Detail Consult: 89:1,4 Page : 1132

THE DAY

For Detail Consult 91:3 92:2 Page : 333

TIME - THROUGH THE AGES

For Detail Consult: 103:1 Page : 487

RUDDY GLOW OF SUNSET

For Detail Consult 84:16 Page : 166

TEN NIGHTS OF ZUL-HAJJ

For Detail Consult: 89:2 Page : 1132

THE NIGHT

For Detail Consult 74:33 81:17 84:17 91:4
92:1 93:2 Page : 166,333,741,898

FURIOUS WINDS

For Detail Consult : 51:1 77:1
Page : 349,350

THE CLOUDS

For Detail Consult: 51:2 77:3
Page : 349,350

THE MOUNT OF TUR

For Detail Consult: 52:1 Page : 759

الشمس - الضحى

وللتفصيل راجع ٩١ الشمس ١: ٩٣ الضحى: ١:
الصفحة ٧٤١,٣٣١

القمر

وللتفصيل راجع ٧٤ المدثر: ٣٢: ٨٤ الانشقاق: ١٨:
٩١ الشمس: ٢: الصفحة ٨٩٨,٣٣١,١٦٦

النجوم

وللتفصيل راجع ٨٥ البروج: ١: الصفحة ١١١٣

النجم الثاقب

وللتفصيل راجع ٨٦ الطارق: ٣:٢: الصفحة ٣٢٩

النجوم

وللتفصيل راجع ٥٣ النجم: ١: ٥٦ الواقعة: ٧٥:٧٥:
٨١ التكويز: ١٦:١٥: الصفحة ١٨٧,٣٣٢,٢١٥,١٧٣

الصبح

وللتفصيل راجع ٧٤ المدثر: ٣٤: ٨١ التكويز: ١٨:
الصفحة ٨٩٨,٣٣٣

الفجر

وللتفصيل راجع ٨٩ الفجر: ٤:١: الصفحة ١١٣٢

النهار

وللتفصيل راجع ٩١ الشمس: ٣: ٩٢ الليل: ٢:
الصفحة ٣٣٣

العصر

وللتفصيل راجع ١٠٣ العصر: ١: الصفحة ٤٨٧

الشفق

وللتفصيل راجع ٨٤ الانشقاق: ١٦: الصفحة ١٦٦

الليلة العشرة في ذى الحجة

وللتفصيل راجع ٨٩ الفجر: ٢: الصفحة ١١٣٢

اليل

وللتفصيل راجع ٧٤ المدثر: ٣٣: ٨١ التكويز: ١٧:
٨٤ الانشقاق: ١٧: ٩١ الشمس: ٤: ٩٢ الليل: ١:
٩٣ الضحى: ٢: الصفحة ٨٩٨,٧٤١,٣٣٣,١٦٦

الريح العاصف

وللتفصيل راجع ٥١ الداريات: ١: ٧٧ المرسلات: ١:
الصفحة ٣٥٠,٣٤٩

السحاب

وللتفصيل راجع ٥١ الداريات: ٢: ٧٧ المرسلات: ٢:
الصفحة ٣٥٠,٣٤٩

جبل الطور

وللتفصيل راجع ٥٢ الطور: ١: الصفحة ٧٥٩

سورج - چاشت کا وقت

تفصیل کیلئے دیکھئے ١:٩٣ ١:٩١
صفحہ 741,331

القمر

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:91 18:84 32:74
صفحہ 898,331,166

برج ستارے

تفصیل کیلئے دیکھئے 1:85 صفحہ 1113

نجم ثاقب

تفصیل کیلئے دیکھئے 3,2:86 صفحہ 329

ستارے (چمکنا ڈوبنا گردش کرنا)

تفصیل کیلئے دیکھئے 16,15:81 76,75:56 1:53
صفحہ 687,332,215,173

صبح کا وقت

تفصیل کیلئے دیکھئے 18:81 34:74
صفحہ 898,333

فجر کا وقت

تفصیل کیلئے دیکھئے 4,1:89 صفحہ 1132

دن

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:92 3:91 صفحہ 333

زمانہ (عصر کا وقت)

تفصیل کیلئے دیکھئے 1:103 صفحہ 487

شام کی سرخی

تفصیل کیلئے دیکھئے 16:84 صفحہ 166

ذوالحج کی راتیں

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:89 صفحہ 1132

رات

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:91 17:84 17:81 33:74 192
2:93 صفحہ 898,741,333,166

تیز ہوائیں

تفصیل کیلئے دیکھئے 1:77 1:51
صفحہ 350,349

بادل

تفصیل کیلئے دیکھئے 3:77 2:51
صفحہ 350,349

کوہ طور

تفصیل کیلئے دیکھئے 1:52 صفحہ 759

THE FREQUENTED HOUSE

For Detail Consult: 52:4 Page : 759

THE MOUNT SINAI

For Detail Consult: 95:2 Page : 1013

THE SOUL

For Detail Consult: 91:7 Page : 401

SELF ACCUSING SOUL SELF REPROACHING SPIRIT

For Detail Consult: 75:2 Page : 417

FATHER AND CHILD (SON)

For Detail Consult: 90:3 Page : 411

THE PEN

For Detail Consult: 68:1 Page : 173

THE (RECORD) WHICH (MEN) WRITE

For Detail Consult: 68:1 Page : 173

THE OLIVE

For Detail Consult: 95:1 Page : 357

THE FIG

For Detail Consult: 95:1 Page : 357

CITY OF MAKKAH

For Detail Consult: 90:1,2 95:3
Page : 624

THE BOATS

For Detail Consult: 51:3 Page : 350

THE PANTING STEEDS

For Detail Consult: 100:1,2 Page : 647

THE EVEN AND ODD

For Detail Consult: 89:3 Page : 1132

DAY OF RESURRECTION

For Detail Consult : 75:1 85:2,3
Page : 781,1113

ALL THAT ONE CAN SEE

For Detail Consult: 69:38 Page : 209,1132

ALL THAT ONE CAN NOT SEE

For Detail Consult: 69:39 Page : 209,1132

البيت المعمور

وللتفصيل راجع ٥٢ الطور: ٤ الصفحة ٧٥٩

طور سينين

وللتفصيل راجع ٩٥ التين: ٢ الصفحة ١٠١٣

النفس

وللتفصيل راجع ٩١ الشمس: ٧ الصفحة ٤٠١

النفس اللوامة

وللتفصيل راجع ٧٥ القيامة: ٢ الصفحة ٤١٧

والد وما ولد

وللتفصيل راجع ٩٠ البلد: ٣ الصفحة ٤١١

القلم

وللتفصيل راجع ٦٨ القلم: ١ الصفحة ١٧٣

القلم وما يسطرون

وللتفصيل راجع ٦٨ القلم: ١ الصفحة ١٧٣

الزيتون

وللتفصيل راجع ٩٥ التين: ١ الصفحة ٣٥٧

التين

وللتفصيل راجع ٩٥ التين: ١ الصفحة ٣٥٧

مكة المكرمة

وللتفصيل راجع ٩٠ البلد: ٢، ١: ٩٥ التين: ٣
الصفحة ٦٢٤

الفلك

وللتفصيل راجع ٥١ الداريات: ٣ الصفحة ٣٥٠

الخيل العاديات

وللتفصيل راجع ١٠٠ العاديات: ٢، ١: ٢٠١ الصفحة ٦٤٧

الشفع والوتر

وللتفصيل راجع ٨٩ الفجر: ٣ الصفحة ١١٣٢

اليوم الاخر

وللتفصيل راجع ٧٥ القيامة: ١: ٨٥ البروج: ٢، ٢
الصفحة ١١١٣، ٧٨١

الأشياء المرئية

وللتفصيل راجع ٦٩ الحاقة: ٣٨: ٢٠٩، ٢٠٩: ١١٣٢

الأشياء غير المرئية

وللتفصيل راجع ٦٩ الحاقة: ٣٩: ٢٠٩، ٢٠٩: ١١٣٢

بيت المعمور

تفصيل كيلے دیکھے 4:52 صفحہ 759

طور سينين

تفصيل كيلے دیکھے 2:95 صفحہ 1013

نفس

تفصيل كيلے دیکھے 7:91 صفحہ 401

انسان کا ضمير

تفصيل كيلے دیکھے 2:75 صفحہ 417

باپ اور اولاد

تفصيل كيلے دیکھے 3:90 صفحہ 411

قلم

تفصيل كيلے دیکھے 1:68 صفحہ 173

اہل قلم

تفصيل كيلے دیکھے 1:68 صفحہ 173

زيتون

تفصيل كيلے دیکھے 1:95 صفحہ 357

انجیر

تفصيل كيلے دیکھے 1:95 صفحہ 173

شہر مکہ

تفصيل كيلے دیکھے 2,1:90 3:95 صفحہ 624

کشتیاں

تفصيل كيلے دیکھے 3:51 صفحہ 350

سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے

تفصيل كيلے دیکھے 2,1:100 صفحہ 647

جفت اور طاق

تفصيل كيلے دیکھے 3:89 صفحہ 1132

روز قیامت

تفصيل كيلے دیکھے 1:75 3,2:85 صفحہ 1113, 781

جو چیزیں نظر آتی ہیں

تفصيل كيلے دیکھے 38:69 صفحہ 1132, 209

جو چیزیں نظر نہیں آتی

تفصيل كيلے دیکھے 39:69 صفحہ 1132, 209

**PERSONS MENTIONED
IN HOLY QUR'AN**

**الأشخاص المذكورة
في القرآن صراحة**

**شخصيات قرآن
جن کا ذکر قرآن کریم میں واضح ہے**

HAWWA (EVE) ADAM'S WIFE	حواء - زوجة آدم	حوا (زوجہ حضرت آدم)
<i>For Detail Consult : 4:1 7:172 Page : 909</i>	والتفصیل راجع ۴ النساء: ۱، ۷ الأعراف: ۱۷۲ الصفحة ۹۰۹	تفصیل کیلئے دیکھئے 1:4 172:7 صفحہ 909
AZAR (ABRAHAM'S FATHER)	آزر (تارح) أبو ابراهيم	آزر (تارح) حضرت ابراہیم کا باپ
<i>For Detail Consult : 6:74 Page : 946</i>	والتفصیل راجع ۶ الأنعام: ۷۴، الصفحة ۹۴۶	تفصیل کیلئے دیکھئے 74:6 صفحہ 946
ABRAHAM (PBUH) FRIEND OF ALLAH (SWT)	ابراهيم (الخليل)	(حضرت ابراہیم علیہ السلام) خليل الله
<i>For Detail Consult : 4:125 Page : 944</i>	والتفصیل راجع ۴ النساء: ۱۲۵، الصفحة ۹۴۴	تفصیل کیلئے دیکھئے 125:4 صفحہ 944
ISRAEL-THE NAME FOR JACOB (PBUH)	إسرائيل (يعقوب عليه السلام)	اسرائیل - (حضرت یعقوب علیہ السلام) کا نام
<i>For Detail Consult : 3:93 19:58 Page : 594,640</i>	والتفصیل راجع ۳ آل عمران: ۹۳، ۱۹ مريم: ۵۸، الصفحة ۶۴۰، ۵۹۴	تفصیل کیلئے دیکھئے 58:19 93:3 صفحہ 640,594
SAMRI NICKNAME OF "SHEMER" (THE MAGICIAN) AN EGYPTIANISED HEBREW	السامري (الساحر في زمن موسى)	سامری (زمانہ موسیٰ کا جادوگر)
<i>For Detail Consult : 20:85,87,95 Page : 1048</i>	والتفصیل راجع ۲۰ طہ: ۸۵، ۸۷، ۸۸، ۹۵، الصفحة ۱۰۴۸	تفصیل کیلئے دیکھئے 95,87,85:20 صفحہ 1048
COMPANION OF THE FISH (ZUNNUN) THE TITLE OF JONAH (PBUH)	صاحب الحوت (ذوالنون) يونس	حضرت یونس (صاحب الحوت) مچھلی والے پیغمبر
<i>For Detail Consult : 21:87 68:48 Page : 1084</i>	والتفصیل راجع ۲۱ الأنبياء: ۸۷، ۶۸ القلم: ۴۸، الصفحة ۱۰۸۴	تفصیل کیلئے دیکھئے 48:68 87:21 صفحہ 1084
IMRAN	عمران	عمران (خاندان مریم کا بزرگ)
<i>For Detail Consult : 3:33,35 66:12 Page : 1091</i>	والتفصیل راجع ۳ آل عمران: ۳۳، ۳۵، ۶۶ التحريم: ۱۲، الصفحة ۱۰۹۱	تفصیل کیلئے دیکھئے 12:66 35,33:3 صفحہ 1091
(JUSUS PBUH) SON OF MARY	(عيسى) ابن مريم	(حضرت عیسیٰ) ابن مریم
<i>For Detail Consult : 2:87,253 4:157,171 5:17,72,75,78,110,112,114,116 Page : 1092,1095,1102</i>	والتفصیل راجع ۲ البقرة: ۸۷، ۲۵۳، ۴ النساء: ۱۵۷، ۱۷۱، ۵ المائدة: ۱۷، ۷۲، ۷۵، ۷۸، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶، الصفحة ۱۱۰۲، ۱۰۹۵، ۱۰۹۰، ۱۰۹۲	تفصیل کیلئے دیکھئے 17:5 171,157:4 253,87:2 صفحہ 116,114,112,110,78,75,72 صفحہ 1102,1095,1092
(ABDUL-UZA) FATHER OF FLAMES (A NICKNAME)	ابولهب (عبدالعزى)	ابولہب (عبدالعزى)
<i>For Detail Consult : 111:1 Page : 187</i>	والتفصیل راجع ۱۱۱ اللهب (المسد): ۱، الصفحة ۱۸۷	تفصیل کیلئے دیکھئے 1:111 صفحہ 187
SECOND OF THE TWO IN THE CAVE (ABU BAKR) COMPANION OF THE PROPHET (SAAS)	ثاني اثنين اذهما في الغار (ابو بكر الصديق صاحب الرسول)	ثانی آئینین (حضرت ابو بکر)
<i>For Detail Consult : 9:40 Page : 693</i>	والتفصیل راجع ۹ التوبة: ۴۰، الصفحة ۶۹۳	تفصیل کیلئے دیکھئے 40:9 صفحہ 693
ZAID (SON OF HARITHA)	زيد (بن حارث)	زید (بن حارث)
<i>For Detail Consult : 33:37 Page : 518</i>	والتفصیل راجع ۳۳ الأحزاب: ۳۷، الصفحة ۵۱۸	تفصیل کیلئے دیکھئے 37:33 صفحہ 518

**AHMAD (THE PRAISED ONE)
PROPHET MUHAMMAD(SAAS)**

For Detail Consult : 61:6 Page : 164

أحمد (محمد رسول الله)

وللتفصيل راجع ٦١ الصف ٦ الصفحة ١٦٤

احمد (محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم)

تفصیل کیلئے دیکھئے 6:61 صفحہ 164

GOLIATH (JALUT) ERA OF SHAMUEL

For Detail Consult : 2:249,250,251

Page : 1064,1067

جالوت (فی زمن شموئیل)

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١
الصفحة ١٠٦٤، ١٠٦٧

جالوت (زمانہ شموئیل)

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:249,250,251
صفحہ 1064,1067

**KORAH (QARUN)
(AN INSOLENT AMONG ISRAELITES)
WITH BOUNDLESS HOARDS OF WEALTH**

For Detail Consult : 28:76 to 82 29:39

Page : 1030,1031

قارون (فی زمن موسیٰ)

وللتفصيل راجع ٢٨ القصص: ٧٦ الى ٨٢ ٢٩ العنكبوت: ٣٩
الصفحة ١٠٣٠، ١٠٣١

**قارون (وزير فرعون)
بنی اسرائیل کا بے پناہ دولت مند شخص**

تفصیل کیلئے دیکھئے 28:76 تا 82 29:39
صفحہ 1030,1031

HAMAN (PHARAON'S MINISTER)

For Detail Consult : 28:38 29:39 40:24,36

Page : 1030

هامان (فی زمن شموئیل)

وللتفصيل راجع ٢٨ القصص: ٣٨ ٢٩ العنكبوت: ٣٩
٤٠ المؤمن (غافر): ٣٦، ٢٤ الصفحة ١٠٣٠

هامان (فرعون کا وزیر)

تفصیل کیلئے دیکھئے 28:38 29:39 40:24,36
صفحہ 1030

KING SAUL (TALUT) ERA OF SHAMUEL

For Detail Consult : 2:249 Page : 1063

طالوت (فی زمن شموئیل)

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٤٩ الصفحة ١٠٦٣

طالوت (بادشاہ زمانہ شموئیل)

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:249 صفحہ 1063

**LUQMAN
WISDOM PERSONIFIED - ERA OF DAVID**

For Detail Consult : 31:13 Page : 1071

**لقمان (صاحب الحكمة)
فی زمن داؤد**

وللتفصيل راجع ٣١ لقمان: ١٣ الصفحة ١٠٧١

**لقمان
زمانہ داؤد کا ایک دانا انسان**

تفصیل کیلئے دیکھئے 31:13 صفحہ 1071

**DHUL - QARNEYN
(ALEXANDER THE GREAT)
AN ANCIENT PERSIAN KING OR
PRE-HISTOREC HIMYARITE KING**

For Detail Consult : 18:83,86,94

Page : 1082

ذوالقرنین

وللتفصيل راجع ١٨ الكهف: ٨٣، ٨٦، ٩٤
الصفحة ١٠٨٢

**ذوالقرنین
(ایرانی سائرس یا اسکندر اعظم) "شہنشاہ فارس"
یا مملوک حمیر کے سلسلہ کا بادشاہ ہیں**

تفصیل کیلئے دیکھئے 18:83,86,94
صفحہ 1082

ABEL AND CAIN (SONS OF ADAM)

For Detail Consult : 5:27 to 31 Page : 915

هابیل - قابیل (ابنا آدم)

وللتفصيل راجع ٥ المائدة: ٢٧ الى ٣١ الصفحة ٩١٥

هابیل اور قابیل (آدم کے بیٹے)

تفصیل کیلئے دیکھئے 5:27 تا 31 صفحہ 915

**KHIDHR (KHIZIR)
A SAGE OF MOSES ERA**

For Detail Consult : 18:65 to 82

Page : 1058

خضر (فی زمن موسیٰ)

وللتفصيل راجع ١٨ الكهف: ٦٥ الى ٨٢ الصفحة ١٠٥٨

حضرت خضر (زمانہ موسیٰ کے دانش مند)

تفصیل کیلئے دیکھئے 18:65 تا 82 صفحہ 1058

AASEA - WIFE OF PHARAOH

For Detail Consult: 28:9 66:11 Page: 545,1007

RECALDIRANT SON OF NOAH
(SON - STEPSON OR GRAND SON)

For Detail Consult: 11:42 Page : 926

(HUD PBUH) BRETHREN OF AA'D

For Detail Consult: 46:21 Page : 930

(SALIH PBUH) BRETHREN OF THAMUD

For Detail Consult: 7:73 Page : 939

NIMRUD - RULER OF BABYLONIA
ERA OF ABRAHAM

For Detail Consult: 2:258 Page : 953

DAUGHTERS OF LOT PEOPLE

For Detail Consult: 11:78 Page : 966

DAUGHTER OF SHUAIB

For Detail Consult: 27:7 28:24,27,28
Page : 1010,1011

HALF BROTHERS OF JOSEPH

For Detail Consult: 12:5,8,16,58
Page : 978,979,988

BENJAMIN
REAL BROTHER OF JOSEPH

For Detail Consult: 12:59 Page: 988,990

ZULAIKHA - WIFE OF AZIZ

For Detail Consult: 12:30,51 Page:982,987

(AZIZ) OFFICER OF THE EGYPTIAN COURT
CHAMBERLAIN

For Detail Consult: 12:21,25 Page: 981,982

JACOB AND RACHEL
PARENTS OF JOSEPH

For Detail Consult: 12:100 Page : 995

آسیہ - امراة فرعون

وللتفصیل راجع ۲۸ القصص: ۹ ۶۶ التحريم: ۱۱

(کنعان) ابن نوح

وللتفصیل راجع ۱۱ هود: ۴۲ الصفة: ۹۲۶

(هود) اخو عاد

وللتفصیل راجع ۴۶ الأحقاف: ۲۱ الصفة: ۹۳۰

صالح (اخو ثمود)

وللتفصیل راجع ۷ الأعراف: ۷۳ الصفة: ۹۳۹

نمرود الذي حاج ابراهيم
ملك بابل

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۲۵۸ الصفة: ۹۵۳

بنات قوم لوط

وللتفصیل راجع ۱۱ هود: ۷۸ الصفة: ۹۶۶

بنت شعيب

وللتفصیل راجع ۲۷ النمل: ۷ ۲۸ القصص: ۲۴، ۲۷، ۲۸
الصفة: ۱۰۱۱، ۱۰۱۰

اخوة يوسف

وللتفصیل راجع ۱۲ يوسف: ۵، ۸، ۱۶، ۵۸
الصفة: ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۸

بنيامين (شقيق يوسف)

وللتفصیل راجع ۱۲ يوسف: ۵۹ الصفة: ۹۸۸، ۹۹۰

(زليخا) رائيل امرأة العزيز

وللتفصیل راجع ۱۲ يوسف: ۵۱، ۳۰ الصفة: ۹۸۲، ۹۸۷

عزيز مصر (بوطيفرع)

وللتفصیل راجع ۱۲ يوسف: ۲۱، ۲۵ الصفة: ۹۸۱، ۹۸۲

(يعقوب و راحيل) ابوايوسف

وللتفصیل راجع ۱۲ يوسف: ۱۰۰ الصفة: ۹۹۵

آسیہ - فرعون کی بیوی

تفصیل کیلئے دیکھئے 11:28 11:66 صفحہ 1007,545

(کنعان) ابن نوح

تفصیل کیلئے دیکھئے 42:11 صفحہ 926

حضرت ہود - قوم عاد کے بھائی

تفصیل کیلئے دیکھئے 21:46 صفحہ 930

حضرت صالح - قوم ثمود کے بھائی

تفصیل کیلئے دیکھئے 73:7 صفحہ 939

نمرود (عراق - بابل کا بادشاہ)
زمانہ حضرت ابراہیم

تفصیل کیلئے دیکھئے 258:2 صفحہ 953

قوم لوط کی بیٹیاں

تفصیل کیلئے دیکھئے 78:11 صفحہ 966

حضرت شعيب کی دختر

تفصیل کیلئے دیکھئے 7:27 28,27,24:28
صفحہ 1011,1010

حضرت يوسف کے سوتیلے بھائی
(برادران يوسف)

تفصیل کیلئے دیکھئے 12:5,8,16,58
صفحہ 988,979,978

(بنيامين) بنيامين حضرت يوسف کا حقیقی بھائی

تفصیل کیلئے دیکھئے 59:12 صفحہ 990,988

(زليخا) رائيل (عزيز مصر کی بیوی)

تفصیل کیلئے دیکھئے 12:30,51 صفحہ 987,982

عزيز (بوطيفرع) سلطنت مصر کا معتمد خاص

تفصیل کیلئے دیکھئے 12:21,25 صفحہ 982,981

يعقوب اور راحيل (حضرت يوسف کے والدین)

تفصیل کیلئے دیکھئے 100:12 صفحہ 995

MOTHER OF MOSES

For Detail Consult: 20:38,40 28:10,13
Page : 1006,1008

(یوکبند) ام موسیٰ

وللتفصیل راجع ۲۰ طہ: ۳۸، ۴۰ ۲۸ القصص: ۱۰، ۱۳
الصفحة ۱۰۰۶، ۱۰۰۸

یوکبند (حضرت موسیٰ کی والدہ)

تفصیل کیلئے دیکھئے 13,10:28 40,38:20
صفحة 1008,1006

MARY - SISTER OF MOSES AND AARON

For Detail Consult: 20:40 28:11
Page : 1006,1007

بنیة: أخت موسیٰ وھارون

وللتفصیل راجع ۲۰ طہ: ۴۰، ۲۸ القصص: ۱۱
الصفحة ۱۰۰۶، ۱۰۰۷

نسبہ (موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم)

تفصیل کیلئے دیکھئے 11:28 40:20
صفحة 1007,1006

RAMESSESS II PHARAOH (THE OPPRESSOR)

For Detail Consult: 2:49 7:141 28:4
Page : 1005

(رعمیسس الثانی)

فرعون قاتل ابناء بنی اسرائیل

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۴۹، ۷ الأعراف: ۱۴۱
الصفحة ۱۰۰۵

رعمیسس دوم - بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قاتل
ظلم و ستم کرنے والا بادشاہ فرعون

تفصیل کیلئے دیکھئے 4:28 141:7 49:2
صفحة 1005

MERNEPTAH (PHARAOH OF EXODUS) (SON OF RAMESSESS II)

For Detail Consult: 10 :90,91,92 Page: 1040

مر نیپتہ مرتفتاح ابن رعمیسس الثانی
فرعون الغریق

وللتفصیل راجع ۱۰ یونس: ۹۰، ۹۱، ۹۲ الصفحة ۱۰۴۰

(مر نیپتہ) مرتفتاح (رعمیسس دوم کا بیٹا) حضرت موسیٰ
کا تعاقب کرنے والا اور غرق ہونے والا فرعون

تفصیل کیلئے دیکھئے 92,91,90:10
صفحة 1040

BALAAM (THE SEER)

For Detail Consult: 7:175 Page : 383

بلعم باعور
(کاهن فی زمن موسیٰ)

وللتفصیل راجع ۷ الأعراف: ۱۷۵ الصفحة ۳۸۳

بلعم باعور - حضرت موسیٰ کے زمانے میں
مدین کارہنے والا کاهن (جو عراق سے وہاں گیا تھا)

تفصیل کیلئے دیکھئے 175:7
صفحة 383

(ISRAELITES) THE FEROCIOUS PEOPLE OF EXCEEDING STRENGTH

For Detail Consult: 5:22 Page : 1042

العمالقة

وللتفصیل راجع ۵ المائدة: ۲۲ الصفحة ۱۰۴۲

جبارین - قوم عمالقة

تفصیل کیلئے دیکھئے 22:5
صفحة 1042

HAJAR - SECOND WIFE OF ABRAHAM - MOTHER OF ISHMAEL

For Detail Consult: 37:101 Page : 955

حاجر زوجة ابراهیم (ام اسمعیل)

وللتفصیل راجع ۳۷ الصافات: ۱۰۱ الصفحة ۹۵۵

حاجرہ - حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی
(والدہ حضرت اسماعیل)

تفصیل کیلئے دیکھئے 101:37
صفحة 955

SARA - FIRST WIFE OF ABRAHAM - MOTHER OF ISSAC

For Detail Consult: 11 :72 Page : 958

سارہ زوجة ابراهیم (ام اسحق)

وللتفصیل راجع ۱۱ ہود: ۷۲ الصفحة ۹۵۸

سارہ - حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی
(والدہ حضرت اسحاق)

تفصیل کیلئے دیکھئے 72:11
صفحة 958

ELISABETH - WIFE OF ZACHARIAH AUNT OF MARY-MOTHER OF YEHYA

For Detail Consult: 3:40 19:8 Page:1088

(الیشیع) امرأة زکریا
خالہ مریم (أخت أم یحییٰ)

وللتفصیل راجع ۳ آل عمران: ۴۰، ۱۹ مریم: ۸
الصفحة ۱۰۸۸

(الیشیع) حضرت زکریا کی بیوی
مریم کی خالہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ

تفصیل کیلئے دیکھئے 8:19 40:3
صفحة 1088

EZRA - UZAIR(PBUH)

For Detail Consult: 2:259 Page : 1081

عزیر علیہ السلام

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۲۵۹ الصفحة ۱۰۸۱

(حضرت عزیر) علیہ السلام

تفصیل کیلئے دیکھئے 259:2
صفحة 1081

ANNE (HUNNA) WIFE OF IMRAN (MOTHER OF MARY)

For Detail Consult: 3:35 Page : 1091

(حنہ) امرأة عمران - أم مریم

وللتفصیل راجع ۳ آل عمران: ۳۵ الصفحة ۱۰۹۱

حنہ (عمران کی بیوی مریم کی والدہ)

تفصیل کیلئے دیکھئے 35:3
صفحة 1091

SISTER OF AARON

For Detail Consult: 19:28 Page : 1097

HMYARITE - KING OF YEMEN (A JEW) WHO PERSECUTED THE CHRISTIANS OF NAJLAN IN 570 - AD

For Detail Consult: 85:4 Page : 1113

(MARY) DAUGHTER OF IMRAN

For Detail Consult: 66:12 Page : 1093

ABDULLAH IBN UMM - I - MAKTUM A BLIND MAN COMPANION OF HOLY PROPHET (SAAS)

For Detail Consult: 80:1,2 Page : 690

ABDULLAH IBN UBAY CHIEF OF HYPOCRITES

For Detail Consult: 24:11 Page : 708

HOUSE HOLD OF THE PROPHET (SAAS) WIVES - DAUGHTERS - SON IN LAWS - GRAND SONS

For Detail Consult: 33:28,31,35 Page : 188,189

(KA'B - MARARAH AND HILAL) THE THREE WHO WERE LEFT BEHIND TO JOIN TABUK EXPIDITION

For Detail Consult: 9:118 Page : 724

UMM JAMIL BINT HARB (THE WIFE OF ABU LAHAB)

For Detail Consult: 111:4 Page : 187

BILQEES - QUEEN OF SHEBA (PERIOD OF SOLOMON)

For Detail Consult: 27:23,24 Page : 1076

WIFE OF LOT

For Detail Consult: 7:83 66:10 Page : 545,927,969

WIFE OF NOAH

For Detail Consult: 66:10 Page : 545,927

أخت هارون

وللتفصيل راجع ۱۹ مريم: ۲۸: الصفحة ۱۰۹۷

أصحاب الأخدود

وللتفصيل راجع ۸۵ البروج: ۴: الصفحة ۱۱۱۳

مريم عليها السلام (بنت عمران)

وللتفصيل راجع ۶۶ التحريم: ۱۲: الصفحة ۱۰۹۳

(عبد الله بن أم مكتوم) الأعمى

وللتفصيل راجع ۸۰ عبس: ۲۰: الصفحة ۶۹۰

(عبد الله ابن أبي) رئيس المنافقون

وللتفصيل راجع ۲۴ النور: ۱۱: الصفحة ۷۰۸

اهل بيت أزواج النبي الكريم ﷺ

وللتفصيل راجع ۳۳ الأحزاب: ۳۱،۳۲،۳۵: الصفحة ۱۸۹،۱۸۸

كعب بن مالك - مرارة بن ربيع - هلال بن أمية أصحاب الرسول الثلاثة الذين خلفوا من جيش تبوك

وللتفصيل راجع ۹ التوبة: ۱۱۸: الصفحة ۷۲۴

(أم جميل بنت حرب) امرأة أبي لهب

وللتفصيل راجع ۱۱۱ اللهب (المسد): ۴: الصفحة ۱۸۷

بلقيس (ملكة سبا) في زمن سليمان

وللتفصيل راجع ۲۷ النمل: ۲۳، ۲۴: الصفحة ۱۰۷۶

امرأة لوط

وللتفصيل راجع ۷ الأعراف: ۸۳ ۶۶ التحريم: ۱۰: الصفحة ۹۶۹، ۹۲۷، ۵۴۵

امرأة نوح

وللتفصيل راجع ۶۶ التحريم: ۱۰: الصفحة ۹۲۷، ۵۴۵

هارون کی بہن

تفصیل کیلئے دیکھیے 28:19 صفحہ 1097

یمن کا حمیری یہودی بادشاہ ذونواس جس نے نجران کے عیسائیوں کا قتل عام کیا

تفصیل کیلئے دیکھیے 4:85 صفحہ 1113

مريم عليها السلام (بنت عمران)

تفصیل کیلئے دیکھیے 12:66 صفحہ 1093

حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم (ناہینا صحابی)

تفصیل کیلئے دیکھیے 2:1:80 صفحہ 690

(عبد اللہ بن ابی) منافقوں کا سردار

تفصیل کیلئے دیکھیے 11:24 صفحہ 708

اہل بیت - أزواج مطہرات اور اہل خاندان نبی کریم ﷺ

تفصیل کیلئے دیکھیے 33:28,31,35 صفحہ 189,188

كعب بن مالك - مرارة بن ربيع - هلال بن أمية تین اصحاب کرام

تفصیل کیلئے دیکھیے 9:118 صفحہ 724

أم جميل بنت حرب (ابولہب کی بیوی)

تفصیل کیلئے دیکھیے 4:111 صفحہ 187

بلقيس (ملکہ سبا) زمانہ سليمان معارب صنعا کی حکمران

تفصیل کیلئے دیکھیے 27:23,24 صفحہ 1076

لوط عليه السلام کی بیوی

تفصیل کیلئے دیکھیے 7:83 66:10 صفحہ 969,927,545

نوح عليه السلام کی بیوی

تفصیل کیلئے دیکھیے 66:10 صفحہ 927,545

Colours and Shades Mentioned in Holy Quran

الوان المذكورة في القرآن صراحة

رنگ من کا قرآن کریم میں صریح ذکر ملتا ہے

NO ONE IS BETTER THAN ALLAH (SWT)
AT HUE (COLOURING)

صبغة الله أحسن

سب سے بہتر اللہ تعالیٰ ہی کا رنگ

(Say "Our life takes its") hue from Allah! And who give a better hue (to life then Allah, if we but truly worship Him?) (2:138)

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
وَمَنْ لَعِبِدُونِ ﴿١٣٨﴾
(٢ البقرة ١٣٨)

(کہہ دیجئے کہ ہم نے) اللہ کا رنگ (اختیار کر لیا ہے) اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں (138:2)

Colours	Reference Chapter and Verse	اسم السورة، ورقم آية	الوان	حوالہ جات، سورت اور آیت	رنگ
WHITE (Shining)	2:187, 7:108, 35:27	٢ البقرة ١٨٧، ١٧ الاعراف ١٠٨ ٣٥ فاطر ٢٧	أبيض	108:7 187:2 27:35	سفید
RED	35:27	٣٥ فاطر ٢٧	أحمر	27:35	سرخ
GREEN	36:40 76:21	٣٦ الأعراف ٤٠، ٧٦ المؤمن ٢١	أخضر	36:40 76:21	سبز
FOREST-GREEN DENSE-GREEN	55:64	٥٥ الرحمن ٦٤	أدهم	64:55	گہرا سبز سیاہ
FAWN YELLOW	2:69 77:33	٢ البقرة ٦٩، ٧٧ المرسلات ٣٣	أصفر	33:77 69:2	زر
BLUE	20:102	٢٠ طه ١٠٢	أزرق	102:20	نیلا
RED ROSE	55:37	٥٥ الرحمن ٣٧	وردية	37:55	گلابی
INTENSE BRIGHT	2:69	٢ البقرة ٦٩	فاقع	69:2	گہرا چمکیلا
BLACK	2:187, 35:27	٢ البقرة ١٨٧، ٣٥ فاطر ٢٧	أسود	27:35 187:2	سیاہ
SWARTHY RUST BROWN	87:5	٨٧ الاعلى ٥	أحوى	5:87	سیاہ
INTENSE BLACK	35:27	٣٥ فاطر ٢٧	غرابيب	27:35	گہرا سیاہ
SOOT DARKNESS SMOKEY	30:17	٣٠ المؤمن ١٧	سود	30:17	دھواں والا سیاہ
INK	18:109	١٨ الكهف ١٠٩	مداد	109:18	روشنائی

BAKKAH (MAKKAH)

For Detail Consult : 3:96 Page : 624

MAKKAH - MOTHER OF THE CITIES

For Detail Consult : 42:7 Page : 231

KA'BAH
ANCIENT HOUSE - SACRED MOSQUE

For Detail Consult : 22:29,33 Page : 291,293

ARAFAT (IN VICINITY OF MAKKAH)

For Detail Consult : 2:198 22:27 Page : 291

MASHAR-UL- HARAM
MUZDALIFA - SACRED MONUMENTS
ABOUT MIDWAY BETWEEN MINA AND ARAFAT

For Detail Consult : 2:198 Page : 291

SAFA AND MARWA HILLS
(SINCE ABSORBED IN THE CITY OF MAKKAH)

For Detail Consult : 2:158 Page : 290

STATION OF ABRAHAM

For Detail Consult : 2:125 3:97 Page : 290

SACRED MOSQUE (KA'BA)

For Detail Consult : 2:144,149,150,191
2:196,217 5:2 8:34 9:7,19,28 17:1
48:25,27 Page : 622,624,625,688SACRED MOSQUE (TEMPLE OF SOLOMON)
IN JERUSALEM ON THE HILLS OF MORIAH

For Detail Consult : 17:1 Page : 688

YATHRIB (MADINAH)
OLD NAME OF THE CITY OF PROPHET (SAAS)

For Detail Consult : 33:13 Page : 710

MOUNT TUR

For Detail Consult : 2:63,93 4:154 19:52
20:80 23:20 28:29,46 52:1 95:1,2
Page : 1012,1052

SACRED VALLEY TUWA

For Detail Consult : 20:12 79:16
Page : 1012,1015

بكة (مكة المكرمة)

وللتفصيل راجع ٣ آل عمران: ٩٦ الصفحة ٦٢٤

ام القرى (مكة المكرمة)

وللتفصيل راجع ٤٢ الشورى: ٧ الصفحة ٢٣١

البيت العتيق (المسجد الحرام)

وللتفصيل راجع ٢٢ الحج: ٢٣٠، ٢٩١ الصفحة ٢٩٣، ٢٩١

عرفات (بنواحي مكة المكرمة)

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٩٨، ٢٢ الحج: ٢٧ الصفحة ٢٩١

المشعر الحرام (بنواحي مكة المكرمة) المزدلفة

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٩٨، ٢٧ الحج: ٢٧ الصفحة ٢٩١

الصفاء والمروة

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٥٨، ٢٩٠ الصفحة ٢٩٠

مقام ابراهيم

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٢٥، ٣ آل عمران: ٩٧،
الصفحة ٢٩٠

المسجد الحرام

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ١٤٤، ١٤٩، ١٥٠، ١٩١، ١٩٦، ٢١٧،
٥ المائدة: ٢، ٨ الأنفال: ٣٤، ٩ التوبة: ١٩، ١٩٧، ٢٨،
١٧ الإسراء (بنى اسرائيل): ١، ٤٨ الفتح: ٢٧، ٢٥،
الصفحة ٦٨٨، ٦٢٥، ٦٢٤، ٦٢٢

المسجد الأقصى (بيت المقدس)

وللتفصيل راجع ١٧ الإسراء (بنى اسرائيل): ١، الصفحة ٦٨٨

يثرب (المدينة المنورة)

وللتفصيل راجع ٣٣ الأحزاب: ١٣، الصفحة ٧١٠

الطور

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٩٣، ٩٤، ١٥٤،
١٩ مريم: ٥٢، ٢٥ طه: ٨٠، ٢٣ المؤمنون: ٢٠،
٢٨ القصص: ٤٦، ٢٩، ٥٢ الطور: ١، ٩٥ التين: ٢٠،
الصفحة ١٠٥٢، ١٠١٢

الواد المقدس (طوى)

وللتفصيل راجع ٢٠ طه: ١٢، ١٦،
الصفحة ١٠١٥، ١٠١٢

بكة (مكة المكرمة)

تفصيل كيلے دیکھے 96:3 صفحہ 624

ام القرى (مكة المكرمة) وادی قرى

تفصيل كيلے دیکھے 7:42 صفحہ 231

خانہ کعبہ - بیت العتيق

تفصيل كيلے دیکھے 33,29:22 صفحہ 293,291

عرفات (مضافات مکہ معظمہ)

تفصيل كيلے دیکھے 2:198 27:22 صفحہ 291

مشعر الحرام مزدلفہ (مضافات مکہ معظمہ)

تفصيل كيلے دیکھے 2:198 صفحہ 291

کوہ صفا و مروہ (مكة المكرمة)

تفصيل كيلے دیکھے 2:158 صفحہ 290

مقام ابراهيم

تفصيل كيلے دیکھے 2:125 3:97 صفحہ 290

مسجد الحرام

تفصيل كيلے دیکھے 2:144,149,150,191,196,217,
5:2 8:34 9:7,19,28 17:1 27,25:48
صفحہ 688,625,624,622

مسجد اقصیٰ (بيت المقدس)

تفصيل كيلے دیکھے 1:17 صفحہ 688

يثرب (مدينة المنورة)

تفصيل كيلے دیکھے 33:13 صفحہ 710

طور (کوہ طور)

تفصيل كيلے دیکھے 2:63,93 4:154 19:52
20:80 23:20 28:29,46 52:1 95:1,2
2,1:95 1:52 46,29:28 20:23 80:20
صفحہ 1052,1012وادی طوی - خلیج عقبہ و قازم کے
درمیان کوہ طور اب کی چوٹی کا نامتفصيل كيلے دیکھے 20:12 79:16
صفحہ 1015,1012

MOUNT SINAI

طور سیناء - سینین

کوہ سینا (طور سینا)

For Detail Consult : 23:20 95:2

وللتفصیل راجع ۲۳ المؤمنون: ۲۰ ۹۵ التین: ۲

تفصیل کیلئے دیکھئے 20:23 2:95

Page : 357,1013

الصفحة ۱۰۱۳،۳۵۷

صفحة 1013,357

MADYAN (MIDIAN)

المدین

مدین

For Detail Consult : 7:85 11:95 20:40 28:22

وللتفصیل راجع ۱۷ الأعراف: ۸۵ ۱۱ ہود: ۹۵ ۲۰ طہ: ۴۰

تفصیل کیلئے دیکھئے 22:28 40:20 95:11 85:7

Page : 785,1002,1007,1009

۲۸ القصص: ۲۲ الصفحة ۱۰۰۹،۱۰۰۷،۱۰۰۲،۷۸۵

صفحة 1009,1007,1006,1002

BABYLON - IRAQ

بابل (عراق)

بابل (عراق)

For Detail Consult : 2:102 Page : 1080

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۱۰۲ الصفحة ۱۰۸۰

تفصیل کیلئے دیکھئے 102:2 صفحه 1080

DESERT OF PARAN

صحراء التيه

دشت تیدیہ
میدان تیدیہ بیابان شور اور دشت فاران
(من و سلوی کا مقام نزول)

For Detail Consult : 5:25,26 Page : 1043

وللتفصیل راجع ۵ المائدة: ۲۵،۲۶ الصفحة ۱۰۴۳

تفصیل کیلئے دیکھئے 26,25:5 صفحه 1043

EGYPT

مصر

مصر

For Detail Consult : 12:21,99 43:51

وللتفصیل راجع ۱۲ یوسف: ۲۱،۹۹ ۴۳ الزخرف: ۵۱

تفصیل کیلئے دیکھئے 51:43 99,21:12

Page : 981,995,1021

الصفحة ۱۰۲۱،۹۹۵،۹۸۱

صفحة 1021,995,981

ADEN CITY OF IRAM
(ANCIENT CAPITAL OF SOUTHERN ARABIA)

For Detail Consult 34:16 Page : 1115

AIKA (MADYAN) - TABUK
ANCIENT CITY OF SOUTHERN ARABIA

For Detail Consult 15:78 26:176 38:13 50:14
Page : 997,1102

ARCHAEOLOGICAL REMAINS OF
LAND MARKS OF AAD FOLK

For Detail Consult : 29:38 Page : 935

WINDING SAND - TRACTS (AHQAF)

For Detail Consult 46:21 Page : 930

SODOM AND GOMORRAH
VALLEY OF JORDAN

For Detail Consult 21:74,75 Page : 962

BRIMSTONE PLAIN OF TRACT PRESENTING
SCENE OF DISMAL DISOLATION OF LOT PEOPLE

For Detail Consult 15:75,76,77 25:40 29:35
37:137,138 51:37
Page : 969

ARCHAEOLOGICAL REMAINS OF
BOSTED CIVILIZATION OF THAHMUD
NORTH OF MADINAH ON HIGHWAY TO SYRIA

For Detail Consult 27:51,52 29:38
Page : 943

CANA'AN - PALISTINE

For Detail Consult 12:58 Page : 988

EGYPT

For Detail Consult 12:82 Page : 992

ABANDONED DEEP WELL IN WHICH
JOSEPH (PAUHI) WAS THROWN DOWN BY HIS
HALF BROTHERS

For Detail Consult 12:10 Page : 978

OASIS OF MADYAN (MIDIAN)

For Detail Consult 28:23 Page : 1010

مآرب - عدن

وللتفصیل راجع ۳۴ سبأ: ۱۶: الصفحة ۱۱۱۵

الأيكة مدينة قديمة العرب الشمالي
والاسم الحالي هو تبوك

وللتفصیل راجع ۱۵ الحجر: ۷۸: ۲۶ الشعراء: ۱۷۶: ۳۸
ص: ۱۳: ۵۰ ق: ۱۴: الصفحة ۱۱۰۲، ۹۹۷

أطلال بيوت عاد الخاوية

وللتفصیل راجع ۲۹ العنكبوت: ۳۸: الصفحة ۹۳۵

الأحقاف - مسكن عاد

وللتفصیل راجع ۴۶ الأحقاف: ۲۱: الصفحة ۹۳۰

عمورة، سدوم القرية التي أمطرت
مطر السوء (المنسوب اليه قوم لوط)

وللتفصیل راجع ۲۱ الأنبياء: ۷۵، ۷۴: الصفحة ۹۶۲

أطلال قري قوم لوط

وللتفصیل راجع ۱۵ الحجر: ۷۵، ۷۶، ۷۷: ۲۵ الفرقان: ۴۰: ۲۹
العنكبوت: ۳۵: ۳۷ الصافات: ۱۳۷، ۱۳۸: ۵۱ الذاريات: ۳۷: الصفحة ۹۶۹

أطلال بيوت ثمود الخاوية

وللتفصیل راجع ۲۷ النمل: ۵۱، ۵۲: ۲۹ العنكبوت: ۳۸:
الصفحة ۹۴۳

(كنعان) فلسطين

وللتفصیل راجع ۱۲ يوسف: ۵۸: الصفحة ۹۸۸

مصر

وللتفصیل راجع ۱۲ يوسف: ۸۲: الصفحة ۹۹۲

الجب (المنسوبة إلى يوسف)

وللتفصیل راجع ۱۲ يوسف: ۱۰: الصفحة ۹۷۸

ماء مدين

وللتفصیل راجع ۲۸ القصص: ۲۳: الصفحة ۱۰۱۰

مآرب - عدن

تفصیل کے لئے دیکھئے 16:34 صفحہ 1115

ایک۔ موجودہ تبوک شمالی عرب
کا قدیم شہر زمانہ حضرت شعیب

تفصیل کے لئے دیکھئے 15:78 13:38 176:26 78:15
صفحہ 1102, 997

قوم عاد کی تباہ شدہ بستیاں
(عمان اور یمن کا علاقہ)

تفصیل کے لئے دیکھئے 38:29 صفحہ 935

احقاف۔ حضر الموت
عمان اور صحرائے الربع الخالی کے مابین
قوم عاد کے مسکن

تفصیل کے لئے دیکھئے 21:46 صفحہ 930

عمورہ (بحیرہ مردار کے جنوب میں دریائے شوری وادی) سدوم
(وادی اردن) قوم لوط سے منسوب

تفصیل کے لئے دیکھئے 21:74, 75 صفحہ 962

قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں
(علاقہ سدوم اور عمورہ)

تفصیل کے لئے دیکھئے 15:75, 76, 77 40:25 35:29
138, 137: 37: 51 صفحہ 969

قوم ثمود کی تباہ شدہ بستیاں (علاقہ یمامہ)
مدینہ منورہ کے شمال میں ملک شام کے راستہ پر

تفصیل کے لئے دیکھئے 27:51, 52 38:29
صفحہ 943

(کنعان) فلسطين

تفصیل کے لئے دیکھئے 58:12 صفحہ 988

مصر

تفصیل کے لئے دیکھئے 82:12 صفحہ 992

اندھا کنواں
(حضرت یوسف سے منسوب)

تفصیل کے لئے دیکھئے 10:12 صفحہ 978

چاہ مدين (زمانہ حضرت شعیب)

تفصیل کے لئے دیکھئے 23:28 صفحہ 1010

MOUNT-SINAI

For Detail Consult 28:29,30 Page 1011,1012

RIVER NILE IN WHICH INFANT MOSES WAS FLOATED IN A CHEST

For Detail Consult 20:39 28:7 Page 1006

RED SEA IN WHICH PHARAOH WAS DROWNED

For Detail Consult 2:50 10:90 20:77 44:24
Page : 1037,1040

SINAI PENINSULA - EGYPT

For Detail Consult 7:139,140 Page : 1041

THE JUNCTION OF TWO ARMS OF REDSEA GULF OF AQABA AND GULF OF SUEZ

For Detail Consult 18:60,61 Page :1058

SACRED LAND - PROMISED LAND PALISTINE COMPRISING ON JORDAN, LEBNON, AND ANTAKIA

For Detail Consult 7:137 21:71
Page : 954,1077

SPRING OF MOSES (PBUH)

For Detail Consult 7:160 Page: 1043,1044

SACRED VALLEY (TAWA)

For Detail Consult 20:12 79:16
Page : 1012,1015

TWO BODIES OF FLOWING WATER (PALATABLE AND DISTASTEFUL)

For Detail Consult 25:53 55:19
Page : 343,344

SABBATH (EILAT) JEWISH FISHING COMMUNITY

For Detail Consult 2:65 4:47,154 7:163
Page : 1070

FOUNTAIN OF JOB

For Detail Consult 38:42 Page : 996

ASSYRIA - BABEL (IRAQ)

For Detail Consult 2:102 Page: 157,1085

ABEL MEHLOLAH (JORDEN) PREACHING AREA OF ELISHA (PBUH)

For Detail Consult: 6:86 18:93,94 38:48
Page : 10 66

جبل موسیٰ

وللتفصیل راجع ۲۸ القصص ۳۰،۲۹: الصفحة ۱۰۱۲،۱۰۱۱

نهر النيل

وللتفصیل راجع ۲۰ طه ۳۹: ۲۸ القصص ۷:
الصفحة ۱۰۰۶

بحر قلزم

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۵۰، ۱۰ یونس: ۹۰، ۲۰ طه: ۷۷
۴۴ الدخان: ۲۴: الصفحة ۱۰۳۷، ۱۰۴۰

شبه الجزيرة سيناء (مصر)

وللتفصیل راجع ۷ الأعراف: ۱۴۰، ۱۳۹: الصفحة ۱۰۴۱

مجمع البحرين

المنسوب إلى سفر
موسىٰ و يوشع في لقاء خضر

وللتفصیل راجع ۱۸ الكهف: ۶۱، ۶۰: الصفحة ۱۰۵۸

الأرض المقدسة

السورية ولبنان والاردن وفلسطين

وللتفصیل راجع ۷ الأعراف: ۱۳۷، ۲۱ الأنبياء: ۷۱
الصفحة ۱۰۷۷، ۹۵۴

عيون موسىٰ بقرب طور سيناء

وللتفصیل راجع ۷ الأعراف: ۱۶۰: الصفحة ۱۰۴۳، ۱۰۴۴

الواد المقدس (طوى)

وللتفصیل راجع ۲۰ طه: ۱۲، ۷۹ النازعات: ۱۶:
الصفحة ۱۰۱۲، ۱۰۱۵

مرج البحرين

وللتفصیل راجع ۲۵ الفرقان: ۵۲، ۵۵ الرحمن: ۱۹:
الصفحة ۳۴۳، ۳۴۴

أصحاب السبت

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۶۵، ۴ النساء: ۱۵۴، ۴۷:
۷ الأعراف: ۱۶۳: الصفحة ۱۰۷۰

عين أيوب

وللتفصیل راجع ۳۸ ص: ۴۲: الصفحة ۹۹۶

آشورية بابل - الاشورية

وللتفصیل راجع ۲ البقرة: ۱۰۲: الصفحة ۱۰۵۷، ۱۰۸۵

ابيل محلولة (مكان بعث اليسع)

وللتفصیل راجع ۱۶ الأنعام: ۸۶، ۱۸ الكهف: ۹۴، ۹۳:
ص ۳۸: ۴۸: الصفحة ۱۰۶۶

جبل موسیٰ

تفصیل کے لئے دیکھئے 28:29,30 صفحہ 1011,1012

دریائے نیل

جس میں نومولود موسیٰ کو صندوق میں ڈال دیا گیا

تفصیل کے لئے دیکھئے 20:39 28:7 صفحہ 1006

البحر (بحر قلزم) جس میں فرعون غرق ہوا

تفصیل کیلئے دیکھئے 2:50 10:90 20:77 44:24
صفحہ 1037,1040

جزیرہ نماء سینا (مصر)

تفصیل کے لئے دیکھئے 7:139,140 صفحہ 1041

مجمع البحرين (خرطوم کے نزدیک)

جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سوئس دونوں بحر احمر میں ضم ہوتے ہیں
حضرت موسیٰ اور یوشع کا تلاش خضر کے سفر کی ایک منزل

تفصیل کے لئے دیکھئے 18:60,61 صفحہ 1058

ارض مقدس (فلسطين) برکتوں والی زمین
شام لبنان اردن اور انطاکیہ
(موجودہ جنوبی مغربی ترکی کا حصہ)

تفصیل کے لئے دیکھئے 7:137 21:71
صفحہ 954,1077

چشمہ موسیٰ (حرب پہاڑی طور سینا کے نزدیک)

تفصیل کے لئے دیکھئے 7:160 صفحہ 1043,1044

وادی مقدس ملک شام (طوی)

تفصیل کے لئے دیکھئے 20:12 79:16
صفحہ 1012,1015

مرج البحرين (بیٹھے اور کھاری پانی کے ذخائر)

تفصیل کیلئے دیکھئے 25:53 55:19
صفحہ 343,344

اصحاب السبت

عقبہ اردن کا ساحلی قصبہ

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:65 4:47,154 7:163
صفحہ 1070

چشمہ ایوب

تفصیل کیلئے دیکھئے 38:42 صفحہ 996

آسیریا - آشور (بابل) (مسن قوم یونس)

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:102 صفحہ 157,1085

ابیل محلولہ (مقام تبلیغ اليسع)

تفصیل کے لئے دیکھئے 6:86 18:93,94 38:48
صفحہ 1066

**MONGOLS OR WILD TRIBES
GOG - MOGOG**

For Detail Consult 18:93,94 Page: 1083

**TISHBITE - A CITY OF NORTH JORDAN
PREACHING AREA OF ELIAS (PBUH)**

For Detail Consult 6:85 37:123 Page: 1065

**SHITTIM - TOWN OF ACACIAS
IN EAST OF JORDAN**

For Detail Consult 2:58,59 Page: 1062

**AREA OF ALEXANDER THE GREAT
OR ANCIENT PERSIAN KING
OR PRE-HISTORIC HIMYARITE KING**

For Detail Consult 18:83,98 Page: 1082,1084

**ANOTIOCH - ANTAKIA - NORTH SYRIA
SOUTH TURKEY-CYPRUS**

For Detail Consult 36:13 Page: 1109

**RABWA-HIGH GROUND
PALISTINE OR EGYPT-DAMASCUS**

For Detail Consult 23:50 Page: 1096

**TURKEY WITH CAPITAL AT CONSTANTINOPE
(ANTAKIA)**

For Detail Consult 30:1 to 5 Page: 686

YEMEN (SANAA) SHEBA

For Detail Consult 27:22,24 34:15,19
Page: 1114

**SACRED MOSQUE IN JERUSALEM
ON THE HILLS OF MORIAH**

For Detail Consult 2:259 Page: 1081

**COMPANIONS OF RAAS
PEOPLE OF SHOAB (PBUH)**

For Detail Consult 25:38 50:12 Page: 1114

**BETHLEHEM
NAZARETH (OF GALILEE)
NORTH OF JERUSALEM**

For Detail Consult 19:22 Page: 1094

RIVULET OF MARY (PBUH)

For Detail Consult 19:24 23:50 Page: 1096

**EPHESUS
PERIOD OF DECUS**

For Detail Consult 18:9,10,20
Page: 1105,1066

**منغولیا - الصين الشمالی
(المنسوب اليه ياجوج ماجوج)**

وللتفصيل راجع ١٨ الكهف: ٩٤،٩٣ الصفحة ١٠٨٣

**مدینہ جلعاد (الاردن الشمالی)
مبعث الیاس**

وللتفصيل راجع ١٦ الانعام: ٨٥ ٣٧ الصافات: ١٢٣
الصفحة ١٠٦٥

شئیم (مدینہ بشرق الأردن)

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٥٩،٥٨ الصفحة ١٠٦٢

سد علی النهر - بعهد ذی القرنین

وللتفصيل راجع ١٨ الكهف: ٩٨،٨٣ الصفحة ١٠٨٤،١٠٨٢

انطاکیة - اصحاب القرية

وللتفصيل راجع ٣٦ یس: ١٣ الصفحة ١١٠٩

الربوة

وللتفصيل راجع ٢٣ المؤمنون: ٥٠ الصفحة ١٠٩٦

الروم انطاکیة (ترکیا)

وللتفصيل راجع ٣٠ الروم: ١٥ الصفحة ٦٨٦

اصحاب الجنة

وللتفصيل راجع ٢٧ النمل: ٢٤،٢٢ ٣٤ سباء: ١٥،١٥
الصفحة ١١١٤

**قرية عند بیت المقدس
مرهبانبی (عزیر)**

وللتفصيل راجع ٢ البقرة: ٢٥٩ الصفحة ١٠٨١

**آرمینة اویمن
مسکن اصحاب الرس قوم شعیب**

وللتفصيل راجع ٢٥ الفرقان: ٢٨ ٥٠ ق: ١٢ الصفحة ١١١٤

**بیت اللحم
اورشليم - مقدس**

وللتفصيل راجع ١٩ مریم: ٢٢ الصفحة ١٠٩٤

سری مریم

وللتفصيل راجع ١٩ مریم: ٢٤ ٢٣ المؤمنون: ٥٠ الصفحة ١٠٩٦

**مدینة افسس فی ترکیا المنسوب إلى
اصحاب الكهف فی عهد قیصر دیساس**

وللتفصيل راجع ١٨ الكهف: ٢٠،١٠،٩
الصفحة ١١٠٥،١١٠٦

**منگولیا شمالی چین (یا جنوبی یورپ کی تاتاری اقوام)
(یا جوج ماجوج سے منسوب)**

تفصیل کے لئے دیکھئے 18:93,94:94 صفحه 1083

**جلعاد شہر تیشیط (شمالی اردن)
قوم بعل کانسکن (اور حضرت الیاس کا مرکز تبلیغ)**

تفصیل کے لئے دیکھئے 6:85 37:123:123 صفحه 1065

**شئیم (اردن اریحا کے بالمقابل
دریائے اردن کے مشرقی کنارے)**

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:58,58:59 صفحه 1062

**دریا پر ایک ڈیم
سائرس کی تعمیرات کا علاقہ**

تفصیل کے لئے دیکھئے 18:83,98:98 صفحه 1084,1082

**انطاکیہ - موجودہ قبرص
کا علاقہ قدیم بحر شمالی شام کا ساحل**

تفصیل کے لئے دیکھئے 13:36:36 صفحه 1109

ربوہ (فلسطین - مصر یا دمشق)

تفصیل کے لئے دیکھئے 50:23:23 صفحه 1096

روم انطاکیہ (ترکی)

تفصیل کے لئے دیکھئے 5:1:30:30 صفحه 686

ہروان باغ صنعائین

تفصیل کے لئے دیکھئے 27:22,24:24 34:15,19:19
صفحة 1114

**(بیت المقدس) گاؤں جہاں سے
ایک شخص (عزیر) کا گزر ہوا**

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:259:259 صفحه 1081

**اصحاب الرس (شمال مغربی عرب کا علاقہ مدین)
یا مکہ اور بصرہ کا درمیانی علاقہ - مسکن قوم شعیب**

تفصیل کے لئے دیکھئے 25:38:38 50:12:12 صفحه 1114

**بیت اللحم - القدس کے نواح میں علاقہ
حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش**

تفصیل کے لئے دیکھئے 19:22:22 صفحه 1094

(چشمہ مریم) یروشلم کے نزدیک

تفصیل کے لئے دیکھئے 19:22:22 50:12:12 صفحه 1096

**شہر افسوس (افیسس ترکی) موجودہ از میر
کے نزدیک مقام (زمانہ قیصر ڈیسیس - حوالہ اصحاب کھف)**

تفصیل کے لئے دیکھئے 9:18:18,10,9:18
صفحة 1106,1105

MADINAH MUNAWWARA

For Detail Consult 9:101 Page : 626,728

MOSQUE OF PIETY(QUBA)

For Detail Consult 9:108 Page : 926

HUDAIBIA

For Detail Consult 48:10 Page : 713

CITY OF SECURITY (MAKKAH -MUKKARAMAH)

For Detail Consult 2:126 14:35 Page : 959

PLAIN OF BADR

For Detail Consult 8:7,42 Page : 696

JINN MOSQUE (MAKKAH)

For Detail Consult 46:29 Page : 690

HILL-FROM WHERE ARCHERS LEFT POST IN DISOBEDIENCE OF THE PROPHET'S(SAAS) DURING BATTLE UHD

For Detail Consult 3:152,153 Page :702

HUNAIN IN SUBURB OF MAKKAH MUKKARMAH

For Detail Consult 9:25,26 Page : 718

MOSQUE OF QIBLATAIN IN SUBURB OF MAKKAH MUKKARMAH

For Detail Consult 2:144,150 Page : 694

CAVE OF TH'UR IN SUBURB OF MAKKAH MUKKARMAH

For Detail Consult 9:40 Page : 693

A HILL- WHERE MIRACLE OF MOON CLEFT ASUNDER APPEARED (AT MAKKAH)

For Detail Consult 54:1,2 Page : 688

MAKKAH AND TAI'F (TWO CITIES OF ARABIAN PENINSULA)

For Detail Consult 43:31 Page : 191

MOUNT JUDI (WHERE NOAH (PBUH)'S ARK RESTED AFTER SUBSIDING OF DELUGE)

For Detail Consult 11:44,48 Page : 926

LOFTY TOWERS BUILT BY HAMAN FOR PHARAOH

For Detail Consult 28:38 40:36,37
Page : 1030

المدينة المنورة

وللتفصيل راجع 9 التوبة: 101 الصفحة 728,626

مسجد القبا

وللتفصيل راجع 9 التوبة: 108 الصفحة 926

الحديبية

وللتفصيل راجع 48 الفتح: 10 الصفحة 713

البلد الامين (مكة المكرمة)

وللتفصيل راجع 2 البقرة: 126 14 ابراهيم: 35
الصفحة 959

ميدان بدر

وللتفصيل راجع 8 الأنفال: 42,47 الصفحة 696

مسجد الجن (المكة المكرمة)

وللتفصيل راجع 46 الأحقاف: 29 الصفحة 690

جبل الرامة في ميدان أحد

وللتفصيل راجع 3 آل عمران: 152,153 الصفحة 702

حنين (بنو احى مكة المكرمة)

وللتفصيل راجع 9 التوبة: 25,26 الصفحة 718

مسجد قبلتين بنو احى المدينة المنسوب اليه تحويل القبلة

وللتفصيل راجع 2 البقرة: 144,150 الصفحة 694

الغار (غار ثور) بنو احى مكة المكرمة

وللتفصيل راجع 9 التوبة: 40 الصفحة 693

جبل ابي قبيس بمكة المكرمة المنسوب اليه معجزة شق القمر

وللتفصيل راجع 54 القمر: 1,2 الصفحة 688

القريتان (مكة و طائف)

وللتفصيل راجع 43 الزخرف: 31 الصفحة 191

الجبل الجودي

وللتفصيل راجع 11 هود: 44,48 الصفحة 926

منارة هامان

وللتفصيل راجع 28 القصص: 38 40 المنومن (غافر): 36,37
الصفحة 1030

مدينة منورة

تفصيل کے لئے دیکھئے 101:9 صفحہ 728,626

مسجد قبا (مسجد تقویٰ)

تفصيل کے لئے دیکھئے 108:9 صفحہ 926

حديبية (الشميسی)

تفصيل کے لئے دیکھئے 10:48 صفحہ 713

بلد آمين (مکر مکر مہ)

تفصيل کے لئے دیکھئے 126:2 35:14 صفحہ 959

مقام بدر

تفصيل کے لئے دیکھئے 42,47:8 صفحہ 696

مسجد جن (مکہ معظمہ)

تفصيل کے لئے دیکھئے 29:46 صفحہ 690

جبل الرامة (ميدان احد) تيراندازوں کا پہاڑ مضافات مکہ مکرمہ

تفصيل کے لئے دیکھئے 3:152,153 صفحہ 702

حنين (مضافات مکہ مکرمہ)

تفصيل کے لئے دیکھئے 25,26:9 صفحہ 718

مسجد قبلتين (مضافات مدينة المنورة) واقعہ تبدیل رخ قبلہ

تفصيل کے لئے دیکھئے 2:144,150 صفحہ 694

الغار (غار ثور) مضافات مکہ مکرمہ

تفصيل کے لئے دیکھئے 40:9 صفحہ 693

جبل ابي قبيس - مکہ مکرمہ معجزة شق القمر

تفصيل کے لئے دیکھئے 1,2:54 صفحہ 688

طائف اور مکہ (جزیرہ نمائے عرب کے دو شہر)

تفصيل کے لئے دیکھئے 31:43 صفحہ 191

کوه جودي - کوه ازاراط جہاں کشتی نوح جا کر رکی

تفصيل کے لئے دیکھئے 44,48:11 صفحہ 926

احرام مصر (هامان کافر عيون کیلئے تعمیر کردہ مينار)

تفصيل کیلئے دیکھئے 38:28 37,36:40 صفحہ 1030

ARK OF NOAH (PBUH)

For Detail Consult : 7:64 10:73 11:44 17:3
26:119 36:41 54:13 69:11
Page : 924

فلك نوح

وللتفصيل راجع ۷ الأعراف: ۶۴ ۱۰ یونس: ۷۳
۱۱ ہود: ۴۴ ۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل): ۳۰ ۲۶ الشعراء: ۱۱۹
۳۶ یس: ۴۱ ۵۴ القمر: ۱۳ ۶۹ الحاقا: ۱۱
الصفحة ۹۲۴

کشتی حضرت نوح

تفصیل کے لئے دیکھئے 3:17 44:11 73:10 64:7
11:69 11:69 13:54 41:36 119:26
صفحة 924

BOAT USED FOR CO-TRAVEL
OF MOSES AND KHIDHR (PBUH)

For Detail Consult : 18:71,79 Page : 1059

السفينة

التي (ركب فيه موسى وخضر)

وللتفصيل راجع ۱۸ الكهف: ۷۹، ۷۱ الصفحة ۱۰۵۹

کشتی - جس پر حضرت موسیٰ
اور خضر نے باہم سفر کیا

تفصیل کے لئے دیکھئے 79:18 71:18
صفحة 1059

SHIP IN WHICH JONAH (PBUH)
BOARDED IN HASTE

For Detail Consult : 37:140 Page : 1085

فلك مشحون (ركب فيها يونس)

وللتفصيل راجع ۳۷ الصافات: ۱۴۰ الصفحة ۱۰۸۵

کشتی جس پر حضرت یونس سوار ہوئے

تفصیل کے لئے دیکھئے 140:37
صفحة 1085

ROD OF MOSES (PBUH)
THAT BECAME SNAKE ACTIVE IN MOTION

For Detail Consult : 7:107,177 20:20,21 26:32
Page : 1013

عصا موسى

وللتفصيل راجع ۷ الأعراف: ۱۰۷ ۲۰ طه: ۲۰، ۲۱
۲۶ الشعراء: ۳۲ الصفحة ۱۰۱۳

حضرت موسیٰ کی لاٹھی (عصا)

تفصیل کے لئے دیکھئے 107:7 21:20:20 32:26
صفحة 1013

STAFF OF SOLOMON (PBUH)

For Detail Consult : 34:14 Page : 1079

عصا سليمان

وللتفصيل راجع ۳۴ سباء: ۱۴ الصفحة ۱۰۷۹

حضرت سلیمان کی چھڑی (عصا)

تفصیل کے لئے دیکھئے 14:34
صفحة 1079

CHEST INTO WHICH INFANT MOSES (PBUH)
WAS FLOATED IN RIVER NILE

For Detail Consult : 20:39 Page : 1006

تابوت موسى

وللتفصيل راجع ۲۰ طه: ۳۹ الصفحة ۱۰۰۶

صندوق موسیٰ (جس میں موسیٰ ڈال کر
دریائے نیل میں بہائے گئے)

تفصیل کے لئے دیکھئے 39:20
صفحة 1006

ARK OF COVENANT

For Detail Consult : 2:248 Page : 1063

تابوت السكينة - في زمن شموئيل

وللتفصيل راجع ۲ البقرة: ۲۴۸ الصفحة ۱۰۶۳

صندوق سکینہ زمانہ حضرت شموئیل

تفصیل کے لئے دیکھئے 248:2
صفحة 1063

THE FISH - MOSES (PBUH) FORGOT DURING TRAVEL

For Detail Consult : 18:61 Page : 1058

السماك الذي نسيه موسى

وللتفصيل راجع ۱۸ الكهف: ۶۱ الصفحة ۱۰۵۸

مچھلی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے

تفصیل کے لئے دیکھئے 61:18
صفحة 1058

BIG FISH WHICH SWALLOWED JONAH

For Detail Consult : 37:142 Page : 1085

الحوت الذي التقم يونس

وللتفصيل راجع ۳۷ الصافات: ۱۴۲ الصفحة ۱۰۸۵

مچھلی جس نے یونس کو پیٹ میں نگل لیا

تفصیل کے لئے دیکھئے 142:37
صفحة 1085

QUEEN'S THRONE

For Detail Consult : 27:38 to 42 Page : 1078

عرش بلقيس

وللتفصيل راجع ۲۷ النمل: ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ الصفحة ۱۰۷۸

ملکہ بلقیس کا تخت
جسے جنات اٹھا کر سلیمان کے محل میں لے آئے

تفصیل کے لئے دیکھئے 27:38 تا 42
صفحة 1078

THRONE OF SOLOMON (PBUH)

For Detail Consult : 21:81 38:36 Page : 1073

عرش سليمان

وللتفصيل راجع ۲۱ الأنبياء: ۸۱ ۳۸ ص: ۳۶
الصفحة ۱۰۷۳

حضرت سلیمان کا تخت

تفصیل کے لئے دیکھئے 81:21 36:38
صفحة 1073

SHE - CAMEL OF SALIH

For Detail Consult : 7:73 11:64 17:59 26:155
Page : 939

ناقة صالح

وللتفصيل راجع ۷ الأعراف: ۷۳ ۱۱ ہود: ۶۴
۱۷ الإسراء (بنی اسرائیل): ۵۹ ۲۶ الشعراء: ۱۵۵

حضرت صالح کی اونٹنی

تفصیل کے لئے دیکھئے 73:7 64:11 59:17 155:26
صفحة 939

INSCRIPTED TABLETS - COMMANDMENTS OF MOSES(PBUH)- OLD TESTAMENTS (TAURAT)

For Detail Consult : 7:154 Page : 1049

SHIRT OF JOSEPH'S (PBUH)

For Detail Consult 12:93 to 98 Page :994

PALMTREE UNDER WHICH MARY (PBUH) WENT DURING NATURAL LABOUR PAINS WHILE GIVING BIRTH OF JESUS(PBUH)

For Detail Consult : 19:23 to 25 23:50 Page : 1096

HOOPOE ROYAL BIRD WHO TOLD THE NEWS OF BILQIS TO SOLOMON (PBUH)

For Detail Consult 27: 20 to 26 Page : 1073

DONKEY OF UZAIR (EZRA)

For Detail Consult : 2:259 Page : 1081

QITMIR A DOG WITH COMPANIONS OF THE CAVE

For Detail Consult : 18:18 Page : 1106

MUMMY OF PHARAOH

For Detail Consult : 10:92 Page : 1040

الواح موسى

وللتفصيل راجع ٧ الأعراف :١٥٤ الصفحة ١٠٤٩

قميص يوسف

وللتفصيل راجع ١٢ يوسف :٩٣ الى ٩٨ الصفحة ٩٩٤

النخلة التي زهبت إليها مريم عندما أصابها المنحاض

وللتفصيل راجع ١٩ مريم :٢٣ الى ٢٥ ٢٣ المؤمنون :٥٠ الصفحة ١٠٩٦

الهدد الذي أخبر سليمان عن بلقيس

وللتفصيل راجع ٢٧ النمل :٢٠ الى ٢٦ الصفحة ١٠٧٣

حمار عزيز

وللتفصيل راجع ٢ البقرة :٢٥٩ الصفحة ١٠٨١

قطمير: كلب أصحاب الكهف

وللتفصيل راجع ١٨ الكهف :١٨ الصفحة ١١٠٦

بدن فرعون

وللتفصيل راجع ١٠ يونس :٩٢ الصفحة ١٠٤٠

**حضرت موسى کی تختیاں
عہد نامہ قدیم (تورات)**

تفصیل کے لئے دیکھئے 7:154 صفحہ 1049

حضرت یوسف کا کرتا (قمیض)

تفصیل کے لئے دیکھئے 12:93 تا 98 صفحہ 994

**کھجور کا درخت جس کے نیچے دوران زچگی
(ولادت حضرت عیسیٰ) حضرت مریم چلی گئیں**

تفصیل کے لئے دیکھئے 19:23 تا 25 23:50 صفحہ 1096

**ہد ہد جس نے حضرت سلیمان کو
ملکہ بلقیس کی اطلاع دی**

تفصیل کے لئے دیکھئے 27:20 تا 26 صفحہ 1073

حضرت عزیز کا گدھا

تفصیل کے لئے دیکھئے 2:259 صفحہ 1081

اصحاب کہف کا کتا (قطمیر)

تفصیل کے لئے دیکھئے 18:18 صفحہ 1106

نعش فرعون

تفصیل کے لئے دیکھئے 10:92 صفحہ 1040

HUMAN BODY MENTIONED IN HOLY QURAN **حسب الانسان المذكور في القرآن صراحة** **اعضائے بدن انسانی جن کا ذکر قرآن کریم میں واضح ملتا ہے**

HUMANKIND SHOULD OBSERVE THE MYSTERIES OF CREATION

لیتفکر الانسان فی خلقه

انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے

Who created you, then fashioned, then proportioned you? (82:7)

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾
﴿٨٢ الانفطار ٧﴾ (وہی تو ہے) جس نے تجھے بنایا اور (تیرے اعضاء) کو درست بنایا اور (تیری قامت کو) موزوں بنایا (7:82)

Into whatsoever shape He wished, He put your frame together. (82:8)

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ ﴿٨﴾
﴿٨٢ الانفطار ٨﴾ اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا (8:82)

Praise the name of your Lord the Most High, (87:1)

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾
﴿٨٧ الاعلى ١﴾ (اے پیغمبر) اپنے اللہ بزرگ و برتر کے نام کی تسبیح کرو (1:87)

Who has created, then fashioned (further given order and proportion). (87:2)

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾
﴿٨٧ الاعلى ٢﴾ جس نے (انسان کو) پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا (2:87)

Surely We created man of the best stature (95:4)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾
﴿٩٥ التين ٤﴾ کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے (4:95)

So let every man consider from what he is created. (86:5)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾
﴿٨٦ الطارق ٥﴾ انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے (5:86)

PARTS OF HUMAN BODY

الاعضاء

اعضاء

PARTS OF HUMAN BODY	الاعضاء	اعضاء
HEAD	2:279, 5:6, 14:43, 20:94 ٥ المائیدہ ٦ ١٤ ابراہیم ٤٣ ، ٢٠ طہ ٩٤	43:14 6:5 279:2 راس 49:20
HAIR	16:80 ١٦ النحل ٨٠	اشعارها 80:16
FOREHEAD	9:35 ٩ التوبہ ٣٥	جبة 35:9
FOREHEAD	9:35, 37:103 ٩ التوبہ ٣٥ ، ٣٧ الصافات ١٠٣	جبين 103:37 35:9
FORELOCK	11:56, 55:41, 96:15,16 ١١ اہود ٥٦ ، ٥٥ الرحمن ٤١ ٩٦ العلق ١٥ ، ٩٦ العلق ١٦ ، ١٥	ناصية 16,15:96 41:55 56:11
FACE	2:144,149, 2:177,272, 5:6, 12:93, 67:27 ٢ البقرة ١٤٤ ، ١٤٩ ، ١٧٧ ، ٢٧٢ ٥ المائیدہ ٦ ، ١٢ يوسف ٩٣ ٦٧ الملك ٢٧	وَجْه 272,177,149,144:2 27:67 93:12 6:5
EYE SIGHT	2:7, 14:42, 16:78, 17:36, 21:97, 22:46, 41:20, 41:22, 50:22 ٢ البقرة ٧ ، ١٤ ابراہیم ٤٢ ١٦ النحل ٧٨ ، ١٧ بنی اسرائیل ٣٦ ٢١ الانبیاء ٩٧ ، ٢٢ الحج ٤٦ ٤١ حم سجدة ٢١ ، ٤١ حم سجدة ٢٢ ٥٠ ق ٢٢ ، ٢٢ سجدة ٢٢	الْأَبْصَار 78:16 42:14 7:2 46:22 97:21 36:17 22:50 22,20:41
EYES	5:45, 7:179, 25:74, 28:9, 37:48, 40:19, 56:22, 90:8 ٤ المائیدہ ٤٥ ، ١٧ الاعراف ١٧٩ ٢٥ الفرقان ٧٤ ، ٢٨ القصص ٩ ٣٧ الصافات ٤٨ ، ٤٠ المؤمن ١٩ ٥٦ الواقعة ٢٢ ، ٩٠ البلد ٨	عُيُون 74:25 179:7 45:5 19:40 48:37 9:28 8:90 22:56

EARS	2:19, 5:45, 7:179, 16:78, 22:46	٢ البقرة ١٩، ٥ المائدة ٥٥ ٧ الاعراف ٧٩ ١١٦ النحل ٧٨، ٢٢ الحج ٤٦	أذن	79:7 45:5 19:2 46:22 78:16	کان
NOSE	5:45	٥ المائدة ٤٥	أنف	45:5	ناک
SNOUT	68:16	٦٨ القلم ١٦	خرطوم	16:68	لمبی ناک
TOOTH	5:45	٥ المائدة ٤٥	اسنان	45:5	دانت
CHEEK	31:18	٣١ لقمن ١٨	خدود	18:31	رخسار - گال
MOUTH	13:14, 33:4	١٣ الرعد ١٤، ٣٣ الاحزاب ٤	فم - فاه	4:33 14:13	منہ
PAIR OF LIPS	90:9	٩ البلد ٩	شفتين	9:90	ہونٹ
TONGUE	20:27, 26:13, 90:9	٢٠ طه ٢٧، ٢٦ الشعراء ١٣، ٩ البلد ٩	لسان	9:90 13:26 27:20	زبان
CHIN	17:107,109, 36:8	١٧ بنی اسرائیل ١٠٧، ١٠٩ ٣٦ یسین ٨	ذقن	8:36 109,107:17	ٹھوڑی
BEARD	20:94	٢٠ طه ٩٤	لحية	94:20	پنچلا جڑھ
NECK	8:12, 13:5, 17:13,29, 26:4, 34:33, 36:8, 38:33, 40:71	١٨ الأنفال ١٢، ١٣ الرعد ٥ ١٧ بنی اسرائیل ١٣، ٢٦ الشعراء ٤ ٣٤ سبا ٣٣، ٣٦ یسین ٨ ٣٨ ص ٣٣، ٤٠ المؤمن ٧١	عنق	26,13:17 5:13 12:8 8:36 33:34 4:26 71:40 33:38	گردن
THROAT	56:83	٥٦ الواقعة ٨٣	حلقوم	83:56	حلق
NECK	111:5	١١١ اللهب ٥	جيد	89:5 92:4 177:2 5:111	گردن
NECK	2:177, 4:92, 5:89, 9:60, 47:4, 58:3, 90:13	٢ البقرة ١٧٧، ٤ النساء ٩٢ ٥ المائدة ٨٩، ٩ التوبة ٦٠ ٤٧ محمد ٤، ٥٨ المجادلة ٣ ٩٠ البلد ١٣	رقبة	89:5 92:4 177:2 3:58 4:47 60:9 13:90	گدی
MAIN ARTERY	69:46	٦٩ الحاقة ٤٦	وتين	46:69	نرخره
THROAT	33:10, 40:18	٣٣ الاحزاب ١٠، ٤٠ المؤمن ١٨	حناجر	18:40 10:33	شاه رگ
JUGULAR VIEN	50:16	٥٠ ق ١٦	جبل الوريد	16:50	رگ جان
COLLAR BONE	75:26	٧٥ القيمة ٢٦	التراقي	26:75	پینسلی کی ہڈی
SHOULDER	67:15	٦٧ الملك ١٥	مناكب	15:67	کندھا - شانہ
ARM	17:24, 20:22, 28:32	١٧ بنی اسرائیل ٢٤، ٢٠ طه ٢٢ ٢٨ القصص ٣٢	جناح	32:28 22:20 24:17	پورا بازو
ELBOW	5:6	٥ المائدة ٦	مرفق	6:5	کھنی
ARM	18:51	١٨ الكهف ٥١	عضد	51:18	کھنی (ڈولہ سے کندھا)
HAND	2:66,79,237, 26:33, 36:9, 58:12, 111:1	٢ البقرة ٦٦، ٧٩، ٢٣٧ ٢٦ الشعراء ٣٣، ٣٦ یسین ٩ ٥٨ المجادلة ١٢، ١١١ اللهب ١	يد	237:2 79:2 66:2 12:58 9:36 33:26 1:111	ہاتھ
RIGHT HAND	18:18, 20:17,34:15, 56:38, 69:45	١٨ الكهف ١٨، ٢٠ طه ١٧ ٣٤ سبا ١٥، ٥٦ الواقعة ٣٨ ٦٩ الحاقة ٤٥	يمين	15:34 17:20 18:18 45:69 38:56	دایاں ہاتھ
LEFT HAND	7:17, 18:18 34:15, 56:41, 69:25	١٧ الاعراف ١٧، ١٨ الكهف ١٨ ٣٤ سبا ١٥، ٥٦ الواقعة ٤١ ٦٩ الحاقة ٢٥	شمال	15:34 8:18 17:7 25:69 41:56	بایاں ہاتھ

HAND PALM	13:14, 18:42	۱۳ الرعد ۱۴ ، ۱۸ الكهف ۴۲	کف	42:18 14:13	پتھلی
HAND FUL	9:67, 20:96	۹ التوبہ ۶۷ ، ۲۰ طہ ۹۶	قبضہ	96:20 67:9	مٹھی (پنجہ)
FINGER	2:19, 71:7	۷ نوح ۷۱ ، ۱۹ البقرہ ۱۹	اصابع	7:71 19:2	انگلی کا پور
FINGER TIP	3:119	۳ آل عمران ۱۱۹	انامل	119:3	انگلی کا بالائی حصہ
FINGER TIP	8:12, 75:4	۸ الانفال ۱۲ ، ۷۵ القیمہ ۴	بنان	4:75 12:8	انگلی کا اوپر کا حصہ
STENGTHENING OF SINEWS	76:28	۷۶ الدھر ۲۸	اسر	28:76	جوڑوں کی مضبوطی
BREAST	15:97, 20:25, 22:46 26:13, 40:19, 94:1, 114:5	۱۵ الحجر ۹۷ ، ۲۰ طہ ۲۵ ، ۲۲ الحج ۴۶ ، ۲۶ الشعراء ۱۳ ، ۴۰ المؤمن ۱۹ ، ۹۴ الشرح ۱ ، ۱۱۴ الناس ۵	صدر	46:22 25:20 97:15 1:94 19:40 13:26 5:114	سینہ
BUXOM	78:33	کواعب ۷۸ النبأ ۳۳	کواعب	33:78	دوشیزائیں
HEART	7:179, 16:78, 22:46, 33:10	۷ الاعراف ۱۷۹ ، ۱۶ النمل ۷۸ ، ۲۲ الحج ۴۶ ، ۳۳ الاحزاب ۱۰	قلب	46:22 78:16 179:7 10:33	قلب
HEART	14:43, 17:36, 28:10	۱۴ ابراہیم ۴۳ ، ۱۷ بنی اسرائیل ۳۶ ، ۲۸ القصص ۱۰	فؤاد	10:28 36:17 43:14	دل
RIBS	86:7	۸۶ الطارق ۷	ترائب	7:86	پسلیاں
BACK BONE	86:7	۸۶ الطارق ۷	صلب	7:86	پشت (پیٹھ)
BACK	20:29,31	۲۰ طہ ۲۹ ، ۳۱	ازر	31,29:20	کر
BELLY	3:35, 4:10, 16:78 22:20, 39:6, 44:45, 53:32	۳ آل عمران ۳۵ ، ۴ النساء ۱۰ ، ۱۶ النحل ۷۸ ، ۲۲ الحج ۲۰ ، ۳۹ الزمر ۶ ، ۴۴ النحن ۴۵ ، ۵۳ النجم ۳۲	بطن	78:16 10:4 35:3 45:44 6:39 20:22 32:53	پیٹ
BOWELS	47:15	۴۷ محمد ۱۵	امعاء	15:47	چھوٹی بڑی آنت
DORSAL	84:10	۸۴ الانشاق ۱۰	ظهر	10:84	پشت، کر
CALVES	27:44, 75:29,30	۲۷ النمل ۴۴ ، ۷۵ القیمہ ۲۹ ، ۳۰	ساق	30,29:75 44:27	پنڈلی
FEET	5:6, 7:124, 20:71, 26:49, 38:42	۵ المائدہ ۶ ، ۷ الاعراف ۱۲۴ ، ۲۰ طہ ۷۱ ، ۲۶ الشعراء ۴۹ ، ۲۸ ص ۴۲	رجل	71:20 124:7 6:5 42:38 49:26	پیر
STEP	8:11, 55:41	۸ الانفال ۱۱ ، ۵۵ الرحمن ۴۱	قدم	41:55 11:8	پاؤں کا تلو
ANKLE	5:6	۵ المائدہ ۶	کعب	6:5	ٹخنہ
HEELS	3:144,149, 23:66	۳ آل عمران ۱۴۴ ، ۳ آل عمران ۱۴۹ ، ۲۳ المؤمنون ۶۶	عقب	66:23 149,144:3	ایڑی
BLOOD	2:30,284	۲ البقرہ ۳۰ ، ۲ البقرہ ۲۸۴	دم	284,30:2	خون
FLESH	23:14	۲۳ المؤمنون ۱۴	لحم	14:23	گوشت
BONES	17:49,98, 23:14,35,82, 36:78, 37:16,53, 56:47, 75:3, 79:11	۱۷ بنی اسرائیل ۴۹ ، ۹۸ ، ۲۳ المؤمنون ۱۴ ، ۳۵ ، ۸۲ ، ۳۶ یسین ۷۸ ، ۳۷ الصفت ۱۶ ، ۸۲ ، ۵۶ الواقعة ۴۷ ، ۷۵ القیامہ ۳ ، ۷۹ النازعات ۱۱	عظام	82,35,14:23 98,49:17 82,53,16:37 78:36 11:79 3:75 47:56	ہڈیاں
SKIN	4:56, 39:23, 41:20 41:21,22	۴ النساء ۵۶ ، ۳۹ الزمر ۲۳ ، ۴۱ جم بنجلہ ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲	جلد	23:39 56:4 22,21,20:41	اپوست۔ کھال

TEARS	5:83, 9:92	دمع	المائدة ۸۳، التوبة ۹۲	92:9 83:5	آنسو
BIOLOGICAL ORGANS (Private Parts)	23:5, 24:30,31, 70:29	فرج	المومنون ۵، النور ۲۴، ۲۹ النور ۳۱، المعارج ۷۰	31:24 30:24 5:23 29:70	شرم گاہ
WOMB	2:228, 3:6, 13:8, 22:5, 31:34	رحم	البقرة ۲۲۸، آل عمران ۶، ۲۲ الحج ۵ الرعد ۸، لقمان ۳۴	8:13 6:3 228:2 34:31 5:22	رحم مادر
MENSTRUATION	2:222, 65:4	محيض	البقرة ۲۲۲، الطلاق ۴	4:65 222:2	حيض
SEMEN DROP	16:4, 18:372, 22:5, 23:13,14, 35:11, 36:77, 40:67, 53:46, 75:37, 76:2, 80:19	نطفه	النحل ۱۶، الكهف ۳۷، الحج ۵ المومنون ۱۳، ۱۴، فاطر ۱۱ يسين ۷۷، المومن ۶۷ النجم ۵۳، القيامة ۳۷ الحر ۷۶، عبس ۱۹	5:22 37:18 4:16 11:35 14,13:23 67:40 77:36 37:75 46:53 19:80 2:76	نر کا مادہ تولید
PREGNANCY	41:47, 46:15, 22:2, 35:11, 31:14	حمل	الاحقاف ۱۵، الحج ۲۲ فاطر ۱۱، لقمن ۱۴ حم سجدة ۴۷	15:46 47:41 14:31 11:35 2:22	مادہ کا بار آور ہونا
DROP OF SEMEN GERM CELL	53:46, 75:37	منی	النجم ۵۳، القيامة ۳۷	37:75 46:53	مادہ افزائش نسل کا سبب
BLOOD CLOT GAMETE	22:5, 23:14, 40:67, 75:38, 96:2	علقہ	المومنون ۱۴، الحج ۵ المومن ۶۷، القيامة ۳۸ العلق ۲	38:37 14:23 5:22 2:96 67:40	نر اور مادہ کا مادہ تولید کی آمیزش خون کا لوٹھرا (نطفہ کا پہلا دور)
TISSUE LUMP	22:5, 23:14	مضغہ	المومنون ۱۴، الحج ۵	14:23 5:22	گوشت کا لوٹھرا (نطفہ کا دوسرا دور)
TURNING TISSUE INTO BONES AND FLESH	23:14	كسوة العظام لحمًا	المومنون ۱۴	14:23	لوٹھرے پر ہڈیاں اور پھر گوشت (نطفہ کا تیسرا دور)
FOETUS FASHIONING INTO SHAPE	22:5	مُخَلَّقة	الحج ۵	5:22	شکم مادر میں بچے کی واضح شکل (نطفہ کا آخری دور)
SPIRIT - SOUL	17:85, 32:9	روح	ابن اسرئیل ۸۵، السجدة ۹	9:32 85:17	زندگی کا لطیف جوہر
CHILD BIRTH-PARTURITION-	46:15, 3:36, 16:78	وضع حمل	آل عمران ۳۶، الاحقاف ۱۵ النحل ۱۶	78:16 15:46 36:3	بچہ کی پیدائش
ABORTION PRE-MATURE BIRTH	71:13,14, 76:1	الإجهاض اطميعى	نوح ۷۱، ۱۴، ۱۳، اللہرا ۷۶	1:76 14,13:71	استقاط حمل
BREAST FEEDING	2:233, 35:11, 41:47	رضع	البقرة ۲۳۳، فاط ۱۱ حم سجده ۴۷	47:41 11:35 233:2	بچہ کو دودھ پلانا
WEANING	2:233, 31:14, 46:15	فصال	البقرة ۲۳۳، لقمن ۱۴ الاحقاف ۱۵	51:46 14:31 233:2	دودھ چھڑانا
For more Details regarding this Table consult Chapter Embryology page 394		وللتفصيل راجع : ابواب علم الجنين الصفحة ۳۹۴		اس جدول کی مزید تفصیل کے لیے علم الجنين (تخلیق انسان) صفحه 394	

**MYSTERY OF NUMBERS
IS WITH ALLAH (SWT)**

قیاس عدد من الله تعالى

اعداد کا صحیح شمار اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے

(Some) will say: They were three, their dog the fourth, and (some) say: Five, their dog the sixth, guessing at random; and (some) say: Seven, and their dog the eighth. Say (O Muhammad): My Lord is best aware of their number. None knew them except a few. So enter not therefore, into controversies concerning them, except on a matter that is clear nor consult any of them about (the affair of) the sleepers. (18:22)

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَاؤُنَا الْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَنَا مَنَّهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ قَلِيلًا تَمَارًا فِيهِمْ الْأَمْرَاءُ ظَاهِرًا أَوْ لَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿١٨ الكهف ٢٢﴾

کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے (اور) چوتھا ان کا کتا تھا اور (بعض) کہیں گے کہ وہ پانچ تھے (اور) چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ یہ سب غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد سے خوب واقف ہے ان کو بہت ٹھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں تو آپ ان (کے معاملے) میں صرف سرسری سی گفتگو ہی کریں۔ اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت بھی نہ کریں (22:18)

ONE	1	١	احد	1	ایک
2:61,133,163,213, 4:1,3,11,12,41,102,171	11:3,1,4	12,11,3,1:4	213,163,133,61:2	171,102,41:4	213,163,133,61:2
5:48,73, 6:19,98, 7:189 9:31	19:10 31:9	189:7	98,19:6 73,48:5	19:10 31:9	189:7 98,19:6 73,48:5
10:19, 11:118, 12:31,36,39,67	16:13	4:13	67,39,36,31:12 118:11	16:13 4:13	67,39,36,31:12 118:11
13:4,16, 14:48,52, 16:22,51,93	110:18	5:17	93,51,22:16 52,48:14	110:18 5:17	93,51,22:16 52,48:14
17:5, 18:110, 19:26, 20:65,	52:23	34:22	108,92:21 65:20 26:19	52:23 34:22	108,92:21 65:20 26:19
21:92,108, 22:34, 23:52, 24:2,	28:31	46:29	46:28 32,14:25 2:24	28:31 46:29	46:28 32,14:25 2:24
25:14,32, 28:27, 29:46, 31:28,	53:36	49:36	29:36 46:34	53:36 49:36	29:36 46:34
34:46, 36:29,49,53, 37:4,19,	6,4:39	65,23,15,5:38	19,4:37	6,4:39	65,23,15,5:38 19,4:37
38:5,15,23,65, 39:4,6, 40:16,84,	33,17:43	8:42	6:41 84,16:40	33,17:43 8:42	6:41 84,16:40
41:6, 42:8, 43:17,33, 54:24,31,50	71,11:74	14,13:69	3:57 50,31,24:54	71,11:74 14,13:69	3:57 50,31,24:54
57:3, 69:13,14, 74:11, 79:13,		4,1:112	12:92 13:79		4,1:112 12:92 13:79
92:12 112:1,4					

TWO	2	٢	اثنين	2	دو
2:233,4:3,11,176,5:12,106, 6:143,144,	106,143:6	106,12:5	176,11,3:4 233:2	106,143:6	106,12:5 176,11,3:4 233:2
9:36,40, 11:40,13:3,16:51, 17:23,	23:17	51:16	3:13 40:11 40,36:9	23:17 51:16	3:13 40:11 40,36:9
18:33,60,22:9,23:27, 28:22,31:14,	1:35	46:34	27:23 9:22 60,33:18	1:35 46:34	27:23 9:22 60,33:18
34:46, 35:1, 36:14, 39:23, 40:11	4:58	12,11,9:41	11:40 23:39 14:36	4:58 12,11,9:41	11:40 23:39 14:36
41:9,11,12, 58:4					

THREE	3	٣	ثلاثة - ثلاثة	3	تین
2:196,228, 3:41,124, 4:3,11,171,176,	176,171,11,3:4	124,41:3	228,196:2	176,171,11,3:4	124,41:3 228,196:2
5:73,89, 7:142, 9:118,	65:11	118:9	142:7 89:5 73:5	65:11 118:9	142:7 89:5 73:5
			10:19 22:18		10:19 22:18

11:65, 18:22, 19:10, 24:58, ١٩ مريم ١٠، ٢٤ النور ٥٨، ٣٥ فاطر ١، ٣٦ يس ١٤ 58:24 15:46 6:39 14:36 1:35
 35:1, 36:14, 39:6, 46:15, ٣٩ الزمر ٦، ٤٦ الاحقاف ١٥، ٥٦ الواقعة ٧ 30:77 7:58 7:56 4:65
 56:7, 58:7, 65:4, 77:30 ٥٨ المجادلة ٧، ٦٥ الطلاق ٤، ٧٧ المرسلات ٣٠

FOUR

4

٤

الرابعة - الاربع

4

چار

2:226,234,260, 4:3,12,15, 9:2,36, ٢ البقرة ٢٢٦، ٢٣٤، ٢٦٠، ٤ النساء ١٢، ١٥، ١٥٠، ٩ التوبة ٣٦، ١٨ الكهف ٢٢، ٢٤ النور ٤٥، ٨، ٦، ٥، ٤، ٣٥ فاطر ١، ٤١ حم سجده ١٠، ٥٨ المجادلة ٧ 36,2:9 15,16,3:4 260,234,226:2
 18:22, 24:4,5,6,8,45, 35:1, ٩ التوبة ٣٦، ١٨ الكهف ٢٢، ٢٤ النور ٤٥، ٨، ٦، ٥، ٤، ٣٥ فاطر ١، ٤١ حم سجده ١٠، ٥٨ المجادلة ٧ 7:58 10:41 1:35 22:18
 41:10, 58:7, 45,8,6,5,4:24

FIVE

5

٥

خمسة

5

پانچ

3:125, 8:41 18:22, 24:7,9, 58:7, ٣ آل عمران ١٢٥، ١٨ الانفال ٤١، ١٨ الكهف ٢٢، ٢٤ النور ٩٠، ٧، ٥٨ المجادلة ٧ 9:24 7:24 22:18 41:8 125:3
 7:58

SIX

6

٦

ستة

6

چھ

4:11,12, 7:54, 10:3, 11:7, 18:22, ٤ النساء ١١، ١٢، ٧ الاعراف ٥٤، ١٠ يونس ٣ 22:18 7:11 3:10 54:7 12,11:4
 25:59, 32:4, 50:38, 57:4, 58:7 ١١ هود ٧، ١٨ الكهف ٢٢، ٢٥ الفرقان ٥٩، ٣٢ السجدة ٤، ٥٠ ق ٣٨، ٥٧ الحديد ٥٨، ٥٨ المجادلة ٧ 7:58 4:57 38:50 4:32 59:25

SEVEN

7

٧

سبعة

7

سات

2:29,162,196, 7:163, 12:43,46,47, ٢ البقرة ٢٩، ١٦٢، ١٩٦، ٧ الاعراف ١٦٣ 87,44:15 43:12 163:7 196,162,29:2
 15:44,87, 17:44 18:22,17,23, ١٢ يوسف ٤٣، ٤٦، ٤٧، ١٥ الحجر ٤٤، ٧٨ 27:31 86,17:23 22:18 44:17 47,46:12
 23:86, 31:27, 41:12 65:12, ١٧ بني اسرائيل ٤٤، ١٨ الكهف ٢٢، ٢٣ المومنون ١٧، ٨٦ 12:65 12:29 3:27 12:25 12:41
 67:3, 69:7, 71:15, 78:12, ٣١ لقمان ٢٧، ٤١ حم سجدة ١٢، ٢٥ الطلاق ١٢، ٢٧ الملك ٣، ٦٩ الحاقة ٧، ٢٩ النساء ١٢، ٧١ نوح ١٥ 15:71 7:69 3:67

EIGHT

8

٨

ثمانية

8

آٹھ

4:12, 6:143, 18:22, 28:27, ٤ النساء ١٢، ١٦ الانعام ٤٣، ١٨ الكهف ٢٢، ٢٨ القصص ٢٧، ٣٩ الزمر ٦٩، الحاقة ٧، ١٧ 6:39 27:28 22:18 143:6 12:4
 39:6 69:7,17 17,7:69

NINE

9

٩

تسعة

9

نو

17:101, 18:25, 27:12, 38:23, ١٧ بني اسرائيل ١٠١، ١٨ الكهف ٢٥، ٢٧ النمل ١٢، ٢٣، ٤٧ محمد ٨، ٧٣ المدثر ٣ 48:47 23,38,12:27 25:18 101:17
 47:48, 73:30 30:73

TEN

10

١٠

عشرة

10

دس

2:60,196,234, 5:12,89, 6:160, ٢ البقرة ٦٠، ١٩٦، ٢٣٤، ٥ المائدة ١٢٥، ١٩، ٦ الانعام ١٦٠ 160,142:7 160:6 89,12:5 234,196,60:2
 7:142,160, 9:36, 11:13, 20:103, ٧ الاعراف ١٤٢، ١٦٠، ٩ توبة ٣٦، ١١ هود ١٣، ٢٠ طه ١٠٣، ٢٨ القصص ٢٧، ٣٤ سباء ٤٥، ٧٣ المدثر ٣، ٨٩ الفجر ٢ 30:73 45:34 27:28 103:20 13:11 36:9
 28:27, 34:45, 73:30, 89:2 2:89

ELEVEN

11

١١

احد عشر

11

گیارہ

12:4 ١٢ يوسف ٤ 4:12

TWELVE

12

١٢

اثنا عشر

12

بارہ

2:60, 5:12, 7:160, 9:36 ٢ البقرة ٦٠، ١٩٦، ٧ الاعراف ١٦٠، ٩ توبة ٣٦ 36:9 160:7 12:5 60:2

NINETEEN	19	١٩	تسعة عشر	19	انہیں
74:30			٧٤ المدثر ٣٠		30:74
TWENTY	20	٢٠	عشرون	20	بیں
8:65			٨ الانفال ٦٥		65:8
THIRTY	30	٣٠	ثلثون	30	تیس
7:142, 46:15			٧ الاعراف ١٤٢ ٤٦ الاحقاف ١٥		15:46 142:7
FORTY	40	٤٠	اربعين	40	چالیس
2:51, 5:26, 7:142, 46:15			٢ البقرة ٥١ ٥ المائدة ٢٦ ٧ الاعراف ١٤٢ ٤٦ الاحقاف ١٥		15:46 142:7 26:5 51:2
FIFTY	50	٥٠	خمسين	50	پچاس
14:29, 70:4			١٤ العنكبوت ٢٩ ٧٠ المعارج ٤		4:70 29:14
SIXTY	60	٦٠	ستين	60	ساٹھ
58:4			٥٨ المجادلة ٤		4:58
SEVENTY	70	٧٠	سبعون	70	ستر
7:155, 9:80, 69:32			١٧ الاعراف ١٥٥ ٩ التوبة ٨٠ ٦٩ الحاقة ٣٢		32:69 80:9 155:7
EIGHTY	80	٨٠	ثمانين	80	اسی
24:4			٢٤ النور ٤		4:24
NINETY	90	٩٠	تسعون	90	نوی
38:23			٣٨ ص ٢٣		23:38
NINETY NINE	99	٩٩	تسع وتسعون	99	تینانوے
38:23			٣٨ ص ٢٣		23:38
HUNDRED	100	١٠٠	مائة	100	سو
2:259,261, 8:65, 18:25, 24:2			٢ البقرة ٢٥٩، ٢٦١ ٨ الانفال ٦٥ ١٨ الكهف ٢٥ ٢٤ النور ٢		2:24 25:18 65:8 261:2 259:2
TWO HUNDRED	200	٢٠٠	مائتين	200	دوسو
8:65,66			٨ الانفال ٦٥، ٦٦		66,65:8
THREE HUNDRED	300	٣٠٠	ثلاث مائة	300	تین سو
18:25			١٨ الكهف ٢٥		25:18
THREE HUNDRED AND NINE	309	٣٠٩	ثلاث مائة وازداد وتسعا	309	تین سو نو
18:28			١٨ الكهف ٢٨		25:18
NINE HUNDRED AND FIFTY	950	٩٥٠	الف الا خمسين	950	نوسو پچاس
29:14			٢٩ العنكبوت ١٤		14:29
THOUSAND	1,000	١,٠٠٠	الف	1000	ہزار
2:90, 8:9,65,66, 22:47, 29:14, 97:3			٢ البقرة ٩٦ ٨ الانفال ٦٥، ٦٦ ٢٢ الحج ٤٧ ٢٩ العنكبوت ١٤ ٩٧ القدر ٣		3:97 14:29 47:22 66,65,9:8 96:2

TWO THOUSAND	2,000	٢,٠٠٠	الفين	2000	دو ہزار
8:66			٨ الانفال ٦٦		66:8
THOUSANDS THOUSAND-FOLD		آلاف	الوف		ہزاروں
2:243, 3:124,125		١٢٤ آل عمران ٢٤٣	البقرة ٢٤٣	125:3 124:3 243:2	
THREE THOUSAND	3,000	٣,٠٠٠	ثلاثة آلاف	3000	تین ہزار
3:124			٣ آل عمران ١٢٤		124:3
FIVE THOUSAND	5,000	٥,٠٠٠	خمسة آلاف	5000	پانچ ہزار
3:125			٣ آل عمران ١٢٥		125:3
FIFTY THOUSAND	50,000	٥٠,٠٠٠	خمسين آلاف	50,000	پچاس ہزار
70:4			٧٠ المعارج ٤		4:70
HUNDRED THOUSAND	1,00,000	١,٠٠,٠٠٠	مائة الف	100,000	لاکھ
37:147			٣٧ الصفصص ١٤٧		147:37

FRACTION

الكسرات

کسرات

HALF	$1/2$	$١/٢$	النصف	$1/2$	آدھا حصہ
4:11,12,176			٤ النساء ١١,١٢,١٧٦		176,12,11:4
ONE THIRD	$1/3$	$١/٣$	الثالث	$1/3$	تیسرا حصہ
4:11,12			٤ النساء ١١,١٢		12,11:4
TWO THIRD	$2/3$	$٢/٣$	ثلثا	$2/3$	دو تہائی حصہ
4:11,176			٤ النساء ١١,١٧٦		176,11:4
ONE FOURTH	$1/4$	$١/٤$	الربع	$1/4$	ایک چوتھائی حصہ
4:12			٤ النساء ١٢		12:4
ONE FIFTH	$1/5$	$١/٥$	الخمس	$1/5$	پانچواں حصہ
8:41			٨ الانفال ٤١		14:8
ONE SIXTH	$1/6$	$١/٦$	السدس	$1/6$	چھٹا حصہ
4:11,12			٤ النساء ١١,١٢		12,11:4
ONE EIGHTH	$1/8$	$١/٨$	الثمن	$1/8$	آٹھواں حصہ
4:12			٤ النساء ١٢		12:4
ONE TENTH	$1/10$	$١/١٠$	العشر	$1/10$	دسواں حصہ
34:45			٣٤ سباء ٤٥		45:34

Abbreviated Letters	Reference Chapter and Verse	منشور قرآن کا صفحہ نمبر رقم الصفحة Page No.	اسم السورة ورقم آية	المقطعات	حوالہ جات سورت اور آیت	حروف مقطعات
Alif.Lam.Mim.	2:1, 3:1, 29:1 30:1, 31:1 32:1	96, 104 207, 213 221, 686 1126	۲ البقرة ۱ - ۳ آل عمران ۱ ۲۹ العنكبوت ۱ - ۳۰ الروم ۱ ۳۱ لقمن ۱ - ۳۲ السجدة ۱۵	آلم	1:29 1:3 1:2 1:31 1:30 1:32	الف-لام-میم
Alif.Lam.Mim. Ra.	13:1	207	۱۳ الرعد ۱	آلمرا	1:13	الف-لام-میم-را
Alif.Lam.Mim. Saad.	7:1	222	۷ اعراف ۱	آلمص	1:7	الف-میم-ص
Ha.Mim.	40:1, 41:1, 42:1, 43:1, 44:1 45:1, 46:1	207, 209 231, 242	۴۰ المؤمن ۱ - ۴۱ حم سجدة ۱۵ ۴۲ شوری ۱ - ۴۳ الزخرف ۱ - ۴۴ الدخان ۱ ۴۵ الجاشیہ ۱ - ۴۶ الاحقاف ۱	حم	1:42 1:41 1:40 1:44 1:43 1:46 1:45	ح-میم
Alif.Lam.Ra.	10:1, 11:1 12:1, 14:1, 15:1	207, 222 226	۱۰ یونس ۱ - ۱۱ ہود ۱ - ۱۲ یوسف ۱ ۱۴ ابراہیم ۱ - ۱۵ الحجرا ۱	آلرا	1:12 1:11 1:10 1:15 1:14	الف-لام-را
Ya.Seen.	36:1	221	۳۶ یس ۱	یس	1:36	یا-سین
Ain.Seen.Mim.	42:1	242	۴۲ الشوری ۱	عسق	1:42	عین-س-تاف
Ta.Seen.Mim.	26:1, 28:1	222	۲۶ الشعراء ۱ - ۲۸ القصص ۱	طسم	1:28 1:26	ط-س-میم
Ta.Seen.	27:1	222	۲۷ النمل ۱	طس	1:27	ط-س
Saad.	38:1	224	۳۸ ص ۱	ص	1:38	ص
Kaf.	50:1	1132	۵۰ ق ۱	ق	1:50	تاف
Nun.	68:1	173	۶۸ القلم ۱	ن	1:68	نون
Ta.Ha.	20:1	733	۲۰ طہ ۱	طہ	1:20	ط-ح
Kaf.Ha.Ya.Ain. Saad	19:1	1087	۱۹ مریم ۱	کھیعص	1:19	تاف-ح-یا-عین-صا

دوران تلاوت درج ذیل آیات قرآن کریم پر سجده لازم آتا ہے
یحسب السجود عند تلاوة الآيات القرآنية التالية

IT IS OBLIGATORY TO PROSTRATE AT THE FOLLOWING PLACES WHILE RECITING THE HOLY QUR'AN

Page Number	Chapter Number	Verse Number	Chapter and Verse Numbers	Extract from Ayats	Sajda Number
113	7	206	سورة الاعراف ٧ آية ٢٠٦	وَيَسْجُدُونَ لَهُ يَسْجُودُونَ	1
114	13	15	سورة الرعد ١٣ آية ١٥	وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	2
114	16	49	سورة النحل ١٦ آية ٤٩	وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا عَلَيْهِنَّ يَخْرَوْنَ لِأَلَّذِينَ سَجَدُوا	3
218	17	107	سورة الإسراء (بنی اسرائیل) ١٧ آية ١٠٧	عَلَيْهِمْ يَخْرَوْنَ لِأَلَّذِينَ سَجَدُوا	4
640	19	58	سورة مريم ١٩ آية ٥٨	أَيُّ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا أَوْ بِكِيًّا	5
114	22	18	سورة الحج ٢٢ آية ١٨	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ	6
258	22	77	سورة الحج ٢٢ آية ٧٧*	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ	7
714	25	60	سورة الفرقان ٢٥ آية ٦٠	وَلَا ذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا	8
1076	27	25	سورة النمل ٢٧ آية ٢٥	أَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ	9
766	32	15	سورة السجدة ٣٢ آية ١٥	خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ	10
1070	38	24	سورة ص ٣٨ آية ٢٤	وَخَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ	11
115	41	37	سورة الفصحت ٤١ آية ٣٧	لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ	12
216	53	62	سورة النجم ٥٣ آية ٦٢	فَأَسْجُدْ لِلَّهِ وَعَبُدْ وَاعْبُدُوا	13
216	84	21	سورة الانشقاق ٨٤ آية ٢١	وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ	14
628	96	19	سورة العلق ٩٦ آية ١٩	كَلَّا لَا تَطَّعُهَا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ	15

IN ALL, FOURTEEN PLACES OF PROSTRATION ARE AGREED UPON BY ALL MUSLIM RELIGIOUS SCHOLARS AND ULAMAS, WHILE IMAM SHAF'I SUGGEST PROSTRATION AT THIS PLACE ALSO

☆ قدانفق العلماء المسلمون كلهم بان سجود التلاوة واجب عند أربعة عشر موضعاً مذكوراً أعلا إلا الامام الشافعي فإنه يقترح السجود عند هذا الموضع أيضاً

☆ مندرجہ بالا ۱۴ مقامات سجده پر تمام مسلم علماء کا اتفاق ہے جب کہ حضرت امام شافعی نے اس مقام پر بھی سجده تجویز فرمایا ہے

INVOCATION USUALLY RECITED DURING THE PROSTRATION

do prostrate (stretch my face on ground in prostration) before Almighty Allah (swt), who has created me and Fashioned me (in best stature) and endowed me the faculties of hearing and vision. He is the Lord, full of Majesty, Honour and best of all Creators.

الدعاء المسنون خلال سجود التلاوة

سجد و جہی للذی خلقہ و صورہ و شق سمعہ و بصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین

دعا مسنونہ دوران سجده تلاوت قرآن

سجده کیا میرے چہرے نے اس (ذات) کیلئے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت کشی کی اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں تشکیل دیں بہت برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔

**TABLE OF SURAS IN THE HOLY QUR'AN
SHOWING THEIR AREA OF REVELATION
AND THE NUMBERS OF VERSES**

**فہرست قرآنی سورتیں
مقام نزول (مکی مدنی) اور تعداد آیات
فہرست باسماء السور
ومقام النزول (المکی والمدنی) وتعدد الآیة**

S. No.	Name of Chapters	Revealed at	Total verses	آیة	مقام النزول	اسم السورة	رقم السورة	کل آیات	مقام نزول	نام سورة	شمار سورة
1	The Opening (Al-Fatiha)	Makkan	7	۷	مکیة	الفاتحة	۱	7	مکی	الفاتحة	1
2	The Cow (Al-Baqarah).	Madinah	286	۲۸۶	مدنیة	البقرة	۲	286	مدنی	البقرہ	2
3	The House of Imran (Al-i-'Imran)	Madinah	200	۲۰۰	مدنیة	آل عمران	۳	200	مدنی	آل عمران	3
4	Women (An-Nisa)	Madinah	176-177	۱۷۷-۱۷۶	مدنیة	النساء	۴	176,177	مدنی	النساء	4
5	The Repast-The Table Spread (AL-MAIDAH)	Madinah	120	۱۲۰	مدنیة	المائدة	۵	120	مدنی	المائدہ	5
6	Live Stock-Cattle (Al-An'am).	Makkan	165	۱۶۵	مکیة	الأنعام	۶	165	مکی	الأنعام	6
7	The Faculty of Discernment The Heights(Al-A'raf).	Makkan	206	۲۰۶	مکیة	الأعراف	۷	206	مکی	الأعراف	7
8	Spoils of War-Booty (Al-Anfal).	Madinah	75	۷۵	مدنیة	الأنفال	۸	75	مدنی	الأنفال	8
9	Repentance-Dispensation (At-Tauba).	Madinah	129	۱۲۹	مدنیة	التوبة	۹	129	مدنی	التوبہ	9
10	Jonah (Yunus).	Makkan	109	۱۰۹	مکیة	يونس	۱۰	109	مکی	یونس	10
11	Hu.	Makkan	123	۱۲۳	مکیة	هود	۱۱	123	مکی	ہود	11
12	Joseph (Yusuf).	Makkan	111	۱۱۱	مکیة	يوسف	۱۲	111	مکی	یوسف	12
13	Thunder (Ar-Ra'd).	Madinah	43	۴۳	مدنیة	الرعد	۱۳	43	مدنی	الرعد	13
14	Abraham (Ibrahim).	Makkan	52	۵۲	مکیة	إبراهيم	۱۴	52	مکی	ابراہیم	14
15	Stone Land - Rock (Al-Hijr).	Makkan	99	۹۹	مکیة	الحجر	۱۵	99	مکی	الحجر	15
16	The bees (An-Nahl).	Makkan	128	۱۲۸	مکیة	النحل	۱۶	128	مکی	النحل	16
17	The Night Journey-Glory(Al-Isra'a) The Children of Israel.Bani Isral	Makkan	111	۱۱۱	مکیة	الإسراء (بنی اسرائیل)	۱۷	111	مکی	الإسراء (بنی اسرائیل)	17
18	The Cave (Al-Kahf).	Makkan	110	۱۱۰	مکیة	الكهف	۱۸	110	مکی	الکف	18
19	Mary (Maryam).	Makkan	98	۹۸	مکیة	مريم	۱۹	98	مکی	مریم	19
20	O Man (Ta-Ha).	Makkan	135	۱۳۵	مکیة	طه	۲۰	135	مکی	طہ	20
21	The Prophets (Al-Anbiyaa).	Makkan	112	۱۱۲	مکیة	الأنبياء	۲۱	112	مکی	الأنبیاء	21
22	The Pilgrimage (Al-Hajj).	Madinah	78	۷۸	مدنیة	الحج	۲۲	78	مدنی	الحج	22
23	The believers (Al-Muminun).	Makkan	118	۱۱۸	مکیة	المؤمنون	۲۳	118	مکی	المؤمنون	23
24	The Light (An-Nur).	Madinah	64	۶۴	مدنیة	النور	۲۴	64	مدنی	النور	24
25	The Standard of True and False (Al-Furqan).	Makkan	77	۷۷	مکیة	الفرقان	۲۵	77	مکی	الفرقان	25
26	The poets (Al-Shu'araa).	Makkan	227	۲۲۷	مکیة	الشعراء	۲۶	227	مکی	الشعراء	26
27	The Ants (Al-Naml).	Makkan	93	۹۳	مکیة	النمل	۲۷	93	مکی	النمل	27
28	The Stories (Al-Qasas).	Makkan	88	۸۸	مکیة	القصص	۲۸	88	مکی	القصص	28
29	The spider (Al-Ankabut).	Makkan	69	۶۹	مکیة	العنكبوت	۲۹	69	مکی	العنكبوت	29
30	The Byzantines-Romans (Ar-Rum)	Makkan	60	۶۰	مکیة	الروم	۳۰	60	مکی	الروم	30

S. No.	Name of Chapters	Revealed at	Total verses	آية	مقام النزول	اسم السورة	رقم السورة	كل آيات	مقام نزول	نام سورة	شمار سورة
31	Luqman.	Makkan	34	٣٤	مكية	لقمان	٣١	34	مكي	لقمان	31
32	Prostration-Adoration (As-Sajda).	Makkan	30	٣٠	مكية	السجدة	٣٢	30	مكي	السجدة	32
33	Coalition-The Confederates The Clans-(Al-Ahzab).	Madinah	73	٧٣	مدنية	الأحزاب	٣٣	73	مدني	الأحزاب	33
34	Sheba (Saba).	Makkan	54	٥٤	مكية	سباء	٣٤	54	مكي	سباء	34
35	The Originator-The Angels (Fatir)	Makkan	45	٤٥	مكية	فاطر	٣٥	45	مكي	فاطر	35
36	O You Human Being (Ya-Sin).	Makkan	83	٨٣	مكية	يس	٣٦	83	مكي	يس	36
37	Those Ranged in Ranks (As-Saffat)	Makkan	182	١٨٢	مكية	الصفات	٣٧	182	مكي	الصفات	37
38	Sad (The Letter)	Makkan	88	٨٨	مكية	ص	٣٨	88	مكي	ص	38
39	The Throngs-The Troops (Az-Zumar)	Makkan	75	٧٥	مكية	الزمر	٣٩	75	مكي	الزمر	39
40	The Believer-Forgiving (Al Mumin-Gafir)	Makkan	85	٨٥	مكية	المؤمن (غافر)	٤٠	85	مكي	المؤمن (الغافر)	40
41	Signs Spelled Out-Expounded (Fussilat).	Makkan	54	٥٤	مكية	حم السجدة (فصلت)	٤١	54	مكي	حم سجده (فصلت)	41
42	Consultation-Council (Ash-Shura)	Makkan	53	٥٣	مكية	الشورى	٤٢	53	مكي	الشورى	42
43	Gold-Luxury (Az-Zukhruf).	Makkan	89	٨٩	مكية	الزخرف	٤٣	89	مكي	الزخرف	43
44	Smoke (Ad-Dukhan).	Makkan	59	٥٩	مكية	الدخان	٤٤	59	مكي	الدخان	44
45	Kneeling Down-Crouching (Al-Jathiya).	Makkan	37	٣٧	مكية	الجاثية	٤٥	37	مكي	الجاثية	45
46	The Sand Dunes (Al-Ahqaf).	Makkan	35	٣٥	مكية	الأحقاف	٤٦	35	مكي	الأحقاف	46
47	Muhammad.	Madinah	38	٣٨	مدنية	محمد	٤٧	38	مدني	محمد	47
48	Victory (Al-Fat-h).	Madinah	29	٢٩	مدنية	الفتح	٤٨	29	مدني	الفتح	48
49	The Private Apartments (Al Hujrat)	Madinah	18	١٨	مدنية	الحجرات	٤٩	18	مدني	الحجرات	49
50	Qaf (The Letter).	Makkan	45	٤٥	مكية	ق	٥٠	45	مكي	ق	50
51	The Winnowing- Dust Scattering Winds (Az-Zariyat).	Makkan	60	٦٠	مكية	الذاريات	٥١	60	مكي	الذاريات	51
52	The Mount Sinai (At-Tur).	Makkan	49	٤٩	مكية	الطور	٥٢	49	مكي	الطور	52
53	The Star-The Unfolding (An-Najm)	Makkan	62	٦٢	مكية	النجم	٥٣	62	مكي	النجم	53
54	The Moon (Al-Qamar).	Makkan	55	٥٥	مكية	القمر	٥٤	55	مكي	القمر	54
55	The Most Gracious (Ar-Rahman)	Madinah	78	٧٨	مدنية	الرحمن	٥٥	78	مدني	الرحمن	55
56	Inevitable (Al-Waqi'a).	Makkan	96	٩٦	مكية	الواقعة	٥٦	96	مكي	الواقعة	56
57	Iron (Al-Hadid).	Madinah	29	٢٩	مدنية	الحديد	٥٧	29	مدني	الحديد	57
58	The Pleading Woman (Al-Mujadila).	Madinah	22	٢٢	مدنية	المجادلة	٥٨	22	مدني	المجادلة	58
59	The Banishment-Gathering (Al-Hashr)	Madinah	24	٢٤	مدنية	الحشر	٥٩	24	مدني	الحشر	59
60	The Examined One (Al-Mumtana)	Madinah	13	١٣	مدنية	الممتحنة	٦٠	13	مدني	الممتحنة	60
61	The Ranks-Battle Array (As-Saff)	Madinah	14	١٤	مدنية	الصف	٦١	14	مدني	الصف	61
62	Friday-The Congregation (Al-Jumu'a).	Madinah	11	١١	مدنية	الجمعة	٦٢	11	مدني	الجمعة	62
63	The Hypocrites (Al-Munafiqun)	Madinah	11	١١	مدنية	المنافقون	٦٣	11	مدني	المنافقون	63
64	Mutual Disillusion-Haggling-Loss and Gain (At-Tagabun).	Madinah	18	١٨	مدنية	التغابن	٦٤	18	مدني	التغابن	64

S. No.	Name of Chapters	Revealed at	Total verses	آية	مقام النزول	اسم السورة	رقم السورة	كل آيات	مقام نزول	نام سورة	شمار سورة
65	Divorce (At-Talaq).	Madinah	12	١٢	مدنية	الطلاق	٦٥	12	مدني	الطلاق	65
66	Prohibition (At-Tahrim).	Madinah	12	١٢	مدنية	التحريم	٦٦	12	مدني	التحريم	66
67	Dominion Control (Al-Mulk).	Makkan	30	٣٠	مكية	الملك	٦٧	30	مكي	الملك	67
68	The Pen (Al-Qalam).	Makkan	52	٥٢	مكية	القلم	٦٨	52	مكي	القلم	68
69	Reality- Bare of the Truth (Al-Haqqa).	Makkan	52	٥٢	مكية	الحاقة	٦٩	52	مكي	الحاقة	69
70	The Ways of Ascent (Al-Ma'arij)	Makkan	44	٤٤	مكية	المعارج	٧٠	44	مكي	المعارج	70
71	Noah (Nuh).	Makkan	28	٢٨	مكية	نوح	٧١	28	مكي	نوح	71
72	Sprites-The Unseen Beings (Al-Jinn).	Makkan	28	٢٨	مكية	الجن	٧٢	28	مكي	الجن	72
73	The Enwrapped One (Al-Muzzammil).	Makkan	20	٢٠	مكية	المزمل	٧٣	20	مكي	المزمل	73
74	The Clocked One- Enfolded One (Al-Muddaththir).	Makkan	56	٥٦	مكية	المدثر	٧٤	56	مكي	المدثر	74
75	Resurrection (Al-Qiyamat).	Makkan	40	٤٠	مكية	القيامة	٧٥	40	مكي	القيامة	75
76	Everyman (Al-Insan). (Al-Dhanar)	Madinah	31	٣١	مدنية	الدھر (الإنسان)	٧٦	31	مدني	الدھر (الإنسان)	76
77	Those Sent Forth (Al-Mursalat).	Makkan	50	٥٠	مكية	المرسلات	٧٧	50	مكي	المرسلات	77
78	The Announcement-Tiding (An-Nabaa)	Makkan	40	٤٠	مكية	النباء	٧٨	40	مكي	النباء	78
79	Those That Rise-Soul Snatchers (An-Nazi'at).	Makkan	46	٤٦	مكية	النازعات	٧٩	46	مكي	النازعات	79
80	Frowned (Abasa).	Makkan	42	٤٢	مكية	عبس	٨٠	42	مكي	عبس	80
81	Extinguished-Shrouding in Darkness (Al-Takwir).	Makkan	29	٢٩	مكية	التكوير	٨١	29	مكي	التكوير	81
82	The Cleaving Asunder-Bursting Apart (Al-Infittar).	Makkan	19	١٩	مكية	الانفطار	٨٢	19	مكي	الانفطار	82
83	The Cheats-Those Who Give Short Measure (Al-Mutaffifeen).	Makkan	36	٣٦	مكية	المطففين	٨٣	36	مكي	المطففين	83
84	The Splitting Asunder (Al-Inshiqaq)	Makkan	25	٢٥	مكية	الانشقاق	٨٤	25	مكي	الانشقاق	84
85	The Great Constellations (Al-Buruj).	Makkan	22	٢٢	مكية	البروج	٨٥	22	مكي	البروج	85
86	The Morning Star- The Night Comer (At-Tariq)	Makkan	17	١٧	مكية	الطارق	٨٦	17	مكي	الطارق	86
87	The All Highest (Al-A'la).	Makkan	19	١٩	مكية	الأعلى	٨٧	19	مكي	الأعلى	87
88	The Overshadowing Event -The Pall (Al-Ghashiya).	Makkan	26	٢٦	مكية	الغاشية	٨٨	26	مكي	الغاشية	88
89	The Daybreak (Al-Fajr).	Makkan	30	٣٠	مكية	الفجر	٨٩	30	مكي	الفجر	89
90	The Countryside-The Land (Al-Balad).	Makkan	20	٢٠	مكية	البلد	٩٠	20	مكي	البلد	90

S. No.	Name of Chapters	Revealed at	Total verses	آية	مقام النزول	اسم السورة	رقم السورة	كل آيات	مقام نزول	نام سورة	شمار سورة
91	The Sun (Ash-Shams).	Makkan	15	۱۵	مکیة	الشمس	۹۱	15	مکی	الشمس	91
92	The Night (Al-Lail).	Makkan	21	۲۱	مکیة	اللیل	۹۲	21	مکی	اللیل	92
93	The Bright Morning Hours (Adh-Dhuha).	Makkan	11	۱۱	مکیة	الضحی	۹۳	11	مکی	الضحی	93
94	Consolation- The Opening-up of the Heart) Al-Shara.	Makkan	8	۸	مکیة	الشرح	۹۴	8	مکی	الشرح	94
95	The Fig Tree (At-Tin)	Makkan	8	۸	مکیة	التین	۹۵	8	مکی	التین	95
96	The Germ Cell-The Clot(Al-Alaq)	Makkan	19	۱۹	مکیة	العلق	۹۶	19	مکی	العلق	96
97	Destiny-Power (Al-Qadr).	Makkan	5	۵	مکیة	القدر	۹۷	5	مکی	القدر	97
98	The Evidence of the Truth (Al-Baiyina)	Madinah	8	۸	مدنیة	البینة	۹۸	8	مدنی	البینة	98
99	The Earthquake (Al-Zalzalah).	Madinah	8	۸	مدنیة	الزلزلة (الزلزال)	۹۹	8	مدنی	الزلزلة (الزلزال)	99
100	The Chargers (Al-Adiyat).	Makkan	11	۱۱	مکیة	العادیات	۱۰۰	11	مکی	العادیات	100
101	The Stunning-Sudden Calamity (Al-Qari'a).	Makkan	11	۱۱	مکیة	القارعة	۱۰۱	11	مکی	القارعة	101
102	Greed for More and Move Competition(At-Takathur)	Makkan	8	۸	مکیة	التکاثر	۱۰۲	8	مکی	التکاثر	102
103	The Flight of Time -Eventide (Al-Asr).	Makkan	3	۳	مکیة	العصر	۱۰۳	3	مکی	العصر	103
104	The Standerer-Traducer Gossipmonger (Al-Humaza).	Makkan	9	۹	مکیة	الهمزة	۱۰۴	9	مکی	الهمزة	104
105	The Elephant (Al-Fil).	Makkan	5	۵	مکیة	الفیل	۱۰۵	5	مکی	الفیل	105
106	Quraish.	Makkan	4	۴	مکیة	قریش	۱۰۶	4	مکی	قریش	106
107	Almsgiving-Assistance(Al-Ma'un).	Makkan	7	۷	مکیة	الماعون	۱۰۷	7	مکی	الماعون	107
108	Good in Abundance-Plenty (Al-Kauthar)	Makkan	3	۳	مکیة	الکوثر	۱۰۸	3	مکی	الکوثر	108
109	Disbelievers (Al-Kafirun).	Makkan	6	۶	مکیة	الکافرون	۱۰۹	6	مکی	الکافرون	109
110	Divine Support- Succor(An-Nasr).	Madinah	3	۳	مکیة	النصر	۱۱۰	3	مکی	النصر	110
111	The Twisted Strands-The Flame (Al-Masad).	Makkah	5	۵	مدنیة	الذهب (المسد)	۱۱۱	5	مدنی	الذهب (المسد)	111
112	Sincerity-The Declaration of God's Perfection (Al-Ikhlās)	Makkan	4	۴	مکیة	الإخلاص	۱۱۲	4	مکی	الإخلاص	112
113	The Rising Dawn(Al-Falaq).	Makkan	5	۵	مکیة	الفلق	۱۱۳	5	مکی	الفلق	113
114	Mankind (Al-Nas).	Makkan	6	۶	مکیة	الناس	۱۱۴	6	مکی	الناس	114

☆ Accepted by all Schools of thought
65 (Makkans) 18 (Madinah's)
Difference of Opinion for 31
(Either Makkan or Madinah's)

☆ متفق عليه 65 مکی - 18 مدنی
المختلف فيه 31 (مکیة او مدنیة)

☆ متفق عليه 65 مکی - 18 مدنی
اختلاف رائے 31 (مکی یا مدنی)

مسرد ألفبائي

الهمزة

الإبل ٩٣٩-٥٣٥-٣٦٢

أباييل ٦٧٦

إبراهيم عليه السلام ٩٤٤

الجد الأعلى للرسول الساميين ٩٤٤

وهب الله له سمعة حميدة ٩٤٤

لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ٩٤٤

تدبره في ملكوت السموات ٩٤٥

والأرض لمعرفة الله ٩٤٥

إشعاره عن لغوية عبادة

- النجوم والإجرام الفلكية ٩٤٥

احترامه لوالده المشرك ٩٤٧

دعوته قومه إلى التوحيد ومناقشته بهم ٩٤٧

استغفاره لأبيه بإفناء لوعده ٩٤٩

أسوة حسنة فيه من ترك المشركين ٩٥٠

إقدامه إلى تكسير الأصنام ٩٥١

استغفاره من الله تعالى عن كيفية إحياء الموتى ٩٥٣

مناقشته نمرود في التوحيد

إلقاءه في النار وكونها بردا ٩٥٤

وسلاماً عليه ٩٥٤

دعاءه لإعطاء ذرية صالحة واستجابته لوهب

- غلام حلیم من بطن زوجته هاجر ٩٥٥

إسكانه هاجر واسماعيل بواد غير ذي زرع ٩٥٩

ابتلاءه من الله تعالى ٩٥٦

تصديقه رؤياه وفداه الله بذيبح عظيم ٩٥٦

بناء الكعبة ٩٦١

حرمان سارة وزوجه الأول من

- المولود حتى إلى شيخوختها ٩٥٧

تبشيريه بولادة اسحاق غلام عليم ٩٥٩

مناداته الناس في أكتاف العالم للحج ٩٦١-٢٨٧

جعل مقامه مصلى ٩٦١

دعاءه لبعثة محمد ٩٦١

ملته الدين الاسلامي ٩٦٠

لقبه خليل الله ٩٦٠

ابرهة الأشرم (راجع اصحاب الفيل) ٦٨٧

إبليس ٩٠٨-٩١٤-٣٨٢

ابن:

آدم ٩١٥

نوح ٩٢٦

مريم (راجع عيسى) ٦٠٤-١٠٩٧

أبو بكر الصديق ٦٩٣-٧٥٩

أبولهب : ١٨٤

التاريخ : (راجع القصص)

الانبياء ٩٠٤

الأمم الأخرى ٩٠٤

الأديان الأخرى ٩٠٤

آثار القيامة ٧٨٨

أثل (راجع علم النبات)

إثم (راجع السيئات الاجتماعية) ٤٧٣

أجاج (راجع علم المياه) ٣٤٥

آجال الأمم (المصير وعاقبة الأمم الأخرى)

١١٠٨-٨٥٠-٦١٩-١٠٤١

١٨٧-٦٧٩-٦٧٧-١٠٣١-٤٩٨

أجر

الأعمال الصالحة

الصلاة ٢٥٦

الزكاة ٢٨٦

الصدقات ٢٧٧-٢٨٤

الصبر ٢٩٩

العشر ٢٧٤

الجهاد ٦٥٧

الشكر لله ٣٠٠

الاستغفار ٣١٢

التقوى ٣٠٦

التوكل ٣٠٤

التوبة ٣١٥

أجل (راجع الموت)

أحد (غزوة)

تبوء النبي المؤمنين مقاعد للقتال ٧٠٢

ترك الرماة مكانهم خلاف امر النبي ٧٠٢

تبدل فتح المسلمين بالهزيمة ٧٠٢

الخبر الكاذب بقتل النبي ٧٠٣

درس الصبر والثبات للمسلمين ٧٠٣

انكشاف مكاييد المنافقين ٧٠٤

تسليية المؤمنين في تد اول الأيام ٧٠٥

عفى الله عن المسلمين الذين استرلهم الشيطان ٧٠٥

إنزال تسليية من الله على المؤمنين ٧٠٥

تحدى أبي سفيان للقتال بيد الصغرى

- في العام القادم ٧٠٦

أحزاب (غزوة) ٧٠٩

أخت

موسى ١٠٠٦

هارون ١٠٠٦-١٠٩٧

أخذ

الطوفان ٩٢٦-١٠٣٤

الصيحة ٩٤١-٩٦٨

الرجفة ٩٤١-١٠٠١

إمطار الحجارة ٩٦٨

الطلة والذهب ١٠٠١

الجدوات ١٠٠١

القحط ١٠٣٤

الجراد ١٠٣٤

القمل ١٠٣٤

الضفادع ١٠٣٤

القرار والدم ١٠٣٤

بريح صرصر ٩٣٣

الأخرة (راجع القيامة) ٧٨٢

إخوة يوسف

من أبيه ٩٧٨

أخوه الشقيق ٩٨٨

أخو

موسى (راجع هارون)

الأخوة الإسلامية ٦٢٠

آدم (عليه السلام)

خلق من طين ٩٠٦

جعل خليفة الله في الأرض ٩٠٦

تفوقه على الملائكة ٩٠٧

سجود الملائكة له ٩٠٧

إبلاء إبليس لسجوده ٩٠٧

واستدلاله لذلك ٩٠٧

خلقت حواء من ظهره ٩٠٩

أسكن هو وزوجه في الجنة و

- نهيا عن تقريب شجرة ٩٠٩

اشعاره وزوجه من الله عن سوء

- نية الشيطان وعداوتها لهما ٩١٠

اغتراره وزوجه من الشيطان خطأه و

- زوجه باقترامهما الشجرة الممنوعة ٩١٠

إخراجهما من الجنة وهبوطهما إلى الأرض ٩١٠

أعطائهما لباسا عند هبوطهما من الجنة ٩١١

استغفارهما وتوبة الله عليهما ٩١١

آداب

الطعام (ضيافة) ٤٤٩

التكلم ٤٤٥

المجلس ٤٤٧

التخليفة ٤٤٥

دخول البيت ٤٤٤

الاستيدان ٤٤٥

كان من الصابرين ٩١٦
كان صديقاً نبياً ٩١٦
رفعه الله مكاناً علياً ٩١٦
أذان (راجع الصلوة) ٢٥٦
(أرب) مآرب ١١١٤
الأراميل

قوانين نكاحهن ٥١٧
قوانين عدتهن ٥٣١
حقوقهن ٥٣١-٥٢٠
حقهن بالإقامة في بيوت أزواجهن ٥٣١
النهي عن الحصول على عقارهن بالجبر ٥١٤
آزر ٩٤٦

الأرض

خلقها ٣٢٢-٣٢٥
فتقها من السموات ٣٢١
مراحل الخلق ٣٢٢
خلقها في يومين ٣٢٥
تقدير الأقوات في أربعة أيام ٣٢٥
طبقاتها ٣٢٥
تحت الثرى ٣٢٥
إتساعها ٣٢٥
نقصها من الأطراف ٣٢٦
المعاش في خباياها (راجع الزراعة) ٣٥٢
الآزفة (راجع الساعة)
أساسات الإسلام: ٩٧-٩٩
السبيل (راجع حقوقه)
اسحاق (غلام علي)

لم يكن يهودياً أو نصرانياً ٩٧٣
كان ذرية أبويه في الشيخوخة ٩٥٨
غلام حليم ٩٥٥
ذبيح الله ٩٥٦
بواد غير ذي زرع مع والدته ٩٥٩
مشاركته في بناء الكعبة ٩٦١
خدمة بيت الله ٩٦١

أسوه حسنة ١٧٢
أصحاب

الاعراف ٧٣٨
الصفحة ٧٦١
الأخدود ١١١٣
القرية ١١٠٩
السبت ١٠٧٠
الحجر ٩٣٦
العلم ٤٤١
النار (راجع جهنم) ٨٨٦

الجنة (راجع الجنة) ٧٦٠

الكهف الرقيم ١١١٥-١١٠٥
الميمنة ٢٨٣-٧٩٩
المشيمة ٢٣٧-٨٠٠
اليمين ٧٩٩-٨٠٠
الشمال ٨٠١
الأيكة ١٠٠٣-١٠٠٢-٩٩٧

الرس ١٠٠٣-١١١٤
الفيل ٦٨٦
القرية ١١٠٩
السفينة ٩٦٨
الرسول ٧٥٨
إفك (واقعة) ٧٠٨

الأكل

الطيب ٥٠٢
الحرام ٥٠٥
أكل السحت كان من خلصة اليهود ٥٩٤
آل عمران ١٠٩١
الله: ١٠١-٩٧

صفاته ١٠١
قدرته ١٠١-٣٦٦
آلاءه ٣٢٤-٢٠٧
أنعمه ٩٠-٤٣٦-٣٠٠-٨٦٦-٣٩٦-١٠٢
عباده ٢٩٤
رسله ٣٧٤-٩٠٤

آلاء الله ٨٧٥، ٣٠٠، ١٠٢

منها الأموال والبنون ٤٣٥، ٤٣٢، ٤٢٢
منها خفض العيش ٤٣٥، ٤٣٢، ٤٢٢
منها البسطة في الرزق ٤٣٥، ٤٣٢، ٤٢٢
منها حياة طيبة للمؤمنين ٤٠٣
منها الملكية الشخصية ٤٠٤
منها التمكّن في الأرض ٤٠٤
إلياس: تبليغه قومه رسالة التوحيد ١٠٦٥
إلياسين: اجتباه الله وآتاه الكتاب والحكم
والتبوة

(راجع قصص الأنبياء) ١٠٦٥
اليسع ١٠٦٦

أم

القرى ٢٤٥
الكتاب ٣٦٧-٢١١
موسى ١٠٠٦
عيسى (راجع مريم) ١٠٩١
أمارات الساعة ٧٨٨
انطلاق ياجوج وماجوج ٧٨٨
خروج دابة الأرض ٧٨٨

الأمانة

أداءها واجب ٤٩٢
سنة الأنبياء ٩٩٩-٩٣١-٩١٩-١٦٧
- ٩٦٣-٩٣٧
إعداد وثيقتها ٤٩٤-٤٩٢
أمر ٧٧٥-٧٧١
ربى ١٥١-٣٦٨-١٠٥
فرعون ١٠٠٥
أولى الأمر ٥٥٢
بالمعروف والنهي عن المنكر ٤٧٢-٤٦٦

الأمم / الأمة

السابقة ٩٠٤
المسلمة ٩٠
المقتصد ٦٠١٥
الوسطة ٩٠
إنجيل ٦٠٧-٦٣٧-١٠٩٩
الإنسان

حقيقته ٣٩٤
خلقه ٤٩٤
فطرته ٤٠٢-٤٠٦
كفور ٤٠٦
مسرف ٤٠٦
ماكر ٤٠٦
فرح ٤٠٦
ختار ٤٠٧
كنود ٤٠٨
طامع ٤٠٩
يئوس ٤٠٩
ضعيف ٤٠٩
خصيم ٤٠٩
قتور ٤١٠
شحيح ٤١٠
هلوع ٤١٠
جزوع ٤١٠

الإنسان

طاغ ٤١١
محب المال ٤١١
عجول ٤١٠
ظلوم ٤١١
جهول ٤١١
مغرور ٤٠٩
غافل ٤١٣
قنوط ٤١٢
مجادل ٤٠٩

الرؤيا (راجع قصة يوسف) ٩٨٦-٩٨٤-٩٧٧
أهل البيت:

- ١٨٨ تكريم أهل بيت الرسول
- ١٨٨ آداب التكلم بأزواج النبي
- ١٨٨ تحريم نكاح أزواجه من بعده
- ١٨٨ أزواجه أمهات المؤمنين
- تنقيص في كرامة أهل
- بيت إثم كبير ١٨٩
- الأوامر المختصة بأزواجه ١٨٩-١٨٤
- أهل بيت إبراهيم ٩٥٨
- أهل الكتاب
- إجازة الزواج بمحسنتهم ٥١٨-٥٨٧
- جواز أكل الطيبات عندهم ٥٨٧
- المعاملة الحسنة لغير
- المحاربين منهم ٥٨٨-٥٨٧
- أهل مدين ٩٩٧
- أهل النار ٨٨٥
- أهل يشرب ٥٢٠-٢٨٢-٢٧١
- أهل
- الذكر ٧٦٤-٢٩٤
- الإنجيل ١٠٩٩-٦٣٧-٦٠٧
- التقوى ٣٠٦
- المغفرة ٧٦٦
- قرية / القرى ٩٥٩
- آيات الله (راجع البصائر القرآنية)
- الإيلاء (راجع الخلافات الزوجية)
- الإيمان
- بالله تعالى ٩٧
- بالملائكة ٩٧
- بجميع الكتب ٩٧-٩٣
- بجميع الرسل ٩٧-٩٣
- باليوم الآخر ٩٧
- بالقدر ومشيئة الله ٩٨
- الأيمان والعهود ٥٧١
- الالتزام بحفظ الأيمان ٥٧١
- الأيمان المستوجبة المؤاخذه ٥٧٢
- الأيمان اللغو ٥٧٢
- الإيمان ٨٩
- لا يمكن عقد التفاهم بين
- الإيمان والكفر ٦٠٨
- أيوب عليه السلام
- دعاءه لكشف الضر ٩٩٦

استجابة دعاءه ٩٩٦

يمينه وإيفاءه إياه ٩٩٦

الباء

اتباع الرسول ١٩٥-١٧١

الابتلاء

- الإنسان ٣٩٣-٤٣٥-٤٣٢-٤٢٢
- ٤٠٣-٩٩٦-٢٩٨
- الأنبياء ٩٠٧-٩٠٩-٩٥٦-٤٠٣
- ١٠٧٥-٩٨١-٩٧٢-١٠٨١
- ١٠٦٧-٩٩٦-١٠٨٥
- الأمم ٩٣٩-١٠٥٣-١٠٥٢-٤٠٤
- ٩٢٤-١١٠٨-١٠٦٤

البيجست

العيون (راجع موسى) ١٠٤٣

البحر:

٣٤٠-٣٤١

فيه خزائن الرزق ٣٤٢

البخل

في الإنفاق في سبيل الله ٤٧٩

الحث عليه ٤٧٩

عاقبة البخل ٤٧٩

بدر (غزوه)

التمييز بين الحق والباطل ٦٩٦

قائد الجيش: النبي الكريم ٦٩٧

إنزال السكينة من الله ٦٩٧

كثرة عدد العدو ٦٩٨

اعتماد المؤمنين على قوة الايمان ٦٩٨-٧٠٠

زعيم الكفار نكص على عقبيه ٦٩٨

إمداد الله تعالى بملائكة ٦٩٨

رمى الرسول بحفنة الحصيات إلى الكفار ٧٠٠

هزيمة الكفار وإطلاق الاسارى بأخذ القدية ٧٠١

غنائم بدر ٧٠٢

بدر صغيرى ٧٠٦

البدويون (راجع الأعراب) ٧٢٨

بدء الخلق (راجع علم الكون) ٣٢١

التبذير

٤٩٦

مذمته ٤٩٦

ليس منه إيتاء الزكوة والصدقات

- وإعانة المساكين ٤٩٧

البراءة

٧٠٨

الزوجة من العقوبة ٤٧٥

البر:

ليس مقصوراً على توجيده

- إلى جهة خاصة

التعاون عليه واجب

التبرج

لا يجوز للمؤمنات ٥٤٣

علامة الجاهلية ٥٤٣

موجب للرجس ٥٤٣

البرد (راجع علم الماء) ٣٩٤

البرخ

٧٧٦

هو من وراء الموتى ٧٧٦

البرق

وجوده في الكرة الهوائية ٣٤٨

بسطة:

الرزق وقدره بيد الله ٣٩٨

أوتى طالوت بسطة في العلم والجسم ١٠٦٤

كلب أصحاب الكهف كان

- باسطة ذراعيه بالوصيد ١١٠٨

بشارات

لمقيمي الصلوة ٢٥٦

لإيتاء الزكوة ٢٦٨

للمجاهدين ٦٥٧

للمهاجرين ٦٧٠

لإبراهيم ٩٥٧-٩٠٠

لزكريا ١٠٩٧

لمريم ١٠٩٢

البشر (راجع خلق آدم)

البصائر

دعوة التفكير ١٠١٧-٩٣١-٩٢٠

- ٣٧٧-٣٥٠-٣٤٤-٣٢٠

المؤمنون يتفكرون ٣٢٠

الإعراض عن التفكير فطرة الكفار ٣٢٠

علم الكون ٣٢١

علم الفلك ٣٢٩

النظام الشمسى والقمرى ٣٣١

علم طبقات الارض ٣٣٨

علم البحريات ٣٤٠

الرياح ٣٤٩

الغابات ٣٥٥

علم الحيوانات ٣٥٩

علم الطيور ٣٦٤

البصائر

علم الحشرات ٣٦٥

علم الماء ٣٤٥

علم النبات ٣٥١

النظام الطبيعي للوقاية من التلوث الجوى ٣٥٤

الجنات والثمار والفواكه ٣٥٦

الإبطال

لعقيدة التثليث ١١٠٣-٦٠٦

لعقيدة ألوهية المسيح ١١٠٣-٦٠٦-٦٠٢

ألوهية مريم ١١٠٣-٦٠٦

البعث بعد الموت ٧٧٧

شكوك الكافرين فيه ٧٧٧

الاصطباغ ٥٨٩

نظرية التاسخ ٥٨٩

الوثنية ٥٩٠

عبادة العجل ٥٩٠

نظام أدوريامن التفرقة العنصرية ٥٨١

بطلش الله شديد ٨٣٢-١٢٥-١٢٣-١٣١

بعشر (راجع القيامة)

البعير (راجع الإبل)

البقر (راجع العجل)

بكة (راجع مكة)

البلاغ. التبليغ. الإبلاغ ٦٣١-٥٦٤-٦٩٠

الإبلاغ (راجع الدعوة)

البلد الأمين (راجع مكة)

إبليس ٣٨٢

كان من الجن ٣٨٢

خلق من نار السموم ٣٨٢

هو عدو أزلى لبني آدم ٩١٣-٣٨٢

هدفه إلى يوم القيامة إغواء

- بني آدم ٣٨٣-٣٨٢

يأمر الانسان بالسوء والفحشاء ٣٨٣

كيد ضعيف ٣٨٤

لاسلطان له على المؤمنين

- المتوكلين على الله ٩١٤-٣٨٤

وعده غرور ٩٠٧

ليستعد المؤمنون بالله من نزغه ٣٨٣

لايتبع المؤمنون خطواته ٩١٠-٣٨٤

تبليغ ٦٣١-٥٦٤-٦٩٠

بنت

عمران (راجع مريم) ٥٤٥

حقوقها في الوراثة ٥١٠

وأدها حرام ٥٦١-٤٥٦

بنتا شعيب ١٠١٠

بنو

آدم ٩١٧

اسرائيل ١٠٤٣-١٠٤١-١٠٣٦-١٠٣٤

- ١٠٣٣-١٠٣٢-١٠٠٥-١٠٦١

- ١٠٥٣-١٠٤٥-١٠٤٨-١٠٧٩

- ١٠٧٠-١٠٨٠-١١٠٢-١١١٣

قينقاع ٧٠٢

قريظة (غزوة) ٧١٢

نضير (غزوة) ٧٠٧

المصطلق (غزوة) ٧٠٨-٧٤٧

قطع الأشجار سياسة وتحرفاً للقتال ٧٠٧

اضطرار اليهود للجلاء

تخريب اليهود بيوتهم بأيديهم ٧٠٧

البهتان ٥٧٧-٥١٥

بشر (راجع يوسف) ٩٧٨

البيت الله ٦٢٤-٢٨٧

العتيق ٦٢٤

المعمور ٧٩٥

الحرام (قبلة المسلمين) ٢٨٧

للعنكبوت ١١٣٩-٣٦٥-١٤٣

البيت المقدس ١٠٤٣-٦٢٦

القبلة الأولى ٦٢٦

الصخرة: قبلة اليهود ٦٩٦-٦٩٠

الشرق: قبلة النصارى ٦٩٦-٦٠٠

البيع ٤٩٥

بيعة الرسول ١٧٠

بيعة الرضوان ٧١٣

البيئات (راجع المعجزات)

البيوت:

آداب الدخول فيها ٤٤٤

أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ٦٢٢

التاء

تابوت

السكينة ١٠٦٣

موسى ١٠٠٦

اتباع:

الرسول ١٧١

الشیطان ٩١٠-٣٧٤

الشهوات ٤١٥

النفوس ٤١٦

الهوى ٤١٥-٤١٦

الأسلاف على غير هدى ٤٨٣

تبع (قوم أهلكوا) ١١١٥-١٠٠٣

تبع التابعين ٧٦٢

تبوك (غزوة)

معاذير المنافقين لعدم اشتراكهم ٧٢١

توبيخ للمخلفين ٧٢١

استيذان المنافقين ٧٢٢-٧٢٣

جيش العسرة ٧٢٥

توبة الله على الأصحاب الثلاثة ٧٢٤

التسامح للمحسنين ٧٢٦

التجارة

احكامها ٤٨٥

إجازتها (إذا كانت صحيحة) ٤٨٥

القيحة ٤٧٦-٥٠٠

الصحيحة ٤٩٩-٤٨٥-٤٨٧

الشركة والمضاربة فيها ٤٨٥

النهي عن أخذ الرشوة فيها ٤٨٥

الأمر بإيفاء الكيل والوزن ٤٨٦

جوازها خلال أيام الحج ٤٨٧

لا تكن مانعاً في ذكر الله ٤٨٧

الرحلة فيها ٤٣٧-٣٤١

الرابحة الدائمة (راجع الزكوة)

لن تبور (راجع الاتفاق في سبيل الله) ٢٧٧-٢٦٨

تلاوة القرآن

آدابها ٢١٥

الأوقات المناسبة ٢١٥-٢١٧

الإتمام: ٢١٧

نعمة الله ٨٩

الرضاعة ٥٣٤

النور ٩٥

تنور:

نوح ٩٢٥

التراب

خلق منه آدم ٣٩٤

التوبة الى الله ٣١٥

على القور ٣١٦

قبل أن يأتي الموت ٣١٦

الأمربها جماعياً ٣١٦

كفارة للسينات ٣١٧

بابها مفتوح ٣١٨-٦٧٨

إمكانها للقائلين بالتثليث ٣١٩

إمكانها للمنافقين ٣١٩

إمكانها للمرتد ٣١٩

إمكانها للقاتل خطأ ٣١٩

إمكانها للشارق ٣١٩

أوصى بها جميع الرسل ٣١٩

التوراة ٩١٩-٩٣٧-٩٣٣-١٠٠١-١٠٤٨
 أنزلت على موسى ١٠٤٧-١٠١٤
 تحريف اليهود فيها ٥٩٢-٥٩١
 مثل غير الحاملين التوراة
 - كمثل الحمار يحمل الكتب ٥٩٥
 تهمة / اتهام ٥٢٥-٥٣٧
 التين
 التيه
 في الأرض (راجع موسى)

الثناء

الثابت (راجع الشجرة الطيبة)
 الثاقب (الشهاب) ٣٢٩
 ثاني اثنين (راجع ابريكر) ٧٥٩-٦٩٣
 الثبات (راجع الجهاد)
 ثجاج (راجع علم المياه)
 الإثخان
 في الأرض (راجع الجهاد)
 الثرى (راجع علم طبقات الارض)
 التثليث ٦٠٦-١١٠٣
 إبطاله ٦٠٢-٦٠٦
 ثمرات الجنة ٨٧٣
 أثمار و فواكه
 التين ٣٥٧
 الزيتون ٣٥٧-٣٥٦
 العنب ٨٧٣-٣٥٧
 الرمان ٣٥٨-٨٧٣
 الرطب (راجع مريم) ٨٧٣-٣٥٦-٣٥٧
 الطلع المنضود ٣٥٨-٨٧٣
 السدر المنضود ٣٥٨-٨٧٣
 ثمود (قوم صالح) ٩٣٦
 كان مسكنهم واد الحجر ٩٣٦
 استهزأ و ابصالح ٩٣٩
 طلبوا من صالح آية ٩٣٩
 عقروا لاقه الله ٩٤٠
 عذاب الرجفة والصيحة عليهم ٩٤١
 أطلالهم تدعو إلى العبرة ٩٤٣
 ثور (غار) ٦٩٣
 مشوي
 الظالمين (راجع جهنم)
 المتكبرين (راجع جهنم)
 الكافرين (راجع جهنم)

الجيم

المجالس (آداب المجتمع) ٤٤٧

التفسيح فيها ٤٤٧
 جالوت:
 قتله داؤد ١٠٦٦
 الجاهلون:
 يجب الاعراض عنهم ٤٦٥
 الجبت:
 ملعونون ١٥٨
 جبريل
 جبل:
 الطور ١٠٤٥-١٠٤٨-١٠٥١-١٠٥٢
 موسى ١٠١٢-١٠٥٢
 سيناء ١٠١٢
 الجودي ٩٢٦
 المجتمع سياته الاجتماعية ٤٧٣
 التعارض بن القول والفعل ٤٧٣
 عدم تنفيذ البر على الذات ٤٧٣
 قول الزور ٤٧٤
 نقض العهد ٤٧٤
 المكر السيء ٤٧٥
 الرثاء ٤٧٥
 الغش والخداع ٤٧٥
 الاتهام ٤٧٥
 الاغتيال ٤٧٦
 الحسد ٤٧٧
 عدم التسامح ٤٧٧
 الهمز واللمز ٤٧٦
 الخصومة ٤٧٧
 الاستكبار ٤٧٧
 استحقاق الناس ٤٧٨
 التفاخر والاختيال ٤٧٩
 المراح ٤٧٩
 السب علانية ٤٧٧
 التناز بالألقاب ٤٧٩
 السخرية ٤٧٩
 طلب الحمد بدون تبرر ٤٧٠
 الشعور بتفاهة الذات ٤٨٠
 الحرص ٤٨٠
 إحداث الاراجيف ٤٨١
 الإراية والتشكيك ٤٨١
 سوء الظن ٤٨١
 التجسس ٤٨١
 الاعتناء بما لا يعنى ٤٨١
 الاستطلاع ٤٨٢
 الوشاية ٤٨٢
 إذاعة الفاحشة ٤٨٢

إزعاج الكرماء ٤٨٢
 مصاحبة الفجار ٤٨٣
 جراد (راجع علم الحشرات) ١٠٣٤
 إرسالها إلى قوم فرعون ١٠٣٤
 خروج الناس من الأجداث
 - مثلها يوم القيامة ٧٩٦
 المجرمون:
 جزاء هم (راجع جهنم) ٤٦٧-٦٧٩-١٠٣١
 عاقبتهم ٨٥٦-٨٤٦-٦٧٧-٦٧٩-٨٠٥
 قلوبهم يوم القيامة ١٠٤١-٦٧٨-٧٠٥
 ٨٥٠-٩٩٧-٥٦٦-١٨٧-
 الجزع والخوف والقلق
 علاجها ٤٧٢-٢٥٨-٢٩٥-٢٩٨-٣٠٥
 الجزية (راجع حقوق غير المسلمين)
 تؤخذ من الذميين ٤٩٠-٦٦٧-٦٦٨
 إجلال النبي الكريم ﷺ و تكريمه ١٨٢
 الأمر بالصلوة والسلام عليه ٣٧٧
 توقيره وتعظيمه ١٨٢
 كان الله وهبه العزة ١٨٢
 النهي عن دعاءه كدعاء عامة الناس ١٨٢
 غض الصوت عنده ١٨٣
 النهي عن التقديم بين يديه ١٨٣
 النهي عن الذهاب من مجلسه بدون إذنه ١٨٣
 تقديم الصدقة قبل مناجاته ١٨٣
 قوانين الزواج المختصة به ١٨٤
 الجن / الجنان ٣٨١
 خلق من نار السموم ٣٨١
 كان ابليس منهم ٣٨٢
 مذاهبهم ٣٨١
 استماعهم إلى القرآن بلسان النبي ٦٩٠-٣٨١
 إقرارهم بالتوحيد ٦٩١-٣٨١
 اعترافهم في أنفسهم بالظن
 - الكاذب في قدره الله ٦٩٦-٣٨١
 الجنابة:
 وجوب الاغتسال منها ٥٣٥-٢٢١
 الجنسية:
 ٥٣٥
 الزنى جريمة كبيرة ٥٣٦
 حفظ الفروج واجب ٥٣٨
 النهي عن جماع الجنس بنفسه ٥٣٩
 عقوبة مجامعة الجنس ٥٤٠
 الاكتفاء على جماع الزوجة
 تحريم إكراه امرأة مستضعفة ٥٤٠
 - على البغاء ٥٤٠

الجنة ٨٦٠

سعة الجنة ٨٦٤

جنة الفردوس ٨٦٦

جنة الماوى ٨٦٦

جنة النعيم ٨٦٦

جنة عالية ٨٦٧

جنة عدن ٨٦٧

الأغذية في الجنة ٨٦٩

الجنة ٨٦٠

المشروبات في الجنة ٨٧٠

عيون الجنة و أنهارها ٨٧٠

يستعمل أهل الجنة صحافا ٨٧٢

وأكوابا من الذهب ٨٧٢

ثمرات وفواكه الجنة ٨٧٣

مصاحبة الأبرار في الجنة ٨٨١

ملابس أهل الجنة وزخارفهم ٨٧٨

البيئة الهادئة المطمئنة

خدام أهل الجنة ٨٧٨

الجنين (علم) ٥٣٥-٥١٤-٣٩٤

أسراره ٣٩٤

الجهاد: ١٠٠-٦٤٢

فرض على المؤمنين ٦٤٢

لمن وعلى من ٦٤٢

لماذا ٦٤٢

الجهاد في سبيل الله بيع رابع ٦٤٣

يوجب مرضات الله ٦٤٤

كفارة للذنوب ٦٤٤

يكون بالأموال وبالأنفس ٦٤٩

كم من بنى قاتل مع ربيون كثير ٦٤٥

المستثنون من المشاركة في الجهاد ٦٤٥

أسلوب المشاركة في الجهاد ٦٤٦

لقاء العدو بالإعداد والحربى على السواء ٦٤٧

الخطوات التحذيرية للخطر ٦٤٧

وسائل النقل الحربية السريعة ٦٤٨

قاتلوا بعنف وصرامة ٦٤٩

لايكن حب الأقارب والأموال عرقلة في الجهاد ٦٥٠

لا تكن خيفة الموت مانعا في الجهاد ٦٥٢

القتل في سبيل الله خير من متاع الدنيا ٦٥٢

الفتح يتوقف على الإيمان ٦٥٣

التوكل على الله عند لقاء العدو ٦٥٣

أجر الجهاد في الدنيا والآخرة ٦٥٧

الشهداء لا يموتون وإنهم ٦٥٨

- يرزقون من عند ربهم ٦٥٨

الشهداء والغزاة مستبشرون بنعمة الله ٦٥٨

التيقظ من شرور المنافقين خلال القتال ٦٦٠

اعتذار المنافقين من المشاركة في الجهاد ٦٦١

الإبطاء في الحضور إلى الجهاد دليل على النفاق ٦٦٢

المنافقون غير جديرين بالثقة في الجهاد ٦٦٦

الإجهاض الصناعي:

يوجب العذاب الأخرى ٥٦١-٥٣٨

جهد ٦٧٣-٩٦-٦٧٤

جهنم: ٨٨٥

درجات معينة لها ٨٨٨

سبعة ابواب لها ٨٨٧

السعير ٨٨٩

السقر ٨٨٨

الحطمة ٨٨٨

صعود ٨٨٩

لظى ٨٨٨

زفيرها ٨٩٨

الإطعمة فيها ٨٨٩

شجرة الرقوم الطعام من ضريع ٨٨٩

- الأشربة في جهنم ٨٩٠

لها ملائكة غلاظ شداد ٨٩٦

- (الزبانية) ٨٩٦

عذابها أبدى ٩٠٠

الجود و السخاد (الإنفاق في سبيل الله)

٢٧٥-٤٩٠-٦٨٤

الجودى (جبل) ٩٢٦

الجيران:

الإحسان إليهم ٤٦٢

لا تمنعوا الماعون لهم ٤٦٢

جيش العسرة (راجع غزوة تبوك) ٧٦٠

الحاء

حاشا لله ٩٨٣

التحاكم:

إلى الطاغوت من خصال المنافقين ١٥٤-٥٧٦

الأخبار والرهبان (راجع كتمان الحق)

أكثرهم يأكلون أموال الناس

- بالباطل ويصدون عن سبيل الله ٥٩٥

حب الرسول ﷺ

ليكن فوق كل حب ١٦٨

حبط الأعمال (راجع جهنم يوم القيامة)

٨١٧-٨١٧

حبيل الله ٦٢٠

حبيل الوريد ١١١

الحج ٢٨٧-١٠٠

نداء ابراهيم في الناس به ٢٨٧

فريضة على كل ذى استطاعة ٢٨٧

أشهره محددة ٢٨٧

التزود في السفر له ٢٨٨

يجوز ابتغاء فضل الله أثناء أيامه ٢٨٨

الحج التمتع للزائر الآفاقي ٢٨٨

لارفت ولا فسوق ولا جدال فيه ٢٨٨

لايجوز الصيد للمحرم ٢٨٨

يجوز صيد البحر للمحرم ٢٨٩

النسك في أثناء الحج ٢٩٠-٢٩٣

يستحب الدعاء لطلب الحسنة في الدنيا و

- الآخرة خلال الحج والعمرة ٢٩٣

الحجاب: ٥٤١

للرجال غض البصر ٥٤١

حدوده للنساء ٥٤١

كيفية خروج النساء من البيوت ٥٤٢

التوصية الخاصة للمؤمنات ٥٤٣

دليل على كرامة النساء ٥٤٤

حدود الله

محافظة واجب ٥٦٥

يجب العقاب المهين على اعتداءها ٥٦٦

إنكارها كفر ٥٦٦

تنفيذ الشريعة الإسلامية واجب على

- الحكومة الإسلامية ٥٥٣

حديبية (غزوة)

ميثاق ٧١٣

إلغاء الميثاق ٧١٩

حديث الرسول

شرح للقرآن الكريم ١٧٣

الحوادث في حياة النبي ٦٨٦

الحديد

الله أنزله ٣٣٩

فيه بأس شديد ٣٣٩

كان داؤد يصهره ١٠٦٨

التحذيرات

حرام

النكاح ٥١٦

الأكل ٤٩٩-٥٠١-٥٠٠-٥٩٥

الكسب ٥٩٥-٥٠٠

الصيد ٥٠٥-٥٠٢

الأغذية ٥٠٥-٥٠٢

الأنعام ٥٠٥-٥٠٢

اللحم ٥٠٥-٥٠٢

المشروب ٥٠٦

تحريم ما أحل الله ٥٠٥

الحرب / المحاربة

المحاربة توجب العقوبة في الدنيا ٥٦٣-٥٨٦
الحرب / المحاربة

توجب العذاب في الآخرة أكل

- الربو حرب من الله ورسوله ٤٨٨

حرب (راجع زراعة / الزوجة) ٣٥١

الحرص ٤٨٠-٤٢٦-٤٢٥-٥٠١-٤٩٩

التحريف في الكتب السماوية

يسبب تقطع الدين الى المذاهب

- المختلفة ٦١٦-٦١٧

تحريف الانجيل ٦٠١

تحريف التوراة ٥٩٢-٥٩١

تحريف زبور ١٠٧٠

تحريم (واقعة) ٧٦٧

الاحزاب (غزوة) ٧٠٩

حصار المدينة الطويل ٧١١

تحرير جنود العدو من الريح العاصف ٧١١

فرار العدو بدون القتال ٧١٢

حزب الشيطان ٢٩٦

حزب الله ٧٦٣-٥٥٥

حزقيل

إمارة قومه ثم إحيائهم ١٠٦٥

الإحسان ٤٦٧

بالوالدين واجب ٤٥١

يحب الله المحسنين ٤٦٧

حسد ١١٢٧-٩٧٨-٩١٥-٥٤٨-٤٧٧

حشر (راجع يوم القيامة) ٧٩١

علم الحشرات ٣٦٥

النحل ٣٦٥

النمل ١٠٧٠-٣٠٥

العنكبوت ١١٤١-٣٦٥-١٤٣

البعوض ١١٤١-٣٦٥

الأرضة ٣٦٥-١٠٧٩

الذباب ٣٦٥-١٤٤

الحطمة ٨٨٨

المحظورات

بشأن العلاقات الزوجية ٥٣٥

حفاظة

العفة ٥٨١-٥٥٥-٥٤١

النفس ٥٨٥-٥٨١-٥٢١-٥٨٨

المال ٥٨٦-٥٨١

الثغور (راجع الجهاد) ٦٤٨

العقود ٥٧١

الأيمان ٥٧١-٤٧٤-٤٦٨

حقوق

الوالدين ٤٥١

الأرامل ٥٣١-٥٢٠

المطلقات ٥٣٣-٥٢٩-٥٢٠

الحوامل ٥٣٣-٥٣٢-٥٣١

الرضاعة ٥٣٤-٥٣٣-٤٥٨

الزوجين ٥٢٣-٥٢٢

الرجل ٥٢٣

المرأة ٥٢٢

الأقارب ٢٧١-٤٥٨-٢٨٢

اليتامى ٥٢٠-٤٦٠-٢٨٢-٢٧١

السفهاء ٤٦١

الجيران ٤٦٢

اصحاب الجنب ٤٦٢

المماليك ٤٦٢-٢٧١-٥٢٠

الأسارى ٤٦٣

المسجونين ٤٦٣

المسافرين ٤٦٣

المهاجرين في سبيل الله ٤٦٣-٢٧٣

المتعفين ٤٦٣

المستضعفين ٤٦٤

المحرورين ٤٦٣

المصابين بالمحل ٤٦٣

الذرية ٤٥٥

الابناء والاحفاد ٤٥٦

حقيقة

الإنسان ٣٩٤

الجن ٣٨١

الدنيا ٤٢٨-٤٢٨

أحكام

الصلوة ٢٥٠

الصوم ٢٦٢

الزكوة ٢٦٥

العشر ٢٧٤

الحج ٢٨٧

الإنفاق في سبيل الله ٢٧٥

الصدقة ٢٨٤

النكاح ٥١٤

المهر ٥٢١

العدة ٥٣١

الطلاق ٥٢٦

الرضاعة ٥٣٣

الاعتكاف ٣٦٤

الجهاد ٦٤٢

الاقتصاد ٤٩٠-٤٨٨-٧٨٥-٤٩١

الامانة ٤٩٢

الانفاق ٤٩٦

كسب - أكل الحلال والحرام

٤٩٩-٥٠٢-٥٠٥

الوصية ٥٠٨

التراث ٥١٠

الزواجية ٥١٤

العلاقات الجنية ٥٣٥-٥٤١-٥٤٦-٥٤٣

الحكمة:

في الأمر بالقصاص ٥٦٠

في الجهاد والقتال ٥٤٢

في النهي عن الإجهاض الصناعي ٥٢٨

في النهي عن سب الهة المشركين ٥٨١

من القصص في القرآن الحكيم ٩٠٤

في ضرب الامثال القرآن ١١٤١

في كون المعيشة غير مستاوية ٣٩١

في بعث رسول إلى كل امة ٣٧٣

في بعثة النبي العربي محمد ١٧٩

في علم إنزال القرآن جملة واحدة ٢٤٠

في أنزل القرآن باللسان العربي ٢٣٠

في أحكام الحجاب ٥٤١

في شهادته رجلين أو رجل وامرأتين ٥٦٨

في تفوق الرجل على المرأة بدرجة ٥٢٣

الحلال

النكاح ٥١٦

الأكل ٥٩٥-٥٠٢

الكسب ٤٩٩

الصيد ٥٠٢

الأغذية ٥٩٥-٥٠٢

الأنعام ٥٠٣

اللحم ٥٠٢

المشروب ٨٧٠

حكم الحلال والحرام على الهوى خصلة

- أهل الكتاب ٥٠٧-٥٩٤-٥٥٠

الحلف ٥٧١-٥٧٦

الحمد لله ٤٦٩

محمد رسول الله ﷺ

ذكره في التوراة والانجيل ١٦٣

دعاء ابراهيم لبعثته ١٦٣

إخبار عيسى به ١٦٤

تنزيل القرآن عليه بواسطة جبريل ١٦٤

بعثته وإعلان نبوته ١٦٤

كان أميا قبل البعثة ١٦٥

شرح صدره ١٦٥

أعطى كوثر ١٦٥

رفع ذكره ١٦٦

ختم به النبوة ١٦٦

أكمل الله الدين الإسلامي عليه ١٦٦

وعد الله له مقاما محمودا ١٦٦

كان على أسمى درجة من الأمانة ١٦٧

هو الرسول الحق ١٦٧

هو معلم الكتاب والحكمة ١٦٩

هو المزكى للمؤمنين ١٦٩
هو بشير و نذير ١٦٨
بيعته بيعة الله ١٧٠
هو حكم "مطاع" ١٧١
كان على خلق عظيم ١٧٢
محمد رسول الله ﷺ

فيه أسوة حسنة ١٧٢
سنته تفسير عملي لما أنزل الله ١٧٢-١٧٤
بعث رحمة للعالمين ١٧٤
هو شفيع للأمم يوم القيامة ١٧٦
يكون شهيداً على أمته يوم القيامة ١٧٧
الله هو مولاه وجبريل وصالح
- المؤمنين والملائكة ١٧٧
فتح الله له فتحاً مبيناً ١٧٨
بعث إلى كافة الناس ١٧٩
هو أفضل الأنبياء ١٨٠
هو يصدق المرسلين ١٨٠

كان أهل الكتاب يعرفونه جيداً ١٨٠
الحمل (والنقل) ٣٦٢-٣٤٠
الحمل (للمرأة)

حفاظته ٥٣٨
النهي عن إسقاطه ٥٣٨
حقوقه ٥٣٣-٥٣٢-٥٣١
عدته ٥٣٢

الرعاية الخصوصية لذوات الحمل
- (راجع حقوق الرضاعة) ٥٣٤-٥٣٣-٥٥٨
النهي عن كتمانها (راجع إسقاط الحمل)
٥٦١-٥٣٨

حمو

موسى (راجع شعيب) ١٠٠٣
حنين (غزوة)

إهجام الرماة العدو بغتة ٧١٨
تقهقر الجيش الإسلامي الموقت ٧١٨
إنزال السكينة من الله ٧١٨-٩٠٩
حصول الفوز على المسلمين ٧١٨

أحوال

الإنسان (خلق الإنسان) ٣٩٤
الآخرة ٧٩١
الجنة ٨٦٦
جهنم ٨٨٥
القيامة ٧٨٢

حواء

الحوراء

حواريون عيسى ١١٠٠
تحويل القبلة إلى الكعبة ٦٩٤
كان وفقاً للدعاء النبوي ٦٩٤

غوغاء اليهود والمنافقين ٦٩٥
الأمر بعدم الاعتناء إلى عناد أهل الكتاب ٦٩٦
الحياة ٥٤٣
الحياة

حقيقتها ٤٢٦-٤١٨
غرضها ٤٠٥-٤٠٣
الحياة الاجتماعية: ٤٣٣

آدابها ٤٣٣
حياة الآخرة: (راجع القيامة- الجنة- الجحيم)
الحياة الدنيا

لعب ولهو ٤١٨
متاعها فتنة ٤١٩
متاع الغرور ٤٣٠-٤٢٥
فانية ٤٢٦-٤١٨

الفرحون عليها أهلكوا بعدذاب من الله ٤١٩
لا يجوز إثارتها على الآخرة ٤٣٠-٤٢٤
لا يغرنكم أموال الكفار وكثرة عددهم ٤٢٩
التحرك للحصول على الترقية
- والفوز في الحياة ٤٣٢
الترغيب للمشاركة الموفوره في شئون
- الحياة الدنيا عن كسب المعاش ٤٣٣
حياة الرسول:

حوادث ٦٨٨

إهجام الملك المسيحي على الكعبة ٦٨٦
الإخبار بغلبة الروم ٦٨٦

لقاءه جبريل في صورته الحقيقية أول مرة ٦٨٧
الوحي الأول في غار حراء ٦٨٧
معجزة شق القمر ٦٨٨
هجرة المسلمين إلى الحشة ٦٨٨

الإسراء والمعراج ٦٨٨
قدوم أشرف قريش وتدخل عبدالله بن مکتوم ٦٨٩

استماع الجن إلى تلاوة القرآن بلسانه ٦٩٠
حادثة غار ثور ومصاحبة أبي بكر ٦٩٣
مكايده الكفار وهجرته إلى يثرب ٦٩٣
حادثة النخلة ٦٩٤

تحويل القبلة ٦٩٤

غزوة بدر (راجع بدر) ٦٩٤

غزوة بني قينقاع ٧٠٢

غزوة أحد (راجع أحد) ٧٠٢

بدر الصغرى ٧٠٦

غزوة حمراء الأسد ٧٠٦

ميثاق المدينة ٧٠٦

غزوة بني نضير (راجع نضير) ٧٠٧

حادثة الإفك ٧٠٨

غزوة احزاب ٧٠٩

غزوة بني قريظة ٧١٢

غزوة الحديبية ٧١٣

بيعة الرضوان ٧١٣

معاهدة الحديبية ٧١٣

غزوة خيبر ٧١٥

فتح حصن خيبر ٧١٦

غزوة مكة ٧١٦

فتح مكة ٧١٦

غزوة حنين ٧١٨

إلغاء معاهدة حديبية ٧١٩

غزوة تبوك ٧٢٠

قيام المنافقين على بناء المسجد الضرار ٧٢٦

واقعة التحريم ٧٢٧

الحيض / المحيض ٥٣٥-٥٣١-٥٣٢

هو أذى ٥٣٥

يجب اعتزال النساء فيه ٥٣٥

الحيوانات

الدواب والطيروأمم مثل الانسان ٣٥٩

الأنعام ذوات المنافع ٣٦٠

الدعوة إلى التفكير في وجود

- اللين في بطون الأنعام ٣٦١

الزينة والجمال ٣٦١

استخدام جلود الأنعام وأصوافها

- وأوبارها وأشعارها ٣٦٢

الخاء

خاسئون (راجع اصحاب السبت) ١٠٧٠
الخائن

لائقة لعهد ٤٦٨-٤٧٤

لا يحبه الله ٤٩٤

الاخبار الغيب (راجع يوسف) ٩٧٧
خبير

الاخبار المقدم بغلبة البيزنطيين الرومانيين ٦٨٢
اختلاف

الليل والنهار ٣٣٥

الآلسنة والألوان ٣٧٤

الزوجين ٥٢٣

الرأبي ٥٨٠-٥٥٠-٤٧٠

في الدين ٦١٦

اليهود والنصارى ٦٠٠

ختم الرسل ١٦٦-٩٩

ختم النبوة ١٦٦-٩٩

الاختيال (راجع تفاخر) ٩٢٩-٩٣٨-٩٣٣

- ٤٧٧-٤٢٧-٤٢٥-٩٣٦-٦٨٤

- ٥٨٢-٤٧٩-١١١٥-١١١٤

المخدرات ومركبات الصبار ٥٠٥-٥٥٥

خزائن قارون ١٠٣٠

مقاليد ١٠٣٠

خزائن المعيشة

في السماء ٣٨٨

خزائن المعيشة

في البحر ٣٨٩

في الارض ٣٢٥-٣٥٢-٣٦٠
خشوع

في ذكر الله ٢٩٧-٢٩٤

في الصلوة ٢٥٥

خشية الله (راجع تقوى) ٣٠٦

علامة أولى العلم ٣٠٨

هدى من الله ٣٠٦-٣٠٨

الخصومات

الشیطان و متبعيه (راجع اللقاءات) ٨٣٧

أصحاب النار من قادتهم ٨٣٥-٨٤٥

خضرة ١٠٥٨

كان عبدا من عبادة الله ١٠٥٨

الشمس موسى منه أن يفضى عليه العلم ١٠٥٨

سافر موسى مع خضرة ١٠٥٨

خرق سفينة ١٠٥٩

قتل غلاما ١٠٦٠

أقام جدارا ١٠٦٠

مفارقته موسى ١٠٦٠

وكشف الأسرار ١٠٦٠

الخضروات

القمح ٣٥٣

العدس ٣٥٣

البصل ٣٥٣

القوم ٣٥٣

القضاء ٣٥٣

اليقطين ٣٥٣

الحبوب ٣٥٣

البقل ٣٥٣

خطأ (القتل) ٥٥٩-٥٦٠

خفض العيش (راجع الجنة)

الأخلاق

الحميدة ٤٤٣-٤٤٥-٤٦٥

الدميمة ٤٧٣-٥٣٥

سيدنا محمد ١٧٢

الخلافات الزوجية ٥٢٣

المعاملة بالمرأة الناشئة ٥٢٣

طريقة الإصلاح بالحكم ٥٢٣

الإبلاء ٥٢٤

الظهار ٥٢٥

اللعان ٥٢٥

الطلاق ٥٢٦

الخلع ٥٢٩

خلد (راجع الجنة) ٨٦٠-٩١١

الخلع ٥٢٩

خلق

آدم ٩٠٦

الارض ٣٢١-٣٢٥

السموات ٣٢١-٣٢٢

خلق الانسان ٣٩٤

مقومته البيولوجية ٣٩٤

قوة السمع والبصر والحس ٣٩٦

في أحسن تقويم ٤٠٠

شهادة ذرية آدم على انفسهم بربوبية الله ٤٠٥

أخذ ميثاق الأنبياء في عالم الأرواح ٤٠٥

خلق الجن و الانس لعبادة الله

الفرص منه ٤٠٣

خليل الله (راجع ابراهيم) ٩٦٠

خمر

فيها اثم كبير ٥٠٦

هي رجس من عمل الشيطان ٥٠٦

الشيطان يوقع العداوة والبغضاء فيها ٥٠٦

خنزير

لحمه حرام ٥٠٥

المنخنقة

أكلها حرام ٥٠٥

الخوف والجزع والقلق (علاج) ٢٩٨

٢٥٨-٢٩٥-٣٠٥-٤٧٢

الخيانة ٤٩٢

خصلة المنكرين ٤٩٣

لا يحبها الله ٤٩٤

نقص العهد خيانة ٤٩٤

عدم حفظ الفروج خيانة ٥٢٣-٥٣٨

حائنة الاعين ١١١

خيبر

فتح ٧١٥

حصن ٧١٦

غنائم ٧١٦

السدال

دابة

الأرض (راجع القيامة) ٧٨٨

على الله رزق كل دابة ٣٩١-٣٨٧

داؤد عليه السلام ١٠٦٧

كان ذا علم ١٠٦٧

أوتى زبوراً ١٠٦٧

قتل جالوت بإذن الله ١٠٦٧

أعطى الملك والمعجزات ١٠٦٨

كان قويا شديداً ١٠٦٨

كان يصهر الحديد ويصنع

- منه الدروع والأسلحة ١٠٦٨

كان بصيرا بالحكم في النزاعات ١٠٦٩

ابتلاءه ١٠٦٩

التدبر

في القرآن ٢١٤-٢١٦-٢١٩

في الآفاق ٣٥٠-٣٤٤-٣٣٧-٣٢٠

في الأنفس ٤٠٢-٤١١

المدثر ١٦٤

دخول

البيت ٤٤٤

في دين الله ٦٩٠-٦٣١٥٦٤

الاستدراج (راجع تأجيل الكافرين) ٧٥٤

إدراك

لاتدرك الله الأصبار ١١٢

مصادر الرزق من وراء

- إدراك الإنسان ٣٨٨-٥٢٦-٥٢٠

إدراك الإنسان ٤١١-١١١١

الدعاء

كيفية ١١١٦

من الله ١١١٦

علاج الجزع والخوف والقلق ١١١٦

آدم و حواء عليها السلام ١١١٧

نوح ١١١٧

إبراهيم ١١١٨-١١١٩

يوسف ١١٢٠

موسى ١١٢٠

السحرة بعد الإيمان ١١٢٠

سليمان ١١٢١

يونس ١١٢١

زكريا ١١٢٢

عيسى ١١٢٢

النبي الكريم ١١٢٢

للمؤمنين ١١٢٣

الاستعاذه بالله من شر الحاسد ١١٢٧

الاستعاذه بالله من شروسواس

- ١١٢٨-١١١٧-١١١٩

للسبغ في الرزق ١١٢٦

الاستغفار من الذنوب ١١٢٥-١١٢٤

- ١١١٨-١١٢٠-١١٢١

للشباب على الهدى والايمان

١١٢١-١١٢٤-١١٢٥

للحصول على العزة دنيا وآخرة ١١٢٤-١١٢٥

للتوفيق الشكر على نعمة الله ١١٢٣-١١٢١

للأزواج والذرية ١١٢٣

لطلب الزيادة في العلم ١١٢٢

لطلب من الله ذرية طيبته ١١٢٢

الدعاء

لطلب الخير ١١٢١

للنجاة من الآلام والكيد ١١٢١-١١٢٠-١١١٨

لصلاح الدنيا والآخرة ١١١٧

لشرح الصدر وحل عقده ١١٢٠

عند الخروج للفسر ١١٢٦

في ساحة الحرب ١١٢٦

للذات والوالدين والمؤمنين ١١٢٣

للآباء والأزواج والذرية ١١٢٣

للوفاية من عذاب النار ١١٢٥

لطلب الحفظ والأمان ١١٢٧

الدعوة إلى الله:

فريضة على كل مسلم ٦٣١

الإهمال فيها يستوجب الفتنة ٦٣١

تبد أمن أهل البيت ٦٣٢

لتكن أعمال الداعي قدوة حسنة

- للمخاطبين في الدعوة إلى الله ٦٣٢

لتكن منظمة مرتبة ٦٣٢

تقتضى حكمة وقولا لنا ٦٣٢

وأسلوبا جميلا وصبرا وثباتا وعزما ٦٣٣

لايجوز الاعتداء والإكراه في مجالها ٦٢٢

لتكن الدعوة إلى الله لأهل الكتاب

- على الأساس المشترك ٦٣٤

لايلق لها المتطرفون المتغيظون ٦٣٥

هي من أسوة الأنبياء ورسالة عالمية ٦٣٦

الدفاع الوطني ٥٥٣

استدلال (راجع استهزاء - ابطال)

استدلال المنكرين (استهزاء)

٩٣١-٩٢٠-٨٩٦-٩٤٩-٩٣٨

١٠٩٦-١٠١٩-٩٩٩-١٩٠-١٩٩

استدلال القرآن (ابطال العقائد الباطلة) ١١٠٣

٦٠٦-٦٠٢-٦٠١-٤٣٤-٥٨٩-٥٨٩

١٩٠-١٩٢-١٩٩-١٥٠-٥٩٠-

الدنيا (راجع الحياة الدنيا) ٤١٨-٤٣٢

نعيمها هبة من الله ٤٣٥-٤٣٢

اختيار الزينة في الحياة ٤٣٥

- الدنيا حلال ٤٣٥

الدين الإسلامي ٨٩

الديانات الأخرى

(راجع الإسلام والأديان) ٤٧٠-٥٨٠

٥٨٩-٥٦٥-٥٦٤-٥٨٧-٥٨٢-٥٥١

الذال

ذات الرسول ﷺ

شناعة إهانة الرسول ١٨٥

النهي عن التواذل لمن ١٨٧

حاد الله ورسوله ﷺ ١٨٧-

عاقبة شاتم الرسول ١٨٧

الدفاع عن كرامة الرسول

- واجب على المسلمين ١٨٧

رفع الشبهات حول ذات الرسول ١٩٠

بشريته ١٩٠

حياته الزوجية ١٩٠

لم لم يأت الرسول بالملائكة ١٩١

طلب الكفار المعجزات ١٩٣

اتها مهم النبي بالشعر ١٩٩

قولهم في النبي أنه معلم مجنون ١٩٩

لم يكن النبي كاهنا ولا مجنونا ١٩٩

ذائقة الموت ١٠٨٠-٩١٦

ذبيح الله (راجع اسمعيل) ٩٧٢-٩٥٦

الذرية (حقوقها على الوالدين)

تنشئتهم ٤٥٥

الاعتناء بهم ٤٥٥

تربيتهم الجيدة ٤٥٥

تعليمهم ٤٥٥

وعظهم ٤٥٥

الشفقة عليهم ٤٥٥

العفو عنهم عند الخطاء ٤٥٥

الدعاء لهم ٤٥٦

رعايتهم في الوصية ٤٥٦

إعطاءهم نصيبهم في التراث ٤٥٦

عدم التفرقة بين الذكر والأنثى في الشفقة ٤٥٦

إبداء الفرح عند ولادتهم

- سواء كان ذكراً أو أنثى ٤٥٦

ذرية آدم ٩١٥

أخذ منهم الميثاق ببروية الله ٩١٤

ذكر الله ٢٩٤

سبب لطمانية القلب ٢٩٥

علاج الجزع والخوف والقلق ٢٩٥

يزيد المؤمنين إيماناً ٢٩٥

الإعراض عنه يؤدي إلى مصاحبة الشيطان ٢٩٦

مذمة

الشرك ١٣٩

الرهبانية ٦٠١-٤٣٤

ذوالقرنين: ١٠٨٢

سفره إلى أقصى المغرب و

- إلى أقصى المشرق ثم ١٠٨٢

- إلى بين جبلين ١٠٨٣

دعوته إلى دين الحق ١٠٨٣

بناء جد ارمن زير الحديد والقطر لإمسك

- ياجوج وماجوج ١٠٨٣

ذوالكفل: ٩١٦-١٠٦٥

كان نبيا من الأخيار

ذوالنون (راجع يونس) ١٠٨٤

الراسخون في العلم (راجع العلم فضيلته)

الراء

أربؤ: ٤٨٨

النص الصريح في تحريمه ٤٨٨

حرب من الله ورسوله ٤٨٨

عاقبته ٤٨٨

لا يربو عند الله ٤٨٨

لا بركة فيه ٤٨٩

الاحتيال في إباحته ٤٨٩

المضاعف وعاقبته ٤٨٩

الارتداد

موجب للعذاب الأليم في الآخرة ١٦١

يمكن الإصلاح والتوبة بعد الارتداد ١٦٢

لا يضر الله شيئاً ١٦٢

الرتق (راجع علم الكونيات) ٣٢١

الرجل:

قوام على المرأة ٥٢٢

يفوق على المرأة

بدرجة ٥٢٣

الرجم: ٥٣٦

الرحم:

الأمر بصلتها ٤٥٨

مذمة قطعها ٤٥٨

المترودية:

أكلها حرام ٥٠٥

الرزق:

على الله لجميع المخلوقات ٣٨٧

لا تحمله الدواب والطيور ٣٨٧

ماله من نفاذ ٣٨٧

مصادره وراء إدراك الناس ٣٨٨

في خبايا الأرض وفي آفاق السماء ٣٨٨

بحرث الأرض ٣٨٩

خزائنه في البحار ٣٨٩

ان الساحة لا ريب فيها ٧٨٥-٧٨٦
لا ريب في البعث بعد الموت ٧٧٧

الزراة

زبر (راجع زبور) ١٠٦٩-١٠٦٧-١٠٦٨-٩٦
زراعة ٣٥١

حبوب ٣٥٣

البقل والخضروات ٣٥٣

مزعمات الكفار والمستشرقين

- بشأن القرآن الكريم

إبطالها ٢٢٨

أن القرآن كلامٌ مفترى ٢٢٨

أنهم قادرون على إحداث الكلام كالقرآن ٢٣١

أن القرآن آساطير الأولين ٢٣٣

أن القرآن سحرٌ ٢٣٤

أن معلما أعجميا يعلم النبي ٢٣٦

زكورياً ١٠٨٧

دعاء طالب من الله تعالى ذرية طيبة ١٠٨٧

استجابة دعائه وتبشيره بمولود اسمه يحيى ١٠٨٧

شفاء زوجته من العقارة وولادة يحيى ١٠٨٨

الزكوة: ٢٦٥

الأمر بإيتائها ٦٢٥

شرط الدخول في الإسلام ٢٦٦

موجبة الفلاح ٢٦٦

كفارة الذنوب ٢٦٦

موجبة لتطهير الرزق ٢٦٦

موجبة لتزكية النفس ٢٦٦

موجبة لمرضات الله ٢٦٧

يضعف أجرها ٢٦٧

موجبة لزيادة الرزق ٢٦٧

تجارة رابحة دائمة ٢٦٨

قرض على الله ٢٦٨

كانت واجبة على الأمم السابقة ٢٦٨

تنقيدها واجب على الحكومة الإسلامية ٢٦٩

الأمر بالتعجيل في إيتائها ٢٦٩

واجبة على النساء أيضا ٢٧٠

عدم إيتائها علامة الشرك ٢٧٠

عاقبة عدم إيتائها ٢٧٠

الكسب الحلال شرط لأدائها ٦٧١

مصارفها ٦٧١

المستحقون لها ٢٧١

تزكية النفس ٤١٧

إيتاء الزكوة ٢٦٦

إطاعة الرسول ٤١٧

زينة ٥٤٣-٥٤٥

الترقيع لا يحتاج الإسلام إليه ٦٠٨
أركان الإسلام ٩٩

التوحيد ٩٩-١٣٩

الرسالة ختم النبوة ٩٩-١٦٦

القرآن الكريم ٩٩-٢٠٧

الصلوة ٩٩-٢٥٠

الصوم ١٠٠-٢٦٢

الزكاة والعشر ١٠٠-٢٦٦-٢٧٤

الحج ١٠٠-٢٨٧

الجهاد ١٠٠-٦٤٢

الركوع ٢٥٥

الرمز ٥٦٠-٥٨١-٣٧٣-٣٧١-٢٣٩

- ٢١٠-٢٣٠-٥٦٥-٢٤٠-١٧٩

- ٣٧٣-٥٤١-٣٩١-٥٦٨-١١٣٩

- ٩٠٤-٥٢٣-٤٠٣-٤٠٠

الرمان ٣٨٥-٨٧٣

الرهبانية

ابتدعها أهل الأنجيل ٦٠١

لارهبانية في الإسلام ٤٣٤

الرهن

قانونه ٤٩٥

روح ٧٧٥

روح الأمين ٧٧٥

روح الله ٧٧٥

روح القدس ٧٧٥

رؤيا (المنام)

محمد (راجع غزوه حديبيه) ٧٢٩-٧١٦

يوسف ٩٩٥-٩٧٨

إبراهيم ٩٥٦

ملك مصر ٩٨٦

رثاء:

في الصلوة ٢٨٢-٢٩٧-٢٥٦

في الإنفاق ٢٨٢

في القتال ٦٦٢

في العبادة ٢٩٧

الرياح

بشرى لنزول الغيث ٣٤٩

الناشرات للسحاب ٣٤٩

هبوبها لتغيير الاتجاه ٣٤٩

الموجبة للدرر والبذرة ٣٥٠

الملائمة لجرى الفلك ٣٥٠

الحياة الانسانية أحوج إليها ٣٥٠

ريب

لا ريب في القرآن ٢١٣

بسطة وقره بيد الله عز وجل ٣٩١

غير متساو بمقتضى الحكمة الإلهية ٣٩١

في عدم بسطة حكمة الله ٣٩١

لأرازيق إلا الله ٣٩١

عند الله خزائن الرزق ٣٩١

إن أمسك الله الرزق فلا رازق غيره ٣٩١

ربما تكون معصية الله سببا للجوع

- والنقصان في الرزق ٣٩٣

النقصان فيه من بلاء التأديب ٣٩٣

الرزق: تطهيره

إيتاء الزكوة ٢٦٦

بالإنفاق في سبيل الله ٢٦٦

الأعمال الصالحة مسترجعة

- للبركات وبسط الرزق ٣٩٢

الرزق: موجبات ازدياده

الشكر ٣٠٠-٤٣٦

إيتاء الزكوة ٢٦٧

الإنفاق في سبيل الله ٢٧٧

إيتاء العشر ٦٧٤

كسب الحلال ٣١٣

الرسول

كان من البشر ١٩٠-١٩٣

لم يكن شاعراً ١٩٩-٢٠٢

لم يكن ملكاً ١٩٠

معجزته القرآن ١٦٥

لم يكن ساحراً ١٩٨-٢٠٢

لم يكن كاهناً ولا مجنوناً ١٩٩-٢٠٢

كان متزوجاً ١٩٠

الرشد ٤٤١-٧٥٨

الرشوة ٥٥٥

أكلها حرام ٥٠٠

مرضات الله

عن طريق إيتاء الزكوة ٢٦٦-٢٧٦

عن طريق الجهاد ٦٤٤

الرضاعة: حقوقها

أهميتها ٥٣٣

مقدار الأجرة ٥٣٤

احترام القربى ٥٣٤-٤٥٨

الربط ١٠٩٦

رفث

يجوز في ليالي رمضان ٣٦٣

لا يجوز في الحج ٢٨٨

الرقبة:

فكها ٢٨٢-٤٩١-٢٧١

أزلام ٥٥٥-٥٣٢-٥٠١

الزلزلة ١٠٠١-٩٤١-٧٩١-٣٣٨

الزنا ٥٣٧-٥٥٥-٥٣٦

زنجبيل ٨٧١

زوج ٥٢٣-٥١٤

زوج ٥١٤-٣٩٤

حقوقه ٥٢٢

فرائضه ٥٢٣

الزواج

قوانينه ٥١٤

الزواج

تعدد من (راجع النكاح)

أزواج إبراهيم ٩٥٩-٩٥٥

أزواج النبي ١٨٤-١٨٨-١٨٩

زوجة (راجع امرأة)

زيد بن حارث ٥١٨

زينة (إباحتها)

الحياة الدنيا غرور ٤٢٧-٤٣٠-٤١٩

أخذها عند كل مسجد ٢٥٢

اختيارها ليس حراماً على المؤمنين ٤٣٥

السبعين

السابقون الأولون ٧٦١-٦٣٩

السابقين المقربين ١٠٣٧-٧٦٣-١٠٠٣

٩٩٠-٩٢٧-٩٢٤-١٠٢٢-١٠٢٣

٩٧٠-٩٣٩-٩٤٣-٩٣٥

المساجد:

الله ٦٢٢

بيوت الله ٦٢٢

أولياءها المتقون ٦٢٢

عمارتها تتوقف على الإيمان والجهاد ٦٢٢

ما كان للمشركين أن يعمرها ٦٢٢

أخذ الزينة عندها ٦٢٣

يجب تطهيرها وتنظيفها ٦٢٣

أساطير الأولين ٩٠٤

الساعة / القيامة ٧٨٥-٧٨٢

مرحلتها ٧٩١

علمها عند الله ٧٨٢

تأتي بفتنة ٧٨٣

لها موعد محدد عند الله ٧٨٤

هي مقتربة آتية ٧٨٤

هي النبا العظيم ٧٨٥

هي الحاقة ٧٨٥

هي القارعة ٧٨٥

يومئذ لن تحمل نفس وزر أخرى ٧١٧

يومئذ يحمل القادة الكفار

- أوزار متبعيهم مع أوزادهم ٨١٨

(هي) يوم جزا الأعمال

- يومئذ لا تظلم نفس شيئاً ٨١٩

(هي) يوم عسر للكافرين ٨٢٢

يومئذ يندم الظالمون ٨٢٥

يومئذ يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين ٨٢٧

يومئذ لا ينفع الكفار إيمانهم ٨٢٧

لا تقبل توبة أصحاب النار ٨٢٨

يومئذ يكون دعاء الكافرين في ضلال ٨٢٨

لاكرة إلى الدنيا ٨٢٨

يومئذ لا نظرة للكافرين ٨٣٠

يومئذ يجتاز كل الناس الجسور قوق جهنم ٨٣١

يومئذ يكون الملك لله ٨٣١

تحمل الملائكة عرش الله ٨٣٢

لا يفلت أحد من بطش الله ٨٣٢

أشراطها: ٨٨٨

انطلاق ياجوج وماجوج ٧٨٨

خروج دابة الأرض ٧٨٨

النفخة الأولى ٧٨٩

تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع

- كل ذات حمل حملها ٧٩٠

النفخة الثانية: بعث الناس

- من الأجداد أفواجا ٧٩٠

السامري ١٠٤٨

السائل (حقوقه) ٤٦٣-٢٨١-٢٧١

المسائل (راجع الأحكام)

سبأ (أهل اليمن) ١٠٧٥

كانوا رزقوا نعيم الدنيا و

- خفض العيش ١١١٤-١١١٥

قاموا بمشاريع الري

- المدهشة وسد مأرب ١١١٤

- وأعجبوا بمهارتهم الفنية

- وبترقيتهم الحضارية ١١١٥

أرسل الله سيل العرم عليهم

- ومزقهم كل ممزق ١١١٥

السبت

اصحاب ١٠٧٠

يوم ١٠٧٠

التسبيح ٣٧٦-١١٢-١٠٣

الأوقات المناسبة له ٢٩٥

سبع سماوات ٣٢٢

سبب / أسباط ٤٤٣

حقوقه ٤٤٣

سنة

أيام ٣٢١

المسجد:

الحرام أول بيت ٦٢٥-٦٢٤

قبا ٦٢٦

النبي (راجع اصحاب الصفة) ٦٢٦-٧٦١

الأقصى ٦٢٦

ضرار ٧٢٦

السجدة

الله تعالى فقط ٣٥٥

تعظيماً (راجع قصة يوسف) ٩٩٥

الملائكة لآدم ٩٠٨-٩٠٧

تلاوة القرآن ٢١٦-١١٧٠

سجين ٨٠١

السحاب ٣٤٥-٣٤٩

السحت

أكله حرام ٥٥٠-٥٩٤-٥٠٧

كانت اليهود يأكلونه ٥٩٤

السحر:

من أعمال الشياطين في

- عصر سليمان ٣٨٠-١٠٧٥

لا حاجة للمؤمنين إليه ١٥٧-١٠٧٨

السحباء (راجع الإنفاق في سبيل الله)

تسخير:

الرياح ٣٥٠-١٠٧٢

الزمان ٣٣٦-٣٢٨-١١٠٦-١٠٨١

السد الاسكندري ٧٨٨-١٠٨٣

السدرة المنتهى ٦٨٩

السديد

القول ٤٩٦

السراب ٨٥٧-١٠٧٨

السراج المنير ١٦٥

أسرار الكون ٣٢٩

الدعوة إلى التفكير ٣٥٠-٣٤٤-٣٣٧-٣٢٠

الإسراف ٤٩٦

عاقبه ٤٩٦

في الأكل والشرب مذموم ٤٤٩

اسرائيل ٩٧٥

السرقه ٩٩٧-٥٦٢

سفينة نوح ٩٦٤

أسقاط (الحمل) ٤٠٠

السقر ٨٨٨

السكينة من الله

نزلت على اصحاب الكهف ١١٠٦

على جنود طالوت ١٠٦٤-١٠٦٣

على المؤمنين بيدر ٦٩٧
على المؤمنين بأحد ٧٠٦
على المؤمنين بحنين ٧١٨
على النبي والصديق في غار ثور ٦٩٣
تابوتها ١٠٦٣
الإسلام

هو الإدعان لله كاملاً وطائعا ٨٩
دين كامل مرضى لله ونعمته ٨٩
هو الهدى ٨٩
دين ابراهيم ٩١
دين الأنبياء كلهم ٩٢

الإسلام

هو الدين النهائي ٩٤
النهي عن الغلو في الدين ٩٥
الإيمان والإسلام يستلزم كل واحد منها آخره ٩٦
الإسلام وانظمة الحكومة الأخرى ٥٥١
مذمة الحكم المطلق ٥٥١
مذمة الشيوعية ٥٥١
مذمة المذهب المادى ٥٥١
الملكية الشخصية في الإسلام ٥٥١
النظام التشاورى في الإسلام ٥٤٩
نظام للدولة الإسلامية الرفاهية ٥٤٩
انتخاب الأفراد الأهل لنظام الحكومة ٥٤٩
فرائض أولى الأمر المسلمين ٥٥٢
مشروعية اطاعة أولى الأمر ٥٥٢
واجب الدولة نحو الدفاع عن الوطن ٥٥٣
السياسة الخارجية للدولة ٥٥٣
تنفيذ القانون و تنسيق المجتمع
٥٥٤-٥٦٣-٥٥٦-٥٧٧
تطبيق التشريع الإسلامى واجب الحكومة الإسلامية
٥٥٣-٥٧٧-٥٦٣
إنشاء النظام القضائى بموجب
- إرشاد الكتاب والسنة ٥٧٧
ضمانة نصب العدل من واجب
- الحكومة الإسلامية ٥٧٨
رعاية القيم الأخلاقية ٥٥٤
دين الصلح والإخاء ٥٨٥
دين العفو والتسامح والثانى
الحقوق المتساوية للجنسين الذكر والأنثى ٥٤٦
تنظيم الأسرة ٤٤٣
حقوق النساء ٥٤٦
الحرية الفكرية ٥٨٣
حرية البيان والتعبير ٥٨٣
مذمة الفوارق العنصرية ٥٨٢
ضمانة وقاية النفس من الضرر
الإسلام والأديان الأخرى ٥٨٩
المجوس ٥٨٩

الصابئون ٥٨٩
ابطال نظرية التناسخ ٥٨٩
إبطال نظرية الهندوس ٥٨٩
- والبوذيين ٥٨٩
إبطال الوثنية ٥٩٠
مذمة الرهبانية ٤٣٣-٦٠١
لايحتاج السلام إلى الترفيع
- بالأديان الأخرى ٦٠٨
يعطى الانسان حقوقه ٥٨٠
يطلب الدخول فيه كافة ٩٠
احتفاظ المال فيه ٥٦٢
قطع الطريق والغارة ٥٦٢
السرقه ٥٦٢
المراقبة على القيم الأخلاقية ٥٥٤
الوقاية من الإغواء وتمزيق العفاف ٥٥٥
كرامة النفس واحتفاظ الشرف ٥٥٥
الميسر الاستقسام بالالزام ٥٥٥
المخدرات ومركبات الصبار ٥٥٥
النظام الجزائى الإسلامى ٥٦٤
حكمة العقوبة في الإسلام ٥٦٥
عقوبة الجلد من جريمة الزنى ٥٦٥
عقوبة الرجم للزانى والزانية
- كانت موجودة في التوراة ٥٦٥

سلام

على عيسى ١٠٩٨
على يحيى ١٠٨٩
على أهل الجنة ٨٨١-٧٦٥
على النبي الكريم ٣٧٧
على الياس ١٠٧٩
على نوح ٩١٧
على ابراهيم ٩٥٧
السلسبيل ٨٧٠
سليمان عليه السلام ١٠٧٢
دعاءه للحصول على الملك العديم المثال ١٠٧٢
نظم جنوده من الإنس والجن
- والدواب والطيور ١٠٧٢
استخدم الجن في غياصة
- البحر لاستخراج اللآلى ١٠٧٢
واستخدامها في صنع المحاريب والتمائيل
- والقدور الراسيات ١٠٧٣
انفجار عين القطر له ١٠٧٣
تسخير الريح له ١٠٧٣
أوتى علم منطق الطير ١٠٧٣
كان وارثا لداود ١٠٧٣
مروره وجنوده على قرية
- النمل وحبه لها ١٠٧٤
دعاءه لوالديه ١٠٧٤

حكمه الصائب في الحرث
- إذنفشت فيه غنم القوم ١٠٧٤
كان مولعاً بتربية الخيل
- واستعمالها في سبيل الله ١٠٧٥
ابتلاءه واعترافه بعجزه ١٠٧٥
استخبار الهلهد عن ملكة سبيلقيس ١٠٧٥
دعوة سليمان الملكة
- بلقيس إلى التوحيد ١٠٧٥
قرأت الملكة كتاب سليمان
- واستشارت ملاءها ١٠٧٦
إرسال الملكة هدية ١٠٧٧
رفض سليمان هديتها ١٠٧٧
حضور الملكة إلى سليمان ١٠٧٨
إيمان بلقيس بالله تعالى ١٠٧٨
موت سليمان و امتثال الجن
- أمره حتى بعد موته ١٠٧٩
اتهام بنى اسرائيل سليمان بالسحر ١٠٧٩
إسكان بنى اسرائيل في الأرض
- المقدسة تحت ملك سليمان ١٠٧٩
الأسماء الحسنى ١٠١-١٠٢-١٠٣-١١٢
السموات

السموات

خلقهن ٣٢٢
فتقهن من الأرض ٣٢٢
مراحل الخلق ٣٢٢
السبع طباقا ٣٢٢
سنة:
الله ٦٧٩-٦٧٨-٢٠٤-٦٧٣
الرسول ١٧٢-١٧١-١٧٥
الرسول ٣١٩-٩٢-١١٥٤-٣١٠
إبراهيم ٩٥٠-٢٨٧
الكفار ٢٠-١٥٨-١٩١-١٩٤
- ٢٠٠-٢٠٢-٢٠٣-٢٧٣-٢٧٠

سنة الله

لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٦٧٣
العمل الصالح
- نافع والعمل السيء ضار ٦٧٣
مكافحة الإنسان تنفعه ٦٧٣
الإنسان مكلف بما يستطيع ٦٧٤
كل بلية تأتي بما قدمت أيدي الناس ٦٧٤
فسوق المترفين موبق للمجتمع ٦٧٤
لا يهلك الله قرية حتى يبعث رسولا ٦٧٥
لا تبدل لها ٦٧٨
السير - السياحة
في البر والبحر ٣٤٠-٣٤١
في الأرض ٤٣٧
في طلب العلم ٤٣٧
في البحث ٤٣٧

سبل العرم ١١١٥
في طلب المعاش ٤٣٧
لمشاهدة الأطلال عبرة ٤٣٧

الشهيد

شاعر:

قوله ٤٣٨

الشاهد ١٦٥-١٦٩

الأشجار: ٣٥٥-٨٧٤

شجرة طيبه ٧٧٠

شجرة خبيثة ٦٤١

تسجد لله ٣٥٥

شجرة ممنوعة ٩١٠

شجرة الزقوم ٣٥٥

تذكرة ومتاع ٣٥٥

الشح ٤٧٩

الأشداء على الكفار (راجع الجهاد)

الشديد بطش الله ١٢٣-١٢٥-٨٣٢-١٣١

شراب

في الجنة ٨٧٠

في جهنم ٨٩٠

شرح الصدر ٨٩-١٦٥

الشرف: احتفاظه في الاسلام ٥٦٢-٥٨١

(راجع احتفاظ المال في الإسلام)

المستشرقون: إبطال مزعماتهم

الشرك: ١٣٩

ظلم عظيم ١٣٩

لن يغفر ١٣٩

يؤدي إلى حبط الأعمال ١٥١

المشركون

مصيرهم جهنم ٨٤٦

الشريعة الاسلامية ٣٧٤

تنفيذها واجب على الحكومة الاسلامية ٥٥٣

شريعة:

الرسول ٣٧٤

موسى (راجع العزرة) ١٠٤٧-١٠١٤-٢٤٧-١٦٣

عيسى (راجع الانجيل) ١٠٩٩-٦٣٧-٦٠٧

داؤد (راجع الزبور) ٢٤٨-١٠٦٧

شريعة بني اسرائيل

حلة وحرمة الطعام ٥٩٢-٥٩٣

كان قصاص الجروح مكتوبا فيها ٥٩٣

كانت عقوبة الرجم مكتوبة فيها ٥٩٣-٥٦٦

كان قتل النفس مذموما

- شديدا فيها ٥٩٣-١٠٠٨

كانت الزكوة مكتوبة فيها ٢٥١

كانت إقامة الصلوة مكتوبة

- فيها ٢٥١-١٠١٢-١٠٣٣

كان العشر مكتوبا فيها ٢٧٤

كان الصوم مكتوبا فيها ٢٦٢

كان التوحيد مكتوبا فيها ٢٥١

كان الجهاد مكتوبا فيها ١٠٤٣-٦٤٤

كان الحصول اكل الحلال مكتوبا فيها ٢٧٠

شريعة نصارى (عيسى)

كانت إقامة الصلوة مكتوبة فيها

- ١٠٩٨-١٠٩٢-٢٥٥

كان الزكوة مكتوبة فيها ٦٠١-٢٧٠

كان الصوم مكتوبا فيها ٢٦٢

كان الحصول اكل الحلال مكتوبا فيها ٢٧٠

كان التوحيد مكتوبا فيها ١١٠٣-١١٠٤

كان الجهاد مكتوبا فيها ٦٤٤-١٣٩

شعائر الله ٢٩٠-٢٩٣

المشعر الحرام ٢٩٠

شعوب وقبائل ٤٤٣-٥٢٣

شعيب ٩٩٧

بعث إلى مدين وإلى اصحاب الأيكة ٩٩٧

سيات اهل مدين الاجتماعية ٩٩٧

سعى شعيب لإصلاح فساد المجتمع ٩٩٧

مناهضة أصحاب الأيكة لعذاب الله ١٠٠٠

إتيان عذاب الله على أهل مدين ١٠٠١

شفاة:

الرسول ١٧٦-١٧٥

في يوم القيامة ٨١٥-٨١٦

شفاء:

لما في الصدو (القرآن) ٢٢٠

في العسل ٣٦٥

من الله ١١٩

شق القمر ٦٨٨

الشكر لله ٣٠٠

به يزداد الرزق ٣٠٠

فيه مصلحة ذاتية لكل انسان ٣٠١

عدمه يوجب عقاب الله في الحياة الدنيا

- (راجع كفران نعمة الله) ٣٠١

يجب عند التخلص من الجوع والخوف ٤٣٨

بعد أكل الطعام من مقتضى العبودية ٤٥٠

الشمس:

سخرها الله لتنظيم الفصول

- والاحتفاظ بالتقويم ٣٣٤

كيفيتها (يوم القيمة) ٧٩٤

شمونيل عليه السلام ١٠٦٣

كان من أنبياء بني اسرائيل ١٠٦٣

عين طالوت ملكا على ١٠٦٣

بني اسرائيل كما طلبوا منه ١٠٢٣

الشهاب ٣٣٠

الشهادة ٥٦٧

الشهيد ٦٥٧

قوانين الشهادة

أهمية الشاهد في نظام العدل ٥٦٩

الشهادة على أساس الوثائق ٥٧٠

طريقة الشهادة الحلفية ٥٧٠

تجريد شاهد من أهلية الشهادة ٥٧٠

وقاية الشاهد من الضرر ٥٧٠

إثبات التعرف عن طريق البصمات ٥٧٠

شهور (راجع الجهاد الحج) ٢٨٧-٢٦٤

المشاورة ٥٤٩

إن شاء الله ١١٠٨-٤٦٩

ما شاء الله ٤٦٩-١١١٢

الشیطان: (ابليس)

من الجن والإنس ٣٨٢

عدو للانسان ٣٨٢

لكل نبي عدو منهم ٩١٠

كان الشيطان ابليس أخرج من الجنة

- ملعونا مدحورا رجوما ٩١٢

عدم علمه بالملا الأعلى ٩١٣

استمهاله من الله لإغواء

- عباده إلى يوم القيامة ٩١٣

اعترافه بعجزه عن اغواء

- عباد الله المخلصين ٩١٤

يأمر الانسان بالسوء والفحشاء ٣٨٣

كيد الشيطان ضعيف ٣٨٤

لا تتبعوا خطوات الشيطان ٣٨٤

احذروا مكاييد الشيطان ٣٨٥

مصير اتخاذ الشيطان وليا ٣٨٥

الاستعاذة بالله من نزع الشيطان ٣٨٦

الصاد

مصارف الزكوة ٦٧١

الفقراء ٢٧١

اليتامى ٢٧١

المساكين ٢٧١

منها الإنفاق في سبيل الله والأعمال الصالحة ٢٨٦	السائل والمحروم ١١٠٨	أبناء السبيل ٢٧١
الصراط المستقيم ١٤٨	ندامتهم على الغفلة من ذكر الله تعالى وعلى إهمالهم من أداء حق الحصيد ١١٠٩	الغارمون ٢٧١
الصفاء والمروءة ٢٩٠	أصحاب الرسول ٧٥٨	في الرقاب ٢٧٢
صفي الله (راجع آدم) ٩٠٦	(صفاتهم) ٧٥٨	العاملون عليها ٢٧٢
صلب: ١١٠٢	هم المفلحون ٧٥٨	المستحقون من ذوى القربى ٢٧٢
وقاية عيسى منه بقدره الله ١١٠٢	هم الراشدون ٧٥٨	المستحقون من المهاجرون ٢٧٣
الصلوة ٩٩	بشرى لهم برضا الله ٧٥٨	صاعقة ٩٤١-٣٤٩
شرط للدخول في الاسلام ٢٥٠	هم مذكورون في التوراة والإنجيل والقران ٧٥٨	صالح: بعث لهداية ثمود ٩٣٦
كانت فرضا في شرائع الأمم السابقة ٢٥١	هم الصديقون والصالحون والشهداء ٧٥٨	المصاهرة
وأمر أهلك بالصلوة ٢٥١	لا يخزيهم الله يوم القيامة الفقراء منهم	قرايتها ٤٤٣
اقامتها واجب أساسى للحكومة ٢٥١	- مكرمون خاصة ٧٥٩	الصبر ٢٩٨
الاستعداد لها ٢٥١	فضيلة أبى بكر صديق مذكور في القرآن ٧٥٩	علاج الجزع والخوف والقلق ٢٩٨
النهي عن القيام فيها في ٢٥١	القرآن يمدح أصالة رأى عمر الفاروق ٧٥٩	استعينوا به في الضر ٢٩٨
- حالة السكر والجنابة ٢٥٣	بيعة رضوان تدل على	عند إصابة مصيبة ٢٩٨
في المواعيد المحددة ٢٥٤	- فضيلة عثمان ابن عفان ٧٦٠	يوجب الأجر مرتين ٢٩٩
الأوقات الخمسة ٢٥٤	فضيلة علي ابن ابى طالب ٧٦٠	مسلك الرسل ٢٩٩
كيفية القراءة ٢٥٥	هم المقربون ٧٦٣-١٠٣٧-٧٦٣	صبغة الله ١٠٥
الخشوع فيها ٢٥٥	- ١٠٠٣-٩٩٠-٩٢٧-٩٢٤-١٠٢٢	اصحاب الأيكة ١٠٠٣-٩٩٧-١٠٠٢
الكسل في القيام اليها ٢٥٦	اصحاب الصفة كانوا اعضاء	اصحاب الأخدود ١١١٣
الرياء فيها ٢٥٦	- الجامعة الاسلامية الأولى ٧٦١	حرق ملك أناس لم يؤمنوا بعقائده الباطلة ١١١٣
إجازة القصر ٢٥٧	هم السابقون الأولون ٦٣٩-٧٦١	قوم الملك تشد دوا على
جزاء إقامتها ٢٥٨	هم أولياء الله ٧٦٢	- المؤمنون وتقموا منهم ١١١٣
تركها علامة الشرك ٢٥٩	أصحاب السبت ١٠٧٠	اصحاب
عاقبة التارك ٢٥٩	عصيان بنى اسرائيل في النهى عن صيد	الحجر ٩٣٦
تجارة لن تبرور ٢٥٩	- السمك بيوم السبت ١٠٧٠	مدين ٩٩٧
علاج الجزع والخوف ٢٥٨	عقابهم بالمسخ فكانوا قردة خاستين ١٠٧٠	القبور ٤٤٦-٧٩٦
وسيلة الاستعانة عند الشدائد ٢٥٨	أصحاب القرية	السعير ٨٨٩
أدائها في ساحة الحرب ٢٥٧	معاملتهم من ثلاثة رسل بالاستهزاء بهم ١١٠٩	الجنة ٨٦٠
أدائها عند الخوف ٢٥٧	تهديدهم للرسول بالرجم ١١١٠	النار ٨٨٦
الأمر بترك البيع في أوقاتها ٢٦٥	مجى رجل من أقصى المدينة وإرشاده	الأعراف ٨٣٨
صلوة الجمعة ٢٥٦	- لهم للتوحيد وإطاعة الرسل ١١١٠	الشمال ٨٠١
صلوة العيدين ٢٦١	وقع عذاب الصيحة عليهم ١١١١	اليمين ٨٠٠-٨٩٩
صلوة الاستسقاء ٢٦١	صحف / صحائف ٩٧-٢٤٥	الفيل ٦٨٦
صلوة الجنابة ٢٦٠	التوراة ١٠٤٧-١٠١٤-٢٤٧-١٦٣	الصفة ٨٦١
صوت	زبور ١٠٦٧-٦٤٨	الرسول ٧٥٨
الحمير أنكر الاصوات ٤٤٦	الجيل ١٠٩٨-٢٤٩-١٦٣	الرس ١١١٤-١٠٠٣
غضه من الأدب ١٨٣	القرآن ٦٠٧-٩٩	الرقيم ١١١٥
الصور ٧٩٠-٧٨٩-٣٧٩-٧٨٨-٨٤٠	ابراهيم ٩٤٦	سفينة نوح ٩٢٨
الصوم ١٠٠	موسى (راجع التوراة) ١٠٤٧-١٠١٤-٢٤٧	الميمنة ٧٩٩-٢٨٣
فرض على كل مسلم ٢٦٢	الصدقة ٢٨٤	المشتمة ٨٠٠-٢٣٧
مواقيت السحور والإفطار ٢٦٢	تطهر النفس ٢٨٤	الكهف ١١٠٥
تأجيله للمريض والمسافر ٢٦٢	توجب مرضات الله ٢٨٤	اصحاب الجنة
فديته للشيوخ والضعفاء ٢٦٣	لا تذكروا عليها اسم غير الله ٢٨٥	ابتلاء هم ١١٠٨
كان مكتوبا في الشرائع السابقة ٢٦٣	منها إيفاء النذر ٢٨٥	عاقبة عدم الاعتماد على
كفارته ٢٦٤		- الله عند إرادة العمل ١١٠٨
		عاقبة التجالب من دفع حق

الصيحة: أخذت قوم ثمود ٩٤١

المصير ٨٤٠

المتخذين المؤمنين سخريا

- (راجع اللقاءات يوم القيامة) ٨٣٣

الصيد

عن طريق الجوارح مكليين حلال ٥٠٢

المقتسب بالسبع اذا ذبح قبل أن يموت حلال ٥٠٢

من البحر حلال ٢٨٩

الضاد

المضاجع (راجع العلاقات الجنسية) ٥٣٥

ضأن (راجع علم الحيوانات) ٣٦٢

ضحك (راجع استهزا) ٢٣٧-١١٩-٢٨١

الضرار (المسجد) ٧٢٦

الضرر بيد الله النفع والضرر ٤٨٧-٣٦٧-١٤٥

ضغث (أضغاث أحلام) ٩٨٥

ضغن ٩٧٨-٩١٥-٤٧٧

ضفدع ١٠٣٤

ضمير (راجع نفس اللوامه) ٤١٧

ضنك ٣٠١-٣٩٣-٥٢٠

ضيف حقوقه

ابراهيم ٩٥٧

لوط ٩٦٦

الضيافة

آدابها ٤٤٩

امراة العزيز ٩٨٣

الطاء

الطاغوت: ١٥٤

التحاكم إلى الطاغوت ٥٧٦

طالوت ١٠٦٤

طبقات الأرض ٣٢٥

وجود الإحجار المختلفة الألوان في الجبال ٣٣٨

اللؤلؤ والمرجان ٣٤٢

المعاون ٣٣٩

الأكنان والمغارات ٣٣٩

طعام

آدابها ٤٤٩

المسكين والجائع ٤٦١-٥٧٣-٢٨٩

أهل الجنة ٨٦٩

أهل النار ٨٨٩

الطعن ٥٣٧-٤٧٦-٤٧٥

الأطفال: حقوقهم ٤٥٥

حقوق الذرية

الطلاق: ٥٢٦

المحاولة الأخيره لرفع الشقاق ٥٢٦

قبل الخلو: ٥٢٦

كيفية الإجراء ٥٢٧

مدة التريص ٥٢٧

أقسامه ٥٢٧

الطلع المنضود (راجع الجنة) ٨٧٣

المطلقات: ٥٢٩

الحقوق الزوجية ٥٢٩

استحقاق الإقامة ٥٣٠

حريتهن بالنكاح ٥٣٠

متاع بالمعروف ٥٢٩

الطمع ٤٨٠

الطهر (راجع أحكام العدة) ٥٣٥-٥٢٧

طواف الكعبة ٢٩٠-٢٩٣

الطوفان ٩٢٥-٣٤٨

الطير الطيور ١٠٤٤-٨٦٩-٣٢٤

الظاء

ظعن (راجع علم الحيوانات) ٣٦٣

ظل العمام ١٠٤٤

الظلم / الظالمون

الشرك ظلم عظيم ١٣٩

الظالمون يكونون في العذاب في الدنيا والآخرة ٥٥٦

لا يستحق الظالم المواساة ٥٥٦

لا يحب الله الظالمين ٥٥٦

الظن ٤٧٩

الظهار (راجع الخلافات الزوجية) ٥٢٤

كفارته ٥٢٥

العين

عاد (قوم) ٩٢٩

إعانة / تعاون

على البر واجب ٦٤٢

على الائم والعدوان لا يجوز ٥٧٤-٥٦٣-٥٧٥

عباد الله/عباد الرحمن ٥٣٤-٧٦٣

هم جزب الله ٧٦٣-٦٥٥

هم خير البرية ٧٧٠

العبادات (راجع أساسات الإسلام)

٢٥٠-٩٩-٩٧

الصلوة ٢٥٠

الصوم ٢٦٢

الزكاة ٢٦٥

العشر ٢٧٤

الحج ٢٨٧

الذكر ٢٩٤

التوكل ٣٠٣

التقوى ٣٠٦

التوبة ٣١٥

الشكر ٣٠٠

الصبر ٢٩٨

الاستغفار ٣١٢

الاعتدال: ٤٩٦

في الأكل والشرب ٤٥٠

في استعمال الماء ٤٥٠

الاعتداء / العدوان

لا يحب الله المعتدين ٥٥٦

الاعترافات

المشركين يوم القيامة ٨٠٨

(راجع اللقاءات يوم القيامة)

الجن والانس ٨٣٤

(راجع اللقاءات يوم القيامة)

ابليس ٩١٤-٣٨٤

سباء (بلييس) ١٠٧٦-١٠٧٨

فرعون ١٠٤٠

الاخوان يوسف ٩٩٣

المنكرين القرآن ٢٢٩

زليخا (امراة العزيز) ٩٨٧

سلمان ١٠٧٥

موسى ١٠٠٩

الاعتصام

بالله وبجمله يستلزم ٦٢١

الاعتكاف: أحكامه ومساائله ٢٦٤

عثمان بن عفان ٧٦٠

عجائب الكون ٣٦٠

الدعوة إلى التفكير ٣٢٠

العجل ٣٦٢-١٠٤٨

التعجيل / استعجال

الكفار بعذاب الله ٧٥٤

العداوات

علمومين (راجع الشيطان) ٩١٠-٣٨٣

الأصدقاء يكونون الأعداء

- (راجع اللقاءات يوم القيامة) ٨٣٧

عدن (الجنة) ٨٦٧

العدة ٥٣١

قوانينها ٥٣١

علم حركة الماء ٣٤٥	العفو: ٣٧٧-٥٥٧-٥٥٨	الأراذل ٥٣١
علم طبقات الأرض ٣٣٨	عن الناس من عزم الأمور	المطلقات ٥٣٣
فن الطيران ٣٦٤	العفة / استعفاف	الحوامل ٥٣٢
نظام الري ١١١٤	الوقاية من تمزيق العفاف ٥٨١-٥٥٥-٥٤١	الأنثى ٥٣٢
علم الآثار القديمة ٤٣٧	العفاف وإطاعة الرجل من واجب المرأة ٥٢٢	النساء لم يحضن ٥٣٢
علم الهوام والحشرات ٣٦٥	يعقوب عليه السلام ٩٧٥	الأمر بإحصائها بالتدقيق ٥٣٢
علم الأحياء ٣٩٤-٥١٤-٥٣٥-٣٩٤	كان رسولاً قويا ذابصيرة ٩٧٥	لا تحصى عند الطلاق قبل الخلوة ٥٣٢
علم التمدن ٩٣٩-٩٢٩	لم يكن يهوديا أونصرانيا ٩٧٥	<u>عذاب</u>
علم وصف الإنسان ٥١٤-٣٩٤	وصيته لبنه عند الاحتضار ٩٧٦	جهنم ٨٩١-٩٠٠
(التاريخ الطبعى البشرى) ٤٧٣-٤٥١	العقائد الإسلامية ٩٧	القبر ٧٧٦
علم نظام الكون ٣٢١	<u>العلاقات الزوجية</u>	تعجيل الكفار به ٧٥٤
علم الهيئة ٤٥١-٤٧٣-٥١٤	- (راجع القوانين الزوجية) ٥١٤	الأعراب / البدويون ٧٢٨
علم تعبير الرؤيا ٩٨٦-٩٨٤-٩٧٧	لا يخول الإسلام قضاء	<u>معراج النبى</u>
علم الغطس ٣٨٩-٣٤٢	= الشهوة بغير النكاح أبداً ٥٢٠	بلوغه سدره المنتهى ٦٨٨
علم منطق الطير ١٠٧٢	المحظورات يحسب الظروف ٥٢١	لقاءه بالرسول ٦٨٩
علم النفس ٣٠٥-٢٩٨-٣٩٥	منع الجماع فى أيام الحيض ٥٢١	رؤيته جبريل مرة أخرى ٦٨٩
علم السياسة ٥٥١-٥٤٩-٤٧٢-٢٥٨	سورة النور تدلنا على جادة ٥٣٥	إعراض عن التفكير آيات الله ٣٢٠
العلوم الطبيعية	الصواب فى موقف العلاقات الجنسية ٥٣٥	إعراض عن الجاهلين ٤٦٥
علم التاريخ ٩٠٤	<u>العلاقات</u>	أعراف ٨٣٩
علم التناسل الوراثى ٥٣٥-٥١٤-٣٩٤	الاجتماعية ٤٤٣	العرب: (راجع معتقدات العرب
علم العمران ٤٧٣-٤٤٩-٤٤٥-٤٤٧	العائلة ٥١٤	- وأوهامهم وتقاليدهم) ١٥٥-١٥٩
<u>العلوم والفنون</u>	القضائية (راجع العدل) ٥٧٩-٥٧٧-٥٧٦	<u>عرش</u>
الأمم الأخرى	العلم: فضيلته ٤٣٩	كان على الماء قبل خلق السموات ٣٢٧
قوم عاد الأولى ٩٢٩	الأمر بحصوله فى الوحى الأول ٤٣٩	تحمله الملائكة ٣٧٦-٣٦٨
قوم عاد الثانية ٩٣٦	الراسخون فى العلم ٤٣٩	عرفات ٢٩٠
قوم صالح ٩٣٦	بالقلم ٤٣٩	العزى ٥٩٠
قوم سبا (راجع عاد ارم) ٩٢٩-١١١٤	بالرحلة ٣٤٠	عزير: ١٠٨١
على بن ابي طالب ٧٦٠	نعيمه ٤٤١-١١٧	لم يكن ابن الله ١٠٨١
عليون ٨٠٠	موجب للتفوق ٤٤٢	إماتته ثم احياءه بعد مائة عام ١٠٨١
عمران ١٠٩١	الإدعية للحصول عليه ٤٤١	التعزيز ٥٦٥
عمر بن الخطاب ٧٥٩	لا جدال بغيره ٤٤١	عسر ٣٠١-٣٩٣-٥٢٠
العمرة لله ٢٨٨	<u>علامات القيامة</u> ٧٨٨	<u>العشر</u> ٢٧٤
<u>العمل الصالح</u> ٩٦-٨٩٦-٨٣٤	<u>علوم القرآن</u> ١١٣٥	من الزرع ٢٧٤
مع الإيمان له اجر غير ممنون ٨٠٨-٨٠٩	علم الكونيات ٣٢١	من الحصاد ٢٧٤
العنب ٨٧٣-٣٥٧	علم النبات ٢٥١	موجب ازدياد الرزق ٢٧٤
العنكبوت ٣٦٥	علم الحيوان ٣٥٩	كان مكتوبا على الشرائع
عورات النساء ٥٤٣-٥٤١	علم صنع الأسلحة ١٠٦٨	- السابقة ٢٧٤-١١٠٩-١١١١
<u>عيسى بن مريم</u> ١٠٩٧	علم الهندسة المدينة ١٠٤٣	إنكاره يؤدى إلى الممار ٢٧٤-١١٠٩-١١١١
تصديقه التوراة ١٠٩٨	علم البحريات والمحيطات	عشاء ٦٥٤
أوتى الانجيل المقدس ١٠٩٨	- ١٠٤٠-٩٢٦-٣٤٠-٣٤٤	عصا موسى ١٠٤٣-١٠٣٧-١٠٢٦-١٠١٣
أوتى معجزات عجيبة ١٠٩٩	علم الملاحة ٣٤٢-٣٤١-٣٤٠	العصر (صلوة) ٢٥٤
دعوته قوم أهل الانجيل ١٠٩٩	علم الطيور ٣٦٤	<u>معصية الله</u>
تبشيريه بمجىء أحمد المصطفى من بعده ١٠٩٩	علم أصول التجارة ٤٨٨-٤٨٥-٣٤١	تجلب الجوع والنقصان فى الرزق ٣٠١-٣٩٣
إيمان الحواريين بدعوته دعاه لإنزال مائدة ١١٠٠	علم صنعة السفينة ٣٤٢-٣٤١-٣٤٠	<u>معصية الرسول</u>
من السماء طبقا برغبة الحواريين ١١٠١	علم المعادن ١٠٧٣-١٠٧٥-١٠١٦	التجوى بمعصية الرسول خصلة المنافقين ٤٤٨

تنزيل المائدة وإنذار من الله

- بعذاب شديد لمن يكفر بعد ١١٠٢

سوف يتكرر يوم القيامة اعتقاد النصارى

- باتخاذها وأمه الهين من دون الله ١١٠٤

لم يصلب ولم يقتل ١١٠٢

وقاه الله من الصلب بقدرته

- ورفع إلى السماء ١١٠٢

سوف ينزل إلى الدنيا قرب الساعة ١١٠٣

كان بشرا وعبد الله ورسوله ١١٠٣

لم يكن من الأقانيم الثلاثة ١١٠٣

العين

الغابات (راجع علم النبات) ٣٥٥
غار

ثور ٦٩٣

الغريبة (راجع الهجرة) ١٠٠٠-٩٦٤

غرور ١٠٣١-٤٧٩-٤٧٧-٤٢٥

غرس الأشجار ٣٥٥

غزوه

بدر ٢٩٦

أحد ٧٠٢

بدر الصغرى ٧٠٦

حمراء الأسد ٧٠٦

بني نضير ٧٠٧

أحزاب ٧٠٩

بني قريظة ٧١٢

الحديبية ٧١٣

خيبر ٧١٥

مكة ٧١٦

حنين ٧١٨

تبوك ٧٢٠

بني مصطلق ٧٠٨-٧٤٧

بني مريسيع ٧٠٨-٧٤٧

غسل

الجنابة ٢٥١-٥٣٥

غض

البصر ٥٤١

الصوت ١٨٢

الاستغفار ٣١٢

فضله ٣١٢

الأوقات المناسبة له ٣١٢

التعجيل فيه ٣١٣

موجب للزيادة في الرزق والوقار ٣١٣

الأمر به للذات والمؤمنين والمؤمنات ٣١٤

الأدعية له ٣١٤

وصى به جميع الرسل ٣١٤

غلام:

غلمان في الجنة ٨٧٨

غلام حليم (راجع اسماعيل)

غلام عليهم (راجع اسحق)

غلو:

في الدين ٩٥

الغنم: ٣٦٢

الغنيمة: ٤٩٠-٦٦٨

الغيب: ١٠٨-٩٧٧

الغيبة: ٤٧٦

الغيث (راجع علم الماء) ٣٤٥

إحياء الأرض بعد موتها ٣٤٦

الماء المبارك ٣٤٥

الغيظ:

كظمه من صفات المحسنين ٥٥٨-٤٦٦

الماء

التفاخر

فتح:

مكة ٧١٦

خيبر ٧١٦

مبين (راجع ميثاق حديبية) ٧١٨

حصن خيبر ٧١٦

افتراء المنكرين

على الرسل ١٩١-١٩٠-١٩٩

على الكتب ٢٨٨

فتنة: ٥٦٣

فجر ٦٥٤

فجور

فحش ٥٤١

فخر ٦٨٤-٤٧٩-٤٧٧-٤٢٥-٤٢٧-٥٨٢

فداء (فدية) (راجع الجهاد) ٦٦٧

فدية ٧٠٠-٢٦٤-٢٦٣

الصوم ٢٦٣

حلق الرأس في الحج ٢٩٢

فرائض:

مسئولية سيد العائلة ٤٤٤

الشهداء ٥٦٧

أولى الأمر المسلمين ٥٥٢

الدولة الإسلامية ٥٥٣

الرجل ٥٢٢

المرأة ٥٢٣

شهداء الوثائق ٤٩٥

كاتب الوثيقة ٤٩٤

فردوس ٨٦٦

الفرع: شجرة طيبة ٧٧٠

فرعون

مظالمه على بني اسرائيل ١٠٠٥-١٠٣٤

دعاء موسى عليه وعلى آله ١٠٣٣

إنزال النكبات والكوارث عليه ١٠٣٤

أرسل جنوده للقبض على بني اسرائيل ١٠٣٥

الفرقان: ٢٢١

التفرقة

في الدين فعل شنيع ٦١٦

تكون بسبب البغى والغنى ٦١٦

أهلها كالموتى والعمى والصرم ٦١٩

تجلب الفشل وذهب الريح ٦٢١

الفرع

الفرع الأكبر (راجع القيامة) ٧٩٦-٧٩٠

الفساد في الأرض: ٥٦٣

موجب للعقوبة في الدنيا

موجب للعذاب في الآخرة

التفسيح: (في المجالس من الأدب) ٤٤٧

فسق: ٢٦٧

(يوم) الفصل (راجع القيامة)

فصل الخطاب (راجع داؤد)

قول الفصل (راجع القرآن)

الفضة ٤٢٦

الفطرة

الإنسانية ٤٠٢

فطرة الله ٣٧٨-٣٧٠

التفقه في الدين ٦٣٢

التفكير ٣٢٠

في خلق السموات والأرض ٣٢١

في الأنفس ٤٠٢

الطيور ٣٦٤

الأنعام ٣٦١

فاكهة ٣٥٦

الفلك: ٣٤٠

الفلك (راجع السموات) ٣٢٣

علم الفلك ٣٢٩

المجرة ٣٢٩

الشهاب الثاقب ٣٢٩

الطارق ٣٢٩

الشعزى ٣٢٩

نظام الكواكب السيارة ٣٢٩

فواكه ٣٥٦

فناء

لكل مخلوق فناء ٧٧١

التفهيم (راجع سليمان)

الفوز / مفاز

الفوز الكبير العظيم ٨٦٢

الفيل

راجع اصحاب الفيل ٢٨٦

القصي ٦٦٩٠٦٦٨٠٤٩٠

القاف

قارون: رجل متغطرس من بني اسرائيل ١٠٣٠

كنوزه ومفاتيحها ١٠٣٠

خسف به وباداره الأرض ١٠٣١

قبائل وشعوب ٤٤٣-٥٢٣

قبر: ٧٧٥

سوف يعثر ٧٩٢-٧٩٠

قبلة

القبلة الأولى (المسجد الأقصى) ٦٢٦

تحويلها إلى المسجد الحرام ٦٩٤

قبلة المسلمين: الكعبة (المسجد الحرام)

٢٥٣-٦٩٤

قبائل وشعوب ٤٤٣-٥٢٣

قبلة نصارى: شرق بيت المقدس ٦٠٠-٦٩٦

قبلة اليهود: صخرة بيت المقدس ٦٩٠-٦٩٦

قتال: (راجع الجهاد) ٦٤٢

القضاء (راجع علم النبات والخضروات) ٣٥٣

القدس / المقدس

الروح (راجع جبريل) ٧٧٥

الأرض (راجع بني اسرائيل) ١٠٤٢-٩٥٤

البيت (راجع المسجد الحرام) ٦٢٦-١٠٤٣

الكتب (راجع التوراة والزبور والإنجيل القرآن)

٢٠٧-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩

التقدير: (راجع القدر والقضاء) ٩٨

القرباية: الرحمة ٤٤٣

بالمصاهرة ٤٤٣

النسب والنسل ٤٤٣

بالرضاعة ٥٣٣-٤٥٨-٥٣٤

القراءة: ٢١٥

القرآن الكريم: ٢٠٧

تنزيل من رب العالمين ٢٠٧

إنزاله التقديري في ليلة مباركة ٢٠٩

علاقة شهر رمضان بالقرآن الكريم ٢٠٩

تنزيله تدريجاً ٢١٠

حفاظته من التحريف على الله تعالى ٢١١

شهد الله والملائكة أن القرآن حق ٢١٠

لا التباس في القرآن ٢١٢

محفوظ من الافتراء ٢١٢

لا ريب فيه أنه من عند الله ٢١٣

لاعوج في الآيات القرآنية ٢١٣

مقتضيات تلاوة القرآن ٢١٥

شفاء لما في الصدور من الأمراض الروحية ٢٢٠

القرآن كتاب حكيم ونور مبين ٢٢٢

فرقان بين الحق والباطل ٢٢١

موعظة وذكر لأهل النهى والتقى ٢٢٢

قول "فصل" ٢٢٣

كتاب هاد لسبل السلام ومخرج من

الظلمات إلى النور/ ذكر للعالمين ٢٢٣

منه آيات محكمات وأخر منشابهات ٢٢٦

أقسام القرآن ١١٤٤

الأمثال القرآنية ١١٤١

أشخاص القرآن ١١٤٥-١١٥١

أماكن القرآن ١١٥٣-١١٥٨

الإخبار بالأمم الماضية دليل على كون القرآن

من عند الله ٩٠٥-١٠٠٤-٩٧٧-١٠٩٠

إبطال مزعمات الكفار

والمستشرقين بشأنه ٢٢٨

مصدق لما بين يديه ٢٤٥

مصدق لما في صحف المرسلين ٢٤٦

مصدق لما في التوراة أنزل إلى موسى ٢٧٤

مصدق للزبور أنزل إلى داود

مصدق إنجيل لما أنزل إلى عيسى ٢٨٩

قربان (راجع هابيل وقابيل) ٩١٥

قربة الله:

يوم القيامة (راجع لقاء الله) ٨٣٣

عن طريق الصلوة ٢٥٠

عن طريق الزكوة ٢٦٧

عن طريق الإنفاق في سبيل الله ٢٧٦

قرض:

أحكامه (راجع أحكام البيع) ٤٩١

كتابة عقود التداين المؤجلة ٤٩١

لا يزال مستحقاً للأداء حتى بعد الموت ٤٩١

القرض على الله وأجره

بالزكوة ٢٦٨

بالإنفاق في سبيل الله ٢٧٧

ذوى القربى:

إتناء هم حقوقهم ٤٥٨

الإنفاق عليهم ٢٨٢

قريش مكة ٦٩٣-٧٤٢

قريظة (قبيلة اليهود) بنو حي المدينة ٧١٢

غزوة بني قريظة

قسم (اقسم) ٥٧١

اقسام القرآن ١١٤٢

الاستقسام بالأزلام (راجع ميسر)

٥٠١-٥٥٥-٥٦٢

مقاليد

السموات ٣٢٧

الغيب ١٠٨

قارون ١٠٣٠

قصاص ٥٦٠

قصص (راجع الاعتدال في الإنفاق) ٤٩٦

قصر:

الصلوة في السفر ٢٥٧

الصلوة في الخوف ٢٥٧

الراس (راجع الحج) ٢٩٢

قصص

الانبياء عليهم السلام ٩٠٤

أمم سابقة ٩٠٤

الصالحين ٩٠٤

قصص الأنبياء ٩٠٤

الغرض منها تثبيت فؤاد ٩٠٤

النبي محمد وموعظة وذكرى للمؤمنين ٩٠٤

لم يقصص جميع الانبياء في القرآن الكريم ٩٠٥

القضاء والقدر ٩٨

أقطار السموات والأرض ٣٢٧

الانقطاع

الأسباب يوم القيامة

(راجع اللقاءات)

قطع: الرحم ٤٥٩

قطع الطريق والغارة

(راجع احتفاظ المال في الاسلام) ٩٩٧

قلب: كفايته ٤١٣

قلق الرسول الكريم على عدم

إيمان الكفار ٨٢٩

القلق والجزع والخوف (العلاج) ٢٥٨

٢٩٨-٢٩٨-٣٠٥-٤٧٢

قلم: ذريعة العلم (راجع العلم) ٤٣٩

القمر ٣٣٢

كفيته يوم القيامة ٧٩٤

القناعة ٢٩٨-٢٩٨-٢٩٥-٢٥٨

القوانين

الزواجية ٥١٤

النكاح ٥١٤

المهر ٥٢١

الطلاق ٥٢٦

العدة ٥٣١

الرضاعة ٥٣٣

المكاتبة ٥٦٤

الأرامل ٥٣١

المطلقات ٥٣١

الرهن ٤٩١

الوصية ٥٠٨

التراث ٥١٠

الامن والصلح (راجع الجهاد) ٦٦٣

الشهادة ٥٦٧

الوكالة والشفاعة المعاونة ٨٧٤

العلاقات الجنسية ٥٣٥

التعزير ٥٦٥

القصاص ٥٦٠

القذف ٥٣٦

قول:

معروف خير من صدقة موزية ٤٤٦

طيب من الأدب ٤٤٦-٤٤٦

الفصل ٢٢٣

السديد موجب لإصلاح

- الأعمال ومغفرة الذنوب ٤٦٩

قول:

"الحمد لله" ٤٦٩

إن شاء الله ٤٦٩

- ماشاء الله من مقتضات الدين ٤٦٩

سبحان الله ٤٦٩

المستقيم:

الصراط ١٤٨

القيامة ٧٨٢

أمارات ٧٨٨

أشراطها ٧٨٨

مرحلتها ٧٩١

مناظر النشور ٧٩٦

الخصومات (راجع اللقاءات) ٨٣٣

كأس (راجع الجنة) ٨٧٠-٨٧٢

الكاف

الاستكبار ٤٧٧-٤٧٩-١٠٣١-٤٣٥

التكبر ١٠٣١-٤٧٩-٤٧٧-٤٢٥

الكتب السماوية ٩٧-٢٤٨-٢٤٧

٢٤٦-٢٤٥-١٠١٤-١٠٤٧

٩٩-٢٠٧-٢٤٩-١٦٣-٩٤٦

كتمان الحق ٥٩١

كثيب (راجع القيامة) ٧٩٤

انكدار النجوم (راجع القيامة) ٧٩٥

كذب

على الله (راجع الشرك) - تثليث عقائد

- الباطل اليهود والنصارى (١٠٨١)

١٣٨-١٣٦-٦٠٢-٦٠٦-١١٠٣

تكذيب

الرسول ١٩٠-١٩٩

الآخرة ٧٧٧

آيات الله ٢٢٨-٣٢٠

الكتاب ٢٢٨-٢٨٨

كرامة النفس (راجع احفاظ المال) في الاسلام

٥٨١-٥٦٢-٥٥٥-٥٤١

إكراه في الدين ٦٣٤

تكريم: الله (راجع التوحيد) ١٣٣

تكريم: الرسول ١٨٢

تكريم: الرسل ٩٣

كريم:

رزق كريم ٤٩٩-٣٩٣

كتاب كريم

رسول كريم ١٦٣-١٦٧

اجر كريم

زوجه كريم

مقام كريم

قرآن كريم ٢٠٧

العرش الكريم

كسب المعاش ٤٩٩-٣٩٣-٤٣٢-٤٣٥

قانونه ٤٩٩

يرغب له الإسلام ٤٣٢

من واجبات الرجل نحو زوجته ٥٢٣

كشف الضر ١٢٥-١٢٤-١٢٣-١٢٢

١١٩-١٤٢-١٤٠-١٤١-١٤٤-١٤٥

كشط السماء (راجع يوم القيامة) ٧٩٣

كظم الغيظ ٥٥٨-٤٦٦

الكعبة: البيت الحرام ٦٢٤-٦٢٥

بناها ابراهيم واسماعيل ٩٦١

الكفار:

شر البرية عند الله ٨٥٧

أعمالهم كسراب ٨٥٧

على أبصارهم غشاوة

على قلوبهم أكنة

في آذانهم وقر

مصيرهم يوم الحساب ٨٥٠-٨٥٦

نظريتهم الزائفة بنجاتهم من العذاب

- على سوء أعمالهم ٥٩٩-٦١٧

مثل الكافرين الذين يكذبون

- القرآن الكريم ٨٥٥

استعجابهم على بشرية ١٩٠

- الرسل مند غابر الزمان ١٩١

طلبوا رسالة الله لأنفسهم ١٩١-١٩٢

طلبوا نزول الملائكة اليهم ١٩٢

أصروا على إتيان الرسول بآية ١٩٣

اتهمهم انبياء الله بالسحر والجنون ١٩٩

كانوا يستهزؤون بالانبياء منذ قديم الزمان ٢٠٠

كانوا تعودوا بقتل الانبياء استكبارا ٢٠٣

كانوا يتهددون الانبياء بالرحم

- والصليب والسجن ٢٠٥

كانوا يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ١٥٩-١٥٥

لا يجوز توطيد العلاقات بهم

- إلا وقاية من شرورهم ٦١٢

لا يؤسس بناء الصداقة والوداد

- معهم ولو كانوا ذوى القربى ٦١٢

تسوءهم رفاهة المسلمين ٦١٥

مثل الكافرين المكذبين بالرسول ٢٠٥

بعضهم أولياء بعض ٦١٥

كفالة مريم (راجع زكريا) ١٠٩١

الكفارة والتعويض ٥٧٣

إطعام مساكين ٥٧٣

كسوة المساكين ٥٧٣

فك رقبة ٥٧٣

الصيام ٢٦٤-٢٨٩-٢٩٢-٥٧٣

الذبيحة ٢٨٩-٢٩٢-٥٧٣

الصدقة ٢٨٩-٥٨٣

التوبة ٣١٥

كفران نعمة الله: ٣٠١

يؤدي الى الحرمان من ٣٠١

عيش رغيد ٣٠١

يؤدي الى الجذب والقحط ٣٠٢

عقاب كفران النعمة في الدنيا ٣٠٢

عقاب كفران النعمة في الآخرة ٣٠٢

كلالة: ٥١٦

كلب (مثله) ٤١٦

كلمة:

طيبه ٧٧٠

خبيشة ٦٤١

كليم الله (راجع موسى) ١٠١٢

إكمال

الدين ١٦٦

العدة ٥٣١

الأكمام (راجع الجنة)

الأكمه (أبرى الأكمه)

(معجزة عيسى)

كنز:

الذهب والفضة يودى الى عذاب اليم ٤٢٦

كنود ٤٠٨

كواعب أتراب (راجع الجنة) ٨٧٧

الكواكب: ٣٢٩

الكون: يوم القيامة كيفية ٧٩٥

خلقه ٣٢١

أسراره ٣٢١

اتساعه ٣٢٣

خلقه الله وحيدا ٣٢٧

مامس الله من لغوب ٣٢٦

ست مراحل لخلقه ٣٢٢

الكهف (أصحاب الكهف) ١١٠٥

قياس عددهم ١١٠٥

اعلانهم بالتوحيد ١١٠٥

إواء هم إلى الكهف ١١٠٥

خوفا من الحكام المشركين ١١٠٥

دعاء هم عند إواء هم إلى

الكهف لرحمة الله تعالى ١١٠٦

وقايتهم من شدة الحر في الغار ١١٠٦

رقادهم من الله تعالى إلى وقت معين ١١٠٦

كلبهم كان باسطا ذراعيه بباب الكهف ١١٠٦

استيقاظهم بعد زمن ١١٠٧

مدة لبثهم فيه ١١٠٧

كيد:

اليهود ١١٠٢

كيد:

قريش مكة ٦٩٣-٧٤٢

يهود مدينة ٧٠٧-٧١١-٦٩٥-١١٠٢

مرأة العزيز ٩٨١-٩٨٣

اخوان يوسف ٩٧٩

الشیطان ٣٨٥

الكافرين ١٩٠-١٩٩-٢٨٨-٢٢٨

ساحر فرعون ١٠٢٨

كيل / مكيال ٣٨٠

اللام

لازب (راجع آدم) ٣٩٣

اللباس

الزوجان لباس لكل واحد ٥٤٨

التقوى ٥٤٤

اهل الجنة ٨٧٩

اهل الجهنم ٨٩٣

آدم وحواء ٩١١

اللبس:

الحق بالباطل ٥٦٧

اللبن:

يخرج من بين الدم والقرث ٣٦١-٣٦٠

نعمة الله

لا يلتفت (راجع لوط)

التفت الساق بالساق (راجع الموت)

الملجأ إلى الله (راجع الشرك)

لحم ٨٦٩-٣٦٠

الحلال ٥٠٣-٥٠٢

حرام ٥٠٥

(قوم) لد

الد الخصام (راجع المنافقون)

تلذ الأعين (راجع الجنة)

لذة للشاربين (راجع الجنة) ٨٧٢

اللطف (راجع صفات الله) ١١٠

اللطفي (راجع جهنم) ٨٨٨

تلظي (راجع جهنم)

اللعب: (راجع الحياة الدنيا) ٤١٨

اللعان ٥٢٥

طريقة دفع العقوبة للمرأة ٥٣٧

لعن:

لعنة الله ٩٣٤-٣٤٦-٩١٢-١٦١-٩٢

اللغو (راجع الجنة) ٨٨٣

لاللغوب

(لايمس في الجنة) ٨٨٣

(راجع) حق السماوات والارض ٣٢٦

تلفح (راجع جهنم) النار

اللقاءات يوم القيامة ٨٣٣

ظهور الله عيانا ٨٣٣

الشیطان ومتبعوه ٨٣٧

اهل الجنة واهل النار ٨٣٨

أصحاب الأعراف ٨٣٩

أصحاب اليمين والمجرمين ٨٤٠

المؤمنين من الكفار ٨٤١

لقاء الله ٨٣٣

إتيان كل واحد فرداً ٨٣٤

اعتراف الجن والإنس بذنوبهم ٨٣٤

اللقب: (راجع آداب الحياة الاجتماعية)

٤٤٧-٤٧٩

لقمان: ١٠٧١

كان أوتي الحكمة ١٠٧١

وعظ ابنه عظاما ١٠٧١

لمح (راجع الساعة)

لمزة / لا تلمزوا

(راجع آداب الحياة الاجتماعية)

التماس

النور ٨٤١

(الأكل) لماً (راجع أحكام الميراث) ٥١١

الواح موسى (راجع تورا)

اللوامة (النفس) ٤١٧

التلوث الجوى

النظام الطبيعي لوقايتة ٣٥٤

اللوح المحفوظ ٩٣٦٧-٣٦٩

لوط كان أول رسول يتبع ملة ابراهيم ٩٦٢

بعث الى قوم ساكنين بسدوم والغامورة ٩٦٢

إمطار الحجارة وتسلط الصيحة

على قوم لوط ٩٦٨

لؤلؤ مكنون (راجع الجنة) ٨٧٨-٣٤٢

لون:

اختلافه من آيات الله

لياباً لستهم (راجع المنافقون)

إلهام

إلى أم موسى ١٠٠٦

إلى بنت عمران ١٠٩٢

إلى مريم أم عيسى ١٠٩٢

إلى يوسف ٩٧٩

الذهب (راجع جهنم) ٩٠٠

لهو الحديث (راجع المشركون)

الليل

جعله الله لباساً ٣٣٥-٣٣٦

اختلاف الليل ٣٣٥

من آيات الله ١١٧-٣٢٥-٣٣٦

ليلة:

القدر ٢٠٩

المباركة ٢٠٩

ليلة (راجع حادث النحلة) ٦٩٠-٦٩٤

الم

المال والبنون: ٤٢٥-٤٢٢-٤٣٠-٤٢٩

٤٢٧-٤٣٥-٤٢٢-٤٢٣-٤١٩

موجة لعذاب الله

ربما يكون الأولاد عدوا ٤٢٥

الماء ٣٤٥

مصدر الحياة ٣٤٥

الوسائل الربانية ٣٤٥

ذخائره ٣٤٦

العيون ٣٤٧

الينابيع ٣٤٧

المزن العذب ٣٤٧

لجميع الخلق ٣٤٧

الغيث المبارك ٣٤٥

متاع: (الحياة الدنيا) ٤١٨

الغرور ٤٢٥-٤٢٧

قليل ٤٢٠

أمثال القرآن ١١٢٩
مثل رجلين

كان واحد منهما مؤمنا والآخر ملحدا ١١١١
استكبار الملحد بالمال والوسائل المادية ١١١١
عظة الموحد للملحد
إعجاب الملحد بنفسه و
- عدم الشكر لله ١١١٢
عقاب تغطرسه وتكذيبه
- يوم الدين من تبدد جنته ١١١٢-١١١٣
المجوس ٥٨٩
التعمية: (راجع الجهاد)
الغرض من القتال
مبادئ (اسم مكان) ٨٩٧-١٠٠٢
مدين: (اسم مكان) ٧٩٧-١٠٠٢
مدينة: النبي ٦٢٦-٧٦١
المرأة
آدم ٩٠٩
أبي لهب ١٨٧
ابراهيم ٩٥٥-٩٥٧
لوط ٥٤٥-٩٦٩
زكريا ١٠٨٨
المرأة
نوح ٥٤٥-٩٢٧
فرعون ٥٤٥-١٠٠٦
العزيز ٩٨١-٩٨٣-٩٨٧
عمران ١٠٩١
ايوب ٩٩٧
مرج البحرين (راجع خضر) ١٠٥٨
المرجان ٨٧٦-٣٤٢
مريم ١٠٩١
نذر امرأة عمران ١٠٩١
ولادتها ١٠٩١
حدوث النزاع بشأن كفالتها
- والاقتراع لذلك ١٠٩١
تبشير الملك مريم بابن زكي
- المسيح عيسى بن مريم ١٠٩٢
كانت عفيفة عذراء وكانت
- ولادة ابن خاصة لها من الله ١٠٩٣
حملت مريم وذهبت إلى بيت اللحم ١٠٩٤
تحملها آلام المخاض عند ولادة عيسى ١٠٩٤
المزن (راجع علم الماء)
مس
الضر ١٤٢-١٤١-١٢٢
الضراء ٣٩٣-٦٧٤-٤٣٢
النار (راجع الجهنم)
سقر ٨٨٨
مسك (راجع الجنة)

المسيح: ١٠٩٥

مصر ١٠٢٩-١٠٣٥-١٠٣٧
المطر ٣٤٧-٣٤٦-٣٤٥
الحجارة إلى قوم ثمود
وقوم عاد ٩٣٣
المعز (راجع علم الحيوانات)
مكر ٩٧٩-٩٨١-٩٨٣-١١٠٢
مكة: ٦٢٤-٦٢٥
التمكين:
في الأرض ٤٤٣-٩١١-٣٢٣
الملا:

القوم المنكرين ٩٢٠-٥٨٢-٩٣١
- ٨٣٥-٩٩٩-٩٥٣-٩٤٩-٩٣٨
الأعلى ٩١٣
الملح ٤٤٦-٤٦٧-٤٤٥
الملاحه ٣٤٠
التجارة البحرية ٣٤١
خزائن الرزق في البحار والإنهار ٣٤٢
الملائكة ٣٧٦
لكل من الملائكة مقام معلوم ٣٧٦
الملائكة وتدير الأمر ٣٧٧
الملائكة لنصر المؤمنين ٣٧٩
اسرافيل ٧٨٨-٣٧٩
عزرائيل ٣٧٩-٨٣٣
جبرئيل ٣٨٠-٢٠٨-٢٧٨-٧٧٥-٦٧٨
هاروت وماروت ١٠٨٠-٣٨٠
الميكائيل ٣٨٠-٣٨٨
الكاتبون كراما كاتبين ٣٧٨
المأمورون بالجنة ٣٨٠-٨٧٠
المأمورون بجهنم ٨٩٦-٣٨٠
الحرس الشداد ٣٧٧
يسبحون الله ٣٧٦
تحمل عرش الله ٣٧٦
يصلون على النبي ٣٧٧
مكة . فتحها ٧١٦
تحقيق رؤيا الرسول
لأداء العمرة ٧١٧
دخول الناس في دين الله ٧١٨
ملك
سليمان ١٠٧٠
السموات ٣٦٦
مصر ١٠٣٤-٩٨٨-١٠٠٥
ملة ابراهيم ٩٦٠
المنام (راجع رؤيا)
المهاد (راجع جهنم)
المهر:
إيتاءه واجب على الرجل ٥٢١

كان مفروضا في شرائع

- الأمم السابقة ٥٢٢-١٠١٠
قوانينه ٥٢١
الموت ٧٧١

له ملائكة مختصون ٧٧٥
يخافه المذنبون ٧٧٣
راحة أبدية للمؤمن ٧٧٢
لامفرمه ٧٧١
مؤجل محتوم ٧٧٢

لا يكون موت المؤمن والكافر سواء ٧٧٢
موسى ١٠٠٤

مولده ١٠٠٥

ألقى في اليم ١٠٠٦

نشأ تحت إشراف أمه في قصر فرعون ١٠٠٧

هجرته إلى مدين ١٠٠٨

لقاء شعيبا ١٠١٠

نكاح موسى بنت شعيب ١٠١٠

مشاهدته تجليا من الله على

- طور سيناء ١٠١١-١٠١٢

إعطائه المعجزات ١٠١٣

دعاءه فرعون إلى الله ١٠١٥

جعل هارون وزيره ١٠١٥

مباراة سحرة فرعون من

- موسى وفشلهم ١٠٢٥-١٠٢٨

طلب موسى من فرعون تحرير

- بني اسرائيل من عبوديته ١٠٣٦

هجرة موسى والمؤمنين من

- مصر وتعاقب فرعون ١٠٣٥

اجتياز موسى والمؤمنين البحر الأحمر

- وغرق فرعون وجوده ١٠٣٧

ورود موسى وأد سيناء بعد اجتياز البحر

- الأحمر عن طريق الإعجاز ١٠٤١

رغبة بني اسرائيل إلى عبادة

- الأصنام وزجر موسى لهم ١٠٤١

رفض بني اسرائيل القتال في سبيل الله ١٠٤٣

دخول موسى الأرض المقدسة

- وفتح بيت المقدس ١٠٤٣

كفران بني اسرائيل بأنعم الله وعقابهم ١٠٤٤

لبث موسى على الطور ١٠٤٥

التماس موسى من الله تعالى لرؤيته ١٠٤٦

إعطاءه التوراة والشريعة ١٠٤٧

عبادة قومه العجل ١٠٤٨

أخذ الميثاق على الطور

- رفع الطور فوقهم ١٠٥١

سفره الطويل في طالب العلم ١٠٥٨

لقاءه خضر ١٠٥٩

ميت: ٧٧٥

تدفينه ٧٧٦

ميكائيل ٣٨٠-٣٨٨
(يوم) التناد (راجع القيامة)

النون

نار

الجهنم ٨٨٧-٨٩١-٩٠٠
من الشجر ٣٥٥
نمرود ٩٥٣-٩٥٤
موسى على الطور ١٠١١
خلق الجن ٣٨١
مناسك:

الحج ٢٨٨-٣٩٣
جعلها لكل أمة ٣٧٤
يجب أن يذكر اسم الله
عند ذبح نسك ٥٠٢

منافع

الحديد ٣٣٩
الأنعام ٣٦١
ناقة الله ٩٣٩
آية بينة من الله لابتلاء ثمود
ناقة الله ٩٣٩

عقرها ثمود ٩٣٩
نبات: (علم) ٣٥١
أزواجه ٣٥١

نظام التوالد والتناسل ٣٥١
النباء العظيم (راجع القيامة) ٧٨٥
الأنبياء ٩٠٤-٣٧٤

نبي: ٩٠٤-١٥٤-٣١٠-٦٣٦
انتشار الكواكب (راجع القيامة) ٧٩٥
نتق الجبل (راجع ميثاق الطور) ١٠٥٢
النجوم:

كيفيتها يوم القيامة ٧٩٥
للافتداء في السفر ليلا ٣٣٢
مسخرات بأمر الله ٣٢٩
نجوى: خصلة المنافقين ٤٤٨
نجى الله (راجع نوح) ٩٢٧
النحاس (راجع علم المعادن) ٣٣٩
نحت الجبال (راجع قوم ثمود) ٩٣٦
أيام) نحس (راجع قوم عاد) ٩٣٣
النحل (راجع علم الحشرات) ١٠٧٢-٣٦٥
التخييل (راجع علم النبات) ١٠٩٦-٨٧٣
٣٥٦-٣٥٨-١٠٩٦-٨٧٣-
النذر ٢٨٥

النذر هابيل قابيل ٩١٥

النذر امرأة عمران ١٠٩١

النذر مريم ١٠٩١

النذر زكريا ١٠٨٨

النذر ايوب ٩٩٦

النذير ١٦٨-١٧٩-١٦٩

نزاعة للشوى (راجع جهنم)

(صفة النار) ٩٩٨

نزغ الشيطان ٣٨٣-٣٨٥

منازل القمر (راجع علم الفلك) ٣٣٤
النساء:

حقوقهن ٥٨٠-٥٢٢

فرائضهن ٥٢٣

هن وسيلة التناسل وأساس

- الأسرة ٥١٤-٣٩٥-٤٤٣-٥٣٥

من واجبهن إطاعة الرجل ٥٢٣

نسب:

حفاظته في الاسلام ٥١٣-٥٣٨

نسف الجبال (راجع القيامة) ٧٩٣

نسى: (راجع الترهات) ١٥٩

المنشآت (راجع علم البحر)

النشأة (راجع خلق الانسان) ٤٠٢

النشور (راجع بعث بعد الموت) ٧٧٧

النصارى (واليهود)

إغراء تهم وحرركاتهم ضد ٧٤٥

- الاسلام ٧٤٢-٦٩٥-٧١١

قاموا بتحريف الانجيل متعمدين الرهبانية ٦٠١

اخترعوا الرهبانية لم يكتبها

- الله عليهم ٤٣٤-٦٠١

كان منهم المتطرفون الطائفون الذين

- قاموا براهبانية الشديدة ٤٣٤-٦٠١

النصب:

رجس من عمل الشيطان ٥٠٦

ماذبح على النصب حرام ٥٠٦

(عينان) نضاختان (راجع الجنة)

نضج الجلود (راجع جهنم)

(طلع) نضيد (راجع علم النبات)

منضود (راجع لوط)

نطفة ٥١٣-٥٣١-٣٩٥

نطق: ٣٩٤-٤٤٣

نعمة الله

منطق الطير (راجع سليمان)

نطيحة (راجع اللحم الحرام)

أكلها حرام

نظام التوالد والتناسل

في النبات ٣٥١

في الحيوان ٣٥٩

في الإنسان ٣٩٤

النظام الشمسي والقمرى ٣٣١

الشمس والقمر ٣٣١

الشمس والقمر والإجرام الفلكية الأخرى

- كل في فلك مخصص لهم بمسبحون ٣٣٢

منازل القمر ٣٣٢

النجوم للافتداء في السفر ليلا ٣٣٢

تباين الظلام والنور ٣٣٢

الاحتفاظ بالتقويم وتنظيم الفصول

- وعدد السنين والحساب تحتاج

- إلى الشمس والقمر ٣٣٤

عدة الشهود عند الله اثنا عشر شهرا ٥٥٢

اختلاف الليل والنهار من آيات الله ٣٣٥

الوقت مسخر لله ٣٣٦

سخر الله كل شيء في السماء

- والأرض لخدمة الإنسان ٣٣٧

النظام الطبيعي للوقاية من التلوث الجوى ٣٥٤

نظام القدرة الإلهية ٩٨-٣٦٨

لاشريك له في الملك ١٣٣-٣٦٧-٩٩

يؤتى الله الملك من يشاء

- وينزعه من يشاء ٣٦٧

الفناء والبقاء بمشية الله ١١٧

الله نور السموات والأرض ٣٦٨

الله الكبرياء ١٢٩-١٣١-١٢٦

اللوح المحفوظ ٣٦٧

لاتبديل لسنة الله ٣٧٠-٦٧٨-٢٤٢

العقل الانسانى لا يدرك المصالح الإلهية ٣٧٣

الأنعام (راجع علم الحيوانات) ٣٤٠

نعيم

الدنيا ٤١٨

الآخرة (راجع الجنة) ٧٦٦

نفاد:

مالرزق الله من نفاد ٣٨٧-٨٦٩

لانفاد لكلمات الله ١٠١-١٠٢

الإنفاق في سبيل الله ٢٧٥

يجب التعجيل فيه ٢٧٥

يؤدى إلى مرضات الله ٢٧٦

موجب الازيداد فى الرزق ٢٧٧

يورث البركة فى الرزق ٢٧٧

إضعاف الأجر من الله ٢٧٧

النهي:

عن المنكر ٤٧٢-٤٦٦
النمام (راجع الرؤيا)

النمام بالليل (راجع آيات الله) ٣٣٦
نيز: التنايز بالألقاب

- (راجع آداب المجتمع) ٤٧٩

الهاء

هابيل وقابيل (ابنا آدم) ٩١٥

تقريهما قربانا لله في نزاعهما ٩١٥

هابيل كان صالحاً خالياً من سوء النية ٩١٥

تهديد قابيل لقتل أخيه الأصغر هابيل ٩١٥

أول قتل بغير الحق في التاريخ الانساني ٩١٥

بداية دفن الميت ٩١٥

المهاجرون ٦٧٠-٦٦٩-٦٧١

الأمر بإيواء المهاجرات ٦٧٢-٦٧١

(راجع ميثاق حديبية)

يستحقون المساعدة المالية

(راجع الهجرة)

يرجون رحمة الله ٦٧١

هاروت وماروت

كانا ملكين أرسلتهما لليهود ٣٨٠-١٠٨٠

هارون كان وزير الأخيه موسى ١٠٥٦

ومساعد له ١٠١٥

كان أفصح بيانا ١٠١٦-١٠٥٦

هامان ١٠٣٠

قام ببناء صرح لفرعون

تأبى لقبول دعوة موسى ١٠٣٠

هامدة (راجع علم طبقات الارض)

هبأ (راجع القيامة)

هبط الأعمال (راجع القيامة) ٨١٧-٨١٨

الهجرة ٦٧٠

متى تستلزم ٦٧٠

محك للايمان

أجرها ٦٧٠

تستوجب المغفرة ٦٧١

من سنة الأنبياء ٦٧١

إلى الحيشة ٦٨٨

إلى يشرب ٦٩٣

ابراهيم ٩٥٤

موسى ١٠٠٩-١٠٣٥

يونس ١٠٨٥

يعقوب ٩٧٦

الهدى ١١٧

الإماء ٥١٩

الأراامل ٥١٧

النساء اليتامى ٥١٧

مطلقة المتبنى ٥١٨

الرجل أربع نساء جائز بشرط العدل بينهن ٥٢٠

اكتفاء الرجل على زوجة واحدة

- أحسن إذا خاف عدم العدل ٥٢٠

النمارق (راجع الجنة)

نمرود ٩٥٣

النمل: (وادي) ١٠٧٢

نوح عليه السلام ٩١٧

كان نبي الله ٩١٧

كان من شيعته ابراهيم ٩١٧

كان قومه مشركين يعبدون الأصنام ٩١٧

تبليغه قومه للتوحيد ٩١٧

دعوته قومه إلى التفكير في آيات الله

- في الآفاق والأنفس ٩٢٠

استهزاء ملا قومه به و

- استدلالهم على شركهم ٩٢٠

تهديد قومه له بالرجم ٩٢٢

شكواه إلى الله وطلبه النصر عليهم ٩٢٢

دعاهم لمدة تسع مائة وخمسون سنة ٩٢٣

دعاءه على الكافرين واستغفاره للمؤمنين

إعداده لصنع الفلك و سخرية قومه منه

حمل الزوجين اثنين من كل و

- حمل المؤمنین في الفلك

مجىء طرفان عظيم عبرة

- لأولى الابصار

غرق ابنه العاصي

انتهاء الطوفان ٩٢٦

نجاة ركاب الفلك بفضل

- الله وإغراق الكافرين ٩٦٨

نور

السموات والأرض ٣٦٨

(راجع صفات الله)

التماس المنافقين الاقتباس ٨٤١

نور مبين ٢٢٢

النوم ١١٢٧

النهار

جعل الله معاشاً ٣٣٦

(الأوقات المناسبة للعمل)

أنهار: ٣٤١

أنهار في الجنة ٨٧٠

نهر: (لاتنهر)

السائل ٢٨٢

الوالدين (راجع حقوق الوالدين) ٤٥١

تجار رابحة إلى الإبد ٢٧٧

من المال المحبوب ٢٧٩

كفارة الذنوب ٢٧٩

إخفاءه خير من الإعلان ٢٧٩

آدابه ٢٨٠

مصارفه ٢٨٢

كيفية ٢٨٠

النفيخ: في الصور ٧٨٨-٣٧٩-٧٨٩-٧٩٠

النفس: كفيياتها ٤١٧

اللوامة ٤١٧

الأمانة ٤١٧

المطمئنة ٤١٧

تزكيتها موجب للفلاح ٤١٥

اصلاحها قبل اصلاح الناس واجب ٤٧٣-٤٦٨

المنافقون ٧٤٢-٧٤٨

كمثل الشيطان ٧٥٠

كالكفار ٧٥٠

غير جديدين بالثقة ٧٥٠

لا يعجبك أموالهم وأولادهم ٧٥٠

كونوا مراقبين على تصرفاتهم ٧٥١

مصيرهم ٧٥١

إعراضهم عن القرآن والسنة ٧٤٣

تحاكمهم إلى الطاغوت ٧٤٣

مؤامراتهم السرية ليلاً ٧٤٥

ثرتهم بشأن ذات النبي الكريم ٧٤٧

تعاقبهم للرسول في شعب عند

- عودته من سفر تبوك ٧٤٦

المنافقون ٧٤٢-٧٤٨

أقاربهم بشأن المسلمين عند ما صلح

- اقتصاد المجتمع بعد الهجرة ٧٤٢

موقف ابن أبي رئيس المنافقين

- عند غزوة المريسيع ٧٤٧

مكايدهم المتجسسة ٧٤٧

نقص

من الأموال والأنفس

- والثمرات بلاء من الله ٤٣٢-١١١١

الانتقام

يجوز بالعدل ٥٥٧

النكاح: قوائمه ٥١٤

لا يجوز بدون رضا امرأة ٥١٤

تصور الولي له ٥١٤

متاربة الزوجين أحسن ٥١٤

لا يكن غرضه قضاء الشهوة فقط ٥١٤

التوافق الفكري والروحي لازم ٥١٤

بين المؤمنين والمشركين حرام ٥١٥

المحرمات ٥١٦

غير المحرمات ٥١٦

موافقة الفريقين ٥١٧

المحصنات من اهل الكتاب مباح ٥١٨

استهزاء الكافرين ٨٩٦

- بالرسل ٩٣٨-٩٣٦-٩٣١-٩٢٠
٩٩٩-٩٤٩-١٩١-١٩٠-١٠١٩
آيات الله ٢٨٨
هشيم (راجع قوم ثمود)
(طلعها) هشيم (راجع علم النبات)
مهطعين (راجع القيامة)
الهلع ٥٠٥-٥٠٢
مأهل لغير الله به
هو حرام ٥٠٥
منهمر (راجع علم الماء)
همزات (راجع الشيطان)
همزة (راجع آداب المجتمع)
همس (راجع القيامة)
هود عليه السلام ٩٢٩
بعث لهداية عاد ٩٢٩
تبليغه قومه للتوحيد ٩٣٠
جواب قومة الاستهزاء ٩٣١
استدعاء الأولى بريح صرصر عاتية ٩٣٢
أطلال بيوت عاد تدعو إلى العبرة ٩٣٥
هوى ٤١٥
اتباعه مضل عن طريق الهدى ٤١٥
اتباعه موجب لختم على السمع والقلب
- والغشاوة على البصر ٤١٥
التغلب عليه طريق صعب
متبعوه كالأنعام أو كالكلب
- الذي يلهث كل وقت ٤١٦
متبعه يتخذة إلهه
الهيم (راجع مشروبات جهنم)
المهيمن (راجع صفات الله)

الوأو

واد:

- النمل (راجع سليمان) ١٠١٧
القرى ٩٣٦
شعيب ٩٩٧-١٠٠٢
الطوى ١٠١٤
احقاف ٩٣٠
الحجر ٩٣٦
السيناء ١٠١٢-١٠٤١
الطور ١٠١٢-١٠٤٥
مكة (بكة) ٩٥٩-٩٥٥
وابل (راجع علم المياه)
الوالدان (حقوقهما) ٤٥١
تجيلهما واجب ٤٥١
لاتخاطبهما بالعرفجة ولا تنهرهما ٤٥١
الأمر برعايتهما خاصة ٤٥١

احترام خصوصي للأمم ٤٥٢

- الإحسان إليها سنة الأنبياء ٤٥٢
حدود إطاعتها ٤٥٣
الدعاء لهما ٤٥٣
الشكر لهما ٤٥٤
(أخذ) وبيل (راجع فرعون)
أوثان:
ود ٩١٧
يعوق ٩١٧
يفوث ٩١٧
سواع ٩١٧
نسر ٩١٧
بعل ١٠٧٩
بجيره ١٥٠
سائبة ١٥٠
حام ١٥٠
وصيلة ١٥٠
لات ٥٩٠
عزى ٥٩٠

ميثاق:

- بني آدم ٩١٤
الأنبياء ٤٠٥-١٨٠
بني اسرائيل على الطور ٩١٤
ميثاق ازل ٤٠٥
المدينة ٧٠٦
الوثيقة ٤٩٤

- إعدادها للتعامل المالي ٤٩٤
واجبات كاتبها ٤٩٤
واجبات شهداءها ٤٩٤
وجلت (قلوبهم)
(راجع صفات المؤمنين)
التوحيد ١٣٣

لا إله إلا الله ١٣٣

- لم يلد أحدا ولم يولد ولم تكن له صاحبة ١٣٤
لو كان مع الله الهة لاختل نظام الكون ١٣٥
الاتحاد بين المسلمين ٦٣٥
الوحي الأول ٦٨٧
وراثته: ٥١٠-٥١٣
أحكامها ٥١٠-٥١٣
قسمة تراث الكلاله ٥١٠-٥١٣

ميراث:

- الجنة ٨٦٢
ميزان (راجع العدل-القيامة)
الوسواس (راجع الشيطان) ٣٦٣
الوسيلة ١٤٦-٢٩٤-٨٦٦
صفة / صفات

الله ١٠١

- الرسول (راجع محمد)
الصحابه ٧٥٨-٧٦١-٧٦٠-٧٨٩
المؤمنين ٧٦٤
أولى الأمر من المؤمنين

صفات الله سبحانه وتعالى ١٠١

- كلمات الله لاتعد ولا تحصى ١٠١
البقاء لوجه الله ١٠٤
عالم الغيب والشهادة ١٠٨-١٠٦
عليم بذات الصدور ١٠٧-١١١
لطيف خبير ١٠٩-١١٠
أقرب من جبل الوريد ١١١
مخفى بذاته ولكن ظاهر بآياته ١١٢-١١٣
المحي والمميت ١١٥-١١٧
هود المغنى هو الشافى ١١٩
رؤف بالعباد ١١٩-١٢١
كاشف الضر ١٢٣-١٢٥
شديد البطش ١٢٥
بالمرصاد ١٢٦
عزيز منتقم ١٢٦
القاهر ١٢٩
رب السموات والأرض ١٠٣
رب المشرقين ٣٢٤
رب المغربين ٣٢٤
خير الوارثين ١١٢٢
سميع الدعاء ١١١٦
فعال لما يريد ١٠٥
الحي القيوم ١٠٤
إليه ترجع الأمور ٣٧٠
رب العالمين ١٠١
مالك يوم الدين ٧٩٨-٨١٨
سريع الحساب ٧٨٢-٧٩٨
ذوانتقام ١٣١-٨٣٢-١٢٥-١٢٣-١٢٦
خير الماكرين ١٢٦
علام الغيوب ١٠٦-١٠٨
خير الرازقين ٣٨٨
ذوالرحمة ١١٩
نور السموات والأرض ٣٦٨
ذو مغفرة ١٢٠-١٢١
واسع المغفرة ١٢٠-١٢١-١٢٣
الأول ١٤٨-١٠٤
الآخر ١٤٨-١٠٤
العليم ١١١-١٠٩-١٠٦
البصير ١١١-١٠٩-١٠٧
الغفور ١٢٣-١٢١-١٢٠-١١٩
المجيب ١١٦
المستعان ١٤١-١٤٢-١٢٣
أضحك وأبكى ١١٩
الوصيلة
وصية ٥٠٨
الموعظة للمتقين (راجع القرآن) ٢٢٢
أحكام الوصية ٥٠٨
(من أوام الجاهلية) ١٥٠
الوضوء: ٢٥٢
الموعظة
الموعظة للمتمميين (راجع القرآن) ٢٢٢

الوفاء / الإيفاء

بالعهد واجب ٤٦٨

الأوقات

للعمل ٣٣٦

للاستراحة ٣٣٢

أوقات

التخلية ٤٤٥

إوقات

افطار وسحر ٢٦٢

الصلوة ٢٥٤-٢٥٣

الموقوفة

أكلها حرام ٥٠٥

الوكالة ٣٠٥

قواعد الوكالة والشفاعة والماونة ٥٧٤

التوركل على الله ٣٠٣

شعار المؤمنين ٣٠٣

يكفي الرسول والمؤمنين ٣٠٣

ينافيه سوء الظن في الله ٣٠٤

علاج الجزع والخوف والقلق ٣٠٤

ينافيه القنوط من رحمة الله

وصى به جميع الرسل ٣٠٤

ولي ٧٦٢

أولياء ٧٦

الموودة (راجع يوم الدين)

التقوى ٣٠٦

موجب للفوز والجنة ٣٠٦

موجب للمغفرة وأجر كبير ٣٠٦

موجب لرحمة الله ٣٠٨

الياء

يأس ٣٠٤

اليتامى:

حقوقهم ٤٦٥-٢٨٢

إصلاح أحوالهم ٤٦٠

إكرامهم ٤٦٠-٢٨٢

حفاظة أموالهم ٤٦٥

حقهم في التراث ٤٦٠

النكاح ٥٢٠-٥١٧

يشرب ٢٧١-٢٨٢-٥٢٠

ياجوج وماجوج ٧٨٨-١٠٨٣

يحيى عليه السلام ١٠٨٩

أوتى الحكم والزكوة صيباً

كان حنوناً للناس ١٠٩٠

كان براً بوالديه محباً ومطيعاً لهما ١٠٩٠

سلام الله ورحمته عليه ١٠٨٩

كان مصدقاً بكلمة من الله

- المسيح بن مريم ١٠٩٠

كان عفيفاً وحسباً ١٠٩٠

كان فريداً باسمه يحيى ١٠٩٠

يسر

إنما هو مع العسر ٣٧١

الميسر ٥٠١-٥٦٢-٥٥٥

رجس من عمل الشيطان

السيب ١٠٦٦

يعقوب ٩١٧

يعوق (اسم صنم) ٩١٧

يعوث (اسم صنم) ٩١٧

يقطين (راجع علم النبات) ٣٥٣

التيتم (راجع الصلوة) ٢٥٢

اليمن

اصحابه ٧٩٩-٨٠٠

يوسف عليه السلام ٩٧٧

رؤياه ٩٧٨

كيد إخوته بنى علات ٩٧٨

رمي إخوته به في بئر ٩٧٨

نشأته وترعرعه في بيت عزيز مصر ٩٨١

ابتلاءه من الله تعالى ٩٨١

تمكنه على خزائن الأرض ٩٨٨

اعتراف إخوته بجريمتهم و عفوهم عنهم ٩٩٣

قدوم أبيه إلى مصر ٩٩٥

دعاه متشكراً الأعمى ٩٩٥

يوشع: ١٠٦١

كان صاحب موسى في

- سفره إلى مجمع البحرين ١٠٦١

كان استطلع الأرض المقدسة وحرض

- بني إسرائيل للقتال ١٠٦١

يوم / أيام

الآخرة - القيامة ٧٨٢

الدين ٧٩٨

الحساب ٧٩٨

الحشر ٧٩١

التشريق ٢٩٣

النحر ٢٩١

الحيض ٥٢٥-٥١٧

العدة ٥١٧

يوم الحشر ٧٩١

يأتي بقوله كن ٧٩١

زلزال الأرض ٧٩١

تبدل الأرض غير الأرض ٧٩٢

بعثت القبور ٧٩٢

تشقق السماء ٧٩٢

تطوى السماء ٧٩٣

يخرج الدخان من السماء ٧٩٣

تنسف الجبال نسفاً ٧٩٣

يخسف القمر ويجمع ٧٩٤

الشمس والقمر ٧٩٤

تكور الشمس ٧٩٥

تنكد النجوم ٧٩٥

تنثر الكواكب ٧٩٥

تسجر البحار ٧٩٥

يوم الدين

يشيب الصغار من طوله ٧٩٨

مقداره خمسون ألف سنة ٧٩٨

يخرج لكل إنسان كتاب أعماله ٧٩٨

وضع كتاب الأعمال ٧٩٨

يتلقى المؤمن كتابه بيمينه ٨٩٩

كتاب الأبرار في عليين ٨٠٠

يتلقى الفجار كتبهم بشمالهم ٨٠٠

يتلقى المكذبون كتبهم ٨٠١

وراء ظهورهم ٨٠١

كتاب الفجار في سجين ٨٠١

تدل الوجوه على الأعمال ٨٠٢

لاخوف والحزن للمؤمنين ٨٠٣

أزلفت الجنة ٨٠٤

تعرض جهنم للكافرين ٨٠٤

السعداء والأشقياء ومصيرهم ٨٠٤

يحشر المعرضون عن ذكر الله عياناً ٧٠٥

لايستطيع الكفار أن يسجدوا لله ٧٠٦

نزل الملائكة تنزيلاً ٨٠٨

تبلى السرائر ٨٠٨

توزن الأعمال ٨٠٨

تحدث الأرض أخبارها ٨٠٨

تشهد أعضاء الجسم على المجرمين ٨٠٨

لانكير للمجرمين ٨٠٩

يكون كل رسول شهيداً على أمته ٨١٠

يسأل الرسل والأمم كذلك ٨١١

يظن الناس لبثهم في الدنيا

- كيوم أو بعض يوم ٨١٢

لكل نفس يومئذ شأن يغنيه ٨١٥

يونس عليه السلام ١٠٨٤

بعث إلى الآشوريين بموصل (في العراق) ١٠٨٥

إنكار قومه دعوته ١٠٨٥

مغادرته من موصل ١٠٨٥

ركوبه الفلك ثم طرح في اليم ١٠٨٥

التقمه الحوت ١٠٨٥

تسيحه في بطن حوت

- واستجابة دعائه ١٠٨٦

خروجه من بطن الحوت ١٠٨٦

بعثه إلى أمة كثيرة العدد ١٠٨٦

يمين (وشمال) ٥٥٥-٥٦٢-٥٠١

التيتم ٧٩٩-٨٠٠

اليهود (والنصارى)

إغرائتهم وحركاتهم ضد

- الإسلام ٧٤٥-٧٤٢-٦٩٥-٧١١

موقفهم بالنفاق ٧٤٢-٦٩٥

عملهم بالتحريف في

- أحكام التوراة ٥٩٢-٥٩١

إظهارهم عنادهم للنبي

- الكريم محمد ليا بالستهم ٧٤٥-٥٩٧

سؤالهم رسلهم تمرداً من

- غير حاجة ١٠٧٧-١١٠٢-١٠٥٥

مؤامراتهم ومكرهم نحو

- الإسلام ٧١١-٦٩٥-٧٤٢

استهزاءهم بأمر الانفاق في

- سبيل الله في القرآن ٥٩٧

نجواهم المنافقين لإحداث سوء

- التفاهم بين المسلمين ٦٩٥-٧٠٧

کتابیات

زاد ملک	مضامین قرآن (اشاریہ)	مولانا فتح محمد جالندھری	قرآن مجید (ترجمہ و حواشی)
میجر جنرل محمد نواز ملک	مشمولات قرآن (اشاریہ)	مولانا ابوالاعلیٰ مودودی	تفہیم القرآن (ترجمہ و تفسیر)
چوہدری نذر محمد	احکام قرآن (اشاریہ)	مولانا محمد جونا گڑھی مولانا اصلاح الدین یوسف	قرآن کریم (ترجمہ و حواشی)
مولانا سید ممتاز علی	اشاریہ مضامین قرآن	مولانا عبدالماجد دریا آبادی	تفسیر ماجدی (ترجمہ و تفسیر)
میر محمد حسین	مضامین قرآن (اشاریہ)	مولانا اشرف علی تھانوی	بیان القرآن (ترجمہ و تفسیر)
ڈاکٹر اسرار احمد	قرآن حکیم کا اجمالی تجزیہ	مولانا مفتی محمد شفیع	معارف القرآن (ترجمہ و تفسیر)
ڈاکٹر مورس بوکائیے	بائبل قرآن اور سائنس	مولانا مفتی احمد یار خان	تفسیر نعیمی (ترجمہ و تفسیر)
ڈاکٹر ہلوک نور بانی - ترکی	قرآنی آیات اور سائنسی حقائق	مولانا شبیر احمد عثمانی	تفسیر عثمانی (ترجمہ و تفسیر)
مولانا محمد شہاب الدین ندوی	اسلام اور جدید سائنس	مولانا مولانا محمود الحسن	القرآن الکریم (ترجمہ و تفسیر)
ڈاکٹر غلام جیلانی برق	دو قرآن	ادارہ اصلاح و تبلیغ - ڈھاکہ	درس قرآن (ترجمہ و حواشی)
حافظ نذر احمد	اسلام اور نظام عدل و تعزیرات	مولانا احمد رضا خان	قرآن عظیم (ترجمہ و حواشی)
محمد عثمان نجابتی	القرآن اور علم انفس	مولانا محمد نعیم مراد آبادی	رفیع الشان قرآن (ترجمہ و حواشی)
پروفیسر ہاشمی	قرآن کائنات اور سائنس	مولانا ابوالکلام آزاد	ترجمان القرآن (ترجمہ و تفسیر)
ابو عبداللہ ریحالی	قرآن یا بائبل	ڈاکٹر ملک غلام قمرنی	انوار القرآن (ترجمہ و تفسیر)
مولانا عبدالرحمان کیلانی	مترادفات قرآن	حافظ عماد الدین ابوالفدا	تفسیر ابن کثیر (ترجمہ و تفسیر)
محسن فاروقی	مقامات قرآن (اشاریہ)	شاہ عبدالقادر محدث دہلوی	قرآن کریم (ترجمہ و حواشی)
شائخ صدیقی	ارض القرآن	شاہ رفیع الدین محدث دہلوی	قرآن حمید (ترجمہ و حواشی)
عبدالماجد دریا آبادی	حیوانات قرآن (اشاریہ)	مولانا ناصر الدین اصلاحی	تلخیص تفہیم القرآن (ترجمہ و حواشی)
حافظ نذر احمد - مسلم اکاڈمی	انبیائے	علامہ شیخ طنطاوی جوہری مصری	تفسیر جوہر
ڈاکٹر غلام جیلانی برق	مجمع قرآن (اشاریہ)	سید قاسم محمود	علم القرآن (ترجمہ و تفسیر)
پروفیسر ڈاکٹر محمد حمید اللہ - میان محمد صدیقی	عبدالنبوی کے میدان جنگ	سر سید احمد خان	تفسیر القرآن (ترجمہ و تفسیر)
شریہ اکیڈمی - بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی	اسلامی قانون کے مآخذ	سید شبیر احمد	قرآن حکیم (ترجمہ - سرنگ)
شیخ محمد رضا جامعہ فواد - قاہرہ	محمد رسول اللہ (سیرت النبی)	محمد کرم شاہ	ضیاء القرآن (ترجمہ و حواشی)
علامہ شبلی نعمانی	سیرت النبی	کمانڈر محمد صدیق قریشی - ادارہ نفع الناس	تدریس القرآن (ترجمہ - لفظی)
شریف احمد	تذکرۃ الانبیاء	مولانا محمد شہاب الدین ندوی	اسلام اور جدید سائنس
شاہ مصباح الدین شکیل	سیرت احمد مجتبیٰ	سیدہ سعدیہ غزنوی	نبی کریم بطور ماہر نفسیات
بریگیڈیئر ڈاکٹر حافظ قاری فیض الرحمن	نشان منزل	صفدر حسن صدیقی	قرآن اور انسان
حافظ نذر احمد	دیواریں اور غاریں	پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم	کائنات اور اس کا انجام
حاجی غلام حسین	قرآن اور کائنات	مولانا محمد شہاب الدین ندوی	قرآن مجید اور دنیا کے حیات
ڈاکٹر اسرار احمد	مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق	وجید الزمان خان	تبویب القرآن (اشاریہ)
مقتدرہ قومی زبان	اردو انگریزی لغات	ابو اشیر پالوا	تسہیل القرآن (اشاریہ)
صفی الرحمن مبارک پوری	رحیق المختوم	کرل عبدالرؤف شیخ	بصیرت (اشاریہ منتخب آیات)
محمد حفظ الرحمن سید ہاروی	قصص القرآن		
ڈاکٹر شوقی ابو ظیل	اطلس القرآن		
ڈاکٹر شوقی ابو ظیل	اطلس سیرت النبی		

کتابیات انگریزی (Bibliography) کیلئے دیکھئے صفحہ 1302

کتابیات عربی (المصادر والمراجع) کیلئے دیکھئے صفحہ 1202

المصادر والمراجع

- تفسير جواهر العلوم علامه شيخ طنطاوى جوهرى مصرى
 قرآن كريم تفسير و بيان مفردات القرآن مع فهارس دأكثر محمد حسن الحمصى دمشق بيروت
 بيان القرآن الترجمة و التفسير الشيخ اشرف على التهانوى
 تفهيم القرآن الترجمة و التفسير الشيخ ابوالاعلى المودودى
 تفسير الماجدى الشيخ عبدالماجد دريا آبادى
 تفسير عثمانى الشيخ شبير أحمد العثمانى
 معارف القرآن الشيخ المفتى محمد شفيع
 درس القرآن ادارہ اصلاح تبلیغ دہاکہ - بنكله ديش
 قرآن پاك (الترجمه الهوامش) الشيخ فتح محمد جاندهرى
 قرآن كريم (الترجمه الهوامش) الشيخ محمد جونا كرهى الشيخ صلاح الدين يوسف
 تفسير ابن كثير ترجمه و تفسير حافظ عماد الدين ابوالفدا
 قرآن كريم (الترجمه الهوامش) شاه عبد القادر محدث الدهلوي
 قرآن مجيد شاه رفيع الدين محدث الدهلوي
 قرآن پاك (الترجمه الهوامش) السيد محمد مار ماديوك بكهتال
 قرآن پاك الشيخ عبداللہ يوسف على
 رسالة القرآن السيد محمد اسد - دار اندلس
 قرآن پاك (ترجمه) الحاج تھامس لى. ايورنك - كينيذا
 تدريس القرآن (ترجمه) ادارة ماينفع الناس
 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم محمد فواد - عبدالباقى المصر - جول لا يوم القرنسوية
 تفصيل آيات القرآن الكريم جول لا يوم القرنسوية - محمد فواد - عبدالباقى المصر
 العجم المفهرس للكلمات القرآن الكريم اعداد الشيخ عبدالوحيد نور احمد
 توجيهات الاسلامة محمد بن جميل زينو - المكة المرمكة
 الدين الحق الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر مركز الدعوة الارشاد بددلة الحرين
 حقوق الحيوان والبيئة فى الاسلام الدكتور أسعد نمر بصبول الهدى مؤسسة اسلامية ثقافة شيكاغو - امريكة
 اللؤلؤ والمرجان محمد فواد عبدالباقي
 رياض الصالحين امام ابى زكريا يحيى بن شرف النودى دمشق
 اشارة مواضع القرآن السيد ممتاز على
 مترادفات قرآن السيد عبدالرحمن كيلانى
 مقامات قرآن (اشاريه) محسن فاروقى
 انبيائ قرآن الحافظ نذر احمد مسلم اكادى
 عمرانات قرآنى دأكثر محسن فاروقى
 حيوانات قرآنى الشيخ عبدالماجد دريا آبادى
 قرآن أو بائيل ابو عبد اللہ اريحالى
 مشتمولات القرآن (اشاريه) الجنرال المتقاعد محمد نواز ملك
 مضامين القرآن السيد زاهد ملك
 تبويب القرآن الشيخ وحيد الزمان كان
 تسهيل الفرقان السيد ابوالشير بالوا
 بصيرت العميد المتقاعد الشيخ عبدالرؤف
 محمد رسول الله الشيخ محمد رضا جامعه فواد القاهره
 سيرت النبى الشيخ سيد سلمان الندوي
 سيرت النبى الشيخ علامه شبلى نعمانى
 احكام القرآن (اشاريه) السيد شودرى نذر محمد
 محجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية بيروت
 قاموس جيتى الطيى لبنان - بيروت
 الرحيق المختوم الشيخ صفى الرحمن مبارك بورى
 قصص القرآن الشيخ محمد حفظ الرحمن سيوهاروى
 الطس القرآن الدكتور شوقى ابو خليل
 أطلس السيرة النبوية الدكتور شوقى ابو خليل

المراجع والمصادر انكليزية (Bibliography) راجع الصفحة رقم ١٣٠٢
 المراجع والمصادر الاردية (كتابات) راجع الصفحة رقم ١٢٠١

مؤلف کے بارے میں

پاکستان، جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں 1946ء میں پیدا ہونے والے عبدالحکیم ملک جو ایک مستند اور پیشہ ور انجینئر ہیں، وہ انجینئرنگ کے دو ممتاز اداروں، انسٹی ٹیوشن آف انجینئرز پاکستان کے کارپوریٹ ممبر اور انسٹی ٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرونکس انجینئرز کے ایسوسی ایٹ ممبر ہیں۔ اپنی پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ علمی پس منظر میں جامعہ پنجاب سے ایم اے اور ایل ایل بی کی اسناد بھی رکھتے ہیں۔

مذہب اسلام سے گہری رغبت اور وابستگی کی بنا پر وہ ایک خادم اسلام کے طور پر مملکت امریکہ، برطانیہ، فرانس، ناروے، سویڈن، متحدہ عرب امارات، کینیڈا، اور سعودی عرب، کی طویل مسافرت کا تجربہ رکھتے ہیں اور اس وقت اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پاکستان (جو ترویج تعلیمات اسلام میں مصروف اور مذہبی رواداری اور عالمی امن کے فروغ کے لئے سرگرم عمل ایک غیر سرکاری فلاحی ادارہ ہے) کے منتظم اعلیٰ ہیں۔

انہیں سرزمین پاک حرمین شریفین میں ایک عرصہ قیام کی سعادت نصیب ہوئی جس کے دوران انہیں قرآن پاک کی آیات میں تدبیر اور تفکر کا موقع ملا۔ اور مضامین قرآن کریم کے اشاریے کی ترتیب کا خیال اللہ کے فضل و کرم سے عزم مصمم اور عمل پیہم میں تبدیل ہو گیا اور ان کی زندگی کے ایک طویل عرصہ پر محیط تحقیقی کاوش ”منشور قرآن“ کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔

محمد خالد فاروقی

چیف ایڈیٹر ”اذان“ انٹرنیشنل - نیویارک - امریکہ

کلمات بشان مؤلف

كان عبدالحکیم ملک ولد بالعام ۱۹۴۶م ”بمظفر کار“ التي تقع في بنجاب الجنوبية باکستان هو مهندس مهنة وهو عضو لمعهدى الهندسة البارزين باکستان، فانه عضو نقابي لمعهد المهندسين الباكستاني، وكذلك عضو مقارن لمعهد المهندسين الكهربائيين و معهد التكييف والكهربائيين الباكستاني، وهو ما جستير في الهندسة وبكالوريوس في القانون التي حصل عليها من جامعة بنجاب، هو رجل ”واسع الاطلاع“ كثير الخبرة أفاق“ - كان شد الرحال إلى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية وكينيديا، متحمساً في أخذ العلم كمسلم مخلص، وهو في الوقت الحاضر مدير منظمة البحوث الإسلامية وهي مؤسسة غير الحكومية التي تتوفر المتناول السهل إلى التعاليم الإسلامية وتطمح إلى الفكر المتوازن والتسامح العقائدي والأخوة الإسلامية العالمية -

أقام لبعض المدة بالحرمين الشريفين، فانشغل خلال هذه المدة في تلاوة القرآن والتدبر في آياته، فخطر بباله أن يرتب فهرساً لمواضيع القرآن، ثم تطور هذا الخيال في عزيمة أكيدة - فذلك العمل الذي بدأه بالعام ۱۹۷۸م في جوار الحرمين الشريفين المبارك قد كمل وهو الآن بأيديكم

محمد خالد (الفاروقی)

رئيس التحرير مجلة ”اذان“ العالمية - نیو یورک - امریکہ

اظہار تشکر

سب سے پہلے بندہ عاجز نہایت انکساری سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجالاتا ہے کہ جس نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید کی یہ خدمت مجھ گنہگار سے لی۔ اور دست بدعا ہے کہ ذات ذوالجلال والا کرام میری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور اسے تمام عالم دنیا میں انسانوں کیلئے ہدایت اور قرآن فیہی میں مدد کا باعث بنائے۔ آمین

اس عظیم کام کی خواہش کو منشور قرآن کی موجودہ شکل تک لانے میں کم و بیش دو عشروں پر محیط تحقیق کے دوران بہت سے اصحاب علم و دانش، کرم فرما اور احباب نے حتی المقدور تعاون فرمایا۔ جن سب کا ذکر یہاں ممکن نہیں کیونکہ ”حساب دوستان دردل“ ہیگن پھر بھی درج ذیل اصحاب گرامی کا ذکر ازل بس ضروری خیال کرتا ہوں جن کی مختلف النوع معاونت سے تالیف اشاعت کے جملہ مراحل طے ہوئے۔

جناب ریاض الرحمن قریشی (شعبہ عربی ادب زکریا یونیورسٹی) جنہوں نے ابجدی انڈکس عربی کی تیاری اور اس کتاب کے تمام انگریزی اور اردو عنوانات کو بڑے حسن طریق سے عربی میں منتقل کیا جس سے ”منشور قرآن“ کے سہ لسانی حسن میں اضافہ ہوا۔

جناب فرخ فیضان الحق (قلعہ دیدار سنگھ) جنہوں نے موجودہ ایڈیشن کے مسودہ کی پروف ریڈنگ کا کٹھن مرحلہ نہایت باریک بینی سے انجام دیا اور ملک ماجد کریم فاروق جنہوں نے نہایت محبت کے ساتھ مسودہ کی سکینڈ پروف ریڈنگ کی۔

موجودہ ایڈیشن کی از سر نو اردو، انگریزی کمپوزنگ اور قرآنی متن کی سکیننگ کے علاوہ کمپیوٹر گرافکس یقیناً جناب جام محمد انجم اور ان کے شاگرد رشید محمد حارث انصاری کی شبانہ روز محنت کا ثبوت ہے

منشور قرآن کی تکمیل کے لئے جہاں میرے مرحوم و مغفور والدین کی دعائیں میرے کام آئیں۔ وہاں ایک طویل عرصہ تک اہل خاندان کا تعاون بھی میری حوصلہ افزائی کا باعث بنا۔ یہ لکھنے میں حق بجانب ہوں کہ انگریزی ترجمہ کی تسہیل کا کام میری صاحبزادی عطیہ تھانوی اور سعدیہ ملک کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اس انڈکس کی تیاری میں میرے بیٹوں انجینئر ناصر ملک، انجینئر خضر ملک، عامر ملک اور میری دختر آنسہ انجینئر آسیہ ملک کی محنت قابل تحسین ہے۔ زندگی کے ایک طویل عرصہ پر محیط اس تحقیقی کام میں اپنی اہلیہ کے ہمہ وقت تعاون کا معترف ہوں اس سلسلہ میں بھائی ملک عبدالرحیم کی خدمات کا بھی ممنون احسان ہوں۔

اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے حوالہ سے ان سب ملکی اور غیر ملکی اداروں اور شخصیات کی ممنون ہے جنہوں نے اپنے پروگراموں اور جرائد کے ذریعہ منشور قرآن کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے میں مدد دی۔ جن میں ناصر شیخ روزنامہ جنگ کی کاوش قابل ذکر ہے۔

میری دعا ہے کہ ان سب قارئین اور مصنفین جن کی تجاویز و آراء اس ایڈیشن کی ترمیم میں مدد ثابت ہوئیں، کو (بشمول ان سب احباب کا جن کے اسمائے گرامی کا یہاں ذکر نہیں ہو سکا) اللہ تعالیٰ اس کام میں پر خلوص معاونت کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ اور اپنے کلام سے وابستگی پر انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور دنیا اور آخرت میں ان کے درجات بلند فرمائے (آمین)

مؤلف

کلمة الشکر

اولاً اشکر اللہ عزوجل بغایۃ العجز والتواضع علی توفیقہ ایای من عبد مذنب لخدمة القرآن المجید بفضلہ و کرمہ، وأسألہ أن یقبل عملی هذا وأن یجعل ”منشور القرآن“ معیناً لفہم القرآن للجمیع وجعلہ باعثاً لهدایة الناس (آمین)

أما تحقیق أمانة هذا العمل العظیم فی صورة منشور القرآن، والذي یمتد علی عشرين من الأعوام تقریباً فساعدنی فیہ کثیر من أهل العلم والنہی والمحسنین، ومدوا ید التعاون الیّ، ولس من الممكن أن أذكر کلهم فی هذا المكان المحدود، بل القلب هو مکانهم ولكن لا بدلی من ذکر بعضهم، فیما یلی۔ أنا أشکر شخصیا للأصدقاء المذكورین أدناه، علی تشجیعهم المتواصل وإرشادهم

أنا سعید أن (والدتی) لم تزل تدعو اللہ تعالیٰ لی لیلاً ونهاراً وكان الوالد غفر اللہ له ایضاً یدعولی، وكذلك أهل بیتی شجعونی بتعاونهم، ولا أستطیع قبل أطراح القلم إلا أن أذبح الشکر خالصاً إلی کل من ساعدنی فی تحسین وتصحیح عملی المتواضع، من أولى العلم والبصیرة وجهاً بذات أهل النظر الذین استفدت من آرائهم الغالیة فی تنظیم هذه الطبعة الثانية المنقحة، من هؤلاء الأستاذ ریاض الرحمن القرشی، قسم اللّغة العربیة وآدابها بجامعة زکریا بملتان، إنّه قام بترجمة جمیع العناوین الأردیة والإنکلیزیة إلی اللّغة العربیة و هكذا ین منشور القرآن بترتیب المسرد القبائی بالعربیة وزاده فی حسنہ وجماله، جزاه اللہ منی أحسن الجزاء۔

ولا یفوتنی ذکر أن انی عطیة التهانوی لولا مدّت یدالتعاون فی تسهیل الترجمة الانکلیزیة لما استکملت هذا العمل الدقیق، وكذلك قام بمساعدتی ابنی المهندس خضر ملک فی تجهیز الفهرس الأبجدی، وساعدنی ابنی المهندس ناصر ملک فی تنظیم العناوین، وهكذا اشترک فی عمل قراءة البروفة الطباعیة ابنتای سعیدیہ ملک والآنسة آسیة ملک وابنی الأصغر عامر ملک،

وفی الجملة أنا أدعو للجمیع من أهل العلم والحکمة والمحسنین والأصدقاء وأهل البیت، ذکرت اسمائهم ههنا أولم تذکر، أدعو لهم أن یمن اللہ تعالیٰ علیهم بالأجر والرحمات فی الدنیا والآخرة (آمین)

مؤلف

الملحوظة
(للقرّاء باللغتين العربية وأردية)

يُرجى فتح الكتاب هذا من اليمن إلى اليسار

ضروری ہدایت
برائے قارئین اردو

اس صفحہ کے بعد کتاب کو انگریزی ادب کے اسلوب کے مطابق
بائیں جانب سے کھول کر پڑھنا شروع کریں

**INSTRUCTION
FOR URDU AND ARABIC READERS**

From this page onward,
Consult this book, from left to right
like the books of English literature.

**INSTRUCTION
FOR ENGLISH READERS**

From this page onward,
Consult this book, from right to the left
like other books of Arabic and Urdu literature.

Acknowledgement

First of all, I bow down, in adoration, before Allah (SWT) in gratitude that He got this service with His Grace and Mercy, from a sinful man like me, and then raise my hands to beseech that the Lord of Mighty and Glory, may Bless this work with acceptance, and may make this "QURANIC PRISM" for all mankind, a source of understanding of Holy Quran and Islam- Aamin.

During this research work that continued for about two decades, a good many men of knowledge and wisdom have lent their heartily cooperation in turning the desire of this noble work into the present shape of "QURANIC PRISM". It is not possible to mention them all in this limited space, because as a Persian saying goes "friends have their accounts in the hearts" "حساب دوستان در دل". Even then I cannot help expressing my earnest thanks to the following, for their learned assistance, with diligence and devotion.

Professor Riaz-ur-Rehman Qureshi, Faculty of Arabic literature, B-Z University Multan, who lent his expertise of Arabic interpretation of Urdu and English Headings and formatting Arabic Alphabetical Index to style this book as "Tri-lingual".

Mr. Farrukh Fezan-ul-Haq (Qila Didar Singh) Gujranwala, for voluntary, contribution for scrupulous proof reading, and Malik Majed Karim Farooq for a precise successive reading of script, which helped me to conceive and plan this revision.

I also owe gratitude to all the talented readers, reviewers, commentators, whose feed back; suggestions helped me to improve this edition. My deep gratitude is merited, by all personalities of prestigious National and International news, electronic and print media, who focused the aims and objectives of IRF and highlighted its scholastic achievements through their channels and periodicals.

Whereas the prayers of my parents sustained me throughout the compilation of "QURANIC PRISM", the cooperation of my whole family has been a constant source of encouragement for me. I do not hesitate to acknowledge that the task of modernizing the archaic style of meaning of translation of Holy Quran would not have been possible without the help of my daughter Attiya Thanvi, and it gives me genuine pleasure to acknowledge the hard labour of my daughters Saadiya and Aasea Malik and my sons Engr; Naasir Malik and Engr; Khyzer Malik, Aamir Malik, who collaborated in this compilation, besides the ever ready help of brother A. Raheem Malik Most specially I would like to appreciate my wife, for putting up with me during the long time, it took to accomplish.

I invoke to Allah Almighty to Bless these all (including those not mentioned here) with Recompense, for their contribution they made to this noble work.

Compiler

About the Compiler

Abdul Hakeem Malik, born at Muzaffargarh, South Punjab, Pakistan in 1946, a qualified Engineer by profession, and Corporate Member of Institute of Engineers Pakistan as well as Associate Member of Electrical and Electronic Engineers of Pakistan. Besides he did his Master's Degree and Law graduation from University of the Punjab.

Widely travelled through USA, UK, France, Norway, Sweden, U.A.E, Canada and Saudi Arabia as a devotee of Islam and presently Managing Director, Islamic Research Foundation Pakistan. (A Non-Government organization devoted to, Educational and social welfare activities.)

He had an opportunity to stay for a fairly long time in the land of Holy Sanctuaries (Haramain Sharifain) where he devoted himself to the study of Holy Qur'an and reflected whole heartedly in the wisdom enshrined in the Divine Book. He thought of compiling a "Subject Index" of the Holy Qur'an. His firm determination turned into action and a resolute, steadfast work culminated into this Unique, Most Comprehensive Trilingual Index titled "Qur'anic Prism"

Muhammad Khalid Farooqi
Chief Editor "AZAN" International,
New York, USA

BIBLIOGRAPHY

1. The Holy Quran, (Translation and Exposition), Muhammad Marma Duke Pickthal
2. The Holy Quran, (Translation and Elucidation), Allama Abdullah Yousaf Ali
3. The Message of Quran, (Translation and Commentary), Dr. Muhammad Asad, (Dr. Leopold Weiss) Dar-ul-Andalus, Gibraltar
4. The Noble Quran, (Translation) Al-Haj Dr. Thomas B. Irving, Canada.
5. The Noble Quran, (Translation and Commentary), Muhammad Taqi ud Din Al-Hillali
6. The Holy Quran, (Translation and Explication) Al-Haj Hafiz Ghulam Sarwar
7. Tafsir-I-Quran, (Translation and Exegesis) Maulana Abdul Majid Darya Abadi
8. The Holy Quran, (Translation and Annotations) Agha Muhammad Yaqoob
9. The Holy Quran, (Translation) Supreme Sunni and Shaia, (Darul Choura), Lebanon
10. Islam (Meaning, objective & legislative), Dr. Abdullah Muhammad Khouj Islamic Center, Washington, D.C
11. The Noble Quran (Translation) by Abdul Huq and Aisha Bewley Norwich - UK
12. Islam relationship with Christianity & Judaism, Dr. Assad Nimr Basool, Quran Society Chicago
13. The Four Pillars of Islam, Syed Abdul Hussain Ali Nadvi
14. Dawah Program & Objectives, Shamim A Qureshi, ICNA- New York
15. What Christians and Muslims should know about themselves, Robert W Mond New York,
16. Blasphemy & Apostasy, Muhammad Asrar Madni
17. The Fountains of Tauheed, Abu- Ameenah Bilal Philips, KSA
18. Islamic Science & Publics Politics, S. Waqar Ahmed Hussaini
19. An Alchemy of Letters, Ahmed Moustafa, Black Heath, London,
20. Quranic Sciences, Afzal-ur-Rehman, Muslims Schools Trust, London
21. Water Resources Science and Engineering in the Quran., Dr. Waqar Ahmed Hussaini, California.
22. The Seed and Sperm, Muhammad Abbas Nadeem, United Kingdom
23. Scientific Trends in the Quran, Ahmed Muhammad Soliman
24. Scientific Wisdom in Holy Quran, Engineer Ahmed Nawaz Cheema
25. The Astonishing Truth of the Holy Quran, Iftakhar Bano Hassan, UK
26. Verses from the Holy Kuran and the Facts of Science, Dr. Haluk Nurbaki, Turkey
27. Islam Futurism and Futuristic, Dr. Raja Ikram Azam,
28. What the Bible says about Muhammad (SAAS), Ahmed Deedat
29. The Holy Quran's Message to Jews and Christians, Sr. Arafat El- Ashi
30. Al-Quran The Miracle of Miracles to Christ (BBUH), Ahmed Deedat
31. Islam A Contemporary Perspective, Muhammad Ahmedullah Siddique, NAAMPS, Delhi
32. Islam Beliefs Teachings, Ghulam Sarwar, Da'wa Academy
33. Quran Bible and Science, Dr. Maurice Baucaille
34. Islam and Evolution of Science, Dr. Muhammad Saud
35. Muhammad (SAAS) The Natural Successor to Christ (PBUH), Ahmed Deedat
36. Quranic Ayat containing reference to Science and technologies, M.M Qureshi, SM Bhutta, SM Jaffar
37. Hamdard Islamicus, Bait-ul-Hikmah
38. The American Journal of Islamic Social Sciences, International Institute of Islamic Thoughts
39. Da'wah Highlights, Da'wah Academy, International Islamic University.
40. Dictionary of Islam, Thomas Patrick Hughes
41. Towards Islamic English, Ismail Raji, Al-Faruqi, I.I.I.T-Virginia.
42. Hilli's Medical Dictionary (English-Arabic), Beirut.
43. Dictionary of Scientific and Technical Terms (English-Arabic) Lebanon.
44. Franklin's Language Master-Webster's Speaking Dictionary and Thesaurus.
45. The Sealed Nectar, Safi-ur-Rahman Mubarkpuri.
46. Stories from the Qur'an, Hifz-ur-Rahman Sevharvi.
47. The Glory of Muhammad, Mian Abid Majeed.
48. Atlas of Qur'an, Dr: Shauqi. Abu Khalil.
49. Atlas of the Prophet's Biography, Dr: Shauqi Abu Khalil.

For Bibllography of Urdu (کتابیات) Consult Page 1201
For Bibllography of Arabic (المصادر والمراجع) Consult Page 1202

السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ
		511	92	8	498			688	101	4	785	الكوثر		
89	21	834	92	9	498	96	5	439	101	5	794	Good in Abundance-Plenty		
89	22	834	92	10	498			688	101	6	808		108	1
89	23	887	92	11	498	96	6	411	101	7	808			870
89	24	826	92	12	498	96	7	411	101	8	808		108	2
89	25	826	92	13	498	96	8	781	101	9	808			260
89	26	827	92	14	887	96	9	628			888		108	3
89	27	417			889	96	10	628	101	10	888	الکافرون		
		865	92	15	887	96	11	628	101	11	888	Disbelievers		
89	28	417	92	16	887	96	12	628					109	1
		865	92	17	887	96	13	628	الکافر			Greed for More and More Competition		
89	29	865	92	18	266	96	14	628					109	2
89	30	865			284	96	15	628	102	1	424			611
البلد			92	19	267	96	16	628	102	2	424		109	3
The Countryside-The Land					284	96	17	628	102	3	424			611
90	1	624	92	20	267	96	18	628	102	4	424		109	4
90	2	624			284	96	19	628	102	5	424			611
90	3	411	92	21	267	القدر			102	6	424		109	5
90	4	411			284	Destiny-Power			102	7	424			611
90	5	430	الضحی						102	8	302	المصير		
90	6	430	The Bright Morning Hours			97	1	210				The Flight of Time-Evening		
90	7	430		93	1	741	97	2	264	103	1	487		
90	8	404		93	2	741	97	3	264			631		
90	9	404		93	3	741	97	4	264	103	2	487		
90	10	404		93	4	371	97	5	264			631		
90	11	415			741	العنکبوت				103	3	487		
90	12	415		93	5	741	The Evidence of the Truth					631		
90	13	271		93	6	741	98	1	242			631		
		463		93	7	741	98	2	242					
90	14	282		93	8	741	98	3	242					
90	15	282		93	9	460	98	4	242					
90	16	282		93	10	281	98	5	265					
90	17	282		93	11	300			768					
90	18	282					98	6	857					
90	19	237					98	7	770					
90	20	237					98	8	307					
الشمس														
The Sun														
91	1	331												
91	2	331												
91	3	333												
91	4	333												
91	5	323												
91	6	323												
91	7	401												
91	8	417												
		775												
91	9	417												
		775												
91	10	417												
		775												
91	11	939												
91	12	940												
91	13	940												
91	14	940												
91	15	940												
الليل														
The Night														
92	1	333												
92	2	333												
92	3	359												
92	4	768												
92	5	768												
92	6	768												
92	7	768												

حوالہ اور رہنمائی کے لیے
دیکھیے صفحہ 1171

For more
reference and
further guidance
Consult Page
1171

وللتفصيل المزيد
راجع الصفحة
1171

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
		434
78	10	336
78	11	336
		434
78	12	323
78	13	331
78	14	354
		356
78	15	354
		356
78	16	354
		356
78	17	787
78	18	791
78	19	793
78	20	794
78	21	886
78	22	886
78	23	886
78	24	891
		897
78	25	891
		898
78	26	891
78	27	824
78	28	825
78	29	369
78	30	825
		901
78	31	863
78	32	873
78	33	877
78	34	873
78	35	883
78	36	883
78	37	815
78	38	815
78	39	787
78	40	887
		901
79	1	377
79	2	377
79	3	377
79	4	377
79	5	377
79	6	791
79	7	791
79	8	797
79	9	797
79	10	781
79	11	781
79	12	781
79	13	789
79	14	789
79	15	1015
79	16	1015
79	17	1015
79	18	1015
79	19	1021
79	20	1021
79	21	1021
79	22	1021
79	23	1021
79	24	1021
79	25	1021

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
79	26	1005
79	27	324
		394
79	28	324
79	29	333
79	30	326
		354
79	31	354
79	32	338
79	33	360
79	34	886
79	35	886
79	36	886
79	37	422
79	38	422
79	39	422
79	40	307
		417
79	41	307
		417
79	42	783
79	43	783
79	44	783
79	45	783
79	46	813
		801
80	1	634
		690
80	2	634
		690
80	3	634
		690
80	4	690
80	5	689
80	6	689
80	7	690
80	8	690
80	9	690
80	10	690
80	11	211
80	12	211
80	13	212
80	14	212
80	15	212
80	16	212
80	17	408
80	18	397
80	19	398
80	20	398
80	21	775
80	22	776
80	23	450
		776
80	24	450
80	25	346
80	26	353
80	27	353
80	28	353
80	29	353
		357
80	30	354
80	31	354
80	32	354
80	33	816
80	34	816

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
80	35	817
80	36	817
80	37	817
80	38	803
80	39	803
80	40	803
80	41	803
80	42	803
		801
81	1	795
81	2	795
81	3	794
81	4	790
81	5	790
81	6	795
81	7	457
81	8	457
81	9	457
81	10	457
81	11	793
81	12	886
81	13	804
81	14	804
81	15	332
81	16	332
81	17	333
81	18	333
81	19	209
81	20	209
81	21	209
81	22	200
81	23	687
81	24	164
		687
81	25	235
81	26	235
81	27	225
81	28	225
81	29	370
		413
82	7	400
		1159
82	8	401
		1159
82	9	379
82	10	379
82	11	379
82	12	379
82	13	862
82	14	886
82	15	886
82	16	886
82	17	818
82	18	818
82	19	818

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
83	1	486
83	2	486
83	3	486
83	4	486
83	5	486
83	6	486
83	7	801
83	8	801
83	9	801
83	10	801
83	11	825
83	12	825
83	13	825
83	14	825
83	15	825
83	16	825
83	17	423
		801
83	18	800
83	19	800
83	20	800
83	21	800
83	22	800
83	23	883
83	24	883
83	25	871
83	26	871
83	27	872
83	28	872
83	29	841
83	30	841
83	31	841
83	32	841
83	33	841
83	34	841
83	35	841
83	36	841
84	1	793
84	2	793
84	3	792
84	4	792
84	5	792
84	6	835
84	7	800
84	8	800
84	9	800
84	10	801
84	11	801
84	12	801
84	13	423
84	14	423
84	15	423
84	16	166
84	17	166
84	18	166
84	19	166
84	20	216
84	21	216
84	22	216
84	23	216
84	24	216

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
84	25	471
		471
85	1	1113
85	2	1113
85	3	1113
85	4	1113
85	5	1113
85	6	1113
85	7	1113
85	8	1113
85	9	1113
85	10	482
		557
		1114
85	11	863
85	12	126
85	13	116
85	14	105
85	15	105
85	16	106
85	17	684
85	18	684
85	19	684
85	20	684
85	21	212
85	22	212
86	1	329
86	2	329
86	3	329
86	4	379
86	5	402
		1159
86	6	395
86	7	395
86	8	117
86	9	807
86	10	807
86	11	346
86	12	347
86	13	223
86	14	223
86	15	757
86	16	757
86	17	757
87	1	401
		1159
87	2	401
		1159
87	3	401
87	4	352
87	5	352
87	6	211
87	7	211
87	8	631
87	9	631
87	10	307
87	11	307
87	12	899
87	13	899

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
87	14	250
		417
87	15	250
87	16	430
87	17	430
87	18	240
		430
		946
87	19	240
		430
		946
88	1	803
88	2	803
88	3	803
88	4	803
		898
88	5	893
88	6	890
88	7	890
88	8	867
88	9	867
88	10	867
88	11	883
88	12	883
88	13	880
88	14	873
88	15	881
88	16	881
88	17	362
88	18	321
88	19	321
88	20	321
88	21	741
88	22	741
88	23	821
88	24	821
88	25	821
88	26	821
89	1	1142
89	2	1142
89	3	1142
89	4	1142
89	5	1142
89	6	934
89	7	929
89	8	929
89	9	936
89	10	684
		1040
89	11	684
		1040
89	12	1034
89	13	1034
89	14	126
		1034
89	15	412
89	16	413
89	17	460
89	18	464
89	19	511
89	20	411

Marfat.com

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
69	39	209
69	40	209
69	41	235
69	42	235
69	43	207
		235
69	44	235
69	45	236
69	46	236
69	47	236
69	48	223
		226
69	49	225
69	50	225
69	51	213
69	52	103
		294
المعارج The Ways of Ascension		
70	1	787
		857
70	2	787
		857
70	3	328
		787
70	4	328
		798
70	5	740
		798
70	6	784
70	7	784
70	8	793
70	9	794
70	10	816
70	11	816
70	12	816
70	13	816
70	14	816
70	15	486
70	16	486
70	17	486
70	18	487
70	19	410
70	20	410
70	21	410
70	22	767
70	23	767
70	24	272
		767
70	25	272
		767
70	26	767
70	27	767
70	28	767
70	29	537
		765
70	30	540
		765
70	31	540
		765
70	32	765
70	33	767
70	34	765
70	35	767
70	36	863
70	37	863

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
70	38	863
70	39	863
70	40	324
70	41	130
70	42	741
70	43	796
70	44	796
نوح Nooh		
71	1	919
71	2	919
71	3	919
71	4	919
71	5	922
71	6	922
71	7	922
71	8	922
71	9	920
71	10	261
		313
		435
71	11	261
		313
		435
		920
71	12	314
		435
		920
71	13	400
		920
71	14	400
		920
71	15	323
		920
71	16	331
		920
71	17	920
71	18	920
71	19	920
71	20	920
71	21	922
71	22	923
71	23	590
		917
71	24	923
71	25	684
		928
71	26	923
71	27	923
71	28	923
		1118
الجن Sprites-The Unseen Beings		
72	1	691
72	2	691
72	3	135
		691
72	4	160
		691
72	5	160
		691
72	6	160
		692
72	7	692

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
72	8	692
72	9	692
72	10	692
72	11	381
72	12	692
72	13	691
72	14	381
72	15	381
72	16	392
		435
72	17	392
72	18	622
72	19	611
72	20	611
72	21	611
72	22	611
72	23	741
72	24	782
72	25	783
72	26	109
72	27	109
72	28	109
المرسل The Enwrapped One		
73	1	261
73	2	261
73	3	261
73	4	216
73	5	261
73	6	261
73	7	261
73	8	261
73	9	324
73	10	741
73	11	757
73	12	894
73	13	890
73	14	794
73	15	177
73	16	684
		1039
73	17	798
73	18	793
73	19	225
73	20	434
		437
		768
المساقم The Cloaked Ones-Infolded One		
74	1	164
74	2	164
74	3	294
		1129
74	4	253
74	5	253
74	6	480
74	7	480
74	8	791
74	9	827
74	10	827
74	11	425
74	12	425
74	13	425
74	14	409
		425

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
74	15	409
		425
74	16	425
		889
74	17	425
		889
74	18	855
74	19	855
74	20	855
74	21	855
74	22	855
74	23	855
74	24	234
		855
74	25	855
74	26	855
		888
74	27	855
		888
74	28	888
74	29	888
74	30	888
		896
74	31	896
74	32	898
74	33	898
74	34	898
74	35	899
74	36	899
74	37	471
74	38	471
74	39	840
74	40	259
		840
74	41	259
		840
74	42	259
		840
74	43	260
		840
74	44	840
74	45	840
74	46	840
74	47	840
74	48	815
74	49	824
74	50	824
74	51	824
74	52	824
74	53	824
74	54	824
74	55	824
74	56	824
المماتة Resurrection		
75	1	781
75	2	417
75	3	570
		781
75	4	570
		781
75	5	796
75	6	796
75	7	796
75	8	794
75	9	795

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
75	10	797
75	11	797
75	12	797
75	13	809
75	14	809
75	15	809
75	16	211
		216
75	17	211
75	18	211
75	19	211
75	20	421
75	21	422
75	22	802
75	23	803
75	24	803
75	25	803
75	26	774
75	27	774
75	28	774
75	29	797
75	30	797
75	31	797
75	32	797
75	33	797
75	34	797
75	35	797
75	36	403
75	37	396
75	38	396
75	39	396
		396
75	40	781
الانشقاق The Splitting		
76	1	400
76	2	395
76	3	301
76	4	894
76	5	871
76	6	871
76	7	285
76	8	282
76	9	286
76	10	286
76	11	286
76	12	879
76	13	883
76	14	875
76	15	872
76	16	872
76	17	871
76	18	870
76	19	878
76	20	863
76	21	879
76	22	879
76	23	210
76	24	552
76	25	261
76	26	261
76	27	422
76	28	422
76	29	422
76	30	370
		416

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
76	31	370
الانعام The Beneficence		
77	1	349
77	2	349
77	3	349
77	4	349
77	5	377
77	6	377
77	7	787
77	8	795
77	9	793
77	10	794
77	11	810
77	12	810
77	13	810
77	14	824
77	15	824
77	16	131
77	17	131
77	18	131
77	19	824
77	20	395
77	21	398
77	22	398
77	23	398
77	24	824
77	25	326
77	26	326
77	27	347
77	28	824
77	29	897
77	30	897
77	31	897
77	32	898
77	33	898
77	34	824
77	35	830
77	36	830
77	37	824
77	38	902
77	39	902
77	40	824
77	41	881
77	42	874
77	43	874
77	44	875
77	45	824
77	46	422
77	47	824
77	48	806
77	49	806
		824
77	50	210
الاعراف The Seven Circles		
78	1	785
78	2	785
78	3	785
78	4	785
78	5	785
78	6	338
78	7	338
78	8	547
78	9	336

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
56	74	103
56	75	215
56	76	215
56	77	215
56	78	215
56	79	215
56	80	207
56	81	239
56	82	239
56	83	774
56	84	774
56	85	774
56	86	774
56	87	774
56	88	639
		762
56	89	639
		873
56	90	881
56	91	881
56	92	892
56	93	892
56	94	892
56	95	892
56	96	103
57	1	113
57	2	116
57	3	113
57	4	322
57	5	366
57	6	108
57	7	275
57	8	716
57	9	224
57	10	717
57	11	277
57	12	863
57	13	841
57	14	841
57	15	842
57	16	218
57	17	352
57	18	278
57	19	758
57	20	427
57	21	313
57	22	369
57	23	305
		479
57	24	497
57	25	339
		647
57	26	637
57	27	434
		601
57	28	175
		307
57	29	390
58	1	524
58	2	525
58	3	525

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
58	4	525
		564
58	5	563
58	6	110
58	7	112
58	8	745
58	9	448
58	10	303
58	11	447
58	12	184
58	13	184
58	14	613
58	15	613
58	16	572
58	17	816
58	18	572
58	19	296
58	20	186
58	21	177
58	22	187
		563
		614
		763
59	1	113
59	2	707
59	3	707
59	4	186
		707
59	5	707
59	6	669
59	7	174
		669
		760
59	8	669
59	9	273
		283
59	10	1124
59	11	666
59	12	667
59	13	654
59	14	655
59	15	702
		752
59	16	750
59	17	750
59	18	307
59	19	297
59	20	862
59	21	210
59	22	134
59	23	102
59	24	102
60	1	613
60	2	613
60	3	816
60	4	950
		1119
60	5	1119
60	6	129
60	7	118
60	8	585

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
		615
		587
		667
60	9	666
60	10	518
		714
60	11	519
		714
60	12	176
60	13	776
61	1	113
61	2	473
		632
61	3	473
		632
61	4	649
61	5	1054
61	6	164
61	7	849
61	8	95
61	9	96
61	10	644
61	11	644
61	12	644
		863
61	13	656
61	14	1101
62	1	113
62	2	165
62	3	180
62	4	390
62	5	442
		595
62	6	599
62	7	600
62	8	772
62	9	256
		487
62	10	257
62	11	257
63	1	749
63	2	572
63	3	750
63	4	751
63	5	749
63	6	751
63	7	743
63	8	182
63	9	423
63	10	276
63	11	772
64	1	113
64	2	402
64	3	372
64	4	108

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
64	5	683
64	6	190
64	7	781
64	8	110
64	9	820
64	10	854
64	11	158
64	12	172
64	13	303
64	14	426
64	15	423
64	16	278
64	17	276
64	18	109
65	1	527
		530
65	2	528
65	3	388
65	4	532
65	5	532
65	6	533
65	7	393
		496
		534
65	8	683
65	9	683
65	10	683
65	11	868
65	12	325
66	1	727
66	2	727
66	3	727
66	4	177
		727
66	5	727
66	6	444
		886
		455
		632
66	7	820
		830
66	8	317
		831
		1125
66	9	643
66	10	545
		927
66	11	545
		1008
66	12	545
		1093
		1095
67	1	366
67	2	403
67	3	323
67	4	324
67	5	331
67	6	898

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
67	7	898
67	8	896
67	9	897
67	10	897
67	11	897
67	12	307
		417
67	13	108
67	14	110
67	15	389
67	16	310
		784
67	17	310
67	18	824
67	19	364
67	20	654
67	21	392
67	22	153
67	23	410
67	24	834
67	25	754
67	26	755
67	27	755
67	28	740
67	29	740
67	30	348
		450
68	1	173
		439
68	2	200
68	3	173
68	4	173
68	5	200
68	6	200
68	7	110
68	8	317
		740
68	9	740
68	10	470
68	11	476
68	12	497
68	13	425
		477
68	14	425
68	15	855
68	16	855
68	17	1108
68	18	1108
68	19	1108
68	20	1108
68	21	1108
68	22	1108
68	23	1108
68	24	1108
68	25	1108
68	26	1108
68	27	1108
68	28	1109
68	29	1109
68	30	1109
68	31	1109
68	32	1109
68	33	1109
68	34	867

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
68	35	85
68	36	85
68	37	85
68	38	85
		114
68	39	85
		114
68	40	84
68	41	84
68	42	80
68	43	80
68	44	75
68	45	75
68	46	74
68	47	74
68	48	1086
68	49	1086
68	50	108
68	51	179
68	52	224
69	1	785
69	2	785
69	3	785
69	4	785
		942
69	5	942
69	6	934
69	7	934
69	8	934
69	9	684
		1039
69	10	684
		1039
69	11	926
69	12	926
		1040
69	13	791
69	14	791
69	15	792
69	16	792
69	17	832
69	18	807
69	19	799
69	20	800
69	21	800
69	22	875
69	23	875
69	24	875
69	25	801
69	26	801
69	27	801
69	28	801
69	29	801
69	30	894
69	31	894
69	32	894
69	33	283
69	34	283
69	35	283
69	36	283
		891
69	37	283
		891
69	38	209

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
51	37	970
51	38	1021
51	39	1021
51	40	1039
51	41	934
51	42	934
51	43	942
51	44	942
51	45	942
51	46	683
51	47	323
51	48	323
51	49	351
51	50	170
51	51	739
51	52	202
51	53	203
51	54	739
51	55	740
51	56	405
51	57	405
51	58	390
51	59	755
51	60	827
الطور		
The Mount Sinai		
52	1	795
52	2	795
52	3	795
52	4	795
52	5	795
52	6	795
52	7	795
52	8	795
52	9	792
52	10	794
52	11	824
52	12	895
52	13	895
52	14	895
52	15	895
52	16	895
52	17	866
52	18	867
52	19	867
52	20	876
52	21	454
52	22	869
52	23	871
52	24	878
52	25	881
52	26	882
52	27	884
52	28	884
52	29	200
52	30	199
52	31	740
52	32	740
52	33	229
52	34	232
52	35	229

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
52	36	230
52	37	230
52	38	230
52	39	137
52	40	137
52	41	137
52	42	137
52	43	134
52	44	197
52	45	757
52	46	902
52	47	556
52	48	295
52	49	295
النجم		
The Star-The Unfolding		
53	1	174
53	2	174
53	3	174
53	4	174
53	5	687
53	6	687
53	7	687
53	8	687
53	9	687
53	10	687
53	11	687
53	12	687
53	13	689
53	14	689
53	15	689
53	16	689
53	17	689
53	18	689
53	19	590
53	20	590
53	21	137
53	22	137
53	23	138
53	24	415
53	25	415
53	26	177
53	27	138
53	28	138
53	29	430
53	30	110
53	31	403
53	32	120
53	33	278
53	34	278
53	35	278
53	36	246
53	37	905
53	38	818
53	39	440
53	40	440
53	41	440

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
53	42	674
53	43	119
53	44	116
53	45	359
53	46	396
53	47	780
53	48	119
53	49	329
53	50	683
53	51	683
53	52	683
53	53	683
53	54	683
53	55	410
53	56	169
53	57	784
53	58	817
53	59	217
53	60	217
53	61	217
53	62	114
القمر		
The Moon		
54	1	688
54	2	688
54	3	98
54	4	740
54	5	740
54	6	740
54	7	796
54	8	796
54	9	922
54	10	922
54	11	925
54	12	925
54	13	924
54	14	925
54	15	925
54	16	925
54	17	214
54	18	934
54	19	934
54	20	934
54	21	934
54	22	214
54	23	938
54	24	938
54	25	938
54	26	939
54	27	940
54	28	940
54	29	940
54	30	938
54	31	942
54	32	214
54	33	202
54	34	970
54	35	970

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
54	36	968
54	37	968
54	38	968
54	39	969
54	40	214
54	41	683
54	42	683
54	43	820
54	44	820
54	45	820
54	46	824
54	47	824
54	48	894
54	49	369
54	50	105
54	51	856
54	52	248
54	53	369
54	54	866
54	55	866
الرحمن		
The Most Gracious		
55	1	455
55	2	455
55	3	404
55	4	404
55	5	332
55	6	114
55	7	322
55	8	486
55	9	486
55	10	326
55	11	358
55	12	353
55	13	102
55	14	395
55	15	381
55	16	102
55	17	324
55	18	102
55	19	344
55	20	344
55	21	342
55	22	342
55	23	102
55	24	340
55	25	340
55	26	104
55	27	104
55	28	102
55	29	129
55	30	102
55	31	327
55	32	102
55	33	327

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
55	34	102
55	35	898
55	36	102
55	37	792
55	38	102
55	39	802
55	40	102
55	41	802
55	42	102
55	43	892
55	44	892
55	45	102
55	46	874
55	47	102
55	48	874
55	49	102
55	50	870
55	51	102
55	52	874
55	53	102
55	54	874
55	55	102
55	56	876
55	57	102
55	58	876
55	59	102
55	60	876
55	61	102
55	62	874
55	63	102
55	64	874
55	65	102
55	66	871
55	67	102
55	68	873
55	69	102
55	70	876
55	71	102
55	72	876
55	73	102
55	74	876
55	75	102
55	76	880
55	77	102
55	78	105
الواقعات		
Inevitable		
56	1	787
56	2	787
56	3	791
56	4	791
56	5	794
56	6	794
56	7	639
56	8	799
56	9	800
56	10	639
56	11	639
56	12	639
56	13	639
56	14	639

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
56	15	878
56	16	878
56	17	878
56	18	872
56	19	871
56	20	874
56	21	869
56	22	877
56	23	877
56	24	877
56	25	883
56	26	883
56	27	873
56	28	873
56	29	873
56	30	873
56	31	873
56	32	874
56	33	874
56	34	880
56	35	877
56	36	877
56	37	877
56	38	639
56	39	639
56	40	639
56	41	800
56	42	800
56	43	800
56	44	801
56	45	780
56	46	780
56	47	780
56	48	780
56	49	780
56	50	780
56	51	506
56	52	506
56	53	507
56	54	892
56	55	892
56	56	892
56	57	780
56	58	399
56	59	399
56	60	130
56	61	130
56	62	402
56	63	352
56	64	352
56	65	352
56	66	352
56	67	352
56	68	347
56	69	347
56	70	347
56	71	355
56	72	355
56	73	355

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
43	53	1021
43	54	1039
43	55	1039
43	56	1039
43	57	604
		110 4
43	58	604
		110 4
43	59	604
		110 4
43	60	604
		110 4
43	61	1103
43	62	1100
43	63	1100
43	64	294
43	65	600
43	66	600
43	67	845
43	68	882
43	69	515
43	70	516
43	71	872
43	72	862
43	73	874
43	74	900
43	75	901
43	76	901
43	77	899
43	78	899
43	79	899
43	80	378
43	81	137
43	82	137
43	83	849
43	84	134
43	85	366
		782
43	86	177
43	87	144
43	88	739
43	89	739
السجدة Smoke		
44	1	209
44	2	209
44	3	209
44	4	209
44	5	167
44	6	167
44	7	104
44	8	116
44	9	793
44	10	793
44	11	793
44	12	828
44	13	828
44	14	199
44	15	126
44	16	126
44	17	1037
44	18	1037
44	19	1037
44	20	1022
44	21	1022
44	22	1033

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
44	23	1035
44	24	1035
44	25	1040
44	26	1040
44	27	1040
44	28	104 1
44	29	1041
44	30	597
44	31	1041
44	32	597
44	33	597
44	34	779
44	35	779
44	36	779
44	37	1115
44	38	372
44	39	372
44	40	791
44	41	816
44	42	122
44	43	506
		889
44	44	506
		889
44	45	891
44	46	891
44	47	892
44	48	892
44	49	892
44	50	892
44	51	879
44	52	879
44	53	879
		881
44	54	876
44	55	874
44	56	868
44	57	869
44	58	231
44	59	739
الجمعة Kouling		
45	1	207
45	2	207
45	3	326
45	4	360
45	5	349
45	6	854
45	7	854
45	8	854
45	9	237
45	10	849
45	11	237
45	12	342
45	13	337
		367
45	14	757
45	15	673
45	16	597
45	17	617
45	18	610
45	19	611
45	20	226
45	21	772
45	22	821
45	23	415

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
45	24	551
45	25	780
45	26	822
45	27	832
45	28	799
45	29	799
45	30	471
45	31	823
45	32	823
45	33	823
45	34	901
45	35	901
45	36	101
45	37	368
الأحزاب The Sand Dunes		
46	1	207
46	2	207
46	3	372
46	4	144
46	5	141
46	6	845
46	7	234
46	8	229
46	9	739
46	10	163
		243
46	11	234
46	12	247
46	13	304
46	14	861
46	15	400
		451
		533
		453
		456
		1123
46	16	454
46	17	452
46	18	453
46	19	820
46	20	421
46	21	930
46	22	933
46	23	933
46	24	933
46	25	933
46	26	929
46	27	682
46	28	682
46	29	690
46	30	691
46	31	691
46	32	128
46	33	326
46	34	823
46	35	739
محمد Muhammad		
47	1	627
47	2	163
		436
		641
47	3	641
47	4	588

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
		659
		667
47	5	659
47	6	659
47	7	654
47	8	854
47	9	854
47	10	437
47	11	143
47	12	449
47	13	429
47	14	415
47	15	870
		892
47	16	482
		744
47	17	472
47	18	788
47	19	314
47	20	645
		661
47	21	661
47	22	676
47	23	662
47	24	854
47	25	385
47	26	111
47	27	774
47	28	774
47	29	663
47	30	663
47	31	663
47	32	161
47	33	172
47	34	627
47	35	664
47	36	419
47	37	497
47	38	129
		497
التكوير Victory		
48	1	178
		713
48	2	178
		714
48	3	178
		714
48	4	654
48	5	868
48	6	752
48	7	368
48	8	169
48	9	187
48	10	170
		760
48	11	729
48	12	716
48	13	170
48	14	123
48	15	715
48	16	715
48	17	645
48	18	713
		760
48	19	715

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
48	20	713
48	21	715
48	22	713
48	23	713
48	24	717
48	25	716
48	26	715
48	27	717
48	28	95
		99
48	29	163
		247
		249
		758
الاحزاب The Private Apartments		
49	1	183
49	2	183
49	3	183
49	4	182
49	5	182
49	6	470
49	7	167
49	8	167
49	9	621
		761
49	10	620
49	11	317
		480
		582
49	12	476
		481
49	13	549
		582
49	14	96
		728
49	15	170
		650
49	16	109
49	17	90
49	18	109
ق Qaf (The Letter)		
50	1	1142
50	2	780
50	3	780
50	4	780
50	5	780
50	6	324
50	7	338
50	8	338
50	9	346
		356
50	10	358
50	11	346
50	12	1114
50	13	1114
50	14	997
50	15	780
50	16	111
50	17	378
50	18	379
50	19	774
50	20	791
50	21	806

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
50	22	806
50	23	806
50	24	302
		849
50	25	481
		849
50	26	849
50	27	838
50	28	838
50	29	371
50	30	887
50	31	884
50	32	884
50	33	884
50	34	884
50	35	876
50	36	429
50	37	223
50	38	327
50	39	295
50	40	295
50	41	789
50	42	789
50	43	116
50	44	791
50	45	739
الفاتحة The Winning - Dust Scattering Winds		
51	1	350
51	2	350
51	3	350
51	4	350
51	5	823
51	6	823
51	7	823
51	8	823
51	9	823
51	10	823
51	11	823
51	12	823
51	13	823
51	14	823
51	15	881
51	16	881
51	17	861
51	18	861
51	19	862
51	20	862
51	21	862
51	22	389
51	23	389
51	24	957
51	25	957
51	26	957
51	27	958
51	28	958
51	29	958
		974
51	30	958
		974
51	31	959
51	32	959
51	33	959
51	34	959
51	35	970
51	36	970

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ

38	52	514
		877
38	53	869
38	54	387
		869
38	55	897
38	56	897
38	57	891
		898
38	58	891
38	59	837
38	60	837
38	61	837
38	62	903
38	63	903
38	64	903
38	65	169
38	66	104
38	67	785
38	68	785
38	69	906
38	70	169
38	71	906
38	72	907
38	73	907
		908
38	74	908
38	75	908
38	76	906
38	77	912
38	78	912
38	79	912
38	80	912
38	81	914
38	82	914
38	83	914
38	84	914
38	85	914
38	86	224
38	87	224
38	88	224

الزمر
The Throgs-The Troops

39	1	207
39	2	208
39	3	147
39	4	135
39	5	334
39	6	397
39	7	301
39	8	407
39	9	260
39	10	299
39	11	610
39	12	93
		610
39	13	610
39	14	610
39	15	848
39	16	897
39	17	150
39	18	467
39	19	737
39	20	307
39	21	347
39	22	89

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ

39	23	227
		308
39	24	893
39	25	309
39	26	309
		856
39	27	1139
39	28	213
39	29	145
39	30	737
39	31	737
39	32	848
39	33	175
		574
39	34	875
39	35	121
39	36	304
39	37	148
39	38	142
39	39	737
39	40	737
39	41	208
39	42	117
39	43	127
39	44	127
39	45	414
39	46	618
39	47	814
39	48	819
39	49	408
39	50	408
39	51	128
39	52	390
39	53	121
		304
39	54	685
39	55	220
39	56	220
39	57	220
39	58	220
39	59	220
39	60	221
39	61	305
		804
39	62	321
39	63	853
39	64	154
39	65	154
39	66	154
39	67	832
39	68	788
39	69	799
39	70	799
39	71	896
39	72	896
39	73	864
39	74	862
39	75	376

المؤمن
The Believer-Forgiving

40	1	207
40	2	207
40	3	122
40	4	430
40	5	206
		682

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ

40	6	886
40	7	377
40	8	1123
40	9	1123
40	10	902
40	11	902
40	12	902
40	13	389
40	14	141
40	15	375
40	16	832
40	17	821
40	18	815
40	19	111
40	20	146
40	21	428
40	22	428
40	23	1047
40	24	1030
40	25	1033
40	26	1022
40	27	1022
40	28	1023
40	29	1023
40	30	1023
40	31	1023
40	32	1023
40	33	1023
40	34	995
		1024
40	35	236
40	36	1030
40	37	1030
40	38	1024
40	39	1024
40	40	547
40	41	1018
40	42	1018
40	43	1018
40	44	1018
40	45	1039
40	46	776
		1041
40	47	837
40	48	837
40	49	900
40	50	828
40	51	205
40	52	830
40	53	1047
40	54	1048
40	55	295
40	56	237
40	57	394
40	58	770
40	59	784
40	60	140
		1116
40	61	336
40	62	133
40	63	853
40	64	325
40	65	104
40	66	610
40	67	397
40	68	105
40	69	237

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ

40	70	237
40	71	894
40	72	891
40	73	844
40	74	845
40	75	478
40	76	478
40	77	738
40	78	905
40	79	360
40	80	361
40	81	361
40	82	428
40	83	429
		441
40	84	828
40	85	317
		207
41	1	207
41	2	207
41	3	213
41	4	226
41	5	859
41	6	133
41	7	270
41	8	471
41	9	325
41	10	325
41	11	321
41	12	329
41	13	682
41	14	932
41	15	929
41	16	933
41	17	942
41	18	943
41	19	809
41	20	809
41	21	809
41	22	809
41	23	809
41	24	828
41	25	856
41	26	218
41	27	892
41	28	853
41	29	845
41	30	865
41	31	875
41	32	875
41	33	631
41	34	446
		635
41	35	446
		635
41	36	386
41	37	115
41	38	376
41	39	352
41	40	854
41	41	213
41	42	213
41	43	122
41	44	230
41	45	854

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ

41	46	673
41	47	399
		782
		845
41	48	326
		845
41	49	412
41	50	412
41	51	412
41	52	244
41	53	214
41	54	834
		242
42	1	242
42	2	242
42	3	243
42	4	104
42	5	378
42	6	738
42	7	231
42	8	405
42	9	143
42	10	738
42	11	359
42	12	327
42	13	93
		375
42	14	616
42	15	738
42	16	630
42	17	784
42	18	787
42	19	119
		390
42	20	421
		433
42	21	849
42	22	820
42	23	189
42	24	738
42	25	315
42	26	315
		392
42	27	391
42	28	345
42	29	360
42	30	121
42	31	128
42	32	340
42	33	340
		350
42	34	617
42	35	617
42	36	431
42	37	466
42	38	465
		551
42	39	557
42	40	466
		558
42	41	557
42	42	556
42	43	467
42	44	830
42	45	826

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ

42	46	817
42	47	810
42	48	408
42	49	399
42	50	399
42	51	113
42	52	164
42	53	148
		231
43	1	231
43	2	231
43	3	231
43	4	211
43	5	854
43	6	302
43	7	202
43	8	202
43	9	325
43	10	326
43	11	346
43	12	361
43	13	381
		1126
43	14	1126
43	15	408
43	16	137
43	17	137
43	18	137
43	19	137
43	20	152
43	21	152
43	22	156
43	23	156
43	24	156
43	25	156
		682
43	26	950
43	27	950
43	28	950
43	29	950
43	30	234
43	31	190
43	32	391
43	33	418
43	34	418
43	35	418
43	36	296
43	37	296
43	38	296
43	39	556
43	40	738
43	41	738
43	42	738
43	43	739
43	44	739
43	45	689
43	46	1020
43	47	1020
43	48	1020
43	49	1033
		1055
43	50	1033
		1055
43	51	1021
43	52	1021

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحہ

35	3	388
35	4	202
35	5	385
35	6	383
35	7	736
35	8	736
35	9	349
35	10	475
35	11	399
35	12	343
35	13	147
35	14	141
35	15	128
35	16	130
35	17	130
35	18	818
35	19	206
35	20	206
35	21	206
35	22	206
35	23	169
35	24	169
35	25	736
35	26	737
35	27	338
35	28	308
35	29	259
		268
		277
35	30	268
35	31	245
35	32	637
35	33	879
35	34	882
35	35	883
35	36	899
35	37	902
35	38	108
35	39	131
35	40	144
35	41	324
35	42	375
35	43	371
		475
35	44	128
		478
35	45	123
36	1	221
36	2	221
36	3	167
36	4	167
36	5	223
36	6	223
36	7	737
36	8	894
36	9	737
36	10	737
36	11	737
36	12	214
		285
		776
		1128
36	13	1109
36	14	191

يا ايها الانسان

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحہ

		1109
36	15	191
		1109
36	16	1110
36	17	1110
36	18	1110
36	19	1110
36	20	1110
36	21	1110
36	22	1110
36	23	1110
36	24	1110
36	25	1110
36	26	1110
36	27	1111
36	28	1111
36	29	1111
36	30	1111
36	31	1111
36	32	1111
36	33	353
36	34	357
36	35	358
36	36	328
		351
36	37	333
36	38	334
36	39	332
36	40	332
36	41	340
36	42	340
36	43	340
36	44	340
36	45	308
36	46	320
36	47	270
		278
36	48	754
36	49	789
36	50	789
36	51	790
36	52	783
36	53	789
36	54	821
36	55	877
36	56	877
36	57	877
36	58	865
36	59	805
36	60	383
36	61	141
36	62	383
36	63	847
36	64	847
36	65	809
36	66	847
36	67	848
36	68	401
36	69	234
36	70	223
36	71	359
36	72	360
36	73	360
36	74	146
36	75	146
36	76	737
36	77	410

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحہ

36	78	411
36	79	411
36	80	355
36	81	321
36	82	105
36	83	366
37	1	133
37	2	133
37	3	133
37	4	133
37	5	324
37	6	329
		331
37	7	331
37	8	331
37	9	331
37	10	331
37	11	394
37	12	198
37	13	198
37	14	198
37	15	198
37	16	779
37	17	779
37	18	779
37	19	789
37	20	789
37	21	789
37	22	789
37	23	844
37	24	844
37	25	844
37	26	844
37	27	844
37	28	844
37	29	844
37	30	844
37	31	844
37	32	844
37	33	848
37	34	848
37	35	848
37	36	199
37	37	180
37	38	848
37	39	848
37	40	763
		869
37	41	763
		870
37	42	763
		870
37	43	870
37	44	872
37	45	872
37	46	872
37	47	871
37	48	876
37	49	876
37	50	876
37	51	838
37	52	838
37	53	838
37	54	838

المرسلات
Those Ranged in Ranks

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحہ

37	55	838
37	56	838
37	57	838
37	58	838
37	59	838
37	60	839
37	61	839
37	62	839
		889
37	63	889
37	64	890
37	65	890
37	66	890
37	67	890
37	68	890
37	69	156
37	70	156
37	71	677
37	72	677
37	73	677
37	74	928
37	75	927
37	76	927
37	77	927
37	78	928
37	79	917
37	80	917
37	81	917
37	82	928
37	83	917
37	84	951
37	85	951
37	86	951
37	87	951
37	88	951
37	89	951
37	90	951
37	91	951
37	92	951
37	93	951
37	94	952
37	95	952
37	96	952
37	97	954
37	98	954
37	99	955
37	100	955
		1119
37	101	955
37	102	956
		972
37	103	956
		972
37	104	956
		972
37	105	956
		972
37	106	956
		972
37	107	956
		972
37	108	956
37	109	957
37	110	957
37	111	957
37	112	958
		973

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحہ

37	113	638
		974
37	114	246
		1056
37	115	1056
37	116	1056
37	117	246
		1056
37	118	1056
37	119	1056
37	120	1056
37	121	1056
37	122	1056
37	123	1065
37	124	1066
37	125	1066
37	126	1066
37	127	1066
37	128	1066
37	129	1065
37	130	1065
37	131	1066
37	132	1066
37	133	970
37	134	970
37	135	970
37	136	970
37	137	970
37	138	970
37	139	1085
37	140	1085
37	141	1086
37	142	1086
37	143	1086
37	144	1086
37	145	1086
37	146	1086
37	147	1086
37	148	1086
37	149	136
37	150	136
37	151	136
37	152	136
37	153	136
37	154	136
37	155	136
37	156	137
37	157	137
37	158	138
37	159	138
37	160	848
37	161	848
37	162	848
37	163	848
37	164	376
37	165	376
37	166	376
37	167	237
37	168	238
37	169	238
37	170	238
37	171	655
37	172	655
37	173	655
37	174	655
37	175	655
37	176	755

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحہ

37	177	755
37	178	755
37	179	755
37	180	134
		602
37	181	94
		580
37	182	101
		603
38	1	224
		226
38	2	685
38	3	685
38	4	151
		200
38	5	151
38	6	151
38	7	151
38	8	229
38	9	229
38	10	229
38	11	229
38	12	206
38	13	682
38	14	682
38	15	789
38	16	755
38	17	1068
38	18	1068
38	19	1068
38	20	1069
38	21	1069
38	22	1069
38	23	1069
38	24	1069
38	25	1069
38	26	1067
38	27	372
38	28	471
38	29	223
38	30	1067
38	31	1075
38	32	1075
38	33	1075
38	34	1075
38	35	1072
38	36	1073
38	37	342
		1072
38	38	1072
38	39	1072
38	40	1072
38	41	996
38	42	996
38	43	996
38	44	996
38	45	975
38	46	975
38	47	975
38	48	1065
		1066
38	49	867
38	50	867
38	51	872

ص
Sad

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحة

28	85	219
28	86	208
28	87	610
		735
28	88	148

العنكبوت
The spider

29	1	96
29	2	96
29	3	96
29	4	127
		832
29	5	834
29	6	440
		673
29	7	120
29	8	453
29	9	471
29	10	662
29	11	663
29	12	818
29	13	819
29	14	923
29	15	928
29	16	948
29	17	949
29	18	949
29	19	779
29	20	779
29	21	122
29	22	128
29	23	304
29	24	954
29	25	949
29	26	955
29	27	960
		973
29	28	962
29	29	962
29	30	964
29	31	965
29	32	965
29	33	967
29	34	967
29	35	970
29	36	997
29	37	126
		1002
29	38	935
		943
		1003
29	39	1031
29	40	681
		1002
29	41	143
29	42	141
29	43	143
		1139
29	44	372
29	45	259
29	46	634
29	47	240
29	48	165
		235
29	49	211

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحة

29	50	195
29	51	226
29	52	735
29	53	755
29	54	885
29	55	885
29	56	294
29	57	771
29	58	880
29	59	880
29	60	387
29	61	323
29	62	390
29	63	346
29	64	419
29	65	407
29	66	407
29	67	624
29	68	847
29	69	472

الروم
The Byzantines-Romans

30	1	686
30	2	686
30	3	686
30	4	686
30	5	686
30	6	687
30	7	419
30	8	366
30	9	130
30	10	484
30	11	116
30	12	814
30	13	814
30	14	844
30	15	881
30	16	853
30	17	254
30	18	254
30	19	116
30	20	443
30	21	548
30	22	443
30	23	336
30	24	348
30	25	786
30	26	113
30	27	116
30	28	147
30	29	415
30	30	402
30	31	250
30	32	618
30	33	407
30	34	407
30	35	407
30	36	409
30	37	390
30	38	459
30	39	268
		488
30	40	387
30	41	676
30	42	681
30	43	787

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحة

30	44	673
30	45	861
30	46	341
30	47	205
30	48	345
30	49	345
30	50	351
30	51	352
30	52	153
30	53	153
30	54	401
30	55	813
30	56	830
30	57	830
30	58	197
		206
30	59	197
		206
30	60	610

لقمان
Luqman

31	1	221
31	2	221
31	3	221
31	4	250
		258
		265
31	5	258
		265
31	6	482
31	7	853
31	8	866
31	9	866
31	10	338
31	11	143
31	12	301
		1071
31	13	139
		632
		1071
31	14	452
		454
		533
31	15	453
31	16	110
		1071
31	17	1071
31	18	479
		1071
31	19	445
		1071
31	20	441
31	21	155
31	22	472
31	23	735
31	24	736
31	25	300
31	26	104
31	27	102
31	28	116
31	29	330
31	30	141
31	31	342
31	32	407
31	33	418
31	34	371

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحة

		399
		771
		782

السجدة
Prostration-Adoration

32	1	207
32	2	207
32	3	228
32	4	322
32	5	328
32	6	108
32	7	394
		906
32	8	394
		395
32	9	397
32	10	834
32	11	775
32	12	829
32	13	885
32	14	901
32	15	766
32	16	767
32	17	861
32	18	772
32	19	866
32	20	895
32	21	895
32	22	853
32	23	1004
32	24	299
32	25	618
32	26	682
32	27	352
32	28	755
32	29	830
32	30	831

الأحزاب
Coalition-The Confederates-The Clans

33	1	610
33	2	610
33	3	303
33	4	512
33	5	512
33	6	168
		188
		671
33	7	405
33	8	811
		856
33	9	656
		711
33	10	712
33	11	712
33	12	710
33	13	710
33	14	710
33	15	710
33	16	710
33	17	710
33	18	710
33	19	711
33	20	711
33	21	172
		632

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحة

33	22	656
		711
33	23	711
33	24	712
33	25	712
33	26	712
33	27	716
33	28	189
		544
33	29	189
		544
33	30	543
33	31	189
33	32	543
33	33	188
		270
		543
33	34	173
		189
33	35	538
		547
		767
33	36	374
		579
33	37	517
33	38	518
33	39	518
33	40	99
		166
33	41	294
		1129
33	42	295
33	43	769
33	44	865
33	45	165
33	46	165
33	47	167
33	48	610
33	49	526
		532
33	50	185
33	51	185
33	52	185
33	53	184
		188
		189
		449
33	54	107
33	55	542
33	56	182
		377
33	57	186
33	58	476
33	59	542
33	60	481
		750
33	61	660
33	62	660
33	63	782
33	64	889
		900
33	65	900
33	66	836
33	67	836
33	68	836
33	69	1054
33	70	469

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحة

33	71	173
33	72	412
33	73	412
		752

الأنعام
The Gifts

34	1	104
34	2	328
34	3	787
34	4	500
34	5	682
		853
34	6	240
34	7	779
34	8	818
34	9	310
34	10	1068
34	11	1068
34	12	1073
34	13	1073
34	14	1079
34	15	1114
34	16	1115
34	17	1115
34	18	1114
34	19	1115
34	20	1115
34	21	1115
34	22	147
34	23	176
34	24	389
34	25	736
34	26	736
34	27	736
34	28	180
34	29	754
34	30	836
34	31	836
34	32	836
34	33	836
34	34	428
34	35	428
34	36	390
34	37	423
34	38	853
34	39	277
34	40	138
34	41	138
34	42	886
34	43	228
34	44	228
34	45	682
34	46	199
34	47	736
34	48	108
34	49	736
34	50	736
34	51	827
34	52	827
34	53	828
34	54	828

الطه
The Originator-The Angels

35	1	378
35	2	125

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
26	43	1028
26	44	1028
26	45	1028
26	46	1028
26	47	1028
26	48	1028
26	49	1029
26	50	1029
26	51	1029
26	52	1035
26	53	1035
26	54	1035
26	55	1035
26	56	1035
26	57	596
26	58	596
26	59	597
26	60	1038
26	61	1038
26	62	1038
26	63	1038
26	64	1038
26	65	1038
26	66	1038
26	67	1038
26	68	1038
26	69	947
26	70	948
26	71	948
26	72	948
26	73	948
26	74	948
26	75	948
26	76	948
26	77	948
26	78	948
26	79	948
26	80	119
		948
		1119
26	81	948
26	82	948
26	83	948
		1119
26	84	948
		1119
26	85	948
		1119
26	86	949
26	87	950
26	88	816
26	89	413
26	90	804
26	91	843
26	92	843
26	93	843
26	94	843
26	95	837
26	96	837
26	97	837
26	98	838
26	99	838
26	100	838
26	101	838
26	102	829
26	103	829
26	104	122

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
26	105	921
26	106	919
26	107	919
26	108	919
26	109	919
26	110	919
26	111	921
26	112	921
26	113	921
26	114	921
26	115	921
26	116	922
26	117	922
26	118	922
26	119	928
26	120	928
26	121	925
26	122	928
26	123	932
26	124	931
26	125	931
26	126	931
26	127	931
26	128	929
26	129	929
26	130	929
26	131	931
26	132	931
26	133	931
26	134	931
26	135	931
26	136	932
26	137	932
26	138	933
26	139	681
26	140	681
26	141	938
26	142	937
26	143	937
26	144	937
26	145	937
26	146	937
26	147	937
26	148	937
26	149	936
26	150	937
26	151	497
		937
26	152	937
26	153	198
		939
26	154	939
26	155	939
26	156	939
26	157	940
26	158	940
26	159	940
26	160	963
26	161	963
26	162	963
26	163	963
26	164	963
26	165	539
		963
26	166	539
		963
26	167	964

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
26	168	963
26	169	964
26	170	970
26	171	970
26	172	968
26	173	968
26	174	968
26	175	968
26	176	999
26	177	999
26	178	999
26	179	999
26	180	999
26	181	486
		999
26	182	486
		999
26	183	486
		999
26	184	999
26	185	198
		1000
26	186	1001
26	187	1001
26	188	1001
26	189	1002
26	190	1002
26	191	1002
26	192	208
26	193	209
26	194	209
26	195	243
26	196	243
26	197	240
26	198	230
26	199	230
26	200	853
26	201	853
26	202	783
26	203	830
26	204	830
26	205	902
26	206	903
26	207	903
26	208	676
26	209	677
26	210	235
26	211	235
26	212	331
26	213	131
26	214	188
26	215	735
26	216	735
26	217	303
26	218	260
26	219	260
26	220	260
26	221	569
26	222	569
26	223	569
26	224	483
26	225	483
26	226	473
		483
26	227	819

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
		963
27	55	539
		963
27	56	964
27	57	969
27	58	968
27	59	101
27	60	355
27	61	343
27	62	124
27	63	153
27	64	387
27	65	108
27	66	779
27	67	779
27	68	779
27	69	681
27	70	735
27	71	754
27	72	755
27	73	302
27	74	107
27	75	214
27	76	245
27	77	226
27	78	735
27	79	735
27	80	619
27	81	619
27	82	788
27	83	619
27	84	619
27	85	619
27	86	336
27	87	790
27	88	794
27	89	804
27	90	894
27	91	625
27	92	217
27	93	735
		1076
27	29	1076
27	30	101
		1076
27	31	1076
27	32	1076
27	33	1077
27	34	1077
27	35	1077
27	36	1077
27	37	1077
27	38	1077
27	39	1078
27	40	1078
27	41	1078
27	42	1078
27	43	1078
27	44	1078
27	45	937
27	46	937
27	47	938
27	48	941
27	49	941
27	50	941
27	51	943
27	52	943
27	53	943
27	54	539

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
		963
27	55	539
		963
27	56	964
27	57	969
27	58	968
27	59	101
27	60	355
27	61	343
27	62	124
27	63	153
27	64	387
27	65	108
27	66	779
27	67	779
27	68	779
27	69	681
27	70	735
27	71	754
27	72	755
27	73	302
27	74	107
27	75	214
27	76	245
27	77	226
27	78	735
27	79	735
27	80	619
27	81	619
27	82	788
27	83	619
27	84	619
27	85	619
27	86	336
27	87	790
27	88	794
27	89	804
27	90	894
27	91	625
27	92	217
27	93	735
		1076
27	29	1076
27	30	101
		1076
27	31	1076
27	32	1076
27	33	1077
27	34	1077
27	35	1077
27	36	1077
27	37	1077
27	38	1077
27	39	1078
27	40	1078
27	41	1078
27	42	1078
27	43	1078
27	44	1078
27	45	937
27	46	937
27	47	938
27	48	941
27	49	941
27	50	941
27	51	943
27	52	943
27	53	943
27	54	539

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ
28	21	1009
28	22	1009
28	23	1010
28	24	1010
		1121
28	25	1010
28	26	1010
28	27	1010
28	28	1011
28	29	1011
28	30	1013
28	31	1014
28	32	1014
28	33	1015
28	34	1016
		1056
28	35	1017
		1057
28	36	1020
28	37	1020
28	38	1030
28	39	1038
28	40	1039
28	41	1039
28	42	1039
28	43	1039
28	44	1004
28	45	1004
28	46	1004
28	47	179
28	48	195
28	49	232
28	50	415
28	51	238
28	52	238
28	53	218
28	54	299
28	55	465
28	56	735
28	57	624
28	58	428
28	59	677
28	60	431
28	61	421
28	62	843
28	63	844
28	64	844
28	65	812
28	66	812
28	67	315
28	68	375
		602
28	69	108
28	70	133
28	71	335
28	72	335
28	73	336
28	74	843
28	75	810
28	76	1031
28	77	1031
28	78	1031
28	79	1031
28	80	1031
28	81	1031
28	82	1032
28	83	575

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
		493
22	39	642
22	40	580
		583
		626
22	41	251
		269
		370
		552
22	42	202
22	43	202
22	44	202
22	45	438
22	46	413
22	47	755
		887
22	48	757
22	49	168
22	50	499
22	51	852
22	52	178
22	53	734
22	54	734
22	55	783
22	56	831
22	57	852
22	58	388
		658
22	59	672
22	60	557
22	61	335
22	62	133
22	63	346
22	64	103
22	65	341
22	66	408
22	67	374
22	68	734
22	69	734
22	70	107
22	71	152
22	72	219
22	73	144
22	74	149
22	75	376
22	76	107
22	77	258
22	78	92
		250
		621
		649
المؤمنون		
The believers		
23	1	266
		765
23	2	255
		765
23	3	465
		765
23	4	266
		765
23	5	537
		765
23	6	540
		765
23	7	540

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
		765
23	8	492
		765
23	9	765
23	10	766
		866
23	11	766
		866
23	12	394
		906
23	13	396
23	14	396
23	15	778
23	16	778
23	17	323
23	18	346
23	19	358
23	20	357
23	21	360
23	22	361
23	23	919
23	24	921
23	25	921
23	26	922
23	27	925
23	28	925
23	29	925
		1118
23	30	925
23	31	191
23	32	191
23	33	191
23	34	191
23	35	778
23	36	778
23	37	778
23	38	680
23	39	680
23	40	680
23	41	680
23	42	680
23	43	680
23	44	680
23	45	1047
23	46	1019
23	47	1019
23	48	1020
23	49	1047
23	50	1096
23	51	499
23	52	616
		620
23	53	617
23	54	618
23	55	423
23	56	423
23	57	766
23	58	766
23	59	766
23	60	468
		766
23	61	468
		766
23	62	674
23	63	675
23	64	675
23	65	827

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
23	66	483
23	67	483
23	68	811
23	69	812
23	70	199
23	71	135
23	72	734
23	73	734
23	74	734
23	75	680
23	76	680
23	77	681
23	78	408
23	79	116
23	80	116
23	81	778
23	82	778
23	83	779
23	84	103
23	85	104
23	86	311
23	87	311
23	88	142
23	89	142
23	90	149
23	91	136
23	92	136
23	93	175
23	94	175
23	95	786
23	96	445
		633
23	97	386
23	98	386
23	99	589
23	100	776
23	101	790
23	102	808
23	103	808
23	104	893
23	105	826
23	106	826
23	107	826
23	108	826
23	109	840
23	110	840
23	111	840
23	112	812
23	113	812
23	114	813
23	115	403
23	116	133
23	117	152
23	118	314
		1124
النور		
The Light		
24	1	535
24	2	536
		556
		565
24	3	514
24	4	537
		568
		570
24	5	476

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
24	6	525
24	7	525
24	8	526
24	9	526
24	10	526
24	11	708
24	12	708
24	13	709
24	14	709
24	15	708
24	16	708
24	17	708
24	18	708
24	19	482
		709
24	20	709
24	21	385
24	22	459
24	23	537
24	24	809
24	25	819
24	26	515
24	27	444
24	28	444
24	29	444
24	30	541
24	31	542
24	32	520
24	33	520
		584
		540
24	34	225
24	35	368
24	36	103
24	37	256
		269
24	38	392
24	39	857
24	40	857
24	41	112
24	42	366
24	43	348
24	44	335
24	45	345
		359
24	46	118
24	47	578
24	48	578
24	49	578
24	50	578
24	51	766
24	52	171
		766
24	53	661
24	54	734
24	55	768
24	56	265
24	57	128
24	58	445
24	59	445
24	60	542
24	61	444
		449
24	62	97
		183
		448
24	63	182

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
		447
24	64	799
الاحزاب		
The Standard of True and False		
25	1	224
25	2	134
25	3	143
25	4	228
25	5	234
25	6	208
25	7	192
25	8	195
25	9	195
25	10	861
25	11	822
25	12	898
25	13	899
25	14	899
25	15	875
25	16	875
25	17	843
25	18	843
25	19	847
25	20	193
25	21	822
25	22	822
25	23	858
25	24	881
25	25	806
25	26	831
25	27	826
25	28	826
25	29	826
25	30	221
		811
25	31	203
25	32	240
25	33	240
25	34	894
25	35	681
25	36	681
25	37	681
25	38	1114
25	39	1114
25	40	969
25	41	202
25	42	847
25	43	416
		551
25	44	416
		442
25	45	333
25	46	334
25	47	336
25	48	349
25	49	347
25	50	853
25	51	180
25	52	649
25	53	343
25	54	443
25	55	145
25	56	168
25	57	734
25	58	303
25	59	322

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
25	60	714
25	61	331
25	62	335
25	63	465
		763
25	64	766
25	65	1125
25	66	885
		897
25	67	496
25	68	536
25	69	537
25	70	316
25	71	316
25	72	465
		569
25	73	320
25	74	456
		1123
25	75	865
25	76	865
25	77	131
التوبة		
26	1	222
26	2	222
26	3	735
26	4	197
26	5	197
26	6	234
26	7	356
26	8	356
26	9	119
26	10	1014
26	11	1015
26	12	1016
26	13	1016
26	14	1015
26	15	1017
26	16	1017
26	17	1036
26	18	1036
26	19	1036
26	20	1036
26	21	1036
26	22	1036
26	23	1037
26	24	1020
26	25	1020
26	26	1020
26	27	1020
26	28	1020
26	29	1021
26	30	1022
26	31	1022
26	32	1022
26	33	1022
26	34	1024
26	35	1024
26	36	1025
26	37	1025
26	38	1025
26	39	1025
26	40	1026
26	41	1026
26	42	1026

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
19	37	607
19	38	822
19	39	822
19	40	822
19	41	944
19	42	946
19	43	946
19	44	946
19	45	947
19	46	947
19	47	947
19	48	950
19	49	944
19	50	944
19	51	1004
19	52	1012
19	53	1047
19	54	971
19	55	632
		971
19	56	916
19	57	916
19	58	640
19	59	259
19	60	315
19	61	867
19	62	869
19	63	862
19	64	378
19	65	294
19	66	778
19	67	778
19	68	386
19	69	831
19	70	831
19	71	831
19	72	831
19	73	427
19	74	427
19	75	428
19	76	472
19	77	424
19	78	424
19	79	424
19	80	424
19	81	846
19	82	847
19	83	847
19	84	784
19	85	869
19	86	891
19	87	176
		815
19	88	603
19	89	603
19	90	603
19	91	604
19	92	604
19	93	833
19	94	369
19	95	834
19	96	769
19	97	230
19	98	904

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
20	1	733
20	2	733
20	3	733
20	4	207
20	5	207
20	6	325
20	7	106
20	8	102
		1129
20	9	1012
20	10	1012
20	11	623
		1012
20	12	623
		1012
20	13	1012
20	14	1012
20	15	1012
20	16	1012
20	17	1013
20	18	1013
20	19	1013
20	20	1013
20	21	1013
20	22	1013
20	23	1013
20	24	1015
20	25	1016
		1120
20	26	1016
		1120
20	27	1016
		1121
20	28	1016
		1121
20	29	1015
20	30	1015
20	31	1015
20	32	1015
20	33	1016
20	34	1016
20	35	1016
20	36	1016
20	37	1006
20	38	1006
20	39	1006
20	40	1007
20	41	1007
20	42	1017
20	43	633
		1017
20	44	633
		1017
20	45	1015
20	46	1015
20	47	1017
20	48	1017
20	49	1017
20	50	1017
20	51	1018
20	52	125
		1018
20	53	1018
20	54	1018

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
20	55	1018
20	56	1025
20	57	1025
20	58	1025
20	59	1025
20	60	1027
20	61	1027
20	62	1027
20	63	1027
20	64	1027
20	65	1027
20	66	1027
20	67	1027
20	68	1027
20	69	1028
20	70	1028
20	71	1029
20	72	1029
20	73	1029
20	74	899
20	75	861
20	76	861
20	77	1035
20	78	1038
20	79	1038
20	80	596
20	81	501
		596
20	82	315
20	83	1046
20	84	1046
20	85	1049
20	86	1049
20	87	1048
20	88	1048
20	89	1048
20	90	1046
20	91	1046
20	92	1049
20	93	1049
20	94	1049
20	95	1050
20	96	1050
20	97	158
		1050
20	98	133
20	99	904
20	100	852
20	101	852
20	102	790
20	103	812
20	104	812
20	105	794
20	106	792
20	107	792
20	108	833
20	109	176
20	110	111
20	111	834
20	112	804
20	113	230
20	114	216
		1122
20	115	911
20	116	907
20	117	910
20	118	391

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
		910
20	119	391
		910
20	120	911
20	121	911
20	122	912
20	123	911
20	124	296
		432
		805
20	125	805
20	126	805
20	127	852
20	128	438
20	129	754
20	130	254
20	131	419
20	132	251
		632
20	133	195
20	134	677
20	135	733
		784
21	1	784
21	2	852
21	3	198
21	4	106
21	5	228
21	6	197
21	7	193
21	8	193
21	9	205
21	10	166
21	11	130
21	12	825
21	13	825
21	14	825
21	15	826
21	16	372
21	17	372
21	18	95
		469
21	19	112
21	20	112
21	21	847
21	22	135
21	23	106
21	24	154
21	25	154
21	26	604
21	27	604
21	28	176
21	29	847
21	30	321
		345
21	31	338
		339
21	32	323
21	33	332
21	34	734
21	35	419
		771
21	36	201
21	37	410
21	38	754

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
21	39	893
21	40	783
21	41	202
21	42	146
21	43	146
		797
21	44	326
21	45	859
21	46	859
21	47	808
21	48	1047
21	49	1047
21	50	1047
21	51	944
21	52	947
21	53	947
21	54	947
21	55	947
21	56	947
21	57	951
21	58	952
21	59	952
21	60	952
21	61	952
21	62	952
21	63	952
21	64	952
21	65	953
21	66	953
21	67	953
21	68	954
21	69	954
21	70	954
21	71	954
21	72	973
		975
21	73	636
		973
21	74	962
21	75	962
21	76	927
21	77	928
21	78	1074
21	79	1068
		1075
21	80	1068
21	81	1073
21	82	342
		1072
21	83	996
		1120
21	84	996
21	85	916
		1065
21	86	916
		1065
21	87	1085
		1121
21	88	1086
21	89	1087
		1089
		1122
21	90	1089
21	91	1093
		1095
21	92	620
21	93	617

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
21	94	470
21	95	589
		829
21	96	788
		1084
21	97	783
21	98	139
21	99	139
21	100	140
21	101	884
21	102	884
21	103	865
21	104	793
21	105	248
21	106	248
21	107	174
21	108	164
21	109	782
21	110	107
21	111	757
21	112	154
		757
22	1	791
22	2	790
22	3	386
22	4	386
22	5	397
		402
22	6	786
22	7	786
22	8	441
22	9	478
22	10	478
22	11	297
22	12	145
22	13	145
22	14	861
22	15	304
22	16	214
22	17	589
		618
22	18	114
22	19	893
22	20	893
22	21	895
22	22	895
22	23	879
22	24	446
22	25	627
22	26	287
22	27	287
22	28	291
22	29	293
22	30	149
		293
		474
22	31	145
22	32	293
22	33	291
22	34	507
22	35	765
22	36	292
22	37	292
22	38	301

السورة	الآياته	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
16	30	225
16	31	867
16	32	772
16	33	775
16	34	678
16	35	155
16	36	154
		680
16	37	733
16	38	777
16	39	777
16	40	105
16	41	670
		688
16	42	671
		688
16	43	192
16	44	242
16	45	309
16	46	309
16	47	309
16	48	114
		333
16	49	114
16	50	114
16	51	135
16	52	135
16	53	406
16	54	407
16	55	407
16	56	276
		285
16	57	136
16	58	456
16	59	456
16	60	457
16	61	123
16	62	136
16	63	386
16	64	225
16	65	346
16	66	361
16	67	357
16	68	365
16	69	365
16	70	401
16	71	389
16	72	443
16	73	391
16	74	95
16	75	144
16	76	145
16	77	782
16	78	396
16	79	364
16	80	362
16	81	333
		339
		647
16	82	733
16	83	302
16	84	810
16	85	900
16	86	843
16	87	843
16	88	627
16	89	810

السورة	الآياته	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
16	90	459
16	91	571
16	92	569
16	93	819
16	94	571
16	95	571
16	96	299
16	97	546
16	98	215
16	99	384
16	100	386
16	101	227
16	102	208
16	103	236
16	104	852
16	105	236
16	106	162
16	107	420
16	108	421
16	109	421
16	110	658
		688
16	111	819
16	112	302
		432
16	113	201
16	114	450
		499
16	115	504
16	116	160
		507
16	117	507
16	118	594
16	119	318
16	120	944
16	121	944
16	122	944
16	123	92
		961
16	124	600
16	125	633
16	126	557
16	127	557
16	128	557
بنی اسرائیل		
The Night Journey-Glory		
17	1	688
17	2	1047
17	3	924
17	4	597
17	5	598
17	6	598
		659
17	7	598
		626
17	8	598
17	9	224
17	10	224
17	11	411
17	12	334
17	13	798
17	14	798
17	15	676
17	16	541
		675
17	17	109

السورة	الآياته	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
17	18	421
17	19	96
17	20	119
17	21	431
17	22	609
17	23	451
17	24	451
		1123
17	25	107
17	26	459
17	27	496
17	28	281
17	29	496
17	30	390
17	31	539
17	32	536
17	33	560
17	34	468
		461
		572
17	35	485
17	36	481
17	37	479
17	38	479
17	39	609
17	40	136
17	41	225
17	42	135
17	43	846
17	44	112
17	45	858
17	46	858
17	47	198
17	48	198
17	49	777
17	50	777
17	51	777
17	52	812
17	53	383
17	54	733
17	55	248
		1067
17	56	141
17	57	146
17	58	856
17	59	195
17	60	890
17	61	908
17	62	913
17	63	913
17	64	913
17	65	769
		913
17	66	341
17	67	124
17	68	124
17	69	124
17	70	404
17	71	799
17	72	798
17	73	609
17	74	609
17	75	609
17	76	742
17	77	370
17	78	254
17	79	166

السورة	الآياته	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
		260
17	80	1122
17	81	1122
17	82	220
17	83	409
17	84	109
17	85	775
17	86	733
17	87	733
17	88	232
17	89	224
17	90	194
17	91	194
17	92	194
17	93	194
17	94	191
17	95	191
17	96	733
17	97	777
17	98	778
17	99	778
17	100	410
17	101	1018
17	102	1032
17	103	1038
17	104	1044
17	105	212
17	106	210
17	107	218
17	108	218
17	109	218
17	110	255
17	111	367
الكهف		
The Cave		
18	1	213
18	2	213
18	3	868
18	4	603
18	5	603
18	6	733
18	7	419
18	8	426
18	9	1105
		1107
18	10	1106
18	11	1106
18	12	1106
18	13	1105
18	14	1105
18	15	1105
18	16	1106
18	17	118
18	18	1106
18	19	1107
18	20	1106
18	21	1107
18	22	1105
		1163
18	23	469
18	24	469
18	25	1107
18	26	1107
18	27	733
18	28	429
		479

السورة	الآياته	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
		759
18	29	635
		891
18	30	470
18	31	879
18	32	1111
18	33	1111
18	34	1111
18	35	1112
18	36	1112
18	37	1112
18	38	1112
18	39	1112
18	40	1112
18	41	1112
18	42	1112
18	43	1113
18	44	1113
18	45	427
18	46	431
18	47	794
18	48	833
18	49	798
18	50	382
		908
18	51	327
18	52	843
18	53	885
18	54	410
18	55	312
18	56	859
18	57	859
18	58	123
18	59	756
18	60	1058
18	61	1058
18	62	1058
18	63	1058
18	64	1058
18	65	1058
18	66	1059
18	67	1059
18	68	1059
18	69	1059
18	70	1059
18	71	1059
18	72	1059
18	73	1059
18	74	1060
18	75	1060
18	76	1060
18	77	1060
18	78	1060
18	79	1060
18	80	1061
18	81	1061
18	82	1061
18	83	1082
18	84	1082
18	85	1082
18	86	1082
18	87	1082
18	88	1082
18	89	1082
18	90	1083
18	91	1083
18	92	1083

السورة	الآياته	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
18	93	1083
18	94	1083
18	95	1083
18	96	1083
18	97	1084
18	98	1084
18	99	788
		1084
18	100	804
18	101	804
18	102	142
18	103	421
18	104	421
18	105	181
18	106	185
18	107	884
18	108	865
18	109	101
18	110	164
		200
19	1	1087
19	2	1087
19	3	1087
19	4	1087
19	5	1087
19	6	1087
19	7	1088
		1090
19	8	1088
19	9	1088
19	10	1088
19	11	1089
19	12	246
		1090
19	13	1090
19	14	1090
19	15	1089
19	16	1093
19	17	1093
19	18	1093
19	19	1094
19	20	1093
		1094
19	21	1094
19	22	1094
19	23	1094
		1096
19	24	1094
		1096
19	25	1096
19	26	1096
19	27	1097
19	28	1097
19	29	1097
19	30	605
		1097
19	31	1097
19	32	1097
		1098
19	33	1097
19	34	1097
19	35	134
		1097
19	36	1100

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
8	65	653
8	66	653
8	67	490
		668
		701
		760
8	68	490
		668
		701
8	69	669
8	70	701
8	71	493
		701
8	72	650
8	73	631
8	74	671
8	75	671

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
		664
		649
9	37	160
9	38	720
9	39	720
9	40	693
		759
9	41	720
9	42	721
9	43	722
9	44	722
9	45	722
9	46	722
9	47	721
9	48	721
9	49	722
9	50	722
9	51	125
9	52	722
9	53	721
9	54	256
9	55	429
9	56	749
9	57	749
9	58	721
9	59	721
9	60	272
		282
9	61	186
		743
9	62	749
9	63	186
9	64	229
9	65	94
9	66	94
		750
9	67	749
9	68	752
9	69	752
9	70	679
9	71	764
9	72	880
9	73	643
9	74	743
9	75	285
9	76	285
9	77	286
9	78	111
9	79	281
9	80	751
9	81	720
9	82	420
9	83	723
9	84	260
		751
9	85	750
9	86	723
9	87	723
9	88	657
9	89	658
9	90	723
9	91	725
9	92	724
9	93	723
9	94	724
9	95	724
9	96	724

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
9	97	728
9	98	728
9	99	267
9	100	860
9	101	728
9	102	316
9	103	266
		284
9	104	285
		316
9	105	819
9	106	122
9	107	726
9	108	252
		626
		726
9	109	726
9	110	726
9	111	132
		644
9	112	437
		764
9	113	140
9	114	949
9	115	676
9	116	115
9	117	725
9	118	724
9	119	574
9	120	725
9	121	725
9	122	440
		632
		646
9	123	646
9	124	851
9	125	851
9	126	317
9	127	851
9	128	173
9	129	731

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
10	22	406
		437
		438
10	23	406
10	24	426
10	25	118
10	26	802
10	27	802
10	28	842
10	29	842
10	30	842
10	31	388
10	32	388
10	33	731
10	34	143
10	35	147
10	36	152
10	37	245
10	38	232
10	39	231
10	40	198
10	41	731
10	42	858
10	43	858
10	44	674
10	45	812
10	46	175
10	47	375
10	48	754
10	49	145
		771
10	50	754
10	51	754
10	52	900
10	53	127
10	54	813
10	55	103
10	56	115
10	57	220
10	58	210
10	59	507
10	60	507
10	61	106
		214
10	62	762
10	63	762
10	64	769
10	65	731
10	66	152
10	67	336
10	68	603
10	69	846
10	70	846
10	71	918
10	72	918
10	73	928
10	74	197
10	75	1019
		1057
10	76	1019
10	77	1019
10	78	1019
10	79	1025
10	80	1026
10	81	1027
10	82	1027
10	83	1022

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
10	84	1022
10	85	1023
		1120
10	86	1023
		1120
10	87	261
		1033
10	88	1033
10	89	1033
10	90	1040
10	91	1040
10	92	1040
10	93	596
10	94	241
10	95	608
10	96	197
10	97	197
10	98	1085
10	99	635
10	100	90
10	101	320
10	102	754
10	103	655
10	104	609
10	105	609
10	106	145
10	107	120
10	108	732
10	109	732

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورة	آيت	صفحة
11	35	228
11	36	923
11	37	924
11	38	924
11	39	924
11	40	924
11	41	924
		1117
11	42	926
11	43	926
11	44	926
11	45	927
11	46	927
11	47	927
		1118
11	48	926
11	49	924
11	50	930
11	51	930
11	52	933
11	53	932
11	54	932
11	55	930
11	56	931
11	57	931
11	58	935
11	59	934
11	60	935
11	61	936
11	62	938
11	63	937
11	64	939
11	65	941
11	66	943
11	67	941
11	68	942
11	69	974
11	70	964
11	71	958
		974
		975
11	72	958
		974
11	73	958
		974
11	74	965
11	75	944
11	76	965
11	77	965
11	78	966
11	79	966
11	80	966
11	81	967
11	82	968
11	83	969
11	84	998
11	85	485
		998
11	86	487
		998
11	87	1000
11	88	732
		998
11	89	1001
11	90	1001
11	91	1000
11	92	1000

السورة
The Faculty of Discernment
The Heights

9	1	719
9	2	719
9	3	291
9	4	665
9	5	719
9	6	585
		588
		667
9	7	665
9	8	666
9	9	627
9	10	612
9	11	250
		266
9	12	719
9	13	719
9	14	719
9	15	720
9	16	659
9	17	622
9	18	622
9	19	622
9	20	657
9	21	657
9	22	657
9	23	613
9	24	168
		651
9	25	654
		718
9	26	718
9	27	718
9	28	625
9	29	490
		668
9	30	593
		603
		1081
9	31	595
9	32	95
9	33	96
9	34	270
		426
		595
9	35	270
		426
9	36	334

السورة
Spoils of War-Booty

10	1	222
10	2	190
10	3	127
		322
10	4	786
10	5	334
10	6	335
10	7	420
10	8	420
10	9	866
10	10	882
10	11	756
10	12	406
10	13	679
10	14	403
10	15	233
		742
10	16	236
10	17	846
10	18	148
10	19	616
10	20	193
10	21	406

السورة
Repentance-Dispensation

11	1	227
11	2	168
11	3	312
11	4	115
11	5	107
11	6	387
11	7	327
		403
11	8	786
11	9	409
11	10	409
11	11	298
11	12	193
11	13	232
11	14	233
11	15	420
11	16	420
11	17	851
11	18	846
11	19	627
11	20	851
11	21	852
11	22	852
11	23	467
11	24	770
11	25	918
11	26	918
11	27	921
11	28	918
11	29	918
11	30	918
11	31	918
11	32	921
11	33	921
11	34	919

السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ
6	97	332	6	155	244	7	46	839	7	109	1024			1070	8	14	701
6	98	115	6	156	244	7	47	839	7	110	1024	7	164	1070	8	15	699
6	99	358	6	157	628			1125	7	111	1025	7	165	1070	8	16	700
6	100	138	6	158	827	7	48	839	7	112	1025	7	166	1070	8	17	172
6	101	134	6	159	617	7	49	839	7	113	1026	7	167	598			700
6	102	133	6	160	472	7	50	890	7	114	1026	7	168	598	8	18	700
6	103	112	6	161	608	7	51	901	7	115	1026	7	169	598	8	19	700
6	104	244	6	162	645	7	52	225	7	116	1026	7	170	244	8	20	171
6	105	244	6	163	93	7	53	829	7	117	1026			254	8	21	219
6	106	730			250	7	54	322	7	118	1026	7	171	1053	8	22	219
6	107	731	6	164	731			337	7	119	1026	7	172	405	8	23	219
6	108	470	6	165	373	7	55	1116	7	120	1028			909	8	24	657
		581				7	56	1117	7	121	1028			914	8	25	310
6	109	196				7	57	345	7	122	1028	7	173	155			631
6	110	196				7	58	354	7	123	1028	7	174	155	8	26	656
6	111	192				7	59	917	7	124	1028	7	175	383			693
6	112	157	7	1	222	7	60	920	7	125	1029	7	176	416	8	27	493
		203	7	2	222	7	61	917	7	126	91	7	177	416			552
6	113	157	7	3	155	7	62	917			93	7	178	416	8	28	423
6	114	240	7	4	678	7	63	917			1029	7	179	344	8	29	308
6	115	370	7	5	678	7	64	928			1121			885	8	30	693
6	116	550	7	6	811	7	65	930	7	127	1024	7	180	102			761
6	117	109	7	7	810	7	66	931	7	128	153			1129	8	31	231
6	118	502	7	8	807	7	67	931			1032	7	181	756	8	32	174
6	119	504	7	9	808	7	68	930	7	129	1032	7	182	756	8	33	174
6	120	483	7	10	300	7	69	930	7	130	432	7	183	756	8	34	622
6	121	505	7	11	400	7	70	932			1034	7	184	199	8	35	624
6	122	205			908	7	71	932	7	131	1054	7	185	772	8	36	627
6	123	684	7	12	382	7	72	935	7	132	197	7	186	756	8	37	805
6	124	190			908	7	73	939	7	133	1034	7	187	782	8	38	318
6	125	117	7	13	912	7	74	436	7	134	1055	7	188	370			678
6	126	117	7	14	912	7	75	938	7	135	1055	7	189	398	8	39	643
6	127	118	7	15	912	7	76	938	7	136	1037			547	8	40	654
6	128	835	7	16	913	7	77	940	7	137	1079	7	190	160	8	41	668
6	129	676	7	17	913	7	78	941	7	138	1042	7	191	143			702
6	130	835	7	18	913	7	79	941	7	139	1042	7	192	146	8	42	697
6	131	676	7	19	909	7	80	963	7	140	1042	7	193	731	8	43	700
6	132	372	7	20	910	7	81	963	7	141	1005	7	194	140	8	44	700
6	133	130	7	21	910	7	82	964	7	142	1046	7	195	149	8	45	652
6	134	786	7	22	910	7	83	969	7	143	1046	7	196	731	8	46	550
6	135	731	7	23	912	7	84	969	7	144	1047	7	197	146			621
6	136	284			1117	7	85	997	7	145	592	7	198	858	8	47	475
6	137	513	7	24	911	7	86	998	7	146	851	7	199	465			701
		538	7	25	911	7	87	1001	7	147	851	7	200	386	8	48	698
6	138	159	7	26	544	7	88	1000	7	148	150	7	201	386	8	49	749
6	139	159	7	27	382	7	89	999			1048	7	202	386	8	50	773
6	140	513			544	7	90	1000	7	149	1050	7	203	239	8	51	773
		538	7	28	484	7	91	1001	7	150	1049	7	204	217	8	52	679
6	141	274	7	29	253	7	92	1002	7	151	1051	7	205	1116			1037
		357	7	30	385	7	93	1001	7	152	1048	7	206	113	8	53	673
		436	7	31	252	7	94	393	7	153	316				8	54	1037
6	142	499			449	7	95	297	7	154	1049				8	55	857
6	143	503			623	7	96	392	7	155	1051				8	56	706
6	144	503	7	32	435	7	97	309			1120	8	1	668			718
6	145	505	7	33	484			685	7	156	1051	8	2	295	8	57	712
6	146	594			554	7	98	309	7	157	163	8	3	275	8	58	666
6	147	186	7	34	771	7	99	127			181	8	4	275	8	59	127
6	148	151	7	35	306	7	100	309			247	8	5	697	8	60	440
6	149	152	7	36	850	7	101	904			249	8	6	697			553
6	150	160	7	37	773	7	102	474	7	158	165	8	7	696			648
6	151	451	7	38	619	7	103	1033			180	8	8	697	8	61	553
		513	7	39	620	7	104	1036	7	159	638	8	9	699			585
		538	7	40	227	7	105	1036	7	160	1044	8	10	699	8	62	553
6	152	461	7	41	850	7	106	1036	7	161	1062	8	11	697			665
		674	7	42	674	7	107	1036	7	162	1062	8	12	699	8	63	118
6	153	608	7	43	882	7	108	1036	7	163	502			701	8	64	303
6	154	247	7	44	839												
6	154	247	7	45	839												

السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحة	سورت	آيت	صفحة	سورت	آيت	صفحة	سورت	آيت	صفحة	سورت	آيت	صفحة
		642	4	127	517			575	5	54	162	5	106	508
4	76	384	4	128	528	5	3	89			649			570
		643	4	129	521			166	5	55	762	5	107	509
4	77	661	4	130	526			501	5	56	770	5	108	509
4	78	98	4	131	310			502	5	57	612	5	109	811
		369	4	132	103			504	5	58	256	5	110	1099
		652	4	133	129			505	5	59	242	5	111	1101
		771	4	134	433			506	5	60	132	5	112	1101
4	79	179	4	135	567	5	4	502	5	61	748	5	113	1101
		675			578	5	5	503	5	62	500	5	114	1101
4	80	173	4	136	98			518	5	63	595			1122
4	81	742	4	137	162			587	5	64	746	5	115	1102
4	82	234	4	138	751	5	6	251	5	65	637	5	116	606
		337	4	139	614			252	5	66	601	5	117	606
4	83	660	4	140	217	5	7	306			637	5	118	606
4	84	125	4	141	662	5	8	567	5	67	730	5	119	868
		646	4	142	256	5	9	470	5	68	374	5	120	549
4	85	574	4	143	256	5	10	850	5	69	472			
4	86	447	4	144	612	5	11	742			640			
4	87	132	4	145	751	5	12	1045	5	70	204			
		786	4	146	318	5	13	592	5	71	204			
4	88	753	4	147	300	5	14	601	5	72	605			
4	89	670	4	148	477	5	15	181			1103			
4	90	665	4	149	471	5	16	223	5	73	602			
4	91	664	4	150	93	5	17	602	5	74	319			
4	92	560	4	151	94	5	18	599	5	75	606			
4	93	559	4	152	94	5	19	179	5	76	145			
4	94	447	4	153	196	5	20	596	5	77	95			
		660	4	154	1052	5	21	1042			601			
4	95	651	4	155	204	5	22	1042	5	78	605			
4	96	651	4	156	1096	5	23	1042	5	79	484			
4	97	670	4	157	1102			1061	5	80	612			
4	98	670	4	158	1102	5	24	1043	5	81	613			
4	99	670	4	159	1103	5	25	1043	5	82	614			
4	100	672	4	160	594	5	26	1043			638			
4	101	257	4	161	488	5	27	915	5	83	218			
4	102	648	4	162	439	5	28	915	5	84	860			
4	103	253	4	163	246	5	29	915	5	85	860			
4	104	651			248	5	30	915	5	86	850			
4	105	574			1056	5	31	915	5	87	496			
		577	4	164	905	5	32	561	5	88	499			
4	106	312			1012	5	33	162	5	89	264			
		574	4	165	375			562			571			
4	107	574			636			563			572			
4	108	111	4	166	210	5	34	319			573			
4	109	574	4	167	627	5	35	294	5	90	501			
4	110	313	4	168	856	5	36	813			506			
4	111	817	4	169	856	5	37	900			555			
4	112	476	4	170	179	5	38	562			562			
4	113	178	4	171	96	5	39	316	5	91	501			
4	114	269			604	5	40	122			506			
		276			1104	5	41	745	5	92	171			
		466	4	172	605	5	42	576	5	93	504			
4	115	185			1103			579	5	94	289			
4	116	139	4	173	392	5	43	746	5	95	289			
4	117	159			477	5	44	239	5	96	289			
4	118	159			817			579			503			
4	119	159	4	174	222			746	5	97	624			
4	120	385	4	175	621	5	45	593	5	98	122			
4	121	385	4	176	512	5	46	1098	5	99	730			
4	122	132				5	47	1100	5	100	501			
		769				5	48	577			550			
4	123	817				5	49	577	5	101	481			
4	124	546	5	1	288	5	50	577	5	102	481			
4	125	92			468	5	51	615	5	103	150			
		960	5	2	289	5	52	748	5	104	483			
4	126	103			466	5	53	748	5	105	468			

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
		1064
		1067
2	252	167
2	253	905
		1100
2	254	269
2	255	103
		104
		127
		1127
2	256	583
		635
2	257	385
		770
2	258	953
2	259	1081
2	260	953
2	261	274
2	262	280
2	263	446
2	264	280
2	265	274
2	266	281
2	267	271
		274
2	268	312
		384
2	269	117
		441
2	270	285
2	271	279
2	272	276
2	273	272
		280
		625
		761
2	274	279
2	275	488
		489
2	276	489
2	277	258
		265
2	278	488
2	279	488
2	280	491
2	281	821
2	282	491
		494
		495
		568
2	283	495
		509
2	284	568
2	285	97
2	286	674
		1124
		104
		104
		247
		249
		221
		108
		399
		226

السورة
The House of Imran

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
3	8	1125
3	9	132
		1125
3	10	815
3	11	679
3	12	657
3	13	698
3	14	418
3	15	431
		877
3	16	1125
3	17	764
3	18	99
3	19	89
3	20	89
		729
3	21	204
3	22	204
3	23	745
3	24	599
3	25	821
3	26	367
		1125
3	27	389
		1126
3	28	612
3	29	107
3	30	807
3	31	173
3	32	171
3	33	1091
3	34	1091
3	35	1091
3	36	1091
3	37	1092
3	38	1087
		1122
3	39	1087
		1090
3	40	1088
3	41	1088
3	42	1092
3	43	255
		623
		1092
3	44	1091
3	45	1092
3	46	1095
3	47	1092
3	48	247
		249
		1095
3	49	1095
3	50	594
		1098
3	51	1098
3	52	1100
3	53	1101
3	54	126
		1102
3	55	1103
3	56	856
3	57	764
		556
3	58	169
3	59	605
3	60	605

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
3	61	607
3	62	607
3	63	607
3	64	634
3	65	249
		634
		945
3	66	945
3	67	91
		945
3	68	91
		960
3	69	629
3	70	242
3	71	568
3	72	745
3	73	608
3	74	374
3	75	492
3	76	308
3	77	571
3	78	591
3	79	551
		602
3	80	602
3	81	180
3	82	474
3	83	629
3	84	94
3	85	89
		553
3	86	161
3	87	161
3	88	161
3	89	162
3	90	317
3	91	161
3	92	279
3	93	594
3	94	595
3	95	91
		960
3	96	623
3	97	287
		290
3	98	243
3	99	242
3	100	629
3	101	621
3	102	91
		306
3	103	118
		621
3	104	631
3	105	617
3	106	802
3	107	802
3	108	802
3	109	103
3	110	90
		637
		552
3	111	656
3	112	393
3	113	638
3	114	98
3	115	764

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
3	116	816
3	117	427
3	118	614
3	119	753
3	120	615
3	121	702
3	122	698
3	123	698
3	124	698
3	125	699
3	126	699
3	127	700
3	128	703
3	129	122
3	130	489
3	131	489
3	132	171
3	133	864
3	134	275
		466
3	135	313
3	136	313
3	137	437
3	138	222
3	139	95
3	140	705
3	141	703
3	142	703
3	143	704
3	144	703
3	145	433
		771
3	146	645
3	147	653
		1124
3	148	645
3	149	629
3	150	629
3	151	655
3	152	703
3	153	305
		703
3	154	704
		705
3	155	705
3	156	652
3	157	652
3	158	652
3	159	173
		175
		549
		635
3	160	124
		303
		653
3	161	167
		492
		500
3	162	493
3	163	493
3	164	167
3	165	705
3	166	704
3	167	661
		704
3	168	704
3	169	658

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
3	170	658
3	171	659
3	172	706
3	173	706
3	174	706
3	175	306
3	176	730
3	177	131
3	178	756
3	179	750
3	180	498
3	181	273
3	182	675
3	183	194
3	184	196
3	185	771
		860
3	186	422
3	187	591
3	188	480
3	189	549
3	190	335
3	191	320
3	192	1125
3	193	1124
		1125
3	194	1124
3	195	546
		672
3	196	429
3	197	420
3	198	306
3	199	640
3	200	646
		459
		909
		547
4	2	461
4	3	520
4	4	521
4	5	461
4	6	461
4	7	510
4	8	510
4	9	508
4	10	461
4	11	510
4	12	491
		511
4	13	512
		564
4	14	512
		564
4	15	537
4	16	540
4	17	318
4	18	317
4	19	373
		514
		523
		531
4	20	530
4	21	530
4	22	516

النساء
Women

السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE
سورت	آيت	صفحہ
4	23	516
4	24	519
		521
		541
4	25	514
		519
4	26	904
4	27	415
4	28	409
4	29	485
		500
		561
4	30	556
4	31	120
4	32	523
		548
4	33	511
4	34	522
		523
		524
4	35	524
4	36	462
4	37	497
4	38	281
4	39	267
4	40	267
4	41	810
4	42	811
4	43	252
4	44	630
4	45	630
4	46	591
4	47	244
4	48	139
4	49	821
4	50	846
4	51	158
4	52	158
4	53	158
4	54	477
		960
4	55	850
4	56	893
4	57	860
4	58	492
		553
4	59	552
4	60	576
		745
4	61	745
4	62	745
4	63	745
4	64	174
		176
4	65	171
		577
4	66	171
4	67	171
4	68	171
4	69	878
4	70	878
4	71	646
4	72	662
4	73	662
4	74	643
4	75	464
		586

جدول لاكتشاف آية قرآنية

TABLE FOR LOCATING ANY OF THE QURA'NIC VERSE FROM THIS BOOK

اس کتاب میں سے قرآن کریم کی کسی بھی آیت کی تلاش کے لیے جدول

السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة	السورة	الآيات	الصفحة
SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE	SURA	VERSE	PAGE
سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ	سورت	آیت	صفحہ
			2	40	596	2	91	241	-2	136	97			473
			2	41	245	2	92	150			580			554
			2	42	567			1048	2	137	729	2	178	559
			2	43	255	2	93	1052	2	138	105	2	179	560
					265	2	94	773			582	2	180	508
			2	44	473	2	95	773			589	2	181	509
			2	45	258	2	96	422			1150	2	182	509
					298			599	2	139	729	2	183	100
			2	46	833	2	97	380	2	140	550			262
			2	47	596	2	98	763			569	2	184	262
			2	48	814			380			971			263
			2	49	1005	2	99	222			973	2	185	209
			2	50	1037	2	100	474			975			260
			2	51	590			850	2	141	729			262
					1045	2	101	1080	2	142	694	2	186	1116
			2	52	1045	2	102	157	2	143	177	2	187	262
			2	53	1047			1080			636			264
			2	54	590	2	103	157			695			548
					1050	2	104	744	2	144	694	2	188	485
			2	55	1051	2	105	614	2	145	695			500
			2	56	1051	2	106	227	2	146	181	2	189	159
			2	57	1044	2	107	366	2	147	694			287
			2	58	1062	2	108	744	2	148	468	2	190	556
			2	59	1062	2	109	583			600			585
			2	60	1043	2	110	100	2	149	695			633
			2	61	1045	2	111	618	2	150	694			663
			2	62	640	2	112	803			695	2	191	663
			2	63	1052	2	113	618	2	151	169			666
			2	64	1052	2	114	623	2	152	300	2	192	664
			2	65	1070	2	115	324			1129	2	193	643
			2	66	1005	2	116	134	2	153	258			667
					603			603	2	154	658	2	194	647
			2	67	1053	2	117	105	2	155	298			664
			2	68	1053	2	118	151	2	156	298	2	195	278
			2	69	1054	2	119	168	2	157	298			467
			2	70	1054	2	120	629	2	158	290			561
			2	71	1054	2	121	215	2	159	238	2	196	100
			2	72	1053	2	122	596	2	160	315			288
			2	73	1053	2	123	814	2	161	900			292
			2	74	413	2	124	956	2	162	900	2	197	288
			2	75	591	2	125	287	2	163	133	2	198	288
			2	76	744			290	2	164	341			434
			2	77	744			625	2	165	142			291
			2	78	215	2	126	959	2	166	835	2	199	291
			2	79	238	2	127	624	2	167	835	2	200	290
			2	80	599			1118	2	168	383			1117
			2	81	885	2	128	92	2	169	384	2	201	433
			2	82	862			1118			1117			1117
			2	83	251	2	129	163	2	170	155	2	202	433
					268	2	130	91	2	171	857	2	203	293
					452			960	2	172	450	2	204	858
			2	84	592	2	131	91			499	2	205	586
			2	85	593			946	2	173	505	2	206	586
			2	86	419	2	132	90	2	174	238	2	207	121
			2	87	204	2	133	92	2	175	239			644
			2	88	413			976	2	176	239	2	208	90
			2	89	241	2	134	729	2	177	97	2	209	220
			2	90	850	2	135	629			271	2	210	196
														1126
														121

Wood, dwellers of the, 997,1002,1003

Worldly life, 418

is nothing but play and amusement, 418

little is the enjoyment than the hereafter, 418,426

reality of, 427,498

Wrongdoers (*Consult*; disbelievers-rejecters)

Wrong notion about Islam, 190,199,228,541

Worship

false Dogma's of; (*Consult*; Dogmas)

of Allah (swt), 99,133,294,250

of calf, 1048

of cow, 150,590,1048

of deity under the emblem of fire) 589

of heavenly bodies, 589,945

of Idols, 149

of physical objects 590

Worship places sanctuaries, 583

Wudhu-wuzu (ablution), 251

Y

Ya'uq-an Idol, 917

Yahood (*Consult*; Jews-Israelites)

Yachting, 340

Yaghuth (an Idol), 917

Yahya (*Consult*; John-the Baptist), 1089

Yajuj and Majuj , 788,1083

Yaqub (PBUH) (*Consult*; Jacob), 975

Yathrib-Yusrab (Madinah), 271,282, 520,626,761

yellow Poetry,(a concept of) 483

yellow journalism, (a concept of) 482

Yemen (*referred indirectly*)

Araby the blest, 1114

people of Garden, 1107

people of Sheba, 1114

people of Tubba, 1003,1115

queen of Sheba, 517,1076

Younus PBUH (*Consult*; Jonah PBUH), 1084

Youth, 401

Yusha (PBUH), 1061

Foremost adherent of Moses (PBUH), 1061

Persuaded terror stricken, 1061

Israelites for Holy war, 1061

Yusuf (PBUH) (*Consult*; Joseph), 977

Z

Zabih ullah (chosen sacrifice for Allah (swt) 972,956

Zabur (Psalms), 248,948,1067,1068

Zachariah (Zakariya PBUH), 1087

Zaid ibn harithah, (son of Haris) 518

Zakat (Poor due)welfare Tax, 100,265

(*Consult*; mandatory alms),

a sure gain, 268

beneficiaries of-, 271

objects of-, 266

reward of, 267

prescribed to previous nations, 268,973

primary condition for joining Islam, 266

regulating, 271

Zanjabil, 871

Zaqoom, 355,889

Zikariya (PBUH) (*Consult*; Zachariah), 1087

glad tidings of birth of John in very old age, 1087

guardianship of Mary (PBUH), 1089

praying for best inheritors, 1087

Zeyd (RAA) (*Consult*; adopted son), 518

Zihar, 524

for an excuse of abstention, from wife 524

Penalty of zihar, 524

Zikar (remembrance of Allah (swt), 103,112,294

Zodiac signs,(a concept of) 329

Zoology (a concept of) 359-361-559-1136

Zulaikha (Aziz's wife)-her

ruse to attract Joseph (PBUH) 981-

scheme of inviting ladies of the city 983

confessions of her guilt 987

Zulkefl (*Consult*; Dhul-Kifl), 1065

Zul-Qarnayn, Zul-qur-Neyn 1082

Zun-Nun (*Consult*; Jonah PBUH)1084

through seas, 340,341

Way-farer, 271,282,463

Wealth & progeny

adornment of the life of this world, 419,427,430

bestowing a blessing 435

bestowing-a trail 422,432,435

boasting & scattering for worldly influence 430

bygone nations-boasting of, 427,498,679,1031

causing negligence in remembrance of Allah 423

do not awestruck with 429

fate of who turns insolent-proud of 427

greed for and progeny, 425

hoarding of who has gathered, 425,426

on dooms day, 424,823

puffing up 425

spending for the cause of Allah (SWT)

--(Consult; Zak'at, charity) 277

spending for worldly gains 427,498

stacking up 425

turning insolently proud of 427

Wedlock (Consult; Marriage) 514

Mutual consent of Spouses 1010

Weekend - concept of, 487

intermission in business, 487

Weight and measure, give full, 485,997

Welfare Tax in Islam (referred indirectly) 265,668

Obligatory (Consult; Poor due-Zakat-Ushur) 265

Voluntarily (Consult; Alms-benevolence) 274,275

Well-which Joseph (PBUH) was thrown 1147,978

Whims of chief's of disbelievers of Makhah 190

Whipping of stripes 536

Widow's-rights of, 520,531

Wild tribes (Gog-Mogs) 1149,788,1083

Wife,-(wives)

a tilt for you, 394,514,535

cover for you, 548

dealing with (Consult; matrimonial laws),

-- 514,522,523,524

rights of, 522

for righteous in Paradise, 877

obligations of, 523

of Adam (Hawa), 909

of Abraham (Hajara), 955

of Abraham (Sarah), 957

of *Abu-Lahab* (umm Jamil bint Harb), 187

of Aziz (Zulaikhah), 981,987

of Imran (Anne) Hunna, 1091

of Job (PBUH) 997

of Lot (PBUH), 545,969

of Noah, (PBUH) 545,927

of Pharaoh(Aasea), 545,1006

of the Prophet (SAAS), 184,188,189,727

of Zakriya (Elisabeth), 1088

Will and plan of Allah (SWT), 98,368

Wills and bequests laws, 98,508

Winds, 349

as heralds of glad tidings, 349

of changing directions, 349

raising clouds, causing water, 350

source of pollination, 350

furious (Tornado-Hurricane), 350

fecundating winds 349

Wheeling of winds 349

Wine (Consult; Drinks-strong)

in Paradise, 871

pure, 872

rivers of, 870

Witch craft, 157,1078

Witness of deeds on Judgement Day

angels shall drive the record 806

earth will unveil secrets 808

instruments of action 808

Prophet Muhammad (SAAS) 811

Prophet for his people 810

Witness, 576,567

ascertaining merit, 509

be just in, 567

evidence circumstantial, 981

for a contract, 495

for accusing Adultery, 568

of bequest, 508,509

suspected perjury, 509

through thumb impression (a concept of) 570

to illegal sexual intercourse, 568

two women against one man, 568

while facing death, 508

Wives (Consult; wife-spouses)

Wizard of Pharaoh (Consult; enchanters), 1025,1028

Wizardry 157

Woman-Spouses

-- (Consult; following Chapters)

privileges of; 529,531,533

Rights of; 522,523,520,529,533,531,532

-- 552,534,458

matrimonial laws 514

sex discipline 535

divorce laws (by husband) 526

permitted to initiate divorce-khu'la 529

Islam-against gender biases 546

Islam-against prostitution 540

Islam-commands sexual purity) 535

preventive measures against molestation 541

instructions regarding sense of shame 543

guarding against false accusation 524,525,527

false nation of West against Islam

-- regarding woman 541

Wonders of the Universe, 320

Usman Ghani - ibne-Aff'an (RAA) (referred indirectly) 760

Usury-Riba, 488

- Allah (swt) wipes out it, 489
- injunction to write off, 488
- no justification, 489
- usurer-painful doom, 488
- usurer-ultimatum of war with, Allah (swt)
-- and Messenger, 488
- usury and charity-comparison of gains, 488, 489
- usury based commerce, 485

Uswah-Hasna (Prophet Tradition), 172

Uzair-PBUH (Consult; Ezra), 1081

Uzza-an idol 590



Vanguards of Islam (Assabiqoon-al-Awwaloon), 639, 761, 688

Vain desires - following, 415

Vain discourse (immoral-obscene)

- discussion 883
- literature 482
- news 482
- poetry 482
- struggle/effort
- talks 482

Valley of;

- Jordan* (referred indirectly) 1079, 1145, 962
- Makkah*, 959, 955
- Qu'ra*, 936
- Shuaib* (PBUH), 997, 1002
- Sinai*, 1012, 1041
- tracks* (Ahkaf), 930, 936
- Tur*, 1012, 1045, 1052
- Tuwa*, 1014

Vanguards of Islam, 639, 761

Vegetables

- corn 353, 1045
- cucumbers 353, 1045
- garlic 353, 1045
- gourd 353, 1086
- lentils 353, 1045
- onions 353, 1045
- wheat 353-1045

Vegetation kingdom, 351

Veiling injunctions for men, 541

- to lower their gaze, 541
- avert their glance, 541

Veiling injunctions for women, 541

- extent of drawing veil, 541
- draw cloaks (gowns), 542
- folding shawls over bosoms, 542
(Consult; - hijab), 543

Veneral and skin diseases-preventive
-- measures against, 541

Vessels - sailing of, 340, 341

Vicarious atonement, 286

Vicerent of Allah (Consult; Adam) 906

Viceroy of Alla (swt) on earth, 906

Violence (Consult;), 556, 563, 581, 562, 541, 566, 997

Virtues

- of believers, 764
- of Companions of Holy Prophet (SAAS), 758 To 761

Visitation of rejecter (Consult; chastisement),

Volcanic eruption, 339, 968, 1001, 1111

Voluntary

- Alms* (Consult; benevolence) 275
- charity* (Consult; charity)

Vow

- don't turn away from pledge 285
- Job* (PBUH), 997
- Keeping of, 285
- of *Mary* (PBUH), 1096
- of wife of *Imran*, 1091
- of *Zikriya* (PBUH), 1088
- perform on fulfillment of desire 285



Wadd-an idol, 917

Wadi (Consult; valley)

Waiting period (iddat), for woman; 531

- widowhood, 531
- divorced untouched, 531
- having passed the age of menstruating, 532
- who have no monthly courses yet, 532

War against Allah swt (Consult; usury), 488

War Holy (jihad) in the way of Allah (swt), 100

Wardens of hell, 896

Water, 345

- Allah's (swt) throne was on the *Water*, 327
- basis of all living matter, 345, 347
- from sky-rain, 345, 346, 347
- palatable and bitter, 343
- reserves of, 347, 348
- source of navigation, 340, 341
- treasures of sustenance, 342, 389
- two seas of, 343, 1058
- vivifying showers for dead earth, 346
- waste not by extravagance, 348, 450
- waste not want not, 348, 450

Ways,

- in darkness, 332
- in hilly tracts, 339
- of ;(Consult; sources/ Means of)
- of *Worship* under different faith (Consult; tenets)
-- straight path, 148

Trumpet-blowing

- on the last day, 379,788
- at first time, 789
- at second time, 790

Trust in Allah swt (Tawakkal) 303

- preached by all Prophets 305,1018.

Trusts- Amanat (custody's), 492

Trust worthiness of Prophets, 167,919, 931,

-- 963,999,937

Truth, 567,469

- has come and falsehood has vanished,
- 95,654,655
- mix not with falsehood nor conceal,
- 567,568.

Try to be foremost (Excel) in;

- acting upon Qur'anic injunction 220
- good deed 468
- qualifying for paradise 864
- righteousness 685
- seeking forgiveness 313
- seeking repentance 316,319
- spending in the cause of Allah (swt) 275

Tuba, people of, 1003,1115

Tur (mount), 1011,1012,1046,1048,1058

Tu'rat (*Consult*; Torah) 247,1047

Tur-e-Sinai (*Consult*; Moses (PBUH), 1012,1049

Turkey (Constantinople Antakia referred
-- *indirectly*), 1149,686,1109,1105

Turning away from

- cause of Allah (swt) 627,629
- remembrance of Allah (swt) 423,256

Tuwa, valley of, 1013,1014

Twakkal (putting trust in Allah swt) 303

U

Uhud-battle of, 702

- a plan of Makkah pagans to wipe off
- disgrace of Badar, 702
- lesson of consistency to believers 703
- to purge of hypocrites from Muslims, 704
- spreading of false rumor by
- enemies about martyr of Holy Prophet, 703
- disobedience of orders of commander
- turned the victory into defeat, 702
- leaving of hill post by Muslim archers, 702
- challenge of Abu-Sufyan to meet next year at
- fair of Badar sughra, 706

Ultimate fate of ;

- arrogant 685
- betrayal wife, 927,969

blasphemer of Prophet (SAAS), 187

bygone nations, 677,679,1031,427

criminal communities, 678

dévourers of poor due disbelievers, 856

disbelievers, of Prophets-Messengers, 187,1041

disbelievers, of revealed scriptures, 850

enchanters, 1026

eschewers of Zakat (poor due), 271, 1111,1109

followers and associates of Pharaoh, 1041

followers and associates of Satan, 385

fraudulent, 474,475

hypocrites, 751

idolaters, 846

insolents 1031,679,498

korah, 1031

neglector of Salat, 259

of scriptures, 850

people of garden 1107

pharaoh, 1040

polytheists, 846

recalcitrant son of Noah, 926

rejecters of messengers, 187,1041

samri, 1050

short scales users, 997

stingy 489

transgressor, 566,678,679

ungrateful people, 301,302

who turns heedless of Allah (swt)? 689

wicked folk 679

wife of Lot (PBUH), 969

wife of Noah (PBUH), 927

Ultimatum (*Consult*; Challenge)

Umar Farooq ibne-Khatib (RAA)(referred indirectly), 759

Ummah (community, nation), 90

Umra (less formal pilgrimage), 288,716,729

Unbeliever (*Consult*; disbelievers)

Universe (*Consult*; cosmology)

Unlawful food (edibles), 502,505,506

-- (*Consult*; foods-drinks)

Un-natural

abortion (*Consult*; forced abortion)

sex (*Consult*; Sodomy)

Unseen-knowledge 108,977

Universe,

Creator of , 103

evolution of , 321

mysteries of , 366,331,320,330

origination of , 321

signs of, 320

supreme authority of, 549,366

secrets of, 331,320,330,366

University first Islamic, (a concept of) 761

Ushur (mandatory Alms on harvest), 100,1109,27,1111

permissible during Hajj, 288
 through sea 341
 travel in quest of... 437
 weekly intermission in 487

Trade of sure gain
 -- (prosperity), 259,268,277,644
 acts of charity (benevolence), 277
 offering regular Salat, 259
 paying Zakat (poor due), 268

Trade-cash term, 491,494

Tradition of disbeliever
 (Consult; false accusations....)
 (Consult; false arguing.....)
 (Consult; false believers....)
 impatience for punishment, 754
 tainting nature, 920,931,1096,896
 taking divine warning as illusion, 677,297,
 -- 679, 678 ,941,968,348,1001
 taking reality of torment as witchery, 941

Transgression (Consult; Hudud (limit of Allah swt))
 -- 535,562,565,566,997

Tranquility (sense of peace and security),
 -- bestowed by Allah (swt) to overcome distress and

Slumber
 during Battle of Badar, 697
 during Battle of Hunain, 718
 during Battle of Uhud, 706
 during in Cave on Ashab-i-kahaf, 1106
 during incident of Cave Tha'ur, 693
 during Treaty of Hudabiya, 715
 to dwell in-object of wedlock, 514 ,548
 of heart,295,298,305,258

Transactione
 cash term- at spot, 491,492,494
 involving future payments, 491,494

Transitory life, 418

Transmigration of soul, (a false Dogma), 589

Travel
 in quest of sustenance, 437
 in quest of knowledge, 437,440,1058
 to explore (research), 437
 to observe the nature, 437
 in the wider interest of faith
 -- (Consult; Migration and Jihad), 631,642,670
 roaming without purpose 438
 supplication for seeking safely 483
 thankfulness on safe return from 438

Travel of;
 Moses (PBUH) to meet khizir (PBUH) 1059
 Prophet Muhammad (SAAS) ascension 688
 Zulqur'nain 1082

Treachery (Consult; Betraying) 563
 Treason, 474,563,567

Treasure hoarded, 486
 Treasure of Allah (swt), 320,860
Treasures of livelihood, 389,391
 for disciples of Jesus (PBUH), 1101
 for Israelites, 1044
 for Mary (PBUH), 1092
 from Agriculture, 325,352,389
 from heavens, 388
 from oceans-seas-river, 342,389
 from skies, 388
 in oceans, 342,389
 under earth, 325,352,389
 which never exhausts, 387,869

Treaties, 585,663,665

Trial by;
 afflicting adversity 393
 an object of creation of humankind 403
 as a warning 676,675
 bestowing wealth 435,432,422
 blessing relief 393
 introducing death 403
 poverty & hunger 393,432
 progeny 435,422
 test of patience-Perseverance-Forbearance 298

Trials of Prophets,-Nations of; 403
 Abraham (PBUH), 956
 Adam (PBUH), 907,909
 David (PBUH), 1069
 Ezra (PBUH), 1081
 Hawwa (PBUH), 907,909
 Ismail (PBUH), 972
 Jonah (PBUH), 1085
 Joseph (PBUH), 981
 Job (PBUH), 996
 Solomon (PBUH), 1075

Trial of bygone nations, 404,939,933,924,1108 ,1067
 Thamud folk, 939
 folk of Noah, 924
 people of garden, 1107
 Israelites, 1052,1053
 Jews through Harut and Marut, 380,1080

Tribal organization (a concept of,) 443,523

Tribes
 of Israelities(the twelve), 1043
 sects family's surname, 443,523

Tribe of Jews
 bani Marrasie, 747,708
 bani Mustaliq, 704,708
 bani-Qainuqa, 702
 nadhir, (Nazir) 707
 quraiza, 712

Trinity-refutation of, 602,606,1103
 Truce of Hudybia, 713

Tariq-a star, 329
Tasnim (a spring), 872
Ta'uba (*Consult*; repentance), 315
Taunting of;
 infidels (*Consult*; scoffing of...) 239
 Jews on divine ordainments, 597, 695, 745
Tawaf, (going round the *Ka'ba*), 290
Tawakkul, (putting reliance on Allah swt) 303
Taxes of Islamic Estate, 490
 booty of war, 490
 mandatory alms, 275, 284
 pool tax levied on non-believers 490, 668
 ransom money for captives of war, *fidyah*, 263, 264
 social security tax -, *jizya* 490, 667, 668
 spoils of war taken after actual war, 668
 tithes on harvest, 274
 welfare Tax (*Zakat*), 265
Tayammum, 252
Tehreem - an incident, 727
 Tenets (*Consult*; ; Dogmas) 589
 Tendency (inborn inclination) of Humankind, 406
 Termite (*Consult*; death of Solomon PBUH), 365, 1079
Territorial
 areas - fixing, (*a concept of*;) 1043
 guard your, by army units, 646
 Test, of faith by Allah swt (*Consult*; Trial)
Testaments
 old (*Consult*; Torah and Psalms), 247, 248, 1047, 1065
 new (*Consult*; Gospel, Injil, Bible), 163, 249, 1098
Terrorism of
 Christians 1605
 Jews 1113
 Pharaoh 1005
 Testimonies (*Consult*; witness)
Thamud people, 936
 successors of A'ad, 936
 mastery in rock-cut buildings, 936
 endowed with faculties of culture and civilization, 936
 inhabitants of Hijr, 936
 trial through she camel sign-hamstring the, 939
 she camel, 940
 plot of secret night attack to slay Prophet
 -- (Salih PBUH), 941
 Allah (swt)'s respite for three days to repent, 941
Thankfulness to Allah swt (*Shukur*) 300
 Allah (swt) Confers more favours 300
 every one will be questioned 302
 most of the mankind are thankless 302
 ungratefulness-afflicts more 301
 why don't you thank? 302
 preached by all the prophets (*Consult*; Prophets)
 Theft, 562, 997

Threatening to Prophets-a tradition of disbelievers

threatening of slaying 203
 to Moses (PBUH), 1021
 to Salih (PBUH), 941
threatening of driving out of city (exile)
 to Lot (PBUH), 964
 to Shuaib (PBUH), 1000
threatening of imprisonment 205
 to Joseph (PBUH), 981
 to Moses (PBUH), 1021
threatening stoning to death, 205
 by people of village Antioch, 1110
 to Abraham, 947
 to Moses (PBUH), 1021
 to Noah (PBUH), 922
 to Shuaib (PBUH), 1000

Throne

of Allah (swt), 327, 368, 376
 of Sheba queen 1149, 1076
 of Solomon (PBUH) 1149, 1070
 Thumb impression (witness concept) 570
 Thunderbolts, 348
 Tide-neap-ebb (*a concept of*), 344
 Time (*Consult*; Period), 328, 336
 of facing death, 774

Timings

for work and rest, 336
 offering of Salat daily five times, 253, 254
 observance of fast, 262
 Tithes - paying on harvest, 274
 Tolerance, in Islam (*Consult*; Islam) 466
Torah (Taurat), 247
 authentication by Jesus (PBUH) 1098
 corrupting original text 591
 false interpretation of 591
 mention of Prophet Muhammad (SAAS) 163
 twisting and distorting according
 -- to own fancies, 591, 592

Tornado (*Consult*; chastisements)
 Torts (social ethics and evils), 465, 473
 Tourism (*a concept of*;) (*Consult*; travel)
 Towers of Haman (for Pharaoh) 1148, 1030
 Township (*Consult*; people-folk-tribes)
 Traced way of performance for each
 -- nation (shariyat), 374
 Tracks along mountains, 339

Trade-business

ethics - rule of 485, 487
 gain & loss is with Allah (swt) 145, 487
 hoarding prohibited 486
 illicit means, 485, 486
 legitimate permissible, 487
 observe - just measures 485

Shares proportion, 510
 Suckling, the term of, foster mother, 533
 Suffa (the first seat of Islamic learning) 761
 Suffering, and calamities, 297, 677, 678, 679
 Suicide, 561
 Sulaiman (Consult; Solomon (PBUH)), 1072
 Sun, 331, 334
 sun-on dooms day, 795
 Sunnah (rites ordained by Holy Prophet), 172
 Superstitions, 159
 Splendorous artistry of Allah (swt) 320
 Supplements (Tables) of this book Consult;
 -- from page 1129 onwards
Supplicating-Invoking Allah (swt), 1116, 1120, 11921
 Allah (swt) listens, 1116
 ask only Allah (swt), 1116
 how to pray, 1116
 precept of, 1116, 1117
 supplicate - expecting approval, 1117
 hoping mercy, 1117
 with longing for good, 1117
 not only for worldly life, 1117
 for antidote to superstition, 1127, 1128
 for conveying of reward, 1127
 for easing out task, 1120
 for guard and safety, 1119, 1127
 for guidance of right path, 1126
 for increase of knowledge, 1119, 1122
 for mercy upon family offspring,
 -- 548, 1118, 1119, 1122, 1123
 for mercy upon parents, 1118, 1119, 1121, 1123
 for mercy upon progeny, 548, 1118, 1119, 1122, 1123
 for mercy upon spouses, 1123
 for removal of impediment in speech, 1120
 for restoring ample sustenance, 1122, 1126
 for restoring dignity and honour, 1125
 for safe journey, 1117, 1118, 1126
 for seeking pardon,
 -- 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1124
 for shielding against secret whispers, 1128
 for steadfastness, 1124, 1125
 for success in Holy war, 1122
 for thankfulness, 1121, 1123
 of Muhammad (SAAS) for success in mission, 1122
 of, Abraham (PBUH) (for acceptance, 1118, 1119
 of, Adam and Hawwa (PBUH) (asking pardon) 1117
 of, Enchanters of Egypt, 1121
 of, Jesus (PBUH) (for bestowing
 -- viand for disciples,) 1122
 of, Job (PBUH) (for mercy and relief), 1120
 of, Jonah (PBUH) (for help and relief), 1121
 of, Joseph (PBUH) (for remaining
 -- Muslim till death), 1120

of, Moses (PBUH) (while splendid sight at Tur),
 of, Noah (PBUH) for safe journey, 1117, 1118
 of, Solomon (PBUH) (Thanking favours), 1121
 of, Zachariah (PBUH) (for bestowing progeny), 1122
Surah-verses of Qur'an-Index, 1183, 1171
Surrender to the Will & Design of Allah (swt), 92
Survival of adherents of Prophets
 of Abraham (PBUH), 954
 of Hud (PBUH), 935
 of Lot (PBUH), 970
 of Moses (PBUH), 1037
 of Noah (PBUH), 928
 of Salih (PBUH), 943
 of Shuaib (PBUH), 1003
Suspensions, 481
Sustenance, 387
 lawful (Halal), 393, 499, 502
 unlawful (Haram), 393, 499, 502
 Quest of, 336, 437
Suwa (idol), 917
Swearing (Consult; oaths), 571 every now and then, 571
Symbolic examples (Consult; similitudes)
Synagogues, (Jews Worship Place) 583
Syria (referred indirectly) 954, 1042
System of;
 ensuring identification
 lineage record in Islam, 513
 nature, 320, 366
 planets, 330

T

Ta'abaeen (followers of companions), 762
Taaba-ta'baeen (followers of the followers), 762
Table (the spread) from Heavens, 1101
Tables and Charts of this book (Consult;
 -- from page 1129 onwards)
Taboos of Hajj (Consult; Ihram) 288, 289, 573
Tabuk (referred indirectly)
 -- ancient-city of Aika 720, 1147, 997, 1002, 1003
 expedition (Consult; battle of Tabuk), 720
Tabut-i-sakeena (Consult; Samuel), 1063
Tahijjud (after midnight optional prayer), 260
Ta'if (a City near Makkah-referred indirectly)
 -- 1150, 190, 191
Talaaq (Consult; divorce), 526
Talut (Saul), 1064
Tampering (corrupting) the text of ;
 Gospel (Injil) New Testaments 1067, 1068
 Psalms (Zabur) 1068
 Torah (old Testament) 591, 592
 in religion Islam forbidden 608, 611
Taq'wa (Consult; Fear Allah swt) 306

- participation in jihad, 644
 payment of Zakat, 266
- Sources of consolation of heart**
 charity benevolence, 276,279,284
 payment of Zakat, 266
 remembrance of Allah (SWT), 295
- Sources of increase in subsistence**
 beseeching for pardon from Allah (SWT), 313
 charity acts, 277
 gratefulness to Allah (SWT), 300
 paying usher-tithes of harvest, 274
 payment of Zakat, 268
- Sources of purifying of wealth**
 charity - benevolence, 276
 payment of Zakat, 266
- Sources of removing strains of sin**
 payment of Zakat, 266
 charity - benevolence, 276,279
 beseeching forgiveness, 314,586
- Sources of sanctifying of soul**
 charity acts, 276,279
- Sources of irrigation, (*a concept of*;) 345
 Sovereignty over heavens and earth, 366
 Space geometry, 327
 Species of the soil, 356
 Spectacular examples (*Consult*; similitudes)
- Spending Etiquettes**
 how to, 496
 what to spend, 496
 for worldly life, 427,498
 spending lavishly, 496
 spending squandering, 496
 in the cause of Allah (SWT), 275
 hastening in spending, 275
- Spider, 365
 Spirit (*Consult*; Soul, *Ruh*), 775
 Spiritual stages of human kind, 413
- Splendid appearance of Allah (SWT)**
 on dooms day, 833
 on Tur to MOSES (PBUH), 1011, 1012, 1014
- Spoils of war, 490,668
- Spreading of;**
 false rumors 481,703
 immoral values 482
- Spring** (*Consult*; rivulet-fountains) 870,955, 1043,1096
 of Ayub (Job) (PBUH), 996
 of Mary (PBUH), 1094
 of MOSES (PBUH), 1096
 of Paradise 870
 of water, 347,348
 of Zamzam, 955
 Spring (Flood) tides (concept of), 344
- Spying, 1035
- Squandering, 496
 Squirreling away, 486
 Stacking up wealth 425
- Stages of human life, 401**
 infancy-childhood, 401
 prime youth, 401
 old age, 401
 gradually sinking into feebleness, 401
 senile life, 401
- stages of soul, 417
- Stars** (*Consult*; astronomy) 329
 great constellations 320
 guidance for travel 332
 morning star 329
 on doom's day 795
 saqib (piercing before dawn) 329
 shu'ara 329
 Sirius - magnificent
 shooting star 329
 tariq, 329
 worshippers of star (heavenly bodies) 945,589
- Starvation (*Consult*; famine)
- Statistics (*a concept of*) 1044-1137
- Station of Abraham (PBUH), 290
- Status of Parents (*Consult*; Privileges and rights of)
- Status of Spouse (*Consult*; Privileges and rights of)
- Steadfastness, 303,645,653**
 Dhul-kifl (PBUH), 916,1080
 Idris (PBUH), 916
 Ishmael (PBUH), 956
 enchanter of Pharaoh, 1028
- Stealing, 562,997
- Stinginess, 497
- Stoning to death (Rajam), 566
- Stories of the bygone generations, 904**
 object of narration, 904
 descriptive narration a crystal proof of
 -- Qur'an being a divine writ, 905
- Straight, way, (Sirat-i-Mustaqeem) 148
- Striving for the cause of Allah (SWT) (Jihad), 100,642
- Structures-Monuments-LandMarks, (*Consult*; A'ad), 936
- Struggle for the cause of Allah SWT
 -- (*Consult*; Jihad) 100,642
- Step brothers 978
- Stepson of Noah (*referred indirectly*) 1140,926
- Striving of/for**
 key of success 674
 own benefits 673,674
 reward of 674,439
- Subhan Allah* (SWT) Saying of, 469
- Subsistence (*Consult*; sustenance Livelihood)
 -- 267,277,274,436,256,300
- Succession laws, 510

making oath every now and then, 474
 making public scandals, 477
 malevolence, 475,476,477,525,822
 misleading and straying poetry, 483
 molestation (ladies), 543
 nagging, 476,477
 narrow mindedness, 477
 not forbidding each other from iniquities, 484
 not fulfilling pledges, 474
 obscene literature, 482
 Pestering (gentle people), 482,557
 plotting inequities, 475
 preaching other what you do not 473,468
 prideful ness, 475,475,477,479,1031
 prying, 481
 quarrelsomeness, 455
 raving (talking vain), 483
 sarcasm, 479
 saucily, 477,479,1031
 scoffing, 479
 scrappy, 477
 skeptics - casting, 481
 slandering, 475,525
 sowing discord between spouses
 spoiling reputation socially, 477
 spying to harm unnecessarily, 476
 stirring up sedition, 481
 surmise, 481
 suspicions, 481
 sycophancy, 480
 to be seen by people-acting righteous, 282,475
 walking brashly, 479

Social

reforms, 554,556,565
 rejuvenation (*Consult*; Shuaib & Moses), 998,1008
 Sociology (*a concept of*)
 -- 451,450,473,514,580,558,283,587,588,1136
 studies (*a concept of*) 473,470,580, 582,
 -- 583,587,1136
 welfare-emphasis over, 556,582,583,
 -- 584,585,588,581
 welfare tax, 265,668
 Socio-economic taxes of Islamic state, 490
 Sodom people (*Consult*; Lot (PBUH), 962
 Sodomites (people of Lot (PBUH), 962
 Sodomy, 962

punishment of false accusation, 525,537

Solemn

declaration-procedure of,495,508, 509,568,571
 pledge of the Prophets, 180,405
 testimony before Allah swt (*Consult*; oath) 571
Solemn laws (*Consult*; ;Shariah) of Christianity
 fasting-ordained 262,1096

Holy war-ordained 139,644
 lawful eatables 270
 Monotheism-ordained 1103,1104
 poor due payment-ordained 270,601
 Prayer - ordained 255,1092,1098

Solemn laws of Judaism

assassination-condemned 593,1008
 devouring of wealth-forbidden 270
 dower money on wife 522,1010
 Holy war- ordained 644,1043
 lawful & unlawful eatables 594
 Monotheism-ordained 251
 Poor due payment - ordained 251
 prayer-ordained 251,1021,1033
 public obligations 251
 punishment of stoning till death 566,593
 retribution for injury-ordained 593
 reverence of parents 251

Solomon (PBUH) (Suleiman) (PBUH), 1072

fleet (*Consult*; miracles of), 1072
 Miracles bestowed to, 1072
 the ants and, 1074
 the hoopoe, 1075
 the horses of, 1075
 death of, 1079

Solomon and Bilqis (queen of Sheba), 1076

tact of Bilqis to conciliate, 1077
 sending gifts by Bilqis, 1077
 through embassy, 1077
 flanging back of gifts at Bilqis and
 -- stressed on invitation to true faith, 1077
 transportation of queen's throne before
 -- her arrival, 1078
 refutation of false accusations on
 -- Solomon by Jews, 1079

Son

adopted, 518
 Son of Mary (PBUH), 1097
 Son of Noah (PBUH), 926
 Son of Zachariah (*Consult*; John PBUH), 1089
 Sons of Abraham (*Consult*;
 -- Ishmael & Ishaq PBUH), 971,973
 Sons of Adam, 915
 Sons of Jacob (PBUH) (*Consult*; Joseph PBUH), 980

Son ship of God

false Dogma of Jews about Ezra, 603,1081
 false Dogma of Christians about Jesus, 602,1103
 Sorcerers of Pharaoh (*Consult*; enchanters)
 -- 1025,1028
 Soul (spirit, ruh), 775
 different states, 417
Sources of earning Allah swt 's pleasure
 charity - benevolence, 266,276,284

Simplicity of the Prophet's (SAAS) domestic life, 184,189

Sinners- on dooms day (*Consult*; Hell)

Sinai (mount), 1012

Sinai-peninsula, 1041,1012

Sine-qua-nons of Islam, 97

Sirat - a bridge over hell, 831

Sirat-i-Mustaqeem 148

Sirius, a star 329

Sister

of Aaron 1144,1097,1007

of John's mother (wife of Zachariah) Elizabeth

-- (*referred indirectly*) 1143,1088

of MOSES (PBUH), 1006

Sister's rights, 458

Skies, 322

on dooms day, 792,793

Consult; heavens 329

Slander, 537

preventive measures against, 541,543

penalty for slanderer, 525,537

Slaughtering

lawful, 502

unlawful, 505

Slaves

right of, 564

freeing of, 584,588,1041

marriage of, 519,520,966

Slaves market, 980

Slavishness-forbidden, 980

Sleep, for rest, 336

Sleepers of cave, 1106

Social (relations) obligations, 443,451

Social manners, 465,521,535,556,581

Social boycott, 564

Social evils of A'ad people, 929

arrogant of power, 929

materialism, 929

Social evils of people of Lut, 962

decoity - infesting highways, 962

lewdness (shamelessness), 962

lust wantonness, 962

sodomy, 962

Social evils of people of Midian, 997

blocking off people from righteous ways, 997

commercial selfishness, 997

creating confusion in society, 997

creating violence, 997

dacoity, 997

fraudulent dealing, 997

giving short measures, 997

highway robbery, 997

lawlessness, 997

Social evils of Thamud people, 939

access to basic needs, 939

inequity and rebellious pride, 939

monopolizing sources by privileged class, 939

preventing common people's access, 939

rich oppressing the poor, 939

Social evils, 473

accusing innocents, 475,525

alarmist, 481

all flagrant deeds whether obvious or bscure, 483

alleging false, 475

arrogance, 479

avarice,480

backbiting, 476

bad society, 470,484

betraying covenants, 474

boasting, 479,480

bragging, 479,483

brawling, 455,477

calumny, 475,477

carping, 476

casting blames, 475

chatting nonsense, 483,492

cheating, 475

conjecture, 481

covetousness, 480

cupidity, 480

deception, 475

deceptive statement, 475,474,481,525

defaming others, 475,476,479

deluding immoral values through media or

-- doubts-creating of, 481

enjoining others to be virtuous while

-- envying people, 477

exultance, 477,479,1031

false generosity, 480,282

false rumoring, 481

falsehood, 474

fault finding to traduce, 476

fawning, 480

flattering, 480

fraud, 475

greed, 480

grudging other's advantages, 477

ignoring people who lack worldly amenities,

-- 280,281,488

inferiority complex, 480

inquisitive about unrelated things, 481

insolence, 477,1031

insulting by using nicknames, 479

intriguing, 475

jealousy, 477

literature obsequiousness, its (spreading) 480,482

lying, 474

-- genetics), 395, 398
of Universe 327, 321
talks, 106, 111
thoughts, 107, 109, 111

Sectarianism 620
back ground of 616
craze of domination 616
tempering of text of Scriptures 616
distortion of meaning of scriptures 616
carving faith into cartels, 583, 607, 616
mislead on dooms day 619
rejoicing in its self cratered fragment 617
sectarianism can invite calamity 620
sectarians are lifeless 619
use of mosques for wishful beliefs 620
mislead on dooms day 619
Allah (swt) will judge the differences, 618
Allah (swt) will make clear their conflicts, 619

Sectarian harmony, 470, 580, 583
Sectarianism in Judaism and Christianity, 607
Sects-family's surname-tribes, 443, 523

Security and peace
by Allah swt (*Consult*; tranquility)
city of , 624, 625
in Paradise, 884
religion of , 580, 585
Security deposits (*a concept of*;) 492
Security interest bearing, (*a concept of*;) 488

Seed
(*Consult*; Progeny-offspring who makes
-- it grow,) 351

Seek help from Allah (swt) alone 142, 140
Self defense - right, 561, 581
Selfishness in Trade, 1069

Sense of,
shame, 315, 541, 543, 573
security (*Consult*; Tranquility)
feeling, 396
dismal devastation of (*Consult*; signs of
-- admonition), 935, 943, 969, 1002, 1040

Service to huminity (*Consult*; Public Obligations),

Setting free,
of bondmen, 584, 588
of captives, 584
of debtor, 272
of POW's, 584
of slave, 584, 588

Seven heavens - creation of , 322

Sex-Sexual
discipline in Islam, 535
misconduct 536 (*Consult*; fornication,
-- homosexuality, gayness, sodomy) 539
offence (*Consult*; Fornication - Adultery
-- incest - free love

pairs (*Consult*; couples)
purity in Islam (*Consult*; matrimonial laws), 514
sexual union (*Consult*; Marriage-wedlock)

Sexual relations with wives (wedlock), 540
shall be in manner (object) to have progeny, 540
restrictions in certain situations, 535
taking full bath after coition, 251, 535

Sura-Alnoor-a lesson on-sex discipline, 535
Sha'air-Allah (swt) (sacred monument), 293
Shab-e-Qadar - night of power, 264
Shadows, 333
Shaheed (*Consult*; martyr),
Shamuil (*Consult*; Samuel PBUH), 1063
Shariah (shariyat) (*Consult*; Prescribed code), 374
She camel (*Consult*; Salih (PBUH), 939
Sheba, 1074

Ship
of Noah (*Consult*; Ark)
Shipyards (*a concept of*) 934, 926, 1137
Ship industry-a marvel (*Consult*; Noah's ark), 924
ship making-pioneer artificer, 924
Ship - sailing of, as a sign to be grateful;
-- to seek His bounty, 340, 341, 342

Short scaling (measure), 485, 997
Showers from sky, 345, 346, 347
-- showers vivifying , 345, 346, 347

Shuaib (PBUH), 997
Shukkr (*Consult*; gratefulness to Allah (swt)) 300
Shura (*Consult*; Consultative Council), 549
Sidra-tul-mintaha (*Consult*; night journey) 688

Siege
of al-Madinah (*Consult*; Battle Of Trench), 709
of Jews of (*Consult*; Battle of Quraiza), 712

Siesta-Noontime, 445

Signs
mummy of Pharaoh, 1040
of nature to ponder (Ayat Allah), 320
remains of Thamud people, 943
remains of A'ad people, 935
remains of Midianities, 1002
remains of Sodom people, 969

Signs of Allah (swt) (Ayat), to Ponder, 207, 320
Signs of dooms day, 788

Signs of Nature to Ponder
all Messengers preached to reflect, 920, 930, 936, 1030
Hud (PBUH) to people of A'ad, 930
Moses (PBUH) to Israilities, 1030
Noah (PBUH) to his folk, 920
Salih (PBUH) to people of Thamud, 936

Sijjiun - record of wronged, 801
Silver lining behind the clouds, 371
Similitude-as referred in Qur'an (*Consult*; allegories)
-- from pages 1129 onward

Salih (PBUH), 936

preached Monotheism, 936

invited Thamud people to ponder

-- in signs of Allah (SWT), 936

Salsabil (spring in paradise), 870

Salute (*Consult*; peace and Blessing)

Salute and greeting (*Consult*; Asalam-Alaykum),

-- 444,447

Samri, 1048

Samuel (PBUH), 1063

ark of covenant, 1063

designated Saul as king, 1063

Sanctuaries (places of worship), 580

of Christians, Churches 580

of Jews-Synagogues 580

Sanctuaries of Muslims (SWT),

-- 580,622,626,671

first and oldest (*Consult*; *Ka'ba*),624

for mankind (*Consult*; *khana Ka'ba*),

-- 624,625

mosques 622,626,671

Saqar (section of Hell), 888

Sarah-first wife of Abraham (PBUH), 958

remained waiting child birth for long, 958

Satan

an avowed enemy, 383,910

created out of smokeless fire, 382

deceives mankind, 383,385

eternal enemy of human kind, 382,910

excites enmity and hatred, 383

follow not his - footprints, 384,910

his friendship, 296,384,385

his delusion, 385

his perpetual mission-misleading

-- humankind, 382,383

his promises are deception, 385

his Strategy is ever feeble, 384

instigates humankind for sexual

-- misbehaviors, 383

is of the jinn (sprites), 382

prevails no authority over believers, 384,914

seeking refuge with Allah (SWT) against, 386

talented persons should be cautious of, 383

threatens humankind with poverty, 383

Satan-and Adam (PBUH) in Paradise, 907

refusal to bow down before Adam-his arguing, 907

temptation to Adam (PBUH) and, 909,910

Hawwa (PBUH) to taste forbidden tree, 909,910

condemnation as accursed and outcast, 912

expulsion from paradise, 912

asking for respite till the, 912

his reprimanding, 912

challenge to lead the children of

-- Adam (PBUH) astray, 913

confession of his inability

-- to mislead divine chosen people, 384,914

Satisfaction of mind 295 (*Consult*; source of

-- consolation of heart), 76,252,284,266,295,298,305

Saul, 1064,1065

Saum (fasting), 100

prescribed to previous nations, 262,263

putting off in certain condition, 262

ransom of for people specially

-- circumstanced, 264,289,292,573

timings of observance of fast, 262

of abstinence from

Speech (*Consult*; Fasting), 1088,1096

Science and Islam (*Consult*; Appendixes)

-- onward page 1129

Scoffing-(of / on / with)

Abraham (PBUH) 949

Hud (PBUH) Haber 931

Mary (PBUH) 1096

Messengers 920,931,949,999, 1019,1096

MOSES (PBUH) 1019

Noah (PBUH) 920

Salih (PBUH) Methuselah 938

Shu'aib (PBUH) Jethro 994

on believers 840,841

on greeting/salutations 470

on Qur'anic Verses 237

on alms & charity 281

Scope of preaching the people of scripture 637 to 641

Scoundrel's report, 481,659,660,750

Scribe - obligation of, 494,495

Scripture - Divine

of Abraham (PBUH), 946

of David (PBUH) (*Consult*; Psalms), 248,1067

of Jesus (PBUH) (*Consult*; Gospel)

-- new Testaments (Bible), 163,249,1098

of Moses (PBUH) (*Consult*; Torah)

-- (old Testaments), 163,247,1014,1047

of Muhammad (SAAS) (*Consult*; Qur'an), 207

Seal of Prophets, (*Consult*; Muhammad (SAAS) 166

Seas

foods, 502,503,505

on Dooms day, 795

salty & Palatable water, 343,347

seas (the two), 1058

source of navigation, 340,341

tigris,(referred indirectly) 925

treasures of sustenance, 342

where both meet, 1058

Secret /Secrets

counsel, 106,111

of earth 956,808

of embryology, (*Consult*; mysteries of)

of Pilgrimage (*Manasik-Hajj*), 288

River

Nile (*Consult*; Moses (PBUH) birth), 1006
palatable and bitter, 343
on dooms day, 795

Rivulet (*Consult*; fountain & springs)

Red sea, 1037

Roads, way, 339

Robbery, 97, 562, 962

Rob not the Peter to pay the Paul, (*a concept of*;) 271

Rocky tract (Hijr), dwellers of, 339

Rock cut builders (*Consult*; Thamud), 936

Rod

of Moses, 1013, 1043

of Solomon, 1079

Romans

fundamentalists, 1105

Catholics, 601, 607

victory forecasted in Qur'an, 686

Ruh (soul, spirit), 775

Ruh-ullah (Gabriel PBUH), 775

Ruh-ullah (Jesus PBUH), 1095

Ruh-ul-Amin (Gabriel PBUH), 775

Ruh-ul-Quddus (Gabriel PBUH), 775

Rules of (*Consult*; Laws of)

Rush for (Take lead) for or to;

abeyance on Divine injunctions 220

qualify for Paradise 964

repent before Allah (SWT) 316, 319

righteous deeds 468

seek forgiveness from Allah (SWT) 313

spending in Allah's SWT Way/cause 269, 274, 275

S

Saba (Sheba), (*referred indirectly*) 1076

Sabbath (of Jewish fishing community), 1070

restriction of Saturday, 1070

breach of Sabbath, 1070

turned to despised apes, 1070

Sabeans (a tenet-worshippers of heavenly bodies)

-- 589, 945

Sabeans (people of Sheba), 1075

Sabqeen (*Consult*; pioneers of faith)

-- 761, 639, 990, 924, 927, 990, 1003, 1022, 1037

Sacred Lands (as *referred indirectly*)

Jordon (*referred indirectly*) 1079

Palestine (*referred indirectly*) 1077

Syria (*referred indirectly*) 1042, 954

Sacred months, 664

Sacred monument - esteem of, 293

Safa & Marwa - hills (in Makkah) 290

Plan of Arafat 290

Mushar-ul-haraam 290

Sacred mosques 624, 625, 626, 761

khana ka'aba, 624, 625

Aqsa-Temple of Solomon (*referred indirectly*)

-- 626, 1145, 1045

Sacred poetry (*Consult*; Psalms), 48, 1067

Sacred Valley (Tawwa) 1148, 1014

Sacred Mount

mount Sinai, 1012

mount Tur, 1011, 1051, 1048

mount Safa, 290

mount Marwa, 290

Sacrifice

offering-first ever (*Consult*; Habil-Qabil), 915

by Ishmael (PBUH), 956, 972

on Hajj, 291, 292

Sacrets

of breasts (minds), 107, 109, 111

of Consultation; 111

of Earth, 792

of Eyes, 111

of Unseen, 108

of womb, 398, 538

Sadqa (*Consult*; voluntary alms); 284

Safa and Marwa hills-going to, 290

Sage (*Consult*; Luqman and Khizir PBUT)

Sahabi (Shaba-Karam), 758

Sail al-'Erum (flood released from Ma'arib dam), 1114

Saints, 638, 434, 601

Sair (section of Hell), 889

Sajdah (*Consult*; prostration)

Sakinah - calmness (*Consult*; Tranquility)

Salam (*Consult*; peace & Blessing and Salute)

Salat - prayer, 99

call (Adhan-Azan), 256

commerce may not hinder you, 256

cure of depression, 258

establishing regular-an obligation of

-- Islamic state, 251

facing Qibla while offering, 253

five obligatory, 253, 254

Friday-weekly assembly, 256

in battlefield, 257

in state of fear, 257

intermission in business for prayers, 257

keeping up, 253, 250

obligatory to all Prophets, 250, 251, 973

preparing for offering, 251, 252

prescribed timings-offering, 253

prescribed to previous nations, 251, 250, 973

primary condition of becoming Muslim, 250

reward of offering-keeping up, 258

timings of, 253, 254

Salat-e-istasqa-prayer during drought for rains, 261

Salat-e-jumma-weekly, congregational prayer, 256

Salat-e-Eid, - Festival day prayers 260

Salient features of Islam (*Consult*; Islam)

raised up blind, 805
 record given behind back, 801
 record given in left hand, 800
 record given in right hand, 799
 Resurrection from the graves, 796
 seas are burst forth, 795
 sky will be like the boiling filth of oil, 792
 stars shall fall lose their lights, 795
 sun will lose its light, 795
 trumpet will be blown, 788,889
 wild beasts shall be gathered together, 788,791
 witness of Messengers, 810
 witness of own body organs, 808
 witness of Angles, 806
 written pages of deeds shall be laid open, 798,806
 wrongdoer assembled with their companions, 835
 wrongdoer will bite at his hands, 822,825,827
Retaliation, 559,566
 for cardinal crimes, 565
Retarded persons-rights of 461
Retreat to mosques, 264
Reunion-remarrying after final divorce (Hilala), 528
Revelation, of Scriptures, on 97,245
 Abraham (PBUH), 946
 David (PBUH), 248,1067
 Jesus (PBUH), 163,249,1098
 MOSES (PBUH), 163,247,1014,1035,1047
 Muhammad (SAAS), 687
 Noah (PBUH), 923
Revenge,
 of oppressive wrong, 557
 not taking of and forgiving, 466,557,558
Revenue collections
 -- (Consult; social welfare taxes-taxes)
 -- 490,265,665
Reverence (respect) of 557,466
 Allah (SWT) 142
 all Prophets ordained in Islam 93
 all Scriptures ordained in Islam 94
 any other as deity (Consult; Polytheism) 142
 Prophet Muhammad (SAAS) 168
 of companions of Holy Prophet (SAAS), 182
 of household of Prophet Muhammad (SAAS), 188
 of parents (tradition of prophets)
 of parents by Isaac (PBUH) 452
 of parents by Ishmael (PBUH) 972
 of parents by John (PBUH), 1089,1090
 of parents by Joseph (PBUH), 993,995
 of father by Abraham (PBUH), 947
 of father by Ismail (PBUH), 972
 of Mother by Jesus (PBUH), 452
Reward of,
 alliance with believers, 770

beseeching pardon, 312,315
 charity - benevolence, *Zakat-Ushr* 277,284
 efforts of humankind, 546
 evil doings (Consult; Hell), 886
Jihad - participation, 657
 meritorious ones (Consult; paradise), 860
 migration, 670
 offering Salat, 256,258
 reverence of Muhammad (SAAS), 1182
 righteous deeds (Consult; paradise), 860
Sabr-patience, 299
Shukr-gratefulness to Allah (SWT), 300
 support of emigrants, 670,671
Taqwa (fearing Allah (SWT)), 306
Ta'uba-seeking repentance, 312,315
Tawakkul (confidence in Allah) (SWT), 304
Zakat - paying poor due, 267,268
Riba (Consult; usury), 488
Righteous actions, 465,764
Righteous ones
 virtues of, 764
 company of the, 770
 in paradise, 860
Rights (Privileges) of
 brother and sisters, 458
 debtor, 272,464
 divorced women, 520,529,533
 elders 451,452,455
 emigrants, 273,463
 foster relatives, 533,534,458
 gleaners (artisan), 353
 grand father, 452
 grand sons, 443,456
 guests, 957,966
 husband, 523
 imbecile, 461
 incapacitated people, 461
 indigent, 271,283,463
 kin folk, 271,282,458
 mentally deficient persons, 461
 neighbours, 462
 offsprings, 455
 orphans, 271,282,460,520
 parents, 451
 poor and hungry, 271,283,463
 pregnant woman, 531,532,533
 reapers, 274,353
 spouses, 522,523
 wife, 522
Rise and fall of nations, 673
Rites ordained by Prophet (SAAS)(Sunnah), 172
Rivulet of Mary (PBUH), 1096
Ritual
 of Islam, *Ai'badat*-Worship 250

lineage 458
 maintaining ties of kinship 458
 on dooms day, 815
 Releasing Captives/slaves/pow's/debtors, 584, 588, 668
 Relief after hardship, 371
Religion of Islam (*Consult; Islam*), 89
 articles of, 97
 principles of, 99
 of Allah (SWT), 89
 exaggeration - forbidden, 95
 no compulsion in for disbeliever perfect religion, 89
 same, for all Prophets, 93
 shall prevail, 95
 source of enlightenment, 89
 Religion of Abraham (PBUH) - Islam, 91
 Religion of all Prophets, 92
 Religion of Christianity (*Consult; Christians*
 - Gospel-Injil-New Testament)
 Religion of Jews (*Consult; Jews-Torah-Old Testament*),
 Religious pluralism, 608,
 Rely upon Allah (SWT) alone 303
Remembrance of Allah (SWT), 294
 suitable timings, 295
 consequences of turnings away, 256, 805
 causes of turning away from 423, 256
 cure for depression, 294, 295, 296, 297
 Resorts, (*a concept of;*) 355
Repent -Repentance
 -- (regretting of wrong), 315
 Allah (SWT) accepts, and forgives sins, 318, 678
 be foremost in asking, 316
 before death approaches, 316, 317, 1040
 before-subjected or exposed, 316, 319, 685
 repent sincerely, 317, 318
 vast provision of turning into for, 318, 678
 while facing death (of no use), 316, 317, 1040
Repentance (Vast provision of) for;
 apostate, 319
 by nation as a whole (Jonah's Folk), 1086
 Christians (People of Scripture) 319
 disbelievers 318
 guilty of lewdness 319
 hypocrites, 319
 killer, 319
 thief, 319
 transgressors, 319
Repentance preached by all Messengers 319
 Hud (PBUH) to people of A'ad, 933
 Moses (PBUH) to Israelites, 1050
 Noah (PBUH) to his folk, 919
 Salih (PBUH) to people of Thamud, 937
 Shuaib (PBUH) to people of Midian, 1001
Reprimanding 564
 Reprobation punishment of, 161, 162, 934

Repudiation of (*Consult; refutation of*)
 Respect (*Consult; reverence*)
Respite to / for
 by Allah (SWT) to disbeliever, 756, 941
 for repenting before death 828
 on dooms day, 589, 828, 830
 to debtor 491
 to disbelievers on Doom's Day 830
 to Satan, 912
 to spending in charity before death 830
 to Themud folk to repent 941
 Responsibilities of (*Consult; obligations*)
 Restraining from way of Allah (SWT), 627, 628
Resurrection, 98, 777
 prognostications, 788
 a near torment, 782
 a single shout, 791
 all the secrets will be examined, 807
 angels will be sent down, 806
 balances of justice, 819, 821
 day of gathering, 796
 day of grief and regrets, 825, 827
 day of judgement, 785, 798
 day of sorting out, 804, 805
 destruction with sorrows and despair,
 -- 822, 825, 827
 doubts of atheists, 777
 earth and the mountains will be
 -- shaken violently, 339, 791
 earth as a leveled plain, 791, 792
 earth is stretched forth, 791
 earth throws out its burdens, 792
 earthquake of the hour, 791
 every person will know what he,
 -- has brought, 817, 818
 every pregnant will drop her load, 796, 790
 graves turned upside down, 792, 796
 greatest terror, 796
 hard day, for the disbelievers, 822, 825
 heaven cleft-split asunder, 792
 heaven will be rolled up, in his right hand, 793
 heaven will shake with a dreadful
 -- shaking, 792, 793
 mankind as in a drunken state, 796
 mankind will be like m^oths scattered about, 796
 mountains will move away, 793
 no fear of injustice, 821
 no friend or an intercessor, 815
 no one will dare to deny, 809, 834
 no ransom will be accepted, 813
 not permitted to put forth any excuse, 830, 832
 nursing mother will forget her nursing, 790, 796
 pregnant she-camels shall be neglected, 790, 796

Qureysh-Quraish (disbelievers of Makkah) 693,742,747

R

Rabbis, 163,180,240
Rabwa (high grounds) (place of birth of
-- JESUS (PBUH) 1149,1096
Raffles, 501,555,562
Raiment (*Consult*; dress)
Rain, 345,346,347
of stones, 968
storms, 348,368
Rajam (stoning to death), 566
Ramadhan (Fasting month), 262
Ramessess II (*Consult*; oppressor Pharaoh), 1005
Ransom, (fidyah)
of freeing captive (*Consult*; POW's), 667,668,490
of keeping fast, 264,289,292,573
from disbelievers (jizya)
no ransom, shall be taken on that Day, 813
Rape, committing of 537,555
Raven, 364,915
Ravishment, 537
Read first divine message, 439
Reality of;
Doom's day, 418,782
worldly life, 418,427,498
Realization of facts (*Consult*; invitation to)
Reclamation (*Consult*; Atonement),
-- 264,289,292,525,573
Recommendation-Interceding (to or for)
Allah (swt) 127
authority to 127,175,815
evil 574
good 574
Prophet Muhammad (SAAS) 175,176
Recompense (*Consult*; reward of ultimate fate of)
-- (*Consult*; reward of) day of, 785,798
Reconciliation between
contending Muslims, 558,621
spouses to avoid breach, 524
with enemy inclined to peace, 585,665
Record
a register inscribed, 378
behind the back, 801
in left hand, 800
in right hand, 799
keeping of mutual transactions, 491,492,494
written pages of deeds of criminals-evil doers, 801
righteous ones, 800
recording angels, 378
Red journalism (a concept of) 482
Red sea (referred indirectly) (*Consult*;

-- drowning of Pharaoh), 1037
Redeeming captives, 584,588
Reflect to...(*Consult*; invitation to)
Refuge (seeking) agaist/from
Allah (swt) against Satan 386
beseech Allah (swt) always 142
none-against Allah (swt) 142
on dooms day, 797
secret whispers 1128
superstitious fear 1127
to Idolaters (seeking Asylum) 797,667,588
Refugees (*Consult*; migration), 670
deserves financial help, 671,672
providing asylum to, 671
qualify mercy of Allah (swt), 672
reward of their help, 671
women - instructions of, 671
Refutation of;
blasphemy of, 134,136,138
Refutations of false accusation of
Judaism ascribing Ezra son of Allah (swt), 593,1081
Israelites on Solomon (PBUH), 1077
Israelites on MOSES (PBUH), 1054,1055
Refutations of labeling, of disbeliever's
-- on Qur'an, 228
their denial to accept it as Divine writ,
-- 99,207,904,905
refuted by revelation of details of Moses 1004
refuted by revelation of details of Mary 1091
refuted by revelation of details of Joseph 977
revealed to a Prophet who was never
-- read or wrote before annunciation, 235
revealed to a Prophet who never distinguished
-- for any poetic or philosophic
-- eloquence before annunciation, 236
fleeing away of disbeliever from
-- accepting the Divine challenge of producing
-- single verse alike, 231
Refutation of false belief of, crucifying of
-- Christ, 1102
Refutation of false dogma of trinity
JESUS (PBUH) will be disclaimed
-- himself on final day, 1103
JESUS (PBUH) was just a man, 605,1103
son of Mary (PBUH), 1097
only a messenger of Allah (swt)
Regimen and rewards, 242,402,366,370,678
Rejoicing of factions 617
Relationship, of 458,443
ancestors 443
blood ties 443
fosterage 458
in-laws 443,458

Purifying mentally, bodily, 251,252,623
Purpose of creation of humankind, 405

Q

Qabil (Cain) elder and jealous, 915
Qarun (Korah), 1030
Qibla former (Mosque of Jerusalem), 626
Qibla Changed (Mosque Ka'ba), 694
Qibla (change of direction, 694
 conflicts between Jews and
 -- Christians on the direction of-, 600,696
 of Jews-facing Jerusalem Mosque, 690,696
 of Christians, 600,696
Qisas (law of equality in punishment), 559,566
Quails, (*Consult*; manna), 1044
Quba-mosque, 626
Queen of Sheba (Bilqis), 1076
Quest of sustenance, 256
 quest of Knowledge, 440
 quest of truth (*Consult*; Abraham), 945
Quiescent state (between physical death
-- & resurrection) 776
Qur'an, 207,99
 absolute truth with certainty, 212
 Allah (swt) bears witness, 210,220
 angels testify, 210
 anguish for the disbelievers, 225
 appropriate timings of reciting and
 -- mediation, 215,217
 authenticates (confirms) all preceding scriptures
 authenticates Torah, Gospel and Psalms,
 -- 245,246,247,248,249
 book of wisdom, 221,222,224
 clear lesson and guidance for heedful, 225
 comprehensive verses, 213,214
 Confirms Prophet hood of all messengers
 -- cure for ill hearts, 220
 decisive statement, 223
 decorum of reciting, 215,217
 Divine Messages revealed to Muhammad (SAAS) 246
 doctors of Jews (Rabbis) authenticate
 -- Qur'an as Divine writ, 240
 eternal care against distorting of text, 211
 etiquette of listening, 215,217,218
 final Divine scripture, 99,223
 first verse of Quran revealed, 210
 follow its teachings before death approaches,
 -- 219,220
 foretold in Torah and Gospel, 243
 free from all deviousness, 212,213
 guideline to salvation, 223
 healing and mercy, 220,225

healing for spirit and minds, 220
in Arabic text, 230
inscribed on Divine tablet, 211
made easy to understand, 213,214
manifest book, 213,222,225
manifest light, 222
mercy and a reminder, 225
most perfect expression, 90,223
mother book, 211
no ambiguity, 212,213
no falsehood can approach it, 212,213
not a poet's statement, 234
not a word of satanic accursed force, 235
not a word of soothsayer, 235
people of scriptures ordained to believe
-- and follow, 219
practicing its principles-ordained, 219,220
pre requisites of reciting, 215,217
prostration while reciting specific verses, 216 , 1170
protected against tempering, 211
refutations of false notions of Orientlists, 228
refutations of, accusations of infidels
-- revealed through medium of angel Gabriel, 208
revealed to Prophet Muhammad (SAAS) 207
some people of book recognized Qur'an
-- as Divine writ, 241
standard to discern truth and false, 221
started revealing during Ramadhan, 209
think deeply in the, 214,219,220
to lead mankind out of darkness, 223
unequivocal, 212
unique book of record, 214
universal guide for humanity, 222,224
verbatim revealed message, 207,208
warning and a reminder, 225
without any discrepancy, 212,213
without any omission and shortcoming, 214

Qur'anic

adjurations and oaths, as referred in Qur'an 1144
allegories-as referred in Qur'an 1141
chapters List (Surahs) 1171
colours-as referred in Qur'an 1152
fairest-names of Allah swt 1129
human parts of body-as referred in Qur'an 1161
narratives of the Prophets and their
-- Folks,as referred in Qur'an 904
numerical - as referred in Qur'an 1165
similitudes- as referred in Qur'an 1141
supplications-invocations-prayers, as
-- referred in Qur'an 1116
verse locating table from this book (*Consult*;
-- appendix) 1281 onward
Qura-valley and plains of, 936

Prophecies (*Consult*; Philosophy)
Prophet Muhammad (SAAS) (*Consult*; Muhammad) 163
Prophet's covenants, 180,405
Prophets participated in Jihad, 645
Prophets preached for

Monotheism, 133,154
putting trust in Allah (SWT) *tawakkul*, 305,1018
fear Allah's SWT annoyance *taqwa*, 310
patience (perseverance), *Sabr* 299

Prophet preached to Fear Allah (SWT) (Taq'wa)

David (PBUH) 1068

Hud (PBUH) Haber 931

Ilyas-Elias (PBUH) 1065

JESUS (PBUH) 1101,1100

Lot (PBUH) 963

Moses (PBUH) 1052,1015

Noah (PBUH) 919

Salih (PBUH) Methuselah 937

Shu'aib (PBUH) Jethro 999

Why don't you fear Allah SWT? 311

Prophets-preached for thankfulness

-- (*Shukr*) to Allah (SWT)

Abraham (PBUH) 948

Hud (PBUH) 931

Joseph (PBUH) 995

Salih (PBUH) Methuselah 937

Prophets preached for Patience (Sabr)

Idris (PBUH) 916

Ishmael (PBUH) 956,972

Jacob (PBUH) 980

Job (PBUH) 996,1032

Joseph (PBUH) 985,993

Khizir (PBUH) 1059

Moses (PBUH) 1032

Zulkifal (PBUH) 916

Prophets preached for

-- (Trust in Allah SWT *Tawwakal*) 305,1018

Abraham (PBUH) 950

Hud (PBUH) Haber 931

Jacob (PBUH) 990

Jacob (PBUH) a symbol of trust in Allah SWT

--976,980,992

Noah (PBUH) 918

Why don't you trust? 303

Prophets appealed Allah SWT for help

-- 124,123,122,119,125

Abraham (PBUH) 955

Job (PBUH) 996

Jonah (PBUH) 1086

Lot (PBUH) 964

Moses (PBUH) 1010,1009

Noah (PBUH) 927,922

Prophets proclaimed themselves as Muslim 93

Abraham (PBUH) 945,93

Jacob (PBUH) 92

JESUS (PBUH) 93

Joseph (PBUH) 93

Moses (PBUH) 93

Noah (PBUH) 93

Prophets (*Consult*; all Prophets-Messengers)

-- ever shielded against mischief and plots of

-- disbelievers,928,935,943,954,970,1003,1037

Prostitution, 540,581,584

Forcing helpless, 584

punishment of, 565,566

Prostration

in respect of ;(*Consult*; bowing

-- down in respect) 995,907,908

only merits for Allah (SWT) 355,115

all creations of Universe adore verses, 113,115

while recitation of specific Qur'anic 1168

verses,216,1138

Protest of;

disbelievers 190,199,203,191

Satan 913

Protons and Electrons (*a concept of*) 328

Providence,(Sustenance-livelihood) 387

Provision on earth, 325,352,389

Proxy of criminal 575

Psalms of Psalter (*Zabur*), 248,1067

Psychological disturbance-cure (*Consult*; Patience),

-- 30,258,295,298,427

Psychology (*a concept of*) 315,413,417,573

-- 394,473,451,465,558,287,585,1136

Public council (assembly) decorum, 447

Puffing (*Consult*; arrogant)

Puffing up with wealth 425

Punishment of;

concept in Islam, 564

evil doings 885

forced 538,561

fornication 536

homosexuality 962,539

stoning till death 566

transgression 563

white collar crimes 555

Punishment

in this life and hereafter (*Consult*; Hell), 885

Lashing - stripping, 565

death sentence

cutting of hands & feet, 563

for cardinal crimes, 562

for false accusation, 525,537

for Homosexuality, 539,562

for Dacoity, 562

Purgatory, 776

Polytheists, Polytheism, 139

- awesome wrong, 139
- ultimate fate of, 139
- Ponder to (*Consult*; invitation to)
- Pool taxes, 490,668
- Poor-rights of, 271,283,463
- Poor-due, (*Consult*; *Zakat*), 265
- Population planning (Concept of), 533
- Positive & Negative charge (*a concept of*) 328
- POW's 667,668
- Praise of Allah (swt) (Hymn), 103,112,376,1066
- Praise to Allah (swt) alone 97
- Prayer (*Consult*; *Sallat*)
- Prayer for rain (during draught) 261
- Praying (Invocating) Allah (*Consult*; Supplications)
- Preaching (*Da'wah*)** call to enter into the
 - fold of Islam ,631 ,560,690
 - activities shall be moderate 633
 - adduce yourself as model 632
 - argue in polite manner 634
 - debate with sound reasoning 634
 - do not ignore poor Muslims 634
 - doctrine of debates and disputations 633
 - emotional people are not suitable 635
 - invitations shall not be coercive 634
 - invite towards Monotheism 634
 - invite with wisdom and in best possible manner 633
 - mere disputation is futile 634
 - no compulsion for non believers 634
 - obligatory to all Muslims 631
 - organize education & training 632
 - preach in soft words 633
 - preaching is Universal Divine Message 636
 - preaching is a Prophetic Tradition 636
 - preaching is delicate function 635
 - preaching is not job of extremists 635
 - preaching requires forbearance 636
 - preaching requires spirit and devotion 636
 - Preaching through communication (*concept of*),1076
 - require proper contemplation & discipline 632
 - shall be free from aggression 633
 - short tempered people are not suitable for 635
 - start invitation from your home/family 632
 - support your call with Qur'anic verses 634
 - through communication (if not in person) 633
 - warning to Muslims who neglect 631
- Prayers (supplications), 1116
- Prayer-worship(*Consult*; *Salat*), 250
- Precautions against grafting or tempering
 - any code of Islamic religion, 608
- Preaching (*Consult*; *Dawah*), 631
- Precepts moral, 465

Pregnancy

- not lawful to hide, 537
- pregnancy and its stages, 395
- minimum period, 400
- Prejudice following, 155,159
- Prejudice judgement, 578,579
- Prejudice in payment of poor due, 284,459
- Pre-requisites of Islam, 97,99,133
- Prescribed code (*shariah*)**, of life for every nation 374
 - of David (PBUH), 248,1067,1012,1033
 - of Jesus (PBUH) 255,262,270, 1092, 1096,1098
 - of Moses (PBUH),163,251,274,592,593,594,
--566,644,1010,1014,1045,1047
 - of Muhammad (SAAS), 98,207
- Prescribed period (*iddat*), 531
- Presumptions (*Consult*; Misconception of)**
 - Christians 617,599
 - Jews 599,617
 - disbelievers 617,599
- Preventive measures**
 - against crimes (*Consult*; Rejuvenation) 554
 - (*Consult*; obligations of Islamic state) 553
 - aids (HIV Virus), 539
 - fornication and slander, 541,543
 - venereal diseases, 541
- Prey (hunting), 288,289,502
- Priests, 434,601
- Primacy of mercy in Islam, 466,557,558
- Primacy of forgiveness in Islam, 466,557,558
- Principles of debate and disputation, 441,574,634
- Principles of Islam (*Consult*; fundamentals of) 97,99
- Principles of Preaching Islam (*Consult*; *Da'awah*)
- Prisoners of jail**
 - setting free on parole, 564
 - rehabilitation of, 983,984
- Prisoners of war, 667,668
- Privacy-decorum of, 445
- Privileges-obligations (*Consult*; rights of), 451
- Probation 564
- Probationary period (*Consult*; Worldly life)**, 418
- Prodigals, 496
- Progeny (*Consult*; offspring)
- Prognostication of dooms day, 788
- Prohibited**
 - degrees for wedlock, 516
 - foods(Haram), 502,505
 - sexual relations 539,540
- Polygyny (*Consult*; Homosexuality-fornication) 514
- Promise**
 - keeping, 468
 - breaking, 474
- Promissory notes (*a concept of*) (transactions), 491
- Property (*Consult*; wealth)

Perseverance while in misfortune, 996
 Personal cleanliness, 251,623
 Persons mentions in Quran 1153,1155
 Pestering (an offence) 482
Pharaoh (*Consult*; children of Israel), 1005,1034
 Ramesses II (the oppressor), 1005
 Merneptah (of exodus), 1037
 hooliganism in Egypt, 1005,1034
 decree to slay all male babies of Israelites, 1005
 claimed to be god, 1030
 restrictions of ritual performance, 1033
 his righteous wife, 1006
 his people, 1034
 his counselors, 1024
 conflicting with MOSES (PBUH), 1025
 summoned wizards, 1025
 wished to reach Lord of MOSES (PBUH), 1030
 commanded Haman to build lofty tower
 -- For access to heavens, 1030
 chasing Moses, 1037
 his drowning, 1037
 turned to repentance in gargling, 1040
 dead body out from sea, 1040

Philosophy in

refraining Muslims to pursue false gods even, 581
 law of (*Qisas*) retribution, 559
 natural abortion, 400
 gradation of sustenance, 391
 injunctions of veiling for woman, 541
 narration of bygone events of nation
 -- bygone nations in Quran, 904
 grading between spouses, 523
 publicizing corporal punishments, 565
 sending messenger to every nation, 373
 stipulation of female witness, 568
 revelation of Qur'an in Arabic text, 230
 in gradual revelation, 210,239,240
 of life and death, 403

Pilgrimage (*Hajj*), 100

Piling up of the worldly things, 425,426

Pillars of taith (*Consult*; fundamentals of), 97,99

Pioneer artificer of

believers of Abraham (PBUH), 954
 believers of Hud (PBUH), 935
 believers of Lot (PBUH), 970
 believers of Salih (PBUH), 943
 believers of Shuaib (PBUH), 1003
 defensive Armors (*Consult*; David (PBUH)), 1068
 irrigation engineering works, (folk of Sheba) 1114
 malleability (*Consult*; David (PBUH)), 1068

rock cutting (*Consult*; Thamud people), 929
 ship making industry (*Consult*; Noah (PBUH)), 924
 structural ornaments images
 -- (*Consult*; Solomon (PBUH)), 1073

Pioneers of faith (Sabqeen-Muqarabeen)

-- (*Consult*; adherents of Prophets)
 believers of Prophet Muhammad (SAAS)
 -- early days of Islam in Makkah-Madinah, 639,761
 believers of MOSES (PBUH), 1037
 companions of the cave (Ashab-kahaf) 1107
 believers of Noah (PBUH) Embarking ark, 928
 a believer from out skirts of the city
 -- asking other people to believe in
 -- the message of Prophets, 1110
 believers of the Messages of all Prophets
 -- in their ages prior to the Annunciation
 -- of Prophet Muhammad (SAAS), 763,
 -- 924,927,1022,1023

Places as mentioned in Quran 1153

Plagues of Egypt 988

Plain of;

Badar 696,1150
 brimstone showered 935
 Uhud 1148-702

Plan-Schemes (*Consult*; Intrigues of...)

Planets (*Consult*; Cosmology)

systems of, 331
 on doom day, 794

Plantation (*Consult*; tree), 355,874

Pleading, 574,576

Pleasure of Allah (SWT) (*Consult*; sources of earning)

Pledge;

Bai'a-mortgage to the, 495
 to Messenger 170,713
 Plighted word (*Consult*; oath) 571

Plots (*Consult*; intrigues) of,

Poetry

yellow, 483
 sacred (*Consult*; Psalms), 1065

Polar Star, 332

Polarity of all creations (*a concept of*) 328,395,535,974

Political science (*a concept of*) 551, 584, 588,
 -- 1074, 1136

Polite talk, 467

Political refuge (*Consult*; Asylum), 273,588,667

Poll Taxes (*referred indirectly*) (*Consult*; welfare Tax)

Politics (*Consult*; Diplomacy), 1075
 -- (of Islamic welfare state), 549

Pollination, 350, 351,

Pollution-natural prevention, 354
 -- (to pollute is human and to clean is Divine)

springs of, 870
 wardens of, 864
 wares of gold-silver and crystal, 872
 wives in (pure and of equal age), 877
 Pardon-asking, 312,315
Parental title maintenance in Islam
 taking care of gestation, 538
 forced abortion-forbidden, 538
 prescribed period (iddat), 531
 marriage laws, 514
 divorce laws, 526
 prostitution-banned, 540,581,584
 white slave traffic-banned, 540,581,584
 celibacy-discarded, 520
Parsis (a tenet) 589
 Partners assigning to Allah swt a falsehood, 139,
 Patriarch (*Consult*: Chief's) 931,999,920,938
 Parts of human body (*Consult*: Appendixes) 1161
 Parole-release 564
 Pasturage, 354
 Path straight (*siraat-i-Mustqem*), 148
Patience 298;
 cure of psychological disturbances 298
 glade tiding of reward 299
 prophetic tradition 299
 test of faith 298
Patience preached by all Prophets
Peace and reconciliation in Islam, 663
 Islam does not permit offensive war, 663
 avoid fight if the enemy is inclined to peace, 665
 "Islam" a commitment to live in peace, 585
Peace blessing and salutation upon;
 Muhammad (SAAS), 377
 Jesus (PBUH), 1098
 Noah (PBUH), 917
 Abraham (PBUH), 957
 Ilyas (PBUH), 1065
 John (PBUH), 1089
 dwellers of Paradise, 865
 Peaceful Co-existence 470,556,562, 563,580,
 -- 581,583,587,
 Pearl and coral, 342
 Pedigree - relations, 443,458
 Pen (use of) for seeking knowledge, 439
 Penal code of Islam, 565
 Peninsula Sinai, (*referred indirectly*) 1012,1041
People of scripture (*Consult*: Jews
 -- Israelites-Christians)
 Are not all alike 638
 Christians are nearest in love to believers 638
 dealing with them 518,587
 multitude are from old generation who believed 639
 people of Moses (PBUH) community who lead with
 -- truth 638
 righteous people of later folks who believed 640
 some accepted guidance 637
 some are moderate 637
 some who are devoted 638
 some who fallow right course 637
 some who have faith 637

it is incumbent upon them to believe in
 -- Holy Qur'an after its revelation 641
 Muhammad (SAAS) after his innunciation
 -- 243,181,640,641
 People of *Shu'aib*-Jethro
 -- (*Consult*: Companions of), 1114, 1003
People of (folk of Companions of)
 A'ad, 929
 Antioch city, 1109
 David (PBUH), 1067
 Ditch, 1113
Eilaf, 438
 Elephant, 686
 Ezekiel (PBUH), 1065
 Garden (Sanaa-Yemen), 1107,1108
 Gospel, 249,607,637,639,1099
 of Hud 929
 Injil, 249,607,637,1099
 Makkah, 959
 Midian, 997
 Noah (PBUH), 917
 Psalms, 1067
 Psalter (*Consult*: Psalms Zabur) 1067
 Salih (PBUH)936
 Scripture (*Consult*: Jews and Christians),
 -- 637,638,515,587,639,241,243,181,640
 Sheba (Yemen) araby the blest, 1114,1115
 Shuaib (PBUH) 997
 Sodom and Gomorrah, 962
 Thamud, 936
 Torah, 637,1014
 Tubba (tribe of Hamden in Yemen), 1115
 village, 1109
 Perfect pattern (*Consult*: Islam and Muhammad)
 -- 172,93
Period of
 waiting, 531
 menstruation, 532,535
 creation of Universe (six days), 622
 creation of Earth (two days), 325
 Probationary life, 418
Hajj, 287,290
 twinkling an eye to execute this Command, 105
 gestation (minimum), 400
 staying in worldly life one day, 812
 dooms day (50,000 years), 798
 creation of Earth (two days), 325
 one day of chastisement (1000 years), 887
 providing sustenance on earth (four days), 325
 sleep in the Cave (309 year), 1108
 preaching Noah (PBUH) (950 years), 923
 causing death to Ezra (PBUH) (100 years), 1081
 Perishing on rejecters (*Consult*: - calamity)
 Perjury (of witness), 508, 570
Permission asking for
 before leaving assembly 448
 entry in bedrooms during privacy hours 445
 home entry 444
 Persecution, 616
 Perseverance, 298

Oceans, 340,342
salty and palatable, 343,347
Oceans on dooms day, 795
navigation in, 340,341
where two ocean(rivers) meet, 1058

Offenses

cardinal 560,562
moral 535,562
sexual (se Adultery - fornication) 473
social 473,997
white collar 555

Offspring (progeny),

a trail, 422
duties (obligations of), 451
love of, 422,425
on dooms Day, 815,878
pride of, 425
righteous one, 286,287
rights (Privileges of), 455

Old age, 1087

Old testament (*Consult*; Torah), 247,1047

Olive, 356,357,1131

Omen taking 157

Oppression, 556

Optimism, 303,304,1117

Optional prayers (Tahajjud), 260

Oratories, 583

Ordainment of Allah SWT (*Consult*; Hudood-Laws),
- 565,566

Origination of Universe, 321

Ornithology (*a concept of*) 364,1136

Orthodox - Christians (*Consult*; fundamentalists) 607

Orthodox-Jews (*Consult*; fundamentalists) 1113

Orphans, 271,282,460,461,517,520

Ornithology, (*a concept of*) 364

Ostracizing (*a concept of*) 540

P

Parents, 451

obligations (duties), 533,455,557,458

rights (privileges), 451,553

reverence, 451

tradition of Prophets, 947

of Joseph (PBUH) 1142,993

Pacts, 585,663,665

Pagan -Arabs

false beliefs 231,159,237,138

false claims (*Consult*; false accusations-traditions) 231

Plots and intrigues, 703,704,716,718,728,742,746

Pairs

of Sex (*Consult*; couples)

of such things (which we can't see) 328-1144

Palestine (*referred indirectly*), 1079

Palm tree, 358,873,1130

Parables as referred in Qur'an

aged man with feeble off springs, 1139

ashes blown wind, 1139

blind people, 1138

clean-mown harvest, 1141

clouds, 1142

cold wind, 1141

darkness in a vast deep sea, 1142

daughter of Imran, 1142

deaf ones, 1141

deep Sea, 1142

Devil, 1142

disbelievers 205

dog who lolls his tongue out, 1141

donkey, 1142

dumb people, 1141

feeble offsprings, 1141

fire and its light, 1141

fly, 1142

garden, 1141

goodly tree, 1142

grain of corn, 1141

light in the sky, 1141

living and the Dead, 1141

man who walks groping on his face, 1142

mirage, 857,1142

mosquito, 1141

nipping frost, 1141,427,438

palm tree, 1139

rainstorm from the sky, 1140

shadow and Sun Heat, 1142

slave and master, 1141

smooth rock, 1141

spider, 1142

streams, 1141

thunderstorms, 1141

township, 1141

tree (uprooted), 1141

vegetation after rain, 1142

vines gardens, 1141

who shout (quarrelsome men), 1142

wife of Lot, 545,969,1142

wife of Noah, 545,927,1142

wife of Pharaoh, 1006,1008,1142

wind which blows furiously, 1141

wind, 1141

zones of darkness in the sky, 1141

Paradise, 860

abiding place forever, 868

amplitude of, 864

angels of, 864

atmosphere of, 882

boy servants, 878

dress of, 878

drinks of, 870

dwellers of, 860

entertainment of, 881

foods of, 869

fruits of, 873

gardens of, 866

hooris, chaste virgins females, 876

inheritors of, 862

mansions, 879

rivers (wine-milk & honey) 870

N

Nadir, Bani-tribe of (Jews), 707
Nakhlah (place between Makkah and Taif), 690,694
 Names to Allah (SWT), 101,102,103,112
Namoos-i-RiSalat (Honour and Respect of
 -- Prophet (SAAS), 185
 Narcotics, 506,555 .
Narration of
 the bygone events, 904
 the Messengers (Prophets), 904
 the past, 904
 Nations (*Consult; Bygone Nations*)
 rise and fall of, 673
 Natural attitude of Humankind, 406
Natural prevention against
 pollution, 354
 earthquake, 338
 Natural sciences (*a concept of*) 320,1135
 Nature signs of Allah (SWT) to ponder, 320
 Navigation, 340,341,350
 Nazareth (ancient-of Galilee-*Referred indirectly*
 -- Bait-ul-Laheem) 1094,1147
 Neap and Ebb. Tides (Concept of), 344
 Neighbour, 462
 New testament (*Consult; Gospel*), 163,249,1098
 Nicknames calling (forbidden), 479
 Niggardliness, 497
 Night night (as a symbol), 117,332,335
 for rest (repose-sleep), 336
 night of power (Lala-tur-Qudder) 264
Night journey
 of Prophet Muhammad (SAAS) to Heavens, 688
 meeting with other Messenger, 689
 attaining the heights inconceivable to
 -- human prudence, 689
Nikah (Consult; marriage), 514
Nile (river in Egypt-referred indirectly) 1006,1148
Nimrod- (referred indirectly)
 -- skeptic ruler of Babylonia, 953
 Nineveh (Assyrian capital), 1085
Noah (PBUH), 917
 preached for 950 years, 923
 construction of ark, 924
 embarking of pairs of each species, 924
 deluge, 925
 invited his people to ponder
 -- in signs of Allah(SWT) in the Universe, 920
 unrighteous son not saved, 926
 unrighteous wife, 927
Nuh (PBUH) (Consult;-Noah), 917
 Numerals-as referred in Qur'an (appendixes) 1163
 Nomads, 728
Nile (river in Egypt-Referred indirectly) 1006,1148
 Non-Muslims dealing with, 588
 Non-militancy in Islam 470,556,580,581
 Noon-time Siesta, 445
 Notables of misled nations (see chiefs)
 Notions of disbelievers (*Consult; false notions of...*)
 Nuptial knot (*Consult; marriage*), 514

O

Oasis (*Consult; volunteer exile of Moses*, 1010)
 Oaths- *Swearing-Solemn word* 571
 accountable oaths 572
 atonement of 573
 consequences of dooms day 572
 deliberate oaths 572
 do not barter away 571
 do not make ever now & then 571
 expiation of 573
 making amends of 573
 mind your oaths 571
 observe faithfully 571
 take no futile oath 571
 unaccountable oaths 572
 Oath & adjuration-as referred in Qur'an
 -- (*Consult; appendix*) from pages 1129 onward
 Oath of allegiance (Bait-ur-Rizwan), 713,170
Obedience (Consult; Reverence - Respect)
 of Prophet Muhammad (SAAS),171,175
 of Divine Messengers,763
 of parents, 451
 of Commander, 648
Object of (Consult; philosophy in)
 creation of humankind, 403,405
 sexual relations 540
 Objections of disbelievers (*Consult; false accusation*)
 Obligations of;
 guardian, 460
 contract and agreements writer, 494
 fellow creatures, 451
 head of the family, 444,460
 husband, 520,521,522
 land lords, 274,353
 Public, (*Consult; Social*)
 rich and wealthy, 265,275,284
 rulers, 552,553
 wife, 523
 witness of deed, 494,495
 witness, 494,495,508,509,567,569
 social, 443
Obligations of Islamic state, 552,553
 defense strategy, 553,646
 enforcement of law and order, 563
 establishing civilized society, 554,556
 implementation of welfare taxes(Zakat), 269
 judiciary according to
 -- Qur'an and Sunnah 553,576,577
 regulating moral values, 554,555
 security of human life and property,559,562,581
 Social reforms, 554,555
 Obliging 467
 Obsequiousness, 480
 Obscene Litature,482
 Obscene (*Consult; vain*)
 Obtaining Divine favour, 253,266,284,294,466,644
 Occult Sciences, 103,108,111,112,113
 Oceanlogy (*a concept of*) 340,341,341,1137
 Oceanography (*a concept of*) 340,341,342

authenticated judge, 170
 (pledge) *bai'a* to him is
 -- (pledge) *bai'a* to Allah (SWT), 170
 battles of (*Consult; Gazzwah*)
 best model to follow, 172, 174
 biography of (*Consult; life events of*), 686
 commands of reverence, 168, 182, 185
 companions of, 758
 consolation of Allah (SWT) to, 729
 demonstrator-teacher, 169
 dilation of breast (*Al-Mustafa*), 165
 dream of visiting sacred mosque at Makkah, 717
 exalted in fame and dignity, 166
 exalted standard of character, 172, 174
 exclusive matrimonial laws for
 -- Prophet (SAAS), 184, 189
 family and kindred (*Ahil-i-Bait*), 188
 following of, 175
 foretold in Torah and Gospel, 163
 good example to follow, 172
 granted *kausar*, 165
 herald, 168
 his arrival - a great favour over believers, 167
 non professing of Islam by idolaters, 729
 intercession promised by Allah (SWT),
 -- on judgement day, 176
 Islam perfected during his ministry, 166
 last of the Prophets, 166
 learned Jew (Rabbis) testified him, 163
 life pattern (*Uswah-Hasna*), 172
 manifest victory-bestowed, 177
 Maqam-i-Mahmud promised, 166, 260
 mastery over all Prophets, 180
 mercy for all creations of the Universe, 174
 Messenger of truth, 167
 migration to Madinah, 693
 mosque of Prophet (SAAS) at Madinah,
 -- first Islamic university, 626, 761
 most trust worthy as, 167
 obedience of, 171, 175
 obeying-following, 171, 175
 on day of judgement, 177, 811
 oppose him not, 185, 187
 order for asking blessing and to salute him, 377
 mercy (plead) for his followers, 175
 people of scripture are ordained to believe and
 -- follow Muhammad (SAAS), 181, 243, 640
 pre-requisites of reverence, 182
 Prophesied by Jesus (PBUH), 164, 1099
 rehearser for believers, 169
 revelation of Qur'an to him through Gabriel, 164
 reverential respect for, 182, 185
 seal of (last of) Prophets, 166
 shielded against every mischief, 177, 178
 shining lamp, 165
 simplicity of domestic life, 188
 special instructions of respect for
 -- special instructions to the wives, 184, 189
 sublime behavior, 172
 supplication of Abraham (PBUH), 163

surmount (victory) of, 177, 716
 swearing-fealty to him pledging, 170
 tender hearted, 172
 traditions of (*Sunnah*), 173
 tremendous character, 172
 unlettered Prophet, 165
 verbalized form of tradition (*Hadith*), 173
 witness from among the children of Israel, 163
 witness to his follower, 177, 811

Mujadilah 524

Mules, 362, 363

Mominun (*Consult; Believers and righteous ones*), 764

Mummy of Merneptah (Pharaoh), 1040

Murder (killing-crucifying), 559

deliberate and the first 915
 intentional, 559
 killing of all mankind, 561
 of a humankind 501
 of Egyptian by Moses unintentionally, 1008
 of Goliath (Jalut) 1064
 of Habil (Cain) 915
 of progeny 581, 538, 561
 of Prophets by disbelievers 203
 retribution of, 559, 560, 566
 self distraction 561
 threatening of to prophets 205, 941, 1021
 unintentional, killing 560

Musa (PBUH) (*Consult; Moses*), 1004

Muslim (*Consult; Islam*)

a name of all who, joyfully submit before the Will,
 -- Design and Decree of Allah SWT 90, 470, 580
 a commitment to live in peace, 90
 all prophets proclaimed themselves as Muslim; 92

Muslim brotherhood

cling firmly Allah's SWT rope 621
 falling into dispute 621
 fraternity in Islam, 620
 making conciliation 621

Muslim community, 90

best among mankind, 90
 moderate community, 90

Mustafa (SAAS), 165

Mutual

(*Consult; ation*), 549, 984, 465, 466, 467
 (*Consult; of life partners / spouses*), 1010
 courtesies (*Consult; social obligations*), 444, 447
 imprecation, 470, 883, 607, 634
 transactions-keeping, 491, 492, 494

Muzdalfa (sacred monuments), 290

Mysteries

of genetics (*Consult; embryology*), 394, 399
 of Sex in Botany (of plant kingdom) 351
 of Sex in Zoology (of livestock) 359, 924
 of Sex in humankind
 -- (*Consult; Embryology, Genetics*)
 of the Universe and nature to ponder, 320
 of golden calf by Samri, 1048, 1053

Mysticism 108, 775, 977, 979, 1006, 1008, 1092

Modesty (Hijab), 541,543
 Molestation, 543
 preventive measures against, 555
 -- (Consult;-hijab-chastity-dress), 541
 Monasticism, 601
 not prescribed - never ordained, 433,434,601
 Monkeys, transgressors became as, 1070
 Monks, 434,601
Monotheism, 133

Allah (SWT) begets not neither begotten, 134
 Allah (SWT) has no son, 134
 Allah (SWT) have no consort, 134

Monotheism preached by all Prophets

A'aron (PBUH), 1057
 Abraham (PBUH), 947
 Hud (PBUH) to preach people of A'ad, 930
 Ilyas (PBUH) 1065
 Jesus (PBUH), 1099
 Jonah (PBUH), to preach people of Nainvah, 1085
 Joseph (PBUH), 984
 Lot (PBUH), to preach his people, 962
 Moses (PBUH), to preach people of
 -- Pharaoh, 1014,1017
 Muhammad (SAAS) to preach all, 179
 Noah (PBUH), 917, 922
 Salih (PBUH) to preach people of Thamud, 936
 Shuaib (PBUH) to preach people of Midian,998
 Solomon (PBUH), 1073

Months (the sacred)

forbidden for war, 664
 number of for calendar, 334,664

Moral and ethical values 465,521,535

Moon

Cleft asunder-splitting of moon a miracle, 688
 new-first night of month (Hilal), 332

Moors (Consult;Discipline-Ethics-Principles)

Moral precepts, 465

Mortgage laws, 495

Moses (PBUH) birth of, 1006

inspiration to mother to put infant
 -- into chest and float on river Nile, 1006
 taking chest out of Nile by Pharaoh's family, 1006
 brought up in Pharaoh's palace, 1007
 his childhood, 1007
 his mother, 1006
 his sister, 1007
 nursed under tender care of own mother, 1007
 mishap in the city, 1008
 volunteer exile from Egypt, 1009
 reaching at an oasis in Midian, 1010
 meeting Shuaib (PBUH), 1010
 marriage of Moses (PBUH), 1010
 leaving Madian, 1011
 saw gleam of Heavenly light, 1011
 conversing with Allah(SWT), 1012
 received Divine commission, 1014,1047
 chosen as messenger, 1011
 award of miracles, 1013
 commanded to preach Pharaoh, 1014
 request for Aaron as minister, 1015
 preaching Pharaoh and his folk 1017
 confrontation with Pharaoh, 1025

challenge of Pharaoh for Magic, 1025
 enchanters of Pharaoh and their defeat, 1026
 inviting mislead folk to ponder
 invited Haman to truth, 1030
 signs of Allah(SWT) in the Universe, 1031
 Secret converse with Allah(SWT) 1012
 appealed Allah(SWT) for sight, 1046
 Lord's appearance to Moses, 1047
 granted Torah and criterion, 1014,1047
 Moses (PBUH) meditation of forty nights, 1045
 Samri invented golden Calf, 1048
 leaving Egypt with Believers, 1037
 chase of Pharaoh with his army, 1037
 crossing of Red Sea safely 1037
 drowning of Pharaoh's and his troops, 1037
 long travel in search of Khizir (PBUH), 1052,1058
 co-traveling with Khizir, 1059
 advised by Khizir (PBUH) 1059

Mosques

etiquette's of entering in, 623
 guardians-maintaining-protection of, 622
 use for promoting sectarianism-forbidden, 623
 visiting of ladies for Prayer - *Salat*, 623
 masque of prophet in madinah,626
 mosque - setting up within houses, 1033
 mosque Aqsa, 626
 mosque *Ka'ba*, 624,625
 mosque of Jerusalem, (*referred indirectly*) 626
 mosque of jinns (*referred indirectly*) 1150,690
 mosque of mischief (*Za'har*), 726
 mosque of *Qibla'tain* (*referred indirectly*) 1150,694
 mosque Quba, (*referred indirectly*) 626 Mosquito,
 -- a parable, 365,1129

Mother Book, 211,367

Mother

reverence, 452
 rights (privileges), 451,452
 of Isaac (Sara-*referred indirectly*)1143,958
 of Ishmael (Hajar-*referred indirectly*)1143,955
 of Jesus (PBUH) (Consult; Mary (PBUH)) 1091
 of towns (*referred indirectly* Makkah)
 -- 231,245,265,287,624

Mountains, 388

as steadying agent, 338
 broad highways along, 339
 glorifying Allah (SWT) with David 1068
 kingpins of earth, 338
 of Judi, 926
 of Sinai, 1012
 of Tour, 1011,1048,1049,1051,1052
 on dooms day, 793
 where archers left post in Battle of Uhud) 702
 where moon cleft asunder 688,1150
 where Nohah's Ark rested 926,1150

Muhajirs (emigrants), 669,670,671,672

Muhammad (SAAS) the Prophet, 163

annunciated as Prophet for all humankind, 179
 assigned highest post of honour, 166

Miracles awarded to Moses (PBUH), 1013, 1018

- nine clear signs, 1018
- radiant Hand, 1013
- the Rod, 1013, 1026
- active in motion-becoming snake 1013
- on strike giving way division of red sea, 1013
- on striking gushing of twelve springs, 1043

Miracles bestowed to David, 1068

- birds in unison with David while,
- craftsmanship of making hard stuff pliable, 1068
- mountains echo back the glory of Allah (SWT), 1068
- singing sacred poetry of Psalms, 1068
- softened all steel and sharpness, 1068

Miracles bestowed to Jesus (PBUH), 1099

- preaching from infancy, 1099
- raising the dead to life with --Allah 's (SWT) Permission, 1099
- giving life to the spiritually dead persons, 1099
- healing of born blind, 1099
- Regeneration of people-blind to truth, 1099
- curing the leper, 1099
- creating shape of birds out of clay and -- breathing into it becoming a flying -- Bird by Allah's (SWT) Will, 1099
- declaring what one has ate and what is stored, 1099

Miracles bestowed to Solomon (PBUH), 1072

- tamed and utilized the jinns and devils, 1072
- Jinn employed as diversifier pearl fisheries, 1072
- made font of molten copper and brass to -- flow at Solomon (PBUH) behest, 1073
- Jinn worked for making spacious arches -- structural ornaments (images-and huge basins), 1073
- subjected the winds to blow over earth on -- Solomon (PBUH) command and carry his -- fleet wherever directed, 1073

Miracles bestowed to Prophet Muhammad (SAAS),

-- 688,700

Misappropriation of, 555

- custodians, 492
- public exchequer, 555

Misbeliever (*Consult*; disbelievers)

Misconception of 859

Misinterpreting of Qur'anic Verses 238

Misconception of;

- Buddhists, 589
- Christians, 599, 602, 606, 617, 1103
- disbeliever, 138, 136, 424, 589
- Hinduism, 149, 150, 589, 590
- Jews, 593, 599, 617, 1081

Miser-liness, 497

Misfortune, 674

- outcome of ones own doings, 674
- Divine warnings, 675, 676
- blaming Allah (SWT) is unjust, 674, 677
- blaming Prophet (practice of disbeliever), 1055
- Messengers of Allah (SWT) also undergone -- hardship as a test, 403

Misfortune-while afflicted

- turn to Allah SWT, 996
- denial involves even in greater loss

do not grumble and complain, 393

who so turns heedless are confounded 685

Misinterpreting of Scriptures (*Consult*; corrupting text of..)

Mis-leading

- invitations 629
- leaders in doom's day 522, 835
- people from the Allah's SWT way 627
- tenets on doom's day 589

Mission of Prophets (*Consult*; Prophets-All -- prophets-Messengers)

Mockery (*Consult*; scoffing)

Modern science & Qur'an (*Consult*; list of chapters)

Moderation in dealings (*Consult*;

Rights, obligations) 451, 588

Modesty mark of dignity for women 544

Moral Precepts (righteous habits)

- advising for good always 466
- avoid foolish people 465
- avoid vain talk 465
- be foremost for good 468
- beseeching for Allah's SWT Will 469
- concentrate on your deeds 468
- cooperation for heedfulness 466
- coordination for virtue 466
- counseling for righteous motives 466
- Divine reward in never withheld (PBUH) 471
- doing some favour 467
- don't disregard one's greetings 470
- don't obey who swears often 470
- don't rely on scoundrel 470
- due care before preferring anyone as a friend 465
- each soul in pledged against its deeds 471
- enjoin good 472
- following good advice 467
- forbearance 466
- forbid evil 472
- forgiveness 466
- fulfilling of covenants 468
- generosity 467
- good deeds always value 471
- guarding of pledge 468
- humbleness 467
- keeping away from bad company 470
- keeping of promises 468
- mutual *Consult*; ation 465
- obliging 467
- optimism 467
- praising Allah (SWT) 469
- repel evil with good 466
- righteousness-a cure 472
- service in courtesy 467
- speaking to the point 469
- speaking truth always 469
- suggesting good always 466
- supposition for good 467
- suppressing anger 466
- taking care of own souls 468
- thanks paying to Allah (SWT) 469
- tolerance 466
- turn away from wranglers 465
- virtue bring manifold reward 472
- withdraw from evil 465

virgin Mary (PBUH) surprised on tidings, 1093
 Divine inspiration to bestow her son Jesus (PBUH) 1093
 appearing of angel, 1093
 replying of angel to the arguments, 1094
 conceived Jesus (PBUH), 1094
 leaving for Bethlehem to retire, 1094
 natural labour pains throes of childbirth, 1096
 rivulet (spring) of water and fresh ripe dates, 1096
Mother of Jesus (PBUH) 1097
 brought the baby Jesus (PBUH) to her people, 1096
 false charge against-Mary, 1097
 public appearance with baby Jesus (PBUH), 1096
 Mary worshipping-false-tenet, 606,1103
Masha Allah - saying of
 while witnessing some divine bounty, 469,1112
Masjid-al-Aqsa, 626
Masjid-ul-Haram (ka'ba), 624,625,626
Masjid-i-Nabwi-Madinah (referred indirectly) 761,762
Masjid-i-Quba, (referred indirectly) 626
Materialism, 551,415
Matrimony (Consult; marriage)
Matrimonial bonds (Consult; lawful bonds), 516
Matrimonial laws, 514
Mava-Paradise, 866
Maxims of Islam (Consult; Divine Injunctions)
Means of (Consult; sources of)
Measure and weight, give full, 480,485,997
Meat (Consult; foods/lawful /unlawful)
 -- 360,869,505,502
Media pollution
 forbidden to spread immorality,477,481,482
Meeting of the Hereafter,
 with Allah (swt), 833
 and dialogue on dooms day, 833
Memorial park (a concept of), 1081
Memorizers of Holy Qur'an 211
Merchant navy,(a concept of) 341
Merneptah (Pharaoh of exodus), 1037
Merchandise traveling (Consult; Joseph), 988,989
Mercy of Allah (swt) - qualifying of
 effaces minor short comings, 120
 eschews from heinous sins, 120
 forgives on amendment of conduct,
 -- 121,315,317,318
 forgives on sincere repentance, 317,318
 forgives whom wishes,122,123
 is freely endowed to all, 119
 is limitless, 121
 no one can intercept His mercy, 124,125
 no one can spurn His favour, 124,125
 no one can with holds His grace, 124,125
 over looks a great deal pardons much, 121
 through *Taqwa* (fear Allah's swt annoyance), 306
 through *Taubah* (repentance from Allah swt), 315
 through *Tawakkal* (putting trust in Allah swt), 303
 through *Shukr* (thankfulness to Allah swt), 300
 will never be confined to any one, 125
Mesopotamian Basin (Iraq) (referred indirectly), 925
Messenger (Consult; Prophets)
Messengers preached;
 -- (Consult; under all Prophets...)

every community, 373
 for asking--forgiveness from Allah (swt), 314
Monotheism (Consult; Monotheism)
 -- no more than human be
 -- Ings,191,920,921,938,1001,1019
 to ponder in signs of--Allah (swt) in the Uni
 -- verse,920,931,937,1031
 turning into repentance from Allah (swt), 319
Metallurgy (a concept of) 1066,1071,1083,1137
Messiah (Consult; Jesus (PBUH), 1095
Metempsychosis, a dogma 589
Meteor, 330
Methodology of Islam (Consult; Philosophy of)
Methuselah (Consult; Salih PBUH), 936
Michael (PBUH), 380
Midian,997,1002
Midianities (people of Tuba), 997
Migration (a tradition of Prophets) of / to
 Abraham (PBUH) 945
 Jacob (PBUH) 976
 Jonah (PBUH) 1085 MOSES (PBUH) 1035,1009
Migration, - Hijrat 670
 when to migrate, 670
 who are exempted from, 670
 is test of faith, 670
 emigrant woman's instructions, 671
 reward of Hijrat, 670
 way of seeking Allah's(swt) mercy, 671
 death during Hijrat reward of, 672
 of foremost believer to Abyssinia, 688
 of Holy Prophet (SAAS) to Yathrib (Madinah), 693
 to Abyssinia (Hijrat Habsha), 688
Madinah-to 693
Milk
 milk production of, 360,361
 milk-rivers of paradise, 870
 milky ways, 329
Mineralogy (a concept of) 553,646,1066,1137
Minister
 Finance Egypt (referred indirectly)
 -- (Consult; Joseph (PBUH) 988
 of Moses(PBUH) (Consult; Aaron PBUH) 1058,1015
 of Pharaoh (Consult; Korah-Qarun) 1139
Minerals, 339
 brass, 339,1073
 copper, 339
 corals, 342
 gold, 339
 iron, 339,1068
 marbling, 338
 pearls, 342,1072
 quartz, 339,342,388
 silver, 339
 streaks, 339
Miracles
 miracle of identifying murderer, 1053
Miracles awarded to Solomon(PBUH), 1072
 marshaled his hosts men, jinns, 1072
 marshaled his hosts beasts and birds, 1072
 wisdom of understanding speech of birds, 1073

Livelihood (earning means)

abundance of unlawful things may not fascinate, 501
bribery, 555
eating illegal things, 502,505
efforts to earn lawful-ordained, 499
embezzling, 555
lawful earning seems uphill task to those
living on graft, 555
miss-appropriation of wealth and property, 500
penalty of earning illicit provision, 501
plundering public exchequer, 500,555
tempted to illicit provision, 502
unlawful, 393,499,500,595

Livestock - benefits of

fabrics, 362
food stuff, 361
milk, 360
show off, 361
skins leather, 362
travel facility, 361,362
transport, 361,362

Loan

every transaction should be written 491
helping debtor 491
legacy of debt 491
loan to Allah (swt) a goodly, manifold rewards of,
loan doubled, 267,277,461
loan increased manifold, 267
loaning to Allah SWT (*Consult; Zakat, charity*),
-- ,268,277,491
legacy of loan 491
Interest bearing loan (*Consult; usury*), 488
loans and debts, 491
sure gain trade, 277,268
waiving off loan, 491

Logical deduction - Ijtihad, 549

Lord

of Universe, 103,366
of orientals - occidentals, 324

Loss, manifest, 427,488,498,500,501,595

Lot (PBUH) (*Consult; Lut*), 962

Lote tree, 358,873

Lottery-games of chances, 501,562,555

Lunar calendar, -(a concept of) 334

Luqman (PBUH) 1071

wisdom personified, 1071
admonishment to his son, 1071

Lut (PBUH), 962

preached Sodom people against effrontery, 962
arrival of angels as handsome guests, 965
courtesy and taking care of prestige of guest, 966
advising misled folk to wedlock, 966
distracted people rejected warning, 968
his wife among losers, 969

M

Madinah (*Yathrib-Yusrab*), 626,761

Madyan (Midian) 1146-997

Magian's tenets (worship of deity under
-- Emblem of fire),589

Magicians of Pharaoh (*Consult;*

-- enchanters),1025,1028

Magic, 157,1078

Magog and Gog, 788,1083

Mahr (bridal-money), 521

Mairaj (night journey of Prophet Muhammad) (SAAS),688

Makkah (Bakka), 624,625

migration from, 693

conquest of, 716

Malice (*consult; intrigues*)

Malice proposals of disbelievers (*Consult; false accusa-*
-- tions of...) 233

Malicious accusation on Allah (swt), 136,138,424

Malleability (*Consult; David-Dhul Qarnayn*),

-- 1066,1083

Mankind-(*Consult; Humankind*), 394,406, 40,405,

-- 432,418,430,443

Manasik (duties) of Hajj, 293

Manat- an Idol, 590

Mandatory alms

on wealth, 100

on harvest (ushur), 100

Mangol and Tartar tribe,(a concept of) 788,1083

Manna and quail (food from heavens), 1044

Manners (*Consult; Etiquette's-Decorum of*), 443

Maqam-e-Mahmud, 166,260

Marital deposes 523

Marital life 514

Marital rights, 514

Marriage - wedlock 514

lawful degrees, 516

forbidden degrees, 516

marrying captive slave girl, 519

under special conditions, 518

wedding with widow, 517

with female orphan, 517

with divorced wife of adopted son, 518

special marital laws for, 518

refugee-immigrants women, 518

conflicts and reconciliation, 523

marriage ties-dissolution of permissible, 526,529

marrying-more than one wife, 520

limit of the maximum, 520

strict conditions for, 520

precaution of having more than one wife, 520

Marriage of Moses, 1010

Martyr (*shaheed*) (*Consult; Holy War*) 642,658

attains the rank like companions of prophet 758

bestowed with goodly provisions, 658

blessed with eternal life 658

receive forgiveness and mercy, 657

rejoices the grace and bounties of Allah (swt), 658

reward is with Allah SWT 659

reward of, 644,652

Marut and Harut-angels, 380,1080

Marwah-hill, 290

Maryam (*Consult; Mary* PBUH), 1091

Mary (PBUH) the daughter of Imran, 1091

birth of, Mary 1091

dispute of guardianship, 1091

grown in guardianship of Zechariah, 1092

unseen providence for Mary, 1091

annunciation of Christ (PBUH) by angels, 1092

Keys,

- of the heavens and the earth, 327
- of unknown with Allah (SWT), 108
- of treasures of Korah, 1030
- to success, 645,653,654,673
- Khaiber-battle* of, 715
- fortress conquest of, 716
- Khalil-ullah* (Consult; Abraham (PBUH)), 960
- Khana ka'ba* (Sacred mosque), 624,625
- Khidhr* (Consult; Khizir (PBUH)), 1058
- mysterious sage, 1062
- long travel Moses (PBUH) in search of, 1058
- Moses (PBUH) request to impart knowledge, 1058
- co-traveling with Moses (PBUH), 1059
- three stages of travel, 1059
- interpretation of events during co-travel, 1060
- Khula*-(Consult; divorce right of woman), 529
- Khyzir* (Consult; Khizir (PBUH)), 1058
- Killing (Consult; murder), 501,538,559,560
- Kind words are better than charity, 445,447
- Kindness, 466,467,281,271,451
- Kindred, rights of, 458
- King - Saul 1063
- King of two epochs (two horns), 1082
- Kinship maintaining ties of do not sever the bond, 458
- Kiraman-katibin, 378
- Knowledge 440
- acquaintance of modern technology 440
- Adam (PBUH) bestowed with 439,907
- arguing with out 441
- don't be arrogant of 441
- emphasis on seeking 439
- excellence of, 404,405
- fields of modern science 1135
- first revelation regarding 439
- illiterate person 442
- impractical scholars 442
- injunctions to strive for 440
- journey is quest of 440
- knowledge may not lead to 441
- Knowledge of unseen 108,977
- people of wisdom 439
- preference due to 442
- supplications for attaining 441
- Korah (Qarun), 1030
- Treasures, 1030
- burden of chest keys, 1030



- Labeling of disbelievers on Holy Qur'an 233
- Labour pain (while child birth) 1152,1094
- Labour compensation-Chastisement on
- refusing payment, 247,1109,1111
- Lake of fire (Consult; hell), 885
- Lakes,341
- Laila-ul-Mubarka*-blessed night, 209
- Laila-ul-Qadar* (night of power), 264
- Land (the Holy), 954,1042,1079
- Syria, (referred indirectly) 954,1042
- Palestine, (referred indirectly) 1079
- Land distribution - (a concept of), 1043

Land Marks (construction artistry), 929

Language,

- difference in, and colours of men, 443
- national language 677
- Lat (Idol name), 590
- Law and order in Islam, 563
- Lawful and unlawful Food, 499,500,502,505,507,595
- Lawful
- lawful foods (edibles), 502,507
- lawful bonds for wedlock 516
- Laws from Allah (SWT) (Divine)
- Injunctions) of;
- bequest (will), 508
- distribution of property, 510
- divorce, 526
- evidence, 495,509,567,568,569
- dower, 521
- heritage, 510
- inheritance, 510
- legacy, 510
- matrimonial, 514.
- mortgage, 491
- Prescribed period, 531
- testimony, 495,509,567,568,569
- witness, 495,509,567,568,569
- sexual discipline,535
- pledging, 491
- succession, 510
- wedlock-marriage, 514
- Laza* (a section of Hell), 888
- Leaned Jews 240,243
- Lebanon (among sacred land-referred
- indirectly), 1146,954
- Legacy (Consult; laws of Heritage) 508,510
- (Consult; laws of Bequest) 508
- Consult; rights of widow & divorced women)
- 529,520,531,532,533
- Legacy of debt (Consult; loans) 491
- Legislative body, 549
- Lewdness, 962,541
- Liar, 474
- Liberality in Islam (Consult;
- Islam-forgiveness-repentance)
- Life (Consult; Human Life)
- Liyan* - accusing wife of adultery, 525,537
- Procedure of refutation of charge by wife, 525,537
- Life worldly-facts of, 418
- Life-object of, 405
- Life social (Consult; social obligations), 443
- Light and darkness, 332
- parable of, 1129
- Limits of Allah-(SWT)
- (Consult; Hudood) observe, 565,566
- do not exceed the, in your religion, 608,611
- transgress not the, 566
- Punishment of transgression, 566,679,1068
- Lineage - relations, 443,458
- Lineage identification and record maintenance in
- Islam,513,538
- Lion, 363
- Literature (obscene) 482

participation - preference of, 645,649,651
 post effects, 668,669
 POW's, 667
 pray Allah (swt) to stand firm during, 653
 pray fervently to Allah (swt) during, 652
 precautions against Hypocrites during,
 -- 661,722,659,660,721
 procedure of keeping up Salat, 648,652
 promulgation of, 642
 reward of, 657
 spoils of war-Fai, 668
 supplication for bracing footsteps, 645,653
 test of faith, 659
 tit for tat to enemy, 649
 treaty of peace-during, 663
 who can be exempted from participation, 645

Jinn

believer Jinn, 381
 disbelievers Jinn, 381
 ignorant of unseen, 381
 Jinn created of fire, 381
 listening of recitation of Qur'an, 690
 Satan (Iblis) one of the Jin, 382
 work for Solomon (PBUH), 1072
 worshipped by idolaters, 138

Jizya-social security tax, 668,667,490

Job (PBUH), 996

beseeching during distress and suffering, 996
 fulfilling vow in symbolic manner, 997
 restoration and prosperity, 996

John (Yahaya PBUH), 1089

the Baptist, 1087

Jonah (PBUH) (Jonas or Yunus PBUH), 1084

preaching people of Nineveh, 1085
 disappointed and self exiled, 1085

boarded of laden ship in haste, 1085
 lot fell on him to cast into river, 1085
 swallowed by fish, 1085
 tarried in fish's belly, 1085
 extolled Allah (swt) in distress, 1085
 castled out of fish at shore, 1086
 resumed his mission, 1086
 to preach more than hundred thousand
 -- people 1085, 1086

(referred indirectly)

Jordan

ancient-Abel Meholah-preaching area of Elisha (PBUH)
 -- (referred indirectly) 1066, 1148
 ancient-Tishbte-preaching area of Eliah (PBUH)
 -- (Referred indirectly) 1005, 1149
 cities of-Sodom & Gomorrah (referred
 -- indirectly) 962, 1147
 Land of Ilyas (PBUH), folk 1065

Joseph (PBUH), 977

story - most beautiful, 977
 vision (dream of half brother's jealousy), 978
 thrown into abandoned well, 978
 survival by approaching of caravan, 980
 sold in opulent slave market, 980
 taken by merchant into Egypt, 980
 bought by a court dignitary, 980
 adopted by Aziz, 981

trial of Joseph (PBUH), 981
 ruse of courtier's wife, 981
 false allegation, 981
 defense reply and exoneration, 982
 Mrs. Grundy's banquet, 982, 983
 participant ladies astonished
 -- from amazing beauty of, 983
 Zulaikha sneered at and threatened
 -- for imprisonment or torture, 983,
 preferred prison than vile life, 983
 preaching Monotheism in jail, 984
 interpreting the dreams of royal
 -- officials in jail, 984
 king's confidant approached to expound
 -- the vision of Pharaoh, 986
 confession of Zulaikha, 987
 innocence acknowledged, 987
 ascended to eminence taken as
 -- chamberlain, 988
 half-brothers came to buy corn and were
 -- identified, 988
 condition of taking, 988
 real brother Benjamin along next visit, 988
 plan to detain Benjamin, 990
 confession of crime by half brothers, 993
 sending shirt to father, 994
 fulfillment of boyish dream, 995
 ceremonial reception of parents, 995
 death of Joseph, 995

Journey (the, by night), 688

Judaism and Christianity

-- mutual conflicts, 600
 on facing Qibla, 600, 696
 on observance of weekly spiritual day, 600

Judaism's tenets (Consult; Israelites) Son -- ship to

Ezra (PBUH), 593, 1081

Judgement day (Consult; resurrection), 798

Judgement - unbiased, 578

Judicial systems of Islam, 577

Judiciary 553, 576, 577

approaching selective judges-forbidden 579
 asking or accepting bribes-forbidden 579
 devouring in lieu of relief-forbidden 579
 Divine directive for 578
 favoritism-forbidden 578

Judi, mount, 926

Jumu'ah (Friday) prayers-weekly assembly, 487

Jurisprudence, Islamic 549

logical deduction - Ijtihad, 549
 collective opinion - Ijma, 549
 Consult; ative council - Shura, 549

K

Ka'ba (Sacred House), 624, 625

Kafur (Consult; drinks of Paradise), 871

Kahf-cave the companion of 1105,

Kalalah, 528

Kaleem-ullah (converser with-Allah (swt)), 1012

Kalli'mah (Consult; Monontheism) 99, 133, 770

Kausar (legendary Fountain), 165

Kauthar (river in paradise), 165

enmity to the Muslims, 695,711,742,745
 false accusations on Moses (PBUH) 1054
 false accusations on Solomon (PBUH) 1077
 false belief regarding Ezra (PBUH) 1081
 feeling from of death 1080
 fundamentalism of 1113
 hypocrisy of, 728,742
 intrigue of crucifying Jesus (PBUH) 1102
 intrigues of, 742,695,707,711,1102
 most eager of worldly life, 422
 persuading them to Holy War by
 -- Joshua (PBUH) 1042, 1043
 refusal to join Jihad Holy War 1061
 ruination due to mischief and haughtiness,
 -- 592,597,598,1045
 taunting divine ordainments, 745,597
 turning away from the covenant, 1068
 ungrateful to Allah's (SWT) favours, 1045
 who embraced Islam, 637

Israfil (PBUH) - blower of trumpet on last day, 379,788

Isaac (PBUH), 973

Itikaf -(seclusion in mosques), 264

Izrael (PBUH)-angel of death, 379



Jacob (PBUH), 975

processor of power and vision, 975
 birth foretold to his grand father
 -- Abraham (PBUH), 975
 neither a Jew nor Christian, 975
 advice to Joseph (PBUH), 976
 grief over absence of Joseph (PBUH), 976
 migration to Egypt, 976
 model of patience and contentment, 976

Jahanam (Consult; Hell), 885

Jahim (section of Hell), 889

Jails 564

Jaish-ul-usra (battle of Tabuk), 720

Jalut (Goliath), 1067

Jannat (Paradise), 860

aaliya, 867
 eden, 867
 firdaus, 866
 mava, 866
 naem, 866

Jealousy, 477

of brother Habil (Consult; Qabil), 915
 of brothers of Joseph (PBUH), 978

Jeering of disbelievers at prophets

-- (Consult; scoffing), 931,920, 938,949,999,1019,

Jehovah (Consult; John (PBUH)), 1089

Jesus (PBUH), 1095

baby Jesus (PBUH), defended his mother, 1097
 birth of Jesus (PBUH), 1096
 breathed spirit of Allah (SWT), 1095
 Christ (PBUH) was neither crucified nor killed, 1102
 confirmed teaching of Torah, 1098
 disciples of Jesus proclaimed themselves
 -- as Muslims, 1100
 glad tidings of his birth to Mary (PBUH), 1092

herald of a Messenger named,
 -- Ahmad i.e.(Prophet Muhammad (SAAS)), 1099
 intricate plan of Jews to crucify Jesus (PBUH), 1102
 kind loving obedient and humble to mother, 1098
 likeness of Adam (PBUH), 605,1103
 miracles awarded to, 1099
 no more than a slave of Allah (PBUH), 1103
 no more than messenger, 1103
 of disciples) to bestow heavenly repast, 1102
 prayer to Allah (SWT) (on the desire
 preaching Monotheism to people of Gospel, 1099
 proclaimed Prophethood-annunciation, 1097
 Son of Mary (PBUH), 1097
 vouchsafed Gospel-Injil, 1098
 was taken up safely to heaven by Allah (SWT), 1102
 will disclaim the dogma of trinity on final day, 1103

Jethro (Consult; Shuaib (PBUH)), 997

Jews (Consult; Israelites-children of Israel), 592,594

Jewish solemn laws, 594

Jewish Doctors-learned Scholars-(Rabbis), 163,180,240

Jewish law of retribution, 593

for offence of adultery, 566,593

punishment of stoning to death, *Rijam*, 593

Jewish tribe in suburb of Madinah, 742,707,711

Jews and Christians, 637

Jews presumption of exemption from

-- punishment, 599,617

persecution and dispersal until final

-- day as penalty of, 597,598

proud of wealth and possessions, 599,617

Jews-intrigues and treachery of

-- against covenants of Madinah, 742, 707,711,695

Jihad (struggle for the cause of Allah (SWT), 100,642

a way of seeking Allah SWT 's mercy, 644

adjustment of believing women, 669

against whom-it should be, 643

also ordained in Torah and Gospel, 644

armour and arms-taking every precaution of, 648

army of Allah (SWT) will surely

assurance of victory of believers, 654,655

-- be victorious, 655,656

combat readiness for, 645

commander instructions consequence

constituents of victor, 645,653,654

dawn attack by cavalry, 647

deterrence maintenance for enemy, 649

fear of death in participation, 652

how long it shall continue, 643

hypocrite's attitude during, 722,661

implements of war and instruments of peace, 648

in whose favour-it should be, 642,643

inspire and rouse the believers to participate, 646

logistic facilities of warfare, 647,648

many of the prophets and devout participates 645

Martyr(who is killed or dies during jihad), 658

methodology of participation, 646

modus operandi for participation, 646

motivation for, 646

of deviating, 648,702

ordained to every believer, 642

ordained to bygone Nations 644

order of march for, 647

Noah (PBUH) 920

Salih (PBUH) Methuselah 937

Invitation to

argue with people of Scripture-ethics of 634
cause of Allah SWT

-- (Consult; Dawah-Preaching,) 631

dine together 449

folk by Shu'ab (PBUH) 1001

mutual imprecation to Christians by

-- Prophet (SAAS) 607

polytheists to cogitate 153

realize the facts of own creation 402

to ponder 320

to reflect 320

Invocation for help to Allah (SWT) by

-- Prophets, 995, 996, 922, 927, 955,

-- 964, 1086, 1010, 1009

Invocations (Consult; supplications) 1116

Invoke Allah SWT during distress 140

-- (Consult; supplications)

Invoke Allah SWT during drought 261

Iram, 1114

Iraq (ancient Assyria-referred indirectly) 1148, 954, 1085

Iraq (Consult; Babylon)

Iron - of multiple benefits, 339

Irrigation-(a concept of) sources of, 345

Irrigation engineering, -(a concept of) 1114

Isaac (PBUH), 973

neither a Jew nor a Christian, 973

birth foretold to his mother Sara, 973

son of old aged parents, 974

Ishaq (PBUH) (Consult; Isaac), 973

Ishmael (Consult; Ismail PBUH), 971

the chosen sacrifice of Allah (SWT), 972

Islam-Religion

all prophets ever preached its tenets 92

articles of, 97

basic principles of, 99

Islam - believes in;

Prophet Muhammad (SAAS) as the last of the

-- Messengers 163, 99

all Angels 97, 376

all the Divine Scriptures 97, 99

all the Prophets 97, 99, 250

Destiny 98

Holy Qur'an as the final divine message 99, 207

Last Day (Consult; resurrection) 89, 782

Embracing Islam-a great privilege 90

enter whole heartedly into 90

first religion 92, 945, 971, 973, 975

final religion 94

mere lip service-not enough 96

perfect religion 89

religion of all prophets 91

shall prevail over all 95

source of enlightenment 89

Islam about

civility with non Muslim 588

dealing with people scripture 587

egalitarianism 546

ensuring security of possessions 562

matrimonial laws 514

non violent social fabric 556

rejuvenation of society 554

sex discipline 535

Islam (a religion) 89

a commitment to live in peace, 585

allows freedom of thoughts, 470, 580, 583

command sexual purity, 535

expounder of freedom 584

religion of human rights, 580

universal peace protagonist, 470, 580, 585

Islam-Religion-does not allow (is against)

-Arms and Atomic race, 586

class difference, 582

cranial crime 555

discrimination, 582

exaggeration 95

gender biases, 546

grafting 608

mental vagrancy 555

patch work 608

racial prejudice, 582

sectarianism, 583, 607, 616

white collar crimes 555

to satisfy sexual craving outside marriage in any

-- case, 540

Islam and

other Beliefs and Doctrines 589

Islam and other systems, 551

Islam and Communism, 551

Islam and Dictatorship, 551

Islam and Socialism, 551

Islamic welfare state

-- governing of affairs, 549

obligations of, 552, 553

Islamic Jurisprudence, 549

logical deduction - Ijtihad, 549

collective opinion - Ijma, 549

Consultative council - Shura, 549

Islamic tenets 89, 97, 99

(Consult; fundamentals principles- Islam -religion)

-- 82, 546, 607, 616, 580, 470, 585, 551

-- , 535, 540, 549, 586

Islamic discourse 441, 574, 634

Islamic festivals (Consult; Eid) 260, 291

Ismail - Ishmael (PBUH), 971

chosen sacrifice of Allah (SWT), 972

example of prompt obedience of the parents, 972

grew up in Makkah with his mother Hajra, 971

model of cheerful surrender to

-- Will of Allah (SWT), 972

raising foundation of Ka'ba with father, 972

sanctifying Ka'ba, 972

Ispo facto divorce, 524

Israel (Consult; Jacob PBUH), 975

Israel, children of, 596, 975, 1004, 1033, 1036,

-- 1042, 1044, 1051

Israelites (Jews)

blasphemy of 1081

breaking of covenants always, 1068, 1043, 1044

cling to worldly life, 422

corrupting text of Torah arbitrarily, 591, 592

Idolatry, 149

- above board plan of Abraham (PBUH) against, 951
- Practical protest of Abraham (PBUH) against, 951
- reproached by Elias (PBUH), 1066
- reproached by Moses (PBUH), 1041
- reproached by Noah (PBUH), 917

Idols of Polytheists (names of)

- baal, 1066
- buheera, 150
- hamm, 150
- nasr, 590,917
- saiba, 150
- suwa, 590,917
- lat, 590
- mannat, 590
- uzza, 590
- wadd, 590,917
- wasilah, 150
- yaghuth, 590,917
- yauq, 590,917
- Idris (PBUH) Enoch, 916
- raised to High Station, 916
- Ifk (Incident) 708
- Ignominy (Consult; chastisement), 297,350,
--677,679,678,933,941,968,1001,1111
- Ihram-taboos-pilgrimage robe, 288,289
- certain restrictions, 288,289
- penalty on violating taboos, 289,573
- Ihsan, 280,281,467,876
- Ijma (collective opinion), 549
- Ijtihad (logical deduction), 549
- illegal sexual intercourse, 536
- Illicit gains, 499,500,501,502,555,595
- Illiyon; record of righteous, 800
- Ilyas (PBUH) (Consult; Elias), 1065
- Il-yasin (Consult; Elias PBUH), 1065
- Imbecile persons-rights of 461
- Immigrants (Consult; migration)
- Immoral (Consult; vain)
- Imprisonment (a concept of ;) 564
- Consult; (prisoners) 564,983,984
- threatening to prophets 1021,981

Imran

- daughter of, 545
- family of, (Consult; Mary PBUH)
- wife of Imran, 1091
- In-laws, 443,458
- Incest (Consult; fornication Adultery)
- Incident of al-ifk, 708
- Incident of cave (Saur), 693
- Incidents during the Prophet Muhammad's (SAAS)
- Life, 686
- Incidents of Bygone Nations, 904
- Incidents during the lives prophets and Messengers, 904
- Infancy, 401
- preaching during, 1099
- Infanticide, 538,561
- Infidels (Consult; Polytheists) Ingratitude, 301
- of Israelites, 1044
- Inheritance laws, 510
- Inheritors of Paradise, 862

Injil (Consult; Gospel), 163,249,1098

- corrupting original text of, 601
- false interpretation, 601
- Inscribed Tablets (Consult; Torah-Old Commandments) 1159,1047
- Insects, 365
- ants, 365,1074
- bee, 365
- fly, 144,365
- mosquito, 365,1129
- snake, 365,1013,1018,1026
- spider, 143,1065,1129
- termite, 365,1079
- Incentives of righteous deeds (Consult; -- rewards-paradise)
- Insha Allah-saying always while chalking out a plan, -- 469,496,1107,1108
- Insinuating of disbelieves (Consult; false accusations-- refutations-false arguing)
- Insolence (Consult; arrogate)
- Insolence of Satan 907
- Inspiration (Divine) to;
- Joseph (PBUH) 979
- Mary (PBUH) 1092
- mother of Moses 1006
- wife of Pharaoh 1006,1008
- Inspiration to perceive (Consult; invitation to)
- Inspiration, 979,1006,1008,1092
- Institutions of Islam, 97,99
- Insult not even false gods, 470
- Intention with effort, 96
- Interceding (Consult; recommendation of)
- Intercession, 127,175,815,574
- on dooms day, 176,175,976,993,814,815
- Interest (Riba), 488
- Interest-compound and multiple, 485,488,489
- penalty of devouring, 485,488,489
- Interest bearing transactions (riba), 485,488
- Intermission in regular business (weekend), 487
- International Pacts-Foreign Policy (Concept of), -- 585,586,1075
- International gathering (Consult; Hajj)
- Interpretation of dreams (a concept of) -- 997,986,984,1136
- Intimacy (Consult; Alliance-) with
- Intrigues (plots) of disbelievers
- murder of prophet Muhammad (SAAS), 693
- murder of Salih (PBUH), 941
- murder of Jesus (PBUH), 1102
- Hypocrites of Madinah, 703,704,716,718,728,746
- pagans and Jews, 695,707,711,742,1102
- of Zulakha, 981,982,983,986
- of Joseph's Brothers, 979
- Intoxicating drinks, 506
- Invisible and visible forces of Universe, 108
- Invitation to cogitate-into 320
- mysteries of Nature 320
- splendorous artistry of Allah swt 320
- wonders a Universe 320
- Invitation of all Prophets to cogitate
- Hud (PBUH) 931
- Moses (PBUH) 1031

of Moses (PBUH) 1035, 1009
of Madinah, 693
Hilala - condition for reunion after final divorce, 528
Hill (Consult; Mountains)
Hills of Moriah (Jerusalem) (referred indirectly)
-- 1145, 689
Hinduism's tenets
discrimination of race and sect 590
idolatry 590
metempsychosis 589
transmigration of soul 589
worship of cow 590
worship of physical objects 589
Historical perspective of wicked people, 677, 679
History (a concept of) 686, 904, 677, 679, 1136
History of bygone nations (Consult; narrations of-by
gone nations)
History of Prophets (Consult; narrations of)
HIV-preventive measures (Consult; AIDS), 539
Hizb-ullah (partisans of Allah (swt), 763, 655
Hmyarite (the king) (referred indirectly) 1144, 1113
Hoarding (stashing), 486
of gold and silver, 426
of wealth, 425
Holiday
in business (weekend), 487
of Muslims (Friday), 256
of Christians (Sunday), 600
of Jews (Saturday), 600, 1070
Holy
Messengers (Consult; Narrations) 904 onward
Prophet Muhammad (SAAS) (Consult;
-- Muhammad) 163
Prophets (Consult; Narrations) 904 onward
Gospel (Consult; Bible-Injil-Gospel-New Testament)
-- 163, 249, 1098
Psalms (Consult; Zabur-Psalms) 248, 1067
Qur'an 207
Scriptures of Abraham (PBUH), 946
Scriptures, 97, 245
Torah, (Old Testament), 163, 247, 1014, 1047
Holy war (Consult; Jihad), 100
Home of eternal abode (Consult; Paradise-Hell)
-- 866, 885
Homes (Consult; houses)
Homicide, 561
Homosexuality (Consult; Sodomy), 539, 962
punishment of, 540
Honest-dealing, 460, 461, 485, 492, 494, 508, 509, 523
Honest requisition of wealth 393, 419, 450
Honey, 365
rivers of paradise, 870
a cure, 365
Hoopoe bird, 1075
Hopelessness, 304, 409, 410
Horrors of Dooms Day, 791, 792, 793, 794, 795, 796
Horses, 362, 648, 1075
Hospitality - a traditions of Prophet - of
Abraham (PBUH) 957
Lot (PBUH) 966

Hour, (Consult; Dooms Day), 782, 791
Houris (virgins of paradise), 876
House hold
of the Prophet Abraham 958
of the Prophet Muhammad (SAAS) (Ahle-bait) 188
Houses, manners about entering, 444
manner of going outdoor for ladies, 542
manners of servants, 445
using as place of worship in emergency, 1033
Hud (PBUH), 929
Hudabiya, 713, 719
battle (Ghazwa), 713
treaty of, 719
Human body parts-as referred in Qur'an 1161
Humanism in Islam (Consult; Public Obligation)
-- 451, 580
Hudood (limits ordained by Allah (swt), 535, 562,
-- 565, 566, 997
laws of inheritance, 508, 510
retribution, 566, 559, 560, 593
sexual discipline, 535
Human intellect, 111, 112, 373, 411
Human kind,
creation-facts, 394
life-different stages, 397
quality of heart and states, 413
temperament-disposition-nature of, 406
Human life
coming into being (Consult; Creation) 394
ensuring security 559
life and death 646, 403, 117, 115
life hereinafter 885-880
respect of 559
social life 443
object of 405
stages of 397
worldly life 426, 418
Humbleness, 467
Hunain (battle), 718
Hunting (Consult; prey), 502, 288, 289
Hurricane (Consult; chastisement), 350, 933, 968
Hutama (hell), 888
Hydraulics (a concept of) 345, 1137
Hydrology, (a concept of) 345, 1137
Hypocrisy of Jews, 592, 695, 707, 711, 742
Hypocrites, 284, 660, 748, 750, 751, 752, 753
conspiracies, 284, 726, 728
of Madinah, 703, 704, 716, 718, 728, 742, 746
Hypocrites - intrigues, during 663, 693, 704, 742, 747
ghazzwah-i-Uhud, 702
ghazzwah-Ahzab (Khandaq), 709
ghazzwah-Tabuk, 720
I
Iba'dat (Rituals) in Islam, 250
Iblis (Consult; Satan), 382, 908, 912, 914
brahim (PBUH) Abraham, 944
Iddat (Consult; prescribed period), 531
Identification of lineage in Islam, 513
Idolater of Makkah, 693, 742, 747
Intrigues and plots of
Idolaters, 917, 947, 1041, 1049

Habil (Abel), 915
 Habsha-Migration to, 688
 Hadith (traditions of Holy Prophet Muhammad(SAAS), 173
 Hady (animal for sacrifice for Hajj), 291
 Hafaz-i-Qur'an (memorizers), 211
 Hallala (an undesirable condition for
 -- reunion after final Divorce) 528
 Healing, 119
 Hajj (pilgrimage), 100
 rites - observance of, 293
 Hajra (second wife of Abraham (PBUH),
 -- (referred indirectly) 1143,955
 Half brothers of Joseph, 978,988
 Hallal (lawful)Foods (Consult; food) 502,595
 Hallucinogens, 506,555
 Haman, 1030
 Hamd (Hymn) 103,112,294,469,652,882
 Hamra-al-Asad-Ghazwa (Battle), 706
 Hanif (Consult; Abraham) 944
 Hanky-panky, 157,475
 Haq Mehr (Consult; dower money), 521
 Haram(unlawful) food (Consult; foods) 505
Haram-Makkah
 limits of-disbelievers banned, 625
 most hallowed place, 624,625
 place of security and safety, 624,625
 Hard work (Consult; striving)
 Hardship is followed by ease 371
 Hardships (Consult; misfortune), 674
 Harun (PBUH) (Consult; Aaron), 1056
 Harut and Marut - Angels of Babylon, 380,1080
 Harvest Produce (Alms) Rights of workmen, 100
 Hashr (Consult; Doom's day), 98
 Hastening demand of disbelievers for punishment, 754
 Hawiyah (Hell), 888
 Hawwa creation of, 909
 Hawwari - Disciples of Jesus (PBUH), 1100
Heart
 covered, 413
 diseased, 414
 divided, 414
 filled with fear,414
 satisfied, 414
 hardened, 414
 hateful,414
 locked up, 413
 sacred,413
 sealed, 414
 stained,414
 Heart consolations (Consult; sources of), 276,
 -- 279,266,295
Heaven (sky)
 adorned nearest heaven with planets, 329
 and the earth were joined together, 322
 created not for a play , 320
 created without any pillars, 323
 creation in two days , 325
 guarded against Satan, 377
 lowest 329

nearest 329
 on Doom's day, 792,793
 seven heavens, one above another, 322
 Heber (Consult; Hud (PBUH) 929,922
 Hebrew (Consult; Hud (PBUH)
 Heedlessness-towards Allah (SWT) 296,296
 Heifer-commandment to sacrifice-a trial, 1053
 Heights (the dwellers on the), 936
Hell, 885
 and sinners, 901
 atmosphere of , 897
 chastisements of ,891,900
 classified sections of , 888
 different sections of , 888
 description of , 885
 drinks of , 890
 foods of , 889
 garments (wears) of, 893
 gates of entry, 887
 wardens of , 896
Helpings
 famine and privation effected, 289,573,988
 imbecile, 461,573
 immigrants, 273,463
 indigents and paupers, 271,283,463,573
 people in debt, 272,464
 poor and hungry, 289,573
 slaves bondmen-captives, 271,282,462,463,520
 weak and helpless, 462,464,586,642
 who do not beg importunately, 272
 Herbs, 353,354
 Israelites hankered for, 1044
Hereafter, (life)
 better and more lasting, 418,441
 better than silver and gold, 418,431
 better than the present, 418,430,431
 punishment of (Consult; Hell), 885
 reward of (Consult; Paradise), 860
 who believe not in the, 98,777
 Hereditary (Consult; Lineage.) 443,458
Heritage laws, 510
 lawful beneficiaries, 510,513
 successors, 510,513
 proportion of shares, 510,513
Highlights of Islam
 ensures identification of lineage record, 513,538
 religion of peace, 470,580
 religion of human rights 470,580,583
 universal peace protagonist, 585
 Commands Sexual purity, 535
 against Sectarianism, 583
 against gander Biases, 546
 against racial prejudice, 582
 Highways, broad, 339
 Hijab (modesty-sense of shame), 541,543
 Hija (rocky track), 339
Hijrat (migration), 670
 of Abraham (PBUH), 954
 to Habsha, 688
 of Jacob (PBUH), 976
 of Jonah (PBUH), 1085

G

Gabriel (messenger of revelation), 164, 775, 687, 208, 380, 687
appearance in stately form, 687
(*Ruh-ul-Amin*) Holy Spirit, 775
(*Ruh-ul-Qudus*), 775

Galaxies, 329

Goliath, 1064

Gambling, 501, 562, 555

Game, in a state of Ihram, 288

Games of chances (gambling), 562, 501, 555

Garbage, 891

Garbs (a tenet) 589

Gardens of Eden (*Consult*; paradise), 867

Gargling of Pharaoh, 1040

of son of Noah, 926

Garments

of Paradise dwellers-, 878

of Hellish dwellers, 893

Gates of Knowledge, 404, 396

Gayness, 539, 962

Punishment of, 540, 964

Gaze lowering by men, 541

Gender biases, 546

Genealogy - relations, 443, 458

Generosity (*Consult*; benevolence) 275

Genetics (*a concept of*) 394, 514, 1136

-- (*Consult*; appendix of human body parts) 1161

Genetics, mysteries of, 400

(secrets of embryology), 399

evaluation of life span of unborn child, 399

inherent qualities and abilities, 399

inner coherence of unborn child, 397

blessing or course of society and parents, 398

spiritual and mental capabilities-shaping in best
stature-fashioning perfectly in human module, 400

Geography (*a concept of*) 338, 1136

Geology, (*a concept of*) 338

Geometry of space (*a concept of*)

concept of polarity

Devine challenge to all 327

Geophysics (*a concept of*) 338, 1136

Gestation, 398

Ghazwa (battle)

Ahzab (against confederates), 709

A'utas, 718

Badar, 696

Badar - Sughra, 707

Bani - Mustaliq (Merrisseh), 708, 747

Bani - Quinuqa, 702

Banu - Nazir, 707

Banu - Quraiza, 712

Hudabiya, 713

Hunain, 718

Khaiber, 715

Khandaq (of Trench), 709

Merrisseh (*Consult*; Bani Mustaliq), 708, 747

Muta, 718

Tabuk, 720

Ghush (*Consult*; Bath) 251

Girl child, 561

Glad tidings (of or for;)

birth of Isaac (PBUH), 958, 973, 974

birth of Ishmael (PBUH), 955, 971

birth of Jesus (PBUH) 1092

birth of John (PBUH), 937, 1087

birth of Mary (PBUH), 1092

for Patient, 299

to Abraham (PBUH) 955, 957

to believers (*Consult*; paradise), 860

to Prophethood of Muhammad (SAAS), 163

who establish Salat, 258

who pay tithes, -Ushr 274

who pay Zakat, 266, 267, 268

who spends in charity (benevolence), 277

Glance-averting (lowering gaze) 541

Gleaners (Reapers) Artisans, 274, 353, 1109, 1111

Gog and Mogogs, 788, 1083

Golden calf, 150, 590, 1048

Goliath (Jalut), 1067

Gomorrhah & Sodom 1147 (*referred indirectly*)

-- (land of Lot folk (PBUH) 962, 1147

Good (Righteousness)

and evil deed cannot be equal 1471

Disclosed or concealed, 471

is from Allah (SWT) and evil is from yourself

-- rewarded double, 470, 471

rewarded ten times, 472

strive as in a race in, 468

Gospel (Injil), 249, 607, 637, 1099

Gowns (drawing cloaks by ladies), 541, 542

Grafting in religion, 611, 608

Grapes, 357, 873

Gratefulness to Allah (SWT), 300

Great news (Dooms Day), 782

Greed for property - progeny, 425

Green-eyed (jealousy) 480, 477

Greek philosopher's tenets (transmigration of soul) 589

Greeting (*Consult*; courtesy), 444, 447

-- 864, 834, 865, 444, 447

Grottoes (*Consult*; caves), 1105, 936, 693, 687, 339

Grudging (*Consult*; Envy)ing)

Guarded tablet, 367, 369

Guardian - obligation of, 492, 461, 460, 514, 444

Guarding (protecting) of;

biological parts of human body 581, 555

charity 581, 555, 537, 581, 584, 938

defense arsenals 648

heavens 330

life 585, 581, 561, 588

parental title 513, 538

Place of worship 580, 583, 627

pledges and commitments 571

property 581, 586

prophet 178

religion (faith) 282-491

Guards of Hell, 896

Guards of Paradise, 864

Guerdon (*Consult*; reward of)

Guiding light (*Consult*; Allah-Qur'an-Muhammad)

Guided path 146, 165, 383

Guilt Compunction, 312, 315, 573

- Following of vain desires, 415
 impulses, 415
 own passion lusts, 415
- Food**
 for children of Israel, 1044
 for Disciples of Jesus (PBUH), 1101
 for Mary (PBUH), 1090, 1091
 from earth, 352, 325, 389
 from heaven, 388
 from waters, 342, 389
 in hell, 889
 in Paradise, 869
- Food lawful** (legitimate "Hallal"), 502, 594
 eight types of quadruped, 503
 hunting (slaughtered before death), 502
 lawful food of people of scripture, 587
 prey by trained beasts - birds, 502
 prey partly eaten but slaughtered before death, 502
 sea foods (fish), 289
 slaughtered meat, 502
- Food unlawful** (Consult; Haram) 505
 blood, 505
 carrion (died itself), 505
 un-slaughtered meat, 505
 pork (swine-flesh), 505
 hallucinogens narcotics, 506, 555
 meat of animals - dead due to goring of horns, 505
 head-long fall, 505
 strangling, 505
 violent blow, 505
 any thing consented to someone other than
 -- Allah (SWT), 505
 any meat with pronounced other than Allah (SWT), 505
- Forbearance, (Sab'r) 298
 Foremost in faith, 639, 761
Forecast, of
 dooms day 782, 788
 Muhammad (SAAS)
 by Abraham, 163
 by Jesus, 164
 rain (Consult; winds), 349
 victory of Romans 686
- Forests, 355
 Forestry (a concept of) 355, 874, 1136
 Forestry (a concept of) 355, 874, 1136
 Foreshadows (Consult; prognostication)
- Forgiveness, 586**
 Allah (SWT) forgives to whom He pleases, 122, 123
 angels ask for, for those on the earth, 377
 ask not for the atheists, 140, 949
 asking for, 312
 for those who avoid great sins, 120
 hasten to beseech, 313
 suitable timings of, 312
 supplications for, 1117, 1118, 1120, 1121, 1124, 1125
 All messengers advised their people to
 ask forgiveness from Allah (SWT)
 by Hud (PBUH) to people of A'ad
 by Moses (PBUH) to Israelites, 1050
 by Noah (PBUH) to his folk, 919
 by Salih (PBUH) to people of Thamud, 937
 by Shuaib (PBUH) to people of Midian, 999
- Forgiving, 558, 557, 466
Fornication a great offence, 536
 evidence to establish charge, 568
 punishment for, 536
 preventive measures of, 543, 541
 Fortune-varying of just (matter of time), 705
 Foster relations, 458, 534
 Fostering woman - rights, 533
 Foundations of Islam (Consult;
 -- fundamentals of), 99
Fountain (Consult; spring & rivulet)
 for Israelites (PBUH) 1093
 for Job (PBUH) 1148, 996
 for Mary (PBUH) 1094
 of ka'usar 165
 of Paradise 870
 of ZamZam (referred indirectly) 959
 Fractions-decimals (Consult; appendixes) pages 1163
 Fraternity in Islam, 620
 Fraud, 475
 Fraudulent Dealing, 1069
 Freedom of thought in Islam, 470, 580, 583
Freeing (Releasing)
 captive 584
 debtor 588
 slave 668
 from oppressors (Consult; Jihad) 642
 Free-love (Consult; Adultery-fornication)
 Friday prayers, 256
 Frugal, 496
 Fruits, 873, 356
Fruit trees, 873, 356
 date palm, 358, 356, 873
 fig, 357
 grapevine, 357, 873
 lote tree, 358, 873
 olives, 356, 357
 palm tree, 358, 873
 pomegranates, 358, 873
 Fruit trees, 873, 356
 in paradise, 873
 in hell, 889
- Fulfillment of promise 468
Fundamental Principles of Islam 99
 believe in oneness of Allah (SWT)
 --(Monotheism), 97, 99
 believe in all angels of Allah (SWT)
 believe in all Divine Scriptures, 97
 believe in all Messengers without
 -- discrimination, 93, 98
 believe in Resurrection day, 98
 believe in destiny (Divine Decree), 98
 believe in prophet hood of Muhammad (SAAS), 99
 believe in Muhammad (SAAS) as seal of prophets, 99
 believe in Holy Quran, as final message 99
- Fundamentalism-background of... 616
 Fundamentalists-Roman Christians, 607
 Fundamentalist king of Jews,
 Who burnt his subjects
 Who refused to accept his dictums 1113
 Funeral prayer (Salat-e-jinaza), 260
 furnace of Nimrod 953

F

Face(meeting)of Allah (SWT), 833
Facing towards-while offering Salat (*Consult*;
-- Qibla)694
Faction in religion, 583,607,616
Fai (land and property abandoned by enemy), 669
Fair-seeming of own doings, 468,473,480
Faith (*Consult*; Islam), 89,96,97
False accusation of;
 adultery free-love on wife, 525,537
 Israelites of Solomon (PBUH), 1079
 Israelites of Moses (PBUH), 1054
 unchastely against Mary (PBUH), 1096
False arguing of disbelievers with -
 Abraham (PBUH), 949
 Hud (PBUH), 931
 Moses (PBUH), 1019
 Noah (PBUH), 920
 Salih (PBUH), 938
 Shuaib (PBUH), 999
False beliefs (*Consult*; Dogmas of-),
-- 589,593,603,606,1103,602,590
False beliefs and customs of Pagans 159,237,138
False beliefs-following of 155,159
Falsehood will vanish, 95,655,657
False accusation of disbelievers on;
 Allah (SWT) 136,149,138,150
 Holy Prophet Mohammad (SAAS) 190 to 206
 Holy Qur'an (*Consult*; refutations of)
 -- 228,235,231,236
Islam-Religion (*Consult*; Islam-Religion) 582
-- 546,583,607,616,580,470,585,586-
-- 551,535,540,549,552,553
False Dogmas(*Consult*; ; Tenets)
False gods (*Consult*; Polytheism) 139,144,149
False interpretation of scriptures (*Consult*; tempering)
False notions of disbelievers (*Consult*; false
-- accusations of traditions of)
 Falsifier an Dooms day 572
Family of;
 dynasty concept of, 443,523
 Abraham (PBUH), 958
 Imran (*Consult*; Mary), 1091
 Prophet Muhammad (SAAS), 188
 responsibility of head of family, 444
Famine(drought) 988,281,301,261
 in Egypt, 988
 chastisement of, 261,393,301
Fasting (*Consult*; Saum), 262,573
 expiations & amends 264
 glad tiding for observer 263
 night of power during the month of...264
 ordained to every Muslim 263
 prescribed to earlier Nations 263
 provision to put off 263
 ransom of skipping 263
 timings to observe 263

Fast of abstinence from speech

by Zikriyah Zechariah (PBUH), 1088

by Mary (PBUH), 1096

Father of ;

flames (*Consult*; Abu-Lahab) 187

Isaac PBUH (*Consult*; Abraham PBUH) 958,974

Ishmael PBUH (*Consult*; Abraham PBUH) 955,971

John-Yahyah PBUH (*Consult*; Zechariah PBUH) 1089

Joseph (PBUH) (*Consult*; Jacob PBUH) 975

Father's Privileges of 451

Fauna flora, 351,359

Favours blessings of Allah (SWT) . Limitless, 102

Fear of Allah (SWT) (*Taqwa*), 306

Feeble-minded-rights of, 461

Feeding,

imbecile, 461

hungry, 289

famine effected, 573

Female (*Consult*; woman, wife, wives & spouses)

Fiancée 515

Fidyah - ransom, 264,263,701

Fields of knowledge (*Consult*; modern sciences

-- & Qur'an) 1135 (*Consult*; appendix) from

-- pages 129 onward

Fig, 357

Fighting in the way of Allah (SWT) (*Jihad*), 100,642

Final day (*Consult*; resurrection) 782,796,798

Finality of Prophet-hood 66,166

Finality of Devine Scriptures 99,223

Fineries display 541

Firaun (*Consult*; Pharaoh), 1005,1034,1037,1040,1041

Firdaus (*Consult*; Paradise), 866,862

Fire

of hell, 884,891,900

out of green tree, 355,898

parable, 1129

when Moses (PBUH) saw, 1011,1012

Fiscal Systems (*Consult*; taxes) 490,667,

-- 668,265,275,284,274

First and Foremost in Islam (Faith)

-- (See Vanguard) 639,688,761

Fish, 503

Fisher community of Jews 1068

Moses PBUH forgot during travel 1151,1058

swallowed Jonah PBUH 1151,1085

whale or shark, 1084,1085,1086

wholesome seafood, 343

Fire worshippers (*Consult*; Magians), 589

Fixed and term debts, 491

Flagrant deeds (*Consult*; Fornication-Sodomy)

483,962,541

working against 962

inducing for (by Satan) 383

Flogging (stripes) lashes, 536

Flora fauna, 351,359

Fly, 144,365

Folk (*Consult*; people of), 930,962,936,

-- 997,1073,1115, 1099,607,1014,1085,

-- 1114,637,917,927,1044,1065,1043,1003

Followers (*Consult*; adherents)

Following of the Prophet (SAAS), 171,172,175,195

Following of Satan, 384,910

or even keeping any couple barren is an
-- outcome of divine's unfathomable will, 399
turning tissue into bones, 396
clothing of bone with flesh, 396
formation of limbs, 396
gradually fashioning into shape in due
-- proportion, 396
pouring of divine spirit, 396
starts breathing, 396
life comes into existence, 396
faculties of hearing, 396
sight and feeling, 396
successive stages of,
-- embryonic development, 397
under three fold depth of darkness, 397

Emigration (*Consult*; Hijrat) 670,954,

-- 976,1035,1085,688,693,1009

Enchanters of Pharaoh, 1025,1028

Encounters on Doom's day, 1078

Enemies

enmity of Allah (swt), 127,131, 124,125,162

enmity of Prophets,187,205 ,203 ,1102,1050,

-- 1037,922,981,1021

enmity of Gabriel., (PBUH) 380

enmity of Michael, (PBUH) 380

enmity on doom's day, 842

Enforcement of law (*Consult*; limit of Allah swt)

-- 525,562,563,565,566,679,1068

Enmity (with)

doom's day among disbelievers 842,837,845

Gabriel 380

mankind by Satan 393,910

Michael 380

proclamation of Charity by hypocrites 284

Prophet Muhammad (SAAS) (*Consult*; blasphemy)

shall refrain you not from true evidence 568

Enoch (*Consult*; Idris (PBUH), 916

Entertainment

for believers in Paradise,882,879,76,869,

-- 870,878,873

of infernal in Hell,889,89,893,8 97,884,

-- 891,900

of worldly life,419,730,427,418,426

-- 522,523,535

Entities' as mentioned in Quran 1159

Entomology (*a concept of*) 365,1137

Environmental protection, 354,42,882,883,884

Envoy (*Consult*; Queen of Sheba Bilqis), 1077

Envy between;

brothers 915,978

seeking refuge from 1127

wives-spouses 546

Ephemeral life 418

Epochs of creation of Universe, 321

Esdras (*Consult*; Ezra), 1081

Escape

from death 771

from Holywar 1043, 1065

from Hell 895

Ethics (etiquette's) 443,535,465

Ethnography (*Consult*; narrations of the past) 904

Etiquette's of (Decorum's of), 443,465

entering place of worship (mosques) 622

assembly, 447

conversation, 45,446

conversing of women with other men 543

dining, 449

entering homes, 444

privacy, 445

reciting Holy Qur'an 215

social life 443

Eve (*Consult*; Hawwa), 909

Events

during the Prophet Muhammad's (SAAS) life, 686

of bygone nations-folks, 904

of Messengers (Prophets), 904

of bygone townships, 904

Evidence (Witness) of or to, 567

accuse chaste women, 537

bequests, 509,568

circumstantial, 981,982

contract; pledge, 495

Evil

for those follow their, desires, 415,416

moral (*Consult*; sex discipline), 535

of bygone nations (*Consult*; Social evils of)

of society (*Consult*; social evils) 473

recompense of, 885

repel/defend-with good, 446

Evolutionary process of Universe, 321

Ewe's dispute regarding (*Consult*; David), 1069

Exaggeration in Religion 95

Exalted in fame

Noah (PBUH), 928

Abraham (PBUH), 944

(Elijah) Ilyas (PBUH),1065

John (PBUH), 1089

Idris (PBUH) (Enoch), 916

Muhammad (SAAS), 166

Excellence

of companions of Holy Prophet, 758

of knowledge, 404

of believers 764

Excess

in food (diet) Like cattle, 449

in religion, exaggeration in, 95

Exclusion (*Consult*; meditation), 264

Exemption from

participating in Jihad, 645

keeping fast (Saum), 262

taking unlawful food, 505

migrations (hijrat), 670

veiling of women, 542

Expedition (*Consult*; Gazzwah), 720

of Tabuk, 720

against - Tribe of Mustaliq, 708,747

Expiations and amends (*Consult*; atonement of sins) 573

Extravagance, 496

Eyes

Allah (swt) Knows even treachery of, 111

bestowing of a blessing, 396

will bear witness against sinners, 809

Ezekiel (PBUH), 1065

Ezra (PBUH), 1081

Doctrine of ;

papal infallibility, 595
priest worship, 595
trinity, 602,606,1103

Documentation of ;

custodians (trusts), 492,494
every transaction, 494
promissory transaction, 491,494
transactions involving future payment, 491,494

Dog (Qitmir) 1152,1106

Dog-like (mankind) 416

Dogmas (*Consult*; tenets)

Dogmas (False Doctrines of)

assigning relation of angels with Allah swt, 136
Awagon (Hindus), 589
Baptists(Christians), 589,1089
Cow worship, 590
Son ship of God, 134
Christian about Jesus, 602,1103
Jews about Ezra, 593,603,1081
Transmigration of soul (Greek doctrine), 589
Trinity in Christianity, 602,606,1103

Domestic life(Consult; social life)

ethics 444
roaming outside/without purpose 542
simplicity 544
timings of free access of servant into bed rooms 445

Donkey, 362,595,1069

donkey-like voice 326

donkey of Ezra 1150,108

Dooms day(*Consult*; Resurrection), 782,796,798
occurrence of, 785,791,798

Dower (bridal money) payment of, 521

obligatory for marriage, 521
conditions under different situations, 522
was ordained on previous nations, 522
incumbent on bygone folks, 1010

Dreams

of Joseph (PBUH), 978,995
of Abraham (PBUH), 956
of cup bearer, 984
of King of Egypt, 986
of Muhammad (SAAS), 717
Interpretation of, 977,984,985,986

Dress (Consult; ; Clothing)

bestowed to Adam and Hawwa (PBUH), 911
of Blessed ones in paradise, 879
of doomed ones in Hell, 893
cleanliness, 251,252

Drinks

alcoholic-intoxicating-strong, 506
of Hell, 890
of Paradise, 871

Drought (Consult; famine)

Drowning of;

Noah's son in deluge, 926
Pharaoh in red sea, 1040
rejecters of Noah, 1040

Dualistic system of

Magians .false Dogma, 589
Idolatry, 149,590
Inventing kinship of invisible forces to Allah (swt) 138
Magians, 589

Mary worship (by Roman Catholics Christians),
-- 606,1103

Metempsychosis (Buddhists), 589
of Pagan Arabs, 155,159
Sabians, 589

Duties of (*Consult*; obligations responsibilities of)
Dwellers(*Consult*; Companions or-Ashab)
Dwelling in tranquility of spouses, 514

E

Earning pleasure of Allah (swt) (*Consult*; source of...)
-- 266,276,284,644

Earth

creation of, 321
gradually diminishing at its borders 326
livelihood on-Means of living 325
natural preventive measures against
-- Earthquakes338
on Doom's day, 792,796,808
secrets of 956
spreading of 325

Earth quakes

on dooms day 941,1001
preventive measures 338

Early Heros of Islam (*Consult*; Taahieen) 762, 861, 1124

Ease after hardship 371

East and west, 324,1082

Eatables (*Consult*; foods)

Ebb-time and neap tide (concept of), 344

Economic provisions,
-- 387to391,393,499,502,336,437,325

Eden (gardens of), 867

Edible (*Consult*; lawful foods) 502,595

Edible plants, 353,354

Education (*Consult*; knowledge) 439

fields of study (*Consult*; appendix of-modern sci
-- ences) pages 1129 onward

Efforts (*Consult*; striving) 440,673,674,96
every one receives in proportion of,440,546
what one strives for one's own self, 674

Effrontery (*Consult*; people of lot), 383,483,962,541

Egalitarianism, 546

Egypt, 1029,1035,1037

Eid-ul-fitar, 260

Eid-ul-zuha, (Adhah) 260,291

Eila(abstention from wife), 524

Ejaculation, 89

Elephant army, 686

Elias (PBUH), 1065

Elijah (*Consult*; Elias PBUH), 1065

Elisabeth (*referred indirectly*) (wife of Zechariah)
-- 1141,1088

Elisha (PBUH), 1066

Embryology (*a concept of*) 394,514,1136
(*Consult*; appendix of human body parts) 1159

Embryology, 394

secrets of, 399
pregnancy and its stages, 395,397
minimum period, 400
bestowing male female, 399
single and twain births, 399

Disbelievers, 856,857,858

are allies to one another, 615
Behave Muslims as their enemies,
deeds like mirage, 857
many a generations destroyed, 679,427,1031
painful torment for the, 856
pride and haughtiness of, 427,582,675,685
take not them as friends, 612
their efforts wasted, 857
will wish that they were Muslims, 91

Disbelievers of

of Allah (swt), 195,199,846,856
of Prophets, 187,190,199,1040
of revealed scriptures, 228,850

Disbeliever's criminal traditions, 193,199,203,
-- 205,922

Disbeliever's criminal traditions, 193,199
-- 203,205,922

threatening messengers, 203,205,922, 941,1021

Disbelievers chief's traditions, 920,931,938,949,999
whim to receive divine revelation
-- by their own selves, 190,192,199
demand Prophets to bring symbolic
-- portents-miracles,193,194

Disbeliever's false accusations-refutation
on Prophet hood of Muhammad (SAAS), 190,191,199
on Holy Qur'an, 228

Disc-like (*Consult: Diskette*)

Disciples (*Consult: adherents of Jesus (PBUH)*)

Disciples (Hawwari) of Jesus (PBUH), 1100

Discipline (*Consult: Decorum-Etiquette's of*),

Diskette-like, (*a concept of*) 211,794,800,801

Disease in the hearts, 413

cure through remembrance of Allah (swt),
cure through Qur'an, 220
cure through honey, 365

Disobedience of Prophets, 187,1041

Disposition (inborn tendency) of mankind 406

adversary 409
appeals to Allah (swt) while under stress 406
ardently devoted for love of wealth 411
arguer 409
arrogant 409
aspires for adding yet more 409
avaricious 409
becomes over weaning 411
boastful 409
born to strive 411
contender 409
created in toil 411
created weak 409
despairing 409
despondent 409
disputer 409
exultant 409
grudging 410
hankering for Worldly gains 412
imbued with impatience 410
impatient 409
in considerate 406
lamenting over misfortune 410

lures away when relieved 406

miser 410

niggard 410

oblivious of facts own creation 411

opportunist 406

poses to be master of his/her fate 411

prone to be hasty 410

proud 409

seldom grateful 410

self glorifying 409

stingy 410

takes bounties of Allah (swt) as self-earned gift 412

thankless 408

turns fretful and panic when tried 410

ungrateful 408

unjust 411

violent in love of wealth 411

wicked and foolish 411

Disputation / Disputes

among Jews and Christians, 607

among spouses, 523

in religion, 583,607,616

Dissension in religion

(*Consult: sectarianism*) 616 583,607

background, 616

craze of domination or monopoly, 616

Dissolution of marriage ties, 526

Distorting Divine messages (*Consult: tempering*)

Distorting Islam by Orient lists (*Consult: Refutation-false accusations*)

Distribution

of fai (booty of war), 669

property of deceased Muslim, 510

Ditch, people of the, 1113

Divine

boon (*Consult: rewards-Blessings of...*)

challenge, 149,229,327,231,384

injunctions (*Consult: Laws of Allah swt*)

Scriptures, 97,245,247,249,248,99,246

Tablet, 367,369

Writ (*Consult: Qur'an*), 99,977,1004

Diving, 343

Divinity (There is divinity even

-- in the full of a sparrow) 981,110

Divorce

right to husband (*Tallaq*), 526

right to wife, (*khula*), 529

ispo facto, (*Eiela*) 524

laws of, 526

reckoning of period from, 527

single pronouncement, 527

second twice pronouncement, 527

revocable divorce, 527

last chance for final decision, 526

third pronouncement, 528

Irrevocable divorce, 528

trick of treating woman badly to

-- force her to initiate khula (divorce), 529

Divorced woman rights, 529,533

Diyat, 560,566

Doctors of Jews (Rabbis) 240,243

- during Hijrat (*Consult*; migration), 658,672
during jihad (*Consult*; martyr), 658
every soul is bound to taste, 771
everyone and everywhere, 771
for righteous, 772
for wrongdoers, 773
in hell - disbelievers will not die, 899
is inevitable, 772
no one can escape, 771
no one know where and when, 771
of atheist - way of facing, 773
of believer - way of facing, 772
time is settled, 771
- Debate and disputation, 441,634,574
- Debts & loans** (*Consult*; loans) 491
debts and loans, 491
debtor-suffering hardship, 491
fixed and term, 491
legacy of, 491
transactions of, 491
- Deceased Muslim, 508,510
distribution of property, 510
respect of pledge (promise) vow, 511
- Deceiving (*Consult*; betraying) 475,997
- Decimals-Fractions (*Consult*; appendixes) from
-- pages 129 onward
- Decorum's of (*Consult*; Etiquette's of)
- Domestic life, 443
Privacy at home, 445
public council (assembly), 447
- Decree for each matter is with Allah (swt)
-- ,368,369,370
He says only, "be!" And it is, 791
- Deed-dictation on behalf of Mentally
deficient persons, 461
- Deeds**
Fastened man's, to his own neck, 798
Good and bad, are for and against his own self, 673
Recorder (Kiraman Katibin), 378
- Defaming Islam by Orient lists (*Consult*; Refuta
-- tion-false accusations)
- Defense (*Consult*; Holy war), 642
Defense strategy in Islam, 559,562,642
Defiance of objections of disbelievers (*Consult*;
-- refutations of...)
- Degrees one above other, 391,523,905
Degrees, according to what they did, 546
- Deity (any god accepts Allah swt)
are defenseless 146,842
are helpless to assist themselves 146
believing in anyone except Allah swt
-- (*Consult*; polytheism) 139
believing in no deity except Allah swt
-- (*Consult*; monotheism) 99,133
on dooms day 842
will be thrown head a long into hell 139 are defense
-- less 146,842
are helpless to assist themselves 146
believing in anyone except Allah swt
-- (*Consult*; polytheism) 139
believing in no deity except Allah swt
- (*Consult*; monotheism) 99,133
on dooms day 842
will be thrown head a long into hell 139
- Deliberate interpretations of Scriptures
-- (*Consult*; tempering)
- Deliverance of believers (*Consult*; survival)
- Deluge (Noah's flood), 925
- Demur of disbelievers on messengers,
-- 938,949,999,1019
- Demurring of disbelievers (*Consult*; Scoffing)
- Demand of infidels (*Consult*; disbelievers)
-- 151,190,228
- Demands of disbelievers (*Consult*; whims of...)
-- 190 to 194,203
- Demurring of marital status of Prophets, 191,921,
-- 938,101,1019
- Demurring of Prophets,**
-- 190,896,938,949,999,1019
as poet, 202
as possessed one, 199,921,932,1020
as sorcerer, 157,939,1000,1027
objecting Prophets on, 190,199,754
protest against mortal, 191,921,938,
-- 1001,1019
scoffing and mockery of Prophets, 896,938,
-- 949,999,1019
slaying of Prophets, 203
- Denouncing of Hudabiya treaty, 719
- Denouncing of treaty with treachery, 666
- Deposit of wealth, 426
- Depression - cure, 258,295,298,305,472
(*Consult*; remembrance of Allah (swt), 294
- Desert Arabs, 728
- Desert of Paran (of Teiah) 1146,1043
- Desires (Vain), 415,416
- Desist forever from sins-once repented, 317,318
- Despair not of the mercy of Allah (swt), 304
- Despondency, 409
- Destiny-Dvine decree, 98,368
- Detention 564
- Devil (*Consult*; Satan), 382
- Dhun-Nun-Zun-nun* (companion of the fish), 1084
(*Consult*; Jonah (PBUH), 1084
- Dhikr,-Zikar* (remembrance of Allah swt) 103,112
- Dhirar-Zahar* (place of worship of hypocrites), 726
- Dhul-kifl - Zulkifl* (PBUH), 1065
- Dhul-Qarnayn*, - ZulQur-Nain 1082
- Diabolic (Satan), 382
- Dialogues between/ with**
dwellers of heights with companions
-- of hell 839,840
Abraham (PBUH) & Nimrod 953
Moses (PBUH) with Pharoah 1036
- Dining etiquette's, 449
- Diplomacy-a concept, (queen Balqis) 1077
- Disbeliever (*Consult*;
pagans-polytheists-infidels-rejecters)

Ruh-ullah, (Jesus PBUH) 1095
Zabih-ullah, (Ishmael PBUH) 956,972
Safi-ullah, (Adam PBUH) 906
Najee-ullah, (Noah PBUH) 928
Covenant, 474,468
 breakers of, 474
 fulfilling of, 468
 keeping of all Prophets, 180,405
 by Abraham (PBUH) 949
 by Eshmail (PBUH) 956
 by Job (PBUH) 997
 of children of Adam, 914
 of children of Israel, 1052
 of fealty (*Bait-ur-Rizwan*), 713
 Covetousness, 480
 Cow (*Consult*; Calf), 150,363,590,1048,1053,1054
Creation
 Allah (SWT) commands "be!" and it is, 105
 as the twinkling of an eye, 105
 in pairs, 328,359,395,535,924
 object of, 403,405
 of Adam, 906
 of Eve, 909
 of heavens and earth (Universe), 321
 of human being, 394
 successive stages of embryonic development, 397
Creation of mankind
 (*Consult*; appendixes of human body parts) 1159
Creatures
 best of all, 404,770
 worst of all, 857
Criminals 805
 abetment 575
 cranial 555,565
 mental vagrancy 555
 on dooms clays 805
 pleading & advocacy of 574
 proxy while arrest of 575
 white collared 555
 Criminal traditions of disbelievers
 -- (*Consult*; social evils of) 205
 Criterion (*Consult*; Quran), 221
 Criterion of conduct 972,981,1071,1077,1093
 Crow, 364,915
Cruelty, 556
 cruelty and retribution, 557
 Culture & Civilization (*a concept of*)
 -- 443,465,473,929,936,1137
Curse
 of Allah (SWT) upon 161, 912, 935, 346, 934
 of Jesus (PBUH) upon 605, 1103
 of David (PBUH) upon 605, 1103
 of Moses (PBUH) on Samri, 1033
 of Noah (PBUH) on rejecters, 923
 Custodies (*Consult*; trust) 492
 Cyprus (Antioch) ancient North Syria
 -- (*referred indirectly*) 1149,1109

D

Dacoity, 997
 Daud (PBUH) David, 1067

Daughters

of Imran (*Consult*; Mary (PBUH), 545
 of Lot folk 1142,966
 of Shuaib, 1010

David-Daud (PBUH), 1067

given book of Psalms, 1067
 miracles bestowed upon, 1068
 slewed Goliath, 1067
 trial of, 1069

Da'wah (*Consult*; preaching for Islam) 631

Day-of

judgement (*Consult*; resurrection 98,777)
 resurrection (*Consult*; resurrection) 782

Day-Days(Periods)

remained a day or part of it, 812
 creation of seven heavens and
 -- earth in six days, 322
 provided sustenance in four days, 325
 creation of Universe in six days,
 100-years-sleeping of Ezra (PBUH), 1081
 309-years-tarrying in the Cave, 1107
 950-years-preaching of Noah (PBUH), 923
 1000-years-a day of chastisement, 877
 50,000-years-a day of judgement, 798

Day of judgement of deeds (*Consult*; Resurrection)
 -- 98,782,788,815,798,785

Day and night, 332

Daylight - ordained to work, 336
 to make things visible, 336,332

Dayat (*Consult*; blood money), 560,566

Dead body, 776,915
 depositional (by burying corpse), 915
 of Pharaoh-a portent for generations, 1040

Dead will be raised up, 98,462,777

Dealing with (*Consult*; rights of--)

associates, 462
 captives, 271,282,462
 close relatives, 462
 colleagues, 462
 companions, 462
 debtor, 462
 disbelievers, 612,282,458
 family, 282
 friends, 462
 imbecile, 461
 indigents 271,283,463
 neighbours, 462
 non fighting non Muslims, 587,588
 non Muslims, 612
 orphans, 271,282,460,520
 people of scripture, 587
 POW's, 463,997,998
 prisoners, 271,282,463
 relatives, 271,282,458
 subordinates, 462
 way farer, 271,282,463
 wife, 523,528

Death, 771

agony and stupor of, 774
 by suffocation,

Cold paralyzing, 891
 Collective opinion - *Ijma*, 549
 Colours (*Consult*; appendixes) 1152
 Command for reverence of Muhammad (SAAS), 182
 Commandment sent to MOSES (PBUH)
 -- (*Consult*; Torah), 163, 247, 591, 592, 1047, 1098
 Commerce & trade (*a concept of*) 259, 268, 277
 -- 288, 34, 485, 487, 644, 929, 936, 1114, 1137
 Commerce ethics, 485
 Community services in Islam 443, 451, 514, 473
Companion of (*Consult*; people of)
 Aika (*Consult*; shuaib PBUH), 1002, 1003
 the ark, 928
 cave- (*ashab-i-kahaf*), 1105
 fish (jonah PBUH), 1084
 left hand, 800
 Prophet Muhammad (SAAS), 758
 Prophets (*Consult*; adherents of), 763, 1037,
 -- 1023, 1022, 924, 927, 935, 943, 970, 1003
 qariya (*Consult*; people of city of antioch, 1109
 rass, 1114, 1003
 right hand, 799
 sufa (prophets mosque), 761
 well (*Consult*; shuaib PBUH), 1114, 1003
 Comparative study of religions, 383, 551, 589, 608
 -- 470, 580, 582, 583, 584, 585, 587, 588
 Compensatory Umra, 717
 Compunction of guilt, 312, 315, 573
 Computer Diskette 211, 799, 800, 801
 Concept of
 ship, 924
 aeronautics, 364
 computer diskette 211, 799, 800, 801
 Condemnation of false tenet (*Consult*; refutation of),
 -- 593, 594, 599, 602, 603, 606, 1103
 Confederates (*Azab*), 709
Confession of;
 brother's of Joseph 993
 disbelievers of Qur'an 229
 humankind & jinn 834
 MOSES (PBUH) 1009
 on the day of judgement 808
 Pharaoh 1040
 queen Sheba 1075, 1076
 Satan (Iblis-Devil) 384, 914
 SOLOMON (PBUH) 1073
 wife of Aziz (Zalaika) 987
 wizards of Pharaoh 1028
 Confidence in Allah SWT (Tawakkul), 303
 Confinement 564
 Conflict (*Consult*; Confrontation)
Confrontation (of or between)
 Jews with Christians 600
 misleading chiefs and their followers, 842, 845
 Nimrod with Abraham (PBUH), 953, 935
 Pharaoh with MOSES (PBUH), 1036
 religious sects 616
 Satan and his followers, 837
 Satan with Allah SWT (*Consult*; Adam) spouses 523
Congregation
 on Friday (weekly assembly) prayers 256
 prayers by ladies (in mosque), 623

Conjugal differences, 523
 Conjugal right, 514
 Connubial rights, 514
 Conqueror after *jihad* (*Ghazi*), 657, 658
 reward of, 658
Conquest of;
 Makkah, 716
 Khyber, 716
 Conscience (*Consult*; self accusing spirit), 417
Consequences of;
 Evil deeds, 885
 Good deeds, 860
 will have its own in due course), 673
 Consolation of heart, 305, 298, 295, 258
 Conspiracy, 106, 111, 1035
 Constancy, 645, 653
 Constellation, 329
Construction of - Builders of
 of Irrigation projects, 1114
 of land marks, 929
 of Ma'arib Dam, 1114
 of rock cut Monuments, 936
 Consultative council - Shura, 549
 Contemporaries of Prophet (*Consult*; people of)
 -- 928, 935, 943, 954, 970, 1003, 1037
Contemplate to (*Consult*; invitation to)
 Contracts, 494
 Contractual obligations 474, 468, 573, 494
 Conversation - etiquettes, 445
Cooperation (in or for)
 Aggression 575
 evil doings 574
 good deeds 574
 vice acts 575
 Corporal punishments-in Islam, 564, 566
Corrupting the scriptures (*Consult*; tampering)
 Corruption, 485
Cosmology (*a concept of*) 321, 366, 1135
 asundering of mass 321
 creations of heaven 322
 diminishing of earth gradually at its borders 326
 evolutionary process 321
 expansion of universe 323
 keys of Heavens & Earth with Allah swt 327
 origination of Universe 321
 provision of sustenance 325
 seven heavens 322
 spreading of earth 325
 zero defect creation of earth of heavens 325
 Counseling for righteous motives, 465, 484
 Couples (of livestock) Zoology 359, 924
 Couples (of plant kingdom) Botany 351
Couples of humankind
 of matching age 514
 of matching conduct 515
 in Hereafter-Paradise 876
 Courtesy (*Consult*; respect of....)
 Courtesy and greetings, 444, 447
Courtesy titles of prophets
 Khalil-ullah, (Abraham PBUH) 960
 Kaleem-ullah, (MOSES PBUH) 1012

rejecter's of Noah (PBUH), 925
rejecter's of Salih (PBUH), 941
rejecter's of Shuaib (PBUH), 1001

Chastisement (calamity) over A'ad folk

clouds 933
dreadful tornado 933
furious wind 933
tremendous hurricane 933

Chastisement (calamity) over Thamud folk

earth quake 941
rumbling noise 941
thunder 941
volcanic blast 941

Chastisement (calamity) over Sodom's People

backed clay shower 968
brimstone shower 968
mighty blast 968
violent tornado 968

Chastisement (calamity) over Midianities

earth quake 1001
gloom shower of ashes 1001
overshadowing 1001
volcanic eruption 1001

Chastisement (calamity) over

-- folk of (Antioch) city
dreadful shout 1111
mighty blast 1111

Chastisement (calamities) over

-- people of Pharaoh
blood-shower 1034
famine 1034
flood 1034
frogs-shower 1034
locusts-shower 1034
shortness of crops 1034
vermin-shower 1034
whole sale death 1034
years of draught 1034

Chastisement (calamity)

-- over people of Sabbath turned into
-- despised apes 1068

Chastity - guarding of, 555,581,584

both men & women are ordained to preserve 538
care in gaze, and dress display, 541,542,543
guarding of 545
non-betrayal of trust of spouses, 969
special instructions about 543
violating of (rape - ravishment), 537,555
rank of those who guarded
-- (Consult; Mary PBUH-A'aisha RAA)

Cheating (Consult; betraying) 157,475,902

chiefs of misled folks-nations-communities
of And folk, 931
of Midianities, 999
of Noah's folk, 920
of Thamud folk, 938

Chief of misled folk-nations-communities of;

A'ad folk 931
Madianities 999
Noah'sfolk 920
Thamud Folk 938

Children

admonitions to, 1070
adoption of, 518
burying alive, 561
killing of, 538,561
nursing of, 534,1007

Children of Israel,

-- 596,1004,1033,1036,1043,1044,1051

Christ (PBUH)(Consult; JESUS PBUH), 1095

Christ was neither crucified or killed, 1102

Christ was safely taken up to

-- heaven by Allah(SWT), 1102

promise of Allah(SWT) with Jesus, 1103

reappearing of Jesus(PBUH) before final day, 1103

Christians, 601,637

fundamentalists (Roman), 601,607

nearest in love to the Muslims, 638

who became Muslims, 637

Christianity's tenets 602,603,1103

Baptism 589

Mary(PBUH) worship 606

Son ship to JESUS(PBUH) 602

Trinity 602

Churches, 583

Circumambulating around *Ka'ba* (tawaf), 290

Circumstantial evidence, 427,437,981,982,679,1031

Cities overthrown(Consult; Archaeological remain of),

-- 935,943,969,1002

City of security (Makkah), 624,625

Civics (a concept of)

-- 445,470,580,1136,582,583,587,1136

Civil engineering (a concept of) 624,961,

-- 971,1137

Civilization & culture (a concept of) (Consult; pageson)

-- 443,465,473,929,936,1137

Civilization-old /ancient (Consult; Archaeological

-- remains of.) 1114,1147 929,936

Clans (battle of the), 709

Cleanliness, 251,252,623

Climate (Consult; winds) of; 349

clouds 345

comfortable 882

harshness 883,884,897

Hell 893

Paradise 883

solar & lunar system 331,334

Cloisters, 583

Clothing, 362,544,879,881,893,911

to Adam, 911

to imbecile, 461

to Pauper-indigents, 573

Clouds, 345,349

Code of life (Consult; prescribed code-Shariah)

Cogitate to... (Consult; invitation to)

Brethren

of Aa'd (*Consult*; Hud (PBUH) Haber 1142,931
of Thamud (*Consult*; Salih (PBUH) Methuselah 1140,937

Bribery, 485,500,555

offering, 485
accepting, 485
Bridal money (*Consult*; dower), 521
Brimstone Plans 1147,969
Bridal rights, 520,521,522,530
Brothers of Joseph 988,978
half brothers 1142,978
real brother (Benjamin-referred indirectly) 1142,988

Brother's share of inheritance 510,513
Brotherhood of Muslims, 620
Buddhist's tenets (metempsychosis) 589
Builders (*Consult*; construction of), 929,939,1114
Bullet proof jacket, (a concept of) 1066

Burden

Allah (SWT) burdens not any person beyond his scope, 674
disbelievers will bear also the
burdens of others, 818
of another, none shall bear the, 818
Burying of corpse, 776,915

Business ethics, 485

may not hinder in paying Zakat, 269
may not hinder in offering Salat, 256
Partnership (concept of taking undue
--Advantage-in), 1069
travels, 437

Bygone Believers (*Consult*; Pioneers of faith)

Bygone folk were also ordained to 374

dower-money payment 522
fasting 263
holy war (jihad) participation in
-- 644,1042,1043,1061
poor due payment 268
prayer offering 250,251
tithes on Agriculture produce (Ushr)
-- Bygone nations rise and fall of 673
ultimate fate for their arrogance and
-- disbelieve 679

C

Cain and Abel, 915
Calamity of rejecters
(*Consult*; Chastisement), 856,667,679

Calf, 150,590,1048

the golden, 1048
the roasted, 958
worship by Israelites, 150,590,1048
Calm and peace sent down by Allah (SWT)
(*Consult*; tranquility),
-- 697,693,706,715,718,1081,1106
Camel, 362
the she-camel, 939

Canaan (ancient Palestine (referred indirectly)
-- 1147-988

Canons of (Divine) Nature 366

Captivation (*Consult*; dealing with POW'S), 667,668

Cattle (*Consult*; livestock) 359,361,416

Cattle like (natured humankind), 857,449
worst than cattle even 857

Caucasus (*Consult*; Dhual-Qarnayn), 1083

Caves, 339,936,693,687,1105

of Sa'ur, 693

of Hira, 687

people of the, 1105

Celestial organization 329

Celibacy-a moral voice in Islam, 520

Cemetery (memorial park), 1081

Census (*Consult*; MOSES (PBUH)), 1043

Chagrin (*Consult*; disappointment) 304,305

Challenge of Allah (SWT)

to disbelievers of Qur'an, 229
to everything in the universe, 124, 125,127,131,162
to all mankind & Jinns, 231,327
to Satan, 384
to usurer, 488
to disbelievers, Idolaters, 149

Challenge of;

Abu-Sufyan at Badr-i-Sugra, 706
Moses to Pharaoh, 1025
Satan, 913

Challenge to bring threatened punishment, by;

-- 932,940,964,1000
Aad people to Hud (PBUH), 932
dwellers of forest to Shuaib (PBUH), 1000
Sodom people to Lot (PBUH),
Thamud people to Salih (PBUH), 940
Chamber of David (PBUH), 1069
Chamberlain-Lady of Egypt (Zulaikha), 981
-- 982,983,987
Change of direction of Qibla, 694
Ka'ba specified instead mosque of Jerusalem, 694
Characteristics of Muslims (*Consult*; Muslim-Islam)

Charity (Consult; -Zakat -Benevolence), 265,284

attribute to Allah SWT alone 285
continual and incessant effect 286
earns Allah SWT's pleasure 284
obligatory (*Consult*; Zakat-Ushur) 265
purifies wealth 284
voluntarily (*Consult*; Alms-benevolence) 274,275
will be an expiation, 266

Chastisement of /on;

garden owner materialist person, 1108
Hell, 891,900
biting cold, 89
Korah, 1030
people of city (Ashab-i-Qarya), 1109
people of Midian, 1001
people of Sheba, 1114,1075
rejecter's of Hud (PBUH), 933
rejecter's of Lot (PBUH), 968

of Abraham (PBUH) 959
of Jacob (PBUH) 976
testimony of 509
while death approaches, 508
while travel, 508
witness of 508

Beseeching Allah swt (*Consult*; supplications) 141, 1116
Bethlehem 1094, 1096
Betrayal (cheater), 157, 475, 902
Betraying (*Consult*; cheating, deceiving, and treachery)

Betraying of;
agreements, 474, 666
contracts, Pacts, 474, 666
trust, 492
eyes, 111

Wives, 927, 969, 981, 983
brothers, 979

Jews, 695, 707, 711, 742, 1102
Hypocrites, 711, 707, 703, 704, 746, 728, 742
Betroths 515
Bible (Gospel), 607, 1099
Bilateral relations of nations, (a concept), 1077
Bilqis (queen of Sheba), 1076
Biography of the Holy Prophet (SAAS), 686
Biography of the Prophets (PBUH), 904
Biological constituents of human body, 394
Biological parts (*Consult*; appendix of
-- human body parts) 1161
Biology (a concept of) 394, 1136

Birds, 364
hoopoe 1075
living idea of aeronautics, 364
manna, 1044
plover,
quails, 1044
raven, 915

Birth control, (family planning) 533, 539

Birth of;
Ishmael (PBUH), 955, 971
Isaac (PBUH), 958, 974
Jesus (PBUH), 605
Mary (PBUH), 1091
Yahya - John, (PBUH), 1089

Bitter
cold, 891
water, 347, 891

Blaming of disbelievers (*Consult*; false accusations of
-- traditions of...)

Blasphemy, to believe in Trinity, 602, 606, 1103

Blasphemer
ultimate fate of, 187
dealing with, 185, 186
blasphemous attitude a vexing, 185
of Israelites with Moses (PBUH), 1054, 1055
with Solomon (PBUH), 1077
blasphemy and its punishment, 187

Blasphemy of Prophet Muhammad (SAAS), 185

Punishment of, 187, 926, 927, 969, 1050, 1037, 1031

Blasphemers of Prophet's
Abu-lahab 187
Korah 1031
Pharaoh 1037
Samri (Sorcerer) 1050
son of Noah 926
wife of Abu Lahab 187
wife of Lot 969
wife of Noah 927

Blessing on;
children of Israel, 1044
Prophet Muhammad (SAAS), 377

Blessed
people (*Consult*; Paradise), 860
land, 954, 1042, 1079
tree, 770
night, 264

Blood money (wit) Dayat, 560, 566
Blood ties - relations, 443, 458
Boastfulness (*Consult*; arrogate)

Boats
of sailing, 340, 341
of co-travel of Moses & Khizir (PBUH) 1151, 1059
of Noah (PBUH) (*Consult*; Ark) 924, 926, 1151, 924, 926
on which Jonah (PBUH) boarded 1151, 1087

Bondmen, 564, 588, 1041

Book (revealed Scripture) Allah's swt
-- Decrees, on 97, 245
Abraham (PBUH), 946
David (PBUH)-Psalms, 248, 1067
Jesus (PBUH)-Bible-Gospel-New Testament, 163, 249, 1098
Moses (PBUH) Torah-Old Testament, 247, 1014, 1047
Muhammad (SAAS)-Qur'an, 99, 207

Book of record
maintenance of, 378
of evildoers, 801
of righteous ones, 800

Book of deeds (on the dooms day)
In the right hand, 799
In the left hand, 800
Hanged in the neck, 798
Hanged on the back, 801

Booty of war, 668, 669
Bosoms-Covering with shawls (for ladies), 541, 542
Botany, 351

Bounties - Blessing-Favours of Allah (swt), 102, 300, 875
innumerable-countless, 102
every one will be questioned about,

Bowing
down Prostration (Sajdah) in worship of
-- 112, 113, 114, 765, 1068, 216, 1138, 1151
down in respect of ; 907, 908, 995

Breast
feeding-importance of, 533
covering with shawls for ladies, 542

emigrants, 273
polytheist, 588,667

Atheists 777

doubts about Resurrection 777

Atmosphere of

Paradise 882
Hell 897

Atonement vicarious 286

Atonement of sins-through 573
charity acts, 266,276,284
clothing needy, 573
Fasting, 264,289,292,298,573
feeding indigents, 289,573
freeing captives, 573
freeing slave, 573
Sacrifice(slaughtering animals) 289,292,573

Attributes of Allah(swt) (Consult; Appendixes
-- from pages 1129 onward

Auliya-Allah (adherents of Allah), 762

Avarice 409,480

Awful consequences (Consult; Ultimate of...)

Ayat al, kursi 1127

Ayat al, Mathani (opening chapter of Holy Quran) 221

Ayub (PBUH) (Job) 996

Azan (prayer call) 256

A'azar (father of Abraham PBUH) 946

B

Baal- an Idol; 1066

Babylon (Iraq), 954

Angels Harut and Marut 157,380,1080

migration of Abraham (PBUH) from 954

Nimrod ruler of 953

Backbiting, 476

Badar-i-sughra, 706

Badr (battle of), 696

Bad manners 473

Bahira-Idol, 150

Bait (house)

Bait-ul-Allah (*khana-ka'aba*), 287,624

Bait-ul-Haram (*khana-ka'aba*), 287

Bait-ul-laheem, 1094

Bait-ul-Ma'mur, 795

Ba'ait-ur-Rizwan (covenant of fealty), 713

Becca (Makkah), 624

Balance

Balance of weights (Consult; Scale)

Balance of Earth 338

Balance of Justice (Consult; judiciary)

Balance of Universe 322

Balanced Diet 450

Banana 358

Baptism, 589,1089

Baptist (Consult; John (PBUH), 589,1089

Barzakh-quiescent state, 776

Basic articles of faith (fundamentals of), 97,99

Bastardly-to avoid (Consult; parental title
-- maintenance), 513,531,538

Bathing after seminal emission, 251,535

Battles of;

Ahzab, 709

Badr, 696

Bani-Marrasie, 747,708

Bani-Mustaliq, 704,708

Bani-Qainuqa, 702

Hamra-al-Asad, 706

Hudaibiya, 713

Hunain, 718

Makkah, 716

Tabuk, 720

Trench (khandaq), 709

Uhud, 702

with folk of Nadhir, 707

with folk of Quraiza, 712

Beasts, 359,365

Beating stress through spirituality

-- 220,258,295,298,305,417

Beauty of Nature (Consult; canons of nature)

Beauty (feminine) dazzling display of 543

Bedouins, 728

Bee, 365

Beggar-rights of, 271,281,282,463

who don't beg importunately, 272

Belief in

Oneness of Allah(swt) Monotheism, 97,99

all angels, 97

all Prophets and messengers of Allah(swt), 93,98

all Divine Scriptures, 97

The last day,(Resurrection), 98

Destiny (Divine Plan and Will), 98

Prophet hood of Muhammad(SAAS) as final, 99

Holy Qur'an, as final Book, 99

Beliefs (Consult; tenets)

Believers - virtues of, 764

Believing women's food for thought, 545

Beneficiaries, of;

alms, 271,282,580

benevolence, 282

charity, 282

poor due, 271

Zakat, 271

Benefits (Consult; reward of)

Benefits of

livestock, 361,362

Iron, 339,1068

honey, 365

Benevolence (acts of charity),

continual incessant effects.,

Benjamin (Consult; Joseph (PBUH), 988

Bequest (Consult; Heritage) 508,510

altering contents, 509

change of provisions, 510

keeping of 509

Alms giving

- Voluntary, 275,284
- Mandatory, 265,274
- Al-Sunnah*, 172
- Al-Yasa (*Consult*; Appendixes) Elisha-PBUH), 1066
- Amanat* (Trusts), 492
 - keeping written record of, 492,494
 - Amends and recompense, (*Consult*; atonement of -- sins-repentance) 573
- Amassing treasures (of wealth) 426
- Amends (*Consult*; atonement of sins-repentance) 573,317
- Ancestry (*Consult*; Linage) 443,458
- Anchorites, 583
- Ancient civilization (*Consult*; Archaeological -- remains of....) 1114,1147,929,936
- Ancient House (*Consult*; Ka'ba-sacred mosque in Makkah)
- Angels - of or as 97,376
 - ask for forgiveness for those on earth, 377
 - bearing the Throne, 376
 - communicators 376
 - custodians 377,378
 - disbelievers name, with female names, 136
 - extolling the limitless glory of Allah SWT 376
 - foretell birth of Jesus (PBUH), 1092
 - foretell birth of John (PBUH), 1087
 - Gabriel and Michael (PBUH), 380
 - Hell 896,379,380
 - messengers with wings, 378
 - on dooms day,
 - Paradise 864,379,380
 - pull out the soul, Ezrail (PBUH) 379,775
 - recording deeds of humankind, 378
 - three thousand sent, for help, 698
- Anger-suppressing of, 466,558
- Animal husbandry (*a concept of*) 359,360,924,1136
- Animal kingdom (*a concept of*), 359,361,416,559,1136
- Animals, (live stock. cattle)
 - camel, 362,669,939
 - cow, 150,362,590,1048
 - dog, 362,416,1105,1108
 - donkey, 362,595,1071
 - elephant, 362,686
 - horses, 362,648,669,1075
 - lion, 362
 - mule, 362
 - sheep, 363
 - Ewes, 1069
- Anne (Hunna) (*referred indirectly*) wife of Imran 1143,1091
- Ansar* - supporters of emigrants, 273
- Ant, 365,1072
- Anthropology (*A concept of*) (*Consult*; different -- chapters) 443,523 444,1043,589,590,473 ,
-- 443,432,378,564,540,541,520
- Anti-Islamic Campaign, 745,742,711,695,929
- Antioch (city in North Syria)-(*referred indirectly*), 1109
- Anxiety, (*Consult*; Depression)

Apostasy, 161

- mission of Jews and Christians to seduce for,
-- 695,711,742,745
- Provision of repentance, 319
- Punishment of rebellious, 162
- repetition of, 162,317,318
- Apostles (the twelve disciples), 1100
- Appealing Allah swt for help 124,123,122,119
-- 141,142,143,145,125
(*Consult*; supplications), 1116
- Appendixes of this book-*Consult*; from page 1129 onwards
- Aqsa - mosque, 626,1043
- Arabs (the nomad), 728
- Arafat, plan near Makkah (*Referred indirectly*) 290
- Arbitration, 576
- Archaeology, (*a concept of*) 437
- Archaeological remains of 437,943,935,969,1002,1136
 - A'ad, folk 935
 - Midianities, 1002
 - Sodom people, 969
 - Thamud, folk 943
- Argue
 - with sound facts while preaching, 634
 - not without sound knowledge, 441 -
 - not on behalf of those who deceive, 574
- Ark of;
 - covenant (*Tabut-i-Sakeena*), 924,1063
 - Noah (PBUH), 924,926
- Armory (*a concept of*) 1016,1071,1083,1137
- Arrogant disbelievers 203 (*Consult*; chiefs of...)
- Arrogates
 - due to progeny 425
 - due to wealth 425,1031,1112
 - due to worldly possessions 425,1031, 427, 1112
 - folk of A'ad-i-Irum 1114
 - folk of A'ad 929,933
 - folk of Thamud 936,938
 - historical perspective of 679
 - people of Korah 1031
 - people of Sheba 1115
 - ultimate fate of ,498,427,679,1031
- Articles of faith,
-- (*Consult*; fundamentals of), 97,99
- Arsenal (*a concept of*) 1016,1071,1083,1137
- Artificers (*Consult*; Pioneer artificers)
- Artistry (*Consult*; Pioneer artificers)
- Asabqoon-al-Awaloon* - foremost believers
-- (Pioneers of faith), 761
- Asalam-Alaykum* (*Consult*; salute and greeting), 444,447
- Ascension of the Holy Prophet, 688
- Ashab* (*Consult*; Companions of), 758
- Ashab-i-Sufa* (RAA) (*referred indirectly*) 761
- Aspects of earth, 325
- Assyrian capital Nineveh (*Consult*; Jonah PBUH) 1085
- Astronomy- *Consult*; secrets of the Universe 330
- Astronomy (*a concept of*) 330,331,329,1135
- Al-Suffa* (the first seat of Islamic learning) 761
- Asylum to
 - believing women;

Attunes hearts, 118
 Aware of all concealed and proclaimed, 106
 Aware of all deeds of mankind, 109
 Aware of tricks of eyes even, 111
 belongs to Him whatever in the Universe, 103
 Best Disposer of affairs, 126
 Best Names belong to him, 102
 Best of the planners, 126
 Causes to laugh and makes to weep, 119
 Circumvent the plots of sinners, 111
 Created the heavens and the earth, 321
 Creator and Originator of all, 103,321,366
 does not burden anyone beyond its scope, 674
 does what He intends, 105,368,369,370
 ever Living and Eternal, 104
 ever Vigilant and Watchful, 126
 execution of His command, 105
 Fine and Subtle, 110
 gathers daily at night-revives (awakens) in day, 117
 Gives life and Causes death, 115
 Gives wealth and sustenance, 119
 Grants wisdom to whom, as much, He wishes, 117
 Guides in the darkness, 123,124,140,141
 Has no son, 134
 Has no daughters, 136
 as no partners, 138,367
 Healer (Curer), 119
 Heavens and the earth and all the rein glorify Him, 102
 Helps whom He wills, 122,123,141,142
 His Colouring- Best of all, 105
 His Grip is exceedingly strong, 123,125,131,832
 His Help always came, 928,935,943,954,
 -- 970,1003,1037
 His Light will be perfected, 101,148
 His Mercy, none can withhold, 125
 His Names-Most beautiful, 102
 (Consult; appendixes pages 1129 onward)
 His Names-Noble and Finest, 102
 (Consult; appendixes pages 1129 onward)
 His onslaught is severe, 123,125,131,832
 His Promise is true, 132
 His Punishment becomes inevitable, 297,675,678,684
 His punishment is stern, 125
 His Respite to disbelievers, 941
 His Rope-cling firmly, 621
 His Words would not be exhausted, 101
 His Wrath always over took rejecters,
 -- 297,348,677,678,679,941,968,1001
 Hold sway over His slaves, 129
 if He blesses no one can deprive, 125
 if He forsake no one can support, 123, 124,125
 if He helps none can overcome, 125
 if He touches with misfortune, no one can relieve, 125
 if pleases He can replace you, with
 -- new generation, 129
 if He touches with a harm or good,
 -- None can remove-change, 125
 Imperceptible to human vision, 112
 Irresistible, 124,125,127,129,131,162
 Irresistibly Supreme over His bondmen, 129
 keeps count of all things, 109
 Knower of all secret counseling and hidden
 -- schemes, 106,111
 Knower of occult sciences, 108
 Knower of secret thoughts, 107
 Knower of transcendent realm-unseen, 108
 Knows feeling of conscience, 107
 Knows whispering of souls, 107
 Light of Heavens and Earth, 368
 Loses not the reward of good, 546
 -- More Swift in Planning, 126
 Most beautiful Names belong to Him, 102
 Most Compassionate, 101,121
 Most Forbearing, 120,121
 Most Generous, 119,121,128
 Most Gracious and Merciful, 101
 Most High and Great, 366,367
 Most Merciful, 101,119,120
 Most Trustworthy to His Words, 132
 Nearer to jugular vein of humankind, 111
 Neither Errs-nor Forgets, 125
 Never Cares to apostate, 131,162
 Never Deals (punish) unjustly, 674,677
 No leaf even drops without His knowledge, 110
 No power of vision grasp Him, 112
 No one can cause least harm to Him, 131
 No one can count His Graces and Blessings, 102
 No one can intercede without His permission, 127
 No one can plead anyone before Him
 -- without His permission, 127
 No one can reason His will, 105
 No one can compass His knowledge, 111
 No vision can grasp him, 112
 none can alter His Words, 124,125
 Nothing can afflict unless He prescribes, 124,125
 Nothing can frustrate His plan, 127
 Nothing in the Universe can escape,
 -- (elude) from Him, 124,125,127
 Nothing is hidden from Him, 106,107,108
 Oneness of, 99, 133
 Originates and Repeats creation, 143,321
 Owner of Great Bounty, 101,102,119
 Owner of High ranks and Degrees, 366,367
 Protector, 140,141,142,143
 Provides provision without measure, 388
 Quick in retribution but forgiving & merciful, 123
 Reliever-Deliverer, 140,141,142,143
 Rescuer-Saver, 140,141,142,143
 Salvator, 140,141,142,143
 True to His promises and Assurances, 132
 Witness over everything, 107,108,109,111
 Allegories in Qur'an, (Consult; Appendixes), 1141
 Alliance of Madinah, 706
 Alliances, 494,585,663,665
Alliance - intimacy
 -- (Consult; becoming intimate) with believer 770
 due care while preferring friend 415,385,484,187
 hypocrite 659,751
 wranglers 465

Shu'aib (PBUH) Jethro 1003
Adjurations as referred in Qur'an

all that one can not see 1134
all that one can see 1134
Almighty (SWT) of Himself 1132
Angles 1132
boats 1132
clouds 1132
dawn 1133
day 1133
earth 1132, 1134
even & odds 1134
father & child 1133
fig 1134
frequented home 1133
furious winds 1132
heavens 1132
Holy Qur'an 1132
life of prophet (SAAS) 1132
Makkah clay 1134
mansions of stars 1134
morn 1133
morning light 1134
mount of Tu'r 1133
mount Sinai 1134
night 1133
nights of month of Zul-Hajj 1334
ocean 1134
olive 1134
pen 1133
piercing bright star 1134
record which men write 1133
resurrection 1133
ruddy glow of sun set 1133
self accusing soul 1133
soul 1133
sound 1133
stars 1133
sun 1134
swelling ocean 1133
time-through ages 1134
Adn-paradise, 867
Adopted children, 518
Adoration,
Adultery, 536
preventive measures of, 541, 543
evidence to establish charge, 568
punishment of, 536
punishment of false accusation, 525, 537
Advantage and Harm (only with Allah SWT) 145
Adversity (Consult; misfortune), 301, 393, 520
Advising for good, 466, 472
Advocacy - Pleading for;
betrayer 574
crime indulger 574
righteous 574
traitor 574
wicked 574

Aeronautics (a concept of) 364, 1137
Aggression, 466, 556, 558, 663
Agony (Consult; Chastisement-ultimate fate of disbelievers)
Agreement (mutual transaction deeds), 494, 585, 663, 665
Agriculture (a concept of) 328-1137
Ahle-bait (family of Prophet), 188
commands of reverence, 188
punishment of reviling or disregarding of, 189
Ahmed, 164
Ahqaf (country of winding crooked tracts), 930
Ahzab-battle of Confederates, 709
Aids (HIV Virus), 539
preventive measures (in Islam), 539
adultery-prohibited,
fornication-prohibited, 541
gayness - prohibited, 539
homosexuality-prohibited, 539, 592
prostitution-prohibited, 540, 581, 584
sodomy - prohibited, 539, 962
Aim of creation of mankind, 403, 405
Aitakaf (Consult; Retreat in mosques), 264
Al-halalah, (undesirable condition for reunion
-- After final divorce) 528
Al-Mustafa, 165
Alcoholic beverages, 506
Alexander (Consult; Dhul-Qarnayn), (referred indirectly) 1082
Al-Hamd-u-Lillah-saying of, 469
Ali-Al-Murtaza Ibn-Abi Talib (RAA), (referred indirectly) 760
Al-ifk an incident of misconception, 708
Al-kausar, a legendary fountain, 165
Al-Khula-Right of divorce of wife from husband, 529
All Messengers preached to their folk;
Astagh'far (asking forgiveness from Allah SWT) 911,
-- 996, 1052, 927
Monotheism 917, 930, 936, 947, 984
Shukr (thankfulness to Allah SWT) 948, 936, 930, 995
Sabr (Patience-Forbearance-Steadfastness) 956, 972,
-- 980, 916, 1032, 1059
Taqwa (fearing from Allah's SWT Annoyance)
-- 919, 931, 937, 963, 999
Ta'uba (beseeching Repentance from Allah SWT)
-- 933, 919, 1050, 937, 1001
Tawakkal (putting Trust in Allah SWT)
-- 305, 303, 976, 980, 992
All Messengers proclaimed themselves
-- to be a Muslim (Believer) 93, 945
All Messengers appealed Allah (SWT) for Help
-- 955, 996, 964, 1010, 1009, 927, 922, 1085, 1116
All Messengers reproached Idolatry 1066, 1041, 917
Allah (SWT) Attributes
innumerable (infinite) 101
Able to do all things, 370
Accepts repentance and forgives, 123, 141, 142
all creations of Universe celebrates His
-- Glory, 103, 112
all Praise, Glory and Thanks be to Him, 101
all Wise, 106, 109, 111
attaches no importance to disbeliever, 162

ALPHABETICAL INDEX

A

- A'ad-(the tribe of), 929
 archeological remains 934
 builders of land marks 929
 challenged to Prophet 932
 chastisement on 933
 endowed with intellect 929
 materialist & powerful nation 929
 scoffing and false arguing 931
- A'ad Irum (Erum) 1114
- A'ad-Uola-former tribe of (*Consult; Hud*), 936
- Aaron (PBUH), 1056
- Aasea (Pharaoh's wife), (*referred indirectly*) 545, 1006
- A'aisha (RAA) (*referred indirectly*) 708
- Abdullah (chosen slaves of Allah SWT), 763, 605
- Abad-ur-Rehman (servant of Allah SWT), 763, 834
- Abdullah Ibn-Umm-i-Maktum, (*referred indirectly*) 690
- Abel (Habil), 915
- Abetment of crime 575
- Ablution-(Wudhu), 251
- Ablution without water (*Consult; Tayammum*), 252
- Abomination ... Acts of, 483, 541, 962
- Abortion**
 forced of pregnancy, 538, 561
 natural 400
- Abraham** (PBUH), 944
 neither a Jew nor a Christian, 945
 surrendered to the will of Allah (SWT) 946
 quest of truth, 945
 stages of enlightenment, 945
 questioning about resurrection, 953
 proclamation of monotheism, 946
 reasoning with his contemporaries, 945
 preaching to azure and his people, 946
 false arguing of disbeliever with, 947, 949
 renounced his home people and country, 950
 above board plan against idols, 951
 confrontation with nimrod, 953
 thrown into blazing furnace, 954
 fire became cool and mean of safety, 954
 migration to Syria, 954
 invoked for progeny, 955
 birth of Ishmael, 955
 settled his wife and son in Makkah, 955
 prayer for prosperity of city and people, 959
 trial of Abraham (PBUH) 956
 vision to offer sacrifice, 956
 fulfilled command of his dream, 95
 wife Sara waiting for child birth, 95
 glad tiding of birth of son by angels, 95
 Sarah clamored on the news, 95
 birth of Isaac (PBUH) from Sarah, 958
- ancestor (father) of line of Semitic prophecy, 94
 fountainhead of prophets, 960
 prayer for Muhammad's (SAAS) ministry 961
 pleading for lot (PBUH) people, 965
 proclaiming pilgrimage, 287, 961
 raising foundations of ka'ba, 961
 sanctifying ka'ba, 961
 station of Abraham (PBUH) 290, 961
 supplication of, 959
 his book (scripture) of, 946
 his guests, 957
 religion of, 960
 salam (peace) be upon, 957
 an example o follow, 950
- Abrah-Ashram (Governor of Yemen), (*Referred indirectly*) 686
- Abstention from wife (Eila), 524
- Abu Lahab (father of flame), 187
- Abu-Bakar Siddique (RAA), (*referred indirectly*) 693, 759
- Abyssinia-migration to, (*referred indirectly*) 688
- Ascension (Mi'raj) of Prophet Muhammad (SAAS), 688
- Accusations (*Consult; false accusations-refutations*)
- Accusing false, 525, 537
- Acts prohibited 502, 562, 473, 502, 595, 505, 5513, 565, 566
- Adam** (PBUH), 906
 creation of, 906
 viceroy on earth, 906
 excellence over angels, 907
 angels ordered to bow down, 907
 refusal of Iblis, 908
 Adam and Hawwa allowed to dwell in Gardens, 909
 forbidden to approach the tree, 909
 forewarned against enmity of Satan, 910
 both tempted to Satan's delusion, 910
 both misled and wronged by tasting of
 -- forbidden tree, 909, 910
 expulsion of both from Gardens, 911
 getting down on earth to dwell, 911
 bestowed raiment, 911
 repenting of both asking pardon, 911
 relenting of Allah (SWT), 911
- Adam's offspring, 915
 two sons (Habil and Qabil), 253, 915
- Adhaan-call for prayer, 256
- Adherents**
 -- (believers/followers/companions) of; 758
 Abraham (PBUH) 954
 Hud (PBUH) Haber 935
 Lot (PBUH) 970
 Moses (PBUH) 1037-1042
 Noah (PBUH) 928
 People of cave 1107
 Salih (PBUH) Methuselah 943

Symbols Denoting Pauses During Recitation of Holy Qur'an

It is desirable to continue, without pause.

ز ص ق صلى

Surah Number	Ayats Number	Extract From Ayats	Symbol
18	24	إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَذِكْرُ رَبِّكَ	ز
19	17	حَجَابًا فَاسْأَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا	ص
18	4/5	قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ مَا لَهُمْ بِهِ	ق
18	13/14	وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۖ وَرَبِّطْنَا	صلى

It is sign of long sakta (سكة) but must not , break (سكة) long.

Surah Number	Ayats Number	Extract From Ayats	Symbol
2	285	وَمَلَائِكَتِهِمْ وَكَتَبْنَا لَهُمُ الْكُتُبَ	قف

Sign is optional and option to pause or to continue

ج

Surah Number	Ayats Number	Extract From Ayats	Symbol
18	27	رَبِّكَ إِلَّا مَبْدَلًا لِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كُنَّ	ج

Compulsory stop like (,) comma in English to comprehend true meaning..

Surah Number	Ayats Number	Extract From Ayats	Symbol
19	16	وَإِذْ كُفِيَ الْكُتُبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَهَتْ	م

Full stop as the Kalma finishes the subject ط

Surah Number	Ayats Number	Extract From Ayats	Symbol
18	8	عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا	ط

It is the of stopping vocal sound for a moment, without breaking the breath. نس سكته وقفه

Surah Number	Ayats Number	Extract From Ayats	Symbol
2	286	وَأَعْفُ عَنَّا ۖ وَاعْفِرْ لَنَا ۖ وَارْحَمْنَا ۖ إِنَّتَ	وقفة
83	14	كَلَابِلٍ سَكَنَ	سكته

Should continue Tilawat without pause لا

Surah Number	Ayats Number	Extract From Ayats	Symbol
20	14	فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝	لا

Index of Symbols Denoting Pauses During Recitation of Holy Qur'an

If there be a Harkat (ـَـ) or Tanween of Zer or Pesh (Kasra or Dhamma) on the last letter of a word before a stop, that letter is made a Saakin. Examples:-

يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ

And if it be a Tanween of a Zabar (Fat'ha) then the last word is pronounced an Alif. Example:

أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا

If the last letter be a round Taa (ة) when stopping it is read as Haa (ة). Example

جَنَّةً جَنَّةً

2. A Waqf is only correct if breath is taken before reading the following word. To read the last letter as Saakin and not to renew the breath is incorrect.

3. If there is a Saakin letter after a Tanween, then the Noon (ن) of the Tanween should be given a Zer (Kasra) and joined with the following Saakin letter when it is decided not to stop. Example"

لَمْرَةً أَلِدِي لَمْرَةً أَلِدِي

4. When a Waqf (Stop) is desired in the above case the Noon of the Tanween (Noon e Qutni) should not be pronounced when beginning the following word. Example

لَمْرَةً أَلِدِي

Grams:KRLABS



GOVERNMENT OF PAKISTAN
DR. A. Q. KHAN RESEARCH LABORATORIES KAHUTA

P.O.BOX NO. 502, RAWALPINDI (PAKISTAN)


Phone:(051) 9280133
Fax :(051) 452487
Telex:5584 PUFCO-PK

Ref. No. KRL-STCD-SSH/PD

DR. A. Q. KHAN

HI, NI

President, Pakistan Academy of Sciences
Project Director

My dear Malik 

I am pleased to receive a copy of remarkable achievement, "Quranic Prism". While going through the said book, I was highly moved to see the quality of in-depth research work carried out by you in compiling and arranging the holy verses of the Qur'an by virtue of their respective subjects.

Throughout the inception of Islam, the word of God, Quran-e-Hakeem, has forcefully remained alive to the changing trends in the human society and its interpretations in successive times have always been found not only pertinent to the respective times but as the logical answer to man's worries and miseries. This invariably demands that this eternal message from God be made easier for the common man, enabling him a frequent and free access to it. "Quranic Prism" is a commendable effort in the right direction. One is fascinated by the quality of work that you have carried out, not only preserving the comprehensives and completeness of Quran-e-Hakeem in its natural form but also presenting it in a scientific manner of an index reference book. The Divine scripture, thus has been tailor-made, making it possible for the common reader of Quran to know promptly what injunctions God has given concerning the problems being faced in everyday life. It certainly was a laborious task, which you successfully accomplished.

But then you come from that breed of intellectuals to whom Qur'an refers to as "men of wisdom"; those who ponder, those who concentrate and it is this curiosity to know, the quest to explore and the motivation to comprehend that led mankind to unravel the mysteries of time and so progress saw the light of the day. Not only do you deserve appreciation for your singular achievement; your compilation may also be rightfully considered as a valuable contribution to glowing legacy of Tafaseer-e-Qurani. May Allah(SWT) bestow His blessings on you and grant you the strength to carry on with your noble mission of disseminating the eternal message of Islam.

Yours

(Dr. A. Q. Khan)

HI NI

Mr. Abdul Hakeem Malik

9, Rahimabad, Punjnad Road,
MUZAFFARGARH - 34200

حکیم محمد سعید

HAKIM MOHAMMED SAID

HAMDARD HOUSE
KARACHI - 74800
(PAKISTAN)



Karachi clinic: Office: 6616001-4, Residence: 4914851
Telex: 29370 HAMD PK, Telefax: (9221) 6611755
Madinat al-Hikmah: 6996001-2, 6900000
Lahore: Clinic 7237729
Rawalpindi: Clinic 566716
Peshawar: Clinic 274186
E-Mail: hlpak@paknet3.ptc.pk.

Lying before my eyes is Abdul Hakeem Malik's "Quranic Prism" which is a trilingual Index of Quranic themes. Among the compilations coming to public view, this book is one that has given me pleasure as well as surprise. It is a matter of pleasure because in consequence of the compiler's effort and industry, his quest and curiosity, his resolution and steadfastness, there has come into existence a book that has eliminated manifold difficulties in the way of understanding the Holy Quran, and we have got in our hand animating source for the intelligent study of the Holy Book. It is also surprising because it has shown to us how in this decadent age of indifference to knowledge and apathy to education, a man who has a will to seek Allah's guidance, sustains, with serenity and steadfastness, his profound interest in Quranic study and learning, and arriving at inferences, presents his findings in the form of compilation and composition and thus accomplishes a wonderfully commendable feat of disseminating knowledge.

On examining the "Quranic Prism" we are convinced that the spirit of enquiry is inextinguishable and fascinating examples of thought and reflection are coming forth and will continue coming in future.

The "Quranic Prism" may be briefly introduced as a book in which are arranged in different chapters under respective headings the fundamental beliefs, the Attributes and Monotheism, Prophethood, the Hereafter, Reward and Punishment reasoning, Warning, Admonition, Human Rights, Commandments for worship, Injunctions and Inhibitions, social Guidance, Moral code, Principles, and Philosophy of life, Narratives of the bygone nations, biographies of Holy Prophets, tradition of Holy Prophet (SAAS) battle fields of Holy prophet and Quranic Supplications have also been arranged under different headings, which indicates that the Quranic Index is not one book but a collection of many books.

Though there may not be thematic innovation in the "Prism", yet in its scope, completeness and comprehensiveness, this book has risen above the Quranic Index to the height of a Quranic concordance (Lexicon).

The greatest merit of the book is that in the determination of chapters and headings, the compiler has eschewed all controversial points of "Fiqh" and "Maslak", and has brilliantly highlighted the fundamental teachings of Islam.

The "Quranic Prism" is a specimen of not only insight and inquiry but also of devout spirit, sincerity of purpose, loftiness of thinking as well as a manifestation of the earnest desire that we should make the Quran and its teaching the source of enlightenment throughout our life.

The juxtaposition of Urdu and English Translation along with the Quranic Text has added to the usefulness of this Index still further, and has raised it to such a distinction that we can rightly call it an International Index of the Holy Quran.

May Allah(SWT) bless the compiler. (Aamin)

(Translation of Original letter in Urdu)

(Hakim Muhammad Saeed)

With the change in circumstances, and with the happening of new events and incidents, the methods of the exegesis and annotators have always been changing. But men of knowledge and insight have not been heedless for a single moment. They have written books with such titles as "difficulties in the Quran" for the exposition of compact and complex verses. Books were also written on Eloquence in the Quran. Then the points of inter-relationship between verses were elucidated and compiled to elucidate Quranic vocabulary. Voluminous works were brought out illustrating the injunctions in the verses. Narratives, similitudes and miracles of the Qur'an were made the topics of discussion. With the advent of the age of science, the proof of scientific inventions and creations was adduced from the Qur'an, and it was explained how the scientific inventions were serving as substantive arguments in favour of many claims of the Qur'an that were not acceptable to rationalistic brains.

Going a step further, men of learning started compiling dictionaries, glossaries and Indexes of the words and meanings of the Holy Qur'an. This work was of not small importance, for it facilitated material to those who want to pick out any of the numerous issues in the Quran as the topic of their research and learned dissertation.

A similar effort has, by the Grace of Allah (SWT), been made by Abdul Hakeem Malik, who has compiled an index of the Holy Quran, with its title as the "Quranic Prism."

The Qur'an is interspersed with the same theme at various places, and it is difficult for a person to discover, for example, in which different parts, Surahs and Verses, several injunctions about the prohibition of intoxicants are given.

Abdul Hakeem Malik has solved this difficulty. He has assembled different Quranic verses related to one topic, bringing them all at one place under one main heading. For example, eight verses about "Interest" appear in four different Surahs. In this Index all these verses have been brought together under the same head. With this system of captioned arrangement of the verses, a reader is satisfied that all the Quranic verses about a particular topic have been given in this index at one place under one head, and he does not bother whether there can be any other verse in Quran about the same topic.

Another credible feature of this index is that not only the references to all the verses about single topics (e.g. Intoxicants, Retribution, Witness etc.) have been given under main heading, but also the Arabic text of the respective verses has also been carefully transcribed with full reference to Part, chapter and verse. Not only this; the Urdu and English versions have also been juxtaposed. This inclusion of the bilingual versions along with the original Arabic text has made this index still more useful for a researcher; a writer and compiler, and understanding of the Qur'an has become far more convenient for the common reader.

The "Quranic Prism" compiled and edited by Abdul Hakeem Malik is indeed, a work of very great value for those interested in the knowledge of the Qur'an, and it can be asserted without fear of contradiction, that to the work that has been so far done in this field, the "Quranic Prism" is a highly valuable contribution.

May Allah(SWT) accept his devotional labour and reward him with His boundless Blessings Aamin

Dr. Mian Muhammad Siddiqui

Ex-Dean

Faculty of Al-Quran and Al-Hadith - Islamic Research Center
International Islamic University-Faisal Mosque-Islamabad (Pakistan)

Research Adviser, Faculty of Arabic and Islamic Studies,
Allama Iqbal Open University, Islamabad

INTRODUCTION

Every Muslim believes that Islam is a comprehensive and complete code of life for the human race. But in spite of these strong beliefs, most of us do not have an approach to the real and original fountain head of Islam—the Holy Qur'an, Reading, reciting and learning the Qur'an by heart are not the ways of a real approach to it. By approach I mean that we should understand what the Qur'an says to us, what message it conveys to us, and what demand it makes from us. We must understand all these things. Unless we understand them, we have no right to say that we have got approach to the Qur'an, or that we have grasped its spirit. Apart from this learning approach, it is not possible to practice Islam unless we understand the aims, ideas and the message of this Holy Book.

The Qur'an is not like other books that are the product of human thought and effort, it is radically different from all of them. These books are divided, for the convenience of the readers, into a few chapters, which are further divided into a large number of sub-headings. One chapter, short or long, comprises only one topic, the central point of discussion is the same, and all arguments revolve around it. But the Quran is not a book of this type. It is a unique book of its kind—unique in respect of both theme and subject, and sequence of topics. I would rather say, that with all its Arabic language, it is entirely distinct from all other Arabic compositions in diction, tone and style. If the Qur'an is compared with contemporary Arabic literature, we will discover little similarity between the two with regard to tone and style.

The period of Quran's revelation extends to about 23 years. There were times when a complete surah was revealed, at other times a few verses or only a single verse came down. Injunctions came down, as the situation demanded. The revelations of the Quran are like the instructions of a teacher of the occasion, one thing was commanded, and another was prohibited. In such matter there is not the logical order that consists in ordinary books. Hazrat Muhammad (SAAS), the last of Prophets was sent as a guide and teacher for all humanity, for all times to come. So is the Book revealed to him a fountain - head of instruction and guidance for all mankind, forever. Again, as Allah (SWT) made the Holy Prophet (SAAS) an embodiment of the virtues and accomplishments in knowledge and character, of all prophet taken together, similarly the Book revealed to him was made an epitome and essence of all the Divine knowledge, and perfected into a complete code of life so that the people of all times may receive guidance from it in all their worldly and religious affairs.

Revolutions, upheavals, may transform the world, nations may transplant each other, customs and traditions may alter, new needs and demands may arise, but at no stage will there be a situation in which man fails to receive guidance from this Book. This Perspicuous Book itself has proclaimed, (we have omitted nothing from this book). The bearer of the Qur'an has remarked about it; it is the Book of Allah (SWT); it is not a sport and a pastime; it is the arbiter for all disputes among you; it has the authority of clear law. Whosoever seeks guidance from any other source than this book, will go astray from the right path. The mysteries, marvels and wisdom enshrined in it are inexhaustible.

Hazrat Umar (May Allah be pleased with him) has remarked about it, "Many a nation in the world will be ascendant by practicing this book, while many others will be debased for neglecting it."

History bears witness that the nations and the people who followed the teachings of the Qur'an, were triumphant in every sphere, and, according to Allah's promise, are also entitled to the blessings of the world hereafter.

What we are to consider now, is how a common man can avail himself of this Book of guidance, the fountain-head of knowledge and wisdom; how a man who is not well-versed in its language can understand its meaning and message. The Muslim scholars have never failed to solve this problem. The work of explanation and exposition of this Book that started during the days of the Holy Prophet (SAAS) is still continued.

Allah (SWT) gets any work from anyone He wills, and Himself provides the requisite means and encouragement. Like wise happened with me. Allah (SWT) blessed me with His special Grace to compile this book. I believe that all this is the reward of the heartfelt prayers of my most loving and venerable mother.

I am confident that men of moderate education who are not well-versed in Arabic, and who cannot benefit themselves easily from the vast treasure of Quranic Sciences, will Insha-Allah acquire a very good, though not scholarly, understanding of the Qur'an with the help of "Quranic Prism". As for men of learning and wisdom (who have got command over the Arabic Language and religious subjects) the treasures of Quranic literature are available in abundance.

The objective that I have kept in mind throughout to compilation of this index, is that a common reader of the Holy Qur'an may, along with its recitation for Allah's Grace and Blessing, come to know promptly, what injunctions Allah (SWT) has given concerning the problems being faced in everyday life, and may see whether a particular action is permitted or prohibited; if a deed has been enjoined, what is its reward; if it is prohibited, what is its cause and what is its ultimate fate. Moreover, one may also see how many times a particular commandment of Allah about one action has been repeated, so that one may be fully aware of its importance and significance. Although the Divine injunctions are quite manifest, yet the reader, if he is curious to go into details can reinforce himself by consulting the explications and annotations of scholars of his own school of thought.

It is not possible to compile a comprehensive cyclopedic Index of the Holy Quran from semantic and literary aspects because, being a word of Allah each of its verse, is instinct with such a variety of treasures of instruction and information that no one can glean them single-handed. The Holy Qur'an is an unfathomable sea, every time you re-read a verse, you find a New World of meanings issuing forth from it.

In this "Quranic Prism" I have added nothing of my own, nor is there a discussion on any topic. I have just collected and arranged Verses under different headings according to subject matter by adopting hallmarks of the authority out of the standard exegesis and commentaries.

I do not have any claim that this "QURANIC PRISM" is the first attempt in connection with the Quranic index because, during the last 1400 years, the Qur'an has been published on such a wide scale, and such a stupendous amount of work has been accomplished on it, as has never been done on any other book of the world. This process is still continued in the hands of men of learning and action, and will continue till Doms-day. Already some subject-Wise indexes consisting of selected verses have been published. But I with due humbleness dare to say that this "QURANIC PRISM" is unique in its kind, up till now that it is for the first time that the 6236 Quranic Verses of complete 30 parahs (parts), 114 Surahs (chapters) of the Holy Qur'an with certified Arabic Text and standard translation in English and Urdu have been juxtaposed under thousands of main topics, with sub headings and cross references.

As to the title of the book "QURANIC PRISM" the word "PRISM" has been used in its triple signification-scientific structural and literal. Scientifically, it signifies the function of the Prism, that in its crystal clear shape reflects the subject matter of the Qur'an, clearly and distinctly like all the colours of a rainbow. Structurally, the Prism symbolizes the trilingual character of the compilation (Arabic, Urdu and English). Literally the word "Prism" when translated into Urdu Arabic, means "Manifesto" therefore, it shows that the subjects of the Qur'an are the manifesto of Islam.

It would be a great source of satisfaction for me if this humble effort of mine proves helpful to people in understanding the Qur'an. If only one person succeeds in seeking guidance from this index on a single issue, it will be my good fortune that my labour has not gone in vain. May Allah (SWT) with His special grace bless this work as a means of my salvation in the Hereafter. The "QUR'ANIC PRISM" by the Grace of Allah will prove to be equally useful for the Readers of all Classes-Ruling, Elite, Research Scholars, Lawyers, Speakers, Scientists, Technocrats, Intellectuals, Businessmen, Organs of State (i.e Administration, Legislature, Judges, and Armed forces), Teachers, advance Students of comparative study of religions and Competitive exams, and learners of Holy Quran as well. This unique compendium will work as ready reference book in all the Libraries of Schools, Colleges, Universities, religious Institutions and also at home for whole family including ladies and children. Every endeavour has been made, as far as humanly possible to avoid any error in this book, but inspite of all possible care, there is likelihood of errors, left made inadvertently. A Muslim can never think of making any intentional mistake, but to err is human; during the process of publication despite every precaution, there is possibility or some diacritical mistakes creeping in, and if so, it should be pardoned. May Allah forgive us, all our sins. If a reader finds any mistake, he should kindly inform the compiler at the earliest so that it may be rectified in the next edition.

Every care has been taken to keep this "PRISM" free from all sectarian differences, yet if any reader finds anything objectionable from his point of view, it may kindly be condoned, for the compiler, has done his best to keep all contentious issues out of this book.

(Our Lord!) Accept from us this service, for You are the All hearing, the All knowing.

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

A Humble Servant of Allah(SWT)
and Suppliant of His Mercy;

Abdul Hakeem Malik

MUZAFFAR GARH (PAKISTAN).
February; 17, 1996-AD
Saturday, 27th Ramdhan-ul-Mubarak 1416-AH

PREAMBLE

First Edition

It is an established fact that Islam is the only religion that offers a complete code of life, and its fundamental manifesto is the Holy Quran. The Quran is The Final Message of Allah to humanity, that was revealed to the last of Prophets, Muhammad (SAAS) through the Arch angel (SWT), Gabriel. The text of the Holy Qur'an enfolds all the problems of this world and the Hereafter, and it enshrines all the rules and regulations for our guidance and instruction. There is nothing in it that is against reason and nothing that is impracticable. The Qur'an is instinct with maxims of wisdom. That everything is true and eternal, and beyond all doubts and suspicion; the promises held out in it are sure and certain; and the instructions imparted through it are true and beyond any question. It calls upon the people to try the varieties it holds up, for practice. History bears witness to the fact that nations have attained heights of glory in all spheres of their life, in morals, manners, politics, economy, art-sciences, and in other modes of life, by acting upon the teachings of the Holy Qur'an.

A dominant feature of the Holy Qur'an is its comprehensiveness and completeness. Such distinction has never been vouchsafed to any other scripture. No other Divine Scripture furnishes such elaborate details concerning worldly life, death, Purgatory and Resurrection.

Although 1400 years have elapsed, yet its ideas appear quite modern, for instance, it gives out the concept of equality of individuals and nations, sanctity of human life, fundamental human rights, law of inheritance for women, emancipation of slaves etc. The Qur'an offers equal guidance to an illiterate person of a backward society, as well as to the most educated gentleman of an advanced nation. It bears testimony to all the former revealed scriptures and historical events of nations. It gives information not only about the past and the present but also prognosticates the future, for instance, the prophecy about the victory of Rome came true within a span of only 9 years. Rather than being idealistic, the Holy Quran persuades to think, meditate and act.

The Qur'an is the only revealed book that in spite of the passage of 1400 years, is free from any tampering. Innumerable editions of the Holy Qur'an are available all over the Globe, but one cannot trace the difference of a single dot or any diacritical mark in anyone of them, (to say nothing of a word or a phrase).

It is not possible to avail oneself satisfactorily of any piece of religious literature without thoughtful study of the Holy Qur'an. There is Allah's grace in its words, peace of mind in its recitation, education and guidance in its meaning and glorious success in practicing its teachings. The Holy Qur'an is the fountainhead of guidance and instruction for all mankind. Allah (SWT) has said repeatedly; in chapter Qamar, **ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر**, "And in truth We have made, the Quran easy to remember, but is there any, that may receive admonition?"

Under these circumstances, why should we not make the Holy Qur'an the pivot of all our study and attention, so that our philosophy of life may be purely Quranic, and we may be able to eradicate, the insidious evils, that are eating away our society like cancer? The Qur'an provides us truthful principles for which everyone is curious so that, by acting upon them, one may attain success in this world and in the Hereafter.

The revelation of the Qur'an was accomplished in about 23 years, during which time the Divine injunctions came down as the exigencies of the situations demanded. This is why if a subject is broached in the earlier chapters, it can be found mentioned again in the middle chapter or in last ones. Therefore, it is not an easy task to find out a quick reference to a subject upon which one wishes to know the Divine injunctions. In most cases it would be almost impossible to do so without the cooperation of a religious scholar or Hafiz-i-Qur'an. (Memorizer of Qur'an in the computers like manner).

In the prevailing times human intellect has created new means and ways of research and has made the solution of many difficult problems quite easy, e.g. Bare Acts of penal and civil code, law Journals of judicial judgements, ready reckoners in technical field, and periodicals in different sciences are available today to find a reference according to need at a glance. So during my study of law in 1975, I was prompted to prepare a reference book of Quranic subjects, and soon I was determined that, by the Grace of Allah I would compile an index of the Holy Qur'an, under separate headings with reference to Surah, and verse, so that any subject of the Holy Qur'an may be traced at a glance, and quick guidance may be sought with regard to the problems of daily life and of the Hereafter.

During my stay at the enlightening, inspiring and faith-strengthening environment of the Holy Land, of Saudi Arabia, (Hermain Sharifain) Allah (SWT) showered upon me His infinite Grace and Mercy and in 1978, and provided me with an opportunity to begin this blessed work. According to my understanding I began to take down, during my daily recitation, the verses of Holy Qur'an from standard translation under different topics. In this way after a good long time, a manuscript of five volumes on the code of life got compiled.

It is a fact that no research work is so easy as it appears before it is started. The same was the case with me, I never imagined that the compilation of Quranic subject Concordance would extend over a long period of my life. But the Mercy and Graciousness of Allah at last completed such a colossal task.

I am painfully conscious of my educational and practical shortcomings, but I have taken heart to do this work just to earn the blessings of Almighty Allah. (SWT)

I cannot yet lay claim to the understanding of even the opening Surah (chapter) of the Qur'an, but

FOREWORD

Second Edition

All-Hamd-u-Lillah (All Praise be to Allah SWT).

The opportunity of dialogues with Muslim Scholars and observing the zeal of propagation of Islam in the United States of America, Canada and United Kingdom inspired me to enhance the scope of this index in accordance with the need of the time. So the revised and enhanced edition of "Qur'anic Prism" replete with many distinctive features, resulting increase of volume from 776 to 1280 Pages, as an outcome of consecutive three years labour of love is in your hands.

A lot more chapters have also been added in this edition such as:

1. Reverence of Prophet (SAAS) (Namoos-I-Risalat)
2. Finality of Prophethood by Muhammad (SAAS) (Khatam-I-Nabuwet)
3. Family of Holy Prophet (SAAS) (Ahl-e-Beit)
4. Companions of Holy Prophets (As'habah Karam RAA)

During the last century Urdu and English linguistics made a remarkable advancement but due share to the religious works, i.e. translation of meanings of Holy Qur'an could not be afforded. So to bring this volume inline with the requirement of present age and to facilitate a common reader, it was taken fancy to substitute the entire ancient, obsolete and magniloquent (Biblical and Latin) vocabulary with the simple, lucid and contemporary words. But to maintain the translation quite close to the meaning of the Qur'anic text, by consulting different authentic translations of eminent Muslim Scholars and explicators and picking up the flowers of suitable fragrance out of these bouquets. However no word of my own has been incorporated in light of the sublimity of the message.

No doubt that the brevity has always been the beauty of expressions in every language. Therefore detailed headings of "Qur'anic Prism" may seem verbose to the scholars but this has been done willfully to convey the essence of the message with an aroma of its exegesis. It will invoke an urge in every reader to divert to explication of Holy Qur'an for further comprehension.

For facilitate the research minded people, events and injunctions have been provided with the year of Hijrah and of Christ (AH, AD) of their occurrence and promulgation. (Although there exist some differences of opinions in particular months, days and dates).

It is my firm belief that up till the last day, the predictions since made in the Holy Qur'an will become manifest in all advancement of knowledge and scientific research, one by one at appropriate times (Qura'nic Verse 41:53). Therefore the scientific wisdom unfolded to date which have foreshadows in the Holy Qur'an, have been encompassed within the subjects and headings to the utmost extent, to strengthen the bond between human intellect and Qur'an. It will also be a source of invitation to the secular scientists to enter into the fold of Islam and believing the Holy Qur'an as final divine writ.

As many of Qur'anic verses are analogical while some are repeated statements in manifold forms (Qur'anic Verse; 39:23). All these could have been titled under different subjects time and again. But their repetition has been reduced to the possible extent to avoid the Prism to become voluminous. Instead the references of such verses have been quoted at the end of the subject. Even then if reader feels some difficulty, the particular verse can be located in the "Search Table" specially designed for the purpose. It may be quoted that either production of Qur'anic text or its simple reference for consultation holds similar merit.

At present English language stands in need of the precepts and values of Islam which only the Qur'anic language can provide constant use of Arabic term will help, shield the English speaking Muslims from the on-slaughter of Materialism, utilitarianism, skepticism, and Hinduism, that in the last two hundred years have become firmly established in English consciousness, some of the Arabic words can not be translated accurately such as Salat, Zakat, Saum and Hajj ect. Therefore to give a full understanding of these words for English reader a brief explanation for each has been given at their first occurrence in the chapter.

Where specific names are not mentioned in Holy Qur'an, there is much controversy on the subject, regarding the exact meanings to be attached to the incident and the persons alluded to. Although such research does not fall within the preview of indexing, yet the most probable names of the persons and places have been used in this Prism just to enhance the comprehension facility of the readers. However this fact cannot be denied that no interpretation can be taken final in absence of a clear and authenticated Hadith (Tradition) of Holy Prophet (SAAS)

In English translations, following has been used as suffix in token of reverence.

SWT (Subhana-hu-wa -Ta'aala) for Allah

SAAS (Sallala-ho-allayhi-wasalum) for Holy Prophet Muhammad

PBUH (Peace be upon Him) as (Allayhi Assalam) for all the Prophets and Messengers.

RAA (Razi-Allah ho Ta'lla ann hu) for all the companions of Holy Prophet.

Word "Khuda" commonly used in Urdu Translations for Almighty God has been replaced with Allah (SWT) being more comprehensive and appropriate.

English, Urdu and Arabic have been recomposed on computer and Qur'anic text (Ayat) has been fed through scanning to have more conspicuous print. Format of the page as well as headings and subheadings of the Prism has been changed altogether to give more prominence.

It is often observed that every author or compiler who accomplishes the work today, always says tomorrow; that it would have been more suitable to replace such idea with another, more appropriate to add such chapters, more effective to change the sequence of subjects and more befitting to delete such substance and so on. This situation is perplexing and it confirms that "To err is but human". Let me acknowledge that I do not claim infallibility in my work, and say that it cannot be improved.

Reading good books certainly changes lives, I beseech Allah (SWT) that "QURANIC PRISM" through its gentle Divine Message may help the readers to find the authentic way of life (i.e. joyful surrender to the Will of Allah), for which mankind was born to live.

Muzaffargarh

16th April, 2000 AD-Sunday, 10th Muharam-ul-Haram 1421 AH

Complier

PREFACE

Third Edition

The present edition is an outcome of exhaustive revision and further improvement over the previous one. Access through chapters, headings, subheadings, cross-references, appendixes and alphabetical indexes has been enhanced manifold, by using rapid search and analysis techniques, resulting voluminous increase of this edition.

The growing interest manifested to comparative study of religions, calls us to place before the non-Muslim World, the Doctrines of Muslim faith in a systematic way for better understanding of Islam. The present work is intended to provide a concise account of our Religion in an Index form; in which "Salient features of Islam" have been focused with a new vista to provide the reader, a rapid access on requisite point to enable one to make comparative analysis of other Faiths and Dogmas.

Special emphasis has been laid on refutation of false labelling of Atheists, Disbelievers and Orientals on Islam in general and on Holy Qur'an, and Holy Prophet (SAAS) in particular with solid Qur'anic references spread under various subjects..

I appreciate comments about this work from all the readers, which can reach by Post, Telephone, Fax, E: mail or Web-site.

Multan.

21st October, 2002-AD

Monday, 14th Sha'ban Al-Muazzam, 1423-AH

Compiler

PROLOGUE

Current Edition

By the Grace of Almighty Allah (SWT), the pace with which the previous edition of "Qur'anic Prism" was globally appreciated and the unprecedented acclaim accorded by the readers from all the communities, I consider nothing to add about this book, except the details already furnished in promes of previous editions, but this note as a formality.

However it will not be out of place to mention about the page numbering with each Reference in this edition to facilitate the reader for instant access to the requisite point.

It has always been a wish to produce "Qur'anic Prism" at its required standard of printing and publishing. Al-Hamd-u-lillah, taking advantage of revolutionary development in computer techniques, this edition is presented under progressive style after radical revision. How for I.R.F (with its limited source) has succeeded in its improvement, the decision depends on the discretion of esteemed readers.

In the current critical times of Islam - bashing, the present publication will go a long way in helping to remove the mischievous myths, naive misunderstandings about Islam and mistrust between Muslims and the West. This "PRISM" is designed to benefit the readers not well versed with Arabic and the Muslim community living under overwhelming Western influence, especially the younger generations lured by the spell of Secular Westernization.

I do most earnestly beseech that may Allah (SWT) accept this effort of mine and make "QURANIC PRISM" a Powerful learning tool for mankind to get into the heart of Islamic teachings, so that humanity can enjoy the 21st century more unbiased, open-mindedly, large-heartedly, peacefully, aspiring balanced views, tolerance among religious communities, and working for Universal brotherhood.

26, Western Fort, Canal View
Multan Cantt.

4th August, 2007 AC - 19, Rajab-ul-Murajab, 1428 AH

Compiler

Son of Noah	926	Commerce and Trade	259,268,277,288 341,485,487,644,929,936,1114
People of Aad	929	Culture and Civilization	443,465,473,929,936
People of Thamud	936	Diving and Swimming	342,1072
People of Lot	962	Entomology	365
Wife of Lot	969	Forestry	355,874
People of Midian	997	Genetics- Embryology	394
Children of Israel (Israelities)	1004	Geology - Geography - Geophysics	338
Pharaoh	1005	History	686,904
Haman	1030	Hydraulics-Hydrology	345
Qarun - Korah	1030	Interpretation of Dreams	977,986,984
Samri	1048	Irrigation	345
Goliath (Jalut)	1064	Metallurgy	1068,1073,1083
People of Psalms	1065	Mineralogy	1073,1083
People of Sabbath	1070	Natural Sciences	320
Gog and Magogs	1083	Navigation	340
People of Garden	1108	Oceanology-Oceanography	340,341,342
The People of the City	1109	Ornithology	364
Parable of Two Men	1111	Political Science	551,584,588,1074
People of the Ditch	1113	Psychology	315,413,417,573
The Companions of the Rass	1114	Shipyards- Ship Making	924,926
The People of Sheba	1114	Sociology	451,470,473,514,580,558,283,587,588
The People of Tubba	1115	Statistics	1044
Abu Lahab	1187	Textile - Spinning	569
Rise and fall of Individuals and Nations	673	Zoology, Animal Kingdom	359,361
Wicked People - Ultimate fate of	679		
Impatience of disbelievers for the Punishment	754		
Respite from Allah to disbelievers to mend	756		
People of Hell (Jahannum) Lake of Fire	885		
Rejecters of the scriptures	850		

Concept of Modern Sciences in Holy Qur'an

Aeronautics	364
Agriculture	351
Animal Husbandry	359,360,924
Anthropology	287,394,451,465,473,514,558,588
Archaeology	437,943,935,969,1002
Armory - Arsenal manufacturing	1068
Astronomy	329,330,331
Biology	394
Botany	351
Cosmology	321,366
Civics - Social Studies	445,473,465 470,580,582,583,587
Civil Engineering	624,961,971

Tables - Appendixes

Supplications - Invocations	1116
Fairest Names of Allah (SWT)	1129
Parable - Allegories in Holy Qur'an	1141
Oaths - Adjurations in Holy Qur'an	1144
Persons - mentioned in Holy Qur'an	1147
Persons - referred in Holy Qur'an	1149
Colours & Shades - mentioned in Holy Qur'an	1152
Places - mentioned in Holy Qur'an	1153
Places - referred in Holy Qur'an	1155
Entities - mentioned in Holy Qur'an	1159
Human body parts - referred in Holy Qur'an	1161
Numerals & Fractions - mentioned in Holy Qur'an	1165
Abbreviated letter in Holy Qur'an	1169
Prostration places while Recitation of Holy Qur'an	1170
List of Chapters of the Holy Qur'an	1171
Alphabetical Index English	1231
Alphabetical Index Urdu	27
Alphabetical Index Arabic	1175
Table for locating any Qur'anic Verse	1183
Symbols and Index of Pauses while Recitation	1230

-- Polytheists - Idolaters.....	846,842,836	Methsalih - <i>Saleh</i> (PBUH).....	936
-- Disbelievers of Revealed Scriptures.....	850	Abraham - <i>Ibrahim</i> (PBUH).....	944
-- Disbelievers.....	856	Ishmael - <i>Isma'il</i> (PBUH).....	971

Events During Life of Prophet Muhammad (SAAS)

People of the Elephant.....	686
Forecast of Victory of Romans.....	686
Start of Revelation of Holy Quran.....	687
Migration of Early Muslims to Abyssinia.....	688
Miracle of appearing of Moon cleft asunder.....	688
Listening of Recitation of Quran by Jinns.....	690
Night Journey-Ascension of Prophet- (<i>Miraj</i>).....	688
Incident of Cave of <i>Thaur</i> (<i>Sa'ur</i>).....	693
Migration to <i>Madinah</i>	693
Quba Mosque.....	693
Change in Direction of <i>Qibla</i>	694
Incident of " <i>Nakhalah</i> ".....	690,694
Battle of <i>Badar</i>	696
Battle of <i>Bani-Qainuqa</i>	702
Battle of <i>Uhud</i>	702
Battle of <i>Hamra-al-Assad</i>	706
Alliance of <i>Madinah</i>	706
Battle with the Folk of <i>Nadhir</i>	707
Fair of " <i>Badar Sugra</i> ".....	706
Expedition against the Tribe of <i>Mustaliq</i>	708
Incident of <i>I'fk</i>	708
Battle of the Trench (<i>Khandaq</i>) (<i>Ahzab</i>).....	709
Battle with the Folk of <i>Quraiza</i>	712
Battle of <i>Hudaibiya</i>	713
Covenant of Fealty - (<i>Ba'ait-Ur-Rizwan</i>).....	713
Treaty of <i>Hudaibiya</i>	713
Battle of <i>Khaibar</i>	715
Conquest of Fortress <i>Khaibar</i>	716
Instructions to the Wives of Prophet.....	727
Compensatory Umrah (<i>Umra-tul-Qaza</i>).....	716
Gazwa-Muta (<i>Jaish-ul-Umra</i>).....	718
Conquest of <i>Makkah</i>	716
Battle of <i>Hunain</i> (Battle of <i>Au'tas</i>).....	718
Denouncing of <i>Hudaibiya</i> Treaty.....	719
Expedition of <i>Tabuk</i>	720
Mosque of mischief (<i>Dhirar-Zarrar</i>).....	726
Consolation by Allah on Grief of Prophet for non-Professing of Islam by Idolaters.....	729
Secret Plots of Pagans of <i>Makkah</i>	742
Secret intrigues of Jews of <i>Madinah</i>	742

Narrations of The Holy Messengers and Prophets

Objects of Narration.....	904
Adam (PBUH).....	906
Enoch - <i>Idris</i> (PBUH).....	916
Noah - <i>Nuh</i> (PBUH).....	917
Haber - <i>Hud</i> (PBUH).....	929

Lot - <i>Lut</i> (PBUH).....	962
Jacob - <i>Ya'qub</i> (PBUH).....	975
Joseph - <i>Yusuf</i> (PBUH).....	977
Job - <i>Ayyub</i> (PBUH).....	996
Jethro - <i>Shu'aib</i> (PBUH).....	997
Moses - <i>Musa</i> (PBUH).....	1004
Aaron - <i>Harun</i> (PBUH).....	1056
Joshua - <i>Yusha</i> (PBUH)★.....	1061
Samuel - <i>Shamuil</i> (PBUH)★.....	1063
Dhulkifl - <i>Zulkefl</i> (PBUH).....	1065
Ezekiel (PBUH)★.....	1065
Elias (Elijah) <i>Alyasin</i> (PBUH).....	1065
Elisha - <i>Al-yas'a</i> (PBUH).....	1066
David - <i>Da'ud</i> (PBUH).....	1067
Solomon - <i>Sulaiman</i> (PBUH).....	1072
Ezra - <i>Uzair</i> (PBUH).....	1081
Jonah (<i>Dhunnun</i>) <i>Yunus</i> (PBUH).....	1084
Zachariah - <i>Zikariya</i> (PBUH).....	1087
John - <i>Yahya</i> (PBUH).....	1089
Jesus - <i>Eisa</i> (PBUH).....	1095
Muhammad (SAAS).....	163,686 to 727

★ Not mentioned but Referred in Qur'an

Narration of the Righteous Ones

Eve - <i>Hawwa</i> (PBUH).....	909
Able - <i>Habil</i> - Son of Adam.....	915
Khizir (<i>Khidhr</i>) (PBUH).....	1058
Saul (<i>Talut</i>) (PBUH).....	1063
Luqman (PBUH).....	1071
King with two Epochs - (<i>Dhul-Qarneyn</i>).....	1082
Mary (<i>Maryam</i>) (PBUH).....	1091
The Companions of the Cave.....	1105
Wife of Pharaoh.....	545
Companions of the Prophet (<i>Sahabi</i>) RAA.....	758
Followers of the Followers.....	762
Righteous People of the Later Ages.....	763,1110
Adherents (Favourites) of Allah (SWT).....	762
Partisans of Allah (SWT) (<i>Hizb-Ullah</i>).....	763
Believers (<i>Mumineen</i>).....	764
People of Gardens of Bliss-Paradise.....	865

Narration of the Mislead Ones

Bygone Folks

Cain - <i>Qabil</i> , Son of Adam.....	915
People of <i>Noah</i>	920

Disputes in Marital life	523	Migration (<i>Hijrat</i>)	670
Laws of Divorce - " <i>Talique - Khula</i> "	526,529	Dealings with the People of Scriptures	587
Laws for Divorced Ladies	529	Non Muslims and Islam	
Laws for Widow Ladies	531	Civility with Non-Muslims	588
Laws for Pregnant and Divorced Ladies	531	All People of Scriptures are not Alike	638
Foster Rights	533	Variance of Sects among Followers of Bible	607
Sex Discipline	535	Frictions among Jews and Christians	600
Waiting Period for Maintaining Parental Title	538	Temptation of Jews and Christians	
Veiling- Sense of Shame (<i>Hijab</i>)	541, 543	-- to Seduce the Believers	629
Directives For Judiciary	578	Israelities- Denial of Divine Favours	596
Rules for Pleading and Arbitration	574,576	Nomads - Bedouins - Arabs	728
Rules of Evidence Witness - Testimony	567	Secret Intrigues of Idolaters	742
Oath - Swearing - Plighted Word	571	Treaties-Pacts of Reconciliations with--	663,665
Atonement for A Sin - Reparation	573	Hypocrites	748
Penal Code in Islam	565	Magians	589
White Collar Crimes	555	Sabians	589
Mental Vagrancy Crimes	555	Idiolatry	590
Abetment of Crime forbidden	563	Cow worship	590
System; of Islamic Welfare State		Colour and Race Discrimination	590
Concept of Welfare State	549-551	Ultimate Fate of Rejecters of Truth	679
Obligations of State and the Ruler	552-553	Refutation	
Implementation of Divine Law- <i>Shariah</i>	533,577	of False Accusations and Dogmas	
Security of Human life of Citizens	559	On the Prophethood of Muhammad (SAAS)	190
Security of Possession of Citizens	562	On the Holy Qur'an	228
Measures against Crime	555	Trinity- Sonship of Jesus	602-1103
Law and Order-Enforcement of	563	Tenet of Mary (PBUH) Worship	606
Non Violent and Peaceful Social Fabric	556	False Concepts of Jews 1081,1078,1054,641,594	
Judicial System - Enforcement of	578	Blasphemy of Judaism - Sonship to Ezra	1081
Rejuvenation of Society	554	Blasphemy of Israelities with Moses	1054
Defence Strategy Formulating	553	Blasphemy of Israelities on Solomon	1077
Foreign Policy - Diplomat Relations	553	False Dogmas of other -Faith - Doctrines	551-589
Salient Features of Islam		Comparative Study of other Religions	608
Commitment to live in Peace	585	Death and Resurrection	
Protagonist of Universal Peace	585	Death (End of Probation)	771
Proponent of Human Rights	584-580	Quiescent State	776
Security of Places of Worship of other Faiths	583	Prognostications of Dooms Day	788
Freedom of Thought	583	Resurrection	777,782
Against Sectarianism	583	Occurrence of Dooms Day	791
Against Gender Biases 524,525529,531,533,537,546		Picture of Horrors of the Day	796
Against Discrimination of Colour and Race	582	The Day of Judgement	782-798-788-791-833
Expounder and Freedom of Mankind	584	Meetings and Dialogues on the Day	833
Rejuvenation of Society	554	The Paradise " <i>Al-Jannah</i> "	860
Preaching of Islam "<i>Dawah</i>"		The Hell - Lake of Fire " <i>Jahannum</i> "	885
Preaching to enter into the fold of Allah(SWT)	631	Ultimate Fate of the;	
Dissension in Religion - Background	616	-- Disbelievers of the Prophets	204,679,111
Sanctuaries - Places of Worship of Allah(SWT)	622	-- Wicked People	679
Struggle for the Cause of Allah(SWT)		-- Hypocrites	751
Holy war " <i>Jihad</i> "	642		

List of Chapters and Sections

Faith

Religion of Islam	89
Articles of Faith	97
Fundamentals of Faith	99

Monotheism

Attributes of Allah (SWT)	101
Monotheism	133
Polytheism	139,157,159
Apostasy	161

Prophethood of Muhammad (SAAS)

Muhammad (SAAS) the Prophet	163
Seal over all the Prophets after him	166
Normative Examples / Path of - "Sunnah"	172
Verbalized traditions of --- "Hadith"	173
Commands for reverence of ---	168-182
Honour and respect with love of ---	185
Household-Family-Kindred of ---	188
Refutation of false accusations on the Prophethood of Muhammad (SAAS)	190

Revealed Scriptures

Holy Quran	207
Holy Torah (<i>Taurat</i>) Old Testaments	247
Holy Psalms (<i>Zabur</i>)	248
Holy (Gospel) Bible " <i>Injil</i> " (New Testament)	249
Refutation of false accusations on the Holy Qur'an	228

Rituals and Rites (Ways of Worships Islam)

Offering Prayers - " <i>Salat</i> "	250
Fasting - " <i>Saum</i> "	262
Obligatory Charity Alms - " <i>Zakat</i> "	265
Obligatory Tax on Harvest - " <i>Ushr</i> "	274
Benevolence - Voluntary Alms - " <i>Sadqa</i> "	275
Voluntary Charity	284
Pilgrimage - " <i>Umra - Hajj</i> "	287
Glorifying the Praises of Allah - " <i>Zekir</i> "	294
Patience - Forbearance - " <i>Sabr</i> "	298
Gratitude / thankfulness to Allah - " <i>Shukr</i> "	300
Absolute Confidence upon Allah - " <i>Tawakul</i> "	303
Fearing Annoyance of Allah - " <i>Taqwa</i> "	306
Asking forgiveness from Allah - " <i>Astaghfaar</i> "	312
Repentance-Regret of Wrongdoing " <i>Tau'ba</i> "	315

Supplications - Invocations (Qur'anic)	116
--	-----

Splendorous Artistry of Allah (SWT)

Signs of Nature to ponder	320
Origination-Creation of Universe	321
Canons of (Divine) Nature	366
Angels	376
Jinns	381
Devil - <i>Iblis</i> - <i>Satan</i>	382
Providence - Sustenance - " <i>Rizq</i> "	387
Creation of Humankind	394
Inborn Tendency of Humankind	406
Stages and Quality of Human Heart	413
Stages of Human Soul	417

Transitory (Probation) Period - Worldly Life

Comforts of Ephemeral life	418
Struggle for righteous success	432
Travel and Tourism	437
Excellence of knowledge	439
Rise and Fall of Nations	673

Social Mores

Social Obligations	443
Public Obligations	451
Moral Precepts	465
Social Evils	473
Dealings with - Idolaters	612

Economics

Business Ethics - Mores of Trade	502-485
Usury-Interest Bearing Transactions " <i>Riba</i> "	488
Socio - Economic Taxes in Islam	490
Debts and Loans	491
Trust - Custodies - Security Deposits	492
Mutual Agreements and Transactions	494
How to Spend	496

Divine Injunctions

Lawful and Unlawful Livelihood	499
Lawful and Unlawful Sustenance	502
Unlawful Drinks - Intoxicants Beverages	506
Laws of Bequest and Will	508
Laws of Heritage - Legacy	510
Matrimonial Laws - Marriage-Wedlock	514
Laws of Dower	521
Rights and Privileges of spouses	522



How to CONSULT this Book







FIVE WAYS

For access to any SUBJECT of Holy Qur'an

-  By Table of Contents (English) Page 1217 to 1220
-  By Table of Contents (Urdu & Arabic) Page 1 to 12
-  By ENGLISH alphabetical INDEX Page 1231 to 1282
-  By URDU alphabetical INDEX Page 27 to 86
-  By ARABIC alphabetical INDEX Page 1175 to 1200

To Understand "REFERENCE Keys" quoted at the end of the Topic

-  English reference (may be read Left to Right) i.e. **92:16** means Chapter **92** Verse 16
-  Urdu references (may be read Right to Left) i.e. 16:**92** means Chapter **92** Verse 16
-  Chapter Number is written **bolder** as Compared with that of the Verse i.e. **92:16**
-  Name of Quranic Chapter has been given following the Verse serial ﴿٩٢ الليل:١٦﴾
In the Centre Column (at the end of each Quranic Text)


To Locate any Qur'anic Verse

-  Consult Table to Search any of the Qur'anic Verses (your require) Page 1283 to 1301

TABLE OF CONTENTS

Peep Through	Page Nr:
How to use this "Book"	1216
List of the Chapters and Sections	1217
Prologue Forth Edition	1221
Preamble Third Edition	1222
Foreword Second Edition	1223
Prelude First Edition	1224
Introduction by Dr. Mian Muhammad Siddiqui	1226
Proem by Hakim Muhammad Saeed	1228
Prelusion by Dr. A. Q. Khan	1229
Alphabetical Index (English)	1231
QUR'ANIC PRISM (Subject Index)	89
Alphabetical Index (Urdu)	27
Alphabetical Index (Arabic)	1175
Table for locating any Qur'anic Verse	1283
Appendixes and Tables	1129
Bibliography	1302
About the Compiler	1303
Acknowledgement	1304
Accreditations (Approvals)	1211

Urdu and Arabic Readers
may start reading by opening the book from Right to Left



(We Commence) with the name of Allah (SWT)
The most Gracious (to begin with)*
The most Merciful (to the end)**

* Most Beneficent, from beginning of the creation
** Most Compassionate, in the Hereafter



Ministry of Religious Affairs
Government of Pakistan

Praise be to Allah, I certify that I have gone through all the Qur'anic Verses
In "Qur'anic Prism" Compiled by Mr. Abdul Hakeem Malik
and have found it, devoid of any verbal mistakes, omission or commission.

Muhammad Abdul Rehman Qureshi,
Director: (Al-Qur'an)

Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan, Islamabad

AL-AZHAR UNIVERSITY, CAIRO, EGYPT

AL-AZHAR AL-SHARIF ISLAMIC RESEARCH ACADEMY
General Department for Research, Writing & Translation

Dated 20/01/2001

Mr. A. H. Malik
Managing Director,
Islamic Research Foundation,
9-Rahimabad, Panjnad Road,
Muzaffargarh, Post Code 34200,
Punjab, Pakistan.

Assalaam-u-Alaykum,

"Al-Azhar" hopes this letter finds you in good health. We are in receipt of letter containing your research work titled "QURNIC PRISM" a trilingual Subject Index Of Holy Qur'an.


We feel pleasure to inform you that - there is no objection in Publishing and Circulation of "QUR'ANIC PRISM"; as it is quite useful for all the mankind, (specially for the English or Urdu litrate Muslims).

Director General,

El-Sayed El-Eraqi Shams El-din

(El-Syed El-Eraqi Shams El-din)

Al-Azhar Al-Sherif,
Islamic Research Academy,



Diaa El-din

(Diaa El-Din)
(Translation Department)



World Council of Churches GENEVA, SWITZERLAND.

TELEPHONE +41 22 791.61.11
TELEFAX +41 22 791.03.61
WEB <http://www.wcc-coe.org>

150, ROUTE DE FERNEY
P O. BOX 2100
CH - 1211 GENEVA 2

5 October, 2000

Dear Prof. Malik,

This is to acknowledge with thanks receipt of your precious gift. Your "Qur'anic Prism" is indeed invaluable for those of us who are interested in, and committed to the study of Islam and the Holy Qur'an.

Kindly accept my best wishes for the continuation of your important work.

This letter goes with my warm greetings.

To,
Prof. A. H. Malik
Managing Director
Islamic Research Foundation of Pakistan
9 - Rahimabad Punjnad Road
Muzaffargarh Post Code 34200
Punjab Pakistan

Yours Sincerely,

Tarek Mitri

Tarek Mitri
Interreligious Relations and Dialogue


ISLAMIC RESEARCH FOUNDATION PAKISTAN

A Non-Governmental Organization Devoted to Educational and Welfare Activities

OBJECTIVES

- ASPIRING**
- PROMOTING**
- WORKING**
- PROMULGATING**
- PACIFYING**
- PROMOTING**
- MAINTAINING**
- ORGANIZING**
- COORDINATING**

- Balanced Views and Tolerance amongst Religious Communities for Universal Brotherhood.
- Human Rights and Social Justice.
- Against illiteracy and Gender Biases.
- Standardized Literature on Islamic Teachings for better understanding of Islam at Multi-Cultural and Multilingual Forums.
- Young Generation (specially Non Arabic and Urdu Knowing) in understanding of Islamic Teachings in Contemporary Disciplines.
- Inter-Religious Dialogues.
- Specialized Audio-Visual Library.
- Programs, Lectures, Group Discussions "Around the World" for easy access to Quranic Teaching.
- With Institutions of Inland & Abroad having Similar Objectives.



Contribute

FOR COMMUNICATING WORLDWIDE THE WORD OF ALLAH(SWT)

You can Gift

QURANIC PRISM to a relative, a friend or any one you like anywhere without bothering for packing and mailing arrangements. Just ask "Islamic Research Foundation" to do it on your behalf.

You can Donate

QURANIC PRISM to any library, trust, school or Mission in any corner of the Globe, to help people to understand the Holy Quran Let IRF manage, out of your donations.

If you Express

Your thoughtfulness not just once but lifelong and even for generations to come.

ISLAMIC RESEARCH FOUNDATION PAKISTAN ABDUL HAKEEM MALIK

200 Pgs. Noble Life of The Great Prophet Muhammad (SAAS)

Fully Illustrated with Maps-Photos and Sketches
(Urdu and English Version in Single Volume.)

انس - حیات طیبہ رسول اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

200 Pgs. Quranic Narratives of the Holy Prophets (PBUT) and their Folks From ADAM (PBUH) to JESUS (PBUH)

Fully Illustrated with Maps-Photos and Sketches
(Urdu and English Version in Single Volume.)

انس قرآن کریم - حکایات انبیائے کرام علیہم السلام واقوام ماضیہ

Quranic Reflections in IQBAL's Poetry.

(Urdu, Persian and Arabic. Version in single Volume)

کلام اقبال میں عکس قرآن کریم

(Stanzas of Dr. Sir Muhammad Iqbal, Juxtaposed with relevant Holy Qur'anic Text)

DONATE GENEROUSLY FOR THE NOBLE CAUSE OF

0092-061-4000006

0092-061-6781304-5

Mail: abba.khan@yahoo.com

105 - سی بلاک، شاہ رکن عالم کالونی ملتان پوسٹ کوڈ 60000 پاکستان فون نمبر: 0321-7393531, 0300-5656484, 0307-7309495 موبائل:

Dedicated To

The People Who Think ☆

Inscribed to,


My Venerable Parents,

Whose prayers have always buoyed me up, and enabled me to accomplish this endeavour,
they would certainly have relished ,if they had a time for it.

O' my Sustainer ! Bestow Your Mercy upon them, even as they cherished and reared me, when I was child ☆☆

☆☆ 17 الإسراء (يسرائيل) : 24 45 الجاثية : 13 39 الزمر : 42 16 النحل : 11, 69 13 الرعد : 3 10 يونس : 24

Copyright © 2005-2008 by Marfat.com. All rights reserved. Contact: info@marfat.com



TRILINGUAL
SUBJECT INDEX

of
HOLY QUR'AN

English - Arabic - Urdu

Globally Acclaimed Reference Book
One Volume Encyclopedia

Masterful Revision

5th

Compiled by:


Engr: Abdul Hakeem Malik

297.13

295 ٺ




* 7 4 6 5 2 - U - 6 7 *



ISLAMIC RESEARCH FOUNDATION PAKISTAN

PAKISTAN - U.K. - CANADA - U.S.A.




انٹیکس

مضامین قرآن کریم

اردو • عربی • انگریزی

فہرس موضوعی للقرآن الکریم التلاثی اللغات



مطالعہ قرآن پر ایک جہاں نما کتاب

قرآنی تعلیمات کا انسائیکلو پیڈیا

مؤلف

ابوبکر عبدالکلیم ملک

توسیم و اضافہ شدہ

5th
انٹرنیشنل ایڈیشن

اسلامک ویسٹ انڈین پبلسنگز پاکستان

پاکستان - برطانیہ - کینیڈا - امریکہ

